

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں نیک نمونہ ہے

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا۔

الحمد لله والمنة کہ یہ کتاب مستطاب

فضل الباری

یعنی اردو ترجمہ و حواشی

صحیح بخاری

جلد اول

از افادات مفسر قرآن حضرت مولانا مولوی محمد علی صاحب امیر جماعت احمدیہ لاہور

مصنف بیان القرآن، انگریزی ترجمہ القرآن، مقام حدیث جمع قرآن النبوة فی الاسلام وغیرہ

بمخمس سہ ماہی نقیر اللہ صاحب ہتم تصنیفاً احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور

نے

مطبع کری سٹیٹ پریس لاہور میں باہتمام مڈیر قدس اللہ طبع کرائی

فهرست ابواب فضل الباری ترجمہ صحیح البخاری جلد اول

ترتیب	خلاصہ ابواب	ترتیب	خلاصہ ابواب	ترتیب	خلاصہ ابواب	ترتیب
					۱- کتاب بدء الوحي	
۱۵	باب تفاضل اهل الايمان في الاعمال	۱۲	باب الزكوة من الاسلام الخ	۲۲	باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلعم الخ	۱
۱۶	باب الحياء من الايمان	۳۵	باب اتباع الجنائز من الايمان	۳۵		
۱۷	باب فان تابوا واقاموا الصلوة واتوا الزكوة فخلوا سبيلهم	۳۶	باب خوف المؤمن ان يمحط عمله الخ	۳۶		
۱۸	باب من قال ان الايمان هو العمل	۳۷	باب سؤال حذيفة بن اليمان عن الايمان وكالا سلام والاحسان	۳۷		
۱۹	باب اذ لم يكن الا سلام على الحقيقة الخ	۳۸	باب فضل من استبرأ دينه	۳۸		
۲۰	باب افشاء السلام من الاسلام الخ	۳۹	باب اداء الخمس من الايمان	۳۹		
۲۱	باب كفران العشير وكفر دون كفر	۴۰	باب ما جاء ان الاعمال بالنية والحسبة الخ	۴۰		
۲۲	باب المعاصي من احاديث الجاهلية ولا يكفر صاحبها الخ	۴۱	باب قول النبي صلعم الدين الضميعة لله ورسوله الخ	۴۱		
۲۳	باب ظلم دون ظلم	۳- كتاب العالم				
۲۴	باب علامة المنافق	۱	باب فضل العلم الخ	۲۴		
۲۵	باب قيام ليلة القدر من الايمان	۲	باب من سئل علما وهو مشغول في حديثه الخ	۲۸		
۲۶	باب الجهاد من الايمان	۳	باب رفع صوت به العلم			
۲۷	باب تطوع قيام رمضان من الايمان	۴	باب قول المحدث حدثنا			
۲۸	باب صوم رمضان احتسابا من الايمان	۵	باب طرح الامام المثلثة على اصحابه الخ	۲۹		
۲۹	باب الدين ليس بالخ	۶	باب الفقراوة والعرض والهدنة			
۳۰	باب الصلوة من الايمان الخ	۷	باب ما يذكر في المناولة الخ	۳۰		
۳۱	باب حسن اسلام المرء	۸	باب من تعد حيث ينتهي به المجلس الخ	۳۱		
۳۲	باب احب الدين الى الله عز وجل اذ وصه	۹	باب قول النبي صلعم رب مبلغ او عني من سامع			
۳۳	باب زيادة الايمان ونقصانه الخ					
۱۳						
۱۴						
۱۵						
۱۶						
۱۷						
۱۸						
۱۹						
۲۰						
۲۱						
۲۲						
۲۳						
۲۴						
۲۵						
۲۶						
۲۷						
۲۸						
۲۹						
۳۰						
۳۱						
۳۲						
۳۳						

١٠	باب العلم قبل القول والعمل الخ	٣٢	٢٩	باب من برأ على ركبته عند إلهام	٢٩	باب من خص بالعلم قوما دون
١١	باب ما كان النبي صلعم يتخولهم		٣٠	او المحدث	٥٠	توم كواهيته لا يفهموا الخ
	بالموعظة والعلم الخ	٣٣	٣٠	باب من اعاد الحديث ثلاثا	٥٠	باب الحياء في العلم
١٢	باب من جعل لاهل العلم ايما		٣١	ليفهم الخ	٥١	باب من استحيى فامر غيره بالسؤال
	معلومة		٣١	باب تعليم الرجل امنه واهله	٥٢	باب ذكر العلم والفتيا في المسجد
١٣	باب من يراد الله خير بيقفه		٣٢	باب عظمة الامام النساء وتعليم من	٥٣	باب من اجاب لسائل باكثر
	في الدين	٣٢	٣٣	باب الحرص على الحديث		مماساله
١٤	باب الفهم في العلم		٣٣	باب كيفنا يقبض العلم الخ		٣٧ - كتاب الوضوء ٥٢
١٥	باب الاعتباط في العلم والحكمة		٣٥	باب من سمع شيئا فام في سمه	١	باب ما جاد في قوله الله تعالى اذا
١٦	باب ما ذكر في ذهاب حوصل		٣٥	فراجح حتى يعرفه	٥٢	قمتم الى الصلوة الخ
	في البحر الى الخضرة الخ	٣٥	٣٦	باب هل يجعل للنساء يوم	٢	باب لا يقبل صلوة بغير طهور
١٧	باب قول النبي صلعم اللهم علمه الكتاب			على حدة في العلم	٣	باب فضل الوضوء والغسل بالمحبة
١٨	باب متى يعجز سماع الصغير		٣٤	باب ليلته العلم الشاهد الخ	٥٣	من اثار الوضوء
١٩	باب الخروج في طلب العلم الخ		٣٨	باب انتم من كذب على النبي صلعم	٢	باب لا يتوضا من الشك حتى
٢٠	باب فضل من علم وعلم	٣٦	٣٩	باب كتابة العلم		يستيقن
٢١	باب رضى العلم وظهور الجهل الخ		٤٠	باب العلم والعظة بالليل	٥	باب التخفيف في الوضوء
٢٢	باب فضل العلم	٣٤	٤١	باب التسمم بالعلم	٦	باب اسباغ الوضوء
٢٣	باب الفتيا وهو واقف على		٤٢	باب حفظ العلم	٤	باب غسل الوجه باليدين
	ظهر الدابة الخ		٤٣	باب الانصات للعلماء	٢٤	من غرفة واحدة
٢٤	باب من اجاب الفتيا باشارة		٤٣	باب ما يمتحج للعالم اذا	٨	باب التسمية على كل حال
	اليدين الخ			سئل الى الناس اعلم الخ	٥٥	وعند الوقاع
٢٥	باب تحريف النبي صلعم وفد		٤٥	باب من سال وهو قائم علمنا	٩	باب ما يقول عند الخلاء
	عبد القيس على ان يجفظوا	٣٨	٤٩	جالسا	١٠	باب وضع المار عند الخلاء
	الايمان والعلم الخ		٤٦	باب السؤال والفتيا عند رمي	١١	باب لا يستقبل القبلة بغائط
٢٦	باب الرحلة في المسئلة النازلة			الحجار		وبولي الا عند البناء الخ
	وتقليل اهلها		٤٤	باب قول الله تعالى وما اوتيتهم	١٢	باب من تبرز على ليتين
٢٧	باب التناوب في العلم	٣٩	٥٠	من العلم الا قليلا	١٣	باب خروج النساء الى البراز
٢٨	باب الغضب في الموعظة		٤٨	باب من ترك بعض الاختيار	١٣	باب التبرز في البيوت
	والتعلم اذا راى ما يكره			خافة ان يقيم فم بعض الناس الخ	١٥	باب الاستنجاء بالماء

١٤	باب من حل مع الماء لطهوره	٥٤	باب من لم يتوضأ الا من غش	٥٦	باب ما جاء في غسل البول	٦٩
١٥	باب غسل العنزقة مع الماء في الاستنجاء	٥٥	المثقل	٦٣	باب	٧٠
١٨	باب الذي عز الاستنجاء باليمين	٥٨	باب مسح الرأس كله الخ	٦٣	باب ترك النبي صلعم والناس الكعبة	٧١
١٩	باب يكسك ذكره بيمينه ولا يقسم اذا باله	٥٩	باب غسل الرجلين الى الكعبين	٦٤	حتى فرغ من بوله في المسجد	٧٢
٢٠	باب الاستنجاء بالحجارة	٦٠	باب استعمال فضل وضوء الناس	٦٥	باب صب الماء على البول في المسجد	٧٣
٢١	لا يستنجى بروت	٦١	باب	٦٥	باب بول الصبيان	٧٤
٢٢	باب الوضوء مرة مرة	٦١	باب من مضمض واستنشق	٦٥	باب البول تالفا واقاعدا	٧٤
٢٣	باب الوضوء مرتين مرتين	٦١	من غرفة واحدة	٦٥	باب البول عند صاحب البيت	٧٥
٢٤	باب الوضوء ثلاثا ثلاثا	٦٢	باب مسح الرأس مرة	٦٥	بالحائط	٧٥
٢٥	باب الاستنشاق والوضوء	٦٣	باب وضوء الرجل مع امراته الخ	٦٦	باب البول عند سباحة قوم	٧٦
٢٦	باب الاستنجاء وترا	٦٣	باب صب النبي صلعم وضوءه على المعنى عليه	٦٦	باب غسل الدم	٧٦
٢٧	باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين	٦٤	باب الغسل والوضوء في الخضب والقدر الخ	٦٦	باب غسل المتني وفركه وغسلها بصب من المرأة	٧٦
٢٨	باب المضمضة في الوضوء	٦٤	باب الوضوء من التور	٦٦	باب اذا غسل الجنابة او غيرها فلم يذهب اثره	٧٦
٢٩	باب غسل الكعبين الخ	٦٤	باب الوضوء بالمد	٦٦	باب ابوالابل والدواب والغنم ومرابضها	٧٦
٣٠	باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين	٦٤	باب المسح على الخفين	٦٦	باب ما يقع من النجاسة والمني والهواء	٧٦
٣١	باب اليمن والوضوء والفصل	٦٤	باب اذا ادخل رجله وهما طاهراتان	٦٦	باب البول في الماء الذم	٧٦
٣٢	باب انما من الوضوء اذا شئت الصلوة	٦٤	باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق	٦٦	باب اذا القرع على ظهر المصلي فذرا او حبيفة لم يفسد صلواته	٧٦
٣٣	باب الماء الذي يفسد به شعر الانسان	٦٤	باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ	٦٦	باب البراق والمخاط ونحوه في الثوب	٧٦
٣٤	باب اذا شرب الكلب الا ناله	٦٤	باب هل يغمض من اللبن	٦٦	باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ والسكر	٧٦
٣٥	باب من لم يبر الوضوء الا من المخرجين الخ	٦٤	باب الوضوء من النوم ومن لم يبر من النعسة الخ	٦٦	باب غسل المرأة اباها الدم عن وجهه	٧٦
٣٦	باب قراءة القرآن بعد الحدث	٦٤	باب بول وضوء من غير حديث	٦٦	باب البول في السواك	٧٦
		٦٤	باب من الكبار ان لا يستتر من بوله	٦٦		

٤٢	باب فقه السك إلى الأكبر ٤٥	٨٠	خرج كما هو ولا يتيمم	٨	باب الاستحاضة
٤٥	باب فصل من أتى على الوضوء	١٨	باب نقض اليدين من غسل الجنابة	٩	باب غسل دم الحيض
٥- كتاب الغسل		١٩	باب من بدأ بشق اسمه الأيمن	١٠	باب اعتكاف المستحاضة
١	باب الوضوء قبل الغسل	٢٠	باب من اغتسل عرياناً واحداً	١١	باب هل تغسل المرأة في ثوب
٢	باب غسل الرجل مع امرأته	٢١	باب في الخلوقة ومن تسترخ	١٢	باب الطيب للمرأة عند
٣	باب لغسل بالصاع ونحوه	٢٢	باب التسترف في الغسل عند الناس	١٣	باب غسلها من الحيض
٤	باب من أفاض على رأسه ثلاثاً	٢٣	باب إذا احتلمت المرأة	١٤	باب ذلك المرأة نفسها إذا
٥	باب لغسل مرة واحدة	٢٤	باب عرق الجنب أن المسح	١٥	باب نظرت من الحيض الخ
٦	باب من بدأ بالخلل والطين	٢٥	باب ينجس	١٦	باب غسل الحيض
٧	عند الغسل	٢٦	باب الجنب يخرج ريشه في الثوب	١٧	باب امتشاط المرأة عند
٨	باب المضمضة والاستنشاق	٢٧	باب غيره	١٨	باب غسلها من الحيض
٩	باب الجنابة	٢٨	باب كينونة الجنب في البيت	١٩	باب تقص المرأة شعرها
١٠	باب مسح اليد بالتراب فتكون	٢٩	باب إذا توضأ قبل أن يغتسل	٢٠	باب عند غسل الحيض
١١	باب من أفرغ بيديه على	٣٠	باب نوم الجنب	٢١	باب قول الله تعم مخلقتي أو
١٢	ثماله في الغسل	٣١	باب الجنب يتوضأ ثم ينام	٢٢	باب غير مخلقتي
١٣	باب إذا جامع ثم عاد ومن ار	٣٢	باب إذا التقت تحتانان	٢٣	باب كيف تهل بالحج والعمرة
١٤	على نسائه في غسل واحد	٣٣	باب غسل المصيب من فرج المرأة	٢٤	باب اقبال الحيض وادباره
١٥	باب غسل المذمى الوضوء منه	٦- كتاب الحيض		٢٥	باب لا تقض الحائض الصلاة
١٦	باب من تطيب ثم اغتسل	١	باب كيف كان بدأ الحيض الخ	٢٦	باب النوم مع الحائض وهي
١٧	ويقى اثر الطيب	٢	باب غسل الحائض رأس زوجها	٢٧	باب في ثيابها
١٨	باب تخليل الشعر حتى إذا	٣	باب وترجيله	٢٨	باب من اتخذ شيئاً الحيض
١٩	ظن أنه قد أوى بشترته الخ	٤	باب فزادة الرجل في حجر امرأته	٢٩	باب مشروء الحائض العبيد
٢٠	باب من توضأ في الجنابة	٥	باب وهي حائض	٣٠	باب ودعوة المسلمين الخ
٢١	ثم غسل سائر جسده الخ	٦	باب من سمي النفا من حيضاً	٣١	باب إذا حاضت في شهر
٢٢	باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب	٧	باب مباشرة الحائض	٣٢	باب ثلاث حيض
		٨	باب ترك الحائض الصوم	٣٣	باب الصفرة والكدة
		٩	باب تقض الحائض المناسك	٣٤	باب في غير أيام الحيض
		١٠	كلها إلا الطواف بالبيت	٣٥	باب عرق الاستحاضة

باب قبلة اهل المدينة واهل الشام الخ	٢٩	باب كراهية التفرغ في الصلوة وغيرها	٨	باب المرأة تحيض بعد الاغتسال	٩٢
باب قول الله عز وجل ولتخذوا	٣٠	باب الصلوة في القميص والسرديب	٩	باب اذا ارأت المتحاضة الظم الخ	٢٨
من مقام ابراهيم مصلي	١١٣	والنبتان والقباء	١٠	باب الصلوة على النساء وسننهما	٢٩
باب التوجه نحو القبلة حيث كان	١١٢	باب يستر من العورة	١٠	باب	٣٠
باب اجازة في القبلة ولم يسير	٣٢	باب الصلوة بغير رداء	١١	٦- كتاب التيمم از ٩٣-٩٩	
الاجازة على من صلى في غير	١١٥	باب ما يذكر في الفخذ	١٢	باب	١
القبلة الخ	١١٥	باب في كيفية المرأة من الثياب	١٣	باب اذا لم يجد ماء ولا ترابا	٢
باب حرك البزاق باليد من المسجد	٣٣	باب اذا صلى في ثوب له اعلام	١٢	باب التيمم في الحضر اذا لم يجد	٣
باب حرك المخاط بالمحصى	٣٣	ونظر الى علمها	١٢	الماء وخاف فوت الصلوة الخ	٤
من المسجد	٣٣	باب ان صلى في ثوب مصطب	١٥	باب هل ينفيخ في يديه بعد	٢
باب لا يبصق عن يمينه في	٣٥	او تصا ويرهل تفسد صلواته	١٥	يضرب بها الصعيد للتيمم	٩٥
الصلوة	٣٥	باب عن صلى في فوج حرير ثم	١٤	باب التيمم للوجه والكفين	٥
باب ليبصق عن يساره او	٣٦	تزرعه	١٤	باب الصعيد الطيب وضوء	٦
تحت قدمه اليسرى	٣٦	باب الصلوة في الثوب الاحمر	١٤	المسلم يكفيه من الماء	٦
باب كفارة البزاق في المسجد	٣٤	باب الصلوة في السطوح والمنابر	١٨	باب اذا اخاف الجنب على نفسه	٤
باب دفن النخاعة في المسجد	٣٨	والمخشب الخ	١٨	المريض والموت واخا العشر تيمم	٩٨
باب اذا بدت البزاق فليأخذ	٣٩	باب اذا اصاب ثوب المصلي	١٩	باب التيمم ضرورية	٨
بطرف ثوبه	٣٩	امرأته اذا سجد	١٩	باب	٩٩
باب عظمة الامام الناس في	٣٨	باب الصلوة على الحصير	٢٠	٨- كتاب الصلوة از ٩٩-١٠٣	
انعام الصلوة وذكر القبلة	٣٨	باب الصلوة على الخمرة	٢١	باب كيف فرضت الصلوة في الاسلام	٩٩
باب هل يقال مسجد بني فلان	٣١	باب الصلوة على الفراش	٢٢	باب جوب الصلوة في الثياب الخ	١٠٢
باب لقسمته وتعليق القنوف في	٣٢	باب السجود على الثوب شدة الحر	٢٣	باب عقد الازار على القفاني	٣
المسجد	٣٢	باب الصلوة في النعال	٢٢	الصلوة	٥
باب من دعى لطعام في المسجد	٣٣	باب الصلوة في الخفاف	٢٥	باب الصلوة في الثوب لو احد	٢
ومن اجاب منه	١١٨	باب اذا لم يتم السجود	٢٦	ملتحقا به	١٠٣
باب لقضاء واللعان في المسجد	٣٣	باب بيتا ضبعيه ويجافي	٢٤	باب اذا صلى في الثوب الواحد	٥
بين الرجال والنساء	١١٩	جنبه في السجود	٢٤	فليجعل على عاتقيه	٥
باب اذا دخل بيتا يصلي حيث	٣٥	باب فضل استقبال القبلة الخ	٢٨	باب اذا كان الثوب ضيقا	١٠٢
شال الخ	٣٥			باب الصلوة في الحجة الشامية	٤

باب تشييد الاصابع في المسجد وغيره ١٣٢	٨٨	باب الشعر في المسجد ١٢٤	٦٨	باب المساجد في البيوت ١١٩	٢٤
باب المساجد التي على طرق المدنية والمواضع التي صلح فيه النبي صلعم ١٣٥	٨٩	باب اصحاب الحراب في المسجد ١٣٨	٦٩	باب اليمن في دخول المسجد وغيره ١٢٠	٢٤
باب سترة الالهة سترة من خلفه ١٣٨	٩٠	باب ذكر البيع والشراء على المنابر في المسجد ١٢٨	٧٠	باب يعين قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد ١٢١	٢٨
باب قدر كهر ينبغي ان يكون بين المصلى والسترة ١٣٩	٩١	باب النفاض الملازمة في المسجد ١٢٨	٧١	باب الصلوة في مواضع الغنم ١٢٢	٢٩
باب الصلوة الى الحربة ١٤٠	٩٢	باب كس المسجد والتقاط الخرق والقذى الخ ١٢٩	٧٢	باب الصلوة في مواضع الابل ١٢٣	٥٠
باب الصلوة الى العنزة ١٤١	٩٣	باب تحريم تجارة الخمر في المسجد ١٣٠	٧٣	باب من صلح وقدامه تنورا نار مما يعبد الخ ١٢٤	٥١
باب السترة بكرة وغيرها ١٤٢	٩٤	باب التحذير للمسجد ١٣٠	٧٤	باب كراهية الصلوة في المقابر ١٢٥	٥٢
باب الصلوة الى الاسطوانة ١٤٣	٩٥	باب الاسير والعزيم يربط في المسجد ١٣١	٧٥	باب الصلوة في مواضع الخسف والعذاب ١٢٦	٥٣
باب الصلوة بين السواري في غير جماعة ١٤٠	٩٦	باب اغتسال اذا سلم و ربط الالهة ايضا في المسجد ١٣٠	٧٦	باب الصلوة في البيعة ١٢٧	٥٣
باب ١٤١	٩٧	باب النخيمة في المسجد ١٣١	٧٧	باب ١٢٨	٥٤
باب الصلوة الى الرحلة والبيع الخ ١٤٢	٩٨	باب النخيمة في المسجد ١٣١	٧٨	باب قول النبي صلعم جعلت لي الارض مسجدا وطورا ١٢٩	٥٤
باب الصلوة الى السرير ١٤٣	٩٩	باب ادخال البعير في المسجد ١٣١	٧٩	باب نوم المرأة في المسجد ١٣٠	٥٤
باب لير المصلى من قرابين يديه ١٤٤	١٠٠	باب ادخال البعير في المسجد ١٣١	٨٠	باب نوم الرجال في المسجد ١٣١	٥٨
باب اثم الماثر بين يدي المصلى ١٤٥	١٠١	باب اللعنة ١٣١	٨١	باب الصلوة اذا قدم من سفر ١٣٥	٥٩
باب استقبال الرجل الرجل وهو يصل ١٤٦	١٠٢	باب ١٣١	٨٢	باب اذا دخل احدكم المسجد نذير كرمك عنتين قبل ان يجلس ١٣٥	٦٠
باب الصلوة خلف النائم ١٤٧	١٠٣	باب النخوة والمر في المسجد ١٣٢	٨٣	باب الحديث في المسجد ١٣٥	٦١
باب التطوع خلف المرأة ١٤٨	١٠٤	باب الابواب العلق للكعبة والمساجد ١٣٢	٨٤	باب بنيان المسجد ١٣٥	٦٢
باب من قال لا يقطم الصلوة شي ١٤٩	١٠٥	باب دخول المشرك في المسجد ١٣٢	٨٥	باب التعاون في بناء المسجد ١٣٦	٦٣
باب اذا حو جارية صغيرة على عنقه في الصلوة ١٥٠	١٠٦	باب رفع الصوت في المسجد ١٣٢	٨٦	باب الاستعانة بالنجار والصنعة في احوال المنابر الخ ١٣٦	٦٤
باب اذا صلح الى فراشه حائض ١٥١	١٠٧	باب الحلق والجلاس في المسجد ١٣٣	٨٧	باب من بنى مسجدا باب يأخذ بنصول النبيل اذا مر في المسجد ١٣٦	٦٥
	١٠٨	باب الاستلقاء في المسجد ١٣٣	٨٨	باب المروء في المسجد ١٣٦	٦٤
	١٠٩	باب المسجد يكون في الطرقي من غير ضرر بالناس فيه ١٣٣	٨٩		
	١١٠	باب الصلوة في مسجد السوق ١٣٣	٩٠		

باب هل يعجز الرجل امرأة أحمد	١٠٨	باب ذكر العشاء والعتمه الخ	٣٨	باب قضاء الصلوة الاولى	١٥٩
المجود لكي يسجد	١٠٩	باب وقت العشاء اذا اجتمع	٣٩	باب ما يكره من السمر بعد العشاء	١٥٩
باب المرأة تطرح عن المصلحة	١٠٩	باب فضل العشاء	٣٩	باب السمر في الفقر والمخير	١٥٩
شيئا من الاذنة	١٠٩	باب ما يكره من النوم قبل العشاء	٣٩	باب السمر مع الاهل والضييف	١٥٩
١٠- كتاب ما قيت الصلوة					
باب مواقيت الصلوة وفضلها	١	باب نوم قبل العشاء لمن غلب	٣٩	باب الاذان	١٦٠
باب قول الله عز وجل آمينين	٢	باب وقت العشاء الى نصف الليل	٣٩	باب بدء الاذان الخ	١٦١
باب الخ	٣	باب فضل صلوة الفجر والخ	٣٩	باب الاذان مثنى مثنى	١٦٢
باب البيعة على اقام الصلوة	٤	باب وقت الفجر	٣٩	باب الاقامة واحدة الاقوله	١٦٣
باب الصلوة كفارة	٥	باب من ادرك من الفجر ركعة	٣٩	باب قامت الصلوة	١٦٣
باب فضل الصلوة لوقتها	٥	باب من ادرك من الصلوة ركعة	٣٩	باب فضل التاذين	١٦٣
باب الصلوة الخمس كفارة للخطايا	٦	باب من ادرك من الصلوة ركعة	٣٩	باب رفع الصوت بالنداء	١٦٣
باب الخ	٦	باب الصلوة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس	٣٩	باب ما يحقن بالاذان من النداء	١٦٣
باب في تضييع الصلوة عن وقتها	٧	باب لا تتحرر من الصلوة قبل غروب الشمس	٣٩	باب ما يقول اذا استمع للنداء	١٦٣
باب للمصلحة بينا حيا ربي	٨	باب الكبرياء الصلوة الابد	٣٩	باب الدعاء عند النداء	١٦٣
باب الايراد بالظهر في شدة الحر	٩	باب العصر والفجر	٣٩	باب الاستهام في الاذان	١٦٥
باب الايراد بالظهر في السفر	١٠	باب يصلي بعد العصر من الفوائت ونحوها	٣٩	باب الكلام في الاذان	١٦٥
باب ثقت الظهر عند الزوال	١١	باب التكبير بالصلوة في يوم غيم	٣٩	باب اذان الاعمى اذا كان له من يجنبه	١٦٦
باب تاخير الظهر الى العصر	١٢	باب الاذان بعد ما بالوقت	٣٩	باب الاذان بعد الفجر	١٦٦
باب وقت العصر	١٣	باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت	٣٩	باب الاذان قبل الفجر	١٦٦
باب اثم من فاتته العصر	١٤	باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت	٣٩	باب كبر في الاذان ولا قامة	١٦٦
باب اثم من ترك العصر	١٥	باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت	٣٩	باب من استنظر الاقامة	١٦٦
باب فضل صلوة العصر	١٦	باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت	٣٩	باب بين كراذنين صلوة لمن شاء	١٦٦
باب من ادرك ركعة من العصر قبل الغروب	١٧	باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت	٣٩	باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد	١٦٦
باب وقت المغرب	١٨	باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت	٣٩	باب الاذان للسافر اذا كانوا جماعة الخ	١٦٦
باب من كره ان يقال المغرب العشاء	١٩	باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت	٣٩		

١٨٢	من خلفه	باب هل يصلي الامم من	٢١	باب هل يستحب المؤذن فاه	١٩
»	باب امامة المفتون وللمبتدئ	حضر وهل يجتنب يوم	١٩٨	هنها هنها الخ	
	باب يقوم عن يمين الامام	الجمعة في المطر	١٤٣	باب قول الرجل فاتنا الصلوة	٢٠
	بجذائه سواء اذا كانوا	باب اذا حضر الطعام و	٢٢	باب لا يقوم الى الصلوة مستجيبا	٢١
»	اثنين	اقامت الصلوة	١٤٥	باب هل يخرج من المسجد عليه	٢٢
	باب اذا قام الرجل عن يسار	باب ادا دعى الامام للصلاة	٢٣	باب اذا قال الامام مكانكم	٢٥
١٨٣	الامام فحوله الامام الخ	وبينة ما ياكل	»	حتى يرجع انتظروه	»
	باب اذا امر بين الامام ان يؤتم	باب من كان في حاجة	٢٣	باب قول الرجل ما صلينا	٢٦
»	ثم جاز قوم فاتهم	اهله فاقيمت الصلوة فخرا	»	باب الامام تعرض له الحاجة	٢٤
	باب اذا طول الامام وكان	باب من صلى بالناس وهو	٢٥	بعد الاقامة	»
»	للرجل حاجة فخرج وصلى	يريد الا ان يعلمهم صلوة		باب الحلام اذا اقيمت الصلوة	٢٨
	باب تخفيف الامام في الغياب	النبي صلى الله عليه وسلم الخ	١٤٦	باب جوب صلوة الجماعة	٢٩
»	واقام الركوع والسجود	باب اهل العلم والفضل الخ	٢٦	باب فضل صلوة الجماعة	٣٠
	باب اذا صلى لنفسه فليطول	بالامامة	»	باب فضل صلوة الفجر في جماعة	٣١
»	ما شاء	باب من قام الى جنب	٢٤	باب فضل التمجيد الى الظهر	٣٢
١٨٤	باب من شك امامه اذا طول	الامام لعلته	١٤٤	باب احتساب الاثار	٣٣
»	باب الاهيار في الصلوة وكما لها	باب من دخل ليؤتم الناس	٢٨	باب فضل صلوة العشاء في	٣٢
	باب من اخف الصلوة عند	تجار الامام الاول الخ	»	الجماعة	
»	بكار الصبي	باب اذا استنوا في القراءة	٢٩	باب اثنان فما فوقها جماعة	٣٥
	باب اذا صلى ثم اتم قوما	عليهم ابرهم	١٤٨	باب من جلس في المسجد فنظ	٣٦
»	بلس من اسمع الناس تكبير	باب اذا اراد الامام قوامهم	٥٠	الصلوة وفضل المسجد	»
١٨٥	الامام	باب اما جعل الامام ليؤتم	٥١	باب فضل من خرج الى المسجد	٣٤
	باب الرجل ياتم بالامام	به الخ	»	ومن راح	١٤٣
»	وياتم الناس بالماموم	باب متى يسجد من خلف	٥٢	باب اذا اقيمت الصلوة الا	٣٨
	باب هل ياخذ الامام اذا	الامام	١٨١	فلا صلوة لا المكتوبة	»
»	شك يقول الناس	باب انم من رفع راسه قبل	٥٣	باب حد المرء ان يشهد	٣٩
	باب اذا بكى الامام في الصلوة	الامام	»	الجماعة	»
»	باب في تسوية الصفوف عند	باب امامة العبد للمولى	٥٢	باب الرخصة في المطر والعلنة	٤٠
»	الاقافة وبعد ها	باب اذا لم يتم الامام وتم	٥٥	ان يصلي في رحله	١٤٣

٩٨	باب يطول في الركعة الاولى	١١٠	١٨٩	باب	٦٠	باب آداب الامام على الناس عند تسوية الصفوف	٤٢
»	باب جهر الامام بالتأمين	١١١		باب رفع البصر الى الامام في الصلوة الخ	٩١	باب الصفا الاول	٤٣
»	باب فضل التمامين	١١٢	١٩٠	باب رفع البصر الى السماء في الصلوة	٩٢	باب اقامة الصف من تمام الصلوة	٤٤
»	باب جهر المأموم بالتأمين	١١٣		باب الالتفات في الصلوة	٩٣	باب اثم من لم يتم الصفوف	٤٥
»	باب اذا ركع دون الصف	١١٤	١٩١	باب هل يلتفت لغيره اذا ركع	٩٤	باب الزايق المنكب بالثياب	٤٦
»	باب اتمام التكبير في الركوع	١١٥		باب وجهه انقراة للامام و المأموم في الصلوات كلها	٩٥	والقدم بالقدم في الصف	٤٧
١٥٩	باب اتمام التكبير في السجود	١١٦		باب وضع الاكف على الركب في الركوع	٩٦	باب اذا قام الرجاء عن يسار الامام وحول الامام خلفه الى يمينه تمت صلواته	٤٨
»	باب لتكبير اذا قام من السجود	١١٧		باب يحضر والسفر وما يجهر فيه ما وما يخافت	٩٧	باب المرأة وحدها تكون صفا	٤٩
»	باب وضع الاكف على الركب	١١٨		باب القراءة في الظهر	٩٨	باب يمينته المسجد للامام	٥٠
٢٠٠	باب اذا لم يتم الركوع	١١٩	١٩٣	باب القراءة في المغرب	٩٩	باب اذا كان بين الامام وبين القوم حالط او ستره	٥١
»	باب استواء الظهر في الركوع	١٢٠		باب الجهر في العشاء	١٠٠	باب يجب لتكبيره وافتتاح الصلوة	٥٢
»	باب حد تمام الركوع و الاعتدال فيه لا يظلم نيتة	١٢١		باب القراءة في المغرب	١٠١	باب رفع اليدين في التكبير	٥٣
»	باب امر النبي صلعم الذي لا يتم ركوعه بالاعادة	١٢٢	١٩٤	باب الجهر في العشاء	١٠٢	باب لاولى مع الا فتاح سواء	٥٤
»	باب الدعاء في الركوع	١٢٣		باب يطول في الاوليين ويجذف في الاخرين	١٠٣	باب رفع اليدين اذا كبروا اذا ركعوا اذا رفع	٥٥
»	باب ما يقول الامام ومن خصه اذا رفع راسه من الركوع	١٢٤	١٩٥	باب القراءة في العشاء	١٠٤	باب الى اين يرفع يديه	٥٦
»	باب فضل اللهم ربنا والحمد لله	١٢٥		باب يطول في الاوليين ويجذف في الاخرين	١٠٥	باب رفع اليدين اذا قام من الركعتين	٥٧
»	باب القنوت	١٢٦		باب الجهر بقراءة صلوة الفجر	١٠٦	باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلوة	٥٨
»	باب الطائفة حين يرفع راسه من الركوع	١٢٧		باب الجهر بين السورتين في ركعة الخ	١٠٧	باب ما يقرأ بعد لتكبير	٥٩
٢٠١	باب ما يقول الامام ومن خصه اذا رفع راسه من الركوع	١٢٨	١٩٦	باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٠٨	باب من خافت القراءة في الظهر والعصر	٦٠
»	باب فضل اللهم ربنا والحمد لله	١٢٩		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٠٩	باب اذا سمع الامام الاية	٦١
»	باب القنوت	١٣٠		باب من خافت القراءة في الظهر والعصر	١١٠		
»	باب الطائفة حين يرفع راسه من الركوع	١٣١		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١١١		
»	باب ما يقول الامام ومن خصه اذا رفع راسه من الركوع	١٣٢		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١١٢		
»	باب فضل اللهم ربنا والحمد لله	١٣٣		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١١٣		
»	باب القنوت	١٣٤		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١١٤		
»	باب الطائفة حين يرفع راسه من الركوع	١٣٥		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١١٥		
»	باب ما يقول الامام ومن خصه اذا رفع راسه من الركوع	١٣٦		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١١٦		
»	باب فضل اللهم ربنا والحمد لله	١٣٧		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١١٧		
»	باب القنوت	١٣٨		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١١٨		
»	باب الطائفة حين يرفع راسه من الركوع	١٣٩		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١١٩		
»	باب ما يقول الامام ومن خصه اذا رفع راسه من الركوع	١٤٠		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٢٠		
»	باب فضل اللهم ربنا والحمد لله	١٤١		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٢١		
»	باب القنوت	١٤٢		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٢٢		
»	باب الطائفة حين يرفع راسه من الركوع	١٤٣		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٢٣		
»	باب ما يقول الامام ومن خصه اذا رفع راسه من الركوع	١٤٤		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٢٤		
»	باب فضل اللهم ربنا والحمد لله	١٤٥		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٢٥		
»	باب القنوت	١٤٦		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٢٦		
»	باب الطائفة حين يرفع راسه من الركوع	١٤٧		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٢٧		
»	باب ما يقول الامام ومن خصه اذا رفع راسه من الركوع	١٤٨		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٢٨		
»	باب فضل اللهم ربنا والحمد لله	١٤٩		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٢٩		
»	باب القنوت	١٥٠		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٣٠		
»	باب الطائفة حين يرفع راسه من الركوع	١٥١		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٣١		
»	باب ما يقول الامام ومن خصه اذا رفع راسه من الركوع	١٥٢		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٣٢		
»	باب فضل اللهم ربنا والحمد لله	١٥٣		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٣٣		
»	باب القنوت	١٥٤		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٣٤		
»	باب الطائفة حين يرفع راسه من الركوع	١٥٥		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٣٥		
»	باب ما يقول الامام ومن خصه اذا رفع راسه من الركوع	١٥٦		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٣٦		
»	باب فضل اللهم ربنا والحمد لله	١٥٧		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٣٧		
»	باب القنوت	١٥٨		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٣٨		
»	باب الطائفة حين يرفع راسه من الركوع	١٥٩		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٣٩		
»	باب ما يقول الامام ومن خصه اذا رفع راسه من الركوع	١٦٠		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٤٠		
»	باب فضل اللهم ربنا والحمد لله	١٦١		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٤١		
»	باب القنوت	١٦٢		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٤٢		
»	باب الطائفة حين يرفع راسه من الركوع	١٦٣		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٤٣		
»	باب ما يقول الامام ومن خصه اذا رفع راسه من الركوع	١٦٤		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٤٤		
»	باب فضل اللهم ربنا والحمد لله	١٦٥		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٤٥		
»	باب القنوت	١٦٦		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٤٦		
»	باب الطائفة حين يرفع راسه من الركوع	١٦٧		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٤٧		
»	باب ما يقول الامام ومن خصه اذا رفع راسه من الركوع	١٦٨		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٤٨		
»	باب فضل اللهم ربنا والحمد لله	١٦٩		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٤٩		
»	باب القنوت	١٧٠		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٥٠		
»	باب الطائفة حين يرفع راسه من الركوع	١٧١		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٥١		
»	باب ما يقول الامام ومن خصه اذا رفع راسه من الركوع	١٧٢		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٥٢		
»	باب فضل اللهم ربنا والحمد لله	١٧٣		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٥٣		
»	باب القنوت	١٧٤		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٥٤		
»	باب الطائفة حين يرفع راسه من الركوع	١٧٥		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٥٥		
»	باب ما يقول الامام ومن خصه اذا رفع راسه من الركوع	١٧٦		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٥٦		
»	باب فضل اللهم ربنا والحمد لله	١٧٧		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٥٧		
»	باب القنوت	١٧٨		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٥٨		
»	باب الطائفة حين يرفع راسه من الركوع	١٧٩		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٥٩		
»	باب ما يقول الامام ومن خصه اذا رفع راسه من الركوع	١٨٠		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٦٠		
»	باب فضل اللهم ربنا والحمد لله	١٨١		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٦١		
»	باب القنوت	١٨٢		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٦٢		
»	باب الطائفة حين يرفع راسه من الركوع	١٨٣		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٦٣		
»	باب ما يقول الامام ومن خصه اذا رفع راسه من الركوع	١٨٤		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٦٤		
»	باب فضل اللهم ربنا والحمد لله	١٨٥		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٦٥		
»	باب القنوت	١٨٦		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٦٦		
»	باب الطائفة حين يرفع راسه من الركوع	١٨٧		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٦٧		
»	باب ما يقول الامام ومن خصه اذا رفع راسه من الركوع	١٨٨		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٦٨		
»	باب فضل اللهم ربنا والحمد لله	١٨٩		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٦٩		
»	باب القنوت	١٩٠		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٧٠		
»	باب الطائفة حين يرفع راسه من الركوع	١٩١		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٧١		
»	باب ما يقول الامام ومن خصه اذا رفع راسه من الركوع	١٩٢		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٧٢		
»	باب فضل اللهم ربنا والحمد لله	١٩٣		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٧٣		
»	باب القنوت	١٩٤		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٧٤		
»	باب الطائفة حين يرفع راسه من الركوع	١٩٥		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٧٥		
»	باب ما يقول الامام ومن خصه اذا رفع راسه من الركوع	١٩٦		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٧٦		
»	باب فضل اللهم ربنا والحمد لله	١٩٧		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٧٧		
»	باب القنوت	١٩٨		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٧٨		
»	باب الطائفة حين يرفع راسه من الركوع	١٩٩		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٧٩		
»	باب ما يقول الامام ومن خصه اذا رفع راسه من الركوع	٢٠٠		باب يقرأ في الاخرين بها تحة الكتاب	١٨٠		

٢١٤	عز وجل اذا نود للصلوة	٢١١	باب يسلم حين يسلم الامام	١٥٣	باب ذالمة يتم سجوده	١٣٢
٢١٤	باب فضل الغسايم للجمعة	٢	باب من لم يرد السلام على الامام	١٥٣	باب السجود على سبعة اعظم	١٣٣
٢١٨	باب الطيب للجمعة	٣	واكتفى بتسليم الصلوة	١٥٤	باب السجود على الالف	١٣٣
١٥٥	باب فضل الجمعة	٤	باب الذكر بعد الصلوة	١٥٥	باب السجود على الانف والطين	١٣٤
١٥٦	باب	٥	باب يتقبل لامام الناس	١٥٦	باب عقد الثياب تشدها	١٣٦
٢١٢	باب الدهن للجمعة	٦	اذا سلم	١٥٦	ومن فتم اليه ثوبه اذا خاف	١٣٦
٢١٩	باب يلبس احسن ما يجد	٧	باب مكث الامام في صلوة	١٥٧	ان تنكشف عورتها	١٣٦
١٥٨	باب السواك يوم الجمعة	٨	بعد السلام	١٥٨	باب لا يكف شعر	١٣٧
١٥٩	باب من تسوك بسواك غيره	٩	باب من صلى بالناس فذكر	١٥٩	باب لا يكف ثوبه في الصلوة	١٣٨
٢١٣	باب ما يقرأ في صلوة الفجر	١٠	حاجة فتحطاهم	١٥٩	باب تسبيح والدعاء في السجود	١٣٩
٢٢٠	يوم الجمعة	١١	باب الافتتال والانصراف	١٦٠	باب الملك بين السجدين	١٤٠
١٦٠	باب الجمعة في القر والمدن	١١	عن اليمين والشمال	١٦٠	باب لا يفترش ذراعيه في السجود	١٤١
١٦١	باب هل عليه من له شهيد	١٢	باب جاء في التوم النقي	١٦١	باب من استوى فاعد في تر	١٤٢
٢٢١	الجمعة غسل الخ	١٣	البصل والكراث	١٦٢	من صلوته تم خفض	١٤٢
١٦٢	باب	١٣	باب وضوء الصبيان ومثي	١٦٢	باب كيف يعتمد على الارض	١٤٣
١٦٣	باب الرخصة ان لم يحضر	١٤	يجب عليهم الغسل والطهور	١٦٣	اذا قام من الركعة	١٤٣
١٦٤	الجمعة في المطر	١٥	وحضورهم الجماعة والعبيد	١٦٤	باب يكبر وهو يفيض من	١٤٣
١٦٥	باب من ين توتى الجمعة	١٥	والجناز وصفوفهم	١٦٥	السجدين	١٤٣
١٦٦	وعلى من تجب	١٦	باب خروج النساء الى المساجد	١٦٦	باب سنة الجلوس في التشهد	١٤٥
١٦٧	باب وقت الجمعة اذا ان	١٦	بالليل والغلس	١٦٧	باب من ير التشهد الاول	١٤٦
٢٢٢	الشمس	١٧	باب انتظار الناس قيام الامام	١٦٨	واجب الخ	١٤٦
١٦٨	باب اذا اشتد الحر يوم الجمعة	١٧	العالم	١٦٨	باب التشهد في الاول	١٤٦
١٦٩	باب المشي الى الجمعة	١٨	باب صلوة النساء خلف الرجال	١٦٩	باب التشهد في الاخرة	١٤٨
١٧٠	باب لا يفرق بين اثنين	١٩	باب سرعة انصراف النساء	١٧٠	باب الدعاء قبل السلام	١٤٩
١٧١	يوم الجمعة	٢٠	من الصلح الخ	١٧١	باب ما يتخير من الدعاء	١٥٠
١٧٢	باب لا يقيم الرجل اخاه	٢٠	باب استئذان المرأة زوا	١٧٢	بعد التشهد الخ	١٥٠
١٧٣	يوم الجمعة ويقعد مكانه	٢١	بالخروج الى المسجد	١٧٣	باب من لم يسبح جمعة وانهم	١٥١
١٧٤	باب الاذان يوم الجمعة	٢١	باب الخروج الى المسجد	١٧٤	حتى صلت	١٥١
١٧٥	باب المود الواحد يوم الجمعة	٢٢	باب فرض الجمعة لقول الله	١٧٥	باب التسليم	١٥٢

٢٣٣	باب الخطبة بعد العيد	٨	٢٢٨	باب الصلوة بعد الجمعة قبلها	٣٩	باب يجيب الإمام على المنبر إذا	٢٣
	باب يكون من حمل السلاح في	٩		باب قول الله عز وجل فاذا	٢٠	سمع النداء	٢٣٣
٢٣٥	العيد والحرم			قضت الصلوة فانشروا		باب الجلوس على المنبر عند	٢٢
"	باب التكبير للعيد	١٠		في الامرض واتبعوا من	٢٢٢	التأذين	
"	باب فضل العمرة ايام التشريق	١١	"	فضل الله	"	باب التأذين عند الخطبة	٢٥
"	باب التكبير ايام منى واذا غدا	١٢	"	باب القائل بعد الجمعة	٢١	باب الخطبة على المنبر	٢٦
"	الى عرفة			١٢- كتاب صلوة الخوف		باب الخطبة قائماً	٢٤
٢٣٦	باب الصلوة الى المحرمة يوم العيد	١٣	٢٢٩	باب	١	باب استقبال الناس الامام	٢٨
	باب حمل العنزة والحربة بين	١٢		باب صلوة الخوف رجالاً و	٢	اذا خطب	"
"	يدي الامام يوم العيد		"	ركباً	"	باب من قال في الخطبة	٢٩
"	باب خروج النساء والخيف	١٥		باب يجرس بعضهم بعضاً	٣	بعد التثاء ما بعد	"
"	الى المصلى		٢٣٠	في صلوة الخوف		باب القعدة بين الخطبتين	٣٠
"	باب خروج الصبي الى المصلى	١٦		باب الصلوة عند مناهضة	٢٢٦	يوم الجمعة	٢٢٦
"	باب استقبال الامام الناس في	١٤	"	الحصون ولقاء العدو	"	باب الاستماع الى الخطبة	٣١
"	خطبة العيد			باب صلوة الطالب المطول	٥	باب اذا ارى الامام رجلاً	٣٢
"	باب العلم بالمصلى	١٨	٢٣١	راكباً او قائماً		جلده وهو يخضب امره ان	
"	باب موعظة الامام النساء يوم العيد	١٩		باب التكبير والفلس	٦	يصلى ركعتين	"
٢٣٤	باب اذا لم يكن لها جليبا في العيد	٢٠	"	بالصبح والصلوة عند الاغار		باب من جاء والا امام يخطب	٣٣
"	باب اعتزال الخيف المصلى	٢١	٢٣٢	٣- كتاب العيدين		صلى ركعتين خفيفتين	"
"	باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى	٢٢		باب ماجاء في العيدين والتخيل	١	باب رفع اليدين في الخطبة	٣٢
"	باب كلام الامام الناس في	٢٣	٢٣١	فيهما		باب الاستسقاء في الخطبة	٣٥
"	خطبة العيد واذا سئل الا انه			باب الحرب الذي يوم العيد	٢	يوم الجمعة	"
"	عن شئ وهو يخطب		٢٣٢	باب شئ عيلاها الاسلام	٣	باب الانصايوم الجمعة	٢٢٤
"	باب من خالف الطريق اذا	٢٢	"	باب الاكل يوم الفطر في الحج	٢	والامام يخطب واذا قام للص	
"	رحم يوم العيد		"	باب الاكل يوم النحر	٥	انصت فقد لغا	"
"	باب اذا فاته العيد يصلى	٢٥	٢٣٣	باب النحر الى المصلى بغير	٦	باب الساعة التي في يوم	٣٤
"	ركعتين وكذلك النساء			باب المشى والركوب الى العيد	٤	الجمعة	"
"	باب الصلوة قبل العيد	٢٦		والصلوة قبل الخطبة بغير		باب اذا نزل الناس عن الامام	٢٨
٢٣٨	وبعد ها	٢٣٢		اذان ولا اقامة		في صلوة الجمعة فصلوة الامام	
						ومن يلقه جائزة	

٢٢٨	باب خطبة الامام في الكسوف	٢	باب اذا استشفع المشركون	١٣	١٢- ابواب الوتر ٢٢٨-٢٢٠
	باب هل يقول كسفت الشمس	٥	بالمسلمين عند القحط	٢٣٨	١ باب ما جاء في الوتر
	او خسفت الخ		باب الدعاء اذا اكثر المطر حيا ^{لينا}	١٣	٢ باب ساعات الوتر
	باب قول النبي صلعم يخوف الله	٦	ولا علينا		٣ باب ايقاظ النبي صلعم اهل بالوتر
	عز وجل عباد الله بالكسوف		باب الدعاء في الاستسقاء قائما	١٥	٤ باب ليحيا اخر صلوته وتر
	باب التعوذ من عذاب القبر	٤	باب المجرم بالقراءة في الاستسقاء	١٦	٥ باب الوتر على الدابة
	في الكسوف		باب كيف قول النبي صلعم ظهره	١٤	٦ باب الوتر في السفر
٢٢٩	باب طول السجود في الكسوف	٨	الى الناس	-	٧ باب الفوق قبل الركوع وبعده
	باب صلاة الكسوف جماعة	٩	باب صلاة الاستسقاء ركعتا ^ت	١٨	١٥- كتاب الاستسقاء ٢٢٦-٢٢٠
	باب صلاة النساء مع الرجال	١٠	باب الاستسقاء في المصلى	١٩	١ باب الاستسقاء وخروج النبي صلعم
	في الكسوف		باب استقبال القبلة في الاستسقاء	٢٠	٢ في الاستسقاء
	باب من احب العنقاة في	١١	باب نعم الناس ايديهم الاما ^ت	٢١	٣ باب دعاء النبي صلعم لجعله سنين
	كسوف الشمس		في الاستسقاء	١٣١	كسنى يوسف
	باب صلوة الكسوف في السجد	١٢	باب رفع الامام يده في الاستسقاء	٢٢	٤ باب سؤال الناس الامام الاستسقاء
	باب لا تنكس الشمس لوحت	١٣	باب ما يقال اذا مطرت	٢٣	٢٢٢ اذا تحطول
	احد ولا يحيا ته		باب من تطر من المطر حتى	٢٢	٢ باب تحويل الورداء في الاستسقاء
٢٥٠	باب الذكر في الكسوف	١٢	يتجادر على بحيته		٥ باب انتقام الرب عز وجل من
	باب الدعاء في الكسوف	١٥	باب اذا هبت الرياح	٢٥	خلقته بالقط اذا انشقك عارم ^{الله}
	باب قول الامام في خطبة الكسوف	١٦	باب قول النبي صلعم نعمت ^{بالصلى}	٢٦	٣ باب الاستسقاء في المسجد الجامع
	انا بعد		باب قيل في الزلزلة والايات	٢٤	٤ باب الاستسقاء في خطبة الجمعة
	باب الصلوة في كسوف القمر	١٤	باب قول الله عز وجل وتجمعوا ^{لنا}	٢٨	٥ خبر مستقبل القبلة
	باب صب المرأة على رأسها	١٤	من زقم انتم نذرون		٨ باب الاستسقاء على المنبر
	اذا طال الامام القيام في الركعة		باب لا يدي منى يجي المطر	٢٩	٩ باب من كتبه بصلوة الجمعة في
	الارلى		الا الله عز وجل		الاستسقاء
	باب الركعة الاولى في الكسوف	١٨	١٤- كتاب الكسوف ٢٢٤-٢٥٠		١٠ باب الدعاء اذا انقطعت السبل
	باب المجرم بالقراءة في الكسوف	١٩	باب الصلوة في كسوف الشمس	٢٢٤	من كثرة المطر
٢٥٣-٢٥٥	١٤- كتاب سجود القرآن		باب الصدقة في الكسوف	٢	١١ باب ما قيل ان النبي صلعم يحول
٢٥١	باب ماجاء في سجود القرآن	١	باب النداء بالصلوة جماعة	٣	رداه في الاستسقاء يوم الجمعة
	باب سجدة تنزيلا للسجدة	٢	في الكهوف	٢٢٨	١٢ باب اذا استشفعوا الى الامام يستق
					انهم لم يردهم

٣	باب سجدة من	٢٥١	١١	باب من لم تطوع في السفر	٩	باب طول القيام في صلاة الليل	٣٦٢
٤	باب سجدة الجهم	٢٥٢	١٢	باب من تطوع في السفر في غير	١٠	باب كيف صلاة الليل وركوعها	٢٧٣
٥	باب سجدة المسلمين مع المشركين والمشارك بحسن الليل وضعت	٢٥٣	١٣	باب الجمعة في السفر بين المغرب والعشاء	١١	باب قيام النبي صلعم بالليل	
٦	باب من قرأ السجدة ولم يسجد	٢٥٤	١٤	باب يوم يؤذن ويقيم اذا جمع بين المغرب والعشاء	١٢	باب قيام النبي صلعم بالليل ونومه وما استخ من قيام الليل	
٧	باب سجدة اذا السماء انشقت	٢٥٥	١٥	باب يوم خرا الظهر الى العصر اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس	١٣	باب عقاب الشيطان على قافية	٢٧٤
٨	باب من سجد لسجد القارى	٢٥٦	١٦	باب اذا ارتحل بعد ما غابت الشمس صلى الظهر ثم ركب	١٤	باب اذا لم يصل بالليل	
٩	باب ازدهام الناس اذا قرأ الامام السجدة	٢٥٧	١٧	باب صلاة القاعد	١٥	باب اذا نام ولم يصل بالليل	
١٠	باب من ارى ان الله عز وجل لم يوجب السجود	٢٥٨	١٨	باب صلاة القاعد بلا ايماء	١٦	باب اذا نام اول الليل احيا	
١١	باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها	٢٥٩	١٩	باب اذا صلى قاعدا صلى على	١٧	باب قيام النبي صلعم بالليل في رمضان وغيره	
١٢	باب من لم يسجد موضع السجود عم الامام من الزحام	٢٦٠	٢٠	باب اذا صلى قاعدا ثم صلح او وجد خفة تم ما بقى	١٨	باب فضل الطهور بالليل والنها	
١٨-١٩-٢٠-٢١-٢٢-٢٣-٢٤-٢٥-٢٦-٢٧-٢٨-٢٩-٣٠-٣١-٣٢-٣٣-٣٤-٣٥-٣٦-٣٧-٣٨-٣٩-٤٠-٤١-٤٢-٤٣-٤٤-٤٥-٤٦-٤٧-٤٨-٤٩-٥٠-٥١-٥٢-٥٣-٥٤-٥٥-٥٦-٥٧-٥٨-٥٩-٦٠-٦١-٦٢-٦٣-٦٤-٦٥-٦٦-٦٧-٦٨-٦٩-٧٠-٧١-٧٢-٧٣-٧٤-٧٥-٧٦-٧٧-٧٨-٧٩-٨٠-٨١-٨٢-٨٣-٨٤-٨٥-٨٦-٨٧-٨٨-٨٩-٩٠-٩١-٩٢-٩٣-٩٤-٩٥-٩٦-٩٧-٩٨-٩٩-١٠٠							
١٨-١٩-٢٠-٢١-٢٢-٢٣-٢٤-٢٥-٢٦-٢٧-٢٨-٢٩-٣٠-٣١-٣٢-٣٣-٣٤-٣٥-٣٦-٣٧-٣٨-٣٩-٤٠-٤١-٤٢-٤٣-٤٤-٤٥-٤٦-٤٧-٤٨-٤٩-٥٠-٥١-٥٢-٥٣-٥٤-٥٥-٥٦-٥٧-٥٨-٥٩-٦٠-٦١-٦٢-٦٣-٦٤-٦٥-٦٦-٦٧-٦٨-٦٩-٧٠-٧١-٧٢-٧٣-٧٤-٧٥-٧٦-٧٧-٧٨-٧٩-٨٠-٨١-٨٢-٨٣-٨٤-٨٥-٨٦-٨٧-٨٨-٨٩-٩٠-٩١-٩٢-٩٣-٩٤-٩٥-٩٦-٩٧-٩٨-٩٩-١٠٠							
١	باب جاء في التقصير وركعتيه حتى يقصر	٢٥٩	١	باب التهجيد بالليل الخ	٢٠	باب فضل قيام الليل	
٢	باب الصلوة بمفني	٢٦٠	٢	باب فضل قيام الليل	٢١	باب فضل قيام الليل	
٣	باب كيف اقام النبي صلعم في حجته	٢٦١	٣	باب طول السجود في قيام الليل	٢٢	باب فضل قيام الليل	
٤	باب في كم تقصر الصلوة وسعى النبي صلعم السفر بيوتا ولية	٢٦٢	٤	باب ترك القيام للمريض	٢٣	باب فضل قيام الليل	
٥	باب يقصر اذا خرج من موضعه	٢٦٣	٥	باب تحريض النبي صلعم على قيام الليل والنوافل من غير	٢٤	باب فضل قيام الليل	
٦	باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر	٢٦٤	٦	باب قيام النبي صلعم حتى ترم	٢٥	باب فضل قيام الليل	
٧	باب صلوة التطوع على الدابة	٢٦٥	٧	باب من قام عند السحر	٢٦	باب فضل قيام الليل	
٨	باب الا يمار على الدابة	٢٦٦	٨	باب من تسحر ثم قام الى الصلاة فلم ييم حتى صلى الصبح	٢٧	باب فضل قيام الليل	
٩	باب يترك للمكتوبة	٢٦٧	٩	باب من تسحر ثم قام الى الصلاة فلم ييم حتى صلى الصبح	٢٨	باب فضل قيام الليل	
١٠	باب صلوة التطوع على الحمار	٢٦٨	١٠	باب من تسحر ثم قام الى الصلاة فلم ييم حتى صلى الصبح	٢٩	باب فضل قيام الليل	

٢٨١	باب الاشارة في الصلوة	٤	باب اذا دعيت الادم ولداها	٤	باب من لم ينظر بعد المكتوبة	٢٤٠	باب من لم ينظر بعد المكتوبة
كتاب الجنائز			٢٤٢	باب في الصلوة	٥	باب صلوة الضحك في السفر	٣١
٢٨١	باب ماجاء في الجنائز	١	باب مسح الحصى في الصلوة	٨	باب من لم يبيضا الفم في الصلاة	٢٤١	باب من لم يبيضا الفم في الصلاة
٢٨٢	باب الامر باتباع الجنائز	٢	باب بسط الثوب في السجود	٩	باب صلوة الضحك في الحضرة	٥	باب صلوة الضحك في الحضرة
	باب الدخول على الميت بعد الموت اذا درج في كفانه	٣	باب يجوز نزع العرق في الصلوة	١٠	باب الركعتين قبل الظهر	٥	باب الركعتين قبل الظهر
	باب الرجل ينجي الى اهل الميت بنفسه	٣	باب اذا انفلتت الدابة في الصلاة	١١	باب الصلوة قبل المغرب	٥	باب الصلوة قبل المغرب
٢٨٥	باب لا اذن بالجنائز	٥	باب يجوز من البصاق والنفخ في الصلوة	١٢	باب صلوة النوافل جماعة	٢٤٢	باب صلوة النوافل جماعة
	باب ففصل من مات له ولد الخ	٦	باب من صفر جاهلا من الرجال في صلواته الخ	١٣	باب اذا قيل للصلوة تقدم او		باب التظوع في البيت
	باب قول الرجل للمرأة عند الفجر	٤	باب اذا قيل للصلوة تقدم او	١٣			باب التظوع في البيت
	باب غسل الميت ووضوئها	٨	باب لا يرد السلام في الصلوة	١٥			باب فضل ما بين القبر والمنبر
	باب ما يستحب ان يفصل وترا	٥	باب رفع الايدي في الصلوة لامر	١٦			باب فضل ما بين القبر والمنبر
	باب ما بين يمين الميت	١٠	باب الحضرة في الصلوة	١٤			باب فضل ما بين القبر والمنبر
	باب موضع الوضوء من الميت	١١	باب تفكر الرجل الشيء في الصلوة	١٨			باب فضل ما بين القبر والمنبر
	باب هل تكفن المرأة في ذلك	١٢					باب فضل ما بين القبر والمنبر
٢٨٤	باب يجعل الكافر في اخوة	١٣					باب فضل ما بين القبر والمنبر
	باب تقص شعر المرأة	١٣					باب فضل ما بين القبر والمنبر
	باب كيف الاشعار للميت	١٥					باب فضل ما بين القبر والمنبر
	باب يجعل شعر المرأة ثلاث	١٦					باب فضل ما بين القبر والمنبر
	باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة	١٤					باب فضل ما بين القبر والمنبر
	باب يلقى شعر المرأة خلفها	١٨					باب فضل ما بين القبر والمنبر
	ثلاثة قرون						باب فضل ما بين القبر والمنبر
	باب الثياب ليس للكفن	١٩					باب فضل ما بين القبر والمنبر
	باب الكفن في ثوبين	٢٠					باب فضل ما بين القبر والمنبر
٢٨٨	باب الحنوط للميت	٢١					باب فضل ما بين القبر والمنبر
	باب كيف يكفن المحرم الخ	٢٢					باب فضل ما بين القبر والمنبر
	باب الكفن في القميص الخ	٢٣					باب فضل ما بين القبر والمنبر
٢٨٩	باب الكفن بغير قميص	٢٢					باب فضل ما بين القبر والمنبر

٢٥	باب الكفن بلا عمامة	٢٨٩	٥٠	باب من قام بجنازة يهودي	٣٠٠	٤٢	باب من يدخل قبر المرأة	٣٠٦
٢٦	باب الكفن من جميع الماد	٥١	٥١	باب حمل الرجال الجنازة دون الشل	٣٠١	٤٣	باب الصلوة على الشهيد	٥٣
٢٧	باب اذا لم يوجد الا ثوب واحد	٥٢	٥٢	باب الشريعة بالجنازة	٥٢	٤٤	باب دفن الرجلين والثلاث	٥٤
٢٨	باب اذا لم يجد كفنا الا باليوار	٥٣	٥٣	باب قول الميت وهو على الجنازة	٥٣	٣٠٤	باب في قبر واحد	٣٠٤
	راسه الخ	٥٤	٥٤	باب قد صوفى	٥٤	٤٥	باب من لم ير غسل الشهيد	٥٤
٢٩	باب من استعمل الكفن في	٥٥	٥٥	باب من صنف صفيين او	٥٥	٤٦	باب من يقدم في المجد	٥٥
	زمن النبي صلعم الخ	٥٦	٥٦	باب ثلثة على الجنازة الخ	٥٦	٤٧	باب الاذخر والخيش في القبر	٥٦
٣٠	باب اتباع النساء الجنائز	٥٧	٥٧	باب الصفوف على الجنازة	٥٧	٤٨	باب هل يخرج الميت من القبر	٥٧
٣١	باب احدا للمرأة على غير زواجها	٥٨	٥٨	باب صفوا الصبيان مع	٥٨	٥٩	باب والمجد لعلة	٥٩
٣٢	باب زيارة القبور	٥٩	٥٩	باب الرجال على الجنازة	٥٩	٣٠٦	باب المجد والشق في القبر	٣٠٨
٣٣	باب قول النبي صلعم يجذب	٦٠	٦٠	باب ستة الصلوة على الجنازة	٦٠	٨٠	باب اذا سلم الصبي فمات هل	٨٠
	الميت ببعض بكاء اهله عليه الخ	٦١	٦١	باب فضل اتباع الجنائز	٦١	٨١	باب يصلى عليه الخ	٨١
٣٤	باب ما يكره من النياحة	٦٢	٦٢	باب من انتظر حتى يدفن	٦٢	٣٠٣	باب اذا قال المشرك عند الموت	٣٠٣
٣٥	باب	٦٣	٦٣	باب صلوة الصبيان مع	٦٣	٣٠٤	باب لا الاله الا الله	٣٠٤
٣٦	باب ليس مثامن شق الجنون	٦٤	٦٤	باب الناس على الجنائز	٦٤	٨٢	باب الجريد على القبر الخ	٣١١
٣٧	باب ثاء النبي صلعم سعد بن خول	٦٥	٦٥	باب الصلوة على الجنائز بالصبي	٦٥	٨٣	باب موعظة المحدث عند القبر	٣١٣
٣٨	باب ما يحيى من الخلق عند المصيبة	٦٦	٦٦	باب ما يكره من اتخاذ المساجد	٦٦	٨٤	باب ما جاء في قاتل النفس	٣١٣
٣٩	باب ليس منا من ضرب الخوارج	٦٧	٦٧	باب على القبور	٦٧	٨٥	باب ما يكره من صلوة على المنافق	٣١٣
٤٠	باب ما ينهى عن الويل الخ	٦٨	٦٨	باب صلوة على النفس اذا	٦٨	٨٦	باب تشاء الناس على الميت	٣١٤
٤١	باب من جلس عند المصيبة	٦٩	٦٩	باب ماتت في نقاسها	٦٩	٣٠٣	باب جلد في عذاب القبر الخ	٣١٥
	يجر فيه الحزن	٧٠	٧٠	باب ابن يعقوب من المرأة والرجل	٧٠	٨٨	باب المتغوز من عذاب القبر	٣١٦
٤٢	باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة	٧١	٧١	باب التكبير على الجنازة اذا	٧١	٨٩	باب عذاب القبر من الغيبة	٣١٦
٤٣	باب الصابر عند الصد الاولي	٧٢	٧٢	باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة	٧٢	٩٠	باب والبول	٣١٦
٤٤	باب قول النبي صلعم انا ابك الخ	٧٣	٧٣	باب صلوة على القبر بعد يدفن	٧٣	٩١	باب الميت يعرض عليه مقعد الخ	٣١٦
٤٥	باب البكاء عند لمريض	٧٤	٧٤	باب الميت يسمع خفق النعال	٧٤	٣١٤	باب كلام الميت على الجنازة	٣١٤
٤٦	باب ما ينهى من النوح والبكاء الخ	٧٥	٧٥	باب من احب الدفن ان	٧٥	٩٢	باب ما قيل في اولاد المسلمين	٣١٤
٤٧	باب القيام للجنازة	٧٦	٧٦	باب يدفن في لارض المقدسة	٧٦	٩٣	باب قيل في اولاد المشركين	٣١٤
٤٨	باب من يقعد اذا قلم للجنازة	٧٧	٧٧	باب الدفن بالليل الخ	٧٧	٣١٨	باب	٣١٨
٤٩	باب من تبع جنازة ولا يقعد الخ	٧٨	٧٨	باب بناء المسجد على القبر	٧٨	٩٤	باب متى يوم الاثنين	٣٢٠

٣٣٥	باب من اعطاه الله شيئا من غير مسئلة	٣٣٥	باب من تصدق في الشراء ثم سلم	٣٢٠	باب موت الجفاعة الخ	٩٥
٥٢	باب من سأل الناس نكثرا الخ	٣٣٥	باب اجر الخادم اذا تصدق باهر	٣٢١	باب جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم	٩٦
٣٣٦	باب قول الله لا يبئز الناس	٣٣٦	صاحبه الخ	٣٢٣	باب ما ينهى في سب الاموات	٩٧
٣٣٤	باب خرص التمر	٣٣٦	باب اجر المرأة اذا تصدقت الخ	٣٢٣	باب ذكر شر الموتي	٩٨
٣٣٨	باب لعشر فيما يتقى من السماء	٣٣٦	باب قول الله عز وجل فانما من اعطى	٣٢٤	٣٢٤ كتاب الزكوة - ازهر ٣٢٤	
٥٦	باب لبن دون خمسة وستين قنة	٣٣٦	باب مثل المتصدق بالبخيل	٣٢٤	باب وجوب الزكوة الخ	١
٥٤	باب اخذ صدقة التمر عند صرا	٣٣٦	باب مثل الكسب والتجارة الخ	٣٢٥	باب المبيعة عن ابناء الزكوة الخ	٢
٥٨	باب ما كان من خبيثين الخ	٣٣٦	باب علي كما صلح صدقة الخ	٣٢٦	باب اثم مانع الزكوة	٣
٥٩	باب ما كان من خبيثين الخ	٣٣٦	باب قد كره يعطى من الزكوة الخ	٣٢٦	باب ان ادى زكوته فليس يكنز	٤
٦٠	باب ما كان من خبيثين الخ	٣٣٦	باب زكوة السورق	٣٢٨	باب انفاق المال في حقه	٥
٦١	باب ما كان من خبيثين الخ	٣٣٨	باب العرض في الزكوة	٣٢٨	باب الرمي في الصدقة الخ	٦
٦٢	باب ما كان من خبيثين الخ	٣٣٨	باب لا يجز بان متفرق الخ	٣٢٨	باب لا يقبل الله صدقة من غل الخ	٧
٦٣	باب ما كان من خبيثين الخ	٣٣٨	باب ما كان من خبيثين الخ	٣٢٩	باب الصدقة من كسب طيب	٨
٦٤	باب ما كان من خبيثين الخ	٣٣٨	باب زكوة الابل	٣٢٩	باب الصدقة قبل الرد	٩
٦٥	باب ما كان من خبيثين الخ	٣٣٨	باب من بلغت عند صدقة	٣٣٠	باب تقرب النار ولو بشق تمرة	١٠
٦٦	باب ما كان من خبيثين الخ	٣٣٨	بنت نكاح الخ	٣٣١	باب تصد الصدقة للصبي الخ	١١
٦٧	باب ما كان من خبيثين الخ	٣٣٨	باب زكوة الغنم	٣٣١	باب ما كان من خبيثين الخ	١٢
٦٨	باب ما كان من خبيثين الخ	٣٣٨	باب لا يؤخذ في الصدقة هرة الخ	٣٣٢	باب صدقة العذلية الخ	١٣
٦٩	باب ما كان من خبيثين الخ	٣٣٨	باب اخذ العناق في الصدقة	٣٣٢	باب صدقة السر الخ	١٤
٧٠	باب ما كان من خبيثين الخ	٣٣٨	باب توضع ارام اموال الناس في الصدقة	٣٣٢	باب اذا تصدق على غنم وهو لا يعلم	١٥
٧١	باب ما كان من خبيثين الخ	٣٣٨	باب يسين بن مدين خمس ذريرة صدقة	٣٣٢	باب اذا تصدق على ابنه وهو لا يشعل	١٥
٧٢	باب ما كان من خبيثين الخ	٣٣٨	باب زكوة البقر	٣٣٢	باب الصدقة باليمين	١٦
٧٣	باب ما كان من خبيثين الخ	٣٣٨	باب الزكوة على الاقارب	٣٣٢	باب من امر خادمه بالصدقة	١٧
٧٤	باب ما كان من خبيثين الخ	٣٣٨	باب ليس على المسلم في صدقة	٣٣٢	باب صدقة الاقارب غنى الخ	١٨
٧٥	باب ما كان من خبيثين الخ	٣٣٨	باب ليس على المسلم في صدقة	٣٣٢	باب الممان بما اعطى الخ	١٩
٧٦	باب ما كان من خبيثين الخ	٣٣٨	باب صدقة التماسي	٣٣٥	باب عز احب لعجز الصدقة الخ	٢٠
٧٧	باب ما كان من خبيثين الخ	٣٣٨	باب الزكوة على الزوج والامه الخ	٣٣٥	باب الترضي على الصدقة الخ	٢١
٧٨	باب ما كان من خبيثين الخ	٣٣٨	باب قول الله في الرقاب الخ	٣٣٥	باب الصدقة فيما استطاع	٢٢
٧٩	باب ما كان من خبيثين الخ	٣٣٨	باب لا استغف عن المسئلة	٣٣٥	باب صدقة تكفر الخطيئة	٢٣
٨٠	باب ما كان من خبيثين الخ	٣٣٨				

٣٥٤	باب الصلاة في الكعبة	٥٢	باب التعمير والتبليغ الخ	٢٤	باب صدقة الفطر على الصغار الخ	٣٥٣	٤٨
»	باب من لم يدخل الكعبة الخ	٥٣	باب من اهل حين نتوت به	٢٨	كتاب المناسك از ٣٥٣	٣٥٣	٣٥٥
٣٤٢	باب من كبر في نواحي الكعبة	٥٢	»	»	باب جوب الحج وفضله الخ	٣٥٢	١
»	باب كيف كان بد الرمى	٥٥	باب لا هلا ولا مستقب القبلت	٢٩	باب قول الله يا توك رجال الخ	»	٢
»	باب استلام الحجر الاسود الخ	٥٥	بابا للتبينة اذا اخذ في الواج	٣٠	»	»	٣
»	باب الرول في الحج والعمرة	٥٦	باب كيف قهل الحائض والنفسل	٣١	باب فضل الحج المبرور	٣٥٥	٢
٣٤٣	باب استلام الركن بالمحجن	٥٤	»	»	باب فرض مواقيت الحج	»	٥
»	باب من لم يستلم الا الركنين	٥٨	باب قول الله الحج اشهر معلوما الخ	٣٣	باب قول الله وتزودوا الخ	»	٦
»	اليمايين	»	باب التمتع والاقران والا فراد	٣٢	باب مهمل اها مكة للحج	»	٤
»	باب تعجيل الحج	٥٩	بابا للحج الخ	٣٤	باب ميقات اهل المدينة الخ	٣٥٦	٨
»	باب من اشار الى الركن اذا	٦٠	باب من لب بالحج الخ	٣٥	»	»	٩
٣٤٢	اقى عليه	»	باب التمتع على عهد النبي ص	٣٦	باب مهمل اهل الشام	»	١٠
»	باب التكبير عند الركن	٦١	باب قول الله ذلك لمن لم يكن	٣٤	باب مهمل من كان دون المواقيت	٣٥٦	١١
»	باب من طاف بالبيت اذا	٦٢	اهله حافر المسجد الحرام الخ	»	باب مهمل اهل اليمن	»	١٢
»	قدم مكة الخ	»	باب الاغتسال عند دخول مكة	٣٨	باب ذات عرق كاهر الحراق	»	١٣
»	باب طواف النساء مع الرجال	٦٣	باب دخول مكة نهرا ولسلا	٣٩	باب الصلاة بذي الحليفة	»	١٢
٣٤٥	باب الكلام في الطواف	٦٢	باب من اين يدخل مكة	٣٠	باب خروج النبي صلعم على طريق	»	١٥
»	باب اذا راى سيرا او شيئا كبر	٦٥	باب من اين يخرج من مكة	٣١	الشجرة	»	»
»	في الطواف قطعها	»	باب فضل مكة وبقاياها الخ	٣٢	باب قول النبي صلعم العتيق واد	»	١٦
»	باب يقيم بالبيت عريان	٦٦	باب فضل الحرم الخ	٣٣	باب غسل الخلق الخ	٣٥٤	١٤
»	ولا يحج مشرك	»	باب توريث دور مكة وبعيها	٣٢	باب الطيب عند الاحرام الخ	»	١٨
»	باب اذا وقف في الطواف الخ	٦٤	باب نزول النبي صلعم مكة	٣٥	باب من اهل ملبد	٣٥٨	١٩
»	باب طاف النبي صلعم وصله النبي	٦٨	باب قول الله فاذا قالوا ابراهيم	٢٦	باب لا هلا عند مسجد ذي الحليفة	»	٢٠
٣٤٦	ركعتين الخ	»	رب جعل هذا البلد امنا الخ	٣٠	باب ما يلبس المحرم من الثياب	»	٢١
»	باب من لم يقرب الكعبة ولم	٦٩	باب قول الله جعل الله الكعبة الخ	٢٤	باب الركوب الارتاف في الحج	»	٢٢
»	يطف حتى يخرج الى عرفته الخ	»	باب كسوة الكعبة	٢٨	باب ليس المحرم من الشاب الارفة	»	٢٣
»	باب من صلى ركعتي الطواف اخرج	٤٠	باب هدم الكعبة	٢٩	باب من تابذي الحليفة الخ	٣٥٩	٢٢
»	من المسجد الخ	»	باب ما ذكر في حجر الاسود	٥٠	باب رفع الثوب الا هلا	»	٢٥
»	باب من صلى ركعتي الطواف خلف	٤١	باب اغلاق البيت الخ	٥١	باب التلبية	»	٢٦
»	المقام	»	»	»	»	»	»

٤٢	باب تطواف بعد الصبح العصر	٣٤٧	باب جمع بينهما ولم يتطوع	٣٨٥	باب يكوم من البدن وما يتصدق	٣٩٢
٤٣	باب المريض يطوف ركبا	٣٤٤	باب من اذن آدم لكل واحد	٣٨٥	باب الذبح قبل الحلق	٣٩٣
٤٤	باب سقاية الحاج	٣٤٤	باب من قدم ضعفة أهلة	٣٨٦	باب من لبس راسه عند الاضحية	٣٩٤
٤٥	باب ما جاء في زمزم	٣٤٤	باب من يصلي الفجر بجمع	٣٨٤	وحلق	٣٩٤
٤٦	باب طواف القارن	٣٤٨	باب متى يدفع من جمع	٣٨٤	باب الحلق والتقصير	٣٩٤
٤٧	باب الطواف على وضوء	٣٤٨	باب التلبية والتكبير غداة النحر	٣٨٤	باب تقصير الممتنع بعد العروة	٣٩٥
٤٨	باب جنس الصفا والمروة	٣٤٩	باب من تمتع بالعمرة الى الحج	٣٨٤	باب الزيارة يوم النحر	٣٩٥
٤٩	باب جلا في السعي بين الصفا والمروة	٣٤٩	باب ركوب البدن الحرة	٣٨٨	باب افاد حرمي بعد امسي	٣٩٥
٥٠	باب تقصير الحائض للمناسك	٣٨٠	باب من ساق البدن معه	٣٨٠	باب لفتيا على اللدنة عند الحجرة	٣٩٥
٥١	باب لاهلا من البطي وغيرها	٣٨١	باب من اشتد فاهمك من الطريق	٣٨٩	باب الخطبة ايام منى	٣٩٥
٥٢	باب ابن يصلي الظهر في يوم التروية	٣٨٢	باب من اشرف قلبه بعد التحلقة	٣٨٩	باب هديت اصحاب السقاية	٣٩٥
٥٣	باب الصلوة بمضى	٣٨٢	باب من القلائد للبدن والبقرة	٣٩٠	او غيرهم بحكمة الحج	٣٩٥
٥٤	باب صوم يوم عرفة	٣٨٢	باب اشعار البدن الحرة	٣٩٠	باب رمي الجمار	٣٩٥
٥٥	باب التلبية والتكبير اذا عدا من معنى الى عرفة	٣٨٣	باب من قلد القلائد بيده	٣٩٠	باب رمي الجمار من بطر الواو	٣٩٥
٥٦	باب التقصير بالرواح يوم عرفة	٣٨٣	باب تقصير الغنم	٣٩٠	باب رمي الجمار بسبع حصيات	٣٩٥
٥٧	باب الوقوف على الدابة بعرفة	٣٨٣	باب القلائد من العهن	٣٩٠	باب من رمي حجرة العقبة	٣٩٥
٥٨	باب الجمع بين الصلوتين بعرفة	٣٨٣	باب تقصير النعل	٣٩٠	فجعل البيت عن لياحه	٣٩٥
٥٩	باب قصر الخطبة بعرفة	٣٨٣	باب الجلال للبدن	٣٩٠	باب يكتم مع كل حصة	٣٩٥
٦٠	باب التججيل الى الموقف	٣٨٣	باب من اشتد هدم الطريق	٣٩١	باب من ساق حجرة العقبة	٣٩٥
٦١	باب الوقوف بعرفة	٣٨٣	باب ذبح الرجل بقرة من نسائه	٣٩١	باب اذا رمي الجمرتين يوم النحر	٣٩٥
٦٢	باب السير اذا دفع من عرفة	٣٨٣	باب النحر في مخر النبي صلعم	٣٩١	باب نحر اليمين عند جمره	٣٩٥
٦٣	باب النزول بين عرفة وحج	٣٨٣	باب من نحر بيده	٣٩١	الدنيا والوسطى	٣٩٥
٦٤	باب امر النبي صلعم بالسكينة عند الاضحية	٣٨٥	باب نحر الابل مقيدة	٣٩١	باب الدعاء عند الجمرتين	٣٩٥
٦٥	باب الجمع بين الصلوتين بالمرزدلفة	٣٨٥	باب نحر البدن قائمة الحج	٣٩١	باب لطيب بعد رمي الجمار	٣٩٥
			باب يعطى الجزار من الهدى شيئا	٣٩٢	باب طواف الوداع	٣٩٥
			باب يتصدق بجلود الهدي	٣٩٢	باب اذا لحاضت المرأة بعد نحرها	٣٩٥
			باب يتصدق بجلود البدن	٣٩٢	باب من صلى الغصن يوم النحر	٣٩٥
			باب واذا بان اناك ابراهيم مكان البيت الحرام	٣٩٢	باب المحصب	٣٩٥
				٣٩٢	باب انزل الله بنحو قولان	٣٩٥
				٣٩٢	باب دخل مكة	٣٩٥

١٢٩	باب من نزل بطن طوى اذا حج	٣	باب الخمر قبل الحلق في الحصر ٢٠٥	١٨	باب خول الحرم وكذا بغير الحرم	١١٢
	من مكة	٣	باب من قال ليس علي المحضرك	١٩	باب اذا احرم جاهلا وعقبة	
١٥٠	باب التجارة ايام الموسم الحج	٥	باب قول الله فمن كان منكم ريبة	٢٠	باب المحرم يموت بعرفة الحج	
١٥١	باب الادلاج من المحصب	٦	باب قول الله او صدقة الحج	٢١	باب سنة المحرم اذا مات	
٢٧	ابواب العمرة	٤	باب الاطعام في ليلتين فصاعدا	٢٢	باب الحج والذبح وعن الميت الحج	١١٣
١	باب لعمرة وحدها	٥	باب التمسك شاة	٢٣	باب الحج عن من لا يستطيع التوجه الى مكة	
٢	باب من اعتمر قبل الحج	٩	باب قول الله فلا رفث	٢٤	باب حج المرأة عن الرجل	
٣	باب كبر اعتمر النبي صلعم	١٠	باب قول الله ولا فسوقا	٢٥	باب حج الصبيان	
٤	باب عمرة في رمضان	٢٨	كتاب جزاء الصيد	٢٦	باب حج النساء	
٥	باب اعتمر في يوم فخر في	١	باب قول الله لا تقتلوا الصيد	٢٧	باب من غنم المشية الى الكعبة	
	رمضان حجة الحج	٢	باب اذا صاد الحلال فاهلك	٢٨	باب فضل المدينة	
٦	باب عمرة التسعيم		للحرم الحج	١	باب حرم المدينة	١١٣
٧	باب الاعتناء بعد الحج بغيره	٣	باب اذا راى المحرم صيدا	٢	باب فضل المدينة الحج	١١٥
٨	باب اجرة العمرة عند التمسك	٤	باب لا يعين الحرم الحلال في	٣	باب المدينة طابة	١١٦
٩	باب للمعتمر اذا طأ طوا العمرة		قتل الصيد	٤	باب لا يبي المدينة	
١٠	باب يفعل في العمرة ما يفعله	٥	باب لا يشتر المحرم الى الصيد	٥	باب من رغب عن المدينة	
١١	باب متى جعل المعتمر	٦	باب اذا اهدى المحرم حمارا وشيئا	٦	باب الايمان يامر الى المدينة	١١٤
١٢	باب ما يقول اذا رحل من الحج	٧	باب لا يقبل الحرم من الذناب	٧	باب انتم من مجاهل المدينة	
١٣	باب استقبالا للحاج القاديين	٨	باب لا يعرض شجر الحرم	٨	باب اطام المدينة	
١٤	باب القدوم بالعمرة	٩	باب لا يفر صيد الحرم	٩	باب لا يدخل الدجال المدينة	
١٥	باب الدخول بالعشي	١٠	باب لا يحل القتال بمكة	١٠	باب المدينة تنفع الشبث	١١٨
١٦	باب كيطرف اهلها بلغ المدينة	١١	باب الحجامة للمحرم الحج	١١	باب المدينة	
١٧	باب من اسرع ناقته اذا بنى المدينة	١٢	باب تزويج للمحرم	١١	باب كراهية النبي صلعم ان تعزى المدينة	
١٨	باب قول الله راوا النبي من ابوابها	١٣	باب ما ينهى عن الطبيب المحرم الحج	١٢	باب	١١٩
١٩	باب السفر قطعة من العذاب	١٤	باب اغتسال للمحرم	١٢	كتاب الصوم	٢٠٢-٢٠٣
٢٠	باب لسافر اذا جاز بالسيوف	١٥	باب لبس الخفين للمحرم الحج	١	باب جو الصوم رمضان الحج	٢٠٠
٢١	باب	١٦	باب اذا لم يجد الارز فليلبس	٢	باب فضل الصوم	
	ابواب المحصر		السر ويل	٣	باب الصوم كفارة	٢١
١	باب اذا احصر المعتمر		باب لبس السلاح للمحرم	٤	باب البيان للمصالحين	
٢	باب الاحصار في الحج					

٢٣٦	باب الوصال الى الصبح	٥٠	٢٢٩	باب ساء الزوال للصابغ للصائم	٢٤	٢٢١	باب هل يقال رمضان الخ	٥
»	باب من اقيم على اخير ليلته	٥١	»	باب قول النبي صلح اذا توفى	٢٨	٢٢٢	باب من صام رمضان ايماناً الخ	٦
٢٣٤	باب صوم شعبان	٥٢	»	فليستنتج الخ	»	»	باب اجواما كان النبي صلح	٧
»	باب ايدى كرمه صوم النبي صلح	٥٣	»	باب اذا جامع في رمضان	٢٩	٢٢٣	يكون في رمضان	٨
»	وافطارة	»	»	باب اذا جامع في رمضان	٣٠	»	باب من لم يدع قول الزور	٩
»	باب حق الذئيف في الصوم	٥٢	٢٣٠	لدرشي الخ	»	»	باب هل يقول في صلاته اذا شتم	١٠
»	باب حق الجحيم في الصوم	٥٥	»	باب الجامع في رمضان	٣١	»	باب الصوم لمن خان على نفسه	١١
٢٣٨	باب صوم الدهر	٥٦	»	هل يطعم اهله الخ	»	»	العزوبة	١٢
»	باب حق الاهل في الصوم	٥٤	»	باب الحجارة والقوى للصائم الخ	٣٢	»	باب قول النبي صلح اذا رايتم	١٣
»	باب صوم يهود وافطاريون	٥٨	٢٣١	باب الصوم في السفر ولا فطار	٣٣	»	الاهلال الخ	١٤
»	باب صوم داود عليه السلام	٥٩	»	باب اذا صاد اياماً من رمضان ثم	٣٤	٢٢٢	باب شهر اعياد لا يتقصا	١٥
»	باب صيام ايام البيض الخ	٦٠	٢٣٢	سافر	»	»	باب قول النبي صلح لا تكتب ولا تحجب	١٦
»	باب من زر قوماً فلم يظفر الخ	٦١	»	بجائب	٣٥	»	باب لا يتقدم من رمضان بصوم	١٧
»	باب الصوم اخر الشهر	٦٢	»	باب قول النبي صلح لمن ظلم عليه	٣٦	٢٢٥	يوم او يومين	١٨
»	باب صوم يوم الجمعة	٦٣	»	باب لربيعا صحاب النبي صلح	٣٤	»	باب قول الله اهل لكم ليلة	١٩
»	باب هل يخفى شيئاً من الايام	٦٢	»	في الصوم والا فطار	»	»	الرفق الخ	٢٠
»	باب صوم يوم عرفة	٦٥	»	باب من افطر في السفر الخ	٣٨	٢٢٦	باب قول الله وكلوا واشربوا	٢١
»	باب صوم يوم الفطر	٦٦	»	باب علي الذين يطيقونه الخ	٣٩	»	باب قول النبي صلح لا يعنكم	٢٢
٢٢١	باب الصوم يوم النحر	٦٤	٢٣٣	باب متى يقضه فضا رمضان الخ	٢٠	»	من سخور كبر اذا كان بلا	٢٣
»	باب صوم ايام التشريق	٦٨	»	باب الحائض تترك الصوم الخ	٢١	»	باب تاخير السخور	٢٤
»	باب صيام يوم عاشوراء	٦٩	»	باب من مات وعليه صوم	٢٢	»	باب قدر كبر بين السخور	٢٥
»	اسم كتاب صلوة التراويح الخ	»	»	باب متى يجز فطر الصائم الخ	٢٣	»	صلوة الفجر	٢٦
٢٢٢	باب فضا من قام مع عنان	١	٢٣٥	باب يفطر بما يتيسر عليه الخ	٢٢	»	باب بركة السخور من غير حيا الخ	٢٧
٢٢٥	اسم كتاب ليلة القدر الخ	»	»	باب تعجيل الافطار	٢٥	»	باب اذا نوى بالنهار صوم الخ	٢٨
»	باب فضل ليلة القدر الخ	١	»	باب اذا افطر في رمضان	٢٦	»	باب لصائم يصح جنبا	٢٩
»	باب التماس ليلة القدر في السبع	٢	»	ثم طلعت الشمس	»	»	باب المباشرة للصائم الخ	٣٠
»	الاواخر	»	»	باب صوم الصبيان	٢٤	٢٢٨	باب القبلة للصائم الخ	٣١
»	باب فخر ليلة القدر في الوتر الخ	٣	»	باب الوصال الخ	٢٨	»	باب اغتسال الصائم الخ	٣٢
»	باب فم معرفة ليلة القدر الخ	٤	٢٣٦	باب لتفكير لمن اكثر الوصال الخ	٢٩	»	باب صائم اذا اكل او شرب	٣٣

٥	باب العلف في العشرة واخر من رمضان	١٨	باب من اراد ان يعتكف ثم يذله ان يخرج	٢١	باب قيل في النعام والجزان
٣٣	كتاب الاعتكاف	١٩	باب المعتكف يدخل راسه البيت للغسل	٢٢	باب ما يحق الكذب الكتمان في البيع
١	باب الاعتكاف في العشر الاواخر	٣٣	كتاب البيوع	٢٣	باب قول الله يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا الربوا الخ
٢	باب الحائض ترجع المعتكف	١	باب جازي في قول الله تعالى	٢٤	باب اكل الربوا وشاهدة الخ
٣	باب المعتكف لا يدخل البيت	٢	باب الحلال بين والحرام بين	٢٥	باب موكل الربوا الخ
٤	باب غسل المعتكف	٣	باب تفسير المشبهات الخ	٢٦	باب يحق الله الربوا الخ
٥	باب الاعتكاف ليلاً	٤	باب ما يتنزه من الشبهات	٢٧	باب يكره من الخلف في البيع
٦	باب اعتكاف النساء	٥	باب من لم ير بالوساوس ونحوها من المشبهات	٢٨	باب ما قيل في المصوغ الخ
٧	باب الاخيرة في المسجد	٦	باب قول الله واذا راوا تجارة الخ	٢٩	باب ذكر القين والحداد
٨	باب هل يخرج المعتكف نحو واجه الخ	٧	باب من لم يبال من حيث كسبه	٣٠	باب ذكر الخياط
٩	باب الاعتكاف وخرج النبي صلعم بصيعة عشرين	٨	باب التجارة في البر	٣١	باب ذكر النساج
١٠	باب اعتكاف المستحاضة	٩	باب الخ ورج في التجارة الخ	٣٢	باب التجار
١١	باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه	١٠	باب التجارة في البحر	٣٣	باب شراء المحو الخ بنفسه
١٢	باب هل يد المعتكف عن نفسه	١١	باب واذا راوا تجارة الخ	٣٤	باب شراء ابل الهميم الخ
١٣	باب من خرج من اعتكافه عند الصبح	١٢	باب قول الله انفقوا من طيب ما كسبتم	٣٥	باب بيع السراخ في الفتنة
١٤	باب الاعتكاف في شوال	١٣	باب من احب البسطق الرزق	٣٦	باب في العطار وبيع المسك
١٥	باب من لم ير عليه صوماً اذا اعتكف	١٤	باب شراء النبي صلعم الخ	٣٧	باب ذكر الحمام
١٦	باب اذا نذر في الجاهلية ان يعتكف الخ	١٥	باب كسب الرجل وعمله بينه وبينه	٣٨	باب التجارة فيما بيكوه لبيسه للرجال والنساء
١٧	باب الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان	١٦	باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع	٣٩	باب صاحب السلعة اخق بالمسوم
١٨		١٧	باب من انظر موسراً	٤٠	باب كرم يجوز الخيار
١٩		١٨	باب من انظر عسراً	٤١	باب اذ لم يوقت في الخيلة
٢٠		١٩	باب اذ بين البيعان الخ	٤٢	باب البيعان بالخيارهما لم يفرقنا الخ
		٢٠	باب بيع الخلف من التمر		

٢٥	باب اذا خيّر احد هما صاحبه	٢٥	باب ان شاردا المصرة الخ	٨٤	باب اذا باع الثمار قبل ان
٢٦	وجوب البيع	٢٦	باب بيع العبد الزاني الخ	٨٥	يبعد وصلاحها ثم اصابته ^{شبهة}
٢٧	باب اذا كان البائع بالخيار	٢٧	باب البيع والشراء مع النساء	٨٨	باب شراء الطعام الى اجل
٢٨	هل يجوز البيع	٢٨	باب هل يبيع حاضر لباد	٨٩	باب اذا اراد بيع تمر بتمر خبير
٢٩	باب اذا اشترى شيئا	٢٩	بغير اجر الخ	٩٠	باب من باع نخلا قد ابر الخ
٣٠	فوهب الخ	٣٠	باب من كره ان يبيع حاضر	٩١	باب بيع الزرع بالطعام كيلا
٣١	باب ما يكره من المخد	٣١	لباد باجر	٩٢	باب بيع النخل باصله
٣٢	في البيع	٣٢	باب لا يبيع حاضر لباد ^{للمسئ}	٩٣	باب بيع المحاضرة
٣٣	باب ما ذك في الاسواق الخ	٣٣	باب النهي عن تلقى الركبان الخ	٩٤	باب بيع الجار واجرة
٣٤	باب كراهية المسخ في السوق	٣٤	باب منتهى النقي	٩٥	باب من اجرى امر اده صا
٣٥	باب الكيل على البائع الخ	٣٥	باب اذا اشترط شروطا	٩٦	على ما يتعارفون الخ
٣٦	باب ما يستحب من الكيل	٣٦	في البيع لا تحل	٩٧	باب بيع الشريك من شريكه
٣٧	باب بركة تصاع النبي صلح الخ	٣٧	باب بيع التمر بالتمر	٩٨	باب بيع الارض والدار الخ
٣٨	باب ما يذكو في بيع الطعام	٣٨	باب بيع الزبيب بالزبيب الخ	٩٩	باب اذا اشترى شيئا بغير
٣٩	والحكوة	٣٩	باب بيع الشعير بالشعير	١٠٠	اذنه في عني
٤٠	باب بيع الطعام قبل ان يقبض الخ	٤٠	باب بيع الذهب بالذهب	١٠١	باب الشراء والبيع مع ^{المشتري}
٤١	باب من رآه اذا اشترى	٤١	باب بيع المفضة بالفضة	١٠٢	باب شراء المملوك من الحجج
٤٢	طعاما اجزا الخ	٤٢	باب بيع الدنيار بالدنيار	١٠٣	باب جلوس الميتة قبل ان
٤٣	باب اذا اشترى متاعا او	٤٣	نسيا	١٠٤	تدفع
٤٤	دابرة الخ	٤٤	باب بيع الورق بالذهب ^{نسيئة}	١٠٥	باب قتل الخنزير الخ
٤٥	باب لا يبيع على بيع اخيه	٤٥	باب بيع الذهب بالورق	١٠٦	باب لا يذاب شحم الميتة ولا
٤٦	ولا يسوم الخ	٤٦	بيدا بيدي	١٠٧	يباع الخ
٤٧	باب بيع المزايمة الخ	٤٧	باب المزايمة الخ	١٠٨	باب بيع القضاوير الخ
٤٨	باب بيع النجش الخ	٤٨	باب بيع التمر على راس النخل	١٠٩	باب تحريم التجارة في الخمر
٤٩	باب بيع الغر الخ	٤٩	بالذهب الخ	١١٠	باب اثم من باع حرا
٥٠	باب بيع الملامسة الخ	٥٠	باب تفسير العول بالخ	١١١	باب
٥١	باب بيع المناذرة الخ	٥١	باب بيع الثمار قبل ان يبد	١١٢	باب بيع العبيد والحيوان
٥٢	باب النهي للبائع ان لا	٥٢	صلاحها	١١٣	بالحيوان الخ
٥٣	يجوز الخ	٥٣	باب بيع النخل قبل ان يبد ^{صلاحها}	١١٤	

١٠٩	باب بيع الرقيق	٢٨٥	٨	باب الاجارة الى نصف النهار	٢٥٢	٣	باب من تكفل عن ميت الخ	٥٠٠
١١٠	باب بيع المدبر	"	٩	باب الاجارة الى صلوة العصر	"	٤	باب جوارج بكر الخ	"
١١١	باب هل يبافر الجارنية الخ	"	١٠	باب اثم من منع اجر الاجير	"	٥	باب الدين	٥٠٣
١١٢	باب بيع الميتة والاصنام	٢٨٧	١١	باب الاجارة من العصر الى الليل	"	٣٧- كتاب الوكالة از ٥٠٣-٥٠٩		
١١٣	باب ثمن الكلب	"	١٢	باب من استاجر اجيراً فنترك	"	١	باب وكالة الشريك الشريك	"
٥٣- كتاب السلم از ٢٨٤-٢٨٧				اجرو الخ	٢٥٣	١	باب وكالة الشريك الشريك	٥٠٣
١	باب السلم في كيل معلوم	٢٨٤	١٣	باب من اجر ففسر ليجعل على	"	٢	باب اذا وكل المسلم حراً الخ	٥٠٠
٢	باب السلم في وزن معلوم	"	"	ظهرة الخ	"	٣	باب وكالة في الفرض والميراث	"
٣	باب السلم الى من ليس عنده اصل	٢٨٨	١٤	باب اجر السمسرة الخ	"	٤	باب اذا ابصر الواعي لو وكيل	"
٤	باب السلم في النخل	"	١٥	باب هل يواجر الرجل نفسه	"	٥	باب وكالة الشاهد الغائب الخ	٥٠٥
٥	باب الكفيل في السلم	٢٨٩	١٦	باب ما يعطى في الرقبة الخ	٢٥٤	٦	باب الوكالة في قضاء الدين	"
٦	باب الوهن في السلم	"	١٧	باب ضريبة العبد الخ	٢٥٥	٧	باب اذا وهب شيئاً لو وكيل الخ	"
٧	باب السلم الى اجاره معلوم الخ	"	١٨	باب خراج الحجام	"	٨	باب اذا وكل رجلاً ان يعطى	٥٠٦
٨	باب السلم الى ان تلحق الناقته	"	١٩	باب من كتم موالى العبد	"	٩	باب وكالة الامراة الا لام الخ	"
٥٤- كتاب الشفعة از ٢٨٩-٢٩٠				ان يخففوا عنه الخ	"	١٠	باب اذا وكل رجلاً فنترك	"
١	باب الشفعة في مال يقيمه الخ	٢٨٩	٢٠	باب كسب البعق والا ماله	"	١١	الوكيل شيئاً الخ	٥٠٤
٢	باب عرض الشفعة على صاحبها الخ	"	٢١	باب عسب الفحل	٢٥٦	١٢	باب اذا باع الوكيل شيئاً	"
٣	باب ائى الجوارح قريب	٢٩٠	٢٢	باب اذا استاجر رجلاً الخ	"	١٣	باب فاسد الخ	٥٠٨
٥٥- باب في الاجارات از ٢٩٠-٢٩١				٥٨- كتاب الحوالات از ٢٩١-٢٩٢				
١	باب استيجار الرجل الصالح	٢٩٠	١	باب في الحوالة الخ	٢٩٢	١٣	باب الوكالة في الوفاء الخ	"
٢	باب رضى الغنم على قراريط	"	٢	باب اذا اجد على يدي نليس	"	١٤	باب الوكالة في البدن الخ	"
٣	باب استيجار المشركين عند الضرورة الخ	٢٩١	٣	باب ان اجد دين الميت	٢٩٤	١٥	باب اذا اقال الرجل لو وكيله فضعه الخ	"
٤	باب اذا استاجر اجيراً لم يجعل له	"	٤	باب ان اجد دين الميت	"	١٦	باب الوكالة لابن في الخزانة الخ	"
٥	باب لاجير يشي الغزو	"		عنه رجل الخ	"	٣١- كتاب اجارة في الحرث از ٥٠٩-٥١٤		
٦	باب من استاجر اجيراً الخ	٢٩٢	١	باب الكفالة في القرض	٢٩٤	١	باب قصر الزرع والغرس الخ	٥٠٩
٧	باب استاجر اجيراً على ان يقيم	"	٢	باب قبال الله والذين عقدت	٢٩٥	٢	باب يحذر من عواقب	"
٨	باب حائط الخ	"	٣	باب قبال الله والذين عقدت	٢٩٥	٣	باب اشتغال بالثة الزرع	٥١٠
				ايما نكح الخ			باب قنناء الكلب للمحرث	"

٥٢٥	باب من استعاد من الدين	١٠	٥١٨	باب الخصومة في البر الخ	٣	٥١٠	باب استئمان البقر للحراثة	٣	
»	باب الصلوة على من ترك دينيا	١١	»	باب اثم من منع ابن السبيل	٥	٥١١	باب اذا قال الكفني مؤنة النخل	٥	
٥٢٦	باب مطلق العنى ظلم	١٢	٥١٩	من الماء	»	»	باب قطع الشجر والنخل الخ	٦	
»	باب لصاحب الحق مقال	١٣	»	باب سكر الانهار	٦	»	باب	٢	
»	باب اذا وجد له عند مفلس	١٣	٥٢٠	باب شرب ارضه الخ	٤	»	باب المزارعة بالشرط	٨	
»	باب في البيع الخ	»	»	باب شرب الاعلى للكعبين	٨	»	باب اذا لم يشترط السنين	٩	
»	باب من اخذ العزم الى اخذ الخ	١٥	»	باب فضل سقى الماء	٩	٥١٢	باب في المزارعة	٩	
»	باب من باع مال المفلس الخ	١٦	»	باب من رأى ان حنا الحوض	١٠	»	باب	١٠	
٥٢٤	باب اذا اقترضه الى اجل مسمى	١٤	»	والقربة بمائه	»	٥١٣	باب المزارعة مع اليهود	١١	
»	باب الشفاعة في وضع الدين	١٨	٥٢١	باب لا حي الا لله ورسوله	١١	»	باب بكيه من الشروط في	١٢	
»	باب ما يبيح غرضاءه المالك الخ	١٩	»	باب شرب الناس الخ	١٢	»	المزارعة	»	
»	باب العبد راغى في السيد الخ	٢٠	٥٢٢	باب بيع الحطب والحلا	١٣	»	باب اذا زرعه بمال قوم الخ	١٣	
٣٢٢ - كتاب في الخصومة				»	باب القطانم	١٣	باب اوقاف النبي صلعم الخ	١٣	
١	باب ما يذكر في الامتصاص	١	»	باب كتابة القطانم	١٥	»	باب من احيا ارضنا موتا الخ	١٥	
٥٢٨	الخصومة الخ	»	٥٢٣	باب حلب الابل على الماء	١٤	٥١٣	باب	١٦	
٥٢٩	باب من رد ادم السفية الخ	٢	»	باب الرجل يكون له حمران	١٤	»	باب اذا قال رب الارض	١٤	
»	باب ومن باع على الضعيف الخ	٣	»	شرب الخ	»	»	قرنك الخ	»	
»	باب كلام الخصوم بعضهم	٣	٣٢٣ - كتاب استقرار الخ		»	»	باب كان من اصحاب النبي	١٨	
٥٣٠	باب في بعض	٣	٥٢٣	باب من اشترى بالدين الخ	١	»	باب صلعم يواسى الخ	»	
»	باب اخراج اهل المعاصم	٥	»	باب من اخذ امور الناس	٢	٥١٦	باب كوار الارض بالذهب الخ	١٩	
»	باب دعوى الوصي للميت	٦	»	يريد اداها الخ	»	»	باب	٢٠	
»	باب التوثيق من تخشى معونه	٤	٥٢٣	باب اداه الديون الخ	٣	٥١٤	باب ما جاء في الغرس	٢١	
»	باب الربط والحبس في الحرم الخ	٨	»	باب استقرار الابل	٣	٣٢٤ - كتاب المساقاة			
٥٣١	باب الملازمة	٩	٥٢٥	باب حسن التقاضي	٥	٥١٤	باب في الشرب الخ	١	
»	باب التقاضي	١٠	»	باب هل يعطى اكبر من سنه	٦	»	باب في الشرب ومن رأى	١-١	
٣٢٥ - كتاب في اللقطة				»	باب حسن القضاء	٤	»	قمة الماء الخ	»
٥٣١	باب اذا اخبر ب اللقطة الخ	١	»	باب اذا قضى دون حقه الخ	٨	»	باب من قال ان حنا الماء	٢	
٥٣٢	باب خالته الابل	٢	»	باب اذا قام وجازته في	٩	٥١٨	احق بالماء الخ	٣	
»	باب ضالة الغنم	٣	»	الدين الخ	»	»	باب من حفن يرا في ملكه	»	

٥٢٨	باب كان من خليطين الخ	٢	٥٢٨	بأقوال الله تعالى وهو لاد الخصا	١٥	باب اذا لم يوجد صاحب اللقطة	٢
	باب قسمة الغنم	٣		باب اثم من خاصم في	١٦	بعد سنة الخ	
	باب القوان في التبرين	٤		باب اثم الخ	١٧	باب اذا وجد خشبة في الطريق	٥
٥٢٩	الشركاء الخ			باب اذا خاصم فخر	١٨	باب اذا وجد تمرة في الطريق	٦
	باب تقويم الاشياء بين	٥		باب قضاة لظلود الخ	١٩	باب كيف تعرف لقطة اهل	٤
	الشركاء الخ		٥٣٥	باب جاء في السقائف الخ	٢٠	صكة الخ	
	باب هل يقرع في القسمة	٦		باب لا يمنع جارية الخ	٢١	باب لا تحتلب شيئا حديدا	٨
	باب شركة اليتيم واهل	٧		باب صب الخمر في الطريق	٢٢	اذن	
	الميراث			باب افنية الدر والمجالس	٢٣	باب اذا جاز صاحب اللقطة	٩
٥٥٠	باب الشركة في الارضين الخ	٨		فيها الخ	٢٤	بعد سنة الخ	
	باب اذا قسمت الشركاء الدر	٩	٥٤٠	باب الابرار على الطرق الخ	٢٥	باب هل ياخذ اللقطة الخ	١٠
	باب الاشتراك في الذهب الخ	١٠		باب اماطة الاذى الخ	٢٦	باب من عرف اللقطة الخ	١١
	باب مشاركة الذمي المشرك	١١		باب العزفة الخ	٢٧	باب	١٢
	في المزارعة			باب من عقل بعبده على	٢٨	كتاب المظالم والغصب	
٥٥١	باب قسمة الغنم والعديها	١٢	٥٤١	المبلاط الخ	٢٩	باب قضاة المظالم	١
	باب الشركة في الطعام الخ	١٣		باب الوقوف والبول	٣٠	باب قول الله الا لعنة الله على الظالمين	٢
	باب شركة في الرقيق	١٤		علمه سباطة قوم	٣١	باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه	٣
	باب الاشتراك في الهدى	١٥		باب من اخذ الغصن الخ	٣٢	باب اعين لخاصك ظالما او مظلوما	٤
	والبدان الخ			باب اذا اختلفوا في الطريق	٣٣	باب نصر المظلوم	٥
	باب من عدل عشر من	١٦		باب النهي بخير اذن صاحب الخ	٣٤	باب الا انتصار من الظالم الخ	٦
	الغنم الخ		٥٤٥	باب كسر المصليب الخ	٣٥	باب عفو المظلوم الخ	٧
كتاب الرهن				باب هز تكسر الدين ان التقى	٣٦	باب انظروا ظمائم يوم القيامة	٨
٥٥٣	باب في الرهن في الحضر	١		فيها الخمر الخ	٣٧	باب لا تقاروا الحد من دعوة	٩
	باب من رهن درعه	٢	٥٤٦	باب من قاتل دون ماله	٣٨	المظلوم	
	باب رهن السلاح	٣		باب اذا قصعة او شيئا	٣٩	باب من كانت له مظنة عند الرجل	١٠
	باب الرهن مركوب و	٤		لغيره	٤٠	باب اذا حملته من ظلمه الخ	١١
	محلوب الخ			باب اذا هدم حائط الخ	٤١	باب اذا اذن له او احله الخ	١٢
٥٥٣	باب الرهن عند اليهود الخ	٥	كتاب الشركة		٤٢	باب اثم من ظلم شيئا من الارض	١٣
	باب اختلف الراهن بالرهن	٦	٥٤٦	باب الشركة في الطعام الخ	٤٣	باب اذا اذن ان لا يشتري شيئا	١٤

٥٩ كتاب العتق	٥٠ كتاب المكاتب	باب اذا وهب هبة او وعد الخ
١ باب ماجاء في العتق وفضل الخ	١ باب اثم من قذف مملوكه	١٨ باب اذا وهب هبة او وعد الخ
٢ باب ائى الرقاب افضل	١ باب المكاتب ونجومه	١٩ باب كيف يقبض العبد المتكلم
٣ باب ما يستحب من العتق	٢ باب ما يجوز من شروط المكاتب	٢٠ باب اذا وهب هبة الخ
٤ باب في الكسوف الخ	٣ باب استعانة المكاتب	٢١ باب اذا وهب بيعة لرجل الخ
٥ باب اذا اعتق عبداً بغير اثنائه	٤ وسؤال الناس	٢٢ باب هبة الواحد للمجاعة الخ
٦ باب اذا اعتق نصيباً في عبده	٥ باب بيع المكاتب اذا رفعه	٢٣ باب الهبة المقبوضة
٧ باب الخطأ والنسيان في العتق	٦ باب اذا اقال المكاتب اشترافاً	٢٤ باب اذا وهب جماعة لفقير
٨ العتاق الخ	٧ وعاقبني الخ	٢٥ باب من اهدى له هدية الخ
٩ باب اذا اقال رجل عبده	٨ كتاب الهبة	٢٦ باب اذا وهب بغير الرجل الخ
١٠ هو الله الخ	١ باب الهبة وفضلها الخ	٢٧ باب هدية ما يكره لبيها
١١ باب اثم الولد الخ	٢ باب القليل من الهبة	٢٨ باب قبول الهدية من المشرك
١٢ باب بيع المدبر	٣ باب من استوهب من اصحابه شيئاً الخ	٢٩ باب الهدية للمشركين
١٣ باب بيع الولاد وهبته	٤ باب من استسقى الخ	٣٠ باب لا يحل لاحد ان يرجع في هبته الخ
١٤ باب اذا امر اخو الرجل او وعده الخ	٥ باب قبول هدية الصيد	٣١ باب قبول الهدية من المشركين
١٥ باب عتق المشرك	٦ باب قبول الهدية	٣٢ باب لا يحل لاحد ان يرجع في هبته الخ
١٦ باب من ملك العرب قبيحاً	٧ باب قبول الهدية	٣٣ باب من استعار من الناس الفرس
١٧ باب فضل من ادب جازماً وعلمها	٨ باب من اهدى الى صاحبه الخ	٣٤ باب لا استعارة للعهد عند
١٨ باب قول النبي صلعم العبيد اخوانكم الخ	٩ باب ما لا يرد من الهدية	٣٥ باب فضل المنجعة
١٩ باب العبد اذا احسن عبادته ربه الخ	١٠ باب من راي الهبة القاتلة جائرة	٣٦ باب اذا اقال احد منكم هذه
٢٠ باب كراهية التطاول على الرقيق الخ	١١ باب المكافاة في الهبة	٣٧ الجارية الخ
٢١ باب اذا اتاه خادمه ببطء	١٢ باب الهبة للولد الخ	٣٨ باب اذا حمل رجل على فرس الخ
٢٢ باب اذا ضرب العبد فنيحتب الوجه	١٣ باب الاشهاد في الهبة	٣٩ كتاب الشهادات
	١٤ باب هبة الرجل لامراته الخ	١ باب ما جاء في البيعة على المدا
	١٥ باب هبة المرأة لغير زوجها الخ	٢ باب اذا عدل رجل احد الخ
	١٦ باب بمن يبدى بالهدية	٣ باب شهادة المحتب الخ
	١٧ باب من لم يقبل الهدى لعلة	٤ باب اذا شهد شاهد او شهد بشئ

٥	باب الشهادة والعدول الخ	٥٤٩	٢٩	باب لا يبطل أهل الشرك	٥	باب الشرط في المعاملة	٢٠٣
٦	باب تعديل كمي يجوز	٥٨٠		عن الشهادة الخ	٦	باب الشرط في المهر	٥٩٥
٧	باب الشهادة على الأنساب	٥٨٠	٣٠	باب القوقعة في المشكلات الخ	٧	باب الشرط في المزارعة	٥٩٦
٨	باب شهادة القاذف السابق	٥٨١	٥٥- كتاب الصلح		٨	باب ما لا يجوز من الشرط في النكاح	٥٩٧-٥٩٨
٩	باب لا يشهد على شهادة جوارحه	٥٨١	١	باب ما جاء في الأصلاح	٩	باب الشرط في التخي في الحد	٥٩٨
١٠	باب قيل في شهادة الزور	٥٨٣	٢	باب في الناس الخ	١٠	باب ما يجوز من شرط المكاتب الخ	٥٩٩
١١	باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه	٥٨٣	٣	باب ليس لأب أن يصلي بين الناس	١١	باب الشرط في الطلاق	٥٩٩
١٢	باب شهادة النساء الخ	٥٨٥	٤	باب قول الله تعالى يصلي بيننا	١٢	باب الشرط مع الناس بالقول	٥٩٩
١٣	باب شهادة الإطوار والعبيد الخ	٥٨٥	٥	باب إذا اصطبحوا على صلح	١٣	باب الشرط في المولا	٥٩٩
١٤	باب شهادة المرضعة	٥٨٦	٦	باب إذا اصطبحوا على صلح	١٤	باب إذا اشترط في المزارعة الخ	٥٩٩
١٥	باب تعديل النساء بعضهم بعضاً	٥٨٦	٧	باب كيف يكتب هذا صلح	١٥	باب الشرط في الجهاد الخ	٥٩٩
١٦	باب إذا زكى رجل رجلاً كفاً	٥٨٦	٨	باب قول النبي صلح للمحسن	١٦	باب ما لا يجوز من الشرط في الخ	٥٩٩
١٧	باب بلوغ الصبي وشهادته الخ	٥٨٦	٩	باب قول النبي صلح للمحسن	١٧	باب ما لا يجوز من الشرط في الخ	٥٩٩
١٨	باب سؤال الحاكم المدعى الخ	٥٨٦	١٠	باب على ابنى هذا سيد و	١٨	باب الوصايا الخ	٦١٤
١٩	باب اليمين على المدعى الخ	٥٨٦	١١	باب هار شير الأمام بالصلح	١٩	باب الوصية بالثلث	٦١٤
٢٠	باب إذا دعى أو قذف الخ	٥٨٦	١٢	باب فضل الأصلاح بالنظر	٢٠	باب قول الموصي تعاهد الخ	٦١٤
٢١	باب اليمين بعد العصر	٥٨٦	١٣	باب إذا أشار الأمام بالصلح فأي الخ	٢١	باب إذا أوصى المريض برأس الخ	٦١٤
٢٢	باب يحلف المدعى عليه الخ	٥٨٦	١٤	باب بالصلح بين الغرماء الخ	٢٢	باب لا وصية لوارث	٦١٤
٢٣	باب إذا تسارع قوم في اليمين	٥٨٦	١٥	باب بالصلح بالدين والعين	٢٣	باب لصلح قتل عند الموت	٦١٤
٢٤	باب قول الله إن الذين يشترطون	٥٨٦	٥٥- كتاب الشرط		٢٤	باب قول الله من أجد حيناً	٦١٤
٢٥	باب كيف يختلف الخ	٥٨٦	١	باب ما يجوز من الشرط في الأصلاح	٢٥	باب أنما ويل قول الله من بعد حيناً	٦١٤
٢٦	باب من أقام البيعة بعد اليمين الخ	٥٨٦	٢	باب إذا باع نخلاً قد أبرت	٢٦	باب إذا أوصى لأقاربه	٦١٤
٢٧	باب من أمر بأعجاز أو وعد	٥٨٦	٣	باب الشرط في البيع	٢٧	باب يهدى رجل النساء الولد الخ	٦١٤
٢٨		٥٨٦	٤	باب إذا اشترط بالتمهيد الخ	٢٨	باب هل ينفع الوعد بوقف	٦١٤

١٣	باب اذا وقف شيئاً فم يد فعد الى ^{عنه}	٢	باب فضل الناس مؤمن بحاجته	٢٤	باب وجوب النفير الخ	٦٢١
١٤	باب اذا قال وارى صدقة لله	٣	باب الدعاء بالجهاد للرجاء والنساء	٢٨	باب الكافر يقبل المسلم الخ	٦٢٢
١٥	باب اذا قال ارضى او بسناني	٤	باب درجاة المجاهدين	٢٩	باب من اختار الغزو على الصوم	٦٢٣
١٦	باب صدقة عن أمحت	٥	باب لعنة الرووف وسبيل الله	٣٠	باب شهادة سبع الخ	٦٢٤
١٧	باب الصدقة اذا وقف بعض ^{بها}	٦	باب نحو العين وصفتين الخ	٣١	باب قول الله لا يتوبى القاع ^{لن}	٦٢٥
١٨	باب من تصدق الى وكيله	٧	باب تمق الشهادة	٣٢	باب الصبر عند القتال	٦٢٦
١٩	باب ثبوت الله واذا حضر القنمة	٨	باب من يعصر في سبيل الله	٣٣	باب الخمر يرض على انقتال	٦٢٧
٢٠	باب يستحب لمن يتوب في مجاورة	٩	باب من يتكف في سبيل الله	٣٤	باب حضر الخندق	٦٢٨
٢١	باب الاشهاد في الوقت الخ	١٠	باب من يخرج في سبيل الله	٣٥	باب من حبس العذ من الغز	٦٢٩
٢٢	باب ثبوت الله والتوالي الخ	١١	باب قول الله هار ترضوننا	٣٦	باب فضل الصوم في سبيل الله	٦٣٠
٢٣	باب فضل الله واليتامى الخ	١٢	باب قول الله من المؤمن رجاء	٣٧	باب فضل النفقة في سبيل الله	٦٣١
٢٤	باب قول الله ان الذين ياكلون الخ	١٣	باب قول الله من المؤمن رجاء	٣٨	باب من جتر غازيا الخ	٦٣٢
٢٥	باب قول الله سيروا على القتلى	١٤	باب عمل صالح قبل القتال	٣٩	باب التخنط عند القتال	٦٣٣
٢٦	باب استحرام البيت في السفر الخ	١٥	باب من اتاه سهم غزب الخ	٤٠	باب فضل الطليعة	٦٣٤
٢٧	باب اذا وقف ارضاً ولم يبين الحد ود الخ	١٦	باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا	٤١	باب بيعت الطليعة وحده	٦٣٥
٢٨	باب اذا وقف جماعة ارضاً شاعراً	١٧	باب من اعوتت قدامه الخ	٤٢	باب سفر لاثنين	٦٣٦
٢٩	باب الوقف للفقير والفقير	١٨	باب مسح الغبار عن الناس في سبيل الله	٤٣	باب الخيل مقفوف في نواصيها الخ	٦٣٧
٣٠	باب الوقف الارض للمسيح	١٩	باب فضل لفضل بعد الحرب اغنيا	٤٤	باب الجهاد ما حضر مع البر القابل	٦٣٨
٣١	باب وقف الدقاة والكرام الخ	٢٠	باب فضل قول الله ولا تحسبن الذين قتلوا الخ	٤٥	باب من اختسب فرساً الخ	٦٣٩
٣٢	باب نفقة القيم الوقف	٢١	باب نظر الملكة على الشهيد	٤٦	باب اسم الفرس والحمار	٦٤٠
٣٣	باب اذا وقف ارضاً وابتز الخ	٢٢	باب تمنى المجاهد ان يرجع الى الدنيا	٤٧	باب ما يد كومن شوم الفرس	٦٤١
٣٤	باب اذا قتل الواثق لا نطقه	٢٣	باب الجنة تحت بارقة السيوف	٤٨	باب الخيل الثلثة الخ	٦٤٢
٣٥	باب قول الله يا ايها الذين امنوا	٢٤	باب من طلب لولد للجهاد	٤٩	باب من قطع دابة غيره في الخزو	٦٤٣
٣٦	باب فضل الصدقة على ذي الميت	٢٥	باب الشجاعة في الحرب الخ	٥٠	باب من ركوب على الدابة الخ	٦٤٤
٣٧	باب كرم الجهاد والسيوف	٢٦	باب من تبعد من الجبين	٥١	باب سهمام الفرس	٦٤٥
٣٨	باب فضل الجهاد والسيوف	٢٧	باب من حده بمشاهد في الحرب	٥٢	باب من فلا دابة غيره في الخ	٦٤٦
٣٩	باب فضل الجهاد والسيوف	٢٨	باب فضل قول الله ولا تحسبن الذين قتلوا الخ	٥٣	باب لولا والغز للدابة	٦٤٧
٤٠	باب فضل الجهاد والسيوف	٢٩	باب فضل قول الله ولا تحسبن الذين قتلوا الخ	٥٤	باب كوب الفرس العوى	٦٤٨
٤١	باب فضل الجهاد والسيوف	٣٠	باب فضل قول الله ولا تحسبن الذين قتلوا الخ	٥٥	باب الفرس القطوف	٦٤٩

٤٤٠	باب الاجير الخ	١٢١	باب قيل في دم النبي صلعم الخ	٨٩	٤٢٩	باب السبق بين الخيل	٥٦
	باب فضل النبي صلعم نصر بالرمح الخ	١٢٢	باب الجبهه في السفر والحرب	٩٠		باب ضمار الخيل للسبق	٥٤
٤٤١	باب حمل الزاد في الغزو الخ	١٢٣	باب المحرم في الحرب	٩١		باب غاية السبق للخيل المضمرة	٥٨
	باب حمل الزاد على الرقاب	١٢٤	باب ما بين كره في السكين	٩٢	٤٥٠	باب ناقه النبي صلعم الخ	٥٩
٤٤٢	باب ارداد المرأة خلف لثيها	١٢٥	باب قيل في قتال الروم	٩٣		باب بغلة النبي صلعم الخ	٤٠
	باب الاارتدات في الغزو والحج	١٢٦	باب قتال اليهود	٩٤			٤١
	باب الرد على المحار	١٢٧	باب قتال الفرنج	٩٥		باب جهاد النساء	٤٢
	باب من اخذ بالركاب الخ	١٢٨	باب قتال الذين ينتحلون الشرا ^ت	٩٦		باب غزو المرأة في البحر	٤٣
	باب كراهية السفر بالمصاحفة	١٢٩	باب من صف صحابه عند الغزوة	٩٧		باب حمل الرجل امرأته في الغزو الخ	٤٤
٤٤٣	باب التكبير عند الحرب	١٣٠	باب الدعاء على المشركين	٩٨	٤٥١	باب غزو النساء مع الرجال	٤٥
	باب تكبيره من رفع الصوت في التكبير	١٣١	باب هل يرشد المسلم اهل الشرك	٩٩		باب حمل النساء القربى للقتال	٤٦
	باب التبيح اذا هبط واديا	١٣٢	باب ادعاء المشركين بالهدى	١٠٠		باب ملوثة النساء المحرم في الغزو	٤٤
	باب التكبير اذا علا شرفا	١٣٣	باب دعوة اليهودى الخ	١٠١		باب ذوات النساء المحرم والقتل	٤٨
	باب تكبير المسافر مثا ما كان يعمل	١٣٤	باب دعاء النبي صلعم الى الاسلام	١٠٢	٤٥٢	باب نزوح السهم من المبدن	٤٩
٤٤٤	باب الاقامة	١٣٥	باب من اذ غزوة فترى بغيرها	١٠٣		باب الحراستة في الغزوة الخ	٤٠
	باب السير وحده	١٣٥	باب الخروج بعد الظهر	١٠٤	٤٥٣	باب فضل الخذة في الغزو	٤١
	باب السرعة في السير	١٣٦	باب الخروج اخر الشهر الخ	١٠٥		باب فضل من حوامق صان الخ	٤٢
	باب اذا حمل على فرس الخ	١٣٧	باب الخروج في رمضان	١٠٦		باب فضل رباط يوم الخ	٤٣
٤٤٥	باب الجهاد باذن الابوين	١٣٨	باب التوديع	١٠٧		باب من غزا يصيبه الخذة	٤٤
	باب ما قيل في الجرح الخ	١٣٩	باب السمع والطاعة لولا ما	١٠٨	٤٥٤	باب ركوب البحر الخ	٤٥
	باب من اكتب في جيش الخ	١٤٠	باب يقا تل من ولا الامام الخ	١٠٩		باب من استعان بالضعفاء	٤٦
	باب الجاسوس الخ	١٤١	باب المبيعة في الحرب الخ	١١٠		باب لا يقول فلان شهيد	٤٤
٥٤٦	باب الكسوة للاسارى	١٤٢	باب عزم الامام على الناس الخ	١١١	٤٥٥	باب التخرىض على الرعى الخ	٤٨
٤٤٧	باب فضل من سلم على يديه رجلا	١٤٣	باب كان النبي صلعم اذا لم يقا تل	١١٢	٤٥٦	باب المهور بالحرب الخ	٤٩
	باب لا اسارى في السلاسل	١٤٤	اولا النهار الخ			باب المحرم الخ	٨٠
	باب فضل من سلم من اهل الكتابين	١٤٥	باب استئذان الرجل الامام الخ	١١٣	٤٥٧	باب الدرق	٨١
	باب هل الدار يبيتون الخ	١٤٦	باب من غزا وهو قد عمى بعينه	١١٤		باب الحائل وتعليق السيف	٨٢
٤٤٨	باب قتال الصبيان في الحرب	١٤٧	باب من اختار الغزو وبعد المنية	١١٥		باب حلية السيوف	٨٣
	باب قتل النساء في الحرب	١٤٨	باب درة الامام عند الغزوة	١١٦		باب من علق سيفه بالشجر	٨٤
	باب لا يعذب بعذاب الله	١٤٩	باب لستم والركض في الغزوة	١١٧	٤٥٨	باب ليس البيضة	٨٥
٤٤٩	باب فاما ما بعد الخ	١٥٠	باب الخروج في الغزوة وحده	١١٨		باب من لم يكسر السلام عند الموت	٨٦
	باب هل للاسيوان يقتل الخ	١٥١	باب يجهل الخ والحمل والسبل الخ	١١٩		باب تفرق الناس عن الامام الخ	٨٤
	باب اذا احترق المشرك المسلم	١٥٢	باب قيرافي لواء النبي صلعم	١٢٠		باب قيل في لوامح الخ	٨٨
	هل يحترق						

١٥٣	باب	٢٤٩	١٨٦	باب من قسم الغنيمة في غزوة بدر	١٤	باب ومن الدليل على ان الخمس
١٥٢	باب حرق الدر والخيول	٢٨٠	١٨٤	باب دفع المشركين الى السلم	٤١٥	للإمام الخ
١٥٥	باب قتل النائم المشرك	٢٨١	١٨٨	باب من تكلم بالفارسية الخ	١٨	باب من لم يخمس لأسباب الخ
١٥٦	باب لاقتوا القفار العدو	٢٨٢	١٨٩	باب الغلول الخ	١٩	باب ما كان النبي صلعم يعطى
١٥٤	باب الحرب خدعة	٢٨٣	١٩٠	باب لقبيل من الغلول الخ	٤١٤	المؤلفقة قلوبهم الخ
١٥٨	باب الكذب في الحرب	٢٨٣	١٩١	باب يكبره من ذبح الأبل الخ	٢٠	باب يصيب من الطعام
١٥٩	باب الفتك باهل الحرب	٢٨٣	١٩٢	باب البشارة في الفتح	٤١٩	في ارض الحرب
١٦٠	باب يجوز من الاحتيال الخ	٢٨٣	١٩٣	باب ما يعطى البشير الخ	٥٨- كتاب بحرية از ٢٠ تا ٢٣	
١٦١	باب الرجز في الحرب الخ	٢٨٣	١٩٣	باب حججة بعد الفتح		
١٦٢	باب من لا يثبت على الخيل	٢٨٣	١٩٥	باب اذا اضطر الرجل الى النظر	١	باب بحرية والموادعة مع هل
١٦٣	باب دوار الحجر باحوق الحصيل	٢٨٣	١٩٥	باب اذا اضطر الرجل الى النظر	٢٠	الحرب الخ
١٦٢	باب يكبره من التنازع الخ	٢٨٣	١٩٦	باب استقبال الغزاة	٢	باب اذا وادح الامام ملك القرية
١٦٥	باب اذا فرغوا بالليل	٢٨٣	١٩٤	باب يقول اذا رجع من الغزو	٣	باب الوصايا باهل دفتر رسول
١٦٦	باب من راي العدو قتاد الخ	٢٨٣	١٩٨	باب لصلاة اذا قدم من سفر	٤	الله صلعم الخ
١٦٤	باب من قال اخذها وان ابن فلان	٢٨٤	١٩٨	باب لصلاة اذا قدم من سفر	٤	باب اقظم النبي صلعم من البحر
١٦٨	باب اذا نزل العدو على حكم جليل	٢٨٤	٥٤- كتاب فرض الخمس از ٢٩٨ تا ٤٢٠		٥	باب ثم من قتلهما هذا بغير حرم
١٦٩	باب قتل الاسير وقتل الصبي	٢٨٤			١	باب فرض الخمس
١٤٠	باب هل يستأجر الرجل الخ	٢٨٩	٢	باب ادا الخمس من الدين	٨	باب عاذا الامام عن من تكثرت عهده
١٤١	باب فكالك الاسير الخ	٢٨٩	٣	باب نفقة نساء النبي بعد فاته	٩	باب امان النساء وجوارهن
١٤٢	باب فذل المشركين	٢٩٠	٤	باب جاري في نكاح النبي صلعم	١٠	باب فذل المسلمين جوارهم لعدو
١٤٣	باب الحرب اذا دخل دار الاسلام الخ	٢٩٠	٥	باب جاني وروع النبي صلعم	١١	باب اذا قالوا احسانا الخ
١٤٢	باب يقاتل عن اهل الذمة	٢٩٠	٦	باب الدليل على ان الخمس لنواب	١٢	باب اموادعة والمصاحبة مع
١٤٥	باب جوائز الوفاء	٢٩٠	٧	رسول الله صلعم الخ	١٢	المشركين الخ
١٤٦	باب هل يستشفع الى اهل الذمة	٢٩٠	٨	باب قتل الله فان لله خمسة الخ	١٣	باب فقتل الوفاء بالعهد
١٤٤	باب التجمل للوفود	٢٩١	٨	باب قول النبي صلعم لعنت لكم الغنائم	١٢	باب هل يعفى عن الذم اذا
١٤٨	باب كيف يعرض الاسلام على الصبي	٢٩٢	٩	باب لغنيمة لمن شهد الواقعة	١٥	باب ما يجذر من العذر الخ
١٤٩	باب قول النبي لليهود اسلموا	٢٩٢	١٠	باب من قاتل للمغمم الخ	١٤	باب كيف ينشد الى اهل العهد
١٨٠	باب اذا سلم قوم في دار الحرب الخ	٢٩٣	١١	باب قسم الامام ما يقدم عليه الخ	١٤	باب ثم من عاهد ثم عذر الخ
١٨١	باب كتابة الامام الناس	٢٩٣	١٢	باب كيف قسم النبي قريظة الخ	١٨	باب
١٨٢	باب ان الله يبذل الدين بالوجوه الفدا	٢٩٣	١٣	باب بركة الغازي في مال الخ	١٩	باب المصاحبة على ثلاثة ايام
١٨٣	باب تامر في الحرب من غير امرأة	٢٩٣	١٤	باب اذا بعث الامام رسول الخ	٢٠	باب الموادعة من غير وقت الخ
١٨٢	باب المعون بالمدد	٢٩٣	١٥	باب من من الدليل على ان الخمس	٢١	باب طرح جيفت مشركين في
١٨٥	باب من غلب العدو الخ	٢٩٣	١٤	لنواب المسلمين الخ	٢١	النراخ
			١٤	باب من النبي عن الاسارى الخ	٢٢	باب ثم العادر للبر والفاجر

٤٩ كتاب يد الخلق

١	باب جاء في قول الله وهو
٢	الذي بيده الخلق الخ
٣	باب جاء في سبع ارضين الخ
٤	باب في النجوم الخ
٥	باب صفة الشمس والقمر الخ
٦	باب خلق قوله وهو الذي
٧	ارسل الرياح الخ
٨	باب ذكر الملائكة الخ
٩	باب اذا قال بين والملائكة
١٠	في السماء الخ
١١	باب جاء في صفة الجنة الخ
١٢	باب صفة ابواب الجنة الخ
١٣	باب صفة النار الخ
١٤	باب صفة الملبس جنوده الخ
١٥	باب ذكر الجن وثوابهم الخ
١٦	باب قوله تعالى واذا عرفنا
١٧	اليك نفر من الجن الخ
١٨	باب قول الله وبث في ما من كل
١٩	داية الخ
٢٠	باب خير ما للمسلم غنم الخ
٢١	باب خمس من المذات فواسق الخ
٢٢	باب اذا وقع الذباب في
٢٣	شراب احدكم الخ

٥٠ كتاب الانبياء

١	باب خلق ادم صلوات الله عليه الخ
٢	باب قول الله واذا قال ربك للملائكة
٣	باب الارواح جنود مجندة الخ
٤	باب قول الله ولقد ارسلنا نوحا
٥	الى قومه الخ
٦	باب قول الله انا ارسلنا نوحا
٧	باب ان الياس من المرسلين الخ
٨	باب ذكر ادريس عليه السلام
٩	باب قول الله والواي اخاهم في

٤٧	باب قول الله واما عاد ناهلكوا
٤٨	باب يعكفون على اجسامهم الخ
٤٩	باب قهقهه يا جوج ويا جوج الخ
٥٠	باب واذ قال موسى لقومه الخ
٥١	باب وفاة موسى الخ
٥٢	باب قول الله وضرب الله مثلا
٥٣	للذين امنوا الخ
٥٤	باب ان تاروت كان من قوم نوح الخ
٥٥	باب الخ صدين اخاهم شعيب الخ
٥٦	باب قول الله وان يونس من المرسلين
٥٧	باب اسلمهم عن القرية الخ
٥٨	باب قول الله وايتينا داود نبيا الخ
٥٩	باب حيث اهلصوا الى الله صلواته
٦٠	باب واذا كر عبد نادى الخ
٦١	باب قول الله ووهبنا له داود الخ
٦٢	باب قول الله ولقد تبينا لقوم الحكمة
٦٣	باب واغرب بهم مثلا اصحاب
٦٤	القرية الخ
٦٥	باب قول الله ذكر حيث بكركم الخ
٦٦	باب قول الله واذا كوفي للكتب
٦٧	باب اذا قالت الملائكة لياسم الخ
٦٨	باب قول الله واذا قالت الملائكة
٦٩	بيريهم الخ
٧٠	باب قوله يا اهل الكتاب اقلوا الخ
٧١	باب واذا كوفي الكتاب مريم الخ
٧٢	باب نزول عيسى بن مريم
٧٣	عليهما السلام
٧٤	باب ما ذكر عن نبي اسرائيل الخ
٧٥	باب حديث ابر من واعمي
٧٦	واقترع
٧٧	باب قول الله ام حسبت ان
٧٨	اصحاب الكهف الخ
٧٩	باب حديث الغار
٨٠	باب
٨١	تم يا اخير

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي رَاهِيَةَ بْنِ

مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي رَاهِيَةَ بْنِ

الْمَغِيرَةِ الْبَجَارِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَمِينٌ

مغیرہ بن بجمار کے رہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے آمین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحیم کرنے والا ہے

بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدَأَ الْوَحْيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّا

باب ۱ / آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کا شرح ہوتی اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہم سے

أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ (۱) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ

تیری طرف اس طرح وحی کی جیسے نوح اور اسکے بعد کے دوسرے نبیوں کی طرف وحی کی گئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ

عَنْهُ عَلَى لَمَنزِلٍ يُقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا

منبر پر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے کہ عملوں کا مدار نیتوں پر ہے عمل اور

لِكُلِّ امْرِئٍ مَا أَوْىٰ مِنْ كَانَتْ هَجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أُولَىٰ أُمَّةٍ أَوْ بِتَحْتِهَا فَنُجُتَ إِلَىٰ مَا هَاجَرُوا

ہر آدمی کو وہی ملے گا جو وہ نیت کرنا ہوگی ہجرت نہ کرنا چاہیے جو کسے مال کرے یا عورت کیلئے کس سے نکاح کرے تو کسی ہجرت کسی کا کیلئے ہوتی جس کیلئے اس نے

الْبَاءِ (۲) عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ

اس المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حارث بن ہشام نے رسول اللہ

سَلَّمَ لَهَا الْوَحْيَ الرَّجِيمِ - وَنَحْنُ عَلَىٰ رَسُولِ الْكُرَيْمِ عِلْمَهُ إِمَامُ بَخَّارِي نَسَىٰ فِي كِتَابِهِ أَنَّ الْفَتْحَ وَحْيَ كَيْفَ يَكُونُ كَذَلِكَ

سارا دار و مدار وحی پر ہے اور وحی کے بغیر مذہب کچھ بھی نہیں اور حدیث سے پہلے قرآن کریم کی آیت لائے ہیں اور حدیث میں صحیح بخاری

کی خصوصیت ہے کہ وہ جو مسند حدیث سے اخذ کرنا چاہتے ہیں اسکے متفق قرآن کریم کی آیت کو جن تک مگر جو پہلے بطور سند لاتے ہیں اور اسکی

غرض یہ نظر کرنا ہے کہ اصل ماخذین کا قرآن شریف ہی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ کسی قرآن شریف سے ہی آیا ہے۔ گو یا

حدیث قرآن کریم کا بیان یا اسی کی تشریح ہے۔ اور حدیث کے لئے بطور اصل قرآن کریم ہی ہے۔ اور حدیث میں کیفیت وحی کا ذکر ہے تو آیت قرآنی

میں یہ بتایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی ایسی ہی ہے جیسے پہلے انبیاء کی وحی۔ کیونکہ ایک وحی وہ بھی ہے جو طہرانیا کہ ہوتی ہے جیسے حضرت موسیٰ کی یا

کی طرف وحی یا حواریوں کی طرف وحی۔ یا اس امت کے اولیاء کی وحی جیسے عام طور پر اہلہام کہا جاتا ہے۔ مکمل حدیث انما الاعمال بالنیات کا نعت

ابتداء کتابت وحی دونوں سے ہے۔ اور ابتداء کتابت یہ اسلئے کہ ہر کام کا اصل بار دار انسان ہے۔ امام بخاری کے احاطہ میں تو اب دنیا تھا ہر آدمی کو آپ کی

کتابت و قبولیت ہی جو بد کتابت شدہ کسی کو نہیں ملی۔ اور وحی سے یوں نعت ہے کہ وحی اعمال صالحہ کی طرف ہوا کرتی ہے۔ مگر اعمال صالحہ بھی بد نعت سے

باب کیف کان بدأ الوحي

کتابت دنیا سے ملوانا

دنیا پر انسان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ

ہے و شہوات نفسانی کیلئے جسکے لئے عورت کا

لفظ فرمایا۔ دنیا میں لوگ کثرت سے اپنے

وطن مالوں کو چھوڑتے ہیں۔ ایک ملک سے دوسرے

مکان میں چلے جاتے ہیں۔ مگر یہاں لگائے کیلئے

یا حفظ نفسان کے لئے کہتے ہیں جو خدا کی راہ

میں حق کی خاطر یا حق بچانے کی خاطر

نکلنے ہیں۔ یہی لوگ اسد تامل کے نزدیک

قابل قدر ہیں۔ اس وقت کا حقہ فتن کاں ہجرت

الایہ و رسولاً وحقینہ الایہ و رسولاً بیا

بیان نہیں کیا حالانکہ حمیدی سے بھی یہ روایت

ہے پوری ثابت ہے۔ اور امام بخاری نے دوسرے

طریق سے اسے خود پورا کیا۔ لیکن یہ بیان

آگے کی وجہ سے وحی میں جن سے یہ کہتے

ہے جو کچھ مصنف کے نزدیک اختصار حدیث

اور رواثت بالذاتی عام ہے اسلئے عدم ترک

کردیا ہے۔ یہ جو کچھ کہیام بخاری سے فرو گذاشت ہوگئی۔ آخر

بشرقتے۔ یہ حدیث صحیح اور مقامات پر امام

بخاری نے بیان کی ہے اور سلم ابو داؤد و ابن

ترمذی اور نسائی نے بھی بیان کی ہے

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

صحیح بخاری - پہلا پارہ
 پھر اللہ تعالیٰ کے قریب کو
 پہنچنے کے بعد ان کو دنیا کی
 طرف لوٹایا جاتا ہے جسے
 حُجُب کا دن میں سننا بتایا
 ہے۔ جہاں ایک ہزار کی
 کوسے میں میں ہے۔
 کہا جاتا ہے اس غار کا
 طول چار ذراع یعنی چھ
 ذنٹ اور عرض چھ ذراع
 یعنی چھ ذنٹ تھا۔ جسے
 حضرت ابراہیم علیہ السلام
 حضرت گناہ کو کہتے ہیں۔
 جیسے تختہ نامہ وغیرہ
 بھی آزاد کا مفہوم ہے۔
 اسلئے تختہ کے معنی بتایا
 کرنا ہیں + مگر فرشتوں
 کے خدمت کیلئے تھی۔ بخاری
 اور مسلم نے اسے کہا کہ
 اس کا معنی ہے کہ فرشتوں
 کا عہدہ تھا حضرت جبرائیل
 کی جائزین کا بھی ذکر
 آتا ہے حضرت جبرائیل
 جبرائیل میں روز رکھا۔ مگر
 جبرائیل سے تھوٹے دن کے بعد
 آکر تھا وغیرہ جہاں ساؤ
 عیال کی بھی خبر گیری فرماتا
 رہتے۔ یعنی اس میں بھی
 رہائش کا رنگ نہ تھا۔
 عیال کی وہ مہم تھی جسکی
 دنیا کو نظر نہ تھی حضرت
 عیسیٰ کی منجیگی میں
 مدح حق کا لفظ آتا ہے +
 عیال الملک جبرائیل کا
 پہلے جو وحی آپ کو ہوتی
 تھی وہ دوسری طرفوں
 تھی بعض سے اس لفظ
 کی تاریخ اور ارضان کیوں
 ہے۔ لیکن ہم جبرائیل
 ایک داستان ہے۔ کہ یہ
 رمضان کی سات تھی اور
 چھ گھنٹوں تک کہم جبرائیل
 کہ اسکا نزول لینۃ القدر میں
 ہوا اور لینۃ القدر ۲۰
 یا ۲۱ رمضان میں ہوتی ہے
 یا قعدہ رمضان ۲۰ کہ
 غلطی معلوم ہوتی ہے یا ۲۰
 رمضان اور ساتھی

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَحْيَانًا يَأْتِيَنِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ فَيُصَمُّ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ وَ

أَحْيَانًا يَأْتِي مِثْلَ لِي الْمَلِكِ سَرَّجًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعْي مَا يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَمَّا نَزَلَ عَلَيَّ

الْوَحْيُ فِي أَيَّامِ الشَّرِّ بَدَأَ يُرَدُّ فَيُصَمُّ عَنِّي وَرَأَيْتُ جِبِينَهُ لَيَنْتَضِعُ عِرْقًا (۳) عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَوَّلُ مَا بَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرَّؤْيَا الصَّالِحَةَ فِي النَّوْمِ

فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِنْهُ فَلْيُ الصُّبْحُ ثُمَّ حَبِيبٌ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ وَكَانَ يَخْلُو الْبِقَاعَ حَرًّا فَيَتَحَنَّنُ

فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيْلِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَبْزُعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَبْزُدَ لِدُنْيَاكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِجَةَ

فَيَبْزُدُ لِمَنْهَا حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءَ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ

قَالَ فَاحْذِنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي أَجْرُ مَدَنَةٍ أَرَسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَاحْذِنِي

عَلِمْتُ بِنِشَانِهِمْ فَجَاءَ بِي الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ

عَلِمْتُ بِنِشَانِهِمْ فَجَاءَ بِي الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ

عَلِمْتُ بِنِشَانِهِمْ فَجَاءَ بِي الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ

عَلِمْتُ بِنِشَانِهِمْ فَجَاءَ بِي الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ

عَلِمْتُ بِنِشَانِهِمْ فَجَاءَ بِي الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ

عَلِمْتُ بِنِشَانِهِمْ فَجَاءَ بِي الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ

عَلِمْتُ بِنِشَانِهِمْ فَجَاءَ بِي الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ

عَلِمْتُ بِنِشَانِهِمْ فَجَاءَ بِي الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ

عَلِمْتُ بِنِشَانِهِمْ فَجَاءَ بِي الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ

عَلِمْتُ بِنِشَانِهِمْ فَجَاءَ بِي الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ

عَلِمْتُ بِنِشَانِهِمْ فَجَاءَ بِي الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ

عَلِمْتُ بِنِشَانِهِمْ فَجَاءَ بِي الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ

عَلِمْتُ بِنِشَانِهِمْ فَجَاءَ بِي الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ

فَطْفِ الشَّامَةَ حَتَّى يَلْعَمَ مِنِّي مُحَمَّدٌ ثُمَّ أَسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُمَا مَا أَبْقَارِي قَالَ فَاخَذَنِي فَطْفِي

اور دو بار دیکھا۔ یہاں تک کہ پورا روز کھربھٹکا یا پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھ سے نہ کہا میں پڑھتا نہیں پورا دن فرمایا پھر اسے مجھے چھوڑا اور

الثَّالِثَةَ فَعَلَمَ نَسَلِي فَقَالَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ

تیسرا بار بھی مجھے چھوڑ دیا کہ اور کہا اسے رب کے نام سے پڑھ اور کہا انسان کو تو مجھ سے پیدا کیا جو اور تریشی ہی عزت کے

فَرَجَعَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجِفُ فَوَادُّهُ فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ فَقَالَ

پس رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوٹ سے درخشا ایک کاتب کا دل کاتب رہنا تاکہ اسے سب کو اپنے دوست خویش کے پاس لے

زَمَلُونِي زَمَلُونِي فَرَمَلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عِنْدَ الرَّوْعِ فَقَالَ لَخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْحَبَابُ لَقَدْ خَشَيْتُ عَلَى

مجھے کہ اگر وہ میرے کلب اور غم کے ساتھ آجکے اور وہاں وہاں تک کہ ایک کافر کا بار اگلا کہے کہ تو مجھ سے کہا اوصی کران سے کہ کہنے لگے نفس پر خوف یہ وہ

نَفْسِي فَقَالَتْ خَدِيجَةُ كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْرِجُكَ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَنُصَلِّ الرُّجْمَ وَنَحْمِلُ الْكَلْبَ وَنَكْسِبُ

خدیجہ نے کہا اللہ کی قسم اللہ آپ کو بھی سچا بندہ کرے گا آپ مرنے ہی اور ان کو پوجھا اٹھائے ہیں اور جن کے پاس

المَعْدُومِ وَتَقْرَى الضَّيْفَ وَتَعِينُ عَلَى تَوَائِبِ الْحَقِّ فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةَ حَتَّى آتَتْ بِهِ وَرَقْرَبَ

کچھ نہیں نہیں لکارتے ہیں اور ان کو لازمی کرتے ہیں اور وہاں توں میں کی مدد کرتے ہیں میں بھری ایک ساتھی بیکر میں ہیں تاکہ کہیے ساتھ ورفہ میں

نُوفِلَ بْنِ أَبِي عُبَيْدِ الْعَزْمِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ خَدِيجَةَ وَكَانَ أَمْرًا تَنْصُرُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يُكْتُبُ الْكِتَابَ

نوفل بن عبد العزیمی کے پاس میں خدین جو خود مجھے کچھا کما بٹنا تھا اور وہ ایک شخص تھا جو اہلسنت میں عیسائی ہو گیا تھا تاکہ اور وہ سب لائی لکھتا تھا

مَلَّ بِ لفظ تیز دھندو ہراتے ہیں اور چوتھی دفعہ نبی کریم صلوات اللہ علیہ کی پہلی بائچ آستیں بڑائی ہیں۔ بعض کہوں کہ حضرت جبریل نے کتاب

حیرت انگیز دکھائی تھی۔ اور اس پر کہ اقرا نوبی کر صلوات اللہ علیہ دیکھا تھا انا بقاری ہی دندا انا ع کے لئے کہ یہ جانی ہے۔ دوسری دفعہ شکر کے طور پر کہ میں پڑھا

نہیں جاتا تیسری دفعہ ہنگام کے طور پر کہ کیا پڑھوں۔ چہرہ حضرت جبریل آپ کو چھینتے تھے۔ خطہ کے لئے میں حتم وصرہ لینے اپنے ساتھ لگا کر خوب دیکھا

مَلَّ چوتھی دفعہ اقرا باسم ربک دینا۔ بیٹے پڑھو بیٹے کے نام سے اقلع کرتے ہو یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وہاں میں آیات بھی بھی

ہیں۔ مگر بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بائچ آستیں یعنی مالہ دیلمہ ٹکڑوں کو تھپتا ہوا ہوا

برنگہ تویا اور تمام کہ جو پہلے بھی ہوتی تھی۔ مگر وہی ہوتا ہو نیز یہ ملک آئی بکا رنگ بال بل جگہ لگا تھا۔ جس کی وجہ سے آپ پر کیفیت طاری ہوئی چنانچہ دوسری دفعہ

جب آپ پر آیا ایہا المدد کی تھی نازل ہوتی تھی۔ آپ پر بھی کیفیت طاری ہوئی۔ اور یہ تو بائچ آستیں تھا۔ بعد میں بھی ایسی کی شکر کہ آپ ہمیشہ ایسا ہوس کرتے تو

کہ سنت سری کے دن پر لپیٹا جاتا جیسا ابھی ذکر کیا ہے۔ آحضرت صلوات اللہ علیہ نے خوف اور گھبراہٹ کے حالتے رہتے ہیں حضرت خدیجہ سے ذکر کیا ہے کہ کچھ

پہلے نفس پر خوف ہی اس کے لئے میری فہم و ہم کے ہیں۔ کہ حضرت صلوات اللہ علیہ کو یہ خوف ہی کہ شامہ کی طرف سے نہ ہو یعنی خود یا شامہ شیلانی خیال ہو۔ کہ حالت ہو یا وہ

اس سے خوف ناک تھی کھائی تھی۔ رسول اللہ صلوات اللہ علیہ کے فرتے ہوئے کیا یقین کا تھا۔ اور آپ کی بائچ آستیں جو پڑھا ہے یہ یقین دل دہی ہیں کہ آپ خود انسانی کی طرف سے ہوتی ہیں

اس امر میں شکیاں نہیں کی گئی تھی۔ نہ چھوٹی تصویر ایک سچی خواب میں انساں کو لگے۔ وہ اس کے دل پر ایسا اثر چھوڑتی ہے کہ اسے یقین حاصل ہوتا ہے۔ جس کو وہ ایک سچی خواب میں

پہلے دیکھ آئی ہیں۔ اور پھر اس عظیم نشان کیفیت کا ظاہر ہو جس کو نمد تویا سے بلند ہے۔ تو یہ وہی ایسے اکلے دل میں نہ ہو سکتا تھا۔ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں پیشینت

یہ میں تک اولاد۔ سلام اللہ علیہ
نے تفسیر میں روایت کی
کرتے وقت بھی صفت اور
الغیرت میں کی ہے۔ یہ
ہوئے ہیں اور صفت آپ کی
مگر عرب میں نماز مشہور تھی
اور دیکھ دانت میں تو صفت
تو وہ ان کا ذکر کرے ہیں
امیں ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں
صفت بھی آپ کی مشہور تھی
کی عرب میں لوگ کچھ ان میں کے
بہت سے کچھ کرتے حضرت
خدیجہ یوں کہیں اور یہ
کو اسلئے صفات کا بیان
سے لوگ کچھ کہتے ہیں
نے بھی کچھ لکھا ہے
افراد کے بارے میں کچھ ہے
ایسی تھی مخالفت کیا ہوگی
وہ نام کا کہوں ہے لگا ہوا

خدیجہ کے ایسی شان دقت
معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلوات
لہ علیہ سے پہلے بولوں پر
دل لکھتے تھے جو لوگوں کے
مصائب پر ہنسنے تھا۔ اور
آپ کی زندگی نبوت سے پہلے بھی
مہفرت تھی کہ کاموں میں صرف
ہوتی تھی۔ اور حضرت انسانی
ہی آپ کی زندگی کا شغل تھا
مکہ کے دن ہی نزل اور یہ
عمرو بن لعلیل نے برستی سے
بیزار ہو کر شام کے لئے
تھے۔ جہاں مقدسے عیسائی
نہیں اختیار کیا لیکن حضرت
خدیجہ حضرت صلوات اللہ علیہ کے
پاس اس لئے کہ میں اس کا
کی کوئل سے واقف ہو تھی
وجہ سے پیشین گوئی کا ہوا تھا
تھا۔ اسلئے بھی کہ وہ عیسائی
تھیں شخص تحقیق تھی
ترتیب پہلے میں رہتا ہے جو
جو خود انہوں نے فرمایا تھا
نبول کر آیا وہ بھی لگا لگا
بہاؤ تعلق قرابت آپ کی
حضرت صلوات اللہ علیہ میں
سے نہیں

یہ اٹھارویں جاتی تھی کہ آپ کو فائدہ کب میں یا کھلی جگہ نماز پڑھنے کی جگہ سے زمین آرام کا گھر نماز کیلئے مقرر کرنا پڑا۔ اور صحابہ کی روایت جو صحابہ ایک گروہ سے بنائی ہے۔ وہ ایسی بات ہے جس کی سند کوئی نہیں۔ کیونکہ پانچ سو سال میں ہجرت حدیث جو بھی تھی۔ جو الفاظ آگے امام بخاری نے نقل کیے ہیں۔ ان سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث قدرت ساویں تک پہنچا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ حضرت جبرئیل کو خراج میں دیکھنے کے بعد دوسری مرتبہ اس وقت دیجی۔ اور اس کے بعد ہی آیا اللہ عزوجل نازل ہوا اور یہ روایت جابر بن عبد اللہ انصاری کی ہے۔ اور اس کے مقابل زہری کا فقہ جسکی کوئی سند نہیں کہ قدرت کے زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر جا بار کرتے تھے اور جبرئیل آ کر کہتے تھے امنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کہ آپ کو یقین آجاتا۔ لیکن جبرئیل چڑھا تھا تو کیا ہی کرتے یہ قابل قبول نہیں۔ مفصل بحث اس لئے ہوتی ہے ہوگی +

الْبُحَارِيُّ فَيَكْتُبُ مِنَ الرَّخِيفِ بِالْوَهْلِ وَأَشَاءُ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ سو میرا جی اچھل کولھن جو اٹھنے جا کر کہتے اور وہ بہت بولتا تھا اور نا بینا ہو گیا تھا سو وہ بولتے

خَدِجَةُ بِنْتُ أَبِي عَمٍّ سَمِعَتْ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ فَقَالَ لَهُ وَرَقْدًا ابْنُ أُخِي مَاذَا تَرَى فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اس کا بچہ ہے اپنے بھائی کے بیٹے کی بات سن رہا ہے کہ وہ بچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خبر دی

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِجَةُ رَأَتْهُ فَقَالَ لَهُ وَرَقْدٌ هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى يَا لَيْتَنِي فِيهَا جِدَائِيَا جو دیکھتا تھا آپ سے کہا یہ وہ راز دار فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر اتارا ہے اس لئے کہ میں اس زمانہ میں جوان ہوتا

لَيْتَنِي أَكُونُ حَبِيبًا لِحَبِيبِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْخَرَجِي لَمْ قَالَ لَعَنَهُمُ يَأْتُ اسے کاش میں ہوتی کہ زندہ رسول جی آپ کو نکال دیتی مگر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھے نکال دیر کے اس لئے کہ اس کی نظر سے میری اس کتاب

سَجُلٍ فُطِرَ بِمِثْلِهَا أَرِحَتْ بِيهِ الْأَعْوَدِي وَإِنْ يَدْرِي نَوْمُكَ أَنْصُرَكَ نَصْرًا مَوْزُونَ أَرِحْنَا لَمْ يَنْشَبِ رِقَّةٌ جو آپ لئے ہیں لوگ انکے میں جھانسنے میں اور اگر آپ کا کیا نام ہے بٹے تو میں آپ کی پوری پوری مدد کروں ورنہ نہ ہوتی نہ مانتا پیا کر

أَنْ تَوْبَى وَفَاتِرُ الْوَسْوَاسِ قَالَ ابْنُ شَيْبَةَ (۴۴) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ وَهُوَ يُحَدِّثُ وفات پایا ہے اور وہی کا ہوسد رک گئے ہیں جابرا بن عبد اللہ انصاری نے فرمت دی کہ یاد کرتے ہوتے

عَنْ فِزْرَةَ الْوَسْوَاسِي فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ بَيْنَمَا أَنَا أَعِشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِّنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصْرِي فَاذًا آپ کی حدیث میں ہے بیان کیا کہ میں جا رہا تھا جب میں نے آسمان سے ایک آواز سنی اور میں نے اپنی آنکھ اٹھائی تو وہی

الْمَلِكُ الَّذِي جَاءَ فِي هِجْرَةِ جَابِلِسٍ عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَرَعِبَتْ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ فرشتہ تھا جو حجاز میں آیا تھا جسے اور وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا سو میں سے عجب ہو گیا اور ٹوٹ آیا اور کہا کہ

مگر انیس کے بعد خود امام بخاری نے احادیث انبیا میں السنہ کے ہیں۔ یاراز دار فرشتہ یعنی حضرت جبرئیل علیہ السلام جو انبیا پر وحی لاتے ہیں۔ وہ ورقہ نے حضرت موسیٰ کا ذکر کیا۔ حضرت عیسیٰ کا نہیں۔ اس لئے کہ حضرت موسیٰ کی وہ عظیم الشان پیشگوئی تھی۔ جس کا انصاریمود و نصارے دونوں کو اہم تھا۔ کہ تیری شکل ایک نئی تیرے بھائیوں سے برپا کروں گا۔ ورقہ کا یہ کہنا کہ آپ جبرئیل نازل ہوا۔ آپ کی تصدیق کے لئے تھا۔ یعنی جو کچھ آپ فرماتے ہیں میں اسے صحیح تسلیم کرتا ہوں۔ اس لئے نہیں کہ خود باندھا حضرت صلح کو شک تھا۔ کہ یہ فرشتہ ہے یا کچھ اور ورقہ کے یقین دہانے سے یقین آگیا۔ جہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو استفادہ سے خواب آتے تھے جن پر فرشتہ آیا۔ جو پتھروں تک سے یا رسول اللہ کی آواز سنتے تھے۔ جن پر کلام الہی نازل ہو چکا۔ ان کو تو فرشتہ کو دیکھ کر حیرت نہ گئے۔ کہ یہ فرشتہ ہے یا کچھ اور۔ اور ورقہ ایک عجمانی شخص فقہ کو سن کر سمجھے کہ یہ جبرئیل ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے اسے فرشتہ زمانہ میں۔ اور ورقہ کے کہنے سے ان میں۔ یہ نہایت کچھ باتیں ہیں۔ اور بسطیح یہ بھی نہایت خوب بات ہے۔ جو اس زمانہ میں بعض لوگوں نے جرات کے منہ سے نکال دی ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے معنی نہ آتے تھے۔ اور آپ ورقہ سے دریافت کرتے گئے تھے۔ عجیب بات ہے کہ حدیث میں تو ورقہ کے عجمانی کا عالم ہونے کا ذکر ہے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عجمانی میں وحی نازل ہوتی تھی جو ورقہ کے پاس معنی دریافت کرنے جاتے۔ اور پھر یہ کسی لہجہ بات ہی۔ کہ وحی تو خدا نے کر دی۔ لفظ جبرئیل نے پڑا ویسے۔ لیکن معنی دریافت کرنے کے لئے تو زبہا ایک عجمانی کی مشاگردی کی ضرورت ہوتی ہ۔ جسے جوں کے چھوٹے نیچے کو کہتے ہیں۔ یعنی کاش آپ کی نبوت کے زمانے میں جوان ہوتا۔ نبی کریم کے لئے جانے کا امتثال و رونق سے چھ انبیا کے حالات سے کیا۔ جیسا کہ اللہ العالی نے ظاہر ہے یا پیشگوئوں سے معلوم کیا ہ۔ مگر انشوب کے معنی جھٹکا میں یعنی اس وقت کہ بعد ورقہ کا زیادہ دیر کسی چیز سے تعلق نہیں ہ۔ یعنی بہت بعد وفات پایا۔ ایسے فقہ کا حضرت بلال کو کعبہ دیکھا وہاں تھا تو وہ رونق تھا۔ اور آپ کے گورنار کرتا تھا جو ان اسحاق کے لکھا ہے۔ یا جرت نبوی کے وقت ملک شام میں تھا اور وہاں سے مدینہ کو آتا ہوا رہنے میں آیا گیا۔ اس مجمع روایت کے مقابلہ میں روکنے کے لائق ہیں۔ اور یہی مجمع ہے۔ جیسا کہ بلاذری نے لکھا ہے کہ بعد وفات پاکر مدینہ میں دفن ہوا۔ ابن مندہ نے بکو صحابہ میں لکھا ہے۔ بلاذری اسنو بخاری رسالت کی تصدیق کی اور اس پر ایمان لائے۔ مگر فقہاء و فاضلین کے کہنے کو کہتے ہیں۔ کہ قتیبت وحی رکھی۔ اس میں اختلاف ہے۔ ابن اسحاق نے تین سال لکھا ہے۔ اور یہی امام احمد نے تاریخ میں لکھا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ عرف چندیم رکھی رہی۔ اور یہی درست ہے۔ ہذا روایات میں جو فرمت کے لئے طویل کا لفظ آتا ہے۔ مثلاً اس سے لوگوں نے قیاس کیا ہے۔ کہ وحی تین سال رکھی رہی۔ مگر وحی کے رکنے میں چندیم بھی ایک طویل نام کا حکم رکھتے ہیں۔ اور واقعات تاریخ میں تین سال کی کارکار ملاحظہ نامت ہوتا ہے۔ اس لئے کہ جو تھے سال ہجرت میں ہی کہ صلح کو استفادہ ہوگا۔

زَمَلُونِي رَسُولِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْزِلْ رَوَيْتُكَ فَكَيْزُ وَثِيَابِكَ فَطَمَّرْتُهُ وَالْحَمْدُ

فَأَجْمَرْتُهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَعَالَى نَزَلَ كَمَا كُنْتُ كَرِيمًا وَرَأَى وَرَأَى أَوْرَاقَ رِبِّكَ فِي رَأْيِكَ كَرِيمًا وَرَأَى أَوْرَاقَ رِبِّكَ فِي رَأْيِكَ كَرِيمًا وَرَأَى أَوْرَاقَ رِبِّكَ فِي رَأْيِكَ كَرِيمًا وَرَأَى أَوْرَاقَ رِبِّكَ فِي رَأْيِكَ كَرِيمًا

دورہ چھوٹی گرم ہوئی اور پے در پے آئے لگی

لَتَجْعَلَ بِهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيهِ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةٌ وَكَانَ مِمَّا يَجْرُكُ

تَنْجِيلُ بِهِ كَيْ تَنْفِيسِ مِنْ كَمَا رَسُولُ الْمَسْمُومِ وَجِي كُو بَرِي شَدِيدَةً لِيَتَقِي عَمَلَهُ

شَفِيئِهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَإِنَا أَحْرَقَهُمَا لَكِ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَجْرُكُهُمَا وَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا أَحْرَقَهُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَجْرُكُهُمَا فُحْرًا

شَفِيئِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَا تَجْرُكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَجْعَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ قَالَ جَمْعُهُ لَكَ

صَدْرُكَ وَتَفْرَأُهُ وَإِذَا قَرَأَهُ فَأْتِعْهُ بِقُرْآنِهِ قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ لَنَا عَلَيْنَا بَيِّنَاتٌ لِمَنْ يَرَى

عَلَيْنَا أَنْ تَفْرَأَهُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا نَأَهُ جَبْرَيْئِيلُ اسْتَمَعَ

بِهِ بَاتِئًا تَوَاسَعُ مَلَكٌ بِنِ رَسُولِ الْمَسْمُومِ

وَإِذَا انْطَلَقَ جَبْرَيْئِيلُ فَرَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فَرَعَهُ ۚ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْوَدُ النَّاسِ وَكَانَ أَحْوَدًا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ

حِينَ يَلْقَاهُ جَبْرَيْئِيلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْوَدُ بِالْحَيْزِ مِنَ الرِّجْمِ الْمُسَلَّهِ ۚ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْوَدُ النَّاسِ وَكَانَ أَحْوَدًا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ

حِينَ يَلْقَاهُ جَبْرَيْئِيلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْوَدُ بِالْحَيْزِ مِنَ الرِّجْمِ الْمُسَلَّهِ ۚ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْوَدُ النَّاسِ وَكَانَ أَحْوَدًا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ

حِينَ يَلْقَاهُ جَبْرَيْئِيلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْوَدُ بِالْحَيْزِ مِنَ الرِّجْمِ الْمُسَلَّهِ ۚ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْوَدُ النَّاسِ وَكَانَ أَحْوَدًا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ

حِينَ يَلْقَاهُ جَبْرَيْئِيلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْوَدُ بِالْحَيْزِ مِنَ الرِّجْمِ الْمُسَلَّهِ ۚ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْوَدُ النَّاسِ وَكَانَ أَحْوَدًا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ

حِينَ يَلْقَاهُ جَبْرَيْئِيلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْوَدُ بِالْحَيْزِ مِنَ الرِّجْمِ الْمُسَلَّهِ ۚ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ

بجز جگر سے باہر کسی کو مختلف آیات کو مختلف مقامات میں کھنڈا اور پھر ہر قسم کا بغیر کسی یادداشت کے آپ کے سینہ پر محفوظ رہ جاتا۔ یہ اتنے لمبے سلسلے میں جہاں شب و روز نزل کا سلسلہ جاری تھا اور دو دو تین تین سو تین ایک ہی وقت میں نازل ہوتی تھیں بشری طاقت سے بڑھ کر کسی ملک اور عرب کو لگا رہ جاتا تھا کہ قرآن کرم کا نزل ہوا تھا میں جو آپ کو کھنڈا میں ہی صحت جبرئیل اسکا دور بھی کرتے تھے اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سے یہ لفظ ہے۔ فلما كان العاصم الذي توفي فيه ما رضه من حمه فانه يلبس ما من اسانك من رمضان میں جس میں آپ فوت ہوئے دو بار دور دور کیا اس حدیث سے نبی کریم صلوات علیہ وسلم کی صفت سخاوت کا کمال پایا جاتا ہے آپ سب لوگوں سے بڑھ کر سخی تھے۔ اور رمضان میں دیگر ایام سے بڑھ کر اور آپ کی سخاوت ہوا کی طرح عام تھی۔ یعنی جس طرح ہوا سب پر یکساں ملتی ہے۔ اسی طرح سب سے یکساں سخاوت کا سلوک کرتے تھے۔ آپ نے کبھی کسی مال کو انکار نہیں کیا

بجز جگر سے باہر کسی کو مختلف آیات کو مختلف مقامات میں کھنڈا اور پھر ہر قسم کا بغیر کسی یادداشت کے آپ کے سینہ پر محفوظ رہ جاتا۔ یہ اتنے لمبے سلسلے میں جہاں شب و روز نزل کا سلسلہ جاری تھا اور دو دو تین تین سو تین ایک ہی وقت میں نازل ہوتی تھیں بشری طاقت سے بڑھ کر کسی ملک اور عرب کو لگا رہ جاتا تھا کہ قرآن کرم کا نزل ہوا تھا میں جو آپ کو کھنڈا میں ہی صحت جبرئیل اسکا دور بھی کرتے تھے اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سے یہ لفظ ہے۔ فلما كان العاصم الذي توفي فيه ما رضه من حمه فانه يلبس ما من اسانك من رمضان میں جس میں آپ فوت ہوئے دو بار دور دور کیا اس حدیث سے نبی کریم صلوات علیہ وسلم کی صفت سخاوت کا کمال پایا جاتا ہے آپ سب لوگوں سے بڑھ کر سخی تھے۔ اور رمضان میں دیگر ایام سے بڑھ کر اور آپ کی سخاوت ہوا کی طرح عام تھی۔ یعنی جس طرح ہوا سب پر یکساں ملتی ہے۔ اسی طرح سب سے یکساں سخاوت کا سلوک کرتے تھے۔ آپ نے کبھی کسی مال کو انکار نہیں کیا

بجز جگر سے باہر کسی کو مختلف آیات کو مختلف مقامات میں کھنڈا اور پھر ہر قسم کا بغیر کسی یادداشت کے آپ کے سینہ پر محفوظ رہ جاتا۔ یہ اتنے لمبے سلسلے میں جہاں شب و روز نزل کا سلسلہ جاری تھا اور دو دو تین تین سو تین ایک ہی وقت میں نازل ہوتی تھیں بشری طاقت سے بڑھ کر کسی ملک اور عرب کو لگا رہ جاتا تھا کہ قرآن کرم کا نزل ہوا تھا میں جو آپ کو کھنڈا میں ہی صحت جبرئیل اسکا دور بھی کرتے تھے اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سے یہ لفظ ہے۔ فلما كان العاصم الذي توفي فيه ما رضه من حمه فانه يلبس ما من اسانك من رمضان میں جس میں آپ فوت ہوئے دو بار دور دور کیا اس حدیث سے نبی کریم صلوات علیہ وسلم کی صفت سخاوت کا کمال پایا جاتا ہے آپ سب لوگوں سے بڑھ کر سخی تھے۔ اور رمضان میں دیگر ایام سے بڑھ کر اور آپ کی سخاوت ہوا کی طرح عام تھی۔ یعنی جس طرح ہوا سب پر یکساں ملتی ہے۔ اسی طرح سب سے یکساں سخاوت کا سلوک کرتے تھے۔ آپ نے کبھی کسی مال کو انکار نہیں کیا

أَبِ اسْفِينِ بْنِ حَرْبٍ أَحْبَبَهُ أَنْ هُرِّقَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَكَانُوا تِجَارًا بِالشَّامِ فِي

ابوسفیان - بیٹے اس خدیجی کو ہرقل نے اسے قریش کے قافلہ کے ساتھ بلوایا اور وہ شام کے ملک میں تجارت کے لئے گئے تھے

الْمَدَّةِ النَّبِيِّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا فِيهَا أَبِ اسْفِينَانَ وَكَفَّارَ قُرَيْشٍ فَأَتَوْهُ وَهُمْ

اس وقت میں جو رسول اللہ صلعم نے ابوسفیان اور کفار قریش کے ساتھ مقرر کی تھی علیہ بیڑہ اس کے پاس آئے اور یہ لوگ

بِأَيْدِيَاءَ فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ وَحَوْلَهُ عِظَاءُ الرُّومِ ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا تَرْجُمَانَهُ فَقَالَ أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا

ایلیا میں تھے سو اس نے انہیں اپنے دو بار میں بلوایا اور اسکے ارد گرد کے بلے بڑے لوگ جو پھر انہیں بلوایا اور اپنے زبیر کو پوچھا کون علیا اور کون میں کون شخص تیرا

بِعِذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَرْعَمَانَهُ نَبِيُّ قَالَ أَبُو اسْفِينَانَ فَقُلْتُ أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا فَقَالَ أَذْنُوهُ مَهْرِي وَ

اس شخص سے فریبتی جو دعویٰ کرنا کہ وہ نبی ہے ابوسفیان کتا ہے کہ میرا اس کا سب سے قریبی رشتہ دار ہوں تو ہرگز نہ کہنا اسے میرے پسلاؤ اور

قُرَيْبُوا أَصْحَابَهُ فَاجْلِسُوا عِنْدَ ظَهْرِهِ ثُمَّ قَالَ لِرَجْمَانِهِ قُلْ لِعِظَاءِ الرُّومِ هَذَا الرَّجُلُ فَاد

اسکے ساتھیوں کو بھی قریب کھواران کو کہی بیٹھ پر رکھو پھر اپنے زبیر کے والے سے کہنا اسے کہ میں اس ابوسفیان سے اس شخص کا حال دریافت کرتا ہوں تو اگر

كَذَبَنِي فَكُنْ بَوَّهْ فَإِنَّهُ لَوْلَا الْحَمَاءُ مِنْ أَنْ يَأْتِرُوا عَلَيَّ كُنْ بِالْكَذِبِ عِنْدَهُ ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ مَا

یہ مجھ سے بھوٹا بڑے تو تم سے بھٹلاؤ دو سواشدکی تم اگر بیش از حد ہوتی کہ یہ لوگ مجھے بھوٹا لہیں گے تو میں کہے ہوں میں بھوٹا لہتا تھا پھر یہ بات جو اس نے

سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ كَيْفَ نَسَبِي فِيمَكُمْ قُلْتُ هُوَ قَيْمَانٌ وَتَسِبَ قَالَ فَعَلَّ قَالَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْكُمْ

مجھ سے پوچھی یہ بھی کہ لہا اسکا نانا نام میں کیا ہے تو میں نے کہا وہ ہیرانی خاندان ہے اس نے کہا کیا بات تم سے کہی ہے اس سے پہلے بھی یہی کہی

أَحَدًا قَطُّ قَبْلَهُ قُلْتُ لَا قَالَ فَعَلَّ كَانَ مِنْ أَبَائِهِ مِنْ فَلَكَ لَأَقَالَ فَاسْتَرَأَى النَّاسَ شَبْعَةَ

میں نے کہا نہیں - اسے کہا کیا اسکے بزرگوں میں کوئی بادشاہ گذرے جو میں نے کہا نہیں اسے کہا کیا امیر آدمی کسی بیرونی نے ہیں اسے

أَمْ ضَعْفًا وَهُمْ قُلْتُ بَلْ ضَعْفًا وَهُمْ قَالَ أَيْزِيدٌ وَنَ أَمْ بَقِصُونَ قُلْتُ بَلْ يَزِيدٌ وَنَ قَالَ فَعَلَّ

یا غریب میں نے کہا غریب اس نے کہا کیا وہ بڑے تھے ہیں یا بھٹ رہے ہیں میں نے کہا بلکہ بڑھ رہے ہیں اس نے کہا کیا

يُرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخَطَةً لَدَيْهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ قُلْتُ لَا قَالَ فَعَلَّ كُنْتُمْ تَرْمُونَهُ بِالْكَذِبِ

ان میں سے کوئی شخص اپنے دین سے بیزار ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے جو اس کے کہ وہ اس میں داخل ہو چکا ہوئے لہذا نہیں اسے کہا کیا تم پر بھوٹا کی نعمت لگاتے تھے

قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَعَلَّ بَعْدَ رَقُلْتُ لَا وَخُنَّ مِنْهُ فِي دَدَةِ لَا نَدْرِي مَا هُوَ

قبل اسکے کہ وہ بات کہے جانتے کسی میں نے کہا نہیں اسے کہا کیا وہ یونانی کرتا ہے میں نے کہا نہیں اور اب ہم نے اسکے ساتھ ایک مدت ٹھہرائی ہوئی ہے ہم نہیں جانتے کہ وہ

فَاعِلٌ فِيهَا قَالَ وَمَ كُنْتُمْ كَلِمَةً أَدْخِلَ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ قَالَ فَعَلَّ قَالْتُمْ هُوَ قُلْتُ نَعَمْ

اس میں کیا لگا کر ابوسفیان نے کہا اور مجھ کو موقع ملا کہ میں اسے ہبات کے اور کوئی بات نہ اہل کدہ عکسے کہا کرتے اسکے ساتھ لڑائی کی ہے میں نے کہا ہاں

قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُ الْكُرَايَا قُلْتُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ كَسِبَالٍ قِيَالٍ مَنَا وَتَنَا مِنْهُ قَالَ

اس نے کہا تمہاری اسکے ساتھ لڑائی کی ہے میں نے کہا لڑائی پھر اور اسکے درمیان ڈول کا طرح کی کبھی وہ ہمارا نقصان کرتا ہے اور میں تم کا نقصان کرتے ہیں اسے

مَاذَا يَا أُمَّرُكُمُ قُلْتُ يَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ وَحَدَهُ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْتُمْ كَمَا يَقُولُ الْبُأُوكُمُ

تمہیں کیا کرنے کو کہتا ہے مجھ نے کہا کہتا ہے کہ ایسے اللہ کی عبادت کرو اور اسکے ساتھ کسی کو شریک مت کرو اور تمہارے باپ دادا کہتے تھے اسے چھوڑو

مجلس اس وقت سے مراد وہ عارضی صلح ہے جو جمع حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے جس میں فریقین نے دوسرا ایک جگہ سے رکھنے کا عہد کیا۔ اسی زمانہ میں

نبی کریم صلعم نے اسلام کا پیغام بیرونی ملکوں میں بھی پہنچایا۔ جن میں سے ایک خط بنام ہرقل تھا جو اس وقت ملک شام کا حاکم تھا۔ اس خط کے پہنچ

پہری جس کا مضمون آگے آتا ہے۔ ہرقل نے یہ تلاش کرانی کہ کوئی عرب کارہے فالالاؤ۔ جو آنحضرت صلعم کے حالات سے واقف ہو اور ابوسفیان جو

اس زمانہ میں تجارت کے لئے وہاں پہنچا تھا۔ اور ابھی تک مسلمان نہ ہوا تھا۔ اپنے رفیقوں کے حاضر کیا گیا۔ مجلس یا ترواعلیٰ یعنی مجھے یہ

تذ تھا کہ کوئی شخص یہ وقت مجھ کو بھٹلا دیکھا۔ یاں یہ خوف تھا۔ کہ بعد میں میری نسبت یہ لوگ کہیں گے کہ اس نے بھوٹا بولا یا تو اس کے معنی ہر

بقتلوا + مجلس اشرف الناس سے مراد وہاں کے مقابلے پر بڑے بڑے امرا ہیں۔ اور یہاں اکثریت کا ذکر ہے۔ یعنی اکثر یہ دیکھے ہیں +

کے کور کے دین
کرتے سے مراد ایسی
ہات کا لہنا ہے جو میں
میں رسول کریم صلعم
کی خدمت چوتو یہاں
لمکا فی طور یہ کہتے
کی تمہا نش محل آن
کہ اب چارا اور کھا
ایک معاہدہ ہے۔
وہ عہد پورا کر لیں تو
ہو سکتا ہے۔ اس سے
معلوم ہوتا ہے۔ کہ
نبی کریم صلعم کی خدمت
نے دشمنوں پر بھی
کمان تک اتر کر کھا
کھا۔ کہ وہ جانتے تھے
کہ اگر ہر جہت بولیں تو
آپ کے خلاف کچھ نہیں
کرتے + ع
الغوب صحیح عربی
ضرر یا نسل جو صحیح
ڈول کو کہتے ہیں۔ کراؤ
آنا اور نیچے جانا ہے
مشل سے مراد یہ ہے کہ
جگہ میں کبھی ایک
فرق کا غلبہ ہوتا ہے
اور کبھی دوسرے کا
لیکن یہاں ابوسفیان
کی مراد کیا ہے اسے
یہاں ہنا و نفال
ہند سے ظاہر کر دیا
ہے۔ یعنی کسی وہ
ہیں نقصان پہنچاتا
ہے۔ کبھی ہم اسے
نقصان پہنچاتے
ہیں۔ نفع
و نکت
کا ذکر
نہیں
+

وَيَا مَرُوءَا يَا الصَّلَاةَ وَالصَّدَقَ وَالْعَفَاةَ فَقَالَ لِيَلْتَرَجَحَنَّ قُل لَّهُ سَأَلْتَكُ عَنْ نَسَبِي فَذَكَرْتُ

اور میں نماز اور صدق اور عفو کا حکم بتا کر تو اسے اپنے ترجمہ کر کے روانہ کر کے کہ ملا سے کہہ دینے سے کہنے سے کہ خدا کا
انکہ قبکم ذونسب وکذک الرسل تبعث فی نسل قومها وسالتک هل قال احد منکم هذا
متفق سوال کیا تو نے میان کیا کہ وہ تم میں کئی خدا کا اور جلیل رحمت رسول نبی تو کے بلند خداؤں میں مبعوث ہونے پہل درجئے تھے سے پوچھا کہ کیا یہ بات تم میں کسی نے

القول فذکرت ان لا قلت لو کان احد قال هذا القول قبله لقلت رجلا یا لئیی بقول قبلی
پسے کسی بھی ذوق سے کہا کہ نہیں میرا مطلب یہ تھا کہ اگر اس سے پہلے بھی کسی نے یہ بات کسی ہو تو میں سمجھوں گا ایک شخص پر ایسی بات کے ہجھے کہ گیا ہو جو اس سے پہلے کسی کی

قبلكه وسالتک هل کان من ابائکم من ملک فذکرت ان لا قلت فلو کان من ابائکم من ملک
اور میں نے تجھ سے پوچھا کیا اسکے زیروں کے گالی ہاوشہ ہوا ہے تو نے کہا کہ نہیں تو میری عرض ہے تھی اگر اسکے زیروں پر کوئی بارشہ ہوا ہو تو

قلت رجل یطلب ملک ابيہ وسالتک هل کنتم تممونه بالذبح قبل ان يقول ما قال
میں سمجھوں گا کہ ایک شخص پو کہ اپنے باپ کا ملک چاہتا ہو اور میں نے تجھ سے پوچھا کیا تم اس پر جھوٹ کی تہمت لگانے تھے اس سے پہلے جو یہ دعویٰ کرے جو اس نے کیا

فذکرت ان لا فقد اعرف انه لم یکن لیذرا لکن اب علی الناس یکذب علی الله وسالتک
تو نے کہا نہیں تو میں جانتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص لوگوں پر کبھی جھوٹ کرے اور اللہ پر جھوٹ کرے اور میں نے تجھ سے پوچھا کہ

اشرف الناس اتبعوه ام ضعفاء وهم فذکرت ان ضعفاء هم اتبعوه وهم اتباع الرسل و
اکی ہرے لوگ پیروی کرتے ہیں یا غیر
تو نے کہا کہ غریب لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں اور ایسے ہی رسول کی پیروی کرتے ہوتے ہیں اور

سالتک ایزیدون ام یفقدون فذکرت انهم یزیدون وکذک امر الایمان حتی یتیم وسالتک
پرسے جو تجھ سے پوچھا کہ وہ بڑھتے ہیں یا گھٹتے ہیں تو نے بیان کیا کہ وہ بڑھتے ہیں اور ایسا ہی ایمان کا معاملہ ہوتا ہے ایمان تک کہ وہ مان کر پیروی کرے اور میں نے

ایرنا احد سخطه لئینه بعد ان یدخل فیہ فذکرت ان لا وکذک الایمان حین تخالط
تجھ سے پوچھا کہ کیا کوئی شخص اپنے دین سے بیزار ہو کر مرتد ہو جائے اور اس کے کہہ اس میں اور پہلچا ہوتو نے بیان کیا کہ نہیں اور میں نے بیان کیا کہ ایمان کی حالت ہوتی ہے جلیسا کی

بناشتت القلوب وسالتک هل یغدر فذکرت ان لا وکذک الرسل لا تغدر وسالتک بما
خوشی دین سے ممانتی ہے اور میں نے تجھ سے پوچھا کیا وہ بیوفائی کرتا ہے تو نے کہا کہ نہیں اور میں نے بیان کیا کہ نہیں کرتے اور میں نے تجھ سے پوچھا کہ

یا مکرکم فذکرت انه یا مکرکم ان تعبدوا الله ولا تشکروا لیه شیئا وینہاکم عن عبادۃ الاوتان و
متر کو کیا حکم بتا رہا تو نے بیان کیا کہ وہ تمہیں حکم بتا کر اللہ کی عبادت کر اور اس کے شکر سے محروم نہ رہو اور تمہیں نبیوں کی پرستش سے روکتا ہے اور

یا مکرکما للصلاة والصدقی والعتافی فان کان ما نقول حقاً فسبک موضع قدمی هاتین و
تمہیں نماز اور صدق اور عفو کا حکم بتاتا ہے پس اگر جو کچھ تو کہنا ہے تو وہ عقلمندوں سے کہو کہ ایک ہر ایک جہاں میرے یہ پاؤں ہیں تم سے اور

قد کنت اعلم انہ خارج ولم کان ظن انہ منک فلو ارفی اعلم ارفی اخلص لیه الخسرت
میں جانتا تھا کہ وہ ظاہر ہو نہوالا ہے مگر میرا بیخیاں نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا جس اگر یہ غلط علم ہو کہ میں سے ایک شیخ جاؤنگا تو میں اس کے منے کی کیفیت جانتا تھا کہ

لقد اذ و لو کنت عندا لغسلت عن قدمیہ ثم دعا بکتاب رسول الله صلی الله علیه وسلم
اور اگر میں اسے پس ہونا نہیں اس کے پاؤں دھونا پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگوایا

علم ہرقل نے ان تمام سوالوں اور جوابوں کو جو اسکے اور اوس سفینا کے درمیان ہوئے وہ ہر ایک سے یہ نتیجہ نکلا کہ جس کی صورت کے خلاف شہادت نہیں
جس قدر تا میں اس کے سمجھ میں آئیں جن سے دعویٰ کا بطلان ہو سکتا تھا۔ وہ سیاسی سلعہ درہد بنت کر لی ہیں۔ اور ان سے انحضرت کی صداقت کا نتیجہ نکلا ہے اس لئے کہ
انفقا تو اسکو پہلے سے ہی تھا۔ اور وقت بھی پہنچ چکا تھا۔ حرف ہر کسی کے حالات کو دیکھتا تھا۔ سوا سئلے اوس سفینا سے دریافت کر کے آچکے تھے پہلے سے ہی کہ فیصلہ کیا
چنانچہ اسکے اپنے الفاظ سے یہ ظاہر ہے۔ وقد کنت اعلم انہ خارج علیہم سئلے کو ہوں کی بنا پر تھا کہ ایک نبی اس سے فرزا نہیں ظاہر ہوئے والا ہے کہ ہاتھ کے
آچکے بیروں میں یوں بیٹھتا رہتا ہوتی ہے۔ اور جو کچھ مخالفت بھی ہوتی ہے یہ سننے والا کہ آپ حق پر ہیں۔ اور کہا میری لسانیاں کی ہوتی ہے۔ جب تک کہ پورا ہو جائے کہ
یہ معلوم ہوتی ہے کہ کچھ دین کی یہ علامت ہے۔ کہ مخالفت سے اسکا کچھ بگاڑتا نہیں۔ اور سننا کہ کچھ کوششوں سے وہ تباہ نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ انعام کو پہنچ جاتا ہے۔
اور مخالفت پر غالب رہتا ہے۔ علم ایمان کی نشاندہ کے دل پر حمل ہونے سے مراد ایسے شرع سے کہ پیدا ہونے کی کوئی نشان ہے۔ بعینہ ہی یہ ہے۔ کہ پورا ہوتا ہے۔

باب کیف کان بد الیومی

علم اس وقت تک کہ
آچکے ہر ایک سے پہلے
میں تھا۔ اور اس کا یہ
کہنا کہ ترجمہ کہنے
ہو تو وہ اس مقام کو
ماک ہوا کہ پیشہ جہوں
کی بنا پر جو زمین کی
طرف توجہ کر کے
یعنی ان الارض
یہ تھا ایک اور
میں شاہ کی حضرت
ابراہیم سے کہنا جو
دعا کرتا ہے پیش
۱۱۱۷ء میں بنا یا گیا
اس میں بھی پہنچا
ہو گیا۔ ہجرت
کے منہ نکلنے ہیں۔ یا
مشقت تھا کہ ایک کام
کرنا یا مال سے یہ عذر
ظاہر کیا کہ میرے بچے
آپ تک پہنچنا مشکل ہے
یعنی میری تو عمر بھر قتل
کرنے کی۔ مگر رحمت
کی وجہ سے وہ صرف
انعام ہلاک ہی محروم
رہا۔ بلکہ بعد میں تو میری
فاطمہ سے نبی کریم صلی
کے مقابلے میں بھی لکھنا
پڑا۔ کہ وہ آپ ہی کبھی
جنگ میں سے نہیں آیا۔
بیوی کا عذر وہ اس سے پہلے
معلوم تھا۔ کہ ان کی ایک
بڑے لشکر سے عرب پر
حملہ آور ہو چکا ہے۔
مگر جب بھی آپ کو
مطمئن ہو رہے۔ تو ان کی
زنیاں۔ شاہ نے لڑائی
ڈھکھا ہو کر اسے اس
صوبہ کو بھیجا تھا کہ
ہر حال اس سے نصرت کیا
مقدم کر کے حق کا پیروا۔
مسند احمد میں ہے کہ
اسے تو کہہ کے انحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم میں خط
بھی لکھا تھا کہ انحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
نصرت ہے۔

الَّذِي بَعَثَ بِهِ مَعَهُ دَحِيَّةَ الْكَلْبِيِّ إِلَى عَظِيمِ بَصْرَى فَدَفَعَهُ عَظِيمُ بَصْرَى إِلَى هِرَقْلٍ فَقَرَأَهُ

جو آپ نے دیکھا کہ کلبی نے بصری کے حاکم کی طرف بھیجا تھا۔ عظیم بصری کے حاکم نے اسے ہرقل کی طرف بھیجا تھا۔

فَإِذَا فِينَهُ لَيْسَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلٍ عَظِيمِ الرُّومِ

سوائے اسے پڑھا تو اس میں یہ تھا کہ اللہ کے نام ہے جو رحمن اور رحیم ہے محمدؐ اور اللہ کے بندہ اور اس کے رسول کبریٰ کو ہرقل روم کے حاکم کی طرف

سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهَدَىٰ أَمَا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسَلِمُ تَسْلِمَ يُونُسَ

اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے اسے بعد میں بھی اسلام کی دعوت کی طرف بلاتا ہوں مسلمان ہو جاؤ تو سلامتی میں ہو گا اللہ تجھے

اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِن عَلَيْكَ إِتْمَ الْيُرَيْسِيِّينَ وَيَا أَهْلَ الْكِنْتِ تَعَالَوْا إِلَى

دو جہنم اجرونگے عظیم بصری کو پھر دو پھر جائے تو مجھ پر تیری رعایا کا گناہ بھی ہے عظیم اور اسے اہل کنت ایک ایسی بات کی طرف حاد

كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا

جو ہم میں اور تم میں برابر ہے کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرا لیں اور نہ ہم اللہ کو جو ذکر اللہ و ذکر

بَعْضُنَا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَهَلُوا الشُّهُدَاءُ وَإِنَّا مُسْلِمُونَ قَالَ أَبُو سَفْيَانَ

کو خدا بنا لیں پھر اگر وہ پھر جائیں تو کمند کو گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں عظیم ابو سفیان نے کہا

فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ وَفَرَعَهُ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ كَثُرَ عِنْدَهُ الضُّعْبُ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ

جب وہ کہہ چکا جو اس نے کہا اور صراط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے پاس بہت شور مچا اور آوازیں بلند ہوئیں

وَإِخْرَجْنَا قَلْبًا لِحَاكِي حِينَ أَخْرَجْنَا لَقْدَامَ رَأْسِ ابْنِ أَبِي كَبْشَرَةَ إِذْ يَخَافُ ذَلِكَ بَنِي الْأَصْفَرِ

اور ہم نکالے گئے تھے تو جب ہم نکالے گئے تو میں نے ایسا ہی سچ کہا کہ ابوکبشہ عظیم کے بیٹے کا معاملہ بڑا ہوا کیا اس سے رعبوں کا بادشاہ ڈرتا ہے عظیم

فَمَا زِلْتُ يَوْمَئِذٍ أَنَّهُ سَيُظْهِرُ حَتَّىٰ أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ وَكَانَ ابْنُ النَّاطِرِ صَاحِبَ الْإِلْيَاءِ

اور مجھے برابر یقین رہا کہ اب غالب ہو جائیں گے یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا اور ابن ناظر جو ایلیاء کا حاکم

وَهُرَقْلٌ سَفَقًا عَلَى نَصْرَةِ الشَّامِ عِيْدُ شَأْنِ هِرَقْلٍ حِينَ قَدِمَ الْإِلْيَاءُ أَصْبَحَ لَوْ مَا خَبِثَ النَّفْسُ

اور ہرقل کا دوست تھا شام کے عیسائیوں کو بڑا پادری تھا عظیم وہ بیان کرتا تھا کہ ہرقل ایلیاء میں آیا تو ایک دن بہت غمگین تھا عظیم

عظیم بصری مدینہ اور دمشق کے درمیان ایک شہر ہے۔ اس کا سردار وہی ملک غسان تھا۔ جس کا ذکر آگے حدیث میں آتا ہے۔

عظیم اس خط کا جو مضمون یہاں حدیث میں درج ہے۔ وہی مضمون اس خط کا حدیث میں آتا ہے۔ جو موقوف شہ مہر کے نام بھیجا گیا

تھا۔ قریب زمانہ میں وہ خط پڑ گیا۔ اور اس کا عکس جو شائع ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں جو لفظ اس خط کے آئے ہیں وہ

بالکل وہی ہیں جو اصل خط میں پائے گئے ہیں۔ عظیم کا آخر پر پھر بھی ہے۔ اور اس مہر کا نقشہ بھی وہی ہے جو احادیث میں ہے۔ یعنی ہر

محمد رسول اللہ اس طرح پر کندہ ہے کہ محمد ایک سطر۔ رسول ایک سطر۔ اللہ ایک سطر۔ ان واقعات سے حدیث کی صداقت پر یقینی اور قطعی شہادت

ملتی ہے۔ اس خط کی طرز اور عبارت آج مسلمانوں کے لئے جو القاب میں ہی صفحہ پھردیتے ہیں قابل توجہ ہے۔ عظیم دوسرا اجراس نے کہا کہ

بڑا ہونے کی وجہ سے اس کی اتباع چھوٹے لوگ بھی کرتے اور یوں وہ دوسرے اجرا کا سخی ہوتا۔ جس طرح منہ پھیر لینے کی صورت میں اس کا

اثر اس کی رعایا پر پڑتا۔ اور وہ ایمان سے محروم رہ گئی۔ اور یوں دوسرے گناہ کا بوجھ سپر ہوا۔ عظیم یوسیبین یا اریسبیین یوسیبی

یا اریسبئی کی جمع ہے۔ اور اریسبئی یا یوسیبی ان یعنی کاشتکار کو کہا جاتا ہے۔ اور مراد رعایا ہے۔ عظیم یہ آیت سورۃ آل عمران کی حدیث کی

آیتوں میں سے ہے۔ یہ خیال کہ ابتدائی اسی کے قریب آیات قدس بخران کے آئے پر نازل ہوئیں۔ غلط معلوم ہوتا ہے جو شہد عجمی کا واقعہ ہے

قدس بخران سے ان کی بنا پر بحث کرنا مہر و مگر ہے۔ کیونکہ سورۃ آل عمران کا نزول سنہ ہجری سے بہت پہلے کا ہے۔ اور آیات قرین قیاس نہیں کہ سورت کی

ابتدائی آیات ہی نثار دیوں۔ یاں یہ ممکن ہو کہ آیت مبارک اس وفد کے آئے پر نازل ہوئی ہو۔ عظیم اریسبیین عظیم ہے۔ یعنی بڑا ہو گیا۔

ابن ابی کبشہ آنحضرت صلعم کو کہا ہے۔ بعض کے نزدیک آپ کے رضاعی والد کا نام ابوکبشہ تھا۔ اور لکھا ہے کہ ابی کبشہ کا نام ابوکبشہ تھا اور اسی پر کہ کبشہ پوچھا

اور کبشہ کو بھی ابوکبشہ فیضان اللہ شخص تھا۔ جو قریش کے تہوں کی پرستش کرتا تھا۔ بلکہ شہری کی پرستش کرتا تھا۔ محض قریش کے مخالف ہونے کے

استدلال پر یہ نام آنحضرت صلعم پر تحقیر کے رنگ میں بولتے تھے +

بنا الاصفرة

مراد رومی ہیں

اس لئے کہ ان کے

پڑوں میں کوئی

شخص تھا۔ جسے

میش کی عورت

سے شادی کی۔

اور وہ اولاد لگنے

گوں ہونے کی

وجہ سے۔ نام

پڑ گیا +

عظیم

ابن الناطور

بیت المقدس کا

حاکم اور شاہ کے

نصرانیوں کا بڑا

پادری تھا۔ اور

وہ ہرقل کا دوست

بھی تھا۔ ابو نعیم

نے دلائل النبوة

میں زہری سے یہ

روایت بیان کی

ہے۔ کہ میں ابن

الناطور و علیہ الملک

بن مروان کے زمانہ

میں دمشق میں ملا۔

عظیم

ضیبت النفس یعنی

اپنے آپ کو ایک

ردی حالت میں

پانے والا +

باب کیف کان ہدی لاجی

فَقَالَ بَعْضُ بَطْرَاقَتِهِ قَدْ اسْتَنْكَرَ نَاهِيَتَكَ قَالَ ابْنُ النَّاطُورِ وَكَانَ هِرَقْلٌ حَزَّاءٌ يَنْظُرُ
 تو اس کے بعض سپاہیوں نے کہا کہ تم میری صورت کو بدلا ہوا پاتے ہیں ابن ناطور نے کہا ہرقل کا ہنر تھا جو ستاروں کو دیکھا کرتا تھا
 فِي لَيْلٍ فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ ابْنُ زَيْدٍ اللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ فِي النُّجُومِ مَلِكَ الْخِثَانِ قَدْ
 تو جب انہوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے آج رات ستاروں پر نظر کی تو دیکھا کہ اسے والوں کا بادشاہ غالب آ گیا ہے
 ظَهَرَ فَمَنْ يَخْتَنُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَالُوا لَيْسَ يَخْتَنُ إِلَّا الْيَهُودُ فَلَا يَهْتَمُّكَ شَأْنُهُمْ
 ان قوموں میں سے کون ختنہ کرتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہودیوں کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا تو ان کا معاملہ تجھے ذکر میں نہ چلاے
 وَكَتَبَ إِلَى مَدَائِنِ مَلَائِكٍ فَلْيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْيَهُودِ فَبَيْنَاهُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ قَتَلُوا
 اور اپنے ملک کے شہروں کی طرف لکھ کر کہ میں یہودیوں کو قتل کرو دو ابھی اسی حال میں تھے
 هِرَقْلٌ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ عَسَانَ يُخْبِرُ عَنْ خَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 کہ ہرقل کے پاس ایک شخص لایا گیا جس کو عسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر بتائی تھی
 وَسَلَّمَ فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هِرَقْلٌ قَالَ أَذْهَبُوا فَانظُرُوا أَمْخَتَنَ هُوَ أَمْ لَا فَانظُرُوا إِلَيْهِ
 پس جب ہرقل نے اس سے خبر لیا تو اس نے کہا کہ تم میری طرف سے نہیں چنانچہ انہوں نے اسے دیکھا
 فَعَدُّوا هُوَ أَمْخَتَنَ وَسَأَلَهُ عَنِ الْعَرَبِ فَقَالَ هُمْ يَخْتَنُونَ فَقَالَ هِرَقْلٌ هَذَا
 اور اس (ہرقل) سے بیان کیا کہ اس کا ختنہ ہوا ہے اور اس نے اس سے اہل عرب کے متعلق پوچھا کہ وہ ختنہ کرتے ہیں تب ہرقل نے کہا کہ یہ
 مَلِكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ ثُمَّ كَتَبَ هِرَقْلٌ إِلَى صَاحِبِ لَهْ بِرُؤْمِيَّةٍ وَكَانَ نَظِيرَهُ
 اس امت کا بادشاہ جو جو غالب ہوا پھر ہرقل نے اپنے ایک دوست کو رو میں لکھا جسے اور وہ علم میں اس کی نظر تھا
 فِي أَعْلَمٍ وَسَارَ هِرَقْلٌ إِلَى حِمصٍ فَلَمَّ يَرِمُ حِمصَ حَتَّى آتَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِهِ يُؤَانِقُ رَأْيَهُ
 اور ہرقل حمص کو چلا گیا حمص سے کہ وہ نہ نکلا تھا اس کے پاس اس کے دوست کا خط آیا۔ جو نبی صلعم کے ظاہر ہو چکے معاملہ میں
 هِرَقْلٌ عَلَى خُرُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ نَبِيٌّ فَأَذِنَ هِرَقْلٌ
 ہرقل کے رائے کے مطابق تھا اور یہ کہ وہ نبی ہیں اور یہ کہ وہ نبی ہیں تب ہرقل نے
 لِعِظَاءِ الرُّومِ فِي دَسْكَرَةِ لَهُ بِحِمصٍ ثُمَّ يَا بُوَابَهَا فَغَلَقَتْ ثُمَّ أَظْلَمَ فَقَالَ يَا
 روم کے سرداروں کو حمص میں اپنے ایک محل میں بلایا پھر اس کے دروازوں کے متعلق حکم دیا تو وہ بند کر دیئے گئے پھر اوپر سے نظر آ رہا
 مَعَشَرَ الرُّومِ هَلْ تَكْمُرُونَ فِي الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ وَأَنْ يَثْبُتَ مَلِكُكُمْ فَنَبَأَ بِهَذَا النَّبِيُّ
 اسے روم کے گروہ کیا تم بھلائی اور کامیابی چاہتے ہو اور یہ کہ تمہاری بادشاہت قائم رہے تو اس کی بیعت کر لو
 فَمَا صَوًّا حَيْصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابِ فَوَجَدُوا هَا قَدْ غَلَقَتْ فَلَمَّا رَأَى هِرَقْلٌ
 تو وہ جنگلی گھروں کی طرح دروازوں کی طرف بھاگے تو انہیں بند پایا
 فَهَرَّوْهُمُ وَأَبَيْسَ مِنَ الْإِيمَانِ قَالَ رَدُّوهُمْ عَلَيَّ وَقَالَ ابْنُ قُلْتُ مَقَالَتِي أَيْضًا اخْتَرْتُمْهَا
 اور ان کے ایمان لانے سے یابوس ہرقل کو کہا تو کہا کہ میرے ماہوں کو لاؤ اور کہا میں نے جو بات ابھی کہی تو اسے سمجھو کہ تم کو اپنے دین کی
 رَشَدًا تَكْمُرُونَ عَلَيَّ دِينِكُمْ فَقَدْ رَأَيْتُمْ فَسَدُّوا لَهُ وَسِرُّوا عَنهُ وَكَانَ ذَلِكَ الْخَرِشَانُ هِرَقْلٌ
 منہ پر ہٹی پر آناؤں میں نے دیکھا ہے پس انہوں نے اسے سمجھ لیا اور اس سے راضی ہو گئے اور یہ ہرقل کی آخری حالت تھی علی

عظ بطارقتہ بطریق کی
 جسے۔ خاص معنی
 ملک خزاند۔ حضرت سے
 کے لئے ہرقل نے
 کماست کی۔ میں خزاند
 کا ہنر کہتے ہیں منظر
 فی النجوم یعنی ایسا کہ
 نہیں جو پیشے میں لگنا
 ہو لیکر ایسا جو اپنے ملک
 بنیاد ستاروں پر لکھا ہو
 کماست کہ ملک میرا
 شام میں اسلام سے پہلے
 علم صحیح اسلام نے اس کو شام
 دیا اس کو امام بخاری نے
 لائے ہیں کہ اپنے لئے تک
 میں لوگ طرح طرح کی
 نبیوں کے خزانوں کی آمد سے
 مستغنی تھے یعنی شام
 کو اصرار عیسوی کے ساتھ
 ہی انہوں نے ایمان لیا
 میں میں کماست تازل
 ہوتی ہے۔ اور صریح
 عیب کی بادشاہ کو نظر
 آتا ہے کہ ملک شام غالب
 آ گیا اس وقت تک کہ
 تسلیم ہی کی تھی تو یہ
 کرتے ہیں سو وہ ایک
 ذیل تو یہ ان کو رو دیا
 جاسکتا ہے آپ کا ذکر
 صلح مکہ عثمان وہی
 بعد ہی حکم کر کے یہ وہ
 بظاہر وہی کے لئے تھے
 آنحضرت صلعم کا خط پہنچنے
 سے پیشتر ہی اور یہی
 وہ تھی کہ ہرقل کو قتل
 یقین ہو چکا تھا کہ حضرت
 صلعم صلوات میں علی
 رو میں ہی ایک شہزادہ
 ہے۔ یہ واقعہ بعد کا
 صلعم ہوتا ہے جو صحیح
 پہنچنے اور ہرقل کو قتل

صلعم کی صداقت کا یقین آ چکا ہے کہ وہ اس میں جھوٹا واقعہ اور وہی بیت اللہ میں ہے تھے تو جب سب طرف سے ہرقل کی تشفی ہو گئی تو اس نے یہ خط لکھا انصاف جس کو خط لکھا گیا ہے۔ بعض روایات کو
 معلوم ہوتا ہے کہ وہ سلمان ہو کر لایا۔ شامیوں کو یہی ضابطہ کے پس ہرقل نے بھیجا ہے۔ ہرقل کا دوسرا بیٹا جو کہ گولہ گولہ کرنا قابل انصاف کے قتل کے بعد کا واقعہ ہے جو یہ کہ وہ بہت
 خوف زدہ ہوا تھا کہ اور ہرقلوں کی قسمت کو دیکھ کر یہ بہانہ کرنا کہ جس نے تمہیں آنا چاہا تھا۔ حکومت اور جان کی خاطر سر پہلے امر میں قبول نہ کیا۔ اس خورشان ہرقل کے لئے یہ نشانہ
 کہ اس حالت پر ہرقل کو حکومت کو زمین پر بیٹھ کر ہی کسی آخری حالت کو بیٹھنے سے اس حالت پر وہ بعد میں اور سلمان نہیں ہوا
 اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح میں لکھا ہے اور اس کے بعد ہرقل کی حالت کی خبریں بھی لکھی ہیں اور اس کی تصدیق ہے +

الْيَقِينُ لَا يَمَانُ كُلَّهُ وَقَالَ بِنُحْمَرَ لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ التَّقْوَى حَتَّى يَدْعُمَا
يقین پہلا پورا ایمان سے عمل اور ابن عمر نے کہا

حَالَهُ فِي الصَّدْرِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَأَوْصَيْنَاكَ
جو اسکے دل میں ہنطاب پیدا کرے عمل اور مجاہد اس آیت کی تفسیر میں کہ تمہارے لئے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس کا حکم تو نے کو دیا تھا کہ تمہیں

يَا مُحَمَّدٌ وَآيَاتِهِ دِينًا وَاحِدًا وَقَالَ بِنُحْمَرَ شَرَعَ وَمِنْهَا جَاءَ سَبِيلًا وَسُنَّةٌ وَ
اسے محمد نے بھی اور اسے ایک ہی دین کا حکم دیا عمل اور ابن عباس نے شریعت دینہا جس کے رستے اور طریقے عمل اور

دُعَاءُكُمْ يُمَانُكُمْ رَحِمَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي
دعاء کرو اگر وہ الزمان کو مراد نہ لانا ایمان سے بلکہ اپنے غم سے روایت ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ
پانچ باتوں پر ہے گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا

الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَاجْتِهَادُكُمْ فِي الصَّوْمِ وَمَرْمُضَانِ بَابُ أَمْرِ بِالْإِيمَانِ وَقَوْلُهُ
اور زکوٰۃ کا دینا اور حج کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا عمل باب ایمان کے کام اور اللہ تعالیٰ کا قول

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لِدِينِ أَنْ تُولُوا أَوْ جُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ
کہ تمہاری یہ نہیں کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو بلکہ تمہاری یہ ہے

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ إِلَى قَوْلِهِ الْمُتَّقُونَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (الآية ۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
کہ ایک شخص اللہ پر ایمان لائے آخر آیت یعنی المتقون تک اور قدام اللہ المؤمنون سے ابو ہریرہ سے روایت ہو کہ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمَانُ بِيَضْعِ وَسِتُونَ شُعْبَةً وَالْحَبَابُ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی ساٹھ پر کسی شائیں ہیں اور چالیس

شُعْبَةٍ مِنَ الْإِيمَانِ بَابُ الْمُسْلِمِ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ
ایمان کی ایک شاخ ہے۔ عمل باب مسلم وہ ہو کہ مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے بچے رہیں

(۱۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا خَفَى
مسلم وہ ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں اور مہاجر وہ ہے جو اسے ترک کرنے میں

عالمین سے کہہ کر
ایمان کا نام ہی ہے کمال
ایمان کا ایمان کہ کمال
کل کا لفظ لانیسے ہے
کیا ہے کہ اس کی پہنچی
ہو سکتی ہے اس وقت
کا دوسرا لگا رہے
والصبر نصف الايمان
میرزا وادان ہی عمل
حالہ کے لئے انصاف
ہیں ہی جو یہاں سے دل
میں شرح نہ ہوا
خوف ہو کہ لگا نہ ہو
اور سلمے حدیث مروی
بیان کی جو میں آتا ہے
الاشرح صاحب في
فہمک لگا رہے
جس سے تیسے دل میں
ہنطاب پیدا ہوا
ہو ہی مسلم ہو کہ حقیقت
تقویٰ کی ایک بات ہے
خاص لوگ ہوتے ہیں
مسلم شیعہ کو
الدین کا وصی بہ
ذمہ لائی تفسیر لیا
لے ہوں کی جو کہ اسے
محمد مسلم ہے اور ان کو
ہم نے ایک ہی ہی کا
حکم دیا اور یہ باوجود
فروع کے ہی جو شرح
میں ہے گویا اصول
فروع میں کیا دیا تو ہوتی ہے

مسلم وہ ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں اور مہاجر وہ ہے جو اسے ترک کرنے میں

پہلے اس سے بھی ایمان میں کمی زیادتی کا ہونا ثابت ہوا ہے۔ عمل حضرت ابن عباس کا یہ اثر لکل جعلنا منک شریعتا ومنها جاہلی تفسیر کرتا ہے یعنی تم میں سے ہر ایک قوم کو جسے ایک شریعت اور ایک سبیل واضح دیا ہے۔ یہ دوسرا اثر ہے قل ما یجحد بکھربنی لو ادعا وکفر کی تفسیر میں کہ یہاں دعائے مراد ایمان سے۔ حالانکہ وہ ایک عمل ہے۔ اور عمل میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ بعض نے اس کی تفسیر کی ہے کہ اگر تمہیں رسول نے خدا کی طرف بلایا ہوتا تو تمہارے رب کو تمہاری کچھ پروا نہ تھی۔ حالانکہ وہ ایک شہادت کو نادر وہ ذکر و کفر کے ساتھ پانچ بنیادوں میں سے ایک بنیاد قرار دیا ہے۔ حالانکہ مسلم بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی ہے۔ باقی اس بنیاد پر بنیادیں ہیں۔ چونکہ یہاں سلام کا ذکر تھا۔ اسلئے اعمال جوارح کو ساتھ بیان کیا ہے۔ مگر خالی اعمال جوارح اسلام میں داخل کرنے کے لئے کافی نہیں۔ جب تک کہ اعلان ساتھ نہ ہو۔ خواہ وہ اعلان ہندجہ قول ہو یا عمل۔ کیونکہ لوگوں کو علم اقرار کا ہو سکتا ہے اعمال کا نہیں۔ چونکہ روایت یا لفظ ہے۔ اسلئے ترتیب میں رسولوں کو پیش کر دیا ہے۔ عمل مجاہد سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ نے ایمان کے متعلق نبی صلعم سے سوال کیا تو آپ نے یہ آیت پڑھی لیس لایزان تو لودا جو حکم گویا ہمیں مہاجرین کا ذکر ہے اور قدام اللہ المؤمنون میں بھی مہاجرین کا ذکر ہے۔ عمل بضع کا لفظ تین سے نو پر ہوتا ہے مہاجرین معلوم نہیں ہوتی بلکہ سب کا لفظ جو کہ مکمل پر الحاق پاتا ہے اسلئے اس کے قریب قریب ایک لفظ بول دیا ہے اور مراد ہے کہ ایمان کے بہتے شے میں ہل جان گئے ہیں۔ کہ مہاجرین ان امور کو جو ایمان کے ذمہ کتاب شد میں اور حدیث رسول اللہ صلعم میں بیان ہوئے ہیں۔ تو وہ ایک پنہا۔ جیسا کہ یہاں ایک شیعہ ایمان کا لفظ ہے۔ جیسا کہ مراد وہ خلق ہے۔ جو ایمان کو ہر شے سے احتیاط کر لے گا اور کسی حق مالے کے حق کو کم کرنے سے روکتا ہے۔ صحیح علم کی روایت میں اس پر یہ لفظ زیادہ کئے ہیں۔ اعلیٰ لا الہ الا اللہ وادعنا الی الذی عن الطریقین یعنی ان میں سے بڑا شیعہ زید زائی ہے اور سے چھوڑتا ہے کہ دینہا لایزان کا بنیادینا۔ پس سب کو اس کے معنی اور چنگی کو بھی ایمان کا ایک جز قرار دیا ہے +

کمال اللہ سال =
مرد صالحی کو اور چلا
کیاں کیے ہر اثبات
کمال کیلئے ہر شے کہ
الفاظ کو مارہ زبان میں
علم جو بھیہ کہیں لیں
الرجل ابن دیرم کمال
سے میں مسلم اللہ
ذو ایمنی مسلمان ہیں
یہ جو بعد سے کہیں
زیادہ تر وہ اس کے ساتھ
کو عمر مسلمانوں سے
ہی پڑتا ہے آہر جان
اس کا استخراج ان الفاظ
ہیں کیا ہر لفظ میں
حجرت السیئات د
المسلمون من اللہ الناس
من لسانہ ویدانہ اور
المسلمون کی بجائے
الناس نکلا سکی ہوت
بتا دہی ہو پس اسلام کا
کمال سے اس کے کمال
میں ہو سکتا کہ ایک شخص
کی زبان اور ہر قسم
لوگ نہیں ہیں اس کا پایا
رسالی کو قرآن و اویزا
رسالی زبان کی جو بھیہ
استزاد ان لسانیات میں
شیت تمت لفریادہ
سے جیسے انیا نقل کرنا

اللَّهُ عِنْدَهُ بَابُ آيَةِ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ (۱۱) عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالُوا يَا

اللہ سے روکا ہو کمال باب کو نسا اسلام افضل ہوے سے روایت ہو کر لوگوں نے کہا یا

رَسُولَ اللَّهِ آيَةُ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

رسول اللہ کو نسا اسلام افضل ہو فرمایا اس کا ایس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں

بَابُ إِطْعَامِ الطَّعَامِ مِنَ الْإِسْلَامِ (۱۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا

باب کمانا کمانا اسلام سے ہو جیسا کہ میں فرمودے روایت ہے کہ ایک شخص نے

سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تَطْعَمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ

رسول اللہ سے اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کونسا اسلام ستر سے زیادہ اچھا ہے اور ہر شخص کو

السَّلَامَ عَلَيَّ مَنْ عَرَفْتُمْ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفُوا بَابٌ مِنَ الْإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لِإِخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

سلام کہ جسے پہچانتا ہو یا جسے نہ پہچانتا ہو کمال باب یہ ایمان سے ہے کہ اپنے بھائی کے لئے وہی چاہے جو اپنے لئے چاہتا ہے

(۱۳) عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ كُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِإِخِيهِ مَا يُحِبُّ

انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لئے وہی چاہے جو اپنے لئے چاہتا ہے

لِنَفْسِهِ بَابٌ حُبُّ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْإِيمَانِ (۱۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ

بات پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے کمال باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان سے ہے ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ كُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک

إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ (۱۵) عَنْ أَنَسٍ مُتَنَكِّرًا ۱۴ ۱۳ وَفِيهِ - وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ

اس کے باپ اور بیٹے سے زیادہ محبوب نہ ہوں کمال دیکھو حدیث متکررہ ۱۴ ۱۳ اور اس میں فرمایا ہے اور سب لوگوں سے

بَابٌ حَلَاوَةُ الْإِيمَانِ (۱۵) عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ

باب ایمان کی حلاوت انس سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین باتیں ہیں جن میں

مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ

اس سے ایمان کی حلاوت کو پایا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے سامنے اسے سب سے بڑھ کر محبوب ہو اور یہ کہ ایک شخص سے محبت کرے

يَأْتِيهِمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَسْبِغُوا بِمَاءٍ مِنْ حَيْثُ سَبَّغُوا وَتَأْتِيهِمْ مِنَ الْبَلَدِ الْمَكْرُومِ

یا حق تعالیٰ دینا بیسبغ مہاجر مرف وطن چھوڑنے سے نہیں ہونا بلکہ اس کا اصلی کمال یہ ہو کہ جس سے اللہ نے فرمایا ہے اور اسے ترک کرے کمال آئی کا لفظ تعدد پر داخل ہوتا ہے۔ کونسا اسلام افضل ہے۔ کونسا اسلام

أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَسْبِغُوا بِمَاءٍ مِنْ حَيْثُ سَبَّغُوا وَتَأْتِيهِمْ مِنَ الْبَلَدِ الْمَكْرُومِ

پہلے سے مشابہت میں ہے ایک اشرف لہر کی ہر کہ آئی ذریعہ اسلام افضل یعنی کون صاحب اسلام افضل ہے۔ یا معنی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے سامنے اسے سب سے بڑھ کر محبوب ہو اور یہ کہ ایک شخص سے محبت کرے

يَأْتِيهِمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَسْبِغُوا بِمَاءٍ مِنْ حَيْثُ سَبَّغُوا وَتَأْتِيهِمْ مِنَ الْبَلَدِ الْمَكْرُومِ

آنا اور ایسا اسلام خیر کرنا اسلام افضل ہے۔ یا معنی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے سامنے اسے سب سے بڑھ کر محبوب ہو اور یہ کہ ایک شخص سے محبت کرے

يَأْتِيهِمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَسْبِغُوا بِمَاءٍ مِنْ حَيْثُ سَبَّغُوا وَتَأْتِيهِمْ مِنَ الْبَلَدِ الْمَكْرُومِ

کھانڈے ہو کر صاحب اسلام کی بچا اسلام بھی درست ہے۔ کمال کھانا لینے کو مانتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول ان کے سامنے اسے سب سے بڑھ کر محبوب ہو اور یہ کہ ایک شخص سے محبت کرے

يَأْتِيهِمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَسْبِغُوا بِمَاءٍ مِنْ حَيْثُ سَبَّغُوا وَتَأْتِيهِمْ مِنَ الْبَلَدِ الْمَكْرُومِ

اور تا واقعہ کوسلام دکھانہ درحقیقت کسی قدر مشکوک اندیش ہے۔ نیز تعارف کے بہت دور اسلام علیکم کن ماہر نہیں سمجھتے یہ اسلامی طریق نہیں ہے۔ کمال ایمان احکام میں نئی ایمان مراد نہیں۔ بلکہ نئی کمال ایمان

يَأْتِيهِمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَسْبِغُوا بِمَاءٍ مِنْ حَيْثُ سَبَّغُوا وَتَأْتِيهِمْ مِنَ الْبَلَدِ الْمَكْرُومِ

مراد ہے اور نئی کمال ایمان ہے۔ یعنی علم اور ہر جاہرہ اور زبان میں کمال ہے۔ کمال ایمان احکام میں نئی ایمان مراد نہیں۔ بلکہ نئی کمال ایمان

يَأْتِيهِمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَسْبِغُوا بِمَاءٍ مِنْ حَيْثُ سَبَّغُوا وَتَأْتِيهِمْ مِنَ الْبَلَدِ الْمَكْرُومِ

حقیقتہً ایمان ایک شخص حقیقتہً ایمان کہ نہیں ہے۔ کمال ایمان احکام میں نئی ایمان مراد نہیں۔ بلکہ نئی کمال ایمان

يَأْتِيهِمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَسْبِغُوا بِمَاءٍ مِنْ حَيْثُ سَبَّغُوا وَتَأْتِيهِمْ مِنَ الْبَلَدِ الْمَكْرُومِ

فریادہ اور اسے لگی ہے۔ کمال ایمان احکام میں نئی ایمان مراد نہیں۔ بلکہ نئی کمال ایمان

يَأْتِيهِمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَسْبِغُوا بِمَاءٍ مِنْ حَيْثُ سَبَّغُوا وَتَأْتِيهِمْ مِنَ الْبَلَدِ الْمَكْرُومِ

کی روایت کرنا کمال ایمان احکام میں نئی ایمان مراد نہیں۔ بلکہ نئی کمال ایمان

يَأْتِيهِمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَسْبِغُوا بِمَاءٍ مِنْ حَيْثُ سَبَّغُوا وَتَأْتِيهِمْ مِنَ الْبَلَدِ الْمَكْرُومِ

ہو کہ وہ سے مویات ہو کہ ہا۔ کمال ایمان احکام میں نئی ایمان مراد نہیں۔ بلکہ نئی کمال ایمان

يَأْتِيهِمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَسْبِغُوا بِمَاءٍ مِنْ حَيْثُ سَبَّغُوا وَتَأْتِيهِمْ مِنَ الْبَلَدِ الْمَكْرُومِ

میں ہے کہ وہ سے مویات ہو کہ ہا۔ کمال ایمان احکام میں نئی ایمان مراد نہیں۔ بلکہ نئی کمال ایمان

يَأْتِيهِمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَسْبِغُوا بِمَاءٍ مِنْ حَيْثُ سَبَّغُوا وَتَأْتِيهِمْ مِنَ الْبَلَدِ الْمَكْرُومِ

کرتے تو سچ کے اولاد کو انکار سے۔ کمال ایمان احکام میں نئی ایمان مراد نہیں۔ بلکہ نئی کمال ایمان

يَأْتِيهِمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَسْبِغُوا بِمَاءٍ مِنْ حَيْثُ سَبَّغُوا وَتَأْتِيهِمْ مِنَ الْبَلَدِ الْمَكْرُومِ

ہیں ان کو حاصل کر سکی کو کشش کرے +

قَالُوا إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا قَدْ مَرَّ مِنْ دُنَيْكَ وَمَا آخَرَ

کہا یہ رسول اللہ تم آپ کی طرح نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کر دی ہے اور آپ کو گناہوں سے گناہوں سے اور جو پہنچتا

فِي غَضَبٍ حَتَّى يَعْرِفَ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ يَقُولُ إِنَّ اتِّقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا

تو آپ ناراض ہوتے ہیں یا نیک کو ناراضی آپ کے چہرہ پر بھیجتی جاتی پھر آپ فرماتے تم سب سے زیادہ تعزیر کرنے والا اور سب سے بڑا اللہ کو جاننے والا ہوں

بَاب مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَّعَدَّ فِي لُكْفُرٍ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقِيَ فِي النَّارِ مِنَ الْإِيمَانِ

بَاب ۱۰۱۲۹ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَوَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ

انص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو ایسا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پائے گا

مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يَجِبُ إِلَا لِلَّهِ

ایک اللہ اور اس کا رسول اس سے سب سے زیادہ پیارے ہوں دوسرے کسی بندے سے فاعل اللہ کے لئے دوستی رکھے

وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَتَّعَدَّ فِي لُكْفُرٍ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقِيَ فِي النَّارِ

تیسرے پھر کفر میں جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر سے چھڑا دیا اتنا برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالنا

بَاب تَفَاضُلِ أَهْلِ الْإِيمَانِ فِي الْأَعْمَالِ (۲۰) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

بَاب ۱۰۱۳۰ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہشت والے بہشت میں داخل ہوں گے اور دوزخ والے دوزخ میں

ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَخْرِجْهُمِنْ كَانٍ فِي قَلْبِهِ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَيُخْرِجُونَ

پھر اللہ تعالیٰ کے گا اسے نکال دو جس کے دل میں ایک دانے کے برابر ایمان ہو سو وہ اس سے نکالے جائیں گے

مِنْهَا قَدْ سَوَدَ وَيُلْقُونَ فِي هَرَجٍ أَوْ حِمَاةٍ شَكَّ مَالِكٌ فَيَنْتَوْنَ كَمَا تَنْتَبُتُ الْجَبَّةُ

ایسی حالت میں کہ وہ سیاہ ہوئے ہونگے پھر بہشت یا دوزخ کی تہ میں ڈالے جائیں گے یہ مالک کا شک ہے وہ انہیں گے جس طرح دانہ

رَفِي جَانِبِ السَّبِيلِ أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تُخْرِجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً (۲۱) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

ندی کے کنارے گئی ہے کیا تو نہیں دیکھتا کہ وہ زرد پلپلا رہی ہو غصاؤں میں

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَنَا أَنَا نَارٌ زَايَتْ النَّاسَ بِعَرِصُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ میں سورہ ہاتھ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ میرے سامنے لائے جاتے ہیں اور ان پر

۱۔ اس حدیث میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہماری نجات کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے تو فرمایا میں نے تم کو اللہ کی طرف سے پکارا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ میں کھڑے رہو۔ یہ حدیث صحیح بخاری جلد ۱۰ میں ہے۔

۲۔ یہ حدیث صحیح بخاری جلد ۱۰ میں ہے۔

۳۔ یہ حدیث صحیح بخاری جلد ۱۰ میں ہے۔

فَصِّصْ قَوْلَهُمْ فَأَمَّا بَيْتُ اللَّهِ وَوَجْهُهُ الَّذِي وَجَّهْتَهُ لِيُقَابِلَ أُولَئِكَ فَاعْبُدْهُ وَكَأَنَّمَا تُجَادِلُونَ عَلَىٰ كُرْسِيِّ اللَّهِ خَالِدِينَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ

تجسس ہوا جس نے ان میں سے چھاپیوں تک پہنچی ہیں اور میں اس سے کہ اور عمر بن الخطاب میرے کوسلئے لائے تھے

وَعَلَيْكُمْ فَيَقْبِضُ يَجْرِدَةً قَالُوا فَمَا أَوْلَتْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الدِّينُ بَابُ

ادمان پر تجسس جی جیسے وہ سیٹ رہے تھے لوگوں نے یہ چھاپا یا رسول اللہ آپ نے اس کی کیا تعبیر کی

أَحِبَّاءِ مِنَ الْإِيمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

جہا ایمان سے ہے عہد شکنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

وَسَلَّمَ مَرَّةً عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعْطُ أَخَاهُ فِي أَحِبَّاءٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

انصار میں سے ایک شخص پر گزری ہے اور وہ اپنے بھائی کو جیسا کہ مشفق نصیحت کر رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ فَأَيَّ أَحِبَّاءٍ مِنَ الْإِيمَانِ بَابٌ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ

علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو کہ جہا ایمان سے ہے۔ باب اس آیت کی تفسیر کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں

وَأَتُوا الزَّكَاةَ فَخَنُّوا أَسْبَابَهُمْ رُحِمَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَقْبَلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جھنگتا ہوں جب تک کہ وہ کہہ کر کہ ہاں میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور کہ محمد رسول اللہ کے رسول ہیں

وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ

اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں پس جب ایسا کریں تو انہوں نے اپنے خونوں اور لینے والوں کو بچا لیا

أَلَّا يَجْعَلَ الْأِسْلَامَ وَحَسَابَهُمْ عَلَى اللَّهِ بَابٌ مِنْ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ هُوَ الْعَمَلُ يَقُولُ

سوائے اسلام کے جن کے اور ان کا حساب اللہ پر ہے باب جو شخص کہے ایمان عمل ہی ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

اللَّهُ تَعَالَىٰ وَبَيْتِكَ الْبَيْتَةَ آتَيْتَهُ أَوْ زَيَّنَّا لَهَا فَمَنْ كَانَتْ تَعْمَلُونَ وَقَالَ عِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ

اور یہ جنت اس کے تم وارث کئے گئے جو اس کی دیو سے جو تم عمل کرتے تھے اور کئی اہل علم نے

الْعِلْمِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ فَوَدَّ بَعْدَ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ عَنِ قَوْلِ لَا إِلَهَ

اللہ تعالیٰ کے اس قول کی توضیح کے لئے کہ تم ہم ان سب سے اسے متفقہ سوال کریں گے جو وہ عمل کرتے تھے پہلے کہ ان سے کہ لا الہ

إِلَّا اللَّهُ وَقَالَ لِمَنْ هَذَا فَيُعَمِّلُ الْعَامِلُونَ ر ۲۳ ح ۲۴ كُنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

اللہ کا کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کسی شے کو اپنے لئے یا کسی اور کو اپنے لئے کہو تو کہو کہ لا الہ الا اللہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ إِيْمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَبِيلٌ

صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل عمل کونسا ہے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کہ گیا

تَمَّ مَاذَا قَالَ الْجَاهِلِيُّ سَبَّلَ اللَّهُ قَبِيلٌ تَمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ بَابٌ إِذَا الْمَدِينَةُ

پھر کونسا فرمایا اللہ کے رستہ میں جاؤ کہ گیا پھر کونسا فرمایا تو اس کا جواب

الذین بقاؤنکھ تو اس حدیث کو اس اصول علم کے تحت کرنا چکا اور امرت ان اقاتل الناس ہی دی لوگ مرنے جائینگے جو آپ کے ساتھ جنگ کرتے تھے۔ ورنہ زمان کی مہرمت کے سامنے یہ

حدیث قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ یہ حدیث غریبہ لاشاذہ پر مشاعرین نے مراد بیان صرف مشرکین کو لیا ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ وہی لوگ مرنے ہیں جو جنگ

کے صلہ سے کفارت جنگ کرتے تھے اللہ پر نفاق کہیں کی نشاندہی کا ہی جو کہ زمانہ ہر وقت اتفاقاً سبیل اللہ اللہ الذین بقاؤنکھ اللہ کی مراد بیان ان لوگوں سے جنگ کے جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ بالنی ما کہ

مسلمان جو جانتے تھے جو مجھ پر وہ نہیں جبر نہیں پایا جانا ہاں کمال اخوت اسلامی پایا جانا کہ ہر ایک کو خطرناک سے خطرناک ہون ہی اس سلسلہ اخوت میں نہیں ہوا جائے تو اسکے سزا دینے قصور معاف کر دینے جائیں۔

عہد شکنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے یہ چھاپا یا رسول اللہ آپ نے اس کی کیا تعبیر کی

ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے یہ چھاپا یا رسول اللہ آپ نے اس کی کیا تعبیر کی

ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے یہ چھاپا یا رسول اللہ آپ نے اس کی کیا تعبیر کی

ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے یہ چھاپا یا رسول اللہ آپ نے اس کی کیا تعبیر کی

ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے یہ چھاپا یا رسول اللہ آپ نے اس کی کیا تعبیر کی

الْإِسْلَامُ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَكَانَ عَلَى الْإِسْتِسْلَامِ وَالْخَوْفِ مِنَ الْقَتْلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى

اسلام حقیقت پر نہ ہو اور صرف ڈر ہی نہ بعد ازیں ہو جو

یا تو کہ خوف سے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسَلَمْنَا فَإِذَا كَانَ عَنِ الْغَيْبَةِ

گنوار گل کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے کہہ دو تم ایمان نہیں لائے لیکن کہو کہ ہم ذرا بزوار ہوئے اور جب وہ اپنی حقیقت پر ہو

هُوَ عَلَى قَوْلِهِ جَلْ ذِكْرُهُ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأَسْلَامُ الْأَبِيَّةُ (۲۵) عَنْ

تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس قول کے مطابق ہے کہ ہیں اللہ کے نزدیک اسلام ہے بل

سَعْدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهْطًا وَسَعْدٌ جَالِسٌ فَذَكَرَ

سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو کھڑا کیا اور سعد بیٹھ کر ان سے تھرا لیا تو ان سے کہا کہ تم نے ایک شخص کو کھڑا کیا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا هُوَ عَجِبُ مَهْمُرَاتِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

جو ان سے زیادہ مجھے پسند تھا میں نے کہا یا رسول اللہ

مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ قَوْلَهُ إِنَّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ أَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتُ فَلِيلاً

فلان شخص کا معاملہ کیا ہے اللہ کی قسم میرے ذہن میں جتنا ہے

کہنے سے زیادہ بلکہ مسلم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چاہتا ہوں

ثُمَّ عُلِبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ بِقَالَتِي فَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ قَوْلَهُ إِنَّي

پھر مجھ پر وہی خیال غالب آیا جو میں اس کے متعلق جانتا تھا سو میں نے اپنی بات کو دہرایا اور کہا کہ آپ نے فلان کو کہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہی خیال غالب آیا

لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ أَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتُ فَلِيلاً ثُمَّ عُلِبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ

میں نے ذہن میں جتنا ہے آپ نے زیادہ بلکہ مسلم پھر میں خود ہی دہرایا پھر مجھ پر وہی خیال غالب آیا جو میں اس کے متعلق جانتا تھا اور میں نے

لِمَقَالَتِي وَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا سَعْدُ رَأَيْتَ لِرَجُلٍ

اپنی بات کو دہرایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات دہرائی پھر زیادہ بلکہ سعد میں ایک شخص کو کھڑا دیتا ہوں

وَعِبْرَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حَسْبِيَّةٍ أَنْ يَكْبِتَهُ اللَّهُ فِي التَّارِخِ بَابُ إِفْتَاءِ السَّلَامِ مِنَ

اور وہ میری گنجائش سے زیادہ میرا ہوتا ہے اس ڈر سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں اوندھا کر دے۔ باب سلام کا ذکر کرنا

الْإِسْلَامِ وَقَالَ عَمْرٌو ثَلَاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْإِيمَانَ الْأَنْصَابُ مِنْ نَفْسِكَ وَبَدَلُ

اسلام سے ہے اور عمار سے کہا تمہیں باتیں ہیں جو ان کو کھائے اسے ایمان کو جمع کر لیا اپنا انصاف اپنے دل میں رکھنا اور سب کو

السَّلَامُ لِلْعَالَمِ وَالْإِنْفَاقُ مِنَ الْإِقْتَارِ (۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَتَكَلَّرَ (۱۲)

اسلام کے لئے اور عمار سے کہا تمہیں باتیں ہیں جو ان کو کھائے اسے ایمان کو جمع کر لیا اپنا انصاف اپنے دل میں رکھنا اور سب کو

دیکھو حدیث نمبر ۱۲

اسلام کہتا

یہ تین چیزیں ہیں جو اسلام کی بنیاد ہیں۔ اول: ایمان، دوم: انصاف، سوم: ایقانیت۔ ایمان کا معنی ہے اللہ کی وحدانیت اور رسالت کی تصدیق۔ انصاف کا معنی ہے سب کو برابر دیکھنا اور سب کو سلام پہنچانا۔ ایقانیت کا معنی ہے اپنے عقائد پر پختہ ہونا اور کلمہ شہادہ کی تکرار۔ یہ تین چیزیں جمع ہونے پر ہی اسلام کا حقیقی معنی ملتا ہے۔

یہ تین چیزیں ہیں جو اسلام کی بنیاد ہیں۔ اول: ایمان، دوم: انصاف، سوم: ایقانیت۔ ایمان کا معنی ہے اللہ کی وحدانیت اور رسالت کی تصدیق۔ انصاف کا معنی ہے سب کو برابر دیکھنا اور سب کو سلام پہنچانا۔ ایقانیت کا معنی ہے اپنے عقائد پر پختہ ہونا اور کلمہ شہادہ کی تکرار۔ یہ تین چیزیں جمع ہونے پر ہی اسلام کا حقیقی معنی ملتا ہے۔

کفران العتید و کفر دون کفر (۲۶) عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم
خاندانی ناشکری اور ایک کفر کا دوسرے کفر سے کہتا ہے ابن عباس کو روایت کر ہی

أریت التارق إذا ذرأهاها النساء يكفرن قيل انكفرن بالله قال يكفر العتید
مجھے آپ دکھائی گئی تو اس میں اکثر عورتیں تھیں وہ کفر کرتی ہیں گناہی کی اسد کا کفر کرتی ہیں ذرا باندوں کا کفر کرتی ہیں

ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى أحدهن الزهر ثم ردت منك شيئاً
اور احسان کا ناشکری کرتی ہیں اگر تو ماری عمری ان میں سے ایک کے ساتھ احسان کرے پھر وہ تجھ سے کوئی تکلیف دینے والی بات دیکھے تو

قالت ما رأيت منك خيراً قط يا ب أم العاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها
کہتی ہے میں نے تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی یا ب ام العاصی کے ام سے ہیں اور انہوں نے کہا کہ

يا ربنا هذا لا يشرك ليقول النبي صلى الله عليه وسلم اتك أمر أمتك جاهلية
ان کے ار کا بیکل درجہ سے کافر نہیں کہا جاسکتا اس کے شریک کو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ایک ایسا شخص جو جس میں میت کو

وقول الله تعالى إن الله لا يخفران يشرك به ويعف ما دون ذلك لمن يشاء
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ سماعت کو نہیں کرے گا اس کے ساتھ شرک کہا جائے اور اس کے سوا جس کو چاہے جسے اللہ (النار)

وإن ظالمين من المؤمنين اتبوا فاصحوا بينهم أممهم المؤمنین (۲۷) عن
(پھر فرماتا ہے کہ اگر مومن کے دو گروہ ہوں جنک میں صلح کا وہ (انجوت) پس ان کو مومن کہا۔

الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فليقيني أبو بكر فقال ابن زيد
احنف بن قیس جو روایت کر رہے ہیں گھلا کر اس شخص کی مدد کروں تو مجھے ابو بکر نے اور کہا کہ صحر کا ارادہ کر

قلت أنصر هذا الرجل قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
میں نے کہا اس شخص کی مدد کروں گا کماوات جا کر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

يقول إذ التقت المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله
شاہو فرماتے تھے جب دو مسلم اپنی تلواروں کے ساتھ مقابلے میں آجائیں تو قاتل اور مقتول ایک میں ہوں گے میں نے کہا یا رسول اللہ خدا

الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إله كان حرباً على قتل صاحبه
قال تو چو مقتول کا کیوں یہ حال ہوگا فرمایا وہ اپنے ساتھی کو قتل کرنا چاہتا تھا

(۲۸) عن المعز بن قيس قال لقيت أبا زيداً وهو عليه حلة وعلى غلامه
معز سے روایت کر رہا میں ابو ذر سے ربذہ میں ملا ان ایک ایک لباس تھا اور ایسا ہی لباس ان کے غلام پر تھا

قائد نے کفر کے معنی میں
خاندانی ناشکری اور ایک کفر کا دوسرے کفر سے کہتا ہے ابن عباس کو روایت کر ہی
مجھے آپ دکھائی گئی تو اس میں اکثر عورتیں تھیں وہ کفر کرتی ہیں گناہی کی اسد کا کفر کرتی ہیں ذرا باندوں کا کفر کرتی ہیں
اور احسان کا ناشکری کرتی ہیں اگر تو ماری عمری ان میں سے ایک کے ساتھ احسان کرے پھر وہ تجھ سے کوئی تکلیف دینے والی بات دیکھے تو
کہتی ہے میں نے تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی یا ب ام العاصی کے ام سے ہیں اور انہوں نے کہا کہ
ان کے ار کا بیکل درجہ سے کافر نہیں کہا جاسکتا اس کے شریک کو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ایک ایسا شخص جو جس میں میت کو
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ سماعت کو نہیں کرے گا اس کے ساتھ شرک کہا جائے اور اس کے سوا جس کو چاہے جسے اللہ (النار)
(پھر فرماتا ہے کہ اگر مومن کے دو گروہ ہوں جنک میں صلح کا وہ (انجوت) پس ان کو مومن کہا۔
احنف بن قیس جو روایت کر رہے ہیں گھلا کر اس شخص کی مدد کروں تو مجھے ابو بکر نے اور کہا کہ صحر کا ارادہ کر
میں نے کہا اس شخص کی مدد کروں گا کماوات جا کر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
شاہو فرماتے تھے جب دو مسلم اپنی تلواروں کے ساتھ مقابلے میں آجائیں تو قاتل اور مقتول ایک میں ہوں گے میں نے کہا یا رسول اللہ خدا
قال تو چو مقتول کا کیوں یہ حال ہوگا فرمایا وہ اپنے ساتھی کو قتل کرنا چاہتا تھا
معز سے روایت کر رہا میں ابو ذر سے ربذہ میں ملا ان ایک ایک لباس تھا اور ایسا ہی لباس ان کے غلام پر تھا
حدیث کا ایک گز لگاتے ہیں۔ اور اس میں خاندانی ناشکری اور ایک کفر کا دوسرے کفر سے کہتا ہے ابن عباس کو روایت کر ہی
حدیث لے کر ہی یکفرن الاحسان جو ان کے ساتھ احسان کیا جائے اس کی ناشکری کرتی ہیں۔ جو ان عورتوں کی بیانی بیان میں اور ان کی عزت کو لے کر ان کو جہان کو
بھی نفی دے دی۔ کہ بعض نفس ان میں زیادہ ہوتے ہیں۔ تاکہ وہ ان کو دُور کر کے اور زیادہ اپنے آپ کو عزت کا گن بنائیں۔ جس کا اس باب میں یہ بتلایا ہے کہ سب گناہ ہی
جاہلیت ہیں اور ایک قسم کا کفر ہیں۔ کیونکہ جاہلیت کا اطلاق اسلام سے پہلے حالت پر ہوتا ہے جو کفر کی حالت ہے۔ لیکن ساتھ ہی بتایا کہ بعض کسی صحبت کی وجہ سے ایسے شخص کی تکفیر
کی جاسکتی۔ اور اسے دائرہ اسلام سے خارج قرار نہیں دیا جاسکتا۔ سوائے شرک کے جس سے مراد عموماً کفر یا گیا ہے۔ جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور اس پر دلیل یہ دی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں دو جنگ کرنے والے مسلمان فریقوں میں سے دووں کو مومن کہا ہے۔ اور شرک کا اشتنا اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا
يخسران يشرك به جیسے شرک کا گناہ اللہ تعالیٰ سے حاف نہیں کرے گا۔ بلکہ ضرور اس کی سزا دے گا۔ جس کا اس حدیث میں جس واقعہ کا ذکر ہے وہ جنگ میں جو حضرت علیؑ میں اور
حضرت محمدؐ سے حضرت صدیقہؓ میں ہوئی اس میں اس حدیث میں اپنے ساتھیوں کو لے کر پناہ لیں جیسے حضرت علیؑ کی مدد کے لیے تھے تو ابوبکرؓ ایک صحابی نے یہ حدیث سنا کر انہیں روک
کہ وہ ان جہنم جگہ کریں تو وہ دونوں پر یہ کہہ کر دووں کو جسے کفر کا پانہ تھے انھیں اس وقت تک روک کر کہ وہ ان میں شامل ہو سکیں کہ وہ واقعہ ابوبکرؓ کا پہلا دور تھا
اور ظرافت آیت قرآنی تھا۔ امام بخاری کا منشا بھی یہی ظاہر کرنے کا ہے۔ کہ یہ نے واقعہ کفر نہ تھا۔ اور حدیث کا منشا بھی یہ نہیں کہ ایسی صورت میں دونوں مسلمان
کا فرج ہوتا ہے۔ جس کو کفر تو ان شریف ان کو صاف مومن کہتا ہے۔ اور حدیث میں شعل کی برائی کا ذکر ہے بلکہ وہ صورت مراد ہے۔ جہاں بلا وہ عمداً ایک دوسرے کو قتل
کرنا چاہتے ہیں۔ ان علی لڑائیوں کی جو صحابہ کرام میں ہوئیں یہ حالت نہ تھی کہ ان کا منشا ایک دوسرے کو قتل کرنے کا تھا۔ بلکہ ایک ایک جنگی جگہ سے جنگ
میں آئی جس میں ایک ذوق کا اجتماع ملی گئی۔ امام بخاری نے قرآن کی آیت کو لاکر یہ بھی بتایا ہے کہ حدیث کے وہ حصے کہنا چاہیں۔ سے قرآن کے یہ مانتے رکھیں۔

حَلَّةٌ فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي سَابَعْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتَهُ بِأَمْرِهِ فَقَالَ لِي

تو میں نے اس کے متعلق ان سے پوچھا تو کہا میں نے ایک شخص کو گالی دی اور اسے اس کا لہجہ دیکھ کر وہ میرے لیے لایا تو

الَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَا وَسَلَّمَ يَا أَيْدِي عَزِيَّتِي بِأَمْرِهِ إِنَّكَ أَمْرٌ وَفِيكَ جَاهِلِيَّةٌ

یہی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ہے ابو ذر تو اس کی لہجہ سے اس پر عیب لگاتا ہے تو کہا یہ کیا شخص ہے جس میں جاہلیت کا

اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان اخوة تحت يده فليطعمهم

تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں اللہ نے ان کو تمہارے ماتحت کیا ہے پس جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو تو چاہئے کہ اسے کھلائے

متا ياكل وليليسه متا يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كفواوهم

جہاں سے آپ کھانا پی اور اسے پہنانے جہاں سے آپ پہنتا ہے اور ان سے ایسا کام نہ لو جو ان سے نہ ہو سکے اور اگر تم ایسا کام لو

فَاعْيَنُوهُمْ يَا بَنِي آدَمَ فَكُلُوا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَنْ عَمَلِكُمْ وَمَنْ يُؤْمَرْ بِالْعَمَلِ فَلْيُكَلِّمِ

تو ان کی مدد کرو۔ اے بنو آدم! ایک جگہ کھاؤ اور دوسری جگہ کھاؤ۔ تم کو نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کجا کھا کھا ہے

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ قَالُوا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان میں ظلم کی باتیں نہیں کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَيْنَا لَهُمْ كِتَابًا فَانزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

میں نے تم کو صحیفے لکھے ہیں تو ان پر کون ایمان ہے جس سے ظلم نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اتارا کہ شریک بڑا ظلم ہے

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ مِمَّا فِي آيَاتِكُمْ وَكُلُوا وَشَرِبُوا لَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

اے بنو آدم! اپنے لباس زیب تن کرو جو تمہاری آیتوں میں ہے اور کھاؤ اور پیو مبالغہ نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اتارا

قَالَ أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قِيَاسًا وَمَا أَجْعَلُ اللَّهُ لِشَيْءٍ حَسْبًا إِلَّا لِمَنْ شَاءَ

کہا میں نے تم کو عیب لگایا ہے کہ تم نے اپنے لیے پیمانہ لگایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے لیے پیمانہ نہیں لگایا ہے

خَانَ (۳۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

خانی سے روایت ہے کہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

قَالَ أَرَبِعٌ مِمَّنْ كُنْ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَ فِيهِ خِصْلَةٌ مِمَّنْ كَانَتْ

چار باتیں ہیں میں میرے ہوں وہ خاص منافق ہے اور جس میں ان میں سے ایک خصلت ہو

رَفِيَةٌ خِصْلَةٌ مِمَّنِ الْبِغَاءُ حَتَّى يَدْعُمَ إِذَا الْوَيْمَنُ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبًا وَإِذَا عَاهَدَ

اس میں ایک نفاق کی خصلت ہے جیسا کہ اسے چھوڑ دے جب اسکے پاس بات رکھی جائے خیانت کرنا ہے اور جب بات کہے تو جھوٹ بولتا ہے اور جب عہد کرے

عَدُوًّا وَإِذَا خَاصَمَ فِي بَابٍ قِيَامَ لِحَيْلِهِ الْقَدِيرُ الْإِيمَانُ (۳۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ

تو جو منافق کرنا ہے اور جب چھڑا کرے تو منافق کی طرح چلا جاتا ہے

ابو ہریرہ سے روایت ہے

بعض میں چار بعض میں پانچ خصلتیں ذکر ہے۔ یہ اختلاف نہیں۔ بلکہ یہ بتانے کے لئے ہے کہ ان میں سے کون سی

عمر دیکھ کر ہلکا ہوا
عینہ سے تین منزل پر
ابو ذر نے یہ حال لکھا
سے لوگوں پر تشدد کیا
اور مال پس رکھنے کو
کو بہت ہی کٹا کر لیا
اور اس کے من کا
میں شخص شروع ہوا
تو حضرت عثمان نے
انہیں زبردہ میں
کو حکم دیا تاکہ لوگوں کا
احتمال نہ ہو۔ ایک نے
کی وجہ سے پہننے جن
شخص کو گالی دی وہ
پلائے تھے اللہ تعالیٰ نے
یہ بھی لکھا کہ ابن عمر
اسے پیش خدمت کے
بیٹھے۔ یہ کوئی ہی معلوم
نے ایک ماہیت کی
خصلت قرار دیا ہے
کیسے انہیں خلاق رکھا
ہیں۔ ملائکہ وہ ان کی
جو شی ہوئے کسی فرشتے
تھے مگر چکر ابو ذر
یہ نفاق کو عیب لگا
کے طور پر ہے۔ اسے
اصول میں جاہلیت قرار دیا
جیسا کہ جب ظلم کی
بھی اتنی ہی تحریر ہوا
نہیں رکھی تو برابر ہوا
کا کیا کرے۔
خوئی فلاں میں پلائے
دوسرے کو لکھا ہے کہ
خبر کو مقدم کیا ہے اور ان کو
خو لکھ یہ شانِ نبوت

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ

کے لئے تقدیم من ذنبہ باب الجہاد من الایمان (۳۳) عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اتَّبِعْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَنْ خَوْفٍ فِي سَبِيلِهِ لَا يَخْرُجُ إِلَّا إِيْمَانًا

بِي أَوْ تَصَدَّقَ بِرَسُولِي أَنْ أَرْجِعَ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ أَوْ أَدْخَلَ الْجَنَّةَ وَلَوْ لَا

أَنْ أَشَقَّ عَلَيَّ أُمَّتِي مَا عَدَّتْ خَلْفَ سَرِيَّتِي وَلَوْ دُرَّتْ أِنِّي أَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا أُجِبْتِ

تَمَّ أَقْتُلُ ثُمَّ أُجِبْتِي ثُمَّ أَقْتُلُ بَابُ تَطَوُّعِ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنَ الْإِيْمَانِ (۳۴) عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا

غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ بَابُ صَوْمِ رَمَضَانَ احْتِسَابًا مِنَ الْإِيْمَانِ (۳۵) عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا

وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ بَابُ الدِّينِ يُسْرًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَحَبُّ إِلَيْنِ إِلَى اللَّهِ الْخَيْفِيَّةُ السَّائِحَةُ (۳۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ الدِّينَ يُسْرًا وَلَنْ يَشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَ فُسُودُ قَارِبَتِهِ وَ

الْبُشْرَى وَاسْتَعِينُوا بِالْغَنَى وَالرَّوْحَةَ وَشَيْءٌ مِنَ النَّجْوَى بَابُ الصَّلَاةِ مِنَ الْإِيْمَانِ

عقلی لیلۃ بقدر کہ ہوتا
بجایان یعنی ایمان
کمال کو پہنچانے والی چیز
ہے ایمان سے ملنے والا
اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتا
ہو گیا اور اس کی رضا
میرا نظر ایمان پہ
تصدیق ہوتی ہے
ہے اور احتسابی طور
سے طلبی اور جہاد
اللہ کی رضا کو پہنچانے
اور جس سے کفایت
ہے پہلے احتسابی
ہے یہی ہو سکتے ہیں
تجلی کو عمل کی خاطر
جو۔ جہاد میں
کی راہ میں ہر قدر
کہ ہے ایمان کا
عقل سے کیا جاتا ہے
جائے تو یہی لانا
تو کی راہ میں ہر
تو یہی لانا
میں ایک سچا
جو چاہے
ہو جائے
اللہ تعالیٰ
ہیں پختگی
تعالیٰ ارشاد فرماتا
یا اس کا ذرا
لیلا القدر کے
کیسا ہے جو چاہو
ذکر کہ تباد
اصولات اللہ تعالیٰ
کے حکم کی راہ میں
یوں ایک راہ میں

کی کو مشن جملہ عبادت انسان کیلئے ہے بلکہ کامیاب ہوتی ہے۔ ہر طرح جہاد۔ لڑنے اور صلوات کریمہ کی بات قائم کر دی ہو اور اس کی عمل و جہاد کی کوئی اور نہ ہو اور وہی حق تعالیٰ کی طرف سے ہے۔
پر شہادت کا خیال نہ ہوتا تو نہیں ہر شہد کے ساتھ غلظت اسلئے ہے کہ چھوڑ کر آسنت کے اتباع میں ہر وقت اس کی طرح لگنا پڑتا۔ اور یہ ایک دشوار امر ہو جاتا۔ آپ کے دل میں تو یہ بھی
خدا کی راہ میں جان و مال اور ہر چیز ہرگز ہر روز ہر وقت ہر لمحہ آپ نے اپنے آپ کو قتل ہونے کے لئے پیش کر دیا۔ ہاں۔ اللہ تعالیٰ کے حفاظت سے کہ وہ آپ کو ہر وقت بچاتا رہا۔
میں کہیں تکیہ کو کہیں وہ کہیں جہاد کو من الایمان لکہ تیار کہ تہدی ضروری ہے ہی ہاں یہاں نہ ہو کہ ایک کے ہی ہر جگہ جاؤ۔ پہلے اگلی صورت میں لقا اور میدان ہونی کی تیار ہو۔
الدین کو مراد یہاں ایمان ہے۔ یعنی سے مراد یہ جو افراط و تفریط کی طرف سے ایمان کو بچا ہوا ہے۔ اور پھر سے مراد اس ہے۔ جسے جس طرح میں میں تفریط نہ ہو۔ یعنی اس کی بعض باتوں
کی بنا پر اسلئے اور منع ہے۔ اعمال میں بھی اور عقائد میں بھی۔ لیکن کمال کو حاصل کرنا اور اظہار نہیں۔ سدا ودا۔ سدا سے جس کے معنی میں راست روی اختیار کرنا۔ قادر۔ قادر ہے
فلان فی الامور یعنی ہر قسم کا تصرف یعنی اس سے نہایت روی اختیار کی۔ اللہ ودا یعنی خوشتر ہی حاصل کرو۔ اپنے آپ کو زیادہ غم میں مبتلا نہ کرو۔ خداوند کے پہلے سے کہیں
ہے۔ روستہ پہلے صحت کا۔ اور دلچسپ بات کے چلنے کو کہتے ہیں۔ اور پھیلے رات کے چلنے کو بھی۔ یہاں خدا کی راہ میں جانے والے کو ایک سانس سے تشبیہ ہے کہ کوئی شہد
طلب نشاط کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کے طرف سے فرمائے۔ من یشاد اللہ فی احد الاغلبہ میرا ہے مراد وہ خاص عبادت یا عمل ہے۔ جس میں تشہد کرتا ہے۔ اور اس عمل کے
غالب آجاتے سے مراد یہ ہے کہ انسان اس کا مغلوب ہو کر آخر عاجز ہو جاتا ہے۔

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ أِيمَانَكُمْ بَعَثْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِمَّنْ كُنْتُمْ تَشْرِكُونَ بِمَا شَرَكْتُمْ بِهِ آيَاتِهِ فَذُكِّرْتُمْ بَلْ يَسْتَعْجِلُ بَعْدَ الْآيَاتِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ایسا نہیں جو تمہارے ایمان کو ضائع کرے یعنی تمہاری شراک کے جو تھے فنا نہ کیسے پڑ ہی سکتا ہے ہمارے سے بدایت کر کے یہی ہے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا
 کہ نبی سے اللہ تعالیٰ نے تم کو جو کچھ بتایا ہے وہ سب سچا ہے اور تمہاری شراک کے جو تھے فنا نہ کیسے پڑ ہی سکتا ہے ہمارے سے بدایت کر کے یہی ہے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا
 یا احوال یعنی نسیان، بھولنے سے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا

وَأَنَّ صَلاَةَ قِبَلِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا وَسَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ يُجِبُهُ أَنْ تَكُونَ فِيهَا

اور آپ نے رسول جینے یا مشرور جینے بیت المقدس کی طرف منکر کے نماز پڑھی ہے اور اگر آپ یہ اچھا معلوم ہوتا تھا کہ
 فَبَلَيْتُمْ قِبَلِ الْبَيْتِ وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةُ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ فَخَرَجَ

آپ کا قبیلہ خانہ کعبہ کی طرف ہو اور کہ آپ نے پہلے نماز جو اس طرف منکر کے پڑھی عصر کی نماز تھی اور آپ کے ساتھ کچھ لوگ تھے نماز پڑھی تو ایک شخص نے کہا
 رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ فَخَرَجَ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ فَقَالَ اشْهَدُوا بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَهُ

جینوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی نماز اور ایک مسجد والوں بزرگ اور وہ رکوع میں تھے اور کہا میں اللہ کے نام کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ میں نے
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَكَّةَ فَذَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلِ الْبَيْتِ وَكَانَتْ الْيَهُودُ قَدْ عَجَبُوا

رسول اللہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کے کی طرف منکر کے نماز پڑھی ہے وہ لوگ جس حالت میں تھے خانہ کعبہ کی طرف منبر پر تھے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے
 إِذْ كَانَ يُصَلِّي قِبَلِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَهْلُ الْكُتُبِ فَلَمَّا وُجِدَتْ وَجْهَهُ قِبَلِ الْبَيْتِ أَنْكَرُوا

کہ عجب یہ اچھا معلوم ہوتا تھا جب آپ بیت المقدس کی طرف منکر کے نماز پڑھتے تھے یہ آپ نے خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کے لیے فرمایا تھا
 ذَلِكَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو رَاسِحٍ عَنِ الدَّرَّاجِيِّ فِي حَدِيثِهِ هَذَا أَنَّهُ مَاتَ عَنِ

اور دوسری روایت میں ہے کہ ایک شخص نے یہ لفظ کہا کہ یہ قبیلہ کے لوگ کہ وہ بدلا جانے کے لوگ
 الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَحْمُولَ رِجَالٌ وَقَبِلُوا فَلَمْ يَدْرِمَا نَقُولُ فِيهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ أِيمَانَكُمْ بِابِ حُسَيْنٍ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ (۳۸) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے بلکہ باب ایک شخص کا اسلام کی غول۔
 الْحَدِيثِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ

خود ہی سے روایت کر کے کہ انہوں نے رسول اللہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ فرماتے سنا
 فَحَسَنَ إِسْلَامُهُ يَكْفُرُ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلْفَهَا وَكَانَ بَعْدَ

اور اس کا اسلام اچھا جو تو اللہ تعالیٰ اس سے ہر ایک برائی کو دھو کر دیتا ہے جو وہ کر چکا اور اس کے بعد
 ذَلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَلِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضَعْفٍ وَ

پول سے جی کا بدلہ اس سے وہ چند سات سو گئے تک اور

اس میں بیت المقدس کی طرف ہی تھا یعنی جو کہ بیت المقدس کی طرف ہی تھا۔ یہاں تک کہ اس میں ایک ایسا واقعہ آیا جو اس واقعہ میں محمد نے
 عبدالمطلب کے چھ لاکھ والدہ علی بن النہاس سے تھیں۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ یہ نبی کی صلہ صریح الاول میں مدین منورہ آئے۔ اور وہ صلہ صریح کے نصف میں قبول ہونے لگی۔
 دونوں لوگ لیجائے تو ستر ہونے لگے اور دایان جن میں دو یا تیرہ یا اٹھ ماہ یا دو سال آئے ہیں کہ وہ ہیں اور جمع ہی ہے۔ یہاں سے پہلی نماز جو کعبہ کی طرف منکر کے پڑھی
 وہ نماز عصر تھی۔ فتح النہار ہی ہے کہ پہلی نماز جو بی سلسلہ میں قبول ہونے لگی بعد پڑھی وہ ظہر تھی اور مسجد نبوی میں پہلی نماز نماز عصر تھی۔ اور مسجد کعبہ میں پہلی نماز فجر سے پہلے کعبہ کی
 طرف پڑھی تھی۔ یہ مسجد نبوی فتح النہار میں تھی جو اب مسجد القبلتین کے نام سے مشہور ہے۔ کیوں کہ اس میں نماز شروع ایک قبلہ کی طرف کی گئی اور وہ میدان میں دوسرے قبلہ کی طرف
 پھر گئے۔ یہاں تک کہ کتاب کا عطف یہود پر عطف عام کے الخاص ہے۔ اور مراد یہود ہی ہے۔ کیوں کہ عیسائیوں کا قبلہ بیت المقدس نہ تھا۔ یہاں سے قبول ہونے لگی
 سے پہلے وہ لوگ یہودیوں کا ذات پانا ثابت ہے۔ اور قبل میں وہ لوگ ہیں جن کو کفار سے اذیت دے کر مارا۔ جیسے عمار کے والد اور والدہ۔ ایسا نکر سے مراد صلہ صریح ہے
 اس آیت کے یہ صنف کے گئے ہیں۔ کہ تمہاری نماز قبول ہونے لگی۔ مگر باطل نہیں ہو گئی۔ قبول ہونے سے بھی بتا دیا کہ وہ محض ایک جہت منکر کی گئی ہے۔ ورنہ مسلمانوں کی نماز
 اس وقت بھی ویسی ہی تھی جب بیت المقدس قبلہ تھا۔ خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے سے نماز میں کچھ نہیں بڑھا۔

اس میں بیت المقدس کی طرف ہی تھا یعنی جو کہ بیت المقدس کی طرف ہی تھا۔ یہاں تک کہ اس میں ایک ایسا واقعہ آیا جو اس واقعہ میں محمد نے
 عبدالمطلب کے چھ لاکھ والدہ علی بن النہاس سے تھیں۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ یہ نبی کی صلہ صریح الاول میں مدین منورہ آئے۔ اور وہ صلہ صریح کے نصف میں قبول ہونے لگی۔
 دونوں لوگ لیجائے تو ستر ہونے لگے اور دایان جن میں دو یا تیرہ یا اٹھ ماہ یا دو سال آئے ہیں کہ وہ ہیں اور جمع ہی ہے۔ یہاں سے پہلی نماز جو کعبہ کی طرف منکر کے پڑھی
 وہ نماز عصر تھی۔ فتح النہار ہی ہے کہ پہلی نماز جو بی سلسلہ میں قبول ہونے لگی بعد پڑھی وہ ظہر تھی اور مسجد نبوی میں پہلی نماز نماز عصر تھی۔ اور مسجد کعبہ میں پہلی نماز فجر سے پہلے کعبہ کی
 طرف پڑھی تھی۔ یہ مسجد نبوی فتح النہار میں تھی جو اب مسجد القبلتین کے نام سے مشہور ہے۔ کیوں کہ اس میں نماز شروع ایک قبلہ کی طرف کی گئی اور وہ میدان میں دوسرے قبلہ کی طرف
 پھر گئے۔ یہاں تک کہ کتاب کا عطف یہود پر عطف عام کے الخاص ہے۔ اور مراد یہود ہی ہے۔ کیوں کہ عیسائیوں کا قبلہ بیت المقدس نہ تھا۔ یہاں سے قبول ہونے لگی
 سے پہلے وہ لوگ یہودیوں کا ذات پانا ثابت ہے۔ اور قبل میں وہ لوگ ہیں جن کو کفار سے اذیت دے کر مارا۔ جیسے عمار کے والد اور والدہ۔ ایسا نکر سے مراد صلہ صریح ہے
 اس آیت کے یہ صنف کے گئے ہیں۔ کہ تمہاری نماز قبول ہونے لگی۔ مگر باطل نہیں ہو گئی۔ قبول ہونے سے بھی بتا دیا کہ وہ محض ایک جہت منکر کی گئی ہے۔ ورنہ مسلمانوں کی نماز
 اس وقت بھی ویسی ہی تھی جب بیت المقدس قبلہ تھا۔ خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے سے نماز میں کچھ نہیں بڑھا۔

السَّبِيَّةُ مِثْلَهَا اَلَا اَنْ تَتَّخِذَ مِنْهُ عَهْدًا ۚ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا احْسَنَ احْدُكُمْ اِسْلَامًا فَكُلْ حَسَنَةً يَعْملُهَا تَكْتُبُ لَكَ

بِعَهْدِ اَمْنِهَا اِلَى سَبِيحَةِ يَوْمٍ ضَعِيفٍ وَكُلْ سَيِّئَةً يَعْملُهَا تَكْتُبُ لَكَ بِمِثْلِهَا يَاب

اَحَبُّ الدِّينِ اِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ اَدْوَمُهُ (۳۹) عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَاَةٌ قَالَتْ مَنْ هَذِهِ قَالَتْ فُلَانَةُ كَرُمِ

الَّذِينَ اَلِيْرِمَادِ اَوْ مَعْ عَلَيْهِ صَاحِبَةُ بَابِ زِيَادَةِ الْاِيْمَانِ وَنَقْضَانِهِ وَقَوْلِ

اللّٰهِ تَعَالٰى وَزِدْنَا هُمْ هُدًى وَزِدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْاِيْمَانًا وَقَالَ الْيَوْمَ كَمَلْتُمْ

لَكُمْ دِيْنََكُمْ فَاذْ تَرَكَ شَيْئًا مِّنَ الْكَمَالِ هُوَ نَاقِصٌ (۴۰) عَنْ اَنَسِ بْنِ النَّبْتِيِّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزِنٌ شَعْبَةٌ

مِّنْ خَيْرٍ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزِنٌ بَرٌّ مِّنْ خَيْرٍ وَيَخْرُجُ

مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزِنٌ ذَرٌّ مِّنْ خَيْرٍ (۴۱) عَنْ عُمَرَ بْنِ

الْخَطَّابِ اَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهٗ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَيُّهُ فَيُكْتَبُ لَكَ نَقْرَةٌ وَّيُنْهَوُ عَلَيْنَا

مَعَشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لَا تَخْذُ نَاذِرًا لِّكَ الْيَوْمَ عَجِيدًا اَقَالَ اَبِيْ اَيُّهُ قَالَ الْيَوْمَ

اَكْمَلْتُمْ لَكُمْ دِيْنََكُمْ وَانْتُمْتُمْ عَلَيْنَا نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُمْ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِيْنًا قَالَ عُمَرُ

دِيْنُ كَاللَّهِ يَرْجِعُ جَزَاءُ سَبِيَّةٍ سَبِيَّةً مِثْلَهَا اَعْلَاكَ سَرَايَ الْوَقْعِ سَبِيَّةً نَهِيْهَا - فَمَنْ اَعْتَمَدَ عَلَيْكَ فَاَعْتَدْ عَلَيْهِ مِثْلَكَ زِيَادَةُ اِيْمَانِكَ فَتَحْلِفُ وَتَقْبَلُ مِنْهَا - يَا جَبِيَّةُ اللهُ

يَسْتَعْرِضُ بِمِثْلِهَا يَرْجِعُ جَزَاءُ سَبِيَّةٍ سَبِيَّةً مِثْلَهَا اَعْلَاكَ سَرَايَ الْوَقْعِ سَبِيَّةً نَهِيْهَا - فَمَنْ اَعْتَمَدَ عَلَيْكَ فَاَعْتَدْ عَلَيْهِ مِثْلَكَ زِيَادَةُ اِيْمَانِكَ فَتَحْلِفُ وَتَقْبَلُ مِنْهَا - يَا جَبِيَّةُ اللهُ

يَسْتَعْرِضُ بِمِثْلِهَا يَرْجِعُ جَزَاءُ سَبِيَّةٍ سَبِيَّةً مِثْلَهَا اَعْلَاكَ سَرَايَ الْوَقْعِ سَبِيَّةً نَهِيْهَا - فَمَنْ اَعْتَمَدَ عَلَيْكَ فَاَعْتَدْ عَلَيْهِ مِثْلَكَ زِيَادَةُ اِيْمَانِكَ فَتَحْلِفُ وَتَقْبَلُ مِنْهَا - يَا جَبِيَّةُ اللهُ

يَسْتَعْرِضُ بِمِثْلِهَا يَرْجِعُ جَزَاءُ سَبِيَّةٍ سَبِيَّةً مِثْلَهَا اَعْلَاكَ سَرَايَ الْوَقْعِ سَبِيَّةً نَهِيْهَا - فَمَنْ اَعْتَمَدَ عَلَيْكَ فَاَعْتَدْ عَلَيْهِ مِثْلَكَ زِيَادَةُ اِيْمَانِكَ فَتَحْلِفُ وَتَقْبَلُ مِنْهَا - يَا جَبِيَّةُ اللهُ

يَسْتَعْرِضُ بِمِثْلِهَا يَرْجِعُ جَزَاءُ سَبِيَّةٍ سَبِيَّةً مِثْلَهَا اَعْلَاكَ سَرَايَ الْوَقْعِ سَبِيَّةً نَهِيْهَا - فَمَنْ اَعْتَمَدَ عَلَيْكَ فَاَعْتَدْ عَلَيْهِ مِثْلَكَ زِيَادَةُ اِيْمَانِكَ فَتَحْلِفُ وَتَقْبَلُ مِنْهَا - يَا جَبِيَّةُ اللهُ

يَسْتَعْرِضُ بِمِثْلِهَا يَرْجِعُ جَزَاءُ سَبِيَّةٍ سَبِيَّةً مِثْلَهَا اَعْلَاكَ سَرَايَ الْوَقْعِ سَبِيَّةً نَهِيْهَا - فَمَنْ اَعْتَمَدَ عَلَيْكَ فَاَعْتَدْ عَلَيْهِ مِثْلَكَ زِيَادَةُ اِيْمَانِكَ فَتَحْلِفُ وَتَقْبَلُ مِنْهَا - يَا جَبِيَّةُ اللهُ

يَسْتَعْرِضُ بِمِثْلِهَا يَرْجِعُ جَزَاءُ سَبِيَّةٍ سَبِيَّةً مِثْلَهَا اَعْلَاكَ سَرَايَ الْوَقْعِ سَبِيَّةً نَهِيْهَا - فَمَنْ اَعْتَمَدَ عَلَيْكَ فَاَعْتَدْ عَلَيْهِ مِثْلَكَ زِيَادَةُ اِيْمَانِكَ فَتَحْلِفُ وَتَقْبَلُ مِنْهَا - يَا جَبِيَّةُ اللهُ

يَسْتَعْرِضُ بِمِثْلِهَا يَرْجِعُ جَزَاءُ سَبِيَّةٍ سَبِيَّةً مِثْلَهَا اَعْلَاكَ سَرَايَ الْوَقْعِ سَبِيَّةً نَهِيْهَا - فَمَنْ اَعْتَمَدَ عَلَيْكَ فَاَعْتَدْ عَلَيْهِ مِثْلَكَ زِيَادَةُ اِيْمَانِكَ فَتَحْلِفُ وَتَقْبَلُ مِنْهَا - يَا جَبِيَّةُ اللهُ

Handwritten marginal notes in Urdu script on the left side of the page, providing commentary and explanations for the main text.

Handwritten marginal notes in Urdu script on the right side of the page, providing commentary and explanations for the main text.

ع
یہ کھڑے اور کھڑے کیا گیا
تھے جو انہیں مسلمان نہ ہو
تھے انہیں لے کر آیا گیا
اس آیت میں اس قدر سختی
منانے کا اس لئے کہ عید
بنائے جو حضرت نے
کیا لطیف جواب دیا کہ
نازل ہی عید کے دن ہوگا
کیونکہ وہ عرفہ تھا اور
جمعہ کا دن تھا اور عید
کے دن اس کا نزول ہوا
عید بنا کر کیا گئے۔

ع
اس حدیث میں ہر سال ہر
اسلام ہی کیا ہے مگر وہ
بھگام ہلہم میں جیسا کہ
نبی صلعم کے جاہل تھے
ہے کہ آپ نے سلا اللہ
الاسمہ کی تعین نہیں فرمائی
پھر اس پر زیادہ جنت کا
ہے جو تمام ست شرف
جو عرواں کو چلا گیا ہے۔

ع
تو وہ اس میں ایک چیز
تھے کہ کا نام ہے جو
مگر تھوڑے تیار کیا گیا
حصہ ہوتا ہے اور ایک
شام میں رہنا اور جو بیوی
حصہ۔ مگر اس کا شہتال
تھیل و کثیر دونوں پر
ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں
اسے پہاڑ کے برابر کہا
گیا ہے اور سطلانی
میں ہے۔ یقین علی
القلیل والکثیر۔

قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ

ہم اس میں کو اور اس جگہ کو جانتے ہیں جس میں یہ آیت

قَالِمُ يَعْرِفُ يَوْمَ حَسْبَةِ بَابُ الزُّكْوَةِ مِنَ الْإِسْلَامِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا

عرفات میں جمع کے دن کھڑے تھے علی باب زکوٰۃ

لِيَعْبُدُوا اللَّهَ وَاللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ خَفَاءَ وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزُّكْوَةَ وَذَلِكَ

کہہ اللہ کی عبادت کریں اسکے لئے ذرا ہر روزی کو خاص کر کے ہوتے راست روی اختیار کرتے ہوتے اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور یہی

دِينُ الْقِيَمَةِ (۴۳) عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

مضطرب دین کی (القیامت) طلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی سے رسول اللہ صلی اللہ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ تَبَعِ ثَابِتٍ الرَّأْسِ سَمِعَهُ دَوَى صَوْتِهِ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ خَتَمَ

علیہ وسلم کے پاس آیا اس کے سر کے بل بکھڑے ہوئے تھے ہم اس کی آواز سننا نہیں سکتے تھے اور ہمیں سمجھتے تھے جو وہ کہتا تھا

دَنَا فَاذَاهُ وَيَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَطْوَعُ قَالَ

کہ وہ قریب آیا تو وہ اسلام کے متعلق سوال کر رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

صَلَاةٌ فِي يَوْمِ النَّبِيِّ فَقَالَ هُنَّ عَلَى غَيْرِهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطْوَعَ قَالَ

دن اور رات میں پانچ نمازیں ہیں اس نے کہا کیا اس کے سوا کچھ اور بھی لازم ہے تو فرمایا نہیں سوائے اسکے کہ تو اپنی خوشی سے ہے

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُنَّ عَلَى غَيْرِهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطْوَعَ قَالَ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور رمضان کے روزے اس نے کہا کیا اس کے سوا کچھ اور بھی لازم ہے تو فرمایا نہیں سوائے اسکے کہ

تَطْوَعُ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزُّكْوَةَ قَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهَا قَالَ

کہو اپنی خوشی سے رکھے راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے زکوٰۃ کا بیان کیا اس نے کہا اسکے سوا کچھ اور بھی

لَا إِلَّا أَنْ تَطْوَعَ قَالَ فَادْبُرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أُرِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا الْقَصْرَ

ہے تو فرمایا نہیں سوائے اسکے کہ تو اپنی خوشی سے دے راوی کہتا ہے کہ پھر وہ شخص بائیں ہوا اور وہ ہر روز نماز پڑھتا تھا اللہ کی قسم میں نے ہر روز اس کا

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَلَمْ يَنْصَدِقْ بَابُ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کامیاب ہو گیا۔ باب جنازوں کے ساتھ چلنا

مِنَ الْإِيمَانِ (۴۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

ایمان سے ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

مَنْ اتَّبَعَ جِنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يَصِلَ إِلَيْهَا وَيَقْرِئَ مِنْهَا

کہ جو شخص مسلمان کے جنازہ کے ساتھ جاتا ہے ایمان سے اور عقاباً ہی کو چاہتا ہو اور اسکے ساتھ رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے اور اس کے دفن ہو جائے

دَفِنَهَا فَإِنَّهُ يُرْجِعُ مِنَ الْجَزَاءِ كُلِّ قَبْرٍ مِثْلَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا

تو وہ ثواب کے ساتھ لوٹتا ہے جن میں سے ہر ایک قبضہ احد جہان کے برابر ہے اور جو شخص نماز پڑھتا ہے

تُرْجِعُ قَبْلَ أَنْ تَدْفِنَ فَإِنَّهُ يُرْجِعُ مِنَ الْجَزَاءِ كُلِّ قَبْرٍ مِثْلَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا

پھر اس آیت سے پہلے کہ اس کو دفن کیا جائے تو وہ ثواب کا ایک قبضہ لے کر لوٹتا ہے۔ باب مومن کا دفن

عَلَى الْأَخْيَرِ أَنْ كُونَ مَكْدُبًا وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَهْجَةَ أَدْرَكْتُ ثَلَاثِينَ

میں نے کسی جنازہ کو اپنے

میں تیس نہیں کیا مگر ہر ڈاک میں بیٹھانے والوں کی تینوں اور

ابن ابی مہجہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس سے ط

مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَتَأَمَّرُونَ عَلَى نَفْسِهِمْ وَأَمْنُهُمْ أَحَدُهُمْ

ان میں سے ہر ایک اپنے نفس پر نفاق کو ڈالتا تھا ان میں کوئی شخص یہ نہ کہتا تھا

إِنَّهُ عَلَى إِيْمَانٍ جَبْرِيْلٍ وَمِيكَائِيلَ وَيُدْكَرُ عَنِ الْحَسَنِ مَا خَافُوا الْكُفْرَ مِنْ وَلَا أَمْنَهُ

جبرائیل یا میکائیل کے ایمان پر اور من بھری کریمان کیساتھ اور اس (یعنی نفاق) کی مومن توڑتا رہتا ہے

الْأَمْنَانِ وَقَدْ جَاءَهُ مِنَ الْأَصْرَارِ عَلَى الْقِتَالِ وَالْعَصِيانِ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ لِقَوْلِ اللَّهِ

اور اس سے نہ ممانق ہی ہوتا ہے اور (اسی باب میں) اس بات کو ڈرایا گیا ہے کہ آپس میں لڑائی اور گناہ پر ہمارا کرنا اور توبہ نہ کر ہی کیونکہ اللہ

تَعَالَى وَلَمْ يَصْرُخْ وَأَعْلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (۲۴) عَنْ رَبِيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا

تعالیٰ دیتا ہے کہ وہ بات پر اڑے نہیں رہتے جو کہی دیا نہ لیکھتا ہے ہوں (ابن عمر) علیٰ زبیر سے روایت ہے کہ میں نے ابو

وَإِيْلَ عَنِ الْمُزْنِبَةِ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

دانیل سے جو کہی کے متعلق دریافت کیا تو اس نے کہا کہ مجھ سے عیدانہ میں مسجد نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ (۲۵) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑائی کفر ہے عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَنَلَاخِي رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ

صلی اللہ علیہ وسلم نکلیے کہ لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے نکلے گا اور وہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے آپ نے فرمایا

إِنِّي خَرَجْتُ إِخْبَارَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ وَلَئِنَّهُ تَلَاخِي فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَرَفَعَتْ وَعَسَى

کہ میں نکلے گا کہ تمہیں لیلۃ القدر کی خبر دوں اور فلاں فلاں آپس میں لڑ رہے ہیں اور سارے

أَنْ تَكُونَ خَيْرَكُمْ فَالْمَسْوُوهَا فِي الشَّبَعِ وَالنَّسَبِ وَأَحْسِنُ بَابُ سُؤْلِ

یہی ہند سے بہتر ہے سوائے ستمیوں اور انتہویوں اور پچھلے سوانی میں ہونڈو کے باب

جَبْرِيْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَّالَ الْإِيْمَانَ وَالْإِسْلَامَ وَالْإِحْسَانَ وَعَلِمَ

جبرئیل کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور اسلام اور احسان اور علم

السَّاعَةِ وَيَبَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ جَبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

ساعت کے متعلق سوال کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کیلئے بیان کرنا پھر آپ نے فرمایا جبرئیل علیہ السلام آئے

مصلیٰ یا پیام نھاری تم
مرحہ کے نہیں ہاذا
اصحاب کے معنی میں ہے
میں شاکہ اور جبرئیل
فرق کا نام ہے جو کہتے
ہیں کہ ایمان کا نطق ہوا
سے کوئی نہیں ہو سکتا
کے ساتھ نہ کہ پچھلے
بگڑا اور نافرمان کا
ایمان بھی ایسا ہی کامل
ہوتا ہے جیسے ایک
اللہ ہماری اسکے خلاف
دلائل لانے ہیں کہ جہا
علم سے خوف کرنا بھی
کا کام ہے۔ ابراہیم
ایک دفعہ اپنے جناب
نے سزا جزی میں لیا
جانی معلوم ہوا اس وقت
یہ فرق پیدا ہو چکا تھا
واعظ کہ چونکہ بہت
نقصیت کافی بڑھتی ہے
وہ اسے اس قدر خوف
تھے کہ لوگوں کو کہتے تو
ہت کہہ نہیں سکتے
سب ہاتھ پر قائم ہونا
مشکل ہے۔ ابن ابی
نے سزا میں لیا
وہ کہتے ہیں کہ صحابہ
نفس پر یہ خوف کرتے تھے
کہ نفاق میں مبتلا نہ ہوں

یہ کمال درجہ کی احتیاط اور توقع ہے۔ ہر کافر باغی ترست ترست ہے۔ جو شخص شیطان کے کردوں سے غافل ہوتا ہے۔ وہ اس کے بیخ میں جاتا ہے۔ اسلئے مومن بھری نے کہا کہ مومن کو ضرور نفاق کا خوف ہوتا ہے اور جو نہ ہوتا ہے وہ منافق ہے۔ مصلیٰ یہ اسی باب کا دوسرا حصہ ہے اور پہلی حدیث اس دو حصے کے مطابق ہے۔ مومن میں مسلمان کو گالی دینے کو فسق کہا جاتا ہے اور مسلمان کے ساتھ جنگ کرنے کو کفر کہا ہے۔ حالانکہ عثمان باہمیل نام بخاری نے صرف مایحین رکہ لفظ استعمال کیا ہے جس کو معلوم ہوا کہ وہ کفر کا نہ تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ تفسیر کی ہے۔ مصلیٰ سبباً کے لئے گلابی میں اور تیسرے جو حدیث گذر چکی اس سے معلوم ہوا کہ جس نے اپنے بھائی کو یا ابن السوداء کو کفر کا لقب کیا اسے بھی گالی قرار دیا گیا۔ اور فسق کے لئے بہت تعلق اور اس کے رسول کی اطاعت سے فریب ہیں۔ اور یہ عصیان سے زیادہ سخت لفظ ہے۔ آسمان ہی سخت تو ہے۔ قتال کو کفر کہا ہے جیسا کہ قرآن شریف میں یومئذ کان یومئذ ان یقتل من یمننا الاضواء یعنی مومن کی شان نہیں کہ مومن کو قتل کرے۔ ہاں ظلم ہو چکا تو انک بات ہے۔ مومن کے ساتھ قتال کرنا اصل میں کفر کی شان ہے اسلئے ہمارا ہے کہ لفظ اطلاق کلم ہے۔ حقیقتی کفر تو نہیں کہ دائرہ اسلام سے انسان خارج ہو جائے۔ قرآن کریم نے جو لفظ نہیں استعمال کیا ہے اس میں ہر قسم کی خطا شامل ہو سکتی ہے۔ مثلاً دوسری چیز کہ راجح ہے انسان کو گالی دینے کی بلاتنا میں خطا ہو گا۔ مسلم ہر جہت سے کفر کے لئے مسلمان پر سخت کرنا بھی اسے قتل کرنے کی مانند ہے۔ مصلیٰ اس کو معلوم ہوا کہ زیادہ جگہ افسان روحانیت کا مرتبہ ہوتا ہے جس جگہ سے کہ وہ جسے جو دشمنوں میں ہوتا تھا لیلۃ القدر کی تعیین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اٹھا لیا گیا۔ اسکی تلاش کے متعلق جو وسیع اور وسیع اور وسیع فرمایا تو اس سے آخری منزل کی جو ایہ امکان نہیں ساتوں میں پانچوں میں ملتا ہے۔ سننا سنیوں وغیرہ ساتوں کو دیکھ لیا۔ کیونکہ اکثر لیلۃ القدر ساتوں میں ہوتی ہے۔ آپ کا خبر ہے کہ اللہ سے لفظ اسے سال سے لفظ معلوم ہوتا ہے۔ کیوں کہ اگر ہمیشہ کے لئے یہ ایک ہی میں رات ہوتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفر کا بیان دے دینے۔ اصل عرض تو عیالوں پر تفریح تھی۔ سزا حاصل رہی۔ اس حدیث میں ایمان اور اسلام کا ایک ایک ذکر کیا ہے۔ اور ایمان میں صرف اللہ اور ملائکہ اور رسولوں اور رعیت کی تعظیم کو بیان کیا ہے۔ اور اسلام میں اعمال کو اور یہ صرف ظاہری معنی کے لحاظ سے ہے۔ ورنہ ایمان بغیر اسلام کے کامل نہیں ہوتا۔ اور اسلام بغیر ایمان کے کامل نہیں ہوتا۔ اور دین کے اندر ان جملہ امور کو دخل کیا ہے۔

عَلِمَتِ السَّاعَةُ الْآيَةَ ثُمَّ أَدْبَرَ فَقَالَ مَرَدُّهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ هَذَا جَبَلٌ جَاءَ نِعَامًا

النَّاسُ وَنَبِيُّهُمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعَلَ ذَلِكَ كَلِمَةً مِنَ الْإِيمَانِ بَابُ رَمَمَ عَنْ

أَبِي سَفِيَانَ بْنِ حَبِيبٍ مَرَرًا بِبَابِ فَضْلِ بْنِ أَسْتَمٍ الْبَصْرِيِّ رَمَمَ عَنْ الْعُرْجَانِ بْنِ

بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيْنَ وَحَلَالِ

بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مَشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِمَّنِ النَّاسُ فَمِنْ التَّشْبِيهِ مَا قَدْ

اسْتَبْرَأَ إِلَيْهِ وَعَرَضَ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاهٍ يَرعى حَوْلَهُ

الْحَمْدُ يُوشِكُ أَنْ يَوَاقِعَهُ الْأَوْرَانُ لِكُلِّ مَلِكٍ حَمْدُ الْإِنِّ حَمْدُ اللَّهِ

فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ الْأَوْرَانُ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ

كَلِمَةٌ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ الْأَوْهَى الْقَلْبُ بَابُ آدَاءِ الْحَمْدِ

مِنَ الْإِيمَانِ (۲۸) عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ أَقْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ

فَجَلَسْتُ عَلَى سَرِيرِهِ فَقَالَ أَقْعُدْنِي حَتَّى أَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مَرَاتِلِي

فَأَقْتَمْتُ مَعَهُ ثُمَّ رَمَى ثُمَّ قَالَ إِنْ وَفَدَ عَبْدُ لَقَيْسٍ لَنَا أَوْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنَ الْقَوْمِ وَمِنَ الْوَفْدِ قَالُوا أَرْبَعَةٌ قَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ

أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرِ خَرَأَ يَا وَلَا نَدَاهِي فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ

ہے اور یہاں امام بخاری اور سفیان کی حدیث کا وہ حصہ لائے ہیں جس میں ہر طرح کے مسلمان بڑے ہیں کیا ان کا یہاں تک کہ وہ مکمل کو پہنچے یعنی قتالہ سلطنت

سے لیکر ایسا حال تک۔ کلمہ استسما دین کو نقص سے بری کرنا۔ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کی جوئی چیزیں لیکر آگاہ کے طور پر ہیں۔ ابن عربی اور بعض حدیث میں

یہ روک تھام نہیں پاتے۔ اور وہ روک یہ ہے کہ جو اور کلام سے بچنے جتنے ہیں انہیں بھی ترک کر کے کی کوشش کی جائے۔ ایسی حالت میں اگر ٹھوکر بھی گئی تو ان سے بڑے گناہ میں مبتلا ہوئیے۔

پھر فرمایا کہ جب تو باہر کی اطلاع پر منحصر ہے۔ ہمیں ہر صورت حالت میں رکھو یعنی اس میں رذی خیالات کو مت آئے۔ وہ یہی رذی خیالات مشتبہات ہیں۔ سب انہی کے متعلق ہر دفعہ

عمل میں جہد
ہوتا ہے تو آخرت
صبر سے لوانا ہے
علم دیتے ہیں۔ مگر
نہیں لیا سب پر آپ
راتے ہیں۔ جہد
ہے جو تمہیں بتا دین
سکتا ہے کیا ہذا
اشہد ان شخص کی طرف
تھا کہ جہد ایک ہر کی
صورت میں متعلق ہو
آیا ہے یا جو کچھ کہے
فرمایا اس کی طرف اشارہ
تھا کہ یہ تعلیم جو تم کو
تجارت کی ہے یہ جہد
کی تعلیم ہے جو ہر حالت
اول کی طرف ہی گئے
ہیں اور خیر اللہ تعالیٰ
نے بھی یہی ہتدلال
کیا ہے مگر حضرت
جہد میں فی الحقیقت
نبی کریم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے آگاہ کر کے
دئے تھے۔ ورنہ
متعلق سوال کا جو
آپ دہی ملی یا وہی
خفی سے دیکھتے تھے
اور دونوں حالتوں میں
جو اب سکھانا والا جہد
ہے نہ سوال کرتے والا
ہاں تک کہ آدمی کی
صورت میں متعلق جہد
بھی ایک سب بات ہے
مگر یہ کتنی گناہ سے
تعلق رکھتا ہے۔
کلمہ یہاں باب کا
عنوان کوئی نہیں لیا
پہلے باب سے ہی تعلق

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

وَجَهَ اللَّهُ إِلَّا أُجِرَتْ عَلَيْهَا حَتَّىٰ مَا تَجْعَلُ فِي فِرَامِرَاتِكَ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ
اور اس کی رضا ہوتا ہے۔ اس پر جو ثواب ملتا ہے یہاں تک کہ اس پر بھی جو تو اپنی بیوی کے نام میں ڈالے۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ التَّصْبِيحَةَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا مَعْتَةَ الْمُسْلِمِينَ
صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کہ دین اللہ اور اس کے رسول کے لئے خاص زمانہ ہر صبح ہے اور مسلمانوں کے ناموں

وَعَامَّتِهِمْ وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ إِذْ أَنْصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ (۱۵) عَنْ
اور ان کے نام لو کہیں کی غیر خرابی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے لئے خاص زمانہ ہر صبح ہوں (سورہ توبہ) اور

جَبْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَعَلِيُّ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ الصَّلَاةَ وَأَيَّامَ
جبر بن عبد اللہ جعلی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ ہر صبح اور ہر روز کے روزے

الرَّكُوعَةِ وَالصُّلْبِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ (۵۲) عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقٍ قَالَ سَمِعْتُ جَبْرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
اور ہر مسلمان کی غیر خرابی پر۔ زیاد بن علق سے روایت ہے کہ میں نے جبر بن عبد اللہ سے سنا

يَوْمَ مَاتَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَتَىٰ عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ
جس دن مغیرہ بن شعبہ فوت ہوئے پھر اللہ کی حمد و ثنا کی اور کہا کہ تم پہ لگتے ہو کہ اپنا اللہ کا تعویذ کرو

وَحَدِّ لَا شَرَّ لَكُمْ فِي الْوَقَارِ وَالسُّكِينَةِ حَتَّىٰ يَأْتِيَكُمْ أُجْرٌ فَأَنْهَىٰ بِتَيْمَمٍ أَنْ تَقَالَ
جس کا کوئی شرم نہ ہو اور عقل اور اطمینان سے ہو یہاں تک کہ تمہارے پاس ہیرا پائے اور وہ ابھی تمہارے پاس آئے گا پھر کہا

اسْتَغْفِرُوا لِأَمْيَرِكُمْ فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنِّي أَنْتَبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى
اپنے روزانہ یا اپنے ہمسیر کے لئے مغفرت مانگو وہ بھی سنتے اور کہہ دیتا تھا۔ پھر کہا کہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ أَبَا بَعْدُ عَلَىٰ الْإِسْلَامِ فَشَرَطَ عَلَيَّ وَالنَّصِيحَةَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ
اور عرض کیا میں آپ سے اسلام پر بیعت کرنا ہوں تو آپ نے مجھ پر یہ شرط لگائی کہ ہر مسلمان کی غیر خرابی کروں گا۔

فَبَايَعْتُهُ عَلَىٰ هَذَا وَأُورِثَ هَذَا السُّبْحَانَ لِنَاصِحِي لَكُمْ ثُمَّ اسْتَغْفَرُوا وَنَزَلَ
سوئی پھر آپ کی بیعت کی اور میں سجدہ کے سبب کی قسم ہے کہ میں تمہارا غیر خرابہ ہوں پھر مستغفرت لیا اور (میرے) اترتے تھے

كِتَابُ الْعِلْمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
اللہ کے نام سے جو رحمن رحیم ہے۔ علم کی فضیلت اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ اللہ لوگوں کے لئے سزا ہے

اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
کرتی جو تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے اور سزا دینا

وَقَوْلِهِ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا بَابُ مُرْسِلٍ عَلِيمًا وَهُوَ مُسْتَخْلِفٌ فِي حَدِيثِهِ فَأَتَتْ
اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ میری مدد سے علم زیادہ کر دے (سورہ طہ) اور اب میں جس شخص سے علم کا سوال کیا جائے اور وہ اپنی بات میں مشغول ہو

الْحَدِيثُ نَزَّاجِبٌ لِلسَّائِلِ (۳۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْلُصُ
ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک نے فدوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَسْئَلِ كَمَا جَاءَ فِي
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَسْئَلِ كَمَا جَاءَ فِي

عَلَيْكُمْ نَهَى النَّبِيَّ
میں منع فرمایا ہے
نہی ہے کہ خاص ہوں
نہی ہے کہ اللہ تعالیٰ
کے صاف کر دینے کے
چنانچہ آیت قرآنی التورہ
(۱۱) میں بھی آیت لانا
نہی ہے اور رسول
کے میں جہاں پہلوں
کو روکنے کا جولو سے
ممانی رہی ہے جبکہ
اللہ اور رسول کے لئے
ظہور الی سے تا بعد
کو نہ لے ہوں۔ میں
الضعیفہ اللہ کے لئے
ہوئے اللہ کی خاطر
ہوتا ہے مراد اس سے
ہے کہ اللہ کو تمام
حقوق پر مقدم کیا جائے
اور اس کے رسول کے لئے
فیضیت سے مراد ہے۔
انکی تعظیم اور محبت اور
فہرت۔ اللہ کے مسلمان
یعنی مسلمان کے ناموں
اور پیشروں کے لئے
فضیلت ہے جو کہ
اور اس کے لئے ہر کلمے
ہیں ان میں انکی فہرت
کر کے اور فضیلت یا جو کہ
کے وقت تیار کرے۔
یعنی پہنچنے والے
فہم صرف کرے اور
مسلمان کے لئے فضیلت
یا ظہور یہ جو کہ ان
حقوق اور اگر ہر طرح
اپنے حقوق انکی چاہتا
ہے ان کو وہ نہیں سکتا
جو ان کی مسلمانوں میں
اور جن چیزوں سے اللہ
کو دکھ پہنچتا ہے انکو روک
کرے۔ علم سے مراد

یہ تشبیہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے کوئڈ کے گورنر تھے۔ اور آپ کی وفات سنہ چھری میں ہوئی۔ جبر بن عبد اللہ نے یہ خط لکھا کہ اللہ پر کام کرتے تھے۔ کوئڈ کے لوگ بڑے
ضار ہی تھے اس لئے سمجھایا۔ یا یہ کہ اللہ ان سے مراد ہے کہ جو دنیا میں ہر چیز پر ہرگز وہ جہد ہی پہنچ جائے گا۔ اس وقت تک وہ قادر و سکون سے کام لے۔ وہ دہر ہذا المسجد
میں مسجد سے مراد کعبہ ہے۔ چنانچہ طبرانی کی روایت میں رب الکعبۃ ہے۔ علم سے فقہیت علم پر معرفت یا قرآنی کی شہادت لائے ہیں۔ حدیث میں ان کو اپنی مشرف ہر
نہیں ملی۔ اس سے بخاری کی احتیاط کا پتہ لگتا ہے۔

حکم اس حدیث میں ضابطہ ہے طریق پر ادب رکھا ہے۔ سوال کو جس نے سنا گفتگو میں سوال کیا زجر نہیں کیا نہ سزا انظار عقل کیا عین و توفیق کو نظر رکھا۔ ہاں یہ بھی بتا دیا کہ گفتگو کے ختم ہونے پر سوال کرنا جائز تھا۔ جب حکومت کسی قوم میں تامل ہو رہی ہو تو اس قوم کو تباہی کا وقت آیا ہے۔ اور اگر قیامت کی خبر ہو رہی ہو تو کائنات نشان بھی نہیں ہے اس وقت ساری دنیا میں حکومت نااہل کے سپرد ہو جائے گی جو لوگ اپنے فتنوں کو تباہ کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ وہ اس قوم پر حکومت کے اہل نہیں تھے معلوم ہوتا ہے۔ کہ بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے جو بیانی کی فتنے کے پاؤں اچھی طرح نہ دھوئے اس سے ہزاروں کا فانی طور پر جو تباہی آپ نے اس پر لہو دیا۔

روایت حدیث میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں مطلب یہ کہ ان سے مراد ایک ہی چیز ہے الفاظ پر وہ عربیہ سے مراد ہے جو کہ عربی سے عربی کے الفاظ سے لیا گیا ہے۔ ان الفاظ کی طرف سے مراد حدیث میں یہ الفاظ ہیں جو عربیہ سے لیا گیا ہے۔

يُحَدِّثُ الْقَوْمَ حَاجَةً أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَمَضَى سَوْلاً اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بعض لوگوں نے کہا کہ جو اس نے کہا آپ نے سن لیا اور کہا قیامت کب ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے رہے۔

يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَمْ نَسْمَعْ حَتَّى
بعض لوگوں نے کہا کہ جو اس نے کہا آپ نے سن لیا اور کہا قیامت کب ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ہاں میں تم کو

إِذَا قُضِيَ حَدِيثُهُ قَالَ إِنْ أَرَاهُ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ
جب آپ اپنی بات پوری کر چکے تو میں جہتا میں فرمایا قیامت کے متعلق سوال کر نہ پھلا کہاں ہے اس نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں

قَالَ فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانظُرِ السَّاعَةَ فَقَالَ كَيْفَ إِصْنَاعُهَا قَالَ إِذَا وَتِدَ الْأَمْرُ
زنا یا مہمانت ضائع ہو جائے تو قیامت کا انتظار کر اس نے کہا اس کا ضائع ہونا اس طرح ہے زنا یا جب حکومت

إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانظُرِ السَّاعَةَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَنْ رَفَعِ صَوْتَهُ بِالْعِلْمِ (۵۴) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
تا اہلین کے سپرد کرنا ہے تو قیامت کا انتظار کر۔ علم یا بپ جو شخص علم کی بات بلند آواز سے کہے

ابن عمرو سے روایت ہے کہ انہی نے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا
وَقَدْ أَرَهَقْنَا الصَّلَاةَ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ فَجَعَلْنَا نَسْمَعُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ
اور خدا کا وقت ہو گیا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے تو ہم اپنے پاؤں کو اچھی طرح نہ دھوئے تھے آپ نے بلند آواز سے کہا

وَيَلِ الْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَوْلِ الْحَدِيثِ حَدَّثْنَا وَأَخْبَرْنَا وَ
انہوں نے اپنے پیروں کی دو یا تین مرتبہ (زنا یا) سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا

أَنْبَاءُ أَوْ قَالَ الْحَمِيدِيُّ كَانَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ نَزْدِكِ انْ سَبَّكَ مَطْلَبُكَ هِيَ تَحَابُّهُ بَيْنَ كِلَا أُورِثِي جَرْدِي أَوْ هِيَ بَيْنَ كِلَا أُورِثِي
اور میں نے سنا ہے کہ انہی نے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا

وَاحِدًا وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ
اور ابن مسعود نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا

الْمُصَدِّقُ وَقَالَ شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً
کہا گیا وہ بھی صحیح تھا اور شقیق نے عبد اللہ بن مسعود سے نقل کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی

كَلِمَةً أَوْ قَالَ حَدِيثًا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَيْنِ قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ
اور حدیث نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دو حدیثیں بیان کیں اور ابو العالیہ نے

عَنْ ابْنِ عَمْرٍاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرُوي عَنْ رَبِّهِ وَقَالَ اسْعَنْ
ابن عباس سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ اس بار سے میں جو آپ اپنے رب سے روایت کرتے تھے اور ان سے

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُوي عَنْ رَبِّهِ وَقَالَ أَبُو بَريرة عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے

وَأَبُو بَريرة عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
جو آپ اپنے رب سے مبارک و نافع سے بیان کرتے ہیں۔ حدیث

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مِنَ النَّبِيِّ شَجْرَةٌ لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَأَنْهَا مِثْلُ الْمُسْلِمِ حَتَّى تُوْتِي مَا
خود میں سے ایک درخت ایسا کہ جس کے پتے نہیں جھڑتے اور اس کی شاخیں ہمیشہ ہوتی ہیں جیسے تادادہ کہ ہے

فِي فَوْقِ النَّاسِ فِي شَجْرِ الْبُؤَادِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَقَعْرِ فِي نَفْسِي أَهْلُ الْخَلْقِ فَاسْتَجِيبَتْ
تو لوگ جملگی کے درختوں کا ذکر کرنے لگے عبد اللہ کہنے لگے میں کہیں سے جملگی کی خیال آیا کہ وہ مجھ سے

ثُمَّ قَالُوا حَيْثُمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هِيَ النَّخْلَةُ بَابٌ مَطْرُوحٌ لِأَنَّهَا اسْتَعْرَضَتْ عَلَى أَصْحَابِ النَّخْلَةِ

مَعْنَاهُمْ مِنَ الْعِلْمِ (۲) عَنْ أَبِي عَمْرٍو كَرِهَهُ **بَابُ الْقِرَاءَةِ وَالْعُرْضِ عَلَى الْحَدِيثِ وَرَأَى**

الْحَسَنَ وَالتَّوْرِيَّ وَمَالِكُ الْقِرَاءَةَ جَائِزَةً وَأَجْمَعُوا بَعْضُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْعَالِمِ

بِحَدِيثِ ضَمَانِ بْنِ ثَعْلَبَةَ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَكَ أَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَاةَ

قَالَ نَعَمْ قَالَ قَدْ قَرَأْتَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبْتُهَا مَرُومًا بِذَلِكَ فَاجْزَأُوا

وَأَجْمَعُوا مَالِكُ بِالصَّحَابِ يَقْرَأُ عَلَى الْقَوْمِ وَيَقُولُونَ أَشْهَدُ نَافِلَانُ وَيُقْرَأُ عَلَى الْقُرَى

يَقُولُ الْقَارِئُ أَقْرَأَنِي فَلَانَ لَا هـ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ لَا يَأْسُ بِالْقِرَاءَةِ عَلَى الْعَالِمِ

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَزَّ سَفِيَانُ قَالَ إِذَا قُرَأَ عَلَيَّ الْحَدِيثُ فَلَا يَأْسُ

أَنْ يَقُولَ حَتَّى يَقَالَ وَسَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ يَقُولُ عَنْ مَالِكٍ وَسَفِيَانَ الْقِرَاءَةَ

عَلَى الْعَالِمِ وَقِرَاءَتُهُ سَوَاءٌ (۲) عَنْ أَبِي بِنِ مَالِكٍ بَيْنَا مَخْنُ جَانُوسٍ مَعَ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّجْدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَهُ عَقْلُهُ

ثُمَّ قَالَ هُوَ أَتَمُّ مَخْتَدٍ وَالتَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَّوِّرٌ بَيْنَ ظَهْرِيهِمْ فَقَلْنَا هَذَا الرَّجُلُ

الرَّابِضُ الْمَتَّوِّرُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطِيبِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَدْ أَجَبْتِكَ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي سَأَلْتُكَ فَمُسْتَدِدٌّ عَلَيْكَ فَمَا أَسْأَلُكَ فَلَا يُجِدُ عَمَلًا

فِي نَفْسِكَ فَقَالَ سَلْ عَمَّا بَدَلَكُ فَقَالَ أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّكَ مِنْ قِبَلِكَ اللَّهُ

أَرْسَلَكُ إِلَى لَتَأْسِ كَلِمَةٍ فَقَالَ اللَّهُ نَعَمْ فَقَالَ أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ اللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ

تُصَلِّيَ الصَّلَاةَ تَحْتَسِرُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ لَكُمْ نَعَمْ قَالَ أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ اللَّهُ أَمَرَكَ

تُصَلِّيَ الصَّلَاةَ تَحْتَسِرُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ لَكُمْ نَعَمْ قَالَ أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ اللَّهُ أَمَرَكَ

تُصَلِّيَ الصَّلَاةَ تَحْتَسِرُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ لَكُمْ نَعَمْ قَالَ أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ اللَّهُ أَمَرَكَ

بہا کی کہ جس طرح
کھڑی ہر چیز کا نام
ہے اس طرح مسلم
بھی ہونا چاہیے
اس کا وجود طرح مانع
اتاس ہو۔ اس قدر
میں لوگوں کو قاید
پہنچانا کہ وہ نظر
اس کا ایک نچاسی
حدیث کو رو رہا ہے
جو انہی بیان ہوئی
اہل طرس سے سوال
کے انکو سکھانے
کے تیز کرنے میں
کا طریق تعلیم جو اور
ہی طریق آج کل
زینت کلاموں میں
سکھاتا ہے۔
اس باب میں یہ تلامذہ
ایک نکل کو اہل علم کے
ساتھ پیش کی جائے
یعنی اسے سنا دیا جائے
اور وہ اسکی تفسیر کرے
تو ایسا ہی چھوٹا شیخ
خود بنا دیا جائے
یہ دانا یا مستاد ہر کو
کہنے میں اہل بیاد
پر دے ہوتے تھے
اور لوگوں کو کچھ دینے
کے متعلق کھد دینے
تھے۔ اور وہاں ہر
اقترا نامہ ہی
اور اسکی تفسیر کی
وہ اسکا پابند ہے۔

مجموعہ میں باب زیادہ
نام کا سوال ہے اس میں
باب حدیث بیان کرنے کے
باب حدیث بیان کرنے کے
اور ایک سے پر لکھ دینے کو جائز قرار دیا ہے اور
بعض نے استاد کے سامنے پڑھ دینے کی دلیل
منام بن ثعلبہ کی حدیث سے لی ہے اس نے نبی سے اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ نے آپ کو حکم کیا کہ تم نماز پڑھیں
کہا تو نبی سے اللہ علیہ وسلم پڑھ دینا تھا
ضم سے اس کی خبر ایسی قوم کو دی تو انہوں نے اسکو جائز کہا
اس میں ایک نچاسی
حدیث کو رو رہا ہے
جو انہی بیان ہوئی
اہل طرس سے سوال
کے انکو سکھانے
کے تیز کرنے میں
کا طریق تعلیم جو اور
ہی طریق آج کل
زینت کلاموں میں
سکھاتا ہے۔
اس میں ایک نچاسی
حدیث کو رو رہا ہے
جو انہی بیان ہوئی
اہل طرس سے سوال
کے انکو سکھانے
کے تیز کرنے میں
کا طریق تعلیم جو اور
ہی طریق آج کل
زینت کلاموں میں
سکھاتا ہے۔

عَل

اس حدیث میں منعم
بن ثعلبہ مفضل سوال
کرتے رہے ہیں۔ اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم آپ پر ان کتھے رہے
ہیں۔ اللہ کا لفظ
نفس کے ساتھ بڑا کر
اس کو توت دی ہے
گویا اللہ کو اس پر گواہ
کیا ہے۔ اونٹ سمجھ
کے بیرونی صحن تک ڈ
لائے۔ یہ سڑ چری
کا دانہ ہے۔ رخ کا
ڈکراس لے نہیں کرتے
ان میں ایک لہر سرف
تھا۔ اس حدیث سے
یہ بھی معلوم ہوتا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم اپنے صحابہ میں
ایسی بے تکلفی سے
بیٹھتے تھے کہ کوئی
استیلاوی نشان نہ ہوتا
تھا۔ چنانچہ ایک
بیرونی آدمی کو روایت
کرنا پڑا کہ محمد صلعم
تم میں سے کون ہیں
اس وقت آپ ہاتھ
یا دیکھی چیز سے نکلیے
ٹھائے بیٹھے تھے۔
آجکل کے پیر مرد
لاکر بیٹھتے ہیں اور
غور کریں۔ یہاں جو
آپ کو امین کہا گیا
یعنی سفید رنگ کے
آدمی تو وہ صرف اس
کاٹا سے ہے کہ آپ
ان لوگوں میں زیادہ
سفید تھے۔ اور تنہا
صفت میں جو عادت
میں تھا ہے کہ آپ
بہت سے نام بیٹھے
نہ سفید رنگ کے گندم
گوں جو سیاہی میں ہو
تھے آپ کا رنگ گندم
رنگ کی تھا باسری بیٹھے

أَنْ تَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ الشَّنَةِ قَالَ اللَّهُ نَعَمْ قَالَ أَنْشُدَكَ بِأَللهِ اللهُ أَمْرَكَ أَنْ تَأْخُذَ

کرمال میں اس مہینہ (رمضان) کے روزے رکھیں۔ فرمایا اللہ گواہ ہے ایسا ہی ہے کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ اللہ نے

هَذَا الصَّدَقَاتِ مِنْ غَنِيَاءِ نَا فَتَقْسِمُ مَا عَلَى فَقْرَاءِ نَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تکرمال ہے کہ آپ یہ صدقہ ہم میں سے اللہ کو رکھیں اور اسے ہمارے فقراؤں کو یا اللہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

اللَّهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ أَمَنْتُ بِمَا جِئْتُ بِهِ وَأَنَا رَسُولُ مَنْ رَزَا لِي مِنْ قَوْمِي

اللہ گواہ ہے ایسا ہی ہے اس شخص نے کہا میں اس پر ایمان لا جاؤں آپ بلائے ہیں اور میں اپنی قوم کے لوگوں کا قاصد ہوں

وَأَنَا ضَامِرٌ مِنْ ثَعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرِ (۵۸) عَنْ أَنَسِ قَالَ هَيِّنَا فِي

اور میں منعم بن ثعلبہ ہوں بنی سعد بن بکر بن بکر سے کہ ان سے روایت ہے کہ

الْقُرْآنِ أَنْ نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَخْبِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ

قرآن میں ہم کہہ سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے (بہت) سوال کریں اور ہمیں پسند ہوتا تھا کہ دیکھیں میں کوئی محمد صلعم کے

الْعَاقِلِ فَيَسْأَلُهُ وَيَخْفَى نَسْمَعُ فَمَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ أَنَا رَسُولُكَ فَانْحَبِ

اور آپ کے سزاؤں کو ہم سنیں ایک شخص دیکھتا ہوں میں سے آیا اور کہا ایک رسول بھیجنا اور میں تمہارا

أَنْكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَرْسَلَكَ قَالَ صَدَقَ وَقَالَ فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ قَالَ

آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے فرمایا یہ سچ کہا پھر کہا آسمان کس نے پیدا کیا فرمایا

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالْجِبَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَمَنْ جَعَلَ

اللہ تعالیٰ نے کہا زمین اور پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا ان میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان میں

فِيهَا الْمَنَافِعَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَبِأَلَى خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْأَرْضَ وَنَصَبَ الْجِبَالَ

فائدے کی چیزیں کس نے بنائیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی قسم ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا اور پہاڑوں کو قائم کیا

وَجَعَلَ فِيهَا الْمَنَافِعَ اللَّهُ أَرْسَلَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ رَعِمَ رَسُولُكَ أَنْ عَلَيْنَا خَسْرَ صُلُوحِ

اور ان میں فائدے کی چیزیں بنائیں کیا اللہ نے آپ کو بھیجا ہے فرمایا ہاں کہا ایک ایسی کہتا ہے کہ ہم جو پہنچے تازہ ہیں

وَرُكُوتِ فِي مَوَالِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ يَا لَيْلَى أَرْسَلَكَ اللهُ أَمْرَكَ هَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ رَعِمَ

اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی قسم ہے آپ کو بھیجا کیا اللہ نے آپ کو بھیجا کیا اللہ نے آپ کو بھیجا کیا اللہ نے آپ کو بھیجا کیا

رَسُولُكَ أَنْ عَلَيْنَا صَوْمُ شَهْرٍ فِي سُنَّتِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِأَلَى خَلَقَ السَّمَاءَ أَرْسَلَكَ اللهُ

ایسی کہتا ہے کہ ہم پر سال میں ایک مہینہ کے روزے ہیں فرمایا یہ سچ کہا کہ اس کی قسم ہے آپ کو بھیجا کیا اللہ نے آپ کو بھیجا کیا

أَمْرَكَ هَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَرَعِمَ رَسُولُكَ أَنْ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَرَّ اسْتَطَاعَ الْبَيْتِ

فرمایا ہاں اور آپ کا ایسی کہتا ہے کہ ہمیر خانہ کعبہ کا حج ہے جو شخص کی طاقت ہو تو اسے

سَبِيلًا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِأَلَى خَلَقَ السَّمَاءَ اللهُ أَمْرَكَ هَذَا قَالَ نَعَمْ

فرمایا یہ سچ کہا کہ اس کی قسم ہے آپ کو بھیجا کیا اللہ نے آپ کو بھیجا کیا فرمایا ہاں

قَالَ فَوَالِدِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرِيدُ عَلَيْكَ مِنْ شَيْئٍ وَلَا أَنْقُضَ فَقَالَ النَّبِيُّ

کہا اس کی قسم ہے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا میں ان پہ نہ بڑاؤں کو اور نہ کسی کو دل کا

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ صَدَقَ كَيْدُ خَلْنِ الْجَنَّةِ

ماید کہ فی المناویۃ و کتاب اهل العلم بالعلم الی البلدان و قال انس بن سعید
 مناویہ کے بارے میں علم اور اہل علم کا علم کی باتوں کا لکھ کر شہروں کی طرف بھیجا اور انہیں کہتے ہیں منان ہے
 المصاحف فبعثناہا الی الافاق و رای عبد اللہ بن عمرو یحییٰ بن سعید
 مصحف لکھوائے اور انہیں طرف میں بھیجا اور عبد اللہ بن عمرو اور یحییٰ بن سعید
 و مالک ذلک جائز و اخرجہ بعض اهل الجاز فی المناویۃ یحدیث التی صلے
 اور مالک نے اسے جائز سمجھا اور بعض اہل حجاز نے مناویہ پر دلیل تھی صلے اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہے
 اللہ علیہا حیث کتب لا مید السریۃ کتابا و قال لا تقرأہ حتی تبلغ مکان
 کہ آپ نے ایک دستے کے سردار کو خط لکھ دیا اور کہا اسے نہ پڑھنا یہاں تک کہ غلام مقام پر نہ پہنچ جائے
 کذا و کذا فلما بلغ ذلک المکان قراہ علی الناس و اخرجہم با مر التی صلے
 سو جب وہ اس جگہ پہنچا تو اسے لوگوں پر پڑھا اور انہیں نبی صلے اللہ علیہ وسلم کا حکم بتایا
 اللہ علیہا (۵۹) عن عبد اللہ بن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 عبد اللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 بعث بکتابہ مرجلا و امرہ ان یدفعہ الی عظیم البحرین فدفعہ عظیم
 اپنا خط اسے کہ ایک شخص کو بھیجا اور اسے حکم دیا کہ اسے بحرین کے حاکم کو دیدے اور بحرین کے حاکم نے اسے
 البحرین الی کسری فلما قراہ مرقہ فحسبت ان ابن المسیب قال فدعا
 کسری کی طرف میں بھیجا اس نے جہا سے پڑھا اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا میں سمجھتا ہوں کہ ابن المسیب نے کہا
 علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یرد علیہم فمما یرد علیہم ان یرد علیہم ان یرد علیہم
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر دعائی کہ وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں صلے اللہ علیہ وسلم نے روایت ہے کہ
 کتب التی صلے اللہ علیہ وسلم ان یرد علیہم ان یرد علیہم ان یرد علیہم ان یرد علیہم
 نبی صلے اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھ دیا یا امامہ لیکر لکھوا میں تو آپ سے لکھا گیا کہ وہ لوگ خدا نہیں پڑھتے اس آس کے کہ اس پر مرگی ہوتی ہو
 فاخذ خاتمنا من فیضہ نقشہ محمد رسول اللہ کانی انظر الی فیضہ فی یدہ فقلت
 تو آپ نے چاندی کی ایک انگلی بنوائی جس پر نقش تھا محمد رسول اللہ اگر آپ کو اس کے ہاتھ میں اس کی سنبری کہ دیکھتا ہوں
 لفتادہ من قال نقشہ محمد رسول اللہ قال انس بن سعید انہی من فیضہ فی یدہ
 میں فتادہ سے لکھا کہ اس کا نقش محمد رسول اللہ ہے صلے اللہ علیہ وسلم باب جو شخص اس جگہ بیٹھ جائے تو مجلس کی افیر کرے
 بہ المجلس و من رای فرجہ فی الحلقۃ فجلس فیہا (۶۱) عن ابن واقد
 اور جو شخص طے میں مکمل پڑھ لے تو وہاں بیٹھ جائے ابو واقد
 الی نبی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما هو جالس و اسجد الناس معہ اذ اقبل فلنثہ
 اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں آپ کے ساتھ تھے جب میں شخص آئے
 لفر فاقبل ثنان الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ذهب و اجد
 دو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے اور ایک چھوٹا

کلمہ منافہ ہے کہ
 اشارہ کر کے اپنی تحریر
 دے کہ یہ میری تعریف
 ہے اور یہ کس سے روایت
 کرتا ہے ایجابت سے اور
 کتاب یا کتابت سے کہ
 حدیث کو لکھ کر لکھنا
 مناسب اعتبار کیا تھا
 کسی دور سے کہ جو آج
 فرق صرف یہ ہے کہ
 منارہ میں شکار و خود
 استاد کے ہاتھ سے
 لیتا ہے نبی صلے اللہ علیہ وسلم کی
 حدیث جس کا بیان ذکر
 کیا ہے عبادت میں عربین
 کو امیر سرور لکھ کر
 ایک حصہ کو کہتے ہیں
 بنا کر بھیجے کہ شوق ہے
 اور خط میں ذکر تھا کہ
 خطہ تک جا کر طاعت
 اور مکہ کے درمیان ایک
 مقام ہے قریش کی خبر
 لا- اس میں عمرو بن
 حضرمی کو یہ لوگ ملے
 اور اسے قتل کیا اور
 سلاز کے ہاتھ سے
 ایک کافر کا یہ پلا قتل
 تھا۔ اس پر ایک شہادت
 حضرت عثمان کے مختلف
 بلاد میں قرآن کریم پڑھنے
 سے بھی لی ہے جو آپ نے
 نقل کیا کہ اس کا نام اور
 میں ادا کر اور جو
 اور یہ وہیں بھیجئے
 صلے اللہ علیہ وسلم
 بصرہ کے درمیان ایک
 شہر ہے ہکامانہ
 میں ساری تھا اور کسری
 جس کا ذکر ہے وہیں
 نوشیوان کا پوتا تھا۔
 یہ خطان خطوط میں سے

ایک تھا جو صلے اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے وطن کے نام لکھے کسری نے اسکی حدیث صحیحہ کی اور خطا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اب۔ غصبت کے نکلنے
 شباب میں پہل لفظ دعا میں جو صلے اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ پر لکھا کہ بعد سلطنت ایران ٹکڑے ٹکڑے ہوئی اور خود بہ درجہ نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی کہ تباری کے لئے کافی تھے
 تھے آیات اپنے پیش کے ہاتھ سے لکھ لیا۔ صلے اللہ علیہ وسلم کے حضور مولانا کا لکھا کہ اسے کوئی نہ لکھ سکے جو لکھ لکھا گیا۔ گو بارہ آپ نے ہی لکھا اس لئے جو صلے اللہ علیہ وسلم کا نقش تھا
 آج اس خط سے ثابت ہو گیا ہے جو موقوف کے نام حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا اور جس میں لکھا کہ اس کے لئے جو لکھ لکھا گیا۔ یہ نقش اس صورت میں ہے۔
 فتادہ جو کہ ایس میں مشہور ہے اسلئے روایت کے اخیر میں صلے اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا ہے کہ نقش کے ان الفاظ کی شہادت صحابی سے ہے۔

قَالَ تَوْفِقًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةَ وَالْحَلْفَةَ

کہ وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے رہے۔ پھر ان میں سے ایک نے

فَجَلَسَ فِيهَا وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ زَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ

تو اس میں بیٹھ گیا اور دوسرا ان کے پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا پیٹھ پھیر کر چلا گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ فَأَوَى

تو فرمایا گیا میں تم کو ان تین آدمیوں کا حال بتاؤں ان میں سے ایک نے اللہ کی جاہ لی تو اللہ نے اسے جاہ دی

اللَّهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَجَبَى فَاسْتَجَبَى لِلَّهِ مِنْهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ لِلَّهِ

اور دوسرے نے جیا کیا تو اللہ نے بھی اس سے جیا کیا اور تیسرے نے منہ پھیر لیا تو اللہ نے اس سے منہ پھیر لیا۔

عَنْ أَبِي بَابٍ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رُبَّ مَبْلَغٍ أَوْ عَمِي مِنْ سَامِعٍ (۶۲) عَنْ

باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بہتر سے ایسے ہونے ہیں کہ انہیں بات پہچانی جائے تو وہ سننے والے سے زیادہ یاد رکھتے ہیں

أَبْنَى بَكْرَةَ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعْدًا عَلَى بَعِيرٍ وَأَمْسَكَ انْسَانٌ بِخَطَايَاهِ

ابن بکر سے روایت ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا آپ اونٹ پر بیٹھے تھے اور ایک شخص اس کی گھلی پاگل تھے ہونے تھا

أَوْ بِزَمَانٍ قَالَ أَمَى يَوْمَ هَذَا فَسَكَّنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيَسْتَمِينُهُ سِوَا سِوَاهِ

فرمایا کہ کن سالوں میں تو ہم چپ رہے یہاں تک کہ مجھے خیال کیا کہ آپ کا کچھ اور نام رکھیں گے

قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ الْخَرِّ قَلْنَا بَلَى قَالَ فَأَمَى نَهْرَهُ هَذَا فَسَكَّنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ

فرمایا کیا تو زبان کا دن نہیں سمجھتے عرض کیا ہاں فرمایا کہ تو سائینسہ تو ہم چپ رہے یہاں تک کہ مجھے خیال کیا کہ آپ کا

سَيَسْتَمِينُهُ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ بِدَا الْخَرِّ قَلْنَا بَلَى قَالَ وَإِنْ دِمَاءُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ

کچھ اور نام رکھیں گے فرمایا کیا تو ذبح نہیں سمجھتے عرض کیا ہاں فرمایا تمہارے خون اور قاصدے مال

وَأَعْرَاضُكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحَرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ

اور تمہاری حرمت کو دوسری جہت میں بھی حرمت تمہارے اس مہینے میں تمہارے اس شہر میں تمہارے اس شہر میں ہے

هَذَا الْبَيْلُخِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يَبْلُغَ مَنْ هُوَ أَوْ عَسَى أَنْ

یاد رہے کہ حاضر غائب کو پہنچا دے ہو سکتا ہے اور جو غائب ہے وہ اپنے حضور کو پہنچا دے جو اسے بڑھ کر حضور نظر رکھتا ہے جو۔

مِنْهُ بَابُ الْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ

باب علم قبل اور عمل پر مقدم ہے اسلئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سو جان لے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَبْلَهُ إِبْرَاهِيمَ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ لَهُمْ مَوَازِينُ الْأَنْبِيَاءِ وَرَتَّبُوا الْعِلْمَ مَنْ

کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں (مؤمن) علم سے شروع کیا اور کہ عالم جنوں کے وارث ہیں انہوں نے علم کا درجہ چھوڑا

أَخَذَ أَخَذَ يَحْظُ وَأَفْرُ وَمَسْأَلَهُ طَرِيقًا يَطْلُبُ بِهِ عِلْمًا سَمَّى اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا الرَّجِيحَةَ وَقَالَ إِنَّمَا

جو شخص اسے لیتا ہے وہ پورا حقیقت لیتا ہے اور جو شخص کسی سے سنتے چھوڑتا ہے تو اس کو وہ علم طلب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ تعالیٰ کا نام

کی عزت کو برباد کرنا مسلمانوں کا عظیم گنہگار ہے۔ علم اس باب میں بھی فضیلت علم کا ہی بیان ہے۔ سب سے پہلے یہ بتایا کہ علم عمل پر مقدم ہے اس سلسلہ کا علم ہے ہی عمل پہ چلا ہوتا ہے۔

اس پر آیت قرآنی شہادت میں لائے ہیں۔ جس میں نقل توجید کا علم دیا ہے۔ فاعلموا ان لا اله الا الله ان اس کے بعد مستحق ذکر آتا ہے جو عمل ہے۔ اور اس حکم میں سب

مسلمان شامل ہیں۔ پس سب کے لئے حصول علم مقدم ہے۔ علم یہ اس حدیث کا ایک نمونہ ہے۔ جس کو ابو داؤد اور ترمذی نے بیان کیا ہے۔ العلماء موزن انبیا سے

یعنی علم انبیا کے وارث ہیں۔ مگر باوجود علم انبیا کو دیا جاتا ہے۔ وہ بطور وارثان کی امت میں بیعت ہے۔ مگر امام بخاری نے اس کو صحیح کو کسی تفسیر کی وجہ سے نہیں لیا۔ مگر

قرآن کریم پر مشافہہ ہے اللہ اور قرائن الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا۔ یعنی وہ چیز جو نبی کو دی جاسی کا وارث اس کی امت کو نہیں۔

ومن سلك طريقا يتقيا بهي اسي حديثه ذكره بالكا كرمنا ہے۔ رستہ سہل کرنے سے مراد یہ ہے کہ علم کے حصول سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ دنیا میں بھی اور آخرت

میں بھی ہے علم متوال خدا را شناخت ۵

علمنا متقیانہ
علم کے لئے متقیانہ کی
میں ہیں صلح و صلح
یعنی قیام میں صلح
کیا اس کا بعض حصہ دوسری
خطوں سے دور کر دیا
اللہ تعالیٰ کی صفات
پر وہی نظر پڑے ہے
میں جو دنیا کی مخلوق
میں بہت حال ہوتے
ہیں۔ مگر ان کی کیفیت
کچھ اور ہوتی ہے۔
میں علم سے
وہ شخص ہے جس کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث
پہنچانی گئی۔ اور
سے مراد ہے کہ وہ اپنے
نعم کی وجہ سے اس
کلام کو زیادہ محفوظ
رکھ سکتا ہے۔ اس
حدیث میں مسلمان کا حق
اور مال و دولت سب کو
ایسا ہی حرام ہے جیسا کہ
یعنی ایک مسلمان کیلئے
جائز نہیں کہ اپنے مال
بھائی کو مارے۔ یا
اس کا مال لے جائے
پہنچ کرے۔ اس آیت کی
تفسیر کو تو مسلمانوں
نے اب یا مکمل بھلا
رکھا ہے۔ بڑے بڑے
دعا حفظ گدا انہی کی ہر
کرتے ہیں کہ کسی زندگی
پر مشورہ کریں یا اسے
کا زود حال کہنے لگیں
کہ اس کے خلاف کیا کر
اسلام میں فتویٰ پیدا
کریں اور اللہ سے

يُحْتَسِبُ اللَّهُ مَرْغِبًا فِيهِ الْعُلَمَاءُ وَقَالَ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ وَقَالَ وَقَالُوا لَوْلَا نَسَمِعُهُ
 انفس سے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں (سودہ فاطمہ) اور ان باتوں کو عالم ہی سمجھتے ہیں (مکتوبات) اور فرماتا ہے کہ میں نے اگر ہم سنتے
 وَأَوْعِظُ مَا كُنْتُ فِي أَصْحَابِ السَّعِيدِ وَقَالَ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
 یا عقل سے کام لیتے تو ہم دوزخ میں نہ ہوتے (نکاح) اور فرماتا ہے کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے (الزمر) علم
 وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرِدُ اللَّهُ بِخَيْرٍ يُفْقَهُهُ فِي الَّذِينَ وَانَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ وَقَالَ
 اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی اللہ بھلائی یا تباہی اسے دین کی سمجھ دیتا ہے اور علم سمجھنے سے ہی آتا ہے علم اور
 الْبُؤْرُ لَوْ وَضَعَهُمُ الصَّمَامَةَ عَلَى هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى هَذِهِ فَفَاهَا تَمَرُّنْتَ أَيْ الْفِئْدِ
 ابوذر نے کہا اگر تم گلوں اس پر رکھ دو اور ابھی کہن کی طرف اشارہ کیا پھر تم مجھوں کو میں ایک بات بتاؤں گی
 كَلِمَةٍ سَمِعْتُمَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَجْزُوا عَلَيَّ لِأَنفَذْنَاهَا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اس سے پہلے تم میرا کام تمام کر دو تو میرا سے پہنچا دوں گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جو
 لِيَبْلُغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَوْنُوا رَبَانَيْنِ حُلَمَاءَ عُلَمَاءَ فَفَاهَا
 موجود ہے وہ خبر حاضر کو پہنچا دے اور ابن عباس نے کہا تم رہا بی دو عالم فقیہ
 وَيُقَالُ الرَّبَّانِيُّ الَّذِي يَرْتَدُّ لِنَاسٍ بَصِيغًا وَالْعِلْمُ قَبْلَ كِبَارِهِ بَابٌ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 اور کہا گیا ہے رہا بی وہ ہر جو لوگوں کو علم کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے پہلے سمجھاتا ہے علم اب جو نبی صلی اللہ علیہ
 وَلَمْ يَخُوهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ وَالْعِلْمُ كَوْنٌ يَنْفِرُ وَارْهَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَثَلٌ ۴۲ (۶۳) عَنْ النَّبِيِّ
 علم و عظیم اور علم میں رعایت وقت ملحوظ رکھتے تھے تاکہ انہیں لغت نہ ہو۔ دیکھو حدیث نمبر ۶۳۔ اس سے روایت ہے
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَيْسٌ وَأَوْلَاتُ كَيْسٍ وَأَوْلَادُ كَيْسٍ وَأَوْلَاتُ كَيْسٍ وَأَوْلَادُ كَيْسٍ
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روکوں پر آسانی کرو اور تنگی نہ کرو اور خوشی کی بات سناؤ اور لغت نہ پیدا کرو۔ باب جو شخص علم سمجھنے والوں کیلئے
 الْعِلْمُ أَيَّامًا مَعْلُومَةٌ ۶۲) عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ
 مقرر دن بخیر وے ابو وائل سے رعایت ہر کہمہا خدا بن مسعود لوگوں کو ہر
 خَيْرٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ دِدْتَ أَنَّكَ ذَكَرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ قَالَ أَمَا لَأَنْ
 جمعرات وعظ کرتے تھے ایک شخص نے ان سے کہا کہ اگر عبد الرحمن میری خواہش ہو کہ تم ہر روز ہمیں وعظ کیا کرو
 يَتَّبِعُنِي مِنْ بَنِي كَلْبَةَ فَإِنَّ أُمَّكَ وَأَبِيَّ أَنْتُمْ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ
 رکھتے ہے کہ میں بنی کلبہ کے لوگوں کو ہمیں وعظ کرتا ہوں اور میں موقع کی رعایت کرتا ہوں جیسے نبی

کلمہ اس کے بعد پڑھا
 قرآنی شہادت میں نے پڑھا
 اول یہ کہ جس قدر علم
 بڑھتا ہے
 اسی قدر شہیت بھی
 بڑھتی ہے دوسرا
 کہ ان امثال کو جو
 انسانوں کو سمجھانے
 لئے اللہ تعالیٰ بیان
 کرتا ہے علم والے ہی
 سمجھ سکتے ہیں دوسرا
 یہ کہ دوزخی بھی شہر
 کرس گئے کہ ہم نے
 کیوں نہ سنا لینے علم
 حاصل کیا اور کیوں
 نہ عقل سے کام لیا
 جو تھا یہ کہ عالم و عالم
 برابر نہیں علم
 اس کے بعد نبی صلی
 اللہ علیہ وسلم نے
 کی حدیث دین میں
 فہم کے متعلق بیان
 کی ہے جو ہر سہی
 آئے گی۔ دین میں
 نقد سے مراد وہی
 ہے۔ پھر کہا کہ علم
 سمجھنے سے ہی دنیا
 ہے۔ گو یا علم کے حاصل
 کرنے پر تو جس قدر
 ہے اور یہ الفاظ کا
 اعلیٰ و اعلیٰ
 حدیث روایع کا مجموعہ
 ہیں۔ علم اس کے
 ب ابوذر کی تعلیق

ہے۔ ابوذر کا خاص بہت معاویہ کے ساتھ چھٹا ہو گیا۔ بہت قرآن الکریم پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت عثمان کے ہاتھ میں قرآن کے تحت مسلمانوں کے پاس ہونے کا پورا پورا ذمہ دیا۔
 تھے۔ اور اس میں بہت تشدد کرتے تھے۔ آخر حضرت عثمان تک یہ معاملہ پہنچا اور آپ نے ابوذر کو حکم دیا کہ وہ زینہ میں سکوٹ اختیار کریں۔ یہی حالت میں کسی شخص نے ان کو کہا کہ تم کو
 ایسے فتوے لینے سے روکا جائے۔ تو انہوں نے جواباً کہا کہ اگر میری روک پر تلو ہو کہ میری جائے تو جو کچھ میرے نبی کریم صلعم سے سنبھالے کہنے سے نہیں روکوں گا۔ اس پر آپ نے
 سنا مسئلہ لال کیا ہے۔ مسکے آخر میں حضرت امین عس کے دہانے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ کہ وہ مرتبہ بھی اپنے اہل بیت کے علم سے حاصل ہوتا ہے صفار اللہ ام سے مراد واقع ہو۔
 ہیں۔ جن کے قبول کرنے میں زیادہ کاوش نہ ہو اور کبار الصلو سے مراد ایسی ذہین یا مشکل باتیں ہیں جن کے قبول کرنے میں زیادہ کاوش زیادہ ہے۔ علم اس باب میں بتایا ہے کہ علم دینے والے
 کی رعایت خدائی سے سمجھانا چاہیے۔ جو لوگوں پر مشق نہ ہو تھوڑے کے لئے تعہد میں اور مزاج سے کہ مراعات وقت کے لحاظ سے سمجھتے کرے اسی سے علم کے دینے میں
 بھی رعایت وقت کے مد نظر کہنے کا استدلال کیا ہے۔ اس کی تائید میں یہاں حدیث میں آئی ہے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ ان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 یستخوننا بالموعظة فی لایامہا کہ اہل السامۃ علینا یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاص میں ہوں موند اور صل کی رعایت سے ہمیں دیکھتے رہتے۔ یہ وہی
 آپ پسند کرتے کہ ہم آگیا ہیں۔ علم جیسے دین سمجھنے میں ذرا اور سہولت سے کلام کو۔ تنگی اور شدت نہ کرو۔ اور ذرا سا کمزوریوں پر عذاب کی دھمکیاں دے کر
 نہ ڈراؤ۔ بلکہ تنگی کے نیک نتائج کی طرف توجہ دلاؤ اسی بات کے اندر خوشخبری کا رنگ پیدا کرو۔ یہ ضرورت بالخصوص ان لوگوں کے متعلق ہے جو نئے نئے اسلام میں آئے ہیں۔
 اگر آج وعظ کا وہ رنگ ہے کہ نئے توبہ کی طرف رہنے کسی کے منہ سے ذرا سی قابل عزت بات سن لیں تو اسے اسلام سے باہر نکالنے کے لئے پورا دوزخ نکالتے ہیں۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ مَا كَانَ يُرَدُّ عَلَيْهِ مِنْ رَدِّ اللَّهِ بِهِ خَيْرَ النَّبِيِّينَ

صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ وقت کی رعایت رکھتے تھے اس خوف سے کہ ہم ان کا جاؤں باب جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے

فِي الدِّينِ (۶۵) عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ مَعَاوِيَةَ خَطِيبًا يَقُولُ سَمِعْتُ

دین کی کجی دیتا ہے محمد بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ میں نے معاویہ کو خطیب دیکھا جو اسے سنا وہ کہتے تھے میرے

الَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ رَدِّ اللَّهِ بِهِ خَيْرَ النَّبِيِّينَ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَائِمٌ وَاللَّهُ

جی صلے اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے دین کی کجی دیتا ہے اور کہ میں صرف بائٹے والا ہوں اور

يُعْطَى وَكَانَ تَرَاهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ

دیتا ہے وہی ہے اور یہ امت اللہ کے حکم پر قائم رہی ان کو ان کے خلاف نقصان نہ پہنچا سکیں گے

تَحْتِ يَأْتِي أَمْرُ اللَّهِ بِأَبِّ لَقِيمٍ وَالْعِلْمُ (۶۶) عَنْ مَجَاهِدٍ قَالَ سَمِعْتُ بَن

یہاں تک کہ اللہ کا حکم آجائے۔ علم باب علم میں ہم مجاہد سے روایت ہے کہ میں بن عمر کے ساتھ

عَمْرًا إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمَّا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ

مدینہ تک گیا اور میں نے ان کو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی حدیث بیان کرتے ہوئے سنا

وَاحِدًا قَالَ كَتَبْنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي بِمَجَاهِدٍ فَقَالَ إِنَّمَا الشَّجَرُ شَجَرَةٌ مِثْلَهَا كَمِثْلِ

کہا ہم نبی صلے اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو مجھ کو کا کھجور کا کھجور کا کھجور کا کھجور سے ایک حدیث پر میری مثال

الْمُسْلِمِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ لَهَا لَيْسَ بِهَا إِذَا أَصْغَرَ الْقَوْمُ فَسَكَتُ فَقَالَ لَنْتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مسلمان کی مثال ہے میں نے جاب میں کہہ دوں کہ میرے گریں سب لوگوں کو چھوڑنا تھا اسلئے جب را تو نبی صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

الْخَلَّةُ بِأَبِّ لَقِيمٍ وَالْعِلْمُ وَالْحِكْمَةُ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَقِيمُوا قَبْلَ أَنْ

مجاہد سے علم باب علم اور حکمت میں رشک کرنا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم ثابت مائل کرو قبل اس کے کہ

تَسُودُوا وَقَالَ بُوَعْبُدٌ لَلَّهِ وَبَعْدَ أَنْ تَسُودُوا وَقَدْ نَعَلِمُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بڑے بنجھاؤ نام بخاری کہتا ہے اور اس کے بعد بھی کہ تم بڑے بن جاؤ اور آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے

بَعْدَ كَيْسَرِيَّتِهِمْ (۶۷) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بڑا بچے کی طرح کے بعد علم حاصل کیا محمد بن عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ

حسد مت کروئے دے دو باتوں میں رنگ ہو سکتا ہے ایک وہ شخص کہ اللہ اس کو مال دے

عَلَى هَلِكَةٍ فِي الْحَيِّ وَرَجُلٌ

دوسرے راہ جن میں خرچ کرنے پر مسلط کرے دوسرا وہ شخص کہ اللہ اسے حکمت دے

بِحِرْمَةِ رَأْيِهِ فِي خَيْرٍ كَرِهَ بَرَسَطُكَ

آپ صلے اللہ علیہ وسلم کو حدیث کو علمین حدیث قرار دیا گیا ہے۔ علم غیظ ہے کہ انسان چاہے کہ جو عرض و شرف دوسرے کو حاصل ہے وہ اس کو بھی حاصل ہو اور حد اپنے خصوصیت میں ہے۔ یہ کہ دوسرے کا زوال نعمت چاہے تاکہ وہ بھی اس کی طرح ایک نعمت سے محروم ہو جائے حدیث میں لفظ حسد۔ غیظ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ امام بخاری نے عنوان باب میں یہ لفظ ذکر کیا ہے یعنی ایک نعمت کو دوسرے میں دیکھ کر خود اسے حاصل کی کوشش کرنا۔ حضرت عمر کے قول کا علم سمجھو قبل اس کے کہ بڑے ہو یعنی سرور بنو مطلب ہے کہ جب انسان غیر علم کیلئے کے طریق جانے تو وہ جو حالت وہ علم کے حاصل کرنے میں اپنی ذلت سمجھتا ہے۔ اور امام بخاری نے بعد ان سنو دو ماہیں بتایا ہے کچھ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ نبی صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث میں میرا مشنا نہیں کہ بعد میں علم نہ سمجھو۔ کیونکہ جو پہلے سمجھ گیا۔ وہ بعد میں خود ہی علم کی نعمت کی رو سے اور حیات کو مانا کہ انسان کی حقیقی ترس نعمت میں ہے۔ علم کے حاصل کرنے کی کوشش میں میرا اس زیادتی سلمان امر اور شریعت میں یہ گدے نشیوں کے را کے ابتداء سے ہی بڑے بن رہتے ہیں۔ لوگ ان کی عزت کرنے میں اور ان کے ہاتھ جو چھتے ہیں وہ ان کو بڑا بننے سے پہلے علم کے حاصل کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ ان کے اخلاق سدھرتے ہیں۔ علم حسد کے معنی اور بیان ہو چکے ہیں۔ دوسرا وہ شخص کہ زوال نعمت کا زوال نعمت کا حال کرنا ہے۔ لا حسد الا فی اثنتین میں فی الحقیقت نہیں بلکہ ان دو چیزوں کی عظمت کے لئے نہ صرف کی صورت اعتبار کی ہے یعنی ان کو استثنا سے منقطع قرار دے کر حسد کو اپنے اصل معنی میں لیا ہے یعنی لا حسد ہوا دوسرے کا زوال نعمت چاہنا تو کسی صورت میں جائز نہیں۔ یہیں یہ خواہش مت کرو کہ کسی کا زوال نعمت ہو۔ یاں خواہش کرنا کہ وہ چیز میں ایک یہ کمال ہوا اسے خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ جیسے دوسرے کا سارا خدا کی راہ میں دیو۔ دوسرے کو علم و حکمت ہو تو اسے دوسرے کو سکھاؤ۔

علم میں تمام ہو یعنی صدقات یا ہول کا تقسیم کرنے والا اور اللہ سے کھلی ہوئی حقیقت میں بیخودا وہی ہے۔ توحید کا سبق سکھایا ہوا ہے جو فرمایا ان کے خلاف انہیں نقصان نہ پہنچا سکیں گے تو اسلام کی تاریخ اسکی مصداق پر شاہد ہے اور اللہ کے آئے سے مراد یہی معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی اپنی بد کرداریوں اور اپنے باہمی فساد کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا آئی تھی۔ تاریخ اسلام کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کو کبھی دشمن نے ہلاک نہیں کیا بلکہ انکی ہمدردی اور جھگڑوں نے برباد کیا۔ یہاں تک کہ آج پہلے سے اس زمانہ میں جنگ عظیم میں مسلمانوں کو جو نقصان پہنچا وہ ایک دوسرے کی مخالفت سے پہنچا علم اس حدیث کا پتلا حسد نہ ہے بلکہ اگر چیکر جو چیکر پہلا حصہ نام نہ ہے۔ اور پتلا حسد یہاں مفہوم

قَوَيْضِي بِهَا وَعَلَيْهَا بَابٌ مَا ذَكَرْتِي ذَهَابَ مُوسَى فِي النَّجْمِ الْخَضِرِ وَقَوْلِهِ

تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَلْ أَنْتَعَكَ عَلَى أَنْ تَعْلَمَنِي (آية رقم ۷۸) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُتَرَكِّمًا (۱)

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيمَةُ الْكِتَابِ (۶۸) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

ضَمِنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابُ بَابٌ مَنِيَّ بِسَمَاعِ

الصَّخْبِيِّ (۶۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ابْتُ بَابٍ مَنِيَّ بِسَمَاعِ

الْإِحْتِلَامِ وَمِنْهُ سَمَاعُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابٌ مَنِيَّ بِسَمَاعِ

الْأَنْ رُبَعٌ وَدَخَلَتْ فِي الصَّيْفِ وَأَمْ يَنْكُرُ ذَلِكَ عَلَى (ز) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ

عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَجَّتُنِي وَنَجَّيْتُ وَأَنَا ابْنُ خَمْسٍ سِنِينَ مِنْ دَلْوٍ

بَابُ الْخُرُوجِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ حَاجِبُ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ ابْنِ حَالِي

بَابُ عِلْمِ حَالِي كَرْتِ لِي سَمَاعِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

بَابُ عِلْمِ حَالِي كَرْتِ لِي سَمَاعِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

بَابُ عِلْمِ حَالِي كَرْتِ لِي سَمَاعِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

بَابُ عِلْمِ حَالِي كَرْتِ لِي سَمَاعِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

بَابُ عِلْمِ حَالِي كَرْتِ لِي سَمَاعِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

بَابُ عِلْمِ حَالِي كَرْتِ لِي سَمَاعِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

بَابُ عِلْمِ حَالِي كَرْتِ لِي سَمَاعِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

بَابُ عِلْمِ حَالِي كَرْتِ لِي سَمَاعِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

بَابُ عِلْمِ حَالِي كَرْتِ لِي سَمَاعِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

بَابُ عِلْمِ حَالِي كَرْتِ لِي سَمَاعِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

بَابُ عِلْمِ حَالِي كَرْتِ لِي سَمَاعِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

حاله بیان شد
داده
الفاظ بیان کیا ہے اور
یہ روایت ہے حضرت
نوسی اور حضرت علیہ السلام
بیان میں ہے جس بات کو
کا ذکر کران کریم میں
سورہ گفت میں آیا ہے
یہ روایت اور بھی ہے کہ
کر آیا ہے اور اسے
کتاب فہمی کتاب العلم
میں تین جگہ ذکر ہے
حدیث بخلا حدیث
کر روایت میں جو یہاں
ہے تہمیدی الفاظ میں
اختلاف ہے کہ بیان بن
عباس کا جگر اور بن
قیس سے اس بات پر ہے
کہ صاحب ابوی اس کا
ذکر اس واقعہ میں ہے
وہ حضرت بن ابی اور
اور حضرت عت ابن
ابن عباس کا جگر اور بن
یگانہ کے ساتھ اس بات

پہلے کہ رون کتھا کہ میں موسیٰ کا ذکر اس واقعہ میں ہے وہ نبی اسرائیل کے موسیٰ نہیں باقی اصل حدیث کا بیان نہایت اختصار کے ساتھ بیان ہوا ہے اور اس سے افضل بیان ہوئی ہے۔ پھر حضرت
کہیں حدیث موسیٰ سے سوال ہے کہ کیا آپ اپنے سے بڑھ کر کسی عالم کو جانتے ہیں رھل تعلم احدا احد علم منکم انوکما نہیں اہد وہاں سوال حضرت موسیٰ سے ہیں ہے کہ لوگوں میں بڑے بڑے علم
کو ہونے والی انماں خضر تو انہوں نے کہا کہ میں سب سے بڑھ کر عالم ہوں رانا اعلیٰ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قصوں کی حدیثوں کے الفاظ میں راہوں نے بہت تعریف کر لی ہے اور
نہیں کہا جاسکتا کہ اصل الفاظ پر حضرت مسلم نے فرمایا ہے کہ وہ کیا تھے۔ ابتدا یہ حدیث کا جو حصہ میں نہیں آیا۔ یہاں پر ہیں سے ابن عباس نہ بتاری کو ہوا لیکن تیس فی صاحب موسیٰ
قال ابن عباس ہو حضرت فرمایا بنی کعب ذہاب ابن عباس فقال فی تہمید انار و صابی ہذا فی صاحب موسیٰ لہذا وسئل عن المسلمین فی الفیہ ہل حدیث النبی صلعم میں کہنا
قال نعم سمعت النبی صلعم يقول بیہما میں فی ملاحی من یذنی مد را لیل ذہاب و رھل فقال ہل تعلم احدا احد علم منکم قال صابی لا ینسب من کان کادار و رجح ابن
کا ذکر اہل حدیث موسیٰ کے صاحب کے بارے میں ہوا۔ ابن عباس نے کہا وہ حضرت ہیں تو ان پر ابی بن کعب کا ذکر ہوا۔ ابن عباس نے انہیں بلایا اور کہا کہ میرا اہد میرے اس صحابی کا جگر اور موسیٰ کے
صاحب کے بارے میں ہو گیا ہے۔ جس کی لغات کے لئے حضرت موسیٰ نے فرستے دریافت کیا تھا کیا یہ نبی صلعم کو اسکے حال کا ذکر کرتے تھے۔ کہا ہاں۔ میں نے حضرت مسلم کو یہ کہتے تھے۔ کہ
حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے سردار میں تھے۔ جب ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ کیا تم اپنے سے بڑھ کر علم والا کسی کو جانتے ہو۔
حضرت موسیٰ کے سوا کسی کا وہاں اس لئے ایک عالم کو جانتے کے لئے کسی قدر شفقت کا اظہار ضروری ہے۔ اور بندہ سے بلند مقام پر پہنچ کر بھی طلب علم کی خواہش نہیں چھوڑنی چاہیے۔
خبر کے تعلق جو یہ مشہور ہے کہ انھوں نے چونکہ اہمیت ملی یا یہ اس لئے قیامت تک زندہ رہے۔ یہی کوئی سند نہیں۔ چنانچہ قسطی نے کہتے ہیں انکو جامع صحابہ ترک جماعت ہے اس کی تذکرہ
الذکر کیا ہے۔ جن میں سے مولف اور ابن المبارک اور جوی۔ ابن الجوزی ہیں۔ علم کتاب مروا قرآن شریف کا کفر ہے چنانچہ ایک روایت میں آیا ہے اللہ الفقہ فی لدین و علم اللہ اول و لدین
ہے اللہ علم اللہ کلمۃ و ذاد اول الکتاب الی ہی کے حضرت عمر اجداد ابن عباس کے عمر میں جو یٹا ہو چکے تفسیر قرآن میں ان کی سب کی بہت عزت کرتے تھے۔ علم ابن عباس ملت میں اس مسئلہ کی روایت
کرتے کے ہاں سمجھتے کہ ابھی بلوغ کو نہیں پہنچے۔ جس سے معلوم ہوا کہ بلوغ شرط نہیں۔ بلکہ قفا ہمت یا نہ شرط ہے۔ اس لئے مؤمنان باب میں حضرت ابن عباس کا تہمت کا ذکر کیا کہ ایسے شخص کی روایت
اس بات میں قابل قبول ہو سکتی ہے کہ ایسے صلوة میں اس کے کو واقعہ کیا گیا ہے کہ کو نادی کے آگے گزرتے سے نماز نہیں ٹوٹی گئے۔ اس کو ایسی حالت میں گناہ کی تو میری محل جو بہت بڑا ہے +
علم دوسری روایت میں صلعم میں محمد بن بلال بن جہلی نے جو بوقت بلوغ کے سال کے ہیں۔ مگر اس میں ایک واقعہ کا ذکر ہے جو کسی صلعم سے تعلق نہیں رکھتا اور ایسا ہونا ہے کہ بعض اوقات جو
طبیعت بعض افراد میں نہ ہو چوتھی عمر میں بھی باوجود جانتے ہیں اسکے ہر مہینے نہیں کہ بلوغ سال کا پوسٹل کو سمجھ کر ان کی روایت بھی لکھتا ہے۔ کلمہ۔ یہ باب علم حدیث کی حکمت پر ایک ضابطہ نوی
شہادت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جاری بن عبدالرحمٰن ایک صحابی ہیں اور بعض ایک حدیث کی تصدیق کے لئے جو دوسرے کسی صحابی کی زانی ان کی تکریم ہے۔ یہ ایک گناہ کا سزا ہے کہ ہے۔ جوی زاد کو
کلا قہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ابی ایوب انصاری نے عقب بن عامر سے ایک حدیث کی تصدیق کے لئے سزا کیا اور امام مالک نے مسجد بن اسب سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ اس طلب حدیث میں
گوئی کہ ان اور اس میں سزا گناہ کا تھا۔ لہذا یہی کہ اقل جو ایک شخص کا وہ تک ایک مسئلہ کی تحقیق کے لئے چلا جانا ایک معمولی اور قصداً براوانہ حکمت ہے کہ جب ہم صحابی ہی صلعم کی طرف سے کوئی روایت
سنتے تھے تو ہمیں چاہتے تھے۔ یہاں تک کہ خود ایک حدیث سے نہ لیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابی اور تابعین کو کسی قدر شوق طلب حدیث اور علم حدیث کے محفوظ رکھنے کا تھا۔ علم بیان حدیث
یہ ایک ایسا ہی حدیث الفاظ میں ہے۔ جسے کو حدیث میں کو ٹھ م حدیث کا جگہ جہاں نہایت ہی مختصر الفاظ میں ہے۔

ابو ہریرہ (۹) عن ابن عباس مکرر (۱۰) بَابُ فَضْلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ

دیکھو حدیث نمبر ۱۰۱۰ باب اس کی فضیلت جو علم کھتا اور سکھاتا ہے

(۱۰) عَنْ ابْنِ مَوْسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْبَعْتِ

ابو موسیٰ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کراس کی مثال

اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ إِصَابَ أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا

جو اللہ نے مجھے علم اور ہدایت دے کر بھیجا ہے بڑے مینڈک کی مثال ہے جو زمین پر برستا ہے تو بعض زمین

يُقَيِّمَةٌ قِيلَتِ الْمَاءُ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَّا وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ

اچھی ہوتی ہے جو پانی کو قبول کرتی ہے اور گھاس درہت بڑی اگاتی ہے اور بعض زمین بھرتی ہوتی ہے

أَمْسَكَتِ الْمَاءُ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا وَإِصَابَ مِنْهَا

جو پانی کو روک رکھتی ہے تو اللہ اس کے ساتھ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے سو وہ اس سے پیتے ہیں اور پلاتے ہیں اور کھیتی میں دیتے ہیں اور

طَائِفَةٌ أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قَيْعَانٌ لَا تَمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلًّا فَذَلِكَ

کچھ اور زمین پر وہ مینڈک پرستاری جو پیش ہوتی ہے نہ پانی کو روکتی ہے اور نہ گھاس اگاتی ہے یہ اس کی

مَثَلٌ مَنْ فَعَلَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ بِمَا بَعْتَهُ اللَّهُ بِهِ فَعِلْمَهُ وَعَلَمَهُ وَ

مثال ہے جس کو اللہ کے دین کی کچھ سمجھ آگئی اور جو بات اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے اس سے اس کو بھی نفع پہنچا سو وہ علم کھتا اور سکھاتا ہے

مَثَلٌ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي

اذا اس شخص کی مثال جس نے اس پر سر نہ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو جو مجھے دے کر

أُرْسِلْتُ بِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِسْحَقُ عَنْ ابْنِ إِسْمَاعِيلَ وَكَانَ

بھیجا گیا قبول نہ کیا بخاری کہتا ہے اسٹی نے ابواسامہ سے روایت کیا اور

مِنْهَا طَائِفَةٌ قِيلَتِ الْمَاءُ قَاعٌ يَغْلُوهُ الْمَاءُ وَالصَّفْصَفُ الْمُسْتَوِي

اس میں سے کچھ حصہ ایسا ہے جو پانی کو قبول کرتا ہے قاع وہ ہے جس پر پانی چڑھ جائے اور صفصف ہموار

مِنَ الْأَرْضِ بَابُ رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ وَقَالَ رَبُّعٌ لَا يَنْبَغِي

زمین میں علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا ظاہر ہونا اور بیچنے کا کسی شخص کو چکے پاس

لَا حَيْدَ عِنْدَ أَشْيَةٍ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَضِيْعَ نَفْسُهُ (۲) عَنْ ابْنِ

کچھ علم ہوئے مناسب نہیں کردہ اپنے آپ کو ضائع کر دے۔ علم انس سے روایت ہے

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ زَيْنًا شَرِطَ السَّاعَةَ أَنْ يَرْفَعُ

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موعود گھڑی کی نشانیوں میں سے کہ علم اٹھ جائے

الْعِلْمَ وَيَنْبِتِ الْجَهْلُ وَتَشْرَبَ الْخَمْرُ وَيُظْهِرَ الزُّنَا (۳) عَنْ

اور جہالت قائم ہو جائے اور شراب پینی جائے اور زنا ظاہر ہو جائے

ابْنِ قَيْسٍ قَالَ لَأَحَدٍ تَشْكُرُ حَدِيثًا لَا يَحْدُثُ شُكْرًا أَحَدٌ بَعْدِي سَمِعْتُ رَسُولَ

انس سے روایت ہے کہ میں نے ایک حدیث بیان کرنا ہوں جو میرے بعد کوئی تم کو بیان نہ کرے گا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا

علم میں ہدایت
علم کو پائش سے مثال کر
نقص ہے لوگوں کا ذکر
کیا ہے۔ پہلی قسم میں
گرہ میں سبک نہ کر
جو نفع اٹھائے اور
دوسروں کو نفع پہنچائے
میں کی مثال اس زمین
سے دی جس میں بڑیاں
اگتی ہیں دیکھو وہ
نوع نفع کا کچھ ہے جس کو
علم کو کچھ پہنچا دیتے
ہیں اس کی مثال اس زمین
سے دی جس میں پانی
آئینہ آستان کیلئے
مخصوص نہ جاتا ہے اور
دوسری تہہ ہے جو
پیش زمین کی طرح ہے
کراس پر پانی بڑھا دینا
یعنی انہوں نے نہ تو علم
نفع اٹھایا نہ سکھایا
پہنچایا۔ علم میں کچھ
نے کچھ ترغیب دی
ہے۔ علم کے
جائے نہ ملے علم کے
کا اٹھایا جانا اور علم
سو کاتی رہ جاتا دیکھو
حدیث نمبر ۱۰۱۰ اور یہ
یہ قول کہ جس کے پاس
کچھ علم ہوئے مناسب
نہیں کہ وہ اپنے علم کو
کے ساتھ اپنے علم کو
اس علم کو پیش رکھے تاکہ
وہ ضائع نہ ہو جائے
اور اس طرح جو علم کو
پھیلاتا ہے۔ ایسا
ہے کہ اپنی زندگی کی
قدر کے اور اس ضائع
نہ ہونے سے۔
علم کا جتنا اوجھتا
کا جانا اور شراب پینا

جانا اور دنیا کاری کا علم نہ ہونا الساعۃ کی علامات میں سے بیان کئے گئے ہیں۔ الساعۃ سے مراد ایک قوم کی تباہی کی گھڑی کیلئے ہے جن گھڑیوں میں یہ لفظ قرآن و حدیث میں آیا ہے تو مسلمان
ان قوم کی تباہی کی یہ علامات بالکل درست ہیں۔ وہ قوم جو علم کی عقیدہ دار تھی۔ اور جس نے تباہی کے کوفوں میں علم کی مشعل کو روشن کیا تھا۔ انہوں نے کچھ اس طرح جہالت میں غمور پڑی ہے کہ
کوئی کسی علم کے قریب آئے تھا۔ اللہ عزوجل کی بھی راضی مسلمان ملک میں اس طرح راج ہو گئی جو کہ تریب ہے کہ ان کا اعتقاد اٹھ جائے۔ اور یہی حالت زنا کی ہے۔ اور اگر الساعۃ
قیامت کو ہی مراد لی جائے تو اس وقت شاید اور بھی یہ علامات کمل نظر ہوں۔ لیکن بظاہر یہ سب زیادہ چسپان ہیں۔ ع۔ یہ نکتہ سطور ۱۰۱۰ کے آخر پر لکھا ہے۔

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ شَرَّ الْجَاهِلِ السَّاعَةَ أَنْ يَقِيلَ الْعِلْمَ وَيُظْهِرَ الْجَهْلَ وَ

بُظْهِرَ الزَّيْنُ وَكَثُرَ النِّسَاءُ وَيُقِيلَ الرَّجَالُ حَتَّى يَكُونَ لِحَسْبَيْنِ امْرَأَةٌ الْقِيمِ الْوَاحِدِ

زنا ظاہر ہو اور عورتیں بہت ہوں اور مرد ٹھوڑے ہوں۔ زمان تک کہ پچاس عورتوں کے لئے ایک ہی شغل ہو۔

بَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ (۴۲) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا أَنَا نَأْتِي نَقْدًا لِبَنِي فَشَرِيَتْ حَتَّى آتَى لَأَرَى الرَّتَّةَ

يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي ثُمَّ أُعْطِيَتْ فَضَلِّي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالُوا فَمَا أَوْلَتْهُ يَا

رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْعِلْمُ يَابُ الْفِتْيَانِ وَهُوَ وَقَفٌ عَلَى ظَرْفِ الدَّائِرَةِ وَغَيْرِهَا

کتابت کی فضیلت - عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَجَّرَ الْوُدَّاعِ مِنْهُ لِلنَّاسِ نِسْأُونَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لِمَ اشْتَرْتُمْ قَبْلَ

أَنْ إِذْ بَجِ قَالَ إِذْ بَجِ وَلَا حُجْرَ فَجَاءَ آخَرَ فَقَالَ لِمَ اشْتَرْتُمْ فَحَرَّتْ قَبْلَ أَنْ

أَزْجِي قَالَ إِذْ بَجِ وَلَا حُجْرَ قَالَ فَمَا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ

قَدِمَ وَلَا آخِرًا قَالَ أَفْعَلُ وَلَا حُجْرَ بَابٌ مِنْ أَجَابِ الْفِتْيَانِ بِإِشَارَةِ الْيَدِ وَ

الرَّاسِ (۴۳) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ شَكَرَهُ (۴۴) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَبْصُ

الْعِلْمِ وَيُظْهِرُ الْجَهْلَ وَالْفِتْنُ وَيَكْثُرُ الْهَرَجُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْهَرَجُ فَقَالَ

هَلْكَانَا بَيْدًا لَمْ نَحْرُكْ مَا كَانَتْ يَرِيدُ الْقَتْلَ (۴۵) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَتْ آبَتُ عَائِشَةَ

وَهِيَ تَصَلِّيَتْ فَظَلَّتْ مَا شَأْنُ النَّاسِ شَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ فَاذَّ النَّاسُ قِيَامًا فَقَالَتْ

أَوْرِدُوا نَارَ جَهَنَّمَ رَهَى فَيُخْسِ فِيهَا كَمَا تُكُونُ كَمَا يُؤَادُ أَوْ هَرَجٌ هَرَجٌ هَرَجٌ هَرَجٌ

کے یہ ہے کہ شیطان اپنی مجال عورتوں کے ذریعے سے بھی اپنا کام لکھتا ہے۔ چنانچہ عیاشی مشنری لیا یہی کرتے ہیں اور حضرت انس کا یہ کہنا میرے بعد یہ حدیث تم سے کوئی بیان نہ کرے گا

یعنی ایسا شخص جس نے رسول صلعم سے اسے سنا جو اس وجہ سے تھا کہ یہ آپ کی آغوش تھی اور عابد بہت کم زندہ رہ گئے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کمال عیاشی میں حضرت عمر کا تیرا سب صحابہ شریک تھے

کمال بائیں کے کہ حضرت ابو بکر فاقن ہیں ماسی نے وہ ہر یقین سزاخ اور یہ سزا کے مترج ہیں۔ علم میں جیل حدیث کے مضمون کو ہی دہرا رہا ہے۔ البتہ جو اب میں ہی صلعم کے متعلق یہ لفظ دونوں آئے ہیں

آئے ہیں اور صابینہ لفظ اپنے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ کوئی ہرج نہیں اور اس سے منوان باسینہ یعنی ہاتھ یا سر کے اشارہ سے جواب بنا رہا ہے۔ علم کے متعلق شریک ہاتھ ہیں لغت میں نزل کے معنی میں آیا ہے۔

علم اس حدیث کا معنی
پہلی سے تھامی یہاں
عورتوں کی کثرت کو بھی
انسانات قیامت میں
تے ایک نشان قرار دیا
ہے یہاں تک کہ ایک
ایک مرد کے گھر میں
پچاس پچاس عورتیں
ہوں۔ چنانچہ تک
مسلمان اقوام کی جیسا
دیکھ کر کاسول جو پہلا
پچاس چھوڑ کر کئی سو
عورتیں ایک ایک امیر
اور رئیس نے گھروں
میں لڑائی لڑ رہی
دی۔ ان تک تار ہی کی
ہوئی کہ امر اعیاشی میں
پڑ گئے۔ اور اگر تیرت
کے مراد لیا جائے تو
بھی انکے نشان ظاہر
ہیں۔ یہ وہ ہیں تو یہ
بھی عورتوں کی کثرت
ہوئی ہے جو تار ہی میں
عورتوں کی تعداد بڑھ
سے بڑھتی چلی جاتی ہے
شاخص بن گئے ہیں کہ
مزید ہے کہ زیادہ
رہا ہے کہ وجہ سے مو
مارے جائیں گے لیکن
نہاں میں نے کہا ہے کہ
چونکہ عورتیں حجاب
الشیطان ہر پاس سے
ان کی کثرت بھی عیاشی
کے مفقود ہونے کی وجہ
کرتی ہے۔ مگر یہ یاد رکھنا
چاہیے کہ تمام صحابہ کو
حجاب الشیطان میں
کہا گیا۔ کیونکہ بڑی
بڑی بائندرتی عورتیں
بھی ہوئی ہیں عورتوں
کو حجاب الشیطان بننے
کے کوئی بیان نہ کرے گا
یعنی ایسا شخص جس نے رسول صلعم سے اسے سنا جو اس وجہ سے تھا کہ یہ آپ کی آغوش تھی اور عابد بہت کم زندہ رہ گئے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کمال عیاشی میں حضرت عمر کا تیرا سب صحابہ شریک تھے

سُبْحَانَ اللَّهِ قُلْتَ آيَةً فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَيُّ نَعْمَ فَفَمِتُّ حَتَّى عَلَانِي الْعَشَى

سبحان اللہ میں نے کہا کوئی نشان ہے تو اسے سر سے اشارہ کیا ہے ان سو میں بھی تلازمی ہو گئی یہاں تک کہ مجھے حقیقی

صَحَلْتُ اصْبَ عَلَى رَأْسِي لَمَّا فَحِمَدَ اللَّهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتَمَّتْ عِلْمِي

سو میں اپنے سر پر ہاتھی ڈالنے لگی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی اور اس کی ثنا کی

ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَلِكُنْ أَرِيئُهُ إِلَّا رَيْئُهُ فِي مَقَامِي هَذِهِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَأَوْرَجِي إِلَيَّ

پھر کہا کوئی چیز نہیں جو مجھے دکھائی نہ تھی مگر میں نے اسے اس جگہ دیکھا یہاں تک کہ بہشت اور دوزخ کو محلہ تیرہ لیرات دکھائی

أَنْتُمْ لَقْتُنُونِ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ أَوْ قَرِيبٍ لَا أَدْرِي أَيُّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ مِنْ

کہ تم اپنی قبروں میں آئے جاؤ گے میرے برابر اللہ کے فضل کے مثل یا قریب میں نہیں جانتا اسارے کیا کہا تھا

فَسْتَمِعْتُ السَّيِّحَ الدَّجَالَ يُقَالُ مَا عَلَيْكَ هَذَا الرَّجُلُ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوْ الْمُؤْمِنَةُ

کہا مجھے گا کہتا ہر علم اس شخص کے متعلق یہاں ہے سو مومن یا یقین رکھنے والا

لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَ نَابًا بِالْبَيِّنَاتِ هَذِهِ

میں نہیں جانتا کہ اسماء نے ان دونوں میں سے کون سا لفظ کہا تھا کیونکہ وہ محمد اللہ کے رسول ہیں جو ہمارے پاس دلیلین اور ہدایت لائے

فَلَجِنَاهُ وَاتَّبَعْنَاهُ هُوَ مُحَمَّدٌ ثَلَاثًا فَيَقَالُ لَمْ صَاحِبًا قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِنًا بِهِ وَأَمَّا

سو ہم نے آپ کو قبول کیا اور آپ کی پیروی کی وہ محمد ہیں تین مرتبہ کہا جائے گا اچھی طرح سو ہو جا تے تھے کہ تو اس پر یقین رکھتا ہے اور

الْمُنَافِقُ أَوْ الْمُرْتَابُ لَا أَدْرِي أَيُّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ

منافیق یا شک کرنے والا میں نہیں جانتا اسماء نے ان دونوں میں سے کون سا لفظ کہا تھا کیونکہ مجھے معلوم نہیں میں نے لوگوں کو کچھ کہنے سنا

يَقُولُونَ شَيْئًا فَنُفِثَتْ بَابُ تَحْرِيطِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدَّعِيْدُ لِقَيْسِ بْنِ

سو میں نے بھی وہی کہا۔ بطل باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفد عبد القیس کو ترغیب دینا

أَنْ يُحْفَظُوا الْإِيمَانَ وَالْعِلْمَ وَيُخْبِرُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ وَقَالَ مَالِكُ بْنُ الْحَوْثِ قَالَ

کہ ایمان اور علم کی حفاظت کریں اور ان لوگوں کو خبر کریں جو ان کے پیچھے ہیں اور مالک بن حوثر نے کہا

لَمَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَجَعُوا إِلَى أَهْلِ بَيْتِهِمْ فَعَسَوْهُمْ إِمَامُ الْعَنْ أَيْ جَمْعُهُ مِثْرَةٌ مِنْ بَابِ الرَّحْلَةِ فِي

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ لوگوں کی طرف لوٹ جاؤ اور ان کو عیسویہ دو۔ مگر دیکھو حدیث نمبر ۲۱۰۰ باب

الْمَسْأَلَةُ لِلنَّازِلَةِ (۲۱۰۰) عَنْ عَقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ تَرْوِجَ ابْنَهُ لِأَبِي رَاهِبِ بْنِ

کسی مسئلے کے لئے جو پیش آ گیا ہو مسؤرا عقیدہ بن حارث سے روایت ہے کہ اس نے ابو راہب بن

عَزِيرٍ فَاتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ لِي قَدْ أَرْضَعْتَ عَقْبَةَ وَاللَّيْ تَرْوِجُهَا قَالَ لَهَا عَقْبَةُ

عزیر کی بیٹی سے نکاح کیا پھر ایک عورت اس کے پاس گئی اور کہا میں نے عقیدہ کو اور اس کو بے ساقفا سے نکاح کیا تو وہ عقیدہ نے اسے کہا

مَا أَعْلَمُ أَنْكَ أَرْضَعْتِي وَلَا أَخْبَرْتِي فَرَكِبَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ

کہ مجھے علم نہیں کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہو اور نہ تو نے مجھے خبر دیا پھر وہ سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے میں آیا اور آپ سے پوچھا

دیکھتے تھے تو یہ یوں زور دیا جاتا ہے کہ معراج جب تک اس جسم کے ساتھ نہ ہو اسی پر اسمان پر کیونکر جاسکتے اور بہشت و دوزخ کو دیکھ سکتے تھے۔ اس حدیث نے یقین دہاندہ کو دیا کہ آپ کو حکمت

بیرا مات کہنے کے لئے عین حالت تلازمی میں کچھ دکھا دیا گیا۔ یہاں تک کہ بہشت اور دوزخ بھی۔ حملہ ہذا الرجل سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ قبر ہر انسان کی موت کے بعد حالت پر سے

بہشت لکھا جاتا ہے۔ ان کے میں ہر انسان کے متعلق آیا ہے۔ تمام امانتہ فاقہ ہے۔ پھر اسے موت دہائی پھر قبر میں رکھتا ہے۔ پس کوئی انسان خواہ ذویب جائے یا جلا جائے اس پر بھی قبر کی حالت آتی ہے

اور اس حالت قبر میں اسے زنا یا جانا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کا کشفان علی قدر مراتب ہے۔ لعلہ صبح کے رہنماؤں کو کشفات ہو جاتا ہے۔ کہ ان کے کائنات تک پہنچیں پیدا ہو چکی ہوتی ہے۔ مگر سائق و مرتاب کو ایسا کشفات نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے فقہاء صیغہ کی حقیقت بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہ فحش و زانیہ والا ہے۔ حملہ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم صحابہ کو دیتے تھے یہی حکمت کے لئے خود بھی تاکید فرماتے تھے۔ یہی حفاظت حدیث کے مسلمانوں میں کی ایک بڑا مسلمان ہو گیا۔ اس باب میں حدیث ۲۱۰۰ کو دیکھئے یہیں سے لے کر پچھلے الفاظ تک آتے آتے مانت معہ شہدین تک الفاظ میں نہیں

۱۔ مرث حضرت
اسارے سے جو حضرت
میں ایک سو برس کی ہو کر
فوت ہوئی اور اس
عمر میں بھی لکھا ہے کہ
ان کا دانت کوئی نہ گرا
تھا۔ فوت جسمی کے
ساتھ فوت قلبی بھی
کمال درجہ کو کہتی تھیں
چنانچہ بیٹے حضرت
بن زبیر کو جب وہ چھ ماہ
کی اہلیت قبول کر چکے
لئے مشورہ کرتے آئے
تو کہا کہ ہمارے ثنائی
ہیں جبکہ کہنے ہوتے
مارے جاننا اس سے بہتر ہے
اسما جب آئی ہیں۔ تو
حضرت عائشہ اپنے جو
میں نماز کسوٹ پڑھ
رہی تھیں تو کسی
میں تھے حضرت عائشہ
نے اشارہ سے بتادیا کہ
نماز کسوٹ ہے۔
اس حدیث میں جو
لفظ آتے ہیں مامس
شئی لھا کن لا یتہ
الادایہ فی مقامی
ہذا حجۃ الجنتہ والاع
یعنی جو چیزیں دکھائی
جاسکتی ہیں ان سب کو
میں سے بیان کرے
جو نے دیکھا یہاں تک
کہ بہشت اور دوزخ کو
بھی۔ شارحین کہتے
ہیں کہ آپ نے حقیقتاً
ان چیزوں کو دیکھا۔
پس اگر سب چیزوں کو
اس مقام پر نہ دیکھے ہوتے

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ وَقَدْ قَبِلَ ففَارَقَهَا عَقِبَةً وَتَكَبَّرَ

تورسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیجئے ہر گناہ جسے وہ بات کسی نے کی ہے تو مجھ سے ملے طلاق دیدی اور اس نے

زَوْجًا غَيْرَهُ بِأَبِ التَّنَاوُبِ فِي الْعِلْمِ (۹) عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا

دوسرے فائدے سے نکاح کیا۔ باب علم حاصل کرنے کے لئے باری مقرر کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ

أَنَا وَجَارَتِي مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ

میں اور میرا ایک انصاری بڑوسی بنی امیہ میں رہتے تھے اور وہ دیکھنے کے اور مجھے مہمانت میں لک ایک گاؤں، جہاں

النُّزُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيلُ يَوْمًا وَأَنْزَلَ يَوْمًا وَأَنْزَلَتْ جِئْتُهُ

ہم باری باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے ایک دن وہ آتا اور ایک دن میں آتا جب میں آتا تو اسے اُن کا

بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَجْهِ وَغَيْرِهِ وَإِذَا أَنْزَلَ فَعَلْ مِثْلَ ذَلِكَ فَانْزَلْتُ صَاحِبِي

وہی وغیرہ کی خبر پہنچا دیتا اور جب وہ آتا وہ بھی ایسا ہی کرتا سو ایک دن میرا ساتھی

الْأَنْصَارِي يَوْمَ تَوْبَتِهِ فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا فَقَالَ أَنَّهُ هُوَ فَقَرَعْتُ

انصاری اپنی باری کے دن آیا اور (میں اس پر) میرا دروازہ دوسرے کھٹکھا اور کہا کہ کیا وہ یہاں ہیں میں گھبرا گیا

فَحَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ حَدَّثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ قَدْ حَلَّتْ عَلَيَّ حَفْصَةٌ فَأَذْهَبُ

اور اس کا طرف ٹھکرایا اس نے کہا کہ بڑا فائدہ ہو گیا ہے میں غصہ کے پاس آیا تو وہ

تَبِكْ فَقُلْتُ أَطَلَقَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَا أَدْرِي ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ

رورہی تھیں میں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق سے دی ہے تو کہنے لگیں میں نہیں جانتی پھر میں بنی

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ وَأَنَا قَائِمَةٌ أَطَلَقْتَ نِسَاءَكَ قَالَ لَا فَقُلْتُ اللَّهُ الْكَبِيرُ بَابُ

صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کھڑے کھڑے کہا کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق سے دی ہے تو فرمایا نہیں میں نے کہا اللہ اکبر صل

الْغَضَبِ الْمَوْعِظَةِ وَالْتَعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ (۸) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْإَنْصَارِيِّ

وخط اور تعلیم میں ناراضگی کا اظہار جیسا یہی بات دیکھے جسے ناپسند کرنا ہو۔ ابوسعود انصاری سے روایت ہے کہ

قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أَكَادُ أَدْرِكُ الصَّلَاةَ مَتَى يَطْوُلُ بِهَا فَلَانَ فَأَرَأَيْتَ

ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ قریب ہے کہ میں نماز کو نہ پاسکوں اسلئے کہ فلاں شخص نماز لمبی پڑھتا ہے تو میں نے

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْعِظَةِ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْ يَوْمِئِذٍ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَكْرَهُ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن سے زیادہ ناراض نہیں دیکھا فرمایا ہے تو تم لوگوں کو

مَنْفِرُونَ فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَذَلِكَ خَيْرٌ

مستزادوں کے ہیں جو کوئی لوگوں کو نماز پڑھانے چاہیے کہ ہلکا کرے کیوں کہ ان میں بیمار اور کمزور اور کام والے ہوتے ہیں صل

(۸) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ نَا الْجُمُحِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اللَّفْظَةِ

زید بن خالد مجھ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک شخص نے کہی ہوئی چیز کے متعلق پوچھا

فَقَالَ أَعْرِفُ وَكَأَنَّهَا أَوْ قَالَ وَعَاءٌ هَا وَعِصَابَةٌ هَا عَزَّهَا سِنَّةٌ ثُمَّ اسْتَمْتَحَّهَا

فرمایا اس کا بندھن یا ڈھانچا اس کا برتن اور اس کی تھیلی پیمانہ رکھ پھر ایک سال تک اس کی سنٹاں کا لہجہ اس کا لہجہ اور اٹھلا

فَإِنْ جَاءَ رَجُلًا فَأَذْهَبَ إِلَيْهَا فَضَالَةٌ الْإِبِلِ فَغَضِبْتُ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْهَتَاهُ أَوْ قَالَ

پھر اگر اس کا ایک آجائے تو اسے دیدو اس نے کہا کھویا ہوا اودھ تو آپ ناراض ہوئے یہاں تک کہ آپ کے رخسارے سرخ ہو گئے یا کہ

تھے چہرہ غصہ کے ہمارا کہ ہوتا ہوتا تھا کہ بغیر جسے کہ ان اعلیٰ مرتبہ نماز کو میں کا غضب بھی کس طرح حد کے اندر نہ پانچا ہے۔ مہذبہ پر جھگڑنا یا سخت کلامی یا گالیوں پہنچانا یا جو کچھ ناپسندیدہ

کا عام شیوہ ہو گیا ہے۔ جب سوال نرا خلاف طبیعت ہو ایک ناشائستہ حرکت ہو اور نفرت بڑانے والی ہے۔

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گناہ جسے وہ بات کسی نے کی ہے تو مجھ سے ملے طلاق دیدی اور اس نے دوسرے فائدے سے نکاح کیا۔ باب علم حاصل کرنے کے لئے باری مقرر کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور میرا ایک انصاری بڑوسی بنی امیہ میں رہتے تھے اور وہ دیکھنے کے اور مجھے مہمانت میں لک ایک گاؤں، جہاں النُّزُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيلُ يَوْمًا وَأَنْزَلَ يَوْمًا وَأَنْزَلَتْ جِئْتُهُ ہم باری باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے ایک دن وہ آتا اور ایک دن میں آتا جب میں آتا تو اسے اُن کا بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَجْهِ وَغَيْرِهِ وَإِذَا أَنْزَلَ فَعَلْ مِثْلَ ذَلِكَ فَانْزَلْتُ صَاحِبِي وہی وغیرہ کی خبر پہنچا دیتا اور جب وہ آتا وہ بھی ایسا ہی کرتا سو ایک دن میرا ساتھی الْأَنْصَارِي يَوْمَ تَوْبَتِهِ فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا فَقَالَ أَنَّهُ هُوَ فَقَرَعْتُ فَحَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ حَدَّثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ قَدْ حَلَّتْ عَلَيَّ حَفْصَةٌ فَأَذْهَبُ اور اس کا طرف ٹھکرایا اس نے کہا کہ بڑا فائدہ ہو گیا ہے میں غصہ کے پاس آیا تو وہ تَبِكْ فَقُلْتُ أَطَلَقَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَا أَدْرِي ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ رورہی تھیں میں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق سے دی ہے تو کہنے لگیں میں نہیں جانتی پھر میں بنی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ وَأَنَا قَائِمَةٌ أَطَلَقْتَ نِسَاءَكَ قَالَ لَا فَقُلْتُ اللَّهُ الْكَبِيرُ بَابُ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کھڑے کھڑے کہا کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق سے دی ہے تو فرمایا نہیں میں نے کہا اللہ اکبر صل الْغَضَبِ الْمَوْعِظَةِ وَالْتَعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ (۸) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْإَنْصَارِيِّ وخط اور تعلیم میں ناراضگی کا اظہار جیسا یہی بات دیکھے جسے ناپسند کرنا ہو۔ ابوسعود انصاری سے روایت ہے کہ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أَكَادُ أَدْرِكُ الصَّلَاةَ مَتَى يَطْوُلُ بِهَا فَلَانَ فَأَرَأَيْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْعِظَةِ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْ يَوْمِئِذٍ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَكْرَهُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن سے زیادہ ناراض نہیں دیکھا فرمایا ہے تو تم لوگوں کو مَنْفِرُونَ فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَذَلِكَ خَيْرٌ مستزادوں کے ہیں جو کوئی لوگوں کو نماز پڑھانے چاہیے کہ ہلکا کرے کیوں کہ ان میں بیمار اور کمزور اور کام والے ہوتے ہیں صل (۸) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ نَا الْجُمُحِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اللَّفْظَةِ زید بن خالد مجھ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک شخص نے کہی ہوئی چیز کے متعلق پوچھا فَقَالَ أَعْرِفُ وَكَأَنَّهَا أَوْ قَالَ وَعَاءٌ هَا وَعِصَابَةٌ هَا عَزَّهَا سِنَّةٌ ثُمَّ اسْتَمْتَحَّهَا فرمایا اس کا بندھن یا ڈھانچا اس کا برتن اور اس کی تھیلی پیمانہ رکھ پھر ایک سال تک اس کی سنٹاں کا لہجہ اس کا لہجہ اور اٹھلا فَإِنْ جَاءَ رَجُلًا فَأَذْهَبَ إِلَيْهَا فَضَالَةٌ الْإِبِلِ فَغَضِبْتُ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْهَتَاهُ أَوْ قَالَ پھر اگر اس کا ایک آجائے تو اسے دیدو اس نے کہا کھویا ہوا اودھ تو آپ ناراض ہوئے یہاں تک کہ آپ کے رخسارے سرخ ہو گئے یا کہ تھے چہرہ غصہ کے ہمارا کہ ہوتا ہوتا تھا کہ بغیر جسے کہ ان اعلیٰ مرتبہ نماز کو میں کا غضب بھی کس طرح حد کے اندر نہ پانچا ہے۔ مہذبہ پر جھگڑنا یا سخت کلامی یا گالیوں پہنچانا یا جو کچھ ناپسندیدہ کا عام شیوہ ہو گیا ہے۔ جب سوال نرا خلاف طبیعت ہو ایک ناشائستہ حرکت ہو اور نفرت بڑانے والی ہے۔

حدیث عبد اللہ بن مسعود
صحیح بخاری کی حدیث
رجل جو کہ گئے اور بعد
ہیں سال۔ ان دنوں نے
والد کے متعلق سوال
کیا اس لئے کہ جاہلیت
میں ایک مسک کے
نسب میں طعن کیا کرتے
تھے معلوم ہوتا ہے کہ
اسی عادت پر کسی
ان پر طعن کیا ہے اور
کوئی اس قسم کے کلام
جلیل میں کہنے پر جنگو
آپ نے ناپسند کیا اور
ان پر ناراض ہونے
پس اور پھر جو ذمہ دار
چاہے پوچھ لو۔ تو کلام
مطلب ہے تھا کہ اب
جب ایسے سوال کئے
گئے ہیں تو شخص کو
صاف کرنا چاہئے
کرانے جس پر عبد اللہ
بن مسعود اور مسدود بن
اسلم نے حملہ کرنا
کرنا اور جو طعن انکے
نسب میں کیا تھا
اسے دھرا کر اور حضرت
مگر عرض کرنا سوچ
پر تھا کہ آئندہ ہمیں
ایسی باتیں لیکھ سکتے
متعلق نہ کی جائیں۔
گو وہ سب مسلمانوں کی
طرف سے عرض کرتے
ہیں گو وہ خود ان کی
گورنریوں میں نہ تھے۔
مسئلہ یہی گذشتہ
حدیث کا مضون ہے۔
تفسیر وہہرا گیا ہے

احْتَرَجْتُمْ فَقَالَ مَالِكٌ وَهِيَ مَعَهَا سِيفٌ وَهِيَ وَحْدُهَا تَرُدُّ الْمَاءَ وَتُرْخِي الشَّجَرَةَ فَنَزَّهَا
آپ کا منہ سرخ ہو گیا اور فرمایا اس سے تیرا کیا واسطہ اس کے لئے اسی کے ساتھ اس کی مشک درسا کا سوزہ بڑھ پانی پر چھانکری اور درخت پر لٹا کر
حَتَّى يَلْقَاهَا رَجُلًا قَالَ فِضَالَةُ الْغَنَمِ قَالَ لَكَ أَوْلَادٌ خِيكَ أَوْلَادُ النَّبِيِّ (۸۲) عَنْ

تو اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا ہاتھ اسے پہلے کما اور کھوی ہوئی پکری ڈالیا وہ تیرے لئے ہے یا تیرے بھائی کے لئے یا تیرے بھائی کے لئے
اَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا فَلَمَّا أَكْتُرَ عَلَيْهِ غَضِبَ
ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض باتیں پوچھی گئیں جن کو آپ ناپسند کرتے تھے جب بہت سوال ہوا تو

ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ أُمَّةٍ قَالَ أَبُوكَ حَدَاثَةٌ وَقَامَرٌ
پھر لوگوں سے کہا پوچھ لو جو چاہتے ہو ایک شخص نے کہا میرا آپ کون ہے فرمایا تیرا باپ حداد ہے پھر دوسرا اٹھا

أَخْرَفًا قَالَ مِنْ أَبِي يَارَسُورَ اللَّهِ قَالَ أَبُوكَ سَأَلْتُ مَوْلَى شَيْبَةَ فَلَمَّا رَأَى عَمْرًا فِي
کہا یا رسول اللہ میرا آپ کون ہے فرمایا تیرا باپ سالم ہے شیبہ کا غلام جب عمر نے آپ کے چہرے پر آنکھیں

وَوَجَّهَ قَالَ يَارَسُورَ اللَّهُ إِنْ أَنْتَ تَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَابٌ مِنْ رِجَالِكُمْ عَلَى رِجَالِنَا
تو کہا یا رسول اللہ ہم اللہ عزوجل کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں مسئلہ باب جو شخص امام یا محدث کے سامنے

الْإِمَامَ أَوْ الْمُحَدِّثَ (۸۲) عَنْ النَّبِيِّ تَكَرَّرَ (۸۲) بَابٌ مِنْ أَعَادِ الْحَدِيثِ ثَلَاثًا لِيَفْهَمَ
دو بار پوچھنے دیکھو حدیث نمبر ۸۲ باب جو شخص حدیث کو تین بار پوچھے تاکہ وہ سمجھ جائے

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ فَمَا زَالَ يُكْرِمُهَا وَقَالَ ابْنُ عَمْرٍو
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنے سے خبردار ہو جاؤ اور آپ سے دہرائے اور ابن عمر کہتے ہیں

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَغْتَ لَنَا (۸۳) عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا میں نے پیغام پہنچا دیا اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایت ہے

وَعَلَيْكُمْ أَنْهَ كَانَ إِذَا تَكَلَّمْتُمْ بِلِسَانِكُمْ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تَفْهَمُ عَنْهُ وَإِذَا نَبِيٌّ قَوْمٍ فَسَلِمَ عَلَيْهِمْ
کہ جب آپ کوئی بات فرماتے تو اسے تین بار دہرائتے یہاں تک کہ وہ ایسی طرح سمجھ جائے اور جب کسی قوم کے پاس جاتے اور ان کو سلام کہتے تو

ثَلَاثًا (۸۴) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو تَكَرَّرَ (۸۴) بَابٌ تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أُمَّتَهُ وَأَهْلَهُ (۸۴) عَنْ
تین بار سلام کہنے دیکھو حدیث نمبر ۸۴ باب ایک شخص کا اپنی قوم اور اپنے اہل تلمیذ دینا

اَبِي مُوسَى الْأَشْجَرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَدْخُلْ جَنَّاتُ الْجَنَّةِ
ابو موسیٰ اشجری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص ہیں جن کے لئے دو بار اجر ہے

مِنْ أَهْلِ كِتَابٍ أَمِنْ نَبِيِّهِ وَأَمِنْ مُحَمَّدٍ وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ
اہل کتاب میں سے ایک شخص جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور غلام جو دوسرے کے ملک میں جو جیسا کہ اللہ کا حق ادا کرے

وَحَقَّ مَوْلَاهُ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَادَّهَاهَا فَحَسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَاحْسَنَ
اور اپنے مالکوں کا حق ادا کرے اور ایک شخص جس کے پاس ایک لونڈی ہو پھر وہ اس کو ادب سکھائے اور چاہے اس کو تعلیم دے اور اچھی

تین بار سلام اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم سے فرمایا عبد اللہ بن مسعود نے فرمایا کہ ان کے لئے دو بار اجر ہے۔ اس
حدیث میں حضرت عمر کے متعلق یہ لفظ آئے ہیں غیر ان کے کہتے ہیں حضرت عمر دوزخ میں تھے۔ اسی سے عنوان باب ہے۔ اور جو جائے انا نقوب
انی اللہ عزوجل کے ہیں عرض کیا رضی اللہ عنہما دینا و بائنا سلام دینا و یحتمن صلعم نقیباً تلقاً فسکت ہمارے نبی پر اور سلام ہمارا دینا اور محمد صلعم
ہمارے نبی ہیں اور میں ہاریوں لکھ کر خاموش ہو گئے مطلب یہ تھا کہ ان باتوں کو جو جاہلیت میں نہیں ہم پہلے ترک کرتے ہیں مگر عن انہی صلعم سے یہاں مراد صرف ہے جو کہ نبی
صلعم کا تذکرہ کرتے ہوئے یا آپ کی بات یا ہمیں کہ آپ نے یہ فرمایا یہ مطلب نہیں کہ ہر ایک بات میں مرتبہ کہتے تھے۔ بلکہ یہاں زیادہ مزید ہے۔ چنانچہ لفظ حقی
قہم عنہ اس پر دلالت کرتی ہے اور تین مرتبہ اللہ علیہ وسلم کی حالت میں ہر جب کسی کے گھر آئے تو اجازت کے لئے کہتے۔ سارے پہلے مرتبہ جواب آتا اور دوسرے مرتبہ کہ فرماتے یہ کہیے تمہارا
یا بعض وقت پہلے بھی آدی زیادہ ہیں تو دوسرے دفعہ آدی اللہ علیہ وسلم کہ تیسری حدیث سے کہ میں میں بار و دل للاعتاب کہنے کا ذکر ہے یہاں کر لائے ہیں۔

بعض باتیں پوچھی گئیں جن کو آپ ناپسند کرتے تھے جب بہت سوال ہوا تو
ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض باتیں پوچھی گئیں جن کو آپ ناپسند کرتے تھے جب بہت سوال ہوا تو
ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض باتیں پوچھی گئیں جن کو آپ ناپسند کرتے تھے جب بہت سوال ہوا تو
ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض باتیں پوچھی گئیں جن کو آپ ناپسند کرتے تھے جب بہت سوال ہوا تو

عمل علم کا ہمارا رہنا
علماء کے ہاتھ رہتے
ہے جس قدر تہذیب
علم حاصل کر کے لے لے گا
ہے۔ جس تک ہر ایک
شخص علم حاصل کرنے کو
اپنا فرض نہیں سمجھتا
علم پر ایسا نہیں ہو سکتا
کسٹ خورقوں کا تعلیم
کے لئے علم و دین کا
مقرر کرنا جتنا بڑا کوشش
صلو کس قدر مصنف
کی تعلیم پر ہندھتے تھے
چرکے مردوں کو ہر سبک
قراب کے کام لیا کرتے
مبارک رہنا ہے اور عورتوں
کا تعلق زیادہ تر خفا داروں
سے ہوتی ہے جس سے
ایسے کاموں میں حصہ
لینے کا موقع کم ملتا ہے
اس لئے آپ نے فرمایا
ان کا بچوں کی پرورش
کرنا بھی قراب کا کام
ہے۔ یہاں تک کہ کسی
عورت کے تین بار وہ
بچے پیدا کرے عورت
میں ایک بچہ آتا ہے
مرا جائیں تو وہ اسکے
اپنے لئے اسے جنت کا
مستحق قرار دیتے ہیں
دوسری روایت میں ہے
وہ بچے جو جان نہ ہوں
ہوں۔ اگر کوئی جان نہ ہو
کہ بچوں سے الگ ہو
جاتا ہے۔ کھلاس
سے صلوم ہوا کہ مسلہ
بچنے کے لئے کسی بچے
کا پیش کردار مستقیم
اللہ تعالیٰ یا صلوم نام
پر ہرگز نہ کرنا چاہئے
سوال کا صحیح علم حاصل
کر کے لے جائے۔ عورت
عائشہ نے فرمایا یہی صلوم
مردوں کا ہے اس لئے فرمایا صلوم
پر ہرگز نہ کرنا چاہئے

(۸۷) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ أَنْتَزَاعًا يَنْزَعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ وَاتِّخَاذَهُ عَلَى سُنَنِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا كَرِهَ اللَّهُ لِقَوْمٍ أَلْحَقُوا بِهِ الْعِلْمَ حَبَسَهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ فَلَا يُعْرَفُونَ إِلَّا بِأَقْبَابِهِمْ

عبداللہ بن عمرو بن العاص نے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا
یقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم
والتخذ على سُنن العلماء حتى اذا كره الله لقوم اهلقتهم في بيوتهم فلا يعرفون الا باقوابهم

(۸۸) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا عَلَيْكَ الرَّجَالُ فَاجْعَلْ لِنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ فَوْعِدَهُمْ يَوْمَ لَقِيَهُمْ فِيهِ فَوْعُظُهُمْ وَأَمْرُهُمْ فَكَانَ فِيهَا قَالَ هُنَّ مَا مَنَعْنَ أُمَّرًا أَنْ تَقْدَمَ ثَلَاثَةَ مَنَاقِبٍ وَلَوْلَا هَذَا

ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
عَلَيْنَا عَلَيْكَ الرَّجَالُ فَاجْعَلْ لِنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ فَوْعِدَهُمْ يَوْمَ لَقِيَهُمْ فِيهِ فَوْعُظُهُمْ وَأَمْرُهُمْ فَكَانَ فِيهَا قَالَ هُنَّ مَا مَنَعْنَ أُمَّرًا أَنْ تَقْدَمَ ثَلَاثَةَ مَنَاقِبٍ وَلَوْلَا هَذَا

إِلَّا كَانَ هَذَا جَابِئًا مِمَّنْ تَارَفَقَالَتْ أُمَّرًا وَالثَّانِيْنَ فَقَالَ وَالثَّانِيْنَ وَعَنْ إِدْرِيسَ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْغُوا الْخَيْرَ بَابٍ مِنْ سَمِعَ شَيْئًا فَلَمْ يَفْهَمَهُ فَرَأَجَعَهُ حَتَّى يَخْرُجَ

إِلَّا كَانَ هَذَا جَابِئًا مِمَّنْ تَارَفَقَالَتْ أُمَّرًا وَالثَّانِيْنَ فَقَالَ وَالثَّانِيْنَ وَعَنْ إِدْرِيسَ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْغُوا الْخَيْرَ بَابٍ مِنْ سَمِعَ شَيْئًا فَلَمْ يَفْهَمَهُ فَرَأَجَعَهُ حَتَّى يَخْرُجَ

(۸۹) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَا تَسْمَعُ شَيْئًا إِلَّا تَعْرِفُهُ

عائشہ زہرا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ نہ جانتی تھی
عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَا تَسْمَعُ شَيْئًا إِلَّا تَعْرِفُهُ

إِلَّا رَأَجَعَتْ فِيهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَوَسِبَ عَذَابَ

عائشہ نے فرمایا کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نے حساب لیا جائے گا اسے عذاب دیا جائے گا
إِلَّا رَأَجَعَتْ فِيهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَوَسِبَ عَذَابَ

قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ أَوَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا

عائشہ نے فرمایا کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نے حساب لیا جائے گا اسے عذاب دیا جائے گا
قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ أَوَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا

بَيِّنَةٍ أَقَالَتْ فَقَالَ إِنَّ مَا ذَلِكَ الْعَرْضُ وَلَكِنْ مَنْ تَوَقَّشَ الْحِسَابَ يُحَاسِبُ

عائشہ نے فرمایا کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نے حساب لیا جائے گا اسے عذاب دیا جائے گا
بَيِّنَةٍ أَقَالَتْ فَقَالَ إِنَّ مَا ذَلِكَ الْعَرْضُ وَلَكِنْ مَنْ تَوَقَّشَ الْحِسَابَ يُحَاسِبُ

لِيُبَيِّنَ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي

ابو عبد اللہ نے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ نہ جانتی تھی
لِيُبَيِّنَ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي

شَرِيحَةَ اللَّهِ قَالَ الْعَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ وَهُوَ بَيْعَتُ الْبَعُوثِ لَمْ يَكُنْ أَكْثَرَ لِي إِذْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ الْإِمْرَاجُ حَتَّى تَكُونَ

عمر بن سعید سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ نہ جانتی تھی
شَرِيحَةَ اللَّهِ قَالَ الْعَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ وَهُوَ بَيْعَتُ الْبَعُوثِ لَمْ يَكُنْ أَكْثَرَ لِي إِذْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ الْإِمْرَاجُ حَتَّى تَكُونَ

قَوْلًا قَامَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَدَمُ يَوْمَ الْفَتْحِ سَمِعْتَهُ إِذْ نَأَى وَوَعَاهُ قَلْبِي وَ

لیکھا ہوا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدم کے دن فرمایا میرے کانوں نے اسے سنا اور میرے دل نے اسے دیکھا اور

أَبْصَرْتُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَاتَّيْتُ عَلَيْهِمْ قَالَ أَرَأَيْتُمْ كَيْفَ حَرَّمَ اللَّهُ وَلَمْ يَتَّخِذْهَا

پیری آنکھوں نے آپ کو دیکھا جب آپ نے یہ بات فرمائی اللہ کی تعریف کی اور اسے سنائی پھر فرمایا کہ اللہ نے حرمت والا عمل لایا اور اس کی حرمت

الطَّاسُ فَلَا يَحِلُّ لِمَرِيٍّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَتَّبِعَكَ نَهَادًا وَلَا يَعْصِدَ بِهَا شَجَرَةً

انسانوں کی طرف سے نہیں ہے میں کسی شخص کے لئے یہ جائز نہیں جو اللہ اور آج کے دن پر ایمان لائے اور اس میں خون گرانے اور نہ یہ کہ اس میں کوئی اور شے کا

فَإِنْ أَحَدٌ تَخَصَّرَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ فَمَا قَوْلُوا إِلَّا اللَّهُ قَدْ أَذَى لِرَسُولِهِ لَمْ يَأْذُكَ لَكُمْ وَأَمَّا

جو لوگوں کی شخص رسول اللہ کو وہاں جنگ کرنے کی وجہ سے ایسی رخصت چاہے تو کہہ دو اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی اور جس اجازت نہیں دی

أَذَى لَكُمْ فِيهَا سَاعَةٌ مِنْ هَذَا رَأَيْتُمْ عَادَتِ حُرْمَةُ الْيَوْمِ كَحُرْمَةِ بَابِ الْفَيْسِ وَلِيُبَيِّنَ الشَّاهِدُ

آؤد مجھے بھی اس میں دن کی ایک گھنٹی اجازت دی پھر اس کی حرمت آج وہی جی لوٹ آئی جیسے کل اس کی حرمت تھی اور یہ ہے کہ جو موجود ہے وہ غیر حاضر کو

الغائب فَيَقِيلُ لِرَبِيِّ نَسِيءًا قَالَتْ عُمُرُ وَقَالَ أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبَا شَيْبَةَ لَا تَعْبُدُ عَصَائِمًا وَأَكْثَالَ

حیثیات پہنچائے۔ ابو شریح سے پوچھا گیا کہ عورت کا جہاں جا کر کھڑا ہو تو وہ عورت کو کھڑا نہیں دیتا

بِدَمٍ وَلَا فَاؤَ مَعْرِيَةِ (م) عَزَّ وَجَلَّ بَكَرَتْ (۶۲) بَابُ اللَّهِ مِنْ كَذِبِ عَلِيِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اور نہ خون کے بہانے والے کو اور نہ خدا کو کہتا ہے اور نہ اس کے بعد اس کا نامہ جو نبی صلوات اللہ علیہ وسلم پر چھوڑا ہوا ہے

(۹۱) عَزَّ وَجَلَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذْبُوعَ عَلَى فَاؤَ مِنْ كَذِبِ عَلِيٍّ فَيَلِيهِ النَّارُ

حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جو موت ہو جو موت ہو تو اس شخص پر جو موت ہو تو اس پر وہ آگ میں داخل ہوگا

(۹۲) عَزَّ وَجَلَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذْبُوعَ عَلَى فَاؤَ مِنْ كَذِبِ عَلِيٍّ فَيَلِيهِ النَّارُ

عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ میں نے زبیر سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرنے سے نہیں سنا

عَلَيْهِمَا كَمَا يَحْدُثُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ قَالَ أَمَا بِي لَمْ أَفَاقَهُ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مِنْ كَذِبِ عَلِيٍّ

مجھے نکلن خاص شخص بیان کرتے ہیں کہا میں آپ سے ایک نہیں رہا لیکن میں نے آپ کو کہہ سنے ہوئے ہیں کہ جو شخص میرا چہرہ بناوے

فَلْيَتَّبِعْهُ مَقْعَدُ الْبَارِئِ (۹۳) سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلِيًّا فَيَلِيهِ النَّارُ

وَعَلَيْهِ جَهَنَّمُ مِمَّنْ يَنْبَأُ عَشِيْرَتِي وَيَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلِيًّا فَيَلِيهِ النَّارُ

علم اس سے نہیں ہوتا ہے کہ اس کا کفر ہے
چہاں کہ اس کا کفر ہے
حرم کی طرف سے کسی
نبی کے گھروں سے وہی
اللہ سے کبھی اللہ سے
صبر سے کبھی اللہ سے
سر تسلیم کر کے
علم اور شریعہ
میں عربوں کے سید ہیں
کی طرف سے حدیث کا
تھا۔ لکن کتب کی
ہوئی کہ یہ کتب
کو حضرت اللہ سے
حضرت عبداللہ سے
نے تسلیم نہیں کیا
حیث تکرار کیا گیا
تسلیم ہوئے اور عبداللہ
بن زبیر کے عقیدے
مستند ہو گئے
یہ روایت ہے کہ
عمر بن خطاب نے
نے حضور کو کفر
ذاتاً اور عہدہ کیا
کہ قائل ہو کہ کفر
نہیں ہے کہ کفر
سے ہوا ہے کہ
لی گئی ہے
میں ہیں
اس کا اطلاق
نبی کے صلے
شیرین کے کفر
اس میں وہ
فاسل اجازت
فرمایا کہ
نہیں ہے جو

اس میں داخل ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی زمان کی گواہی۔ حدیث ۶۲ کے اس حصہ کو بیان کرنا یا جو فان دعاء کہہ دیا اور اللہ کے شروع ہوتا ہے یہ صرف آنحضرت
حصہ گزری الفاظ فان الشاهد عسان ینبغ من ہوا وحی لہ منہ جھوڑے ہیں وہ کی جگہ کے الفاظ ہیں الہل بلغت حدیث میں نے پہنچایا یہ وہ خود فرمایا۔ علم
یوں تو مطلق جوٹا ہوا یعنی دفع میں ہے ہونا ہے۔ یہ آپ نے اسے فرمایا۔ کہ آپ سے پہلے بڑے بڑے شیعوں نے لوگوں کی نیک کی ترغیب سے کہنے لیا اور بزرگوں کی طرف سے
باتیں منسوب کیں۔ بالخصوص میساری قوم میں بہت رواج رہا ہے کہ دینداری کی خدمت کے لئے جوٹا بول لیا جائے۔ آنحضرت کے تیار ہونے کے بعد بھی غرض سے کہنے جا رہے ہیں اس لئے
میں جو علم طبقہ کے لوگ ہیں ان میں سے کسی کا علم نہیں ہے۔ حدیث شریف میں۔ بلکہ اس سے ایک بھی وہی حدیث ثابت ہو سکے کہ شاکر بن ابی اسحاق نے روایت مطلقاً یا یہ اقتدار سے اس کا
جاتی ہے۔ حدیث زبیر سے حدیث کو جرت کی تھی۔ پس اب روایتیں اور ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے اور کہہ میں جو علم ہوا ہے کہ اس کے خلاف ہے جو علم سے
یا خطا سے اس کے حضرت زبیر سے خود ظاہر کیا کہ میلانا نالہ ہے۔ یہ ان سے کہنے کوئی امر خلاف واقعہ بیان ہوگا۔ ایسی احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ صحابہ رضی اللہ عنہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث
بیان کرنے میں کس قدر محتاط تھے۔ اور نبی کے صلے اللہ علیہ وسلم نے حفاظت حدیث کو کس قدر ضروری ٹھہرایا ہے۔ حدیث اس قدر صحابہ سے مختلف فرقوں سے کہہ کہ بعض علماء نے
اسے متواتر کیا ہے۔ علم یہاں تک کہ بعض ارادے جھوٹ بولنے کا سن رہے تھے۔ یہی ہوا کہ یہ روایت نہیں کہ ناکہ کہہ کر کوئی امر خلاف واقعہ بیان نہ کرے اور نہ یہی تو ہوا
ہی ہوگا۔ اور گناہ ہوگا۔

(۹۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسْمَوُا بِأَسْمِي وَلَا تَلْتَمِسُوا بِكُنْيَتِي وَمَنْ

کلمہ اللہ تعالیٰ کی

رَأَى فِي النَّارِ فَقَدْ رَأَى فِي صُورَتِي وَمَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مَتَّعِمِدًا أَفْلَيْتَبَوَّأُ

حضرت صلوات اللہ علیہ

مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ بَابُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ (۹۶) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ قُلْتُ لِعَدْرِ بْنِ

یہ مطلب نہیں کہتا

عَنْهُ هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ قَالَ لَا الْكِتَابُ لِلَّهِ أَوْ هُمْ أَعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَوْ أَهْلُهُ

میں جو کچھ آنحضرت

الصَّحِيفَةُ قَالَ قُلْتُ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ لِعَقْلٍ وَفَكَأَنَّ الْأَسِيرَ وَلَا يَقْتُلُ مُسْلِمًا

صلوات سے ہے وہ

بِكَافِرٍ (۹۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ خِرَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ عَمْرٍو فَمَكَةَ يَقْتُلُ

شریعت میں ہوتی ہے

فَمَهُمْ قَتَلُوهُ فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَلَ رَجُلٌ رَاغِبًا

کیونکہ خواب تو طلب

إِلَى اللَّهِ حَبْسًا عَنْ مَكَّةَ الْقَتْلِ أَوْ الْقَيْلِ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ أَلَا وَهَذَا

ہوتی ہے۔ اسرا نشانہ

لَمْ يَجْعَلْ أَحَدٌ قَبْلِي وَلَا يَجْعَلُ أَحَدٌ بَعْدِي إِلَّا وَفَاحَلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ هَذَا أَلَا وَهَذَا

سے کہ میرا نام رکھو اور

سَاعَةٌ هَذِهِ حَرَامٌ لَا يَخْتَلُ شَوْكُهَا وَلَا يَعْصُدُ شَجَرُهَا وَلَا تَلْتَقُ سَافِطَةٌ إِلَّا مَسْتَنْدٌ

کہنت نہ رکھو اسکی

فَمَنْ قُتِلَ فَهُوَ بِمِخْرَابِ النَّظَرِ بِنِ آءَانَ يُعْقَلُ وَأَمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَيْلِ فَمَا رَجُلٌ

کہنت ابو القاسم کی

مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ النَّبِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ التَّبَوُّ الْإِخْفَى فَلَانَ

مروایہ صلوات ہوئی ہے

فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا الْأَذْخَرَ

کتاب اور کہنت دونوں

يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بِيوتِنَا وَبِيوتِ رِئَاقِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

میں یوں بھی آتا ہے کہ

وَأَهْلِهِ

کہنت رکھ لو اسنامہ

فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا الْأَذْخَرَ

کھولیں ہر مردوں کا

يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بِيوتِنَا وَبِيوتِ رِئَاقِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اجتماع ہے تاکہ ہتھیار

وَأَهْلِهِ

نہ اٹھ جائے اور بھی

فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا الْأَذْخَرَ

اسی زمانہ کیلئے مخصوص

يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بِيوتِنَا وَبِيوتِ رِئَاقِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

حکم معلوم ہوتا ہے۔

وَأَهْلِهِ

مسل اس زمانہ

فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا الْأَذْخَرَ

امام غزالی نے یہ لکھا

يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بِيوتِنَا وَبِيوتِ رِئَاقِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ہے کہ ام سلمہ نے

وَأَهْلِهِ

ہے کہ ام سلمہ نے

الإذخراً لا الإذخراً ۹۸ عن ابی هريرة قال ما من أصحاب النبي صلى الله

عليه وآله من سوانة اذخري عليه روايت ہے کہ ابی هريرة سے روایت ہے کہ ما من أصحاب النبي صلى الله

عليه وآله من سوانة اذخري عليه روايت ہے کہ ابی هريرة سے روایت ہے کہ ما من أصحاب النبي صلى الله

عليه وآله من سوانة اذخري عليه روايت ہے کہ ابی هريرة سے روایت ہے کہ ما من أصحاب النبي صلى الله

عليه وآله من سوانة اذخري عليه روايت ہے کہ ابی هريرة سے روایت ہے کہ ما من أصحاب النبي صلى الله

عليه وآله من سوانة اذخري عليه روايت ہے کہ ابی هريرة سے روایت ہے کہ ما من أصحاب النبي صلى الله

عليه وآله من سوانة اذخري عليه روايت ہے کہ ابی هريرة سے روایت ہے کہ ما من أصحاب النبي صلى الله

عليه وآله من سوانة اذخري عليه روايت ہے کہ ابی هريرة سے روایت ہے کہ ما من أصحاب النبي صلى الله

عليه وآله من سوانة اذخري عليه روايت ہے کہ ابی هريرة سے روایت ہے کہ ما من أصحاب النبي صلى الله

عليه وآله من سوانة اذخري عليه روايت ہے کہ ابی هريرة سے روایت ہے کہ ما من أصحاب النبي صلى الله

کافی نظر لاری کے نزدیک مشتبہ ہے کہ روایت ہے کہ ابی هريرة سے روایت ہے کہ ما من أصحاب النبي صلى الله

کتاب العلم میں ہے کہ ابی هريرة سے روایت ہے کہ ما من أصحاب النبي صلى الله

کافی نظر لاری کے نزدیک مشتبہ ہے کہ روایت ہے کہ ابی هريرة سے روایت ہے کہ ما من أصحاب النبي صلى الله

کتاب العلم میں ہے کہ ابی هريرة سے روایت ہے کہ ما من أصحاب النبي صلى الله

يَشْفَعُ لَهُمُ الصَّغِيرُ الْأَسْوَقُ وَإِنَّ إخواننا من الأنصار كان يشغولهم العمل في أموالهم وأزواجهم

کان بلزمر رسول اللہ صلی علیہ وسلم یحضر ما لا یحفظون وہ حضرت باقر علیہ السلام کے ہونے اور ایسے مقبول ہونے کا بیان ہے جو کہ ان کے پاس نہ تھا اور ان کے پاس نہ تھے

۱۰۲ عن زینب بنت جحش قالت یارسول اللہ انی اسمع منک حدیثا للنبی النساء قال البسط

ذو اذک فبسطتہ فخر فیہ ثم قال ضمتم فضممتہ فما نسیت شیئا بعد اللہ ان عمل

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی علیہ وسلم سے دو علم کی باتیں سنی ہیں جو ان سے پہلے نہ تھیں اور ان کے پاس نہ تھے

فیثبتتہ قطعه هذا البعوم قال ابو عبد اللہ البعوم فجر من الطعام بآب الانصار للعلماء

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی علیہ وسلم سے دو علم کی باتیں سنی ہیں جو ان سے پہلے نہ تھیں اور ان کے پاس نہ تھے

۱۰۳ عن جابر بن عبد اللہ قال رقیحۃ الوداع استنصت الناس فقال لا ترجعوا

عذکما یضرب بعضکم رقاب بعض ارباب استنصت للعلماء انی التالیف

قیل العلم ان الله تعالی ربه عن سعید بن جبیر قال قلت لابن عباس ان قال لیس

یخرجون مومسے لیسن مومسے بنی اسرائیل انما ہوموسے اخر فقال کذب عدوانا

انہ بنی اسرائیل کے مومسے نہیں وہ کوئی اور مومسے ہی کہنا ہے کہ مومسے نے جھوٹ بولنا ہے

انہ بنی اسرائیل کے مومسے نہیں وہ کوئی اور مومسے ہی کہنا ہے کہ مومسے نے جھوٹ بولنا ہے

۱۰۴ عن ابن عباس قال قال عامر بن موسی التیمی خطیباً فی بنی

اسرائیل فسیل انی التالیف انا اعلم فعبث اللہ عز وجل علیہ

ان سے پوچھا گیا تو ان میں سے ایک عالم نے کہا میں نے ان کو برحق ثابت کیا

کتاب العلم کی طرف سے نقل ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس وقت تک کہ اس کا کوئی نسخہ نہ تھا اور اس وقت تک کہ اس کا کوئی نسخہ نہ تھا اور اس وقت تک کہ اس کا کوئی نسخہ نہ تھا۔

کتاب العلم کی طرف سے نقل ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس وقت تک کہ اس کا کوئی نسخہ نہ تھا اور اس وقت تک کہ اس کا کوئی نسخہ نہ تھا اور اس وقت تک کہ اس کا کوئی نسخہ نہ تھا۔

اِذْ لَمْ يَدْرِ الْعِلْمَ الْبَرِّ فَاَوْحَىٰ اِلَيْهِ اَنْ عَبْدًا اَمْرًا عَمَادًا فِي مَجْمَعِ الْبَحْرِ هُوَ

کہا اس نے علم کو کہ میں نے اس طرف نہ دیکھا تھا اس لیے اکی طرف دیکھا گیا کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ دور دہریوں کے لئے کی جگہ ہے وہ

اَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ يَا رَبِّ وَكَيْفَ بِهِ فَقِيْلَ لِهٖ اَحْمِلْ حَوْدِيْ مِثْلَ مَا اَفْقَدْتَهُ هُوَ

تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے کہ نے میرے بند میں سے کس طرح اسکے پاس جو چوں تو انہیں کہا کہ میں میں ایک جہی کہ انہوں نے کہ چھانے وہیں وہ جگہ

تَعْرِفْ فَاَنْطَلِقْ وَالظُّلْمُ مَعَهُ قَتَادَةُ يَوْمَ تَحْرِيْجِ نُوْنٍ وَحَمَلًا حَتَّىٰ اِنَّا عِنْدَ الصُّخْرِ

سو رہے تھے انسان کے ساتھ ان کے گناہ پر توجہ میں لانا تھے اور انہوں نے ایک جہلی نہ پہل میں بھی پہنایا کہ وہ سمجھنے کے پاس تھے

وَصَارُوْا سَهْمًا فَاَنْتَ اَمَّا فَاَنْسَلُ الْحَوْتَ مِنْ الْمِكْتَلِ فَاَتَّخِذْ سَبِيْلَهُ فِي الْبَحْرِ سُرًّا وَاَوْكَانَ مُوسَىٰ

اپنے سر میں پر رکھے اور سو گئے تو پہلی جہلی کو کھلی اور وہاں پہن رستہ بنا لیا اور موسیٰ

وَفَتَاةٌ عَجِبًا فَاَنْطَلَقَا بِقِيَّةٍ لَيْلِيًّا وَبِیَوْمٍ مَّا اَصْبَحَا قَالَتْ مُوسَىٰ لِقَتْنَتِهِ اَتَيْتَاغِدَا

اور ایک غلام کو غیب کو پہنچا رہے رات اور دن کا اتنی صبح میں جب صبح ہوئی موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا ہمارا کھانا لاؤ اس

لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا اَصْبَابًا وَاَلَمْ يَجِدْ مُوسَىٰ مُضْئِبًا مِّنَ النَّصْبِ حَتَّىٰ جَاءُوْا مِنَ الْمَكَارِ اِلَيْهِ

سفر سے ہم تو تھکا ہو گیا اور موسیٰ کو تھکا نہ ہوئی تھی جب تک کہ اس جگہ سے آگے نہ تھی

اَمْرِيْهِ فَقَالَ قَتَادَةُ اَرَعَيْتَ اِذَا وَايَا اِلَى الصُّخْرِ فَاِنِّي نَسِيْتُ الْحَوْتَ قَالَ مُوسَىٰ ذٰلِكَ

مجھے تجھے جگہ کا اسم دیکھتا ہوں ان کے خادم نے کہا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو سمجھ کر بنا بنا ہی تو میں پہل جوں کیا موسیٰ نے کہا یہ ہے جو

وَالنَّامِيعُ فَاَرْتَدَّ اَسْمَا اَتَارِهَا قَطِيْبًا فَاَلَمَّا اَنْتَهَيَا اِلَى الصُّخْرِ اِذَا رَجُلٌ مَّسِيْرٌ يَتَوَّبُ

ہم پہنچے سو وہ لوگوں پہنچے ہوں کہ تہوں پر وہیں وہی یہاں تک کہ وہ میرے اس پہنچے تو ایک شخص کو لے کر اپنے ہونے موجود تھا

فَسَلَّمَ مُوسَىٰ فَقَالَ الْخَضِرُ وَاِنِّي بِارْضِكَ السَّلَامُ فَقَالَ اَنَا مُوسَىٰ فَقَالَ

موسیٰ نے سلام کیا کہ تجھ نے کہا نہیں۔ تک میں سلام کہاں سے آیا کہاں ہیں موسیٰ ہوں کہا

مُوسَىٰ نَبِيُّ اسْرَائِيْلَ قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ اَتَّبَعْتَ عَلِيَّ اِنْ تَعَرَّفْتَنِيْ مِمَّا عَلَّمْتَنِيْ

تجھے اسرائیل کے موسیٰ کہا ہاں کہا کیا میں تمہارے ساتھ جیوں اس شرط پر کہ تم مجھے سمجھاؤ جو جہاں کی بات

رَسَدًا قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا يَا مُوسَىٰ اِنِّي عَلِيٌّ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ عَلِمْتَنِيْهِ

میں سمجھا گیا ہوں کہ تم میرے ساتھ میری جگہ رکھو گے اسے موسیٰ اللہ کے علم سے مجھے ایک علم حاصل ہے جو اس نے مجھے

لَا تَعْلَمُهُ اَنْتَ وَاَنْتَ عَلَّمَ عِلْمًا مَّا لَمْ يَلْمَسْهُ اللهُ اِلَّا اَعْلَمَهُ قَالَ سَجِدْ لِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا

سمجھا تم سے نہیں جانتے اور نہیں ایک علم حاصل ہے جو اللہ نے تمہیں دیا میں نے نہیں جانتا کہ اگر اللہ نے چاہا تو تم مجھے صابر بناؤ گے

وَلَا اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا فَاَنْطَلَقَا مَشِيْرًا عَلٰى سَاحِلِ الْبَحْرِ لَيْسَ هُنَا سَفِيْنَةٌ مِّنْ هٰهِنَا

اور میں کسی امر میں تمہاری آواز نہیں کروں گا جس روز وہاں کے گارے بند ان کے پاس کھنٹی نہ تھی انہیں ایک کھنٹی

سَفِيْنَةٌ فَكَلِمُوْهُمْ اِنْ يَحْمِلُوْهُمْ اَوْ يَخْرِجُوْهُمْ اَوْ يَمْلِكُوْهُمْ فَاصْفَحْ فَاصْفَحْ فَاصْفَحْ فَاصْفَحْ

ان کے پاس سے گزری تو انہوں نے ان سے کہا کہ تمہیں سوار کر لیں کہ تمہیں لے گئے تو انہوں نے ان دونوں کو بغیر کرایہ کے سوار کر لیا

عَصْفُوْرٌ فَوَفَّ عَلَى حَرْفِ السَّفِيْنَةِ فَفَرَّقَتْهُ اَوْ تَقْرَبَيْنِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ الْخَضِرُ

نہیں اس کے ساتھ جاتی اور کسی سے نہ کہہ کر چھو گئی پھر ایک بار وہ جو میں نے کہا میں نے اسے

يَا مُوسَىٰ اَتَقَدَّرَ عَلَيْهِ وَعَلِمْتَ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى اِلَّا نَفْرَةً هٰذِهِ الْعَصْفُوْرُ فِي الْبَحْرِ

اے موسیٰ کیا تو نے اندازہ کر لیا کہ اس کے ہونے کی جگہ نہیں لگتا اس دن وہ اس جگہ کی دیا میں جو عجم کی طرح ہے

فَعَمِدَ الْخَضِرُ اِلَى الْوَجْهِ السَّفِيْنَةِ فَزَعَرَهُ فَقَالَ مُوسَىٰ قَوْمٌ يَحْمِلُوْنَ اَبْعُرْ نَوَلٍ

پھر حضرت موسیٰ کے غور سے پہنچا گئے پھر ان سے موسیٰ نے کہا میں نے اسے لگا میں نے اس سے کہا میں نے اس سے کہا میں نے اس سے کہا

عَدَدَتْ اِلَى سَفِينِهِمْ فَخَرَفَتْهَا لِنَعْرِقِ اَهْلَهَا قَالَ الْمَاقِلُ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَدْرًا
خبر ان کی کشتی کا قصد کیا اور اس پر حملہ کر دیا تاکہ ان لوگوں کو جہاز میں غرق کر دوں گا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ میری

قَالَ لَا تَوَاجِدْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تَرْهَقْنِي مِنْ اَمْرِي عَسْرًا قَالَ فَكَانَتْ الْاُولَى مِنْ
کو سونے کا لباس پہنتی تھی اور میرے معاملہ کو تمہاری ہی ذمہ داری

مُوسَى نَسِيًا فَاَنْطَلَقَا فَاذَاعَ اَعْلَامُ يَلِيبَ مَعَ الْعِلْمَانِ فَاَخَذَ الْخَضِرُ بِرَاسِهِ مِنْ
موسی سے بھول کر ہوا۔ پھر چلے تو ایک لڑکا ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہا تھا

اَعْلَاهُ فَاَقْتَرَعُ رَأْسَهُ بِيَدِهِ فَقَالَ مُوسَى قُلْتَ نَفْسًا رَكِيَةً بَغَيْرِ نَفْسٍ قَالَ الْمَاقِلُ
اوپر سے اٹھنے کے لئے سر کو لگا کر دیا موسی نے کہا تم نے ایک معصوم جان کو بغیر جان کے مار ڈالا کیا میں نے

تَاَنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَدْرًا فَاَنْطَلَقَا حَتَّى اِذَا اَتَى اَهْلَ قَرْيَةٍ اَسْتَطْعَمَا
تمہیں نہیں کھانا تھا تم میرے ساتھ میری کشتی کو سونگے۔ پھر چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اس کے رہنے والوں سے

اَهْلَهَا فَاَبْوَانُ يَضِيْفُوهُمَا فَوْجًا فِيهَا جِدَارٌ رَايْتَهُ اَنْ يَنْقُضَ قَالَ الْخَضِرُ
کھانا کھا تو انہوں نے انکو کھانا دینے سے انکار کیا پھر انہوں نے اس میں ایک دیوار پائی جو گرنے کو تیار تھی حضرت نے اپنے ہاتھ سے

بِيَدِهِ فَاَقَامَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسَى لَوْ شِئْتَ لَخَذْتَ عَلَيْهِمْ اَجْرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ
اٹھا دیا پھر لے گیا۔ موسی نے انہیں کہا اگر تم چاہتے تو اس کی مزدوری لے لیتے۔ کیا میں نے اور تمہارے

بَيْنِي وَبَيْنِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُ اللهُ مَوْلَى لَوْ دِدْنَا لَوْ صَبَحَتْ يُقْضَى
درمیان ہوا الی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ موسی پر رحم کرے ہم چاہتے ہیں کہ وہ میرے کرتے بہانے کر کے

عَلَيْنَا مِنْ اَمْرِهِمَا بَابٌ مَرْسَالٌ وَهُوَ قَائِمٌ عَالِمًا جَالِسًا (۱۰۸) عَنْ اَبِي
بچہ اور حالات بہر بیان لکھے جاتے ہیں باب ایک شخص بیٹھے ہوئے عالم سے کہہ کر اظہار سوال کرے ابو موسی سے

مُوسَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْقِتَالُ فِي حَسْبِ
لعدایت ہے کہا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اور کہا یا رسول اللہ اللہ کی راہ میں جنگ کیا ہے

اَللّٰهِ فَاَنْ اَحَدٌ نَايِقَاتِلُ غَضَبًا وَيَقَاتِلُ حِمِيَةً فَرَفَعَ اِلَيْهِ رَأْسَهُ قَالَ وَمَا رَفَعَ الْيَدَ
کہا ہے جو جو ہم سے ایک شخص غضب میں اگر جنگ کرے اور کبھی غیرت کی وجہ سے جنگ کرے آپ نے اپنا سر اسی طرف اٹھا لیا اور

اَلَا اِنَّهُ كَانَ قَائِمًا فَقَالَ مَنْ قَاتِلٌ لِيَتَكُونَ كَلِمَةً اَللّٰهُ هِيَ الْعِلْيَا هُوَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ
اس نے اسی طرف سر اٹھایا کہ وہ کھڑا تھا پھر کہا جو شخص جنگ کرتا ہے اسلئے کہ اللہ کا جمل بولے یا جو وہ اللہ کی راہ میں ہے

بَابُ السُّؤَالِ وَالْفِتْيَانِ عِنْدَ رَجُلٍ بِالْحَجَارِ (۱۵) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو (مكرر ۵۵)
باب کنیزوں کے بارے میں سوال کا اور جواب دینا دیکھو حدیث ۵۵

کتاب العیال
کتاب ماقتل علی
وعلی بن علی علیہ السلام
تعالی الاکتفون هذه
العصوف من الاستحقاق
منقطع کیر میں میرا اور
تمہارا علم خدا کے علم سے
گھٹا نا کچھ نہیں کہو
اسکے مقابل میں میرا ہے
بیچنے کی نظر ہمنہ کے مقابل
میں سوسری واجب ہیں
ہر معاملی و عدلی کی
جب علامہ تھے
یعنی میرا اور تمہارا علم بشر
کے علم کے مقابل میں میرا
ہی ہے کہ کھینچ
سے مشت سیرا لگا کر دینا
ہے یعنی قتل کر دینا
میں کہہ کر اٹھنے
میں کہہ کر اٹھنے حضرت
براسہ قطعہ کرنا
کی مدد میں میرا لٹاؤ
بجگہ کرنا نہیں کہہ سکتے
ہیں یا خصوصاً تمہاری
صدیقوں میں لٹاؤ لٹاؤ
زیادہ ضروری ہے یا پھر
بکہ زیادہ ضروری ہے کہ لٹاؤ
رکھنا چاہئے اس حدیث
میں حضرت ابو ایوب
مراحت کے باوجود ان کی
قبول نہیں تھیں
جن میں حضرت نے ظاہر
کے خلاف کام کیا ہے
تہا نے کو ہیں کہ اول
بعض وقت ظالم پارتا

ہو توئی ہوتی کشتی سے کام چلا لینا بہتر ہے بلکہ اس کے آدمی بالکل کام نہ کرے پھر لڑنے کے لئے تھوڑا ہی سہی۔ اور دوم بعض وقت ایک شخص کی خطا کیوں سے اس کا پیلا لہریز
ہوتا ہے۔ گو نظر اس کا قصور ثابت نہ ہو بعض آٹامیں برکریہ جو ان کو اٹھا اور ان باپ کو قسم کھا کر یقین دلاتا تھا کہ وہ ایسا کام نہیں کرتا اور وہ اس سے تعاس نہ لینے دیتے تھے
قرآن کریم کے الفاظ سے بھی ظاہر ہے کہ وہ منہ نہ تھا۔ اور سوم سخت تنگی کی حالت میں بھی خدا کے لئے کسی کام کو نہ بنا ضروری ہوتا ہے۔ ہر ایک نبی کی زندگی میں بلکہ ہر ایک
خادم ذوق انسان کی زندگی میں ایسے امور پیش آتے ہیں۔ یہ بھی جتنا متصوہ ہے کہ انبیاء کو بھی سارا علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ مگر اس حدیث میں حضرت کو یہ کہنا کہ قتال
فی سبیل اللہ صرف وہی ہے جس میں عرض و نیت یہ ہو کہ اللہ کا یوں بالا ہو۔ یعنی حق و انصاف کی حمایت میں ہو۔ محض غضب و احمیت سے جنگ کرنا قتال
فی سبیل اللہ نہیں۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ کی فطرت کے لئے جنگ کرنا بھی فی سبیل اللہ نہیں بلکہ جس کیلئے جنگ کرنا بھی فی سبیل اللہ نہیں کہ وہ بھی مال لیتے جو اہل گنہگارین سے جملہ ستانوں
کو صلحت نہات ہر ذمہ داری میں تو کافر ہیں ہر دور میں تو اس میں بھی اصل فرض عطا ہے۔ اللہ ہی ہوگی۔ حدیث ۵۵ کہ یہاں پھر لائے ہیں۔ وہاں ہی حدیث عبد اللہ بن عمر کی روایت
سے ہے شروع ہوتی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف فی حجة الوداع بمسئ اللہ اس یسئلونہ اور یہاں ہر روایت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یسئل یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کے
پاس لکھا اور وہ چوٹی لکھائی کو کہتے ہیں جس کی تاریخ ہے۔ اور منی کے میدان میں اس مقام کو کہا جاتا ہے جہاں ربی جا رہی تھی لکن ان کی جہاں ربی اور وہ یسئل یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کے
ہے اور وہ بصرہ و جرات جبرہ اہل و ذرہ اہل کتب ہیں جو کہ یہی تاریخ کے مجال میں کو ایک نسل ہوئی ہے جب وہ لوگ لکھنا ہو اسلئے کہ ان کی قاتلین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پورا پورا سامنے نہیں

ابن جبیر قال لبيك يا رسول الله وسعدنيك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله

کما حاضر ہوں یا رسول اللہ حاضر ہوں

نویا اسے معاذ

وسعدنيك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعدنيك نشا قال ما من احد

نزد یا معاذ کما حاضر ہوں یا رسول اللہ حاضر ہوں تین مرتبہ فرمایا کوئی شخص نہیں جو سچے

أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صدقًا من قلبه الاحرمه

دل سے گواہی دے کہ اللہ کے سوا کونئی معبود نہیں اور کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تمہارا اللہ سے دوزخ بے حرام کر دیا

الله على النار قال يا رسول الله افلا اخبري بالناس فيستبينون قال اذا

کما یا رسول اللہ کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ کر دوں تو وہ خوش ہو جائیں گے فرمایا پھر وہ اس پر ابروسر کرینگے

يتكلموا واخبريها معاذ عند موتيه تا نشر (م ۱۶) عن انس (م ۱۱۱) باب

اور معاذ نے اپنی موت کے وقت گناہ کے خون سے اسکی خیزی علی دیکھو حدیث علی باب

الحيام في ليله وقال فجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر وقالت عائشة

اور مجاہد نے کہا جو شخص جیا کرے یا گھر کرے وہ علم نہیں سیکھ سکتا اور حضرت عائشہ کہتی ہیں

نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين (م ۱۱۲) عن

انصار کی عورتیں لایچھیا کھتی تھیں ان کو حیائے اس بات سے نہیں روکا کہ دین میں سمجھ حاصل کریں

امر سلمة قالت جاءت امر سليم الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت

ام سلمہ سے روایت ہے کہ ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا

يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل اذا احتلمت

یا رسول اللہ اللہ حق بات سے شرم نہیں کرتا کیا عورت پر غسل ہے اگر وہ خواب دیکھے

فقال صلى الله عليه وسلم اذا رأت الماء فغطت امر سلمة تعني وجهها وقالت

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ پانی دیکھے تو ام سلمہ نے اپنا منہ ڈھانک لیا اور کہا

يا رسول الله او نغتلم المرأة قال نعم تربت يمينك فيما بين يديها ولدها

یا رسول اللہ کیا عورت کو بھی ستنے میں نہانے کی حاجت ہوتی ہے فرمایا ہاں بڑی دایاں ہاتھ گرد آؤ ہوں پھر چھری کی صورت اس سے کیوں ملتی ہے علی

(م ۱۷) عن عبد الله بن عمر (م ۵۵) باب من استغيبى وامر غيره

باب جو شخص جیا کرے اور کسی دوسرے سے سوال دیکھو حدیث ۵۵ علی

بالسؤال (۱۱۳) عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا متدا فامرته بالقداد

حضرت علی سے روایت ہے کہ میں ایک ایسا شخص تھا کہ رطوبت بہت نکلتی تھی میں متدا سے کہا

میں سچا ہاں اہل بن الفرس کے ذکر پر حضرت مسلم نے فرمایا ان اللہ عزوجل یحور علی النار من قال لا اله الا الله يتبعني بذلك حجة الله یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کو چاہتا

ہو الا لا اله الا الله کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے آگ پر حرام کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کو چاہتا ہے وہ ان رستوں پر چلنے کی کوشش کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں بتائے ہیں

لبیک۔ لب کا تنہا ہے اور لب کے معنی ہیں آقاہر پس لبیک کے معنی ہے میں تیری اطاعت پر قائم ہوں اور مسعد لبک۔ مسعد کا تنہا ہے اور اس کے معنی بھی اجابت ہیں۔ نبی کریم

نے معاذ کو یہ بات سنا لی کہ عام طور پر یہ بات کہ وہ سکرتوں کو سنا سے روکا۔ اسلئے کہ وہ اس غلط بیانی کا کمال اعلیٰ حال سمجھ کر چھوڑ دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر یہ آکیات کے معنی نہیں ہوتے

اور لبک حدیث میں تہا کی لوگوں سے بات ان کی عقل و فہم کے مطابق کرنی چاہیے۔ لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا کمال بھی گناہ تھا۔ اسلئے معاذ نے وفات سے پہلے اس کا ذکر کیا۔ مسلم کی حدیث

میں ہے کہ یہی بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے کہی تھی۔ اور جب ابو ہریرہ لوگوں کو خبر دینے کے لئے نکلے تو حضرت عمر نے روکا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض کیا کہ لوگ چھوڑ دیں گے۔ یعنی غلط

متنبیوں کا جس سے تو اپنے کسی تشبیہ سے روکا ہے۔ اسلئے اس حدیث میں پہلی حدیث کے معلوم کردہ الفاظ میں لایا گیا ہے۔ جس سے روایت بالسنی ثابت ہوئی ہے لفظ اس حدیث کے یوں نہیں ذکر کیا

النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لحاد من لحد لا یشرب به شہیداً حل لحدی باقی لفظ وہی میں سوا کے اکثری الفاظ داخل ہیں معاذ یہاں نہیں آئے یہاں بلانے لالہ الا

اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے لایا گیا کہ حرف لایا گیا ہے لفظ میں کہ اللہ کسی شخص کو جسے جس سے معلوم ہوا کہ اس کو جسے صرف مسلم میں ہے اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے

ہر مذہب میں کھرد کو شکر لفظ لایا گیا ہے۔ علی بن ابی طالب کے لفظ میں ہے میں نے اس کو لکھا کہ میرا وہ عرب ہے اس کا ہستی ظاہر الفاظ نہیں بلکہ کلمے کے لئے ہے جو تو فرمادے اور لایا گیا ہے۔ (۱۱۳) باب

کتاب النکاح
مسئلہ اپنے خود پایا
کہ جو شخص صدقہ دل
لا الہ الا اللہ محمد رسول
اللہ کہے ہیں اگر حرام ہے
تو مصلحتیں کیا ہے
اپنے اعمال کی مصلحت
کس مصلحت کی شرط
اسلئے لگا کر یہ نام
ہے کہ ایک شخص صدقہ
دل سے رسالت کو ماننے
اور پھر اولاد کو اپنی
کی برادری سے جو شخص
اپنی طاقت اور سمجھ کے
مصلحت کو پیش کرے
اور پھر اس سے کوئی بھی
فعلی ہو جائے تو وہ
تخلی مصلحت کر دینگا اور
اسکی وجہ سے اسکو
نہ ہوگا صدقہ نام
قلد کے الفاظ کو نظر
نہ رکھنے کی وجہ سے اس
حدیث کے معنی میں شک
پیش آتی ہیں۔ یہاں تک کہ
بعض لوگوں نے یہ نہ سمجھ
بنا لیا ہے کہ جو شخص لالہ
الا اللہ محمد رسول اللہ
کہتا ہے وہ جتنے بھی چاہے
گناہ کرے اس پر دفع
حرام جس سے قرآن کریم
کا قیام کردہ اصول میں
بجعل منقول ذمہ
خیال ہر وہ من جعل
منقول ذمہ شد لہ
بطل ہوا ہے ایسے ہی
حدیث میں آئے

(بخاری سنو ۱۸۵)
کتاب میں حدیث
میں کو وہ کہتا ہے
لفظ شراف میں خدا
ابن ماجہ نے نفس
ذکر لائن تکون
تلتھا احب من ان
یکون لکذا لکذا
یہی میں نے اسکا ذکر
لینے والا حضرت سے
سے کیا تو انہوں نے
کہا اگر تم نے یہ کیا
ہوتا تو مجھے اتنا اتنا
مال دے مے سے بھی زیادہ
خوشی ہوتی ہو

مذکورہ شخص ہے
جس کی بڑی کثرت
سے خارج ہو اور وہ
ایک سلطنت کی جو
بعض وقت عورت
سے ملاعت کی وقت
نکلتی ہے۔ مگر اس
وقت میں ہوا تو یہی
حالت میں منور کا
ہے۔ اس لیے بتانا
مقصود ہے کہ مسجد
میں سوئے نماز کے
دوسرے دینی کام بھی
ہو سکتے ہیں مثلاً
وعظ و نصیحت اور
بالمعرفت میں تدریس
قومی اور ملکی امور بھی
رسول اللہ صلعم کے
زمانہ میں مسجد میں طے
ہوتے تھے۔ بارہ سے
آٹھ سو نو ذیل کتب
میں مشرک اور عیسائی
ہوتے تھے مسجد بننا
میں تارا جانا تھا۔ اور
تحصیل علم کے لئے تو
گو یا مسجد ایک مرکز
تھا۔ انہوں سے کہ
اس زمانہ میں مساجد کے
ساتھ علمی چرچائی و
حالت نہیں رہی +

أَنْ يُسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ بِأَبٍ ذِكْرِ الْعِلْمِ

کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے تو اس نے آپ سے سوال کیا فرمایا اس میں وضو ہے علم

وَالْفَتْحُ فِي السُّجُودِ (۱۱۴) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَامَ فِي السُّجُودِ فَقَالَ يَا رَسُولَ

علم اور فتویٰ کا بیان ہے ایک شخص مسجد میں کھڑا ہوا اور اسکا سانس بھول گیا اس نے آپ کو

اللَّهُ مِنْ آيِنِ تَأْمُرُنَا أَنْ هَيْلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي

حکم دین میں کہ ہم احرام باندھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل مدینہ ذوالکلیفہ سے احرام

الْحَلِيفَةِ وَهَيْلُ أَهْلِ الشَّامِ مِنَ الْبَحْفَةِ وَهَيْلُ أَهْلِ بَجَيْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ

باندھیں اور اہل شام محفہ سے احرام باندھیں اور اہل بجد قرین سے احرام باندھیں اور ابن عمر کہتے ہیں

وَيُزْعَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهَيْلُ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ تَيْلَمِ

(لوگ) کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل یمن تیلم سے احرام باندھیں

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لَمَّا رَفَعَهُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَنِي آدَمَ

اور ابن عمر لکھتے تھے میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم نہیں کی علی باب جو شخص اس کو

السَّائِلُ بِالْكَثْرَةِ مَسْأَلَةٌ (۱۱۵) عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ

زیادہ جواب دے کر آئے پوچھا ابن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ایک شخص نے آپ سے

مَا يَلْبَسُ الْحُرْمُ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَبِيضُ وَلَا الْعِمَامَةُ وَلَا السَّرَاوِيلُ وَلَا الْبُرْسُ وَلَا ثَوْبًا

پوچھا کہ احرام باندھنے والا کیا پہننے فرمایا قبضین پینے نہ پکڑی اور نہ باجر اور نہ ٹوپی اور نہ وہ پیراجس میں

مُسْرَ الْوَيْسُ وَالزُّعْفَرَانُ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ التَّعْلِينَ فَلْيَلْبَسِ كَفَّيْنِ وَيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَ كَأَخْتِ الْكَعْبَيْنِ

درس یا زعفران کی ہو پھر اگر جوڑیاں نہ پائے تو تومڑے پین لے اور انہیں کاٹ دے پھاٹک کہ وہ ٹخنوں کے نیچے ہو جائیں

كِتَابُ الْوُضُوءِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کتاب الوضوء اللہ کے نام سے جو رحمن اور رحیم ہے

بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا

باب جو اسد تعالیٰ کے قول میں آیا ہے۔ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو

وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

اپنے ہاتھ کھینچو۔ دھو لو اور پسے سروں پر مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھوؤ (سورہ بقرہ) علی

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَيَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فُرْصًا لَوْضُوءٍ مَرَّةً

بخاری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ وضو میں فرض ایک ایک بار ہے

وَتَوْضُوءًا أَيضًا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا وَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ ثَلَاثَ وَكِرَّةً أَهْلُ الْعِلْمِ

اور آپ نے دو دو بار بھی وضو میں دہویا اور تین بار بھی اور تین سے نہیں بڑایا اور اہل علم

الْأَسْرَافُ فِيهِ أَنْ يَجَاوِزَ مَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَقْبَلُ

اسکیں اسراں کو بڑا سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی حد سے آگے نہ گزر جائیں علی باب نماز بغیر وضو

اہل ہندوستان جو ہزار کے مرتبہ حج کیلئے جاتے ہیں ان کے دلی بھی حرام باندھنے کا مقام علم ہے۔ علی عنوان نبی پر عزت کر لیا بخاری کتاب میں اتفاق میں ہے
بلکہ ہندو بھی اول کی قبول اور حج روٹیا سے شاکہ کہ کہ میں بھی نبی کی صلعم نماز پہلے وضو کرتے تھے بلکہ ان جو اول امام علیؑ کا ایسا بیان کی کہ اس شخص نے صلعم کو بڑے عزت سے
دیکھا کہ یہ نبیؐ کی صلعم تھا اس میں شاکہ نہیں کہ جسے نماز ہے وہ روزہ انہوں سے ہے ہی وقت سے ہنوز ہے آیت میں وضو فرض قرار دیا کہ وہ نبیؐ کے ساتھ تیار ہو ہی صلعم پہلے
سے تعلیم کے لئے تھے کہ تیار کیا کہ کہ یہ صلعم نماز یا وضو وغیرہ دیگر مسائل کی تفسیر میں یا ان میں سے صلعم تھا کہ صلعم کو اول کسی کو نبیؐ کی صلعم تیار کر کے حکام وضو کو
جو پہلے ہو جاتے تھے تفسیر کے ساتھ آیت قرآنی میں بیان کیا کہ بانی دیکھو صفحہ ۵۳)

صلوة بغیر طہور (۱۱۶) عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

لا تقبل صلوة من أحدث حتی يتوضأ قال رجل من حضرموت ما لحدث یا

ابا ہریرۃ قال فساء او ضراط باب فضل الوضوء والغسل المجتوں من ثار

الوضوء (۱۱۷) عن تعیم الجعفی قال رقیتم مع ابی ہریرۃ علی ظهر المسجد فتوضأ

فقال ابی ہریرۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امی یدعون یوم القیمۃ غرا محجبا

من اتار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل عترتہ فلیفعل باب لا یتوضأ

من الشک حتی یتیقن (۱۱۸) عن عبد اللہ بن زید انصاری انه شکر الی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی یحیل الیہ انہ یجد الشئ فی الصلوة

فقال لا یفعل اولاً ینصرف حتی یشمع صوتاً ویجد ریجا باب التخیف فی الوضوء

ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال

اضطجع حتی نفضت ثم قام فصلى وعنه قال یث عند خالقی مہونۃ لیلۃ فنام

النبی صلی اللہ علیہ وسلم من انبل فلما کان فی بعض لیل قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

فتوضأ من شین محلق وضوء خفیفا یخففہ عمرو ویقبلہ وقام یصلى فتوضأت نحو

شک سے جو کہ تک ہی تھی ہلکا وضو کیا

عمر اسکو ہلکا اور تھوڑا ایمان کرتے تھے اور نادر پڑھنے کڑھ گئے تو میں بھی

لو جا حاضر منکھن الغائط استعمال کے قبل درناک پست زمین کو کھتے ہیں پھر ایسی جگہ کو چھلانگ لٹان تھماتے حاجت کیلئے جانا ہی لینے اور براز کے لئے اور یہاں حدیث میں من احسن

کی شرط ہے اور کہ بہت سی حدیثیں اس میں ہیں کہ وضو نہیں دینا جب تک کہ حدیث نہ ہو تو کیا ایک وضو ہے کسی کو تازہ نہیں جاتا ہرگز اور قرآن کریم میں آتا ہے اذا قمت

المصلوۃ جہتم نہاد کے لئے اٹھو تو وضو کرو۔ تو ان احادیث کا مضمون قرآن کریم کے کلمات نہیں۔ بلکہ قرآن کریم کے الفاظ کی تفسیر ہے۔ اور تبارہ ہے کہ حدیث میں مروا ایسا اٹھنا

ہے۔ جس میں حدیث واقع ہو چکا ہو اور یہ امر کہ قرآن کریم میں بھی حالت حدیث میں ہی وضو کرو موزی تھیرا ہے۔ اس سے بھی ظاہر ہے کہ اگر کسی نے وضو کرنے کے لئے جو پانی نہ لے سکے تو صورت میں

وضو کے تمام ہی اجزاء احسن منکم من الفاظ فرمایا یعنی وضو کے لئے پانی نہ لے تو کیم کبھر صورت اس وقت ہے جب ایک شخص غلط سے لے۔ اگر غلط اٹھو کی بھیج کر جس کے

مٹنے ہیں ذی وعترۃ۔ اور عترۃ اس جگہ تھی جوئی سفیدی کو کہتے ہیں جو کھوڑے کی پیشانی پر ہو۔ اور پھر محل و عترت پر اس کا استعمال ہوا اور مرد اور

محل۔ تجھیل وہ سفیدی ہی جو کھوڑے کی ٹانگوں میں کہیں میں ہو۔ اور اس کو مرد اور فر ہے۔ اس حدیث کو دوسرے صحابہ نے بھی بیان کیا ہے۔ مگر ان روایات میں اس کے ہیں

آخری الفاظ فمن استطاع منکم ان یطیل عترتہ فلیفعل نہیں آتے۔ اس سے یہ نتیجہ نکل گیا ہے۔ اور یہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ الفاظ آنحضرت صلعم کے ارشاد کا حصہ نہیں بلکہ حضرت ابو ہریرہ کے اپنے الفاظ ہیں۔

کتاب الوضوء
۱۔ زنجبیل اور صندل
۲۔ زنجبیل اور صندل
۳۔ زنجبیل اور صندل
۴۔ زنجبیل اور صندل
۵۔ زنجبیل اور صندل
۶۔ زنجبیل اور صندل
۷۔ زنجبیل اور صندل
۸۔ زنجبیل اور صندل
۹۔ زنجبیل اور صندل
۱۰۔ زنجبیل اور صندل
۱۱۔ زنجبیل اور صندل
۱۲۔ زنجبیل اور صندل
۱۳۔ زنجبیل اور صندل
۱۴۔ زنجبیل اور صندل
۱۵۔ زنجبیل اور صندل
۱۶۔ زنجبیل اور صندل
۱۷۔ زنجبیل اور صندل
۱۸۔ زنجبیل اور صندل
۱۹۔ زنجبیل اور صندل
۲۰۔ زنجبیل اور صندل
۲۱۔ زنجبیل اور صندل
۲۲۔ زنجبیل اور صندل
۲۳۔ زنجبیل اور صندل
۲۴۔ زنجبیل اور صندل
۲۵۔ زنجبیل اور صندل
۲۶۔ زنجبیل اور صندل
۲۷۔ زنجبیل اور صندل
۲۸۔ زنجبیل اور صندل
۲۹۔ زنجبیل اور صندل
۳۰۔ زنجبیل اور صندل
۳۱۔ زنجبیل اور صندل
۳۲۔ زنجبیل اور صندل
۳۳۔ زنجبیل اور صندل
۳۴۔ زنجبیل اور صندل
۳۵۔ زنجبیل اور صندل
۳۶۔ زنجبیل اور صندل
۳۷۔ زنجبیل اور صندل
۳۸۔ زنجبیل اور صندل
۳۹۔ زنجبیل اور صندل
۴۰۔ زنجبیل اور صندل
۴۱۔ زنجبیل اور صندل
۴۲۔ زنجبیل اور صندل
۴۳۔ زنجبیل اور صندل
۴۴۔ زنجبیل اور صندل
۴۵۔ زنجبیل اور صندل
۴۶۔ زنجبیل اور صندل
۴۷۔ زنجبیل اور صندل
۴۸۔ زنجبیل اور صندل
۴۹۔ زنجبیل اور صندل
۵۰۔ زنجبیل اور صندل
۵۱۔ زنجبیل اور صندل
۵۲۔ زنجبیل اور صندل
۵۳۔ زنجبیل اور صندل
۵۴۔ زنجبیل اور صندل
۵۵۔ زنجبیل اور صندل
۵۶۔ زنجبیل اور صندل
۵۷۔ زنجبیل اور صندل
۵۸۔ زنجبیل اور صندل
۵۹۔ زنجبیل اور صندل
۶۰۔ زنجبیل اور صندل
۶۱۔ زنجبیل اور صندل
۶۲۔ زنجبیل اور صندل
۶۳۔ زنجبیل اور صندل
۶۴۔ زنجبیل اور صندل
۶۵۔ زنجبیل اور صندل
۶۶۔ زنجبیل اور صندل
۶۷۔ زنجبیل اور صندل
۶۸۔ زنجبیل اور صندل
۶۹۔ زنجبیل اور صندل
۷۰۔ زنجبیل اور صندل
۷۱۔ زنجبیل اور صندل
۷۲۔ زنجبیل اور صندل
۷۳۔ زنجبیل اور صندل
۷۴۔ زنجبیل اور صندل
۷۵۔ زنجبیل اور صندل
۷۶۔ زنجبیل اور صندل
۷۷۔ زنجبیل اور صندل
۷۸۔ زنجبیل اور صندل
۷۹۔ زنجبیل اور صندل
۸۰۔ زنجبیل اور صندل
۸۱۔ زنجبیل اور صندل
۸۲۔ زنجبیل اور صندل
۸۳۔ زنجبیل اور صندل
۸۴۔ زنجبیل اور صندل
۸۵۔ زنجبیل اور صندل
۸۶۔ زنجبیل اور صندل
۸۷۔ زنجبیل اور صندل
۸۸۔ زنجبیل اور صندل
۸۹۔ زنجبیل اور صندل
۹۰۔ زنجبیل اور صندل
۹۱۔ زنجبیل اور صندل
۹۲۔ زنجبیل اور صندل
۹۳۔ زنجبیل اور صندل
۹۴۔ زنجبیل اور صندل
۹۵۔ زنجبیل اور صندل
۹۶۔ زنجبیل اور صندل
۹۷۔ زنجبیل اور صندل
۹۸۔ زنجبیل اور صندل
۹۹۔ زنجبیل اور صندل
۱۰۰۔ زنجبیل اور صندل

کہ یہ حدیث پہلے
۱۳ پر گذر چکی ہے اور
آگے ۱۵۳ پر پھر آتی
ہے۔ اور کسی دفعہ مکر
بھی آئی ہے ۱۵۳ میں
وضو کا ذکر نہیں۔ اور
یہاں وضو کا ذکر ہے
اور ۱۵۳ پر زیادہ بسط
کے ساتھ آئی ہے۔ مگر
بعض تفصیلات جو یہاں
ہیں وہاں نہیں۔ یہاں
امام بخاری اسے
صرف وضو میں تخفیف
پر مشہدات کیلئے لائے
ہیں اور حدیث میں تہی
کے مصلح کے متعلق
الفاظ آئے ہیں وضو
تخصیفاً مگر مراد اس سے
یہ نہیں کہ پورا وضو
نہیں کیا۔ بلکہ مطلب
ہے کہ وضو صلہ کے اس
سے جلدی خارج ہو گئے
۱۵۳ میں اس کی
جائے لفظ آتے ہیں
فاحسن وضو وہ
یعنی اچھی طرح وضو
کیا۔ امام بخاری کی
غرض تو اس حدیث کو
یہاں لانا سے صرف
تخصیص ہی کہ وضو میں
تخفیف جہی جائز ہے۔
مگر حدیث کے پچھلے
حصے سے یہ بھی معلوم
ہو کہ نیند خود ناقص
وضو نہیں۔ بلکہ وجہ
عفت اس میں تھا
نقص وضو ہے۔ اگر
پکی نیند ہو جس میں
پوری عفت نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا اور یہ جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتے ہیں تسامعینہ ولا بناہر قلبہ اور اس حالت کے ظہار کیلئے کہ انبیا کا ملک کبھی ذکر آگے ہی نقل نہیں
ہوتا اور ان کا لفظ اشفاقا سے ایسا دائمی ہونا ہی کہ حالت خواب میں بھی یہ قائم رہتا ہے اور اسے ایسی صفائی حاصل ہوتی ہے جو عام لوگوں کے دلوں کو حاصل نہیں ہوتی۔ اور اس میں کسی کے ظہار
کے لئے عبید بن عمیر کا قول لائے ہیں۔ روایا الانبیاء وہی انبیاء کی روایا ایسی صاف ہوتی ہے کہ وہ وحی کا حکم رکھتی ہے۔ مگر آپ کا وضو، ذکرنا اس وجہ سے تھا کہ آپ کی نیند بوقت
شاید بگی تھی۔ جس میں اشغال ناقص وضو نہ تھا۔ بگی نیند بھی بعض وقت انسان خراٹے سے لیتا ہے۔ کھٹ میں صاف تیار کیا کہ بیاض وضو یا وضو کی تکمیل کے لئے وضو صرف ہے۔ جو کہ اچھی
طرح اعضا کو صاف کرے اور سیخ اصل میں صحت ہے اس کے مقابلہ جو لفظ تخفیف وضو کا آیا ہے تو اس سے مراد دھوا وضو نہیں بلکہ جلدی وضو کہ لیا مراد ہے جس میں کوئی سبب اعتبار یہاں جائے
گزارشیں مل کر اچھی طرح صاف نہ کیا جائے۔ یہی حدیث باب میں آئی ہے وضو کی تکمیل نہ کرنے سے مراد ہے۔ کیونکہ اگر وضو پورا نہ کیا ہوتا تو اس امر نماز کے لئے عرض نہ کرتے۔ علاوہ اس میں آگے حالت
بھی تھی کہ نماز با وضو رہنے اور دوسری حالت جو وضو کیا جس کی تکمیل کا ذکر ہے تو وہ وضو پر وضو ہو گیا۔ یہی بعضی حالت تھی کہ با وضو ہو گیا۔ نیند کیلئے یا وضو کرنے اسباب وضو یا وضو

إِنَّمَا تَوْضَاؤُهُ جَمَعَتْ عَنْ نِسَاءِهِ فَمَوْلَانِي فَمَجَلِي عَنْ نِسَاءِهِ ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ رَضِيَ

کہا جس آپ نے کیا تھا میں نے کیا اور آپ کی باتیں جانب گذارو گیا تو آپ نے مجھے پھر اگر ایسی باتیں طرف کر لیا پھر آپ نے نماز پڑھی جس قدر اللہ نے چاہا
فَمَا حَتَّى نَفَخَتْ أَنَاةَ الْمُنَادِي فَأَذَنَهُ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَ

پھر آپ بیٹ گئے اور سو گئے یہاں تک کہ آپ خراٹے لینے لگے پھر مؤذن آپ کے پاس آیا اور آپ کو نماز کی اطلاع دی تو آپ اس کے ساتھ نماز کیلئے چلے گئے اور نماز پڑھی
لَمْ يَتَوَضَّأْ قُلْنَا لَعِبْرَانِ نَأْسًا يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأَمَّرَ عَيْنَهُ

وضو نہ کیا علی ہم نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھیں
وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ قَالَ عُمَرُ وَسَمِعْتُ عَبِيدَ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ رَوَى الْأَنْبِيَاءُ

اور آپ کا دل نہ سوتا تھا عروے نے کہا میں نے عبید بن عمر سے سنا کہتے تھے نبیوں کا خواب
وَ حَتَّى قَرَأَ فِي آيَاتِي الْمُنَامُ فِي آذَانِكَ يَا بَابِ اسْبَاغِ الوُضُوءِ وَقَدْ قَالَ ابْنُ

وہی ہے پھر پڑھا میں خواب میں لکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کرنا ہوں سورہ واقعات باب وضو کی تکمیل اور ابن عمر نے کہا
عَمْرٍو اسْبَاغِ الوُضُوءِ (النقاء ۱۲۰) عَنْ اسامةِ بْنِ يَدِي قَالَ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وضو کی تکمیل بعد کا خوب صاف کرنا ہے علی اسام بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات
مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالسَّعْبِ نَرًا قَالَ لَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يَسْبِغِ الوُضُوءَ فَقُلْتُ الصَّلَاةُ

سے سوئے یہاں تک کہ جب آپ گھاٹی میں پہنچے پھر وضو کیا پھر وضو کی تکمیل نہیں کی میں نے کہا یا رسول اللہ
يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الصَّلَاةُ أَمَا كَ فَكَيْبَ فَلَمَّا جَاءَ الزُّدُفَ لَفَرْتُ لَهَا فَوَضَّأَ فَاسْبِغْ

نماز فرمایا نماز آگے چل کر ہوگی پھر سوار ہو گئے جب مزدلفہ میں آئے تو آتر پڑھے اور وضو کیا اور وضو کی تکمیل
الْوُضُوءَ ثُمَّ أَقَامَتِ الصَّلَاةَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَا خَ كُلِّ إِنْسَانٍ لِعِبْرَةٍ فِي مَزَلِهِ

کی پھر نماز گھڑی ہوئی تو آپ نے مغرب کی نماز پڑھی پھر عرض فرمایا ہاں اوٹھ اپنی منزل میں چلنا
ثُمَّ أَقَامَتِ الْعِشَاءَ فَصَلَّى وَلَمْ يَصِلْ بَيْنَهُمَا بَابِ اسْبَاغِ الوُضُوءِ بِالْيَدِ مِنْ عَرَفَةَ

پھر عشا کی نماز پڑھی ہوئی تو آپ نے نماز پڑھی اور اس وقت کوئی نماز نہیں پڑھی باب ایک ہی چلو سے دونوں ہاتھوں سے منہ کا دھونا
وَأَحَدَهُ (۱۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمْ يَتَوَضَّأْ فَغَسَلَ وَجْهَهُ أَخَذَ عَرَفَةَ مِنْ مَاءٍ فَمَتَّضَفَ

ابن عباس کے متعلق روایت ہے کہ انہوں نے وضو کیا اور اپنا منہ دھویا پانی کا ایک چلو لیا اس سے کھلی کی اور ناک میں
بِهَا وَأَسْتَنْشَقُ ثُمَّ أَخَذَ عَرَفَةَ مِنْ مَاءٍ فَجَعَلَ يَغْسِلُ بِهَا هَكَذَا أَصْبَاغًا إِلَى يَدِهِ الْأُخْرَى فَمَتَّضَفَ

پھر ایک چلو پانی کا لیا اور اس سے اس طرح کیا اور اپنے دوسرے ہاتھ کے ساتھ چلایا پھر اس سے
بِهَا وَجْهَهُ ثُمَّ أَخَذَ عَرَفَةَ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ اليمنى ثم اخذ عَرَفَةَ مِنْ مَاءٍ

اپنا منہ دھویا پھر ایک چلو پانی کا لیا اور اس سے اپنا داہنہ ہاتھ دھویا پھر ایک چلو پانی کا لیا اور اس سے اپنا بائیں
فَعَسَلَ بِهَا يَدَهُ اليمنى ثم مس برأسه ثم اخذ عَرَفَةَ مِنْ مَاءٍ فَوَسَّ عَلَى رِجْلِهِ اليمنى

پھر اپنے سر پر مسح کیا پھر ایک چلو پانی کا لیا اور اس سے اپنے داہنے پاؤں پر دالا
فَعَسَلَ بِهَا يَدَهُ اليمنى ثم مس برأسه ثم اخذ عَرَفَةَ مِنْ مَاءٍ فَوَسَّ عَلَى رِجْلِهِ اليمنى

پھر اپنے سر پر مسح کیا پھر ایک چلو پانی کا لیا اور اس سے اپنے داہنے پاؤں پر دالا
فَعَسَلَ بِهَا يَدَهُ اليمنى ثم مس برأسه ثم اخذ عَرَفَةَ مِنْ مَاءٍ فَوَسَّ عَلَى رِجْلِهِ اليمنى

کی تکمیل کی تاکہ نیند کے کون بعض خواب جہاں وضو پانی نہ پھر اس میں بعضی کو مد نظر رکھیں مٹی طہار کیا تھا کھڑا ہر صفائی کا کس قدر خیال اسلام میں پایا جا کر +

عَنْ غَسَلَهَا ثُمَّ أَخَذَ عُرْفَهَا فَخَرَّى فَعَسَلَ بِهَا بَعْضُ رِجْلِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ قَالَ هَكَذَا

یہاں تک کہ اسے دھو لے پھر ایک اور چھتو لیا اور اسے اپنا پاؤں دھو لیا

رَأَيْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِأَبِ التَّيْمِيَّةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعِنْدَ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھونے کے دیکھا علی باب ہر حالت میں بسم اللہ کہنا اور صحبت کرنے کے وقت بھی

الْوَقَاعِ (۱۲۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ

ابن عباس سے روایت ہے جو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لئے کہہ اگر تم میں سے

أَن أَحَدًا كَمَا رَأَى أَلِيَّ أَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَبِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَبِّبِ الشَّيْطَانَ

کوئی شخص جب اپنی بہن کے پاس آئے کہے اللہ کے نام سے اے اللہ ہم کو شیطان سے بچا اور شیطان کو اس سے دور رکھ

مَا زِلْنَا فَفَضِي بَيْنَنَا وَوَلَدٍ لَمْ يَضُرَّكَ بَابٌ مَا يَقُولُ عِنْدَ الْخَلَاءِ (۱۲۳) عَنْ ابْنِ

جو تو ہمیں عطا فرمائے پھر ان کے ہاں اولاد ہو تو شیطان اسے نقصان پہنچانے کا عمل باہم تفضائے حاجت کے وقت کہے

قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ

بجے کہی صلی اللہ علیہ وسلم جب جلتے ضرور میں جاتے تھے کہ اللہ

بِكَ مِنَ الْخُبْتِ وَالْخَبَائِثِ بَابٌ وَضِعَ الْمَاءُ عِنْدَ الْخَلَاءِ (۱۲۴) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

پہلے ہلیدوں اور ناپاکوں سے علی باب جاتے ضرور کے پاس ہانی لاکھنا ابن عباس سے

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْخَلَاءَ فَوَضَعَتْ لَهُ وَضُوءًا قَالَ مِنْ وَضِعَ هَذَا

روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ضرور میں گئے تو میں نے آپ کے لئے دھونے کا پانی رکھا فرمایا کس نے کہا

فَأَخْبِرْ فَقَالَ اللَّهُمَّ فَفِيهِ فِي الدِّينِ بَابٌ لَا يَسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةَ بَعْدَ الْإِطْبَاقِ أَوْ بُولٍ

تو آپ کا اطلاع دی گئی تو فرمایا اے اللہ اسے دین کی مسجد سے علی باب تفضائے حاجت یا پیشاب کے وقت قبلہ کی طرف نہ کرے

الْإِعْنَدَ الْبِنَاءِ جَدَارًا وَنُحُورَهُ (۱۲۵) عَنْ ابْنِ أَبِي نَصْرَةَ قَالَ قَالَ

سواؤ اس کے کہ مسائے کوئی عمارت ہو چھوے دیوار یا کوئی ایسی چیز

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَى أَحَدًا كَرُمُ الْغَائِطِ فَلَا يَسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةَ

دھونے کے لئے جگہ پر جگہ کوئی جگہ ضرور کو جائے تو قبلہ کی طرف نہ کرے

۵

کتاب المغتوب
اس سے کہ کرنا اور نہ کہ
میں پانی ڈالنا جائز ہے
مگر یہ کہنا کہ وضو نہ کیلئے
یہ ضروری ہے کہ ایک ہی
جوسے کلی کرے اور نہ کہ
میں پانی ڈالے دست
نہیں یہ حالات پر انھما
ہے جبکہ پہلی حدیث پر
گردکار رسول اللہ صلی
بعض وقت ضرور کرتے
تھے اور بعض وقت عمل
پھر پانی کی مقدار پر بھی
انحصار سے کسی شخص
نے ایک طرح آپ کو پوچھا
کرتے دیکھا تو اسی طرح
بیان کر دیا کہ میں ابن عمر
میں بھی کرنا غلط فرماتا
ہے۔ خاص مسندناک
کو صاف کرنا ہی۔ امام
بخاری اس حدیث کو اس
بات کی تائید میں لکھتے
ہیں کہ ایک ہاتھ میں پانی
کا چلو لیکر دو ہاتھ
سے منہ صحتاً مٹا کر
یہ بہت چھوٹی
چھوٹی باتیں ہیں۔ مگر
معلوم ہوتا ہے کہ مسوقت
کہ اس قسم کے سوالات
پیدا ہونے کے لئے اولاد

بخاری کا منشا یہ دکھانا ہے کہ ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل میں سنت پائی جاتی ہے۔ علی حدیث سے یہ لال کیا ہے کہ وضو کرتے وقت بھی بسم اللہ ضروری ہوتی کیونکہ جب کسی حالت میں بھی
بسم اللہ کا حکم ہے جو انسان کے شدید ترین جوش شہوت کا وقت ہے تو وہ کسی معمولی حالت میں نہیں کا ضروری ہونا چاہتا ہے۔ اس حدیث پر بحث کرنے پر سوچو کہ علی حدیث خبیثہ کی کجی ہے
اور خبیثہ خبیثہ کی ہر لادگر ہنسیا میں لے گئے ہیں مگر پہلا لفظ خبیثہ بھی پڑ گیا ہے اس صورت میں اسے معنی مکروہ یا پندہ چیز کے ہیں۔ اور باخانے کا نطق ہا پاکوں سے ہے۔
... اور نہ اس وقت سے مراد صحابی ہونگے اور یہی یہاں موزہ دلہنگی ہے۔ اور اگر طرح خبیثہ بھی مراد ہیں تو ان سے بجاہ جائنا ان ہا پاک جراثیم سے بجاہ جانا ہے جو ایسے ناپاک جگہ میں ہوتے ہیں
اور بعض کے نزدیک خبیثہ سے مراد کفر اور خبیثہ اس وقت مراد شیطاں ہیں اور بعض نے خبیثہ کو ہر قسم کے شر کیلئے عام کہا ہے اور خبیثہ کو شیطاں کے لئے۔ علی آپ نے ابن عباس سے فرمایا
بھلکی بات دیکھ کر کس فریضہ سے پانی آپ کو پہنچایا۔ اس کی میں دین فقہاء کیلئے دعا کی چنانچہ صحابی میں حضرت ابن عباس کا رتبہ فقہاء میں بہت بلند ہے۔ اس حدیث میں یہ بتایا
ہے کہ تفضائے حاجت سے فریضہ پر پانی کا موجود ہونا صفائی کے لئے بہتر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود مٹی یا پتھر کے ڈھیلوں کے استعمال کے یہاں بھی استعمال کرتے
تھے۔ ابن عباس کو آپ کی اس عادت کا علم ہوا کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور آپ نے ان کے لئے دعا کی۔ حدیث میں صرف یہ ذکر ہے کہ خبیثہ کی طرف منہ یا پیٹھ نہ ہو بلکہ بخاری نے
عنوان باب میں جو یہ حدیث لال صحابہ سے لیا ہے کہ عمارت یا دیوار ہو تو ہر جہ نہیں وہ لفظ غائط سے کیا معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ غائط وہ پست زمین ہے جہاں فرمایا کہ تفضائی حاجت کیلئے
جاتے تھے جو اس عمارت نہیں ہوتی اور اولی حدیث نے اس کو صاف بھی کر دیا ہے اور آخرت معلوم ہے کہ عمارت پر پانی نہ پڑے اور آپ کا منہ بیت المقدس کی طرف تھا تو لادگر پتھر کی طرح ہوتی
مشرق مغرب کو سامنے رکھا اہل مدینہ کے لحاظ سے ہے ہاں ملک میں یہ شمال مغرب ہوگا۔ کیونکہ یہاں کو قبلہ مغرب کی طرف ہے۔ خاکہ کو یہ دکھانا ہے کہ وہ ہاں کو ہر جہ سے
ہدایت کے سبب سے چھوٹ کر دنیا کو سیوا کیا ایضاً ہر ارض ہے ہی باطن کے طرف انسان کی توجہ جاتی ہے۔ آج منہ دنیا میں بھی کسی قدر نظر پر کا فعال پر ہر دو دیا جاتا ہے کہ ان کے کوئی حدیث نہ ہو بلکہ یہاں
ظاہر میں حدیث سے نہ دیکھی جتنی عظمت کی طرف توجہ دلائی مقصود ہے۔ سلام کی عظیم از لفظ غلطی سے خالی ہوتے تو اس پاک مگر کی عظمت کا یہ حدیث پر کیا ہے جو کہ گورنر ہیں اس کو غلط اور کج
جس کا اثر کسی حقیقی عظمت کا اثر نہیں ملوں گا اور پھر پانا +

(۱۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (مكرر - ۱۲۶) بَابُ الْاِسْتِجَارِ بِالْمَاءِ (۱۲۹) عَنْ

دیکھو حدیث ۱۲۶ باب پانی سے استنجائیں اس میں نیک
انس بن مالک کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ اخرج للحاجۃ اخی از و غلاما مرفعا
سے دعوات سے گرتی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاے حاجت کے لئے بٹھتے تو میں اور ایک لڑکا آتے ہوتے

رَادَاؤُهُ مِنْ مَاءٍ يَغْنِي بَيْتِي بِهِ بَابُ مَنْ حَمَلَ مَعَهُ الْمَاءَ لِيُطَوِّرَهُ وَقَالَ أَبُو النَّدَّاءِ

ساتھ پانی کا ایک ڈول جو تانا آپ اس سے استنجاکرتے علم پاب کسی شخص کے ساتھ پانی کا طہارت کے لئے لے جانا اور ابو دردوانے کا
الکس فيكم صاحب لتعطين والظهور والوساد (م ۲۰) عَنْ انس مكرر - (۱۲۹) بَابُ

کی تم میں وہ شخص نہیں (احضرت کی اجازتیں اور وضو کا پانی اور تکرار اظہار علم دیکھو حدیث ۱۲۹ علم باب
حَمَلُ لَعْنَةٍ مَعَ الْمَاءِ فِي الْاِسْتِجَارِ (م ۲۱) عَنْ انس مكرر - (۱۲۹) بَابُ

استنجی کے لئے پانی کے ساتھ پھرا رسول لے جانا دیکھو حدیث ۱۲۹ علم باب
النَّبِيِّ عَنِ الْاِسْتِجَارِ بِاَيِّ مَيِّمٍ (۱۳) عَنْ ابْنِ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

دائیں ہاتھ سے استنجاکرنے کی ممانعت ابوتادہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا شَرِبَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَسُ فِي الْاِنَاءِ وَاِذَا اَتَى الْخَلَاءَ

علیہ وسلم نے فرمایا تب تم میں سے کوئی شخص پانی پے تو برتن میں سانس نہ لے اور جب جلے ضرورت میں جاے
فَلَا يَمْسُ ذِكْرَهُ بِمَيْمِنِهِ وَلَا يَمَسُّ بِمَيْمِنِهِ بَابُ لَا يَمَسُّكَ ذِكْرُهُ بِمَيْمِنِهِ

تولینے ضرورت ہو دایں ہاتھ نہ ٹھکائے اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجاکرتے علم باب پشاپ کرتے وقت اپنی شرکاء
اِذَا اَبَالَ (م ۲۲) عَنْ ابْنِ قَتَادَةَ (مكرر - ۱۳۰) بَابُ الْاِسْتِجَارِ بِالْحِجَارَةِ

کو دایاں ہاتھ نہ لگائے دیکھو حدیث ۱۳۰ علم باب دھیلوں سے استنجائیں
(۱۳۱) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ اتَّبَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجَ لِحَجَّتِهِ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا اور آپ قضاے حاجت
وَكَانَ لَا يَلْبِغُ فَلَ نَوَيْتُ مِنْهُ فَقَالَ بَغْنِي اِحْجَارًا اسْتَفْضُهَا اَوْ نَحْوَهَا وَلَا تَلْبِغْ

کے لئے لٹکھو اور آپ پیچھے نہ دیکھتے تھے میں آپ کے قریب ہوا فرمایا مجھے کہ ڈھیلے ڈھونڈو میں ان سے استنجاکر لیں یا کوئی ایسے اور لٹکھو

طہارت کیلئے پانی ساتھ لجاتے تھے یہاں بادی تفریق لفظی پہلی حدیث کو دہرایا ہے آخری لفظ استنجی بدلے میں چھوڑ دیئے ہیں۔ علم یہاں بھی اسی حدیث ۱۲۹ کو دہرایا ہے اور کلام

من ماء کے ساتھ لفظ وعذۃ بھی بڑھایا ہے اور عذۃ کو اسے کے پھل والے سونے کو کہتے ہیں۔ اس کا ساتھ لے جانا شاید اس لئے ہو کہ ڈھیلے کے لئے کسی اکھیر لیا جائے یا اس

کے پڑاؤ ال کر اوٹ کر لیا جائے البتہ یہاں باخروج لیا جاتا ہے۔ بیاض الخلاء میں مکرر اس سے میدان میں ہی قضاے حاجت کیلئے مہیگی ہو۔ جیسا پہلی حدیث سے ظاہر ہے۔ علم

عنوان باب میں حرف لایا ہے یعنی دائیں ہاتھ سے استنجاکرنے کی ممانعت اور حدیث میں استنجاکرنا علامہ شرکاء کو ہاتھ لگانے کا ذکر بھی ہے۔ اور یہ اس لئے کہ دائیں ہاتھ سے

انسان کھانا پیتا ہے اور گواستنجادالے ہاتھ کو مٹی (یا ماسن) سے صاف کر لینے کا ذکر آگے آتا ہے۔ لیکن مزید طہارت کے لئے یہ حکم بھی دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہی پاک صاف ہوتے

بلکہ اپنے ساتھیوں کو بھی پاک صاف دیکھنا چاہتے تھے مگر حدیث میں ایک اور بات کا بھی ذکر ہے یعنی پینے کے پانی میں سانس لینے کی ممانعت۔ ظاہر ہے کہ جو اس سانس لیتا تھا انسان کے

اندھ سے نکلتی ہے وہ زہریلے مواد کو بارہے کرتی ہے۔ اسلئے پینے کے پانی میں سانس لینے سے روکا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے ہی تھا۔ اور اس زمانہ میں علم ی باتوں کو کون

علم یہاں سے معلوم ہوا کہ حاجت کیلئے نکلتے باہر تھا یعنی منگ میں وہاں بھی پانی ساتھ لیا جائے کہ تفریق جہانی طہارت کا خیال ہے ان عبادت میں گو کہتے ہیں جھولے جھولے اور کا ذکر کہ لیکن تاریخ زیدی یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور عادات پر بہت اچھی روشنی ڈالتی ہیں۔ علم یہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں اور پورے لئے اہل عراق کو یہ پتہ کنی اسلئے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود آخر کوذ میں جاری تھے اور طلب یہ تھا کہ تم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا شدید عقلم رکھتے تھے کہ گویا آپ کے ساتھ ہی دن رات رہتے تھے۔ اور یہاں عنوان باب میں یہی ظاہر کرنا مقصود ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دہرایا ہے اور کلام

ابن ہریرہ سے

(دیکھنا شروع ہو گیا) میں
 دیکھے جانے وہ مٹتی
 جن کے منہم کے کندہ
 آجاتے ہیں اور یہ بھی
 ان بڑوں کا ذکر ہے
 جو میں ہی باہر پڑی
 ہیں۔ ہر ایک ٹہری
 بجائے خود ناپاک نہیں
 وہ بڑیاں بھی تھیں
 جن پر قرآن شریف
 لکھا جاتا تھا۔ اگر
 ٹہری سے استنجا نہ کرنے
 کی یہ علت تھی کہ
 جوں کی تو حرکت چھڑ
 جاتے تو بڑیوں پر
 قرآن شریف کیوں
 لکھا جاتا۔ اس طرح
 ٹہریوں سے دوسری
 چیزیں بنانا اور انکو
 استعمال میں لانا
 درست ہے۔

بِعَظْمِ وَلَا مَرُوثًا قَائِمَةً بِأَجْزَارٍ يَطْرُقُ تَبْيَانِي فَوْضَعَهَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَعْرَضَتْ عَنْهُ

اور بڑی اور لہہ نہ لانا سو میں اپنے کمرے کے کونے میں کھڑے آگے پاس لگیا اور امیں آگے پاس کھدیا اور آپ سے سب کے ایک ہو گیا

فَلَمَّا قَضَىٰ اتَّبَعَهُ بَهْنٌ بَابٌ لَا يَسْتَنْجِي بِرُوثٍ (۱۳۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ

جب آپ فارغ ہوئے تو ان سے استنجا کیا بَابٌ بید سے استنجا نہ کرے عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَائِطُ وَأَمَرَنِي أَنْ اتَّبِيَهُ بِنَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَوَجَدْتُ حَجْرًا

کڑی صفی اللہ علیہ وسلم جانے ضرورت کو گئے تو مجھے ڈھانکا کہ میں تین ڈھیلے آپ کو لادوں مجھے دو ڈھیلے

وَالْتَمَسْتُ الثَّلَاثَةَ فَلَمْ أَجِدْ فَأَخَذْتُ رُوثَةً وَقَائِمَتَيْنِهَا فَأَخَذْتُ أَحْجَرَيْنِ وَالنَّارُوقِ

اور تیس تلاش کیا مگر نہ ملا سو میں نے ایک لید کا ٹکڑا لیا اور آپ کو لادیا تو آپ نے دو ڈھیلے لئے اور لید کا چھینک دیا

وَقَالَ هَذَا رُكْسٌ بَابٌ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً (۱۳۳) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَضَّأَ

اور ڈھانکا یہ پید ہے بَابٌ وضو میں ایک ایک مرتبہ دھونا ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً بَابٌ الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ (۱۳۴) عَنِ

ولم نے وضو میں اعضا کو ایک ایک بار دھویا بَابٌ وضو میں دو دو بار دھونا عبد اللہ بن

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ بَابٌ الْوُضُوءِ

بید سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں اعضا کو دو دو بار دھویا بَابٌ وضو میں

ثَلَاثًا (۱۳۵) عَنْ حُرَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت عثمان کے خادم سے روایت ہے کہ اس نے دیکھا کہ عثمان بن عفان نے ایک مرتبہ دھویا

عَلَى الْكَفِيَّةِ ثَلَاثًا مَرَّاتٍ فَرَفَسَلَهَا ثُمَّ ادْخَلَ بَيْتَهُ فِي الْأَيَّامِ فَمَضَى اسْتَنْجَى ثُمَّ غَسَلَ

اور تین مرتبہ پانی اپنے پتھروں پر دھوا اور انہیں دھویا پھر اپنا دایاں ہاتھ برتن میں ڈالا اور دیکھی کہ اور ناک صاف کیا پھر اپنا مشترک ہاتھ

وَجَهَةً ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْبُرْفِقَيْنِ ثَلَاثًا مَرَّاتٍ مَرَّةً بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رَجُلَيْهِ ثَلَاثًا مَرَّاتٍ إِلَى

دھویا اور دونوں ہاتھ کھینوں تک میں بار دھوئے پھر اپنے سر پر مسح کیا پھر اپنے دونوں پاؤں غٹوں تک میں بار دھوئے

الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا ثُمَّ

پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے وہ پھر

صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يَجِدُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَإِنِّي رَوَيْتُهَا لِمَا تَوَضَّأَ

دو رکعت نماز پڑھے جس میں کوئی خیال اس کے دل میں نہ آئے تو اس کے گناہ جو اس سے ہو چکے ہوں بخش دیئے جاتے ہیں اور ایک روایت میں ہے

بھی کافی ہے۔ ایسا ہی پانی کی تلت ہوتی ہے اس سے کام چلائے۔ زیادہ صاف کر لی ضرورت ہو تو اس سے نیا دھرتی دھوئے تن یا بھی مومریکے لحاظ سے ہے ورنہ وقت ضرورت میں با

سے زیادہ بھی جائز ہے۔ کھلا میں ہی کہ غسل کے وضو کی تفصیل ہے۔ قرآن کریم میں جہاں تفصیل وضو کی۔ وہاں پچھلے منہ دھونا پھر کھینوں تک ہاتھوں کا دھونا پھر سر کا مسح کرنا پھر

پاؤں دھونا ذکر ہے۔ یہاں پہلے ہاتھ دھونا پھر کل کرنا پھر ناک میں پانی ڈالنا۔ اور پھر وہ مراتب مذکور میں ہیں کا ذکر قرآن شریف میں ہے تو کیا حدیث میں قرآن شریف سے پھر زاید امور آئے

ایسا نہیں ہو کر جب پہلے وضو نہ دھوئے کے لئے کہا گیا ہے تو پہنچان تک ہاتھوں کا صاف کرنا اس کے لئے ضروری ہے۔ ایسا کوئی امتحان نہیں جس کو منہ دھونے کو کہا جائے تو وہ ہاتھ دھو

پھر مٹھے دھونا شروع کرے۔ ایسا ہی کل کرنا اور ناک صاف کرنا یہ بھی مٹھے دھونے میں شامل ہیں ان کے بغیر جو مٹھے صاف نہیں چوں کہ۔ کھلا میں یہ لفظ نہیں کہ اس طرح وضو کر کے دو

رکعت نماز پڑھے تو اس کے گناہ جو ہو چکے تھے دہرائے جاتے ہیں۔ غفر لہ ما تقدّم من ذنبہ اور پچھلے میں یہ لفظ نہیں کہ اس کے وہ گناہ جو پچھلے میں نے جو اس کے اور اس کی نماز کے

درمیان میں یہاں تک کہ اسے پڑھے۔ اسکے معنی نہیں کہ نماز چوری نسخ و جوڑ میں پڑھا رہے اور نماز پڑھتا رہے تو وہ یہاں صحت ہوتی ہے عین کی مشائخ میں سے نماز کو روکی ہے کہ اسکا

صاف چھاتے ہیں۔ مگر کہا ہے بغیر توبہ کے نہیں۔ مگر قرآن کریم ہے اس شخص پر عذر کا مطلب خود واضح کر دیا ہے۔ جہاں یہ فرمایا کہ ان الصلوٰۃ تہدی عن الغشاش والمفسد نماز ہے جہاں کے کلموں

اور بری باتوں سے روک تھی ہے۔ یہی اصل غفر توبہ ہے اگر انسان نماز کا حق ادا کرے اور وہ نماز چند ظاہری حرکات کا نام نہ ہو کہ خیالات کسب میں اور تہم بھی رکوع میں کبھی سجدہ میں جو صیحا کہ

صدیقہ سے بھی مدح کر دیا۔ لا یجوز فیہما نفسہ اگر انسان بول کر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے کو بھیجے اور اس کی عظمت کو مدح کے سامنے اس کی مدح سے کہ جو ایک کلمہ تو وہ عطفان مدنی کلمہ بھی نہیں

کہا۔ اور جب انسان ہر قسم میں ہر قسم کی زندگی میں تبدیلی واقع ہو جیسے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے سے انتہاء مدح و عطا کر تیار کرنا یا دیگر تکبیر وغیر ذلک کی میں ضعیف تھی ہے

مگر یہ عطفان مدنی کلمہ بھی کہہ کر اللہ تعالیٰ کیسے شکیں اور دعا کا لفظ کا بھی کلمہ ہے اور نماز پڑھ کر اور وضو کرنا کہ عطا کرے تعادلی تو تین کلمہ اور حدیث نبوی کے منشا کے خلاف ہے۔

عَمَّا قَالَ أَحَدٌ شَأْنٌ حَزِينٌ لَوْلَا آيَةُ مَا حَدَّثَ شِكْمُوهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَدَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

لَا بُؤْسَ إِلَّا فِي حَيْضٍ وَبُؤْسٌ فِي حَيْضٍ وَبُؤْسٌ فِي حَيْضٍ وَبُؤْسٌ فِي حَيْضٍ

بِصَلَاتِهِمْ يَا قَوْمِ عَرَفَةُ الْآيَاتِ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۱۳۶) عَنِ ابْنِ هُرَيْرَةَ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْزِلْ وَمَنْ اسْتَحْمَرَ فَلْيُؤْتِرْ

الْأَسْتِحْمَارُ وَتَرَا (۱۳۷) عَنِ ابْنِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تَوَضَّأَ أَحَدَكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِيهِ أَنْفَ مَاءٍ ثُمَّ لْيَسْتَنْزِلْ وَمَنْ اسْتَحْمَرَ فَلْيُؤْتِرْ

أَحَدَكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيُغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي وَضُوئِهِ فَإِنْ أَحَدَكُمْ لَأَيُّدِي ابْنِ

بِأَنْتَ يَكْفِيكَ بَابُ غَسْلِ الرَّجُلَيْنِ وَلَا يَمْسُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ (۱۳۸) عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

(شكر- ۵۲) بَابُ الْمَضْمُضَةِ فِي الْوَضُوءِ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ حُرَيْرَانَ مَوْلَى عُمَانَ بْنِ عَمْرٍَا (شكر- ۱۳۵) بَابُ غَسْلِ الْأَعْيُنِ

وَكَانَ ابْنُ سَبْرِينَ يَغْسِلُ مَوْضِعَ الْخَنْزِرِ إِذَا تَوَضَّأَ (۱۳۸) عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَكَانَ مِيْرًا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّوْنَ مِنَ الْمَطْرَةِ فَقَالَ سَبْعُ وَفُؤَادٍ

فَأَرَأَيْتُمْ إِنْ قَالُوا لَوْ لَمْ يَكُنْ مِنَ النَّارِ بَابُ غَسْلِ الرَّجُلَيْنِ فِي التَّعْلِيْقِ وَلَا يَمْسُ

عَلَى التَّعْلِيْقِ (۱۳۹) عَنِ عَبْدِ بْنِ جَرِيْرٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ

رَأَيْتَكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ وَمَا هِيَ يَا ابْنَ جَرِيْرٍ قَالَ

رَأَيْتَكَ لَا تَمْسُ مِرَالًا كَانَ إِلَّا الْبِمَنِيْنِ وَرَأَيْتَكَ تَلْبَسُ لِتَعَالِ السَّبِيْتَةِ وَرَأَيْتَكَ

تَمْسُ بِكَمَا كَرَّمَ ارْمَانَ مِنْ سَوَاعِدِ رُكْنِ يَمَانِيٍّ أَوْ جِرَّاسُودَ كَيْ دَرَسُوْنَ كَوَيْنِ جَمُوْنَ أَوْ مِنْ تَمِيْنِ دِيْمَا

حدیث صحیح ہے کہ اگر کافر
وقد اهتمنا الصلوة
یعنی آپ سے ہوا نماز
وقت چکا تھا یا رنگ ہو
چکا تھا اور یہاں ہے
فادکنا وقد اهتمنا
العصر آپ سے
آئے اور عصر کا وقت ہو
چکا تھا یا رنگ ہو
چکا تھا جس سے معلوم ہوا
کہ حدیث صحیحہ میں صلوة
سے مراد نماز عصر ہی ہے
عنوان باب میں یہ وضاحت
کر دی ہے کہ پاؤں پر
سب سے ناجائز نہیں
قرآن کریم میں بھی
درجہ کلمت ہے جو اہل
پر عطف ہے یہی باب
کو دھونے کا حکم ہے
نبی کریم صلعم کامل بھی
یہی تھا۔
یہاں حدیث ۱۳۵
کو الفاظ فی وجاہت
تک دوبارہ لائے ہیں
کیونکہ اس میں کل کا
ذکر ہے اور یہی عنوان
باب ہے۔
تعلیل سے مراد یہی ہیں
ہیں جو سارے پاؤں
کو نہ ڈھکیں یہی چوتھی
پر سب جائز نہیں ہوتی
ہوٹ پر جو ٹخنوں تک
پاؤں کو ڈھکیں ہوادار
جرب پر سب جائز ہے
ہاں بعض کے نزدیک
یہ ایسے ہو جائوتی
ہے پر بھی سب جائز ہے
جو ٹخنوں سے نیچے
تک پاؤں کو ڈھانکتی
اور ہوادار میں اس طرف
کی حدیث بھی ہو کر اسے
ضعیف کہا گیا ہے۔

عَمَّا قَالَ أَحَدٌ شَأْنٌ حَزِينٌ لَوْلَا آيَةُ مَا حَدَّثَ شِكْمُوهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَدَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
لَا بُؤْسَ إِلَّا فِي حَيْضٍ وَبُؤْسٌ فِي حَيْضٍ وَبُؤْسٌ فِي حَيْضٍ وَبُؤْسٌ فِي حَيْضٍ
بِصَلَاتِهِمْ يَا قَوْمِ عَرَفَةُ الْآيَاتِ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۱۳۶) عَنِ ابْنِ هُرَيْرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْزِلْ وَمَنْ اسْتَحْمَرَ فَلْيُؤْتِرْ
الْأَسْتِحْمَارُ وَتَرَا (۱۳۷) عَنِ ابْنِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَوَضَّأَ أَحَدَكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِيهِ أَنْفَ مَاءٍ ثُمَّ لْيَسْتَنْزِلْ وَمَنْ اسْتَحْمَرَ فَلْيُؤْتِرْ
أَحَدَكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيُغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي وَضُوئِهِ فَإِنْ أَحَدَكُمْ لَأَيُّدِي ابْنِ
بِأَنْتَ يَكْفِيكَ بَابُ غَسْلِ الرَّجُلَيْنِ وَلَا يَمْسُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ (۱۳۸) عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
(شكر- ۵۲) بَابُ الْمَضْمُضَةِ فِي الْوَضُوءِ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ حُرَيْرَانَ مَوْلَى عُمَانَ بْنِ عَمْرٍَا (شكر- ۱۳۵) بَابُ غَسْلِ الْأَعْيُنِ
وَكَانَ ابْنُ سَبْرِينَ يَغْسِلُ مَوْضِعَ الْخَنْزِرِ إِذَا تَوَضَّأَ (۱۳۸) عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ
قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَكَانَ مِيْرًا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّوْنَ مِنَ الْمَطْرَةِ فَقَالَ سَبْعُ وَفُؤَادٍ
فَأَرَأَيْتُمْ إِنْ قَالُوا لَوْ لَمْ يَكُنْ مِنَ النَّارِ بَابُ غَسْلِ الرَّجُلَيْنِ فِي التَّعْلِيْقِ وَلَا يَمْسُ
عَلَى التَّعْلِيْقِ (۱۳۹) عَنِ عَبْدِ بْنِ جَرِيْرٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
رَأَيْتَكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ وَمَا هِيَ يَا ابْنَ جَرِيْرٍ قَالَ
رَأَيْتَكَ لَا تَمْسُ مِرَالًا كَانَ إِلَّا الْبِمَنِيْنِ وَرَأَيْتَكَ تَلْبَسُ لِتَعَالِ السَّبِيْتَةِ وَرَأَيْتَكَ
تَمْسُ بِكَمَا كَرَّمَ ارْمَانَ مِنْ سَوَاعِدِ رُكْنِ يَمَانِيٍّ أَوْ جِرَّاسُودَ كَيْ دَرَسُوْنَ كَوَيْنِ جَمُوْنَ أَوْ مِنْ تَمِيْنِ دِيْمَا

مسئلہ
 غا ذکیر کے چار کن
 یا کو سے ہیں پائین
 یعنی دو یا تین کن -
 جو سود والے کو نے
 کو جو عراق کی جانب
 ہے اور کن عراقی
 ہے اور میں کن طرف
 کے کو نے کہا یار کن
 یا کن کو لگا جانا ہے
 معلوم ہوا کہ باقی لوگ
 یا کن کو لگا کر چھڑتے تھے
 امام بخاری نے الفاظ
 بیو ضاء دیھا سے
 (ان جو تہوں کو پینے
 ہوئے جو نے کی
 حالت میں آپ ہونو
 کرتے تھے کہ وہ پینے لگا
 کیا ہے کہ تعین یعنی
 جوئی یا جوئی یا پلیر
 پر مسج جاؤ نہیں
 اور حضرت ابن عمرؓ
 کی عرض بظاہر یہ بتانا
 ہے کہ یہ پاک نہیں
 اسلئے باؤں دھو کر نہ
 میں ڈال لیتے تھے
 اور حنفی کے ائمہ میں
 یہ اشارہ ہے کہ اصل
 حج شروع ہوجانے
 اور یہ انھوں تاریخ
 ذوالحجہ کی ہوتی تیس
 سے یہ بھی معلوم ہوا کہ
 صحابہ میں ہی مسال
 پر باہمی اختلاف تھا
 مگر وہیں اختلاف کچھ
 سے ایک دوسرے کو برا نہ
 کہتے تھے بلکہ وجود
 اختلافات کے الودیعہ
 کی عزت کرتے تھے -
 علیؓ ہی کہ مسلم کا
 معجزہ تھا کہ رسولؐ کے
 سے پانی میں تہی برکت
 جوئی کہ بہت سے ہیں
 نے ہنوا کر لیا ہے کہ
 تھا اور اہل بیت میں
 با اتنی ہی اور معین
 اور ہر

تَصْبِغُ بِالضَّفْرَةِ وَرَأَيْتُكَ إِذْ كُنْتَ مَكَّةَ أَهْلَ النَّاسِ ذَارًا وَالْهَلَالَ وَلَمْ يَلِمْ أَنْتَ
 کہ تم رنگے ہوئے چھڑے کی جوتی پنتے ہو اور میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ زرد رنگ سے رنگتے ہو اور میں نے تمہیں دیکھا ہے جب تم کہیں ہو تو لوگ اطہار میں
 كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَمَا الْإِمْرَانُ فَإِنِّي لَأُرْسِئُ لِيهِ صَلَاتِي عَلَيْهِ يَمْسُرُ
 یعنی میں جب ہلال بخنے میں اور تم ہوا میں بندھتے یہاں تک کہ انھوں تاریخ آجائے عبد اللہ نے کہا انکان کے متعلق تو یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا
 الْيَمِينِ أَمَا الرَّعَالُ السَّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ الرَّعَالَ
 یعنی انکان کو ہاتھ لگاتے ہی دیکھا ہے اور رنگے ہوئے چھڑے کی جوتیوں کے متعلق یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایسی جوتیاں
 الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَإِنَّا حَبْتٌ أَنْ يَلْبَسَهَا وَأَمَا الضَّفْرَةَ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ
 پینتے تھے جن میں بال نہ ہوں اور ان میں وضو کرتے تھے میں بھی پسند کرتا ہوں کہ انہیں پہنوں اور زرد رنگ کے متعلق یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا
 اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبِغُ بِهَا فَإِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ يَصْبِغَ بِهَا وَأَمَا الْأَهْلَالَ فَإِنِّي لَأُرْسِئُ لِيهِ صَلَاتِي لِلَّهِ
 دیکھ کر اس سے رنگتے دیکھا کہ سو میں پسند کرتا ہوں اس سے رنگوں اور اسامیہ کے متعلق یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسامیہ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَبْعَثَ بِهِ رَأْسَهُ بَابُ التَّيْمِنِ فِي لَوْضُوءِ وَالغُسْلِ (۱۲۵) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ
 بندھتے تھے دیکھا یہاں کہ آپ کی اونٹنی آپ کو دیکھ کر اٹھتی علی باب وضو اور غسل میں دائیں طرف سے شروع کرتا امام علیہ سے روایت ہے کہ ابی
 قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَسْلِ ابْتِدَائِي أَبْدَانِي بِمِيَاهِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ فِيهَا
 صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی صاحبزادی (زینب) کے غسل دینے میں فرمایا کہ دائیں طرف سے اور وضو کے مقاموں سے شروع کرو
 (۱۲۱) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْجِبُهُ التَّيْمِنُ فِي تَوَلُّهِ
 حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ابی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہوتا تھا کہ چوڑا پینے میں اور لگھا کرتے میں اور
 وَتَوَجُّهِهِ وَطُحُورِهِ فِي شَأْنِهِ كَمَا بَابُ التَّمَسُّكِ لَوْضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ وَ
 ملہارت کرنے میں عرض ملہارک میں دائیں طرف سے شروع کریں باب وضو کا پانی تلاش کرنا جب نماز کا وقت قریب آجائے اور
 قَالَتْ عَائِشَةُ حَضِرْتُ الصَّبْحَ وَالْمَسَاءَ فَلَمْ يَوْجَدْ فَنَزَلَ التَّمَمُّرُ (۱۲۲) عَنْ
 حضرت عائشہ کہتی ہیں صبح کا وقت ہو گیا اور پانی دھو دھا گیا اور نہ ملا تو تم کاکھ کرنا نہ مل جاتا
 النَّسِ نَزَالِكُ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحَانَ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَالْمَسَاءِ
 اس میں آیت سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور نماز عصر کا وقت آ گیا تھا اور لگنے کے وضو کے پانی کی تلاش کی اور چایا
 الْوُضُوءَ فَلَمْ يَجِدْ وَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْضُوءَ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ وضو کا پانی لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس میں دھو لیا
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ وَوَيْدُهُ وَأَمْرُ النَّاسِ أَنْ يَتَوَضَّأُوا وَأَمِنْهُ قَالَ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبِغُ
 میں رکھتا اور لوگوں کو حکم دیتا کہ اس سے وضو کریں کہتے ہیں نے دیکھا ہی ابی انھیں کے نیچے پھیرت رہا تھا
 مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوْضَّأُوا وَأَمِنْ عِنْدِ إِخْرَجَهُمْ بِأَبِ الْمَاءِ الَّذِي يَغْسِلُ بِشَعْرِهِ
 یہاں تک کہ سب کے سب نے وضو کر لیا علی باب پانی کا بیان جس سے آدمی کے بال
 الْإِنْسَانِ كَأَنْ عَطَاءَ تَدْبِرِي بِهِ بَأْسَانَ يَتَّخِذُ مِنْهَا الْحَبِطُ وَالْحَبَالُ وَسُورُ الْكِلَابِ
 دھوئے جائیں اور عطا کوئی ہرج نہیں سمجھتے تھے کہ ان سے ڈوریاں اور رساں بنائی جائیں اور سوتوں کے جوئے اور ان کے مسجد میں
 وَمِنْهَا فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ إِذَا لَغَفِي
 یہاں آئے چلنے کا بیان اور زہری نے کہا کہ جب وہ کسی برتن میں منہ ڈال دے اور اس کے پاس اس کے سوا کسی کوئی پانی نہیں
 قَالَ سُفْيَانُ هَذَا الْفِقْهُ يُعِينُهُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَمْ يَجِدْ وَأَمَّا
 اور اس معجزہ کے درمیان نے کہا بھی قرآن سے بھی سمجھا جاتا ہے جہاں کہہ تھائے فرماتے پھر پانی نہ پائے تو

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحْمَلْتَ أَوْ فَحِطْتَ فَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ بَاب

کہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوہڑی میں پڑے یا کھلے تو کھجے پر وضو ہے
الرَّجُلُ يُوَضُّ صَاحِبَهُ (م ۲۰) عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (شکرہ ۱۲۰) (۱۵۲) عَنِ الْمُغِيرَةِ

ابن شعبہ اپنے ساتھی کو وضو کرانے
دیکھو حدیث ۱۵۲
عل
مغیرہ بن شعبہ سے

ابن شعبہ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَانَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةِ

لِلَّهِ وَأَنَّ الْمَغِيرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فغسل وجهه ويديه ومسح
کے لئے کھجے اور کہ مغیرہ آپ پر پانی ڈالتے تھے اور آپ وضو کرتے تھے تو آپ نے اپنا منہ اور دونوں ہاتھ دھوئے اور

بِرَأْسِهِ وَمَسَّحَ عَلَى الْخَمَيْنِ بَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ

سربہ مسح کیا اور موزوں پر مسح کیا
باب
حدیث کے بعد قرآن کا پڑھنا وجیزہ اور منصور نے

مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ لَا يَأْسُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَامِ وَبِكِتَابِ الرَّسَالَةِ عَلَى غَيْرِ

وضوءٍ وَقَالَ حَتَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ إِذَا رُفِعَ وَالْأَفْلَا تَسْلِمُ

اور حاتم نے ابراہیم سے روایت کی ہے کہ
ابراہیم سے روایت کی ہے
حمام میں قرآن پڑھنے میں ہرزہ نہیں
عل
اور نہ خطا کے بے وضو تھکنے میں

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى

عَلَيْهِ وَهِيَ خَالَتُهُ فَاصْطَلَحَتْ فِي عَرْضِ لَوْسَادَةٍ وَأَضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فِي طُورِهَا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ

قَبْلَهُ بِقَبْلِيلٍ وَبَعْدَهُ بِقَبْلِيلٍ سَتَيْفُظُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَجْلِسُ مَشِيئَةَ النَّوْمِ

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعْدٍ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ اخْوَانِهِ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى

شَيْءٍ مَعْلُوفٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وَضُوءَهُ ثُمَّ قَامَ يَصِلِي قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَفَفْتِ

فَصَنَعَتْ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ ذَهَبَتْ فَصَنَعَتْ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَتْ يَدَهُ الْيَمَنِيَّ عَلَى رَأْسِي

وَاحْدًا بِأُذُنِي الْيَمَنِيَّ يَفْتُلُهَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ

خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ بَابُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأِ الْأَمِنَ الْعَشِيِّ الْمُنْقَلِ

حدیث ۱۵۲ کا
ابتدائی حدیث میں اس کا علم ہوتا ہے
ابا یابری قال لصلوة
امام علیؑ میں حضور
قد اغظاس حصہ میں
زمانہ میں قال سائتہ
فجعلت اصعب علیہ وهو
یتوضا یعنی اسلم
لے کہا میں آپ پر پانی
ڈالتا تھا اور آپ وضو
کرتے تھے۔ اسی سے
عنوان باب ہے یعنی
ایک شخص کا دوسرے
کو وضو کرانا۔ ۱۵۲
حمام میں قرآن شریف
پڑھنا جائز ہے۔ گو
کہ وہ جوئے میں خفا
ہے۔ مگر ننگے ہونے کی
حالت میں ہر حال ہی
کردہ ہے۔ ۱۵۳
یہ حدیث پیشہ غنصر
۱۵۳ اور حدیث ۱۵۴
پر گند بجی ہے۔ دیکھو
ان دونوں حدیثوں
پر نوٹ۔ امام بخاری
بہاں نے صرف اسے
لائے ہیں کہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند سے
اٹھ کر وضو سے پہلے
قرآن شریف پڑھا۔
پس با وضو قرآن شریف
پڑھنا جائز ہے حضرت
ابن عباسؓ اور حضرت
اسی بھوئے پر سلا
دینے تھے جس پر نبی صلیم
اور آپ کی بیوی سہیلہ
تھیں۔ مگر اس کی قرآن
میں سے علیحدہ کر کے
کان مروڑنے سے
مروڑ کر جو کوکان
پر کوکر پھیل طرف کوکا
تاکو بائیں طرف کوکشا
کر دائیں طرف کر دیں
جبکہ حدیث ۱۵۴ میں
صاف الفاظ میں غوغلی

تخلیق عن یمنہ مسلک طلب بیکر ضیف بیوشی زکی بند کرح ورو نہیں اٹھا۔ کیوں کہ حدیث واضح ہوتی تو ضیف بیوشی اذ ضیف نیند میں اس کا علم ہوجاتا ہے *

(۲۸ م) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَابُ مَسْحِ الرَّاسِ كَمَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَقَالَ بِنُزُولِ الْمَسِيْبِ مَرَأَةٌ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ تَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهَا وَسَيْلُ مَالِكٍ»

دیکھو حدیث صحیحہ باب ماسحہ سارے سر پر مس کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے سروں پر مس کرو اور ابن مسیب نے کہا عورت مرد کی طرح ہے اور وہ اپنے سر پر مس کرے اور مالک سے پوچھا گیا کہ

ابن مسیب انہی سے بعض اسبہ فاجتہد بخبر حدیث عبد اللہ بن زید (۱۵۲) عن عیبة المازنی

کیا سر کے ایک حصہ پر مس کر لینا کافی ہے تو انہوں نے عبد اللہ بن زید کی حدیث سے دلیل لی

ان رجلا قال لعبد اللہ بن زید وهو جلد عمرو بن یحییٰ السطیح ان ترینی کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا فقال عبد اللہ بن زید نعم فدا عما فافزع

کہ ایک شخص نے عبد اللہ بن زید سے کہا اور وہ عمرو بن یحییٰ کے دادا ہیں کیا مجھے بتا سکتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کرتے تھے عبد اللہ بن زید نے کہا کہ میں اپنی ٹھکانا لپٹے یا پھر پڑاؤ

علی یدہ فغسل یدہ مرّین ثم مضی واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم

اور اپنے ہاتھ دو بار دھوئے پھر تین بار دھو لیا پھر تین بار پانی سے دھو لیا پھر دو بار

غسل یدہ مرّین ثم مضی ثم مسح رأسه یدہ یسر فاقبل فہما

اپنے دونوں ہاتھ گھسیں اور ہاتھ دھوئے پھر اپنے سر پر مس کیا ان دونوں کو آگے سے لے گئے

وادبر یدہ ابمقدّم رأسه حتی ذهب بها إلى قفاة ثم ردها إلى المكان الذي

اوپر پھرتے لائے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا یہاں تک کہ دو ہاتھ کو اپنی گردن تک لے گئے پھر انہیں اسی جگہ کو لوٹا جہاں سے شروع کیا تھا پھر اپنے دونوں ہاتھوں تک دھو لیا

بدأ منہ ثم غسل رجلیه باب غسل الرجلین إلى العینین (م ۲۹) عن عیبة المازنی

(شکر ۱۵۲) باب استنجال فضل وضوء الناس وأمر جریر بن عبد اللہ اہلہ

مسحہ باب اس پانی کا استعمال کرنا جو لوگوں کے وضو سے بچ رہا ہو اور جریر بن عبد اللہ سے اپنے گھر

ان یتوضأ وایفضل سوایکہ (۱۵۵) عن ابن عمر بن الخطاب قال خرج علینا التوضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

دالین سے کہا کہ ان کے مسواک کرنے کے بعد جو پانی بچ رہا ہو وضو کر لیا ابو عیبة سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

بأھا جرة فانی یوضو فتوضأ فعمل الناس یاخذون من فضل وضوہ فیتمسحون

مسحہ یہ حدیث صحیحہ ہے اور ابن مسیب نے کہا عورت مرد کی طرح ہے اور وہ اپنے سر پر مس کرے اور مالک سے پوچھا گیا کہ ابن مسیب انہی سے بعض اسبہ فاجتہد بخبر حدیث عبد اللہ بن زید (۱۵۲) عن عیبة المازنی کیا سر کے ایک حصہ پر مس کر لینا کافی ہے تو انہوں نے عبد اللہ بن زید کی حدیث سے دلیل لی کہ ایک شخص نے عبد اللہ بن زید سے کہا اور وہ عمرو بن یحییٰ کے دادا ہیں کیا مجھے بتا سکتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کرتے تھے عبد اللہ بن زید نے کہا کہ میں اپنی ٹھکانا لپٹے یا پھر پڑاؤ علی یدہ فغسل یدہ مرّین ثم مضی واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم اور اپنے ہاتھ دو بار دھوئے پھر تین بار دھو لیا پھر تین بار پانی سے دھو لیا پھر دو بار غسل یدہ مرّین ثم مضی ثم مسح رأسه یدہ یسر فاقبل فہما اوپر پھرتے لائے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا یہاں تک کہ دو ہاتھ کو اپنی گردن تک لے گئے پھر انہیں اسی جگہ کو لوٹا جہاں سے شروع کیا تھا پھر اپنے دونوں ہاتھوں تک دھو لیا (شکر ۱۵۲) باب استنجال فضل وضوء الناس وأمر جریر بن عبد اللہ اہلہ مسحہ باب اس پانی کا استعمال کرنا جو لوگوں کے وضو سے بچ رہا ہو اور جریر بن عبد اللہ سے اپنے گھر ان یتوضأ وایفضل سوایکہ (۱۵۵) عن ابن عمر بن الخطاب قال خرج علینا التوضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دالین سے کہا کہ ان کے مسواک کرنے کے بعد جو پانی بچ رہا ہو وضو کر لیا ابو عیبة سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بأھا جرة فانی یوضو فتوضأ فعمل الناس یاخذون من فضل وضوہ فیتمسحون دو ہاتھوں سے پانی سے وضو کرنا اور لوگ آپ کے وضو سے بچے ہوئے پانی کو لینے گئے اور اسے اپنے سر پر لپٹ لیا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یتوضأ وایفضل سوایکہ (۱۵۵) عن ابن عمر بن الخطاب قال خرج علینا التوضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے سر پر لپٹ لیا ابو عیبة سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنجال فضل وضوء الناس وأمر جریر بن عبد اللہ اہلہ مسحہ باب اس پانی کا استعمال کرنا جو لوگوں کے وضو سے بچ رہا ہو اور جریر بن عبد اللہ سے اپنے گھر ان یتوضأ وایفضل سوایکہ (۱۵۵) عن ابن عمر بن الخطاب قال خرج علینا التوضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دالین سے کہا کہ ان کے مسواک کرنے کے بعد جو پانی بچ رہا ہو وضو کر لیا ابو عیبة سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بأھا جرة فانی یوضو فتوضأ فعمل الناس یاخذون من فضل وضوہ فیتمسحون دو ہاتھوں سے پانی سے وضو کرنا اور لوگ آپ کے وضو سے بچے ہوئے پانی کو لینے گئے اور اسے اپنے سر پر لپٹ لیا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

استنشرہ یعنی ... تاک میں پانی ڈالا اور مالک کو صاف کیا اور آخر پر پانی دھوئے کے متعلق فضل رجلیہ کے بعد یہاں الی الکعبین پڑایا یعنی ٹخنوں تک پادوں کو دھو یا مسح بعض لوگ وضو کے نیچے ہوئے پانی کو اس خیال سے کہ اس میں بھینسے ہو وغیرہ بولے ہو گئے تاکہ پانک سمیٹتے ہیں یہ باب لاکراس خیال کی تردید کی۔ مسحہ اس روایت میں صرف یہ ذکر ہے کہ آنحضرت کے وضو سے بچے ہوئے پانی سے لوگ مسح کرتے تھے جس سے مرد تبرک کے طور پر سے بھینس پڑنا لیا گیا اور مرد پر پھر یہی حدیث آئی جو صاف ہے جسے پانی سے مسح کا ذکر ہے اور یہ بھی جو دن لم یصب مند شیشیا اخذ من بلل ید صا حیدہ یعنی وضو کا پانی پانی نہلا تو اس نے اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری سے کچھ لے لیا اور منہ لہنی میں یہ حدیث دو جگہ آئی ہے ایک میں وضو سے بچے ہوئے پانی سے مسح کا ذکر ہے اور دوسری میں کہ آنحضرت صلوات اللہ علیہ وسلم کو کھڑے اور انہیں اپنے سر پر پھیرتے تھے اور کتاب الغرر میں وضو سے بچے ہوئے پانی کی جگہ نماز میں شکر کا ذکر ہے ظاہر ہے کہ فضل وضو کی جگہ نماز کا فضائل کی راوی کی نقل ہے وضو سے بچے ہوئے پانی کو لوگوں نے لیا اور اس سے وضو کیا اور مالک کا خیال یہاں مراد لیا جائے تو اس میں صرف اس امر کا ظہار تھا کہ مساجد کے دروں میں آنحضرت صلوات اللہ علیہ وسلم کی کس قدر عقیدت اور محبت تھی اور یہ واقعہ صحیح ہے کہ زمانہ کا جو جب تشریح کا سفر عودہ مسافر کے نظریں موجود تھا اس وقت آنحضرت صلوات اللہ علیہ وسلم کی اس جان نثاری کی حالت کو دیکھ کر وہ پوچھا انہی اور طریق اور لوگوں کی روایت میں اسی ذکر میں آیا ہے کہ آپ نے پوچھا کیا لیا کہ لے کر تے پھر وہاں نے عرض کیا انہی اور اس کے عمل کی محبت کی ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا ہن منکر ان حبیب اللہ و رسولہ فیصلہ فی الحدیث فاحشاً۔ یہ واقعہ اتنا ادا ہی نہیں ہوا کہ اس طرح تبرک حال کرنے کو نہیں فرمایا کیج بولنے اور انات اور انے کی ہدایت فرمائی۔

وَقَالَ أَبُو مُوسَى دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَدْحٍ فِيهِ مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ

اور ابو موسی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اس میں سے پانی لے کر ہاتھ دھو اور اپنے دونوں ہاتھ

وَوَجْهَهُ فِيهِ وَفَجَرَّبَهُ ثُمَّ قَالَ لَهَا الشَّرِبَا مِينَهُ وَأَفْرَعَا عَلَيَّ وَجْهَكُمَا وَتَحَوَّرَا

اور مناسی دھوئے اور اس سے کلی کی پھران دونوں سے کہا اس میں سے پانی لے اور اپنے منہوں اور سینوں پر ڈالو

۱۵۵ اور عن محمود بن الزبير وهو الذي حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه

محمود بن زبير سے روایت ہے اور وہ وہی ہیں جن کے منہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کر دی تھی

وهو غلام لمن يدرهم وقال عروة عن المسور وغيره يصبون كل واحد منهما

اور وہ بچے تھے انہیں کے گنوں میں سے اور عروہ نے مسور وغیرہ سے روایت کی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی طرف پانی کرتے ہیں

صاحبه واذا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَادُوا وَيَنْتَلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ بَابٌ

اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو قریب تھا کہ آپ کے وضو کے پانی پر لوگ راتے لگیں بَابٌ

۱۵۶ عَنْ الشَّاذِبِ بْنِ يَزِيدٍ يَقُولُ ذَهَبْتُ بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

شاذیب بن یزید سے روایت ہے کہ میری خالہ مجھے میری خالہ کی سہیلی کے پاس لے گئیں

فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَقَعَ فِي سِدْرَةِ أَبِي وَعَدَّالِي بِالزُّكَةِ ثُمَّ تَوَضَّأَ

اور کہا یا رسول اللہ میرا بھانجا بیچارہ تو آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لئے برکت کی دعا کی پھر دھو گیا

فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ ثُمَّ قَمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَظَرْتُ إِلَى خَاتِمِ الذُّكُوتِ بَيْنَ

تو میں نے آپ کے وضو کا چھو پانی پیا پھر آپ کی پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہوا تو میں نے نبوت کی صراط پر آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان

كَيْفِيَّةٍ مِثْلَ زِيَارَةِ الْجَلَّةِ بَابٌ مِنْ مَضْمُونِ اسْتَشْتَقُ مِنْ عُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ

چھر کھٹ کی گھنڈی کی طرح ذہبی بَابٌ جو شخص ایک ہی جگہ سے لے کر اس کے اور تک میں پانی ڈالے

۳۰ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ (مُتَكَرِّرٌ ۱۵۳) بَابٌ مَسْرُورَ الرَّاسِ عَنْ عِيَالِي لَمَّا زَيَّنَا

دیکھو حدیث ۱۵۳ بَابٌ مرد کا اپنی عورت کے ساتھ وضو کرنا اور عورت کے وضو کا بچا ہوا پانی اور

عُمَرُ خَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْحَمِيمِ وَمِنْ بَيْتِ نَصْرَانِيَّةٍ (۱۵۴) عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ

حضرت عمر رضی اللہ عنہم سے وضو کیا اور ایک عیسائی عورت کے گھر سے پانی لیکر وضو کیا ابن عمر سے روایت ہے

قَالَ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّأُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کہا کہ مرد اور عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس طرح وضو

۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰

کتاب الوضوء
یہ جو گھر کی بجھے ہیں
پہننا یا پھرانوں سے
سے نہیں پانی کا پھرانوں
سے پانی لیکر ہاتھ اور
دھوئے پھر اس پر پانی لیں
سولی کی اور انی کا پھرانوں
پانی و کما میں سے پانی
نے یا گو انسان کے سر پر
لعبتوں میں پانی کا پھرانوں
صلم کے معاملات کو
رکھنے چوتھے صدم
ہزارہ کو کاچے پرنے
پانچہ میں صومے
بھا پانی نہیں
کو ورجوں پر پھرانوں
ہزاروں سے
صرت کو پھرانوں
بیسے وضو کے پانی کے
پانی کے پانی کے
ایک دوسرے سے
بجائے کی کو شش
اب اسلام ہوتا تاکہ
گوا ایک دوسرے کو
پاروں کے ہر پاس
حدیث کا ایک فرد
جو کہ بالشرط
حدیث کے ساتھ
آئی ہے وہاں یہ لفظ
بھی آئے ہیں
اس باب کا یہ عنوان
نہیں یاد حدیث میں
پہلے باب سے ملنا چاہتا
ہے۔ نیز
الحجلہ ذگھڈی کو
کو کہتے ہیں اور حجلہ

چھر کھٹ کو۔ اہہ ایک پر نہکا نام بھی ہوا اور صورت میں ذر کے معنے جینے یعنی انڈا ہوں گے۔ اور ایک اور حدیث میں اسے کہتے ہیں کہ تری کے اڑنے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس بارے میں کسی ایک روایت میں ہے جس سے بعض میں ہے جس سے کہ اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا تھا۔ اور بعض روایات کو منکر بھی کہا گیا ہے۔ اس میں کچھ شک معلوم نہیں ہوتا کہ ایک نشان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان تھا اور بعض دیکھنے والوں نے اسے قائم نبوت کہا ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو حج اس نشان پر آپ کی نبوت کا انکار تھا۔ رہا یہ کہ اس نشان میں کچھ حرفت کی شکلیں نظر آتی ہیں یہ کچھ بعید بات نہیں۔ مگر یہ حدیث ضعیف تفسیر لفظی کے ساتھ وہی ہے جو ۱۵۵ پر ذکر رکھی۔ لیکن اس حدیث کو چھوڑ دیا کریں میں یہ ذکر کریں کہ کسی شخص نے عبد اللہ بن زید سے کہا کہ کیا تم مجھے تاکے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کرنے سے اور حدیث میں شرع ہوئی ہے کہ رسول اللہ بن زید انرا ذرع من الاضواء حتی ید پہ اندر کے آخر پر آیا ہے جو ۱۵۵ میں نہیں تھا۔ قال ہنگنا وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر یہاں پر یہ حدیث ہے کہ یہ کر لائے ہیں یہاں اس شخص کا نام بھی بتلایا ہے جس نے عبد اللہ بن زید سے سوال کیا تھا۔ یہ عمرو بن ابی من ہے۔ باقی مضمون ضعیف تفسیر لفظی کے ساتھ وہی ہے۔ مگر اس فریضہ کی حدیث میں حضرت عمر کی عیسائی عورت کے گھر سے وضو کیا گیا ہے۔ کہ غیر مسلموں کے گھر کا پانی نہیں۔ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ ان کا حکم مجس نہیں طہا مرد اللہ بن ادوا ان کتابا حل لکھ اور ظاہر ہے کہ حکم کے تیار کرنے میں پانی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اگر دیکھا اس کو ہی نجاست نہ ہو تو وضو غیر مسلم کا ہاتھ لگنے سے جس میں نہیں ہو جاتا۔ پس مذہب اسلام میں چھوت نجاست نہیں +

علا اس حدیث میں
لفظ جمعاً کا کرتا
ہے کہ مرد اور عورتیں
کیے وقت میں ایک برتن
۵ سے وضو کر لیتے تھے
غالباً اس سے مراد یہی
ہے کہ گھروں کے کھانڈ
مرد عورتیں جو ایک دوسرے
کے عمر میں آتھے
وضو کرتے تھے یا ایک
بیوی آٹھے ایک برتن
۶ سے وضو کر لیتے تھے
اور یہی سنت الال کا
بہاری کا ہے جیسا کہ
عنون باب سے ظاہر ہے
۷ ایک حدیث میں
حضرت ابن عمر سے
الفاظ مروی ہیں انہ
الصدیق النبی علیہ السلام
علیہ وسلم واحصاہ
یتطہرون بالنساء
معم من اذا واحد
۸ کہ انہوں نے نبی اکرم
صلعم اور اپنے صحابہ
کو دیکھا کہ وہ وضو کرتے
پہلے وہاں کے کسے عورتیں
بھی ہیں جو اس برتن
سے وضو کرتی ہیں کا
مطلب بھی غالباً یہی ہے
کہ نبی اکرم صلعم اپنی
بیویوں کے ساتھ اور
صحابہ اپنی بیویوں کے
ساتھ ایک برتن سے
وضو کر لیتے تھے
یہ بھی صحیح ہے کہ عورتوں
میں مردوں اور عورتوں
کا لٹھی ہونا جائز تھا
بیسے نمازیں صحیح میں

جَمِيعًا بِأَبِ صَبِّ الشَّيْبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءُهُ عَلَى الْمُعْتَمِي عَلَيْهِ
 کرتے تھے۔ علم باب
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا وضو کا بجا ہونا پانی
 خشکی والے آدمی پر ڈالنا

(۱۵۸) عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا مُرْتَضٍ لَا
 بار سے روایت ہے کہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پر ہی کے لئے آئے اور میں بیمار تھا

أَخِضْتُ فَنَوَّضًا وَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوءِهِمْ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لِمَنِ الْمِرْيَاتُ إِنَّمَا
 مجھے ہوش نہ تھی اپنے وضو کیا اور اپنے وضو کا بجا ہوا پانی مجھ پر ڈالا تو مجھے ہوش آگئی میں نے کہا یا رسول اللہ میرا دلش کس کے لئے ہو گا

يَرْثُنِي كَلَالَةً فَذَلِكَ آيَةُ الْفَرَأِضِ بِأَبِ الْغُسْلِ وَالْوَضُوءِ فِي الْمُخَضَّبِ الْقَدْحِ وَالْخَشَبِ
 میرے دلش کی حالت کلالہ کی ہے تو آیت میراث اتری علم باب گن اور پیالہ اور گڑھی اور جگر کے برتن میں غسل اور وضو کرنا

وَالْحِجَارَةِ (۱۵۹) عَنْ أَنَسِ قَالَ حَضَرْتُ الصَّلَاةَ فَقَامَ مِنْ كَانٍ قَرِيبًا لِلدَّرِّ إِلَى أَهْلِهِ
 انس کی روایت ہے کہ کلالہ کا وقت آگیا تو جس کا قرقریب تھا وہ بٹے گھروں کی طرف گیا

وَبَقِيَ قَوْمًا فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُخَضَّبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ فَصَغَرَ
 اور کچھ لوگ رہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھڑ کا ٹکڑا لایا گیا وہ اتنا چھوٹا تھا

الْمُخَضَّبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ فَنَوَّضًا الْقَوْمَ كَظَمَهُمْ فَلَمَّا كُنْتُمْ قَالَ ثَمَانِينَ وَزِيَادَةً
 کہ آپ اس میں اپنا ہاتھ نہیں پھیلا سکتے تھے پھر سب لوگوں نے وضو کیا رہنے کے کام کو کہتے تھے کہا جاتی ہے کہ ہر ایک کے

(۱۶۰) عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا فَبَدَأَ فِيهِمْ مَاءً فَغَسَلَ يَدَيْهِ
 ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوا یا جس میں پانی تھا بھرا اپنے ہاتھ اور

وَوَجَّهَهُ فِيهِ وَحَرَّ فِيهِ (۱۶۱) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ مُتَدَكِّرًا (۱۶۲) عَنْ
 منہ دھوئے اور اس سے کلنی دیکھو حدیث نمبر ۱۵۴ علم

عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَقَلَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَدْبَّرَهُ وَجَّهَهُ اسْتَأْذَنَ
 حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور آپ کی تکلیف بڑھ گئی آپ نے اپنی

أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يَمْرُضَ فِي بَيْتِي فَإِذَنْ لَهُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 بیویوں سے اجازت مانگی کہ آپ کی بیمار داری میرے گھر میں ہو انہوں نے آپ کو اجازت دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم

بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَخَطَّ رَجُلًا فِي الْأَرْضِ بَيْنَ عِبَّاسٍ وَرَجُلٍ آخَرَ قَالَ عَبْدُ اللهِ
 دو آدمیوں کے درمیان لٹھے آپ کے پاؤں زمین پر لٹکتے تھے ایک عباس اور ایک اور شخص تھا عبد اللہ کتنا ہے

فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَتَدْرِي مِنَ الرَّجُلِ الْأَخْرَفُ قُلْتُ لَا قَالَ
 کہ میں نے عبد اللہ بن عباس سے یہ بات بیان کی تو انہوں نے کہا کیا تو جانتا ہے دو سراسر شخص کون تھا میں نے کہا نہیں کہا

هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَكَانَتْ قَائِمَةً لِحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وہ علی بن ابی طالب تھے اور حضرت عائشہ بیان کرتی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

لیکن مسجدوں میں وضو کرنے کا سامان نہ ہوتا تھا۔ بلکہ لوگ گھروں سے وضو کر کے جاتے تھے۔ یا ممکن ہے کہ یہ کوئی سفر کا واقعہ ہو جس میں عورتیں بھی
 ساتھ ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی برتن سے وضو کیا ہو۔ علم اس حدیث کے میاں لانے کا منشا تو صرف یہی ہے کہ وضو کا بجا ہونا پانی جس میں وضو کی
 چھینٹیں وغیرہ پڑنے کا احتمال ہوتا ہے تاہم نہیں۔ اور کلالہ اسے بھی کہتے ہیں جس کا نہ پاپ دادا ہو نہ اولاد۔ اور اسے بھی جس کی اولاد نہ ہو۔ اور اس شخص کو بھی کہا جاتا ہے
 جس کے سوائے والد یا والدہ کے وارث ہوں اور ان وارثوں کو بھی کہا جاتا ہے۔ علم یہ حدیث امام بخاری علاء النبیہ میں بھی لائے ہیں۔ اور سلم میں ذکر ہے کہ تین سو
 آدمی تھے۔ اور یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مجروح ہے۔ علم حدیث نمبر ۱۵۴ پہلے دو دفعہ کر کے بھی ہے (۲۰۲) (۳۱) یہاں یہ ذکر ہے کہ پانی جو آپ کے پاس لایا گیا تو وہ فی خود
 من صغیر تھا یعنی ایک پستیل کے گن میں۔ باقی اختصار کے ساتھ وہی الفاظ ہیں۔

قَالَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بَيْتَهُ وَاسْتَدْبَرَ وَجْهَهُ هَرَفُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قُرُوبٍ لَمْ يَخْلُؤُنِي وَكَتَمْتَنِي
بعد اس کے کہ وہ اپنے حجر میں آئے اور آپ کی بیماری سخت ہو گئی ذرا بچھ پر سات خشکیں بہا دو جن کے منہ نہ کھولے گئے ہوں یعنی یہی

لَعَلِّيْ اَعْهَدُ اِلَى النَّاسِ وَاَجْلِسْ فِيْ مَخْضِبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تاکہ لوگوں کو بچھ باتیں نہ کہوں اور آپ کو حفصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے ایک گن میں بیٹھایا گیا

ثُمَّ طَفِقْنَا نَضُبُ عَلَيْهِ تِلْكَ حَتَّى طَفِقَ يُبْهِرُ الْيَمَانِ اَنْ قَدْ فَعَلْنَا ثُمَّ خَجِرَ اِلَى
پھر ہم نے آپ پر یہ خشکیں بانی شروع کیں یہاں تک کہ آپ بہرہ نشاہ کرنے لگے کہ سننے کو کیا پھر لوگوں کی طرف بچھے گئے

التَّاسِ بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ التَّوْرِ (م ۳۳) عَنْ يَحْيَى الْمَارِ فِي (م ۲۷) ۱۵۲
باب طشت سے وضو کرنا دیکھو حدیث نمبر ۱۵۲

(۱۶۲) عَنْ اَنَسِ اَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا يَانَا مِنْ مَاءِ فَاَنِي يَغْتَحِبُ
اس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوا تو کھلے منہ کا ذراغ پیالہ لیا گیا

رَخْرَاحٍ فِيْهِ شَيْءٌ مِنْ مَّاءٍ وَفُضِعَ اَصَابِعُهُ فِيْهِ قَالَ اَنْسُ فَعَلَّتْ اَنْظُرُ اِلَى الْمَاءِ يَنْبِعُ
تو اس میں اپنی انگلیاں رکھ دیں اس لئے کہ میں دیکھتا رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں

مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهِ قَالَ اَنْسُ فَحَزَرْتُ مِنْ تَوْضَا مَا بَيْنَ السَّيْعَيْنِ اِلَى الشَّمَانَيْنِ
کے بیچ سے پانی جو تبارا اس لئے کہ میں نے ان کا ستر سے اسی تک افزادہ لگایا۔

بَابُ الْوُضُوءِ بِالْمَدِّ (۱۶۳) عَنْ اَنَسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب ایک دہائی سے وضو کرنا اس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

يَغْتَسِلُ اَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّبَاغِ اِلَى خَمْسَةِ اَمَلِدٍ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمَدِّ بَابُ الْمَسِّ
ایک صاع سے لیکر پانچ تک پانی سے غسل کرتے تھے اور ایک دہائی سے وضو کرتے تھے

عَلَى الْخَفِيِّنَ (۱۶۴) عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِي وَقَاصٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُ اَمْسَمَ عَلَيَّ
موزوں پر مس کرتا۔ سعد بن ابی وقاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے موزوں پر

الْخَفِيِّنَ وَاَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْمُرٍ سَأَلَ مَعْمُرًا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ اِذَا احْدَثْنَا كُنَّا شَيْبًا سَعْدٌ حَمْدُ
اور عبد اللہ بن عمر نے حضرت عمر سے ہمارہ میں پوچھا تو حضرت عمر نے کہا ان موزوں پر مس فرمادیں اور جب سعد

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نَسْأَلُ عَنْهُ عِلَّةً (م ۳۴) عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (م ۱۵۲) ۱۵۱
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث تمھری بیان کرے تو اس حدیث کے بارہا کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھو حدیث نمبر ۱۵۲

۱۵۱ حدیث نمبر ۱۵۱
۱۵۲ حدیث نمبر ۱۵۲
۱۵۳ حدیث نمبر ۱۵۳
۱۵۴ حدیث نمبر ۱۵۴
۱۵۵ حدیث نمبر ۱۵۵
۱۵۶ حدیث نمبر ۱۵۶
۱۵۷ حدیث نمبر ۱۵۷
۱۵۸ حدیث نمبر ۱۵۸
۱۵۹ حدیث نمبر ۱۵۹
۱۶۰ حدیث نمبر ۱۶۰
۱۶۱ حدیث نمبر ۱۶۱
۱۶۲ حدیث نمبر ۱۶۲
۱۶۳ حدیث نمبر ۱۶۳
۱۶۴ حدیث نمبر ۱۶۴
۱۶۵ حدیث نمبر ۱۶۵
۱۶۶ حدیث نمبر ۱۶۶
۱۶۷ حدیث نمبر ۱۶۷
۱۶۸ حدیث نمبر ۱۶۸
۱۶۹ حدیث نمبر ۱۶۹
۱۷۰ حدیث نمبر ۱۷۰
۱۷۱ حدیث نمبر ۱۷۱
۱۷۲ حدیث نمبر ۱۷۲
۱۷۳ حدیث نمبر ۱۷۳
۱۷۴ حدیث نمبر ۱۷۴
۱۷۵ حدیث نمبر ۱۷۵
۱۷۶ حدیث نمبر ۱۷۶
۱۷۷ حدیث نمبر ۱۷۷
۱۷۸ حدیث نمبر ۱۷۸
۱۷۹ حدیث نمبر ۱۷۹
۱۸۰ حدیث نمبر ۱۸۰
۱۸۱ حدیث نمبر ۱۸۱
۱۸۲ حدیث نمبر ۱۸۲
۱۸۳ حدیث نمبر ۱۸۳
۱۸۴ حدیث نمبر ۱۸۴
۱۸۵ حدیث نمبر ۱۸۵
۱۸۶ حدیث نمبر ۱۸۶
۱۸۷ حدیث نمبر ۱۸۷
۱۸۸ حدیث نمبر ۱۸۸
۱۸۹ حدیث نمبر ۱۸۹
۱۹۰ حدیث نمبر ۱۹۰
۱۹۱ حدیث نمبر ۱۹۱
۱۹۲ حدیث نمبر ۱۹۲
۱۹۳ حدیث نمبر ۱۹۳
۱۹۴ حدیث نمبر ۱۹۴
۱۹۵ حدیث نمبر ۱۹۵
۱۹۶ حدیث نمبر ۱۹۶
۱۹۷ حدیث نمبر ۱۹۷
۱۹۸ حدیث نمبر ۱۹۸
۱۹۹ حدیث نمبر ۱۹۹
۲۰۰ حدیث نمبر ۲۰۰

اگر ہے تو ایک سے اندر دوسروں کا فکر نہ اپنی ذات کا۔ چنانچہ آپ اس عارضی تخفیف کے بعد نماز کیلئے مسجد میں گئے اور لوگوں کو خطبہ بھی پڑھا جبکہ اب رضی اللہ عنہم میں ملاحظہ ہو۔
۱۵۱ بیان حدیث نمبر ۱۵۱ اور جو بھی دفر لائے ہیں۔ ۱۵۲ اور امام احمد بن حنبلہ سے بہت ملتا جلتا ہے۔ اور وہ بھی اس کی روایت ہے لیکن بظاہر یہ ایک ایک کو لے
ہیں۔ کیوں کہ یہاں قَحْرٌ رَحْلٌ کہیں فریضہ ذراغ موندہ کا پیالہ اور ۱۵۳ میں ایسے برتن کا ذکر ہے۔ جس میں آپ ہاتھ بھی نہ پھیلا سکتے تھے۔ ۱۵۴ صلیح چارہ کا جو تاجی اور
قریباً دو کھیر مراد محمد بن سیر کے اس سے زیادہ بانی فضل یا وضو پر صرف نہ کرے۔ بلکہ اسراف نہیں چاہیے۔ گرم ملک میں عموماً پانی ٹھانڈی ہی ہوتی ہے اور جب پر سپینہ ہو تو جب حضور
بانی سے اعضا دھوئے جاتے تھے ہیں۔ ۱۵۵ موزوں پر مس کی روایت حدیث نمبر ۱۵۵ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے موزوں پر مس کیا تو تمھارے لیے
نے مجھ سے موزوں پر مس کی روایت کی۔ اور یہ فرقان کریم کے خلاف نہیں جہاں پاؤں نہ دھوئے گا ذکر ہے کیونکہ میں ایک بھی پاؤں نہ دھوئے ہوں۔ ہاں جب ایک شخص رات میں پانچ
دھو کر ان پر موزے پہن لے تو اب باہر موزوں کا آنا ناموجوب تکلیف ہوا اسلئے اسی حالت میں مس کا حکم پڑا اور مس کیا ایک علامت ہے کہ تم تمہیں حکم الہی کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے ایک
عام حکم دیا ہے۔ اور حضرت آدم کی حالتوں کو بیان نہیں کیا۔ یہ تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادی۔ اور نے الفقیہان وضو کی تفصیل فرقان کریم میں بتائی جو نے پیشتر ہی آنحضرت صلعم
اور مسلمان کی طرح وضو کرنے سے تمہیں قلیل کو قرآن کریم کے اللہ لائے کامنتا یہی تھانا ہے کہ جو تفصیلات شریعت نبوی صلعم بتائی ہیں وہ سب نیکو بندوں کے لیے ہیں جو تمہیں صحت میں موزوں پر مس کرنے
نے ثابت ہے اور یہ عرف خاص حالت کیلئے ہی تو اس فرقان کریم کے حکم کا ابطال نہیں ہوتا نہ فرقان کریم کے الفاظ کو اس کا نسخہ کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ اس آیت کے نزل کے بعد ہی تمہیں وضو کرنے
اور صحیحاً نظر آتا ہے۔ ۱۵۶ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے وضو کر کے اپنے پیچھے ہاتھ دھوئے اور وہ وضو کر کے اپنے پیچھے ہاتھ دھوئے۔ ۱۵۷ حدیث نمبر ۱۵۷
جانے ہے فتوہ اور مس علی الخفین کا ذکر دونوں جگہ ہے +

۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰

(۱۶۵) عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الصَّمِرِيِّ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 عمرو بن امیہ صمیری سے روایت ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں پر
 يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ (۱۶۶) عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مسخ کرتے ہوئے دیکھا عمرو بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
 يَمْسَحُ عَلَى عَامَتَيْهِمْ وَخُفَيْهِ بَابٌ إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ وَهُمَا طَاهِرَانِ (۱۶۷) عَنْ
 عماد اور موزوں پر مسخ کرتے ہوئے دیکھا باب جب باؤں کو موزوں میں داخل کرے اور خاک لیکر وہ پاک ہوں
 الْمَغِزَّةُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَيْهِ
 مغزہ سے روایت کردہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا تو میں آپ کے موزے اتارنے کیلئے جھکا تو
 فَقَالَ دَعْمَا فَرَانِي إِذَا خَلَمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَسَ عَلَيْهِمَا بَابٌ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ حَجْرِ الشَّاةِ
 آپ نے ذرا اچھوڑ دو میں نے ان کو با وضو پہنا ہے پھر ان پر مسخ کیا باب جس نے بکری کے گوشت
 وَالسَّوْتِ وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَمَا فَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَا (۱۶۸) عَنْ
 اور سٹو کھانے سے وضو ضروری نہیں رہا اور ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم نے گوشت کھایا اور وضو نہیں کیا
 عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَيْفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى
 عبد اللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے شاة کھا کر گوشت کھایا
 وَعَلِمَ يَتَوَضَّأُ (۱۶۹) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ كَسْبَ لَيْسَ مِنْ طَرَفِ رَأَى النَّبِيَّ
 اور وضو نہیں کیا جعفر بن عمرو بن امیہ سے روایت ہے کہ اس نے اسے بکری کے شاة سے روای کو اس نے نبی
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَرُ مِنْ كَيْفَ شَاةٍ فَدَعَى إِلَى الصَّلَاةِ فَأَلْفَى السَّكِينِ
 صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے شاة کا گوشت کاٹ کر کھانے (ہوئے) دیکھا اس انشا میں آپ نماز کے لئے بلائے گئے تو
 فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ بَابٌ مَنْ مَضَمَضَ مِنَ السَّوْتِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (۱۷۰) عَنْ
 آپ نے چھری چھینکری اور نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا باب جو سٹو کھا کر کھلے اور وضو نہ کرے
 سُوَيْبِ بْنِ النَّعْمَانَ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى
 سویب بن نعمان سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ (جنگ) خیبر کے سال نکلا
 إِذَا كَانُوا بِالصُّهْبَاءِ وَهِيَ أَدْنَى خَيْبَرَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا يَا لَازُوا إِذْ فَلَمْ يُؤْتِ
 جب (مقام) صہبہ پر جو خیبر کے قریب ہے لاشی پہنچا تو آپ نے عصر کی نماز پڑھی پھر توڑے منگوائے تو صرف
 إِلَّا بِالسَّوْتِ فَأَمَرَهُمْ فَتَرَى فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكَلْنَا
 سٹولا یا گیا تو آپ کے حکم سے وہ بھگوا گیا اور صلاۃ نہ پڑھئے اور ہنسنے لگے
 ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضَمَضَ وَمَضَمَضْنَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (۱۷۱) عَنْ
 پھر نماز مغرب کے لئے کھڑے ہوئے تو آپ نے اور ہنسنے لگے پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا
 مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ عِنْدَ هَا كَيْفَ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ
 مایمونہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس شاة کا گوشت کھایا پھر نماز پڑھی اور
 يَتَوَضَّأُ بَابٌ هَلْ يُضَمُّضُ مِنَ اللَّبَنِ (۱۷۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 وضو نہیں کیا باب کیا دودھ پیئے سے کھل کھائے گی عبد اللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَهَضَمَهُ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسْمًا بَابٌ الْوَضُوءِ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تو کھلی اور فرمایا اس میں کھانا ہی ہوتی ہے باب

۱۵۰ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع معلوم ہوتی ہے کہ دودھ صلی کر بھی کھلی کر پیئے تھے تاکہ منہ میں اچھا نہ ہو۔ اچھا سلاں کو ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دینا بلکہ صحت جسانی کیلئے صحتی اعلیٰ دیکھا اصول ہے
 نہ رہے اور اس میں کسی قسم کے ذرات اناج وغیرہ کے ذریعہ۔ جن سے بوسیدہ ہو۔

مِنَ التَّوْمِ مَنْ لَمْ يَرَمِ مِنَ النَّعْصَةِ وَالتَّعْسْتَيْنِ أَوْ الْخَفَقَةِ وَضَوْءَ (۱۶۳) عَنْ عَائِشَةَ

بہند سے وضو کرنا اور جس نے ایک دو بار اونگھنے یا جھوکا لینے میں پھر وضو ہی نہیں کیا

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يَصِلُ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى

کہا یہی صحیح ہے

يَذْهَبَ عَنْهُ التَّوْمُ وَإِنْ أَحَدُكُمْ إِذَا أَصَلَى وَهُوَ نَاعَسَ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ أَيْسْتَفْهِرُ

بہند اس سے گزر جو جائے کیونکہ تم میں سے جب کوئی اونگھتے ہوئے نماز پڑھے اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا ہوسکتا ہے کہ وہ مغفرت مانگے

فَيَسِبُ نَفْسَهُ (۱۶۴) عَنْ النَّسِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَعَسَ فِي

اور زنا بھی سے اپنے آپ کو گالی دے گا ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی نماز میں اونگھنے لگے

الضَّلَاةِ فَلْيَنْتَبِهْ حَتَّى يَكُمَّ مَا يَفْرَأُ بِأَبِ الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدِّثِ (۱۶۵) عَنْ النَّسِ

توسوچنے میں ہاں ملکہ جو پڑھے اسے سمجھنے لگے علی باب وضو ہوتے ہوئے وضو کرنا

قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ قَلْبًا كَيْفَ كُنْتُمْ كَتُمُّوا

کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لئے وضو کرتے تھے عمرو بن عامر اس کے شاگرد بنے اور کہا کہ آپ لوگ کیا کرتے تھے

قَالَ يُجْزِي أَحَدَنَا الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ (۳۵) عَنْ سُوَيْدِ بْنِ التَّعْمَرِ (مُتَكَرِّرًا)

کہا ہمارے لئے جب تک وضو پاؤں نہ ہو ایک ہی وضو کافی ہوتا تھا۔ دیکھو حدیث نمبر ۱۶۵

بَابُ مِنَ الْكِبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَبْرَأَ مِنْ بَوْلِهِ (۱۶۶) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى

باب اپنے پیشاب سے نہ بچنا بڑے گناہوں میں سے ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ تَسْمَعُ صَوْتَ السَّائِبِينَ يُعَذِّبَانِ فِي

علیہ وسلم دیندار کے کسی باغ کے پاس سے گزرتے تو آپ نے دو آدمیوں کی جن کو قبر میں عذاب دیا جاتا تھا آواز سنی

قُبُورِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَذِّبَانِ وَمَا يَعَذِّبَانِ فِي كِبِيرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَى

آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جاتا ہے مگر کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں پھر فرمایا ان

كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَبْرَأُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الْآخَرُ يَشْتَبِي بِالْمَيْمَةِ ثُمَّ دَعَا بِعُرَيْدٍ فَلَسَّمَهَا

رہا بھی ہے، ایک ان میں سے اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چٹھری کرتا تھا پھر کھڑکی مٹھی منگوائی پھر اس کو

كَسَرْتَيْنِ نَوَضَعُ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِمَّا كَسَّرَتْهُ قَبِيلُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ

دو گزرتے کے ہر ایک قبر پر ایک ایک ٹھوڑا رکھا تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے یہ کام کیوں کیا فرمایا کہ

لَعَلَّهُ أَنْ يَحْفَفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيَسِّرْ بَابُ مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الْبَوْلِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶

مجلس اس سے معلوم ہے کہ وضو نہیں کرنا وضو کرنا کوئی نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ مجلس اس سے معلوم ہے کہ نماز کا وقتہ واقع طور پر تب ہی ہوتا ہے۔ جو کچھ نماز میں پڑھے اس کو سمجھنا ہی ہونا ہے۔ کہ اس کے لئے تعلیم کا حال کا ضروری ہے اور ہر مسلمان بچے کو اس قدر عربی زبان سے واقفیت ہونی چاہیے کہ وہ نماز کے سننے اور وضو سمجھے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ نماز پڑھنے کی وقت کو نشان ہے کہ جو کچھ کہتا ہے اس کا اثر اس کے دل پر بھی ہوتا ہے۔

۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰

یوں خیالات کے ہنساتا رہتا ہے۔ نماز میں روکنا ضروری ہے اور اس حالت میں تہاسر تو چھوٹا تھا لیکن بیوقوف ہوتی جاتی ہے۔ انسان کھیلنے ایک سنت بھی ہے کہ وہ سربط اس سے ہے کہ فضول باتوں سے بھاگ کر ایک خاص مقصد پر لگتا ہے اور یہی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔

۱۷۱

۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَاحِبِ الْقَبْرِ كَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَمْ يَدُكُ سَوَى بَوْلِ النَّاسِ لَهُ

(قبیلہ صحیح بخاری) کے قبر پر گرنے سے

(۱۷۷) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ تَوَضَّأَ لِمَا خَلَتْهُ

عذاب کا کچھ تعلق نہیں ہے عذاب کا تعلق انسان کے اہل سر پر ہوتا ہے

أَنْتَبَهُ بِمَاءٍ فَيَغْسِلُ بِهِ يَأْبُ (۱۷۷) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مُتَكَرِّرًا (۱۷۷) يَابُ تَرَكُ

پس ہے کہ بغیر دل کے نہ ہو صاحبین کی دعا اللہ تعالیٰ بعض وقت ان کا کھانا یا کفار کے حق میں بھی قبول کر لیتا ہے اور دعا میں طرح زندگی کے قریب قبول ہوتی ہے

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسِ لَا عَرَابِيَّ حَتَّى فَرَسَ مِنْ بَوْلِهِ فِي الْمَسْجِدِ

اور دعا میں طرح زندگی کے قریب قبول ہوتی ہے

(۱۷۷) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (مُتَكَرِّرًا) (۱۷۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ أَعْرَابِيٌّ قِبَالَ

ہے مردوں کے حق میں بھی جو سکتی ہے اور یہ کوئی ایسی ہی بات تھی

فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَّا وَهِيَ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ وَهَرِّقُوا عَلَيَّ

عذاب قبر کا سوال سو اس کی بناء پر مدینہ نہیں بلکہ قرآن کریم کے صاف طور پر ہرگز کا ذکر کیا ہے جو سوس کے بعد کی حالت میں اور یہ نے الحقیقت تیرے ورد اس ظاہری قبر میں تو بہت انسان و دشمن نہیں ہوتے اور برحق

بَوْلِهِ سَجَلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَوْبًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا جُعِلَتْهُمُ مَيْسِرِينَ وَلَمْ يَتَّعُوا الْمُحْسِرِينَ

یاس بزرگی حالت میں ایک طرف مذہب تیرے کا لٹنا قرآن کریم کو تیرے صاف صحت پر ہرگز

(۱۷۷) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (مُتَكَرِّرًا) (۱۷۷) يَابُ بَوْلِ الصَّبِيَّانِ (۱۷۷) عَنْ عَائِشَةَ

دیکھ کر یہاں اور یہ نے الحقیقت تیرے ورد اس ظاہری قبر میں تو بہت انسان و دشمن نہیں ہوتے اور برحق

أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَهَا قَالَتْ أُنِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيِّ قِبَالَ عَلِيٍّ

یاس بزرگی حالت میں ایک طرف مذہب تیرے کا لٹنا قرآن کریم کو تیرے صاف صحت پر ہرگز

فَدَعَا بِمَاءٍ فَاتَّبَعَهُ آيَاهُ (۱۷۷) عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مُحَمَّدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

یاس بزرگی حالت میں ایک طرف مذہب تیرے کا لٹنا قرآن کریم کو تیرے صاف صحت پر ہرگز

لَهَا صَغِيرٌ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَسَدَ رَسُولُ

یاس بزرگی حالت میں ایک طرف مذہب تیرے کا لٹنا قرآن کریم کو تیرے صاف صحت پر ہرگز

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَبْرِهٍ قِبَالَ عَلِيٍّ تَوْبَهُ فَدَعَا بِمَاءٍ فَغَسَّاهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ

یاس بزرگی حالت میں ایک طرف مذہب تیرے کا لٹنا قرآن کریم کو تیرے صاف صحت پر ہرگز

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ تَوَضَّأَ لِمَا خَلَتْهُ

یاس بزرگی حالت میں ایک طرف مذہب تیرے کا لٹنا قرآن کریم کو تیرے صاف صحت پر ہرگز

أَنْتَبَهُ بِمَاءٍ فَيَغْسِلُ بِهِ يَأْبُ (۱۷۷) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مُتَكَرِّرًا (۱۷۷) يَابُ تَرَكُ

یاس بزرگی حالت میں ایک طرف مذہب تیرے کا لٹنا قرآن کریم کو تیرے صاف صحت پر ہرگز

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسِ لَا عَرَابِيَّ حَتَّى فَرَسَ مِنْ بَوْلِهِ فِي الْمَسْجِدِ

یاس بزرگی حالت میں ایک طرف مذہب تیرے کا لٹنا قرآن کریم کو تیرے صاف صحت پر ہرگز

(۱۷۷) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (مُتَكَرِّرًا) (۱۷۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ أَعْرَابِيٌّ قِبَالَ

یاس بزرگی حالت میں ایک طرف مذہب تیرے کا لٹنا قرآن کریم کو تیرے صاف صحت پر ہرگز

فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَّا وَهِيَ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ وَهَرِّقُوا عَلَيَّ

یاس بزرگی حالت میں ایک طرف مذہب تیرے کا لٹنا قرآن کریم کو تیرے صاف صحت پر ہرگز

بَوْلِهِ سَجَلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَوْبًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا جُعِلَتْهُمُ مَيْسِرِينَ وَلَمْ يَتَّعُوا الْمُحْسِرِينَ

یاس بزرگی حالت میں ایک طرف مذہب تیرے کا لٹنا قرآن کریم کو تیرے صاف صحت پر ہرگز

(۱۷۷) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (مُتَكَرِّرًا) (۱۷۷) يَابُ بَوْلِ الصَّبِيَّانِ (۱۷۷) عَنْ عَائِشَةَ

یاس بزرگی حالت میں ایک طرف مذہب تیرے کا لٹنا قرآن کریم کو تیرے صاف صحت پر ہرگز

بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا وَقَاعِدًا (مر ۳۹) عَنْ حُذَيْفَةَ مُتَكَرِّرًا (۱۸۱) بَابُ الْبَوْلِ

باب کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پیشاب کرنا دیکھو حدیث نمبر ۱۸۱ علی باب

عِنْدَ صَاحِبِهِ وَالتَّسْتُرِ بِالْحَائِطِ (۱۸۱) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُنِي أَنَا وَالنَّبِيَّ

نہے صاحبی کے قریب پیشاب کرنا اور دربار کو آڑ بنانا مذہب سے روایت ہے کہا میں نے دیکھا کہ میں اور نبی

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَمَشُّهُ فَأَتَى سُبَّاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ فَهَمُّوا بِمِثْقَالِ

صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے تو آپ کسی قوم کے گھر کے پاس آئے جو دیوار کے پیچھے تھا تو پیچھے تم میں سے کوئی کھڑا ہوا تو

أَحَدِكُمْ فَيَقُولُ فَانْتَبِذْ مِنْهُ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَبَعَثَتْهُ فَهَمَّتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى دَرَعُ

ایسے گھر سے ہو گئے اور پیشاب کیا تو میں آپ سے ہٹ گیا پھر مجھ سے اشارہ کر لیا میں نے آگے پاس آیا اور آپ نے پیچھے کو اسی طرف اشارہ کیا

بَابُ الْبَوْلِ عِنْدَ سُبَّاطَةَ قَوْمٍ (۱۸۲) عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ كَانَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ

باب کسی قوم کے گھر کے پاس پیشاب کرنا ابو وائل سے روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعری

يُسْتَدِرُّ فِي الْبَوْلِ وَيَقُولُ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ أَحَدِهِمْ قِرْصَةً

پیشاب کے بارے میں بہت سنجھی کرتے تھے اور کہتے کہ بنی اسرائیل میں کسی آدمی کے کپڑے کو پیشاب لگ جاتا تھا تو وہ اس کو کتر ڈالتا

فَقَالَ حُذَيْفَةُ كَيْتَةً أَمْسَكَ أَيْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَّاطَةَ قَوْمٍ فَيَقُلُ

مذہب سے کہا کاش ابو موسیٰ اس سنجھی سے رک جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے گھر کے پاس آئے

قَائِمًا بَابُ عَسَلِ اللَّذْمِ (۱۸۳) عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

تو کھڑے ہو کر پیشاب کیا عسل پاپ خون کا دھونا اسماء سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ

وَسَلَّمَ فَقَالَتْ أَرَأَيْتِ إِحْدَانَا تَحْيِضُ فِي الثَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَحْتَهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ

وہلم کے پاس آئی تو کہنے لگی فرمائیے ہمیں سے کسی کو ایک کپڑے میں بیٹھیں آنا ہے تو وہ کھینچ کر آگے لے کر پھاڑ دے

بِالْمَاءِ وَتَنْضِجُهُ بِالْمَاءِ وَتُصَلِّيُ فِيهِ (۱۸۴) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَارِطَةَ

اور پانی ڈال کر گڑھے اور پانی سے دھو ڈالے اور اس کپڑے میں نماز پڑھے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ فاطمہ

بِنْتُ أَبِي جَبْرِ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ

ابن جبر کی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میں عورت ہوں کہ

أَسْتَحْضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا

مجھے خون کی بیماری ہے اور میں پانی کا مرقع نہیں پاتی تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

إِنَّمَا ذَلِكْ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ وَإِذَا أَقْبَلْتَ حَيْضُكَ نَدِّعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا

کہہ مراد ہے اور ایام کا خون نہیں تو جب تیرے حیض کے دن آئیں تو نماز چھوڑ دے اور جب

أَدْبَرْتَ فَأَعْسَلِي عِنْدَكَ اللَّذْمُ ثُمَّ صَلَّى قَالَ وَقَالَ أَبِي ثُمَّ تَوَضَّأْتُ لِكُلِّ صَلَاةٍ حَقٌّ

وہ گزر جائیں تو اپنے آپ کو خون سے صاف کر پھر نماز پڑھ شام کے کامیرے ہاتھ کے کامیرے ہاتھ بھی فرمایا پھر نماز پڑھا بیٹھنے و سٹوکر بیان کیا

يُحْيِي ذَلِكَ الْوَقْتُ بَابُ غَسْلِ الْمَنِيِّ وَفَرْكِهِ وَغَسْلِهِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ (۱۸۵) عَنْ

کہہ وقت آجائے گا باب منی کا دھونا اور اس کا کھینچ ڈالنا اور دھونا منی کا جو عورت سے مرد کو پہنچے

عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَعْسَلُ إِجْمَابَةً مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَجْرُ

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی دھو رہی تھی

إِلَى الصَّلَاةِ وَإِنْ بَقِيَ الْمَاءُ فِي ثَوْبِهِ (مر ۴۰) عَنْ سُكَيْمَانَ بْنِ يَسَّارٍ مُتَكَرِّرًا (۱۸۵)

لہذا کہ لے چھلنے اور پانی کے دھبے آپ کے کپڑے میں ہونے کا دیکھو حدیث نمبر ۱۸۵ علی

۱۸۱ حدیث سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمتمشہ فأتى سباطة قوم خلف حائط فهموا بميثقال احدكم فيقول فانتبذ منه فاشار الى فبعثته فهمت عند عقبه حتى درع
۱۸۲ حدیث سے روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعری پیشاب کرنا اور کپڑے کو کتر ڈالنا
۱۸۳ حدیث سے روایت ہے کہ اسماء بنت ابی بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا
۱۸۴ حدیث سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی جبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا
۱۸۵ حدیث سے روایت ہے کہ سکیمان بن یسار متکررًا پیشاب کرنا اور کپڑے کو کتر ڈالنا

علا بقرہ کا معنی بقرہ دورنگوں کے مختلف ہونے کا ہے۔ چونکہ معمول اور بدھونے ہوتے ہیں اس میں ایک نشان پڑا ہے اس کو کوئی ہیج نہیں ہے۔ ضرور میں نے یہ سہ ماہی سے

بَابُ إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَدَّ هَبْ أَثَرُهَا (۴۱) عَنْ عَائِشَةَ

باب جب منی وپتھر دھوئے اور اس کا اثر باقی رہے دیکھو حدیث نمبر ۱۸۵۵

(مُتَكَرَّرٌ ۱۸۵) - (۴۲) عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَرَّرٌ ۱۸۵) بَابُ أَبُوَائِلِ وَاللِّوَاتِ

دیکھو حدیث نمبر ۱۸۵۵ باب آدموں اور عورتوں کے

وَالْغَنُومُ وَمَرَايِضُهَا وَصَلَّى أَبُو مُوسَى فِي دَارِ الْبُرَيْدِ وَالسَّرِقِينَ وَالْبُرَيْدَةَ إِلَى جَنْبِهِ

پیشاب اور کبر کی بیماریوں کا علاج کرنا اور حنا اور موسیٰ نے دار البرید میں جہاں کو بر بھی تانا تانا پڑھی اور حنظل ان کے پاس تھا

فَقَالَ هَهُنَا أَوْ تَمَّ سَوَاءٌ (۱۸۶) عَنْ أَنَسِ قَالَ قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ وَعُكْبَيْةٌ

اور کہا یہ جگہ اور وہ جگہ برابر ہیں علم ان سے روایت ہے کہ قبیلہ عکلی یا عکبئیہ کے چند آدمی آئے

فَاجْتَوُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحِهِمْ وَأَنْ يُشْرَبُوا

تو مدینہ کی آپ دیہہ ان کو موافق نہیں آئی علم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ دو دو والی اونٹنیوں کے پاس جائیں

مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَبْدَانِهَا فَانْطَلَقُوا فَلَمَّا صَحُّوا أَتَوْا سَاعِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور ان کا پیشاب اور دو دو پتھر رہیں تو وہ دہاں پر چلے گئے جب اچھے ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو مار ڈالا

وَاسْتَأْذَنُوا النَّعْمَ فَجَاءَ الْخَبْرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ

اور وہ دنٹنیوں کو بھی لے گئے اس واقعہ کی اطلاع صحیح کو (مدینہ) پہنچی تو آپ نے (ایک رستہ) ان کے پیچھے بھیجا

يَحْتَمِي بِهِمْ فَأَمَرَ فِقْطَةَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَتَ أَعْيُنَهُمْ وَالْقَوَّاءَ فِي الْحَرَّةِ

آپ نے حکم دیا تو ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے گئے اور ان کی آنکھیں چھوڑی گئیں اور چھوڑی زمین پر ڈالے گئے

لَيَسْتَسْقُونَ فَلَا يَسْقُونَ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ فَهُوَ لَاءٌ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا وَبَعَدُوا

پانی مانگتے تھے کوئی پلاتا نہیں تھا ابو قلابہ کہتے ہیں ان لوگوں نے چوری کی اور قتل کے جرم ہوئے اور ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا

لَا يَمَكِّنُهُمْ وَحَارَّ نَوَالَهُ وَرَسُولُهُ (۱۸۶) عَنْ أَنَسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

اور اللہ اور اس کے رسول سے لڑے علم ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَبِّحُ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ الْمَسِيحُ فِي مَرَايِضِ لَعْنَمِ بَابُ مَا يَقَعُ

علیہ وسلم مسجد چھینے سے پہلے کبروں کے بازوؤں پر لگا کر کہتے تھے۔ باب

مِنْ التَّجَاسُاتِ فِي السَّمَنِ وَالْمَاءِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لَا بَأْسَ بِالْمَاءِ مَا لَمْ يُعْبَرَهُ

گھی اور پانی میں بنا پاگ چیزوں کا چلنا اور زہری نے کہا پانی کے راستہ ان میں کوئی ہرج نہیں جیتا تھا اس کا

طَعْمٌ أَوْ رِيحٌ أَوْ لَوْنٌ وَقَالَ حَمَّادٌ لَا بَأْسَ بِرَيْسُلٍ لَمَيْتَةٍ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي عِظَامِ

مزد۔ اور بو اور رنگ لگا چھا ہو اور طعم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہونے سے کوئی نقصان نہیں اور زہری

الْمَوْتَى خَوَّ الْقَبِيلَ وَغَيْرَهُ أَدْرَكَتُ نَاسًا مِنْ سَلَفِ الْعُلَمَاءِ يَمْتَشِطُونَ بِهَا وَيَدَّ هُونٌ

آج بھی وغیرہ مردار کی ہڈیوں کے مشق کہتے ہیں کہ میرے سلفوں کے لوگوں کو دکھا کہ وہ ان ہڈیوں سے لٹکے تھے اور تیل کو ان میں رکھ کر

علم دار البرید کو
میں ایک جگہ کا نام تھا۔
جہاں خلیفہ کے ایلی کی
راکے تھے۔ وہاں
اونٹوں وغیرہ کی وجہ
کو بھی پڑا ہوا تھا
کہنے سے یہ مطلب ہے کہ
یہاں پڑنے میں کسی کو
ہرج نہیں ہوگا اور جرس
نہیں اور توں تیاں ہم
کو دیکھنا چاہئے غار
بچھا کر ناز پڑھتے ہیں
یا مطلب ہے جو کسی
تجس نہیں ہوجاتی جہا
آس یا اس سے چیزیں ہوں
کیونکہ ظاہر ہے کہ
دار البرید جو ایلیوں
اترنے کی جگہ تھی وہ
ساری سب سے بگڑتی تھی
کا اس میں کو بر وغیرہ پڑا
ہو چکا اس کا کوئی حصہ
ایسا ہوگا کہ
اجتوی البدل کے سنے
میں اس شرمین کا نام کہ
ناپسند کیا یا وہ مقام تھے
لے صرف صحت ہوا۔ یعنی
و ان کے آئے جہا سے
موافق نہ آئی اور جو
دیا کہ رنگ کی بیماری کو
کہتے ہیں۔ علم
لغاح۔ لفظ کی معنی
دو دو دینے والی اونٹنیوں
کہتے ہیں وہم بلقا
کے معنی ہیں جہاں دو
دینے والی اونٹنیوں میں
و ان میں بعض روایا
سے معلوم ہوتا ہے انہوں
نے خود اجازت مانگی اور

آپ نے ان کو اجازت دی۔ صدقہ کی اونٹنیوں میں سے چھیل کے ہاتھ پر چوگا کہ میں نہیں۔ اور یہ جگہ زنی احمد کہلاتی تھی +
علم یہ سزا جان کو دہی لگا ہریت سخت معلوم ہوتی ہے سکر اصل بات یہ ہے جیسا کہ معتبر روایات میں لکھا ہے (دیکھو علیہ) کہ جب یہاں نے جو آنحضرت صلعم کا چرواہا
تھا۔ اونٹنیوں کے جانے پر ان لوگوں کا تعاقب کیا اور ان کے ساتھ جنگ کی۔ تو انہوں نے اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دینے اور اس کی زبان اور اس کی آنکھوں میں کانٹے جھونے اور اسے
سخت ازیت دیکر مار ڈالا اور عرب میں یہ حالات ہیں فقہاء کا قانون مروج تھا یہاں حضرت صلعم نے بطور تعقل تک وہی سلوک کیا جو انہوں نے چرواہے سے کیا تھا کو آئندہ کیلئے جیسا کہ آیت
اتما جزاؤ الذین یجادون اللہ دوسولہ کے نشان نزول میں ہے۔ ایسی سزاؤں میں سزاؤں کو روک دیا گیا۔ لیکن آیت کے نزول سے پیشتر آپ نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو انہوں نے چرواہے کیساتھ
تھا۔ اور نہ ہی سزا کبھی آپ نے کسی کو نہیں دی۔ اور بطور زنا اس کے سزا لینے پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ یہاں اونٹنیوں کا پیشاب پلانے سے دبوکا نہیں کھانا چاہیے۔ یہ بطور علاج تھا۔ اور علاج جہا
یا نجی چیز استعمال ہوتی ہے۔ علم مواضع الغنم یعنی ایسی جگہ جہاں پتھر یا زحمتی تھیں حکومت کر دیا گیا ہے ناز کی جگہ اور سجدوں کو پاؤں نہ کہنے کا حکم ہے۔ یہ مطلب ہے کہ نہیں کہ
مسلمانوں کو اپنی عبادت کا ہر صاف رکھنے کی ضرورت نہیں بلکہ یہاں بتا ہوا ہے کہ زمین ساری پاک ہے۔ گو وہ پھلے کسی طرف میں آئی رہی ہو +

الاشعري قال آتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسوءا في بيده يقول

عنه روايت ہے کہ جس نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا تو بیٹھنا آپ کو اپنے ماتھے سے سواک کرنے کے بعد دیکھا اس نے

أَعْرَأَ وَالسُّوَّكُ فِي فِيهِ كَأَنَّهُ يَتَهَوَّهٖ (۱۹۶) عَنْ حَدِيثِهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسُّوَّكِ يَا بَدْءَ السُّوَّكِ إِلَى الْإِبْرَةِ (۱۹۷)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِرَانِي السُّوَّكُ بِسُوءٍ فَجَاءَنِي رَجُلًا

أَحَدُهُمَا الْكَبِيرُ مِنَ الْأَخْرَفِ وَأَوَّلُ السُّوَّكِ الْأَصْغَرَ مِنْهُمَا فَيَقِيلُ لِي لِيُرْفِدَ فَعْتَهُ إِلَى

الأكبر منه ما باب فضل من بات على الوضوء (۱۹۸) عن البراء بن عازب قال

قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعا فتوضأ وضوءك للصلاة

ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قبل اللهم أسمت وجهي إليك وفوضت أمري

إليك والياوات ظميرى إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك

اللهم امنك بكتابتك الذي أنزلت ونبئتك الذي أزلت فإن ميت من بئتك

فانت على الفطرة وأجعلهم إخراجا تتكلمون بها قال فرردتها على النبي صلى الله

عليه وسلم فلما بلغت اللهم امنك بكتابتك الذي أنزلت قلت ورسولك قال

لَا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أُرْسِلَتْ

فأجابا أيضا نہیں (یوں کہہ) اور تیرے اس نبی پر جو تو نے بھیجا ہے نہ

کلمہ اس میں نہ توڑا
سواک کی طرقت توجہ
دلائی ہے۔ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم
بست کثرت سے سواک
کرتے تھے۔ اور فی
الحقیقت سواک کثرت
سوی بیار یوں علی
ہے۔ مسلمانوں میں
یہ بات بھی آج باطل
متروک ہو چکی ہے
مگر شخص حدیث کو پڑھتا
ہے اسے چاہئے کہ
اس پر عمل بھی کرے۔
سواک سے نہ صرف
آوی کا منہ ہی صاف
رہتا ہے اور اس
میں سے بو نہیں آتی
بلکہ بہت سی موذی
اور مضر کی بیماریاں
بھی دانتوں کے قفا
نہ رکھنے سے پیدا
ہوتی ہیں اور اس کا
علاج سواک ہی ہے
منہ اور دانتوں کے
صاف نہ رکھنے سے
الیکھڑا تک نہر پیدا
ہو جاتا ہے۔ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم
بہت زور دیتے تھے۔
اور آپ صاف دانت
پھر صاف دانتوں
توضو سے انکالتے
تھے۔ دانت کے وقت
منہ کا صاف رکھنا

بھی زیادہ ضروری ہے کیوں کہ دانت کو منہ بند ہوتا ہے۔ دانت کو سونے جو چیز اور پھر صبح اٹھنے ہی ان دودھتوں میں سواک کرنا سنت ضروری ہے۔ اس کے برعکس کانٹوں
قدح میں سواک کی عادت ضرور ڈالنی چاہیے۔ آنحضرت صلعم کا اس پر زور دینا بتاتا ہے کہ آپ رواج کے ساتھ جسم کی حفاظت کو بھی ضروری سمجھتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی
ایک روایت میں ہے کہ آپ سواک عرض کرتے تھے یعنی دانتوں پر اور پسے پیچھے اور نیچے سے اور کہ اور یہ سب سے بہتر طریق صحت کا ہے۔ جسے آج دانتوں کی بیماریوں کے
ماہر تجویز کرتے ہیں۔ مگر کس قدر کمال ہے کہ سونے ہیں تو بھی جسم کو پاک رکھنا کہ اللہ کے اللہ کے ساتھ جسم کی حفاظت کو بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی
رہنے ہیں۔ جس شخص کا جانگ اور سونا ایسے پاکیزہ ہوں۔ اس کی بیرونی سے سولے شقی کے کوئی منہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سادہ کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ رواج کو پاک
رکھنے کی تیاری میں یہ بھی داخل ہے کہ جسم کو اور اس کے متعلق تمام چیزوں کو پاک رکھا جائے۔ جسمانی پاکیزگی روحانی پاکیزگی کے لئے بطور تمہید ہے۔
اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ احکام اور دعا کی حدیثوں میں لفظوں کی باندی اختیار کی گئی ہے۔ اور الفاظ کو محفوظ کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ لفظ ہی کی دیگر لفظ
رسول تک رکھنا پسند نہیں کیا۔ اس لئے محمد میں نے بھی احکام کی احادیث میں جو ضرور مرعہ بھیجا ہے۔ وہ تقصیر کی احادیث پر نہیں کیا۔ احکام پر ہمارے رعیت ہے۔ تقصیر پر
نہیں۔ داہنے کوٹ پر سونا مانت کے لئے مفید ہے

حکم آیت کے ساتھ
 سے اللہ بخاری کا فتویہ
 بتانا جو کہ اس حکم پر
 میں قرآن کریم سوجات
 ہے مادہ حدیث میں
 اسکی تشریح کرتی ہے
 اور اس شعر پر مقدم کر
 چنانچہ منائے کا حکم
 قرآن شریف میں جو
 ہے۔ البتہ اسکی کیفیت
 کو حدیث نے واضح کرایا
 ہے غسل کی
 کیفیت یعنی بالوں کی
 جڑوں تک پانی پہنچانا
 یہ بتانے کیلئے ہے
 کہ سورا ایک فریضہ
 مذہبی ہے جسکے پانی
 نہ بہا لیا جائے۔ بلکہ
 اس غرض جسکی پوری
 معافی ہے ہر ایک
 کہ بالوں کی جڑوں تک
 بھی صاف ہو جائیں
 جن لوگوں نے پہلے
 لکھی بعض ہندو
 کو نہ دیکھا ہو گا کہ
 اسے من ایک فریضہ
 مذہبی ہے جسکے پانی
 پانی جسم کو چھو کر
 لیتے ہیں۔ جس سے
 مندان سطحا حاصل ہوتا
 ہے۔ اسکی کیفیت اسکی
 کہہ سکتے ہیں +
 حدیث نمبر ۲۰
 میں غسل سے پہلے منوں
 کی کیفیت منسلک ہے
 کی ہے یہاں صرف
 یہ ذکر ہے کہ سورانے
 پانوں کو جو چیکے ہر
 وضو کیا۔ جس طرح
 ٹانگے لگاتے تھے



کتاب غسل

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا إِلَى قَوْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْرَوْنَ وَقَوْلُهُ
 اور اے ایمان والو! اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو نہالو اس کے قول تک تاکہ تم مشکر کرو اور اللہ تعالیٰ کا قول

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى قَوْلِهِ عَفْوَ غُفُورًا بَابُ الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ (۱۹۹)
 اے ایمان والو اس کے قول تک صحاح کثیرہ اور مغفرت یعنی نالا بے باب غسل سے پہلے وضو

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 حضرت عائشہ زہرا کی کہیں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَدَا فغسل يديه ثم يتوضأ كما
 جب جنابت کی وجہ سے غسل کرتے تو شریعت میں اسے دونوں ہاتھوں کو دھونے اور وضو کرنے سے پہلے

يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَدْخُلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيَخْلِلُ بِهَا أَصُولَ الشَّعْرَتِ ثُمَّ
 ٹانگے کے لئے وضو کیا کرتے تھے پھر اپنی انگلیوں کو پانی میں رکھنے اور ان کو (سے) ہاتھ کی جڑوں تک پہنچانے سے پہلے

يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ عُرْفٍ بِيَدِهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ
 اپنے سر پر تین چلو دیتے پھر بارہ بار پانی بہاتے ہر

(۲۰۰) عَنْ مَيْمُونَةَ (مكرر ۲۰۰) بَابُ غُسْلِ الرَّحْلِ مَعَ امْرَأَتِهِ (۲۰۰) عَنْ
 صحیح حدیث نمبر ۲۰۰ بے باب مرد کا اپنی عورت کے ساتھ نہالنا

عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدْحٍ
 حضرت عائشہ سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے جو ایک (پڑا) پیار تھا

۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱

کتاب الفسل

۱۔ فرق بکیرت
تھا جس میں نہ غسل
پانی آنا تھا یعنی قربان
سات سیر حدیث سے
فرز بقدر صلح جو نہ تھا
کہ حضرت عائشہ اور سلم
صلح دونوں سات سیر کے
قرب پانی سے غسل کر
لیتے تھے۔ لیکن عثمان
باب ۲۰۲۔ مرد کا اپنی جنت
کے ساتھ مسلمانا۔
سور بھی صحیح نہیں
کیونکہ کڑا یا نہ کرنا
تھے۔ النبی اس حدیث
کو جہاں ۲۰۳ پر کر
لا گیا پورے ان کا یہ لفظ
ہیں غلط ایسے دنیا
فیہ ۳ سے آئے اس
برق میں آگے چلے جتن
تھے۔ جس سے تیس ہر
سکا کر ایک ہی جنت
میں غسل کرتے ہوں
اور ہم بھی ہر جنت جائتے
کے حودتھے منی اپنے
رضی بھائی تھے اسی
عائشہ سے راہوں کے
نزدیک عبد الرحمن میں
ان کے ہیں اور بعض کے
نزدیک آپ کی بلدی
طرف سے کھائی حنظل میں
اور صغیر کے نزدیک ضاعی
بھی تھے۔ اس حدیث سے
امام بخاری نے یہ بدل
کیا کہ اس حدیث پانی سے
غسل نہ کرنا اور خود
حدیث کے الفاظ بھی بتائے
ہیں کہ سوال میں بھی بتایا
کے پانی مقدار کو تھا

يُقال له الفرق باب الفسل بالصاع ونحوه (۲۰۱) عن أبي سلمة يقول دخلت

جب کو فرق کہتے ہیں غسل کرنے کے لیے ملک باب صاع اور اس کی مثل سے غسل کرنا
ابو سلمہ سے روایت ہے کہ میں اور

انا و اخواتنا على عائشة فسالها اخوها عن غسل رسول الله صلى الله عليه و

عائشہ کا بھائی عائشہ کے پاس گئے۔ وہ ان کے بھائی نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارہ میں پوچھا
اسکی روایت ہے کہ ایک برتن جو صاع کے برابر تھا منگایا پھر غسل کیا۔ اور اپنے سر پر پانی بھرا اور اس کے درمیان پر وہ

سَلَّمَ فَدَعَيْتُ بِنْتُ أَخِي بِنْتُ صَاعٍ فَغَسَلْتُ وَأَفَضْتُ عَلَى رَأْسِهَا وَبَيْنَنا وَبَيْنَها

ابو جعفر سے روایت ہے کہ میں اور میرا باپ جاہد بن عبد اللہ کے پاس تھے اور ان کے پاس بڑے بڑے
ابو جعفر (۲۰۲) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ وَأَبُوهُ وَعِنْدَهُ

تھا۔ جعفر سے روایت ہے کہ میں اور میرا باپ جاہد بن عبد اللہ کے پاس تھے اور ان کے پاس بڑے بڑے
ابو جعفر سے روایت ہے کہ میں اور میرا باپ جاہد بن عبد اللہ کے پاس تھے اور ان کے پاس بڑے بڑے

فَوَمَرُوا فَسَأَلُوهُ عَنِ الْغُسْلِ فَقَالَ يَكْفِيكَ صَاعٌ فَقَالَ رَجُلٌ مَا يَكْفِيَنِي فَقَالَ جَابِرٌ

تھے تو انہوں نے ان سے غسل کے بارہ میں پوچھا تو کہا مجھے ایک صاع کافی ہے ایک شخص نے کہا مجھے کافی نہیں ہوتا جاہد نے کہا
اس کے لئے تو کافی تھا جس کے بال چھوٹے زیادہ تھے اور جو چھوٹے ہیں چھوٹے ایک کپڑے میں ہاری ہاتھ لگا کر اس سے

عَبَّاسٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَهُنَّ كَانَا يَغْتَسِلَانِ مِنْ أُمَّهَاتِهِمَا

روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میری مائیں ایک برتن سے غسل کرتے تھے

بَابُ مِنْ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا (۲۰۴) عَنِ جَبْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

باب جو اپنے سر میں پانی ڈالتا ہے
جابر بن مطعم سے روایت ہے کہ رسول اللہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَنَا فَأَفِضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا وَأَشَارَ بِيَدِهِ بِكَلِمَةٍ مَّا (۲۰۵)

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو تین بار اپنے سر پر پانی ڈالتا ہوں اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے اشارہ کیا تھا

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَرِّغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا

جاہد بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر تین بار پانی بہاتے تھے

(۲۰۶) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ لِي جَابِرٌ أَنِّي بِنْتُ صَاعٍ بِالْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ

ابو جعفر سے روایت ہے کہ مجھ سے جاہد نے کہا کہ تیرا چچا زاد بھائی ان کی مراد حسن بن محمد

ابن الحنفية قَالَ كَيْفَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقُلْتُ كَانُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بن حنفیہ بھی میرے پاس آیا تو پوچھا کہ جنابت کا غسل کس طرح ہے تو میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

سَلَّمَ يَأْخُذُ ثَلَاثَ أَكْفٍ فَيُفِضُهَا عَلَى رَأْسِهِ لَمْ يُفِضْ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ فَقَالَ لِي الْحَسَنُ بْنُ

تین چلو ڈالتا ایک اس کو سر پر بہاتے پھر اپنے سارے بدن پر بہاتے تو حسن نے مجھ سے کہا کہ میں

ذکیعت غسل ہے۔ چنانچہ اس سے اگلی حدیث میں بھی اشارہ عن الفضل کا جواب لکھنا صاع و نحوہ پر۔ اس سے یہاں حضرت عائشہ سے بھی پوچھا
کیا وہ فرقہ تھا کہ صاع کے قدر پانی نکلتا ہے اور یہ دیکھنے کو کہ اس آدی میں کس وقت غسل بھی کیا اور اس میں سے لینے سر پر پانی ڈالنا اور اس طرح تباہی اگر
حدیث لیتے ہیں کہ جو نے یہ حدیث سے غسل کر سکتی ہے تو مرد کو بھی نہیں کر سکتا۔ کیفیت مثل آپ نے قطعا نہیں بتائی اور ان الفاظ کے ہوتے ہوئے کہ ہمارے اور صدیق کے درمیان
کھاب تھا کوئی شخص ہم کر سکتا ہے کہ اس رو سے کا اور یہ لڑتے دکھایا تھا۔ عصب میں نہایت کھاب بھی ہوتے اور ہم دیکھ میں بیٹھے تھے پانی غسل کے لئے کافی ہوجاتا ہے۔ اس کی سرتن
کہ طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے حدیث نمبر ۲۰۶ میں فرق تھا ہے اور مطلب یہی ہے کہ دنیا میں صاع سے دعاوی نہاں تھے جیسے ایک صاع کے قرب ایک آدی کھینکے کا فی ہوجاتا تھا۔ یہ
لیجھ دوڑوں ہاتھوں سے پانی لے کر نہاتا ہیں۔ مطلب یہ کہ سر کو بھی اسی طرح دھوتے۔ حدیث نمبر ۲۰۶ اس حدیث میں ایک ہی واقعہ کا ذکر معلوم ہوجاتا ہے۔ مگر وہاں سوال پانی کی
مقدار سے ہے جس میں غسل ہو سکتا ہے۔ اور اس میں مثل کی کیفیت مذکور ہے۔

(۲۰۷) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ مَيْمُونَةُ وَصَّعَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً

ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ميمونہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے غسل کے

لِلْفُضْلِ فَفَضَلَ يَدَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ فَفَضَلَ مَذَ الْيَدِ ثُمَّ سَجَدَ

اور اسے پانی رکھا تو آپ نے اپنے ہاتھ کو دو یا تین بار دھرایا پھر اپنے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور اسے بائیں ہاتھ پر

بِالْأَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ

گوزدین پر ملا۔ پھر گلی کر اور تاگ میں پانی ڈالا اور اپنا منہ اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو کر پھر اپنے بدن پر پانی ڈالا پھر

لِحَوْلٍ مِنْ مَكَانِهِ فَفَضَلَ قَدَمَيْهِ بَابُ مَنْ بَدَأَ بِالْحَلَابِ أَوْ الطَّيْبِ عِنْدَ الْفُضْلِ

اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور اپنے دونوں پاؤں کو دھویا بَاب جو غسل کرنے وقت صلاب یا خوشبو سے شروع کرے اور

(۲۰۸) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اخْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت سے نہانے تو

دَعَا لِشَيْءٍ نَحْوِ الْحَلَابِ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ فَمَدَّ الشِّقَاقَ الْأَيْمَنَ ثُمَّ الْأَيْسَرَ فَقَالَ بَهْمَا

صلاب کی طرح کوئی چیز منگوائے پھر اسے اپنی نیکر کے دائیں جانب سے شروع کرتے پھر بائیں طرف ڈالتے پھر دونوں ہاتھوں سے

عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ بَابُ الْمَضْمُضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ فِي الْجَنَابَةِ (مكرر ۲۰۵) عَنْ

سر کے درمیان (پانی) ڈالتے بَاب (مضمر) جنابت میں گلی کرنا اور تاگ میں پانی ڈالنا۔ دیکھو حدیث

مَيْمُونَةَ (مكرر ۲۰۷) بَابُ مَنْ بَدَأَ بِالْحَلَابِ لِيَتَكُونَ أَنْفَى (مكرر ۲۰۶) عَنْ مَيْمُونَةَ

ممنوعہ عطا بَاب زیادہ صفائی کے لئے زمین پر ہاتھ مٹانا دیکھو حدیث

(مكرر ۲۰۷) بَابُ هَلْ يَدْخُلُ الْجَنَابُ يَدَهُ فِي إِذَا وَقَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ إِذَا لَوْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ

بَاب کیا جنابت والا اپنے ہاتھ کو دھونے سے پہلے برتن میں ڈال سکتا ہے جب اس کے ہاتھ پر

قَدْرٌ غَيْرُ الْجَنَابَةِ وَأَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ وَالْبُرَيْرُ بْنُ عَارِبٍ يَدَهُ فِي الظُّهُورِ وَلَمْ يَغْسِلْهَا ثُمَّ

کوئی پیچیدگی نہ ہو سوائے اسکے کہ وہی کر اور ابن عمر اور البریر بن عارب نے اپنے ہاتھ کو دھونے کے پانی میں ڈال دیا اور اسے دھوا نہ تھا پھر

تَوَضَّأَ وَلَمْ يَغْسِلْ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ بِأَسَابِلِهَا يَنْتَضِحُ مِنْ غَسَلِ الْجَنَابَةِ (مكرر ۲۰۷) عَنْ

دھو گیا اور ابن عمر اور ابن عباس نے اسباب جنابت کے چھیننے پڑنے سے کوئی ہرج نہیں سمجھتے تھے

عَنْ عَائِشَةَ (مكرر ۲۰۰) (مكرر ۲۰۸) عَنْ عَائِشَةَ (مكرر ۲۰۰) دیکھو حدیث ۱۹۹ ع دیکھو حدیث ۲۰۰ ع دیکھو حدیث ۲۰۰ ع

۱ حلاب میں
۲ میں برتن کو کھتے ہیں
۳ جس میں دھو دھو دھا
۴ جاتا ہے۔ اس میں پانی
۵ ڈال کر تباہی مٹے
۶ تھے۔ امام بخاری
۷ نے طبیب کے ساتھ
۸ حلاب کو لگا یا ہے
۹ جس سے یہ خیال ہوا
۱۰ ہے کہ امام بخاری نے
۱۱ اس کے لئے کسی قسم
۱۲ کی خوشبو سمجھے ہیں
۱۳ اور یہ ان سے غلطی ہوئی
۱۴ ہے۔ بعض نے کہا کہ
۱۵ روایت میں اس لفظ
۱۶ حلاب پر جو حلاب کا
۱۷ موعوب ہے یعنی حلاب
۱۸ کے پانی سے خوشبو
۱۹ لگاتے تھے اور حدیث کے
۲۰ الفاظ میں اشارہ خوشبو
۲۱ کی طرف ہی معلوم
۲۲ ہوتا ہے یعنی غسل
۲۳ کے بعد آپ سر میں
۲۴ خوشبو بھی لگاتے
۲۵ تھے۔ خواہ اصل
۲۶ لفظ حلاب ہو یا
۲۷ حلاب دوسری چیز
۲۸ آپ کا خوشبو استعمال
۲۹ کرنا ثابت ہے +
۳۰ حدیث نمبر ۲۰۰
۳۱ کا معنی میں اس لفظ
۳۲ خیف تفسیر غشی کے
۳۳ علاوہ یہاں مزدوجہ

کے بعد کہیں تک) ہاتھ دھونے کا ذکر نہیں اور حدیث کے آفریہ بظاہر ہاتھ میں تھراؤنی یعنی نبل نکلے بغض بہا پھر اچھے پاس تولیہ لایا گیا تو آپ نے اس سے جسم نہ دھوا۔ ان الفاظ سے یہ استدلال درست نہیں کہ تولیہ سے جسم کا پونچھا ناجائز ہے۔ یہاں صرف ایک واقعہ کا ذکر ہے کہ اچھے پاس تولیہ لایا گیا تو آپ نے اس سے جسم نہیں پونچھا۔ سو اسکی کوئی وجہ ہو سکتی ہے مگر اس سے تولیہ صاف نہ ہو اور ممکن ہے کہ گھی کا موسم ہو یعنی دوسرے جسم کا تر کھنا آپ نے پسند کیا ہوتا ہوا خود ہی پونچھے۔ مگر حدیث میں اس سے ہر خداوند حضرت نے فقال بییدہ ہکذا اور پور دھا۔ حدیث نمبر ۲۰۰ میں۔ لفظ آتے ہیں فغسل هذا کبریا ثم صمیدہ بالارض یعنی شرمگاہ وغیرہ کو دھوئیے بعد آپ نے زمین پر ہاتھ ملا۔ اور یہاں کر حدیث میں کہ تھو دنگ بہا الحانظ اسے دوار سے ملا۔ اور حدیث نمبر ۱۹۹ میں ہی ہنسہا بالارباب پھر لے مٹی سے ملا۔ مطلب ایک ہی ہے۔ پانی سے استنہار کرنے کے بعد ہی آپ ہاتھ کو مٹی سے رگڑ کر صاف کر لیتے۔ مٹی پر شمس کو ہرگز ميسر آجاتی ہے۔ اور وہی کام دینی جو جواہر دینا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ظاہری صفائی کا خیال آپ کو کس قدر تھا حدیث نمبر ۲۰۰ کو دہرایا ہے۔ مگر وہاں ذکر تھا کہ میں ادنیٰ مسلم ایک ہی برتن میں ذوق سے نہا لیتے تھے یہاں اتنا واحد کے ہر الفاظ میں مختلف ایسا بیاد فیہ یعنی ہمارے ہاتھ ہمیں آگے پیچھے پڑتے تھے۔ اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ فی الواقع حالت جنابت نابالگی کی حالت نہیں کیونکہ اگر جنابت اللہ پاک ہوتا تو غسل سے پہلے چونکہ اس کا ہاتھ پانی کے برتن میں پڑتا ہے وہ پانی بھی نابالگ ہو جاتا۔ ۱۹۹ میں حدیث نمبر ۱۹۹ کا حرف ابتدائی صفحہ بیان کیا ہے کہ ان رسول اللہ صلعم اذا اغتسل من الجنابة غسل يده اس سے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جس برتن کی غسل کرنا ہوتا۔ اس میں ہاتھ ڈال کر پانی لیتے تاکہ پہلے ہاتھ دھوئیں۔ گو یہ ضروری نہیں بلکہ پھر حدیث نمبر ۲۰۰ آئی جو کہ یہاں لفظ میں کنت اغتسل ناد النبی صلعم من افاء واحد من جنابہ جو نمبر ۲۰۰ میں پہلی دفعہ مذکور ہے اس کے لایکی فرض ہے کہ حالت جنابت میں ایک برتن سے غسل کرتے تھے +

(۵۰) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متكرر - ۲۰۳) بَابُ مَنْ أَوْغَرَ يَدَيْهِ عَلَى شِئَاءٍ فِي الْغُسْلِ

دیکھو حدیث ۲۰۳ باب جو نہاتے وقت ہاتھیں اٹھتے ہیں یا ہاتھیں ڈالے

(۵۱) عَنْ مَيْمُونَةَ (متكرر - ۲۰۴) بَابُ تَفْرِيقِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ وَيَدُّو عَنِ

دیکھو حدیث ۲۰۴ باب غسل اور وضو میں وقف کرنا ہاتھ کے مشق بیان

ابن عمر آتة غَسَلَ قَدَمَيْهِ بَعْدَ مَا جَفَّ وَضُوءُهُ (۵۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر - ۲۰۵)

کہا جا تا ہے کہ انہوں نے اپنے دونوں پاؤں کو وضو کے ہاتھ کے خشک ہونے کے بعد پہرا غسل دیکھو حدیث ۲۰۵

بَابُ إِذَا جَامَعَ ثَمَّ عَادَ وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلِ وَاحِدٍ (۲۰۹) عَنْ مُحَمَّدِ

باب جب ہمہ صحت ہو پھر دوبارہ ہو اور جو ایک ہی روز پر دو بار کے ایک ہی بار غسل کرے

ابن المنبہر قال ذكروته لعائشة فقالت بسم الله ابا عبد الرحمن كنت اظهب رسول

سے روایت ہے کہ میں نے (ابن عمر کی) رائے کا ذکر حضرت عائشہ سے کیا تو کہا کہ خدا ابوعبد الرحمن پر رحم کرے میں بھی کہہ

الله صلى الله عليه وسلم فيطوفون على نساءه ثم يصيبه محرما يصح طيبا (۲۱۰)

صلی اللہ علیہ وسلم کو غوطہ لگا کر تھی اور آپ اپنی بیویوں پر دورہ کر کے پھر صبح کو احرام باندھتے تو غوطہ جھانٹتے ہوئے ملا

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ

انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات اور دن کے ایک ہی وقت میں اپنی تمام بیویوں پر

فِي السَّاعَةِ الْوَالِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهِيَ إِحْدَى عَشْرَةَ قَالَ قُلْتُ لَأَنْتِ أَوْ كَانَ

جو گیارہ گھنٹے میں دورہ کرتے تھے۔ تمہارے کہنے میں سے انس سے پوچھا کیا آپ

يَطْفِقُهُ قَالَ كُنَّا نَتَخَدُّثُ أَنَّهُ أَعْطَى قُوَّةَ ثَلَاثِينَ بَابُ غُسْلِ الْمَدِينَةِ وَالْوُضُوءِ

اس کی طاقت رکھتے تھے اس نے کہا بہتر ذکر کرے کہ آپ کو بیس مردوں کی طاقت دی گئی ہے شبہ باب مدنی کا دہننا اور اس کی رویت

مِنْهُ (۵۳) عَنْ عَلِيٍّ (متكرر - ۱۱۳) بَابُ مَنْ تَطَيَّبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ وَبَقِيَ اثر الطيب

باب جو خوشبو لگا کر غسل کرے اور خوشبو کا اثر باقی رہے

(۵۴) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْشَرِ (متكرر - ۲۰۹) (۲۱۱) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانِي أَنْظُرُ

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم

إِلَى وَرَيْصِ الطَّيِّبِ فِي مَفْرَقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرَمٌ

صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیں خوشبو لگا چکے آپ کے حرام کی

حَالَتِ فِيهِ كَمَا كَانَتْ حَالَتِي إِذْ كُنْتُ حُرْمَةً

میں نے اپنی حالت میں دیکھی تھی جب میں حرام تھی تو آپ کی حالت بھی

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانِي أَنْظُرُ إِلَى وَرَيْصِ الطَّيِّبِ فِي مَفْرَقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرَمٌ

عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرام کی حالت میں گویا مجھے اپنی نظر آ رہی ہے

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانِي أَنْظُرُ إِلَى وَرَيْصِ الطَّيِّبِ فِي مَفْرَقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرَمٌ

عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرام کی حالت میں گویا مجھے اپنی نظر آ رہی ہے

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانِي أَنْظُرُ إِلَى وَرَيْصِ الطَّيِّبِ فِي مَفْرَقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرَمٌ

عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرام کی حالت میں گویا مجھے اپنی نظر آ رہی ہے

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانِي أَنْظُرُ إِلَى وَرَيْصِ الطَّيِّبِ فِي مَفْرَقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرَمٌ

عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرام کی حالت میں گویا مجھے اپنی نظر آ رہی ہے

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانِي أَنْظُرُ إِلَى وَرَيْصِ الطَّيِّبِ فِي مَفْرَقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرَمٌ

عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرام کی حالت میں گویا مجھے اپنی نظر آ رہی ہے

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانِي أَنْظُرُ إِلَى وَرَيْصِ الطَّيِّبِ فِي مَفْرَقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرَمٌ

عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرام کی حالت میں گویا مجھے اپنی نظر آ رہی ہے

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانِي أَنْظُرُ إِلَى وَرَيْصِ الطَّيِّبِ فِي مَفْرَقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرَمٌ

عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرام کی حالت میں گویا مجھے اپنی نظر آ رہی ہے

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانِي أَنْظُرُ إِلَى وَرَيْصِ الطَّيِّبِ فِي مَفْرَقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرَمٌ

عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرام کی حالت میں گویا مجھے اپنی نظر آ رہی ہے

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانِي أَنْظُرُ إِلَى وَرَيْصِ الطَّيِّبِ فِي مَفْرَقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرَمٌ

عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرام کی حالت میں گویا مجھے اپنی نظر آ رہی ہے

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانِي أَنْظُرُ إِلَى وَرَيْصِ الطَّيِّبِ فِي مَفْرَقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرَمٌ

عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرام کی حالت میں گویا مجھے اپنی نظر آ رہی ہے

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانِي أَنْظُرُ إِلَى وَرَيْصِ الطَّيِّبِ فِي مَفْرَقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرَمٌ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانِي أَنْظُرُ إِلَى وَرَيْصِ الطَّيِّبِ فِي مَفْرَقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرَمٌ

کلمہ اس میں یہ نیت مقصود ہے کہ سر کو بھی طہارت حاصل کرے اور صوفتے۔
 غسل کعبتہ میں کسی نیت لفظ کے ساتھ دہی کرے جو حدیث ہے۔ لیکن آفرینتہ نائے میں نالت فائیتہ ہزارتہ صلواتہا جملہ شخص بیدہ یعنی میں ایک کرے گا کہ لالہ رات کر اس سے بدن پوچھ لوں مگر آپ نے اسے چاہا اور اپنے ہاتھ سے پانی جھاڑنے کے۔
 اس میں تیمم کا کوئی ذکر نہیں۔ اگر آپ تیمم کر کے نکلے تو زراعی حدیث فرض کر کے تو معلوم ہوا کہ جب صوم میں سو کر کسی کو چلائی ہو جائے یا بھولتے حالت جنابت میں صوم میں آگے تو پھر مسجد سے نکلنے کے لئے تیمم کا کوئی شرط نہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ حالت جنابت میں مسجد میں داخل ہونا منع ہے تو جب رسول سے مسجد میں گیا۔ اور پھر جنابت کا خیال آگے تو مسجد کے ادب کے لئے تیمم کرے۔ یہ بھی مطلب ہے کہ غسل کے لئے چلا جائے تیمم تازہ نہ کرے۔

بَابُ تَخْلِيلِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرَوَى بَشْرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ (۲۱۲)

باب بایں کا غلا کرنا۔ بایں تک کہ حدیث کے اس نے اس کے بجز سے بانی پہنچا یا تو بایں بانی ڈالے

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ سے اس نے غسل جنابت سے غسل

الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ وَتَوَضَّأَ وَطَوَّأَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ تَخَلَّلَ بِيَدَيْهِ شَعْرَهُ

کرتے تو یہ دونوں ہاتھ دہو کر ایسا وضو کرتے جیسے نماز کے لئے ہر غسل کرنے کو ہاتھ۔ نولہ ہاتھ سے اپنے سر کے داڑھی کا

حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرَوَى بَشْرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ

کرتے یہاں تک کہ جب آپ کو لگے کہ اپنے جسم سے پانی پہنچا ایسے تین بار اپنے بدن پر پانی بہا لیتے پھر پانی بدن کو دہو

جَسَدِهِ وَقَالَتْ كُنْتُ اغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

ڈالے اور حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کرتے تھے

نَعْرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا بَابُ مَنْ تَوَضَّأَ فِي الْجَنَابَةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ وَلَمْ يَغْتَسِلْ

اسی سے دونوں پانی لیتے تھے۔ باب جس نے جنابت میں وضو کر کے پھر اپنے پانی میں کھویا اور اپنی وضو

غَسَلَ مَوَاضِعَ الوُضُوءِ مِنْهُ مَرَّةً أُخْرَى (مكرر ۲۰۶) بَابُ

کی جگہوں کو دوبارہ نہیں دہویا دیکھو حدیث ۲۰۶ باب

إِذَا ذَكَرَ فِي مَسْجِدٍ أَنَّهُ جَنِبَ حَرَجٌ كَمَا هُوَ وَلَا يَتِيمٌ (۲۱۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أُقِيمَتِ

جب مسجد میں یاد آئے کہ میں جنابت میں ہوں تو ویسا ہی صلواتی اور تیمم کرے ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نماز کے لئے

الصَّلَاةُ وَعَدَلْتُ الصَّفُوفَ فِيمَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَامَ

نماز برپائی۔ اور صفیں گھڑی ہو کر ٹھیک کر دی گئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکے پاس ٹھیک کر حضرت عائشہ سے

فِي مَصَلَاةٍ ذَكَرَ أَنَّهُ جَنِبَ فَقَالَ لَنَا مَا كَانَكُمْ تَمُرُّونَ رَجَعُوا فَاغْتَسَلُوا ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ

جب اپنی نماز کی جگہ گھر سے ہو گئے تو آہو یاد آیا کہ آپ جنابت میں ہیں اور میں حکم دیا کہ اپنی جگہوں پر جہت رسول ہوں لوٹ گئے اور غسل کیا پھر نماز پڑھی

رَأْسَهُ يَقَطُرُ فَذَكَرَ صَلَاتِنَا مَعَهُ بَابُ نَفْضِ الْيَدَيْنِ مِنْ غَسْلِ الْجَنَابَةِ (مكرر ۱۵۶)

آپ کے سر سے پانی پگھلا تھا تو اسہ کہہ لکھتے ہیں نماز پڑھائی تھی۔ باب جنابت سے غسل کر کے ہاتھ جھارنا

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مكرر ۲۰۶) بَابُ مَنْ بَدَأَ بِرِشِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ فِي الْغُسْلِ

دیکھو حدیث ۲۰۶ باب جو غسل کرنے میں سر کے دائیں جانب سے شروع کرے

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب میں سے کسی کو جنابت ہو جاتی تو اپنے دونوں ہاتھوں سے

ثَلَاثًا فَوْقَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الْأَيْمَنِ وَبِيَدِهَا الْأُخْرَى

تین بار دہاتی، پھر سر پر داتی پھر اپنے ہاتھ سے اپنی داہنی جانب پر پانی ڈالتی اور دوسرے ہاتھ سے

عَلَى شِقِّهَا الْأَيْسَرِ بَابُ مَنْ اغْتَسَلَ عَرِيًّا نَأْوَحْدَهُ فِي الْخَلْوَةِ

بائیں جانب پر داتی۔ باب جو تنہائی میں ہو کر ایکلا ننگا نہائے

مگر انہی الفاظ کے ساتھ جو حدیث مکرر ہے وہ یہ ہے۔ یعنی حدیث کے آخر پر آتا ہے فنا ولتدثوبا فلو یاخذہ فانطلق وهو يفيض

یلدہ یعنی میں نے آپ کو کھڑا کیا تو آپ نے اسے نہ لیا اور اپنے ہاتھ جھاڑ لے تھے یعنی جسم کا پانی ہاتھ جھاڑ کر خشک کرتے تھے۔ اس کے پڑنے یا تو لگے کہ متعل

کا عدد حجاز ثابت نہیں ہوتا بلکہ ممکن ہے کہ کھڑا ہو دیا گیا صاف نہ ہو۔ یا گرمی کی وجہ سے اپنے جسم کو آب تر رکھنا چاہتے ہوں۔

وَمَنْ تَسْتَرَفَ التَّسْرُفَ أَفْضَلُ وَقَالَ بَعْزُهُمْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَجْعَلَ مِنْهُ مِنَ النَّاسِ (۲۱۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَكَانَ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَسِبُ وَحْدَهُ فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ إِذْ قَدْ هَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ فَوْضِعَ ثَوْبِهِ عَلَى جِجْرِنَا فَجَحْرُ ثَوْبِهِ فَجَحْرُ مَوْسَى فِي آثَرِهِ يَقُولُ ثَوْبِي يَا جَحْرُ ثَوْبِي يَا جَحْرُ حَتَّى نَنْظُرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى مُوسَى وَتَقَالُوا وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى مِنْ بَأْسٍ وَآخِذْ ثَوْبَهُ وَطَفِقَ بِالْجَحْرِ ضَرْبًا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَلدَّبُّ بِالْجَحْرِ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ضَرْبًا بِالْجَحْرِ (۲۱۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا الْيُؤُبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا فَخَرَّ عَلَيْهِ جِرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ الْيُؤُبُ يَحْتَسِبُ فِي ثَوْبِهِ فَنَادَاهُ رَبُّهُ يَا أَيُّوبُ أَلَمْ أُنْزِلْ عَلَيْكَ عَمَّا تَرَى قَالَ بَلَى وَعِزَّتِكَ كَرِهْتُ أَنْ يَرَى ذَلِكَ لِي أَمْ كَرِهْتُ أَنْ يَرَى ذَلِكَ لِي كَرِهْتُ أَنْ يَرَى ذَلِكَ لِي كَرِهْتُ أَنْ يَرَى ذَلِكَ لِي

فَقُلْتُ أَنَا أَمْ هَانِي (۲۱۷) عَنْ مَيْمُونَةَ مُتَكَوِّرًا (۲۱۸)

اور جو پردہ کرے تو وہ بہتر ہے اور بڑے اپنے باپ سے اس نے روایت کیا ہے کہ ان سے نبی کریم سے اسے علیہ وسلم سے روایت کیا کہ لوگوں سے جہاں کے اتنی نسبت خدا سے جہاں زیادہ مناسب ہو علیہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نظر پورے کرتے تھے ایک دوسرے کی طرف اور دیکھتے اور حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہو کر نہاتے تو انوں سے کہا خدا کا قسم سوئی کہ ہاں سے ساتھی سے صرف بات معنی والا انا اذ قد هب مرة يغتسل فوضع ثوبه على ججرتنا فجرح ثوبه ففجرح موسى في اثره يقول ثوبي يا جرح ثوبي يا جرح حتى نل نظر بنو اسرائيل الى موسى وقالوا والله ما يمنع موسى من باس واخذ ثوبه وطفق بالجرح ضربا قال ابو هريرة والله ان الدب بالجرح ستة او سبعة ضربا بالجرح (۲۱۶) عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينا الیوب یغتسل عریاناً فخرد علیه جراد من ذهب فجعل الیوب یحسب فی ثوبه فناده ربُّه یایوب ا لم انزل علیک عما تری قال بلی وعزتک کرهت ان یرا ذلک لی ام کرهت ان یرا ذلک لی کرهت ان یرا ذلک لی کرهت ان یرا ذلک لی

۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸

پر لہام بخاری لائے ہیں وہ تصدیق کی روایتیں ہیں اس قدر صرف ہو گیا ہے کہ ان کے الفاظ پر اعتماد کرنا سخت غلطی ہے۔ حالانکہ وہاں واقعہ بالکل معمولی سا ہے نبی بنی اسرائیل اٹھے جن میں سے نہایا کرتے تھے۔ مگر حضرت موسیٰ اکیلے ہو کر نہایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جس مقام کا ذکر ہے وہ گھر کے اندر کوئی جگہ نہیں۔ بلکہ کسی ندی کے کنارے کا ذکر ہے۔ جہاں پتھر پر کپڑے رکھ کر آپ نہانے لگے ہیں۔ ۲۱۷ کے ذکر ہے کہ وہ پتھر صاف کیا یہ کوئی چیز تو نہیں کہلا سکتا۔ کیونکہ سعادت کھیل کے طور پر ظاہر نہیں ہوتے۔ بلکہ وہ عظیم الشان طلاہل ہیں جو اصدائے حق کے مقابلہ پر ان کو مساکت کر رکھے ہے کسی جسمی ظاہر جو تھے ہیں اور یہ کہنا کہ صرف نبی اسرائیل کو قابل کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو کوئی بیماری نہیں۔ اس بات کی ضرورت تھی بے معنی بات ہے۔ ممکن ہے۔ نبی کریم صلعم نے یہ فرمایا ہے کہ پتھر پر کپڑے رکھے تھے کوئی شخص ان کو لے کر جھانکا یا جو سکتا ہے کہ جھانک دے گا ہم جو۔ یا کسی قسمی القلب ہونے کو وہی کیلئے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ وہ نہ یہ ماننا چاہئے کہ اس زمانہ کے پتھر بھی انسانوں کی طرح تھے۔ جو جگہ بھی جا چا کرتے تھے اور ان پر اس کے نشان بھی ہونے لگے اور یہ بھی سوال ہے کہ پتھر کے نشان کا ظہر ابو ہریرہ کو کس طرح ہو گیا۔ کیونکہ حدیث میں ان کا ذکر نہیں۔ بلکہ یہ ابو ہریرہ نے خود فرمایا ہے۔ ۲۱۷۔ یعنی ایک شخص کی حدیث ہے۔ سوئی کی زبان خدا کے فضل کا کسی رنگ میں نازل ہونا ہے۔ علیہ السلام بخاری نے اپنے باب میں یہ ثابت کیا ہے کہ خلوت میں برہنہ ہو کر نہانا جائز ہے اور اگر کپڑا لہا ہا بہتر ہے اور باقی برکت

بَابُ الْجَبْبِ يَتَوَضَّأُ شَوْبِيئًا (مر ۶۱) عَنْ عَائِشَةَ (متكرر - ۲۱۹) (مر ۶۲)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (متكرر - ۲۲۰) (مر ۶۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (متكرر - ۲۲۰) (مر ۶۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (متكرر - ۲۲۰)

بَابُ إِذَا تَنَقَّحَ الْخَتَانُ (۲۲۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (مر ۶۴) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ (متكرر - ۱۵۰) (۲۲۲)

عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمْرَأَةَ فَلَمْ يُزَلْ

عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمْرَأَةَ فَلَمْ يُزَلْ قَالَ يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمْرَأَةَ مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيَغْسِلُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

أَخُو خَاطِمٍ وَذَلِكَ الْأَخْرُ الثَّمَانِيَةُ لِاخْتِلَافِهِمْ وَالثَّمَانِيَةُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْحَيْضِ

حيض کی کتاب

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْحَيْضِ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ مِمَّا سَأَلُوا بِالنِّسَاءِ فِي الْحَيْضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ لِلَّهِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (مر ۶۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (مر ۶۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (مر ۶۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (مر ۶۳)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (مر ۶۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (مر ۶۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (مر ۶۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (مر ۶۳)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (مر ۶۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (مر ۶۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (مر ۶۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (مر ۶۳)

کتاب الحيض
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰

۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰

يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْحَيْضِ وَ

ابوہریرہ (رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ وہ نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت حیض کی ابتداء ہوتی ہے اور

فَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ وَقَالَ

بعضہم کان اول ما أرسل الحيض على بنى إسرائيل قال أبو عبد الله

وحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر (۲۲۳) عن عائشة تقول خرجنا

لاشرى إلا الحج فلما كنا بسرف حضرت فدخل علي رسول الله صلى

الله عليه وسلم وأنا ابني فقال مالك انفسيت قلت نعم قال ان هذا امر

كتبه الله على بنات آدم فاقضى ما يقضى الحائض عداً أن لا تطوفى

بالبیت قالت وصحني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نساءه بالبقر

باب غسل الحائض رأس زوجها وتجيله (۲۲۷) عن عائشة قالت

كنت ارجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض (۲۲۵)

عن عذوة أنه سئل اتخذ مني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي

جنب فقال عذوة كل ذلك على هين وكل ذلك اتخذ مني وليس

على أحد في ذلك بأس أخبرني عائشة أنها كانت لرجل رسول

الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم

حينئذ يجاورني المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فارجله و

هي حائض باب قراءة الرجل في حجر امراته وهي حائض

وكان أبو وائل يسئل خادماً وهي حائض إلى أبنی رزین فتأثبه

حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مراد یہاں شامل ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رو سے سب نبیوں میں شامل ہیں جنہاں سے مخصوص نہیں اور یہ قول بن مسعود کی طرف منسوب ہے ظاہر ہے کہ اس میں یا ابن مسعود کو دخل ہی ہے اور یا الفاظ میں میں کچھ کی نہیں ہوگی ہے اور ان کی راوی مستدرجہ جملہ حدیث کے احکام پہلے ہی ہونے کو دیکھئے۔ یا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رو سے سب نبیوں میں شامل ہیں جنہاں سے مخصوص نہیں اور یہ قول بن مسعود کی طرف منسوب ہے ظاہر ہے کہ اس میں یا ابن مسعود کو دخل ہی ہے اور یا الفاظ میں میں کچھ کی نہیں ہوگی ہے اور ان کی راوی مستدرجہ جملہ حدیث کے احکام پہلے ہی ہونے کو دیکھئے۔ یا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رو سے سب نبیوں میں شامل ہیں جنہاں سے مخصوص نہیں اور یہ قول بن مسعود کی طرف منسوب ہے ظاہر ہے کہ اس میں یا ابن مسعود کو دخل ہی ہے اور یا الفاظ میں میں کچھ کی نہیں ہوگی ہے اور ان کی راوی مستدرجہ جملہ حدیث کے احکام پہلے ہی ہونے کو دیکھئے۔

سورہ ایک مقام ہے کہ سے فرمایا آجھہ دراصل کے فاصلہ کے ساتھ آدم کی بیٹیوں پر منقر کیا ہے یعنی عورتوں کو حیض آنا ہی ہے۔ اور کوئی تنہا عورت کے ساتھ سے مستحسن نہیں ہے۔ انحال کے کی سوتے طواف کو نہیں ایازہ دی۔ لیکن ایام حیض میں نماز اور روزہ نہیں

بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْحَيْضِ وَ

فَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ وَقَالَ

بعضهم كان اول ما أرسل الحيض على بنى إسرائيل قال أبو عبد الله

وحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر (۲۲۳) عن عائشة تقول خرجنا

لاشرى إلا الحج فلما كنا بسرف حضرت فدخل علي رسول الله صلى

الله عليه وسلم وأنا ابني فقال مالك انفسيت قلت نعم قال ان هذا امر

كتبه الله على بنات آدم فاقضى ما يقضى الحائض عداً أن لا تطوفى

بالبیت قالت وصحني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نساءه بالبقر

باب غسل الحائض رأس زوجها وتجيله (۲۲۷) عن عائشة قالت

كنت ارجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض (۲۲۵)

عن عذوة أنه سئل اتخذ مني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي

جنب فقال عذوة كل ذلك على هين وكل ذلك اتخذ مني وليس

على أحد في ذلك بأس أخبرني عائشة أنها كانت لرجل رسول

الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم

حينئذ يجاورني المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فارجله و

هي حائض باب قراءة الرجل في حجر امراته وهي حائض

وكان أبو وائل يسئل خادماً وهي حائض إلى أبنی رزین فتأثبه

ابو وائل ابی حیض والی خادم کو

بِالْمُصْتَفَى فَمَسَكَهُ بِعِلَاقَتِهِ (۲۲۶) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَكَبَّرُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ بَاب

مَنْ مَنَعَ الْفَنَاسَ حَيْضًا (۲۲۷) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ بَيْنَمَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مُضْطَجِعَةٌ فِي خِمِيصَةٍ إِذْ حَضَّتْ فَأَسْكَتُ فَأَخَذَتْ ثِيَابَ حَيْضِي

فَقَالَتْ أَنْفَسْتُ قُلْتُ نَعَمْ فَذَعَانِي فَأَضْطَجِعْتُ مَعَهُ فِي الْخِمِيصَةِ بَاب

مُبَاشَرَةٌ الْحَائِضِ (۲۲۸) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ وَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أُمَّكَ وَوَاحِدٌ وَكَلَانَا جُنُبٌ وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَزَرُّ

فِي بَاشِرَتِي وَأَنَا حَائِضٌ وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ وَأَعْيَسُهُ

وَأَنَا حَائِضٌ (۲۲۹) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ أَحَدًا لَنَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا

فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمْرًا أَنْ تَتَزَرَّنِي

فَوَرِحَ خِيصَتِي بَأْتِي بِبَاشِرَتِهَا قَالَتْ وَرَأَيْتُكُمْ يَمْلِكُ إِزْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِزْبَهُ (۲۳۰) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَيْضًا وَدَلِيَّ كَارِزَةً تَرَكُ كَرْنَا

بَاب

الحیض یعنی وہی حالت میں کہ عورت کے جسم کو کفن یا ان روزوں کا حکم کرتے ہیں۔ اور یہ اسے بیان کیا۔ کہ اس مسئلہ میں بھی اذکار و تقویٰ تو ہوں ہیں۔ بعض تو ہیں تو ایسی ہیں کہ وہ ان ایام میں مقاربت سے بھی پرہیز نہیں کرتیں اور بعض نے اس قدر تشدد اختیار کیا کہ ان ایام میں عورت کو ناپاک قرار دے کر ان کا کھانا پینا سونا سب لگ کر دیا اور اس کا جو ٹھکانہ حکم کر دیا۔ اسلام نے دینی اور دنیاوی دونوں ہی پر اسے فخر کرنے کا حکم دیا۔ مسجرت کے معنی جمع کرنا ہے۔ اور وہ یہاں مراد ہو سکتی ہے۔ ایسی طرح آنا جو عورت میں ہوتا ہے۔ عرض ہے عورت کو مساجد سے فحش کا روک دینا چاہیے۔ حضرت مسلم کہتے ہیں بیویوں میں سے جو کہ عورت میں جب عورت صدیقہ سے تھی۔ مگر ان کی بھی یہ مشرکات تھیں کہ آپ اپنے تو اپنے شہوانی پر پورا قابو رکھتے تھے۔ یہ اس زمانہ کا ذکر ہے۔ جب تک کہ عورتیں زیادہ عورتوں کے ساتھ نہ تھیں کہ اپنے قریبی شہوانی پر کمال طبع پر مسلط ہوتا اور آپ کی دشمنی کا یہ عیب ہونا واقعتاً کمال شہوت کا ظہور ہے۔ ایسی باتوں سے جو عورتیں سے زیادہ عورتوں میں تھیں وہیں سے پہلے زیادہ کے متعلق آپ کہتی ہیں۔ یہ کیوں صفائی سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ کثرت میں تو اپنے شہوانی کے جبروت کو کوئی دخل نہ تھا۔ بلکہ اس کے مصلح اور مکتبہ کی تھیں۔ گو جو شخص چاہتی ہیں تو اپنے شہوانی کو کھرائی کرتا ہے جس کے متعلق ہر ماہ میں عورت کو ناپاک ٹھکانا عیب طبی امر ہے۔ مگر ان ناپاک خیال کو گن گننے جو آپ کے بعد از ولع کو قاتلے شہوانی کے عیبان کثرت منسوب کرتے ہیں حضرت عائشہ کے شہادت کا یہ ہے۔ بلکہ اس کو حدیث میں ہی بات حضرت مسلم نے بیان کی ہے جو پہلی حدیث میں حضرت عائشہ نے ذاتی تھی سوائے اس کے کہ یہاں فقہ حنفیہ کے الفاظ ہیں اس کا عیب ایک عیب کمال اور یہ نہیں ہے۔

فِي أَهْلِ أَوْفَطِرٍ إِلَى الْمَصَلِيِّ فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ
يا عید نظر کو عید گاہ کو سنے پس عورتوں پر آپ کا نذر ہوا تو آپ نے فرمایا اے عورتوں کے گروہ صدقہ کرو

علاحدی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں دو قسم کی کمی کا ذکر کیا ہے ایک ان کے کاروبار دنیا کے متعلق جیسا کہ ان کی خدشات کے مطابق ظاہر ہے اور دوسرا ان کے بارہ میں کہ بعض وقت انہیں نافرمانی ترک کرنا پڑتا ہے۔ تو دونوں امور اس قسم کی طرف خدشہ کرتے ہیں جو قدرت نے مرد و عورت میں کی ہے یعنی عورت کے پڑاویہ توجہوں کا جتنا اور ان کی پرورش ہے۔ اور مرد کے لئے کاروبار دنیا کا اور معاش کا پیدا کرنا اور جو نہ عورت بیڑی کا روبرو میں تواتر وغیرہ میں حدیثی ہے۔ اس لئے اسکی یادداشت بھی ان مسئلہ میں عورت نہیں ہو سکتی جیسے سوئی یادداشت اور دوسری طرف چونکہ قسمت نے اس کے ذمے ہمیں کے جتنے کام رکھے ہیں اسے بسج ایلم میں نادر روزہ بھی ترک کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو واقعی اس حدیث میں سے حدیث کو چارہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَكْثَرُ أَهْلِ التَّارِقِ قُلْنَ وَبِمَا يَأْسُوكَ اللَّهُ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ
اسنے کر اہل نار میں تم مجھے زیادہ دکھلائی گئی ہو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں فرماید تم لعنتیں بت کرتی ہو

وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبِ الرَّجُلِ كَحَزَانِ
اور خاندان کی ناشکری کرتی ہو میں نے عقل اور دین میں نقصان والیوں سے تم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا جو دنیا آدمی کی عقل کو بھانڈے

مِنْ أَحَدٍ كُنْ قَلْنِ وَمَا نَقْضَانَ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةٌ
انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے دین اور عقل کا نقصان کیا ہے فرمایا کیا عورت کی شہادت

الرِّجَالِ وَمِثْلُ نَصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نَقْضِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ
مرد کی شہادت کے نصف کے برابر نہیں انہوں نے کہا ہاں فرمایا پس یہ اس کی عقل کے نقصان سے ہے کیا جب

رَأَتْ أَحَاطَتْ لَمْ تَصِلْ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نَقْضِ دِينِهَا
حافظہ ہوا سائے تو نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی انہوں نے کہا ہاں فرمایا پس یہ اس کے دین کے نقصان میں سے ہے کیا

بَابُ نَقْضِ الْحَائِضِ الْمَنَاسِكَ كُلِّهَا إِلَّا الطَّوْفَ بِالْبَيْتِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي
باب حافظہ سولہ طواف کتب کے سب افعال حج ادا کرے اور ابن عباس نے فرمایا

لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ آيَةَ وَكَمْ يَرَى ابْنَ عَبَّاسٍ بِالْقِرَاءَةِ لِلْجَنِّبِ بَأْسًا
کہ حافظہ کا آیت قرآن پڑھنا گناہ نہیں اور ابن عباس نے فرمایا اسے کی قرأت کو گناہ نہیں سمجھتے اور

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ حِمَارَةٍ وَقَالَتْ أُمُّ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب وقتوں میں خدا کو یاد کرتے تھے اور ام علیہ

عَطِيَّةٌ كُنَّا نَوْمُرُ أَنْ نَخْرُجَ الْحَيْضُ فَيَكْتَبُونَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ وَقَالَ ابْنُ
کہتے ہیں کہ ہم کو حکم ہوتا تھا کہ حیض والیوں کو نکالیں پس وہ مردوں کی حجیر کے ساتھ حجیر کریں اور نکالیں اور ابن عباس نے فرمایا

عَبَّاسُ أَخْبَرَنِي أَبُو سُوَيْبٍ أَنَّ هُرَاقَةَ وَعَلَى كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ہیں کہ مجھے ابو سہیبان نے فرمایا کہ ہر عمل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لکھوایا

فَقَرَأَهُ قَادِئُهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيَأْهُلُ الْكِتَابِ تَعَالَى إِلَى كَلِمَةٍ
پس اسکو پڑھا جس میں یہ تھا اللہ بے انتہا رحم والا ہے اور بار بار پڑھنے والے کے نام سے اور اسے وہی کتاب اس کی طرف آؤ

سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِلَّا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا إِلَى قَوْلِهِ مُسْلِمُونَ
جو ہم کے درمیان اور تم کے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کی خدا کے قول مسلمانوں کے

وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ حَاضَتْ عَائِشَةُ فَنَسَكَتُ الْمَنَاسِكَ كُلِّهَا
اور عطائے جابر سے روایت کی ہے کہ حضرت عائشہ کو حیض آیا تو سوائے طواف بیتہ اللہ کے سوائے کہ

نہیں۔ مگر نقصان عقل اور نقصان دین کی تصریح جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادی اس سے تجاوز کرنا بھی درست نہیں۔ شکیانہ کہنا کہ عورت ناقص عقل ہے۔ اس لئے وہ امور دنیوی میں مشورہ لینے کی قابلیت ہی نہیں رکھتی۔ یا کوئی کاروبار دنیوی کر بھی نہیں سکتی۔ اسے تعلیم دینا افضل ہے۔ یہ سب اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ آج کل کے مسلم کے سامنے بھی عورتوں کا روایہ کرنا نہیں۔ تعلیم بھی حاصل کرتی ہیں۔ یہ کہنا کہ چونکہ وہ ناخبر اللہ ہیں ہے اس لئے وہ قرب الہی کے تمام کو حاصل نہیں کر سکتی۔ یا نفس مطہر کی حالت کو نہیں پاسکتی۔ قرآن شریف کی بھی تعلیم کے خلاف ہے۔ جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں کی جہات تک اللہ تعالیٰ سے تلقین کا یا مخلوق کی خدمت کا سوال ہے کیا حقیقتاً بیان کی ہیں اور جو کسی یا نقصان کا دو بار ذکر کیا بھی ہے تو وہ محض عورت کی عدم حالت کا بیان ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عورت کو ہر ایک خدمت لاد ہر مرد سے ان کا باؤں میں ہوتی ہے۔ ایک حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ابھی فقہات کی راہی سلامات میں یاد کیا دینی میں سے مردوں کو توبت کے لئے۔ اور ابن عباس کا ترجمہ کہ ان کے مذہب سے ہے +

عَنِ الطَّوْفِ بِالْبَيْتِ وَلَا تَصَلِّيَ وَقَالَ الْحَكَمُ إِنِّي لَا ذَبْحُ وَأَنَا جُنْدٌ
 اور نماز نہیں پڑھتی تھیں ملک اور حکم تھے میں بیتک میں جنابت کی حالت میں ذبح کرتا ہوں
 وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ أَسْمَاءُ اللَّهُ عَلَيْهِ
 اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس چیز سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو مت کھاؤ
 ر (۶۶) عَنْ عَائِشَةَ (متكرر- ۲۲۳) بَابُ الْأَسْتِحَاضَةِ (مر ۶۷)
 دیکھو حدیث نمبر ۲۲۳ باب استحاضہ کا بیان
 عَنْ عَائِشَةَ (متكرر- ۱۸۳) بَابُ عَسَلِ دَمِ الْحَيْضِ (مر ۶۸) عَنْ
 دیکھو حدیث نمبر ۱۸۳ باب حیض کے خون کا دھنا
 أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ (متكرر- ۱۸۳) (۲۳۱) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
 دیکھو حدیث نمبر ۱۸۳ حضرت عائشہ سے روایت ہے
 كَانَتْ إِحْلَانًا تَحْيِضُ ثُمَّ تَقْتَرِصُ الدَّمَّ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طَهْرِهَا فَتَغْسِلُهَا
 کہ ہم میں سے ایک کو حیض آتا تھا پھر وہ پاکیزگی کے وقت اپنے کپڑے سے خون کو جمع لیتی اور اسے دھو لیتی
 وَتَنْضِجُ عَلَى سَائِرِهِ ثُمَّ تَصَلِّيُ فِيهِ بَابُ اعْتِكَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ
 اور پانی کپڑے پر پانی بہاتی پھر اس میں نماز پڑھتی ہے باب مستحاضہ کا اعتکاف میں بیٹھنا
 (۲۳۲) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ
 حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ایک بیوی اعتکاف میں بیٹھی
 مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَتْرَى الدَّمَ قَرِيبًا وَضَعَتِ
 اور وہ مستحاضہ تھیں دم خون دیکھتی تھیں قریب سے اٹھ بیٹھی
 الطُّسْتَ لِحْتِهَا مِنَ الدَّمِ وَزَعَمَ أَنَّ عَائِشَةَ رَأَتْ مَاءَ
 کثرت خون کی وجہ سے لکن رکھتیں (حکمہ لے گیا عائشہ نے کسم کا پانی دیکھا
 الْعَصْفَرِ فَقَالَتْ كَانَ هَذَا شَيْئًا فَلَانَهُ مُجْدَةٌ (مر ۶۹) عَنْ
 تو کھنے لگی گویا یہ ایسی چیز ہے جس کو فلاں بی بی پاتی تھیں
 عَائِشَةَ (متكرر- ۲۳۲) (مر ۷۰) عَنْ عَائِشَةَ (متكرر- ۲۳۲)
 دیکھو حدیث نمبر ۲۳۲ دیکھو حدیث نمبر ۲۳۲

ملک اس باب سے متعلق ہے کہ حیض یا جنابت کی حالت میں سوائے ان مخصوص اعضا کے کسی کسے کے جن کا ذکر حدیث میں نہ ہو مثلاً نماز یا حیض کی حالت میں ہونے والی امور جن میں ذکر الہی پر دست زدن سے شکیانہ کہ قرآن شریف پڑھے اور جنابت کی حالت میں یا عیاش کے تلوئے سے کہ قرآن شریف پڑھ سکتا ہے حیض کی حالت پر استدلال کیا ہے۔ ایسا ہی حیض والی عہد توں کا عہد ہے میں جا تا اور کبیریں کسا روہ بھی ذکر الہی پر دست زدن قرآن شریف پڑھنا بھی جائز ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے غلط بیٹھنا جن میں آیات قرآنی تھیں اس کی تائید کتب میں کی کہ اگر آیات قرآنی پڑھ سکتا ہے تو حیض یا جنابت کی حالت میں مسلمان کے

لے قرآن پڑھنا کیوں جائز تھا۔ اور ہر تہل بوجہ عیسائی ہونے کے جنابت سے غسل بھی نہ کرتا تھا + ملک جب حالت جنابت میں ذبح درست کرے۔ اور ذبح میں خدا کا نام لیا جاتا ہے تو قدرت قرآن بھی درست ہے + حدیث نمبر ۲۲۳ ہاں ذبح لفظی یہاں دوبارہ بیان ہوئی ہے۔ سوائے آخری فقرہ کے ثالث و صحیح رسول اللہ صلوات اللہ علیہ + مستحاضہ خون ہے جو پانی کے ایام میں عورتوں سے جاتا ہے۔ اور یہ ایک بیماری ہے۔ مگر حیض اور استحاضہ کے خون میں فرق نہ ہو۔ اور غسل خون بہا ہوتو ایام حیض میں جس کی کوئی عورتیں حسب علت اپنی جانتی ہیں۔ بخدا اور روزہ کو ترک کر دے۔ اور ایام کے بعد غسل کر کے نماز پڑھا کرے۔ او روزہ رکھے۔ اور پھر ہر نماز کے لئے وضو کرتی رہو عہ یہاں حدیث نمبر ۱۸۳ آ کر آئی ہے۔ مگر وہاں لفظ تھے واذا احدثت بیٹے جب حیض کے مقررہ دن گزر جائیں اور یہاں ہے فاذا ذهب قد رہا بیٹے حیض کے اٹانہ کے دن جاتے رہیں۔ اور یہاں اس قدر لفظ بڑھائے یہاں قال وقال ابی شعر لوضای لکل صلوٰۃ حتی یجئ ذلک الوقت بیٹے پھر ہر نماز کے لئے وضو کرنا تک کہ وہ وقت آجائے + ملک کہیں مہتمد اخلاق لفظی سے حدیث نمبر ۱۸۳ کا مضمون دہرایا ہے + ملک مرزا سے اوپر کا لباس ہے۔ نہ وہ کپڑا جو خون کے جذب کرنے کے لئے رکھا جاتا ہے۔ اور بے کپڑے میں بھی کوئی داغ لگ سکتا ہے۔ ملک رمضان شریف کے مہینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے واسطے خاص طور سے آگ کر کے ان دنوں میں مسجد میں جا کر تھے۔ پہلی مکان ہے اور یہ ایک سنت ہے جو ماہ ہجرت کے واسطے معتبر ہوئی ہے۔ اور جس سے آج کل لوگ بہت غافل ہیں۔ آپ کی ایک بیوی بھی استحاضہ کی حالت میں آگے ساتھ مکان میں بیٹھیں۔ پس معلوم ہوا کہ استحاضہ کا کس میں مختلف ہوتا درست ہے۔ مگر خون سے مسجد کا حاف رہنا ضروری ہے۔ آپ کی بیویاں تو اعتکاف میں بیٹھتی تھیں۔ اللہ آج کل لوگ عورتوں کو نماز یا عہد پڑھنے کے لئے مسجد میں لے نہیں دیتے جو ایک غلام سنت روک ہے + حدیث نمبر ۲۳۳ دونوں ذکر آئی ہے۔ مگر بیٹی لفظ کر ۶۹ کے الفاظ میں اعتکاف مع رسول اللہ صلوات اللہ علیہ من اذاجہ فكانت تعزل لدم والصفرة والطلست تھتا وہی تھتی اور بے کس کے الفاظ میں بعض مہات المؤمنین اعتکفت وہی مستحاضہ +

۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰

بَابُ هَلْ تَصِلُ الْمَرْأَةُ فِي تَوْبِ حَاضَتٍ فِيهِ (مَرَأٍ) عَنْ بُجَاهِدٍ (مُتَكَرِّرًا) (۲۳۱)
باب کما عورت اس کبوت میں نماز پڑھ سکتی ہے جس میں یا مہینہ گندارت ہوں دیکھو حدیث ۲۳۱
بَابُ الطَّيِّبِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنْ الْحَيْضِ (۲۳۲) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ
باب عورت کا حیض سے نہانے وقت خوشبو کا استعمال کرنا ام عطیہ سے روایت ہے کہ
لَنَا نَهْنَى أَنْ نَخْدُ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ الْأَعْلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا أَوْ لَا
میت پہنچن میں دن سے زیادہ سوگ کرنے سے روکا گیا مگر شوہر چار مہینے اور دس دن تک اور یہ کہ
نَكْتَحِلُ وَلَا نَطْطِيبُ وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مُصْبُوعًا إِلَّا تَوْبَ عَصَبٍ وَقَدْ رُخِصَ
سر نہ لگائیں اور نہ خوشبو لگائیں اور نہ رنگا ہوا کپڑا پہنیں مگر رنگے ہوئے سوت کا کپڑا اور جب ہمیں سے کوئی اپنے
لَنَا عِنْدَ الظَّهْرِ إِذَا عَتَسَلْتُ إِحْدَانَا مِنْ حَيْضِهَا فِي بَدْنَةٍ مَن كَسَبَتْ أَظْفَارَ
حیض سے غسل کرے تو صفائی کے وقت ہم کو اجازت دی گئی ٹھیک کرنا کہ صفائی سے خوشبو چھڑھتا ہے کہ
وَلَنَا نَهْنَى عَنْ إِتْبَاعِ الْجَنَائِزِ بِأَنَّ ذَلِكَ الْمَرْأَةَ نَفْسُهَا إِذَا انْطَهَرَتْ
اور جنازوں کے پیچھے جانے سے نہیں روکا گیا۔ باب عورت کا اپنے بدن کو کھانا جب حیض کا غسل
مِنَ الْحَيْضِ وَكَيْفَ لَتَغْتَسِلَ وَتَأْخُذُ فُرْصَةً مُسْتَكَّةً فَتَتَبِعُ بِهَا أَثْرَ الدَّمِ
کرے اور کس طرح غسل کرے اور خوشبو لگے یا ہوا دونوں کا ہوا ایک اسے خون کے نشانوں پر پھیرے
(۲۳۳) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
وَسَلَّمَتْ عَنْ غُسْلِهَا مِنْ الْحَيْضِ فَأَمَرَ كَيْفَ تَغْتَسِلُ قَالَ خُذِي فُرْصَةً مِّنْ
اپنے غسل میں جن میں تعین ہو چکا ہے آپ نے ہم کو حکم دیا کہ کس طرح غسل کرے فرمایا روٹی کا ٹکڑا جس میں شک
وَسَبْكَ تَطْهَرِي بِهَا قَالَتْ كَيْفَ تَطْهَرِي بِهَا قَالَ تَطْهَرِي بِهَا قَالَتْ كَيْفَ قَالَ
لگا ہوا ٹکڑے میں اس کے ساتھ صفائی کر عورت نے کہا کس طرح صفائی کر عورت نے کہا کس طرح فرمایا
سُبْحَانَ اللَّهِ تَطْهَرِي فَأَجْتَدِ بِنَبْهِهَا إِلَى فَقُلْتُ تَتَّبِعِي بِهَا أَثْرَ الدَّمِ بِأَبْغَسِلُ
سبحان اللہ صفائی کر رہی ہے اس کو اپنی طرف لپیٹنا اور کھانا اس کو خون کے نشانوں کے پیچھے لے جانا۔ باب حیض کا
الْحَيْضِ (مَرَأٍ) عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَرَّرًا) (۲۳۴) بَابُ امْتِشَاطِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا
عسل دیکھو حدیث ۲۳۴ باب عورت کا حیض سے غسل کے وقت انگلیوں سے
مِنَ الْحَيْضِ (۲۳۵) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَهَلَّتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرات
فِي بَحْتِ الْأُدَاخِ فَكُنْتُ مِّنْ مَنْعٍ وَلَوْ لَيْسَ الْهَدْيُ فَرَعِمَتْ أَنَّهَُا حَاضَتْ وَلَمْ تَطْهَرُ
میں احرام باندھا اور میں ان میں سے تھی جنہوں نے منع کیا اور تو بانی نہیں لے گئے ہیں کہ اس کو حائضہ ہوئی اور

اہم نوزی کے قول کو رد کرتی ہوا خوشبو کی حاجت جس حدیث میں ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو عورتیں عام طور سے باہر نکلتی ہیں۔ یا جو باہر نکلنے کے اوقات میں۔ اپنی عورتیں خصوصاً ایسے وقتوں میں خوشبو نہ لگایا کریں۔ کیونکہ یہ باعث قنہ ہے۔ مگر اس باب کا دعویٰ نہیں ہاؤں کا ثابت کرنا ہے۔ ملتا۔ کہ حیض غسل خوشبو کا استعمال تیسرا صراحت سے حدیث میں ہے لیکن پہلا دوسرا حدیث باب میں نہیں۔ مسلم شریف میں بھی حدیث روایت کی گئی ہے۔ اسمیں ملتا اور کیفیت غسل صراحت سے مذکور ہیں امام بخاری کی طرف اشارہ کر کے اس حدیث کو لائے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ زیادہ گوارا کی شرط کے موافق نہ تھا۔ اسلئے اسے اپنی کتاب میں نہیں لیا۔ اور ایک باب میں توحی کے لفظ سے بھی یہ بہت دل لیا جاسکتا ہے کہ اچھی طرح اپنے آپ کو دھو کر صاف کر کے۔ مگر اس قسم کی باتوں میں آنحضرت مسلم نہایت جباری اور کثرت سے تعلیم دیا کرتے تھے۔ اس وقت کو بھی اپنے کثرت سے لکھا۔ لیکن اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ تو حضرت عائشہ نے نہایا۔ یہ صرف ایک حکمت اس تعلیم کا ہے جو آنحضرت صلعم کی اللہ جل جلالہ کے وسیع سے امت کو پہنچا۔ یعنی بعض ایسے امور میں جو عام طور پر عورتیں ہی عورتوں کو پہنچا سکتی ہیں۔ مگر حدیث کر کے الفاظوں میں ان اصلاحات من الانصار قانت اللہ جل صلعم کیف اغتسل من الحيض قال خدي حصة مسكة وتوضي لثنا اذ لثنا صلعم استحبي فاحرض بوجهه او قال توضي بها فاخذتها فجدتها فاخبرتها بما يريد لثنا صلعم

حَتَّى دَخَلَتْ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِي مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّمَا كُنْتُ	عمر کی رات کے آنے تک باک نہیں ہوتی	عاشقہ نے کہا یا رسول اللہ	بہتر کی رات سے	اور میں نے
مَمْتَنَةٌ بِمَعْرُوفَةٍ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَضِي رَأْسُكَ أَمْتَشِعُ	عمر کا احرام باندھنا	تو رسول اللہ	مجھ سے اور میرے واسطے اسے ذریعہ	اپنا سر کھول اور نکلیں گے
وَأَمْسِكِي عَنْ عَمْرِيكَ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْتُ الْحَجَّ أَمْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ	اور عمر سے کہ جا	سومیں سے ایسا ہی کیا	جب میں حج ادا کر چکی	تو آپ نے عبد الرحمن کو
فَأَعْرَفَنِي مِنْ التَّنْعِيمِ مَكَانَ عَمْرِيكَ الَّتِي نَسَكْتُ بِهَا نَقِضُ السَّرَاةَ شَعْرَهَا عِنْدَ	تو اس نے مجھ	تعمیم سے عمر کو پایا	مجھ سے عمر کے بدلے میں کائیں نے	احرام باندھا تھا یا اب منس جنس کے وقت خدمت کا اپنے باپ کو کھولنا
غَسَلِ الْحَيْضِ (م ۲۲) رَمَنْ عَائِشَةَ مُتَذَكِّرًا - (۲۳۵) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ	دیکھو حدیث نمبر ۲۲	عل	یاب	اللہ تعالیٰ کا قول
مُخَلِّقَةٍ وَغَيْرِ مَخْلُوقَةٍ (۲۳۴) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ	یہاں تا خدا اور ادھورا	عل	انہی سے روایت ہے کہ	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَكَلَّ بِالرَّحِمِ مَلَكًا يَقُولُ يَا رَبِّ نُطْفَةٍ يَا رَبِّ عَلَقَةٍ يَا رَبِّ	کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے	رحم پر ایک ملک مقرر کیا ہے	وہ کہتا ہے	ہر سب نطفہ سے اسے رب خون کا کوٹھڑا ہے
مُضْغَةٍ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهُ قَالَ أَذْكَرٌ أَمْ أُنْثَى شَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ فَمَا الزَّرِيقُ	اسے رب گوشت کا ٹکڑا ہے جسے جب اللہ ارادہ کرے	تو وہ کہے گا	کی پیدائش کو پورا کرے	وہ ملک کہتا ہے کیا ہے یا باادب ہے یا نیک یا شریر کیا ہے
وَمَا الْأَجَلُ قَالَ فَيَكْتَبُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بَابُ كَيْفِ هَجْلِ الْحَائِضِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ	اسی کر لیا ہے	کما سورہ الم کہ بکتاب میں لکھا جاتا ہے	باب	حيض والی
(م ۲۳) عَنْ عَائِشَةَ (م ۲۳۵) بَابُ إِقْبَالِ الْحَيْضِ وَإِذْبَارِهِ وَكُنْ نِسَاءً يَبْعَثُنَ إِلَى	دیکھو حدیث نمبر ۲۳	باب	حيض کا آنا	اور اس کا یا نہا رہنا اور جرمیں
عَائِشَةَ بِالَّذِي رَجَعَتْ فِيهَا الْكَرْسُفُ فِيهِ الصَّفْرَةُ فَقَوْلُ لَا تَجْلُنَ حَتَّى يَرِنَ الْقَصَّةُ	حضرت عائشہ کے پاس تھیلی جو عجم میں ہمدانی ہوتی	اللہ تعالیٰ میں زندگی ہوتی	تو حضرت عائشہ نے فرمایا	جلدی مت کر وہ یہاں تک کہ سنیدہ جو نہ دیکھی

کتاب الحيض
 کما تفتح سے ملا ہے
 کہ احرام باندھنے کی
 جگہ پر پہنچ کر عمرہ کے
 لئے احرام باندھنے
 اور عمرہ میں پہنچ کر عمرہ
 کر کے احرام کھولنے کے
 اور پھر حج کے وقت
 حج کا احرام باندھنے
 حضرت عائشہ نے فرمایا
 ہی کیا مگر انکو حیض
 آ گیا عمرہ نہ کر سکیں
 یہاں تک کہ حج کا
 وقت آ گیا۔ تب
 آپ نے حج کے مناسک
 کو ادا کیا اور عمرہ کیلئے
 تعمیم سے جو کھمڑے
 سے صرف میں لیا ہے
 پھر احرام باندھا۔
 حصہ یا نصب کر کے
 باہر وہ مقام پر جہاں
 منے سے نکل کر فریضہ
 ہیں۔ اور یہ جو وہی
 یا پندرہ سو ہیں تاریخ
 ہوتی ہے۔ جو حدیث
 اس میں لائی گئی
 ہے۔ اس میں لکھی
 کرتے گا کہ کسی اولاد
 موقوفہ پر ہے یا اس سے
 اہم تھا اس لئے غسل
 حیض کے وقت لکھی

کرتے کا اس لئے لایا گیا ہے + حدیث نمبر ۲۳۵ اختلاف لفظی کے ساتھ یہاں مکرراتی ہے۔ اور پھر مکرر ۲۳۵، بہتر بیان ہی الفاظ میں آتی ہے جن الفاظ میں بیان
 آتی ہے قالت خرجنا موافقین لصلال ذی الحجۃ قال رسول اللہ صلعم من احب ان یھل بجمعرۃ فلیھل فانی لو آئی اھل بیت کا اھل کلت
 جمعرۃ فاهل مضمرہ صحیح و اھل بعضہ صحیح و کلت انا ممن اھل بجمعرۃ فادکنی یوم عرفۃ وانا ساھل فشتکو الی لنتی صلعم
 فقال دینی عمرتک و انقضی رأسک و امتشطی و اھل حج ففعلت حتی ذاک ان لیلۃ المصننہ و اسل مولیٰ عبدا الرحمن بن ابی بکر خزرجی
 التعمیر فاهلالت جمعرۃ مکان عمری قال هشام و لم یکن فی شئ من ذلک ھذی و لا صوم و لا صل و لا کرم ۳۲ میں آخری الفاظ قال ہمارے لے کر
 نہیں ہیں + علامہ اس باب کا تعلق کتاب حیض سے اور پھر ان امور سے کہ ملاحظہ حج کے اکان ادا کر سکتی ہے۔ یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ عطف جس سے انسان بنتلے۔ خون حیض ہی
 کی دوسری صورت سے اس سے پہلے فرشتے بھی مسلط ہوتا ہے۔ اور ملائکہ چونکہ ہر رات ہیں۔ پس نطفہ پر فرشتہ کے مسلط ہونیکا بھی مطلب ہوا اور یا یہ مطلب ہے کہ حاملہ
 حیض نہیں آتی + اس باب نطفہ باب علقۃ و دیو کی نڈا سے مولوی تبدیلیاں ہیں اور یہ ساری غائب ایک ساتھ نہیں ہوتیں۔ بلکہ جب تک ان سے حیض نہیں آتا۔ جو ذری
 جھ آتی ہے۔ فرمایا کہ مر ایک نڈا اور دوسری میں پائلیاں کا دفع ہوتا ہے۔ لہذا جہاں ان کے بعد نطفہ سے عطف اور جہاں ان کے بعد عطف سے عطف کی حالت تبدیل ہو جاتی
 ہے اس کے بعد میں انسانی اعضا کا نشو و نما ہوتا ہے۔ اور لڑکا اور لڑکی بنتلے۔ اور حج کہ انسان کی بناوٹ میں ہی اسکی نشو و نما و سعادت اور اسکے رزق کا ہر سوال مقرر ہے۔
 اسلئے فرمایا کہ یہ نطفہ بھی اسی وقت جہاں ہے مخلقت سے ملو تو تجربہ کی حالت کا کال ہو جاتا ہے۔ اور غیر عطف سے مراد اس کا ادھورا رہ جانا ہے۔ گو یا اس میں انسانی اعضا
 کے نشو و نما کا کام ہی اس کا کال ہے۔ اور حج اس کال تک نہیں پہنچتا وہ ناقص حالت میں پھینک دیا جاتا ہے۔ جیسے ساقط ہو جاتا ہے۔ یا بدلتا ہے یا پھینک دیا جاتا ہے
 طراکی سے ہے۔ کہہ کر ان اور حدیث دونوں آپس میں کہ ہر کچھ فطرت اسلامی ہے پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں یہ فطرۃ اللہ الی فطر الناس علیہا اور یہ فطرۃ
 کل مولود یولد علی فطرۃ تو شقی ام سیک یا مشرک نہیں کہے شقی یا سیدہ بنیاد ہوتے سیکو کہ سعادت تو آتی ہے فطرۃ ہلیم ہی ہر کچھ بنتلے۔ اس طریقی سعادت کو مرنی
 دینا یا تباہ کرنا انسان کے لیٹھا حال پر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو شقی اور کسی کو سید پیدا نہیں کرتا۔ بلکہ سب کو فطرۃ اسلامی ہی پر پیدا کرتا ہے۔ لیکن اسے ہلیم مزہر جو کشتی چھوڑا
 ہو گا ہے مل کر کے فطری سعادت کو ترقی دینا یا برے عمل کر کے اسے تباہ کر دینا کسی کا نڈہ بیان ہے +

کتاب الحيض
 کما تفتح سے ملا ہے
 کہ احرام باندھنے کی
 جگہ پر پہنچ کر عمرہ کے
 لئے احرام باندھنے
 اور عمرہ میں پہنچ کر عمرہ
 کر کے احرام کھولنے کے
 اور پھر حج کے وقت
 حج کا احرام باندھنے
 حضرت عائشہ نے فرمایا
 ہی کیا مگر انکو حیض
 آ گیا عمرہ نہ کر سکیں
 یہاں تک کہ حج کا
 وقت آ گیا۔ تب
 آپ نے حج کے مناسک
 کو ادا کیا اور عمرہ کیلئے
 تعمیم سے جو کھمڑے
 سے صرف میں لیا ہے
 پھر احرام باندھا۔
 حصہ یا نصب کر کے
 باہر وہ مقام پر جہاں
 منے سے نکل کر فریضہ
 ہیں۔ اور یہ جو وہی
 یا پندرہ سو ہیں تاریخ
 ہوتی ہے۔ جو حدیث
 اس میں لائی گئی
 ہے۔ اس میں لکھی
 کرتے گا کہ کسی اولاد
 موقوفہ پر ہے یا اس سے
 اہم تھا اس لئے غسل
 حیض کے وقت لکھی

الْبَيْضَاءُ تَرْيُدِيْنَ لَكَ الظُّهُرُ مِنَ الْحَيْضَةِ وَبَلَغَ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنْ نَسَاءً يَدْعُونَ

کلمہ فقہاء نے
کہہتے ہیں عورتیں
کہ روئے وغیرہ جو کچھ
چاہئے وہ جوہر کی
طرح سفید ہو چینی
خون کی آمیزش کا
فقہاء کوئی شاہینہ
جو عورتیں سبب
نارواغیت بہت
اعتقاد کرتی تھیں
ایسا نہ ہو کہ طہر جو
چاہئے کی وجہ سے
خازان پر فرض ہو
اور وہ ادا کریں
اسلئے رات کو کھاتھ
بند کر رکھتی تھیں
خاندان کے واسطے
تہنک خاندان کے واسطے
ماجدل اللہ علیکم
فدا میں مندرج
خاندان کے بارے
میں رقم پر کوئی مروجہ
نہیں لکھا اور
فرمان پر یہ لکھا
بکھرا بیسویں
مذاہم پر تالیف
ہے اور رقم پر لکھتے
نہیں تھے اس
سلسلہ پر اگر طہر کے
تہنکے ہو جائیں اور
نہاڑ روز سے یہ فقہاء
سائے لکھتے ہوئے
تو یہ ممانہ ہو گئے
حدودہ حدیث
کی طرز پر یہ
کوڈ سے
مضمون ہے جہاں

بِالْبَيْضَاءِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرْنَ إِلَى الظُّهُرِ فَقَالَتْ مَا كَانَ النَّسَاءُ

يَصْنَعْنَ هَذَا وَعَابَتْ عَلَيْهِنَ (۷۴) عَنْ عَائِشَةَ مُتَكَرِّرًا - ۱۸۴ بَاب

لَا تَقْضَى الْحَارِضُ الصَّلَاةَ وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو سَعِيدٍ عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدْعُ الصَّلَاةَ (۲۳۸) عَنْ مُعَاذَةَ أَنَّ

أُمَّرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ ابْنِ جُرَيْجٍ إِذَا أَصَلْنَا نَهَى إِذَا ظَهَرَتْ فَقَالَتْ أَحْوَرُ يَا

أَنْتِ قَدْ كُنَّا نَحْيِضُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ أَوْ قَالَتْ فَلَا

تَفْعَلُهُ بَابِ النَّوْمِ مَعَ الْحَارِضِ وَهِيَ فِي ثِيَابِهَا (۷۵) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ

(مُتَكَرِّرًا - ۲۲۷) بَابِ مَنْ اخْتَذَ ثِيَابًا يَحْيِضُ سِوَى ثِيَابِ الظُّهْرِ (۷۶) عَنْ

أُمِّ سَلَمَةَ مُتَكَرِّرًا (۲۲۷) بَابِ شُهُودِ الْحَائِضِ الْعِيْدَيْنِ وَدَعْوَةِ الْمُسْلِمِينَ

وَيَعْتَرِزْنَ الْمُصَلِّيَ (۲۳۹) عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ حَوَائِقِنَ أَنْ يَخْرُجْنَ

فِي الْعِيْدَيْنِ فَقَدِمَتْ امْرَأَةٌ فَذَكَرَتْ قَصْدَ بَنِي خَلْفٍ فَحَدَّثَتْ عَنْ أُخْتِهَا وَكَانَ ذَوْجُ

أُخْتِهَا عَزَامَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً وَكَانَتْ أُخْتِي مَعِي فِي

سِتٍّ قَالَتْ فَكُنَّا نَدْوِي لِكَلْمِي وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْحُومِ فَسَأَلَتْ أُخْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَأَمْرًا مِنْهُ فَمَا جَاءَ بِهَا مِنْ شَيْءٍ وَنَحْنُ نَدْوِي لِكَلْمِي وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْحُومِ فَسَأَلَتْ أُخْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

خارج کا ظہر اور مراد اس سے خارجی ہے۔ اور یہ مذہب خارج کا ہے۔ کہ ایام حیض کی نمازیں پاک ہو جسے پر ادا کی جائیں۔ جو خارج حدیث سے کوئی ایسا مسئلہ
نہیں ہے جو قرآن شریف پر نہ ہو جو حیض پر قرآن شریف کی ولایت نہ ہو + مسئلہ عورت کے ساتھ ایام حیض میں بھی ویسا ہی اختلاط رکھنا چاہیے
جو حیض پر نہ ہو۔ تاکہ اس پر پیدائش نہ ہو۔ اور شوہر کے اطلاق کے متعلق اسے سوئے ظن حیدر ان ہو۔ ایام حیض میں نبی کریم صلعم بیویوں سے خواب گاہ میں آگ نہیں
ہونے لگے۔ بلکہ پہلے جیسا نطق اس حالت میں بھی قائم رکھتے تھے +
حدیث نمبر ۲۲۷ میں مذکور ہے۔ مگر آخر یہ الفاظ بیان بڑھائے میں قالت وحدثتني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو حائض
وكانت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من انا واحد من الجنابة + عہد اس حدیث میں مذکور ہے۔ فاخذت ثيابا حیضتی جس سے
مسلم روایا کہ جس کے کپڑے آگ بھی رکھے جاتے تھے۔ یہ سب بات پر تھمنا +

اور زید بن ثابت کی بیوی کو یہ (نہیں) چاہی

۱۸۴ نمبر کا

۷۴ باب

عورتیں

تو اس نے کہا

۷۴ باب

۱۸۴ نمبر کا

۷۴ باب

۷۴ باب

۲۳۸ نمبر کا

۷۵ نمبر کا

۷۵ نمبر کا

۷۵ نمبر کا

۷۶ نمبر کا

۷۶ نمبر کا

۷۶ نمبر کا

۲۲۷ نمبر کا

۲۲۷ نمبر کا

۲۲۷ نمبر کا

۲۳۹ نمبر کا

۲۳۹ نمبر کا

۲۳۹ نمبر کا

۷۶ نمبر کا

۷۶ نمبر کا

۷۶ نمبر کا

۷۵ نمبر کا

۷۵ نمبر کا

۷۵ نمبر کا

۷۶ نمبر کا

وَسَلَّمَ عَلَهَا إِحْدَانَا يَا أَسْ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ قَالَتْ لَيْلِي سَهَا صَاحِبِنَا
کتاب میں ہے کہ کسی عورت کو جس کی عورتوں سے کہہ نہ سکیں

مَنْ جِلْبَابُهَا وَالتَّشَهُّدُ خَيْرٌ وَدَعْوَةُ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةٌ سَأَلَهَا أَسْمَعْتُ
اپنی چادر اسکو بھی پہناوے اور پھر اے کہ بھائی اور مسلمانوں کی دعائیں حاضر ہو سب صحابہ علیہم السلام نے تو میں نے اس سے بھی سنا کیا ہے

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ يَا بِنِي نَعَمْ وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ إِلَّا قَالَتْ يَا بِنِي سَمِعْتُهُ
بی بی کو سلام اللہ علیہ وسلم مناسی کہ میرا باپ قرآن پانے اے اور جب آپ کا ذکر کرتی تو میرا باپ قرآن پانے کہا کرتی میں نے آپ سے سنا

يَقُولُ تَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحَيْضُ وَيُسْتَهْدَنُ الْحَيْضُ وَدَعْوَةُ الْمُؤْمِنِينَ
ذاتے جوان عورتیں اور پردہ والیاں اور حیض والیاں تکلیف اور بھلائی اور مسلمانوں کی دعائیں حاضر ہیں

وَتَعَزَّلُ الْحَيْضُ الصَّلَى قَالَتْ حَفْصَةُ فَقُلْتُ الْحَيْضُ فَقَالَتْ أَلَيْسَتْ تَشْهَدُ عَزَّةً
اور حیض والیاں نماز گاہ سے الگ رہیں اور حفصہ نے کہا پس یہ کہنا کیا حیض والیاں تو اس نے کہا کیا وہ

وَكَذَا أَوَكِنَّا يَا رَبِّ إِذَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حَيضٍ وَمَا يَصْدَقُ الشَّاءُ فِي الْحَيْضِ
ایسوں ظن کہ حاضر نہیں ہوں میں طحہ باپ حیضت کو سمیٹ میں تین دفعہ حیض آئے اور حیض اہل کے بارہ میں عورتوں کو

وَالْحَمَلُ فِيهَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا يُجِلُّ لهنَّ أَنْ يَكُنَّ مِنْ مَخْلُوقٍ
سہانا بنا جائے اتنی مدت میں جو معینے عمر ہو اللہ تعالیٰ کے قول کی وجہ سے اور ان کے لئے جائز نہیں کہ اس کو چھپائیں جو

اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ وَيُذَكَّرُ عَنْ عَلِيٍّ وَشَرِيحُ أَنْ جَاءَتْ بَيْتِيَّةً مِنْ بَطْنِ أَهْلِهَا
خدا نے ان کے رحم میں پیدا کیا اور اولاد اور شریح سے بیان کیا جائے اور عورت اپنے اہل کے زادگان میں

مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهُ أَنهَا حَاضَتْ ثَلَاثِي شَهْرٍ صِدْقٌ وَقَالَ عَطَاءٌ أَقْرَأَهُمَا
ایسے گواہ لائے جن کا دین پسند ہے کہ وہ تین دفعہ ایک مہینہ میں حیض گزاریں ہے تو نبی کی جائے اور علی کہنے ہر ایک حیض رکھنے دوسری چھوٹے

كَانَتْ وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَقَالَ عَطَاءٌ الْحَيْضُ يَوْمَ الرِّبَا خَمْسَةَ عَشَرَ وَقَالَ مُعَمَّرٌ وَعَزَّةُ
پہلے سے تھے اور نبی ابراہیم نے کہا اور عطاء کہتے ہیں کہ حیض گھنوں سے پندرہ دن تک ہے اور مسقر نے

أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى لَدَى مَرْبَعٍ قُرْبَهَا جَمَسَةً أَيَا مَرَأَةٍ لَيْسَتْ
باپ سے روایت کرتا ہے کہ میں نے ابن سیرین سے اس عورت کے بارہ میں پوچھا جو اپنے حیض کے پانچ دن بعد تو دیکھے کہا اس کو عورتیں

أَعْلَمُ بِذَلِكَ رَمَعْمَةٌ عَنْ عَائِشَةَ زَمْتَكَرَتْ ۱۸۴) يَابُ الصَّفْرَةَ
بتر مانتی ہیں عک ویکو حدیث نمبر ۱۸۴ یاب حیض کے دن کے سوا ہندی اور

وَالكُدْرَةُ فِي غَيْرِهَا يَابُ الْحَيْضِ (۲۲۰) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ كُنَّا لَأَعْمَشٍ
میلہ پڑھنا دیکھا جانا ام عطیہ سے روایت ہے کہ ہم میلہ میں

طحہ اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کا جالس طحہ اور طحہ اور عورتیں شریک نہیں کہتے ہفنا کہتے ہفنا عورتوں سے۔ مگر یہ سنا ہے۔ میں نے ذات ایسی مفسدوں سے کہ عورتوں کا ایسے عقائد ہیں جو ظن و بھید سمجھا جاتا ہے۔ عورتوں کے کارناموں سے تاریخ بہری پڑھتے وہ برابر جنگ میں شریک ہوتی ہیں اور زینب اور بی بی کی تیار کردہ ہی کرتی تھیں۔ اور اس کی نکال لینے کے وقت کہیں اللہ عام اللہ اسلامی میں بارہ حصہ یعنی تھیں بی بی اور اجتماعی عبادات میں بی بی نے نماز عورتوں اور جہاد میں بی بی شہادت دیتی تھیں اور بی بی رضی اللہ عنہا کی طرح کام کرتی تھیں اور بی بی جو کہ اس کی تعلیم پورا تھی اسلئے انہوں نے ہی عورتوں کو پوری آزادی دے رکھی تھی سنا ہے کہ کی موجود حالت کی

نسبت بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ اسلام کو بنام کرنے والی ہے۔ اسلئے مسلمان زندگی کے ہر ایک شعبہ میں سب مذاہب والوں سے پیچھے ہیں۔ اور جہان ان کی موجودہ حالت سے ناچار فائدہ اٹھا کر اسلام کو بنام کرنے رہتے ہیں۔ کہ مسلمانوں کا ادب اسلام کا نتیجہ ہے۔ گو یا مسلمان اپنے اعمال سے اسلام کو نکال دیکھتے اور عیسائیت کو مدد سے رسے ہیں۔ مگر اس باب کا اصل تعلق مسئلہ طلاق سے ہے گو نماز اور طہارت کے احکام میں بھی اس کی ضرورت واقع ہوتی ہے۔ کیونکہ طلاق کی عدت تین قرابین حیض ہے۔ اور اس میں بھی شک نہیں کہ حیض کے لپیٹ گئے ہر ماہ ہر ماہ ہی ہوتے ہیں۔ مگر ان میں کسی بی بی ہوتی رہتی ہے۔ اس بارہ میں ہی کرم معلوم کی جو حدیث الم جاری لائے ہیں۔ وہ وہی استحسان والہ دلیل کی کہ حدیث ہی تو اس حدیث میں یہ لفظ آئے ہیں کہ حیض کے دن کے اٹھانے سے نماز چھوڑ دو۔ حدیث نمبر ۱۸۴ میں ہے یہاں لکھا گیا ہے جو حدیث یہ لفظ نہیں لیکن یہاں لکھا ہے کہ حدیث میں ہے لیکن دھلی لفظاً خدا کلا یا ہر اللہ تفت حیض میں لیا اور کر روایت میں وقال ابی سے لیکر آخر تک لفظ مترک ہے، تو اس حدیث کا لفظ ہر مشنا ہی معلوم ہوتا ہے کہ جب بیماری کی صورت ہو جیسے استحاضہ میں تو ایام حیض انڈا لے جاوے۔ ہاں۔ صیح ہو کہ اگر بیماری کے طور پر نہیں بلکہ کسی عدت کی عادت میں یہ بات داخل ہو کہ اس کا حیض کا وقت بھی وہی وقت ہے۔ تو اس کی عدت اس کی اپنی عادت کے مطابق لی جائے گی۔ محل اور حیض کے معاملات میں عورتوں کی کو اسی کو سمجھانے کا جو یہاں ذکر سے تو اس سے معلوم ہوا کہ معاملات تجارت میں جو ایک مرد کی عورت کو ہی شہادت دیتی ہے اور بی بی جو تو کسی وجہ سے نہیں کہ ایک عدت کی شہادت ناقابل اعتبار ہے۔ بلکہ یہ ہے کہ عورتوں کو ان معاملات کو واسطہ کم پڑتا ہے اسلئے وہ اسے پرستے طور پر چھوڑا نہیں رکھ سکتیں۔

۱۔ آپ نے فرمایا کہ
 دفعہ شام نے کلمہ پڑھا
 تھا یعنی جس کے
 ایام کا آغاز کر کے نزل
 کر لیں اور پھر صبح
 معمول نماز پڑھیں
 گرام حبیبہ پر نماز پڑھ
 غسل کرتی تھیں شاید
 ان کو غلط فہمی ہوئی
 یا انہوں نے احتیاطاً
 طریق اختیار کیا +
 سب طواف کا وقت
 دس یا بیس بار طواف
 چڑھیں پھر ان کے بعد
 طواف اول وقت ہوا
 ہے جو عامی کرتے
 چلنے وقت کرتے ہیں
 اگر حیض آجاتے تو کسی
 خاطر رہنے کی ضرورت
 نہیں۔ حدیث میں جس
 طواف کے متعلق نبی
 کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کہہ کر صلی اللہ علیہ وسلم
 ساتھ طواف نہیں کیا
 وہ بھی طواف الاضحہ
 تھا اس لئے کہ وہ ایک وقت
 کا طواف نہیں کرتے
 بلکہ یہ امام بخاری کا
 خیال ہے اور بعض علماء
 نے مستحکم سے ہم بہتر
 ہونا منع کیا ہے +
 کلمہ فی بطن کا
 لفظ ہے اور یہی کلمہ
 ہے کتاب التائیدیہ
 فی نفاسہا کا لفظ
 جو فی بطن کے کلمہ کو
 واضح کر رہی ہے یعنی
 کی حالت میں بطن کی
 بطن میں فی سبب
 سے دیا ہے۔ کلمہ
 چونکہ حیض والی اور
 نفاس والی کا حکم
 ایک ہی ہے اور یہ
 ہیں تو ان کی حالت میں
 کلمہ پڑھنا مستحب ہے

الْكُدْرَةُ وَالضُّفْرَةُ شَيْئًا يَا بَ عِدْرِكَ الْأَسْحَابُ (۲۲۱) عَنْ

عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتَحْبَسَتْ سَبْعَ سِنِينَ

فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فَقَالَ هَذَا

عِرْقٌ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ يَا بَ الْمَرْأَةُ فَيُحِضُ بَعْدَ كُلِّ نَاضِيَةٍ (۲۲۲)

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حَبِيبٍ قَدْ حَاضَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا أَلَمْ تَكُنْ طَائِفَتْ مَعَكُنْ قَالَتْ أَوَّابِلٌ قَالَ فَأَخْرَجَنِي

(۲۲۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رُخِصَ لَهَا يُضِرُّ أَنْ تَتَوَضَّأَ إِذَا حَاضَتْ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ فِي أَوَّلِ امْرَأَةٍ أَتَاهَا تَتَوَضَّأُ ثُمَّ سَمِعَتْهُ يَقُولُ تَتَوَضَّرَانِ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُخِصَ لَهُنَّ يَا بَ إِذَا رَأَيْتِ الْمُسْتَحَاضَةَ الظُّهْرَ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيُ وَتُؤَدِّيُ لَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ يَا بَ هَذَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّيَتْ

الضَّلَاةُ اعْظَمُ (۶۸) عَنْ عَائِشَةَ حَتَّى رَأَتْهَا (۱۸۴) يَا بَ الصَّلَاةُ عَلَى النَّفْسَاءِ وَ

سَمِعْتَهَا (۲۲۴) عَنْ سَمُرَةَ بِنْتِ جُبْدٍ أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِي بَطْنِ فَصَلَّيْتُ عَلَيْهَا

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ وَسَطُهَا يَا بَ (۲۲۵) عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْ تَكُونُ حَائِضًا إِذَا صَلَّيْتُ وَهِيَ مُفْرَشَةٌ بِعَدْوِ مَسْجِدِ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ لِيصَلِّيَ عَلَيَّ إِذَا سَجَدَ أَصَابَتْ بِنِي بَعْضَ ثَوْبِي

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله المتبارک والے بار بار نام پڑھ کر پڑھنے والے کے نام سے

کتاب التیمم

کتاب تیمم

وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَوْسِيئًا طَيِّبًا فَامْسُوا
اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے تم نے پانی نہ پاؤ تو ارادہ کرو پاک مٹی کا پس اس سے

بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ (۲۳۶) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى
اپنے منہ اور اس کے ہاتھوں پر مسح کرو حدیث عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ
طریقوں کے سفر میں ہم آگے ساتھ تھے

أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذْ كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِنَاتِ الْجَدِيشِ انْقَطَعَ عَقْدِي لِي فَأَتَانِي
میں تک کہ جب ہم بیڈیا یا ذات الجیش پہنچے وہاں تو میرا روتھ گیا ہے

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّمَاسِيهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَكَيْسُوا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش کے لئے ٹیمم کرنے لگے اور لوگ آپ کے ساتھ ٹیمم کرنے اور لوگ

عَلَى مَاءٍ فَأَقَامَ النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالُوا أَلَا تَسْرَى مَا صَنَعْتَ عَائِشَةَ
پانی پر نہیں تھے تو تم لوگ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور کہا کہ کیا آپ نہیں دیکھتے عائشہ نے کہا کیا

أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ لَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَكَيْسَ مَقَامِ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو ٹیمم اور پانی پر ہیں اور ان کے ساتھ

مَاءٍ فَمَاءُ أَبِي بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَ رَأْسَهُ عَلَى فُجْدِي قَدِ
پانی پر ابو بکر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا سر پوری لان پر رکھ سکتے تھے

نَامَ فَقَالَ حَبِطَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ وَكَيْسُوا عَلَى مَاءٍ
پس کہنے لگے کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو رکھ دیا اور وہ پانی پر ہیں

وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَعَابَتْنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ
اور ان کے ساتھ پانی نہ ہے اور عائشہ نے کہا یہی ابو بکر نے مجھے لایا اور کہا جو خدا نے چاہا کہ

يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعَنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ
کہیں اور اپنے ہاتھ سے میرے پیٹ میں ہتھیانے لگا اور چونکہ دیکھنے کے بعد محکوموں

إِلَّا مَكَانَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فُجْدِي فَقَامَ رَسُولُ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری لان پر ہونا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَجْمَعُ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ
جس وقت مسیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پانی کے بغیر تیمم کرنے کی آیت اللہ

التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا فَقَالَ أَسِيدُ بْنُ الْحَضِرِمَاءِ يَا قَوْلَ بَرَكِكُمْ لِأَلِ أَبِي بَكْرٍ
اور سب نے تیمم کیا اس کے بعد میں حیرت لگا اسے آل ابو بکر یہ تمہاری پل بکت نہیں ہے

کتاب التیمم کے تیمم کے قصداً و مابداً میں اور مسیح و غیرت میں اس کے معنی کی تفسیر میں اس قدر بیان کیا گیا ہے کہ اس سے کمال پیدا اور امداد آئیں کہ منقول کے ساتھ ہر پیر سے آرزو ہوگی

۱۰۰

قَالَتْ فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَأَصْبْنَا الْعَفْصَ تَحْتَهُ (۲۴۷) عَنْ

عائشہ نے کہا پھر ہم نے اس اونٹ کو جس پر میں تھی اٹھا تو ہم نے مارگو اس کے نیچے پایا۔

حَابِرِينَ عَبْدَ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْطَيْتُ حَمْسًا لِمَنْ يَطْفِئُ

حابرین عبد اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک ایسی چیز جس سے بجھے وہی انیس ہیں جس سے ہر

أَحَدٌ قَبْلِي نَضِرْتُ بِالرَّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا

کسی کو میرا ہی نہیں رہے گا میری مسرت کی ہر ایک جیسے کی مسافت پر اور میرے لئے زمین مسجد اور

ظَهْرًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكْتَهُ الصَّلَاةَ فَلْيَصِلْ وَأَجَلْتُ لِي الْمَغَائِرُ

پس کرنے والی بنائی گئی ہیں میری امت میں سے جس کسی کو نماز نے پایا تو نماز پڑھے اور میرے لئے اموال مغنیمت حلال کئے گئے ہیں

وَلَمْ تَحُلْ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأَعْطَيْتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ

اور مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہیں کئے گئے اور مجھے شفاعت دی گئی ہے اور نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا

خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً بَابُ إِذَا كَمْ يَجِدُ مَاءً وَلَا أَكْرَبًا

اد میں سب لوگوں کی طرف بھیجا ہوں اور باب جب نہ پانی پائے اور دسویں

(۷۹) عَنْ عَائِشَةَ أُمِّكَرَمٍ (۲۴۶) بَابُ التَّيْمُمِ فِي الْحَضَرِ إِذَا كَمْ

دیکھو حدیث نمبر ۲۴۶ باب تیسرا تيمم کرنا

يَجِدُ الْمَاءَ وَخَافَ فَوَتَّ الصَّلَاةَ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَقَالَ لِحَسَنٍ فِي الرُّبُزِ

پانی نہ پائے اور نماز پڑھنے کا خوف ہو اور یہی علماء کہتے ہیں اور حسن اپنے مرضی کے متعلق

عِنْدَهُ الْمَاءُ وَلَا يَجِدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ يَتَيَّمُوا وَقَبِيلُ ابْنِ عُمَرَ مِنْ أَرْضِهِ

جس کے پاس پانی ہو اور اسے ایک شخص نہیں ملتا جاسے پانی نہ کئے ہیں کہ تيمم کرے اور ابن عمر اپنی زمین سے

بِالْحَرْبِ فَحَضَرَتْ الْعَصْرَ مَرَّ بِنَاوِلٍ لَتَعْرِفَ فَصَلَّى ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ

پیر عصر کا وقت اونٹوں کے باؤ پر آئی تو انہوں نے نماز پڑھ لی پھر مدینہ میں داخل ہو گئے اور آفتاب

مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يَجِدْ (۲۴۸) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَوْلٍ بِنِ عَمَّاسٍ قَالَ قَبِلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ

اور پانچ نماز نہیں پڑھائی اور عمار بن عباس کے آنکارہ غلام سے روایت ہے کہ میں اور عبد اللہ بن مبارک

ابْنُ كَيْسَانَ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جَهْمٍ

ميمونہ کی کرمی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا آزاد کردہ غلام آئے ہیں تاکہ ابو جہم بن لادن

ابْنُ الْحَارِثِ بْنِ الرَّثَمَةِ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ أَبُو جَهْمٍ أَمَّا لِي صَلَّى اللَّهُ

بن العترہ انصاری کے پاس پہنچے تو ابو جہم نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ

عائشہ نے کہا پھر ہم نے اس اونٹ کو جس پر میں تھی اٹھا تو ہم نے مارگو اس کے نیچے پایا۔
حابرین عبد اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک ایسی چیز جس سے بجھے وہی انیس ہیں جس سے ہر
کسی کو میرا ہی نہیں رہے گا میری مسرت کی ہر ایک جیسے کی مسافت پر اور میرے لئے زمین مسجد اور
پس کرنے والی بنائی گئی ہیں میری امت میں سے جس کسی کو نماز نے پایا تو نماز پڑھے اور میرے لئے اموال مغنیمت حلال کئے گئے ہیں
اور مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہیں کئے گئے اور مجھے شفاعت دی گئی ہے اور نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا
سب لوگوں کی طرف بھیجا ہوں اور باب جب نہ پانی پائے اور دسویں
دیکھو حدیث نمبر ۲۴۶ باب تیسرا تيمم کرنا
پانی نہ پائے اور نماز پڑھنے کا خوف ہو اور یہی علماء کہتے ہیں اور حسن اپنے مرضی کے متعلق
جس کے پاس پانی ہو اور اسے ایک شخص نہیں ملتا جاسے پانی نہ کئے ہیں کہ تيمم کرے اور ابن عمر اپنی زمین سے
پیر عصر کا وقت اونٹوں کے باؤ پر آئی تو انہوں نے نماز پڑھ لی پھر مدینہ میں داخل ہو گئے اور آفتاب
اور پانچ نماز نہیں پڑھائی اور عمار بن عباس کے آنکارہ غلام سے روایت ہے کہ میں اور عبد اللہ بن مبارک
ميمونہ کی کرمی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا آزاد کردہ غلام آئے ہیں تاکہ ابو جہم بن لادن
بن العترہ انصاری کے پاس پہنچے تو ابو جہم نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ

عظمت پر۔ جب سنا مبارک لوگوں: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کیلئے کہیں گے۔ ایک خصوصیت آپ کی بعثت عامہ ہر اور میں صاف فرمادیا کہ پہلے نبی خاص تو سوں کو حلق
بھیجے جاتے تھے۔ یہ حضرت زینب کے لئے اور شامین تاول کے بعثت عامہ بھیجنا ہوتے ہیں۔ تاکہ طوفان کل زمین پر نہایت ہو جائے۔ یہ صورتاً غلط ہے۔ اور ایسا ہی حضرت
عیسایہ فریاد قوم کی طرف بھوت تھے۔ اب اگر وہ امت مسلمہ میں آجائیں تو کل قومیں کیوں بھوت ہوں گے۔ جو قرآن وحدیث کے خلاف ہے۔ باب کے متعلق صرف یہ لفظ ہے کہ
ساری زمین میرے لئے حکومت بنا جائے گی یعنی مٹی سے تم کیا جاتے ہو۔ حدیث قرآن کریم کی آیت سے ہے تو ثابت ہو گیا۔ کہ جب پانی نہ تھے تو تيمم کر لے۔ لیکن جب پانی نہ
اور مٹی اس صورت میں کیا گیا جائے۔ کہ وہ بھرتے ہیں جو کہ صحابہ نے بغیر وضو کے نماز پڑھی۔ اور تيمم کر کے حکم اسکی نازل نہیں ہوا تھا۔ اور نبی کریم نے اس نماز کے لوٹا تو تيمم
بھی نہیں دیا۔ تو معلوم ہو گیا کہ وہ نماز درست تھی۔ پہلی بار بھی جب پانی نہ تھے اور مٹی تو بغیر تيمم اور وضو کے نماز پڑھے۔ حدیث مذکور بہت اختلاف کے ساتھ آتی ہے اور آپ کے مضمون
نمبر ۲۴۷ سے زیادہ بھی ہے۔ انہما استعادت من اسماہ قلاۃ فہلکت فبعث رسول اللہ صلواتہ جلا فوجا ما فادو کہتہ الصلوة ولین منہ ماہ ففصلوا فنکوا
فذلک الی رسول اللہ صلواتہ فانزل اللہ الیہ التیمم فقال اسید بن حضیر لعلنا نذکر اللہ خیرا فواللہ ما انزل ہک امر تو کہینہ الا جعل اللہ ذلک
للذکر للصلوات فید خیرا + حدیث ہر مذہب سے تین لے کر ایک جو کہ نام ہے۔ جگ کیلئے جب فوج سے کسی ہوتی تھی تو پہلے دہان مع ہوتی۔ اور من (اونٹوں کا بار) مدینہ تک پہنچا
تھا اور وہاں پر جب کہ فریاد ہو گیا تو انہما استعادت من اسماہ قلاۃ فہلکت فبعث رسول اللہ صلواتہ جلا فوجا ما فادو کہتہ الصلوة ولین منہ ماہ ففصلوا فنکوا
انہما استعادت من اسماہ قلاۃ فہلکت فبعث رسول اللہ صلواتہ جلا فوجا ما فادو کہتہ الصلوة ولین منہ ماہ ففصلوا فنکوا
انہما استعادت من اسماہ قلاۃ فہلکت فبعث رسول اللہ صلواتہ جلا فوجا ما فادو کہتہ الصلوة ولین منہ ماہ ففصلوا فنکوا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بَدْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَّهُ بَوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ

بَابٌ هَلْ يُنْفَرُ فِي يَدَيْهِ بَعْدَ مَا يُضْرَبُ بِهِمَا الصَّعِيدُ لِلشَّامِ

(۲۲۹) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيزَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ

الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي أَجَنَّبْتُ فَلَمْ أَصِبِ الْمَاءَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ أَبِيزَى يَا سَيِّدَ لِعُمَرَ بْنِ

الْخَطَّابِ أَمَا تَذَكَّرُ أَنَا لَمَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ فَاجْتَنَبْنَا فَمَا أَنْتَ وَكَمْ

تُصَلِّ وَأَمَا أَنَا فَتَمَعْتُ فَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا

فَضْرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْفِيهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا مَسْحًا

رُجْمًا وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ بَابُ الشَّامِ لَوَجْهِهِ وَالْكَفَيْنِ (۸۰) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

ابْنِ أَبِيزَى مُتَكَرِّرًا (۲۲۹) (۸۱) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيزَى رُمتَكَرَّرًا

(۲۲۹) (۸۲) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (مُتَكَرِّرًا) (۲۲۹) (۸۳) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(مُتَكَرِّرًا) (۲۲۹) (۸۴) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيزَى مُتَكَرِّرًا (۲۲۹)

بَابُ الصَّعِيدِ الطَّيِّبِ وَضَوْءِ الْمَسْلُوبِ يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ وَقَالَ الْحَسَنُ

عمر بن الخطاب سے ایک شخص ملا اس نے آپ پر سلام کہا تو آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا
اللہ علیہ وسلم حتی اقبل علی الجدار فمسہ بوجہہ ویدایہ ثم رد علیہ السلام
یہاں تک کہ آپ دہا کی طرف متوجہ ہوئے یہاں آپ نے منہ اور اپنے دونوں ہاتھوں پر مسح کیا پھر سلام کا جواب دیا
بَابٌ هَلْ يُنْفَرُ فِي يَدَيْهِ بَعْدَ مَا يُضْرَبُ بِهِمَا الصَّعِيدُ لِلشَّامِ
یہاں آیا ہے دونوں ہاتھوں پر پھونک مارے بعد اس کے کہ ان کو
(۲۲۹) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيزَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ
عبد الرحمن بن ابی زہرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص
الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي أَجَنَّبْتُ فَلَمْ أَصِبِ الْمَاءَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ أَبِيزَى يَا سَيِّدَ لِعُمَرَ بْنِ
خطاب کے پاس آیا تو کہنے لگے مجھے جنابت ہوئی اور پانی نہیں ملا
الْخَطَّابِ أَمَا تَذَكَّرُ أَنَا لَمَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ فَاجْتَنَبْنَا فَمَا أَنْتَ وَكَمْ
خطاب سے کہا کہ کیا آپ کو یاد نہیں کہ میں اور آپ سفر میں تھے
تُصَلِّ وَأَمَا أَنَا فَتَمَعْتُ فَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
اور میں منیٰ میں تھا اور نماز پڑھ لی سو میں نے نبی
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا
علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اس طرح کافی تھا
فَضْرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْفِيهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا مَسْحًا
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا اور ان میں پھونکا پھر آپ نے
رُجْمًا وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ بَابُ الشَّامِ لَوَجْهِهِ وَالْكَفَيْنِ (۸۰) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
اپنے منہ اور اپنے ہاتھوں کو ان سے لے لیا
ابن ابی زہرہ سے لے لیا
(۲۲۹) (۸۱) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيزَى رُمتَكَرَّرًا
دیکھو حدیث نمبر (۲۲۹) دیکھو حدیث نمبر ۲۲۹
(۲۲۹) (۸۲) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (مُتَكَرِّرًا) (۲۲۹) (۸۳) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
دیکھو حدیث نمبر ۲۲۹ دیکھو حدیث نمبر ۲۲۹
(مُتَكَرِّرًا) (۲۲۹) (۸۴) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيزَى مُتَكَرِّرًا (۲۲۹)
دیکھو حدیث نمبر ۲۲۹
بَابُ الصَّعِيدِ الطَّيِّبِ وَضَوْءِ الْمَسْلُوبِ يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ وَقَالَ الْحَسَنُ
مسلمان کا وضو کا پانی ہے اس کے لئے پانی سے کفایت کرتی ہے اور حسن کہتا ہے کہ

تیمم کی کیفیت میں روایات مختلف ہیں بعض میں ہاتھوں کا مسح کرنا پہنچوں تک آیا ہے۔ بعض میں
صرف ہاتھ کا ڈسہ۔ بعض میں مرتین بے کمینوں تک مسح کا ذکر ہے۔ بعض میں دوہین دین کی روایت ابو جہیم کی ہے اور باقی عمار کی امام بخاری کے نزدیک کفین کی
روایت صحیح ہے۔ بعض صرف ہاتھ میں بیٹی مثال نہیں۔ اور باقی ضعیف ہیں۔ اسلئے باب میں جزم کے ساتھ کہا کہ تیمم وہ کفین کے لئے ہے یہی امام مالک اور احمدی
کا مذہب ہے۔ اور ابو جہیم کی روایت میں جو دین کا لفظ ہے ان کے نزدیک کفین کا لفظ اس کی تفسیر ہے۔ عمار کر۔ میں الفاظ زائد ہیں وضو متعجبہ بیدایہ الارض
شعادتاً ما من فیہ مسح بہا وجہہ وکفینہ اس روایت میں بہت عمارت نہیں ہے۔ عمار اس روایت میں یہ لفظ زائد ہیں انہ شہد عمرو قال لہ عمار
کنا فی مریہ فاجتنبنا وقال نفل فیہا + عمار اس روایت کے الفاظ ہیں قال عمار لعمر تمعنت فأتیت النبی صلواتہ فقال یکتفیک
الوجه والکفین +

يُحْرِمُهُ الشَّيْءُ مَا لَمْ يُحَدِّثْ وَأَمْرُ بِنِ عُبَّاسٍ وَهُوَ مُتَمِّعٌ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

بِهِ مَكْرَهُهُ وَنُورٌ مَا تَدْرُسُهُ اسْتَعْلَى حَمَّ كَاتِبِي ع. اور ابن عباس سے اس نے کہا اور انہوں نے بھی کہا جو اٹھا اور صحیح بن سید نے بھی

أَبَا سٍ بِالضُّلُوعِ عَلَى السَّبْحَةِ وَالشَّيْءُ بِهَا (۲۵۰) عَنْ ع. رَانَ قَالَ كُنَّا فِي سَفَرٍ

کرتوں میں رہنا پڑتا ہے اور اگر کچھ کر کے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا أَسْرَيْنَا حَتَّى كُنَّا فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَقَعْنَا

ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ اور ہم رات کو پہنچے۔ یہاں تک کہ رات کے آخری حصہ میں لیٹ گئے

وَقَعْنَا وَلَا وَقَعْنَا أَحَدٌ عِنْدَنَا سِوَا فِرْمَانٍ فَمَا أَقْبَضْنَا إِلَّا حَرَّ الشَّمْسِ فَكَانَ أَوَّلَ

اور سارے کے لئے اس سے بڑھ کر۔ سبھی سوئیں نہیں ہوئی۔ سو ہمیں صاف سردی کی کر دی گئی۔ اہل ان

مَنْ اسْتَيْقِظَ فَلَانٌ ثُمَّ فَلَانٌ ثُمَّ فَلَانٌ لَيْسَ فِيهِمْ سِوَا بَوَّابٍ فَجَاءَ فَنَسِيَ عَوْفَ نَوْمِ عُمَرَ

جو بیدار ہوئے۔ فلاں تھا پھر فلاں پھر فلاں۔ ان میں سے کوئی اور نہیں تھا۔ ابورعان کا نام تھا۔ عوف بھول گیا

ابْنُ الْخَطَّابِ الرَّابِعُ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَامَ لَمْ يُنَوِّضْ حَتَّى

پھر عمر بن خطاب جو تھے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تو ہم ان کو نہ بچھاتے۔ یہاں تک کہ

يَكُونَ هُوَ كَيْسْتَيْقِظُ لَا نَأْتِيهِ مَا يَحْدِثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ فَلَمَّا اسْتَيْقِظَ عُمَرُ

دو خدا ہاں آئے۔ اس لئے کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ نیند میں آپ کے لئے کیا بات پیدا ہو۔ پس جب عمر بیدار ہوئے

وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ وَكَانَ رَجُلًا جَلِيدًا أَكْبَرُ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالشَّكْرِ فَمَا

اور جو لوگوں کو چھتا ہے دیکھا۔ اور عمر قوی شخص تھے۔ تو اللہ اکبر کہا اور ایسا ہی آواز کو کھیر کے ساتھ بلند کیا

زَالَ يَكْبُرُ وَيُرْفَعُ صَوْتَهُ بِالشَّكْرِ حَتَّى اسْتَيْقِظَ لَصَوْتِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

اور کھیر کرنے لگے اور آواز کو کھیر کے ساتھ بلند کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ان کی آواز کی وجہ سے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَلَمَّا اسْتَيْقِظَ شَكَرَ إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ فَقَالَ لَا صَبِيرٌ وَلَا بَصِيرٌ أَرَأَيْتُمْ

عمر وسلم بیدار ہوئے۔ اس میں جب آپ بیدار ہوئے تو جو ان کو پہنچا تھا آپ سے اس کی شکر بیت کی تھی کہ آپ نے فرمایا کوئی نقصان نہیں آیا اور کچھ

فَأَنْفَلُ فَسَادَ غَيْرُ بَعِيدٍ ثُمَّ نَزَلَ فِدَاعًا بِالْوُضُوءِ فَوَضَا وَنُورِي بِالضُّلُوعِ فَصَلَّى

کہا کہ میں کو کچھ کیا ہے۔ نور ہی وہ ہے جہاں سے اور نورو کا پانی منگوایا اور وضو کیا اور نورو کی اذان دی تھی تو چاہے لوگ کوئی نورو

بِالنَّاسِ فَلَمَّا انْفَلَّ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يَصِلْ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ

پڑائی ہے۔ اس میں جب آپ نماز سے نکلے ہوئے تو آپ کو ایک شخص کا علم ہوا جو الگ تھا۔ اس نے قوم کے ساتھ نماز نہیں پڑھی

مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تَصِلَ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ أَصَابَتْ نِيَّ جَنَابَةٌ وَأَمَاءٌ قَالَ عَلَيْكَ

تھی دایا ہے فلاں کس چیز سے تم کو قوم کے ساتھ نماز پڑھنے سے روکا گیا جھکو جانتے ہیں۔ اور وہی نہیں پڑھی

بِالصَّبِيِّ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ ثُمَّ سَأَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَكْرَأَ إِلَيْهِ النَّاسُ

میں کو لے کر وہی تیرے لئے کافی ہے۔ کھڑے ہو کر۔ گویا اسی گفت کو شیطان کی طرف منسوب کیا ہے۔ اس لئے کہ وہ نہ نمازوں کی جماعت ثابت ہوئی

مطلب میں ہرگز آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جماعت آئے۔ اور یہ روایت عبدالرزاق بن غزوة بنوک کے ساتھ اس طرح ہے۔ پھر بعض روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خواب سے

بیدار ہوئے اور اس حدیث الہام کے بعد نبی کریم سے پہنچا یا رادی بیدار ہو گئے تھے۔ جن میں حضرت عمرؓ بھی تھے۔ ان اختلافات کو دیکھ کر نسخ الہدیٰ میں اس بات

کو ترجیح دی گئی ہے کہ یہ واقعہ کوئی دفعہ پیش آیا ہے۔ یہ روایت لیثہ السمریوں کے نام سے کتب حدیث اور فقہ میں مشہور ہے۔ کتب مسلم کی روایت میں ہے کہ اگہ

منازل حضرتنا فیہ الشیطان یعنی یہ ایسی جگہ ہے کہ اس میں شیطان آیا اور وہاں کی روایت میں ہے جو لوگوں سے مکی انکار الہی صابنکم فیہ الضلالت

یعنی اس مقام سے جس میں تم کو ضلالت ہو گئی ہو تبدیلی ہو جاوے۔ گویا اسی گفت کو شیطان کی طرف منسوب کیا ہے۔ اس لئے کہ وہ نہ نمازوں کی جماعت ثابت ہوئی

ہے۔ باب کا مقصد میں سے ثابت ہوتا ہے۔

کتاب ترویج الہدیک
حدیث کا لفظ ہے
بنا سے روایت کیا
ہے اور اس قدر
اسے صحیح کہہ سکتے
ہیں کہ اس کی ایک اور
حدیث سے امداد ہو
سننے سے روایت کی
ہے جس کے الفاظ یہاں
ان الصعد الطیب
طوبی اللہ وان
لہ عین اللہ الخیر
سنین یعنی پاک
مسلمان کو پاک کرنے
والی یا مسلمان کا وضو
ہے۔ اگر کسی کو
پاک سے باقی نہ
اس حدیث کو تفسیر
ابن جبار دارقطنی
نے صحیح کہا ہے اب
کا مقصد یہ ہے کہ
وضو کا پورا تمام مقام
ہے جو عمل وضو سے
درست ہے وہ نیم سے
بھی درست ہے۔ اور
جن یا قلم سے وضو
بانا رہا ہے۔ کتب صحیح
رہتا ہے۔ اور یہ روایت
کراکتا ہے۔ کتب
سفر کے متن روایات
میں بہت اختلاف ہے
کسی میں ہے کہ خیر
سے واپسی کا سفر ہے
یہ مسلم کی روایت ہے
ابو داؤد کی روایت
کے مطابق حدیث
واپسی کا سفر ہے اور
مطلب میں ہرگز آنحضرت

مِنَ الْعَطَشِ فَنَزَلَ فَذَاعَ فُلَانًا كَانَ يُسَمِّيهِ أَبُو مَرْجَاءٍ نَبِيَّهُ عَوْفٌ وَذَاعَ عَلَيْهَا

پس اتر سے اور فلاں کو بلایا اور اس کا نام لیتا تھا عوف اسکو بھول گیا اور علی کو بلایا
فَقَالَ اذْهَبَا فَاَبْتِغِيَا الْمَاءَ فَاَنْطَقَا فَتَلَقِيَا امْرَاةً بَيْنَ مَرَادَتَيْنِ اَوْ سَطِحَتَيْنِ

تو وہ دونوں جاؤ اور بائیں تلاشیں کر وہ چلے تو ایک گھومت سے جو بائیں کی دو مشوں کے درمیان
مِنَ مَاءٍ عَلٰى بَعِيْرِهَا فَقَالَا لَهَا اَيْنَ الْمَاءُ قَالَتْ عَهْدِي بِالْمَاءِ اَمْسِ هَذِهِ السَّاقَةُ

اپنے اوست پر چلی آئی تھی انہوں نے اس سے کہا پانی کہاں ہے اسے کہا میں پانی سے کل اس وقت چلی
وَفَقَرْنَا خَلُوفًا قَالَا لَهَا الظِّفْرِ اِذَا قَالَتْ اِلَى اَيْنَ قَالَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

اور ہمارے مویجے ہیں انہوں نے کہا یہاں کہا کدھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّبَابِيُّ قَالَا هُوَ الَّذِي تَعْنِيْنَ فَاَنْطَلِقِي

کہا وہ جس کو صبابی کہا جاتا ہے کہا وہ وہی ہے جو تیری مراد ہے سو چل
فَجَاءَ اِيْهَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَتْهُ الْحَدِيثَ قَالَتْ فَاسْتَدْرَكُوْهَا

پس وہ دونوں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور آپ سے قصہ بیان کیا کہا انہوں نے اسے
عَنْ بَعِيْرِهَا وَذَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاِيْنَاءٍ فَقَدَّرَ فِيْهِ مِنْ اَفْوَاهِ الْمَرَادَتَيْنِ

اسکے اوندھ سے اوتارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن منگولیا اور اس میں مشوں کے مومنوں سے (پانی) ڈالا
اَوْ السَّطِحَتَيْنِ وَاوْكَأ اَفْوَاهَهُمَا وَاَطْلَقَ الْعَرَابِيَّ وَنُوْدِيَ فِي النَّاسِ اسْتَعْوَا

اور ان کے مومنوں کو بند کر دیا اور بیچے کے مومنوں کو کھل دیا اور لوگوں میں اعلان کیا گیا کہ بلاؤ
وَاسْتَفْوَا فَسَقَى مَنْ سَقَى وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ وَكَانَ اخْرَجَ ذَلِكَ اَنْ اَعْطَى الَّذِي

اور پیو پس بلایا جس نے پلایا اور پیا جس نے چاہا اور اس کے آخر یہ ہوا
اصَابَتْهَا الْجَنَابَةُ اِنَّهُ مِنْ مَّاءٍ قَالَ اذْهَبْ فَاَنْزَعُ عَنْكَ وَهِيَ قَائِمَةٌ تَنْظُرُ اِلَى

کوس جس کو جنابت ہوئی تھی اسکو پانی سے دھرا ہوا برتن دیکھا فرمایا جا اور اس کو اپنے اوپر ڈالنے اور وہ عورت کھڑی ہوئی
مَا يَفْعَلُ بِمَا يَأْتِيْهَا وَاَيْحُ اللّٰهُ لَقَدْ اَقْبَعَتْهَا وَارْتَهَ كَيْفَ تَلِيْهَا اَلَيْسَ اَنْتُمْ اَشَدُّ وِلْدَةً

اس کا مکہ دیکھتی رہی جو اس کے پانی سے کہا جاتا تھا خدا کی قسم جب مشک تر پانی لیا، بند کیا گیا تو میں خیال ہوتا تھا کہ وہ اس سے زیادہ بڑے
مِنْهَا حَيِّنْ اَبْتَدَا فِيْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْمَعُوْا اِلَيْهَا اجْمَعُوْا اِلَيْهَا مِنْ بَيْنِ

جس وقت آپ نے اس سے پانی لیا شروع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکے واسطے جمع کرو تو انہوں نے اس کے لئے
عَجُوْةٍ وَذَقِبْفَةٍ وَسُوَيْفَةٍ حَتَّى اجْمَعُوْا لَهَا طَعَامًا فَجَعَلُوْهُ فِي ثَوْبٍ وَحَمَلُوْهَا

گھوم اور آٹا اور سونو جمع کیا یہاں تک کہ اس کے واسطے دقاہم کہا نا اکٹھا کیا اور انہوں نے اسکو کپڑے میں رکھ دیا اور وہ
عَلَى بَعِيْرِهَا وَوَضَعُوا الثَّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهَا فَقَالَ لَهَا تَعْلَمِيْنَ مَا مَرَزْنَا مِنْ مَسَائِكِ

اس کے اوندھ پر سوار کیا اور کیا اس کے سامنے رکھ دیا علی پس آپ نے اس سے کہا جانتی ہے ہم نے تمہارا پانی
شَيْئًا وَاَلَيْسَ اللّٰهُ هُوَ الَّذِي اسْتَقَانَا فَاَنْتِ اَهْلُهَا وَقَدْ اَحْتَبَسْتِ عَنْهُمْ قَالُوْا مَا

کچھ بھی نہیں کھٹایا مگر اللہ ہی ذات ہے جس نے ہمیں پلا یا علیک سے وہ اپنے ڈکھر والوں کے پاس لائی اور وہ اس سے رک رہی تھی
حَبَسَكَ يَا فُلَانَةُ قَالَتْ الْعَجِبُ لِقَبِيْنِي رَجُلَانِ فَاذْهَبَا اِلَى هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي

تو انہوں نے اس سے کہا اسے فلاں کس چیز نے پیجھ روکا کیا ایک عجیب بات ہے مجھے دہرو نے پس مجھے اس شخص کے پاس لگئے جس کو
يُقَالُ لَهُ الصَّبَابِيُّ فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا اَوَّلَهُ اِنَّهُ لَا يَسْحَرُ النَّاسَ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ وَا

صبابی کہا جاتا ہے اس نے ایسا کیا خدا کی قسم میرنگ وہ ب لوگوں سے درمیان اسکے اور اس کے زیادہ جاؤ کرے

کتاب التَّجْمُ
پس اتر سے اور فلاں کو بلایا اور اس کا نام لیتا تھا عوف اسکو بھول گیا اور علی کو بلایا
تو وہ دونوں جاؤ اور بائیں تلاشیں کر وہ چلے تو ایک گھومت سے جو بائیں کی دو مشوں کے درمیان
اپنے اوست پر چلی آئی تھی انہوں نے اس سے کہا پانی کہاں ہے اسے کہا میں پانی سے کل اس وقت چلی
اور ہمارے مویجے ہیں انہوں نے کہا یہاں کہا کدھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
کہا وہ جس کو صبابی کہا جاتا ہے کہا وہ وہی ہے جو تیری مراد ہے سو چل
پس وہ دونوں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور آپ سے قصہ بیان کیا کہا انہوں نے اسے
اسکے اوندھ سے اوتارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن منگولیا اور اس میں مشوں کے مومنوں سے (پانی) ڈالا
اور ان کے مومنوں کو بند کر دیا اور بیچے کے مومنوں کو کھل دیا اور لوگوں میں اعلان کیا گیا کہ بلاؤ
اور پیو پس بلایا جس نے پلایا اور پیا جس نے چاہا اور اس کے آخر یہ ہوا
کوس جس کو جنابت ہوئی تھی اسکو پانی سے دھرا ہوا برتن دیکھا فرمایا جا اور اس کو اپنے اوپر ڈالنے اور وہ عورت کھڑی ہوئی
اس کا مکہ دیکھتی رہی جو اس کے پانی سے کہا جاتا تھا خدا کی قسم جب مشک تر پانی لیا، بند کیا گیا تو میں خیال ہوتا تھا کہ وہ اس سے زیادہ بڑے
جس وقت آپ نے اس سے پانی لیا شروع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکے واسطے جمع کرو تو انہوں نے اس کے لئے
گھوم اور آٹا اور سونو جمع کیا یہاں تک کہ اس کے واسطے دقاہم کہا نا اکٹھا کیا اور انہوں نے اسکو کپڑے میں رکھ دیا اور وہ
اس کے اوندھ پر سوار کیا اور کیا اس کے سامنے رکھ دیا علی پس آپ نے اس سے کہا جانتی ہے ہم نے تمہارا پانی
کچھ بھی نہیں کھٹایا مگر اللہ ہی ذات ہے جس نے ہمیں پلا یا علیک سے وہ اپنے ڈکھر والوں کے پاس لائی اور وہ اس سے رک رہی تھی
تو انہوں نے اس سے کہا اسے فلاں کس چیز نے پیجھ روکا کیا ایک عجیب بات ہے مجھے دہرو نے پس مجھے اس شخص کے پاس لگئے جس کو
صبابی کہا جاتا ہے اس نے ایسا کیا خدا کی قسم میرنگ وہ ب لوگوں سے درمیان اسکے اور اس کے زیادہ جاؤ کرے

اس حدیث کو ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا ہے اس کا معنی ہے جو کہ عرصہ خاص کہتے ہیں کہ جب اختلاف ہوا۔ بات بہت ٹھنڈی تھی تو مجھے خوف ہوا کہ اگر میں نالیوں کو مر باؤں گا۔ تو میں نے تیرا کیا اور اپنے ساتھیوں کو صبح کی نماز پڑھائی۔ اس کا ذکر حضرت صلح کے سامنے ہوا تو آپ نے فرمایا اے عمر تم نے جنابت کی حالت میں نماز پڑھائی۔ تو میں نے تیمم کی وجہ عرض کی اور لا قتلوا انفسکم

هذِهِ وَقَالَتْ يَا ضِعْبِيهَا الْوَسْطَى وَالسَّبَابِيَةُ فَرُبَعُهُمَا إِلَى السَّمَاءِ تُعْنَى السَّمَاءِ

اور اپنی دعا تکبیروں وسطے اور سہارے استعا رکھی اور ان کو انسان کی طرف اٹھایا

وَالْأَرْضِ أَوَّانَهُ كَرَسُولُ اللَّهِ حَقًّا فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَدُّوا يُغَيِّرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا

اور میں اس کی مراد موحی یا وہ بیشک خدا کا رسول ہے اس کے بعد مسلمان اس کے اور گرد کے مشرکوں پر حملہ کرنے لگے

مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا يُصِيبُونَ الضَّمْرَ الَّذِي هِيَ مِنْهُ فَقَالَتْ يَوْمًا لِقَوْمِهَا مَا أَرَى

اور جس قبیلہ سے وہ عورت تھی اس کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے تو اس عورت نے ایک دن اپنی قوم سے کہا میں یہ جہنمی ہوں

أَنَّ هُوَ لَكُمْ الْقَوْمُ قَدْ يَدْعُوَكُمْ عَدْلًا فَهَلْ لَكُمْ فِي لَسْلَامٍ فَاطْعُوهُمْ فَاذْ خَلُّوا

کہ یہ قوم تم کو جان کر چھوڑتی ہے تو کیا تمہیں اسلام میں (رضمت) ہے انہوں نے اس کی بات مان لی اور

فِي الْإِسْلَامِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ صَبَأًا حَدِّثْ مِنْ دِينِ ابْنِ أَبِي عَدْرَةَ وَقَالَ أَبُو الْعَالِمِيَّةِ

اسلام میں داخل ہو گئے ابو عبد اللہ کہتا ہے کہ صبا کے معنی ہیں ایک دین سے دوسرے کی طرف نکلا اور ابو العالیہ کہتا ہے

الصَّابِئِينَ فِرْقَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِنَبِ يَقْرَأُونَ الزُّبُورَ أَصْبَأُ مَلْ أَبَا إِذَا

کہ صابی اہل کتاب میں سے ایک فرقہ ہے جو زبور کو پڑھتے ہیں اصْبَأُ کے معنی ہیں جبک جاؤ گا اب جب

خَافَ الْجَنْبَ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرِيضِ وَالْمَوْتَ أَوْ خَافَ الْعَطَشَ تَيْمَمٌ وَيَدُ كُرَانَ

جنابت والا اپنی جان پر بیماری یا موت سے ڈرتا ہو یا پیاس سے ڈرتا ہو تو تیمم کرے اور بیان کیا جاتا ہے کہ

عَمَّرُونَ الْعَاصِلَ جَنْبًا فِي لَيْلَةٍ بَارَكَتْ يَمَّةٌ وَتَلَّوْا تَقْتُلُوا الْفَسْكَرَةَ

عمر دین خاص کو جنابت ہوئی ٹھنڈی رات میں تو تیمم کیا اور یہ آیت پڑھی ولا تقتلوا انفسكم لعل الله

الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا فَذَكَرْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِرِّفْ

اللہ تم پر رحم کرے والا ہے پس یہ (بات) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی گئی تو آپ نے فرمایا

(۸۵) عَنْ أَبِي وَائِلٍ (مُتَكَرِّرًا - ۲۵۱) (۸۶) عَنْ شَيْبَةَ بْنِ سَالَةَ (مُتَكَرِّرًا)

دیکھو حدیث نمبر ۲۵۱ دیکھو حدیث نمبر ۲۵۱

بَابُ التَّيْمَمِ ضَرْبُهُ (۲۵۱) عَنْ شَيْبَةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ

باب تیمم (میں) ایک بار (دیکھو مٹی پر) مانا ہے شقیق سے روایت ہے کہ میں

عَبْدَ اللَّهِ وَابْنُ مُوسَى لَا شُعْرِي فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا اجْتَبَى لَمْ

عبداللہ اور ابوموسیٰ اشعری کیا تھتھ بھٹا ہوا تھا تو ابوموسیٰ نے اسے کہا اگر ایک شخص کو جنابت ہوئی

يَجِدُ لِمَاءٍ شَهْرًا مَّا كَانَ يَتَّيْمَمُ وَيُصَلِّي قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَتَّيْمَمُ

اور ایک مہینہ تک پانی نہیں پانا تو کیا وہ تیمم نہ کرے اور نماز نہ پڑھے کہا تو عبد اللہ نے کہا کہ تیمم نہ کرے

إِنْ كَانَ لَمْ يَجِدْ شَهْرًا فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذَا الْآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ

اگر ایک جنابت والے کو مہینہ تک نہ پائے تو ابوموسیٰ نے اسے کہا تو اس آیت کو جو سورہ مائدہ میں ہے پکارو گے

وَجِدَلُ حَمَلِ الْبُرِّ قَالَ هَكَذَا جِيءَ تَيْمَمٌ وَصَلَّى قَالَ فَلَتَ فَايَنَ قَوْلَ عَلِيٍّ مَعَهُ النَّبِيُّ فَقَالَ عِدْلُ اللَّهِ مِنْ مَسْعُودٍ

وجدا حمل البر قال هكذا جيء تيمم وصلی قال فلتن فاین قول علی معہ النبوی فقال عدل اللہ من مسعود لذا

حضرت مکرہ ۸۵ میں تو ہمتے مختار کمال ابو موسیٰ عبد اللہ بن مسعود لذا عبد اللہ جبکہ علم اللہ بن مسعود لذا عبد اللہ جبکہ علم اللہ بن مسعود لذا عبد اللہ جبکہ علم اللہ بن مسعود لذا

فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ مَرَّخَصٌ فِي هَذَا
سوا کرتے پانی نہ پاؤ تو پاگ مٹی کا ارادہ کرو عبد اللہ نے کہا اگر ان کو اس میں رخصت دی جائے

لَهُمْ لَا وَشَكَرُوا إِذْ أُنزِلَتْ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا الصَّعِيدَ قَالَتْ وَهِيَ كَرِهَتْ
تو قریب سے کہ جب انہیں پانی بھیجا گئے تو مٹی پر تیمم کریں میں نے کہا تم نے یہ اس واسطے مانگا ہے

هَذَا لِنَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارِ بْنِ الْعَمْرِ بْنِ الْخَطَّابِ
کہا ہاں یہاں ابو موسیٰ نے کہا تم نے عمر بن خطاب سے عمار کا قول نہیں سنا

بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ
کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیلئے بھیجا تو مجھے جنابت ہوئی اور پانی نہ ملا

فَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَّتْخُ الدَّابَّةُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تو میں مٹی میں لوٹا جس طرح چارباہ لوٹتا ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر کیا

فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا وَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الْأَرْضِ
آپ نے فرمایا کہ تجھے صرف یہ کافی تھا کہ ایسا کرنا اور ہاتھ کو ایک بار زمین پر مارا

ثُمَّ نَفَضَهَا ثُمَّ عَسَى بِهَا ظَهَرَ كَفُّهُ بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهَرَ شِمَالُهُ كَفُّهُ ثُمَّ مَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ
پھر اسے بھجوا پھر اس کے ساتھ مسح کیا یا دائیں ہاتھ کی پیٹھ کو بائیں سے یا بائیں کی پیٹھ کو دائیں ہاتھ سے پھر دونوں کے ساتھ منہ پر مسح کیا

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَلَمْ تَرَ عَمْرًا لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارِ رُوِيَ عَنْ شَقِيقِ قَالَ
عبد اللہ نے کہا کیا نہیں دیکھتے کہ عمر کی تہی عمار کے قول کے ساتھ نہیں ہوئی اور ایک روایت میں ہے کہ شقیق کہتے ہیں

كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنِ مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارِ الْعَمْرِ
کہ میں عبد اللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ کے ساتھ تھا تو ابو موسیٰ نے کہا کہ تم نے عمر سے عمار کا قول نہیں سنا

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَنْتَ فَأَجْنَبْتُ فَمَعَّكْتُ بِالصَّعِيدِ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور تجھ کو بھیجا تو مجھے جنابت ہوئی پس میں مٹی میں لوٹا

فَاتَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتَهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا
پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو خبر دی تو فرمایا تجھے صرف یہ کافی تھا اور آپ نے

وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهُ وَاحِدَةً بَابُ (۸۷) عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حَبِيبٍ الْخَزَاعِيِّ
پہننے اور اپنے ہاتھوں کو ایک بار مسح کیا باب (۸۷) دیکھو حدیث نمبر ۲۸۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللہ کے اہتمام والے بابیہ رزم کرنے والے کے نام سے

کتاب الصلوة

کتاب نماز

بَابُ كَيْفِ فُرْضَتِ الصَّلَاةِ فِي الْإِسْرَاءِ وَقَالَ بَنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي أَبُو يَسْفِيَانَ
باب معراج میں نماز کس طرح فرض کی گئی ۱۳ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ ابو یسفیان

۱۔ ہمز روایتوں میں دو دفعہ ہاتھوں پر مارنا اور کہیں تک ہاتھوں پر مسح کرنا بھی آتا ہے۔ مگر ترجیح ایک مرتبہ کی روایت کو ہی ہے اور صرف پہنچوں تک ہاتھوں کی پشت پر مسح کرنا ہی کافی ہے۔ ۲۔ اس مکرر روایت میں حدیث نمبر ۲۸۰ کا چوتھا سا لکھو لڑائے ہیں۔ ۳۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغی وجہا معتزلا لم یصل فی القوم فقال یا حنان ما صنعک ان تصلى فی القوم فقال یا رسول اللہ ما یقنی جنابہ فلا ما قال علیک یا صعبید فانه یکفیک + ۴۔ اسرار کے بارے میں نسخہ الہامی میں اول منقول میں اول پر اس میں کار کا ذکر نہیں ہے اور یہی ہے کہ ہر حالت میں اس کے لئے دوسرے ایک ہی نسخہ میں ہے کہ اس حالت میں ہر روز صبح صبح نماز میں ہوا ایک رات میں ہوا اور خواہ علیہ علیہ نام بخاری نے اس کے باب میں معراج کا ذکر کر کے ان دونوں کو ایک ہی قرار دیا ہے اور روایات میں اختلاف کی وجہ سے بعض لوگوں نے متعدد روایات قرار دی ہیں یہ معراج یا

اسرار کہ ہوا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ مکہ میں ہوا۔ کیونکہ نماز مکہ میں ہی فرض ہوئی اور یہ بھی ظاہر ہے کہ سورۃ النجم میں بھی معراج کا ذکر ہے۔ حدیث قدسی کہان قاب قوسین اولیٰ اور یہ سورت پانچویں سال ہجرت کی ہے۔ بلکہ سورۃ النبی کا ذکر جن الفاظ میں حدیث میں ہے۔ انہی الفاظ میں سورۃ النجم میں ہے عند صلوات اللہ علیہ (پانی صفحہ ۱۰۰)

(یعنی از صفحہ ۹۹) ۱۵۱
یعنی السد سما
یعنی اور اس
حدیث میں جو غیبنا
الوان مادری علی
لاور بیان بھی سزا
کے ساتھ جنت کا
دار ہے اور وہاں بھی
عند حاجت اللہ
ہے) میں معلوم ہوا کہ
سورۃ فاتحہ میرا ہی
میرا ہے جو میرا ہی
ذکر ہے اور یہ بھی ظاہر
ہے کہ بتائی سو سزا
میں ناز کا حکم موجود ہے
اسکے بغیر کسی تفسیر
تاریخ کے کہا گیا
ہے کہ آنحضرت صلعم کا
میرا ہے بہت ابتدائی
زمانہ کا ہے اور اس وقت
ناز بھی فرض ہوئی
بہشت کے چوتھے
سال میں آپ کا ارقم
کے گھر میں ناز پڑھا
اور وہیں صحابہ کا ناز
کے لئے جمع ہوا تا
ہے۔ اور سورۃ ہنئی
اسرائیل جو ہر سال کے
ذکر سے شروع ہوتی
ہے وہ بھی ابتدائی
زمانہ کی سورت ہی ہے
میرا ہے جو حالت
خواب بھی نہیں کہہ سکتے
اور حالت بیداری
بھی نہیں بلکہ یہ ایک
کشف کی صورت تھی
ناز کے متعلق بار بار
مراجعت کا ہونا بھی
رکھنا ہے ورنہ لا یبدل
القول لدی توخذ
بہا فرمایا۔

ابن حُرَیثٍ فِي حَدِيثِهِ هِرَقْلٌ فَقَالَ يَا مُرَّانَا يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بن حریث نے ہرقل کی حدیث میں مجھ سے یوں بیان کیا اور کہا وہ مجھے نبی کریم

بِالصَّلَاةِ وَالْحَدِيثِ وَالْعَقَابِ (۲۵۲) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ أَبُو ذَرٍّ يَجِدُ ت

انکو نماز اور حج اور پاک اسمی کا حکم دیتا ہے

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَرِحَ عَنْ سَفْفِ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ فَذَل

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

جَبْرِئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَفَرِحَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءٍ زَمْزَمَ ثُمَّ حَمَّاهُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ

جو جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا تو میرے سینے کو کھولا پھر سکوزمزم کے پانی سے دھویا پھر سونے کا گن لائے

مُمْتَلِي حِكْمَةً وَرَبِّمَا نَأْفَا فَرَعَاهُ فِي صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَخَرَجَ بِي

حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا ہل میں سکھو میرے سینے میں نکالا پھر سچھ کو ملایا پھر میرا ہاتھ پکڑا اور آسمان کی طرف

إِلَى السَّمَاءِ فَلَمَّا حَثَّتْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جَبْرِئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِحَازِنِ السَّمَاءِ

مجھے چڑھایا جب میں سما دنیا پہنچا تو جبرئیل علیہ السلام نے آسمان کے داروغے سے کہا

افْتَحْ قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا جَبْرِئِيلُ قَالَ هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ قَالَ نَعَمْ مَعِيَ مُحَمَّدٌ

کھول کہا یہ کون ہے کہا یہ جبرئیل ہے کہا کیا تیرے ساتھ کوئی ہے کہا ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں

فَقَالَ عَارِسُ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا فَتَحَ عَلُونَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَاذْأَجْعَلُ قَاعِدُ عَلَى

کہا کیا ان کی طرف پیغام بھیجا گیا ہے کہا ہاں جب کھولا ہم سنا کیا پر چڑھے تو ناگاہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا

يَمِينِهِ أَسْوَدَةٌ وَعَلَى كَيْسَارِهِ أَسْوَدَةٌ إِذَا نَظَرَ قَبْلَ يَمِينِهِ ضِحِكٌ وَإِذَا نَظَرَ

اُسکے ہاتھ لوگ تھے اور اس کے بائیں بھی لوگ تھے مگر جب اپنے دائیں طرف دیکھتا ہنسنا اور جب اپنے

قَبْلَ شِمَالِهِ بَكِيٌّ فَقَالَ مَرَحِمًا بِالنَّبِيِّ الصَّاحِحِ وَالْأَبْنِ الصَّاحِحِ قُلْتُ

بائیں طرف دیکھتا رو پڑتا پھر اسے کہا مرحبا نبی اور نیک بیٹے کے لئے میں نے ہرگز سے کہا

رَجَبُ بَرِيئِيلُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا آدَمُ وَهَذَا الْأَسْوَدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَ

یہ کون ہیں کہا یہ آدم ہیں اور یہ ان کے دائیں بائیں اشخاص

بِشِمَالِهِ نَسَمَ بَنِيهِ فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَالْأَسْوَدَةُ الَّتِي

ان کی اولاد کی رو میں ہیں اور ان میں سے ہونے والے جنت والے ہیں اور وہ اشخاص

عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ فَاذْأ نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضِحِكٌ وَإِذَا نَظَرَ قَبْلَ

جو ایک بائیں ہیں وہ دوزخ والے ہیں پس جب دائیں طرف دیکھتا ہے ہنسنا اور جب اپنی

بِشِمَالِهِ بَكِيٌّ حَتَّى عَدَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ لِحَازِنِهَا افْتَحْ فَقَالَ لَهُ

بائیں طرف دیکھتا ہر رو پڑتا ہے یہاں تک کہ مجھ دوسرے آسمان پر لے گیا اور اس کے داروغے سے کہا کھول اسکے خازن نے اس سے

حَازِنُهَا مِثْلُ مَا قَالَ الْأَوَّلُ فَفَتَحَ قَالَ أَنَسُ فَذَكَرْنَا أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَوَاتِ

پہلے خازن کی طرح کہا پس کھولا گیا اس نے کھنڈے ہیں یہاں بیان کیا کہ آسمانوں میں

علم و حکمت کا بھرا ہوا اٹھت بھی اس کو کشف ہی ظاہر کرتا ہے۔ ورنہ علم و حکمت ان کھنڈوں سے دیکھنے کی چیز نہیں۔ یہ شخص صدر کا واقف و مرجع
کے وقت کا ہے اور اسودہ سزا دہی جمع ہے سب ارواح کا پھلے آسمان پر دیکھنا صاف بتاتا ہے کہ یہ کشف تھا۔ ورنہ ارواح کفار تو سخن میں ہی
ہیں۔ اور ارواح عالمین اسے علم میں اس کی نشانیات جو شاہین حدیث نے کی ہیں بہت کم و ہیں۔ مثلاً یہ کہ کبھی کبھی بیاد ارواح اپنے اپنے مقام سے نکال کر حضرت آدم کے روبرو
پیش ہوتی ہیں۔ اور اتفاق سے وہ وقت پیشی کا تھا۔ جب ہی کریم صلعم کو معراج ہوا۔ حضرت آدم کے سامنے ارواح کی پیشی ایک بے منہ بات ہے +

ادَمَ وَادْرَيْسَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَابْرَاهِيمَ وَلَمْ يَبْتَدِئْ كَيْفَ مَنَّا لَهُمْ غَيْرَ اِنَّهُ

آدم اور ادريس اور موسیٰ اور عیسیٰ اور ابراہیم کو پایا اور ضبط نہیں کیا کہ ان کی جگہیں کس طرح ہیں سوئے اسکے

ذَكَرَ اَنَّهُ وَجَدَ اَدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَابْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ قَالَ

بیان کیا کہ آپ نے آدم کو نزدیک آسمان میں پایا اور ابراہیم کو چھٹے آسمان میں

اَنْسَ فَاَمَّا مَرْجَبُ رَسِيْلٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي رَيْسَ قَالَ

انس کہتے ہیں کہ جب جبرئیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادريس کے پاس لے گئے تو ادريس نے کہا

مَرْجَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْآخِرِ الصَّالِحِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا اِدْرَيْسُ ثُمَّ مَرَرْتُ

مرجبا نبی اور نیک بھائی کے لئے میں نے کہا یہ کون ہیں کہا یہ ادريس ہیں پھر میرا گذر

بِمُوسَى فَقَالَ مَرْجَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْآخِرِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ

موسیٰ پر ہوا تو کہا مرجبا نبی اور نیک بھائی کے لئے تو میں نے کہا یہ کون ہیں کہا

هَذَا مُوسَى ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى فَقَالَ مَرْجَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْآخِرِ الصَّالِحِ

یہ موسیٰ ہیں پھر میرا گذر عیسیٰ پر ہوا تو کہا مرجبا نبی اور نیک بھائی کے لئے

قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا عِيسَى ثُمَّ مَرَرْتُ بِابْرَاهِيمَ فَقَالَ مَرْجَبًا بِالنَّبِيِّ

میں نے کہا یہ کون ہیں کہا یہ عیسیٰ ہیں پھر میرا گذر ابراہیم پر ہوا پس کہا مرجبا نیک نبی

الصَّالِحِ وَالْآخِرِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ بِنُ شَهَابٍ

اور نیک بیٹے کے لئے میں نے کہا یہ کون ہیں کہا یہ ابراہیم ہیں ابن شہاب کہتے ہیں

فَاَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابَا حَبَّةَ الْاَنْصَارِيَّ كَانَا يَقُولَانِ قَالَ النَّبِيُّ

مجھے ابن حزم نے خبر دی کہ ابن عباس اور ابو حبابہ انصاری کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عَدَّ رَجُلًا حَتَّى ظَهَرَتْ لِمُسْتَوِيٍّ اَسْمَعُ فِيهِ صَرِيْفَ الْاَقْلَامِ

پھر مجھے لے گیا یہاں تک کہ میں ایک ہموار ٹکڑے پر پہنچا اس میں میں قلموں کی آواز سنا سکتا تھا

قَالَ بِنُ حَزْمٍ وَانْسَ بِنُ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَضَ اللهُ

ابن حزم اور انس بن مالک کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس اللہ

عَزَّ وَجَلَّ عَلَيَّ اُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَوةً فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَيَّ مُوسَى فَقَالَ

عزوجل نے میری امت پر چالیس نمازیں فرض کیں سو اس رحمت کے ساتھ میں واپس ہوا یہاں تک کہ میں موسیٰ پر گذرا انہوں نے کہا آپ کے لئے

مَا فَرَضَ اللهُ لَكَ عَلَيَّ اُمَّتِكَ قُلْتُ فَرَضَ خَمْسِينَ صَلَوةً قَالَ فَاَرْجِعْ اِلَيَّ رَبِّكَ فَاِنَّ

آپ کی امت پر اللہ تعالیٰ نے کیا نماز کیا میں نے کہا چالیس نمازیں مقرر کیں کہا اپنے رب کے پاس واپس جاؤ

اُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ فَاَرْجِعْتُ فَوَضَعْتُ نَظْرَهَا فَرَجَعْتُ اِلَيَّ مُوسَى قُلْتُ وَضَعْتُ نَظْرَهَا

اپنی امت کی طاقت نہیں رکھتی میں نے پھر عرض کیا تو کہا کچھ حدت چھوڑ دیا پھر میں موسیٰ کے پاس واپس آیا اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے بند پر

فَقَالَ رَاجِعْ اِلَيَّ رَبِّكَ فَاِنَّ اُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَرَجَعْتُ فَوَضَعْتُ نَظْرَهَا فَرَجَعْتُ

انہوں نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جاؤ اس کی طاقت نہیں رکھتی میں نے پھر عرض کیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک حدت کا چھوڑ دیا پھر موسیٰ کے پاس واپس آیا

اِلَيْهِ فَقَالَ اَرْجِعْ اِلَيَّ رَبِّكَ فَاِنَّ اُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَرَجَعْتُهُ فَقَالَ هِيَ خَمْسُونَ

پھر انہوں نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جاؤ اس کی طاقت نہیں رکھتی پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تو فرمایا یہ پانچ ہیں

وَهِيَ خَمْسُونَ لَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدَيْي فَرَجَعْتُ اِلَيَّ مُوسَى فَقَالَ رَاجِعْ اِلَيَّ

اور یہ چالیس ہیں میرے حضور بات بدلی نہیں جاتی پھر میں موسیٰ کے پاس واپس آیا انہوں نے کہا اپنے رب سے عرض کرو

۱
اس سے معلوم ہوا کہ یہ
۲ آسمان ظاہری بنیاد
سے تعلق نہیں رکھتے
بلکہ اس آسمان کے
۳ آسمان ہیں
۴
حضرت عیسیٰ کا دیکھنا
سب آیات میں تمام
انبیاء کے دیکھنے کی
مانند ہے۔ یہ کوئی ذکر
نہیں حضرت عیسیٰ
کے ساتھ دیکھے گئے
اور اپنی انبیاء کی آواز
دیکھی گئیں۔ اس سے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کی صفات ثابت ہوئی
ہے جیسے اور انبیاء
کی ارواح سے روحانی
لذات ہوتی ایسے
ہی حضرت عیسیٰ کی
روح سے بھی روحانی
لذات ہوتی معراج
کے منتقل ہو کر
اپنے موقوعہ پہنچنے
کی

عَاقِدِيْ اَزْرَهُمْ عَلٰى عَوَاقِبِهِمْ (۲۵۴) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُتَكَدِّرِ قَالَ صَلَّى

جَابِرٌ فِيْ اَزَارٍ قَدْ عَقَدَ كَامِنْ قَبْلِ قَفَاہُ وَشِيَابَهُ مَوْضُوْعَةً عَلٰى الْمَشِيْبِ فَقَالَ لَهُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُتَكَدِّرِ رَوٰى عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَوٰى عَنْ اَبِي سَلَمَةَ رَوٰى عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَوٰى عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّى

قَائِلٌ تَصَلِّيْ فِيْ اَزَارٍ وَّاحِدٍ فَقَالَ اِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِابْنِ اِحْمَقٍ وَمِثْلِكَ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُتَكَدِّرِ رَوٰى عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَوٰى عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّى

وَآيُنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۲۵۵) عَنْ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُتَكَدِّرِ (۲۵۴) بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِمْ اَلْمَلْحُفُ الْمَتَوَشِّجُ وَهُوَ الْمَخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلٰى
عَاقِبَتَيْهِ وَهُوَ اَلشَّخَالُ عَلٰى مَنَكِبَيْهِ وَقَالَتْ اُمُّ هَانِئٌ بِنْتُ اَبِي النَّخَعِ النَّجْدِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَسَلَّمَ يَتَوَبُّ لَهٗ وَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلٰى عَاقِبَتَيْهِ (۲۵۵) عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِي سَلَمَةَ اَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَّاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ (۲۵۶) عَنْ

عُمَرَ بْنِ اَبِي سَلَمَةَ مُتَكَدِّرًا (۲۵۵) (۹۱) عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِي سَلَمَةَ مُتَكَدِّرًا (۲۵۵)

(۹۲) عَنْ اُمِّ هَانِئِ بِنْتِ اَبِي طَالِبٍ (مُتَكَدِّرًا) (۲۱۷) (۲۵۶) عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ
سَأَلَا سَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَّاحِدٍ فَقَالَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ اَلْكُلْمَةُ ثَوْبَانِ بَابٌ اِذَا صَلَّى فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلٰى عَاقِبَتَيْهِ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُتَكَدِّرِ رَوٰى عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَوٰى عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّى

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُتَكَدِّرِ رَوٰى عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَوٰى عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّى

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُتَكَدِّرِ رَوٰى عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَوٰى عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّى

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُتَكَدِّرِ رَوٰى عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَوٰى عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّى

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُتَكَدِّرِ رَوٰى عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَوٰى عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّى

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُتَكَدِّرِ رَوٰى عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَوٰى عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّى

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُتَكَدِّرِ رَوٰى عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَوٰى عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّى

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُتَكَدِّرِ رَوٰى عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَوٰى عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّى

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُتَكَدِّرِ رَوٰى عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَوٰى عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّى

نقل فتح الباری میں ہے کہ یہ صحابہ صحف تھے جن کو باجماع کی توفیق نہ تھی۔ اور انہوں کو کہنے میں پراسنہ یاد تھے کہ روک لادھی سے کی حالت میں بدن کھول نہ جائے۔ مسئلہ اشترک اسلام میں متکدر سنی کی وجہ سے اکثر لوگ ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھا کرتے تھے نہ صرف مسئلہ کی طرف توجہ دلانے کے بلکہ یہی حالت کے اظہار کیلئے بھی جائز ہے ایک کپڑے میں نماز پڑھنا کیونکہ یہ زمانہ تھا جب آسائش بہت زیادہ ہو گئی۔ یہاں پہلی روایت کو مکر بیان کیا ہے مگر صرف ان الفاظ میں روایت جاہرا بصلی فی ثوب واحد تفصیل کے چھوڑ دیا۔ مگر اس قدر زیادہ کیا کہ قال روایت النجی صلعم بصلی فی ثوب یبے بارے کہہ کر میں حضرت صلعم کو ایک ہی کپڑے نماز پڑھنے کو کہہ رہے تھے کہ جس طرح میں نے پڑھی ہے بیٹے کنہوں پر ازار باندھ کر جیسا کہ دوسری روایت میں آتا ہے یصلی کذا + ع۔ ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کی روایات میں ملحق اور متوقف اور خالف بین طرفیہ مشتملہ کے الفاظ آتے ہیں ان سب کے ایک ہی سے ہیں کہ اپنے آپکو اس طرح کپڑے میں بیٹے کہہ کر ایک طرف کان رہ خالف طرف کے کنہے پر ڈالے اور اوپر سے باندھے عرض تھی کہ سارا جسم ڈھک جائے اور روک سجمے میں کپڑے کے گرے کا احتمال بھی نہ رہے۔ ع۔ ان دونوں مکرر روایتوں میں فی بیت ام سلمہ کے لفظ زیادہ ہیں۔ ع۔ مکرر حدیث میں لفظ زیادہ ہیں مسلمت علیہ فقال من ہذا فقلت انا امرہانی بن عبد من عہلہ تا مصلی شان رکعات ملحقاً فی ثوب واحد فلما انصرف قلت یا رسول اللہ نعم ابن امی انہ قال تل صلحاً قد اجرتہ فلان بن عبیدہ فقال رسول اللہ صلعم قد اجرتا من اجرت یا امرہانی قالت امرہانی وذلک صحیح لینی جلیلکم کے بعد حضرت کہا مانی پر مجا ہو میں جب آپ سے فرغ ہوئے اور آٹھ رکعت نماز پڑھی ایک کپڑے میں اپنے آپ کو بیٹے ہوئے (اس کا تعلق باب سے ہے) میں جب آپ فراموش ہوئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ان کا بیٹا (علیؑ) کہتا ہے کہ وہ فلاں شخص ہم سے کہ بیٹے کو جسے بیٹا من ویاہر کہتے ہیں انہوں نے فرمایا سلام ہانی ہے تم نے اس من ویاہر کہنے بھی اسے من ویاہر مانی نے کہا اور وہ نماز چاشت کی تھی۔ یہ اس بات کی شہادت ہے کہ اسلام عورت کو اپنے سے لطف حقوق دینے میں ام ہانی کی حضرت علیؑ کی بن میں کسی شخص کو امن دینی ہو اور حضرت علیؑ سے قتل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن پادشاہ وقت اس حدیث کے عدی من کو برقرار رکھ کر فرمایا کہ جسے تم نے امن یاہر کہنے بھی دے دیا۔

۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰

ع

بش طیکہ کہ اس قدر
کھلا ہو۔ جیسا کہ
اکھل حدیث میں بیخ
کر رہی ہے۔ کہ
تنگ کرنا ہو تو تہ بند
پناک وسط میں باندھ
لے +

ع

یہ اسلئے تاک عورتیں
مردوں کی عورت
کو دیکھ نہ سکیں یہ
نہایت ہی عزت
اور تکرہستی کا
وقت تھا مسلمان
سب مال و دولت
مکہ میں چھوڑ کر حرت
کرائے تھے۔ یہاں
تک کہ بعض کو پہننے
کے لئے کافی کپڑا ہی
نہ ملتا تھا اس دوران
دولت کے مقابل جو
انہیں مل گئی تھی یہ
سب تکلیفیں ہیج نظر
آتی تھیں +

ع

شام ہو وقت گزار کے
قبضہ میں تھا وہ اس
جو کپڑے آتے وہ نہیں
کے ہاتھوں کے بنے
چوستے ہوتے تھے۔
ان آثار کو لاکرتیا ہو
کہ کپڑے کے پاجے میں
تشر و نہ کرنا چاہیے۔
جیسا میں کوئی ظاہر ہی
نہاکی نہ ہو۔ اور شباب
سے رنگے ہوتے کپڑے
میں غالباً مرد حلال
جا لوزوں کا پتلا ہوا
بھڑھری کے نزدیک
نہاکی نہیں۔ نمازیں
اصل تو خضی مشغ
ہے اور ظاہری بھی لکیری
بوجھاو آدھے +

ع

۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰

۲۵۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصِلُنِي أَحَدٌ كَرِهْتُ فِي التَّوْبِ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسے کپڑے میں نماز نہ پڑھے

الْوَّاحِدِ لَيْسَ عَلَيَّ عَلَيْهِ نَتْنِي ۲۵۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

کہ اس کے کندھے پر کچھ نہ ہو۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيَتَّخِذْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ رَأْبًا

صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا دہانے تھے جو کوئی ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو اس کی دونوں طرفوں کو مخالف جانب پر ڈالے۔ باب

إِذَا كَانَ الشُّبُّ ضَيْقًا ۲۵۹) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ

جب کپڑا تنگ ہو سعید بن حارث سے روایت ہے کہ ہم نے جابر بن عبد اللہ سے

عَنِ الصَّلَاةِ فِي التَّوْبِ لِوَاحِدٍ فَقَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ

ایک کپڑے میں نماز کے بارہ میں پوچھا تو کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ آپ کے کسی سفر میں نکلا

أَسْفَارِهِ فَجِئْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ أَمْرِي فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي وَعَلَى تَوْبٍ وَاحِدٍ فَأَشْمَكْتُ

تو میں ایک رات اپنے کسی کام کے لئے آیا اور آپ کو نماز پڑھتے ہوئے پایا اور مجھ پر ایک کپڑا تھا تو میں نے اپنے ہونٹوں کو چمکایا

بِهِ وَصَلَّيْتُ إِلَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَا السُّرِّي يَا جَابِرُ فَأَخْبَرْتُهُ بِحَاجَتِي

اور آپ نے ایک جاغیہ پڑھی پس جب آپ جاغیہ ہونے فرمایا رات کو کیوں کر آئے اے جابر میں نے آپ سے اپنی ضرورت عرض کی

فَلَمَّا فَرَعْتُ قَالَ مَا هَذَا الْإِسْتِمَالُ الَّذِي رَأَيْتُ فَلْتُ كَانَ تَوْبًا قَالَ

جب میں جاغیہ پڑھا فرمایا یہ لپٹینا جو میں نے دیکھا کیا ہے میں نے کہا پڑا ایک تھا فرمایا

فَلَنْ كَانَ وَاسِعًا فَالتَّخَفُّ بِهِ وَلَنْ كَانَ ضَيْقًا فَاتِّزَمْتَهُ ۲۶۰) عَنْ سَهْلِ

اگر فراخ ہو تو اسے لپیٹ لیا کر اور اگر تنگ ہو تو اس سے تہ بند ہاؤ۔ سہل سے روایت ہے کہ

قَالَ كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاقِدِي أُرْجُلِهِمْ

مرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تہ بندوں کو اپنی گردنوں پر باندھتے ہوئے جیسا کہ کرتے ہیں نماز پڑھتے

عَلَى أَعْنَاقِهِمْ كَهَيْئَةِ الصَّبِيَّانِ وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ لَا تَرَفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ حَتَّى

اور عورتوں سے کہا جاتا تھا کہ اپنے سروں کو نہ اٹھاؤ یہاں تک

لَيْسَتْ بِنِسْوَةٍ الرَّجَالُ جُلُوسًا بِأَبِ الصَّلَاةِ فِي الْجُمُعَةِ النَّشِيطَةِ وَقَالَ الْحَسَنُ فِي

کرو دھیک بیٹھ جائیں۔ باب شامی جتہ میں نماز پڑھنا اور حسن

النِّسَابِ يَنْسِبُهَا الْجُورُوسُ لَمْ يَرِهَا بَأْسًا وَقَالَ مَعْمَرٌ رَأَيْتُ الزُّهْرِيَّ يَلْبَسُ مِنْ رِشَابٍ

ایسے کپڑوں کی نسبت جن کو جوس بننے ہیں کہتے ہیں اس میں کوئی ہرج نہیں اور عمر کہتے ہیں کہ میں نے زہری کو دیکھا کہ میں نے وہ کپڑے پہنتے تھے

الْيَمَنُ مَا صُنِعَ بِالْبُولِ وَصَلَّى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي تَوْبٍ غَيْرِ مَقْصُودٍ ۲۶۱) عَنْ مَخْبِرَةَ

جو بیتاب رہے ہوئے تھے اور علی بن ابی طالب نے بن دھوئے کپڑے میں نماز پڑھی۔ مخبرہ

بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ يَا مَعْزَةَ خُذِي أَدَاةَ

بن شعبہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا تو فرمایا اے معزہ سنبھال لے

فَأَخَذْتُهَا فَأَنْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فَقَضَيْتُ حَاجَتَهُ وَ

میں نے اسے لیا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے یہاں تک کہ مجھ سے چھپ گئے اور اپنی حاجت پوری کی اور

عَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ فَذَهَبَ لِيُغْرِمَ يَدَهُ مِنْ كَيْفِهَا فَضَنَّا قَتْنَا فَخَرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَضَبَّ يَدَهُ

آپ پر شامی جبہ تھا تو آپ اپنے ہاتھ کو اسکی آستین سے نکالنے لگے کہ وہ تنگ تھی تو ہاتھ لے اپنے ہاتھ کو اسکی نیچے کو نکالا تو نیچے سے پڑا

وَأَخَذَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَضَبَّ يَدَهُ مِنْ كَيْفِهَا فَضَنَّا قَتْنَا فَخَرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَضَبَّ يَدَهُ

اور اپنے ہاتھ کو اسکی آستین سے نکالنے لگے کہ وہ تنگ تھی تو ہاتھ لے اپنے ہاتھ کو اسکی نیچے کو نکالا تو نیچے سے پڑا

وَأَخَذَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَضَبَّ يَدَهُ مِنْ كَيْفِهَا فَضَنَّا قَتْنَا فَخَرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَضَبَّ يَدَهُ

اور اپنے ہاتھ کو اسکی آستین سے نکالنے لگے کہ وہ تنگ تھی تو ہاتھ لے اپنے ہاتھ کو اسکی نیچے کو نکالا تو نیچے سے پڑا

وَأَخَذَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَضَبَّ يَدَهُ مِنْ كَيْفِهَا فَضَنَّا قَتْنَا فَخَرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَضَبَّ يَدَهُ

اور اپنے ہاتھ کو اسکی آستین سے نکالنے لگے کہ وہ تنگ تھی تو ہاتھ لے اپنے ہاتھ کو اسکی نیچے کو نکالا تو نیچے سے پڑا

وَأَخَذَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَضَبَّ يَدَهُ مِنْ كَيْفِهَا فَضَنَّا قَتْنَا فَخَرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَضَبَّ يَدَهُ

اور اپنے ہاتھ کو اسکی آستین سے نکالنے لگے کہ وہ تنگ تھی تو ہاتھ لے اپنے ہاتھ کو اسکی نیچے کو نکالا تو نیچے سے پڑا

وَأَخَذَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَضَبَّ يَدَهُ مِنْ كَيْفِهَا فَضَنَّا قَتْنَا فَخَرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَضَبَّ يَدَهُ

اور اپنے ہاتھ کو اسکی آستین سے نکالنے لگے کہ وہ تنگ تھی تو ہاتھ لے اپنے ہاتھ کو اسکی نیچے کو نکالا تو نیچے سے پڑا

وَأَخَذَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَضَبَّ يَدَهُ مِنْ كَيْفِهَا فَضَنَّا قَتْنَا فَخَرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَضَبَّ يَدَهُ

اور اپنے ہاتھ کو اسکی آستین سے نکالنے لگے کہ وہ تنگ تھی تو ہاتھ لے اپنے ہاتھ کو اسکی نیچے کو نکالا تو نیچے سے پڑا

وَأَخَذَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَضَبَّ يَدَهُ مِنْ كَيْفِهَا فَضَنَّا قَتْنَا فَخَرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَضَبَّ يَدَهُ

اور اپنے ہاتھ کو اسکی آستین سے نکالنے لگے کہ وہ تنگ تھی تو ہاتھ لے اپنے ہاتھ کو اسکی نیچے کو نکالا تو نیچے سے پڑا

وَأَخَذَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَضَبَّ يَدَهُ مِنْ كَيْفِهَا فَضَنَّا قَتْنَا فَخَرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَضَبَّ يَدَهُ

اور اپنے ہاتھ کو اسکی آستین سے نکالنے لگے کہ وہ تنگ تھی تو ہاتھ لے اپنے ہاتھ کو اسکی نیچے کو نکالا تو نیچے سے پڑا

وَأَخَذَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَضَبَّ يَدَهُ مِنْ كَيْفِهَا فَضَنَّا قَتْنَا فَخَرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَضَبَّ يَدَهُ

اور اپنے ہاتھ کو اسکی آستین سے نکالنے لگے کہ وہ تنگ تھی تو ہاتھ لے اپنے ہاتھ کو اسکی نیچے کو نکالا تو نیچے سے پڑا

وَأَخَذَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَضَبَّ يَدَهُ مِنْ كَيْفِهَا فَضَنَّا قَتْنَا فَخَرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَضَبَّ يَدَهُ

اور اپنے ہاتھ کو اسکی آستین سے نکالنے لگے کہ وہ تنگ تھی تو ہاتھ لے اپنے ہاتھ کو اسکی نیچے کو نکالا تو نیچے سے پڑا

وَأَخَذَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَضَبَّ يَدَهُ مِنْ كَيْفِهَا فَضَنَّا قَتْنَا فَخَرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَضَبَّ يَدَهُ

اور اپنے ہاتھ کو اسکی آستین سے نکالنے لگے کہ وہ تنگ تھی تو ہاتھ لے اپنے ہاتھ کو اسکی نیچے کو نکالا تو نیچے سے پڑا

وَأَخَذَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَضَبَّ يَدَهُ مِنْ كَيْفِهَا فَضَنَّا قَتْنَا فَخَرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَضَبَّ يَدَهُ

اور اپنے ہاتھ کو اسکی آستین سے نکالنے لگے کہ وہ تنگ تھی تو ہاتھ لے اپنے ہاتھ کو اسکی نیچے کو نکالا تو نیچے سے پڑا

وَأَخَذَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَضَبَّ يَدَهُ مِنْ كَيْفِهَا فَضَنَّا قَتْنَا فَخَرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَضَبَّ يَدَهُ

عَلَيْهِ فِتْوَاً وَصَوًّا كَالصَّلَاةِ وَمَسَّحَ عَلَى خُفَيْهِ ثُمَّ صَلَّى بِأَبِ كَرَاهِيَةِ النَّعْرِيِّ

تو آپ نے نماز کے وضو کی طرح وضو کیا اور دو ہاتھ پر مسح کیا پھر نماز پڑھی

باب ننگا ہونا مکہ سے رو رو

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْتَقِلُ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا (۲۶۲) عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَّبَ إِلَيْهِ كَبْشَةً فَجَعَلَ يَلْعَقُهَا

نماز میں جو یا غیر نماز میں جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیا تھو (تعمیر) کیو

مَكَلِّبِكَ دُونَ الْحَجَّارَةِ قَالَ فَحَلَّاهُ عَلَى مَنكِبِيهِ فَسَقَطَ مَعْرِشَتَا عَلَيْهِ فَمَا أَرَى بَعْدَ ذَلِكَ كَأَنَّهُمْ يَبْهَرُونَ كَيْفَ رَكِبُوا نَوَافِلَ مِنْهُ

کے واسطے پھر اٹھائے تھے اور آپ پر آپ کا تہ بند تھا پس میں اس آپ کے چلنے سے کہا

عَنْ يَأْتَا بَابَ الصَّلَاةِ فِي الْفَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالنَّبَاتِ وَالْقَبَاءِ (۲۶۳) عَنْ

باب کرتے اور پانچوں اور جاگنیے اور چنے میں نماز سے

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھا تو آپ نے ایک کپڑے میں ملا کہ باہر میں پوچھا

فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ أَوْ كَلَّمَهُ جِدُّ ثَوْبَيْنِ ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ فَقَالَ إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ

آپ نے فرمایا کیا تم میں کسی ہر ایک کو دیکھو سے پانچویں پھر ایک شخص نے حضرت عمر سے پوچھا تو فرمایا جب خدا نے فرمادہ

ثَوْبًا وَسَّعَا جَمْعَ رَجُلٍ عَلَيْهِ شَيْءٌ صَلَّى رَجُلٌ فِي إِذَا رُقْدَاءِ فِي إِذَا رُقْدَاءِ فِي إِذَا رُقْدَاءِ

تو فرمادہ کرو ایک شخص اپنے پر اپنے کپڑے سے جمع کر لے آدی تو بند اور پادریں تہ بند اور کپڑے میں تہ بند

وَقَبَاءِ فِي سَرَاوِيلٍ وَرِدَاءِ فِي سَرَاوِيلٍ وَفَمِيصِ فِي سَرَاوِيلٍ وَقَبَاءِ فِي ثُبَانٍ وَ

اور چنے میں پاجامہ اور پادریں پاجامہ اور کرتے میں پاجامہ اور چنے میں جاگنیے اور چنے میں جاگنیے اور نہیں میں

قَبَاءِ فِي ثُبَانٍ وَفَمِيصِ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ فِي ثُبَانٍ وَرِدَاءِ (۲۶۴) عَنْ ابْنِ

نماز پڑھنے سے کہا اور میں خیال کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا جاگنیے اور پادریں

عَمْرٍو مَتَّكَرَةً - ۱۱۵ بَابُ مَا يَسْتَدْرِكُ مِنَ الْوَعْدَةِ (۲۶۴) عَنْ ابْنِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

دیکھو حدیث نمبر ۱۱۵ باب وہ جگہ جو ڈالنی جائے اور وہ مشرک کا ہے ابو سعید خدری سے روایت ہے

أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اسْتِمَالِ الصَّمَاءِ وَأَنَّ

کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استمال صماء سے اور

بِحَتْبِي الرَّحُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ (۲۶۵) عَنْ

مرد کے ایک کپڑے میں گوٹ مارنے سے کہ اس کی مشرک کا ہے اس سے کچھ نہ ہو منع فرمایا ہے

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعَتَيْنِ عَنِ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعہ کی دو قسموں

علا ظاہر ہے کہ یہی ایسے وقت کا واقعہ ہے جب آپ کی عمر بہت چھوٹی تھی۔ اور کبیر کبیر کے اس زمانہ کا واقعہ نہیں جب آپ کی عمر ۳۵ سال تھی اور یا مطلب یہ ہے کہ کبیر کو کتہ رسوں تک پہنچا کر یا جس سے نماز میں رہا رہیں تھی جو تیس دن تک ہونا سارا نہیں کیونکہ احادیث سے ثابت ہو کر آپ میں کنواری کی طرح صاف تھی حد ثبات پانچواں یا نو سو گئے ہیں جس کا عمل اللہ تک لکھا ہے یعنی جو پاجامہ کی طرح چھوڑے نیچے نہیں لگائے یا کچھ کیساتھ تھیں تو نہ پڑتی کیونکہ بعض لوگ جو سستی کی وجہ سے نماز کے وقت اپنے اچھے لباس زیب تن نہیں کرتے بلکہ کوئی معمولی کپڑا پہنیت لپاٹ کر نماز پڑھتے ہیں تو یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ اس حدیث میں یہ لفظ زائد ہے بلا العمامۃ یعنی عمر بگڑی بھی نہ ہاندھے۔ اشتغال الصماء ایک کپڑے کو سطح لپٹ لینا کہ تھو وغیرہ سب اس کے اندر بند ہو جائیں۔ ایک کپڑا ہر دو بیعہ ہے اسلئے کہ کبیر میں ہاتھ اٹھانے وقت یا دو سری حرکات میں ستر کھل جائیگا۔ ایسا ہی احتیاط ایک کپڑے میں منع ہے یعنی اس طرح بیٹھنا کہ سرین زمین کے ساتھ ہوں اور گھٹنے کھڑے کیونکہ اس میں ستر کھل جائیگا۔

۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ مجھے حضرت ابو بکر نے اس حج میں

یاد دہری حرکات میں ستر کھل جائیگا۔ ایسا ہی احتیاط ایک کپڑے میں منع ہے یعنی اس طرح بیٹھنا کہ سرین زمین کے ساتھ ہوں اور گھٹنے کھڑے کیونکہ اس میں ستر کھل جائیگا۔

ظہر ہوتا ہے۔ مسیح لاس ہی کہ چیز کو چھونے سے سو قطنی ہو جاتا ہے اور نبادیکر پھینکنے سے قطنی ہو جاتا ہے +

فِي مُؤَذِّنِينَ يَوْمَ النَّحْرِ ذُنُوبِهِمْ إِنْ كَانُوا يُحِبُّونَ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكًا وَلَا يَطُوفُ

قرانی کے دن اعلان کرنے والوں میں متفرک کیا تاکہ معنی میں اعلان کریں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور

بِالْبَيْتِ عَرَبِيًّا قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثُمَّ أَسْرَدَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

ننگا بیت اللہ کا طواف نہ کرے حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَدَّنَ بِبَرَاءَةِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ

حضرت علیؑ کو پچھتے بیجا اور انہیں کھدیا کہ سورہ براءت کا اعلان کریں ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ نے ہمارے ساتھ

فِي أَهْلِ مِثْلِي يَوْمَ النَّحْرِ لَا يُحِبُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكًا وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَرَبِيًّا

اہل مئی میں قرانی کے دن یہ اعلان کیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ کوئی ننگا ہو کر بیت اللہ

بَابُ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ (۹۴) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُشْكَرِ (مُسْنَدُهُ - ۲۵۴)

باب بغير چادر کے طواف کرنا دیکھو حدیث نمبر ۲۵۴

بَابُ مَا يُدْرِكُ فِي الْفَجْرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَيُدْرِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَزْهَدٍ وَ

باب اس کا جو ران کے بارہ میں بیان کیا جاتا ہے ابو عبد اللہ کہتا ہے کہ ابن عباس اور جہد اور

مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرُ عَوْرَةٌ وَقَالَ أَنَسُ حَسَرَ

محمد بن جحش کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جاتی ہے کہ ران ستر ہے اور اس کہتے ہیں

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فُجْدَةَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَحَدِيثُ النَّبِيِّ سُنْدٌ وَ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران سے کپڑا اٹھایا اور ابو عبد اللہ کہتا ہے اس کی حدیث کی سند اچھی ہے اور

حَدِيثُ جَزْهَدٍ أَحْوَجُ حَتَّى اخْتَلَفَ مِنْهُ وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَطَى النَّبِيَّ

جو ہد کی حدیث زیادہ احتیاط والی ہے تاکہ ہم ان کے اختلاف سے بھل جائیں اور ابو موسیٰ کہتے ہیں نبی کریم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنْزَلَ اللَّهُ

صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھنٹوں کو جس وقت حضرت عثمان داخل ہوئے ڈھانک لیا اور زید بن ثابت نے کہا اٹھنے

عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُجْدَةُ عَلَى فُجْدَةَ نَفَعْتُكَ عَلَى حَتَّى خَفْتُ

اپنے رسول پر (یعنی) اذتاری اور آپ کی ران میری ران پر تھی پس میں تک بوجھل ہو گئی کہ مجھے اپنی

أَنَّ تَرَضَّ فُجْدَةَ (۲۶۷) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ران کے ٹوٹ جانے کا خوف ہوا اس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

عَزَّاجِبٌ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِعَلْسٍ فَكَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عجیب کی کڑالی میں گئے پس مجھے شہر کے پاس صبح کی نماز اذتھیرت میں پڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے

وَمَرَّكَبُ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا مَرْدِيْفَةُ ابْنِي طَلْحَةَ فَأَجْرِي نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

اور ابو طلحہ سوار ہوا اور میں ابی طلحہ کے پیچھے سوار ہوا پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے (سوار ہو کر)

رُفَاتِي خَيْبَرًا وَأَنَّ رُبِّي لَمْ يَسْ فَخَذَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَسَرَ لَرَأَى

خبر کی گھنٹوں میں دوڑا یا اور میرا گھنٹہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کو چھونا تھا پھر آپ نے نہ بند کر

عَنْ فُجْدَةَ حَتَّى آتَنِي أَنْظُرَ إِلَى بِيَاضِ فُجْدَةِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا دَخَلَ الْفَرَجَ

ابی ران سے اٹھایا بیان تک کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کی سفیدی دیکھ رہا تھا جب آپ کا گوشہ داخل ہوئے

قَالَ اللَّهُ الْكَبْرُ حَرَبٌ خَيْبَرًا إِذَا نَزَلَتْ إِسْأَحًا قَوْمٌ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ قَالَهَا

کہا اللہ اکبر حیرت بیان ہوا جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر جاتے ہیں تو ان کی صبح بھری ہو جاتی ہے

یہ حج حجۃ الوداع سے ایک سال پہلے تھا۔ اس میں یہ منادی کرائی گئی کہ ننگا ہو کر کوئی شخص بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ستر عورت ضروری ہے۔ مکرر روایت میں بیجا نیاب کے رداء کا لفظ ہے یعنی چادر رکھی ہوئی تھی اور کچھ اور بھی تیز لفظی ہے۔ مثلاً معترض ایک ہونیکے کہنے پر جمع کا صیغہ ہے۔ قلنا اور جواب میں ہی حجۃ الیمال مثلاً عنوان باب سے ہی حصہ کا تعلق ہے۔ ران کے ستر ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے۔ مگر اس حدیث سے آنحضرت مسلم کا اپنی ران سے کپڑا اٹھانے ثابت ہے۔ دونوں میں تطبیق ہیں جو سکتی ہے کہ ران کا پچلا حصہ جو گھنٹے سے ملتا ہے ستر میں داخل نہیں مگر اوپر کا حصہ ستر میں داخل ہوا اور غالباً اس حدیث کا منتہا بھی یہی ہو کہ ران کے پچھے حصہ سے کپڑا اٹھایا اور یہ کسی ضرورت سے کیئے ہوگا

۱۰۶

ثَلَاثًا قَالَ وَخَدِمَ الْقَوْمَ إِلَىٰ أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدًا قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَالَ بَعْضُ

یہ تین بار کہا (انس نے) کہا اور قوم اپنے کاموں کے واسطے نکلی ہیں انہوں نے کہا محمد ہے عبد العزیز نے کہا کہ ہمارے بعض اصحاب بناوا الخمیس یعنی چھینن قال فاصبناها عتوة جعوم السبئی فجاء دحیة

کہا اور ہم نے خیر کو طاقت سے فتح کیا اور نبی اے کھینے کے لئے اور حبیہ آیا فقال یا نبی الله اعطنی جارية من السبئی فقال اذهب فخذ جارية فاخذ

اور کہا اے اللہ کے نبی مجھ کو دیوں میں سے ایک لونڈی دیجئے تو اپنے فرما باجا اور ایک لونڈی لے لے صفيّة بنت حبي فاجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال

اس نے صفیہ جی کی بیٹی کو لے لیا پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا یا نبی الله اعطيت دحية صفيّة بنت حبي سيدة قرظية والنضير

اے خدا کے نبی آپ نے دحیہ کو صفیہ جی کی بیٹی قرظیہ اور نصیر کی سرور دیکھا لا تصلمه الا لك قال ادعوه بها فاجاء بها فلما نظر اليها النبي صلى

وہ صرف آپ کے لئے ہو سکتی ہے فرمایا اسے اس (نصیر) سمیت بلاؤ گدوہی یا بس جب گو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبئی غيرها قال فاعتقها النبي

فرمایا نبیوں میں سے اس کے سوا کوئی اور لونڈی لے لو کہا پہلے اس کو نبی کریم صلي الله عليه وسلم واتروها فقال له ثابت يا ابا حمزة ما

صلى الله عليه وسلم نے آزاد کر دیا اور اسے اپنے نکاح میں لائے ثابت نے اسے (انس سے) کہا اے ابو حمزہ اس کو اصداقها قال بنسها اعتقها واتروها حتى اذا كان بالطريق جزتها

مرا کر دیا کہا اس کا نفس بے آزاد کر دیا اور اس سے نکاح کیا یہاں تک کہ جب آپ راستہ میں له امر سليم فاهدتها له من الليل فاصبح النبي صلى الله عليه وسلم

تو اسے لے آئے آپ کے لئے آہستہ کیا اور رات کو آپ کے ہاں بھیجا پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عروسا فقال من كان عنده شئ فليبي به ولا يسطرطعا فجعل

دولہا ہر صبح کی فرمایا جس کے پاس کچھ ہو اسے لے آئے اور دستہ خزان لگایا الرجل يبي بالتمز وجعل الرجل يجبي بالسب من قال واحسبه قد

کوئی شخص مجھ پر لایا اور کوئی کہی لایا کہا اور میں خیال کرتا ہوں کہ ذكر السويق قال فاسوا حبيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم

سنو کا ذکر کیا پس انہوں نے نالیہ بنایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا عمل باب في كفضلي المرأة من الشيايب وقال عكرمة لو دارت جسد هاني ثوب جاز

باب عورت کتنے کپڑوں میں ناز پڑھے اور عکرمة کہتے ہیں اگر اسے اپنے بدن کو ایک کپڑے میں بچھایا تو جازرہ عن عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے الفجر فشهد معك لسانك من المؤمنات متكفات في مروطين ثم يرحون

تو آپ کے ساتھ مومن عورتیں حاضر ہوتیں اپنی چادروں میں لپیٹی ہوئیں پھر اپنے

یہ واقعات بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلعم باوجود بادشاہت پر پہنچ جانے کے کس قدر سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ یہودیوں کی دولت کے قصے تو ہر ملک میں مشہور ہیں اور عیال بادشاہوں سے جو جو اذیتیں دیکر یہودیوں کا حال لیا ہے اس پر تاریخ گواہ ہے لیکن شاہ عرب یہودی قوم کو جنگ میں فتح کرنے کے بعد بھی اسی غالی ہاتھ آتے ہیں کہ اپنی شادی کی دعوت تو یہ پڑ بھی یہی ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے لئے گھر سے کھانا لے آؤ۔ اور سفوار کچھ رطلار کھانے جاتے ہیں حضرت صفیہ سے نکاح کی اصل عرض صاف نظر آتی ہے یہودی قوم پر آپ نے بڑے بڑے احسان کیے مگر یہ قوم ہوش اسنان اس سے کام لیکر آپ کے ساتھ غداری کرتی رہی اسکا آفری علاج آئے یہ کیا کران کے ساتھ تعلق رشتہ داری پیدا کیا اور اسی لئے حضرت صفیہ شادی کی + صفیہ ایک لونڈی تھیں اور حضرت صلعم چاہے تو اسے لونڈی کی حیثیت میں ہی نکاح کرتے۔ عرب میں عام رواج تھا۔ لیکن آپ دنیا کو غلامی سے آزاد

کرنے آئے تھے۔ اسلئے آپ نے اسے بچے آزاد کیا اور پھر اس سے نکاح کیا اور اسے زوجیت کے حقوق عطا فرمائے جو زینبی بیویوں کو حاصل تھے۔ حالانکہ انہی خیر میں ایک عورت کے اقد سے کم نہ رہی ال چکا تھا۔ مسلمانوں کیلئے کیا نہ تھا کہ وہ کسی کو غلام اور لونڈی کی حیثیت میں نہ رکھیں۔ اور کیسے اطلاق اور کس قدر وسیع تھیں +

رَأَى بَيُوتَهُنَّ مَا بَعَثَ فُضُّهُنَّ أَحَدٌ يَأْتِي إِذَا صَلَّى فِي ثَوْبٍ لَهُ أَعْلَامٌ وَنَظَرَ

گھروں کو لٹ جائیں ان کو کوئی پہچاننا نہ تھا۔ باب جب عاشرے والے کپڑے میں نماز پڑھے اور اسکے حاشیے پہلوں دیکھے

إِلَى عِلْمِهَا (۲۶۹) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

خَيْصَصَهُ لَهَا أَعْلَامٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ أَذْهَبُوا بِمَجِيصِي هَذَا

حاشیے والی چادر میں نماز پڑھی اور اسکے حاشیے کو ایک بار دیکھا تو جب فارغ ہوئے فرمایا میری یہ لونی

إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأَتُونِي بِأَنْبِجَانِيَةِ أَبِي جَهْمٍ فَأَتَاهَا الصَّنْبِيُّ إِفْزَاعًا عَنْ صَلَاتِي وَقَالَ هَشَامُ

ابی جہم کے پاس لیجاؤ اور مجھے ابوجہم کی انبجانی چادر لادو کیونکہ اس نے ابی جہم سے اپنی ناد سے غافل کر دیا اور ہشام

ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى

بن عروہ نے اپنے باپ سے حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نقش کپڑوں دیکھتا تھا

عَلَيْهَا وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأَخَافُ أَنْ يُفْتِنَنِي بَابُ إِنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ أَوْ

اور میں نماز میں تھا تو میں ڈرتا ہوں کہ مجھے تکفیر میں ڈالے گی۔ باب اگر صلیب والے یا تصویر والے کپڑے میں نماز پڑھے

تَصَابُورٍ هَلْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَمَا يُنْبِئُ مِنْ ذَلِكَ (۲۷۰) عَنْ النَّسَائِيِّ قَالَ كَانَ قِرَامُ

تو کیا اس کی نماز فاسد ہوگی اور جو اس سے کہ میں منع کیا جانا کر۔ ابن سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ کا ایک پردہ تھا

لِعَائِشَةَ سَدَّتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرِمِطِي عَنَّا

انہوں نے اپنے گھر کی ایک طرف کو اس سے ڈانکا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا پردہ ہم سے ہٹا دو

فَرَمَكْ هَذَا فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَابُورِيَهُ تَعْرِضُ فِي صَلَاتِي بَابُ مَنْ صَلَّى فِي

کیوں کہ اس کی تصویر میں میری نماز میں ملنے آتی رہتی ہیں۔ باب جو ریشم کے چاک والے پتھر

فَرُوجٍ حَرِيرٍ ثُمَّ نَزَعَهُ (۲۷۱) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَهْدَى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

نماز پڑھے پھر اس کو اتار دئے عقین عامر سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُوجٌ حَرِيرٍ فَلَيْسَ فِيهِ فَضْلٌ لَمْ يَنْصَرَفْ فَذَرَعَهُ نَزَعَهُ عَائِشَةُ بَدَلًا كَالْكَارِ

مذہب کے پاس ریشمی چاک والے حصے کا پردہ لایا گیا پس آپ نے اسے پھینکا اور اس میں نماز پڑھی پھر فارغ ہوئے تو اس کو سختی کے ساتھ اتارا اور اس کو پھاڑ

لَهُ وَقَالَ لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْأَخْمَرِ (۲۷۲) عَنْ أَبِي

اور فرمایا یہ متقینوں کے لئے نہیں چاہئے۔ باب سرخ کپڑے میں نماز پڑھنا ابی

جَحِيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةِ هَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ وَرَأَيْتُ

جھبڑ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چمڑے کے سرخ قمیض میں دیکھا اور بلال کو دیکھا

اس سے معلوم ہوا کہ عورتیں مردوں کی طرح شریک نماز ہوتی تھیں یہاں تک کہ فجر کی نماز میں آتی تھیں دوسری روایت میں ہے کہ تاریکی کی وجہ سے وہ نہ پہنچانی جاتی تھیں آج ہی سنت نبوی مسلمانوں میں باطل منسوخ ہے اور ہرگز کو ایک بیت بنایا گیا ہے جس کے سامنے سنت نبوی کو کھینچ نہیں رہی + معلوم ہوتا ہے کہ اس حاشیے پر کوئی خاص قسم کی تصاویر تھیں جن کی وجہ سے آپ کی توجہ ہٹ گئی۔ ورنہ کھنچنا ہی چیز نہ تھی۔ نبی کریم صلعم کا وہ صاری دار پتلا پہننا ثابت ہے اور حاشیہ بھی ایک صاری کی طرح ہی ہوتا ہے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلعم کی نماز میں کس قدر توجہ ہے اللہ ہوتی تھی کہ اپنے چیز کو بھی جو غفل ہو سکے پڑ نہیں کیا۔

بَابُ مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ أَوْ تَصَابُورٍ

بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْأَخْمَرِ

بَابُ مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ أَوْ تَصَابُورٍ

استحسان جگہ کا نام جو اور انجانیاں اس ہوتی سادہ چادر کہتے تھے جو دامن سے بن کر آتی تھی + عسل تصویر والے پردہ کو پسند نہ کیا اس لئے کہ نماز میں یہ تصویریں غفل نہ ہوں اور صرف یہ فرمایا کہ ہٹا دو اگر تصویروں کی مطلق عزت ہوتی تو یوں فرماتے کہ ان کا رکھنا ہی جائز نہیں۔ صلیب کی تصویر کا ذکر حدیث میں نہیں۔ امام بخاری نے استدلال کیا ہے اس لئے کہ ایسی تصویریں یوں ہی کپڑوں پر ہوتی تھیں امام بخاری نے کہا ایسا اس میں روایت حضرت عائشہ ابیہ بیت بیان کی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقرہ فی بدیئہ شعی فیہ تصویبہ لا لافضلہ اور ایسا میں نے مستند اور ایضا با کا لفظ بڑا بڑا جو کل ہے کہ وہ صلیب کے لفظ سے جو باب میں اس حدیث کی طرف اشارہ ہو۔ صلیب کی تصویر کو دو درکے کا یہ جوش اس طرف اشارہ تھا کہ صلیب مذہب کو مٹانے کے لئے آپ آئے ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ مساجد میں نقش و نگار رکھنا چاہئیں۔ البتہ اس حدیث سے ثابت نہیں ہوتا کہ تصویروں والے کپڑے میں یہ تصویریں رکھنا چاہئے جوئے ناز فاسد ہوتی ہے ایسی جگہ پر آئے نماز کو پسند نہیں کیا تاکہ نماز میں توجہ دوسری طرف نہ جائے اور بتایا ہے کہ ظلم حالت بھی ایسی ہوتی چاہئے کہ نماز میں تاثر توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اور جو چیز اس توجہ میں غفل ڈالنے والی ہو اسے دور کیا جائے + عسل شریعی لباس کو ناپسند فرمایا۔ لیکن یہ علم بر کورہوں کیلئے ریشم منہ نہیں لے کر متقی حدیث بھی ریشم پہن سکتی ہو۔ تو معلوم ہوا کہ بعض باتوں میں مردوں اور عورتوں کے لئے آنگے بھی ایک مراتب بزرگ ہیں۔ کیونکہ قدرت نے بھی ایک حد تک انہیں الگ الگ قسم کے کام سپرد رکھے ہیں۔ یہ بھی ہوا کہ ریشم کاٹوں کے لئے کنا ایک حد تک کی بنا رہیں۔ بلکہ اور علاج کی بنا پر ہے۔ اور وہاں غرض یہ ہے کہ اپنے آپ کو شقت کا عادی نہ رکھیں۔

بِلَا آخِذَ وَضَوْءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَتَّبِعُونَ ذَلِكَ الْوَضُوءَ

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لے ہوئے تھے اور دیکھا کہ لوگ اس پانی کو لینے کی جلدی کرتے تھے

فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا مَسَّحَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَكْلِ يَدَيْهِ صَاحِبَهُ ثُمَّ

پس جو اس پانی سے کھڑے سکا اس کو ہاتھ پہل لینا اور جو اس سے کھڑے نہ سکا وہ اپنے سامنے ہاتھ کی تری سے لینا

رَأَيْتُ بِلَا آخِذَ عَزْرَةَ لَهُ فَوَكَزَهَا وَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةِ حَمْرَاءَ

پھر میں نے بلا کو دیکھا کہ اپنی برہمی لے اور اسے گاڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ لباس میں گئے چند یوں سے اٹھا ہوا

مُشَمَّرًا صَلَّى إِلَى الْعَزْرَةِ بِالنَّاسِ رُكْعَتَيْنِ وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالذَّوَابَّ يَمْزُونَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ

تہ بند ہاتھ سے ہوتے تھے برہمی کو سامنے رکھ کر لوگوں کو دو رکعت نماز پڑھائی اور میں نے لوگوں کو چار یوں کو برہمی کے سامنے سرگردن ہونے دیکھا

الْعَزْرَةَ يَا أَيُّهَا الصَّلَاةُ فِي السُّجُودِ وَالْمَيْمَرِ وَالْخَشْبِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَكَمْ سَيَّرَ لِحَسَنِ بَأْسًا

باب چمنوں اور سنبر اور کڑیوں پر نماز پڑھنا ابو عبد اللہ کہتا ہے حسن

أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجَمْرِ وَالْفَنَاطِيرِ وَإِنْ جَرَى تَحْتَهَا بَوْلٌ أَوْ فَوْقَهَا أَوْ مَاءٌ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا

نیچے ہوئے پانی اور یوں پر نماز پڑھتے پھر نماز سمجھتے تھے اگرچہ اس کے نیچے مٹی یا پانی ہو یا اس کے اوپر یا اس کے سامنے جبکہ

سُدْرَةٌ وَصَلَّى أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْأَمَامِ وَصَلَّى بَنُو عُمَرَ عَلَى الشَّلْجِ

دو تلوں کے درمیان آڑ ہو اور ابو ہریرہ نے مسجد کی چھت کے اوپر امام کی نماز کا اقتدار کرنے ہوئے نماز پڑھی اور بنو عمر نے برف پر نماز پڑھی

(۲۶۳) عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَسْمَلَ بْنَ سَعْدٍ مِنْ أَبِي شَيْبَةَ الْمَدِينِيِّ قَالَ مَا بَقِيَ

ابو حازم سے روایت ہے کہ لوگوں نے اسئل بن سعد سے پوچھا کہ میرے پاس چہرہ کا تھا اس نے کہا مجھ سے

فِي النَّاسِ أَعْلَمُ بِهِ مِثْرِي هُوَ مِنْ أَثَلِ لُغَابَةِ عَمَلِهِ فَلَنْ مَوْلَى فَلَا نَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

اسکا زیادہ جاننے والا لوگوں میں کوئی نہیں ہے غالبہ سے کھجاؤ کا تھا اس کو فلاں عورت کے فلاں آزاد غلام نے رسول اللہ صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ عَمِلَ وَوَضِعَهُ فَاسْتَقْبَلَ لِقَبْلَةِ

علیہ وسلم کے واسطے بنایا تھا اور میں وقت بنایا اور کھیا گیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور قبلہ کی طرف رخ کیا

وَكَبَّرَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ فَقَرَأَ وَرَكَعَ وَرَكَعَ النَّاسُ خَلْفَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى

اللہ اکبر کہا اور لوگ آگے پیچھے کھڑے ہوئے علی نماز کرتے پڑھی اور رکوع کیا اور لوگ اس کے پیچھے رکوع کیا پھر سر اٹھایا پھر پلٹے پلٹے پیچھے

فَسَجَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ عَادَ عَلَى مِثْرَتِهِ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ قَهْقَرَى حَتَّى

اور زمین پر سجدہ کیا پھر مہر پر پڑھ آئے پھر قرآن پڑھی پھر رکوع کیا پھر پلٹا سر اٹھایا پھر پلٹے پلٹے پیچھے بنے یہاں تک

سَجَدَ بِالْأَرْضِ مِنْهَا شَأْنُهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ كَمَا كَرِهَ مِنْ عَمَلِهِ

کہ زمین پر سجدہ کیا سو یہ سنبر کا نکتہ ہے ابو عبد اللہ کہتا ہے علی بن عبد اللہ نے کہا کہ اس میں عیب ہے

عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ وَإِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَعْلَى مِنْ

مجھ سے اس حدیث کے متعلق پوچھا کہا اور تمہارا یہ خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے اوپر تھے

النَّاسِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ الْأَمَامُ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَقُلْتُ فَإِنَّ سَفِينِ بْنِ

تو کوئی ہرج نہیں کہ امام لوگوں سے اوپر ہو اس حدیث کے رو سے کہا پس میں نے کہا کہ سفیان بن

عَيْنِيهَ كَانَ يُسْأَلُ عَنْ هَذَا كَثِيرًا فَلَمْ تَسْمَعْ مِنْهُ قَالَ (۲۶۴) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

عیبہ ہمت دغا کے متعلق پوچھا جاتا تھا تو مجھ سے اس سے نہیں سنا کہا نہیں انس بن مالک سے روایت ہے کہ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ فَخَشِتَتْ سَاقَهُ أَوْ كَيْفَهُ

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی گھوڑے سے گر پڑے تو آپ کی پنڈلی یا ہانگہ کا جھل گیا

۱
ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ
سرخ دھاریوں والا
کپڑا تھا۔ خواہ کچھ
بھی ہو مطلب یہ ہے
کہ لباس کسی رنگ کا
ہو یا دھاریاں نہ ہو
اس سے ظاہر ہے
نہیں آتا اور پانی
لینے کا واقعہ صلح
حدیبیہ کا ہے +

۲
غالبہ ایک موضع ہے جو
مدینہ کے قریب ہے یہ
جہاں جس سے سنبر بنا
تھا اسی غالبہ سے
لایا گیا تھا +

۳
چھت اور پل وغیرہ
پر نماز پڑھنے کا ہے
اسد اللہ اس حدیث
کیا ہے بعض روایات
میں آتا ہے کہ آپ
نے سنبر پر چڑھ کر
لوگوں کی تعلیم کے
لئے نماز پڑھی اور
پھر فرمایا صلوا
کہا یا آئینہ صوفی
اصولی جیسا کہ
تم نے مجھ نماز
پڑھتے ہوئے دیکھا
ایسا ہی تم بھی پڑھو
لیکن حدیث کا اصل
منشا یہ ہے کہ امام
اور مقتدی وقت
ضرورت آگ آگ
سطح پر بھی ہو سکتے
ہیں جیسے اگر امام چھت
پر نماز پڑھ رہا ہو
تو جائز ہے کہ مقتدی
چلی سطح پر ہوں
بشرطیکہ ضرورت
ہو +

۲۶۲

۲۶۳

وَالِي مِنْ تِسَاثِمِ شَهْرٍ فَجَلَسَ فِي مَشْرِبَةٍ لَهُ دَرَجَتَهَا مِنْ جُدُوْعِ النَّخْلِ

اور آپ اپنی بیویوں سے ایک ماہ الگ رہنے کی قسم کھائی پس اسے بالا خانے میں جس کی سیرمی کھجور کے تنوں کی تھی آپ بھیجے گئے

فَأَنَاهُ أَصْحَابُهُ يَجُودُونَ فَصَلَّى بِسَمِجَالِيسٍ وَهُمْ قِيَامٌ فَلَمَّا سَأَمَ قَالَ إِنَّمَا

اور آپ کے اصحاب آپ کی عبادت کیلئے آپ کے پاس آئے تو آپ نے انہیں بیچکر نماز پڑھائی اور وہ کھڑے تھے علم توجیب سلام پھیر کر دیا کہ امام صحت

جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَثُرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا

اس واسطے مقرر کیا گیا کہ اس کی پیروی کی جائے توجیب تکبیر کے لئے تو اللہ کی قسم کہ اور جب کوع کرے تو رکوع کرو اور جب سجدہ کرے تو سجدہ کرو

وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَنَزَلَ لَيْسَعٌ وَعِشْرُونَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ

اور اگر کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھو اور آپ انیس کے بعد اترے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ

إِنَّكَ آتَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ بَابٌ إِذَا آصَابَ

آپ نے ایک مہینہ کی قسم کھائی تھی تو فرمایا یہ مہینہ انیس کا ہے بَاب جب نماز پڑھنے والے کا

تَوْبُ الْمَصْلِيِّ إِمْرَأَتُهُ إِذَا سَجَدَ (مِر ۹۵) عَنْ مَيْمُونَةَ (مُتَكَرِّرًا - ۲۳۵) بَابٌ

سجدہ کے وقت اس کی عورت کو لگ جائے دیکھو حدیث نمبر ۲۳۵ ع باب

الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصْبِيِّ وَصَلَّى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو سَعِيدٍ فِي السَّفِينَةِ

پڑھائی یہ نماز پڑھنا اور جابر بن عبد اللہ اور ابو سعید نے کشتی میں

قَائِمًا وَقَالَ الْحَسَنُ تَصَلُّي قَائِمًا مَا لَمْ يَشُقَّ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ تَدُورُ مَعَهَا وَ

کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور حسن کہتے ہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھو جب تک تمہارے ساتھیوں کو دقت نہ ہو کشتی کے ساتھ گھومتے ہوئے

إِلَّا فَقَاعِدًا (۲۴۵) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّ تَهُ مُلِيكَةَ دَعَمَتْ رَسُولًا

ورز بیٹھ کر علم انس بن مالک سے روایت ہے کہ اس کی نانی ملیکہ نے رسول اللہ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَطَعَمَ صَنَعَتْ لَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ تَسُومُوا

صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے واسطے جو انہوں نے آپ کے لئے تیار کیا تھا بلایا تو آپ نے اس سے کھایا پھر فرمایا کھڑے ہو جاؤ

فَلَا صَلِّيْكُمْ قَالَ أَنَسٌ فَقَمْتُ إِلَى حَصْبٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طَوْلٍ مَا

تا کہ تمہیں نماز پڑھاؤں انس کہتے ہیں پس میں بنی ایک چٹائی کو لینے کے لئے جو زیادہ استعمال سے سیاہ ہو گئی تھی اٹھا اور اسے میں

لَيْسَ فَصَنَعْتُهُ لِمَاؤٍ فَتَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ

پانی سے دھویا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور

وَالْيَسْبِيْمِ وَرَأَتْهُ وَالْجَوْزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

میں نے اور ایک یسبیم نے آپ کے پیچھے صف باندھی اور جویا (نانی) ہمارے پیچھے تھی پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپوں دو رکعت نماز پڑھائی

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخَمْزَةِ (مِر ۹۶)

بَاب چوتھے مصلی پر نماز پڑھنا

عَنْ مَيْمُونَةَ (مُتَكَرِّرًا - ۲۳۵) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْفَدَائِشِ وَ

بَاب چھوٹے نماز پڑھنا

صَلَّى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى فِدَائِشِهِ وَقَالَ أَنَسٌ كُنَّا نَصَلِّي مَعَ الشَّيْبِ

اور انس بن مالک نے اپنے چھوٹے پر نماز پڑھی اور انس کہتے ہیں ہم نبی کریم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسْجُدُ أَحَدُنَا عَلَى ثَوْبِهِ (۲۴۶) عَنْ عَائِشَةَ

صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو ایک ہم میں سے اپنے پیرے پر سجدہ کرتا تھا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت عائشہ

عہ خفیف توفیقی
یہ روایت میں بدوہ
آئی ہے علم
یعنی بالا خانے پر
آپ نے انہیں نماز
پڑھائی اور کہا
سے توجیب الباب
نایت ہوتا ہے
کہ چھت پر نماز
پڑھنا جائز ہے
علم
کاڑی میں نماز
پڑھنے کا بھی
یہی حکم ہے -
کھڑا ہو کر پڑھے
یا بیٹھ کر - اللہ
کاڑی میں کھڑے
ہو کر نماز پڑھنے
میں اگر کھڑے کا
خوف زیادہ ہوتا
ہے - اور نماز
میں بیٹھنا تو
کو دوسری طرف
لیجاتا ہی اسلئے
بیٹھ کر پڑھنا
بہتر ہے - پینے
نیل کی طرف
مندرجہ ذیل لیکھ
بیکہ کے لحاظ
سے ممکن ہو
پھر حدیث میں
گھومے ساتھ
گھومنا سہیگا -
علم
یہاں ساری حدیث
نہیں آئی - بلکہ
صرف اس قدر
لفظ ہیں ثالث
کان النبی
صلی اللہ علیہ
علی الخمرۃ
+

وَالِي مِنْ تِسَاثِمِ شَهْرٍ فَجَلَسَ فِي مَشْرِبَةٍ لَهُ دَرَجَتَهَا مِنْ جُدُوْعِ النَّخْلِ
فَأَنَاهُ أَصْحَابُهُ يَجُودُونَ فَصَلَّى بِسَمِجَالِيسٍ وَهُمْ قِيَامٌ فَلَمَّا سَأَمَ قَالَ إِنَّمَا
جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَثُرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا
وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَنَزَلَ لَيْسَعٌ وَعِشْرُونَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنَّكَ آتَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ بَابٌ إِذَا آصَابَ
تَوْبُ الْمَصْلِيِّ إِمْرَأَتُهُ إِذَا سَجَدَ (مِر ۹۵) عَنْ مَيْمُونَةَ (مُتَكَرِّرًا - ۲۳۵) بَابٌ
الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصْبِيِّ وَصَلَّى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو سَعِيدٍ فِي السَّفِينَةِ
قَائِمًا وَقَالَ الْحَسَنُ تَصَلُّي قَائِمًا مَا لَمْ يَشُقَّ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ تَدُورُ مَعَهَا وَ
إِلَّا فَقَاعِدًا (۲۴۵) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّ تَهُ مُلِيكَةَ دَعَمَتْ رَسُولًا
اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَطَعَمَ صَنَعَتْ لَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ تَسُومُوا
فَلَا صَلِّيْكُمْ قَالَ أَنَسٌ فَقَمْتُ إِلَى حَصْبٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طَوْلٍ مَا
لَيْسَ فَصَنَعْتُهُ لِمَاؤٍ فَتَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ
وَالْيَسْبِيْمِ وَرَأَتْهُ وَالْجَوْزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخَمْزَةِ (مِر ۹۶)
عَنْ مَيْمُونَةَ (مُتَكَرِّرًا - ۲۳۵) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْفَدَائِشِ وَ
صَلَّى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى فِدَائِشِهِ وَقَالَ أَنَسٌ كُنَّا نَصَلِّي مَعَ الشَّيْبِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسْجُدُ أَحَدُنَا عَلَى ثَوْبِهِ (۲۴۶) عَنْ عَائِشَةَ

رَوَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّمَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَا مَرِيضَةٌ لِيَدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے روایت ہے کہ میں بیمار تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سویا کرتی تھی

وَسَلَّمَ وَرَجَلَايَ فِي قَبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ عَمَزَنِي فَفَبَضَّتْ رَجُلِي وَإِذَا قَامَ كَبَسْتُهُمَا قَالَتْ وَالْبَيْوتُ
 اور میرے پاس آگے قبلیہ میں ہوتے تھے میں جب سجدہ کرتے مجھے دبا دیتے تو میں سجدے پاؤں سمیٹ لیتی اور جب کھڑے ہو جاتے تو انکو بچھلا دیتی

يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ (۲۷۷) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 کہا اور ان دنوں گھر میں چراغ نہ ہوتے تھے

وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيُ وَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْفَيْلَةِ عَلَى فِرَاشٍ أَهْلُهُ إِعْتَرَا صَ
 نماز پڑھتے تھے اسے گھر والوں کے چھو پر اور وہ آگے اور قید کے درمیان ہوتیں جب یاخانہ سامنے

الْبِحَاذَةِ (۲۷۸) عَنْ عُرْوَةَ (مُتَكَدِرٌ - ۲۷۷) بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 پڑا ہونے کا راز دیکھو حدیث نمبر ۲۷۷ باب سخت گرمی میں کپڑے پر سجدہ کرنا

شَدَّةَ الْحَرِّ وَقَالَ الْحَسَنُ كَانَ الْقَوْمَ يَسْجُدُونَ عَلَى لِحَاةِهَا وَالْفَلَكَسُوءَةَ وَيَكَاهُرُونَ فِي
 اور صحن نے کہا اور گرمی پر سجدہ کرنے تھے اور ان کے ہاتھ

كَيْفَهُ (۲۷۸) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نَصَلِّيُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 آستینوں میں ہوتے تھے اس میں مالک سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے

فِيصْعَ أَحَدٌ نَاطِرُفِ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 تو ہم میں سے ایک اپنے کپڑے کے کنارے کو شدت گرمی کی وجہ سے سجدہ کی جگہ میں رکھتا تھا باب جہیز میں نماز پڑھنا

الْبَعَالِ (۲۷۹) عَنْ أَبِي مُسْلِمَةَ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدٍ أَنَّ زَيْدِيًّا قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ
 ابوسلمہ سعید بن یزید ازدی سے روایت ہے کہ میں نے جہیز میں جب اللہ کو دیکھا پینا کیا

أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُ فِي تَخْلِيَةٍ قَالَ نَعَمْ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہیز میں نماز پڑھتے تھے کہا ہاں باب موزوں میں نماز پڑھنا

الْخُفَّاءِ (۲۸۰) عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ رَأَيْتُ جَبْرِيْلَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بِالْثَمَرِ
 ہمام بن حارث سے روایت ہے کہ میں نے جبریل بن عبد اللہ کو دیکھا پینا کیا

تَوَضَّأَ وَمَسَّ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَسُئِلَ فَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا پھر کھڑا ہوا اور نماز پڑھی پس پوچھا گیا تو کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرنے ہونے دیکھا

صَنَعَ مِثْلَ هَذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَكَانَ يُجِبُّهُمْ لِأَنَّ جَبْرِيْلًا كَانَ مِنَ الْخَيْرِ مَنْ أَسَلَّمَ
 ایسا ہی کرتے ہیں پس یہ حدیث ان کو اچھی لگتی اسلئے کہ جبریل صحیح اسلام لائے والوں میں سے تھا

۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰

۱۔ یعنی چراغ نہ ہونے کی وجہ سے آگے سجدہ کرنے کے علم میں طرح ہونا تھا کہ آپ کا ہاتھ حضرت عائشہ کو لگتا تو وہ پاؤں سمیٹ لیتیں تاکہ سجدہ کیلئے کھلی جگہ ہو جائے۔ اس حدیث اور پہلی حدیث کا مطلب ایک ہی معلوم ہوتا ہے۔ پھر پاؤں کے قبلیہ میں ہونے کا ذکر ہے یہاں خیمانہ کی طرح سامنے لیٹے ہوئے کا ذکر ہے۔ اور اس حدیث میں ہے علی فراش اہلہ اور اس سے اگلی میں علی لفراش الذی ینامان علیہ + مطلب مسجدوں میں چٹائیاں نہ تھیں۔ شدت گرمی کی وجہ سے کپڑا سجدہ کی جگہ رکھ لیتے تھے + جہیز کا وہ حصے کے نوٹ سے ظاہر ہے مسجدوں میں عموماً چٹائی وغیرہ کا فرش نہ ہوتا تھا۔ اسلئے جو تاملنگریزوں کی تہنیت سے حفاظت کا موجب ہو جاتا۔ پس جو نے کے ساتھ نماز کا جواز ثابت ہے۔ اور جن لوگوں نے اہل و اوتاد

کی حدیث سے کہ یہودی کی مخالفت کے لئے ایسا کرنا واجب ثابت کرنا چاہا ہے وہ بھی درست معلوم نہیں ہوتا۔ اسلئے کہ وہ بھی ایک خاص ضرورت ہے۔ جب اس زمانہ میں اس بارہ میں یہودی کی مخالفت کی ضرورت نہیں۔ اور عموماً مسجدوں میں چٹائی یا داری کا فرش ہوتا ہے۔ تو نہ صرف جو نے کے ساتھ نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں بلکہ اگر نہایت نہیں تو کم از کم مٹی تو ضرور فرش کو میلا کر دے گی۔ ہاں اگر بالکل صاف جوتے ہوں اور کوئی ضرورت ہو جیسے سخت سردی میں یا ان مالک میں جہاں سردی کا زیادہ ہوتی ہے اور فرش مہنڈ سے رہتے ہیں۔ یا نل بوٹ یا سواری کے بوٹ وغیرہ ہوں تو ہرج بھی نہیں۔ مگر اس میں غلو ایسا ہی بے محل ہے جیسے مطلق جائز نہ سمجھنا۔ ۲۔ جو بر کی حدیث اس لئے اچھی معلوم ہوتی تھی کہ وہ نزل مادہ کے بعد اسلام لائے۔ چنانچہ ترمذی کی حدیث میں یہ صاف ہے کہ جو بر سے پوچھا گیا کہ یہ واقعہ نزل مادہ سے پہلے کا ہے یا بعد کا تو انہوں نے کہا کہ میں نزل مادہ کے بعد اسلام لایا تھا۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ جو لوگ اس وقت مسیح علیٰ الحنفین کے خلاف تھے وہ تاویل یہ کرتے تھے کہ سورہ مادہ میں جو وضو کا حکم ہے اس نے موزوں پر مسح کو منع کر دیا ہے۔ تو اس روایت سے معلوم ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کے نزل کے بعد بھی مسح کیا ہے اور در حقیقت وضو نہ ہونے بھی حکم الہی سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ قرآن کریم نے آپ کے اس عمل کو وحی متلو میں ذکر ثابت کر دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام نماز کے متعلق در حقیقت احکام الہی ہی تھے اور وحی نضحی سے تھے۔ معمولی عالمانہ اجتہاد نہ تھا +

۱۔ اعتقادات کی زیادہ تحقیقات کرنے کی ضرورت نہیں جس شخص کا عمل اس قدر صحیح لیا جاتا کہ وہ وہی نماز پڑھتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں اور نفلہ اس کا وہی ہے جو ہمارا ہے اور ہمارا ذبیحہ کھانا ہے وہ مسلمان ہے اور اس کے حقوق مسلمانوں کے سے ہیں معلوم نہیں یہ بات بات میں کفر کا فتوے لگانے کا مذہب ہمارے علمائے کما سے لیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ جو شخص ہماری نماز پڑھے اور ہمارے تہجد کی طرف منہ کرے اس کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی امان ہے۔ اس میں خیانتِ امت نہ ہوگی اور نہ اونے اپنے بطن پر کفر کے فتوے خدائی کی امانت میں خیانت نہیں ہے اور اس خیانت کرنے میں کفر کا قدر جرات دکھائی جاتی ہے۔ حضور کے منہ سے روایت ہیں اور حضور اس کا ازالہ کر سکتے تھے۔

(۲۸۱) عَنْ الْمُخِزَّمِيِّ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ وَصَّاتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَّحَ بِيَدَيْهِ

بِاسْمِهِ بِن مَغْبِرَةَ رَوَيْتُ عَنْ أَبِي نُبَيْهِ كَرِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَلَى خَيْبِهِ وَصَلَّى بَابُ إِذَا كُنْتُمْ السُّجُودَ (۲۸۲) عَنْ حَدِيثِ آتَةَ رَأَى

رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا يُسْجِدُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لَهُ حَدِيثُهُ مَا

صَلَّيْتَ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ لَوْ مَتُّ مَتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَابُ يُبَدِي صَبْعَهُ وَجِبَافِي جَنَيْبِهِ فِي السُّجُودِ (۲۸۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ

مَالِكِ بْنِ بَجِينَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَفَرَحَ بَيْنَ يَدَيْهِ

حَتَّى يَبْدُوَ وَبَيَاضِ ابْطِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بَابُ فَضْلِ اسْتِقْبَالِ

الْقِبْلَةِ يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رَجُلِيهِ الْقِبْلَةَ قَالَ أَبُو حَمِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ (۲۸۴) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ

صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَآكَلَ ذِي بَحْتِنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ

وَذِمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ فَلَا تُخْفَرُ وَاللَّهُ فِي ذِمَّتِهِ (۲۸۵) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مُتَكَدِّرٍ

(۲۸۳) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (مُتَكَدِّرٍ) بَابُ قِبْلَةِ أَهْلِ مَدِينَةِ وَأَهْلِ لَشَامِ

عَنْ حَدِيثِ ابْنِ مَالِكٍ (۲۸۴) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (۲۸۵) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (۲۸۶) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (۲۸۷) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

عَنْ حَدِيثِ ابْنِ مَالِكٍ (۲۸۸) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (۲۸۹) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (۲۹۰) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (۲۹۱) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

عَنْ حَدِيثِ ابْنِ مَالِكٍ (۲۹۲) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (۲۹۳) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (۲۹۴) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (۲۹۵) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

عَنْ حَدِيثِ ابْنِ مَالِكٍ (۲۹۶) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (۲۹۷) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (۲۹۸) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (۲۹۹) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

عَنْ حَدِيثِ ابْنِ مَالِكٍ (۳۰۰) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (۳۰۱) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (۳۰۲) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (۳۰۳) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

عَنْ حَدِيثِ ابْنِ مَالِكٍ (۳۰۴) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (۳۰۵) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (۳۰۶) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (۳۰۷) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

عَنْ حَدِيثِ ابْنِ مَالِكٍ (۳۰۸) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (۳۰۹) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (۳۱۰) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (۳۱۱) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

عَنْ حَدِيثِ ابْنِ مَالِكٍ (۳۱۲) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (۳۱۳) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (۳۱۴) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (۳۱۵) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

عَنْ حَدِيثِ ابْنِ مَالِكٍ (۳۱۶) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (۳۱۷) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (۳۱۸) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (۳۱۹) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

عَنْ حَدِيثِ ابْنِ مَالِكٍ (۳۲۰) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (۳۲۱) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (۳۲۲) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (۳۲۳) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

عَنْ حَدِيثِ ابْنِ مَالِكٍ (۳۲۴) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (۳۲۵) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (۳۲۶) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (۳۲۷) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

عَنْ حَدِيثِ ابْنِ مَالِكٍ (۳۲۸) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (۳۲۹) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (۳۳۰) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (۳۳۱) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

عَنْ حَدِيثِ ابْنِ مَالِكٍ (۳۳۲) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (۳۳۳) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (۳۳۴) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (۳۳۵) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

جانتی ہے۔ حضور کے منہ سے روایت ہیں اور حضور اس کا ازالہ کر سکتے تھے۔ اس کے معنی خدا یا خیانت نہیں ہے۔ حدیث نمبر ۲۸۳ کا مفہون یہاں مکرر آ رہا ہے۔ جگہ جگہ ان الفاظ کے وہی وہی اسلوب استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور نفلہ اس کا وہی ہے جو ہمارا ہے اور ہمارا ذبیحہ کھانا ہے وہ مسلمان ہے اور اس کے حقوق مسلمانوں کے سے ہیں معلوم نہیں یہ بات بات میں کفر کا فتوے لگانے کا مذہب ہمارے علمائے کما سے لیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ جو شخص ہماری نماز پڑھے اور ہمارے تہجد کی طرف منہ کرے اس کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی امان ہے۔ اس میں خیانتِ امت نہ ہوگی اور نہ اونے اپنے بطن پر کفر کے فتوے خدائی کی امانت میں خیانت نہیں ہے اور اس خیانت کرنے میں کفر کا قدر جرات دکھائی جاتی ہے۔ حضور کے منہ سے روایت ہیں اور حضور اس کا ازالہ کر سکتے تھے۔

والمشرق ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم
 اور مشرق والوں کا قبلا مشرق اور مغرب میں قبلا نہیں ہے۔ یوحنا قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
 وسلم لا تستقبلوا القبلة بآطاف أو بول ولكن شرفوا أو غربوا (۱۰۰)
 قبلا رخ نفا سے حاجت یا پیشاب نہ کرو لیکن مشرق یا مغرب کو رخ کرو
 عن أبي أيوب الأنصاري هندية (۱۲۵) باب قول الله عز وجل واتخذوا
 دیکھو حدیث نمبر ۱۲۵ باب اللہ عزوجل کا قول اور
 من مقام إبراهيم مكانه (۲۸۵) عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن
 مقام ابراہیم کو نماز گاہ بناؤ۔ عمرو بن دینار سے روایت ہے کہ ہم نے ابن عمر سے
 رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أي أتى امرأته فقال
 ایسے شخص کے ہاں میں پوچھا کہ عمرہ کے واسطے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا اور مروہ کے درمیان طواف نہیں کیا وہ اپنی بیوی سے ہمبستہ بنا سکتا ہے
 فذم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين
 کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبیت اللہ کے سات بار طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعتیں پڑھیں
 وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وسألنا جابر بن
 اور صفا و مروہ کے درمیان طواف کیا اور پیچک تمہارے واسطے رسول اللہ میں ایک نمونہ ہے اور جابر بن
 عبد الله فقال لا يقر بها حتى يطوف بين الصفا والمروة (۲۸۶) عن جابر قال
 عبد اللہ سے پتہ پوچھا تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو گاہیں ہیں جہاں تک کہ صفا و مروہ کے درمیان طواف کرے
 أتى ابن عمر فقبل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فقال ابن
 کہ ابن عمر کے پاس کوئی آیا تو اسے کہا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے میں داخل ہوئے ہیں ابن عمر نے کہا
 عمر فاقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج واحد بلا كما قاما بين
 میں پہنچا اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے تھے اور میں نے بال کو دو دروازوں کے درمیان نظر پایا
 البابين فسألت بلا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم
 میں نے بال سے پوچھا میں نے کہا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں نماز پڑھی کہا ہاں
 ركعتين بين السارين اللتين على يساره إذا دخلت ثم خدع فضلى في وجه الكعبة
 دو رکعت ان دو ستونوں کے درمیان کہ جب تم اندر جاؤ تو تمہارے بائیں ہونے میں چھٹکے اور کعبہ کے سامنے
 ركعتين (۲۸۷) عن عطاء قال سمعت ابن عباس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم
 دو رکعتیں پڑھیں عطاء سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس سے سنا کہ اگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 البيت دعاني فخرجوه كلها ولا يصبر حتى يخرج منه فلما خرج ركب ركعتين في قبل الكعبة وقال الله القبلة
 بیت اللہ کو بل سے تو کسی سبب سے نہیں پڑھی یہاں تک کہ اس سے نکلے توبہ تک کہ کعبہ کے سامنے آئے دو رکعت پڑھی اور فرمایا یہ قبلا ہے اور کہا

ملا یعنی اہل مدینہ اور اہل شام اور ان لوگوں کا قبلا جو مدینہ اور شام کی سمت میں ہوں مشرق اور مغرب میں نہیں ہر اسلئے کہ وہ کعبہ کی سمت شمال میں ہیں البتہ جو لوگ کہیں کے مغرب میں ہیں کہ قبلا مشرق ہے اور بائیں سے اس حدیث میں یہاں تاہم میں قال ابو الربوب فقد منا الشام فوجدنا مواجیض بیت قبل القبلة للہ فتخفون وتستنقون عز وجل یعنی ابو ایوب نے کہا تو ہر شام کو گئے پس ہننے ایسے ہاتھ پائے جو قبلا رخ بنے ہوتے تھے تو ہم پھر کھینچتے اور وہ عز و میں سے مغربت پاتے تھے۔ ہاں استقبال القبلة میں اس آیت کو لائے سے یہی منشا ہو سکتا ہے کہ قبلا کی طرف منہ کرنے کا حکم اس آیت میں پایا جاتا ہے چنانچہ مجاہد کا قول بھی ہے کہ مقام ابراہیم سے رو کر حرم بڑا خاص وہ مقام نہیں۔ باب کی پہلی حدیث میں کہ حضرت

تاریخ

۱۰۱

۱۰۲

۱۰۳

۱۰۴

۱۰۵

۱۰۶

۱۰۷

یہ مطلب نہیں آیا۔ مگر بعد کی حدیثیں صفائی سے ہی طرف اشارہ کر رہی ہیں کیونکہ ان دونوں میں تمام ابراہیم کا کوئی ذکر نہیں ایک میں جو تخریج فضلی فی وجہ الکعبہ رکعتیں یعنی پھر آپ نکلے اور کعبہ کو سامنے رکھ کر دو رکعت پڑھیں اور دوسری میں تخریج رکعتیں فی قبل الکعبہ وقال هذا القبلة پھر آپ نکلے تو دو رکعت کعبہ کو سامنے رکھ کر پڑھیں اور فرمایا یہی قبلا ہے۔ آخری الفاظ صریح سے ہی مطلب کو بیان کرتے ہیں جو اور دیکھا گیا ہے یعنی کعبہ کو قبلا بنانے کا حکم اس آیت میں ہے جو عطاء نے روایت میں ہے کہ کعبہ کے اندر حضرت مسلم نے نماز پڑھی چونکہ بال اللہ بھی ساتھ تھے اسلئے ان کی روایت ماننی جائے گی۔ ابن عباس کو علم نہیں ہوا اسلئے کہا کہ اندر نماز نہیں پڑھی۔
 اور پھر کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری نے نزدیک تمام ابراہیم سے مراد کعبہ ہے نہ خاص تمام ابراہیم پہلی روایت میں ہے ابن عمر کی وہ صرف یہ ہے کہ فضلی خلف المقام یعنی پہلی مقام ابراہیم کو سامنے رکھ کر ایسے بیچے نماز پڑھی آپس میں نہیں پڑھی اور یہ بھی خصوص مقام ابراہیم کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ وہ بھی کعبہ کی سمت ہے جو

بَابُ التَّوَجُّهِ خُوفِ الْقِبْلَةِ حَيْثُ كَانَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مکہ قبلہ کی طرف

اسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةَ وَكَثَّرَ (۲۸۸) عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بخ کے نماز پڑھتا
اصول میں میں سے
نہیں جو وہ سہاگنا
کا ایک ہی قبلہ ہوتا
انسان جب نماز پڑھتا
تو کسی طرف رخ کر کے
پڑھے گا تو اسلام
سب سے پہلے معبود
کی طرف رخ کر کے کلمہ
دیا۔ جو آبادی کا
وسط اور مرکز ہے
تاکہ بھی وحدت

خُوفَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بیت المقدس کی طرف سولہ یا سترہ
مہینے نماز پڑھتے رہے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يُوجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ زَمِي تَقَلُّبٌ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ

پسند کرتے تھے کہ کہنے کی طرف آپ کا منہ ہو
مکہ میں اللہ تعالیٰ نے انہا
ہم تمہارے آسمان کی طرف منہ پھرنے کو بھیجے

فَتَوَجَّهَ خُوفَ الْقِبْلَةِ وَقَالَ الشُّمَّاءُ مِنْ النَّاسِ وَهُمْ أَلِيَهُمْ وَمَا وَلَهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ الَّتِي

تو آپ نے قبلہ کی طرف منہ کیا
اور لوگوں میں سے نا سمجھوں نے جو یہودیوں کو ان کے قبلہ سے پھر پہلے کسی چیز نے پھیرا

كَانُوا عَلَيْهَا قُلُّ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَصَلَّى مَعَ

اللہ کے مشرق اور مغرب اللہ کے لئے ہر جہ سے چاہتا ہے
مراستہ مستقیم پر چلاتا ہے پس

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ مَا صَلَّى فَمَدَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص نے نماز پڑھی پھر نماز پڑھنے کے بعد اٹھا اور انصاریوں کی جماعت پر جو

صَلَاةِ الْعَصْرِ يُصَلُّونَ خُوفَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ هُوَ لَيْشِدَّ أَنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

نماز عصر میں تھے گندا وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے تو اسے کہا کہ میں مشہادت دیتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ تَوَجَّهَ خُوفَ الْكَعْبَةِ فَخَرَفَ الْقَوْمُ حَتَّى تَوَجَّهُوا خُوفَ الْكَعْبَةِ (۲۸۹) عَنْ

اور آپ نے کہنے کی طرف منہ کیا
پس لوگ پھر گئے یہاں تک کہ کہنے کی طرف متوجہ ہوئے

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَأْسِهَا حَيْثُ

جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر نماز پڑھتے تھے اور جس طرف اونٹنی

تَوَهَّجَتْ بِهِ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ (۲۹۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى

آپ کو پھرتی دیکھ مانتے اور جب فرض پڑھے گا ارادہ کرنے اور تھلے کی طرف منہ کرنے
عبد اللہ سے روایت ہے کہ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا أَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَمَّا سَلَّمَ رَقِبِلَ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی
ابراہیم کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ آپ نے زاید کی یا کمی کی تو جب آپ نے سلام پھیرا آپ نے کہا کیا

لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدٌ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا

یارسول اللہ کیا نماز میں کوئی نئی بات پیدا ہوئی
فرمایا کیا بات ہے انہوں نے کہا آپ نے اتنی اور اتنی نماز پڑھی

وَكَذَا فَشَيْءٌ رَجَلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمَّا أَقْبَلَ

تو آپ نے اپنے پاؤں پھیرے اور قبلہ رخ ہوئے
اور دو سجدے کئے سلام پھیرا جب ہماری طرف منہ کیا

حکم کے ماتحت نہ تھا۔ تو توجیل قبلہ سے خدا کا کوئی حکم شروع نہیں ہوا۔ بلکہ خدا سے جو حکم قبیلے کے متعلق ملا وہ صرف کہہ کو قبلہ بنا لے گا ہے جو آخر تک قائم رہا۔
مکہ مراد ہے کہ نماز اٹھنا اونٹنی پر لانا کہ لیتے۔ اور فرض کے لئے اتر پڑانے۔ ظاہر ہے کہ جب اونٹنی پر ہونگے۔ تو اونٹنی کے پھرنے کے ساتھ پھرتے رہتے ہوں گے۔ تو اس صورت میں بھی نماز ہو گئی۔ البتہ فرض نماز کے واسطے اتر کر قبلہ رخ پڑھنے۔ تو اب میں جو یہ ہے کہ جہاں اٹھا ہو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے یہ فرض نماز کے واسطے ہے۔ مگر یہ بھی وہاں پر ہے جہاں کوئی عذر نہ ہو ورنہ پیچھے گزر چکا ہے کہ کشتی اور ریل میں پھر پھر چاہے منہ کر کے نماز پڑھے۔ مکہ اگلے باب کی آخری حدیث میں ہے۔ کہ آپ نے ظہر کی نماز چار کی جگہ پانچ رکعت پڑھی۔ سہو سو کے لئے آپ نے قبلہ کی طرف منہ کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ حالت اختیار میں جہاں تک جو اسکے قبلہ کی طرف منہ کرے۔

عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ إِنَّهُ لَوَحَدَّثَتْ فِي صَلَوَاتِهِ شَيْءٌ لَنَبَاتُكُمْ بِهِ وَلَكِنَّ إِنَّمَا نَا بَشَرٌ وَمَثَلُكُمْ
تو زمانا اگر نماز میں کوئی نئی بات پہلے ہوئی ہوئی تو میں نہیں اس کی اطلاع دیدیتا لیکن میں تمہاری مانند ایک بشر ہوں

أَشْنَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فذَكَرُونِي وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ
جیسا تم بھولتے ہو میں رچی بھول جاتا ہوں تو جب میں بھول جاؤں مجھے یاد دلاؤ اور جب تم میں سے کوئی اپنی نماز میں شک کرے

فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيَتَوَّعَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لَيْسَلَمْ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَاب مَا جَاءَ فِي
تو جو ٹھیک معلوم ہونا ہو اس کا قصد کرے اور اسی پر پورا کرے پھر سلام پھیرے پھر دو سجود کرے بَاب جو قبیلے کے متعلق آیا ہے

الْقِبْلَةِ وَمَنْ لَمْ يَدْرَ لِعَادَةِ عَلَى مَنْ سَأَلَ فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَقَدْ سَأَلَ النَّبِيَّ
اور جس نے ایبرہہ بھول جائے اور قبیلے کو چھوڑ کر نماز پڑھے (نماز کا) اعادہ ضروری نہیں بجا اور نبی کریم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْ الظُّهْرِ وَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ ثُمَّ رَأَتْهُ مَا بَقِيَ
ظہر کی دو رکعتوں میں سلام پھیرا اور لوگوں کی طرف منڈیا پھرجو باقی تھا اسے چھایا

(۲۹۱) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاقْفَتْ رَبِّي فِي
انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا

ثَلَاثٌ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَانزَلَتْ
کہیں باتوں میں میری رائے اپنے رب کے حکم کے مطابق نکلی میں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ مقام ابراہیم کو نماز گاہ بنا لیں تو یہ آیت (انزی

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَآيَةُ الْحِجَابِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتُ
اور مقام ابراہیم کو نماز گاہ بناؤ بَاب اور حجاب کی آیت میں نے کہا یا رسول اللہ اگر ایسی جگہ ہو جس کو آپ حکم فرماتے

نِسَاءً لَأَنْ يَحْتَجِبْنَ فَإِنَّهُ يَكْفِيهِنَّ الدَّرُ وَالْفَاحِرُ فَانزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ وَاجْتَمَعَ
کہ پردہ میں رہیں کیونکہ ان سے نیک اور بد باتیں کرتے ہیں تو حجاب کی آیت انزی اور

نِسَاءً التَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَعْنَةِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهْنُ عَسَى رَبِّهِ أَنْ طَلَّقَكَ
صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ پر لعنت کرتے ہیں انہی میں تو میں نے ان سے کہا اگر تم بھلائی دیں تو قریب ہی

أَنْ يُبَدِّلَهُ أَنْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُمْ مُسَلِّمَاتٍ فَانزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (۲۹۲) عَنْ
کہ ان کا تب تم سے بہتر نا بعد ہوں یاں بدلہ میں ان کو دے دیجگا پس یہ آیت انزی بَاب

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَوَاتِهِ الصَّبْرُ إِذْ جَاءَهُمْ
عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جس وقت لوگ قبا میں صبح کی نماز میں تھے اچانک ان کے پاس آئے والا آیا

فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنزِلَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ قُرْآنٌ وَقَدْ أُسْرَانُ
اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آج رات قرآن اترا ہے اور آپ کو

يَسْتَقْبِلُ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبَلُوهَا وَكَانَتْ وَجْهَهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدْرَأُوا إِلَى الْكَعْبَةِ
کہہ کی طرف مندر کرے گا حکم ہوتا ہے تو انہوں نے کیوں کی طرف منڈیا اور ان کے منشاہم کی طرف تھے تو کبھی کی طرف پھر گئے

ہا میں جہان تک
تکمن جو اپنی رائے
کو ایک طرف قائم
کرتے اور اس کے
مطابق نماز کو پورا
کرتے اور ان میں سے
سب کو سراسر کی
تفصیل دیا ہے
میں آئے گی
مقام ابراہیم سے تین
سجود کرنے کے ہیں
خاص مقام ابراہیم جو
مشہور ہے
سارا حرم ظاہر ہے
کہ حضرت عمار کی منشا
نہ تھا کہ آنحضرت صلعم
خاص مقام ابراہیم میں
دو رکعت نماز پڑھی
کیونکہ آپ تو مدینہ میں تھے
اور یہ خواہش بھی تھی
ایسی نہیں بلکہ حضرت
عمار کا مطلب یہی ہو
سکتا ہے کہ جس جہاں
فائدہ کہہ کر اپنا قبیلہ
نماز بنا لیں اور امام
بخاری بھی اس آیت
کو قبیلے کے باب میں
لائے ہیں اس سے
یہ معلوم ہوتا ہے
کہ ان کے نزدیک بھی
مقام ابراہیم صحت
مقام ابراہیم اور پھر
اور قول دھمک
شطر المسجد الحرام
سے معلوم ہوتا ہے کہ امام
ابراہیم جو مسجد حرام ہی
مرا ہے +

فتح الباری میں ہر کو موافقات عمر ہائے علم میں پندہ ہیں اور صحیح بخاری میں ان تین کے علاوہ بعض روایہ لیکر ذکر بھی ہے جن میں حضرت عمر کی رائے کا وہی سے توافق ہوا
مثلاً منافقین پر نماز جنازہ کے متعلق آپ نے یہ رائے دی کہ ان پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم حضرت عمر کی رائے کے موافق نازل ہوا
اور ترمذی میں بروایت ابن عمر صحیح حدیث میں ہے کہ جب کبھی کوئی امر لوگوں کے سامنے آتا اور حضرت عمر اس میں رائے دیتے اور لوگ بھی رائے دیتے تو قرآن عمر کی
رائے کے موافق نازل ہوتا۔ بعض لوگوں کی فطرت انبیاء کی فطرت سے مشابہ ہوتی ہے اور انہیں محدث کہتے ہیں۔ حضرت عمر بھی ان میں سے ہیں اس لئے نبی کریم صلعم نے
فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عہد کریمہ بعدی نبی ہوتا تو عمر ہوتا + مسئلہ حجاب کی تشریح سورہ ابراہیم کی تفسیر اور بیوہوں کے اجتناب کی تشریح
سورہ تحریم کی تفسیر میں آئے گی + مسئلہ یہ صحابہ کی نابداری کا نہایت ہی بلند مقام ہے کہ کسی حکم پر ان کے دلوں میں کبھی غرض پیدا نہیں ہوتی +

(۱۰۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مُتَكَرِّرًا - ۲۹۰، بَابُ حَاكِ الْبُرَاقِ بِالْيَدِ مِنَ الْمَسْجِدِ (۲۹۳)

۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُحَامَةً رَفِي الْقَبْلَةِ فَشَقَّ

ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رَدَّ فِي وَجْهِهِ فَقَامَ فَحَكَهُ بِيَدِهِ فَقَالَ إِنْ أَحَدَكُمْ لَأَدَامَ

فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَبْلَةِ فَلَا يُبْرِكُنَّ

أَحَدُكُمْ قَبْلَ قِبْلَتِهِ وَلَكِنْ عَنْ لَيْسَارَةَ أَوْ تَحْتَهُ قَدْ مِهْ ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ كِتَابِهِ

فَبَصَقَ فِيهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا

(۱۰۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (مُتَكَرِّرًا - ۲۹۳) (۱۰۳) عَنْ عَائِشَةَ

(مُتَكَرِّرًا - ۲۹۳) بَابُ حَاكِ الْمَخَاطِرِ بِالْحَصِي مِنَ الْمَسْجِدِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

إِنْ وَطِئْتَ عَلَى قَدْرٍ رَطِبَ فَاغْسِلْهُ وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَلَا

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (مُتَكَرِّرًا - ۲۹۳) بَابُ لَا يَبْصُقُ عَنْ

بِئْمِينِهِ فِي الصَّلَاةِ (۱۰۵) عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (مُتَكَرِّرًا - ۲۹۳)

(۱۰۶) عَنْ أَنَسِ (مُتَكَرِّرًا - ۲۹۳) بَابُ لَيْبِصُقُ عَنْ لَيْسَارَةَ أَوْ تَحْتَهُ قَدْ مِهْ

الْبُيُوتِ (۱۰۷) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (مُتَكَرِّرًا - ۲۹۳) (۱۰۸) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (مُتَكَرِّرًا - ۲۹۳)

بَابُ حَاكِ الْبُرَاقِ بِالْيَدِ مِنَ الْمَسْجِدِ (۲۹۳) بَابُ حَاكِ الْبُرَاقِ بِالْيَدِ مِنَ الْمَسْجِدِ (۲۹۳)

بہتر صورتوں میں فرشتے ہوتے۔
 جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا یا بیٹے رومال میں تھوک لے۔ کیونکہ حواج انسان کا پورا کرنا بھی ضروری ہے +
 اپنے ہاتھ سے کچھ کھانے کا مطلباً زدوئے علامہ ہی ہے کہ اس کام کو خود کیا۔ خواہ کسی آڑ سے کیا ہو۔ حدیث مکرر نمبر ۱۱۳ میں صراحت ہے کہ لنگر لنگر سے کھرا جائے +
 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز کو بہت ناپسند کرتے تھے اور مسجد کی صفائی کا بہت خیال کرتے تھے۔ اور اسماعیلی کی روایت میں اسکی صراحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
 رہے تھے۔ اور یہ بھی ہے کہ پھر حضرت عفران منگوا یا اور تھوک کی جگہ لیا + ۱۱۳ حدیث مکرر نمبر ۱۱۳ کے الفاظ فسق ذلک علیہ حتی ردی فی
 وجہ فقہر یہاں چھوڑ دینے ہیں اور لیکن عن لیسار سے آختر تک چھوڑ دیا ہے + ۱۱۳ یہاں اور بھی زیادہ اختصار اور راوی فی جدار القبلة علی طاء اور بصا قاء اور خلافت حکم
 مخاطب جو تک سبکتا ہے۔ تصاق تھوک اور تھانہ بلغم + ۱۱۳ ان جہاس کے اثر کا بظاہر ترجمہ الباب سے کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ تعلق ہو کہ جب خشک پیڈی پر چلنے سے ہوا
 کو باطن و صورت کی ضرورت نہیں تو اگر خشک کربینٹ ہاتھ سے کھچے دی جائے تو بھی کوئی برع نہیں + ۱۱۳ اس حدیث میں کچھ اور تفسیر لفظ کے علاوہ یہ الفاظ زیادہ ہیں فذلک لاجلہ فصلا فخر ہائے آپ کے لنگر
 لنگر سے کھرا اور لفظ بھی زانیوں کو خون بیدہ نبی دہیں طرف میں نہ تھوکے اور اخراج ذلک کے ساتھ لیسار کا لفظ نامی بیٹے میں دم کے نیچے تھوکے + (راوی جو ہر صفحہ ۱۱۷ آئینہ ۱۱۷)

کتاب الصلوة

باب كَفَّارَةُ الْبِرَاقِ فِي الْمَسْجِدِ (۲۹۲) عَنْ النَّسِ بْنِ مَالِكٍ

باب مسجد میں ٹھوکنے کا کفارہ النس بن مالک سے روایت کر

قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِرَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ كَرِهِي كَرِيمٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زِيَا سجد میں ٹھوکانا گناہ ہے

وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا بِابٍ دَفِنَ الْخَامَةَ فِي الْمَسْجِدِ (۱۰۹) عَنْ

ابو سفارہ اسکا دفن کرنا ہے مسجد میں کھنڈا کرنا کا دفن کرنا

أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَرَّرٌ - ۲۹۳) بَابٌ إِذَا بَدَرَهُ الْبِرَاقُ فَلْيَأْخُذْهُ بِطَرَفِي

دیکھو حدیث نمبر ۲۹۳ باب جب اس پر ٹھوک غلبہ کرے تو اسکو اپنے کپڑے کے کنارے میں پکے

ثَوْبِهِ (۱۱۰) عَنْ النَّسِ بْنِ مَالِكٍ (مُتَكَرَّرٌ - ۲۹۳) بَابٌ عِظَةٌ

دیکھو حدیث نمبر ۲۹۳ باب عیظہ

إِلَّا مَامَ النَّاسُ فِي رِتْمَامِ الصَّلَاةِ وَذَكَرَ الْقِبْلَةَ (۲۹۵) عَنْ

امام کا لوگوں کو نصیحت کرنا کہ نماز کو پورا کرنا اور قیلے کے ذکر میں

أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم

قَبْلَتِي هُنَا فَوَاللَّهِ مَا يَجْنِي عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَّرَائِهِ

میرا قبضہ یہاں سمیٹتے ہو پس خدا کی قسم تمہارا خشوع مجھ پر پوشیدہ نہیں رہتا اور نہ تمہارا رکوع یقیناً میں تم کو

ظَهَرَنِي (۱۱۱) عَنْ النَّسِ بْنِ مَالِكٍ (مُتَكَرَّرٌ - ۲۹۵) بَابٌ هَلْ يَقَالُ

اپنی چمچ کے پیچھے سے دیکھتا ہوں مسجد حدیث نمبر ۲۹۵ باب کیا کہا جاسکتا ہے کہ یہ

مَسْجِدِي بَنِي فَلَانٍ (۲۹۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ

عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفِيَاءِ وَأَمْدَاهَا تَنِيئَةٌ

ان گھوڑوں کے درمیان گھوڑو دوڑ کرانی جو تیار کئے گئے تھے اور یہ دونوں حفیاء (شرع ہوئی) تھی اور کی تہنیت

الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الشَّيْئَةِ إِلَى الْمَسْجِدِ بَنِي ذُرَيْقِ

تہنیت الوداع تھی اور ان گھوڑوں کے درمیان گھوڑو دوڑ کرانی جو تیار نہیں کئے گئے تھے ان کو یہ تہنیت سے بنی مذہب کی مسجد تک (تھی) اور گھوڑو

وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ فِي بَيْتِهَا بِابٍ الْقِسْمِ وَ

والوں میں سے عبداللہ بن عمر بھی تھا مسجد میں (وال) تقسیم کرنا اور

۱۱۲
۱۱۱
۱۱۰
۱۰۹
۱۰۸
۱۰۷
۱۰۶
۱۰۵
۱۰۴
۱۰۳
۱۰۲
۱۰۱
۱۰۰
۹۹
۹۸
۹۷
۹۶
۹۵
۹۴
۹۳
۹۲
۹۱
۹۰
۸۹
۸۸
۸۷
۸۶
۸۵
۸۴
۸۳
۸۲
۸۱
۸۰
۷۹
۷۸
۷۷
۷۶
۷۵
۷۴
۷۳
۷۲
۷۱
۷۰
۶۹
۶۸
۶۷
۶۶
۶۵
۶۴
۶۳
۶۲
۶۱
۶۰
۵۹
۵۸
۵۷
۵۶
۵۵
۵۴
۵۳
۵۲
۵۱
۵۰
۴۹
۴۸
۴۷
۴۶
۴۵
۴۴
۴۳
۴۲
۴۱
۴۰
۳۹
۳۸
۳۷
۳۶
۳۵
۳۴
۳۳
۳۲
۳۱
۳۰
۲۹
۲۸
۲۷
۲۶
۲۵
۲۴
۲۳
۲۲
۲۱
۲۰
۱۹
۱۸
۱۷
۱۶
۱۵
۱۴
۱۳
۱۲
۱۱
۱۰
۹
۸
۷
۶
۵
۴
۳
۲
۱

۱۱۲
۱۱۱
۱۱۰
۱۰۹
۱۰۸
۱۰۷
۱۰۶
۱۰۵
۱۰۴
۱۰۳
۱۰۲
۱۰۱
۱۰۰
۹۹
۹۸
۹۷
۹۶
۹۵
۹۴
۹۳
۹۲
۹۱
۹۰
۸۹
۸۸
۸۷
۸۶
۸۵
۸۴
۸۳
۸۲
۸۱
۸۰
۷۹
۷۸
۷۷
۷۶
۷۵
۷۴
۷۳
۷۲
۷۱
۷۰
۶۹
۶۸
۶۷
۶۶
۶۵
۶۴
۶۳
۶۲
۶۱
۶۰
۵۹
۵۸
۵۷
۵۶
۵۵
۵۴
۵۳
۵۲
۵۱
۵۰
۴۹
۴۸
۴۷
۴۶
۴۵
۴۴
۴۳
۴۲
۴۱
۴۰
۳۹
۳۸
۳۷
۳۶
۳۵
۳۴
۳۳
۳۲
۳۱
۳۰
۲۹
۲۸
۲۷
۲۶
۲۵
۲۴
۲۳
۲۲
۲۱
۲۰
۱۹
۱۸
۱۷
۱۶
۱۵
۱۴
۱۳
۱۲
۱۱
۱۰
۹
۸
۷
۶
۵
۴
۳
۲
۱

۱۱۲
۱۱۱
۱۱۰
۱۰۹
۱۰۸
۱۰۷
۱۰۶
۱۰۵
۱۰۴
۱۰۳
۱۰۲
۱۰۱
۱۰۰
۹۹
۹۸
۹۷
۹۶
۹۵
۹۴
۹۳
۹۲
۹۱
۹۰
۸۹
۸۸
۸۷
۸۶
۸۵
۸۴
۸۳
۸۲
۸۱
۸۰
۷۹
۷۸
۷۷
۷۶
۷۵
۷۴
۷۳
۷۲
۷۱
۷۰
۶۹
۶۸
۶۷
۶۶
۶۵
۶۴
۶۳
۶۲
۶۱
۶۰
۵۹
۵۸
۵۷
۵۶
۵۵
۵۴
۵۳
۵۲
۵۱
۵۰
۴۹
۴۸
۴۷
۴۶
۴۵
۴۴
۴۳
۴۲
۴۱
۴۰
۳۹
۳۸
۳۷
۳۶
۳۵
۳۴
۳۳
۳۲
۳۱
۳۰
۲۹
۲۸
۲۷
۲۶
۲۵
۲۴
۲۳
۲۲
۲۱
۲۰
۱۹
۱۸
۱۷
۱۶
۱۵
۱۴
۱۳
۱۲
۱۱
۱۰
۹
۸
۷
۶
۵
۴
۳
۲
۱

تَعَلِّقُ الْقِنُوفِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْفَنُؤُ الْعَدْقُ وَالْإِشْتَانُ قِنُوَانٌ

عزمتے لٹکانا ابو عبد اللہ کہنا ہے فنوختہ ہے اور تشبیہ قنوان ہے

وَالْجَمَاعَةُ أَيْضًا قِنُوَانٌ مِثْلُ صِنُورٍ وَ صِنُوَانٍ (۲۹۷) عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُنِيَ النَّبِيُّ

اور جمع بھی قنوان ہے صنواور صنوان کی طرح ان سے روایت ہے کہ نبی کریم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ انْتَرَوْهُ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ أَكْثَرَ

صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مال لایا گیا تو آپ نے فرمایا اسے مسجد میں ڈال دو اور یہ سب زیادہ

مَالٍ أُنِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مال تھا جو نبی کریم سے اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے نکلے

إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ جَاءَهُ فِجْلَسُ الْبَيْتِ فَمَا كَانَ يَرَى

اور اس دال کی طرف دیکھا بھی نہیں تو جب آپ نے نماز ختم کر دی اسے اور اس کے پاس بیٹھ گئے اور جیسے دیکھا

أَحَدًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطَيْتَنِي فَأَنْتَ قَادَيْتَ نَفْسِي

اسے دیا علی اتنے میں جاس آپ کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے بھی دیکھو کیونکہ میں نے اپنے آپ کا

وَأَنْتَ قَادَيْتَ عَقِيدًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُذْ فَخَشَانِي ثَوْبَهُ ثُمَّ

اور عقید کا بھی فدیہ دیا مگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا لو سوانہوں نے پس بھرا اپنے ٹیڑھے میں ڈالا

ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذْ مَرَّ بَعْضُهُمْ بِرَفْعِهِ إِلَى قَالَ

پھرا سے اٹھانے لگے تو نہ اٹھا سکے اور کہا یا رسول اللہ ان میں سے کسی کو حکم دیجئے تاکہ اسے اٹھا کر مجھ پر رکھ دے فرمایا

لَا قَالَ فَارَفَعَهُ أَنْتَ عَلَى قَالَ لَا فَتَرْمِينَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

نہیں کہا تو آپ اٹھا کر مجھ پر رکھ دیں فرمایا نہیں تب (عباس نے) اس میں سے کچھ نکال دیا پھر اسے اٹھانے لگے تو کہا یا رسول اللہ

مَرَّ بَعْضُهُمْ بِرَفْعِهِ إِلَى قَالَ لَا قَالَ فَارَفَعَهُ أَنْتَ عَلَى قَالَ لَا فَتَرْمِينَهُ ثُمَّ أَحْتَمَلَهُ

ان میں سے کسی کو حکم دیں کہ اسے اٹھا کر مجھ پر رکھ دے فرمایا نہیں کہا تو آپ ہی اسے اٹھا کر مجھ پر رکھ دیں فرمایا نہیں پھر اس میں سے کچھ لایا پھر کھڑا

فَأَلْقَاهُ عَلَى كَاهِلِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور اپنے کندھوں پر رکھا اور چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

يَتْبَعُهُ بِبَصَرِهِ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْهِتَا عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ فَمَا تَامَ رَسُولُ اللَّهِ

ان کی حرص پر تعجب کے طور پر انہیں دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ ہم سے غائب ہو گئے اور رسول اللہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثُمَّ مِنْهَا دَرَاهِمُ بَابٌ مِنْ دُعَى لَطَاعِمٍ فِي الْمَسْجِدِ

صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے اس حال میں کہ وہاں ایک بھی درہم نہ گیا ہو باب جسے مسجد میں کھانے کے واسطے بلا یا جائے

علا بحرین سے یہ مال خراج کا تھا جو عمار بن حفص نے بھیجا تھا اور یہ ایک لاکھ درہم تھا۔ رسول اللہ صلوات اللہ علیہ سے پہلے پہلے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا آپ نے اسٹیج وریابی سے مسلمانوں میں یہ مال تقسیم کر دیا جس طرح ضرورت کے وقت مسلمان اپنا مال لاکر آپ کے سامنے ڈال دیتے تھے +

اس سے یہ نتیجہ نیکر نکلتا کہ بہت سالوں میں روپیہ بیچ کر نادر نہیں بلکہ چونکہ یہ پہلی خراج کی رقم تھی۔ آپ نے ان لوگوں میں صدقہ کی راہ میں بڑی بڑی قربانیاں کر چکے تھے لہذا تقسیم کر دیا۔ اور مسادات کی ایسی مثال قائم کی جس کی نظیر نہیں ملتی آج ایک جرنیل تو کسی جنگ میں بھی فدیہ کر کے لاکھوں پونڈ انعام لیتا ہے مگر یہاں سب مسلمانوں میں ایک سوا تہہ کیونکہ سب ہی غنی نظر آتے تھے۔

اس واقعہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلوات اللہ علیہ پر کتنا محبت تھی اور ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور مسلمان بھی ایسے محبت سے تھے کہ اس کھلے شے ہونے کے باوجود اسے کوئی پیسہ اور دھڑ نہیں کرتا۔ آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا دل مال دنیا سے غنی تھا وہ نازک لذت مند تھے۔ مگر کسی نازک لذت مند کا دل دنیا کی محبت سے اس طرح غالی نہیں ہو سکتا جیسے آپ و آپ کے ساتھیوں کا دل مال کی محبت سے غالی تھا۔ عزت کی حالت اور بادشاہت کی حالت میں کیسا انظار نظر آتا ہے۔ لوٹ مار کا جو بڑا الزام لگانے والوں نے ایک نظر غور بھی تاریخ اسلام پر نہیں ڈالی وہ عمل حضرت عباس نے جس فدیہ کی طرف اشارہ کیا ہے وہ جنگ بدر میں قید ہو جانے پر فدیہ دینے کا ذکر ہے۔ گو وہ جنگ بدر میں مخالفین کے لشکر میں شامل ہو کر آئے۔ مگر عرض یہ ہے کہ ان کے دل میں رسول اللہ صلوات اللہ علیہ کی محبت تھی۔ اور انصار سے جو کچھ معاملہ بیعت عقبہ کے وقت ہوا وہاں سب بھی رسول اللہ صلوات اللہ علیہ کے ساتھ تھے تو رسول اللہ صلوات اللہ علیہ کو جانتے تھے کہ وہ دل سے اسلام کے مخالف نہیں مگر ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو جنگ کے دوسرے قیدیوں کے ساتھ کیا گیا جب کہرت سے مال لگے پاس آیا اور عباس نے خود طلب کیا تو اپنے بھی فرمایا کہ جس فدیہ پر ہونے لو۔ ان کی حرص مال پر بے نیازی کی تھی۔ یہاں تک کہ آپ کو تعجب ہوا کہ عباس کو کیوں اس قدر یہ مال چھوٹا نہ تھا اور آپ کا ان پر تعجب کرنا یہ بھی بتاتا ہے کہ صحابہ میں شاذ و نادر ایسی مثال تھی +

وَمَنْ أَجَابَ مِنْهُ ۲۹۷ عَنْ النَّسِ قَالَ وَجَدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ادرجا سے منظور کرے مگر اس سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو

فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ نَاسٌ فَقُمْتُ فَقَالَ لِي أَرْسَلَكُ أَبُو طَلْحَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَطْعَامُ
مسجد میں پایا اور آپ کے ساتھ کچھ لوگ تھے میں کھڑا ہوا مجھے فرمانے لگے کیا تجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے میں نے کہا ہاں فرمایا کھانے کے لئے

فُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِي مَنْ حَوْلَهُ فَوَمَوْا فَأَنْطَلَقُوا وَأَنْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِهِمْ بَاب
میں نے کہا ہاں تو جو آپ کے گرد تھے ان سے فرمایا اٹھو پس آپ چلے اور میں ان کے آگے آگے چلا گیا

الْفَضَاءِ وَاللَّعَانَ فِي الْمَسْجِدِ بَيْنَ الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ (۲۹۷) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ
مردوں اور عورتوں کے درمیان مسجد میں فضیلت اور لعان کرنا

أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَنَهُ فَمَلَكَ عَنَّا فِي
ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ فرمائیے ایک شخص نے اپنی عورت کے ساتھ کسی مرد کو پایا کیا اسے قتل کرے پس دونوں نے مسجد میں

الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ بَابٌ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا يُصَلِّي حَيْثُ شَاءَ أَوْ حَيْثُ أَمَرَ
لعان کیا اور میں حاضر تھا باب جب کسی گھر میں داخل ہو جائے تو جہاں چاہے نماز پڑھے جہاں حکم دیا گیا

وَلَا يَجْسُسُ (۱۱۴) عَنْ عْتَبَانَ بْنِ مَالِكٍ (مُتَكَرَّرٌ - ۲۹۸) بَابُ الْمَسَاجِدِ
اور تجسس نہ کرے دیکھو حدیث نمبر ۲۹۸ باب

فِي الْبُيُوتِ وَصَلَّى لِبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فِي مَسْجِدِ دَارِهِ بِجَمَاعَةٍ (۲۹۸) عَنْ عْتَبَانَ
گوروں یا مسجدوں کا ہونا اور ہر ابن عازب نے اپنے گھر کی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھی

ابن مالك وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شُهَدَاءِ بَدْرٍ لَمْ يَمُتْ
بن مالک سے روایت ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب میں سے تھے جو انصار میں سے جنگ بدر میں شامل تھے

الْأَنْصَارِ أَنَّهُ أَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ تَكَرَّرْتُ
کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ میری بیٹائی کی زور جو کئی

بَصْرِي وَأَنَا أَصِلُ الْقَوْمِي فَإِذَا كَانَتْ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي أُنِي بَيْتِي وَبَيْتَهُمْ لَمْ
اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں تو جب بارشیں ہوں تو وہ نال جو میرے اعداؤں کے درمیان ہے بہتا ہے

أَسْتَطِعُ أَنْ آتِي مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ بِهِمْ وَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ تَأْتِيَنِي
میران کی مسجد میں نہیں آسکتا تا کہ میں انہیں نماز پڑھاؤں اور یا رسول اللہ میں پند کرنا نہیں کہ آپ میرے یہاں شہر لیں لائیں

فَتُصَلِّيَ فِي بَيْتِي فَأَتَّخِذُهُ مُصَلًّى قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اور میرے گھر میں نماز پڑھیں پس میں اس کو نماز گاہ بناؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا

سَا نَحْلُكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ عْتَبَانُ فَقَدْ عَلِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اگر خدا چاہے تو کہوں گا عتبان نے کہا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

وَأَبُو بَكْرٍ حِينَ ارْتَفَعَتِ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنَتْ
اور حضرت ابو بکر صبح میں وقت دن چڑھا تو میرے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت چاہی تو میں نے آپ کو اجازت دی

مسئلہ ان ابواب کو قائم کرنا اور ایسی احادیث کے لئے سے امام بخاری کا یہ منشاء ہے کہ مسجد میں نماز کے سوائے مسلمانوں کے دوسرے کام بھی سر انجام دیئے جا سکتے ہیں آنحضرت صلعم و فود کو بھی مسجدوں میں اتارنے تھے۔ اوپر مال کے مسجد میں ڈالنے کا ذکر آیا ہے جہاں کھانے کے لئے بلائے جاتے تھے۔ مسجد در حقیقت مسلمانوں کے لئے ایک مرکز کا کام دیتی ہیں۔ جہاں عبادت کے رنگ میں ان کی روحانی بہتری کے کام ہی نہیں بلکہ ان کی اخلاقی تمدنی معاشرتی ملکی ہر قسم کی بہتری کے کام ہو سکتے ہیں آنحضرت صلعم کے زمانے میں اور آپ کے بعد ملکی معاملات میں مجلس شہور سے کام مسجد میں منعقد کرنا عام تھا۔ مسلمانوں کی تعلیم دینی کے لئے بھی مسجدیں مرکز ہوتی چاہئیں۔ اور ہر مسجد کے ساتھ دینی اور تاریخی مطلقہ کا کتب خانہ بنانا چاہیے جہاں مسلمان علمی فوائد حاصل کر سکیں۔ عکس حدیث نمبر ۲۹ کر احادیث میں سے ہے اور یہاں بہت مختصر آئی ہے مگر گے

علامات النبوة میں مفصل آئی ہے۔ لیکن چونکہ کتاب علامات النبوة اس حصہ میں نہیں گئی اسلئے اسے یہاں میں لکھ دیا گیا۔ حدیث نمبر ۲۹۷ بھی مکرر احادیث میں سے ہے اور مفصل باب اللعان میں آئی ہے۔ چونکہ باب اللعان اس حصہ میں نہیں آسکتا۔ اس لئے یہاں میں لکھی گئی ہے۔ لیکن اس صورت کا نام ہے جب مرد کا یہ دعوی ہو کہ اسے اپنی عورت کو زنا کی حالت میں پایا اور عورت اس سے انکار کرے تو وہ دونوں اپنی اپنی صداقت پر قسم کھاتے ہیں اور چھوڑے پر لعنت کرنے میں جس سے نکاح فسخ ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر ۲۹۸ جو مفصل آگے آئی ہے وہاں بہت چھوٹا سا لکھ لیا گیا ہے اور اللہ صلعم آناہ فی منزلہ فقال ابن عتبان حج ان صلی لک من بدینک قال فاشرفت لالی حکان فکبر اللہ تعالیٰ ورضنا خلفہ صلی لکعتین

لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حِينَ دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ خَبُئْتُ أَنْ أَصِلَ مِنْ بَيْتِكَ قَالَ فَأَشْرَفْتُ

اور میں وقت گھر میں داخل ہوئے تو بیٹھے نہیں پھر فرمایا ہے گھر میں سے تم کو کسی جگہ پسند کرنے ہو کہ میں وہاں نماز پڑھوں

لَهُ إِلَى نَاحِيَةِ مَنَ الْبَيْتِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَرَّرَ فَقَضَيْنَا فَصَفَقْنَا

کہا میں نے آپ کو گھر کی ایک جانب کی طرف اشارہ کیا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اصرار کیا کہ اور ہم کھڑے ہو گئے اور صف باندھی

فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ وَحَسَبْنَا هُ عَلَى خِزْيَةٍ صَنَعْنَا هَالَهُ قَالَ فَتَابَ فِي الْبَيْتِ

پس آپ نے دو رکعت پڑھی پھر سلام پھیرا اور ہم نے آپ کو صلیم پر جو بیٹھے آپ کے واسطے تیار کیا تھا روک لیا مگر کہا اٹھو والوں میں سے

رِجَالٌ مِّنْ أَهْلِ الدَّارِ ذُو وَعَدِدٍ فَاجْتَمَعُوا فَقَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ حَرَّ أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدَّخْحِيثِ

چند آدمی گھر میں آئے اور جمع ہوئے تو ان میں سے کسی کہنے والے نے کہا

أَوْ ابْنُ الدَّخْحِيثِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ مُتَارِفٌ لَا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

یا ابن دخثن کہاں ہے مگر تو کسی نے کہا وہ منافق ہے خدا اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا رسول اللہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُلْ ذَلِكَ أَلَا تَرَاهُ قَدْ قَالَ لَكُمْ أَلَا اللَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَهُ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مت کہو کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا اس سے خدا کی پناہ منادیا جائیگا

اللَّهُ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ قَالَ فَاَنَا نَرَى وَجْهَهُ وَيُضَيِّقُنَا إِلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ

کہا خدا اور اس کا رسول خوب جانتا ہے ہم تو اس کی توجہ اور رخ خواہی منا فقہوں کی طرف دیکھتے ہیں

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور رسول نے اسے آگ پر حرام کر دیا ہے جو

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُسَبِّحُ بِذَلِكَ وَجْهَهُ اللَّهُ بِأَبِ التَّائِبِينَ فِي دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَعَايِرَهُ وَ

لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی رضامندی جانتا ہو مگر

كَانَ ابْنُ عَمْرٍو يَتَّبِعُ أَبَا بَرْجَلَةَ الْيَمَنِيَّ فَإِذَا خَرَجَ بَدَأَ بِرَجْلِهِ الْبَيْسَرِيَّ (ر ۱۱۵) عَنْ عَائِشَةَ

ابن عمر اپنا پایاں پاؤں پہلے (اللہ) رکھتے اور جب نکلنے تو اپنے بائیں ہاتھ سے شروع کرتے تھے

(مُتَكَرِّرًا - ۱۱۴) بِأَبِ هَلْ يُنْبَسُ قَبْرُ مُشْرِكِي الْجَاهِلِيَّةِ وَيُجَنَّدُ مَكَانَهَا مَسَاجِدُ

نمبر ۱۱۴ مگر باب کیا مشرکین جاہلیت کی قبریں کہودی جائیں اور ان کی جگہ مسجدیں بنائی جائیں

لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ الْمُخَذَّوْغَةَ وَالْقَبْرُورَ أَبْيَاثَمَ

جو یہ نقل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا یہود پر لعنت کرے انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو

مَسَاجِدًا وَمَا يَكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْقَبْرِ وَرَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَسْنَانَ بْنَ

مسجدیں بنایا اور وہ جو قبروں میں نماز پڑھنے سے مکروہ جانا جاتا ہے اور عمر بن خطاب نے اس کو قبر کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا

مَالِكٍ يُصَلِّي عِنْدَ قَبْرِ فَقَالَ الْقَبْرُ وَالْقَبْرُ وَكَمْ يَأْمُرُهُ بِالْعَادَةِ (۲۹۹) عَنْ

تو کہا قبر سے بیچ قبر سے بیچ اور سوکھو تو انے کا حکم نہیں کیا مگر

اس سے معلوم ہوا کہ کبھی نفل کی نماز جماعت کیساتھ ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نوافل بغیر نماز کے پڑھا کرتے تھے۔ صلیم کے متعلق فتح الباری میں کہا ہے کہ اس طرح بتاؤ کہ گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کر بہت سے پانی میں پکا یا جاتا ہے جب گوشت خوب نکل جاتا ہے تو سپرانا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مالک بن دخیثن یا شوئن کے متعلق ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ وہ مدینہ تھا۔ یعنی غزوة۔ بد میں شریک تھا اور ابن اسحاق نے مغازی میں لکھا ہے کہ مسجد حرام کے چاروں طرف کے واسطے جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے تھے ان میں ایک مالک بن دخیثن بھی تھا اس مجلس میں کسی شخص نے منافقوں سے کچھ انکسلیاں چول دیکھنے کی وجہ سے ان پر ہنگامی کرتے ہوئے انہیں بھی منادیا کہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے رضا کے لئے کلمہ پڑھتا ہے اس کے حق میں ایسا نہ کہنا چاہیے مگر کلمہ کے مشیدائیوں کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پھر قابل خود ہے بیشک اس میں اللہ کی رضا کی شرط ہے۔ لیکن جو شخص مجرم مسلمان نہیں کیا گیا اور اسے کوئی ایسی مجبوری نہیں کہ کسی کے خوف سے کلمہ پڑھتا ہو۔ وہ رضائے الہی کے لئے ہی پڑھتا ہے مانگا ہے۔ کوئی عملی کوتاہی یا کسی آیت یا حدیث کے سمجھنے میں تاویل کرنا رضائے الہی کے خلاف نہیں ہے۔ یہ آداب کے طریقے ہیں۔ جو نبی کریم اور صحابہ کرام محفوظ رکھتے تھے۔ یہ تہذیب کا عارفانہ رنگ ہے۔ اور اس سے اتباع کا شوق بڑھتا ہے۔ مگر حدیث مکرر میں ما استطاح کا لفظ ناگوار ہے یعنی جہاں تک ہو سکتا تھا نبی کریم ایسے کاموں کو جنہیں طبیعت چاہتی ہو وہیں نافذ سے کیا کرتے تھے مسجید میں نفل جو ناجہی انہی میں سے ہوتا کہ صاف کرنا استنجائی وغیرہ بائیں سے کرتے تھے۔ مگر عرب میں گھر میں بیت پر نماز پڑھنا اور بیت پرستی کے رگ درشتی میں گھر لگتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت پرستی کی عینگی منظور تھی اسلئے کوئی ایسا کام جائز نہیں رکھا جس سے بیت پرستی کی باتی ہواسی بنا پڑھنا ان میں نماز پڑھنے کو اور نصیروں والے کپڑوں میں نماز پڑھنے سے رکھا لیکن یہ ایک پسند اور مکروہ ہے اس نماز فاسد نہیں ہوتی۔

کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پھر قابل خود ہے بیشک اس میں اللہ کی رضا کی شرط ہے۔ لیکن جو شخص مجرم مسلمان نہیں کیا گیا اور اسے کوئی ایسی مجبوری نہیں کہ کسی کے خوف سے کلمہ پڑھتا ہو۔ وہ رضائے الہی کے لئے ہی پڑھتا ہے مانگا ہے۔ کوئی عملی کوتاہی یا کسی آیت یا حدیث کے سمجھنے میں تاویل کرنا رضائے الہی کے خلاف نہیں ہے۔ یہ آداب کے طریقے ہیں۔ جو نبی کریم اور صحابہ کرام محفوظ رکھتے تھے۔ یہ تہذیب کا عارفانہ رنگ ہے۔ اور اس سے اتباع کا شوق بڑھتا ہے۔ مگر حدیث مکرر میں ما استطاح کا لفظ ناگوار ہے یعنی جہاں تک ہو سکتا تھا نبی کریم ایسے کاموں کو جنہیں طبیعت چاہتی ہو وہیں نافذ سے کیا کرتے تھے مسجید میں نفل جو ناجہی انہی میں سے ہوتا کہ صاف کرنا استنجائی وغیرہ بائیں سے کرتے تھے۔ مگر عرب میں گھر میں بیت پر نماز پڑھنا اور بیت پرستی کے رگ درشتی میں گھر لگتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت پرستی کی عینگی منظور تھی اسلئے کوئی ایسا کام جائز نہیں رکھا جس سے بیت پرستی کی باتی ہواسی بنا پڑھنا ان میں نماز پڑھنے کو اور نصیروں والے کپڑوں میں نماز پڑھنے سے رکھا لیکن یہ ایک پسند اور مکروہ ہے اس نماز فاسد نہیں ہوتی۔

عَاشَتْهُ اَنَّ اُمَّ حَبِيبَةَ وَاُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ اَكْبَسَةَ رَاَيْهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ نے ایک گرجے کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا جس میں تصویروں میں تھیں

فَذَكَرَتْ اَذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ اَوْلِيَّكَ اِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ

انہوں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا وہ لوگ جب ان میں سے ایک آدمی ہوتا

الصَّاحِبُ فَمَاتَ بِهٖوَ اَعْلَى قَبْرِهِمْ مَسْجِدًا وَصَوْرًا فِيهِ نَبِيُّكَ الصُّورُ وَاَوْلِيَّكَ شَرَّ اَلْخَلْقِ

اور صحابہ تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں یہ تصویریں بناتے اور وہ لوگ نجات کے دن

عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (۳۰۰) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ الشَّيْخِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

خدا کے نزدیک لوگوں میں سے بدترین ہیں۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلَ اَعْلَى مَدِيْنَةٍ فِي حَيِّ يُقَالُ لَهُمْ يَبُو عَمْرٍو مِنْ عَوْفٍ فَاَقَامَ التَّيْسِيُّ

مدینہ آئے تو مدینہ کے اوپر کی طرف ایک قبیلہ میں جن کو بنی عوف کہا جاتا تھا اترے اور ان میں نبی کریم

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَامِرٌ فِيهِمْ اَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ارْسَلَ اِلَى بَنِي التَّجَارِ فِجَاءً وَا

صلی اللہ علیہ وسلم چوبیس رات رہے پھر بنی تھار کی طرف پیغام بھیجا

مُتَقَلِّدِيْنَ السُّيُوفِ فَكَانِي اَنْظُرُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى رَاِحَتَيْهِ وَ

تو وہ تلواروں کو گلے میں لٹکائے ہوئے آئے گویا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اونٹنی پر دیکھتا ہوں اور

اَبُو تَكْرَمٍ رُفَاهُ وَمَلَايِبَةَ التَّجَارِ حَوْلَهُ حَتَّى اَلْفِي فِيْهَا اَبْنِي اَيُّوبَ وَكَانَ يُحِبُّ اَنْ يُصْبَلَ

ابو تکرم کے پیچھے سوار رہے اور بنی تھار کی جماعت آپ کے گرد بھی یہاں تک کہ ابو ایوب کے آگن میں رکیرے والا اور آپ کو جہاں پر نماز پڑھتے

حَيْثُ اَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ وَيُصْبَلُ فِي مَرَايِضٍ لُغْنًا وَرَاْتَهُ اَمْرًا بِنَايَةِ الْمَسْجِدِ فَاَرْسَلَ

وہاں پر پہنچا پسند کرتے تھے اور بکریوں کے پاؤں میں آپ نماز پڑھتے دیکھتے تھے اور آپ نے مسجد بنانے کا حکم کیا

اِلَى مَلَايِبَةَ التَّجَارِ فَقَالَ يَا بَنِي التَّجَارِ تَامَنُوْنِي بِمَا اُطَّلِعُ هُنَا قَالُوْا وَاَللهُ لَا نَطْلُبُ

تو بنی تھار کی جماعت کے پاس (پیغام) بھیجا اور فرمایا ہے بنی تھار مجھ سے اپنی اس زمین کی قیمت لے کر لو انورے کہا نہیں خدا کی قسم

ثَمَنَةً اِلَّا اِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اَنْسُ نَكَانَ فِيْهِ مَا اَقُوْلُ لَكُمْ قُبُوْرُ الْمُشْرِكِيْنَ وَفِيْهِ

اسکی قیمت ہم من خدا سے چاہتے ہیں انہوں نے کہا میں اس باغ میں وہ تھا جس کا ذکر تم سے کرتا ہوں (یعنی مشرکوں کی قبریں اور انہیں

خَرِبٌ وَفِيْهِ خُلٌّ فَاَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ لَنْبَسَتْ ثُمَّ

کھنڈرات تھے مگر اور اس میں کھجور کے درخت تھے پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کی قبروں کے متعلق حکم کیا اور وہ کھودی گئیں مگر پھر

بِالْحَرْبِ فَسُوِيَتْ وَيَا لُغْلٌ فَفُطِعَ فَضَفُّوا لُغْلٌ قَبْلَةَ الْمَسْجِدِ فَجَلُّوا اَعْضَادَ نَبِيِّ الْحِمَاةِ وَا

کھنڈر مغل کے متعلق (محم دیہ) سو وہ چھوڑ گئے اور کھجور کے درختوں کے متعلق حکم کیا تو وہ کاٹ دیئے گئے پس کھجور کے درختوں کی مسجد کے نیچے کی طرف ٹھکانا لگا

جَعَلُوْا اَيْقُنُوْنَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَضُوْنَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ وَهُوَ يَقُوْلُ

وہ پتھر اٹھاتے تھے اور شجر پڑھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے اور آپ پڑھتے تھے

اَللّٰهُمَّ لَا خَيْرَ اِلَّا خَيْرُ الْاٰخِرَةِ

اے خدا بھلائی میں خدا آخرت کی ہے

فَاَغْفِرْ لَاصْحَابِ الْمَهْجَرَةِ

پس انصاف اور مہاجرین کی مغفرت فرما

مگر قبروں کو کھودنے کے بعد زمین ہموار کر دی گئی اور قبروں کے نشان نہیں بچھے اس لئے ان قبرستان کے باوجود بلا لاہنت ان نماز پڑھنا درست ہے +

محلہ اس سے معلوم ہوتا ہے جو کس حدیث میں آیا ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو اس میں طاہک نہیں آتے اس سے مراد وہ تصویر ہے جو تعظیم اور پرستش کے لحاظ سے گھر میں رکھی جائے۔ جیسا عیسائی کرتے تھے۔ اور ملائک سے وہ مراد ہیں جو انسان کے دل میں نیکی کی تحریک کرنے والے ہیں۔ ام حبیبہ اور ام سلمہ نے حبشہ میں ہجرت کی تھی۔ آنحضرت مسلم سے آپ کے منزل الموت میں گیا۔ تو آپ نے یہ الفاظ لکھ کر سہارا دیا کہ میری قبر کو ایسا بنا دیا جائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قبریں بہت پورانی تھیں اور کھنڈر ہی کھنڈر نظر آتے تھے۔ جیسا کہ الفاظ حدیث میں ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجد کے بنانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملکر کام کرتے تھے پس لو کہی ٹھکانا بھی آپ کی سنت ہو گئی اور ایک مزدوری کرنے والا مسلمان بھی مشرک نہیں +

بہتر ہے کہ اس حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے اور اس میں یہ تصویریں بناتے اور وہ لوگ نجات کے دن

بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ لُغَمَرٍ (۱۱۶) عَنْ النَّسَبِيِّ بْنِ مَالِكٍ (مُتَكَرِّرًا - ۳۰۰)

باب کبروں کے باروں میں نماز پڑھنا دیکھو حدیث نمبر ۳۰۰

بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَوَاضِعِ الْأَيْلِ (۳۰۱) عَنْ نَافِعِ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي

باب اونٹوں کی گھدی میں نماز پڑھنا نافع سے روایت ہے کہ میں نے ابن عمر کو دیکھا کہ اپنے

إِلَى بَعِيرِهِ وَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ بَابٌ مِنْ حَصَى وَ

اونٹ کی طرف نماز پڑھتے تھے اور اس نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے دیکھا ہے باب جو نماز پڑھے اور

قَدَامَهُ تَتَوَارَأُونَ أَوْ نَارًا أَوْ شَيْئًا مِمَّا يُعْبَدُ فَأَرَادَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ

ایکے سامنے تہہ ہوا کہ یا ایسی چیز ہو جس کی پرستش کی جاتی ہے اور اس نے اپنے نعل سے خدا کی رضا چاہی اور

الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي أَنَّ النَّسَبِيَّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

زہری نے کہا کہ ابن انس نے مجھ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

عُرِضْتُ عَلَى النَّارِ وَأَنَا أُصَلِّي (۱۱۷) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ (مُتَكَرِّرًا)

میرے سامنے آگ لائی گئی اور میں نماز پڑھ رہا تھا دیکھو حدیث نمبر ۱۱۷

۷۷ بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ (۳۰۲) عَنْ ابْنِ عُمَرَ

باب قبرستانوں میں نماز کا مکروہ ہونا ابن عمر سے روایت ہے

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ

کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھر میں بھی پڑھا کر

وَلَا تَتَّخِذْ دُهَا فَيُورَأُ بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَوَاضِعِ الْحُسْفِ وَالْعَذَابِ وَيُرَدُّ كَرَانٌ عَلَيْهِ رَضِيَ

اور ان کو قبر سے نہ بناؤ باب دہنسی ہوتی اور عذاب کی جگہوں میں نماز پڑھنا اور بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت

اللَّهُ عِنْدَهُ كَرَاهِيَةُ الصَّلَاةِ بِحُسْفٍ بَابِل (۳۰۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

رضی اللہ عنہ نے بابل کی دہنسی ہوتی جگہ میں نماز کو مکروہ سمجھا عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَوَاءِ الْمُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاصِكِينَ

نے فرمایا کہ ان عذاب دہنے والوں پر داخل مت ہو مگر اس حال میں کہ تم روتے والے ہو

فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاصِكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لِاصْبِيحَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ بَابُ الصَّلَاةِ

اور اگر تم روتے والے نہ ہو تو ان پر داخل نہ ہو تاکہ انکو نہ پوچھے جانکو پوچھا ہے باب

فِي لُبَيْعَةٍ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّا لَا نَدْخُلُ كُنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ التَّمَاثِيلِ

کہ میں نماز پڑھتا اور حضرت عمر نے کہا کہ ہم تمہارے گرجوں میں ان صورتوں کی وجہ سے جن میں تصویریں ہیں داخل نہیں ہوتے

الَّتِي فِيهَا الصُّوَرُ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّي فِي لُبَيْعَةٍ لَا يَبِيعُ فِيهَا تَمَاثِيلَ

اور ابن عباس نے باسٹھ اس گرجا کے جس میں صورتیں ہیں اور گرجوں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے

حدیث نمبر ۳۰۱ کا ایک گھڑا میں آگ آتا ہے۔۔۔ کان۔۔۔ النبوی صلعم بیضی فی مزابض الغنم اور یہ الفاظ لایوں سے سمعہ بعد یقول کان بیضی فی مزابض الغنم فصلان بیضی المسجود یعنی اسکے بعد میں نے ابن سے سنا کرتے تھے کہ کبروں کے باروں میں مسجد کے بنے سے پہلے آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔۔۔ یعنی قبرستان میں نماز پڑھنا پسند کرتے تھے۔ اور باروں میں نہیں پڑھتے تھے باروں میں نماز پڑھنے سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ کبروں کی مینگیٹیاں اور پیشاب ناپاک نہیں لیکن پانی ناپاکی کے سوال کو چھوڑ کر بھی نبی صلعم کے حالات سے یہ ظاہر ہے کہ آپ ہر حالت میں پاک صاف رہتے اور پاک صاف تھے کو پسند کرتے تھے اس لئے کہ کبروں کے ہاں بھی صاف ہتھ پیرا جگہ کو صاف کر کے پڑھتے ہوں گے۔۔۔ ظاہر کبروں کی جگہ اور اونٹوں کی جگہ میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن بعض احادیث آئی ہیں۔ جن سے اونٹوں کے بیٹھے کی جگہ میں نماز کی ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ یہ محض غلاظت کی وجہ سے ہو۔ جو وہاں زیادہ مقدار میں جمع ہو۔۔۔ حدیث نمبر ۷۷ مفصل ہے یہاں صرف اس قدر لفظ میں قال الخسفت الشمس فصلی رسول اللہ صلعم نشہ قال ارمیت النار فلما راها باليوم قط اظطج به آخری الفاظ فلما راہ سے عبرت میں نہیں ہیں۔۔۔ کچھ حصہ نماز کا گھر والوں ہی پڑھا کر وہی نفل یا توجہ اسلئے من صلواتک فرمایا کہ فرض نماز مسجد میں جماعت پڑھنی ضروری ہے۔۔۔ عیضہ ہونے کا واقعہ ہے جب آپ حجر میں نمود کی تباہ بستیاں پڑھتے۔ ایک بار شہ قوم کے حالات سے عبرت حاصل کرنے کی تعلیم دی ہے۔

کے ہاں بھی صاف ہتھ پیرا جگہ کو صاف کر کے پڑھتے ہوں گے۔۔۔ ظاہر کبروں کی جگہ اور اونٹوں کی جگہ میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن بعض احادیث آئی ہیں۔ جن سے اونٹوں کے بیٹھے کی جگہ میں نماز کی ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ یہ محض غلاظت کی وجہ سے ہو۔ جو وہاں زیادہ مقدار میں جمع ہو۔۔۔ حدیث نمبر ۷۷ مفصل ہے یہاں صرف اس قدر لفظ میں قال الخسفت الشمس فصلی رسول اللہ صلعم نشہ قال ارمیت النار فلما راها باليوم قط اظطج به آخری الفاظ فلما راہ سے عبرت میں نہیں ہیں۔۔۔ کچھ حصہ نماز کا گھر والوں ہی پڑھا کر وہی نفل یا توجہ اسلئے من صلواتک فرمایا کہ فرض نماز مسجد میں جماعت پڑھنی ضروری ہے۔۔۔ عیضہ ہونے کا واقعہ ہے جب آپ حجر میں نمود کی تباہ بستیاں پڑھتے۔ ایک بار شہ قوم کے حالات سے عبرت حاصل کرنے کی تعلیم دی ہے۔

(مر ۱۱۸) عَنْ عَلِيَّةَ (متکرر ۲۹۹) بَاب (۳۰۴) عَنْ عَلِيَّةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍاء قَالَ

كَبِيْرٌ رَوَيْتُ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طِفْلاً يُطْرَحُ مَخِيْصَةً لَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا

أَخْتَمَهَا كَشَفَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى لِيُخَذُوا

قُبُورَهُمْ أَنْ يَأْتِيَهُمْ مَسَاجِدٌ يُحْدَثُونَ (مر ۱۱۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرر ۳۰۴) بَاب

قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَأَطْوَلًا (مر ۱۲۰) عَنْ

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (متکرر ۲۴۷) بَاب (۳۰۵) نَوْمِ الْمَرْأَةِ فِي الْمَسْجِدِ (۳۰۵) عَنْ

عَائِشَةَ أَنَّ وَلِيْدَةَ كَانَتْ سَوْدَاءَ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ فَأَعْتَقُوهَا كَانَتْ مَعَهُمْ

وَأَلَّتْ فَحَرَجَتْ صَبِيَةً لَهُمْ عَلَيْهَا وَشَاخَ أَحْمَرٌ مِنْ سُيُورٍ قَالَتْ قُوضِعَتْ

أَوْ وَقِعَ مِنْهَا فَمَرَّتْ بِهِ حُدَيْيَاتٌ وَهُوَ مَلْفَى فَحَسِبْتَهُ لِحْمًا فَحَقَقْتُهُ

قَالَتْ فَالْمَسُوْرَةُ فَكَمْ يَحْدُوْهُ قَالَتْ فَأَتَمُّوْنِيْ بِهِ قَالَتْ فَطَفِقُوا

يَفْتِيْشُونِيْ حَتَّى فَتَسُوْا فَبَلَّهَا قَالَتْ وَاللَّهِ إِنَّ لِقَائِمَةً مَعَهُمْ مَا دَ

مَرَّتِ الْحُدَيْيَاتُ نَأَلِقَتْهُ قَالَتْ فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ قَالَتْ فَهَلَّتْ هَذَا الَّذِي

كَبِيْرٌ رَوَيْتُ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طِفْلاً يُطْرَحُ مَخِيْصَةً لَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا

حدیث نمبر ۲۹۹ میں ام سلمہ اور ام حبیبہ دونوں کا ذکر ہے یہاں صرف ام سلمہ کا ذکر ہے اور یہاں سرگماکانام بھی دیا ہے جو انہوں نے دیکھا اور جس میں تصویریں لکھی ہیں ان سے بھاری بھاری یہاں ہاٹا لیا ہے تو وہاں اس پر کتھوک لگا کر لے کر جو میں اپنے مقدس بزرگوں کے بت بھی رکھتے تھے۔ تو والدہ صلعم کے ان کے اس نعل پر ناپسندیدگی کے اظہار سے یہ نہلاں کیا ہے کہ ایسی جگہ میں نماز ناجائز ہے جہاں تصویریں لگا رہے ہوں۔ ۳۰۶ میں بھی کہ بت پرستی کی بنیاد اسلام میں بڑا حدیث ہے اس پر امت کی کس قدر تکلفی کہ جب موت کی گھبراہٹ سامنے تھی اس وقت بھی نصیحت فرماتے تھے کہ تم نے اپنے نبی کو بھروسے بڑا کر

حدیث نمبر ۲۹۹

حدیث نمبر ۳۰۴

حدیث نمبر ۳۰۵

حدیث نمبر ۳۰۶

حدیث نمبر ۳۰۷

کو خدا نہ بنا۔ اور اس کی قبر کو پرستش گاہ نہ بنا لینا۔ جیسا کہ یہود و نصاریٰ نے کیا۔ یہود کے انبیاء تو بہت گذرے ہیں۔ لیکن نصاریٰ کا بھی صرف ایک ہی ہے جیسے حضرت عیسیٰ۔ یہ کہنا کہ نصاریٰ کے نبیوں سے مراد بھی یہود کے انبیاء ہی ہیں بالکل غلط ہے۔ اس لئے کہ نصاریٰ نے مسیح کو خدا بنایا۔ اور انبیاء یعنی اسرائیل میں سے کسی کو خدا نہیں بنایا۔ بلکہ وہ تو نبیوں کی عرت بھی چھننا نہ کرتے تھے۔ کیونکہ ان سب کو بشر اور گناہگار سمجھتے تھے۔ اوداب بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ پھر ان کی قبروں کو وہ مسجدیں کیوں کر بنا سکتے تھے۔ دوسری توجیہ یہ کی گئی ہے کہ نصاریٰ کے انبیاء سے مراد جواری ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ مجاز کے رنگ میں لفظ نبی کا استعمال غیر نبی پر ہو سکتا ہے۔ مگر یہاں یہ بھی مراد نہیں۔ کیونکہ مراد تو یہ ہے۔ کہ ان لوگوں نے انبیاء کو خدا بنایا اور ان کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن نصاریٰ نے تو اگر کسی کو خدا بنایا تو وہ صرف حضرت عیسیٰ میں اور مجازاً لینے کے لئے کوئی تزیینہ بھی یہاں نہیں ہے۔ پس اس حدیث سے قطعاً طور پر ثابت ہے کہ نبی کریم صلعم کے نزدیک حضرت مسیح کی کوئی قبر تھی اور یہ قبر وہی ہے جہاں عیسیٰ اتار کر حضرت عیسیٰ کو رکھایا جس کو عیسیائیوں نے بہت عظمت کا مقام دے رکھا تھا۔ حضرت عیسیٰ کو مسلمان پرچوں نے دالوں کی اس حدیث میں سی قطعی ترمیم کی کہ جس میں کسی ریکٹ تاویل کی گواہی بھی نہیں۔ اگر آنحضرت صلعم کا یہ خیال ہو گا کہ حضرت عیسیٰ نے ایسی دوبارہ آنا ہی اور میری قبر میں دفن ہونا ہی تو ایسے منہ سے یہ لفظ کبھی نہ نکل سکتے۔ عجلہ چلی حدیث کا صرف اس قدر گورہ یہاں ہے میں رسول اللہ صلعم قال قال اللہ الیہود اتخذوا قُبُورِ انبیاءکم مساجد۔ یہ ہے کہ ایک جگہ نماز ہو سکتی ہے البتہ جہاں کوئی مانع ہو مثلاً زمین نا پاک ہو یا اور مناجت جگہ کا اور پاپا سواں نماز نہیں ہے پھر جیسے + ابانی برص ۱۱۲

اَتَمَّتْ قَوْمِي بِهِ زَعْمَهُمْ وَآثَامُنَا بَرِيئَةٌ وَهُوَ ذَا هُوَ قَالَتْ فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

جس کے تم نے مجھے نعت دی تم نے گمان کہا اور میں اس سے پاک تھی اور وہ یہ ہے کہا پس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْلَمَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ لَهَا خِيَابٌ فِي الْمَسْجِدِ وَحَسْرَةٌ

اور مسلمان ہو گئی عایشہ نے کہا پس مسجد میں اس کا خیمہ تھا باجھو پڑھی تھی علی

قَالَتْ فَكَانَتْ تَأْتِيَنِي فَتَحَدِّثُ عِنْدِي قَالَتْ فَلَا تَجْلِسُ عِنْدِي مُجَلِّسًا إِلَّا قَالَتْ

کہا پس وہ میرے پاس آیا کرتی تھی اور میرے پاس بائیں کرتی تھی کہا پس جب میرے پاس کسی مجلس میں بیٹھی تو یہ رشتہ پڑھتی

وَيَوْمَ الْوُشَّاحِ مِنْ تَعَاَجُيبِ رَبِّنَا

اور ہار کا دن ہمارے رب کے عجائبات میں سے (تھا)

أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلَدَةِ الْكُفْرِ الْحِجَابِي

اے کفارہ جو اس نے مجھے کفر کے شہر سے نجات دی

قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهَا مَا شَأْنُكَ لَا تَقْعُدِينَ مَعِيَ مَقْعَدًا إِلَّا قُلْتَ هَذَا قَالَتْ

حضرت عایشہ نے کہا میں نے اس سے کہا تیرا کیا قصہ ہے تو جب بھی میرے ساتھ بیٹھتی ہے یہ کہتی ہے

فَحَدَّثْتَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ يَا بَنِي تَمِيمٍ رَجُلًا فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ

تو اس نے مجھ سے یہ بات بیان کی باب مسجد میں مردوں کا سونا ابو قتادہ بن انیس سے روایت کر کے کہتے ہیں

ابن مالک قَدِمَ مَرَاهُطٌ مِنْ عَمَلِ عَلَى الشَّيْءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا فِي

کہ عیال کا ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ

الصَّفَةِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ كَانَ أَحْصَبَ الصَّفَةِ الْفُقَرَاءَ (۳۰۶) عَنْ

صفہ میں رہے اور عبدالرحمن بن ابی بکر نے کہا کہ اصحاب صفہ

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ شَابٌّ أَعْرَبٌ لِأَهْلِ كَهْفِ فِي مَسْجِدِ الشَّيْءِ

عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سویا کرتا تھا اور وہ مجرد جوان تھا اس کی بیوی تھی

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۳۰۷) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

بقرہ ص ۱۲۴

۱۲۴

اس حدیث

میں احاد کے بعد

من الانبیاء کا

نظر زیادہ ہے یعنی

مجھے پہلے کسی نبی

کو یہ بائیں پڑیں

نہیں دی گئیں

مگر معلوم ہوا

مذرت کے لئے

مسجد میں غیر لگا کر

بھی کوئی رہ سکتا

ہے خواہ وہ عورت

ہی ہو۔ آج کل

کا پردہ کہاں کی

اجادات دیتا ہے

یہ وہی لوگ

تھے جو بارہو کر

سرکاری شہر خانہ

میں بھیجے گئے تا

کہ اوشیوں کا وہ

پہنیں۔ پھر اچھے

ہو کر مرتد ہو گئے۔

اور چرواہوں کو

مار ڈالا اور کھینچا

کو بھگا کر لے گئے۔

انام بخاری اس

حدیث کو کتاب الحاکمین

میں لائے ہیں۔ اور

صفہ مسجد نبوی میں

ایک سایہ دار جگہ

تھی وہاں مساکین

رہا کرتے تھے +

مطلوبہ موجود نہ تھی

میں مسجد میں سونا

میسرہ بھجوانا جو

صحابہ کرام اس میں

کوئی ہرج نہیں

سمجھتے تھے خصوصاً

غیر ثاوی شدہ تو

اگر مسجد میں سویا

کرتے تھے۔ البتہ

عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس سے اسکی کراہت مروی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ مسجد میں سونا ان کے واسطے تاپہند کرنے ہو گئے جن کو سونے کے لے کا بی بی بھگتی ہو

یا ہمیشہ کے لئے مسجد کو تو لگا ہونا تاپہند کرنے ہوں گے + مگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و مہافت اور بی شکافی کا ایک نمونہ ہے جو آپ اپنے عزیزوں اور شہنشاہ دار کے ساتھ

رکھتے تھے۔ میان بیوی میں دشمن تھی۔ میان ناراض ہو کر مسجد میں جا سوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بی بی بھگتی کے اور کرتے تھے لے اور عزاب اٹھ کر

پرا نہیں اور عزاب اور عزاب لکھ کر لیا +

کتاب یہ حدیث مفصل کتاب الشوہ میں آئی ہے اور یہاں مکرر عادت میں مثال جوئی چاہئے تھی لیکن حوالہ کی سہولت کے لئے یہاں من میں درج کر دیا گیا ہے۔

کتاب الشوہ کی حدیث میں اسکی تفصیل یوں ہے جاہل کہتے ہیں میرا اونٹ چل نہیں سکتا تھا۔ نبی کریم نے اسے دیکھا تو مارا پھر رکھی مانند کوئی اونٹ تیرفتا نہیں تھا۔ نبی کریم کے ذمے پر بیٹھے آپ کا اس شرط پر وقت کیا کہ میں آپ کو تنگ سواری جو تنگ جب مدینہ پہنچے تو میں نے اونٹ حاضر کر دیا اور مجھے اس کی نیابت سے زیادہ دیا۔ یہ تھا وہ قرضہ جس کا داس حدیث میں ہے جاہل کہتے ہیں کہ نبی کریم صلعم نے اونٹ بھی پھر مجھے وہاں کر دیا اور فرمایا کہ یہ تیرا مال ہے وہ مطلق مسجد کا اچھا بیٹا نامیوجوب نہیں گواس میں تصاویر وغیرہ لگانا یا دباؤ نقش و نگار کرنا ایک ناپسندیدہ امر ہے سلام نے عداوت کو بھی سادہ رکھا ہے۔ اور

فَمَا بَأْتَرَابِ (۳۰۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ وَأَمْتَهُمْ ابوتراب اللہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے احباب صفہ میں سے ستر ایسے لوگ دیکھے کہ ان میں کوئی شخص نہیں تھا

رَجُلٌ عَلَيْهِ رَدَاءٌ أَوْ مَلَأَ إِذًا وَرَأَى كَسَاءً قَدَرَتْ نَطْوَانِي أَعْدَا قُرْصَمَ فَمِنْهَا مَا يَبْلَعُ نَضْفَ جس پر چادر ہو یا بند تھا یا کپڑا کہ اپنی گردنوں پر انہوں نے باندھا ہوا تھا پس ان میں سے کوئی آدمی

السَّاقِينَ وَمِنْهَا مَا يَبْلَعُ الْكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةً أَنْ تُرْمَى عَوْرَتُهُ يَا بَ بٹھائی تک ہو جاتا تھا اور کوئی ان میں سے ٹخنوں تک ہو جاتا تھا پہل سے اپنے ہاتھ سے کھینچے رہتا اس خوف سے کہ اس کا ستر نہ دیکھا جائے

الصلوة إذا قديم من سفر و قال كعب بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم نماز پڑھتا جب سفر سے آئے اور کعب بن مالک نے کہا کہ نبی کریم صلعم اللہ علیہ وسلم

إذا قديم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه (۳۰۸) عن جابر بن عبد الله قال جب سفر سے آئے تو پہلے مسجد میں آئے اور اس میں نماز پڑھتے جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ مَسْعَرُ أَرَأَيْتَ قَالَ ضَعِي فَقَالَ صَلِّ ك میں نبی کریم صلعم اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ مسجد میں تھے مسعر نے کہا میں خیال کرنا ہوں کہ کہا جاؤ گے کہ وقت نہیں

رَكَعَتَيْنِ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي يَا بَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ اپنے زیادہ دو رکعت نماز پڑھے اور میرا آپ پر قرضہ تھا پس مجھے ادا کیا اور زیادہ دیا

فَلْيَرْكِعْ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ (۳۰۹) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السُّكْمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بٹھنے سے پہلے دو رکعت پڑھا لے ابو قتادہ سکمی سے روایت ہے کہ رسول اللہ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكِعْ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ صلعم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت پڑھ لے

يَجْلِسَ يَا بَ الْحَدِيثِ فِي الْمَسْجِدِ (۳۱۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ باب مسجد میں بے وضو ہونا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْصَلُّ عَلَى أَحَدِكُمْ مَادَامَ فِي مَضَلَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى عليه وسلم نے فرمایا ملائکہ تم میں سے ایک پر دعا کرتے ہیں جب تک اپنی نماز کی جگہ پر ہو جاں اسے نماز پڑھی

فِيهِ مَا لَمْ يَجِدَتْ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ يَا بَ بِنَا ان جب تک کہ بے وضو نہ ہو کہتے ہیں صلعم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مغفرت فرما اسے اللہ سپر رحم کر

الْمَسْجِدِ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ كَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ وَأَمْرُ عَمْرُ اور ابو سعید نے کہا مسجد کی چھت کھجور کی چھڑیوں سے تھی اور حضرت عمر نے

بِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ أُرْكَنُ النَّاسِ مِنَ الْمَطَرِ وَإِيَّاكَ أَنْ تَحْمِرَ أَوْ تَصْفِرَ مسجد بنانے کا حکم دیا اور کہا لوگوں کو بارش سے بچانا ہوں اور سرخ کرنے اور پیلا کرنے سے بچ

فَتَفَنَّتِ النَّاسُ قَالَ النَّسُ يَتَّبِعُونَ بِهَاتِمًا لَا يَعْمُرُونَ هَذَا إِلَّا قَلِيلًا لوگوں کو قفسہ میں ڈالو گے اور اس نے کہا اسپر فرمیں گے پھر انہیں کم آباد کر دیں گے

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَتُخْرِقَنَّهَا كَمَا خَرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى (۳۱۱) عَنْ اور ابن عباس نے کہا تم انہیں ایسا زبردست کر دو گے جیسا یہود اور نصاریٰ نے کر سکتا ہے

عبداللہ کی ہوں کو بھی سادہ رکھنا ہے کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں صلعم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھڑیوں سے بنانا ہے

عبداللہ کی ہوں کو بھی سادہ رکھنا ہے کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں صلعم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھڑیوں سے بنانا ہے اسل در ابن عباس نے فرمایا کہ یہ لوگ مسجدوں کی آرائش پر زور لگائیں گے اور جوان کو جانے کی صل عرض ہے یعنی ان میں اللہ کا ذکر کرنا کسی طرف سے غافل ہو جائیں گے بہت مسجدیں ہیں جو بظور رکھنے نہیں کہہ دو گے بناؤ جاتی ہیں ہر طرف سے کہ انہیں بے مثال ہے میں بھی یہی بناؤ ہر جگہ پر سستی اور لفظ پرستی بڑھ جانے لگا وہ حقیقت کی صل کم ہوتی جاتی ہے

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسجد کی اینٹوں سے بنائی گئی تھی

مَبْنِيًّا بِاللَّيْلِ وَسَفْفُهُ الْجَرِيدُ وَعَدَاهُ خَشَبُ النَّخْلِ فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْئًا
اور اسکی چھت ٹھنڈیاں تھیں اور اسکے ستون کھجور کی کولیاں تھیں اور ابو بکر نے اس میں کچھ بڑھایا نہیں

وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اور عمر نے اس میں کچھ بڑھایا اور اسکو بھی اینٹوں اور ٹینوں سے بنایا جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اسکی بنا تھی

بِاللَّيْلِ وَالْجَرِيدِ وَأَعَادَ عَمْدَهُ خَشَبًا ثُمَّ غَيَّرَهُ عَثْمَانُ فَرَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً وَبَنَى
اور اس کا ستون از سر نو کولیاں کا بنایا پھر عثمان نے اسے بدل دیا اور اس میں بہت کچھ بڑھایا اور

جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصَصَةِ وَجَعَلَ عَمْدًا مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ وَسَفْفَهُ
اسکی دیوار میں نقش دار پتھروں اور چوڑے سے بنائیں اور اسکے ستون نقش دار پتھروں سے لگائے اور اس کو ان سے اسکی

بِالسَّلِيمِ يَا رَبِّ التَّعَاوُنِ فِي بِنَائِهِ الْمَسْجِدِ وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ
چھت بنائی گئی کہ باب مسجد بنانے میں مدد کرنا اور اللہ عزوجل کا قول مشرکوں کا کام نہیں کہ

يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ الْآيَةَ (۳۱۲) عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ لِرَبِّهِ
اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں حکمران سے روایت ہے کہ مجھے اور اپنے بیٹے

عَلِيٌّ إِذْ طَلَقْنَا إِلَى أَبِي سَعِيدٍ فَأَسْمَعَا مِنْ حَدِيثَيْنِ فَأَنْطَلَقْنَا فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطِ
علی سے ابن عباس سے ملے گا ابو سعید کے پاس جاؤ اور اسکی باتیں سنو پھر تم گئے تو وہ باغ میں تھے اسے ٹھیک کرتے تھے

يُصَلِّيهِمْ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَاقْتَبَى ثُمَّ أَكْثَأَ يَجِدُ شَنَاخَتِي أَيْ عَلَى ذِكْرِ بِنَائِهِ الْمَسْجِدِ
پہلے پہلی چادر لی اور کوٹ مار کر بیٹھے پھر تم سے باتیں بیان کرنے لگے یہاں تک کہ مسجد کی بنائے کے ذکر پر آئے

فَقَالَ كُنَّا خَمَلٌ كَيْسَةٌ لَيْبَةٌ وَعَمَّارٌ لَيْبَتَيْنِ كَيْسَتَيْنِ فَرَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
تو کہنے لگے ہم ایک ایک اینٹا اٹھاتے تھے اور عمار دو دو اینٹ

وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَنْفِضُ الزَّبَّ عَنْهُ وَيَقُولُ وَيَجْعَلُ عَمَّارٌ تَقْتَلُهُ الْفَيْئَةُ الْبَاغِيَةُ
اُسے دو کھانوں سے منی جھاڑنے لگے اور کہتے تھے عمار پرانیوں اس کو باغی گروہ قتل کرے گا

يَنْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُوهُمْ إِلَى النَّارِ قَالَ يَقُولُ عَمَّارٌ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفَيْئِ
یہ ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہے اور وہ اسکو آگ کی طرف بلا رہے ہیں کہا عمار کہتے تھے میں نشتروں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں

حضرت عثمان کے اس فعل کو بعض صحابہ نے ناپسند کیا جیسا آگے آتا ہے۔ تاہم آپ نے انہیں نصیحت اور وغیرہ نہیں بنوائیں اور اسلئے کہ مال کی کثرت کی وجہ سے لوگ مکان اچھے بنانے لگے آپ نے مسجد کو ان کے مقابلہ میں ناقص حالت میں چھوڑنا نہ چاہا۔ اور پتھر سے تعمیر کرائی اور اس کا محاذ تک آپ کا یہ فعل قابل الزام نہیں۔ حضرت عثمان کا مسجد کو از سر نو بنوانا مستحسنہ بخاری کا واقعہ ہے۔ علی بن عبداللہ بن عباس جن کے حضرت عکرمہ کے ساتھ بیٹھے کا ذکر ہے۔ حضرت علی رضی کی خلافت کے آخر زمانہ میں پیدا ہوئے ابو سعید خدری جلیل الشان صحابہ میں سے تھے اور اس وقت بھی جب مسلمانوں میں بادشاہت مدت سے قائم ہو چکی ہے اور مال دولت سے آگے

گھر بھر کچھ ملیں یہ لوگ اپنے ہاتھ سے مزدوروں کے کام کر رہے ہیں اور اسکو غار نہیں سمجھتے۔ یہی وہ بات تھی جس نے مسلمانوں کو دنیا میں حکومت کا استحصال دیا تھا۔ دوسری نظر حصول علم اور تعلیم کا اس قدر شوق ہو کہ خود اپنی مجالس اپنے شاگرد اور اپنے بیٹے کو ایک صحابی سے علم حاصل کر لینے لگے جیسے جس۔ تعلقہ الفئۃ الباغیۃ۔ عمار تک سفین میں جو حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان ہوئی ہمارے گئے تو اس لحاظ سے اگر ان الفاظ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مانا جائے۔ تو زمین نبوی سے معاویہ کا گروہ لاعنی قرار پاتا ہے جیسا کہ ابھی آتا ہے۔ ان لفظوں کے بخاری کے متن سے ہونے سے انکار بھی کیا گیا ہے۔ لیکن اگر مانا بھی لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی فرمایا جو معاویہ کے حضرت علی جو چار خلفائے راشدین میں سے ایک ہیں۔ بغاوت اختیار کرنے میں کچھ شبہ نہیں۔ یہ صحیح ہو کہ حضرت علی کے قاتلان حضرت عثمان کو گرفتار کر لے اور سزا دینے پر بہت سے صحابہ کو یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت طلحہ اور زبیر کو بھی غلطی آئی۔ اور یہی حضرت علی کے زمانہ میں صحابہ کے یا یہی جنگ جہدال کی پہلی وجہ تھی۔ لیکن دوسری طرف حضرت علی کی شکست سے بھی انکار نہیں ہو سکتا اور راضی وجہ جو کہ سون کر حضرت طلحہ اور زبیر نے ان کے خلاف جنگ کو ترک کر دیا تھا۔ لیکن معاویہ باوجود ان شکست کو جاننے کے بھی مقابلہ براہ راست ہے۔ اور ان کا فعل جہاد بغاوت کی حد تک پہنچ گیا۔ اس سے آگے جو الفاظ آئے ہیں کہ وہ گروہ کار کو دفع کی طرف بلا رہا ہے۔ اور عمار انکو جنت کی طرف توبہ الفاظ جنت نہ لکھو اس فاعل جہاد محمد ہیں۔ کیونکہ یہ ایک ایسا فعل جنت میں سے ہے کہ باغی ہو۔ اور یہی اصل ہے فعل یعنی اطاعت امام کو جنت کی امید اور گھر سے فعل یعنی بغاوت امام کو دفع یعنی جہاد کا نام جو دفع ہے۔ دوسری توجیہ ان الفاظ کی یہ ہو سکتی ہے اور بعض شارحین نے اسے اختیار کیا ہے۔ اس سے مراد کہ شہ کا ذکر ہو اور دفاع یہاں گئی کی جگہ استعمال ہوا اور انکا کبریاں بلانے والا گروہ کفار قریش کا تھا جنہوں نے عمار اور انکی والدہ اور والدہ کے ساتھ بڑی بڑی برائی برائی کا سلوک کیا اور انکی والدہ اور والدہ کو سخت آذیت دیکر قتل کر دیا۔ اور انہیں بھی اسی سخت آذیتیں پہنچائی جاتی تھیں کہ موت تک ہی آذیت پہنچ گئی تھی مگر یہ ہے جو صحت میں ہونے کے ایک ہی گروہ ان کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ حالانکہ اس گروہ کو جنت کی طرف بلائے تھے۔ اس سے کی (یعنی برص ۱۷۷)

کتاب الصلوة

دقیقہ ۱۲ ص ۴۲۹ گذشتہ
 تا جہ میں یہ بات ہے
 جیساکہ نسخ الباری میں
 لکھا ہے کہ بخاری کی اصل
 روایت میں الفاظ
 تفتلہ الفتحة
 الباطنیہ نہیں گواہ
 حدیث کی دوسری روایت
 میں ہے۔ بلکہ بزار
 کی روایت میں ابوسعید
 سے یہ صاف طور پر
 مروی ہے کہ انہوں
 نے آنحضرت صلعم کو
 یہ لفظ تفتلتہ
 الفتحة الباطنیہ
 نہیں سنے۔ بلکہ دوسرے
 لوگوں سے سنے۔ اور
 اس حدیث میں بیحد
 الیٰ اللہ انکار تشریح
 کے مستحق ہے

۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰

بَابُ الْأَسْتِعَانَةِ بِالْجَارِ وَالصَّنَاعَةِ فِي أَعْوَادِ الْمِنْبَرِ وَالْمَسْجِدِ (۳۱۳)
باب منبر کی کھڑکیوں اور مسجد میں بڑھتی اور کارگاہوں کی مدد لینا
عَنْ سَهْلٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى امْرَأَةٍ قُرْبَى
سہل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو (بیٹھا) بھیجا
عَلَامِكَ الْجَارِ يَجْعَلُ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ (م ۱۲۲) عَنْ جَابِرِ
اپنے قریبی شاہد کو کہہ دے کہ میرے لئے کھڑکیوں کو جوڑ دے کہ میں ان پر بیٹھوں
ابن عبد اللہ (مستکرر - ۳۱۳) بَابُ مِنْ بَنِي مَسْجِدًا (۳۱۴) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
دیکھو حدیث نمبر ۳۱۳ باب جو مسجد بنانے عبد اللہ
الْخَوْلَانِي أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ عِنْدَ قَوْلِهِ
خولانی سے روایت ہے کہ آنحضرت عثمان بن عفان سے سنا جب کہ ان پر اس وقت لعن کرنے لگے
النَّاسِ فِيهِ وَبَنِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ
جہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بنا ہی رکھی تھی کہ تم لوگ بہت باتیں کرتے ہو
وَرَأَيْتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا قَالَ بَكَرٌ
اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فرماتے تھے جس نے مسجد بنا لی بکیر نے کہا
حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ بِحَلِيِّ اللَّهِ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ بَابُ يَأْخُذُ
میں گمان کرتا ہوں کہ اس سے خدا کی رضا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایسا ہی بنا دے گا
بِنُصُولِ النَّبْلِ إِذَا مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ (۳۱۵) عَنْ سُهَيْبِ بْنِ أَبِي خَالَةَ قَالَ قُلْتُ لِحَمْرٍو سَمِعْتُ
جب مسجد میں گزرے تو تیروں کے پہلوں کو بکڑھے سہیان سے روایت ہے کہ میں نے عمرو سے کہا کیا تھے
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مَرَّ جُلٌّ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ سَهَامٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
جابر بن عبد اللہ سے سنا ہے کہ تھے کہ ایک شخص مسجد میں گذرنا اور اس کے پاس بیٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا بَابُ الْمُرُورِ فِي الْمَسْجِدِ (۳۱۶) عَنْ أَبِي
اس کو فرمایا کہ ان کے پہلوں کو بکڑھے
بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَرَّ بِي شَوْعًا مِنْ
ابو بردہ کے پاس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہماری
مَسَاجِدِنَا أَوْ سَوَاقِنَا بِنَبْلٍ فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا لَا يَحْفَرُ كَيْفَهُ مُسْلِمًا بَابُ
مسجدوں یا ہمارے بازاروں سے کسی بچہ تیروں کے ساتھ گزرے تو ان کے پہلوں کو بکڑھے تاکہ کسی ٹھان کو لینے یا گھسے نہ دے کہ
الشَّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ (۳۱۷) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ حَسَانَ
مسجد میں شعر پڑھنا ابوسعید بن عبد الرحمن بن عوف نے کہا میں نے حسان
ابن ثابت (۱۲۸) ابْنُ نَضَارٍ يَسْتَشْهِدُ أَبَاهُ رِزْقَةَ أَنْشَدَكَ اللَّهُ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
ابو ہریرہ سے گواہی چاہتے ہو تو سننا کہ میں مجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ

دو جہ ۱۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلعم نے جو مسجد بنانی تکویدہ ویسی ہی سادہ اور کچی عمارت ہے۔ حضرت عثمان نے انہیں سمجھا کر مسجد کا بننا چاہا۔ بنانا عثمان صلعم نے نہیں۔ اور یہ امر ایسا ہے جس کو ضروریات زمانہ سے لعن رکھتے ہیں۔ ۲۔ علیؓ کو جواب یہاں مذکور نہیں۔ کتاب الفتن کی روایت میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا ان بیٹے تیروں کو بیکر مسجد میں گھرانے کا ہمارے ہاں اس طرح کے دوسروں کو ثابت پہنچے گا غلط ہو۔ ان مسجد میں گھرانے کا ممنوع نہیں۔ ۳۔ ایک نیا ت کار آمد عمل مثال کے رنگ میں بیان کیا ہے اور وہ اصول ہے کہ ہر ایک انسان اپنے حقوق کو اس حد تک عمل میں لائے کہ دوسروں کے لئے اذیت اور تکلیف کا یا ان کے اظہار حق کا موجب نہ ہو۔ اسی اصول پر دنیا کا نظام چل رہا ہے۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا حَسَّانُ أَجَبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ الْأَهْمُ أَيْدَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ قَالَ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُكَ قَدْ فَزَيْتَ أَسْمَانَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ طَرَفِ بَيْتِ أَبِي هَبَابٍ عَنِ
أَبِي هُرَيْرَةَ نَعْمَ يَا أَبَاحْصَابِ نُجَابٍ فِي الْمَسْجِدِ (۳۱۸) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا عَلَىٰ يَابِ حُجْرَتِي وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي
الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْسَتْ نِي بَرْدَائِهِ أَنْظَرُ إِلَىٰ لَعِبِهِمْ وَفِي رِوَايَةٍ
قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِحِجْرَاتِهِمْ يَابِ ذِكْرِ الْبَيْعِ
وَالشَّرَاءِ عَلَىٰ لَيْثٍ فِي الْمَسْجِدِ (۳۱۹) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَتْهَا بَرِيْرَةُ تَسْأَلُهَا فِيمَا كُنْتُمْ
فَقَالَتْ إِنْ شِئْتَ أُعْطِيَتْ أَهْلَكَ وَيَكُونُ الْوَالِدُ وَقَالَ أَهْلُهَا إِنْ شِئْتَ أُعْطِيَتْهَا
مَا بَقِيَ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً إِنْ شِئْتَ أُعْطِيَتْهَا وَيَكُونُ الْوَالِدُ لَنَا فَلَمْ تَجَأْ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْتُهُ ذَلِكَ فَقَالَ ابْتِاعِيهَا فَأَعْنِفِيهَا فَأَتَمَّ الْوَالِدُ
لِمَنْ أَعْتَقْتُ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ لَيْثٍ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً صَحِصَكُ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ لَيْثٍ فَقَالَ مَا بَالَ أَهْوَامُ لَيْثِي طُونَ شَرُوطِ الْبَيْسِ فِي كِتَابِ
اللَّهِ مِنَ اشْتَرَطَ شَرُوطَ الْبَيْسِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَبَيْسَ لَهُ وَإِنْ اشْتَرَطَ مائة مَرَّةً يَابِ
النَّقَاضِيِّ وَالْمَلَاذِمَةِ فِي الْمَسْجِدِ (۳۲۰) عَنْ كَيْسِ بْنِ كَبْرِ أَنَّهُ لَقِيَ قَاصِمَ بْنَ أَبِي حَدْرَةَ وَدِينًا

۱ حضرت حسان کے مسیحا سے تم نے کہا۔ حضرت عمر نے فرمایا۔ تو انہوں نے یہ شہادت پیش کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد میں شعر پڑھتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں آگے آئے وہاں لگتا پتا ہے کہ روح القدس کی تائیدات عام مومنوں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں۔ یہ شعر جن کے مضامین عقیدہ ہوں مسجد میں پڑھنے چاہئیں جیسا دوسری احادیث سے ثابت ہو بعض روایات میں یہ لفظ آتا ہے وہ جہیل معنی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ روح القدس سے مراد جبریل ہے تفسیر میں ہے کہ حضرت عائشہ زانی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں منبر رکھتے اور وہ کافروں کی مذمت کا جواب منبر پر کرتے ہو کر دیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کا

پہرہ میں کھیل کر دیکھنا معصوب نہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر درسی کہاں تک کرنے تھے۔ یہ حدیث اس حدیث کے خلاف نہیں جس میں یہ ہے کہ مسجد میں گذرتے وقت نیروں کو پہلوں سے پکڑا جائے۔ اس لئے کہ تمہاروں سے کھیلنے وقت لوگ ہٹ جاتے ہیں اور پانا بجا اور حفاظت کرتے ہیں اور گذرنے کے وقت اتفاقاً کسی کو لگنے کا ڈر ہے مہلب نے کہا ہے کہ مسجد جماعت مسلمین کے امن کے واسطے مقرر ہے۔ تو میں کام میں اور اہل دین کا نفع ہو وہ سب کچھ میں جائز ہے۔ اس خیر و فرحت کے متعلق جو حکام ہوں یا جو ناجائز شرط میں لگائی گئی جو اسکے متعلق ہوتا دین اور منبر پر کھڑے ہونے کے میں ان کی نادرست بلکہ ضروری ہے مسجد غرض ہوا لوگوں کی صلاح کرنا ہے اور اللہ کے مسیحا کو تیار نہ بنایا جائے۔ اتفاقاً طور پر کوئی چیز نادر ہوگی یا کسی اور سے خرید لیا گیا معصوب نہیں ہے۔ اس لئے کہ بہت سے کتب میں کہنے ہیں کہ غلام اپنے نفس کو اپنے مال کے خریدنے اور وہ لگا کر مال کو بیعت قیمت لے کر آدھ ہوجاتا ہے۔ ایسے غلام کو مکتاب کہتے ہیں۔ بریرہ بھی مکاتب تھی اسکے ذمہ کچھ باقی تھا۔ حضرت عائشہ سے املاو چاہی حضرت عائشہ نے کہا کہ اس صورت میں حق و راست ہوا ہوگا۔ بریرہ کے مالکوں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اسے آزاد کریں لیکن حق و راست ہوا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علم ہو گیا کہ وہ فرمایا کہ وہ آزاد کرنا ہوگا یا۔ اور ناجائز شرطیں لگانی درست نہیں ہیں۔

۱ اسے اللہ روح القدس سے اسکی مدد کر لیا اور بریرہ نے کہا
 حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ
 اپنے حجرے کے دروازے پر دیکھا اور حبشی مسجد میں کھیل رہے تھے
 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر سے بے ڈھانچہ تھے
 اور حبشی اپنی برقعوں سے کھیل رہے تھے
 حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس بریرہ آئی اپنی کتابت میں سے ماہی تھی
 اور اس کے مالکوں نے کہا اگر تو چاہے تو اس کو
 اور بریرہ کو آزاد کرے اور ورتہ ہوا ہوگا
 اور اس کے مالکوں نے کہا اگر تو چاہے تو اس کو
 اور سفیان نے کہا کہ تمہارے ہونگے
 اور فرمایا کہ ایسے لوگوں کا کیا حال ہے جو ایسے شرمیلے لگتے ہیں جو کتابت میں نہیں
 تو وہ اس کا حق نہیں ہے
 اگرچہ سو مرتبہ شہادت لگائے
 اور یہی گناہ اور یہی گناہ

كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ فَازْفَعَتْ اَصْوَاتُهُمْ مَا حَتَّى سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
جو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی آوازیں بلند ہو گئیں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنا

وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهَا حَتَّى كَشَفَ بِجَنَفِهِ حُجْرَتَهُ فَنَادَى يَا كَتَبُ قَالَ
اور آپ اپنے گھر میں تھے تو ان کی طرف گئے یہاں تک کہ آپ نے حجرے کا پردہ اٹھایا پس پکارا کہ کتب کہا

لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ضَعُ مِنْ دِينِكَ هَذَا وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَيْ لَشَطْرَ قَالَ لَقَدْ فَعَلْتُ
یا رسول اللہ حاضر ہوں فرمایا اسے نزع سے یہ چھوڑ دے اور اس کو اشارہ کیا بیٹے آؤ یا نزع چھوڑنے کو کہا

يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ فَاقْضِهِمْ بَابُ كَنْسِلِ الْمَسْجِدِ وَالْتِقَاطِ الْخُرْقِ وَالْفَقْدِ وَالْعَبْدَةِ
یا رسول اللہ میں نے چھوڑ دیا (دوسرے سے) فرمایا اٹھا اور اسے اٹھا کر بے باب مسجد کا چھوڑنا اور بیچہ پتھروں اور ننگوں اور کمریوں کا اٹھانا

(۳۲۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا اسْوَدَّ أَوْ امْرَأَةً اسْوَدَّ كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ
ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ کالا مرد یا کالی عورت مسجد کو چھوڑتا تھا پس کہتا

فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ فَقَالَ أَفَلَا كُنْتُمْ اذِنْتُمْ مَوْتِي بِهِ
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا مر گیا پس فرمایا کیا تم نے مجھے اسکی خبر دی

دَلُونِي عَلَى قَبْرِهِ أَوْ قَالَ قَبْرَهَا فَأَنَّى قَبْرَهُ فَصَلِّ عَلَيْهَا بَابُ تَحْرِيمِ تَحَارُةِ الْخُمْرِ
اس کی قبر مجھے بتا دو یا کہا عورت کی قبر پس اسکی قبر کے لئے اور سپر چھانہ پر ہلا باب مسجد میں شراب کی تجارت کی حرمت

فِي الْمَسْجِدِ (۳۲۲) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أَنْزَلَتْ آيَاتُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا
کا بیان کرنا حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب سورۃ بقرہ کی آیات سونکے بارے میں انہوں نے

خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ خَرَجَ تَحَارَةً
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو گئے اور ان کو لوگوں پر پڑھا پھر شراب کی تجارت کی حرمت کا

الْخُمْرِ بَابُ الْخُدْمِ لِلْمَسْجِدِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَزِدَتْ لَكَ مَا فِي بَطْنِي
اٹھان کر دیا باب مسجد کے لئے خادم اور ابن عباس نے کہا جو میرے پیٹ میں ہے آؤ اور کھاؤ اور تیرے لئے پیٹ میں

مُحَدَّرًا لِلْمَسْجِدِ يَخْدُمُهُ (۳۲۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَرِّرًا - ۳۲۱) بَابُ
کیا پڑھئے مسجد کے لئے اسکی خدمت کر لیا دیکھو حدیث نمبر ۳۲۱ باب

أَلَسِيرًا وَالْغَرِيمُ يُرْبِطُ فِي الْمَسْجِدِ (۳۲۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
قیدی اور ترصدار کا کہ مسجد میں بانڈھا جائے ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ عَفْرِيَّتَا مِنَ الْجِنِّ تَقُلْتِ عَلَى الْبَارِحَةِ أَوْ كَلِمَةً تَحْوَاهَا لِيَقْطَعَنَّ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں میں سے ایک سرکش آج مات مجھ پر آج یا اسکی مانند علی

عَلَى الصَّلَاةِ فَأَمْكِنِي اللَّهُ مِنْهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَائِرِيَّةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى
میری ناز توڑ لے تو زمانے مجھ سپر قدرت دی پس میں نے پکڑا اور اسے مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ بانڈھوں یہاں تک

تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سَلِيمَانَ رَبِّ هَبْ لِي مَلَكًا
کہ تم صبح اٹھ کر اسے دیکھو لو۔ پس مجھے اپنے بھائی سلیمان کا قول یاد آ گیا ہے میرے رب مجھے ایسی حکومتی

عزت مسجد کی خدمت کر لیا۔ تو اسکی آزادی مسجد کے واسطے ہو + یہاں لا اراہ الا امرأة بڑا کہ بہت کھان کیا ہو کہ خادمہ جو ایک عورت تھی + تفلتت کہ حضرت پیر

صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخلاق اور رواداری کا تقاضا ہے کہ جب مقروض تنگست ہو اور سارا قرضہ ادا نہیں کر سکتا تو اسے کچھ حصہ قرض کا معاف کر دینا چاہیے تاکہ وہ باقی حصہ آسانی سے ادا کرے اور اس کا بوجھ کم ہو جائے مقروض کے بوجھ کے ہلکا کرنے میں حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے انہی اخلاق سے جماعت بنتی ہے۔ اور یا بھی محبت بڑھتی ہے جو جماعت کی بنیاد ہے + صلوات حضرت معلم نے مسجد کی خدمت کی وجہ اسکی سفارش عزت کی + صلوات مسجد میں شراب کا ذکر اسکی حرمت بیان کرنے کیلئے کیا۔ سوو کے بیان چوٹھرا حللہ اللہ الیم آتا ہے یعنی تجارت حلال ہو تو ایک خاص قسم کی تجارت جو منوع تھی اس کا ذکر بھی کر دیا + صلوات حضرت مولانا نے فرمایا کہ آیت میں بواور ہے جسے آزاد کردہ شد ہے تو اسکا مصلحت ہے کہ وہ دنیاوی کاموں سے آزاد کیا جاوے اور

عزت مسجد کی خدمت کر لیا۔ تو اسکی آزادی مسجد کے واسطے ہو + یہاں لا اراہ الا امرأة بڑا کہ بہت کھان کیا ہو کہ خادمہ جو ایک عورت تھی + تفلتت کہ حضرت پیر تعرض لی غلۃ اے بختہ بیٹے ناگماں میرے سامنے آگیا + یہ حضرت بنی من الجن کون تھو؟ اگر غیر مرغی ہستیوں میں سے ایک تھا تو حضرت صلعم یہ ارادہ نہ کرے کہ اسکو مسجد کے کسی ستون کے ساتھ بانڈھ دیا جاوے اور جب لوگ لے دیکھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہوتا ہے یہ دیکھو ہوو قبیلہ من حیث لا تزودھم یہ کوئی بڑا سرکش انسان ہے جیسا کہ خود حضرت باب میرا نام بخاری نے اسے ایک قیدی قرار دیا ہے اسے حضرت صلعم پر کوئی حکم کیا مگر اپنے اسے منسوب کر لے بغیر تم چھوڑ دیا۔ مکن ہی وہی ٹامہ ہو جس کا ذکر اگلی حدیث میں آتا ہے اور پھر فرماتا ہے رسول (۳۲۳)

بقیہ از صفحہ ۱۲۹

اسے بانڈھا دیا ہو تو آپ نے پھر دم کر کے چھوڑ دیا۔

اسل احسان کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا اور آنحضرت کا سینہ کے الفاظ دوسرا بنا دیا۔

تو آپ نے کہا کہ حضرت سلیمان کی طرح محض ایک روحانی سلطنت کی خواہش ظاہر کی تھی اعلیٰ درجہ کے

ساتھ لوگ مسخر ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ایک حکومت ترقی ہے تو دوسری

اخلاق کی ہے اور یہ حکومت اس کی جیسے دوسرے نہیں

سکتے۔ جسکی طرف کا اینٹنی لاجہا من بعد ی ہیں

اشارہ ہے۔ اور خود اپنے ہاتھ سے قید کرنا مناسب

جانا کہ یہ دینی بادشاہوں کو سزاوار ہے۔

راہیہ متعلقہ صحیفہ ہا) ہا شمارہ کو سزا دینے کے لئے مسیہیں نہیں بانڈھا گیا تھا بلکہ اسلطان الرظوان

کے لئے بانڈھا تھا۔ چنانچہ جب تکے دن نبی کریم صلعم نے اس بات کو محسوس کیا تو اسے کھولنے کا حکم دیا۔ اور وہ مسلمان ہوا۔ آنحضرت صلعم کا سارا کام اصلاح مخلوق تھا

ورنہ آپ نے کسی سے ذاتی انتقام کبھی نہیں لیا۔ یہ حدیث بھی درہل کرات میں ہے۔ مگر مفصل چونکہ کتاب المغازی میں آتی ہے اسلئے ضرورتاً یہاں درج کر دی گئی۔

حکمے پر سوسن سماز تھے۔ غزوہ خندق یعنی غزوہ اہزاب میں وہ زخمی ہوئے اور تیار دراری کے لئے انہیں مسجد میں رکھا گیا۔ گویا نبی کریم صلعم مسیہ سے شفا ماننے کا کام بھی لیا کرتے تھے۔ کیونکہ ہوسنت عیوہہ عاجز اس عرض کے لئے نہ تھیں۔ اول اسلئے بھی کہ نبی کریم صلعم قریب حکمران کی خبر گیری اچھی طرح رکھیں۔ + مسالہ اہواؤ میں اسلئے

روایت ہے کہ نبی کریم صلعم مکہ شریف کے اور ایک بیماری کی تکلیف تھی تو آپ نے سواری پر طوفان کیا اور جابر نے کہا کہ آپ نے سواری پر ہوسلے طوفان کیا تاکہ لوگ دیکھتے رہیں اور جب ضرورت

پڑے تو آپ نے سائل پوچھیں۔ اور طوفان میں سجدہ حرام میں سے گزرنے پر تیار ہو تو معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت جاؤںوں کو مسجد میں لے جایا جا سکتا ہے۔ +

کے لئے بانڈھا تھا۔ چنانچہ جب تکے دن نبی کریم صلعم نے اس بات کو محسوس کیا تو اسے کھولنے کا حکم دیا۔ اور وہ مسلمان ہوا۔ آنحضرت صلعم کا سارا کام اصلاح مخلوق تھا

ورنہ آپ نے کسی سے ذاتی انتقام کبھی نہیں لیا۔ یہ حدیث بھی درہل کرات میں ہے۔ مگر مفصل چونکہ کتاب المغازی میں آتی ہے اسلئے ضرورتاً یہاں درج کر دی گئی۔

حکمے پر سوسن سماز تھے۔ غزوہ خندق یعنی غزوہ اہزاب میں وہ زخمی ہوئے اور تیار دراری کے لئے انہیں مسجد میں رکھا گیا۔ گویا نبی کریم صلعم مسیہ سے شفا ماننے کا کام بھی لیا کرتے تھے۔ کیونکہ ہوسنت عیوہہ عاجز اس عرض کے لئے نہ تھیں۔ اول اسلئے بھی کہ نبی کریم صلعم قریب حکمران کی خبر گیری اچھی طرح رکھیں۔ + مسالہ اہواؤ میں اسلئے

روایت ہے کہ نبی کریم صلعم مکہ شریف کے اور ایک بیماری کی تکلیف تھی تو آپ نے سواری پر طوفان کیا اور جابر نے کہا کہ آپ نے سواری پر ہوسلے طوفان کیا تاکہ لوگ دیکھتے رہیں اور جب ضرورت

لَا يَنْبَغُ لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي قَالَ رَوْحٌ فَزِدْهَا حَاسِنًا يَا أَبَا أَعْيُنَ إِذَا اسَلَّمَ وَ

کر میرے بعد کسی کو نہ ہو روح (بادی) کے لئے کہا تو اسے ذہیل کر کے آپ نے چھوڑ دیا۔ باب غسل کرنا جب اسلام لائے اور

رَبِطَ الْأَسْبَابُ أَيْضًا فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ شَرِيحًا يَا مَرُءَ الْخَرِيمَانِ يَجْبَسُ لِي سَارِيَةَ الْمَسْجِدِ (۳۲۲)

مسجد میں قیدی کا بانڈھا اور شریح خرمندہ کی بابت حکم دینے کہ مسجد کے ستون سے بانڈھا دیا جائے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا قَبْلَ جَدِّ فَجَاءَتْ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلعم نے اپنے سوار خیر کی طرف بھیجے

بِرَجُلٍ مِّنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثَمَامَةٌ بِنُ أَثَالٍ فَزَطَّوْهُ بِسَارِيَةٍ مِّنْ سَوَارِي

تو وہ بنی حنیفہ کے ایک شخص کو لائے جس کا نام ثمامہ بن اثال تھا اور انہوں نے اسے مسجد کے ستونوں میں سے ایک سے لٹکوا دیا

الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ رَأْيِيَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اطْفِئُوا ثَمَامَةَ فَإِنَّ لِي مَخْل

اور آنحضرت سے اللہ علیہ وسلم کی طرف تھے تو فرمایا ثمامہ کو کھول دو پس وہ کھجوروں کے پاس جو

قَرِيبٌ مِّنَ الْمَسْجِدِ فَأَغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا

مسجد کے قریب تھیں گیا اور غسل کیا پھر مسجد میں داخل ہوا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی اللہ کے کوئی معنی عبادت نہیں اور محمد صلعم

رَسُولُ اللَّهِ يَا بَابِ الْحَيَّةِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَرْضَى وَغَيْرِهِمْ (۳۲۵) عَنْ عَائِشَةَ

خدا کے رسول ہیں اس باب مریضوں وغیرہ کے لئے مسجد میں خیر لگانا حضرت عائشہ سے روایت ہے

قَالَتْ أُصِيبُ سَعْدًا يَوْمَ الْخَنْدَقِ فِي الْأَكْحَلِ فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْمَةً

کہ سعد کو خندق کے دن ہفت اندھ میں زخم ہوا پس نبی کریم صلعم نے مسجد میں خیمہ لگا دیا

فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ فَلَمْ يَدْرِعُهُمْ وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةً مِّنْ بَنِي عَفْرَاءَ إِلَّا

مسجد میں خیمہ لگانے کے لئے مسجد میں بنی عفرہ کا خیمہ تھا

إِلَّا الْمُرَيْسِيلَ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا أَبَا أَهْلِ الْخَيْمَةِ مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قَبْلِكُمْ فَإِذَا سَعَدُ

تو ان کو صرف خون نے جو ان کی طرف بہ رہا تھا گھرا ہٹ میں ڈالا اور انہوں نے کہا کہ خیمہ والو یہ کیا ہے جو تمہاری طرف بہ رہا ہے پس آتا ہے تو معلوم ہوا کہ

يَعْنُ وَجُرْحُهُ دَمَا فَكَمَاتَ مِنْهَا يَا بَابِ إِدْخَالَ الْبَعِيرِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْعَلَّةِ وَقَالَ

سعد کے زخم سے خون بہ رہا ہے اور وہ اسی سے فوت ہو گئے اسلئے باب ضرورت کی وجہ سے مسجد میں اونٹ کا ایوانا اور

أَبْنُ عَبَّاسٍ طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعِيرِهِ (۳۲۶) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ

ابن عباس نے کہا نبی کریم صلعم نے اپنے اونٹ پر طوفان کیا ام سلمہ سے روایت ہے کہ

قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي قَالَ طُوفِي مِنْ وَرَائِ

میں نے رسول اللہ صلعم سے شکایت کی کہ میں بیمار ہوں فرمایا تم سواری پر لوگوں کے پیچھے

النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطَفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ

طوائف کو لو پس میں نے طواف کیا اور رسول اللہ صلعم اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پہلو کی طرف نماز پڑھ رہے تھے

الْبُيُوتِ وَالْعَلْقِ لِكُفَّةٍ وَالْمَسَاجِدِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ

ابن محمد حدثنا سفيان عن ابن جريح قال قال لي ابن ابي مليكة يا
عبد الملك لو رأيت مساجدا بن عباس وا بن عباس وا ابو ابيهم ارم ١٢٥

ابن عمر متكر ٢٨٧ - باب دخول المشرك في المسجد رم ١٢٧

عن ابي هريرة متكر ٣٢٢ - باب سرفح الصوت في المسجد

عن الشائب بن يزيد قال كنت قارئا في مسجد فضصفتي رجل
ففتظرت اليه فاذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فاني بهذين فجتته

بما فقال من انما اومن انما اولا من اهل لطائف قال لو كنتم اعد
اهل البلد لا وجعكم شرفعا اصواتكم في مسجد رسول الله

صل الله عليه وسلم رم ١٢٤ - عن كعب بن مالك متكر ٣٢٠

باب

عنه مشركون کے
مساجد میں داخل ہونے
کا حجاز (رسول کے مسجد)
حرام کہ جس کیلئے
لفظ صریح فلا
بدرخلوا المسجد
اخذوا من عاصم
هنا موجود ہوا اذخرا
صلعم کے طرفین
ظاہر ہے۔ جیسا کہ
حدیث باب میں ہے
کیونکہ شام جیسا کہ
پہلے ہی اس وقت
ہیں مشرک تھا اور
جیسا کہ ایک دوسری
حدیث سے ثابت
ہے کہ ثقیف کے وفد
کو اذخرفت صلعم نے
مسجد میں پھیرا یا۔
ہاں یہ ظاہر ہے کہ
مسجد کے اندر کسی کا
تھکانہ مسلمانوں کے
ادامگی اجازت سے ہی
ہو سکتا۔ البتہ غالباً یہ
اجازت کے لئے ہے
اجازت کی ضرورت بھی
معلوم نہیں ہوتی اور
یہ خلاف امان اللذکرین
تھکانے کے نہیں ہے
کہ یہ سچا مسلمان ہے

حدیث نمبر ۲۸۷ اور بیان کر روایت میں بہت سا اختلاف ہے کہ روایت کے الفاظ ہیں جلی النبی صلعم قدم مكة ذاعثان بن طلحة ففزع الباب فدخل النبي صلعم وادلا
واسامة بن زيد وعثمان بن طلحة ثم اخلق الباب فقلت فيه ساعة ثم خرجوا قال بن عمر قديمت هالت بكلا فقال صلى فيه فقلت في اي حال كان الا سطوا اندبن
فقال بن عمر فذبحني ان اساله كيف اخرجني الفاعل من اي حال ان عمر كتمته بي فبه بجمول ليك امير ان اقول في كتمته بي فبه بجمول ليك امير ان اقول في كتمته بي فبه بجمول ليك امير ان اقول في كتمته بي فبه بجمول ليك امير ان اقول في كتمته بي فبه بجمول ليك امير
بيني اي حال كان الا سطوا اندبن فقلت فيه ساعة ثم خرجوا قال بن عمر قديمت هالت بكلا فقال صلى فيه فقلت في اي حال كان الا سطوا اندبن فقلت فيه ساعة ثم خرجوا قال بن عمر قديمت هالت بكلا فقال صلى فيه فقلت في اي حال كان
بيني اي حال كان الا سطوا اندبن فقلت فيه ساعة ثم خرجوا قال بن عمر قديمت هالت بكلا فقال صلى فيه فقلت في اي حال كان الا سطوا اندبن فقلت فيه ساعة ثم خرجوا قال بن عمر قديمت هالت بكلا فقال صلى فيه فقلت في اي حال كان
بيني اي حال كان الا سطوا اندبن فقلت فيه ساعة ثم خرجوا قال بن عمر قديمت هالت بكلا فقال صلى فيه فقلت في اي حال كان الا سطوا اندبن فقلت فيه ساعة ثم خرجوا قال بن عمر قديمت هالت بكلا فقال صلى فيه فقلت في اي حال كان
بيني اي حال كان الا سطوا اندبن فقلت فيه ساعة ثم خرجوا قال بن عمر قديمت هالت بكلا فقال صلى فيه فقلت في اي حال كان الا سطوا اندبن فقلت فيه ساعة ثم خرجوا قال بن عمر قديمت هالت بكلا فقال صلى فيه فقلت في اي حال كان
بيني اي حال كان الا سطوا اندبن فقلت فيه ساعة ثم خرجوا قال بن عمر قديمت هالت بكلا فقال صلى فيه فقلت في اي حال كان الا سطوا اندبن فقلت فيه ساعة ثم خرجوا قال بن عمر قديمت هالت بكلا فقال صلى فيه فقلت في اي حال كان

الْحَائِقُ وَالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ (۳۳۰) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ

مسجد میں طلق یا نہटना اور بیٹھنا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْدَرِ مَا تَرَى فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ قَالَ مَثْنِي مَثْنِي

سے اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور آپ منبر پر تھے کہ رات کی نماز کے بارہ میں آپ کیا سمجھتے ہیں فرمایا دو دو

فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الضُّمَّ صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ اجْعَلُوا آخِرَ

پس جب تم میں سے کوئی صبح (چوٹے) سے ڈرے تو ایک رکعت پڑھ لے وہ کسی اس نماز کو جو پڑھی ہے وہ تتر بنا لے گی اور ابن عمر کہتے تھے کہ

صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتَرَكَ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ (م ۱۲۸) عَنْ ابْنِ عُمَرَ

رات کی اپنی آخری نماز کو ترک نہ کرو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے دیکھو حدیث نمبر ۳۳۰

هُتَكَرَتْ (۳۳۰) (م ۱۲۹) عَنْ ابْنِ وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ (مُتَكَرَّرًا ۶۱) بَابُ الْاِسْتِقَاءِ

دیکھو حدیث نمبر ۶۱ باب مسجد میں چت بیٹھنا

فِي الْمَسْجِدِ (۳۳۱) عَنْ عَبْدِ بَنِ مُؤَيِّمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عبدالبن مؤییم اپنے چچا سے روایت کرتا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو

مُسْتَلْقِبًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضْعًا أَحَدًا رَجُلِيَّةً عَلَى الْأُخْرَى وَعَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

مسجد میں لیٹے ہوئے دیکھا ایک باؤں کو دوسرے پر رکھے ہوئے تھا اور ابن شہاب سے سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں

كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ بَابُ الْمَسْجِدِ يَكُونُ فِي الطَّرِيقِ مِنْ غَيْرِ ضَرْبٍ بِالْقَاسِ

کہ عمر اور عثمان ایسا کرتے تھے باب مسجد راستے میں ہو اور اس میں لوگوں کو تکلیف نہ ہو

فِيهِ وَبِهِ قَالَ الْحَسُّ وَأَيُّوبُ وَمَالِكٌ (۳۳۲) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اور حسن اور ایوب اور مالک اس کے قائل ہیں حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے

وَسَلَّمَ قَالَتْ لَمَّا عَقَلَ أَبُوِّي الْأَوْهَامَا يَبِيْنَانِ الدِّينَ وَكَمْ مَبْرٌ عَلَيْنَا يَوْمَ الْأَيَاتِنَا

روایت ہے کہ میں نے اپنی ہوش میں اپنے ماں باپ کو دین اسلام پہننے والا پایا اور کوئی دن ہم پر نہیں گذرنا تھا کہ اس میں

فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفِي النَّهَارِ بَكْرَةً وَعَشِيَّةً ثُمَّ بَدَأَ ابْنِي بَكْرٍ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس دن کی دونوں طرف صبح اور شام تشریف لاتے تھے پھر ابو بکر کو خیال آیا

فَأَبْتَنِي مَسْجِدًا الْفَيْئَاءِ دَارِهِ فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَقِفُ عَلَيْهِ

تو ابنی جو علی کے صحن میں مسجد بنائی اور اس میں نماز پڑھتے اور قرآن پڑھتے

بِنَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَكَانَ ابْنُ بَكْرٍ

پس مشرکوں کی عورتیں اور لڑکے ان کے پاس کھڑے ہوتے ان پر تعجب کرتے اور ان کی طرف دیکھتے اور ابو بکر

رَجُلًا بَكَاءً وَلَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ فَافْرَعُ ذَلِكَ أَشْرَافُ قُرَيْشٍ

بہت رونے والے آدمی تھے اور جب قرآن پڑھتے تو اپنی آنکھوں پر قابو نہ رکھتے تھے پس اس نے قریش کے مشرک سرداروں کو

کتاب کا مطلب ہے کہ مسجد میں طلق یا نہटना اور بیٹھنا جائز ہے جب کوئی دینی بات ہو۔ گو سبیل و حدیثوں میں حلقہ یا نہटना بیٹھنے کا ذکر نہیں مگر ۱۱۹ میں ذکر ہے کہ آپ لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے تو جس شخص نے حلقہ میں بیٹھ کر دیکھی وہاں بیٹھ گیا تو اس سے معلوم ہوا کہ لوگ ایسے اوقات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھتے تھے اس طرح بیٹھنے میں نصیحت کرنے والے کی توہم سبب کی طرف آسانی سے ہوسکتی ہے اور انہیں بھی سنتے ہیں سولت ہوتی ہے۔ اور یہ جو مسلم کی حدیث میں آیا ہے۔ کہ آپ مسجد میں آئے اور لوگ حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا مانی ادا کر عترین یہ کیا بات ہے کہ میں تم کو جماعت جماعت دیکھتا ہوں تو اس سے مراد صرف ایسی چیز ہے کہ دو دو چار چار دوس

۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳

دس کی جماعتیں بنا کر کیوں بیٹھے ہو۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ الگ الگ ٹولیاں اپنی اپنی جگہ باتوں میں مصروف ہوں گی۔ جس سے مسجد میں شور کے علاوہ جماعت کی ایک غیر منظم صورت نظر آتی ہوگی۔ تو آپ چونکہ اپنی جماعت میں نظام و ترتیب اور باقاعدگی قائم کرنا چاہتے تھے اسلئے ایک غیر منظم صورت میں بیٹھنے سے منع کیا

۲ خیف تفسیر سے پہلی حدیث دوبارہ آئی ہے۔ مثلاً منبر پر ہونے کی بجائے یہ ذکر ہے کہ آپ خطبہ دیتے تھے +
۳ خیف تفسیر سے حدیث نمبر ۶۱ قریباً انہی الفاظ میں دوبارہ آئی ہے +
۴ بعض حدیثوں میں جو اس طرح چت بیٹھنے کی ممانعت آتی ہے تو اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضور ا کرمؐ اپنی ہونے کی صورت میں اس طرح شرمگاہ کھلنے کا لاشیہ ہوتا ہے +

فَنِ الْمَشْرِكِينَ يَا أَيُّهَا الصَّلَاةُ فِي صَلَاتِهِ الشُّوقِ وَصَلَّى ابْنُ عَوْنٍ فِي مَسْجِدِ

کے رستے کے تھے عام لوگوں کا تعلق ہوتا ہے اور عام لوگوں کو اس پر سے گزرنے اور کام لینے کا حق ہوتا ہے اور اس مقام کے جو لوگ اسپر سے گزرتے ہیں وہ اس کی ملک ہے۔ اس رستے میں سے کوئی خاص حصہ اپنے تصرف میں لانا بغیر اجازت مفادوں اور مالکوں کے بالکل ناجائز ہے۔

دَارِئِ بْنِ عَدِيٍّ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمِيعِ تَزِيدُنَا عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاةُ فِي سُوقِهِ

حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب ہمیں نماز پڑھنی ہے اور جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے اور اچھا وضو کرے اور مسجد میں آئے

خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً فَإِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَحَسَنَ الوُضُوءَ وَآتَى

پچیس درجے وقت تک رکعتی ہے۔ کیوں کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے اور اچھا وضو کرے اور مسجد میں آئے

الْمَسْجِدَ لَا يَرْيُدُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَحْطِ خَطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً أَوْ حَطَّ

صرف نماز کا ارادہ رکھتا ہو تو ہر ایک قدم جو اٹھائے اللہ اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور

عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ تَحْسِبُ وَ

اس کی وجہ سے اس سے ایک گناہ دور کر دیتا ہے یہاں تک کہ مسجد میں آجاتا ہے اور جب مسجد میں داخل ہوجائے تو وہ نماز میں ہوتا ہے جیسے نماز نصاب میں جیسا کہ حدیث

نُصِبَ الْمَلَائِكَةُ عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يَصَلِّي فِيهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا

اسکو روکتی ہے اور ملائکہ اس کے واسطے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ اپنی اس مجلس میں رہے جہاں نماز پڑھیں اسے اللہ اس کی مغفرت دے گا

اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا مَا لَمْ يُؤْذِ يَحْدِثْ فِيهِ يَا أَيُّهَا تَشْبِيهِكَ الْأَصَابِعُ فِي الْمَسْجِدِ

اسے اللہ اس پر رحم کر جس تک (اوروں کو) ایذا نہ دے وضو نہ ہو

وَعَبِيرَةٌ (۳۳۴) عَنْ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو

وَسَمَّ أَصَابِعَهُ وَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ نَاعَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ

آپ میں داخل کیا اور عاصم بن علی نے کہا کہ عاصم بن محمد نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے اس حدیث کو

مِنْ أَبِي فُلَيْحَةَ فَقَوْمَهُ لِي وَإِقْدَانٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي وَهُوَ يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ

اپنے باپ سے سنا تھا میں اسے حفظ نہ کر سکا تو اسے واقد نے اپنے باپ سے جملو صحیح کر لیا اسے کہا میں نے اپنے باپ سے سنا اور وہ کہتا تھا

ابْنُ عَمْرٍو قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو كَيْفَ بَدَأَ

عبد اللہ بن عمرو نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

إِذَا بَقِيتُ فِي حُتْلَةٍ مِنَ النَّاسِ لِي بِئَذَا (۳۳۵) عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

جب تو رومی لوگوں میں رہ جائے گا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمِيعِ تَزِيدُنَا عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاةُ فِي سُوقِهِ

پچیس درجے وقت تک رکعتی ہے۔ کیوں کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے اور اچھا وضو کرے اور مسجد میں آئے

خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً فَإِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَحَسَنَ الوُضُوءَ وَآتَى

پچیس درجے وقت تک رکعتی ہے۔ کیوں کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے اور اچھا وضو کرے اور مسجد میں آئے

الْمَسْجِدَ لَا يَرْيُدُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَحْطِ خَطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً أَوْ حَطَّ

صرف نماز کا ارادہ رکھتا ہو تو ہر ایک قدم جو اٹھائے اللہ اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور

عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ تَحْسِبُ وَ

اس کی وجہ سے اس سے ایک گناہ دور کر دیتا ہے یہاں تک کہ مسجد میں آجاتا ہے اور جب مسجد میں داخل ہوجائے تو وہ نماز میں ہوتا ہے جیسے نماز نصاب میں جیسا کہ حدیث

نُصِبَ الْمَلَائِكَةُ عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يَصَلِّي فِيهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا

اسکو روکتی ہے اور ملائکہ اس کے واسطے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ اپنی اس مجلس میں رہے جہاں نماز پڑھیں اسے اللہ اس کی مغفرت دے گا

اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا مَا لَمْ يُؤْذِ يَحْدِثْ فِيهِ يَا أَيُّهَا تَشْبِيهِكَ الْأَصَابِعُ فِي الْمَسْجِدِ

اسے اللہ اس پر رحم کر جس تک (اوروں کو) ایذا نہ دے وضو نہ ہو

وَعَبِيرَةٌ (۳۳۴) عَنْ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو

وَسَمَّ أَصَابِعَهُ وَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ نَاعَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ

آپ میں داخل کیا اور عاصم بن علی نے کہا کہ عاصم بن محمد نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے اس حدیث کو

مِنْ أَبِي فُلَيْحَةَ فَقَوْمَهُ لِي وَإِقْدَانٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي وَهُوَ يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ

اپنے باپ سے سنا تھا میں اسے حفظ نہ کر سکا تو اسے واقد نے اپنے باپ سے جملو صحیح کر لیا اسے کہا میں نے اپنے باپ سے سنا اور وہ کہتا تھا

ابْنُ عَمْرٍو قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو كَيْفَ بَدَأَ

عبد اللہ بن عمرو نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

إِذَا بَقِيتُ فِي حُتْلَةٍ مِنَ النَّاسِ لِي بِئَذَا (۳۳۵) عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

جب تو رومی لوگوں میں رہ جائے گا

ان کی شکایت کی کہ ابو ہریرہ توڑا اور علانیہ نماز اور قرآن پڑھتا ہے تو جب وہ اتنی بات بھی گوارا نہ کرنے دے تو مسجد رستہ میں بنانے کی کیوں کہ اجازت دے سکتے تھے پس امام بخاری کا اگر بائبل سنجی نے الطریق سے یہ مطلب ہے کہ مسجد رستہ کے کنارہ پر اپنی ملک میں ہو تو اگر لوگوں کو اس سے تکلیف نہ پہنچتی ہو تو... ایک حد تک درست ہے لیکن چنداں مفید نہیں کیونکہ مسجد میں کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جس سے لوگوں کو تکلیف ہو اور اپنی ملک میں ہر کسی کو حق ہے جو چاہے اس میں جائے اور اگر یہ مطلب ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رستہ میں مسجد بنائی تھی اور اسی بنا پر یہ جائز ہے کہ جب لوگوں کو تکلیف نہ ہو تو رستہ میں مسجد بنائی جائے تو یہ مستدل صحیح نہیں۔ یہ حدیث مفصل طور سے باپ حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتی ہے۔ مسجد بازار میں نماز سے ملو یہ بھی ہو سکتی ہے۔ کہ بازار میں جہاں ایک شخص اپنا کاروبار کرتا ہے وہیں نماز بھی پڑھے۔ اور بازار کی مسجد میں نماز پڑھنا بھی حرام ہو سکتا ہے اور اگر پہلے منے ہی درست مانے جائیں تو اس سے بھی بازار میں مسجد بنانے کا قیاس ہو سکتا ہے کیونکہ جب مال نماز پڑھنا جائز ہو تو مسجد بنانا بھی جائز ہے۔ گویا بازار میں مسجد سے مراد رستہ کے اندر مسجد نہیں بلکہ ایسی مسجد ہے جو بازار میں رکھتی ہو، مسجد تشکیک سے ہے کہ دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے سے ملنے سے ایک کی انگلیوں سے دوسری کی انگلیوں میں داخل ہو جائیں۔ تشکیک کے خلاف احادیث ضعیف ہیں باوجود صرف حالت نماز کے متعلق میں یا انہی مطلب ہو گا کہ بجا روں کے لئے یا اس نفل ذکر سے کسی ضرورت پر کسی توہم نہیں۔

کتاب سے روایت ہے کہ	عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَيْتَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُمَا بَعْضًا وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ
ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ	(۳۳۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رسول اللہ سے اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی	
بہت روزوں کی دو نمازوں میں سے ایک	رَأَى فِي صَلَاةِ الْعَيْشِيِّ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ قَدْ سَمَّاَهَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَكِنْ
اس کا نام ابو ہریرہ نے لیا تھا	
میں بھول گیا	لَشَيْتُ أَنَا قَالَ فَصَلَّى بِنَارِ كَعْتَيْنِ ثُمَّ سَأَلَهُ فَقَامَ رَأَى حَشْبَةً مَعْرُوضَةً
کہا میں آپ نے ہم کو دو رکعت پڑھائی	
جو مسجد میں عرض میں پڑھی ہو یا مسجد کے باہر	فِي الْمَسْجِدِ فَأَتَى عَلَيْهَا كَأَنَّهَا عَضْبَانٌ وَوَضَعَ يَدَهُ اليماني عَلَى لَبْسِئِهِ
اور اپنے انگوٹوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا	
اور اپنی انگوٹوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا	وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَوَضَعَ حَدَّهُ الْاَلَيْمَنَ عَلَى ظَرْفِ الْبُيْسَرِيَةِ وَ
اور اپنی انگوٹوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا	
جلدی کی نوٹھی سے مسجد کے دروازوں سے نکل گئے	حَرَجْتَ السَّرْعَانَ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا قَصُرَتِ الصَّلَاةُ وَفِي الْقَوْمِ
لوگوں نے کہا نماز کم کر دی گئی	
ابوبکر اور عمر تھے	أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَاهَا أَنْ يُكَلِّمَاهَا وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ يُقَالُ لَهُ
یہ دونوں آپ سے کلام کرنے سے ڈرے اور قوم میں ایک شخص تھا جس کے ہاتھ لہتے تھے	
اس کو دو الیدین کہا جاتا تھا اس نے کہا یا رسول اللہ آپ بھول گئے	ذَوَالْيَدَيْنِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْسَبْتُ أَمْ قَصُرَتِ الصَّلَاةُ قَالَ لَمْ أُنَسْ
یا نماز کم کر دی گئی	
اور نہ نماز کم لیکھی	وَلَمْ تَقْصُرْ فَقَالَ أَكَمَا يَقُولُ ذَوَالْيَدَيْنِ فَقَالُوا نَعَمْ فَنَقَدَمَ فَصَلَّى مَا
ذوالیدین کتنا ڈر رہتا تھا انہوں نے کہا ہاں	
پھر فرمایا کیا جو	تَرَكَ ثُمَّ سَأَلَهُ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ
اور اپنے ہاتھ سے بھر کر اس کی طرح سجدہ کیا	
اور اللہ اکبر کہا	وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ فَرَبَّمَا
بیرس طرح سجدہ کیا یا اس نے لیا پھر اپنا سر اٹھایا	
اور اللہ اکبر کہا	سَأَلُوهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَيَقُولُ بُنْتُ أَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ ثُمَّ سَأَلَهُ
انہوں نے ابن سیرین سے پوچھا پھر آپ نے سلام پھیرا تو کہنے لگے کہ مجھے خبر دی گئی ہے	
جو مدینہ کے راستوں پر ہیں	بَابُ الْمَسَاجِدِ الَّتِي عَلَى طَرَفِي الْمَدِينَةِ وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي صَلَّى فِيهَا النَّبِيُّ
اور وہ مقامات جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی	
ابو موسیٰ بن عقبہ سے روایت ہے کہ	صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۳۳۷) عَنْ مُوسَى بْنِ عَقِبَةَ قَالَ رَأَيْتُ سَالِحَ بْنِ
موسے نے سالم بن عبد اللہ کو دیکھا	

عاشق بنی انگوٹوں کو
 ایک دوسرے میں داخل کر کے سمجھایا کہ جیسے
 یوں ایسی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ دوسرا انہیں بھول نہیں سکتا اس طرح جب سلمان ایک دوسرے کو یاد دلا کر اس طرح سے رہیں کہ ایک دوسرے کی قوت کا موازنہ ہوں تو کوئی دوسرا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کس قدر نشانوں سے اور کس طرح بار بار تعلم دے کر اتحاد کی برکت کو سمجھایا تھا۔ لیکن انہوں نے اس کو آج سلمان سے کوئی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے جب تک ان کا اتحاد باہمی مضبوط نہ ہو گا ان کے اندر کوئی قوت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس وقت وہ ایک بے ترقی اینٹوں کے ڈھیر کی طرح پڑے ہوئے ہیں اگر ان میں اتحاد ہو جائے تو وہ ایک عمارت بن جائیں گے

اس ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ائمانا لبشر الفسحی کما تنفون میں بشر ہوں میں بھی بھولتا ہوں جیسا کہ تم بھولتے ہو سو قیام علی میں ہے سلف تو کفار تھے انھیں لانا شایہ

ہم تجھے پڑھائیں گے سو تو نہ بھولے گا۔ ہاں جو اللہ جانتا ہے جینے دہی کے علاوہ اور باتوں میں آپ سے بھول ہو سکتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی آدم فلسفیت ذقیر آدم بھولا اسکی اولاد بھی بھولتی ہے۔ غرض وہ خدا کی ذات پر جو نہ کبھی بھولتی ہے اور نہ غلطی کرتی ہے لا یضلل ربی ولا یبغی نبیا و نبیہا بل دلشہ کی صفات ان میں ہوتی ہیں تاکہ انہیں خدائے بنایا جائے + اس واقعہ میں نبی کریم نے نماز پوری نہیں پڑھی تھی۔ بلکہ دو رکعت پڑھی تھیں دو سجدے ہوئے تھے پھر سلام پھیرا اور سجدہ سہو کے بعد بھی فہم میں بیٹھ کر سلام پھیرا ان باتوں کی تفصیل باب السہو میں آئے گی +

عَبْدُ اللَّهِ يُخْرِجِي أَمَا كِنَ مِنَ الطَّرِيقِ فَيُصَلِّي فِيهَا وَيُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَصَلِّي فِيهَا
کراتے میں منافات کی تلاش کرنا اور اس میں نماز پڑھنا اور بیان کرنا کہ ان کا باپ ان میں نماز پڑھتا

وَأَنَّ لَأَيُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي تِلْكَ الْأَمْكِنَةِ قَالَ وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ
اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جگہوں میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ اور مجھے نافع نے ابن عمر سے بیان کیا

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي تِلْكَ الْأَمْكِنَةِ وَسَأَلْتُ سَالِمًا فَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا وَاقِعًا
کہ وہ ان جگہوں میں نماز پڑھتا تھا اور سالم سے میں نے پوچھا تو میرے علم میں اس نے

نَافِعًا فِي الْأَمْكِنَةِ كُلِّهَا إِلَّا أَنْتُمْ مَا اخْتَلَفَا فِي مَسْجِدِ لَيْشْرِفِ الرَّوْحَاءِ (۳۳۸) عَنْ
نافع سے اور تو سب جگہوں پر ہیں موافقت کی مگر دونوں نے شرف الرواح کی مسجد میں اختلاف کیا ہے

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ بِيَدِي
عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحلیفہ میں

الْحَلِيفَةَ حِينَ يَعْتَمِرُ وَفِي حَجَّتِهِ حِينَ تَحْتِ سَمْرَةَ فِي مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ الَّذِي
جب عمرہ کرتے اور حج میں جب حج کرتے درخت ببول کے نیچے اس مسجد کی جگہ میں جو

بَيْنَ الْحَلِيفَةِ وَكَانَ إِذَا رَجَعُ مِنْ عَرَفَةَ وَكَانَ فِي ذَلِكَ الطَّرِيقِ أَوْ حِجَّ أَوْ عُمَرَ قَهْبَطَ
ذی الحلیفہ میں ہے اترتے اور جب کسی عزمہ یا حج یا عمرہ سے واپس ہوتے اور اس رستہ میں ہوتے تو وہادی (مقیق) کے ٹیب میں جاتے

بَطْنٍ وَادٍ فَإِذَا ظَهَرَ مِنْ بَطْنٍ وَادٍ آخِرٍ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي عَلَى شِفَاؤِ الْوَادِي لَشَرَفِيَّةٍ فَعَرَفَتْ
پس جب شیب وادی سے چڑھتے تو اونٹنی کو اس پتھر ملی زمین میں بٹھالتے جو وادی کے شرقی کنارہ پر ہے تو وہاں پہلی رات آرام کرتے

ثُمَّ حَتَّى يَصُومَ لَيْسَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِحَارَةِ وَلَا عَلَى الْأَمَّةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْمَسْجِدُ كَانَ
یہاں تک کہ صبح کرتے (یہ مقام) اس مسجد کے پاس نہیں جو پتھروں پر ہے اور نہ اس ٹیلے پر ہے جس پر مسجد ہے

ثُمَّ خَلِيفَةَ يُصَلِّي عَبْدُ اللَّهِ عِنْدَهُ فِي بَطْنِهِ كَثْرًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ
وہاں ایک نام تھا عبداللہ اس کے پاس نماز پڑھتے تھے اس کے ارد گرد تھے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے

يُصَلِّي فَرِحَ فِيهِ السَّيْلُ بِالْبَطْحَاءِ حَتَّى دَفَنَ ذَلِكَ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللَّهِ
سیلاب نے اُس میں لگاریاں بھر دیں یہاں تک کہ وہ مکان جہاں عبداللہ نماز پڑھتا کرتے تھے وہاں گیا

يُصَلِّي فِيهِ وَأَنَّ عَمْرَةَ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى
اور عبداللہ نے اس سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی

حَبَّتُ الْمَسْجِدِ الصَّرِيفِ الَّذِي دُونَ الْمَسْجِدِ الَّذِي لَشَرَفِ الرَّوْحَاءِ وَقَدْ كَانَ
جہاں وہ چھوٹی مسجد ہے اور اس مسجد کے قریب ہے جو شرف الرواح میں ہے اور

عَبْدُ اللَّهِ يَعْلَمُ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثُمَّ
عبداللہ اس مکان کو جانتے تھے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی کہتے تھے کہ

عَنْ يَمِينِكَ حِينَ تَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ تَصَلِّيَ ذَلِكَ الْمَسْجِدَ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيقِ الْيَمِينِ
وہ جگہ تیرے راستے جو ہے جب تو مسجد میں کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور وہ (چھوٹی) مسجد راستے کے دائیں کنارے پر ہے

عَلَى حَزَنٍ عَدِيَّةٍ
بن عمرو کو اتباع سنت
کا اس قدر شوق تھا
کہ وہ آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کے انکار
کی بیرونی آگے لے
پوری کوشش کرتے
اس میں سے یہ بھی ہر
کچھ اور عمر سے کہتے
جاتے ہوئے جہاں
جہاں آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم اور آپ نے
نماز پڑھی وہیں عبداللہ
بن عمر بھی ٹھیک نماز
پڑھتے۔ اس طرح
کی بعض باتیں جو
ایک شخص اپنے مشق
اور محبت میں کر لیتا
ہے دوسروں کے
لئے صرف تکلیف
ملا لیا جاتی رہ جاتی
ہیں۔ بلکہ بعض وقت
اس سے ایک مشرق کا
رنگ پیدا ہو جاتا ہے
یہی وہی تھی کہ حضرت
عمر سے ایک دفعہ لوگوں
کو دیکھا کہ ایک خاص
مقام کی طرف دوڑتے
جا رہے ہیں۔ اور
دریافت کرنے پر
معلوم ہوا کہ یہ وہ جگہ
ہے جہاں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے
نماز پڑھی تھی تو
آپ نے روک دیا۔
اور فرمایا جہاں فوت
آ گیا ہے وہاں نماز
پڑھ لو۔ آخر کار
قاضی رکھنا اچھا ہے
مگر آثار پرستی اچھی

نہیں۔ شرف الرواح مدینہ سے ۳۶ میل کے فاصلہ پر ایک مقام ہے + محل اس اپنی روایت میں وہ منزل میں ہی گئی ہیں۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترتے اور نماز پڑھتے۔
عبداللہ بن عمر جہاں ہی مقامات پر نماز پڑھتے ہیں وہاں کل آٹھ منزلیں مدینہ سے مکہ تک بیان کی گئی ہیں۔ مگر سوائے ذوالحلیفہ کی مسجد کے جہاں پہلی منزل بتائی گئی ہے
باقی مساجد اب نہیں پہچانی جاتیں مگر اور مدینہ کے درمیان ۲۰ میل کا فاصلہ ہے اور اگر یہی کل منازل ہوں تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس میں مدینہ سے زیادہ سفر کیا۔ معمولی طور پر قافلہ کی
یہ غالباً بارہ منزلیں ہیں۔ روایت میں ہر نئے مقام کو ان الفاظ سے بتایا ہے وان عبد اللہ بن عمر حدثنا +

وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ بَيْنَ الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ مَهْمَةً مُجْحَرًا وَهُوَ ذَلِكَ وَ

جب تو مکہ کی طرف جا رہا ہو اس کے اور بڑی مسجد کے درمیان پھرتے ہوئے کا ناقصہ ہے یا اس کی مانند اور

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي إِلَى الْعَرْقِ لِنَيْ عِنْدَ مَنْصَرَفِ الرُّوحَاءِ وَذَلِكَ الْعَرْقُ

ابن عمر اس پہاڑی کی طرف نماز پڑھتے جو رہائے اخیر کے پاس ہے اور اس پہاڑی کا

الَّتِي طَرَفُهُ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيقِ دُونَ الْمَسْجِدِ الَّتِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَنْصَرَفِ وَ

کنارہ راستے کے کنارہ پر منہم ہوا ہے اس مسجد کے قریب جاکے اور دو گام کے آخر کے درمیان ہے

أَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ وَقَدْ لَبِثْتَنِي ثُمَّ مَسَّجِدًا فَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُصَلِّي

جب تو مکہ کی طرف جا رہا ہو اور وہاں مسجد بنا ہی گئی ہے اور عبد اللہ بن عمر

فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ كَانَ يَتَرَكُهُ عَنْ لَيْسَارِهِ وَوَرَاءَهُ وَيُصَلِّي أَمَامَهُ إِلَى

اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے اور اس کو اپنے بائیں طرف اور اپنے پیچھے چھوڑتے اور اس کے آگے

الْعَرْقِ لِنَفْسِهِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُرْوَحُ مِنَ الرُّوحَاءِ فَلَا يُصَلِّي الظُّهْرَ حَتَّى

پہاڑی ہی کی طرف نماز پڑھتے اور عبد اللہ روعا سے چلتے تو ظہر پڑھتے یہاں تک کہ

يَأْتِي ذَلِكَ الْمَكَانَ فَيُصَلِّي فِيهِ الظُّهْرَ وَإِذَا آتَيْتَ مِنْ مَكَّةَ فَإِنَّ مَرَّةً

اس جگہ آتے اور یہاں ظہر پڑھتے اور جب کو سے آئے تو اگر

بِهِ قَبْلَ الصُّبْحِ بِسَاعَةٍ أَوْ مِنْ آخِرِ الشَّحْرِ عَرَسَ حَتَّى يُصَلِّيَ بِهَا الصُّبْحَ وَأَنَّ

اس پر صبح سے ایک گھنٹی پہلے یا شام کے آخر گزرنے تو اتر جائے یہاں تک کہ وہاں صبح پڑھ لینے

عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ تَحْتَ سَرْحَةِ

اور عبد اللہ نے اس سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے درخت کے نیچے اترتے

ضَحْمَةَ دُونَ الرُّوَيْثَةِ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ وَوَجْهَهُ الطَّرِيقِ فِي مَكَانٍ بَطْنِ

رویشہ کے قریب راستہ کے داہنی طرف اور راستے کے سامنے فزاح نام جگہ میں

سَهْلٍ حَتَّى يَقْضِي مِنْ أَكْمَةِ دُونِ بَرِيدِ الرُّوَيْثَةِ بِمِثْلَيْنِ وَقَدْ انْكَسَرَ

یہاں تک کہ اس ٹیلے سے جو رویشہ سے دو میل کے فاصلے پر تھکتے تھے اور درخت کا

أَعْلَاهَا فَأَنْشَأَنِي فِي جَوْفِهَا وَهِيَ قَائِمَةٌ عَلَى سَائِي وَفِي سَائِقِهَا كُتُبٌ

ادب کا حصہ ٹوٹ گیا ہے وہاں پر اس کی بیچ بن گیا اور وہ اسی طرح پکھڑا ہے اور اس کے تنے میں بہت ٹیلے ہیں

كثِيرَةٌ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور عبد اللہ بن عمر نے اس سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

صَلَّى فِي طَرَفِ ثَلَاثَةٍ مِنْ وَرَاءِ الْعَصِجِ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى هَضْبَةِ عِنْدَ

ٹیلے کے کنارے میں تھلے عوج کے نیچے نماز پڑھی اور تو ہضیبہ کی طرف جا رہا ہو

ذَلِكَ الْمَسْجِدِ قَبْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٍ عَلَى الْقُبُورِ رَحْمٌ مِنْ حِجَارَةٍ عَنْ يَمِينِ

اس مسجد کے پاس دو یا تین قبریں ہیں قبروں پر بڑے بڑے پتھر ہیں راستے کے داہنی طرف

الطَّرِيقِ عِنْدَ سَلِمَاتِ الطَّرِيقِ بَيْنَ أَوْلِيَاكَ السَّلِمَاتِ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ

راستے کے پتھروں کے پاس ان پتھروں کے درمیان عبد اللہ

يُرْوَحُ مِنَ الْعَصِجِ بَعْدَ أَنْ تَمِيلَ الشَّمْسُ بِالْهَاجِرَةِ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ فِي ذَلِكَ

عوج سے روعا سے ٹھل جانے کے بعد دوپہر کو چلتے تو ظہر کو اس مسجد میں پڑھتے

طے رویشہ ایک گاؤں کا نام ہے جو مدینہ سے سترو فرسخ پہرے اور بدین الرویشہ سے بعض بے رستم مار لیا ہے اور بعض نے رستم کے چلنے والے کی منزل اور عام خاروہ میں برید کی کو کہتے ہیں تھلے تھلے کو کہتے ہیں اور عوج ایک بڑے گاؤں کا نام ہے اگلے اور رویشہ کے درمیان چوہہ میل کا فاصلہ ہے اور ہضیبہ اس پہاڑ کو کہتے ہیں جو زمین پر پھیلا ہوا ہو اور سلیمات سلمہ کی جمع ہے پتھروں کو کہتے ہیں بعض نے کہا ہے کہ مسجد نبوی عروج سے پارخ فزاح کے نام پر ہے جب کوئی ہضیبہ کو جائے

السَّجْدِ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ

اور عبد اللہ بن عمر نے اس سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

عَنْ سَرَاحَاتٍ عَنْ كَيْسَارِ الطَّرِيقِ فِي مَسِيلِ دُونَ هَرَشَى ذَلِكَ الْمَسِيلِ لَأَصْحَابِكُمْ

درختوں کے پاس اترنے حال راستے کے بائیں طرف نامے میں ہر شے کے قریب یہ نازل

هَرَشَى بَيْتَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ قَرِيبٌ مِنْ عُلُوِّهِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو يُصَلِّي

ہر شے کے کسارہ سے ملا ہوا ہے اسکے درمیان اور راستے کے درمیان تقریباً تیر سچھ کا (فاصلہ) ہے اور عبد اللہ بن عمر اس

إِلَى سَرَاحَاتٍ هِيَ أَقْرَبُ الشَّرْحَاتِ إِلَى الطَّرِيقِ وَهِيَ أَطْوَلُهُنَّ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ

بڑے درخت کی طرف نماز پڑھتے جو سب درختوں سے راستے کے قریب اور وہ سب سے لمبا ہے اور عبد اللہ بن عمر نے

عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ فِي الْمَسِيلِ الَّذِي فِي

اس سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نامے میں اترتے جو

أَذَى مَرِّ الظُّهْرَانِ قَبْلَ الْمَدِينَةِ حَيْثُ تَهْبِطُ مِنَ الضَّمْرَاءَاتِ يَنْزِلُ فِي بَطْنِ ذَلِكَ

مراظھران کے نیچے مدینہ کی طرف سے جب تو صفاوات سے اترے آپ اس نامے کے بیچ میں اترتے

الْمَسِيلِ عَنْ كَيْسَارِ الطَّرِيقِ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ لَيْسَ بَيْنَ مَا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

راستے کے بائیں طرف اور تو کے کی طرف جا رہا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ وَالْأَدْمِيَّةِ بِحَجْرٍ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

اور راستے کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہے جتنی دور پتھر مارا جا سکتا ہے اور عبد اللہ بن عمر نے اس سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي طَوِيٍّ وَبَيْتِ حَتَّى يُصْبِحَ يُصَلِّي الصُّبْحَ حِينَ يَقْدُمُ مَكَّةَ وَ

ذی طویس میں اترتے اور رات گزارتے یہاں تک کہ صبح کرتے صبح رات کے پہنچتے تو صبح پڑھتے اور

مُصَلَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ عَلَى أَكْمَةِ غَلِظَةِ لَيْسَ فِي الْمَسِيلِ الَّذِي فِي

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز گاہ سخت چلیے پڑھے اس جگہ نہیں جو وہاں بنائی گئی ہے

عَمَّةٌ وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكْمَةِ غَلِظَةٍ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَنَّ النَّبِيَّ

ہاں اس کے نیچے سخت چلیے پڑھے اور عبد اللہ بن عمر نے اس سے بیان کیا کہ نبی کریم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَ فَرَضَهُ الْجَبَلِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ فَجَعَلَ السَّجْدَ

صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کی دو چوٹیوں کی طرف رخ کیا جو آپ کے درمیان اور اونچے پہاڑ کے درمیان کیے کی طرف سے ہیں عبد اللہ

الَّذِي فِي بَيْتِهِ ثُمَّ بَسَّارَ السَّجْدِ بِطَرَفِ الْأَكْمَةِ وَمُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس سجدہ کو جو وہاں بنائی گئی ہے اس سجدہ کے بائیں طرف کیا جو ٹیلے کے کنارے پر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جگہ

اسْفَلَ مِنْهُ عَلَى أَكْمَةِ السُّودَاءِ تَدْعُ مِنَ الْأَكْمَةِ عَشْرَةَ أَذْرَعًا أَوْ خَوْهَا

اس سے نیچے کالے چیلے پڑھے تو ٹیلے سے دس ہاتھ یا اس کی اندھ چھوڑ دے

ثُمَّ تَصَلِّي مُسْتَقْبِلَ الْقُرْصَتَيْنِ مِنَ الْجَبَلِ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ بَاب

پھر نماز پڑھے اس پہاڑ کی دو چوٹیوں کی طرف جو تیرے اور کہنے کے درمیان ہے باب

سُرَّةُ الْأِمَامِ وَسُرَّةُ مَنْ خَلْفَهُ (ص ۱۳۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي مَثَرَةٍ (۶۹)

امام کا سترہاں کا (جگہ) سترہ ہے جو اس کے پیچھے ہیں دیکھو حدیث نمبر ۶۹ ص ۱۳۰

عمل سراجات
سرحات کی جمع ہے
اور سرحہ بڑا درخت
ہے اور ہر شے بظاہر
تہا مگر کہا ہوا ہے
وہاں پر جہاں مدینہ
اور شام کا راستہ ملتا
ہے جو درخت راستہ
کے قریب اور سب
درختوں سے بڑا ہے
عبد اللہ بن عمر کو
سانے رکھ کر نماز
پڑھتے تھے۔ جہاں
نبی کریم صلی اللہ
تعالیٰ پر بھی وہ عمل
اس حدیث میں نبی
کے بعد کائنات اس کا
لفظ مذکور ہے جس سے
یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ
آپ لوگوں کو نماز
پڑھا رہے تھے۔
اس حدیث میں سترہ
کا کوئی ذکر نہیں۔
لیکن نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کی عادت یہی تھی
کہ سفر میں سانسے
تیرہ یا چھٹی جگہ گزار
اس کی طرف نماز
پڑھتے تھے۔ جیسا
کہ باب کی دوسری
حدیث میں جو ابن
عمر کی ہے یہ آتا ہے
وہاں بھٹل
ذلک فی السفر
یعنی آپ کی عادت
تھی کہ سفر میں چھٹی
سانسے رکھ کر کسی
طرف منہ کے نماز
پڑھا کرتے تھے تیری
حدیث جو ابو جحیفہ
کی ہے اس میں
بھی یہی ہے۔ کہ
اہل کے سامنے نماز
پڑھتے تیرہ تھلا اور ابن عباس کی ہے پر سوار ہو کر سفر کے آگے گزرنے۔ سترہ کی غرض یہ ہے کہ نماز کی پہل پس گولی ٹھخن گزرنے جس سے کسی تھلا نہ لگے۔ ہٹ کر دوسری طرف جائے۔

پڑھتے تیرہ تھلا اور ابن عباس کی ہے پر سوار ہو کر سفر کے آگے گزرنے۔ سترہ کی غرض یہ ہے کہ نماز کی پہل پس گولی ٹھخن گزرنے جس سے کسی تھلا نہ لگے۔ ہٹ کر دوسری طرف جائے۔

(۳۳۹) عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ

ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن نکلتے

الْيَوْمِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتَوَضَّعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّيُ إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَدَاعَةٌ وَكَانَ

تو برہمی کا حکم دیتے جو آپ کے سامنے رکھی جاتی اور اس کی طرف نماز پڑھتے اور گل آپ کے پیچھے ہوتے اور

يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ فَمِنْ ثَمَّ أَخَذَهَا الْأَمْرَاءُ (مر ۱۳۰) عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي

آپ سفر میں یہ کیا کرتے تھے پس اسی وجہ سے امیروں نے اسے بنایا دیکھو حدیث

جُحَيْفَةَ (متکثر - ۲۷۲) بَابُ قَدْرِكُمْ يَسْبِغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُصَلِّيِ وَالسُّنَّةِ

نمبر ۲۷۲ باب نمازی اور سنتہ کے درمیان کہنا اشارہ پانچ

(۳۴۰) عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُصَلِّيِ رَسُولِ اللَّهِ وَبَيْنَ الْجِدَارِ

سعد بن سعد سے روایت ہے کہ نبی کریم کی نماز گاہ اور دیوار کے درمیان

مَمْرٌ الشَّاةُ (مر ۱۳۱) عَنْ سَلَمَةَ (متکثر - ۳۳۱) بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْحَرْبَةِ (مر ۱۳۲)

بکری کے گزرنے کی جگہ تھی دیکھو حدیث نمبر ۳۳۱ باب برہمی کی طوط نماز پڑھنا

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (متکثر - ۳۳۳) بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْعِزَّةِ (مر ۱۳۳) عَزَّةٌ

دیکھو حدیث نمبر ۳۳۳ باب نیزے کی طرف نماز پڑھنا

عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ (متکثر - ۲۷۲) (مر ۱۳۲) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متکثر)

دیکھو حدیث نمبر ۲۷۲ دیکھو حدیث نمبر ۱۳۹

(۱۲۴) بَابُ السُّنَّةِ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا (مر ۱۳۵) عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ (متکثر - ۲۷۲)

باب مکہ وغیرہ میں سنتہ دیکھو حدیث نمبر ۲۷۲

بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ وَقَالَ عُمَرُ الْمُصَلِّونَ أَحَقُّ بِالسَّوَارِي مِنَ الْمُتَحَدِّثِينَ

باب سنتوں کی طوط نماز پڑھنا اور حضرت عمرؓ کہتے ہیں: ایسے کرنے والوں کی نسبت نمازی سنتوں کے زیادہ حقدار ہیں

إِلَيْهَا وَأَرَادَ ابْنُ عُمَرَ جَلًّا يُصَلِّي بَيْنَ أُسْطُوَانَتَيْنِ قَادَاهُ إِلَى سَارِيَةٍ فَقَالَ صَلَّى إِلَيْهَا

اور ابن عمر نے ایک شخص کو دیکھا دو سنتوں کے درمیان نماز پڑھتا تھا تو اسکو سنتوں کے تُوپ کر دیا اور کہا اس کی طرف نماز

(۳۴۱) عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ كُنْتُ أُنِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ فَيُصَلِّي عِنْدَ

یزید بن ابی عبید سے روایت ہے کہ میں سلمہ بن اکوعؓ کے پاس نماز پڑھتے

علا حدیث نمبر ۲۷۲
ہر حدیث نمبر ۲۷۲
کا چوتھا سا کھڑا ہو
مگر اس میں کچھ زیادہ
بھی ہے ان النبی
صلی اللہ علیہ وسلم
بالبطاء و یبین
بین یہ عذتہ الظہر
سراکتین والحد
سراکتین متدرجین
یہ بہ المداۃ
والحمار نظر اور
کی نماز کی تعزیر
اور مقام بطحا کی
تعزیر ہاں موجود
ہے دو دو رکعت
جو سفر میں تھیں
ملا بیان کی حدیث
میں ہے کہ آپ میل اور
سزہ میں تین باقی
کا قافلہ تھا۔ اور یہ
سجدہ کے لئے کافی
تھیں۔ اور یہاں
جو کہا کہ آپ کی نماز گاہ
اور دیوار میں بکری
کے گزرنے کی جگہ
تھی تو نماز گاہ سے
مراوساری تھیں
جس میں نمازی نماز
پڑھتا تھا۔
باب کی دوسری
حدیث میں جو سلمہ
کی ہے یہ ہے

۱۳۹
۱۳۸
۱۳۷
۱۳۶
۱۳۵
۱۳۴
۱۳۳
۱۳۲
۱۳۱
۱۳۰
۱۲۹
۱۲۸
۱۲۷
۱۲۶
۱۲۵
۱۲۴
۱۲۳
۱۲۲
۱۲۱
۱۲۰
۱۱۹
۱۱۸
۱۱۷
۱۱۶
۱۱۵
۱۱۴
۱۱۳
۱۱۲
۱۱۱
۱۱۰
۱۰۹
۱۰۸
۱۰۷
۱۰۶
۱۰۵
۱۰۴
۱۰۳
۱۰۲
۱۰۱
۱۰۰
۹۹
۹۸
۹۷
۹۶
۹۵
۹۴
۹۳
۹۲
۹۱
۹۰
۸۹
۸۸
۸۷
۸۶
۸۵
۸۴
۸۳
۸۲
۸۱
۸۰
۷۹
۷۸
۷۷
۷۶
۷۵
۷۴
۷۳
۷۲
۷۱
۷۰
۶۹
۶۸
۶۷
۶۶
۶۵
۶۴
۶۳
۶۲
۶۱
۶۰
۵۹
۵۸
۵۷
۵۶
۵۵
۵۴
۵۳
۵۲
۵۱
۵۰
۴۹
۴۸
۴۷
۴۶
۴۵
۴۴
۴۳
۴۲
۴۱
۴۰
۳۹
۳۸
۳۷
۳۶
۳۵
۳۴
۳۳
۳۲
۳۱
۳۰
۲۹
۲۸
۲۷
۲۶
۲۵
۲۴
۲۳
۲۲
۲۱
۲۰
۱۹
۱۸
۱۷
۱۶
۱۵
۱۴
۱۳
۱۲
۱۱
۱۰
۹
۸
۷
۶
۵
۴
۳
۲
۱

کہ منبر اور دیوار کے درمیان کبھی بکری کے گزرنے کی جگہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانب نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور سجدہ گاہ غالباً منبر کے پچھلے سرے کے محاذ میں ہو گا۔ تو
بظاہر دونوں چیزوں کا مضمون ایک ہے یعنی یہ کہ سجدہ گاہ اور دیوار کے درمیان اتنی جگہ تھی جس میں بکری گزر سکتی تھی + حدیث نمبر ۱۳۵ کے الفاظ میں یہاں حدیث
المسجد عند المنبر کا ماد الشاة تجوز ہا یعنی مسجد کی دیوار منبر کے پاس تھی بکری شکل سے اس سے گزر سکتی تھی + حدیث نمبر ۳۳۹ کا پہلا حصہ یہاں کرنا چاہئے اور ان
صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہ اللہ الحربة فیصلی الیہا + حدیث نمبر ۱۳۰ اسے ملے ہیں۔ یہاں یہ بھی ذکر کرنا چاہئے کہ آپ دو پر کوٹھلیس وضو کا پانی لایا گیا + حدیث نمبر ۱۳۰
میں یہ الفاظ مذکور ہیں وضو عکرتہ او حصا او عذرتہ یعنی سچا پانی برہمی بلا لایا گیا نیزہ ہوتا اور معنا اداوۃ کے آگے یہ جملہ زائیدی فاذا فرغ من حاجتہ فاولاوا
الاداوۃ یعنی جہاں حاجت سے فارغ ہو جائے تو ہم آپ کو کچھ گل دیتے تھے اس روایت کے الفاظ ۱۳۰ اسے ملنے چھتے ہیں مگر انہی فقو مندوبین یہاں المداۃ والحمار
کی بجائے وضو جمل اللناس بوضوۃ + اس باب کا اندھنی یہ وہ ہے کہ عبد الرزاق نے ایک باب باندھا ہے کہ کہ میں کوئی چیز سامنے نہ رکھتا ہے تو میرے
خبروں اور اس کے لئے ایک روایت لایا ہے کہ کثیر کا دادا کہتا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ مسجد حرام میں نماز پڑھتے تھے اور آپ کے اور لوگوں کے درمیان شرہ نہیں تھا۔ اور اس میں
کہ وہاں السنن نے بھی روایت کیا ہے۔ امام بخاری نے اس باب سے اس حدیث کے طرف اشارہ کیا اور کہا کہ شہرہ کے باہر میں ملاوخیگر کہ میں کوئی فرق نہیں ہوں۔ اولاد کے اسکے نصف کر کے
یہ بیان کی ہے کہ کثیر اور اسکے دام کے درمیان ایک ساوی جھول ہے + حدیث نمبر ۱۳۰ سنتوں کی طرف نماز پڑھنے کی جتنی احادیث ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ سنتوں کو سنتہ نہ لایا جائے تاکہ مسجد میں نماز پڑھنے والا
کو سولت ہو۔ دو سنتوں کے درمیان پڑھنے سے کسی اور آئینے نماز پڑھنے کے متعلق ہے۔ ورنہ جماعت میں صلیب ایک ترتیب سے ہوں گی +

الْأُسْطُوَانَةُ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ فَقُلْتُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ أَرَأَيْتَ تَخْرُجُ لِصَلَاةٍ عِنْدَ هَذِهِ

جو مصحف کے پاس ہے تو میں نے کہا کہ ابو مسلم! کیا تم اس سنون کے پاس نماز پڑھنے کی کویتش کرتے ہو؟

الْأُسْطُوَانَةُ قَالَ فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ لِصَلَاةٍ عِنْدَهَا (۳۲۳)

کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اسکی طرف نماز پڑھنے کی کویتش کرتے تھے

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَقَدْ آذَرْتُ كَيْدًا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَدُونَ

اس بن مالک سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے اصحاب کو دیکھا کہ

السَّوَارِي عِنْدَ مَغْرِبِ بَابِ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي غَيْرِهَا عِدَّةٌ (۱۳۶) عَنْ

مغرب کے وقت سنونوں کی طرف جلدی کرتے تھے باب جامعہ کے بغیر سنونوں کے درمیان نماز پڑھنا

ابن عمر (متکثر - ۲۸۶) (۱۳۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (متکثر - ۲۸۶) بَابُ

دیکھو حدیث نمبر ۲۸۶ باب دیکھو حدیث نمبر ۲۸۶

(۳۲۳) عَنْ تَائِفٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ حَتَّى

تائیف سے روایت ہے کہ جب عبد اللہ کعبے میں داخل ہوتے تو اپنے سامنے کی طرف چلے جب داخل

يَدْخُلُ وَجَعَلَ لِبَابِ قِبْلَتِهِ قِبْلَةً فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحِدَارِ الَّتِي قِبَلَ

ہوتے۔ اور دروازے کو اپنی پیٹھ کی طرف رکھتے اور چلے یہاں تک کہ ان کے اور اس دیوار کے درمیان جو ان کے سامنے تھی

وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُسٍ صَلَّى يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ بِلَالٌ أَنَّ النَّبِيَّ

قریباً تین گز (کا فاصلہ) رہ جاتا (روان) نماز پڑھتے اس جگہ کا ارادہ کرتے جس کے متعلق بلال نے انہیں خبر دی تھی

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيهِ قَالَ وَكَيْسٌ عَلَى أَحَدِنَا بَأْسٌ أَنْ صَلَّى

صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی کہا اور ہم میں سے کسی پر کوئی ہرج نہیں کہ بیت اللہ کی

فِي آيٍ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ وَالْبَعِيرِ وَالشَّجَرِ

جس طرف میں چاہے نماز پڑھے باب اونٹنی اور اونٹ اور درخت اور پالان کی طرف

وَالرَّحْلِ (۳۲۵) عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نماز پڑھنا ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

أَنَّهُ كَانَ يُعْرِضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّيُ إِلَيْهَا قُلْتُ أَفَرَأَيْتَ إِذَا أَهْبَتِ

اپنی اونٹنی کو عرض میں جھکتے پھر اس کی طرف نماز پڑھتے میں نے کہا تاکہ جب اونٹ ہٹے ہوں

الرِّكَابُ قَالَ كَانَ يَأْخُذُ الرَّحْلَ فَيَعِدُّ لَهُ فَيُصَلِّيُ إِلَى الْخُرْتَةِ أَوْ قَالَ

کہا آپ پالان کو لیتے اور اسکو تھیک کرتے اور اس کی پچھلی کڑی کی طرف نماز پڑھتے یا ابن عمر نے

بن طلحہ وبلال کا حال تو خرم وگنت اول الناس دخل علی اثره ثلاث بلاک ابن صلی فقال بین العمودین المقدسین یعنی بلال نے کہا کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کے دو سنونوں کے درمیان نماز پڑھی + کہا اس مکرر روایت کا پہلا حصہ چھپل مکرر روایت سے ملتا ہے مگر بلال کے جواب میں زیادہ

تفصیل ہے قال جبل عمودا عن یسارہ وعمودا عن یمنہ وثلاثة عمدة ورواه وكان البیت يومئذ علی مستنار احدی القمم صلی وقال لنا اسمعیل

حدیثی مالک فقال عمودین عن یمنہ یعنی بلال نے کہا کہ آنحضرت آپ سنون کو اپنے دائیں طرف کیا اور ایک سنون کو اپنے بائیں طرف اور میں کو اپنے پیچھے اور پھر نماز پڑھی

اور اس میں میت آجھ سنونوں پر تھا۔ اور اس میں نے کہا کہ مجھ سے ملنے کے بیان کیا کہ دو سنونوں کو آپ نے دائیں طرف کر دیا۔ پھر سنون اسکا گل کی روایت سے پورے چوتھے

ہیں + چھٹے ابن عمر نے کہا کہ بیت اللہ میں جلال انسان کھرا جو جاسے اس میں کوئی ہرج نہیں۔ میں صرف بطور تبرک وہیں نماز پڑھتا ہوں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی

جزئی امور میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا ہے اور وہ کئی طرح پر ہو سکتا ہے تو دوسری طرح پر کر لینا خلاف سنت نہیں کہلا سکتا۔ مثلاً ستر عورت ضروری ہے یا ستر عورت کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند یا نڈھار کرنے کے لئے تو اس سے لازم نہیں آتا کہ تہ بند سنت ہو اور پائے یا مہر خلاف سنت۔ لوگوں نے اس میں بڑی تنگی کی ہے۔ اور شریعت کے عام قانوں کو خاص جزئیات کے ساتھ محدود کر دیا ہے +

علا مصحف سے مراد وہ مصحف جو حضرت عثمان نے لکھا کہ مختلف مرکوز میں رکھا یا تھا ان کی مصحف میں ایک نسخہ مدینہ میں رکھا جو سید نبوی پر رکھا گیا + علم ایک حدیث میں آیا ہے کہ بین کل اذانین صلاة یعنی ہر دو اذانوں رازان اور اقامت کے درمیان نماز ہے۔ اس کے مطابق صحابہ مغرب کی اذان اور اذان کے درمیان نماز پڑھا کرتے تھے اور پڑھتے وقت سنونوں کو ستر و پالتیت تھے۔ اس حدیث میں ہی نماز کی طرف اشارہ ہے۔ کتاب الاذان میں اس کا ذکر آیا ہے۔ علم یہ حدیث ۱۲۵ نمبر پر بھی آئی ہے اور اس کے روایت کے الفاظ اس سے زیادہ ملتے ہیں۔ مگر یہاں بہت اختصار سے آئی ہے قال دخل النبی صلوات اللہ علیہ وعلیٰ آسماة و عثمان بن طلحہ وبلال

مُوَخَّرَهُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعَلِّمُهُ بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الشَّرِيْرِ (۳۴۶) عَنْ

مُوَخَّرَهُ كَالْفَتْحِ لَمَّا أُرِيَهُ عُمَرَ يَكْبُرُ كَيْفَ يَحْتَجُّ عَلَيْهِ بَابُ جَارِبَانِي فِي طَرَفِ نَازِرٍ مِمَّنَا

عَائِشَةَ قَالَتْ أَعَدَّ لَمُونًا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُصْطَفَعَةً عَلَى الشَّرِيْرِ بِرُجُلِي

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہا کرتے تھے میں نے اور گدھے کے ساتھ برابر کر دیا ہے حالانکہ میں نے اپنے جوار جی پر لیجے جو نے دیکھتی تھی

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَتَوَسَّطُ الشَّرِيْرَ فَيُصَلِّيُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْخُوهُ فَأَنْسَلُ مِنْ قِبَلِ

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جوار پائی کے درمیان ہو جاتے پس نماز پڑھتے اور میرا پسند کرتی کہ آپ کے سامنے ہوں تو جوار پائی کے پونوں

رِجْلِي الشَّرِيْرَ حَتَّى أَنْسَلُ مِنْ لِحَابِي بَابُ لِيُودُ الْمُصَلِّيُ مَنْ مَرَّ بِمَنْ يَدِيهِ وَرَمَهُ ابْنُ

کے طرف سے میں سر کر جاتی پیمان تک کہ کہنے کا خاصہ عمل جاتی علی باب نماز پڑھنے والا اس شخص کو ٹھانے جو اس کے سامنے سے گزرے

عُمَرَ فِي لَشَّهْدِ وَفِي كَعْبَةٍ وَقَالَ ابْنُ أَبِي الْأَنْ يُفَاتِلُهُ قَاتِلُهُ (۳۴۷) عَنْ

اور ابن عمر نے تشہد میں اور کعبے میں ٹھایا اور کہا اگر اس سے لڑنے کے بغیر نہیں مانتا تو اس سے لڑے علی

أَبِي صَالِحٍ السَّمَانِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ يُخَدِّرُنِي فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ يُصَلِّيُ إِلَى شَيْءٍ يُسْتَرُّهُ

ابو صالح سمان سے روایت ہے کہ میں نے ابو سعید خدری کو جمعہ کے دن دیکھا کہ ایسی چیز کی طرف نماز پڑھ رہے تھے

مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْبٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَرَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ

کو لوگ ان کے لئے سترہ تھی تو ابو معیط کی اولاد میں سے ایک جوان نے جاہا کہ ان کے سامنے سے گزرائے تو ابو سعید نے اسکے سینے میں ہاتھ لگا کر

فَنظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَافًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ فَعَادَ لِيَجْتَازَ فَرَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَسْتَدًا

اسے روکنا تو جوان نے ان کی طرف دیکھا اور کوئی سترہ سوائے اسکے سامنے گزرا جانے کے نہ پایا تو دوبارہ گزرا جانا تو ابو سعید نے اسکو پکڑنے سے زیادہ

مِنَ الْأَوْلَى فَتَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَعْنِي مِنْ أَبِي

سخنے سے روک دیا تو اس نے ابو سعید کو گالی دی پھر مروان کے پاس آیا اور اس سے شکایت کی شکایت کی جسے ابو سعید نے پیش کی

سَعِيدٍ وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ مَالِكُ وَابْنُ أَبِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ

اور ابو سعید (بھی) اسکے پیچھے مروان کے پاس گیا تو مروان نے کہا اسے ابو سعید تیرا اور تیرے پیچھے کا کیا معاملہ ہے

قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يُسْتَرُّهُ مِنْ

کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرماتے تھے کہ جب آپ کسی ایک ایسی چیز کی طرف نماز پڑھتے کہ لوگ اس کا سترہ ہو

النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيَقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ

اور کوئی اس کے سامنے سے گزرا جانا چاہے تو اسے روکے اور اگر نہ مانے تو اس سے لڑے کیوں کہ وہ

شَيْطَانٌ بَابُ إِشْمَالِكِ الرَّبِّ يَدِي الْمُصَلِّي (۳۴۸) عَنْ بَسْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَبِّي بَدَأَ

شیطان ہے مگر باب نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنے والے کا گناہ بصر بن سعید سے روایت ہے کہ زبیر بن

خَالِدًا أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جَهْمٍ لِيَسْأَلَهُ مَاذَا أَسْمَعُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

خالد نے اس کو ابو جہم کے پاس بھیجا کہ اس سے پوچھے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے والے کے لئے جو کچھ کہا ہے وہ

علا غرض یہ ہے کہ ان چیزوں کو سترہ بنانا بھی درست ہے اور کوئی ہرج نہیں کہ انسان نماز پڑھتا ہو تو ساری کا اوٹ سامنے ہو یا پلان (دراصلہ ساری کی اونٹنی یا اونٹ کا کمانا ہے) اور اونٹ کا تپاس پلان سے کیا ہے کیونکہ اس میں بھی گڑھی ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ ان کو سامنے رکھنے سے عبادت میں فرق نہیں ہوا کہ ان کی پرستش ہو جاتی ہو یا ہرج کیبھی طرف متوجہ نہ ہونے کی پرستش نہیں ہو جاتی + علی جوار پائی کے درمیان ہونے سے یہ مراد ہی تھی ہے کہ اس کو اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے مگر نظر ہرام بخاری سے اس کا منشا یہ لیا ہے کہ جوار پائی کے وسط میں کھڑے ہو اس طرح کہ جوار پائی آپ کے سامنے نہ رہی اور سنیڈان میں آئی روایت میں یہ لفظ آئے ہیں والسریر بدینہ و دین القلعة حضرت عائشہ نے اس لفظ خیال کی

نزدیک ہے۔ جو اس وقت بعض لوگوں کا تھا۔ کہ عورت اور کئے یا گدھے کے سامنے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح بعض غلط خیالات کم فہمی سے پیدا ہو گئے تھے۔ جن کے دور کرنے کیلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح فرمائی تھی حالانکہ یہ بھی صحیح ہے کہ نماز پڑھنے والے سے لڑنا شرعاً گندہ ہے۔ مگر اس معاملہ میں شدت اختیار کر کے تاکہ لوگ اس طرح دوسروں کی عبادت میں خلل نہ ہونے سے احتیاط کریں۔ اور یہ کام نماز کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ علی غازی کو اس طرح تکلیف دینے والے کو شیطان فرمایا۔ اس سے اس لفظ کے استعمال کی وسعت معلوم ہوتی ہے۔ انما هو شیطان سے بعض نے یہ بھی استنباط کیا ہے کہ چونکہ ایسے شخص شیطان کہا ہے۔ تو شیطان سے جس قسم کی لڑائی ہوتی ہے۔ وہی لڑائی اس سے بھی کی جاسکتی یعنی اتعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور لڑنا مراد نہیں ہے۔ ابو سعید خدری نے گزرنے والے کو دو دفعہ روکا مگر نماز میں لڑائی نہیں کی۔ اور یہ روکنا بھی اس وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بالکل ساتھ ہی گزرا تھا۔ تعجب نہیں کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی لفظ سے علی لگی ہو +

نزدیک ہے۔ جو اس وقت بعض لوگوں کا تھا۔ کہ عورت اور کئے یا گدھے کے سامنے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح بعض غلط خیالات کم فہمی سے پیدا ہو گئے تھے۔ جن کے دور کرنے کیلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح فرمائی تھی حالانکہ یہ بھی صحیح ہے کہ نماز پڑھنے والے سے لڑنا شرعاً گندہ ہے۔ مگر اس معاملہ میں شدت اختیار کر کے تاکہ لوگ اس طرح دوسروں کی عبادت میں خلل نہ ہونے سے احتیاط کریں۔ اور یہ کام نماز کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ علی غازی کو اس طرح تکلیف دینے والے کو شیطان فرمایا۔ اس سے اس لفظ کے استعمال کی وسعت معلوم ہوتی ہے۔ انما هو شیطان سے بعض نے یہ بھی استنباط کیا ہے کہ چونکہ ایسے شخص شیطان کہا ہے۔ تو شیطان سے جس قسم کی لڑائی ہوتی ہے۔ وہی لڑائی اس سے بھی کی جاسکتی یعنی اتعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور لڑنا مراد نہیں ہے۔ ابو سعید خدری نے گزرنے والے کو دو دفعہ روکا مگر نماز میں لڑائی نہیں کی۔ اور یہ روکنا بھی اس وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بالکل ساتھ ہی گزرا تھا۔ تعجب نہیں کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی لفظ سے علی لگی ہو +

فِي الْمَا زَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي فَقَالَ أَبُو جَهْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لو يعلم الما زين يدي مصلّي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيلاً له من

ان يمد يدين يديه قال ابو النضر لا اذ رمى قال اربعين يوماً او شهراً او سنة

باب استقبال الرجل للرجل وهو يصلي وكره عثمان أن يستقبل الرجل

وهو يصلي وهذا إذا اشتغل به فأمّا إذا لم يشتغل به فقد قال زيد بن ثابت

ما رأيت إن الرجل لا يقطع صلوة الرجل (م ۱۳۸) عن عائشة بنت

باب الصلوة خلف النائم (م ۳۴۹) عن عائشة قالت كان النبي صلى

الله عليه وسلم يصلي وأنا رقدتة متعرضة على فراشه فإذا أراد أن يسوتر

أيقظني فأوترت باب التطوع خلف المرأة (م ۱۳۹) عن عائشة (متكرراً ۲۷۶)

باب من قال لا يقطع الصلوة شيء (م ۱۴۰) عن عائشة (متكرراً ۳۳۶)

باب ابن أخي ابن شهاب (متكرراً ۲۷۷) باب إذا حمل جارية صغيبة على عنقه في

الصلوة (م ۳۵۰) عن أبي قتادة الأضاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي

وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في لعاص بن

زبيعة بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها باب إذا ضل

عبدالرحمن بن مسعود
الفاظ من بعض الناس
بمن غرض غازی کے
ساتھ سے گزرنے
سے روکنا ہے تاکہ
غازی کو اس طرح انڈا
نہ بیچے اور اس کے
خیالات میں شہتت
واقع نہ ہوگا مگر
روایت میں استدا
یوں ہوتی ہے۔ اللہ
ذکر عند ما مایطمع
الصلوة فقال لا یقطعها
الکلب والحمار والذئب
فقال لقد جعلت
کلاباً یعنی حضرت
عائشہ کے حضور میں
اسکا ذکر ہوا مگر کوئی
چیز نہ مارا تو تڑپتی ہیں
تو لوگوں نے کہا۔ کہ
اسے تم اور گھوڑا
عورت توڑتی ہے۔ یہ
الفاظ ۳۳۶ میں
نہیں۔ اور اگلے الفاظ
میں بھی کچھ فرق ہے۔ فقہ
رایت النبی صلی
اللہ علیہ وسلم
یعنی وانی لبینہ
وبین الفضلہ وانا
مضطجعة علی السریر
فتكون لی الحاجة
واکبر ان استقبلت
فانسلت انفسا
علا ما ہذا کس
مالک کے نزدیک
ہوئے کہ سائے ٹھکر
نہاڑ پھینکا کروہ ہے

ابو داؤد ابن ماجہ وطرانی نے ضعیف احادیث کی روایت کی ہے کہ سوائے ہونے کے سوائے رکھنا نہ چاہتا ہے۔ امام بخاری نے اس باب سے اس کا جواز ثابت کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسات المہین بھی دیکھو آخری رات میں ہی چستی تھیں۔ اور جو تیس مردوں سے عبادت میں کسی شیخ بیچتے نہیں سبھی تھیں۔ حدیث نمبر ۲۷۶۷ انہی الفاظ میں کرائی ہے۔ اس حدیث میں تیس نماز کا ذکر ہے۔ وہ رات کی تہم کی نماز ہے۔ جو نفل میں رکھتا اس روایت کے الفاظ ۱۳۸ سے ہیں۔ انہیں واکبر ان استقبلہ فانی انسلوا کی بجائے ہو۔ تاکہ ان مجلس ناوذی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاذل من عند رجبہ۔ اس کے بعد روایت کے شروع میں یہ الفاظ ہیں عن ابن اخی ابن شہاب انہ سال ۴۷ عن الصلیت یقطعها شیخ قال لا یقطعها شیخ۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ گدھے اور گھوڑے کے سامنے سے گزرنے سے نہاننا سہر ہوجاتی ہے انکی تردید حضرت عائشہ کی حدیث ہوتی ہے۔ اور حضرت جبرائیل کی حدیث میں بھی جو گدھے پر سوار ہو کر صفوں کے آگے سے گزرنے بعض لوگوں نے دوسری قسم کی روایات کی ہیں تاویل کی جو کہ اس سے مراد نمازیں تو رکھنا ہوتے ہیں مگر اس میں کچھ شبہ نہیں کہ نماز کسی چیز کی بھی سامنے سے گزرنے کو نہیں ٹوٹ سکتی۔ اگلی احادیث سب حدیث سے یہی باتی ہیں (۱۱۳۳ ص ۱۱۳۳)

۱۴۳۵	إِلَى فَرَأْسِ رَيْبِهِ حَائِضٌ (۱۳۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ (مُتَكْرَرٌ - ۲۲۵) - (۱۳۲۵)
	ابن جبون کی طرف نماز پڑھنے کو اس میں عیض والی ہر دیکھو حدیث نمبر ۲۲۵
۱۴۳۶	عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ (مُتَكْرَرٌ - ۲۲۵) بَابٌ هَلْ يُعْزِمُ الرَّجُلُ
	دیکھو حدیث نمبر ۲۲۵ باب کیا مرد اپنی عورت کو سحہ کے وقت دباؤ
۱۴۳۷	أَمْرَاتُهُ عِنْدَ السُّجُودِ بَعْدَ السُّجُودِ (۱۳۳) عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكْرَرٌ - ۳۲۶)
	دیکھو حدیث نمبر ۳۲۶ تاکر سجدہ کرے
۱۴۳۸	بَابُ الْمَدْرَةِ تَطَرُّعُ عَنِ الْمَصَلِيِّ شَيْئًا مِنَ الْأَذَى (۱۴۵۴) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
	باب عورت نماز پڑھنے والے کسی نامہ پاک چیز کو دور کرنے دیکھو حدیث
	(مُتَكْرَرٌ - ۱۹۱)
	نمبر ۱۹۱

یہ حدیث صحیحہ مسلم اور ابوداؤد و ترمذی کی روایت میں ہے کہ آپ اس وقت جماعت کر رہے تھے۔ اور ابوداؤد میں ہے کہ ظہر یا عصر کی نماز تھی۔ دوسری روایات میں ہے کہ رکوع کے وقت کہہ بیٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتوں سے دینے ہی بہت محبت تھی۔ اور یہ آپ کی لڑکی کی لڑکی تھی۔ شاید اس میں یہ بھی دکھانا مقصود تھا۔ کہ لڑکیوں یا عورتوں کی کس قدر عزت آپ کے دل میں ہے عرب کے لوگ جس سے اس قدر نفرت کرتے اور عار رکھتے کہ اسے زندہ درگور کر دیتے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اور وہ بھی بھینچی کی بیٹی کو نماز میں گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کو عمل کی کئی اصطلاح کے نیچے لاکر اس کی ایسی تاویلات کی گئی ہیں جو قابل قبول نہیں۔ بعض نے اسے منسوخ کہا ہے اور یہ بھی بلا دلیل ہے۔ جو بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسے فقہاء کی کوئی اصطلاح باطل نہیں کر سکتی +

۱ اس کے مدروایت کے الفاظ یہ ہیں۔ تالت کان فرأشی حیال مصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فریہا رفع ثوبہ علی وانا علی فخر شہی بیخہ حضرت میمون نے فرمایا کہ میرا بچھونا نبی کریم کی نماز گاہ کے پہلو میں ہوتا تھا۔ تو کئی دفعہ مجھے آپ کا کپڑا پڑ جاتا۔ اور میرا بچھونے پر ہوتی +

۲ اس کے الفاظ مذکور نمبر ۱۳۲ سے ملتے ہیں البتہ ہمیں وانا حائض کا لفظ زیادہ ہے۔ اور لفظ حیال کی جگہ وانا الی جنبہ تائمتہ ہے +

۳ اس حدیث کے الفاظ میں بشما عدلتمونا یا لکلب والحجار تائینی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وانا مضطجعة بینہ و بین القبلة فاذا الادان لیسجد غمزر جلی فقبضتہما +

۴ اس حدیث میں اور نمبر ۱۹۱ میں کچھ خیف تغیر ہے اور جن سات آدمیوں پر قریش میں سے آپ نے لعنت کی اور نمبر ۱۹۱ میں ساتوں کا نام راوی بھول گیا ہے۔ اس کا نام میان عمارۃ بن الولید لیا گیا ہے +

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ بے انتہا رحم والے

اللہ بے انتہا رحم والے

کتاب مواقیب الصلوة

کتاب نماز کے اوقات

بَابُ مَوَاقِیْبِ الصَّلَاةِ وَفَضْلِهَا وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى

باب نماز کے اوقات اور اسکی فضیلت اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ نماز

الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوفًا مَّوْقُوتًا وَقَوْلُهُ عَلَيْهِمُ (۳۵۱) عَنِ ابْنِ

مومنوں پر فرض موقوف ہو رہے موقوفت کہ اس فرض کو ان کے ذمہ خاص وقت کے ساتھ لگا دیا گیا ہے

شِهَابِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْرَجَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ

شہاب سے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے ایک دن نماز دے کر پڑھی تھی تو عروہ بن زبیر کے پاس گئے

الزَّيْفِيُّ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمَغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخْرَجَ الصَّلَاةَ يَوْمًا وَهُوَ بِالْحِمْيَرِ فَدَخَلَ

اور انہیں خبر دی کہ مغیرہ بن شعبہ نے ایک دن نماز دے کر پڑھی تھی اور وہ عراق میں تھے

عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مَا هَذَا يَا مَغِيرَةَ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ

تو ابو مسعود انصاری ان کے پاس آئے اور کہا اے مغیرہ یہ کیا ہے کیا تم کو علم نہیں کہ

جِبْرِئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَزَلَ فَصَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جبریل اترے ہیں نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی

ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

پھر نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی پھر نماز پڑھی

ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

پھر نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی پھر نماز پڑھی

ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

پھر نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی پھر نماز پڑھی

ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

پھر نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی پھر نماز پڑھی

ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عل

یہاں بھی امام بخاری نے نماز کے اوقات مقرر کی اصل سند قرآن کریم کو ہی مقرر کیا ہے۔ اور سبقت کے معنی سبقت کے ہیں یعنی نماز کا ان وقتوں پر ادا کرنا ضروری ہے جو مقرر کر دیئے گئے ہیں۔ ان اوقات کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دے دی ہے جبریل ہی دی، جیسا آگے حدیث میں آیا ہے۔ اگر یہ وہی تھی تو قرآن کریم میں بھی موقوف نہیں اوقات نماز کا ذکر بھی نہیں آگیا ہے ایک شخص اعتراض کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونے کے محتاج ہے چاہے تھا۔ کہ نماز جس وقت انسان چاہتا ہے لیتا۔ لیکن وہ خدا جو فطرت انسان کا خلق ہے۔ اور اس نے نماز کو اسکی ہستی کا

ذیو بنایا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس عبادت کو اوقات کے ساتھ مخصوص نہ کیا جائے۔ تو لوگ اس پر قائم ہو سکتے ہیں نہ اس اصل فرض حاصل ہو سکتی ہے۔ فطرت انسانی ایسی ہی ہے۔ کہ جن کاموں کو پابندی اور ضبط کے تحت نہیں لایا جاتا۔ ان میں انسان غفلت کرتا کرتا آخر بالکل بھولتا ہے۔ اس لئے عبادت کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام سے وابستہ کیا۔ اس میں نماز بھی عظیم ہے۔ کہ انسان کو جابھے کرے۔ اپنے تمام کاموں کو وقت کی پابندی اور ایک نظام کے تحت لائے۔ آج مسلمانوں کے کام اس لئے بحال کو نہیں رہتے۔ کہ وقت کی پابندی اور نظام کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ اگر انسان نماز کے اوقات کی پابندی کرے۔ تو آہستہ آہستہ ہر کام میں وقت کی پابندی اس کی عادت میں آج بھی پھر نماز کی اصل فرض جو ہر انسان کی اصل ہے۔ خدا اس کی عبادت کا محتاج نہیں۔ بلکہ انسان خدا کی عبادت کا محتاج ہے۔ اس لئے اُسے پابند وقت کیا۔ اور ایسے اوقات کا انتخاب کیا جو اس فرض کو بہترین طریق پر پورا کرتے ہیں۔ ہر چہ کہ نماز صرف انسان کی اصلاح نہیں ہے۔ بلکہ اس کی معاشرتی اور تمدنی اصلاح کا بھی ذریعہ ہے۔ اور یہی جو کہ ان امور میں جو معاشرت اور تمدن سے تعلق رکھتے ہیں۔ نماز کے قیام اور پابندی کا ذکر آیا ہے۔ اس لئے نماز کو جماعت کہا جاتا ہے۔ اور کافر ضروری تھا۔ اور جماعت کا قیام بغیر پابندی وقت کے نہ ہو سکتا تھا۔ اس لئے بھی عین اوقات ضروری ہوئی۔ مصنف کی بد تفسیر کی روایت ہے۔ اخرا العصر شیباً یعنی پھر کو کچھ دیر سے پڑھا نظرانی کی روایت میں ہے۔ کہ عمر بن عبدالعزیز اس وقت مدینہ کے حاکم تھے۔ اور وہ ولید بن عبدالملک کی حکومت کا زمانہ تھا۔ بنو امیہ کے زمانہ میں نماز کے اوقات کا اہتمام پہلا سازا رہا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کی عادت تاجیر کی تھی۔ اتفاقاً ایک دن عصر کی نماز میں ان سے دیر ہوئی۔ اور وہ دن زبیر سے انہیں اس پر آکا گیا۔ کہ یہ وقت ہی کریم کے نماز ہونے کا وقت نہیں ہے۔ اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عادت متروک کی۔ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے امیر تھے۔ اس کا ابن اسماعیل نے معافی میں بیان کیا ہے۔ کہ جس رات نماز فرض ہوئی تھی۔ یہ اس کی صبح کا واقعہ ہے۔ عبدالرزاق سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ یہی نماز جس میں جبرائیل نے آنحضرت کو امت کرانی۔ وہ ظن کی تھی۔ اس حدیث میں بہت اختصار ہے۔ اوقات کی تفصیل نہیں دی۔ اور روایات میں پوری تفصیل ہے۔ اس وقت کے علماء کی جرأت نہایت قابل تعریف ہے۔ امیروں کو کتنے پہنچانے میں نہایت دلیر اور جری تھے۔ اور لایا قانون لومہ لائے۔ اس سے اعلیٰ سے اعلیٰ نوسے تھے۔ یہ خیال میں بھی نہیں لاتے۔ کہ امیروں کو حق کی تبلیغ کرنے میں۔ مگر ہے ہماری بیعتی ہو جائے۔ وہ اپنی عزت کو خدا اور رسول کے احکام پر قربان کرتے تھے۔ اور اس میں اپنی عزت سمجھتے تھے۔ خدا کرے۔ کہ آج بھی مجتہد علماء میں پیدا ہو جائے۔ امیروں نے بھی اپنے پاس آنے میں کوئی روک ٹوک نہیں رکھی تھی۔ اور لوگ آزادی سے ان کے پاس ہر ایک بات لے کر پہنچ جایا کرتے تھے؟

وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	پھر نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی پھر نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی
اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	صلوات اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی پھر نماز پڑھی
ثُمَّ قَالَ لِيَهْدِ الْأُمَمَتِ	پھر کہا آپ کو اسی کا حکم دیا گیا ہے
قَالَ عُمَرُ لِعُرْوَةَ أَعْلَمْتُ مَا حَدَّثَتْ بِهِ وَأَنَّ حَدِيثَ لِي هُوَ أَقَامَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ صَلَّى فَصَلَّى	میں عمر نے عروہ سے کہا جو تم بیان کرتے ہو سچ بھلا کرو کیا جسیریل ہی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے نماز کا وقت قائم کیا تھا
عُرْوَةَ كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عُرْوَةُ وَلَقَدْ	عروہ نے کہا اپنے باپ سے اس طرح بیان کرتے تھے کہ عروہ نے کہا اور
حَدَّثْتَنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظُنَّ رِيَابَ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَبِينٌ إِلَيْهِ وَالنُّهْوَ	حضرت عائشہ نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے اور صبح ابان کے حجر میں ہوتی پہلے اس کے دروازہ پر پڑھی پھر آج ریب کا قول اس کی طرف جھکنے والے اور اس کا تقویٰ اور
وَاقِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (م) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مُتَكَرِّرًا) (۲۸)	نماز کو قائم رکھو اور مشرکوں سے مت ہو جاؤ دیکھو حدیث نمبر ۳۸ کے
بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى أَقَامِ الصَّلَاةِ (م) عَنْ جَدِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (مُتَكَرِّرًا) (۵۱)	باب نماز کے قائم کرنے پر بیعت کرنا دیکھو حدیث نمبر ۵۱ کے
بَابُ الصَّلَاةِ الْكُفَّارَةِ (۲۵۲) عَنْ حَدِيثِهَا قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ مُحَمَّدٍ صَاحِبِ	باب نماز کفارہ ہے یہ حدیث سے روایت ہے کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے
اللَّهُ عَلَيْهِ قَوْلًا أَيْكُمْ يُحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَفْتِنَةِ قُلْتُ	لفظ کیا تم میں سے کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول قننے کے بار میں یاد رکھنا ہے میں نے کہا
أَنَا مَا قَالَهُ قَالَ إِنَّكَ عَلِيٌّ أَوْ عَلِيٌّ الْجَحْرِيُّ قُلْتُ فِئْتَنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَ	میں جیسا کہ آپ نے فرمایا کیا نام سپر الہیتہ دلیر ہو میں نے کہا انسان کا فتنہ اپنے اہل اور اپنے مال اور
وَالْبِرِّ وَجَارِهِ تَكَفَّرَهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالزَّكَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْكَرَامَةُ وَاللَّهُمَّ قَالِ لَيْسَ هَذَا	اپنی اولاد اور اپنے ہمسائے کے حق میں اس کا کفارہ نماز ہے اور روزہ اور صدقہ اور اچھی بات بتانا اور بری بات سے روکنا ہے حضرت عمر نے کہا
أَرِيدُ وَلَكِنَّ الْفِتْنَةَ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا يَا سُبْحَانَ اللَّهِ	میری مراد اس سے نہیں لیکن وہ فتنہ جو اس طرح موج مارتا ہے جیسے سمندر موج مارتا ہے حدیث سے کہا اسے امیر المؤمنین آپ پر اس سے کوئی خوف نہیں

حضرت عمر رضی اللہ عنہ
 عروہ نے کہا اس کا حکم دیا گیا ہے
 میں عمر نے عروہ سے کہا جو تم بیان کرتے ہو سچ بھلا کرو
 حضرت عائشہ نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے اور
 نماز کو قائم رکھو اور مشرکوں سے مت ہو جاؤ
 باب نماز کے قائم کرنے پر بیعت کرنا
 باب نماز کفارہ ہے یہ
 لفظ کیا تم میں سے کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول
 میں جیسا کہ آپ نے فرمایا کیا نام سپر
 الہیتہ دلیر ہو میں نے کہا انسان کا فتنہ اپنے اہل اور اپنے مال اور
 اپنی اولاد اور اپنے ہمسائے کے حق میں اس کا کفارہ نماز ہے اور روزہ اور صدقہ اور اچھی بات بتانا اور بری بات سے روکنا ہے حضرت عمر نے کہا
 میری مراد اس سے نہیں لیکن وہ فتنہ جو اس طرح موج مارتا ہے جیسے سمندر موج مارتا ہے حدیث سے کہا اسے امیر المؤمنین آپ پر اس سے کوئی خوف نہیں

تقویٰ نماز سے ہی حاصل ہوتے ہیں اور شرک اور کفر میں نمازی ہر فرق ہے جس شخص نے انکو ترک کرنا ہے وہ گناہگاروں سے شہادت پیدا کرتا ہے حدیث نمبر ۱۲۸
 ہیں۔ قال تقدم وقد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انما هذا الحي من بيعة ولسنا افضل اليك الاخشى الشهر الحرام فما نباشي ناخذنا عنك وقد دعيت
 اليه من وراءنا فقال: امكهم ياريد وانا كمن اديع الايمان ثم فتنه هالم شهادته ان لا اله الا الله واتى رسول الله واقام الصلوة وايضا عذرتك وان تؤدوا الخ
 خمس فما عنتم وانا كمن العدا باكو والمقتير والمقير والتقيير ۶ تو بيان نماز کو ایمان کی تقبیر واصل کر کے اس کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی ہے
 حدیث نمبر ۱۵۱ اسی انعام میں بیان کی ہے نماز پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیعت لینا اسی کی اہمیت پر دلیل ہے
 عک کفارہ نہ کرتے شق ہے جس کے حق میں یہاں نہ ہوگا اور کفارہ ہر چیز ہے جو گناہ کو ڈھانک دے۔ اور گناہ کو ڈھانکنے سے مراد اصل میں
 اور اس میں ہی نماز کفارہ ہے۔ کہ بار بار اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونے اور اس کے سامنے اپنا گناہ سے اور دل پر اس کی عظمت و جلالت کے و جب سے انسان اس کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ جیسا کہ
 قرآن کریم میں بھی ہے۔ ان الصلوة تنفي عن الغشاة والمذنب
 عیضہ اصل میں آگ میں ڈالنا ہے تاکہ آگ محو سے آگ ہو جائے اور اس کا استعمال عذاب مذکورہ بنا برادر کہ گناہات وغیرہ بھی ہوتا ہے۔ انسان کا فتنہ اپنے اہل مال وغیرہ میں ہے کہ ان کو
 وہ ہے ایک آزمائش کے تحت ہوتا ہے کہ آیا ان میں ان حقوق اور ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے یا نہیں جو اس کے فرائض اور ان حقوق کے ادا کرنے کے قابل بناتی ہے

الْمُؤْمِنِينَ أَنْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا كَبَابٌ مُتَخَلِّقٌ قَالَ أَيْكُسْرَامُ يُفْتَحُ قَالَ يَكْسُرُ قَالَ إِذَا لَأَ

آپ کے اور اس کے درمیان البتہ ایک ہند دروازہ ہے عمر نے کہا کیا وہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا حدیث نے کہا توڑا جائے گا عمر نے کہا تو

يُخْلِقُ أَبَدًا أَقْلَنَا أَكَانَ عَمْرُ بْنُ عَبْسَةَ قَالَ نَعَمْ كَمَا أَنَّ دُونَ الْغَدِ الْيَوْمَ إِذَا

وہ کبھی بھی ہند نہ ہوگا جسے کہا کیا عمر اس دروازے کو جانتے تھے کہا ہاں جیسا کہ کل کے آگے رات ہی میں نے

حَدَّثْتَهُ بِحَدِيثِ بِنْتِ لَيْسَ بِالْأَخْلَاطِ فَهَيَّاكَ أَنْ تَسْأَلَ حَدِيثًا فَأَمَرْنَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ

اسے ایسی حدیث سنائی کہ وہ غیر معتبر نہیں ہیں ہم ڈر کے کہ حدیث سے بوجھیں تو ہم نے مسروق ہی کو کہا اسی حدیث سے بوجھا

فَقَالَ الْبَابُ عَمْرُ (۳۵۳) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنْ أَمْرَأَةٍ قَبْلَهُ فَاتَى

اُسے لہذا کہ دروازہ عمر ہے حدیث ابن مسعود سے روایت ہے کہ کسی مرد نے ایک عورت کا پوسا لیا تو

الَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَا وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ الصَّلَاةِ طَرَفِي النَّهَارِ وَ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو خبر دی تو اللہ عزوجل نے آیت نازل کی کہ دونوں طرف نماز کو قائم رکھ اور

ذُكِّرَ مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

پہلی رات میں نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ

أَرَأَيْتَ هَذَا قَالَ لَجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ يَا بَ فَضَّلَ الصَّلَاةَ لَوْ قَتَلَهَا (۳۵۴) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

یہ میرے لئے ہے فلا میری تمام امت کے لئے حدیث نماز کی فضیلت اس کے وقت میں عبد اللہ سے روایت ہے

قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَيَّ قَالَ الصَّلَاةُ وَعَلَى

کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کونسا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے فرمایا نماز

وَقَتْلُهَا قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ بَرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي

اِسے وقت پر کہا پھر کونسا فرمایا پھر ماں باپ سے نفی کہا پھر کونسا فرمایا خدا کی راہ میں جہاد کرنا کہا پتے یہ باتیں مجھ سے پہلے

بِهِنَّ وَكَوَأَسْتَدْرِي لَكَ رَدِّي بَابُ الصَّلَاةِ الْحَمْسُ كَقَادَةَ الْخَطَايَا إِذَا صَلَّاهُنَّ لَوْ تَبْتَن

اور اگر میں اپنے زیادہ پوچھا تو جواب تو یوں بیان کرتے کہ باب پانچ نمازیں گناہوں کا گناہ ہیں جب ان کو اپنے وقت پر پڑھے

فِي الْجَمَاعَةِ وَغَيْرِهَا (۳۵۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جماعت سے ادا کرے اور سوائے جماعت کے ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اُسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا

يَقُولُ أَرَأَيْتُمْ كَوَاتٍ فَهَرَّ أَبَابٌ أَحَدِكُمْ يُغْتَسِلُ فِيهِ كُلُّ يَوْمٍ خَمْسًا قَاتِلٌ ذَلِكَ

دانتے تھے تھے تباہ اگر تم میں سے کسی کے دروازہ پر ہر روز اس میں ہر روز پانچ دن دن نہاتے تو تو کیا کہتا ہے اس کی

يُبْقِي مِنْ دَرْنِمٍ فَأَوْلَا يُبْقِي مَنْ دَرْنِمٍ شَيْبًا قَالَ ذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَاةِ الْحَمْسِ مُحَمَّدٌ وَاللَّهُ بِهَا

میل سے کچھ چھوڑ دیکھ انہوں نے کہا اس کی مثل کچھ نہیں چھوڑے گا فرمایا ہیں پانچ نمازیں کی مثال ہے خدا سے لگا ہوں کو مٹا دیتا ہے

الْخَطَايَا بَابٌ فِي تَضْيِيعِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا (۳۵۶) عَنْ أَبِي قَالَ مَا أَعْرَفُ شَيْئًا مِمَّا

نماز کا اس کے وقت سے ضائع کرنا اس سے روایت ہے کہ میں کوئی چیز ان میں سے نہیں جانتا

كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ الصَّلَاةُ قَالَ أَلَيْسَ صَنَعْتُمْ قَا صَنَعْتُمْ فِيهَا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہیں دیکھتا کسی نے کہا نماز کیا کیا نمازیں تم نے وہ کچھ نہیں کیا جو کیا ہے حدیث

حدیث حضرت عمر نے کہا کہ میری مراد ان معنیوں کی تھی اور اگر میں نے اسے نہیں جودن اساتین کو پیش آئی تھی جس میں ہر روز وہ سنتے ہیں جو مسلمانوں کو ہم کی حیثیت میں پیش آئے دلائے تو ضعیف ہے کہا کہ آپ کے زمانہ اور فقہ کے زمانہ میں ایک ہند دروازہ ہوا جو وہ توڑا جائے گا اور وہ حضرت عمر کا وجود ہے اس میں حضرت عمر کے شریعہ ہونے کی طرف اشارہ تھا اور ان کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں بدعتی ایسے فقہے پیدا کر دیا کی مانند صحیح ماہیہ ہے حدیث ایک شخص ایک بدی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس سے بدی سے بچنے کا علاج بتایا یعنی شہادت کی طرف زیادہ توجہ کرے اور نماز کو قائم کرے تاکہ بری کا سبب ان کو نہ رہتا ہو تاکہ نازل ہو جائے ساری امت کے لئے ہے اسلام میں گناہ کے گناہ کا وہ منہم نہیں جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے بلکہ گناہ کا گناہ ہر وقت قرآن ہی ہے کہ گناہ کے سبب ان کو روکا جائے۔ اسی کی طرف ان الحکامات

یذہبن الشیئات میں اشارہ ہے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر روز نماز پڑھنا کیونکہ پانچ دن سے انسان کے سب کا دروازہ ہر روز میں حقوق اللہ میں نماز وقت پر پڑھے کہ مقدم رکھا۔ اور حقوق العباد میں ماں باپ سے حسن سلوک کرنے کو۔ اگر خدا صیقلی رہے تو ماں باپ مجازی رب ہیں۔ پھر جہاد فی سبیل اللہ جو اسلام کی ترقی کی بنیاد ہے۔ قرآن کریم میں بھی حقوق اللہ و حقوق العباد پر مقدم رکھا ان اللہ کی اولاد کے تقاضے کے لئے ان کا ادا کرنا وبالوالدین احسانا۔ لہذا نماز وہ تمام عبادتوں نے بارشامت کا رنگ اختیار کیا۔ اور وہ اس سے متعلق واقع ہونے لگی۔ اور وہ پہلی حالت تہجدی۔ اور وہ نقشہ جو صحابہ کی آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دیکھا تھا۔ وہ باقی نمازوں کے وقت میں بھی مستحکم کی وجہ تخریب ہونے لگی جس کو صلوة کے ضائع ہونے سے تعبیر کیا ہے

جَمَاهُ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَيَّدُوا بِالصَّلَاةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَتَقَيُّوْنَ بِمِثْلِ بَابِ

علافتی اس ساریہ کو کہتے ہیں جو زوال کے بعد تڑپے۔ اور تکرول تو کی جی ہو روت اور منی و فیو کے ڈھیر کرول کہتے ہیں۔ یہ نہیں جانتا اس سے کہتا ہے۔ اس کی لذت کی کم ہوتی ہے۔ چوڑائی زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے ٹیوں کا ساریہ تو رات پھر کے بعد نہیں ہوتا۔ بلکہ کافی دیر کر کے تڑپے جس سے سونم ہوتا ہے کہ آپ نے خوب دیر کر کے نماز پڑھی بآب الاذان لاسا اور انہذا غفاری کی رعایت میں جو حق سادوی الظل النکول۔ یعنی یہاں تک ظہر کے پڑھنے میں دیر کی کہ ٹیوں کا ساریہ ان سے برابر ہو گیا اور دعا یقینی جس کی تفسیر کی گئی اور ان کی کیم میں سورہ صقل آیت ۳۸ میں ہے کہ ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ نبی کو صلعم نے نذال سے پہلے ظہر کی تازیہی ہو۔ اس نے بالافتان نزل کا وقت زوال سے شروع ہوا تھا۔ جاہری روایت میں جواب وقت المغرب میں آتی ہے یہ ہے کہ آپ ہاجر

وَقْتُ الظُّهْرِ عِنْدَ الزَّوَالِ وَقَالَ جَابِرُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصِلُ بِالْهَاجِرَةِ

ظہر کا وقت سورج ڈھلنے پہلے اور جاہری نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو نماز پڑھتے تھے

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ

انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج ڈھل گیا

فَصَلَّى الظُّهْرَ فَقَامَ عَلَى مَنبَرٍ فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ أَنَّ فِيهَا أُمُورًا عَظِيمًا ثُمَّ قَالَ

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْ فَلَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ مَا دُمْتُ

جو کوئی چاہتا ہے کہ کوئی بات پوچھے تو پوچھے جو کچھ تم پوچھو گے میں تم کو بتلا دوں گا جب تک کہ میں اس میں کچھ نہ ہوں

فِي مَقَامِي هَذَا فَكَثُرَ النَّاسُ فِي الْبُكَاءِ وَكَثُرَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بِنْتُ

تو لوگ بہت روتے اور آپ نے بہت دفعہ کہا کہ مجھ سے پوچھو تو عبد اللہ بن حذافہ سہمی اٹھا

حَدِثًا فَتَمَسَّحِي فَقَالَ مَنْ أَبِي قَالَ أَبُو لَهْدٍ حَدَّثَنِي أَنَّهُ قَالَ سَلُونِي قَبْلَ أَنْ

اور کہا میرا باپ کون ہے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے پھر کسی دفعہ فرمایا مجھ سے پوچھو

عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى رُكْنَيْهِ فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ وَأَبَاكَ وَسَلَّمَ دِينَنَا وَبِعَمَلِكَ نَسْتَأْتِي

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے رکنوں پر بیٹھ گئے اور کہا ہم خدا کے رتبہ ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد کے نبی ہونے پر راضی ہیں

فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ عَرَضْتُ عَلَى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ أِنْفَافِي عَرَضْتُ هَذَا أَلَا تَطْفَأُونَ كَالْخَيْرِ

تو آپ چپ ہو گئے پھر فرمایا جنت اور دوزخ میرے سامنے ابھی لائے گئے اس دیوار کی جانب میں سوایا اچھا اور ایسا بُرا ناپاہ میں ہے

وَالشَّرِّ (۳۶۱) عَنْ أَبِي بُرْزَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصِلُ بِالصُّبْحِ وَ

کبھی نہیں دیکھا ابو بزرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز اس وقت پڑھتے تھے کہ

أَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ وَيَقْبِرُ فِيهَا مَا بَيْنَ السُّبْحِ إِلَى الْمَآئَةِ وَيَصِلُ الظُّهْرَ إِذَا

ہم میں سے ایک اپنے ہم نشین کو پہچان لیتا اور اس میں آپ ساتھ سے لیکر سو تک (آئیں) پڑھتے اور ظہر پڑھتے جب

زَالَتِ الشَّمْسُ وَالْعَصْرُ وَأَحَدٌ نَائِدٌ هَبُّ إِلَى أَقْصَى لَمَدٍ يَبْدُو رَجْعَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَ

سورج ڈھل جاتا اور عصر کو اس وقت پڑھتے کہ ہم سے ایک مدینہ کی پرلی طرف جا کر واپس آجاتا اور صبح اچھی روشن ہوتا اور

لَسِيَّتٌ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَلَا يَأْتِي بِنَا خَيْرَ الْحِشَاءِ إِلَى ثَلَاثِ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ

اور عشاء کے لئے تین رات تک دہر کرے میں پڑھا کرے پھر کہا آدمی رات تک

میں نماز ظہر پڑھتے تھے۔ باجرہ نصف التار کا وقت ہے۔ جب اگر می خوب تیز ہوتی ہے۔ آپ نے باجرہ میں بھی نماز ظہر پڑھی ہوگی۔ لیکن سخت گرمی میں ابراہام کی حدیث تاخیر چاہتی ہے۔ کھلے بعض لوگ نے بعض سوال کرتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا۔ لوگ ترک اب کی وجہ سے بہت روئے۔ حضرت عمر نے نبی کریم صلعم کے رنج کو نہایت ادیب سے زائل کر دیا۔ اس حدیث کا وہ حصہ جس میں آپ نے لوگوں سے سوال کرنے کے لئے کہا پہلے نمبر ۸۲ اور اس کی تکرار روایت ۴۴۱ میں لکھی ہے شکت تک اس کے بعد کا حصہ نیا ہے۔ جنت اور نار کو دیکھنے کا ذکر حدیث کسوف میں بھی ہے۔ دیکھو نمبر ۷ اور یہاں بھی اور یہ دونوں الگ الگ واقعات معلوم ہوتے ہیں اور حدیث معراج میں بھی ہشت کے دیکھنے کا ذکر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کم سے کم دو دفعہ تو رسول اللہ صلعم نے اسی زمین پر ہشت و نار کو دیکھا۔ تو اگر یہ چیزیں جن میں سے ایک علیہ علیہ اور دوسری ہفتل ساتھیں سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس میں نیا میں ہی زمین پر نظر آسکتی ہیں۔ تو معراج میں جن امور کا ذکر ہے۔ وہ بھی اسی زمین پر نظر آسکتے ہیں۔ فرزند صرف یہ کہ انبیاء و صلعم کا وہ جس نے بیٹے جانتے ہیں۔ جن سے وہ یہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت صلعم کے زبردست کاشفات تھے۔ جن میں ایک وہ چیزیں جنہیں انسان کی یہ آنکھ نہیں دیکھتی دکھائی گئیں۔

کتاب الصلاة

(۳۶۲) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

انسان بن مالک سے روایت ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھتے تو

بِالظَّهْرِ تَمَجِّدُنَا عَلَى نِيَابِنَا إِتْقَاءَ الْحَرَامِ بَابُ تَأْخِيرِ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ (۳۶۳) عَنْ

پیش سے پہلو کے لئے اپنے کپڑوں پر سجدہ کرنے بَاب ظہر کو عصر تک ہیچ کرنا

ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ

ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں پڑھیں سات (رکعتیں) اور آٹھ ظہر اور عصر

وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فَقَالَ يُؤْبَلُ كَعَلَّةٍ فِي كَيْدَةِ مُطِيرَةٍ قَالَ عَسَى بَابُ وَقْتِ الْعَصْرِ

اور مغرب اور عشاء تو ایوب نے کہا شاید کہ یہ بارش کی رات میں ہوگا جاہلے کہا شاید بَاب عصر کا وقت

(۱۵۳) عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكْرَمًا ۳۵۱) - (م ۱۵۲) عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكْرَمًا ۳۵۱)

دیکھو حدیث نمبر ۳۵۱ دیکھو حدیث نمبر ۳۵۱

(۱۵۵) عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكْرَمًا ۳۵۱) - (م ۱۵۶) عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ (مُتَكْرَمًا ۳۶۱) ۳۶۲

دیکھو حدیث نمبر ۳۵۱ دیکھو حدیث نمبر ۳۶۱

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نَصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ نَخْرُجُ إِلَى ابْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فِيحْتَمِلُونَ

انسان بن مالک سے روایت ہے کہ ہم عصر پڑھتے پھر آدمی بنی عمرو بن عوف کی طرف نکلتے تو ان کو

يُصَلُّونَ الْعَصْرَ (۳۶۵) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ يَقُولُ صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الظُّهْرِ ثُمَّ

عصر پڑھتے ہوئے پانا ابوامامہ سے روایت ہے کہ ہم عمر بن عبد العزیز کے ساتھ ظہر پڑھی پھر

خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَقُلْتُ يَا عَمْرُ

نکلے یہاں تک انسان بن مالک کے پاس گئے تو ہم نے ان کو عصر پڑھتے ہوئے پایا تو میں نے کہا اسے میرے چچا

مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّيْتَ قَالَ الْعَصْرُ وَهَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

یہ نماز کوئی ہے جو تو نے پڑھی کہا عصر اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي كُنَّا نَصَلِّي مَعَهُ (م ۱۵۷) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (مُتَكْرَمًا ۳۶۶)

جو ہم آپ کے ساتھ پڑھتے تھے دیکھو حدیث نمبر ۳۶۶

(۳۶۶) - (۳۶۶) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

انسان بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيْثُ قَدْ هَبَ الدَّاهِبُ إِلَى

عصر پڑھتے اور سورج اوچا روشن ہوتا پس چلنے والا عوالی کو چلا جاتا

الْعَوَالِي فَيَأْتِيهِمُ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَبَعْضُ الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى

تو وہ ان کے پاس آتا اور سورج بلند ہوتا اور بعض عوالی مدینے سے

اس سے معلوم ہوتا کہ فقیم کے لئے بھی نماز کا بیج کرنا جائز ہے اور بارش کی رات عصر اختلال پر یقینی نہیں مسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ مدینہ کی رات سے تھی نہ خوف تھا اور احادیث سے بھی ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر سفر اور بارش کے مجمع میں الصلوٰتین کیا ہے یعنی ظہر اور عصر میں اور مغرب اور عشاء میں مسافر اور بیمار کے لڑ تو یہ حال ہی جائز ہو یہاں جس مجمع کا ذکر ہے وہ جمع ناخبر سے یعنی پہلی نماز کے وقت کو میان تک پیچھے کر دینا کہ دوسری کا وقت آچھنے سے بیچ کرنا بعض امت کی سہولت کیلئے تھا یہاں ابن عباس سے کہا ہے ان سے عبد اللہ بن مسعود سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھا تو کسی نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا تاکہ میری امت کو تکلیف نہ ہو

میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ۱۵۷ اور ۱۵۸ میں خفیف تیز لفظی سے لایا گیا ہے آخری روایت میں اور ایسا ہی اس سے اگلی روایت میں آخر پر یہ لفظ ہے اور لفظ اللغز میں مجھوت یا بدن یعنی سایہ من کی دیوار پر نظر نہیں ہوا تھا جس کا مطلب وہی ہے کہ اچھی اندر سوپ ہوئی تھی

۳۶۷ اس حدیث کے شروع میں یہ الفاظ نامہ ہیں دخلت انا وابی علی ابی بؤرة الاسلامی فقال لہ ابی کہیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصل المکثوبہ فقال کان يصلى المحجر التي تدعونها الادلحين تدحض الشمس اور عشاء کے ذکر میں ہوگا لیکن ان دونوں میں العشاء الی تدعونها العتمة وکان بکرة النوع قلها والحديث بعدا اور غوغو کا ذکر سے پیچھے تو ایسا ہی الفاظ میں ہوگا

۱۵۰
 حدیث کے انداز کی آبادی کچھ بھڑکی طرف پر چھیندی ہے اسے دعائی کہتے ہیں۔ اور کچھ تمامہ کی طرف سے جو بیچے کی جانب پر اسے سائلہ کہتے ہیں۔ قریب سے قریب کے دعائی کا فاصلہ حدیث سے دو میل اور بعد سے بعد کا فاصلہ چھ میل اور فاضلی میں اور ابن عبد البر کی تحقیق میں آٹھ میل ہے۔ حدیث شریفہ و فروخت میں یہ سمت مصر و قین کا وقت ہوتا ہے تو جس اہل وہاں کیلئے نماز کو چھوڑنا ہے گو یاد ہی اہل وہاں لوگ کیا یا تو کھ جس کی تفسیر کی ہے سورہ محمد میں نما ہے۔ حدیث حدیث سے ہواں پر ہوا بھی لگی ہے۔ کہ اس گناہ سے وہ اثر جو اور نیکیوں سے نفس پر تزکیہ کے رنگ میں ہوتا ہے مٹ جاتا ہے یعنی جس طرح بعض حسات کا اثر غالب ہو کر گناہ کے اثر کو زائل کر دیتا ہے ویسا ہی بعض گناہوں کا اثر غالب ہو کر ایک عمل کے اثر کو زائل کر دیتا ہے۔ اور یہ مراد بھی لگتی ہے کہ جو کام نماز کو چھوڑ کر اس نے کیا کر وہ بے برکت ہو جاتا ہے اور وہ اس کی نجات کے کسی کام میں نہیں آئے گا۔ اور یہی حدیث کے ساتھ ہی منہ منوعان ہیں اور دونوں مطلب ایک ہے۔ حدیث اللہ تعالیٰ کی مثال ہاؤس سے نہیں دی لیس کشتہ مشیٰ بکد کجیے کی مثال دی ہو اور اس حدیث کی کر روایت (۱۶۴) صحیح گویا انصافوں فرمایا جس کے منہ ہیں از وہاں نہیں کرتے اور انصافوں فرمایا جس کے منہ ہیں شبہ نہیں کرتے اور یہ دوسرا لفظ ہی ہاں زیادہ صحت مند معلوم ہوتا ہے۔ خدا کو بھی تم سے جو ان محسوس دیکھا جاتا ہے اور نہ ان کو کھنڈ میں کسی روشنی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو کچھ سکون بہ روشنی اور بینا ہوا جس سے اللہ تعالیٰ نظر آئے گا تزکیہ نفس کی روشنی ہے جس قدر وہ روشنی صاف اور زیادہ ہوگی اتنا ہی خدا بھی صاف اور روشن نظر آئیگا۔ حدیث آئینوں میں ان کی صفائی کے مراتب کی وجہ سے ہر آئینہ میں مختلف روشنی کے ساتھ منکس ہوتا ہے۔ اور آئینوں میں آئینے کے انعکاس میں کوئی اثر محسوس نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہر شخص تجزیہ صحت اپنی روشنی اور صفائی نفس سے خدا کو کچھ لیکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو ان کو کھنڈ سے دیکھا جاتا تو کافی بھی ہو گا دیکھ لیتے۔ مگر اسے اندرونی روشنی سے دیکھا جاتا تو اسے صرف مومن دیکھتے ہیں۔ قبل غروب الشمس عصر کی نماز اور جس طرح قبل طلوع الشمس فجر کی نماز اور ظہر کی نماز اور الصلوٰۃ قبل لوک الشمس سے ثابت ہوا کہ عشا کی نماز میں بعد صلاۃ العشاء سے پورے سبقت نماز کا ذکر قرآن شریف میں آگیا ہے۔ حدیث میں ملاکہ میں جو انسان کی حسات اور سمیات کہتے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں مختلف جگہ آیا ہے لہ مصعبت بن یمن بن عبد بن خلفہ (رحمہ) ما یلفظ من قول الادیہ رقیب عقید رقی، وان علیہم کتفظ بن کلمہ ما کاتین یلعون ما قلعون راظظان ان ملاکہ و معتقت کہتے ہیں اسلئے کہ وہ انسان کے اعمال کا تقاب کرتے ہیں یعنی انہیں محفوظ رکھتے ہیں اور اسلئے بھی کہ وہ اعمال کی حفاظت کیلئے ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں جیسا کہ حدیث کے لفظ یتعاقبون سے ظاہر ہے۔

أَرْبَعًا أَمْيَالًا أَوْ خَوْفَةً بَابُ إِشْمٍ مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ (۳۶۷) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
 ہاڑیہل یا اس کے قریب ہیں حدیث اس شخص کا گناہ جس سے عصر کی نماز فوت ہو جائے
 ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 فَكَانَتْهَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَتْرُكُهُ وَتَرَتْ الرَّجُلُ إِذَا
 تو گویا اس کا اہل اور مال لوٹ گیا
 ابوعبداللہ نے بتایا کہ اگر کسی شخص کو عصر کی نماز میں کما، وتترت الرجل جب
 قَتَلَتْ لَهَا قَتِيلًا أَوْ أَخَذَتْ مَالَهُ بَابُ إِشْمٍ مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ (۳۶۸) عَنْ
 تو اس کا آدمی مار ڈالے یا تو اس کا مال لے لے
 باب اس شخص کا گناہ جو عصر کو چھوڑ دے
 أَبُو الْمُنَجِّجِ قَالَ كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي عَزْوَةٍ فِي يَوْمٍ ذِي عَيْمٍ فَقَالَ بَكْرٌ وَالصَّلَاةُ
 ابو المنجج سے روایت ہے کہ ہم ایک جنگ میں بریدہ کے ساتھ باہل والے دن میں تھے
 تو اس نے کہا عصر کی نماز سوچے پڑھو
 الْعَصْرُ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ
 کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 جو شخص عصر کو چھوڑ دے تو
 حَبِطَ عَمَلُهُ بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْعَصْرِ (۳۶۹) عَنْ جَبْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
 اس کا عمل برباد ہو گیا حدیث باب نماز عصر کی فضیلت
 جبر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ
 كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنظَرْنَا إِلَى الْقَهْرِ لَيْلَةً فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ
 ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے
 تو آپ نے ایک رات چاند کی طرف نظر کر کے فرمایا کہ بیشک تم اپنے رب کو دیکھو گے
 كَمَا تَرُونَ هَذَا الْقَهْرَ لَا تَضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تَغْلِبُوا عَلَى صَلَاةٍ بَدَلْ
 جیسا کہ تم اس چاند کو دیکھتے ہو تم اس کے دیکھنے میں ایک دوسرے کے مزاج نہیں ہوتے
 اگر تم سے ہو سکے کہ طلع آفتاب سے پہلے
 طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَرَأْتُمْ بِمَجْرِبَاتِكُمْ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ
 اور اس کے غروب ہونے سے پہلے کی نماز میں مغلوب نہ ہو جاؤ تو نماز پڑھو پھر آپ نے بڑا اور طلوع آفتاب سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے
 قَبْلَ الْغُرُوبِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ فَعَلُوا لَا تَقْوُونَ شُكْرَهُ (۳۷۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 اپنے رب کی حمد کیا ہے تسبیح کرنا تمہیں نے کہا انطوا کے منہ ہیں تم سے ہرگز فوت نہ ہو جائے یہ
 ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کچھ فرشتے رات کو اور کچھ فرشتے دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہتے ہیں حدیث اور

۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰

(تعبیر زمانہ اگر نشہ) خود راہ حق سے پھرتے اسلئے اس کا کہ مسلمان کے سپرد کیا گیا کہ وہ دنیا میں نیکی پھیلائیں اور وہ اس حق کو ادا کریں اسلئے ان کے بعد کسی دوسری قوم کے لائے کی ضرورت نہیں۔ اور اس لحاظ سے کہ اسلام تو جملہ انبیاء کا مذہب تھا۔ تو گو امت محمدیہ شرع سے ہی ماہیت آئی شامت اک کام نہیں کرتی رہی لیکن چونکہ جب یہ کام ان کے سپرد ہوا تو انہوں نے اسکو آخر وقت تک نیا پاسلئے وہ گویا سارے اہل کی مستحق ہے اور حدیث کا مشنا یہ ہے کہ کام کے ایک حصے سے بھی بشرہ طیکہ اسے تکمیل تک پہنچا دیا جائے کل کا ثواب مل جاتا ہے اور یہی ہے کہ نام بخاری ہے اس باب میں لائے پر لینے ایک رکعت یا کہ نماز کو پورا کر لے تو گویا کل کا ثواب لگیا ہے

علم غرض یہ بتانا ہے کہ مغرب جلدی پڑھ لینے تھے اس قدر دیر کرتے تھے کہ نماز سے فرحت پانچھیلا ہو گیا ہو۔ کیونکہ تیسرے حصے سے پہلے پڑھنا ہے۔ علم حجاج

(م ۱۵۸) عَنْ أَبِي مُوسَى (مُتَكَرِّرًا ۳۷۲) بَابُ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَقَالَ عَطَاءٌ يَجْمَعُ

دیکھو صحیفہ نمبر ۳۷۲ باب مغرب کا وقت اور عطاء اس سے

الْمُرِيضِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (۳۷۳) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِجٍ يَقُولُ كُنَّا نَصَلِّي الْمَغْرِبَ

کہ بیمار مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر لے رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ

مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْصُرُنَّ أَحَدَنَا وَإِنَّهُ لَيَبْصُرُ مَوَاقِعَ بَيْتِهِ (۳۷۴)

تو ہم میں سے ایک لوٹتا اور اپنے تیرے کرنے کی جگہ کو دیکھتا ہے مغرب پڑھتے

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَدِمَ الْحَجَّاجُ فَسَأَلَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

محمد بن عمرو بن حسن بن علی سے روایت ہے کہ حجاج آیا تو پوچھے جابر بن عبد اللہ سے پوچھا

فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَجْرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ

تو اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر دوپہر کو پڑھتے اور عصر اس وقت پڑھتے کہ سورج

تَقِيَّتُهُ وَالْمَغْرِبُ إِذَا وَجِبَتْ وَالْعِشَاءُ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا إِذَا رَأَوْهُمْ أَجْمَعُونَ عَجَلٌ وَإِذَا

عاف ہونا اور مغرب پڑھتے جب غروب ہو جاتا اور عشاء کبھی (جلدی) اور کبھی (دیر سے) جب ان کو دیکھنے کا جمع ہونے تو علیہ کی لئے اور جب

رَأَوْهُمْ أَبْطَأُ وَأَخْرَجُوا الصُّبْحَ كَانُوا وَأَوْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا

ان کو دیکھنے کہ دیر لگادی تو دیر کر لیتے اور صحابہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے

بِخَيْسٍ (۳۷۵) عَنْ سَلَمَةَ قَالَ كُنَّا نَصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ

ہم مغرب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت پڑھتے

إِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (م ۱۵۹) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مُتَكَرِّرًا ۳۷۶) بَابُ مَنْ كَرِهَ

کہ سورج پر سے دیکھ چھپ جاتا دیکھو حدیث نمبر ۳۷۶ باب جس نے

أَنْ يُقَالَ لِلْمَغْرِبِ لِعِشَاءٍ (۳۷۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

مغرب کو عشاء کہنا ناپسند کیا ہے عبد اللہ مزنئی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَغْلِبُتُكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى صَلَاتِكُمُ الْمَغْرِبِ قَالَ وَتَقُولُ

فرمایا کہ دیہاتی لوگ تم پر تمہاری مغرب کی نماز کے نام میں غالب نہ آئیں کہا اور

الْأَعْرَابُ هِيَ لِعِشَاءٍ بَابُ ذِكْرِ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ وَمَنْ رَأَاهُ وَسَعَا وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ

دیہاتی کہتے ہیں کہ یہ عشاء ہے علم باب عشاء اور عتمة کا ذکر اور جس نے اسے وسیع سمجھا ہے اور ابو ہریرہ نے

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَقُلُ الصَّلَاةُ عَلَى مَنْ تَفِيئُ الْعِشَاءُ وَالْحَجْرُ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ اگر کسی نے ہماری نماز منافیوں پر

وَقَالَ وَيَعْلَمُونَ مَا فِي لَعْنَةِ وَالْفَجْرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَالْأَخْيَارُ أَنْ يَقُولَ الْعِشَاءُ

اور کہا کاش جانتے جو عشاء اور فجر میں لڑاؤ ہے اور ابو عبد اللہ نے کہا اور بہتر ہے عشاء کے

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَيُذَكَّرُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا نَتَأَوَّلُ لِنَبِيِّ

اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بعد نماز عشاء کے اور ابو موسیٰ سے بیان کیا جاتا ہے کہا ہم لوہت نبوت نبی کریم

مدینے میں عبد اللہ بن زبیر کو قتل کرنے کے بعد عبد الملک بن مروان کی طرف سے حجاج کا امیر مقرر کیا تھا۔ ان کی لادرت کے زمانہ میں نماز کے اوقات میں پھر دیر ہونے لگی۔

علم یہاں لحاظ میں صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبھا جمیعا وثمانیا جمیعا۔ جمیعا کا لفظ نمبر ۳۷۶ کی تشریح کرتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے پیغمبر صفر اور ہاشم کے

ظہر اور عصر مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھتے تھے جمیع بین الصلواتین کیا۔ اور نمبر ۳۷۶ میں یہ لفظ ہے جو یہاں نہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر تھا۔ علم اس کا بہتر یہ معلوم ہوا

ہے کہ عشاء کے نام سے گوئی مغرب میں یا اخیر کے درمیں پڑھا شروع کر لیں گے۔ نماز عشاء کا لفظ بھی کہتے تھے۔ لیکن عشاء کا لفظ ان کی ہم میں اختیار کیا گیا اور اسلئے اسکو ترجیح سے صحابہ

لفظ عتمة یا عتمة بھی اختیار کیا ہے۔

کتب عوائق الصلوة

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَأَعْتَمَهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَ
 صَلَّاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ عَمْرِو بْنِ الْعَدِيِّ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ
 عَائِشَةُ أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِشَاءِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ عَائِشَةَ
 حضرت عائشہ نے کہا کہ نبی کریم صلی علیہ وسلم نے عشا کو دیر سے پڑھا اور بعض نے حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہوئے کہا
 أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِتَمَةِ وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
 کہ نبی کریم صلی علیہ وسلم نے عتمة پڑھی اور جابر نے کہا کہ نبی کریم صلی علیہ وسلم
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ وَقَالَ أَبُو بَرزَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَخِّرُ
 عشا کی نماز پڑھتے تھے اور ابو ہریرہ نے کہا کہ نبی کریم صلی علیہ وسلم عشا میں دیر کرتے تھے
 الْعِشَاءَ وَقَالَ انسُ أَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَقَالَ
 اور انس نے کہا کہ نبی کریم صلی علیہ وسلم نے پچھلی عشا کو دیر سے پڑھا اور
 ابْنُ عَمْرٍو وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو بَرزَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ
 ابن عمر اور ابویوب اور ابن عباس نے کہا کہ نبی کریم صلی علیہ وسلم مغرب
 وَالْعِشَاءَ (م ۱۶۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (مُتَكَرِّرٌ - ۱۰۱) بَابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ
 اور عشا کی نماز پڑھی دیکھو حدیث نمبر ۱۱۱ ۱۱۱ بَابُ عِشَاءِ وَاقْتِ جِئْتُمْ بِهَا جَمْعٌ
 النَّاسِ أَوْ تَأَخَّرُوا (م ۱۶۱) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو (مُتَكَرِّرٌ - ۳۷۴) بَابُ فَضْلِ
 یا دیر کریں دیکھو حدیث نمبر ۳۷۴ ۳۷۴ بَابُ عِشَاءِ
 الْعِشَاءِ (م ۳۷۷) عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 فضیلت عودہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے اسے خبر دی کہا کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُوا لِإِسْلَامٍ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى
 ایک رات عشا دیر سے پڑھی اور یہ اسلام کے پھیلنے سے پہلے تھا تو آپ نہ نکلے یہاں تک کہ
 قَالَ عُمَرُو بْنُ الْكَأْبِ وَعُمَرُو بْنُ الْعَدِيِّ وَالصَّبِيَّانُ فَخَرَجَ فَقَالَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ مَا يَنْظُرُهَا أَحَدٌ
 عمر نے کہا کہ عمر بن العادری اور بچے سو گئے پس نکلے اور مسجد والوں سے فرمایا کہ اس نماز کی انتظار
 مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرِكُمْ (م ۳۷۸) عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأَصْحَابِي
 زمین والوں میں سے سوائے تمہارے کوئی نہیں کرنا ابوموسیٰ سے روایت ہے کہ میں اور میرے وہ ساتھی
 الَّذِينَ قَدِمُوا مَعِيَ فِي السَّفِينَةِ زُورًا فِي بَقِيعِ بَطْحَانَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 جو میرے ساتھ کشتی میں تھے بطحان کے میدان میں اترے تھے اور نبی کریم صلی علیہ وسلم
 وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَكَانَ يَتَنَاوَبُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ
 مدینہ میں تھے تو نبی کریم صلی علیہ وسلم کے پاس نماز عشا کے وقت
 كُلِّ لَيْلَةٍ نَفَرٌ مِنْهُمْ فَوَاقَفْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَصْحَابِي وَكَانَ
 ہر رات چند آدمی ان میں سے باری باری آتے پس نبی کریم صلی علیہ وسلم سے
 بَعْضُ لَشْغَلٍ فِي بَعْضِ مَرَّةٍ فَأَعْتَمَ بِالصَّلَاةِ حَتَّى ابْهَارَ اللَّيْلِ ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ
 اس وقت سے کہ آپ اپنے کسی کام میں مشغول تھے تو نماز میں آپ نے دیر کی یہاں تک کہ رات آدھی ہو گئی پھر نبی کریم صلی علیہ وسلم نکلے
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ فَمَا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَ عَلَى
 تو ان کو نماز پڑھانی اور جب اپنی نماز ختم کی تو جو آپ کے پاس حاضر تھے

۱۔ اس حدیث کے شروع کے الفاظ ہیں صلی لنا رسول اللہ صلی علیہ وسلم لیلۃ صلوة العشاء دہلی الی یدعو الناس العتمة اس کے بعد حدیث نمبر ۱۱۱ کے الفاظ ہیں یعنی آپ نے فرمایا کہ رات کی رات میں تک ان لوگوں میں سے کوئی زندہ نہ ہوگا جو آج نہیں ہیں ممکن ہے زمین سے مراد ملک عرب ہو یا سب دولت زمین اور یہ علم نبی کریم صلی علیہ وسلم کو دیا گیا ہو اور یہ نبی کریم صلی علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کا واقعہ ہے اس سے معلوم ہوتا کہ جب زیادہ دیر نہ ہوتی ہو تو جماعت میں کثرت جماعت کا لحاظ ہونا چاہیے اور اگر کثرت جماعت کی انتظار میں جماعت فوت مقررہ سے تصویب ہو گئی ہے چھوڑ جائے تو کوئی ہرج نہیں بلکہ بہتر ہے +

۲۔ ۱۱۱۔ ۳۷۴۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔

رَسُولِكُمْ ابْتِشَرُوا انَّ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ مِصْبِي هَذِهِ

ان سے فرمایا تمہارے ربہو تمہارے لیے خوشخبری کہ یہ تم پر خدا کی نعمت ہے جو کہ تمہارے سوا کسی کوئی لوگوں میں سے اس وقت

السَّاعَةِ غَيْرِكُمْ أَوْ قَالَ مَا صَلَّيْ هَذِهِ السَّاعَةَ أَحَدٌ غَيْرِكُمْ لَا يَدْرِي أَيُّ الْكَلِمَتَيْنِ

نماز نہیں پڑھتا یا کہا کہ کسی نے سوائے تمہارے اس وقت نماز نہیں پڑھی نہیں پتا کہ ان دو جملوں سے کون

قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى فَرَجَعْنَا فَرَحِي بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فرمایا ابو موسیٰ نے کہا تو ہم اس کے ساتھ خوش ہو کر لوٹے جو بتنے رسول اللہ صلعم سے سنا ملا

بَاب مَا يَكْرَهُ مِنَ التَّوَمِّ قَبْلَ الْعِشَاءِ (م ۱۶۲) عَنْ أَبِي بَرْزَةَ (مُتَكَوِّر - ۳۶۱)

باب نماز عشا سے پہلے سونا نا پسندیدہ ہے دیکھو حدیث نمبر ۳۶۱ ع ۱

بَاب التَّوَمِّ قَبْلَ الْعِشَاءِ لِمَنْ غَلِبَ (م ۱۶۳) عَنْ عُرْوَةَ (مُتَكَوِّر - ۳۶۶) - (۳۶۹)

باب عشا سے پہلے سوجانا جس پر نیند غالب آجائے دیکھو حدیث نمبر ۳۶۶ ع ۱

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخْرَجَهَا

عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم ایک رات نماز عشا سے رکے رہے

حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا

یہاں تک کہ ہم مسجد میں سو گئے پھر ہم جاگے پھر ہم سو گئے پھر ہم جاگے پھر نبی کریم صلعم ہماری طرف نکلے

الَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ أَهْلِ الْأَرْضِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ

پھر فرمایا کہ تمہارے سوا کسی زمین والوں میں سے نماز کی انتظار نہیں کرتا

غَيْرِكُمْ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَبَالِي أَقَدَّمَهَا أَمْ أَخَّرَهَا إِذَا كَانَ لَيْحَتِي أَنْ يَغْلِبَهُ

اور ابن عمر ہوا نہیں کرتے تھے کہ اسے پہلے پڑھیں یا دیر سے پڑھیں جب خوف نہ ہو تا کہ ان پر نیند لا اس قدر غالب آجائے

التَّوَمُّ عَزْوَقْتَهَا وَقَدْ كَانَ يَرُقُدُ قَبْلَهَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ فَقَالَ سَمِعْتُ

کہ نماز کے وقت سے روک نے اور نماز سے پہلے سوجایا کرتے ابن جریر نے کہا میں نے عطائے سے کہا تو اسے کہا کہ

ابن عَبَّاسٍ يَقُولُ أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ حَتَّى قَدَّ

ابن عباس سے میں نے سنا فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلعم نے ایک رات عشا کی نماز میں دیر کی یہاں تک کہ

النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا أَوْ رَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ الصَّلَاةُ

لوگ سو گئے اور جاگے اور سو گئے اور جاگے تو عمر بن خطاب اٹھے اور الصلوٰۃ پکارا

قَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَخَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ

عطا نے کہا کہ ابن عباس نے کہا پس نبی اللہ صلعم باہر آئے گو یا کہ میں آپ کی طرف اس وقت دیکھتا ہوں

دیر کی کہ آپ لشکر کی تیاری میں مشغول تھے + ع ۱ حدیث نمبر ۳۶۱ میں وہ لفظ نہیں جو یہاں کر رہا روایت میں ہے۔ مگر اس حدیث کی گور روایت م ۱۵۶ میں یہ لفظ آئے ہیں کانت بكرة النور قبل العشاء والحدیث بعدا اور اسبقدر لفظ الام بخاری یہاں لائے ہیں۔ یعنی آنحضرت صلعم نماز عشا سے پہلے سونا نا پسند کرتے تھے۔ اور نماز عشا کے بعد یا نہیں کرنا پسند فرماتے تھے۔ سوائے کا نقصان ظاہر ہے کہ پھر نیند غالب آجائے تو نماز جاتی رہی۔ اور باتیں کرنے میں یہ نقصان ہے کہ پھر تہجد میں یا صبح کے وقت اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کل بہت لوگ غیر قوموں کی نقل کرتے ہوئے رات دینک جاگتے رہتے ہیں اور اپنے وقت کو فضول باتوں میں ضائع کرتے ہیں۔ اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں۔ اگر رات کو فضول باتوں میں وقت ضائع نہ کرے تو صبح سویرے اٹھ کر نماز اور قرآن شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور سیر و تفریح کے لئے بھی وقت نکال سکتے ہیں۔ جو صحت جہانی کے لئے بھی مفید ہے۔ مگر روایت کے آخر میں یہ الفاظ ہیں ولا فصلی یومئذ الا بالمدینة قال وکانوا یصلون فیما بین ان یغیب الشفق الی ثلث اللیل الا دل یعنی آزادی کے ساتھ اس وقت صرف مدینہ میں نماز پڑھی جاتی تھی + نمبر ۳۶۶ میں گزر چکا ہے کہ عمر بن ابی بنیہ کے غلبہ کی وجہ سے نماز عشا پڑھنے سے پہلے سو گئے تھے یہ تو امتیاز کی بات نہیں اس کا کوئی پڑج نہیں۔ اور وہ مسجد میں ہی تھے۔ اور بعد میں نماز کے واسطے بیدار ہو گئے تھے۔ اپنے اختیار سے بغیر عذر کے نماز عشا سے پہلے سوجانا منع ہے۔ کیوں کہ اس میں نماز کے فوت ہو جانے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے +

ع ۱ حدیث نمبر ۳۶۱ میں وہ لفظ نہیں جو یہاں کر رہا روایت میں ہے۔ مگر اس حدیث کی گور روایت م ۱۵۶ میں یہ لفظ آئے ہیں کانت بكرة النور قبل العشاء والحدیث بعدا اور اسبقدر لفظ الام بخاری یہاں لائے ہیں۔ یعنی آنحضرت صلعم نماز عشا سے پہلے سونا نا پسند کرتے تھے۔ اور نماز عشا کے بعد یا نہیں کرنا پسند فرماتے تھے۔ سوائے کا نقصان ظاہر ہے کہ پھر نیند غالب آجائے تو نماز جاتی رہی۔ اور باتیں کرنے میں یہ نقصان ہے کہ پھر تہجد میں یا صبح کے وقت اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کل بہت لوگ غیر قوموں کی نقل کرتے ہوئے رات دینک جاگتے رہتے ہیں اور اپنے وقت کو فضول باتوں میں ضائع کرتے ہیں۔ اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں۔ اگر رات کو فضول باتوں میں وقت ضائع نہ کرے تو صبح سویرے اٹھ کر نماز اور قرآن شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور سیر و تفریح کے لئے بھی وقت نکال سکتے ہیں۔ جو صحت جہانی کے لئے بھی مفید ہے۔ مگر روایت کے آخر میں یہ الفاظ ہیں ولا فصلی یومئذ الا بالمدینة قال وکانوا یصلون فیما بین ان یغیب الشفق الی ثلث اللیل الا دل یعنی آزادی کے ساتھ اس وقت صرف مدینہ میں نماز پڑھی جاتی تھی + نمبر ۳۶۶ میں گزر چکا ہے کہ عمر بن ابی بنیہ کے غلبہ کی وجہ سے نماز عشا پڑھنے سے پہلے سو گئے تھے یہ تو امتیاز کی بات نہیں اس کا کوئی پڑج نہیں۔ اور وہ مسجد میں ہی تھے۔ اور بعد میں نماز کے واسطے بیدار ہو گئے تھے۔ اپنے اختیار سے بغیر عذر کے نماز عشا سے پہلے سوجانا منع ہے۔ کیوں کہ اس میں نماز کے فوت ہو جانے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے +

الآن يقطر رأسه ماءً واضعاً يده على رأسه فقال لو لا أن أشق على امتي
کہ آچھ سے پانی ٹپک رہا ہے اپنے سر پہ اپنا ہاتھ رکھے ہوئے

لامرئهم ان يصلوها هكذا فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه
اور میں ان کو حکم دیتا کہ اسی طرح یہ نماز پڑھیں پھر میں ان جنج سے عطا سے تحقیق کرنا چاہا کہ نبی کریم صلعم نے اپنے سر پہ اپنا ہاتھ اس طرح رکھا

وسلم على رأسه يده كما أنباه ابن عباس فبدا لي عطاء بين أصابعه شيئاً
جیسا کہ اسے ابن عباس نے خبر دی تو عطا نے میرے لئے اپنی انگلیوں میں ٹھوڑی سی

من تبيديت ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم ضمها بمبرها كذلك
پھر اپنی انگلیوں کے کناروں کو سر کے کنارے پر رکھا پھر انہیں ملایا انہیں سیطرح سر پر پھیرتا تھا

على الرأس حتى مسست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدغ
یہاں تک کہ اس کا انگوٹھا کان کے کنارے سے جو چہرے سے ملتا ہے

ناحية الحجة لا يعبر ولا يبطش إلا كذلك وقال لو لا أن أشق على امتي
ڈاڑھی کے کنارے پر لگا نہ دیر کرتے اور نہ جلدی کرنے کے سیطرح اور فرمایا اگر خوف نہ ہوتا کہ میں اپنی امت پر مشقت ڈالوں

لامرئهم ان يصلوا هكذا باب وقت العشاء الى نصف الليل وقال ابو برة
تو البتہ ان کو حکم دیتا کہ اسی طرح نماز پڑھیں باب عشاء کا وقت آدمی رات تک ہے اور ابو برة نے کہا

كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها (۳۸۰) عن انس قال اخبر
کہ نبی کریم صلعم اس کے دیر سے پڑھنے کو پسند کرتے تھے انس سے روایت ہے

النبي صلى الله عليه وسلم صلوة العشاء الى نصف الليل ثم صلى ثم قال
کہ نبی کریم صلعم نے عشاء کی نماز میں آدمی رات تک دیر کی پھر نماز پڑھی پھر فرمایا

قد صلى الناس وزاموا اما انكم في صلوة ما انظروا مواها (وفي رواية) سمع
لوگوں نے نماز پڑھی اور سو گئے خبردار ہو کہ تم نماز میں ہوتے ہو جب تک اسکی انتظار کرتے ہو (اور ایک روایت میں ہے)

انسا كما اني انظر الى وبيص خاتمه كيلتين باب فضل صلوة الفجر
انس سے سنا کہ گو یا کہ میں آپ کی انگوٹھی کی چمک کی طرف جو اس رات میں بھی دیکھتا ہوں باب نماز فجر کی فضیلت اور

الحديث (۱۶۴) عن قيس (متكرر) (۳۶۹) - (۳۸۱) عن أبي موسى ان رسول
حدیث ہے (دیکھو حدیث نمبر ۳۶۹) ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ رسول

الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الوردين دخل الجنة باب وقت
اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دو ٹھنڈی نمازیں پڑھیں جنت میں داخل ہوگا باب

الفجر (۱۶۵) عن انس (متكرر) (۳۸۲) - (۳۸۲) عن انس بن مالك ان نبي الله صلى الله عليه
اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دو ٹھنڈی نمازیں پڑھیں جنت میں داخل ہوگا باب

فجر وقت - دیکھو حدیث نمبر ۳۸۲ انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلعم

کتاب عاقبت الصلوة
کلمہ اس سے معلوم
ہوگا کہ آدمی رات
کے بعد نماز شکر و توبہ
چاہئے تاکہ سوئے
کا وقت بھی انسان
کو مل جائے۔ اور آدمی
رات کے بعد نماز تہجد
کا وقت ہے وہ کلمہ
اس باب میں لفظ
والحدیث میں آیا ہے
داخل ہوگا جو اور باب
اصل میں والحدیث
تہا۔ صرف ایک ہی
نسخہ میں یہ لفظ
ہے۔ حدیث میں
روایت جبریل بن عبد
کی نمبر ۳۶۹ پر لکھی
ہے۔ نماز کو اللہ تعالیٰ
کی رحمت کے ساتھ
اکٹھا کرنے کا مشورہ
معلوم ہوتا ہے کہ نماز
سے ہی انسان کے دل
وہ کیفیت پیدا ہوتی
ہے۔ جس سے آخرت
میں اللہ تعالیٰ کی
رضیت نصیب ہوگی
اس حدیث سے حضرت
میں اللہ تعالیٰ کی
رضیت ہونا باحوال
ہے۔ اور اسے
کن غلطی ہے۔ بیشک
اللہ تعالیٰ جسم نہیں
لیکن مومن کو وہ
جس سے بیٹے جائیں
کے جس طرح یہاں
وہ اس کا علم حاصل
کر سکتا ہے۔ اس باب
میں اس کی روایت بھی

نظروا الى القدر بعد ليلة الوداع یعنی اس رات جاہد روزانہ۔ لافتنائوں کے بعد اولافتنائوں ہے یعنی راتوں و شب کو کہ تمہارا میں فرمایا
نقصائوں کی صورت میں لافتنائوں ہی معلوم ہوتا ہے۔ جس کے لئے میں تمہیں شک نہیں کرنے کے لئے کہ وہ روز و شب کے وقت کی نمازیں
یعنے فجر و عصر جیسا کہ سلم کی روایت میں ہے۔ سزا اعمال جنت کو لیا گیا ہے۔ ان در نمازوں کی یہ خصوصیت معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت نفسانی خواہش کے ساتھ زیادہ مقابلہ ہوتا ہے۔
نیز کہ چھوڑنا پڑتا ہے اور عصر کے وقت کار بارکہ ہے۔ آگے پھر یہی حدیث آتی ہے۔ مگر یہاں ہے کہ زید بن ثابت نے انس کو اطلاع دی انعام سمجھا جس میں حج کا بیعت ہے
نمبر ۳۸۲ میں انس بن مالک سے ہیں ان نبی اللہ صلعم وزید بن ثابت نے سمجھا یعنی نبی صلعم اور زید بن ثابت دونوں نے عری کھائی۔ اور عثمان اور ابن عباس کی روایت میں
ہے کہ انس بھی تھا۔ مگر اس صورت میں زید بن ثابت سے انس کا روایت کرنا موزوں معلوم نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز فجر کا وقت صحیح حدیث میں لکھا
ہوتا ہے۔ کیوں کہ وہی وقت عری کی انتہا ہے۔

ابن ثابت تَسَكَّرَ أَفْلَمًا فَرَأَى مِنْ سُجُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سجری کھائی پھر جب وہ اپنی سجوی سے فارغ ہوئے تو

إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى فُلْنَا لَأَنْسَ كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سُجُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا

نماز کے لئے کھڑے ہوئے پس نماز پڑھنے میں نے اس سے کہا سجوی سے ان کی فراغت اور ان کی نماز شروع کرنے میں

فِي الصَّلَاةِ قَالَ قَدِمَا أَيُّفْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً (۳۸۳) عَنْ أَبِي حَازِمٍ

کہتا وقت نماز کا کہ اتنا کہ انسان پچاس آیتیں پڑھے

أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ كُنْتُ أَتَسَكَّرُ فِي أَهْلِي ثُمَّ تَكُونُ سُرْعَةً بَنِي

کہ میں نے سہل بن سعد سے سنا کہتے تھے کہ میں اپنے گھر میں سجوی کھاتا

أَنْ أَدْرِكَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۱۶۶) عَنْ

کہ فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پانوں

عَائِشَةَ (مُتَكَرَّرٌ ۲۶۸) بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً (۱۶۷) عَنْ أَبِي

دیکھو حدیث نمبر ۲۶۸ علی باب جس نے صبح کی ایک رکعت پائی

هَرِيرَةَ (مُتَكَرَّرٌ ۳۷۱) بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً (۳۸۳) عَنْ أَبِي

حدیث نمبر ۳۷۱ علی باب جس نے نماز سے ایک رکعت پائی

هَرِيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

فَهَذَا أَدْرَكَ الصَّلَاةِ بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ (۳۸۵) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

باب نماز فجر کے بعد نماز میان تک کہ آفتاب بلند ہو جائے

قَالَ شَيْخٌ عِنْدِي بِحَالٍ مَرَضِيُونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى

کہ میرے پاس پسندیدہ آدمیوں نے کہا یہی دیا اور زیادہ پسندیدہ ان میں سے میرے نزدیک گھر میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ

(نماز صبح کے بعد نماز پڑھنے سے روکا جہاں تک کہ آفتاب روشن ہو جائے اور

ملے کر روایت قرینہ ۳۶۸ کے الفاظ میں ہی ہے مگر بیوقوفوں کے بند حاکمین بقضائت الصلوة زائد ہے اور غریبوں لظہور زائد ہے۔ چنانچہ خود تیس تا بیسی کی وہ ہے جس نے پچپائی جاتی تھیں۔ اس معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً نماز پڑھنے وقت میں بڑھا کرتے تھے کہ اس کے ختم ہونے پر اچھڑات کا انداز میں باقی ہوتا تھا۔ دوسری حدیث میں جو پینے لگتی ہیں وہاں آتا ہے کہ پانوں نماز ختم کرنے سے تو ایسا وقت ہوتا تھا کہ ایک شخص ملنے پہنچتا تھا۔ دو دنوں باتیں درست ہیں ایسے ساتھ بیٹھے ہوتے آدمی کو ایک شخص مساتی سے پہچان سکتا ہے۔ مگر عورتیں چونکہ پیچھے ہوتیں اور پیچھے کی پہچان سے ان کو کوئی پہچان نہ سکتا تھا۔ کہیں کہ کافی ناپاکی بھی ہوتی تھی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر تارکی نہ ہوتی تو وہ پہچان جا سکتی تھیں۔ یعنی ان کا چادروں میں ڈھانپنا ہونا ایسا نہ ہوتا تاکہ ان کو کوئی شناخت نہ کر سکے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں عورتیں موٹھ کھلا کرتی تھیں۔ مگر روایت کے الفاظوں میں غالباً ان کے من الصبح رکعت قبل ان تطام الشمس فقد ادرك ركعة من الصبح ومن ادرك من العصر ركعتين قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر مگر ان چند ارباب اور انا پیش ہیں جو آئی ہیں بعض اوقات میں نماز سے روکا تاکہ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ وقت طلوع اور وقت غروب کا قصد کر کے نماز شروع نہ کی جائے۔ یہ تو پہلی کسی حدیث سے جو گندہ بگی ظاہر ہے نہ اگر ایک شخص نے نماز طلوع یا عصر پہلے شروع کر لی تو وہ طلوع اور غروب کے وقت پڑھتا ہے۔ پس طلوع اور غروب کا قصد کر کے نہیں۔ صبح اور وقت کا قصد کر کے کیا۔ جیسا کہ نحوی کا لفظ صاف بتاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کی پرستش کر کے واسطے کے طلوع اور غروب کو قائل اوقات عبادت ٹھیراتے ہیں۔ میں ان اوقات میں نماز کا قصد کرنے سے اس لئے روکا کہ ان کے ساتھ نشاہت نہ ہو۔ اس لئے یہی مرد و شیطان کے دو قوتوں سے لینا چاہیے۔ جن کا ذکر کسی حدیث میں آیا ہے۔ جو کہ دو اوقات میں جن نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ نماز فجر کے بعد طلوع شمس تک اور نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک ہیں۔ لیکن اس میں حدیث میں بظاہر اختلاف نظر آتا ہے۔ یہ کہ اگر کسی نے نماز پڑھی ہے جن سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف نماز فجر کے بعد نماز پڑھنا منع فرمایا ہے بلکہ وہ یہ بھی صحیح ہے کہ بعد دو رکعت بطور نفل پڑھا کرے تھے۔ پس اس مانع سے مردوں رسول دنیا معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ دو نمازیں تعداد رکعات کے لحاظ سے بلی رکھی گئی ہیں۔ اسے شاید لوگ یہ خیال نہ کریں کہ ان میں دو رکعات بڑھائی جائیں۔ چنانچہ جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گھر میں جا کر دو رکعت پڑھے گا تو اس کے حدیث میں فرمایا ہے۔ وہاں صاف لفظاً ہے کہ آپ صبح میں دو رکعت نہ پڑھتے تھے۔ تاکہ لوگوں پر یہ بوجھ نہ پڑ جائے۔ یہ اوقات کار دیا کے بھی ہیں۔ انسان کو چاہئے کہ نماز پڑھ کر ان میں لگ جائے۔ اس لئے اگر کوئی سنتیں وہ گئی ہوں۔ تو ان کو نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے یا عصر کے بعد غروب سے پہلے پڑھنا درست ہے۔ ایسا ہی نماز چارہ اور صحیح روایت ہے کہ کوفہ و مدینہ کی نماز کوئی فوت شدہ نماز ان اوقات میں پڑھی جا سکتی ہے۔ کہ وہ حنفیوں نے اسے مکروہ ٹھہرایا ہے۔ اس بارہ میں صحابہ کی حدیث کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد عصر دو رکعت سے منع فرمایا ہے مردوں بھی صرف سولت کیلئے منع کرنا ہوتا ہے۔ نہ عام حوا کے لحاظ سے اور ایک وقت میں نماز پڑھنے سے روکا (باقی حدیث پر ملاحظہ)

پہچان سکتا ہے۔ مگر عورتیں چونکہ پیچھے ہوتیں اور پیچھے کی پہچان سے ان کو کوئی پہچان نہ سکتا تھا۔ کہیں کہ کافی ناپاکی بھی ہوتی تھی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر تارکی نہ ہوتی تو وہ پہچان جا سکتی تھیں۔ یعنی ان کا چادروں میں ڈھانپنا ہونا ایسا نہ ہوتا تاکہ ان کو کوئی شناخت نہ کر سکے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں عورتیں موٹھ کھلا کرتی تھیں۔ مگر روایت کے الفاظوں میں غالباً ان کے من الصبح رکعت قبل ان تطام الشمس فقد ادرك ركعة من الصبح ومن ادرك من العصر ركعتين قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر مگر ان چند ارباب اور انا پیش ہیں جو آئی ہیں بعض اوقات میں نماز سے روکا تاکہ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ وقت طلوع اور وقت غروب کا قصد کر کے نماز شروع نہ کی جائے۔ یہ تو پہلی کسی حدیث سے جو گندہ بگی ظاہر ہے نہ اگر ایک شخص نے نماز طلوع یا عصر پہلے شروع کر لی تو وہ طلوع اور غروب کے وقت پڑھتا ہے۔ پس طلوع اور غروب کا قصد کر کے نہیں۔ صبح اور وقت کا قصد کر کے کیا۔ جیسا کہ نحوی کا لفظ صاف بتاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کی پرستش کر کے واسطے کے طلوع اور غروب کو قائل اوقات عبادت ٹھیراتے ہیں۔ میں ان اوقات میں نماز کا قصد کرنے سے اس لئے روکا کہ ان کے ساتھ نشاہت نہ ہو۔ اس لئے یہی مرد و شیطان کے دو قوتوں سے لینا چاہیے۔ جن کا ذکر کسی حدیث میں آیا ہے۔ جو کہ دو اوقات میں جن نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ نماز فجر کے بعد طلوع شمس تک اور نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک ہیں۔ لیکن اس میں حدیث میں بظاہر اختلاف نظر آتا ہے۔ یہ کہ اگر کسی نے نماز پڑھی ہے جن سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف نماز فجر کے بعد نماز پڑھنا منع فرمایا ہے بلکہ وہ یہ بھی صحیح ہے کہ بعد دو رکعت بطور نفل پڑھا کرے تھے۔ پس اس مانع سے مردوں رسول دنیا معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ دو نمازیں تعداد رکعات کے لحاظ سے بلی رکھی گئی ہیں۔ اسے شاید لوگ یہ خیال نہ کریں کہ ان میں دو رکعات بڑھائی جائیں۔ چنانچہ جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گھر میں جا کر دو رکعت پڑھے گا تو اس کے حدیث میں فرمایا ہے۔ وہاں صاف لفظاً ہے کہ آپ صبح میں دو رکعت نہ پڑھتے تھے۔ تاکہ لوگوں پر یہ بوجھ نہ پڑ جائے۔ یہ اوقات کار دیا کے بھی ہیں۔ انسان کو چاہئے کہ نماز پڑھ کر ان میں لگ جائے۔ اس لئے اگر کوئی سنتیں وہ گئی ہوں۔ تو ان کو نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے یا عصر کے بعد غروب سے پہلے پڑھنا درست ہے۔ ایسا ہی نماز چارہ اور صحیح روایت ہے کہ کوفہ و مدینہ کی نماز کوئی فوت شدہ نماز ان اوقات میں پڑھی جا سکتی ہے۔ کہ وہ حنفیوں نے اسے مکروہ ٹھہرایا ہے۔ اس بارہ میں صحابہ کی حدیث کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد عصر دو رکعت سے منع فرمایا ہے مردوں بھی صرف سولت کیلئے منع کرنا ہوتا ہے۔ نہ عام حوا کے لحاظ سے اور ایک وقت میں نماز پڑھنے سے روکا (باقی حدیث پر ملاحظہ)

کتاب صلوٰۃ الصلوة

۱۲۴
 (بقیہ مشیخہ احمدیہ)
 دوپہر کا وقت ہے
 اور اس کی وضو
 یہی ہو کہ سخت گرمی
 کا وقت ہوتا ہے
 اور گرمی میں آپ
 نماز ظہر کو بھی
 ۱۲۵
 پڑھنے کی ہدایت
 دیتے تھے۔ یہیں
 یہ کل پانچ اوقات
 ہیں۔ مگر ان میں
 سے کسی میں بھی
 نے الحقیقت نماز
 ناپا کر نہیں۔ بلکہ
 بعض دیگر حساب
 کی وجہ سے روکا گیا

۱۲۶
 کے منابین وہ
 صحیح ہو شری
 کیلئے وقت کی
 چھوٹے پھینکنے سے
 ۱۲۷
 قطعاً قطعی ہوتا ہے اور
 ملاصقہ وہ ہے کہ
 اسے ہاتھ لگانے سے
 قطعاً قطعی ہوتا ہے
 ۱۲۸
 صحیح حدیث نمبر ۳۸۶ کا
 عرف پہلے گھر میں
 دوبارہ آیا ہے۔ مگر
 یہاں لفظ میں لا
 بخیر احد کہ
 ۱۲۹
 فیصلی عند طلوع
 الشمس لا عند
 غروبها یعنی طلوع
 ۱۳۰
 آج نماز عشاء کے قریب
 اور عنوان باب میں
 قبل غروب الشمس

العصر حتى تغرب ۳۸۶ عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 (نماز عصر کے بعد یہاں تک کہ غروب ہو جائے) ابن عمر سے روایت ہے کہ
 لا تحروا بصلواتكم طلوع الشمس ولا غروبها قال وحديثي ابن عمر قال قال
 کہ اپنی نماز میں طلوع آفتاب اور اسکے غروب کا قصد نہ کرو اور مجھ سے ایسا کرنے سے بیان کیا ہے کہ
 رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع حاجب الشمس فاخروا الصلوة حتى
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آفتاب کا کنارہ نکل آئے تو نماز میں دیر کرو یہاں تک کہ
 ترتفع واذا غاب حاجب الشمس فاخروا الصلوة حتى تغيب (۳۸۷) عن ابی
 بلند ہو جائے اور جب آفتاب کا کنارہ غائب ہو جائے تو نماز میں دیر کرو یہاں تک کہ ڈوب جائے۔ ابو
 هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن
 ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کی بیچ سے اور دو طرح کے لباس سے اور
 صلاتين نهى عن الصلوة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب
 دو نمازوں سے روکا ہے نماز صبح کے بعد نماز پڑھنے سے روکا ہے یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو جائے اور بعد نماز عصر کے بعد نماز
 الشمس وعن اشغال السماء وعن الاحتباء في ثوب واحد يقضى بفرجه الى
 کہ آفتاب غروب ہو جائے اور اشغال سما سے اور گوٹ مارنے سے کہ اسکے چھپانے کی جگہ آسمان کی طرف کھلی ہو
 السماء وعن المناذبة والملازمة باب لا تحزى الصلوة قبل غروب الشمس
 اور مناذبہ اور ملازمہ کے باب سورج ڈوبنے سے پہلے (مستعمل نماز کا قصد کیا جائے)
 (۱۶۸) عن ابن عمر (متكرر - ۳۸۶) - (۳۸۸) عن ابی سعيد بن الخدري يقول
 دیکھو حدیث نمبر ۳۸۶ کے ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ
 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلوة بعد الصبح حتى ترتفع
 میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے نماز صبح کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ
 الشمس ولا صلوة بعد العصر حتى تغيب الشمس (۳۸۹) عن معاوية رضي
 سورج او چھا ہو جائے اور نماز عصر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے معاویہ رضی سے روایت ہے
 الله عنه قال انكم لتصلون صلوة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما
 کما تم ایک نماز پڑھتے ہو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تو ہم نے آپ کو
 رأينا ان يصليها ولقد نهى عنها يعني الركعتين بعد العصر (۱۶۹) عن ابی هريرة (متكرر)
 نہیں دیکھا اور رکعت پڑھتے ہوں اور آپ نے ان دونوں سے روکا تھا یعنی عصر کے بعد دو رکعت عشاء دیکھو حدیث نمبر ۳۸۷ کے
 ۳۸۷ باب من لم يكره الصلاة الا بعد العصر والفجر (۱۷۰) عن ابن عمر متكرر
 باب جس نے نماز کو کر وہ نہیں سمجھا مگر بعد نماز فجر اور عصر کے دیکھو حدیث نمبر ۳۸۶ کے

سے یہی مراد ہے۔ بعض وقت انسان کام میں یا کسی اور شغل میں لگا رہتا ہے اور وہ زمین تاخیر کرتا جاتا ہے۔ اور یہی خیال رہتا ہے کہ نماز کے واسطے ابھی اٹھتا ہوں اور اس میں صبح
 کے وقت بیٹھی نہیں بیٹھی یا چھ بس میں گرم پڑا ہوا خیال اور خیال تو ہو گا بھی اٹھتا ہوں۔ آنگھ ب طلوع یا غروب ہو کہ نماز جاتی رہتی ہے۔ ایسی اطمینان اور سچت منہ فرمایا۔ اتنا ہی
 طور سے یا کسی خاص سبب سے کوئی نماز اگر اس وقت پڑھی جائے تو کوئی ہرج نہیں۔ جیسا کہ ترجمے گز چکا۔ کہ سورج کے پڑنے یا ڈوبنے سے پہلے ایک رکعت مل جائے تو نماز ہو گئی
 محض ایک باب کے بعد آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت عصر کے بعد پڑھی ہیں۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر وہ تک پڑا کرتے تھے۔ لیکن چونکہ گھر میں پڑھتے تھے۔ لہذا عام طور سے
 کسی کو علم نہیں ہے۔ اور حضرت معاویہ کی صحبت بھی نبی کریم کے ساتھ زیادہ نہ تھی۔ کیونکہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے ہیں + عسک یہاں حدیث نمبر ۳۸۷ کا صرف ہے۔ مگر اگر روایا سے
 جو نماز کے متعلق ہے عشاء مضمون تو وہی ہے جو نمبر ۳۸۷ کا ہے۔ مگر یہاں ابن عمر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان نہیں کیا۔ اپنے متعلق ذکر کیا ہے۔ فالصلی کہ کما لیت احوالی
 یصلون لا انہی احد ایصلی لیلین او نهارا ماشاء فیدان لا تحروا واطلوع الشمس ولا غروبها +

۳۸۶) **بَابُ مَا يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْقَوَائِمِ وَخَوَّهَا وَقَالَ كَرِيمٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ**

باب جو نماز عصر کے بعد پڑھی جائے فوت شدہ یا اس کی مانند اور کریم نے ام سلمہ سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھی ہیں اور فرمایا کہ مجھے

عَبْدُ الْقَيْسِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ (۳۹۰) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَالَّذِي ذَهَبَ

(قبیلہ) عبد القیس کے لوگوں نے ظہر کے بعد کی دو رکعتوں سے مشغول کر دیا ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اس ذات کی قسم ہے جو آپ کو لے گئی آپ نے ان دو کو نہیں چھوڑا یہاں تک کہ خدا سے جانے اور خدا سے نہیں ملے یہاں تک کہ نماز (میں کھڑے رہنے) کا بوجھ محسوس کرنے لگے اور

مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

با اوقات اپنی نماز میں کھڑے رہتا رہتا یعنی نماز عصر کے بعد دو رکعت تک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دو کو پڑھتے اور ان کو مسجد میں نہ پڑھتے تھے اس خوف سے کہ اپنی امت پر بوجھ ڈالیں اور اسے

يُحِبُّ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ (م ۱۴۱) عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَرِّرًا - ۳۹۰) - (م ۱۴۲) عَنْ

پسند کرتے ہیں اسے ان کا بوجھ ہلکا ہو دیکھو حدیث نمبر ۳۹۰ دیکھو حدیث نمبر ۳۹۰

عَائِشَةَ (مُتَكَرِّرًا - ۳۹۰) - (م ۱۴۳) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (مُتَكَرِّرًا - ۳۹۰) بَابُ

دیکھو حدیث نمبر ۳۹۰ دیکھو حدیث نمبر ۳۹۰ باب

التَّبَكُّرِ بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمِ عِيَمِ (م ۱۴۴) عَنْ أَبِي قِلَابَةَ (مُتَكَرِّرًا - ۳۶۸)

بادل والے دن میں سویرے نماز پڑھنا دیکھو حدیث نمبر ۳۶۸

بَابُ الْأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ (۳۹۱) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ سَرْنَا مَعَ

باب وقت گزار جانے کے بعد اذان دینا ابو قتادہ سے روایت ہے کہ ہم

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْ عَرَسَتْ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات بیٹھے تو بعض لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں بچھلی رات اتاریں

قَالَ أَخَافُ أَنْ تَنَاوِعَ عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ بَلَّالٌ أَنَا أَوْ قَوْمٌ فَأَضْطَجِعُوا وَأَسَدَ

فرمایا میں ڈرتا ہوں تم نماز سے سو جاؤ گے بلال نے کہا میں نہیں جھکاؤں گا تو وہ لیٹ گئے اور

کلمہ اس سے معلوم ہوا کہ ایسے وقتوں میں کسی خاص سبب سے اٹھنا پڑنا پڑے تو نماز پڑھنے سے بھی معلوم ہوا کہ کھینچیں اگر وہ جائیں تو انہیں جو بعد میں جب وقت ملے پڑھ لے۔ اسلئے فجر کی سنتیں بھی جماعت میں مشمولیت کی وجہ سے پائیں تو طبعاً آفتاب سے پہلے پڑھی جاسکتی ہیں۔ اسلئے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ قرآن شریف کی بہت لمبی سورتیں نوافل میں پڑھتے تو آپ بچھلی عمر میں اتنی دیر تک کھڑے رہنے میں تکلیف محسوس کرتے اسلئے مجھ کے نماز پڑھتے + کلمہ حدیث نمبر ۳۹۱ اختصار کے ساتھ ہیں دفعہ دہرائی سے مراد عیون سے ما تزلزال النبی صلعم السیدین یعنی بعد از عذدی خط م ۱۴۲ یوں ہے رکعتان نہ یکن رسول اللہ صلعم بعد ما سار اولاً لایاتہ رکعتان قبل صلوة الصبح و رکعتان بعد العصر ص ۱۵۱ ہر روایت الاسود و مسروق و قاسم علی عائشہ قالت ما کان النبی صلعم یاتینی فی یوم بعد العصر الاصلی کتبتہ مکملہ باب میں ہر

اس قدر ہے کہ بادل والے دن سویرے نماز پڑھ لی جائے۔ اور حدیث کا مضمون یہ ہے کہ ہم بادل والے دن میں بریدہ کے ساتھ تھے۔ تو انہوں نے فرمایا نماز سویرے پڑھ لو۔ کیونکہ نبی صلعم نے فرمایا۔ جو نماز عصر کو ترک کرے اس کے عمل جیٹ ہو جاتے ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ نماز عصر کو سویرے پڑھنے کے لئے کہا تھا۔ اور ابرو والے دن کی مشائخہ یہ خصوصیت ہو کہ ایسا نہ ہو کہ بادل کی وجہ سے سورج کا ٹھیک پتہ نہ لگے۔ اور نماز جاتی رہے۔ اور حضرت عمر سے مروی ہے کہ اگر کے دن ظہر کو ڈھانچے کے ارادہ رکھنے وقت سے پہلے کے دو دنوں کو جمع کرنا یہی مراد اس حدیث سے بھی ہو تو اس سے جمع تعذیم کا جو از نکلتا ہے۔ ایسا بھی مغرب اور عشاء میں بھی جمع تعذیم ہو سکتی ہے۔

يَا بِلَالُ قُمْ فَإِنَّ النَّاسَ بِالصَّلَاةِ فِتْوَصًا فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْتَيَّضَتْ
اسے بلال! اور لوگوں میں نماز کی اذان دے پس وضو کیا تو جب آفتاب بلند ہوا اور سفید ہوا

قَامَ فَصَلَّى بَابٌ مِّنْ صَلَىٰ بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ (۳۹۲)
کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی بَاب جس نے لوگوں کو وقت گزر جانے کے بعد جماعت سے نماز پڑھائی

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ
جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما

بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسِبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَدَتْ
آفتاب غروب ہو چکے بعد اسے اور کفار قریش کو کہنے لگے کہا یا رسول اللہ مجھ سے سب سے پہلے

أَصَلَّى الْعَصْرَ حَتَّىٰ كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا
کہیں عصر کی نماز پڑھوں یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو چکے قریب ہو گیا نبی کریم صلعم نے فرمایا خدا کی قسم

صَلَّيْتَهَا فَقَمْنَا إِلَىٰ بَطْنِ فَتَوْصًا لِلصَّلَاةِ وَقَوْمَانَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ
میں نے بھی نہیں پڑھی تو ہم بطنان کی طرف گئے اور آپ نے نماز کے لئے وضو کیا اور مجھے بھی اسکے لئے وضو کیا تو آپ نے عصر پڑھی اور

الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّىٰ بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ بَابٌ مِّنْ نَّبِيٍّ صَلَاةً فَلْيَصِلْ إِذَا ذَكَرَ وَلَا
کہ آفتاب غروب ہوا پھر اس کے بعد مغرب پڑھی بَاب جو نماز کو بھول جائے تو جب یاد آ جائے پڑھے اور

يَعْبُدُ إِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةَ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ مِنْ تَرَكَ صَلَاةً وَاحِدَةً عَشْرِينَ سَنَةً لَمْ يَعْبُدِ
صرف اسی نماز کو پڑھے اور ابراہیم کہتے ہیں کہ جس نے ایک نماز کو بیس برس تک نہیں پڑھا

إِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةَ الْوَاحِدَةَ (۳۹۳) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
تو صرف اسی ایک نماز کو پڑھے انس بن مالک نبی کریم صلعم سے روایت کرتے ہیں

وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيَصِلْ إِذَا ذَكَرَ لَا كُفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ أَقْبَمَ الصَّلَاةَ
کہ آپ نے فرمایا جو نماز کو بھول جائے تو جب یاد آ جائے پڑھے اس کے لئے صرف یہی کفارہ ہے نماز کو

لِيَذْكُرَ بَابٌ قِضَاءِ الصَّلَاةِ الْأُولَىٰ وَالْأُولَىٰ رَمَاهُ (۱۷۵) عَنْ جَابِرِ بْنِ رَجْوَانَ
میری یاد کیلئے ہاں کہ بَاب نمازوں کا ادا کرنا پہلی کو پھیل رکھا جائے دیکھو حدیث نمبر ۳۹۲

(۳۹۲) بَابٌ مَا يَكْرَهُ مِنَ الشَّرِّ بَعْدَ الْجَسَاءِ السَّامِرِ مِنَ الشَّرِّ وَالْجَمِيعِ السَّامِرِ
بَاب عشاء کے بعد جو باتیں مکروہ ہیں سامر سے ہے اور جمع سامر ہے اور

السَّامِرِ مِمَّنْ فِي مَوْضِعِ الْجَمِيعِ (۱۷۶) عَنْ أَبِي لَيْسَانَ رُوِيَ عَنْهُ (۳۶۱) بَابُ الشَّرِّ
سامر یہاں جمع کے مقام میں ہے دیکھو حدیث نمبر ۳۶۱

فِي الْفَقْرِ وَالْحَجْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ (۳۹۴) عَنْ قُرَّةِ بِنْتِ خَالِدٍ قَالَ أَنْظَرْنَا أَحْسَنَ
عشاء کے بعد علم اور نبی کی باتیں کرنا قرۃ بنت خالد سے روایت ہے کہ میں نے حسن (رضی اللہ عنہ) کی انتظار کی

وَرَأَتْ عَلَيْنَا حَتَّىٰ قَرَبْنَا مِنْ وَقْتِ قِيَامِهِ فَجَاءَ فَقَالَ دَعَانَا جِيرَانُنَا هَوْلًا ثُمَّ قَالَ
اور وہ دیر تک نہ آئے یہاں تک کہ ان کے آگے جانے کا وقت قریب آ گیا پھر وہ آئے اور کہا ہمارے ان پڑوسیوں نے ہمیں بلایا تھا پھر کہا

بعض روایات میں ظہر اور عصر اور بعض میں مغرب کے بھی فوت ہونے کا ذکر ہے۔ مگر یہاں صرف عصر کا ذکر ہے اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اس کی تائید مسلم کی روایات سے ہوتی ہے۔

بعض روایات میں ظہر اور عصر اور بعض میں مغرب کے بھی فوت ہونے کا ذکر ہے۔ مگر یہاں صرف عصر کا ذکر ہے اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اس کی تائید مسلم کی روایات سے ہوتی ہے۔

بعض روایات میں ظہر اور عصر اور بعض میں مغرب کے بھی فوت ہونے کا ذکر ہے۔ مگر یہاں صرف عصر کا ذکر ہے اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اس کی تائید مسلم کی روایات سے ہوتی ہے۔

بعض روایات میں ظہر اور عصر اور بعض میں مغرب کے بھی فوت ہونے کا ذکر ہے۔ مگر یہاں صرف عصر کا ذکر ہے اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اس کی تائید مسلم کی روایات سے ہوتی ہے۔

بعض روایات میں ظہر اور عصر اور بعض میں مغرب کے بھی فوت ہونے کا ذکر ہے۔ مگر یہاں صرف عصر کا ذکر ہے اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اس کی تائید مسلم کی روایات سے ہوتی ہے۔

بعض روایات میں ظہر اور عصر اور بعض میں مغرب کے بھی فوت ہونے کا ذکر ہے۔ مگر یہاں صرف عصر کا ذکر ہے اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اس کی تائید مسلم کی روایات سے ہوتی ہے۔

بعض روایات میں ظہر اور عصر اور بعض میں مغرب کے بھی فوت ہونے کا ذکر ہے۔ مگر یہاں صرف عصر کا ذکر ہے اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اس کی تائید مسلم کی روایات سے ہوتی ہے۔

بعض روایات میں ظہر اور عصر اور بعض میں مغرب کے بھی فوت ہونے کا ذکر ہے۔ مگر یہاں صرف عصر کا ذکر ہے اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اس کی تائید مسلم کی روایات سے ہوتی ہے۔

بعض روایات میں ظہر اور عصر اور بعض میں مغرب کے بھی فوت ہونے کا ذکر ہے۔ مگر یہاں صرف عصر کا ذکر ہے اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اس کی تائید مسلم کی روایات سے ہوتی ہے۔

بعض روایات میں ظہر اور عصر اور بعض میں مغرب کے بھی فوت ہونے کا ذکر ہے۔ مگر یہاں صرف عصر کا ذکر ہے اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اس کی تائید مسلم کی روایات سے ہوتی ہے۔

بعض روایات میں ظہر اور عصر اور بعض میں مغرب کے بھی فوت ہونے کا ذکر ہے۔ مگر یہاں صرف عصر کا ذکر ہے اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اس کی تائید مسلم کی روایات سے ہوتی ہے۔

بعض روایات میں ظہر اور عصر اور بعض میں مغرب کے بھی فوت ہونے کا ذکر ہے۔ مگر یہاں صرف عصر کا ذکر ہے اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اس کی تائید مسلم کی روایات سے ہوتی ہے۔

بعض روایات میں ظہر اور عصر اور بعض میں مغرب کے بھی فوت ہونے کا ذکر ہے۔ مگر یہاں صرف عصر کا ذکر ہے اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اس کی تائید مسلم کی روایات سے ہوتی ہے۔

بعض روایات میں ظہر اور عصر اور بعض میں مغرب کے بھی فوت ہونے کا ذکر ہے۔ مگر یہاں صرف عصر کا ذکر ہے اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اس کی تائید مسلم کی روایات سے ہوتی ہے۔

بعض روایات میں ظہر اور عصر اور بعض میں مغرب کے بھی فوت ہونے کا ذکر ہے۔ مگر یہاں صرف عصر کا ذکر ہے اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اس کی تائید مسلم کی روایات سے ہوتی ہے۔

بعض روایات میں ظہر اور عصر اور بعض میں مغرب کے بھی فوت ہونے کا ذکر ہے۔ مگر یہاں صرف عصر کا ذکر ہے اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اس کی تائید مسلم کی روایات سے ہوتی ہے۔

بعض روایات میں ظہر اور عصر اور بعض میں مغرب کے بھی فوت ہونے کا ذکر ہے۔ مگر یہاں صرف عصر کا ذکر ہے اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اس کی تائید مسلم کی روایات سے ہوتی ہے۔

بعض روایات میں ظہر اور عصر اور بعض میں مغرب کے بھی فوت ہونے کا ذکر ہے۔ مگر یہاں صرف عصر کا ذکر ہے اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اس کی تائید مسلم کی روایات سے ہوتی ہے۔

بعض روایات میں ظہر اور عصر اور بعض میں مغرب کے بھی فوت ہونے کا ذکر ہے۔ مگر یہاں صرف عصر کا ذکر ہے اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اس کی تائید مسلم کی روایات سے ہوتی ہے۔

بعض روایات میں ظہر اور عصر اور بعض میں مغرب کے بھی فوت ہونے کا ذکر ہے۔ مگر یہاں صرف عصر کا ذکر ہے اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اس کی تائید مسلم کی روایات سے ہوتی ہے۔

بعض روایات میں ظہر اور عصر اور بعض میں مغرب کے بھی فوت ہونے کا ذکر ہے۔ مگر یہاں صرف عصر کا ذکر ہے اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اس کی تائید مسلم کی روایات سے ہوتی ہے۔

بعض روایات میں ظہر اور عصر اور بعض میں مغرب کے بھی فوت ہونے کا ذکر ہے۔ مگر یہاں صرف عصر کا ذکر ہے اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اس کی تائید مسلم کی روایات سے ہوتی ہے۔

ہماری ہے۔ اس حدیث نمبر ۳۹۲ میں ذرا غصہ کے ساتھ آئی ہے نبی کریم صلعم کے نماز پڑھنے کا ذکر نہیں نہ وضو کرنے کا ذکر ہے۔ اس حدیث کے الفاظ سوائے ایک دو لفظوں کے بقیہ مگر نمبر ۱۵۶ کے ہیں ان دونوں میں نمبر ۳۶۱ کے جملہ زائد ہیں ان کے بعد ایک اور اس سے عنوان ایک کا تعلق ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر عشاء سے پہلے آدمی سو جائے تو پھر نیند کے غلبے سے نماز کے وقت سے خوف ہے اور عشاء کے بعد باتیں کرتے رہتا خواہ وہ قصد کفائی ہو یا جیسے آج کل مسلمانوں کی عادت ہو لغو باتیں اور ہنسی غصے کی مجلسیں جس سے عشاء سے محروم کرنے کا۔ ہاں ضرورت کے وقت کسی کام کے کرنے یا ضروری باتیں کرنے کی ممانعت نہیں۔

قَالَ اَنْسُ بْنُ مَالِكٍ نَظَرْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى كَانَ شَطْرَ اللَّيْلِ

انس بن مالک نے کہا، ہم نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار کی

يَبْلُغُهُ فِجَاءٌ فَصَلَّى لَنَا ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ الْاَرَانَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا ثُمَّ رَقَدُوا وَارْتَمَوْا

تو آپ تشہیف لائے اور ہمیں نماز پڑھانی پھر ہمیں مخاطب کیا اور فرمایا: سو لوگوں نے نماز پڑھی پھر سو گئے اور تم نماز ہی میں رہے

تَزَالُوْنَ فِي صَلَاةٍ مَا أَنْتَظِرْتُمْ الصَّلَاةَ قَالَ الْحَسَنُ وَإِنَّ الْقَوْمَ لَا يَزَالُونَ فِي خَيْرٍ وَأَنْتَظِرُوا

جب تک تم نماز کی انتظار کرتے رہے

الْخَيْرِ قَالَ قُرَّةٌ هُوَ مِنْ حَدِيثِ اَنْسِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۴۴۴ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَرْ

کرتے رہتے ہیں قرۃ نے کہا یہ اس کی حدیث سے ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے

مُتَوَكِّدًا ۱۰۱۰ بَابُ التَّحَرُّمِ مَعَ الْاَهْلِ وَالضَّيْفِ (۳۹۵) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اَبِي

نہروا ۱۰۱۰ باب بیوی اور وہمان سے رات کو باہر نہیں کرنا

بِكِرَانَ اصْحَابِ الصَّفَةِ كَاَوْثَانًا سَافِرًا وَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ

کہ اصحاب صفہ کو اور لوگ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس

كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ اَشْتَبَيْنَ فَلْيُذْهِبْ بِذَلِكَ وَانْ اَرْبَعٌ فِخَامِسٍ اَوْ سَادِسٌ وَ

دو آدمیوں کا کھانا ہو تو تیسرے کو بیٹھائے اور اگر چار کا ہو تو پانچویں یا چھٹے کو اور

اَنَّ اَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ وَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَرَةَ قَالَ فَهَوَّ

ابوبکر تین گولائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس کو بیٹھے عبدالرحمن نے کہا پس

اَنَا وَابْنِي وَابْنِي وَلَا اَدْرِي هَلْ قَالَ وَامْرَاَتِي وَخَادِمٌ بَيْنَ بَيْتِنَا وَبَيْتِ ابْنِي تَكْرُو

میں تھا اور میرا باپ اور میری ماں اور رادوی کتا ہے میں نہیں جانتا کہ آیا اسنے بھی کہا (یا نہیں) کہ میری بیوی اور ایک نوکر جو ہمارے گھر اور

اَنَّ اَبَا بَكْرٍ تَعَشَى عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ كَبِتَ حَيْثُ صَلَّيْتَ

ابوبکر نے کھانے کا کام کرتا تھا اور ابوجبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شام کا کھانا کھایا پھر وہاں بیٹھ کر رہے جہاں نماز

الْعِشَاءُ ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَى لِنَبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِجَاءً بَعْدَ مَا مَضَى

عشاء پڑھی گئی پھر لوٹے اور پھر یہ رسم یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا کھانا کھایا پھر گئے بعد اسکے رات کا آنا حصہ لگ کر چکاتا

مِنَ اللَّيْلِ مَا نَشَاءُ اللهُ قَالَتْ لِمَ اَمْرَاتُهُ مَا حَبَسَكَ عَنْ اَضْيَافِكَ اَوْ قَالَتْ ضَيْفِكَ

جو خیر نے چاہا تو ان کی بیوی نے ان سے کہا کس چیز نے تمہیں اپنے ہمانوں سے روک رکھا یا کہا اپنے ہمانوں سے

قَالَ اَوْ مَا عَشَيْتُمْ قَالَتْ اَبُو اَحْتَى تَحِيٌّ تَدْعُرُ صُوفَا اَوْ اَقَالَ فَرَضْتِ اَنَا فَاخْتَبَتِ

کہا کیا تو نے انہیں شام کا کھانا نہیں کھلایا کیا انہوں نے انکار کیا یہاں تک کہ تم مجھ کو کھانا پیش کیا گیا تاکہ انہوں نے انکار کیا (عبدالرحمن نے کہا میں چاہتا

جلسہ من بصری
ہر رات مسجدمیں
بیٹھ کر اپنے شاگردوں
کو تعلیم دیا کرتے تھے
ایک رات پڑوسی
کی کسی خدمت کی
وجہ سے وہ بیوی
شاگرد انتظار میں
تھے۔ اس موقع پر ان
انہوں نے یہ حدیث
سنائی کہ نیک کام کے
لئے انتظار میں بنانا
ایسا ہی ہے جیسے کہ
اس کا کرنا۔ اور نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سنائی جس سے معلوم
ہوا کہ آپ نے نماز
عشاء کے بعد صحابہ سے
یا تمہیں کہیں اور تفریق
کے رسم من کے ساتھ
حضرت عمر سے روایت
کی ہے ان نبی
صلی اللہ علیہ وسلم
ہو اور ابوبکر نے کام
من امور المسلمین
وانا معہما
جلسہ حدیث نمبر ۱۰
کو بیان کر کے یہاں
پر شام کے پڑھنے
الناس فی مقالة
النبي صلواتي
ما يتجدد ثوبون
في هذه الاحاديث
عن مائة سنة
طاعتنا قال النبي

صلواتي یعنی میں ہوں ابوہریرہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ انہما تخدم ذلك القرن یعنی لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے سمجھنے میں غلطی کی۔ یہاں تک کہ سوال کی نسبت اور باتیں کرنے کے (یعنی کہنے کے کہ سو سال کے بعد قیامت آجائے گی) اور (ابن عمر نے کہا) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ فرمایا تھا کہ ان لوگوں میں سے کوئی باقی نہ رہے گا جو آج زمین کی پیٹھ پر ہیں۔ اس سے آپ کا مقنا یہ تھا کہ سو سال اس زمانہ والوں کو یعنی اس نسل کو ختم کر دے گا۔ گو یا حضرت ابن عمر نے یہ معلوم کر کے کہ لوگ حدیث کا مطلب غلط سمجھ رہے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ سو سال کے بعد قیامت آجائے گی۔ آپ کے الفاظ کا مطلب واضح کر دیا کہ اس سے قیامت کا انکار نہیں۔ بلکہ اس نسل کا گزر جانا مراد ہے۔ نیز کچھ حدیث نمبر ۱۰ پر نوٹ ہے۔ اس طرح ان لوگوں کو جن کے پاس کھانا نہ تھا مختلف گھروں میں تقسیم کر دیا۔ اور کسی ایک پر زیادہ بوجھ نہ ڈالا کہ جو جس گھر میں کھانا بھی لگا ہوا ہو گا وہاں چار کا شمار ہو سکتا تھا۔ یہ بھی خالص اسلامی رنگ ہے کہ تین کا کھانا ہوتو مل کر چار کھالیں۔ آج کل کی گھڑبوسا سٹیجی اس کو برداشت نہیں کر سکتی کہ دس کا کھانا پکا ہوا ہو تو گیارہواں بھی شریک ہو سکے۔ دوبارہ تعشی کا لفظ بے سنے ہو جاتا ہے۔ مسلم کی روایت میں ہے حتی نفس یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگھنا گئی یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔

۱۰۱۰

فَقَالَ يَا عَنزَةَ فِجْدَعٍ وَسَيْبٌ وَقَالَ كَلُوا لِأَهْنِيمَا لَكُمْ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أُطْعِمُهُ أَبَدًا

تو ابو بکر نے کہا اے سست اور پتہ! کھا اور ملامت کی بلاؤ (ماریاؤ) کھا لکھا نہیں ہم تم پر جو کھا اور کھا اللہ کی قسم میں سے کبھی نہ کھاؤں گا

وَإِيمَ اللَّهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنَ لِقَمَةٍ إِلَّا أَلْزَمْنَا قَالَتْ شَبَعُ وَأَصَادٌ

اور اللہ کی قسم ہم کوئی لقمہ نہ اٹھاتے تھے مگر اس کے نیچے سے اس سے بڑھ کر زیادہ ہر جاننا کما وہ سپر ہو سکے اور

أَكْثَرُ مَا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ فَأَذَاهِي كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرُ فَقَالَ

کھانا اس سے زیادہ ہو گیا جو پہلے تھا تو ابو بکر نے اس کی طرف بچھا تو وہ دیکھا ہوتی زیادہ تھا تب اپنی

لَا مَرَاتِهِ يَا أُخْتِ بَنِي فِرَاسٍ وَهَذَا قَالَتْ لَا وَرَقَةٌ عَيْنِي لَهَا لَأَنَّ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ

بیوی سے کہا اے بنی فراس کی بہن یہ کیا ہے اس نے کہا نہیں میری آنکھ کی ٹھنڈک کی قسم یہ یقیناً اس سے جو پہلے تھا

ذَلِكَ بَلَغَتْ فِرَارًا فَآكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِي يَمِينَهُ

تین گنا زیادہ ہے پہلے ابو بکر نے اس سے کھا یا اور کما وہ بات صرف شیطان کی طرف سے تھی انہی اور اپنی قسم سے تھی

ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لِقْمَةً ثُمَّ سَلَّمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ وَكَانَ

اور اس سے ایک لقمہ کھایا پھر اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور وہ صبح نماز کے پاس آیا اور

بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ فَمَضَى لِأَجَلٍ فَفَرَّقْنَا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ

ہمارے درمیان اور ایک قوم کے درمیان عقد تھا تو اس کی میعاد گزر گئی تو مجھے بارہ آدمیوں کو جدا کر دیا ہر ایک کے ساتھ ان میں سے کچھ لوگ تھے

أَنَاسٌ وَاللَّهِ أَكْثَرُكُمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ أَوْ كَمَا قَالَ *

اور اللہ جانتا ہے کہ ہر ایک آدمی کے ساتھ تھے پس ان سب نے اس سے کھایا یا جیسا کہا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے پڑھا کرنا

کتاب الاذان

اذان کی کتاب

بَابُ بَدْءِ الْأُذَانِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَإِذَا نَادَيْتُمُ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا

بَابُ اذنان کی ابتدا اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول جب تم نماز کے لئے بلائے ہو تو وہ اسے

هَزُوا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِذْ نُودِيَ لِلصَّلَاةِ

ہنسنا اور کھیل بناتے ہیں یہ اس لئے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول جب

مَنْ يَقُومُ الْجُمُعَةَ (۱۷۸) عَنْ أَنَسٍ (مُتَوَكَّرٌ ۳۹۷) - (۳۹۷) عَنْ ابْنِ عُمَرَ

جسے کہ دن نماز کے لئے پکارا جائے ۵ دیکھو حدیث نمبر ۳۹۷ ع ابن عمر سے روایت ہے

۱۔ عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا اے سست اور پتہ! کھا اور ملامت کی بلاؤ (ماریاؤ) کھا لکھا نہیں ہم تم پر جو کھا اور کھا اللہ کی قسم میں سے کبھی نہ کھاؤں گا۔
۲۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ ابو بکر نے کہا اے سست اور پتہ! کھا اور ملامت کی بلاؤ (ماریاؤ) کھا لکھا نہیں ہم تم پر جو کھا اور کھا اللہ کی قسم میں سے کبھی نہ کھاؤں گا۔
۳۔ جب انہوں نے یہ سنی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم نے اس سے بڑھ کر زیادہ کھا۔
۴۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم نے اس سے بڑھ کر زیادہ کھا۔
۵۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم نے اس سے بڑھ کر زیادہ کھا۔
۶۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم نے اس سے بڑھ کر زیادہ کھا۔
۷۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم نے اس سے بڑھ کر زیادہ کھا۔
۸۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم نے اس سے بڑھ کر زیادہ کھا۔
۹۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم نے اس سے بڑھ کر زیادہ کھا۔
۱۰۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم نے اس سے بڑھ کر زیادہ کھا۔

کہ پہلے غصہ کی حالت میں کہا تھا کہ میں اس سے نہیں کھاؤں گا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی جیسا کہ اوپر گذر چکا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا کھا کر آئے تھے۔ مگر چونکہ غصہ کی حالت میں کہا تھا کہ میں اس سے نہیں کھاؤں گا۔ اس لئے حالت غضب کو شیطان کی طرف منسوب کیا جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے الحمد للہ شیطان والغضب شیطان + کھانے کا بڑھ جانا حضرت عیسیٰ کے معجزات میں سے ایک معجزہ بیان کیا گیا ہے۔ اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی کرامت ہے۔ اذان کی ابتدا عرب میں ہوئی۔ جیسا کہ ابن عمر کی حدیث میں جو آگے آئی ہے صاف مذکور ہے۔ اور قرآن کریم کی بھی صرف اتنی سورتوں میں اذان کا ذکر ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ اس نے کفار قریش کی وجہ سے نماز آزادی سے نہ پڑھی جا سکتی تھی۔ اور بعض احادیث میں جو یہ ذکر آتا ہے کہ اذان کی تعلیم سبوقت دی گئی۔ جب نماز فرض کی گئی یعنی کہ میں مراجع کی بات تو ان کے راویوں میں متروک الحولیت ہیں اور یہ روایات پایہ اعتبار سے ساقط ہیں۔ جیسا کہ فتح الباری میں ان روایات کا تفصیل ذکر کر کے لکھا ہے + ۵۔ یہ حدیث انس کی روایت سے ہے، جی آگے ذکر سے تفصیل آتی ہے۔ یہاں صرف مستند لفظ ہیں قال ذکرنا النار والناحق من ذکرنا البیہود والنصر فی ناصر بلال ان یشفع الاذان وان یوتر الاقامة +

كَانَ يَقُولُ كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيُتَحَيَّوْنَ الصَّلَاةَ لَيْسَ

کہتے تھے کہ مسلمان جب مدینے آئے تو اکٹھے ہوتے اور نماز کا وقت مقرر کر لیتے

يُنَادِي لَهَا فَتُكَلِّمُوا يَوْمَئِذٍ ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اخْتِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ

انکے لئے اذان نہیں دی جاتی تھی تو ایک دن انہوں نے اس بارے میں گفتگو کی تو بعض نے کہا عیسائیوں کے ناقوس کی طرح ناقوس بنا لو

النَّصَارَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ يَوْقَامُنْ قَرْنَ الْإِبْرَةِ فَقَالَ عُمَرُ أَوْ لَا تَبْتَغُونَ رَجُلًا يُنَادِي

اور بعض نے کہا بلکہ یہود ہوں کے زنگے کی طرح زنگا ہو تو عمر نے کہا کیا تم ایک شخص کو مقرر نہیں کرتے جو نماز کے لئے

بِالصَّلَاةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا لَيْلًا فَمَنْ نَادَى بِالصَّلَاةِ يَا

بلکہ لا کرے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بلال امیہ

الْآذَانَ مُمْتَنِي (م ۱۵۹) عَنْ أَنَسِ (مُتَكَرِّرًا) (۳۹۷) (۳۹۷) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

اذان دو دو بارے ۱۵۹ دیکھو حدیث نمبر ۳۹۷ ۳۹۷ عن انس بن مالک سے روایت ہے

اعلان اذان کا ابتدا کے متعلق بخاری میں یہ دو حدیثیں آئی ہیں یعنی حدیث نمبر ۳۹۷ و ۳۹۸ جن میں سے پہلی حدیث میں ہے کہ نماز کیلئے بلانے کے واسطے مشورہ تھا اور ناقوس وغیرہ کا ذکر ہوا تو حضرت عمر نے کہا کہ ایک آدمی کو مقرر کیا جائے جو نماز کیلئے لوگوں کو

بلانے میں آہستگی سے کہ مشورہ ہوا اور ناقوس وغیرہ کا ذکر ہوا تو بلال کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات دو دو بارے اور تکبیر کے صلح نے بلال کو حکم دیا کہ نماز کے لئے پکارے اور دوسری میں ہے کہ مشورہ ہوا اور ناقوس وغیرہ کا ذکر ہوا تو بلال کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات دو دو بارے اور تکبیر کے ایک ایک دفعہ چونکہ دونوں جگہ مشورہ کے ذکر کے بعد ہی یہ ذکر ہے اسلئے بلال کو جو حکم ایک جگہ دیا گیا ہے وہی دوسری جگہ دیا جانا مذکور ہونا چاہیے۔ پس یہ جو بعض لوگوں نے ایک روایت کی بنا پر جو صحیح ابن خزیمہ اور ابن حبان میں ہے خیال کیا ہے کہ پہلے بلال کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ الصلوۃ جامعۃ پکارتے اور پھر بعد میں عبد اللہ بن زید کے رویا کی بنا پر اذان کے کلمات سکھائے گئے۔ صحیح نہیں۔ بلکہ شروع سے ایک ہی اذان کا حکم ہوا۔ اور وہ یہی ہماری اذان ہے۔ البتہ دوسری حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ مشورہ کے بعد لوگ متفرق ہو گئے۔ تو عبد اللہ بن زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رویا عرض کیا کہ انہوں نے اس طرح ایک شخص کو کلمات اذان دو دہراتے ہوئے سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات حضرت بلال کو سکھائے اور یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت عمر نے بھی اپنا رویا بیان کیا کہ انہوں نے بھی یہی کلمات اذان خواب میں سنے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے اس سے بیس دن پیشتر ایسا رویا دیکھا تھا۔ مگر اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت تک نہیں کیا جب تک کہ حضرت بلال کی اذان نہیں سنی۔ اب بظاہر حدیث نمبر ۳۹۷ اور نمبر ۳۹۸ میں اور پھر ان دوسری احادیث میں جن سے عبد اللہ بن زید اور حضرت عمر کا رویا دیکھنا ثابت ہے۔ اختلاف نظر آتا ہے۔ یعنی حدیث نمبر ۳۹۷ میں تو یہ ذکر ہے کہ مشورہ کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ ایک شخص کو اذان کے لئے مقرر کیا جائے تو حضرت صلح نے بلال کو اذان کا حکم دیا۔ اور نمبر ۳۹۸ میں حضرت عمر کے مشورہ دینے کا کوئی ذکر نہیں اور ان دوسری احادیث میں ہے۔ کہ کلمات اذان حضرت بلال کو عبد اللہ بن زید کے رویا کے بعد سکھائے گئے تو تحقیقت اختلاف نہیں۔ بلکہ اصل فقہان سنیہ عادیث سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے واسطے بلانے کیلئے مشورہ سے قبل ہی حضرت عمر نے رویا دیکھا تھا کہ ایک شخص اس طرح اذان لے رہا ہے تو جب مشورہ ہوا اتفاقاً انہوں نے اپنے رویا کا ذکر تو بوجہ حیا نہیں کیا۔ مگر جب لوگوں نے ناقوس وغیرہ کا ذکر کیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم اس کا ایک آدمی کو مقرر کیا جائے جو نماز کے لئے لوگوں کو پکارے اور اس قدر جرات نہ کی کہ کلمات کو دربار نبوی میں پیش کریں۔ اس خیال سے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آپ کو دیکھا اس طرح آپ ہدایت فرمائیں گے۔ تو اس مشورہ اور حضرت عمر کے اس رائے کے فیصلے کے بعد وہ مجلس متفرق ہو گئی اور پھر کبریت غالباً اس من کے بعد انہوں نے رات کو کعبہ میں تہذیب سے رویا دیکھی اور اس رویا کا ذکر حضرت صلح سے کیا اور اذہر معلوم ہوتا ہے کہ عین سجدت یا اس سے پیشتر یہ رویا وہی ہے یہی کلمات سکھائے گئے تھے۔ تو آپ نے بلال کو حکم دیا کہ اذان لے۔ پس دونوں حدیثوں میں نمبر ۳۹۷ و ۳۹۸ میں بلال کو حکم دینا بعد کا واقعہ ہے جو اس مجلس مشورہ میں نہیں ہوا۔

اور یہ جو اعتراض کیا گیا ہے کہ عبد اللہ بن زید کے رویا کو شریعت کا مرتبہ کس طرح لگایا کہ اسی بنا پر اذان کا حکم شریعت میں ہے۔ تو صلح میں تصدیق نبوی سے اذان شریعت میں داخل ہوئی نہ عبد اللہ بن زید یا حضرت عمر کے رویا سے۔ یوں لگے ہو سکتا ہے کہ جب عبد اللہ بن زید نے اپنا رویا بیان کیا تو اس وقت بھی صحیحی نے بھی اسکی تصدیق کی۔ اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ وہی اس سے پیشتر ہو چکی ہو اور عبد اللہ بن زید کا رویا بھی صحیح ثابت تھا۔ بلکہ حضرت عمر کا رویا تو اس سے بھی پیشتر کا ہوتا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے۔ کہ جب حضرت عمر نے اذان کے کلمات سن کر اپنا رویا بیان کیا تو حضرت صلح نے فرمایا تم سے پہلے وہی آگئی تھی کہ کلمات بتائے ہیں فقال له النبی صلح مسبقک ین الذلک الوحی

اذان کی ہیثیت خودی بخود بتائی ہے کہ یہ وہی آگئی ہے کہ کسی انسان کی رائے سے نہیں۔ حضرت صلح سے پہلے عبادت کے لئے بلانے کا یہ طریق کسی قوم میں مروج نہ تھا۔ بلکہ عام طور پر گھنٹہ بجانا زنگے میں بھونکنے کا رواج تھا۔ اگر انسان کی رائے سے یہ کام ہوتا تو پہلے مذاہب کی نقل ہوتی۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسلام پہلے مذاہب کی نقل نہیں کرتا۔ بلکہ ان کی اصلاح کرتے اور سے عجیب بات یہ ہے کہ اذان کے کلمات میں نہ صرف نماز کے لئے بلکہ نماز کے بعد بھی بلانے کا یہ طریق اسلام کے ہول کا بلند آواز سے پانچ وقت دنیا میں اعلان کیا جاتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان اصول کی صداقت کا کس قدر یقین قلب نبوی میں ہے کہ مسلمانوں کیلئے یہ ضروری تعبیر کرتے ہیں کہ جہاں کہیں وہ دنیا میں ہوں جہل میں ہوں یا شہر میں ہوں یا گاؤں میں۔ ان پاک اصول کا اعلان ان میں پانچ مرتبہ بلند آواز سے کریں اور یوں اسلام کے پیغمبر کو دیکھئے کہ ان دنوں تک پہنچا اس اور بھی صحیح ہے کہ پہلے اصول کا اعلان دنیا میں ہی شخص کر سکتا ہے جس کا دل ان کی صداقت کے یقین سے لبریز ہو۔ بلکہ اذان دو دو بارے ہے یعنی اذان میں سب کلمات کو دوہرایا جاتا ہے سو آخری لالہ الا للہ کے اور شروع میں اللہ اکبر چار دفعہ کہا جاتا ہے اور اقامت میرا یعنی تکبیر میں کلمات کو دوہرایا نہیں جاتا۔ بلکہ ایک ایک کلمہ کو دوہرایا جاتا ہے۔

ایک ایک کلمہ کو دوہرایا جاتا ہے۔ یہاں حدیث نمبر ۳۹۷ کا جو آگے آئی ہے صرف آخری کلمہ بیان کیا گیا ہے اور بلال نے شیخ الاذان وان یؤتوا لاقامۃ مکرر سادہ مقدر (باقی جلد ۱۶۳)

قَالَ لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ قَالَ ذَكُرُوا أَنْ يُعْلَمُوا وَقَدْ صَلَّوْا بِنِسْوَةٍ يَعْرفُونَهُ فَمَا كَرِهُوا أَنْ

یَوْمَ فَنَارًا أَوْ یَضْرِبُونَ أَوْ فَوْسًا فَأَمْرٌ یَلَاكُ أَنْ یُسْتَفْعَلَ الْأَذَانَ وَأَنْ یُؤْتَى الْأَقَامَةَ بِأَب

الْإِقَامَةِ وَاحِدًا وَالْأَقُولَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ (۱۸۰) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (۳۹) بِأَب

فَضْلِ التَّائِذِينَ (۳۹۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نُودِيَ

لِلصَّلَاةِ أَذْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهْضًا رَاحِيًا حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّائِذِينَ فَإِذَا قُضِيَ لَيْلًا أَذْبَلَ حَتَّى

إِذَا نُوبَ بِالصَّلَاةِ أَذْبَحَتْ حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّوْبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْرُجَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ

يَقُولُ أَذْكَرُ كُنْ أَذْكَرُ كُنْ أَيْ لَا تَكُنْ يَذْكُرُهُ حَتَّى يَضِلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى

بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِاللَّيْلِ أَوْ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذْ أُنَا سَمِعُوا وَاللَّيْلُ نَارًا

(۳۹۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْمَادِي أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَهُ

قَالَ لَهُ إِنِّي أَرَاكَ تَحْتُ الْعَمِّ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي عَمِّكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَإِذَا نَتِ لِلصَّلَاةِ

فَأَذْفَعُ صَوْتِكَ بِاللَّيْلِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَكَانَ صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ حِينَ وَلَا لَيْسَ لِشَيْءٍ الرَّشِدُ

ذَكَرَهُمْ - گوید حدیث بطور اختصار ساری ہے اور دو عجیبہ عجیبہ واقعات کا ذکر ایک ہی حدیث میں کر دیا گیا ہے۔ دیکھو حدیث نمبر ۳۹۹ پر نوٹ ۱۔ اس حدیث میں لفظ دی جی میں

جو ۱۷۹۴ء کے ہیں۔ دیکھو نوٹ سوائے اس کے کہ الفاظ الاقامة ایوب نے بڑے ہیں۔ جو ۹ء کے راویوں میں سے ہے۔ شیطان کا اذان کی آواز سے بے تحاشا

جھاگ عالم روحانی میں سیطرہ صبح جو جس طرح روشنی اور صوب سے زہریے جرموں کا فنا ہو جاتا۔ جب لفظ حق بلند ہوگا تو شیطان جو چھپ چھپ کرتا ہے تاب مقابلہ نہیں لے سکتا

اس میں تباہی ہے جس قدر انسان کلمہ حق کہنے میں یار کرنے میں جرات سے کام لے گا۔ ہی قدر بڑی کمزوری وسوسوں وغیرہ سے جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں بچے گا۔ کلمہ فاضل

جہاں آواز کو لگا جاتا ہے جو درجہ خارج ہوتی ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ شیطان ایک نیم مرئی جاتی ہے۔ اس کے ضابطہ کو انسان کے ضابطہ پر قیاس کرنا اور اس لفظ کو ظاہر پر عمل کرنا درست نہیں

اور صراط اور اضطرطہ کے معنی استخفاف بھی آتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے انہ سئل عن شی فاضل بالوسائل جہا میں اشیر میں نے اس استخفاف بہ وانکر

قرآن اور اس کی تشریح میں لکھتے ہیں ہون قلوبہم کلہم فلان فاضل بہ فلان وہوان یجمع شفتیہ ویجمع من بینہما صونیا شبہ الصططہ علی سبیل الاستخفاف الاستخفاف

یعنی اضطرطہ ایسے موقع پر ہوتے ہیں کہ کسی شخص کے کلام پر دوسرا اپنے ہونوں کو اکٹھا کر کے استخفاف اور استہزاء کے طور پر ان سے ایسی آواز نکالے جو خارج ہونوالی ہواس علی غنی ہونیں

شیطان کے ضابطہ سے مراد اس کا استخفاف اور استہزاء ہی ہے۔ فتح الباری میں ہے یخجل انہا بحیادۃ عن شدۃ نقضہ یعنی ضابطہ سے مراد اس کے بجائے کسی شست ہر آدمی کی ایک

روایت میں بجائے ضابطہ کے لفظ صلا ہے۔ ولہ حصصا جس کے معنی شست مدو یعنی دوڑنے کی تیزی ہیں۔ اور طبعی قول ہے کہ شیطان کے اذان کی آواز نہ سنے گا ایسی آواز

تشیبہ دی ہے جو انسان کے کانوں کو بھر دیتی ہے اور اسکی تفریح کے لئے ضابطہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آج بھی بیشتر شبہ طبع میں جو اذان کو سن کر کئی بہت سہا پر غور کر کے کہ اس میں خدا کی

عظمت اور توحید کا ذکر ہے اس کا استخفاف کرتے ہیں۔ اور در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی ہی تفسیر ہے جو عنوان باب میں بیان ہوا۔ اذانا ذمہ اللہ الصلوۃ اتخذ دھا ہنوا ولہا

۱۷۹۴ء میں بیان فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ جب نماز میں وسوسں پیدا ہوں تو تنہا ہی میں انسان آواز کو قدر سے ادبھا کرے۔ کیونکہ کبیر اور اذان بلند آواز سے کسی جاتی ہے کہ شیطان جھاگ جانا ہوا اور آواز

آواز سے نماز میں توجہ کو قائم رکھنا ہر نماز میں جو نماز میں انسان کی پوری حکومت اپنی توجہ پر ہوتی ہے۔ ایک شخص لگا لگا کر اذان سے راجھا تو عمر بن عبد العزیز سے اسے روکا کہ نہ کہنے میں ملاز کی بلند

رک جاتی ہے۔ کلمہ قرآنی نے دلائل سے مراد ملائکہ کو لیا ہے۔ یعنی جن و انسان اور فرشتے اسکی گواہی دیں گے اور عام بھی ہو سکتا ہے اور ہر نماز میں انسان علی ہے جسے ان من شی الا یسبح محمد میں

مطلب نہیں کہ قیامت کے دن پھر وغیرہ گواہی کے لئے پیش گے اور جن اور انسان اور فرشتوں کی گواہی دیں گی کہ جن اس سے جھاگے ہیں انشاؤں پرانام جنت ہونا ہے اور فرشتے اس کی گواہی لکھتے ہیں

بقرہ صفر نمبر ۱۳۳
لفظ اور بڑے ہائے
ہیں الا الا قامة
یعنی سوائے اقامت
کے اور یہ لفظ عشا
نمبر ۳۹ میں نہیں
مطلب یہ ہے کہ
اذان کے کلمات
دوبارے جاتے ہیں
اور تکبیر میں ایک
ایک دفعہ کے جاتے
ہیں۔ سوائے کلمہ
اقامت کے جو قدر
فاخت الصلوۃ
ہے یعنی اس کلمہ کو
تکبیر میں دہرایا جاتا
ہے اور اذان میں
اجزا میں اللہ اکبر
جو کلمہ چار دفعہ کہا
جاتا ہے۔ اسلئے تکبیر
میں ابتدا میں اللہ اکبر
دو دفعہ ہے +

دوسری جگہ
معلوم ہوتا ہے کہ کلام کو
اذان کے کلمات دودو
بار کہتے اور اقامت کے
کلمات ایک بار کہتے
کلمہ سیدقت نہیں رہا
کیا جب نانس وغیرہ کا
اس حدیث میں لفظ دی جی میں
اذان کا اذان کی آواز سے بے تحاشا
جھاگ عالم روحانی میں سیطرہ صبح جو جس طرح روشنی اور صوب سے زہریے جرموں کا فنا ہو جاتا۔ جب لفظ حق بلند ہوگا تو شیطان جو چھپ چھپ کرتا ہے تاب مقابلہ نہیں لے سکتا
اس میں تباہی ہے جس قدر انسان کلمہ حق کہنے میں یار کرنے میں جرات سے کام لے گا۔ ہی قدر بڑی کمزوری وسوسوں وغیرہ سے جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں بچے گا۔ کلمہ فاضل
جہاں آواز کو لگا جاتا ہے جو درجہ خارج ہوتی ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ شیطان ایک نیم مرئی جاتی ہے۔ اس کے ضابطہ کو انسان کے ضابطہ پر قیاس کرنا اور اس لفظ کو ظاہر پر عمل کرنا درست نہیں
اور صراط اور اضطرطہ کے معنی استخفاف بھی آتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے انہ سئل عن شی فاضل بالوسائل جہا میں اشیر میں نے اس استخفاف بہ وانکر
قرآن اور اس کی تشریح میں لکھتے ہیں ہون قلوبہم کلہم فلان فاضل بہ فلان وہوان یجمع شفتیہ ویجمع من بینہما صونیا شبہ الصططہ علی سبیل الاستخفاف الاستخفاف
یعنی اضطرطہ ایسے موقع پر ہوتے ہیں کہ کسی شخص کے کلام پر دوسرا اپنے ہونوں کو اکٹھا کر کے استخفاف اور استہزاء کے طور پر ان سے ایسی آواز نکالے جو خارج ہونوالی ہواس علی غنی ہونیں
شیطان کے ضابطہ سے مراد اس کا استخفاف اور استہزاء ہی ہے۔ فتح الباری میں ہے یخجل انہا بحیادۃ عن شدۃ نقضہ یعنی ضابطہ سے مراد اس کے بجائے کسی شست ہر آدمی کی ایک
روایت میں بجائے ضابطہ کے لفظ صلا ہے۔ ولہ حصصا جس کے معنی شست مدو یعنی دوڑنے کی تیزی ہیں۔ اور طبعی قول ہے کہ شیطان کے اذان کی آواز نہ سنے گا ایسی آواز
تشیبہ دی ہے جو انسان کے کانوں کو بھر دیتی ہے اور اسکی تفریح کے لئے ضابطہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آج بھی بیشتر شبہ طبع میں جو اذان کو سن کر کئی بہت سہا پر غور کر کے کہ اس میں خدا کی
عظمت اور توحید کا ذکر ہے اس کا استخفاف کرتے ہیں۔ اور در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی ہی تفسیر ہے جو عنوان باب میں بیان ہوا۔ اذانا ذمہ اللہ الصلوۃ اتخذ دھا ہنوا ولہا
۱۷۹۴ء میں بیان فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ جب نماز میں وسوسں پیدا ہوں تو تنہا ہی میں انسان آواز کو قدر سے ادبھا کرے۔ کیونکہ کبیر اور اذان بلند آواز سے کسی جاتی ہے کہ شیطان جھاگ جانا ہوا اور آواز
آواز سے نماز میں توجہ کو قائم رکھنا ہر نماز میں جو نماز میں انسان کی پوری حکومت اپنی توجہ پر ہوتی ہے۔ ایک شخص لگا لگا کر اذان سے راجھا تو عمر بن عبد العزیز سے اسے روکا کہ نہ کہنے میں ملاز کی بلند
رک جاتی ہے۔ کلمہ قرآنی نے دلائل سے مراد ملائکہ کو لیا ہے۔ یعنی جن و انسان اور فرشتے اسکی گواہی دیں گے اور عام بھی ہو سکتا ہے اور ہر نماز میں انسان علی ہے جسے ان من شی الا یسبح محمد میں
مطلب نہیں کہ قیامت کے دن پھر وغیرہ گواہی کے لئے پیش گے اور جن اور انسان اور فرشتوں کی گواہی دیں گی کہ جن اس سے جھاگے ہیں انشاؤں پرانام جنت ہونا ہے اور فرشتے اس کی گواہی لکھتے ہیں

يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَابُ الْاِسْتِهَامِ فِي الْاَذَانِ وَيَذْكُرُ اَنَّ قَوْمًا اخْتَفَوْا فِي الْاَذَانِ

واجب ہوگی باب اذان کے لئے قرعہ ڈالنا اور بیان کیا جاتا ہے کہ لوگوں نے اذان میں اختلاف کیا

فَاَقْرَعُ بَيْنَهُمْ سَعْدٌ (۴۰۵) عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

تو سعد نے انکے درمیان قرعہ ڈالا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفْوِ الْاَوَّلِ لَمْ يَجِدُوْنَ اِلَّا اَنْ يَسْتَهْمُوْا عَلَيْهِ لَا يَسْتَهْمُوْا

اگر لوگ جانتے کہ اذان میں اور صف اول میں کیا رٹا ہے پھر (فیصلہ کی) کوئی صورت نہ پاتے سوائے اسکے کہ قرعہ ڈالیں تو آپ

وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي التَّحْيِيْرِ لَا سَبَقُوْا اِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي الْعَتَةِ وَالصَّبْرِ لَا تَوَهَّمَا

قرعہ ڈالنے اور اگر جانتے کہ نماز کے لئے سویرے جانے میں کیا راجح ہے تو اسکے لئے ایک سویرے سے آگے بڑھتے اور اگر جانتے کہ عشا اور فجر میں کیا رٹا ہے

وَلَوْ جِوَا بَابُ الْكَلَامِ فِي الْاَذَانِ وَكَلَّمَ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ فِي اَذَانِهِ

تو دو دفعوں میں آئے گوگھٹوں کے لہلہ کرنا ہوتا ہے باب اذان میں بولنا اور سلیمان بن صرد نے اذان دینے جوئے کلام کیا

وَقَالَ الْحَسَنُ لَا يَأْسُ اَنْ يَضْحَكَ وَهُوَ يُؤْذِنُ اَوْ يَقِيْمُ (۴۰۶) عَنْ

اور حسن کہتا ہے کہ کوئی ہرج مرج نہیں کہہ سکتا اور وہ اذان دے رہا ہو یا تکبیر کہہ رہا ہو

عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ خَطَبْنَا اِبْنَ عَتَّاسٍ فِي يَوْمٍ رَزَعٍ فَلَمَّا بَلَغَ

عبداللہ بن حارث سے روایت ہے کہ ہمیں عبداللہ بن عتاس نے کچھ ٹپکے دن خطبہ سنایا تو جب مؤذن

المؤذِنُ حَمِيٌّ عَلَى الصَّلَاةِ فَامْرَأَةٌ اَنْ يَنْدِيَ الصَّلَاةُ فِي الرِّجَالِ فَظَنَرَ الْقَوْمُ

حتی علی الصلوٰۃ تک پہنچا تو اسے کھدیا کہ کھارے الصلوٰۃ نے الرجال (غزار اپنی اپنی منزلوں میں بڑھے لو) تو لوگ

بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ فَقَالَ فَعَلْ هَذَا مِنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ

ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے انہوں نے کہا یہ اس نے کیا جو اس سے بہتر تھا

(بقیہ از صفحہ نمبر ۱۶۴)
دعوت نامہ کہنے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اب آنحضرت صلعم کے بعد کوئی نبی نہیں ورنہ اس کی نبوت کے اقرار کا اعلان بھی ضروری ہوتا۔ جو لوگ آنحضرت صلعم کے بعد نبوت کے قائل ہیں۔ وہ جب تک شریعت کو تبدیل نہ کریں نبوت کے قائل نہیں ہو سکتے کیونکہ انہیں دنیا کو یہ علم دینا چاہیے کہ اب صرف محمد رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کافی نہیں۔ بلکہ فلاں نے نبی کی نبوت کا اقرار بھی ضروری ہے یہ کیا کہ عقیدہ تو یہ ہے کہ آنحضرت کے بعد جو

بہت فلاں نبی کو مانا جائے اس وقت تک انسان دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اذان میں لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ صرف محمد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی ضروری ہے ان لوگوں کی اذان ہی ان پر تمام حجت کر رہی ہے کہ آنحضرت صلعم کے بعد نبوت کا عقیدہ جھوٹا ہے۔ جس کا وہ خود بھی دنیا میں اعلان نہیں کر سکتے اذان نے صرف اصولی رنگ میں دعوت اسلام کو کمال کیا ہے اور اس کے دونوں ستونوں اللہ تعالیٰ کی توحید اور محمد رسول اللہ کی رسالت کا ذکر کیا ہے بلکہ عملی رنگ میں بھی اس کو کمال کیا ہے کیونکہ اسکے ساتھ ہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا تو اصراف منہ سے کر لینا کافی نہیں۔ بلکہ عملی رنگ میں اس کو لانا بھی ضروری ہے اور نماز اس کا عملی رنگ ہے۔ کیونکہ نماز اصل میں اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور یہی تعلق ہی انسان کو اسکے کمال حقیقی تک پہنچاتا ہے اسی لئے حتی علی الصلوٰۃ کے بعد حتی علی اللذالحم کہا جی ہے فلاح دینی اور دنیوی خیرات کا لئے اندر بیچ کر لینا ہے یا اپنے کمال حقیقی کو حاصل کرنا اسی نماز سے حاصل ہوتی ہے جو توحید الہی کو انسان کی عملی زندگی کے اندر داخل کرتی ہے۔ اور دعائے اذان میں دعوت نامہ یا کمال دعوت کے ذکر کے ساتھ صلوٰۃ قائمہ کا ذکر اس طرف اشارہ ہے اور صلوٰۃ کی بجائے صلوٰۃ قائمہ ذرا زیادہ نمازی خوبی کی اتمام سے پیدا ہوتی ہے اور اتمام صلوٰۃ نماز میں حالت خشوع کو پکا ہتی ہے۔ یعنی ظاہری ارکان کی تعویل کے ساتھ دل کی حالت بھی ایسی ہو کہ انسان اپنے آپ کو اپنے مولے کے حضور حاضر سمجھتا ہو۔ دے ائے اذان میں اس اندک دیکھا ہے جو کمال دعوت اور صلوٰۃ قائمہ کا رہ ہے اور وہ ہے جو تدریجاً ایک چیز کو اس کے کمال تک پہنچاتا ہے تا اشارہ یہ مضمون ہوتا ہے کہ یہ تدریج نامہ بھی کمال کو پہنچتی اور اسلام دنیا کے کما روں تک پہنچا ہلے گا۔ اور صلوٰۃ قائمہ بھی اپنے کمال کو پہنچتی ہے۔ جیسے جو شخص نماز کو قائم کرے وہ بھی کمال کو حاصل کر لینگا۔ ان دونوں کے رہ کو پکارنا گویا یوں دیکھا کہ اسے اللہ تعالیٰ کو اپنے کمال کو پہنچا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس رسول کے لئے دعا ہے جو اسی دعوت نامہ اور اس صلوٰۃ قائمہ کا دنیا میں لا بھلا ہے۔ کیونکہ سب سے بڑھ کر اس کا احسان نسل انسانی پر ہے اور وہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے وسیلہ اور فضیلت عطا فرمائے وسیلہ قریب ہے جیسا اس آیت میں وارد ہوا اللہ الوسیلۃ وہ لوگ سخت غلطی کرتے ہیں جو وسیلہ صمد پر لیتے ہیں۔ کیا محمد رسول اللہ کے لئے وسیلہ کی دعا کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی پر ہے۔ قرب الہی کے ساتھ دوسری دعا فضیلت دینا میں مرتبہ بلند کی ہے۔ قرب الہی اور فضیلت کے مراتب جو کچھ غیر متماہی ہیں اسلئے تاقیامت آپ کے لئے یہ دعا رہی۔ اور آپ بھی یوں ما فیوما زیادہ قرب الہی اور بڑے مراتب کو حاصل کرنے چاہئیں گے اور تمام محمود کی دعائیں یہ دونوں تیس جیسے ہیں آخرت کا مقام محمود بھی جو قرب الہی ہے اور دنیا کا مقام محمود بھی جو دنیا میں آپ کی فضیلت کا اعتراف ہے اور دعا فحاشا میں دنیا میں آپ کی فضیلت کا اعتراف دہر دہر ہی رہا ہے اور آخر ذرا زیادہ کچھ اس طرح دعا کر نیوے کیلئے میری شفاعت واجب ہوگی تو چونکہ دل سے ایسی دعا کرنا ان چیزوں پر عمل بھی کر لینگا اسلئے وہ رسول اللہ کے شفاعت کا افتخار ہوتا ہے۔ اس کے لئے لازم نہیں آتا کہ اور کسی کے لئے شفاعت نہیں ہے۔

۱۔ ابن عباس کے صحیح بخاری میں ہے کہ اگر کسی نے نماز کے وقت سے پہلے کھانا کھا لیا اور نماز کے وقت تک کھانا کھانے سے روک لیا تو اسے نماز کی نیت سے کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔

۲۔ اگر کسی نے نماز کے وقت سے پہلے کھانا کھا لیا اور نماز کے وقت تک کھانا کھانے سے روک لیا تو اسے نماز کی نیت سے کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔

۳۔ اگر کسی نے نماز کے وقت سے پہلے کھانا کھا لیا اور نماز کے وقت تک کھانا کھانے سے روک لیا تو اسے نماز کی نیت سے کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔

۴۔ اگر کسی نے نماز کے وقت سے پہلے کھانا کھا لیا اور نماز کے وقت تک کھانا کھانے سے روک لیا تو اسے نماز کی نیت سے کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔

۵۔ اگر کسی نے نماز کے وقت سے پہلے کھانا کھا لیا اور نماز کے وقت تک کھانا کھانے سے روک لیا تو اسے نماز کی نیت سے کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔

۶۔ اگر کسی نے نماز کے وقت سے پہلے کھانا کھا لیا اور نماز کے وقت تک کھانا کھانے سے روک لیا تو اسے نماز کی نیت سے کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔

۷۔ اگر کسی نے نماز کے وقت سے پہلے کھانا کھا لیا اور نماز کے وقت تک کھانا کھانے سے روک لیا تو اسے نماز کی نیت سے کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔

۸۔ اگر کسی نے نماز کے وقت سے پہلے کھانا کھا لیا اور نماز کے وقت تک کھانا کھانے سے روک لیا تو اسے نماز کی نیت سے کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔

۹۔ اگر کسی نے نماز کے وقت سے پہلے کھانا کھا لیا اور نماز کے وقت تک کھانا کھانے سے روک لیا تو اسے نماز کی نیت سے کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔

۱۰۔ اگر کسی نے نماز کے وقت سے پہلے کھانا کھا لیا اور نماز کے وقت تک کھانا کھانے سے روک لیا تو اسے نماز کی نیت سے کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔

وَأَنَّهَا عَزْمَةٌ بَابُ أَذَانِ الرَّعْمَةِ إِذَا كَانَ لِمَنْ يُخْبِرُهُ (۲۰۷) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ

اور ترجمہ واجب ہے کہ بَابُ أَذَانِ الرَّعْمَةِ اے کوئی خبر دینے والا ہو

عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ لَنْ يَلِيَنَّكَ الْيَوْمُ وَلَا الْيَوْمُ مِنْ بَيْتِكَ وَلَا يَأْتِيَنَّكَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ يَكُ

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بَلَّالُ اے کہ تو اذان دیتا ہے تو تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ

ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ

ابن ام مکتوم اذان دے اور وہ نابینا تھا اذان نہ دیتا تھا یہاں تک کہ اسے کہا جاتا صبح ہو گئی صبح ہو گئی

بَابُ الْأَذَانِ لِلْفَجْرِ (۲۰۸) عَنْ حَفْصَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا

باب صبح کے بعد اذان حضرت حفصہ سے روایت ہے کہ

أَعْتَكَفَ الْيَوْمَ لِلصُّبْحِ وَبَدَأَ الصُّبْحَ صَلَّى رَعْتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَقَامَ الصَّلَاةُ

مؤذن صبح کیلئے (اذان دیکر) بیٹھتا اور صبح ظاہر ہوجاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو ہلکے رعتیں پڑھتے قبل اس کے کہ جماعت کھڑی ہو

(۲۰۹) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقْرَأُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي رَعْتَيْنِ

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو مختصر رعتیں پڑھتے

خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالْإِقَامَةِ مِنَ صَلَاةِ الصُّبْحِ (۲۱۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (مُتَكَرِّرًا)

نماز صبح کی اذان اور اقامت کے درمیان دیکھو حدیث نمبر ۲۰۹

بَابُ الْأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ (۲۱۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

باب صبح سے پہلے اذان عبد اللہ بن مسعود سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے

وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانَ بَلَّالٍ مِنْ سُكُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّنُ

اگر آپ نے نماز سے پہلے کسی کو بلال کی اذان اس کی سحر سے نہ روکے

أَوْ يُنَادِي بِلَيْلٍ لِيُرْجَعَ قَوْمُكُمْ وَلَيْسَ بِنَائِبٍ قَوْمُكُمْ وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ الْفَجْرُ أَوْ الصُّبْحُ

رات میں اذان دیتا ہے یا بیکار تاہم تاکہ تم میں سے تمہارے پڑھنے والے کو لوٹانے اور تم میں سے سونے والے کو جگانے اور جو یا صبح کا ظاہر ہو

قَالَ بِأَصَابِعِهِ وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقِ وَطَاطَأَ إِلَى اسْفَلِ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا وَقَالَ زَاهِدٌ

یوں نہیں اور اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا اور انگوٹھ کی طرف اٹھا اور نیچے کی طرف جھکا یہاں تک کہ اس طرح ظاہر ہو جائے اور نہ ہونے

بِسَبَابِئِهِ أَحَدًا مَأْفُوقٍ الْآخِرَى ثُمَّ مَدَّهَا عَنِ عُنُقِهِ وَشَمَّاهُ (۲۱۲) عَنْ

اپنے دونوں سببوں سے کہ ان کا ایک دوسرے کے اوپر تھا اشارہ کیا پھر ان کو اپنے دامن سے اترانے اور اپنے بائیں چھینچا

عَائِشَةَ (مُتَكَرِّرًا) بَابُ الْإِقَامَةِ وَالْأَذَانِ (۲۱۱) عَنْ عَبْدِ

دیکھو حدیث نمبر ۲۱۰ باب اذان اور اقامت کے درمیان کتنا وقت ہو عبد اللہ

ابْنِ مَعْقِلٍ الزُّبَيْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ كُلِّ أَذَانٍ صَلَاةٌ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ

ابن معقل مزنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دو اذانوں کے درمیان نماز سے تین بار (فارک) کے لئے جو چاہے

اس کی مکرر روایت ۱۸۵ میں ہے جہاں یہ فقہ بین کل اذانین صلوٰۃ دو مرتبہ دوسرے اگر لفظ ہیں ضم قال فی الثالثۃ لمن شاء

آگام کرے اور سونے والے کو متنبہ کر دے کہ وہ نماز کے لئے تیار ہو جائے اور ابن ام مکتوم طلوع فجر کے بعد اذان دیتے ہیں جب لوگ انہیں کہتے کہ صبح ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ طلوع فجر کے بعد تک بھی کھانا پی سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ طلوع فجر کی ابتداء قرآن کریم میں ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جب اچھی طرح سفیدی نمودار ہو جائے تب کھانا پینا چھوڑ دو۔ اسی لئے وہاں لفظ حتیٰ یتذین لکھنا استعمال فرمایا ہے اور تیسری ایک چیز کا اچھی طرح واضح ہونا ہے۔ یہاں بن عمر کی روایت کے الفاظ بنا دی ابن ام مکتوم تک آئے ہیں۔

بَابُ الْإِقَامَةِ وَالْأَذَانِ (۲۱۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ الزُّبَيْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ كُلِّ أَذَانٍ صَلَاةٌ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ

ابن معقل مزنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دو اذانوں کے درمیان نماز سے تین بار (فارک) کے لئے جو چاہے

اس کی مکرر روایت ۱۸۵ میں ہے جہاں یہ فقہ بین کل اذانین صلوٰۃ دو مرتبہ دوسرے اگر لفظ ہیں ضم قال فی الثالثۃ لمن شاء

کتب الاحادیث

۱۸۳	عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (مُتَّكَرٌ - ۳۳۳) بَابٌ مِنْ أَنْظَرِ الْأَقَامَةِ (۱۸۳)	دیکھو حدیث نمبر ۳۳۳	باب جو بخیر کی انتظار کرے
	عَنْ عَائِشَةَ (مُتَّكَرٌ - ۲۰۹) بَابٌ بَيْنَ كُلِّ آذَانَيْنِ صَلَاةٌ مِنْ شَاءَ (۱۸۵)	دیکھو حدیث نمبر ۲۰۹	باب ہر دو آذانوں کے درمیان نماز ہے اس کے واسطے جو چاہے
	عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعْقِلٍ (مُتَّكَرٌ - ۲۱۱) بَابٌ مَنْ قَالَ لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ	دیکھو حدیث نمبر ۲۱۱	باب جس نے کہا کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اسے ہی مؤذن اذان دے
	وَاحِدٌ (۲۱۲) عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	دیکھو حدیث نمبر ۲۱۲	باب ایک بن حویرث سے روایت ہے کہ میں نبی قوم کے چند آدمیوں میں سے ایک کی خدمت میں گیا اور ان سے کہا کہ
	فِي نَفْرٍ مِنْ قَوْمِي فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عَشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَحِيمًا زَوِيقًا فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا		پہن ہم آپ کے پاس میں رات طہیرے اور آپ بہت مہربان اور نرم دل تھے ہم نے توجیب آپ کے ہمارا شوق
	إِلَى أَهْلِنَا قَالَ رَجِعُوا فَاكْرَهُتُمْ وَأَعْلَمْتُمْ وَعَلِمْتُمْ وَصَلُّوا فَإِذَا أَحْضَرَتِ الصَّلَاةُ		اپنے گھر والوں کی طرف دیکھا کہ لوٹ جاؤ لیکن میں نہیں ہوا اور انہیں تعلیم دے دو اور نماز پڑھو اور جب نماز کا وقت ہو تو
	فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤَمِّمِكُمْ أَكْبَرُكُمْ بَابُ الْأَذَانِ لِلْمَسَافِرِ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً		تمہارے لئے تم میں سے ایک اذان دے اور تم میں سے بڑا تمہاری امامت کرے
	وَالْأَقَامَةُ وَكَذَلِكَ بَعْرَفَةٌ وَجَمْعٌ وَقَوْلُ الْمُؤَذِّنِ الصَّلَاةُ فِي الرَّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ		باب مسافر جب بہت ہوں تو ان کے لئے اذان اور
	الْبَارِدَةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ (۱۸۶) عَنْ أَبِي ذَرٍّ (مُتَّكَرٌ - ۳۵۹) (۲۱۳) عَنْ مَالِكِ	دیکھو حدیث نمبر ۳۵۹	باب
	ابن الحویرث قال أتى رجلاً من النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر		ابن حویرث سے روایت ہے کہ دو شخص نبی کریم صلعم کے پاس آئے
	فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتم خرجتما فاذنا لئلا يكون لغيركما		تو نبی کریم صلعم نے فرمایا کہ جب تم دونوں نکلو تو اذان دو پھر انہی کو

یہاں حدیث
کر کے الفاظ یہ ہیں
کان المؤذن اذا
اذن قام ناس من
اصحاب النبی صلعم
یبتدئون وذل السواد
حقی یخرج النبی
صلعم وھو کذلک
یصلون وکتابین قبل
المغرب ولعن یکن
بین الاذان والاقامة
شیئاً اور ایک وقت
میں ہر دو ایک دوسرے
الاکتیل اس آخری
جذرا مطلب یہ ہے
کہ اذان اور اقامت
کے درمیان چھوٹا وقفہ
ہونا چاہیے یا چھوٹی سی
نماز پڑھی جانی چھی
اور لعن بین الاذان
والاقامة شیئ کے
مغنی میں ہی ہے کہ
بہت وقفہ نہ ہونا چاہیے
بلکہ روایت کر کے
الفاظ کو زیادہ ہر کس
دیوں صلعم اذان
سکتا المؤذن بالاذان
من صلوة الفجر قائم
فکر رکعتین خفیفاً
قبل صلوة الفجر بعد

ان یستبین الفجر ثم اضطلع علی شفقہ الایمن حتی یأتیہ المؤذن لئلا یقامت یعنی جب مؤذن فجر کی پہلی اذان سے فاخر ہو گا موش ہو جائے تو نبی کریم صلعم کہتے ہو کر وہ بخیر کرے
صبح کی نماز سے پہلے چڑھتے بعد اسکے کو فجر ظاہر ہو جائے پھر ایں کر وٹ پڑے جتنے یہاں تک کہ مؤذن آپ کے پاس تکبیر کے لئے آتا ہے کہ وٹ لینا ایک تو کچھ کام کے لئے تھا۔ تاکہ صبح کی نماز سے پہلے
موجب فوت ہو۔ کیونکہ اس سے پہلے آپ تہجد کی نماز میں مصروف ہوتے تھے۔ دوسرا نمازیوں کے جمع ہونے کے واسطے تھا۔ ۱۸۶ دیکھو حدیث نمبر ۳۵۹ پر نوٹ + ۱۸۷ مسافر میں ایک ہی مؤذن
اذان سے۔ عمر بن حفص میں بھی ایک ہی مؤذن اذان دیتا ہے۔ اور حدیث میں بھی نظر سے گذر نہیں بلکہ حضرت کا ذکر ہے۔ کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں جاؤ تو ایسا ایسا کرو۔ اور اسی میں ہے کہ اذان
کا وقت ہو تو تم میں سے ایک اذان دے۔ مثلاً عرفان باب کا بھی یہی مطلب ہو کہ سفر میں تو ایک ہی مؤذن ہو۔ اور سفر میں زیادہ ہوں۔ یہ سیکھ لیں پھر کیا ہے۔ ہم تم سے ۱۸۷
یہ وہ زمانہ ہے جب آنحضرت صلعم غزہ ہو کر نئے تیار کر رہے تھے۔ اس وقت آپ نہ صرف بادشاہ ہی تھے۔ بلکہ شہزادہ لڑائی کے لئے تیار رہنا پڑتا تھا۔ بائیں اذان سے زیادہ بھرتی نہیں آیا
وہی کینت اور محبت اور نرم دلی موجود ہے۔ جو تنہائی اور مکیسی کے وقت میں تھی۔ رحمدلی اور محبت بھی وہی زیادہ قابل عزت ہے جو بادشاہت کے مقام پر پہنچ کر دکھائے۔ ۱۸۸ اذان اور اقامت حالت سفر
میں نماز باجماعت کیلئے احادیث میں بائیں ثابت ہے۔ لیکن تنہا نماز پڑھنے کے واسطے اذان کی عبادت یا اذان مسافر کے واسطے جماعت کا شرط جو امام اذان میں نہیں ہے۔ البتہ ابن عمر کا قول حضرت عبد اللہ
میں مسافر جمع کے ساتھ صبح کی نماز میں صرف اقامت ہے۔ لیکن نبی کریم کی کوئی حدیث ایسی نہیں تھی۔ ابو سعید خدری کی حدیث جو باب فی الصلوات بالاذان میں ہے۔ اس میں فرمایا کہ اذان اور اقامت بائیں ثابت
ہے۔ ۱۸۹ ثلاثہ ابو حنیفہ شافعی اور امام کاہنی مذہب ہے۔ اقامت کے بارے میں لیکھا اختلاف نہیں ہے کہ وہ سفر اور جماعت دونوں کے واسطے ہے۔ بلکہ بعض عرف اور مؤذن میں جہاں موسم میں سفر پہلے
مقام پر فطر و عصر کی نماز میں جمع کی جاتی ہیں۔ اور دوسرے پر نماز عشاء کی اذان اور اقامت کا حکم ہے۔ ۱۹۰ فقہ حنفی اختلاف لفظی ہے اور ظہر کا لفظ یہاں نہیں اور حتی واینا فی التلوی کی بجائے حتی
سادوی الظل التلوی ہاں تک کہ سائے ٹیلوں کے برابر ہو گیا۔ اور فقہ حنفی کے کتب الفاظ متبصر + اور اصل حدیث باب لیلہ اور اظہر میں کہ کوئی کہنے اذان سے حالت سفر میں نماز پڑھی
اور اس میں بھی ہے کہ یہ اذان ظہر کے واسطے تھی + ۱۹۱ اس سے معلوم ہوا کہ دو بھی ہوں تو جماعت سے نماز پڑھی چنانچہ اس حدیث کو ہر ۱۹۲ پر لا را نام بخاری نے ہی اہمیت لائی ہے۔

۱۸۷ (۱۸۷) عَنْ قَالَ مُتَكَرِّرًا (۲۱۲) (۲۱۳) عَنْ نَافِعٍ قَالَ أَدَانَ ابْنُ عُمَرَ فِي
 دیکھو حدیث نمبر ۲۱۲ ع
 الفاظ میں یہ عن مالک
 قال ابیہما النبی صلی
 ونحو شیعہ متقاربوں
 فانما عندنا عشرين
 یوما ولبتہ وكان
 رسول اللہ صلی علیہ
 وعلیہ وسلم یوما
 رقیقا فلما ظن انہ
 قد اشتقنا اهلنا وادبنا
 قد اشتقنا مالنا
 عن ترکنا بعدنا فاحسنا
 فقال الرجل الایہمکم
 فانہما وینہم وعلیہم
 ومن ہم و ذکر اشیاء
 احفظہا اولیٰ احفظہا
 وصلو اما را بقونی
 اصلی فانما حضرت
 الصلوۃ فلیؤذن
 لکد احسن کہ ولینوکہ
 اکبر کعبۃ علیہ
 معلوم ہوتا ہے کہ صلوا
 فی الرجال اذان کے
 اخیر میں پکا گیا۔ اور
 مسلم کی روایت میں بھی
 ہے بقول فی اخذتہ
 اور نمبر ۲۱۲ میں ہے کہ
 ابن عباس نے صحیح علی
 الصلوۃ کی جگہ صلوا
 فی الرجال کہنے کا حکم
 دیا تو انہیں سے بھی یہی
 مراد ہو سکتی ہے کیونکہ
 صحیح علی الصلوۃ بھی
 اذان کے اخیر میں ہی
 آتا ہے مطلب یہ ہے
 کہ اگر زیادہ ٹھنڈی ہو
 میں یا بارش میں یا سفر
 میں نماز جماعت میں
 حاضر نہ ہو سکیں تو پھر

(۱۸۷) عَنْ قَالَ مُتَكَرِّرًا (۲۱۲) (۲۱۳) عَنْ نَافِعٍ قَالَ أَدَانَ ابْنُ عُمَرَ فِي

دیکھو حدیث نمبر ۲۱۲ ع

لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِيضْحَانٍ ثُمَّ قَالَ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ وَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَدِّئًا يُؤَدِّنُ ثُمَّ يَقُولُ عَلَىٰ آثَرِهِ الْأَصْلُوفِي الرَّحَالِ وَاللَّيْلَةِ

مؤذن کو حکم دیتے کہ اذان لے

الْبَارِدَةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ وَالسَّفَرِ (۱۸۸) عَنْ أَبِي حَبِيْبَةَ (مُتَكَرِّرًا - ۲۴۲) بَابُ هَلْ

دیکھو حدیث نمبر ۲۴۲ ع

يَتَّبِعُ الْمُؤَدِّنُ فَأَهُ هَهُنَا وَهَهُنَا وَهَلْ يَلْتَفِتُ فِي الْأَذَانِ وَيُدْ كَرَعْنُ بِلَاكٍ

مؤذن اپنا منہ اور دھڑھ پھیرے اور کیا اذان میں دوسری طرف دیکھ سکتا ہے

أَنَّهُ جَعَلَ اصْبِعِي فِي أُذُنِيهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَجْعَلُ اصْبِعِي فِي أُذُنِيهِ وَقَالَ

ابن دو انگلیاں اسے کانوں میں رکھیں اور ابن عمر اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں نہیں رکھتے تھے

أَبْرَاهِيمُ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَدِّنَ عَلَىٰ غَيْرِ وُضُوْعٍ وَقَالَ عَطَاءُ الْوُضُوْعُ حَيْثُ وَسُنَّةٌ وَ

ابراہیم کہتا ہے کہ کوئی ہرج نہیں کہ بغیر وضو کے اذان لے اور عطاء کہتا ہے کہ وضو ضروری اور سنت ہے

قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ أَحْيَانِهِ (۲۱۵)

حضرت عائشہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب وقتوں میں اللہ کا ذکر کرتے تھے

عَنْ أَبِي حَبِيْبَةَ أَنَّهُ رَأَى بِلَاكًا يُؤَدِّنُ فَجَعَلَتْ تَبَعَهُ فَأَهُ هَهُنَا وَهَهُنَا بِالْأَذَانِ

ابو حبیبہ سے روایت ہے کہ سینے بلال کو اذان دیتے ہوئے دیکھا تو میں اس کی ہر وی کرنا دیکھا جب وہ اپنا منہ اذان میں لہرا دھڑھ پھیرتا تھا

بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ فَأَتَيْنَا الصَّلَاةَ وَكُرَاهُ ابْنُ سَبْرٍ أَنْ يَقُولَ فَأَتَيْنَا الصَّلَاةَ وَيَقُولَ

باب کسی شخص کا کہنا کہ نماز ہم سے جاتی رہی اور ابن سبر نے ناپسند کیا ہے کہ کہے ہم سے نماز جاتی رہی اور کہے کہ

لَمْ نُدْرِكْ وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَبُ (۲۱۶) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ بَيْنَمَا

ہم نے نہیں پائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بہت عجیب ہے ع

حَسَنٌ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَمِعَهُ جَلَسَ رِجَالٌ فَمَا صَلَّاهُ قَالَ مَا سَأَلْتُمْ قَالُوا اسْتَجَلْنَا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو اچانک کچھ لوگوں کے دوڑنے کی آواز سنئی تو جب نماز پڑھ چکے تو باہر آیا تب بھی انہوں نے کہا

نہیں + عکس یہ حدیث نمبر ۲۴۲ کا ایک ٹکڑا ہے اور نمبر ۲۴۲ کی کرر روایت ۱۳۰ سے لے لیا جاتا ہے یہاں الفاظ میں یہی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالا لفظ فجاءہ بلال خاذلہ یا صلواتہ تم
 خرج بلال بالغانۃ حتی دکرھا بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالا لفظ وقام الصلوۃ + عکس عنوان باب میں اور حدیث میں فوت کا لفظ نماز یا اس کے ایک حصہ کے جانے رہنے
 پر یا نہ پائے کہنے پر استعمال ہوا ہے۔ اسلئے امام بخاری کہتے ہیں کہ ابن سبر کا قول درست نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے + عکس اس سے معلوم ہوا کہ جب جماعت میں اگر
 سے اور پچھلے پچھلے رکعتیں ہو چکی ہیں۔ تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد مقتدی اس حصہ کو پورا کرے جو اس نے امام کے ساتھ نہیں پایا۔ اسید طرح جس طرح ان رکعات کے فوت چوتے
 کے بغیر نہیں ہوتا + عکس کرر روایت میں لوگوں کے دوڑنے اور آہٹ وضو کا ذکر نہیں۔ صرف ارشاد نبوی ان الفاظ میں ہے اذا سمعتم الاقامۃ فاستشوا الی الصلوۃ
 وعلیکم السکینۃ والوقار ولا تسرعوا فنادکتم فصلوا واما فاکتھ فاعلموا + یعنی جب تکبیر سنو تو نماز کی طرف جھکنا اور طینان اور وقار کو اختیار کرنا۔ اور حدیث
 کرو۔ پس جو پاؤ پڑھ لو۔ اور جرحہ گیا ہے اسے پورا کرلو +

بَابٌ مَّمْنَى يَوْمَ النَّاسِ إِذَا رَأَى الْإِمَامَ عِنْدَ الْقَامَةِ (م ۱۷۰) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أِقِمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي يَا بُنَيَّ لَا يَقُومُ

رسول اللہ صلعم نے فرمایا جب قدر قامت الصلوٰۃ کہا جائے تو کھڑے نہ ہو یہاں تک کہ مجھے نہ دیکھ لو علی باب نماز کی طرف

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰

بَابٌ مَّمْنَى يَوْمَ النَّاسِ إِذَا رَأَى الْإِمَامَ عِنْدَ الْقَامَةِ (م ۱۷۰) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أِقِمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي يَا بُنَيَّ لَا يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ مُسْتَعِجِدًا وَلِيَقُمْ إِلَيْهَا بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ (م ۱۹۰) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ مُتَّكَرًا

رسول اللہ صلعم نے فرمایا جب قدر قامت الصلوٰۃ کہا جائے تو کھڑے نہ ہو یہاں تک کہ مجھے نہ دیکھ لو علی باب نماز کی طرف
بَابٌ مَّمْنَى يَوْمَ النَّاسِ إِذَا رَأَى الْإِمَامَ عِنْدَ الْقَامَةِ (م ۱۷۰) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ مُتَّكَرًا

بَابٌ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ مَكَانَكُمْ حَتَّى يَرْجِعَ أَنْتَزِرُوهُ (م ۱۹۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُتَّكَرًا

بَابٌ قَالَ الرَّجُلُ فَاصْلِيْنَا (م ۱۹۳) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مُتَّكَرًا (۳۹۲)

بَابٌ إِذَا مَرَّ تَعْرُضٌ لَهُ الْحَاجَّةُ بَعْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ

وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَاجِي رَجُلًا فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ

الْقَوْمُ بِأَبِ الْكَلَامِ إِذَا أِقِمَتِ الصَّلَاةُ (م ۱۹۴) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مُتَّكَرًا (۳۱۸)

بَابٌ وَجِبْ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ وَقَالَ حَسَنٌ لَمْ يَمْنَعَتْ أُمَّةٌ عَنِ الْجَمَاعَةِ

شَفَقَةٌ لَوْ يَطْعَمَهَا (م ۱۹۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُمِرَّ بِحُطْبٍ لِحُطْبٍ ثُمَّ أُمِرَّ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَدَّنُ لَهَا

ثُمَّ أُمِرَّ رَجُلًا فَيُؤَمَّرُ النَّاسُ ثُمَّ أَخَالَفَ لِي رَجَالٌ فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ يَوْمَهُمُ وَالَّذِي

نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُوا أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يُحْدِثُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مَرْمَأَيْنِ حَسَنَيْنِ

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰

لشہد العشاء باب فضل صلوة الجماعة وكان الاسود اذا فاتته الجماعة

نور و نماز عشاء میں حاضر ہوتا ہے باب نماز جماعت کی فضیلت اور اسود کو جب (اپنی مسجد میں) جماعت نہ ملتی تھی تو

ذہب علی المسجد اخرجوا اس بن مالک الى مسجد قد صلی فيه فاذن واقام

اور مسجد کی طرف جانا اور اس بن مالک ایک مسجد کی طرف آئے کہ اس میں نماز ہو چکی تھی تو اذان دی اور بخیرگی

وصلی الجماعة (۲۲۰) عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

اور صلا سے نماز پڑھی ہے عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

صلوة الجماعة تفضل صلوة الفرد بسبع وعشرين درجة (۲۲۱) عن ابي سعيد

جماعت کی نماز اکیلے کی نماز پر سترہ گنا درجے فضیلت رکھتی ہے ابو سعید سے روایت ہے

انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوة الجماعة تفضل صلوة الفرد

کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرمایا جماعت کی نماز اکیلے کی نماز پر

بخميس وعشرين درجة (۱۹۵) عن ابي هريرة مكرر (۳۳۳) باب

پچیس درجے فضیلت رکھتی ہے مگر دیکھو حدیث نمبر ۳۳۳ باب

صلوة الفروقی جماعة (۲۲۲) عن ابي هريرة قال سمعت رسول الله صلى

نماز فجر یا جماعت کی فضیلت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا

الله عليه وسلم يقول تفضل صلوة الجميع صلوة احدكم وخذ خمسا

فرمایا کہ جماعت کی نماز تم میں سے اکیلے کی نماز پر پچیس گنا درجے فضیلت رکھتی ہے

وعشرين جزءاً وملائكة الليل وملائكة النهار في صلوة الفجر ثم

اور رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں پھر

علم اس حدیث میں جماعت کی سخت تاکید اور نہ شال ہونی لاکو کے لئے سخت تشدید پائی جاتی ہے فی الواقع گھروں کا جلا دینا یا مال کا لوٹ لینا مراد نہیں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہ کیا بلکہ اہمیت فرمایا حدیث کے آخر پر بتایا کہ جہاں اچھا کھانے پینے کرے یا کھیل تماشہ ہو وہاں انسان پر قسم کی تکلیف اٹھانے کی چاہی جاتا ہے مگر نماز یا جماعت کیلئے لوگ بہانے کرتے ہیں ہر عرق زمین سے مراد موتی پڑی ہو جسے ترنوار کھانا چاہیے اور صوماء کے معنی تیرہ میں جو تیرہ اندازی سیکھنے میں کام آتا ہے اور اخلاقی سے کہا کہ نماز ایک کھیل تھی کہ مٹی کے ڈھیر میں پڑتے تھے جس کا ترس کہ اندر دھس جائے وہ غالب سمجھا جاتا۔ اور یہاں مراد کسی قسم کا کھیل تماشہ ہے۔ اور صوماء کے معنی گھولنے لگنے ہیں۔ آج کہتے مسلمان میں شام کو دعوت پر بلاؤ تو بارہ ایک بجے تک نہیں آتے۔ سینا اگر بارہ بجے ختم ہو تو انہیں نیند نہیں آتی۔ لیکن نماز عشاء کیلئے ۹ بجے شام کو بھی نہیں نکل سکتے۔ علم اس سے معلوم ہوا کہ جماعت چوکنے کے بعد اسی مسجد میں دوسری جماعت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی کی روایت میں ہے کہ اس وقت حضرت انس کے ساتھ بلین بن مرثد آدمی تھے اسی لئے انہوں نے اذان بھی وہاں دیا کہ وہی نماز کوئی اور رہ گیا ہو تو وہ بھی شال ہو جائے۔ علم ان روایات میں اختلاف ہے۔ بعض ہیں فضیلت ۲۴ درجہ اور بعض ہیں ۲۵ درجہ اور دونوں قسم کی روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استماع ہے۔ لیکن اگر نبی کریم نے کبھی ۲۴ اور کبھی ۲۵ فرمایا ہو۔ اور کبھی بیض و عشرین فرمایا ہو جو اختلاف نہیں اس لئے کہ کثرت صرف بڑی فضیلت کو ظاہر کرنا ہے۔ ۲۴ اور ۲۵ دونوں بڑی فضیلت ظاہر کرنے کے لئے ہیں۔ فتح الباری میں ۲۵ یا ۲۴ وجہ فضیلت دی گئی ہیں جب جماعت میں قرات باہر ہو تو وہ ۲۴ درجہ اور ۲۵ قرات اگرچہ قرات باہر نہ ہوں ۲۵ قرات باہر میں روزانہ درجہ فضیلت استماع قرات اور ان میں کا کتنا جس میں ملائکہ کی آمین کے ساتھ قرات ہے پچیس حصہ یہ ہیں (۱) مؤذن کی نداء کی اجابت کیونکہ وہ مسجد میں اجتماع کے لئے بلاتا ہے (۲) اول وقت میں جانا (۳) سکینت اور وقار کے ساتھ جانا (۴) مسجد میں نماز کے ہونے وہاں ہونا (۵) تحمید المسجد کی درکعت (۶) انتظار جماعت کہ وہ بھی نماز میں مشاغل ہے (۷) ملائکہ کی دعا ہے برکت و رحمت جس کا ذکر حدیث میں ہے (۸) ملائکہ کی شہادت (۹) اقامت کی اجابت (۱۰) وساوس شیطانی سے ایک حد تک بچاؤ۔ حدیث میں ہے کہ وہ اقامت کے وقت بھاگ جاتا ہے (۱۱) امام کی تکبیر کا انتظار (۱۲) اس تکبیر میں شمولیت (۱۳) صفوں کا برابر کرنا (۱۴) سمع اللہ لمن جمل کا جواب (۱۵) سو سے امن یا بخلت سو امام کو تسبیح سے یاد دلانا (۱۶) جماعت کی وجہ سے خوشی کا پیدا ہونا (۱۷) اچھی طرح رکوع و سجود کا ادا کرنا۔ (تنبہا میں ان ربا اوقات جلدی کرنا ہے) (۱۸) جماعت میں ملائکہ کا موجود ہونا (۱۹) تعلم اركان وغیرہ (۲۰) شمار اسلام کا اظہار (۲۱) اطاعت پر تعاون (۲۲) فناء سے سلامتی اور دوسروں کا سونپن سے بچانا۔ کیوں کہ جو شخص جماعت میں نہیں آتا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ نماز پڑھتا ہے یا تک صلوٰۃ ہے (۲۳) امام پر سلام کا لوٹانا (۲۴) ہتھوں کا دعا اور ذکر میں شامل ہونا (۲۵) ہماری اور مسلمانوں میں قیام الفت و محبت کا نظام (۲۶) کیونکہ پانچ وقت ملنے سے باہر محبت و الفت ترقی کرتی ہے) ہمیں نزدیک بعض اور فائدہ ایسے ہیں۔ کہ ان مذکورہ فوائد میں سے بعض کی جہان کو رکھا جاسکتا ہے مثلاً ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہونے کا روحانی اثر۔ زمانہ روادری کا مادہ پیدا ہونا۔ وقت کا ایسا نفاذ کے لئے جو نماز کی ایک بڑی غرض ہے اس وقت میں زیادہ کسی فی کا جمیہا ہونا۔ کیونکہ جس قدر کاموں سے زیادہ لگجھکی ہوگی اس قدر عبادت کی اہل غرض زیادہ حاصل ہوگی۔ امر اور عزت کا بڑھنا اور بھولوں کا پڑھنا اور جو ان کا ملنے رہنا جس سے انسان کو طرح کے اخلاقی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوتے رہنا۔ امور میں آہر میں ایک دوسرے کے خیالات سے واقفیت۔ علاوہ فوائد روحانی کے بہت سے تہذیبی اور ماضی شرفی فوائد میں حاصل ہوتے ہیں جو اسلامی اخلاق کے تانے میں سامان ہیں۔ علم نمبر ۳۳۳ میں مضمون پورا اس حدیث میں کہ بڑے خفیہ تفسیر لفظی ہے۔ آخری حصہ میں الفاظ حتیٰ ید خل المسجد واذا دخل المسجد کان فی صلوة ما کان تحت تحمیدہ کے الفاظ نہیں ان کی بجائے آخر میں اللہ ہوا کہ بعد پڑھنا بلائکہ احکام کی صلوة ما انظر الصلوٰۃ اور آخری الفاظ ما لہ یذکرہ

۱۶۰ صحیح بخاری - پارہ تیسرا

يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَفْرَأُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ قُرَّانَ الْعَرَبِ كَانَ مَشْهُودًا وَفِي رِوَايَةٍ
ابو ہریرہ کہتے اگر تم چاہو تو پڑھو جو قرآن مشہود ہے علی اور

عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ تَفَضَّلَهَا سَبْعَ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً (۴۳۳) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ
عبداللہ بن عمر کی روایت میں ہے اس پر سنا میں نے سب فضیلت رکھتی ہے ام الدرداء سے روایت ہے

تَقُولُ دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَهُوَ مُغْضَبٌ فَقُلْتُ مَا أَغْضَبَكَ قَالَ وَاللَّهِ مَا
کہا میرے پاس ابوالدرداء آئے اور وہ غصے میں تھے تو میں نے کہا کیا چیز ہے غصے میں لانی کہا صلی اللہ علیہ وسلم

أَعْرَفُ مِنْ أَمْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُمْ يَصَلُّونَ جَمِيعًا (۴۳۴)
کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے کچھ نہیں پہچانتا سوائے اس کے کہ وہ اگلے نماز پڑھتے ہیں علی

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ النَّاسِ جِرًا فِي الصَّلَاةِ
ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں سب لوگوں سے بڑھ کر اجر والا وہ ہے

أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشَى وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْأَمَامِ أَكْثَرُ
جو بلند کرتے ہیں بہت دور سے پھر اس سے زیادہ دور سے اور وہ جو نماز کی انتظار کرتے ہیں تک کہ اسے امام کے ساتھ پڑھیں اس سے بڑھ کر

أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّيُ ثُمَّ يَنَامُ بَابُ فَضْلِ الْمُحْجِرِ إِلَى الظُّهْرِ (۴۳۵) عَنْ
اجر والا ہے جو نماز پڑھے پھر سو جائے باب دو پہر کا ظہر کی طرف جانے کی فضیلت

أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ رَجُلٍ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ
ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایک راستے پر جا رہا تھا تو

عُضْرَتُهُ وَعَلَى الطَّرِيقِ فَأَخْرَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ثُمَّ قَالَ الشَّهَادَةُ الْخَمْسَةُ
اُس نے کانٹوں کی ٹہنی راستے پر پائی تو اسے ہٹایا تو خدا نے اس کی قدر کی اور اسے بخش دیا پھر فرمایا شہید پانچ ہیں

الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالغَرِيقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالَ
طاعون والا پیٹ کی بیماری والا ڈوبنے والا دب جانے والا اور خدا کی راہ میں شہید اور فرمایا

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفَاةِ لَوَلَّوْا نَادِيَ الْجَنَّةِ وَآلَةَ الْجَنَّةِ
اگر لوگ جانتے کہ آذان اور صف اول میں کیا (اجر) ہے پھر ان کے فیصلہ کی کوئی صورت نہ پاتے سوائے اس کے کہ فرمادے اللیس تو اس پر فرمادے اللیس

لَا تَوْهَمًا وَكَوَجَلْبًا بَابُ أَحْسَابِ بِلَادِ تَارِ (۴۳۶) عَنْ أَبِي مَالِكٍ
اور اگر جانتے کہ نماز کے لئے سوویسے ہاتھ میں کیا ناچیں گے تو ان کے لئے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور اگر جانتے کہ عشا اور صبح کی نماز میں

قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَنِي سَيْلَةَ لَا تَحْتَسِبُونَ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بنی سلمہ

أَنَّا زَكْمٌ وَزَادَ (فِي رِوَايَةٍ) أَنَّنِي سَيْلَةَ أَرَادُوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا
تم اپنے قوموں کا ثواب نہیں چاہتے اور (ایک روایت میں) بڑھایا کہ بنی سلمہ نے ارادہ کیا کہ اپنے مکانوں کو بدل لیں

پڑھتے تھے تاکہ انکو لوگ کے مسلمان سمجھان کی باتوں کا یقین کر لیں۔ مگر دن اور وقت اور مال کی قربانی جس قدر زیادہ ہوگی۔ اتنی اصلاح نفس بڑھتی جائے گی۔ اور یہی ثواب کا بڑھا ہوا ہے۔ ابو ہریرہ کی حدیث کا تعلق تو باب کے عنوان سے ہے۔ لیکن ابو درداء اور ابو موسیٰ کی حدیث میں صبح کی جامعیت کی کوئی خصوصیت نہیں۔ البتہ ابوالدرداء کی حدیث میں ملحق جماعت کا ذکر ہے۔ جس میں فجر کی جماعت بھی شامل ہے۔ ابو موسیٰ کی حدیث میں ہے کہ ثواب زیادہ ہوتا ہے زیادہ شقت اٹھانے پر ہے۔ اور صبح کی نماز میں شقت زیادہ اٹھانی پڑتی ہے + مگر حدیث کا آخر حصہ لویعہ الناس سے لیکر آخر تک نمبر ۴۰۵ میں گزیر چکا ہے +

کتب الاذان
ابو ہریرہ کے نزدیک مشہور ہے مروی صبح کی نماز میں ملائکہ کا ظہر پڑھانے سے پہلے ہوا جیسے موجود اور حاضر ہونا یا اشارت بمعنی گواہی سے جو صبح ہوا یہ معلوم ہوتی ہے کہ نماز فجر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ابو ملائکہ اللیل اور ملائکہ النهار کے اس میں جمع ہونے میں بھی ای اشارت ہے کہ ملائکہ نیکیوں کے جوڑ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناشی ہوتی ہے جس کی حالت حضور و شوق کی ہو پس ملائکہ کے حاضر ہونے میں بھی اشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ حضرت عثمان کی خلا کے زمانہ کے آخری ایام کا واقعہ ہے۔ اور لوگوں میں شک نہیں کہ ہفت کثرت سے نئے لوگ ہلاک میں داخل ہوتے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے بہت سے گندے تھے تھے اس لئے وہ اپنا ہنسی شرمیت ان لوگوں میں ہو سکتی تھی جو زمانہ نبوی میں تھی۔ لیکن قرن قیاس یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابو درداء یہ ذکر باغیان عثمان کے مستحق کر رہے ہیں جو ایک شرمیلوں کا گروہ تھا مگر ظاہر طور پر نماز اچھا

عَنْ مَنَازِلِهِمْ فَيُزِيلُوا قَرِيبًا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَّرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

اور نبی کریم صلعم کے قریب ترین کہا تو نبی کریم صلعم نے ناہنہ کیا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْرِوا الْمَدِينَةَ فَقَالَ أَلَا تَحْتَسِبُونَ أَنْ أَتَاكُمْ قَالَ مُجَاهِدٌ خَطَاهُمْ

کہ میں نے (کی اطراف) کو خالی چھوڑیں پس فرمایا کہ کیا تم اپنے قدموں کا ثواب نہیں چاہتے مجاہد کہتا ہے کہ ان کے قدم

أَنْ أَتَاكَ الْمَشِيُّ فِي الْأَرْضِ بِأَرْجُلِهِمْ بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ (۲۲۷)

ان کے پاؤں کے ساتھ زمین میں چلنے کے نشان ہیں باب نماز عشاء جمعاعت کی فضیلت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ صَلَاةٌ أَنْقَلَ عَلَى الْمَنَافِقِينَ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلعم نے فرمایا کہ منافقوں پر کوئی نماز جو اور عشاء سے زیادہ بوجھل نہیں ہے

مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَكَوَيَعْلَمُونَ مَا فِيهَا مَا لَا تَوْهَمُهَا وَكَوْحُومًا لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ الْمَوَدَّنَ

اور اگر چاہتے کہ ان میں کیا ثواب ہے تو ان میں آنے کو گھنٹوں کے بل چل کر آنا ہوتا میں نے یہ پختہ ارادہ کیا کہ مودن کو حکم

فِيهِمْ ثُمَّ أَمَرَ رَجُلًا يَوْمَ النَّاسِ ثُمَّ أَخَذَ شِعْلًا مِنْ نَارٍ فَأَجْرَقَ عَلَى مِزْلٍ مَخْرُوجٍ

کہ بجیجیکے پھر ایک شخص کو حکم دوں کہ لوگوں کی امامت کرے پھر اگل کی ایک چنگاریوں اور ان پر جو ابھی نماز کی طرف نہیں بھٹے (انکے گھروں)

إِلَى الصَّلَاةِ بَعْدُ بَابُ اثْنَانِ فَمَا فِي قَوْمٍ جَمَاعَةٌ (م ۱۹۶) عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَدَّادِ

جلادوں سے باب دو اور اس سے زیادہ جمعاعت ہے دیکھو حدیث

(م تکرر - ۲۱۳) بَابُ مَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ وَفَضْلُ الْمَسْجِدِ (۱۹۷)

نمبر ۲۱۳ سے باب جو مسجد میں بیٹھ کر نماز کی انتظار کرے اور مسجدوں کی فضیلت ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م تکرر - ۳۱۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

دیکھو حدیث نمبر ۳۱۰ سے ابو ہریرہ سے نبی کریم صلعم سے روایت کرتے ہیں کہ

وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُطَلِّمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالسَّائِلُ

فرمایا سات ہیں جنہیں خدا اپنے سایہ میں رکھتا جس دن سوائے اسکے سوائے کوئی سایہ نہ ہوگا عادل امام اور ایسا جوان

تَسَاءَلِي عِبَادَةَ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَخَا بَأْسَ اللَّهِ لِحُبِّمَا

جس نے اپنے رب کی عبادت میں پرورش پائی اور ایسا شخص کہ اس کا دل پھر سے تعلق رکھتا ہو اور ایسے دو شخص کہ آپس میں خدا کی راہ میں محبت کرتے ہیں

عَلَيْهِ وَتَقَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالَ فَقَالَ رَبِّي أَحَافَاءُ اللَّهِ وَرَجُلٌ

اسی پر جمع ہوں اور اسی پر جدا ہوں اور ایسا شخص کہ اسے صاحب منصب اور زمین (عورت) بلائے تو لے کر میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور وہ شخص کہ

تَصَدَّقَ إِخْفَاءً حَتَّى لَا تَعْلَمَهُ شِمَالُهُ مَا تَتَّفِقُ مِيمَتُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَاضَتْ عَيْنَاهُ

پوشیدہ صدقوں سے کہ اس کا بائیں نہیں جانتا جو اس کے دہانے نے خرچ کیا اور وہ شخص کہ خدا کو تنہائی میں یاد کرے تو انکی آنکھوں میں آنسو ہونے لگیں

مکہ بنی سلمہ سے کوئی ایک میں کے فاصلہ پر تھے تھے اور صرف نماز باجماعت کی خاطر انہوں نے وہاں سے مکان تبدیل کر کے مسجد کے قریب میں مکان لینے کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلعم نے منع فرمایا کہ اس طرح میری کی اطاعت سے خالی رہ جائیں گی اور فرمایا کہ نماز کے لئے مسجد دور سے چل کر آؤ گے اس وقت زیادہ ٹوب ہے۔ جو شخص دور سے نماز کے لئے مسجد آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کیلئے ہر ایک مشقت کے اٹھانے کو تیار ہے اور یہی کیفیت قلبی ہے جو نماز میں پہلا سزا ہوتی ہے اور تعقیب میں بتایا ہے کہ سہو لیکن میں و نکتہ مائد مواد آغاز میں مجاہد نے انار کے حصے قدم کئے ہیں اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلعم نے حفاظت فرمائی کہ کس قدر اہمیت ہے

مکہ فرما دینا کی نماز باجماعت پہلے میں اب بھی توں بہت سست ہر ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ منافقوں سے مشابہت ہے اور ہمارا کس شخص پر بوجھل ہونا چاہیے بتاتا ہے کہ کس کے ایمان میں نفاق کا شائبہ ہے۔ رسول اللہ صلعم نے نماز کو اپنی راحت کا سامان کہا ہے۔ پس نماز کی طرف آنے میں انسان کو نشاط حاصل ہونی چاہیے۔ مکہ لقد همتت ان ليكر اخذك حديثك مضمون نمبر ۱۹۷ میں گزرتا ہے کہ یہ شخص پر بوجھل ہونا چاہیے۔ مکہ مگر کی ابتدا ہوتی ہے اذ حضرت الصلوة فاذا ناولنا في حقه اس سے معلوم ہوا کہ فرض نماز سے پہلے ہمارے وہی اور اللہ کی طرف سے بنائی گئی ہیں کہ ان میں نماز پڑھی جائے اور گھر میں بغیر کسی معقول عذر کے فرض پڑھنا درست نہیں ہے۔ مکہ مگر روایت کے آخر میں لفظ زیادہ ہیں لایزال احد کہ فی صلوة ما كانت الصلوة حجباً لا يمنعنا ان نبتغى لى اهلہ الا الصلوة یعنی تم میں سے ایک نماز میں ہی ہوتا ہے جب تک نماز سے روکے رکھے سوائے نماز کے کوئی دوسری چیز سے لپٹا ہونے کی طرف جانے سے نہیں روکتی۔ مکہ اس قسم کی احادیث میں حضرت نہیں ہوتا۔ بلکہ بعض خاص طور پر جتنا زامور کا ذکر ہوتا ہے۔ اور بھی ایسے اعمال ہیں جن کا عمل نظر الہی کا مستحق ہوتا ہے۔ مجاہد پر سنا کہ ان (ابن حبان) ایک مدد گزار (احمد صاحب) تنگ دست معروض کو نسلت دینا۔ اسے قرآن کا کچھ حصہ معاف کرنا (جمع سلم حکم کتاب کی اعداد (احمد صاحب) سچا تاجر نبوی شرح اللہ الامم عادل بظنون حدیث خود ہی ظل اللہ ہے۔ جو ان میں عبادت کرنا اور شہوات کے جوڑش کے وقت ان پر حکومت کرنا انبیا و صدیقین و شہداء کا کام ہے اور وقت مسجد کے ساتھ دل کا تعلق رہنا خدا کے ساتھ ایک خاص تعلق کی دلیل ہے۔ محبت فی اللہ شدہ خاص دوستی جو قلب کیلئے ہمیشہ راحت کا موجب ہوتی ہے اور دنیا کی محبت میں یہ نہیں آتا۔ یہاں شہادت

کی ہمت اپنے لفظ سے ہوا کہ انسانی ترقی کی بنیاد پر مبنی ہونا چاہیے۔ جب سچا تہذیب خلق اللہ اور کوئی غرض نہ ہو یہ بھی خدا کی ایفاد صفت ہے اور دنیا اللہ کی صفت پہلے ہوگی تو کیا اس کا اعمال ٹھیک ہو گئے ہوں یا نہیں یہ شہادت ہے۔ دوسری بہت سی جگہاں پیدا ہوئی ہیں۔

(۱۹۸) عَنْ حُمَيْدٍ مُتَكْرِرًا - (۳۸۰) بَابُ فَضْلِ مَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَنْ لَمْ

دیکھو حدیث نمبر ۳۸۰ باب اس کی فضیلت جو (صبح) مسجد کی طرف نکلا اور جو صبح ہو صلے سے پہلے

(۲۲۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ

ابو ہریرہ نبی کریم صلعم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو صبح مسجد کی طرف گیا

رَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزُلًا مِنْ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ يَأْتِ إِذَا أَقْبَمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا

بعد دوپہر گیا تو اللہ تعالیٰ اسکے لئے جنت سے وہابی تیار کرتا ہے جبکہ صبح کو جانا ہی یا بعد دوپہر جانا یا صبح نماز کی تکمیل ہی جانتے تو پھر سوائے

صَلَاةٍ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ (۳۳۰) عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ آلِ زَيْدٍ

فرض نماز کے اور کوئی نماز نہیں ہوتی حُصَيْنِ بْنِ عَاصِمٍ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص سے میں نے سنا کہ

يَقُولُ لَهُ مَالِكُ بْنُ بَجِينَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا وَقَدْ أَقْبَمَتِ

کہ اسے مالک بن بجنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلعم نے ایک شخص کو دیکھا دو رکعت (سنت) پڑھ رہا تھا اور نماز کی تکمیل

الصَّلَاةُ يُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَ بِالنَّارِ

ہو چکی تھی جب رسول اللہ صلعم فارغ ہوئے تو لوگوں نے اسے گھیر لیا

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّيْتُمْ أَرْبَعًا بَابُ حَدِّ الْمَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ

تو رسول اللہ صلعم نے اسے فرمایا کہ کیا صبح کی چار رکعت ہیں بَابُ بِيَارِكُ حَكْمٌ رُكْعَتَيْكَ جَمَاعَتٍ مِ

الْجَمَاعَةِ (۳۳۱) عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَلَا سَوَدٌ كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ فَذَكَرْنَا الْمَوَاطِبَ

ماضیہو ابراہیم سے روایت ہے کہ اسو نے کہا کہ ہم حضرت عائشہ کے پاس تھے تو ہم نے نماز کی پابندی

عَلَى الصَّلَاةِ وَالْتِعْظِيمِ لَهَا قَالَتْ كُنَّا مَرِيضًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضًا لَيْسَ

اور اس کی تعظیم کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم صلعم اس بیماری سے بیمار ہوئے

مَاتَ فِيهِ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةَ فَأَذَّنَ فَقَالَ مَرُّوا يَا بَكْرُ فَيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَيُقْبَلُ لَهُ

جس میں وفات پائی اور نماز کا وقت ہوا تو اذان دی تو آپ نے فرمایا کہ ابوبکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھانے تو آپ سے کہا گیا

إِنَّ يَا بَكْرُ رَجُلٌ أَسِيفٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَوْ يَسْتَطِعُ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ وَأَعَادَ

کہ ابوبکر نرم دل آدمی ہو جب آپ کی جگہ کھڑا ہوگا تو لوگوں کو نماز پڑھائے گا اور آپ نے دوبارہ فرمایا

فَاعَادُوا لِلَّهِ فَأَعَادَ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ لَتَكُنَّ صَوَاحِبُ يَوْسُفَ مَرُّوا يَا بَكْرُ فَيُصَلِّ بِالنَّاسِ

تو انہوں نے آپ سے یہی کہا جس آیت تیسری بار فرمایا اور فرمایا کہ تم یوسف کی ساتھ والیاں ہو ابوبکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھانے

فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّيُ فَوَجَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خَرَجَ يَوْمَئِذٍ بَيْنَ رِجْلَيْهِ

ہیں ابوبکر نکلے نماز پڑھانے لگے پھر نبی کریم صلعم نے اپنے نفس میں کچھ افاقہ پایا تو آپ دونوں طرف دو آدمیوں کا سہارا لے ہوئے تھے

بسم اللہ الرحمن الرحیم
شرح میں یہ نظر فرماد
میں مثل انشراح
اخذ رسول اللہ
صلعم خاتما فقال
نعم احرابيلة الیخین
انہ سے سوال کیا گیا
کہ آیا نبی کریم صلعم
نے آنکھ علی زبان
تھی تو انہوں نے کہا
ہاں آپ نے ایک آیت
الہیہ پڑھی
جماعت کے ساتھ نماز
پڑھنے کی خدا کی طرف
سے دعوت ہے اس
دعوت کا قبول کرنا
مزدوری ہے اور اپنا
انفرادی ارادہ جماعت
کی خاطر قرآن کریم
یعنی اگر اس وقت
سنت یا فعل پڑھ
رہے تو چھوڑ کر
جماعت میں شامل
ہو جائے نہ چاہے
ایک حدیث میں ہے
اذا اقيمت الصلاة
فلا صلوا الا للمكتوب
اسے سوا اور چاہے
نے روایت کیا ہے
یعنی تکبیر کے بعد سوچ
اس نماز کے جس کے
واسطے تکبیر کسی گئی ہو
کوئی نماز نہیں ہوگی
آپ سے اس شخص کو
جس نے تکبیر کے بعد

رکعت سنت پڑھیں اور پھر ضرور میں شامل ہوا۔ فرمایا کہ تم نے تکبیر کے بعد چار رکعت پڑھیں تو کیا صبح کی نماز چار رکعت ہی۔ مطلب یہ کہ تکبیر کے بعد صرف فرض نماز ہی۔ تکبیر ہوتی ہو۔

اس حدیث کی کرر روایت ۲۰۸ میں ہے کہ پہلی مرتبہ حضرت عائشہ نے ایسا کہا (اور غالباً دوسری مرتبہ بھی) اور آخری مرتبہ انہوں نے حضرت حصہ سے کہا کہ تم ایسا کہو تب ہی کہ تم صلعم نے یہ لفظ فرمایا لیکن صاحب یوسف ان الفاظ سے آپ کی کیا معلوم تھی۔ ایک حدیث ہے کہ جب طرہ عزیز کی عمت نے دوسری عورتوں کو اپنی تائید کیلئے بلایا تھا۔ تب حضرت عائشہ نے حصہ کو اپنی تائید کیلئے بلایا اور یہاں ہے کہ حضرت حصہ کے کہنے پر ہی نبی صلعم نے یہ لفظ فرمایا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ نے دعوت میں یہ بھی کہا کہ اصل میں میرے دل میں یہ بات تھی کہ لوگ اپنے نفس کو جو آپ کی جگہ کھڑا ہو اور آپ دنات پڑھائیں اچھا خیال نہ کریں گے۔ تو چونکہ دل میں حیات نبی سے ظاہر نہیں کیا۔ بلکہ دیکھ کر اور کیا صلعم صاحب یوسف سے مثال دی اور یہ ہو سکتا ہے کہ حالت صرف اس رنگ میں ہو کہ آنحضرت صلعم حضرت ابوبکر کی امامت سے یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ آپ کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ ہوں۔ اور اگر امامت پر دوسرا کھڑا ہو جاتا تو پھر آپ کا یہ ارادہ تکمیل نہ پاتا۔ تو گویا آپ نے فرمایا کہ تم ایک نیک ارادہ سے مجھے روکے ہی ہو۔ ادنیہ گویا ان عورتوں سے مشابہت ہو۔ جنہوں نے یوسف کو ایک نیک ارادہ سے چھوڑنا چاہا اور گویہ ظاہر رنگ میں امامت ہو کر دونوں کی نیت میں زمین آسمان کا فرق نہ رہا۔ یہ وہاں نیت پک نہ تھی۔ یہاں اعلیٰ درجہ کا خلوص نیت تھا۔ کہ جس مقام پر آنحضرت صلعم حضرت ابوبکر کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے حضرت عائشہ دوسرے کو ترجیح دینا اپنی طبیعت اور اپنے نفسی کا ثبوت دیتی ہیں۔ بہر حال آنحضرت صلعم کا مطلب صرف یہی تھا کہ اس نیک ارادہ کی تکمیل میں جو حضرت ابوبکر کی خلافت سے تعلق رکھتا ہے تم لوگ متو

كَانِي أَنْظُرَ إِلَى رَجُلِيهِ نَخَّطَانِ الْأَرْضِ مِنَ الْوَجْعِ فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَتَأَخَّرَ قَاوَمَا لِيَدِي
گو یا کہ میں آپ کے پاؤں کو دیکھ رہی ہوں کہ بیماری کی تکلیف سے زمین پر خط کھینچتے ہیں۔ اے تو ابو بکر نے چاہا کہ مجھے پیشے تو

الَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَا وَسَلَّمَ أَنْ مَكَانَكَ لَتُحَارَتِي بِهِ حَتَّى جَلَسْتُ لِي جَنِيْبٍ، فَقِيلَ
نبی کریم صلعم نے ان کو اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر رہو۔ پھر آپ لائے گئے۔ یہاں تک کہ ان کے پہلو میں بیٹھے

لَا دَعْمَشَ فَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاتِهِ وَالنَّاسُ
اعش (راوی) سے کہا گیا کہ اپنی جگہ پر بیٹھے اور ابو بکر آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور لوگ

يُصَلُّونَ بِصَلْوَةِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ بَرَأْسُهُ نَعْمَ وَزَادَ (فِي رَوَايَةٍ) جَلَسْتُ عَنْ بَيْسَارِ أَبِي بَكْرٍ
ابو بکر کی نماز کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو اس نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں اے اور ایک روایت میں یہ زیادہ ہے کہ آپ ابو بکر کی بائیں طرف بیٹھے

فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا (م ۱۹۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مُتَكَوِّرًا - (۱۶۱) بَابُ
اور ابو بکر کھڑے نماز پڑھتے تھے دیکھو حدیث نمبر ۱۶۱

الرُّوحِصَةِ فِي الْمَطْرِ وَالْعِلَّةُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَجُلِهِ (م ۲۰۰) عَنْ تَائِفٍ مُتَكَوِّرًا - (۱۶۲) بَابُ
بارش اور کسی عذقی وجہ سے اجازت ہے کہ اپنے مکان میں نماز پڑھے دیکھو حدیث نمبر ۲۰۰

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ (م ۲۹۸) بَابُ هَلْ يُصَلِّي الْأَمْرُ مِنْ حَضْرٍ
دیکھو حدیث نمبر ۲۹۸ باب کیا امام ان لوگوں کو جو حاضر ہوں نماز پڑھانے

وَهَلْ يُخِطَبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطْرِ (م ۲۰۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ (م ۲۰۶) بَابُ
اور کیا جمعے کے دن بارش میں خطبہ دیکھو حدیث نمبر ۲۰۶

(۱۶۳) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخَدْرِيَّ فَقَالَ جَاءَتْ
ابو سلمہ سے روایت ہے کہ میں نے ابو سعید خدری سے سوال کیا تو کہا بادل آیا

سَحَابَةٌ فَطَرَّتْ حَتَّى سَأَلَ السَّقْفُ وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ فَأَقْبَمَتِ الصَّلَاةُ
پس برسا یہاں تک کہ چھت بننے لگی اور وہ کھجور کی شاخوں سے تھی پس نمازی نے اقامت کی گئی

فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْبُحُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ حَتَّى رَأَيْتُ
کہ باہنی اور کچھو میں سجدہ کرتے تھے یہاں تک کہ میں نے

تَوَيْسَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كُنْتُ
تو میں نے رسول اللہ صلعم کو دیکھا

مسلم نبی کریم صلعم کا من میں تخفیف پانا بعد کا واقعہ ہے اسی نماز کا من اور آپ اسے تدر تکلیف اٹھا کر اسے تشریف لے گئے کہ لوگوں کو کچھ نصیحت کرنا چاہتے تھے امام بخاری نے بیاری جماعت میں حاضر ہو کر اسی کو حد قرار دیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ بعض وقت وہاں میں کھینچے یا بار کے چلنے سے بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے جو اسلئے ان کو کھد نظر رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے نبی کریم صلعم کی اس تکلیف کی حالت میں کھینچنے کی خاص غرض تھی جیسا اوپر بیان ہوا ہے

حدیث نمبر ۱۶۱ کا پہلا حصہ تخفیف اختلاف لفظی سے بیان دوبارہ آیا ہے جو کانت عاشق سے آخر تک یہاں مذکور نہیں ہے۔ حدیث نمبر ۱۶۱ تخفیف تفسیر لفظی سے یہاں آئی ہے۔ مگر وہاں یہ ذکر ہے کہ آنحضرت صلعم سفر کی حالت میں ٹھنڈی بلیا بارش کی رات میں ٹوڑن کو حکم دینے کے صلوا فی الحال کہ وہاں فی السفر کا لفظ نہیں۔ اور یہاں یہ بھی ذکر نہیں کہ ان عمر نے بخنان میں رکھنے سے بچیں میل کے فاصلہ پر نزل ہی، ایسا کیا تھا۔ گویا یہ حدیث سفر کی شرط کو اطلاق ہے۔ مگر چونکہ واقعہ ایک ہی اور اول روایت ابن عمر کی ہی ہے اسلئے توین قیاس یہ ہے کہ بخنان اور فی السفر کے الفاظ راوی سے رہ گئے ہیں تو اس حدیث میں صلوا فی الحال کہنے کا حکم سفر سے ہی مخصوص ہوگا۔ البتہ حضور میں بارش یا کسی دیگر عذق کی وجہ سے اگر مسجد میں آئے تو یہ رخصت دوسری اعماش سے ثابت ہے۔ چنانچہ اہل حدیث اس پر شاک ہے۔ اور ابن عباس کی روایت جو نمبر ۲۰۶ ہے اس میں بظاہر حضور ہی صلوا فی الحال کہنے کا حکم ابن عباس سے دیا۔ اور یہی روایت م ۲۰۶ پر آگے کرتا ہے اور اس میں ہر کہ رسول اللہ صلعم نے بھی ایسا کیا تھا۔ مگر رسول اللہ صلعم کی حدیث میں البتہ عبد الرزاق نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ صبح کی اذان میں رسول اللہ صلعم نے ٹوڑن پر کہا من قد فلاح یعنی جو کہ نماز میں آئے تو ہرج نہیں اور وہاں کوئی تفریح نہیں کہ یہ سفر تھا یا حضور بظاہر قیاس یہ چاہتا ہے کہ یہ سفر کے لئے مخصوص ہو۔ کیونکہ کفر میں یہ وقت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ نمبر ۲۰۶ پر یہ حدیث زیادہ تفصیل سے گزری ہے۔ یہاں مختصراً سے آئی ہے ان عتب بن مالک کان بیقہ قوماً وہو اعمی انہ قال رسول اللہ صلعم یا رسول اللہ انما تكون الظلمة والسيل انما رجل ضل في البصر وفضل يا رسول الله في بيتي مكانا اخذن مصلی فجاءه رسول الله صلعم فقال ابن عتب ان اصرى فاشاد الى مكان من البيت فصلی فی رسول الله صلعم اے بعد کا حصہ جو وہاں قال حبسناہ علی خزینقہ سے شروع ہوتا ہے یہاں ترک کر دیا ہے۔ مگر روایت میں زیادہ تفریح ہے و نظر بعضهم البعض کے بعد جو کہ انہم انکروا فقال کانکھ انکرتہ گویا انہوں نے یہ برا بنایا تو کہا تم سے برا بنانا تو کہا تم سے برا بنانا ہے اور اس خبر سے یہ لفظ زیادہ میں وانی کہتے ان آخر حکم (اور ایک روایت میں ہر اوڑھتھم) تفتیون تدرسون الطین الی کہ یہ کھینچنے سے برا بنانا کہ تمہیں گھروں سے نکالیں دیا گیا ہے (الوں) پر تم آؤ اس حالت میں کہ اپنے گھٹنوں تک کچھو تار رہے ہو۔ اس صلعم ہمارا اسدن کچھو بہت زیادہ تھا یہ کوئی ایسی جگہ تھی جہاں کچھو زیادہ ہو۔ اگر بارش میں صلوا فی الحال کا کنا عام ہوتا تو لوگ برا کیوں منلتے +

کتب الاذان

اَنْزَلَ الطَّيْنَ فِي جَبْهَتِهِ (۳۳۲) عَنْ اَنَسٍ يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ مِّنْ اَنْصَارِ رَسُوْلِكَ

کچھ کا شان آپ کی پیشانی پر دکھا علی اس سے روایت ہے کہ انصار میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ

لَا اسْتِطِيعُ الصَّلَاةَ مَعَكَ وَكَانَ رَجُلًا ضَخْمًا فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نماز نہیں پڑھ سکتا اور وہ موٹا آدمی تھا تو اس نے نبی کریم صلیع کے واسطے

طَعَامًا فَدَعَا رَأِي مَزِيْلَهُ فَبَسَطَ لَهُ حَصِيْرًا وَنَفَخَ مِنْ طَرَفِ الْحَصِيْرِ فَصَلَّى عَلَيْهِ

کھانا تیار کیا اور آپ کو اپنے گھر پر بلا یا پس آپ کے لئے چٹائی بچھائی اور چٹائی کے کنارے کو دھویا تو آپ نے اس پر

رُكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ اَنْصَارِ رُوِيَ اَنَسٌ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلِّي

دو رکعتیں پڑھیں آل بارود نے ایک شخص سے اس سے کہا کیا نبی کریم صلیع پاجنت کی نماز پڑھتے تھے

الصُّحْبِي قَالَ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّاهَا اِلَّا يَوْمَئِذٍ يَا بَ إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَاقْبَمَتِ الصَّلَاةُ

کہا میں نے آپ کو سوائے اس دن کے یہ پڑھتے نہیں دیکھا علی باب جب کھانا موجود ہو اور نماز کی تکبیر ہو جائے

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُبَدِّئُ بِالْعِشَاءِ وَقَالَ ابُو الدَّرْدَاءِ مِنْ فِقْهِ الْمَرْءِ اِقْبَالُهُ عَلَى حَاجَتِهِ

اور ابن عمر پچھلے کھانا کھاتے اور ابو دردانے کہا کہ انسان کی قیامت یہ ہے کہ اپنی حاجت کی طرف متوجہ ہو

حَتَّى يُقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ وَقَبْلَتُهُ فَاَرَأَيْتُمْ (۳۳۳) عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

یہاں تک کہ اپنی نماز کو اس حالت میں لے کہ اس کا دل خارج ہو حضرت عائشہ نے نبی کریم صلیع سے روایت کرتی ہیں

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ إِذَا وُضِعَ الْعِشَاءُ وَاقْبَمَتِ الصَّلَاةُ فَاَبْدَأُ بِالْعِشَاءِ (۳۳۴)

کہ آپ نے فرمایا جب شام کا کھانا رکھا جائے اور تکبیر کسی جائے تو پچھلے کھانا کھا لو علی

عَنْ اَنَسٍ بَزْطِكِ (مُتَكَرِّر - ۳۳۳) (۲۰۵) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مُتَكَرِّر - ۳۳۳) (۲۳۳)

دیکھو حدیث نمبر ۳۳۳ علی دیکھو حدیث نمبر ۲۳۳ علی

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلَا يَجْعَلُ

ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلیع نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو تو وہ جلد ہی نہ کرے

حَتَّى يَقْضَى حَاجَتُهُ مِنْهُ وَإِنْ اَقْبَمَتِ الصَّلَاةُ يَا بَ إِذَا دُعِيَ اِلَّا مَا رَأَى

یہاں تک کہ اپنی ضرورت پوری کر لے اگرچہ اقامت کسی گئی ہو باب جب امام نماز کے لئے بلا یا جائے

الصَّلَاةَ وَيَبْدَأُ مَا يَأْكُلُ (۲۰۶) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مُتَكَرِّر - ۳۳۳) (۱۶۹) يَا بَ مِنْ كَانَ حَاجَةً اَهْلِهِ

اور اسکے ہاتھ میں نبی چیز ہو جو کھا رہا ہے دیکھو حدیث نمبر ۱۶۹ علی باب جو اپنے گھر والوں کے کام میں مصروف ہو

۱۷۵
۱۷۴
۱۷۳
۱۷۲
۱۷۱
۱۷۰
۱۶۹
۱۶۸
۱۶۷
۱۶۶
۱۶۵
۱۶۴
۱۶۳
۱۶۲
۱۶۱
۱۶۰
۱۵۹
۱۵۸
۱۵۷
۱۵۶
۱۵۵
۱۵۴
۱۵۳
۱۵۲
۱۵۱
۱۵۰
۱۴۹
۱۴۸
۱۴۷
۱۴۶
۱۴۵
۱۴۴
۱۴۳
۱۴۲
۱۴۱
۱۴۰
۱۳۹
۱۳۸
۱۳۷
۱۳۶
۱۳۵
۱۳۴
۱۳۳
۱۳۲
۱۳۱
۱۳۰
۱۲۹
۱۲۸
۱۲۷
۱۲۶
۱۲۵
۱۲۴
۱۲۳
۱۲۲
۱۲۱
۱۲۰
۱۱۹
۱۱۸
۱۱۷
۱۱۶
۱۱۵
۱۱۴
۱۱۳
۱۱۲
۱۱۱
۱۱۰
۱۰۹
۱۰۸
۱۰۷
۱۰۶
۱۰۵
۱۰۴
۱۰۳
۱۰۲
۱۰۱
۱۰۰
۹۹
۹۸
۹۷
۹۶
۹۵
۹۴
۹۳
۹۲
۹۱
۹۰
۸۹
۸۸
۸۷
۸۶
۸۵
۸۴
۸۳
۸۲
۸۱
۸۰
۷۹
۷۸
۷۷
۷۶
۷۵
۷۴
۷۳
۷۲
۷۱
۷۰
۶۹
۶۸
۶۷
۶۶
۶۵
۶۴
۶۳
۶۲
۶۱
۶۰
۵۹
۵۸
۵۷
۵۶
۵۵
۵۴
۵۳
۵۲
۵۱
۵۰
۴۹
۴۸
۴۷
۴۶
۴۵
۴۴
۴۳
۴۲
۴۱
۴۰
۳۹
۳۸
۳۷
۳۶
۳۵
۳۴
۳۳
۳۲
۳۱
۳۰
۲۹
۲۸
۲۷
۲۶
۲۵
۲۴
۲۳
۲۲
۲۱
۲۰
۱۹
۱۸
۱۷
۱۶
۱۵
۱۴
۱۳
۱۲
۱۱
۱۰
۹
۸
۷
۶
۵
۴
۳
۲
۱
۰

وكان رجلا ضخما يعني اس کا بدن بوجھل تھا۔ اور عثمان کی حدیث میں ہے کہ وہ نابینا تھا اور کہا کہ میں نابینا کی اور سیلاب کے وقت نہیں آسکتا۔ اسلئے دونوں روایتیں الگ الگ معلوم ہوتی ہیں۔ اور حضرت انس کا آپ کو پاجنت کی نماز پڑھنے نہ دیکھنا اس وجہ سے ہے کہ یہ نماز آپ گھر کے اندر پڑھتے تھے۔ بظاہر ایسا بھی معلوم ہو تا ہے کہ کبھی کبھی پڑھنے تھے۔ نماز کا مقصد ہے شترخ اور حضور قلب سے خدا کے سامنے کھڑا ہونا شدت بھوک اور پیاس اور نیز نقصان حاجت کی ضرورت امیں غل ہوتی ہے لہذا اس مقدم کے نماز پڑھی جائے تاکہ دل میں رہے۔ مگر یہ کبھی ضرورت کے وقت ہی۔ ورنہ کھانے کا وقت جماعت کے وقت سے ادھر ادھر رکھنا چاہیے۔ علی اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں قال اذا قدم العشاء فابدأ به قبل ان تصلوا صلوة المغرب ولا تقبلوا عن عشاء فكم +

یہاں آخر یہ لفظ تیارہ ہیں ولا یجعل حتی یفرغ منه اور جلد ہی نہ کرے یہاں تک کہ اس سے خارج ہو جائے اور اسکے بعد ابن عمر کا ذکر ہے وكان ابن عمر یضع له الطعام ويقدم الصلوة فلا یتھا حتی یفرغ وانه لیسمع قرأۃ الامام یعنی ابن عمر کے لئے کھانا رکھا جاتا اور نماز کی تکبیر ہو جاتی تو نماز کیلئے نہ جلتے یہاں تک کہ وہ خارج ہو جاتے اور وہ امام کی قرأت کو سنتے تھے۔ علی خفیف اختلاف لفظی سے حدیث نمبر ۱۶۹ کراہی ہے۔ یعنی نبی صلیع کر کے کہتے کہ گواہت کا ذکر کھارے تو اگر آپ کو نماز کیلئے بلا یا گیا تو پچھری پھینک دی اور نماز کو چلے گئے۔ غالباً جس قدر ضرورت تھی کھا پکے۔ یا یہ کہ آپ کو مر حال میں بھی حاصل تھی۔ اس لئے آپ نے کھانے کی پروا نہیں کی۔

فَأَقِمْ الصَّلَاةَ فَخَرَجَ (۴۳۴) عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

اور نماز کی تکبیر ہو تو نکل آئے اسود سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ فِي مَهْنَةِ أَهْلِهِ نَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِ

اپنے گھر میں کیا کرتے تھے کہا اپنے گھروالوں کی خدمت میں ہوتے تھے یعنی ان کا کام کیا کرتے تھے

فَإِذَا أَحْضَرَتِ الصَّلَاةَ خُجِرَ إِلَى الصَّلَاةِ بِأَبٍ مِنْ صُلَى بِالنَّاسِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ

پس جب نماز کا وقت آتا تو نماز کے لئے چلے جاتے تھے باب جو لوگوں کو نماز پڑھانے اور وہ انہیں صرف

إِنَّ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُنَّتَهُ (۴۳۵) عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ جَاءَنَا نَاوَالِكُ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور آپ کی سنت کی تعلیم دینا چاہتا تھا ابو قلابہ سے روایت ہے

ابن الحُرَيْثِ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ إِنِّي لَأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ أَصَلِّي كَيْفَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ

کہ ایک بن حریث ہمارے پاس ہماری اس مسجد میں آئے تو کہا میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں اور میں عرض نماز پڑھنا نہیں نماز پڑھوں گا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلِّي فَقُلْتُ لَأَبِي قِلَابَةَ كَيْفَ كَانَ يَصَلِّي قَالَ مِثْلَ صَلَاتِنَا

جو عرض میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا میں نے ابو قلابہ سے پوچھا کہ وہ کس طرح نماز پڑھتے تھے کہا ہمارے اس شیخ کی مانند

هَذَا وَكَانَ الشَّيْخُ يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ فِي الرَّكْعَةِ

اور شیخ پہلی رکعت میں جب اپنے سر کو سہرے سے اٹھاتے تو کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ جاتے تھے

الْأُولَى بِأَبِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ حَقٌّ بِالْإِمَامَةِ (۲۰) عَنْ أَبِي مُوسَى

باب علم اور فضیلت والے امامت کے زیادہ مفید ہیں دیکھو حدیث

(مُتَكَوِّرٌ - ۴۳۱) (۲۰۸) عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَوِّرٌ - ۴۳۱) (۴۳۶) عَنِ الزُّهْرِيِّ

زہری سے روایت ہے دیکھو حدیث نمبر ۴۳۱

قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کہ مجھے اس میں ایک انصاری نے خبر دی اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاجدار کی

وَخِدْمَةَ وَصَحْبَةَ أَنْ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَصَلِّي لَهْمُ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور آپ کی خدمت کی اور آپ کے ساتھ یہ کہ ابو بکر انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بلبلی میں جس میں آپ نے

الَّذِي تَوَلَّى فِيهِ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَهُوَ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ

وفات پائی نماز پڑھتے تھے یہاں تک کہ جب دو شنبے کا دن ہوتا اور وہ نماز میں صفیں باندھے ہوتے تھے

فَكَشَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتْرَ الْحَجْرَةِ يَنْظُرُ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ كَانَ وَجْهَهُ

تو آپ نے حجرت کے پار وہ ہٹا کر ہماری طرف دیکھا اور آپ کھڑے تھے گو پا کر آپ کا چہرہ

کا کام کوئی... پیشہ کسی مسلمان کے لئے موجب فائز نہیں۔ اور نہ اس میں ذلت ہے۔ کیونکہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کام اپنے ہاتھ سے کئے۔ ہر ایک کی سہولتیں باب

الملك بين السجدين میں یہ کہ شیخ عمرو بن سلمہ ہے۔ وہاں یہ حدیث مفصل آئی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی اور تیسری رکعت کے دو سرے سجدے کے بعد کھڑے

ہوئیے پہلے ٹھیکہ پھر کھڑے ہوتے۔ ہاک بن حورث نے بھی ابو قلابہ وغیرہ کو نبی کریم کی نماز کی کیفیت سے سیرح بتائی۔ مگر ان امور میں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں وسعت پائی جاتی ہے۔ ہر

نمبر ۴۳۴ کا مضمون بیان مختصر سے بیان ہوا ہے اور بعض نسخہ صلی اللہ علیہ وسلم فاشند ورضہ فقال وروا ابوبکر فليصل بالناس قلت عائشة اندرجل تيقن اذا قام مقامك لم يستطع ان يصل بالناس

قال وروا ابوبكر فليصل بالناس فعاتق فقال لروى ابوبكر فليصل بالناس فانك صواحبنا يومئذ فاناه الرسول فليصل بالناس في حيوة التبرج صلح عليه من حيث كان لفظ

عمر ۴۳۴ حضرت صلح
میں ایک طبقہ کے
لوگوں کے لئے نمونہ
ہیں جو لوگ تنگ دستی
کی وجہ سے اپنے
گھر کا کام کاغذ خود
کرتے ہیں ان کے
واسطے بھی آپ
نمونہ ہیں اور انہیں
کوئی عداوتی اور
اپنے گھروالوں کی
خدمت میں نہیں
ہونی چاہیے۔ نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ ہی لیتے۔ یا
مرمت کر لیتے اپنی
جوئی میں خود پیوند
لگا لیتے۔ بکریوں
کا درد خود دیکھ لیتے
کوئی رزق وغیرہ
کو دیتے سو خوش نہ
اینا کام اپنے ہاتھ
سے کرتے ہیں آپ
مددتی۔ زہری
بیویوں کو ان کے
کاروبار میں مدد دینے
سے عادت تھی۔ بلکہ
غیروں کے کام بھی
کر دیتے۔ سودا وغیرہ
لا دیتے۔ آپ نے
محنت کی اس قدر
عزت کی ہے کہ کسی
نظر اس پار کے ہٹا
میں دنیا میں نہیں
ملتی۔ کوئی مزدوری

ورقة مضمینة تسلم یصحک فہمنا ان نقتن من الفرج برویة النبی صلی
قرآن کریم کا ایک ورق ہے۔ پھر ہم نے اس کا ذکر کیا ہے۔ پس ہمتے اراد کیا کہ یہ کریم کے دیکھنے کی وجہ سے خوشی کے مارے غار کو توڑوں

اللہ علیہ وسلم فنکص ابو بکر علی عقبہ لیصل الصف و ظن ان النبی صلی
اور ابو بکر اپنی ایڑیوں پر بیٹھنے کے نصف میں مل جائیں اور خیال کیا کہ یہی کریم صلعم

اللہ علیہ وسلم خارج الی الصلوة فاشار لینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان
غزاکر طرف بٹکتے والے ہیں پس نبی کریم صلعم نے ہلکا اشارہ کیا کہ

اتموا صلاتکم و ارحی السرف قلوبی من یومہ صلی اللہ علیہ وسلم (مر ۲۰۹)
اپنی نماز کو پوری کرو اور پردہ ڈال دیا اسی دن نبی کریم صلعم نے وفات پائی علی

عن انس ممتکر (مر ۲۱۰) عن حمزة بن عبد اللہ ممتکر (مر ۲۱۱) باب
دیکھو حدیث نمبر ۲۰۹ علی دیکھو حدیث نمبر ۲۱۱ علی باب

من قام الی جنب الام لعلہ (مر ۲۱۱) عن عائشة ممتکر (مر ۲۱۲) باب من
جو عذر کی وجہ سے امام کے پاس نہیں کھڑا ہو

دخل لیوم الناس فجاء الامراة و اول فتاخر الاول او لم یناخر جارت صلوتہ
غصن آیا کہ لوگوں کی امامت سے پھر پہلا رہنے مقرر امام آیا پس اول الذکر پیچھے ہٹا یا نہیں ہٹا اس کی نماز ہو جائے گی

فیہ عائشة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم (مر ۲۱۳) عن سہل بن سعد الساعی
اس میں حضرت عائشہ (کی روایت) نبی کریم صلعم سے ہے علی سہل بن سعد ساعی سے روایت ہے

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب الی بنی عمرو بن عوف لیصلہ بینہم فحانت
نبی کریم صلعم بنی عمرو بن عوف کی طرف گئے تاکہ ان میں صلح کر لیں

الصلوة فجاء المؤمن الی ابی بکر فقال اصبل للناس فاقیم قال نعم فضمد ابو بکر
اور نماز کا وقت آیا تو مؤذن ابو بکر سے پاس آیا اور کہا کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے تاکہ میں بھی کہیں کہیں کہتا ہوں تو ابو بکر نماز پڑھانے لگے علی

علی صلی اللہ علیہ وسلم
میں ہے۔ نماز کو پوری کر کے
کو تین دن گذر چکے
تھے۔ کہ نماز کے وقت
تشریف نہیں لاسکتے
آپ نے اس وقت
بیٹھنے وصال سے کچھ
پچھتا اس قدر اذیت
محموس کیا کہ حجر سے
کے روانہ سے پڑ
ہٹا کر اپنے صحابہ
کو دیکھیں۔ اور
جب آپ نے ان کو
حد کی عبادت میں
مصروف پایا۔ تو
آپ کی قلبی رنج
کی کیفیت چہرہ
سماں پر آشوبی اور
آپ نے تیسرے دن
وہ جاں نثار جنیبر
آپ سے استعاذہ
کا مشق اور محنت
تھی۔ اور جن کی
آنکھیں تین دن سے
آپ کے دیکھنے کو
ترستی تھیں جہاں
محبوب کیلئے ہے

ان کی آنکھیں اٹھانے لگیں۔ یہ وہی ایک چہرہ تھا۔ جس نے ہمیں خدا کا چہرہ دکھایا تھا۔ اور انہیں خیال ہوا کہ شاید آپ نماز کے لئے باہر تشریف لارہے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر نے بھی مٹھا چاہا کہ آپ کے لئے امام کی جگہ خالی کر دیں۔ تو آنحضرت صلعم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے تین دیا کہ نماز کو اس طرح پورا کریں۔ یہی وہ تین نمازوں کی آپ کی وفات کا دن تھا۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ عن انس قال امر یخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلذنا فانہیت الصلوة فذہب ابو بکر یتقدم فقال ابی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا محباب فوفدہ فلما وضح وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانظرا منظر کان اعجب الینا من وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین وضح لنا فادھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوع الی بیوان یتقدم وارضو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحجاب فلو قید علیہ حتی مات نبی کریم صلعم تین دن نہیں گئے۔ یہ تین دن اس تاریخ سے ہیں تاریخ آپ نے مسجد تشریف لائے۔ شیخ گزاف پڑھتی تھی۔ قال فعل اور علی کے منہ میں آیا کرتا ہے یہاں تاں بیٹھے اخلا ہے یعنی پردہ کو پکڑا اٹھایا فلم یقل علیہ حتی مات نبی کریم صلعم تک ہمارے علی کا حدیث کے الفاظ یہ ہیں ما اشدت رسول اللہ صلعم وجہ قبلہ فی الصلوة فقال ودا ابی بکر فلیصل بالناس قالت عائشہ ان ابی بکر لیتبہ اذا قرأ علیہ الیکاء قال وروہ فلیصل فعاودتہ فقال وروہ فلیصل انک صاحبہ و سفان احادیث حضرت ابو بکر کی نومذنی اور وقت کی شہادت تھی جو۔ باہر وہ دل کتا تھا اور کے مضبوطی کے جب عرب غارت پکڑا ہو گیا تو کچھ یں ذلک بہت پیدا نہیں ہوئی اور ایک پہاڑ کی طرح مضبوط ہے وقت قلب جس سے مخلوق کی ہمدردی پیدا ہوتی اور وقت قلب جس سے انسان کا مقابلہ کر سکتا ہے وہ وہں کماں درہم حضرت ابو بکر میں جمع تھیں۔ اور انہی صفات نے آپ کو آنحضرت صلعم کے بند ٹلانٹ کا حقدار ٹھہرایا۔ علی اس کی روایت میں نمبر ۲۰۴ کا پہلا حصہ اختصار سے بیان ہوا ہے۔ مگر پیچھے حصہ میں یہ تصریح کی کہ ابو بکر آنحضرت صلعم کی اقتدار کرتے تھے اور لوگ ابو بکر کی اقتدار کرتے تھے۔ قال امر رسول اللہ صلعم ابی بکر ان یصل بالناس فی وضوء فان یصل بہم فاعر وہ فوجد رسول اللہ صلعم من لہ خفة فخرج فلما ابی بکر استاخو فاستاخذوا لیلان کما مات فجلس رسول اللہ صلعم حنا علی بکر الی جنبہ فان ابی بکر یصل بصلوۃ رسول اللہ صلعم والناس یصلون بصلوۃ ابی بکر علی حضرت عائشہ کی حدیث نمبر ۲۰۳ وکر روایت نمبر ۲۱۱ میں کہ حضرت ابو بکر نے بیٹھ کر پڑھے ہے اور نبی کریم آپ کے بائیں جانب بیٹھے گئے۔ اور آنحضرت صلعم نے۔ اور حدیث میں ہے کہ جب حضرت ابو بکر بیٹھے گئے تو آنحضرت صلعم نے حکم دیا کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہیں۔ لیکن حضرت ابو بکر بیٹھے۔ اور نبی کریم صلعم نے۔ پس نماز امام مقرر کے اپنے پڑنا پڑنا شیوا الام بیٹھے بیٹھے یاد بیٹھے درون دست ہیں۔ علی احمد اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلعم نے جانے وقت بائیں سے بیٹھا تھا کہ اگر ضرورت پڑ جائے اور میں بائیں نمازوں کو تو ابو بکر سے کہنا تھا کہ وہ نماز پڑھادیں +

فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي

علیٰ ثلثیٰ من خوض

الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ

صرف اس قدر تھی کہ امام متوجہ ہو جائے کہ کوئی امر پیش آ گیا ہے جیسا کہ آگے آتا ہے

الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ لِكَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دیا کہ نماز میں کوئی امر پیش آجائے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے اور سبحان اللہ کہنے میں ذکر الہی بھی اور اہم ذکر سبحان ہی مقصود ہے کہ اس سے غلطی جو کوئی غلطی سے پاک صرف خدا کی ذات ہے + صل

وَسَلَّمَ إِنَّ أُمَّكَ مَكَانَكَ فَرَفَعَهُ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَمَدَّ اللَّهُ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ

کہ اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو پس ابو بکر نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اپنے خدا کی تعریف کی جو اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا پھر ابو بکر پیچھے ہٹے یہاں تک کہ (رہلی) صف میں برابر ہو گئے

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَخْرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے پس نماز پیشانی توجہ خارج ہوئے فرمایا اسے ابو جریجیہ نے نہیں مکیا تو اس چیز نے تمہیں روکا کہ ٹھہرے رہتے ابو بکر نے کہا ابن ابی قحافة کو شاید کہ

بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لِي رَأَيْتُكُمْ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نماز پڑھنے سے اس وقت بھی آپ نے حضرت ابو بکر کو اشارہ کیا تھا کہ اپنی جگہ پر ٹھہرے ہو اور ابو بکر نے یہاں تک غلطی نہیں کی کہ

أَكْثَرْتُمْ التَّصْفِيقَ مِنْ تَابِ شَيْءٍ فِي صَلَاتِهِ فَلَيْسَ بِهِ وَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ التَّنْتِ عَلَيْهِ وَرَأَى النَّصِيقَ

کہ تم بہت تالیباں بجاتے تھے جسے نماز میں کوئی امر پیش آجائے تو سبحان اللہ کہو کیونکہ جب وہ سبحان اللہ کہے گا تو کسی طرف (امام کی توجہ)

لِلنِّسَاءِ بَابٌ إِذَا اسْتَوَى فِي الْقِرَاءَةِ فَلْيُؤْتِمُّمُ الْكُرْهُمُ (ص ۲۱۲) عَنْ أَبِي قُرَيْبٍ مَثَرًا

ہو جائیگی اور نلی بجا مارے خودوں کے لئے جو عا ب باب جب قرات میں برابر ہوں تو ان میں جڑان کی امامت کرانے دیکھو حدیث نمبر ۲۱۲ ص ۲۱۲

امامت کرتے رہے اور ابو بکر آپ کے مقتدی ہو کر لوگوں کی امامت کرتے رہے۔ اسلئے یہاں بھی قرین قیاس ہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابو بکر کو اپنی جگہ ٹھہرے رہنے کا حکم دیا تو عرض ہی ہو گی کہ جو شخص امامت کر رہا ہے وہ اپنی جگہ سے پیچھے نہ ہٹے۔ اگر اس وقت حضرت ابو بکر پیچھے ہٹ گئے اور اس وقت سے توجہ پر نہیں ہٹے۔ شاید اسکی وجہ صرف اسی قدر ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت میں وہ جانتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی امامت نہیں کر سکتے بہت کمزور ہیں اسلئے وہ اپنی جگہ پر رہے۔ تاکہ لوگوں کے لئے امام کا کام دیں۔ گو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتباس نماز پڑھ رہے تھے مابین نماز میں ذکر ضرور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صف میں ٹھہر گئے تو ممکن ہے کہ اسکی وجہ یہ ہو کہ حضرت ابو بکر کی توجہ اس طرف نہیں چلی اور آپ نے صل ہونا پسند نہ فرمایا۔ اور ممکن ہے کہ یہ غیر جان مرقات کی تعلیم کیلئے ہو اور حضرت ابو بکر کو جواب بھی اسلئے دیا کہ اشارہ کرتا ہے۔ یعنی بظاہر انہوں نے آنحضرت کے اشارہ سے یہی سمجھا کہ امامت ہی کرتے رہیں اور ہمیں کوئی شبہ معلوم نہیں ہونا کہ یہی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ کیونکہ آپ نبی تھے اور آپ کے لئے یہاں تک بعد میں بھی اہلین تو امامت آپ ہی کرائیں۔ اگر کوئی اور امام مقرر ہوا اور کسی غیر مقرر میں دوسرا اٹھا ہوتا۔ اور امام مقرر بعد میں نماز میں شامل ہو تو اسے جملیت مقتدی ہی جہاں جگہ کے شامل ہونا چاہیے۔ ہلکے بظاہر اس حدیث کو اور دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تاکہ نماز میں کوئی امر پیش آئے تو مرد سبحان اللہ کہنا کریں۔ عورتیں تالی بجا یا کریں۔ اگر اس فرق کی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ جب نماز میں امام نہ ہوں میں مرد اور عورت یکساں ہیں تو اس فرق کا کیا مطلب اور عورتوں کے سبحان کہنے سے کیا امر نافع ہے۔ یہاں خیال ہو کہ آپ کی عرض نا انصافیت اللہ سے صرف یہ تھی کہ نلی بجا مارے عورتوں کا کام ہے۔ یہی صرف تالی بجانے سے روکنا تھا۔ اور ممکن ہے کہ ایسی احادیث میں جہاں انما التسمیہ للرجال والتصفیق للنساء آتے ہے۔ صرف وہی کی غلط فہمی ہو۔ یہی کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عورتیں جو مردوں کے ساتھ نماز پڑھتی تھیں۔ علیحدہ ان کی جماعت بنتی تھی اسلئے تفریق اس پہلو سے بھی درست معلوم نہیں ہوتی۔ اور اللہ علیہ وسلم نے نمبر ۲۱۲ ص ۲۱۲ پر بھی لکھ کر دیکھی ہے یہاں بہت مختصر الفاظ میں آئی ہے قدامنا علی الصبح صلح و نحو شیعہ قلبنا ناعتہا نحو من عتسرا بین لیلۃ وکان النبی صلح و رحیمنا فقال اور وجعہ الی لادکہ فعلہ او ہو مر وہ فیصلو البصلق کذا فی حدیث کن اولصلو کذا فی حدیث کن افاذا حضرت الصلیقہ فلیتذکرکم احکم ولینو کہم الکرکم اس حدیث میں یہ تو ہے کہ جو پڑا ہو وہ امام ہے۔ لیکن قرات میں یہی امر کی کوئی تصریح نہیں ہے۔ باب کا عنوان حدیث کا ذکر ہے جسے سلم نے روایت کیا ہے وہم القدر الکریم تکبار اللہ فان کانت قراتہم سواء فلیتذکرکم اذہم حججۃ فان کانت فی الحججۃ سواء فلیتذکرکم اذہم و سائر احادیث میں یہاں تالی بجا اور یہی لکھا ہے کہ عتقارین فی العلم یعنی ایک بن عیث کہتے ہیں کہ اس وقت علم میں برابر تھے افراسے بعض نے اعلم مارا ہے اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ یہی صحیح حضرت ابو بکر کی امامت کی بنا ہے۔ جو اعلم العجاہ تھے۔ اور بعض نے صرف قرات میں جہارت رکھنے والا مراد لیا ہے۔

کتب الصلوة

بَابُ إِذَا زَالَ أَمَامُ قَوْمًا قَامَتْهُمُ (م ۲۳۸) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ (مُتَكَرِّرًا ۲۹۸)

باب جب ان کی قوم کی ملاقات کرے اور ان کی امامت کرے
بَابُ إِذَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِقَوْمٍ بِهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضٍ أَلَدِيَّةٍ

باب امام سے مقرر کیا گیا جو کس کی پیروی کی جائے اور نبی کریم صلعم نے لوگوں کو اس مرض میں جس میں
تَوَرَّقِي فِيهِ بِالنَّاسِ وَهُوَ جَالِسٌ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا رَفَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ يَعُودُ

آپ نے وفات پائی نماز پڑھائی اور آپ بیٹھے تھے
اور ابن مسعود نے کہا جب امام سے اٹھنے کا وقت چلے

فِيمَنْكَ بِقَدْرٍ مَا رَفَعْتَ ثُمَّ يَتَّبِعُ الْإِمَامَ وَقَالَ أَحْسَنُ فِيمَنْ يَرْكَعُ مَعَ الْإِمَامِ الرَّكْعَتَيْنِ

اور اتنا جھکے جتنا سر اٹھایا تھا پھر امام کی اتباع کرے
اور حسن اس شخص کے بارے میں جو امام کے ساتھ دو رکعت پڑھے

وَلَا يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ يُسْجِدُ لِلرُّكْعَةِ الْأُخْرَى سَبْعَدَيْنِ ثُمَّ يَقْضِي الرُّكْعَةَ الْأُولَى

اور سجدہ پر قدرت نہ پائے کھٹے ہیں پہلی رکعت کے واسطے دو سجدے کرے
پھر پہلی رکعت اسکے سجدوں کے ساتھ ادا کرے

يُسْجُدُ بِهَا وَفِيهَا سَبْعَةَ سَجْدَةٍ حَتَّى قَامَ لِسَبْعَةٍ (م ۲۳۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ

اور اس شخص کے بارے میں جو سجدہ بھول گیا ہاں تک کہ کھڑا ہو گیا سجدہ کرے
عبداللہ بن عبد اللہ

ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَا تَحْتَدِثِي عَنِّي عَنْ رُفُضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

بن عبیدہ سے روایت ہے کہ میں حضرت عائشہ کے پاس گیا تو میں نے کہا کیا آپ رسول اللہ صلعم کی بیماری کی صورت مجھے نہیں سنائیں گی
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ بَلَى ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلَّى النَّاسُ

کہا ہاں نبی کریم صلعم زیادہ بیمار ہوئے تو فرمایا کیا لوگوں نے نماز پھسلی
قُلْنَا لَا وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ضَعُوبِي مَاءً فِي الْمُخْضَبِ قَالَتْ

ہمیں کہا نہیں یا رسول اللہ وہ آپ کی انتظار کرتے ہیں فرمایا میرے واسطے گن میں پانی رکھو کہا تو مجھے
فَفَعَلْنَا فَأَغْتَسَلَ فَذَهَبَ لِبَنُوِّ فَأَعْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ فَقَالَ صَلَّى النَّاسُ قُلْنَا

رکھا اور آپ نے غسل کیا پھر اٹھنے لگے تو آپ کو غش آگیا پھر ہوش میں آئے تو فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی مجھے کہا
لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ضَعُوبِي مَاءً فِي الْمُخْضَبِ قَالَتْ فَفَعَلْنَا

نہیں یا رسول اللہ وہ آپ کی انتظار کرتے ہیں فرمایا میرے واسطے گن میں پانی رکھو کہا تو مجھے رکھا
فَأَغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِبَنُوِّ فَأَعْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ فَقَالَ صَلَّى النَّاسُ قُلْنَا

پس غسل کیا پھر اٹھنے لگے تو آپ کو غش آگیا پھر ہوش میں آئے تو فرمایا کیا لوگوں نے نماز پھسلی مجھے کہا نہیں
هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ضَعُوبِي مَاءً فِي الْمُخْضَبِ فَفَعَدَ وَأَغْتَسَلَ

یا رسول اللہ وہ آپ کی انتظار کرتے ہیں فرمایا میرے واسطے گن میں پانی رکھو پس پھس گئے اور غسل کیا
ثُمَّ ذَهَبَ لِبَنُوِّ فَأَعْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ فَقَالَ صَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ

پھر اٹھنے لگے تو آپ کو غش آگیا پھر ہوش میں آئے تو فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی مجھے کہا نہیں یا رسول اللہ وہ
يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالنَّاسُ عَكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

آپ کی انتظار کرتے ہیں اور لوگ مسجد میں بیٹھے بچھلی نماز رکھنے کے لیے نبی صلعم کی انتظار کرتے تھے
وَسَلَّمَ لِبَلَاغَةِ الْعِشَاءِ الْأُخْرَى فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَصَلِّيَ

پس نبی کریم صلعم نے ابو بکر کی طرف (پیغام) بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں

عبد غنیان بن مالک
یہ حدیث مفصل نہیں
۲۹۸ پر پھر مختصر کر
۲۰۱ پر ذکر بھی ہے
یہاں بہت ہی مختصراً
کے ساتھ ان الفاظ میں
آئی ہے استاذن اللہ
صلعم فاذا نزل لرفعال
ابن حبان نے نقل کیا
بینک فاشروت لہ
الی مکان الذی احب
فقال ووصفنا خلف
ثم سلمو وسلمنا
امام بخاری نے عثمان بن
ہے جیسا کہ کسی قوم کی
ملاقات کرے اور ان کی
امامت کرنے تو فی الواقع
نبی صلعم ہی اصل امام مقرر
اور عثمان نے صرف یہ
کہا تھا کہ میری نظر
ٹھیک نہیں رہی اور
میرا ہے نماز پڑھنے
پر مجبور ہونا ہوں۔
تو وہاں امام رسول صلعم
تھے۔ اور اگر عثمان اور
ابو داؤد میں ہے من ذل
تو ما تلاحظوہم واثوہم
رجل عنہم تو ایسی
صورت کا ذکر ہے کہ
جہاں ملاقات کرنی والا
پہنچے ہاں کا امام نہیں
ملا یعنی مقتدی
انکان نماز اس طرح
ادا کرے کہ اس سے امام
کی مخالفت یا امام سے
سبقت نہ ہو۔ بلکہ امام
کی پیروی اور متابعت
نظر آجائے اور اس میں
تو ہی کا ایک سبب ہے
کہ وہ اپنے رہنا اور
مقتدی کے اشارے پر کما
کرتی ہے اور اس کی پیروی

کرے۔ عندک حالت میں اگر مقتدی امام کی پیروی نہ کرے تو وہ مستحق کسورت ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلعم نے مغازات میں ٹھیک نماز پڑھائی اور مقتدی کھڑے تھے امام کی بیماری امام کے مقتدی کو کسورت
ملا یعنی جہنمی دیر امام کی متابعت سے باہر ہو کر میرا ٹھکانا تھا۔ اتنی دیر زیادہ سجدہ میں پڑا رہے + ملا اسکی تصریح ابن المنذر میں ہے۔ کہ جمیع کے دن جب کوئی نماز پڑھنے کی کثرت کی وجہ سے کھڑا
ہی رہے۔ اور سجدہ پر قادر نہ ہو تو بعد فراغت امام آخری رکعت کے واسطے دو سجدے کرے۔ اور پھر پہلی رکعت کو سجدہ سمیت پڑھ لے +

بِالنَّاسِ فَأَنَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَرْوَانَ نَصِيْبِي

جہان کے پاس قاصد آیا تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو

بِالنَّاسِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا يَا عُمَرُ صَبِلْ بِالنَّاسِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَنْتَ

ابو بکر نے کہا اور وہ نرم دل آدمی تھے اسے عمر لوگوں کو نماز پڑھو اور عمر نے انہیں کہا آپ اس کے زیادہ

أَحَقُّ بِذَلِكَ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ فَذَكَرَ الْإِقَامَ ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ

حقدار میں سو ابو بکر نے ان دنوں نماز پڑھائی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں افاقہ پایا

مِنْ نَفْسِهِ خُفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَأَبُو بَكْرٍ

تو دو مردوں کے درمیان جن میں سے ایک عباس تھے ظہر کی نماز کے واسطے نکلے اور ابو بکر

يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَأَاهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْحَى إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لوگوں کو نماز پڑھ رہے تھے جب ابو بکر نے آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ

بِأَنَّ لَا يَتَأَخَّرُ فَقَالَ اجْلِسْ اِنِّي إِلَى جَنِبِهِ فَأَحْلَسَاهُ إِلَى جَنِبِي بَكَرٌ قَالَ فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ

پیچھے نہ بیٹھیں اور فرمایا مجھے ان کے پہلو میں بٹھا دو تو انہوں نے آگے بٹھا دیا کہا ابو بکر

يُصَلِّي وَهُوَ يَا تَمُّ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ

نماز پڑھتے تھے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتدار کرتے تھے اور لوگ ابو بکر کی نماز کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ

بٹھتے ہوئے تھے عبد اللہ نے کہا میں عبد اللہ بن عباس کے پاس گیا تو میں نے ان سے کہا

أَلَا أَعْرَضُ عَلَيْكَ وَأَحَدًا ثَنِي عَائِشَةَ عَنْ مَرَضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کیا تم پروردہ بات پیش نہ کروں جو عائشہ نے مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے بارے میں بیان کی ہے

قَالَ هَاتِ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيثًا قَدِيمًا فَأَمَّا أَنْ كَرَّمَهُ شَيْءًا غَيْرًا أَنَّهُ قَالَ أَسَمَّتْ لَكَ

کہا لاؤ مجھ میں نے ان پر ان کی حدیث پیش کر دی تو اس میں سے کسی بات کا انکار نہیں کیا سوائے اس کے کہ کیا عائشہ نے انہیں

الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

اس شخص کا نام بتایا جو عباس کے ساتھ تھا میں نے کہا نہیں کہا وہ علی تھے۔

دیکھو حدیث نمبر ۲۴۷۷

کلمہ اس حدیث کا
مضمون نمبر ۱۶۱۱ میں
پھر نمبر ۱۶۱۲ اور ۱۶۱۳
گورروایات میں گزرا
چکا ہے یہاں تبدیلی
حصہ میں بہت قصیر
ہے۔ اور یہاں بھی
ذکر ہے کہ حضرت ابو بکر
نے خود بھی حضرت
عمر کو کہا تھا کہ وہ
نماز پڑھائیں اور خود
امام بننا پسند نہ کرتے
تھے۔ اور یہاں اس
حدیث کے لائنوں میں
امام بخاری کی غرض
صرف اس قدر ہے کہ
آپ بیٹھ کر نماز پڑھ
رہے تھے اور ابو بکر
اور دو مردوں کو
آپ کی اقتدار میں رکھتے
ہو کر نماز پڑھ رہے تھے
اور آگے جو دو حدیثیں
م ۲۱۲ م ۲۱۳
آتی ہیں ان کا مضمون
یہ ہے کہ آپ نے فرمایا
تاکہ امام بیٹھ کر نماز
پڑھتے تو مقتدی
بھی بیٹھ کر نماز پڑھیں
امام بخاری م ۱۵
آپ نے فرمایا کہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری ہی تھا کہ آپ نے جو عذر بیماری بیٹھ کر نماز پڑھی۔ لوگ آپ کے پیچھے کھڑے رہے اور آپ نے انہیں روکا نہیں اور آخری فعل ہی سند رکھنا اور انما یؤخذ بالاحوال
فلا یؤخذ من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض لوگوں نے ان دنوں میں یوں تطبیق کی کہ چونکہ آخری بیعت میں شروع نماز حضرت ابو بکر نے کی اور وہ کھڑے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں آ کر اشارہ
جو ہے تو یہ اور صورت ہو اور یہ کہ آپ بیٹھ سے ہی امام تھے اور آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی تو اس صورت میں شروع سے ہی اقتدار آپ کی چاہیے تھی اور چونکہ یہ فریضہ امتوں میں ہے۔ آپ نے خود سے
دوسروں کیلئے موجب تکلیف سمجھ کر پہلے حکم کو تبدیل کر دیا جو اسلئے استدلال اسی حدیث سے جو آخر وقت تک ہے درست ہوگا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں طرح کی لینا درست ہی۔ نیز دیکھو اکل اول
حدیث نمبر ۱۶۱۲ کی پہلی تفصیل فانہ اخصا بہ بیعدونہ تکلیف ہو چڑھی ہے۔ اور آخری الفاظ ونزل اللہ سے لیکر خرف تک چھوڑ دیئے ہیں۔ اور درمیان حصہ میرا اس قدر زیادہ کیا
ہے فانہ ان اجلسوا یعنی انہیں اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ اور یہ نمبر ۲۴۷۷ میں نہیں۔ اور کچھ اختلاف لفظی بھی ہے۔ یہاں سے صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینہ وهو شاذ
فصلی جالساً وصلی ودرعہ قوم قیاماً فانہ ان اجلسوا فلما التصرف قال انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا رکع فارکعوا واذا رفع فارفعوا
واذا قال سمع اللہ لمن سمع فقولوا ربنا والک الحمد واذا صلی جالساً فاصنعوا جالساً اجمعون اور م ۲۱۵ میں ہے فصلینا وراۃ قعودا ہنہ
آپ سے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اشارہ کی وجہ سے ہم بیٹھ گئے۔ مگر حدیث نمبر ۲۴۷۷ میں ہے فصلی ابھم جالساً وھم قیاماً آپ نے بیٹھ کر انہیں
نماز پڑھائی اور وہ کھڑے تھے۔ اور سب بڑی دقت یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں انہیں بیٹھ کر پڑھنے کا حکم دیا ہوتا تو وہ آپ کے مرض اللہ
میں آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز کیوں پڑھتے ممکن ہے کہ اس حدیث میں کچھ تصرف ہو گیا ہو۔ اور یہ غیب بات ہے۔ کہ جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں وہ تمام ارکان نماز میں اپنی
لما تم تکبیر کیے تو تم سجدہ کیو۔ وہ رکوع کرے تو تم رکوع کر۔ وہ رکوع سے اٹھتے تو تم رکوع سے اٹھو۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا مطلب صرف یہ ہی تھا کہ امام
بیٹھ کر پڑھے تو ہم بھی بیٹھ کر پڑھیں۔ کیونکہ باقی ارکان کا یہی ذکر ہے کہ ان میں اتباع امام کرو۔

(مر ۲۱۵) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مُتَكَرِّرًا (۲۶۴) بَابٌ مَنَى سَجْدًا مَرَّ خَلْفَ الْإِمَامِ

دیکھو حدیث نمبر ۲۶۴ بَابُ جِوَامِمْ كَيْفَ يَتَّبِعُهُ هُوْنَ وَهِيَ كَبِ سَجْدَةٍ كَرِيْمٍ

قَالَ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا سَجَدَ فَأَسْبِغْ رَأْسَهُ عَنِ الْبِرَاءِ

انس نے نبی کریم صلعم سے روایت کیا ہے کہ جب سجدہ کرے تو سجدہ کر کے برائے سے روایت ہے کہ

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَهُ اللهُ لِمَنْ جَدَّاهُ لَمْ يَجْنِ أَحَدًا

رسول اللہ صلعم اللہ علیہ وسلم جب سبوح اللہ کہنے تو ہم سے کوئی بھی

مِنَّا ظَهَرَ حَتَّى يَقَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا ثُمَّ نَفَعَهُ سُبُوحًا بَعْدَهُ

اپنی پیچھے ٹیڑھی نہیں کرتا تھا یہاں تک کہ نبی کریم صلعم اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائے پھر اس کے بعد سجدے میں گرنے

بَابٌ رَأَيْتُمْ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ (۲۶۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

بَابُ اس شخص کا گناہ جو امام سے پہلے سر اٹھائے مگر

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ أَوْ أَلَا يَخْشَى أَحَدًا إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ

کہا کرتے ہیں سے ایک شخص نہیں ڈرتا جب وہ امام سے پہلے اپنا سر اٹھائے کہ اللہ

أَنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ جَارٍ وَيَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ جَارٍ بَابٌ

اس کا سر گدے کا سر بنائے یا اسکی شکل گدے کی شکل بنائے مگر

إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْمَوْلَى وَكَانَتْ عَاشِرَةَ يَوْمِهَا عَبْدُهَا ذُو الْكُفْرِ

اور آزاد شدہ کی امامت مگر اور عاشر کا غلام ذکوان قرآن سے ان کی امامت کرتا تھا مگر

وَوَلَدِ الْبَغِيِّ وَالْأَعْرَابِيِّ وَالْعَلَامِ الَّذِي لَمْ يَحْتَلَمْ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى

اور ولد لڑکا اور دیہاتی اور اس لڑکے (کی امامت) جو یا بگ نہیں ہوا مگر نبی کریم صلعم کے

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ قَرَأَهُمْ كِتَابَ اللهِ وَلَا يَمْنَعُ الْعَبْدُ مِنَ

اس قول کی وجہ سے کہ ان کی امامت وہ کرے جو کتاب اللہ کو ان سے زیادہ پڑھا ہوا ہو اور غلام کو

الْجَمَاعَةِ بِغَيْرِ عِلَّةٍ (۲۶۶) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ مَا قَدِمَ

بغیر کسی وجہ کے جماعت سے نہ روکا جائے عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جب

الْمُهَاجِرُونَ أَوْ لَوْ أَنَّ الْعَصَبَةَ مَوْضِعًا يُقْبَلُ قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ

پہلے ہاجر رسول اللہ صلعم کے آنے سے پہلے عصبہ میں جو قبا میں ایک جگہ ہے آئے

کتاب التعلیق
اس حدیث کا
بہلا حدیث ہے
انس بن مالک ان
رسول اللہ صلعم
کے فرسہ فصیح
عند محض شفق
الایمن فصل صلوة
من الصلوات و
هو قاعد فضلینا
وربنا فعدا فلما
انصرف قال انما
جعل الامام لیومئذ
به فاذا اطلعت قانتا
فضلوا قیاما و
اذا رکعت من اخر
تک حضرت عائشہ کی
حدیث کی مانند ہے
اور آخر سے
قال ابو عبد اللہ قال
الحمد لله قولہ اذا اطلعت
جالسا فضلو جالسا
هو فی مضا القیام
سلو بعد انک التعلیق
جالسا والنا من خلفه
قیام یا مہم لقیوم
وانما یوخذ بالاخیر
فالآخر من فعل النبی
صلعم وعلی آج بھی
عباد میں حالت پائی جاتی
ہے کہ ان میں تہیبا اور نفا
نہیں کوئی ہرگز کوئے

پس باہر کوئی پیچھے نہاڑنا جماعت میں لافوں میں صفت یہ کہنا بھی مقصود ہے کہ وہ اپنے امام کے اعلیٰ درجے کے فرزند اور ہوں۔ مگر اس میں سے تخاصم کا جواز نکالنا ہے تاکہ اس کے بعد کا مصداق بنانا ہو مثل لڑکے بن حمل
التواؤد ثم لم یجئوا کمثل الحارثی بلہا ان سے فہم اور فہم ہی تھا تو اس کا سارا علاج کر کے بھی ہوتا ہوا اور ہار لڑن کا جواز ہے کہ جہاں تک شخص کی کمال اور یہی کہ تو توئی کو ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ گناہ کا جواز ہے
مگر نہ کہ نزدیک ہرگز ہو سکے اور نہ یہ کہ تعویذ کو کھینچ کر ایسا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے تقابل انسان کی کہ مرثیہ بزرگی اور ذات اور ذلت پر تہی حال کی وجہ سے ہوا کہ وہی کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوتا اور نہ
وہمراہی۔ اور نبی کریم صلعم نے بھی اولاً ہم کتاب اللہ کو امامت کا معیار ٹھہرایا ہے۔ پس جب غلام اور آزاد زاد شدہ اور لڑکا اور دیہاتی اور نابالغ قرآن اور حدیث کے سبب
کے مطابق ہیں۔ اور تقویٰ اور کتاب اللہ کے علم کی صفات کو اپنے اندر رکھتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ امام نہ بن سکیں۔
امام مالک غلام اور ولد لڑکا اور دیہاتی کی امامت کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ اور وجہ جس کے دن تو غلام کی امامت کو بالکل غیر صحیح سمجھتے ہیں۔ کیونکہ جو اس پر فرض نہیں
ہے۔ کہ امامت کی وجہ یہ بتاتے ہیں۔ کہ اعرابی اور غلام عام طور سے جاہل ہوتے ہیں۔ اور ولد لڑکا کو لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ وجہ درست نہیں۔ غلام
علم بھی ہو سکتا ہے۔ اور آزاد جاہل ہو سکتا ہے۔ اور ولد لڑکا کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا غلطی ہے۔ کیوں کہ اس کا کوئی قصور نہیں۔ مگر ایسے رمضان میں نبی کریم صلعم
رکھ کر پڑھتا اور ان کی امامت کرتا تھا۔ مگر غزوہ فتح میں روایت کی ہے کہ عمر بن سلمہ جس کی عمر سات برس تھی اپنی قوم کا امام ہونا تھا۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے
کہ وہ فرماتے تھے۔ کہ حرم میں جہاں میں حاضر ہو جاتا تو میں ان کا امام ہوتا۔

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْمَهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ وَكَانَ

توسلم ابو حذیفہ کا مولیٰ ان کی امامت کرتا تھا اور وہ علم قرآن میں

أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا (۲۲۲) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ان سب سے بڑھ کر تھا علم انس بن مالک نبی صلعم سے رعایت کرتے ہیں کہ

قَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتَجَلَّ حَبَشِيٌّ كَانَ رَأْسَ زَيْبَةَ بَاب

کہ آپ نے فرمایا سنا اور اطاعت کرو اگرچہ ایک حبشی حاکم تباہا جائے جس کا سر گویا کہ کشمش کا دانہ ہے علم باب

بِإِذْنِهِ إِتِمَّ الرَّمْلُ وَأَتَمَّ مِنْ خَلْفِهِ (۲۲۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ

جب امام پورا نہ کرے اور جو اسکے پیچھے ہیں وہ پورا کریں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَإِلَّا أَخْطَأُوا

رسول اللہ صلعم نے فرمایا تمہیں نماز پڑھائیں گے تو اگر ٹھیک پڑھائیں تو تمہارے لئے ہے اور اگر غلط کریں

فَلَكُمْ وَعَلَيْكُمْ بَابِ إِقَامَةِ الْمَثُورِ وَالْمُبْتَدِعِ وَقَالَ الْحَسَنُ صَلَّى وَعَلَيْهِ

تو تمہارے لئے ہے اور (زیال) ان پر ہی علم باب باغی اور بدعتی کی امامت اور حسن نے کہا تو نماز پڑھے اور اس کی بدعت

بِدْعَتِهِ (۲۲۴) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ بْنِ الْخَبَرِ رَأَى دَخَلَ عَلَى عُمَانَ

اس پر ہے عبید اللہ بن عدی بن خبار سے روایت ہے کہ وہ عثمان

ابن عفان وَهُوَ مَحْضُورٌ فَقَالَ إِنَّكَ إِمامٌ عَامَّةٌ وَقَالَ لَكَ مَا تَرَى وَيُصَلِّي لَنَا

بن عفان کے پاس آیا اور وہ گھر سے جوئے تھے تو کہا کہ آپ سب کے بادشاہ ہیں اور آپ پر (صحیبت) نازل ہوئی ہے جو آپہ بکھر رہے ہیں اور

إِمَامٌ فَتَنَةٌ وَتُخْرِجُ فَقَالَ الصَّلَاةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ

ہمیں باغیوں کا امام نماز پڑھنا ہی اور تم گناہ سمجھتے ہیں تو فرمایا لوگوں کے عمل میں سے نماز سے اچھی اور تو جب لوگ اچھا کام کریں

فَأَحْسَنَ مَعَهُمْ وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ قَالَ الرَّهْمِيُّ

تو تو ان کے ساتھ اچھا کام کرو اور جب برائیاں کرو تو ان کی برائی سے دور رہو علم اور زبیدی نے کہا کہ زہری کہتا ہے

لَا تَرَى أَنَّ يُصَلِّي خَلْفَ الْمُخَنَّثِ لَمْ يَنْصُرْهُ وَرَوَى لَهَا مِنْهُ (۲۱۶) عَنْ أَنَسِ بْنِ

کہہ جنت کے پیچھے نماز پڑھنا (اچھا) نہیں سمجھتے گویا یہی ضرورت ہے کہ اس سے چارہ نہ ہو علم دیکھو حدیث

فَالنَّاسُ إِذَا كَانُوا اثْنَيْنِ بَابِ إِقَامَةِ الْمَثُورِ وَالْمُبْتَدِعِ (۲۲۲) عَنْ أَنَسِ بْنِ

نمبر ۲۲۲ باب امام کے ساتھ برابر کھڑا ہو جب (نمازی) دو ہوں

وَبِالْإِنِّ بَابِ إِقَامَةِ الْمَثُورِ وَالْمُبْتَدِعِ (۲۲۲) عَنْ أَنَسِ بْنِ

میں بند کر دیا تھا۔ اور باہر نکلنے سے روک دیا تھا۔ اور مسجد نبوی میں امامت باغیوں کے سرور کرتے تھے۔ اور حضرت عثمان کی وسعت قلبی اور فرخ جوصلگی پر یہ ایک عظیم الشان

شہادت ہے۔ اور یہ بات بھی کہ خلفا و راشدین کو مسلمانوں کی جماعت کو تفرق سے بچانے کی کس قدر فکر تھی۔ اہل فتنہ باغی میں حضرت عثمان کو گھر کے اندر محصور کیا ہے۔ اور انہیں معزول کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس وقت بھی انہیں مسلمانوں کو اختلاف سے بچانے کی فکر لگی ہوئی ہے۔ اور لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ نیک کام میں اگر باغی بھی لانا ہوا تو ان کے ساتھ

شریک ہو جاؤ۔ آج اشاعت اسلام جیسے نیک کام میں لوگ مارنے مارنے اور اختلاف کی وجہ سے اکٹھے نہیں ہوسکتے۔ جو مسلمان اور مسلمانوں کے ساتھ نیک کاموں میں جرحی اور فروری اختلافات کی وجہ سے شرکت نہیں کرنا۔ اور اختلاف رائے کو برداشت نہیں کرنا۔ اور ایسے آپ کو اہل سنت والجماعت سمجھنا ہے۔ وہ سنت کو بڑا مگر نیکو ہے۔ نیک کاموں میں لڑنا کرنا چاہیے اور مثال پونا

چاہیے۔ ہر شخص کی بدعت اور پوجہ اسپر ہو۔ ہمیں شرکت نہ کی جائے۔ نماز نیک کاموں میں ایک بلند مرتبہ رکھتی ہے اور یہی ایک سبب و ذریعہ مسلمانوں کی جماعت کے قائم کرنا ہے۔ جیسا کہ دوسرے

کے پیچھے نماز پڑھنا ترک کر دینے کو اتفاق اور جماعت کی جیلے انتہا را اور اختلاف بڑھتا جاوے گا جو مسلمانوں کی قومیت کو تباہ کرنا ہے۔ مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ایک طرف ہتھیار سست ہے تو دوسری طرف اس کا ہتھیار نہیں کہ ایک فاسق باغیہ ایک بن فروش امامت کا اہل ہے۔ ہمیں کہ اگلے کھڑے میں ہے۔ کہ محنت کے پیچھے سونے مجبوری کے نماز پڑھنا چاہا۔ علم جنت کس

وہ جو محنت سے اپنی حرکات و افعال چیت محمد توں کی طرح ظاہر کرنا ہے۔ اور محنت ہے جو جو صلاوات طہوت فعل کام تک پہنچانے کے لاپن نہیں کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ سے تقرب بہا کرنا ہے

ذریعہ ہے اور جب یہ غرض فوت ہوئی ہو۔ اور ناپاک لوگ جو اس وقت سے دور پڑے ہوئے ہیں امام بن جائیں گے تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا ہی بہتر ہے۔ البتہ اگر ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے کوئی فتنہ

اٹھتا ہے۔ یا اور کسی قسم کا بے انصاف ہوتا ہے۔ تو بحالت مجبوری ان کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے۔

علم سالم الکلیف با غوریت کا علامت تھا۔ جسے اس نے آزاد کر دیا تھا۔ اور اس کی امامت آزادی سے اپنے تھی۔ علم مشاہرت پوجہ سیاہی کے ہے۔ دنیا میں ایک ہی مذہب ہے جو گورے اور کالے کو ایک صلح پکھو کر تانا اور ایک حبشی کو سفید رنگ کے لوگوں پر امیر بننے کا مرتبہ دیتا ہے جب امیر جو گناہ تو نماز کی امامت بھی کرنا چاہیے گویا جسمانی رنگ میں بھی پیشوا ہو سکتا ہے۔ روحانی رنگ میں بھی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امام کے لئے کسی قوم کی خصوصیت نہیں۔ علم بعض صلح جیتا ہے نماز پڑھائیں۔ اور جماعت کا انتظام ان کے ہاتھ میں ہو تو اگر وہ اوقات کی پابندی نہ کریں۔ یا ان کی نماز میں کوئی اور شخص ہو تو مقتدی ان کے ساتھ جماعت کی نماز پڑھنا چھوڑیں ان ساری باتوں کا

ملہ بہت ہی غنیف اخلاق لفظی سے حدیث ملا یہاں کر آئی ہے۔ اور اس میں اگر کسی کو ابن عباس کا حضرت مسلم کے اپنے دین کا ذکر کے نام نہ سمجھ پڑھی ہو

کتاب الصلوٰۃ

<p>(مر ۲۱۷) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مُتَكَرِّرٌ - ۱۰۲) بَابٌ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ مَسَارٍ</p> <p>دیکھو حدیث نمبر ۱۰۲ ملہ باب جب امام کے بائیں آدمی کھڑا ہو جائے</p>
<p>إِلَّا قَامَ فَمَوْكُؤُهُ إِلَّا قَامَ لِي يَمِينَهُ لَمْ تَقْسُدْ صَلَواتُهَا (مر ۲۱۸) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ</p> <p>اور امام اسے اپنے دائیں پھیرے تو ان کی نماز نہیں پاتی دیکھو حدیث</p>
<p>(مُتَكَرِّرٌ - ۱۰۲) بَابٌ إِذَا لَمْ يَبْوَأْ قَامَ أَنْ يُؤْمَرَتْ ثُمَّ جَاءَهُ قَوْمٌ فَاتَمَّ (مر ۲۱۹)</p> <p>نمبر ۱۰۲ ملہ باب جب امام (پہلے) امامت کی نیت نہ کرے پھر لوگ آجائیں اور وہ ان کی امامت کرے</p>
<p>عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مُتَكَرِّرٌ - ۱۰۲) بَابٌ إِذَا طَوَّلَ الْقَامُ وَكَانَ لِلرَّجُلِ حَاجَةٌ</p> <p>دیکھو حدیث نمبر ۱۰۲ ملہ باب جب لاکڑ (قرأت کو) لٹایا اور آدمی کو ضرورت تھی</p>
<p>فَخَرَجَ وَصَلَّى (مر ۲۲۵) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَوْمَرُ قَوْمَهُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ فَقَرَأَ بِالْبَقْرَةِ</p> <p>تو نکل گیا اور نماز پڑھ لی جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ نماز بن جابل نبی کریم صلعم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے پھر واپس آکر اپنی قوم کی امامت کرتے سنا جس نے عثمان کی نماز پڑھی اور سورہ بقرہ پڑھتے تھے</p>
<p>فَانصَرَفَ الرَّجُلُ فَكَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ مَبْلُغًا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ</p> <p>تو ایک آدمی چلا گیا تو معاذ نے اسے پراگشتہ دیکھا پھر نبی کریم صلعم کو (دیکھ کر) پہنچی</p>
<p>فَتَانٌ فَتَانٌ كَثُرَ مَرَارًا وَقَالَ فَاتِنًا فَاتِنًا وَأَمْرُهُ بِسُورَتَيْنِ مِنْ أَوْسَطِ الْفَصْلِ</p> <p>فتان ہے فتان ہے تین مرتبہ کہا یا کہا فاتن ہے فاتن ہے اور اسکو دو سورتوں کا مفصل کی درمیانی سورتوں میں سو پڑھتے تھے</p>
<p>عَمْرٌ وَلَا أَحْفَظُهَا بَابٌ تَخْفِيفُهَا فِي الْقِيَامِ وَأَتَامُ الرَّكُوعِ وَالشُّكُورِ (مر ۲۲۰) عَنْ</p> <p>عرو نے کہا مجھے وہ یاد نہیں ملے باب امام کا قیام کو بھلا کرنا اور رکوع اور سجود کو بھلا کرنا</p>
<p>أَبِي مَسْعُودٍ (مُتَكَرِّرٌ - ۸۰) بَابٌ إِذَا صَلَّى الْبَيْتُ فَلْيَطْوِلْ مَا نَسَاءَ (مر ۲۲۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ</p> <p>دیکھو حدیث نمبر ۸۰ ملہ باب جب ایلا نماز پڑھے تو جتنا چاہے لٹا کرے ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ</p>
<p>رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلتَّائِسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ</p> <p>رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو تخفیف کیے بھلا کرنا اور بجا اور پڑھا جوتو تاکر</p>

ملہ یہاں اس حدیث نمبر ۱۰۲ کو پھر کر لائے ہیں مگر اختلاف نماز سے قال عن عثمان مینونہ والنبی صلعم عند هاتك الليلة فتوصلت ثم قام يصلي فتمت عن يساره فاخذني فجعلني عن يمينه فصلت ثلاث عشرة ركعة ثم نام حتى نفض وكان اذا نام نفض ثم اتاه المؤمن فخرج فصلوا ثم يتوضأوا ايك تو يربا تير ركعت پڑھتے کا ذکر ہے۔ اور ان تیرو کے علاوہ فجر کی سنتوں کا ذکر نہیں۔ جن کو مثال کیا جائے تو گیارہ رکعت تھیں اور دو رکعت سنت فجر ہوئیں اور نمبر ۱۰۲ میں اور ص ۲۱۱ میں سونے سے پہلے پھر پھر سو کر یا بخ جو کل فریبتی ہیں۔ اور پھر دو رکعت چوتھ کی سنت ہیں اور نمبر ۱۰۲

یہاں ہی واقعہ کا زیادہ تفصیل سے ذکر ہے۔ وہاں چھ دفعہ دو دو رکعت اور پھر ترکا ذکر ہے جو تیرہ رکعت ہوتی ہیں۔ علاوہ دو رکعت فجر کے۔ ان روایات میں معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں قدر سے تھری ہو گیا ہے۔ اور صحابہ اس حدیث میں سے کہ کل تیرہ رکعت پڑھیں۔ یہی زیادہ قرین صحت معلوم ہوتا ہے۔ لیکن گیارہ رکعت نماز تھری اور دو رکعت فجر کی۔ اور ہم نام سے لے کر آخر تک اس حدیث میں زیادہ ہے + ملہ ابن عباس کی حدیث نہایت اختصار کے ساتھ یہاں کر آئی ہے بت عند خالق مینونہ فقار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللیلین فصمت اصلى معه فقمت عن يساره فاخذني من يميني واقامني عن يمينه - ليبي آپ نے نماز شروع کی تو اکیلے کی۔ اور بعد میں ابن عباس ساتھ شامل ہو گئے تو امامت کرائی۔ یہی جائز ہے کوئی شخص نہ نماز پڑھ رہا ہو تو دوسرا ساتھ مل جائے اور جماعت ہو جائے + ملہ امام بخاری کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ جائز ہے کہ اکیلے نماز کے ساتھ مل کر جماعت میں شامل ہو جائے۔ یہ بھی جائز ہے کہ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو تو کسی وجہ سے چھوڑ کر ایلا نماز پڑھ لے۔ یہاں حدیث میں جو وجہ بیان کی ہے۔ وہ صرف طوالت قرأت ہے۔ مگر آگے اس کی مکرر روایت میں آتا ہے (دیکھو نمبر ۲۲۲) کہ اس کے ساتھ دوادش تھے۔ جن سے کہنی کو اپنی پٹیا جاتا ہے۔ تو ایک طرف کام سے تھکا ماندہ۔ دوسری طرف ہاؤر ساتھ جن کو چاہی ضرورت تھی۔ خود بھی ایسی کام سے آ رہا ہے اور گھر نہیں پہنچا نہ کھانا کھایا۔ جماعت میں شامل تو ہو گیا۔ مگر وہاں معاذ نے سورہ بقرہ شروع کر دی۔ تو سب حالت میں عطا سے الگ ہو کر اپنی نماز پوری کر کے چلا گیا۔ اور اسی مکرر روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ جب معاذ نے تسبیح پڑھا تو یہ خود ہی نبی کریم صلعم کے پاس شکایت لیکر گیا۔ اور وہاں یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت صلعم نے معاذ کو کہا۔ کہ کیوں تم نے سبح اسم ربك يا والشمس وضحاها والليل اذا بعثني في نبي - مفصلہ سو تیریں کلماتی ہیں جو حشرات باقی سے شروع ہوتی ہیں۔ او عہدیتہ لون تک یہ طویل یا لہنی کلماتی ہیں اور اس کے بعد والضحى تک اوسط یا درمیانی + ملہ حدیث نمبرہ غنیف اخلاق لفظی سے یہاں مکرر آئی ہے۔ یہاں نماز کی تصریح ہو کہ وہ صلوة الخدات یعنی فجر کی نماز تھی۔ اور ان میں عرض کی بجائے کہ یہ ہے۔ حدیث میں صرف یہی ذکر ہے کہ نماز پڑھنے والا تخفیف کرے۔ لیکن عنوان میں اب تمام رکوع و سب کا بھی ذکر ہے تو مطلب بخاری کا صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب لوگ قرأت کو لٹا کرتے ہیں۔ تو عموماً رکوع و سجود کا اتمام نہیں کرتے۔ اور رکوع اور سجود نماز میں زیادہ خضع و خشوع کا وقت بھی ہوتا ہے

وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ وَذَاصِلِي أَحَدِكُمْ لِنَفْسِهِ فَيُطَوُّنَ فَأَشَاءَ بَابٌ مِّنْ شَيْءِكُمْ أَفَامَهُ
اور جب کوئی تم میں سے ایسا نماز پڑھے تو جتنا چاہے لنگھ کرے

مجلس اس حدیث مبارک کے الفاظ ص ۲۲۰

إِذَا طَوَّلَ وَقَالَ أَبُو السَّيِّدِ طَوَّلْتَ بِنَايَا بَنِي (م۲۲۱) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ مُّتَكَرِّرًا (۸۰)
جب اس نے نماز کو لنگھ کر دیا اور ابواسید نے کہا اسے بیٹھ تو نے ہمیں لنگھی (نماز) پڑھائی

سے زیادہ مٹنے میں اور اس میں بھی نماز کی قوت ترقی ہے

(م۲۲۲) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ لَا نَصْرَارِي مُتَكَرِّرًا (م۲۲۵) بَابٌ أَيْ جَارِي فِي الصَّلَاةِ
دیکھو حدیث نمبر ۲۲۵ م ۱ بَاب نماز کو چھوڑنا اور

مجلس مکرر روایت میں تفسیر زیادہ دیکھو نوٹ ۲۲۵

وَأَكْبَرُهَا (م۲۲۷) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجِرُ الصَّلَاةَ
اسے کال کرنا انس بن مالک سے روایت ہوئی کہ نبی کریم صلعم نماز کو چھوڑا کرتے اور

پہلے جملہ الفاظوں پر

وَيَجْلِسُهَا بَابٌ مِّنْ أَخْفَ الصَّلَاةَ عِنْدَ بَكَاءِ الصَّبِيِّ (م۲۲۸) عَنْ أَبِي قَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ
سے کال کرتے م ۱ بَاب جس نے بچے کے رونے پر نماز کو ہلکا کر دیا

قبل رجل بناضيل و قد جمل الليل فوافق معاذ اصيل فباركنا ضحيه

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْتِي لَوْ قَوْمِي فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوَّلَ فِيهَا فَأَسْمَعُ رُكْعَاءَ
فرمایا کہ میں نماز میں کھڑا ہوجاتا ہوں چاہتا ہوں کہ اسے لنگھوں تو بچے کا رونے سے لگتا ہوں

و اقتبل الى معاذ فقرأ سورة البقره والثناء فاطلق الرجل وبلغه ان معاذ انال منه فاتي النبي صلعم فشكا اليه معاذ فقال النبي صلعم

الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةً أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّهُ (م۲۲۹) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ
تو اپنی نماز میں تخفیف کر دیتا ہوں کہ ناپسند نہ کرنا ہو کہ اس کی ماں کو تکلیف میں ڈالوں م ۱ انس بن مالک سے روایت ہے کہ

يا معاذ اذ كان انتم اذ قال افا تان انت ثلث عرات فلو كان صليت بسجاسم ريك الاعل والثناء وضعا والليل اذا

فَأَصَلْتُ وَرَأَيْتُ أَمَامِي قَطَّ أَخْفَ صَلَاةً وَلَا أَتَمُّ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزْكَانَ
میں نے کسی امام کے پیچھے کبھی نماز نہیں پڑھی جس کی نماز نبی کریم صلعم سے زیادہ مختصر اور زیادہ کال ہو

فقال النبي صلعم يا معاذ اذ كان انتم اذ قال افا تان انت ثلث عرات فلو كان صليت بسجاسم ريك الاعل والثناء وضعا والليل اذا

لَيْسَمِعُ بَكَاءَ الصَّبِيِّ فَخَفَّفْتُ خَافًا أَنْ تُفْتَنَ أُمَّهُ (م۲۳۳) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مُتَكَرِّرًا (م۲۳۸)
بچے کا رونے سے تخفیف کرتے اس خوف سے کہ اس کی ماں کو تکلیف ہوگی

دیکھو حدیث نمبر ۲۳۸

(م۲۲۲) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مُتَكَرِّرًا (م۲۲۸) بَابٌ إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا (م۲۲۵) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
دیکھو حدیث نمبر ۲۲۵ م ۱ بَاب جب نماز پڑھے پھر کسی قوم کی امامت کرے

دیکھو حدیث نمبر ۲۲۵

دیکھو حدیث نمبر ۲۲۵

یعنی فائزہ فیصلی و راء ال کبیر والضعیف وذوالحاجه یعنی ایک شخص آباد و اونٹوں کو لے جوئے جو کتبہ کی کو پانی پلاتے ہیں۔ اور رات اندھیری ہو چکی تھی پتہ سے ذوالنہر پڑھتے پایا۔ تو سچا اونٹوں کو بھلا دیا اور معاذ کی طرف بڑھا۔ تو انہوں نے سولہ بقعات پڑھی۔ میں وہ چلا گیا۔ اور اسے سنہری کی معاذ سے ہرگتے ہیں۔ سو وہ نبی صلعم کے پاس آیا۔ اور اسے معاذ کی شکر کہتے تھے۔ تو نبی صلعم نے فرمایا۔ اسے معاذ تو نشان ہے یا فائن ہے (فائدہ ڈالنے والا) تین مرتبہ (کہا) کہیں نہ تو نے سچا اسم ربك الاعلیٰ والثناء مع غنما۔ واللیل اذا یعنی نماز میں پڑھی۔ تیسے پیچھے بڑھ اور مکرر کہ تم فرج۔ الاماز پڑھتا ہے۔ م ۱ یعنی نبی صلعم کی نماز کال اور بایں بہت نبی نہ تھی۔ آپ سے چھوڑا کرتے یعنی قوت بہت نبی کرتے۔ اور کونے محمد قوسہ بلسہ وغیرہ سب کو پورا کرتے۔ سبح کی نماز میں سب لنگھی قوت پڑھنے اور وہ ساتھ سے کوایت کے اندر اندھ ہوتی۔ یہ نماز یا جماعت میں تو آتا تھا آپ۔ زنجید میں قرآن شریف کا بہت بڑا حصہ پڑھ جانے م ۱ کہ ایک تو ماں کو بچے کے رونے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ دوسرا نماز سے سبکی تو قوت بہت جاتی ہے اور نماز کا مقصد قوت ہوجانا ہے۔ نماز کے اخلاص میں ہے اور اس کی ان دونوں ہی شغفتہ ہے۔ ابن ابی شیبہ کی روایت میں بڑا کہ آنحضرت صلعم نے پہلی رکعت میں لنگھی سوت پڑھی۔ دوسری میں بچے کے رونے کی آواز سنی تو تین آستیں پڑھیں م ۱۔ حدیث ۲۲۳ اور ۲۲۴ کے الفاظ قریباً ایک ہی ہیں۔ ان کی داخل فی الصلوة فارید الالہا النہا فاصبحنا الصبی فلیجوز فی صلواتی م ۱ ما اعلم من شداعه وجد انہ من بکا کہہ یعنی میں نماز کو شروع کرتا ہوں۔ اور اسے نہا کرنے کا ارادہ ہوتا ہے۔ پھر میں بچے کا رونے سنا ہوں تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ اس لئے کہ میں دانتا ہوں کہ اس کی ماں کو اس کے رونے سے کس قدر تکلیف ہوگی۔ تعظیم لامر اللہ اور شفقت علی خلق اللہ جس طرح نبی صلعم کے اندر اٹھی نظر آتی ہیں۔ کسی انسان میں اس کمال کو نہیں پہنچیں۔ اللہ کی عبادت کا خیال تو یہاں تک ہے۔ کہ بچوں والی عورتیں بھی نماز یا جماعت میں مسجد میں آکر شامل ہوتی ہیں۔ اور شفقت علی خلق اللہ کا خیال یہاں تک کہ بچے کے رونے سے جو تکلیف مان کو ہوتی ہے وہ آپ کو بھی ہوتی ہے۔ اور نماز کو مختصر کر دیتے ہیں۔ افسوس ہے کہ کچھ مسلمانوں کی عورتیں مسجدوں سے روکی جاتی ہیں۔ اور اگر کہیں مسجد میں کوئی عورت نماز پڑھنے آئے۔ اور اس کے بچے کے رونے کی آواز آجائے۔ تو مرد بچائے اس شفقت کا نمونہ دکھانے کے جو رسول اللہ صلعم نے دکھایا غضب میں آجاتے ہیں م ۱۔ یہاں مکرر روایت میں صرف اس قدر لفظ لائے ہیں قال کان معاذ یصل مع النبی صلعم شریاتی قوہ فیصلی بھصہ +

باب من اسمع الناس تكبير الامام (۲۲۶) عن عائشة متكررا (۲۳۱) باب

الرجل ياتهم بالا ما روي انتم الناس بالماوم ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال اتوني وليا تم بكم من بعدكم (۲۲۶) عن عائشة متكررا (۲۳۱) باب

هل ياخذ الامام اذا شك يقول الناس (۲۲۸) عن ابي هريرة متكررا (۳۳۶)

(۲۲۹) عن ابي هريرة متكررا (۳۳۶) باب

عبد الله بن شداد سمعت نبي عمروا نافي اجر الصفوف يقرأ اتم اشكو ابني

وحزني الى الله (۲۳۰) عن عائشة متكررا (۳۳۱) باب

عند الامامة وبعدها (۲۳۰) عن النعمان بن بشير يقول قال النبي صلى

الله عليه وسلم كسبون صفوفكم ويخالفن الله بين وجوهكم

کتاب الصلوة
باب من اسمع الناس تکبیر الامام (۲۲۶) عن عائشة متکررا (۲۳۱) باب
الرجل یاتهم بالا ما روي انتم الناس بالماوم ویذكر عن النبي صلی الله علیه وسلم
قال اتوني وليا تم بکم من بعدکم (۲۲۶) عن عائشة متکررا (۲۳۱) باب
هل یأخذ الامام اذا شک یقول الناس (۲۲۸) عن ابي هريرة متکررا (۳۳۶)
(۲۲۹) عن ابي هريرة متکررا (۳۳۶) باب
عبد الله بن شداد سمعت نبي عمروا نافي اجر الصفوف یقرأ اتم اشکو ابني
وحزني الى الله (۲۳۰) عن عائشة متکررا (۳۳۱) باب
عند الامامة وبعدها (۲۳۰) عن النعمان بن بشير یقول قال النبي صلی
الله علیه وسلم کسبون صفوفکم ویخالفن الله بین وجوهکم

ہے اور طلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی صفوں والے اگلی صفوں کی پیروی کریں۔ یعنی ان کے رکوع سجد پر رکوع سجدہ کریں۔ یا ان کی تکبیر۔ اور عثمان باب کا نشانہ بھی یہی ہے اور اس سے یوں بھی ہو سکتے ہیں۔ کہ تم (یعنی وہ صحابہ) مجھ سے نفیم حاصل کرو۔ اور تمہارے بعد نبیوں سے تم سے تعلیم حاصل کریں۔ اور اس طرح یہ تعلیم پہلی قوموں کو کیے بعد گیس پینتی رہے۔ اس میں اس کی روایت کا پتلا حصہ ۲۸ سے زیادہ ملتا جلتا ہے۔ اس تمام تک جہاں آنحضرت صلعم فرماتے ہیں انہیں لائق صواب جو صلعم سے اس کے بعد کا حصہ نمبر ۲۸۳ میں بطرح فرمایا ہے اس کے کئی جگہ بھی ملتے ہیں۔ اور اس کے بعد بھی ہے۔ مگر یہاں اس کی بجائے اور اس کے بعد یوں ہے حتیٰ جلیس عن یسار ابی بکر فکان ابوبکر یصلی قائما وکان رسول اللہ صلعم یصلی قاعدا یقتدا ابوبکر یصلی رسول اللہ صلعم والناس یقتدون بصلوۃ ابی بکر یعنی یہاں تک کہ آپ ابوبکر کے بائیں طرف بیٹھ گئے۔ تو ابوبکر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ اور رسول اللہ صلعم بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے ابوبکر رسول اللہ صلعم کی نماز کی اقتدار کرتے تھے۔ اور لوگ ابوبکر کی نماز کی اقتدار کرتے تھے + علامہ حدیث نمبر ۳۳۱ جہاں تمہارے ساتھ آئی ہے ان رسول اللہ صلعم انصاف من اشتدین فقال لہ ذالین بنی اقتضت الصلوۃ اہ نسبت یا رسول اللہ فقال رسول اللہ صلعم اصدق ذالین بنی فقال الناس فقال رسول اللہ صلعم فصلی ثنتین اخیرین تم سلم تم کہ بنی صلیوں مثل سجودہ او اطلول۔ یہاں رسول اللہ صلعم نے ذوالین کی بات ان کی بات کی دو کتبیں پڑھیں + علامہ اس کی روایت میں ۲۲۸ سے بھی زیادہ اختصار ہے صلی النبی صلعم الظہر بکعبین فقیل قد صلیت رکعتین فصلی رکعتین تم سلم ثم یصلی سجودین تین + علامہ اس کی روایت کے الفاظ سوائے ایک آدھ فقرہ کے بعد ہر ۲۰۸ کے الفاظ ہیں۔ اس میں یہ ذکر ہے۔ کہ حضرت عائشہ نے عرض کیا تھا۔ کہ ابوبکر کی قرأت میں رونے کی وجہ سے ان کی آواز لوگوں کو نہیں پہنچ سکتی۔ اور اس کے اپنے حکم دیا۔ کہ ابوبکر پہ نماز پڑھیں۔ قرآن کریم میں ہے خروا یصلیوں اور کیا اس نماز کے اندر رونے کی حقیقت متعوض و متعوض کی اعلیٰ شان ہے۔ اور اس سے مہذب نماز قرار دینا سخت غلطی ہے + علامہ ظاہر یہ ہے کہ اس ظاہر پر عمل کیا ہے۔ اور کہا ہے لیخالفن اللہ بین وجوہکم سے یہ مراد ہے کہ چہرہ گردن کی جگہ بوجھانے کا جس طرح غلطی سے من ثبیل ان نظمیں و جوہا فذہا علی ادبارہا میں راویا گیا ہے۔ امام نووی نے اس کے معنی کئے ہیں یوم بیت الحدادۃ والبعضاء والاختلاف القلوب تمہارے درمیان دشمنی اور بغض اور اختلاف قلوب پیدا کر دے گا۔ اور قرطبی فرماتے ہیں معناه تفارقون فیما خلقوا احد وجہا اور اس کی تائید ابوداؤد وغیرہ کی روایت سے ہوتی ہے جس میں ہے۔ اولیخالفن اللہ بین وجوہکم اور اصل بات یہ ہے کہ وجہ کے معنی صیغہ امرا غیبی لکھا ہے۔ تو یہ بھی آتے ہیں۔ اور وجہ کا اطلاق کل پر بھی ہے ظاہر طور پر نظام کا ذرہ نماز خروا میں بھی اور مفاد میں بھی اختلاف پیدا کر دیتا ہے۔ اور قوم کی تباہی کا موجب ہوجاتا ہے +

(۲۳۱) عَنْ أَنَسٍ مُتَكَرِّرًا - يَابُ إِقْبَالَ الْأَمَامِ عَلَى النَّاسِ عِنْدَ تَسْوِيَةِ

دیکھو حدیث نمبر ۲۳۱ ص ۱ امام کا صفوں کے ٹھیک کرنے کے وقت لوگوں کی طرف متوجہ ہونا

الصفوف (۲۵۱) عَنْ أَنَسٍ بِنِ قَالَتْ قَالَ أُرْقِمَتِ الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ

اس سے روایت ہے کہ نماز کی تکمیل کی گئی تو رسول اللہ صلعم ہماری طرف متوجہ ہوئے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَأَوْا إِرْفَانِي أَرَأَيْتُمْ مَزُورًا

اور فرمایا اپنی صفوں کو ٹھیک کرو اور مل جاؤ میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھتا ہوں

ظَهْرِي بَابُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ (۲۳۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُتَكَرِّرًا - يَابُ

دیکھو حدیث نمبر ۲۳۲ ص ۱ پہلی صف

إِقَامَةُ الصَّفِّ مِنْ تَأْمَمِ الصَّلَاةِ (۲۳۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُتَكَرِّرًا - (۲۴۲)

صفا کا ٹھیک کرنا نماز کے پورا کرنے میں سے ہے دیکھو حدیث نمبر ۲۴۲ ص ۱

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ

اس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلعم نے فرمایا اپنی صفوں کو ٹھیک کرو کیونکہ صفوں کا ٹھیک کرنا

مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ بَابُ إِثْمٍ مَنْ لَمْ يَتِمَّ الصَّفُوفَ (۲۵۳) عَنْ أَنَسِ بْنِ

نماز کے قائم کرنے سے ہے بَابُ اس شخص کا گناہ جو صفوں کو پورا نہ کرے اس میں

مَا لِكَ أَنْتَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَيَقْبَلُ لَكَ مَا أَنْكَرْتَ مِنْ أَمْنٍ مِنْذُ بَوْمِ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ

ملک سے روایت ہے کہ وہ مدینے آئے تو ان سے کہا گیا کہ ہماری کس بات کو تم خلاف پاتے ہو اس دن سے کہ تم نے رسول اللہ صلعم کا زمانہ پایا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْكَرْتُ شَيْئًا إِلَّا أَنْكَرْتُمْ لَا يُقِيمُونَ الصَّفُوفَ بَابُ

کہا اور تو میں کوئی چیز خلاف نہیں پاتا سوائے اس کے کہ تم صفوں کو ٹھیک نہیں کرتے

الرِّوَالِ الْمُنْكَبِ بِالْمُنْكَبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِي الصَّفِّ وَقَالَ الثَّعْلَبِيُّ

صف میں کندھے کو کندھے کے ساتھ اور قدم کو قدم کے ساتھ لگانا اور نمان بن بشیر نے کہا

رَأَيْتَ الرَّجُلَ مَنَّا يُرْفِقُ كَعَبْهَ بَعْبِ صَاحِبِهِ (۲۳۴) عَنْ أَنَسٍ مُتَكَرِّرًا - (۲۵۱)

میں نے دیکھا کہ ہم میں سے ایک شخص اپنے گھٹنے کو اپنے ساتھی کے گھٹنے کے ساتھ ملاتا تھا دیکھو حدیث نمبر ۲۵۱ ص ۱

بَابُ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الْأَمَامِ وَحَوْلَهُ الْأَمَامُ خَلْفَهُ إِلَى يَمِينِهِ تَمَّتْ

باب جب آدمی امام کے بائیں کھڑا ہو جائے اور امام اسے اپنے پیچھے سے اپنے دائیں ہاتھ سے تواس کی نماز پوری ہو جائے گی

صَلَاةُ (۲۳۵) عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مُتَكَرِّرًا - (۱۱۹) بَابُ الْمَرْأَةِ وَحَدِّهَا تَوَكُّفًا

دیکھو حدیث نمبر ۱۱۹ ص ۱ باب عورت کی اکیل صف ہوتی ہے

(۲۳۶) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مُتَكَرِّرًا - (۲۴۵) بَابُ مَيْمَنَةِ السُّجْدِ وَالْأَمَامِ

دیکھو حدیث نمبر ۲۴۵ ص ۱ باب مسجدا اور امام کی دائیں طرف

ملک حدیث نمبر ۲۳۱ کا صرف آخری حصہ یہاں مکرر آیا ہے اقبالہ الصفوف قافی اراکم خلف ظہری ص ۱ اس سے ثابت ہوا کہ امام مقتدیوں کو صفوں کے ٹھیک کرنے کے واسطے ہدایت کرے پیٹھ کے پیچھے سے دیکھنے کے لئے تشریح کے لئے دیکھو نوٹ حدیث نمبر ۱۹۹ پر ص ۱ نمبر ۲۳۵ کا پہلا حصہ یہاں متروک ہے اور الشہداء الخمسة سے لیکر حضرت امیر المؤمنین سے لیکر خلیفہ نقل اختلاف ہے القادریوں میں الشہداء الغر والبطون والمطعون الحمد وقال ابو يعلى مافی التهجیر لاستبقوا الیہ ولو یعلون ما فی التبع والصبیح لا توہما ولو حبا ولو یعلون ما فی الصف المقدم لا ستموا ص ۱ اس حدیث مکرر کے ابتدائی الفاظ کے پچھلے حصے سے ملتے ہیں انما جعل الامام لیتوقد بہ سے شروع کر کے (خفیف اختلاف ہے) مگر ص ۱۱۳ سے اس قدر زائد ہے واقبوا الصف فی الصلوۃ فان اقامۃ الصف من حسن الصلوۃ - اور اس سے عنوان ہے حضرت انس کا ایک شمار نمبر ۳۵۹ و نمبر ۳۵۷ میں گذر گیا۔ وہ دمشق میں تھا۔ وہاں یہ ہے کہ احکام اسلام کی باندھی باجلی نہیں رہی۔ یہاں تک کہ نماز بھی ضائع ہو گئی۔ یہاں مدینہ میں صرف یہ بات کو ناپسند کیا کہ وہ صفوں کو ٹھیک نہیں کرتے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابومہدی کی حالت اسلام کے حکام کی باندھی میں وقت اچھی تھی، ص ۱ فتح الباری میں والموادین للباغی فی تعدد الصف وسد خللہ یعنی اس سے مراد صرف اس قدر ہے کہ صفوں کو اچھی طرح سے ٹھیک کیا جائے اور غالی کیوں کو پر کیا جائے، ص ۱ مکرر حدیث کے لفظ وہی ہے جو ص ۲۳۱ کے ہیں۔ اسکے بعد اس کہتے ہیں وہاں احد نایلیق منکبہ بمنکب صاحبہ وقد لا یقدہہ ص ۱ یہ حدیث قریب تریب سطر پر ہے ص ۱۱۸ الفاظ میں اور بھی اختصار یہ صلیت مع النبی صلعم ذات لیلۃ ففتحت عن یسارہ فاخذ رسول اللہ صلعم براس من درانی فخلعی عن یمینہ وفضل وادق فاجاز المؤمنون فقام یصلون ولم یبواذ ص ۱ حدیث نمبر ۲۴۵ کا صرف آخری حصہ یہاں مختلف الفاظ میں یہ صلیت انا ویتبہ فی بیننا خلف النبی صلعم وادخلنا نام سلم۔ وہاں سجا آئی کے عجز ہو گئی ہے

(۲۳۷) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکرر ۱۵۳) بَابُ إِذَا كَانَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَبَيْنَ الْقَوْمِ

دیکھو حدیث نمبر ۱۵۳ بَابُ جب امام اور لوگوں کے درمیان
حَاطِطٌ أَوْ سُرَّةٌ وَقَالَ أَحْمَدُ لَأَبَسَ أَنْ تَصَلِّيَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ نَهْرٌ وَقَالَ أَبُو

دیوار یا سترہ جو اور حسن کتاب ہے کہ کوئی ہرج نہیں کہ تو نماز پڑھے اور تیرے اور امام کے درمیان نہر ہو اور
حِجْرًا يَا تَنْتَهُ يَا كَامٍ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ أَوْ جِدَارٌ رَأَى اسْمَهُ تَكْبِيرًا (۲۳۸)

ابو جحر کتاب ہے امام کی تکبیر سے اگرچہ دونوں کے درمیان راستہ یا دیوار ہو اور
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فِي حَجْرَةٍ

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے حجرے میں نماز پڑھا کرتے تھے
وَجِدَارًا حَجْرَةٌ قَصِيْرَةٌ قَامِي النَّاسِ وَشَخْصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ أَنَسُ

اور حجرے کی دیوار چھوٹی تھی پس لوگوں نے (ایک دن) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کوئی لوگ گھڑے ہو گئے
يُصَلُّونَ بِصَلَوَتِهِ فَأَصْبَحُوا فَمَجَّعُوا تَوَائِدُكَ فَقَامَ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ فَقَامَ مَعَهُ النَّاسُ

آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھنے کے پس صبح ہوئی اور انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ دوسری رات گھڑے ہوئے تو کوئی لوگ گھڑے ہو گئے
يُصَلُّونَ بِصَلَوَتِهِ صَنَعُوا ذَلِكَ لِكَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَتَيْنِ إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَلَسَ

آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھنے کے یہ انہوں نے دو رات کیا یا تین میان تک کہ جب اسکے بعد کار (دن) ہوا تو
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَخْرُجْ فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ النَّاسُ فَقَالَ ابْنُ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نکلے پس جب صبح ہوئی تو لوگوں نے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا مجھے
خَشِيْتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ (۲۳۹) عَنْ

خوف ہونا کہ رات کی نماز تم پر فرض ہو جائے گی بَابُ رات کی نماز
عَائِشَةَ (متکرر ۲۵۵) (۲۵۵) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

دیکھو حدیث نمبر ۲۵۵ زید بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَجْرَةً قَالَ حَسِبْتُ أَنَّ قَالَ مِنْ حَصْبِي فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى فِيهَا لَيْلِي فَصَلَّى

رمضان میں ایک حجرہ بنایا کمائیں گمان کرتا ہوں کہ کہا چٹائی سے رچھو بنایا، تو اس میں لگی تھیں آپ نے نماز پڑھی اور
بِصَلَوَتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا عَلِمَهُمْ جَعَلَ يَقْعُدُ فَيُخْرِجُهُمْ فَقَالَ قَدْ

آپ کے اصحاب میں سے کچھ لوگوں نے آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی جب آپ کو اس کا علم ہوا تو چونکہ گھنے اور لگی طرف نکلے تو فرمایا
عَرَفْتُ لَذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ

میں اسے یا تمہارے کام سے دیکھا پس اسے لوگو اپنے گھر میں نماز پڑھو کیونکہ بہترین
الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ بَابُ الْإِجَابِ التَّكْبِيرِ وَافْتِتَاحِ

نماز آدمی کی اپنے گھر میں نماز ہے سوائے فرض کے بَابُ التَّكْبِيرِ الْإِجَابِ التَّكْبِيرِ وَافْتِتَاحِ اور
الصَّلَاةُ (۲۳۹) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متکرر ۲۴۴) (۲۴۴) عَنْ أَنَسِ (متکرر ۲۴۴)

نماز کا شروع کرنا ہے دیکھو حدیث نمبر ۲۴۴ دیکھو حدیث نمبر ۲۴۴

کتاب الصلوة
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

بَابُ وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ (۲۵۸) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ نَاسٌ يُؤْمَرُونَ
بَابِ نَازِمِينَ دَمِينَ يَأْتِيهِمْ كَابِتِينَ بِرُكْعَانِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَوَى عَنْهُ أَنَّ كَابِتِينَ دَمِينَ يَأْتِيهِمْ كَابِتِينَ بِرُكْعَانِ

أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَمِينُ عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ رَدَّ أَعْلَاهُ الرَّبِيعِيُّ ذَلِكَ
اسے بائیں ذراع پر رکھے اور ابو حازم نے کہا کہ میں نے اسے یوں ہی جانتا ہوں کہ وہ اس کو نبی کریم صلعم تک پہنچاتا تھا

رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ الْحُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ (۲۵۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَرِّرًا)
بَابِ نَازِمِينَ خَشُوعًا دیکھو حدیث نمبر ۲۹۵

(۲۹۵) - (۲۹۶) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (مُتَكَرِّرًا) بَابُ مَا يَقْرَأُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ
دیکھو حدیث نمبر ۲۹۶ بَابِ جَوْتَجْمِيرِ كَيْهٍ بِرُكْعَانِ

(۲۵۹) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (مُتَكَرِّرًا) وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ كَانُوا يَقْتَلِحُونَ
انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلعم اور ابو بکر اور عمر نماز کو

الصَّلَاةَ بِأَجْمَلِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۲۶۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
المحمد صلعم رب العالمین سے شروع کرتے تھے اے اللہ پروردگار عالموں کے رسول اللہ صلعم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَانَةً قَالَ أَحْسِبُهُ
تجسیم اور قرأت کے درمیان کچھ خاموش رہتے کہ میں خیال کرتا ہوں کہ

قَالَ هُنَيْئَةَ فَقُلْتُ يَا أَبَى أَنْتَ وَأَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِسْكَانُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ
کہا تھوڑی دیر میں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس آپ پر قرآن ہوں آپ کی خاموشی تجسیم اور قرأت کے درمیان

الْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ
اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں فرمایا پڑھنا ہوں اے اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان دوری ڈال جس طرح تو نے

بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ كَفِّرْ عَنِّي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا تَنْقِي الثُّوبَ لَا بَيَّضُ
مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ڈال دی ہے اے اللہ مجھے خطاؤں سے ایسا صاف کھ جس طرح سفید کپڑا میل سے صاف ہوتا ہے

مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالْثَلْجِ وَالْبَرَدِ بَابُ
اے اللہ میری خطاؤں کو پانی اور برف اور اولوں سے دھو ڈال اے اللہ بَابِ

(۲۶۱) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ
اسما بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ نبی صلعم نے کسوف کی نماز پڑھی

الْكَسُوفِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ
کھڑے ہوئے پس لंबا قیام کیا پھر رکوع کیا اور رکوع کو لंबا کیا پھر کھڑے ہوئے اور قیام کو لंबا کیا

رکت الی الصلوة
عاشق صغیر گذشتہ
مکے اور حدیث
میں پھر لڑا ہے
اذا قام من الرکعتین
رفع یدہ یعنی جب
دو رکعت پڑھے پھر پہلے
تو
ہاتھ اٹھائے۔ اسی
سے باب کا عنوان
ثابت ہوتا ہے +

کتاب دین ہاتھ کو
بائیں ذراع پر رکھے
اور ذرا کچھ ہلکیوں
سے لیکر کمبندوں تک
ہے۔ پس اس میں بھی
وسعت ہے جہاں
چاہے ذراع پر رکھے
اس کے پچھلے حصہ
پر یا درمیان پر یا کچھ
پر اور ناف سے نیچے
ہو یا ناف پر یا ناف
سے اوپر اس سے نماز
میں قطعاً کچھ فرق
نہیں پڑتا۔ آخری
الفاظ میں صاف
کر دیا کہ حکم کا دیا
جانا نبی صلعم کی طرف
سے تھا +

نمبر ۱۸۹ میں تھا
الصفوف میں سچا
صفوں کو سیدھا کرنے
کے حکم ہے اقصیٰ
الکوع والجمود
فواللہ ان لا اراکم
من بعدک ودرکم
قال من بعد نظری

انذا کتم و سجدتم۔ دیکھو نوٹ حدیث نمبر ۲۵۸ پر +
سے قرأت کا شروع کرنا ہے۔ اور سلم میں ہے فلما سمع احل منہ بقرا بسم اللہ الرحمن الرحیم لہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جس سے نہیں پڑھتے تھے۔ ابن خزیمہ کی روایت میں
کاوا لیسرون بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ سے پڑھتے تھے۔ ان ساری روایات کو ملا کر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بسم اللہ کو پڑھتے تھے۔ لیکن آہستہ اور
جہر اللہ سے شروع کرتے تھے + مکمل اس سے معلوم ہوا کہ قرأت سے پہلے آپ بے دعا پڑھتے تھے۔ بعض اور دعائیں بھی مذکور ہیں۔ جن میں سب سے مشہور یہ ہے سبحانک
اللہم و بحمدک و بتبارک اسمک و تعالیٰ حدیث لکون اللہ غیریہ و جہودا و د ترمذی ابن ماجہ کی روایت میں ہے یہ دعا کہ مجھ میں اور میری خطاؤں میں اتنا اللہ جو جتنا
مشرق و مغرب میں ہے صاف بتاتا ہے کہ دعا کا مقصد یہ ہے کہ آپ خطاؤں سے بچنے کے لیے محفوظ ہوں۔ اس لیے میری خطاؤں سے مراد وہ خطاؤں ہیں۔ جو آپ سے سرزد ہو سکتی تھیں۔ کیوں کہ آپ
بھی بشر تھے۔ اور خطاؤں کو برف وغیرہ سے دھونے میں اشارہ ہے کہ خطا کا نتیجہ آگ ہے۔ اور اس کے بالمقابل ٹھنڈک اور برف ہیں۔ گویا مراد ان کے لیے دراحت تلبیہ ہے جو گناہ کی آگ
سے محفوظ رکھتی ہے +

مَا كَانَ أَتَوْا مِنْ فَعُولٍ أَبْصَارُهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ فَأَشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى
ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اپنی نماز میں اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں پس اس بار میں آپ کا کلام سخت ہوگا یہاں تک کہ فرمایا

قَالَ كَيْتَهُنَّ عَزُفَ ذَلِكَ أَوْ تَخَطَّقْنَ أَبْصَارُهُمْ بَابِ الْإِدْتِفَاعِ فِي الصَّلَاةِ (۲۶۴) عَنْ
اس سے کہ جائیں اور نہ ان کی آنکھیں ایک لی جائیں کی بَاب نماز میں ادھر ادھر دیکھنا

عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِدْتِفَاعِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ
حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلعم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے متعلق سوال کیا تو فرمایا یہ

هُوَ اخْتِلَافٌ يَخْتَلِسُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبِيدِ (۲۶۵) عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَرِّرًا) ۲۶۹
چھین لے جانا ہے جو شیطان بھوکے کی نماز سے چھین لے جاتا ہے ۲۶۹ دیکھو حدیث نمبر ۲۶۹

بَابُ هَلْ يَلْتَفِتُ لِأَمْرٍ يُزِيلُ بِهِ أَوْ يَرَى شَيْئًا أَوْ يُصَافِقُ فِي لَيْلِيَةِ وَقَالَ لَهْلُ الْبَقْتِ
باب کیا کسی امر کی وجہ سے پیش آجائے پھر کہ دیکھ سکنا یا کوئی چیز یا تھوک سانسے دیکھے اور سسل کے کا

أَبُو بَكْرٍ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۲۶۵) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مُتَكَرِّرًا) (۲۶۳) عَنْ
حضرت ابو بکر نے پھر کہ دیکھا تو نبی صلعم کو دیکھا ۲۶۳ دیکھو حدیث نمبر ۲۹۳

أَنْتِ زَيْنُ الْقَالِبِ (مُتَكَرِّرًا) بَابُ وَجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَاةِ
دیکھو حدیث نمبر ۲۳۶ بَاب قرات کا واجب ہونا امام اور مقتدی کے لئے سب سے زور میں

كُلُّهَا فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَمَا يُجْهَرُ فِيهَا وَمَا يُخَفَّرُ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ
حضرت اور سفر میں اور اس نماز میں جس میں آواز سے پڑھی جائے اور نہیں جہیل پڑھی جائے کے جابر بن سمرہ سے روایت ہے

کتاب الصلوة

۱ نماز میں انسان کی نظر سانسے کی طرف

توخذ ہوتی ہے سانسے سانسے کی کسی چیز کو

دیکھ لینا نماز سے تو ہی کو نظر نہیں کرنا لیکن

اوپر کو نظر اٹھا کر دیکھنا بتاتا ہے کہ نماز میں کچھ

نہیں ایسے لوگوں کی آنکھیں ایک لی جلتے

سے مراد یہ ہے کہ وہ تاملتے رہیں گے اور نماز کی اصل غرض جو

اصلاح نفس ہے وہ انہیں میسر نہ آئے گی اور نظر اٹھانا ایسا ہی جیسا ادھر

ادھر کرنا جس کا ذکر اگلی حدیث میں ہے ۲۶۹

ادھر ادھر دیکھنا نماز کی طرف توجہ کو سادہ

نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ کا ہونا یا شیطان

کی کامیابی ہے ۲۶۹ اس میں جو کہ نبی کریم صلعم کے حضور نماز میں نقش و نگار والے کپڑے سے خلل آیا تو آپ نے اسے بدلوانے کا حکم دیا جس سے معلوم ہوا کہ نماز میں توجہ دینے سے نماز کی اصل غرض ہی فوت ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر ۲۶۹ کے الفاظ قاتلہا لہتختی انفا عن صلواتی مکرروایت میں نہیں ہے ۲۶۹ ایک طرف اگر اس بات پر زور دیا جائے کہ نماز میں کوئی ایسا فعل نہ کرے جس سے اللہ کی طرف سے توجہ دینے اور نماز کی اصل غرض مفقود ہو تو دوسری طرف یہ بھی بتایا ہے کہ اگر کوئی قاصدات پیش آجائے جس کا تعلق نماز سے ہی ہے تو دوسری طرف دیکھ بھی سکتا ہے۔ مثلاً حضرت ابوبکر کا رسول صلعم کو دیکھنا جب آپ عاتق تہمیں تشریف لائے جب ایک صلح بنی عمر بن عوف کے وقت کا اور دوسرا آپ کے عرض الوقت کا واقعہ ہی اسی قسم سے تھا۔ کیونکہ یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت ابوبکر کی نماز میں توجہ ناممکن ہوتی تھی۔ اصل غرض یہ ہے کہ نماز میں توجہ تمام اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے۔ اور ایک غیر معمولی امر پیش آجائے تو اس کی طرف توجہ کرنے سے باز نہ رہنا چاہیے۔ حدیث نمبر ۲۶۹ کئی دفعہ ذکر کی ہے دیکھو ۱۰۲ سے ۱۱۰ تک لیکن یہی نمبر ۲۶۳ میں ان کے رد میں ہے کسی میں یہ ذکر ہے کہ حضرت نے نماز پڑھنے کی حالت میں کہنگار دیکھا یا کھڑکیا یہاں یہ لفظ میں راجح سولانا صلعم خانہ فی قبلۃ المسجد وهو یصلی بین یتیم الناس فمخاطبہ قال جین اخرف ان احدکم اذا کان فی الصلوة فان الله قبل جہرہ فلا یخفی احد قرا جہد فی الصلوة جن صلعم ہوتا ہے کہ نہ صرف نبی صلعم نے نماز پڑھتے ہوئے مخاطبہ کیا۔ بلکہ نماز میں ہی سے کھر ج بھی لالہ غالبیہ دوسرے حصہ کسی ایسی کی غلط فہمی حالت نماز میں اپنے سانسے نماز دیکھ لینا تو ایک معمولی بات ہی کیونکہ وہ ایک ایسے سے تھا۔ لیکن نماز میں کھر جنے کا استدلال خود بخود ہی نہیں کیا۔ چنانچہ عنان باری میں صرف مخاطبہ کے ذکر ہے آپ کھر جے کا ذکر نہیں ہے۔ اس حدیث میں یہ جملہ زائد ہے بیتنا المسلمون فی صلوة الجہر جس سے صلعم ہوا کہ نماز میں کھر جے کا ذکر نہیں ہوا۔ توجہ ہونے والی باتوں سے نہ کہ دن کا ذکر نہیں جو نمبر ۲۶۳ میں ہے اور حدیث شریعہ میں ہوتی ہے بیتنا المسلمون فی صلوة الجہر لہ یضیاء ہم الا رسول اللہ صلعم کشف الخباقی الفاظ نمبر ۲۶۳ سے ملتے جلتے ہیں کان وجہہ و رقبتہ مصحف یہاں نہیں مگر قسم فرماتے اور خوش ہونے کا ذکر ہے ۲۶۹ امام ابو حنیفہ کے نزدیک امام کی قرات مقتدی کیوں ہے اور دوسری دونوں نمازوں میں کافی ہے چنانچہ قرات اور مقتدی پر قرات وہ جب نہیں جھٹکتے۔ بلکہ قرات سے منع کرتے ہیں اور مالکیہ کے نزدیک مقتدی پر ہی نماز میں قرات ہے۔ حنفیہ کی دلیل یہ حدیث ہے جس میں صلح خلف امام قراۃ الامام لقرآۃ یعنی جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو امام کی قرات اسکی قرات سے لیکن اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے۔ اور جبری نماز میں مالکیہ اور حنفیہ حدیث سے متعلق کرنے میں جو صلح مسلم ہے اور صحیح ہے واذ قال فانصتوا لینی جہلا من قرات پڑھے تو تم خاموش ہو لیکن امام کے سکون میں قرات پڑھنا اس حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ سنیوں کو بھی پڑھنا ہوتا ہے وہ بھی دونوں میں ہٹا کر کرنا ہوں۔ بیطوالت اور احتضار قرات کے رو سے ہے۔ لیکن قرات پھاڑوں کستوں میں پڑھ کر تھے جن میں جہری اور دوسری قسم کی کستیں ہیں اور کہ دوسری نماز میں کئی کئی نماز کی مانند ہے اور نبی کریم کی نماز ان دونوں کی نماز کا اعتبار امام اور مقتدی دونوں کی نماز کو شمال قرار دینا ۲۶۳ میں نبی کریم نے قرات کی قرات کا قیاس حدیث میں نہیں ہے۔ البتہ عبادۃ بن اصماعت کی حدیث لا صلوة لمن لہ یقرؤ بقضاۃ الکتاب عمم کے اعتبار امام اور مقتدی دونوں کی نماز کو شمال قرار دینا ۲۶۳ میں نبی کریم نے قرات کی نماز پڑھنے کا طریق بتلایا جس میں پہلی قرات میں پڑھیے اور اخیر پڑھو حضرت صلعم نے فرمایا داخل فی صلواتی کلھا یعنی ساری نماز میں لیا کہ جس صلعم ہوا کہ اگر کیا نماز اور ہر ایک کعت میں قرات ہے جب

قَالَ شَكَى أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدَ إِلَى عُمَرَ فَعَزَلَهُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّا لَفَشَكُوا

کہ اہل کوفہ نے حضرت عمر کے پاس سعد کی شکایت کی تو اسے موقوف کر دیا۔ اور عمار کو ان کا حاکم بنا دیا اور شکایت

حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا أَبَا اسْحَقِ إِنَّ هُوَ لَأَعْمَى

میں بیان تک کیا کہ وہ اچھی طرح نماز نہیں پڑھتا تو حضرت عمر نے سعد کو بلا بھیجا اور فرمایا اسے ابواسحاق یہ لوگ کہتے ہیں کہ

يُزَعَمُونَ أَنَّكَ لَا تُحْسِنُ تُصَلِّي قَالَ أَمَّا أَنَا وَاللَّهِ فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ

تم اچھی طرح نماز نہیں پڑھتے کہا میری بات سنئے اللہ کی قسم میں انہیں بھی کہیں صلعم کی نماز پڑھاتا تھا

صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا آخِرُ مِنْهَا أُصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَأَرْكَبُ

اس سے کچھ کم کرتا تھا عشا کی نماز پڑھتا ہوں صلعم

فِي الْأَوْلِيَيْنِ وَأُخْفِ فِي الْأُخْرِيِّينَ قَالَ ذَلِكَ الظُّنُّ بِنِكَ يَا أَبَا اسْحَقِ فَأَرْسَلَ مَعَهُ

نہ پہلے دو کو لیتا کرتا ہوں اور پچھلے دو کو چھوڑتا کرتا ہوں فرمایا اسے ابواسحاق تم پر دیریا، یہی گمان تھا پس حضرت عمر نے

رَجُلًا أَوْ رَجُلَيْنِ إِلَى الْكُوفَةِ يَسْأَلُ عَنْهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ وَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدَ إِلَّا

ایک شخص یا کئی آدمی سعد کے ساتھ کوفہ بھیجتے تاکہ سعد کے بارہ میں اہل کوفہ سے پوچھے صلعم اور کوئی مسجد نہ چھوڑے

سَأَلَ عَنْهُ وَيَسْتَنْوِنُونَ عَلَيْهِ مَعْرُوفًا حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدَ الْبَنِيِّ عَبَّاسٍ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ

ان کے بارہ میں پوچھا اور سب ان کی خوبیوں کی تعریف کرتے یہاں تک کہ بنی عباس کی مسجد میں داخل ہوا تو ان میں سے ایک شخص

يُقَالُ لَهُ أَسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ يُكْنَى أَبَا سَعْدَةَ فَقَالَ أَقَا ذُكُشْدُ تَنَا فَا ن سَعْدًا

کہتا ہوا ہے اسامہ بن قتادہ کہتے تھے اسے اس کی کیفیت ابوسعود تھی اسے کہا جب تم ہم سے پوچھتے ہو تو دو بات یہ بڑی کہ سعد

كَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ وَلَا يَقْسِمُ بِالسُّوِيَّةِ وَلَا يَبْعُدُ فِي الْقَضِيَّةِ قَالَ سَعْدٌ

تاکہ کے ساتھ نہیں جاتا تھا اور انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں کرتا تھا اور فیصد میں انصاف نہیں برتتا تھا سعد نے کہا

أَمَا وَاللَّهِ لَوْ دَعَوْنَا بَنِي لَثَمَةَ لَأَبْرَأْنَا مِنْكُمْ وَأَبْرَأْنَا مِنْكُمْ وَأَبْرَأْنَا مِنْكُمْ

مطلع رہو خدا کی قسم میں تمہیں دعا نہیں کروں گا کہ تمہارے خدا کو تمہاری بندہ چھوڑا ہے ریاکاری اور شہرت کی خاطر کھڑا ہوا ہے

سَمِعَتْ فَأَطْلَعَتْ عُمَرَةَ وَأَطْلَعَتْ فُقْرَةَ وَعَرَّضَتْ بِالْفِتَنِ وَكَانَ بَعْدَ إِذْ أَسْئَلُ يَقُولُ

تو اس کی عمر لینی کہ اور اس کی محتاجی ختم نہ ہونے دے اور اسے فتنوں کا نشہ نہ بنا اور اس شخص سے بعد میں چا

شَيْءٌ كَيْفَ مَقْتُولُونَ أَصَابَتْهُ دَعْوَةُ سَعْدٍ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فَأَنَا رَأَيْتُ بَعْدَ

پوچھا جانا کتنا بہت پڑا ہوں فتنہ میں پڑا ہوں مجھے سعد کی دعا لگ گئی ہے عبد الملک نے کہا تو میں نے اسے اسکے بعد دیکھا

فَدَسَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي

اس کے بارہ بڑھاپے کی وجہ سے اسکی آنکھوں پر گھٹے تھے اور وہ لونڈیوں کے لئے رستوں پر کھڑا ہوتا تھا

الطَّرِيقِ يَعْزِمُ هُنَّ (۳۶۶) عَنْ عَبْدِ آدَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ

انہیں چھپا کرتا تھا عبادہ بن صامت سے روایت ہے

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

کہا رسول اللہ صلعم نے فرمایا اس کی کوئی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے

صلعم میں ابی وہاں ایک بہت بڑے بزرگ صحابی عشرہ مبشرین سے ہیں انہیں حضرت عمر نے ۳۰ھ ہجری میں اہل فارس کی جنگ میں فوج کا امیر بنایا عراق انکے ہاتھ سے فتح ہوا۔ اور کوفہ میں سلمہ بن اسلم بن مہزیب نے کوفہ کے لوگوں نے حضرت عمر کے پاس ان کی مختلف قسم کی شکایتیں کی تھیں ان کا ذکر حدیث میں ہے ان کے علاوہ نماز کی شکایت بھی کی۔ حضرت عمر نے تحقیق کے بعد انہیں ساری شکایتوں سے بری پایا اور اپنی وصیت میں فرمایا کہ میں نے نبیر کمزوری یا خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا۔ عمار کے ساتھ بیت المال کے انتظام کے لئے ابن مسعود کو اور زمین کی مساحت کیلئے عثمان بن حنیف کو مقرر کیا۔ سعد کو لٹے واپر نہ بھیجا کہ عمال کے تقرر میں حضرت عمر کے لوگوں کی رائے کا لحاظ رکھا کرتے تھے + صلعم ۲۵۳ھ میں صلعم نے ایشیا کی کئی مصلحتی العشا ہے یعنی مغرب اور عشا اور اکثر روایات میں صلتی العشا ہے۔ یعنی ظہر عصر کی نماز میں اور سامنے اگلے باب میں ظہر کی نماز میں قرأت کو ثابت کیا ہے + صلعم اس سے پیش سادات متقی سے کہ صحابہ کرام نے کتابات کو تحقیق کے بغیر نہیں چھوڑتے تھے اور بات کو صاف کر کے فیصد کرتے تھے + صلعم بعض وقت انسان ان باتوں جو اور لوگ الزام کے رنگ میں کسی طرف منسوب کرتے ہیں یہی ہوتا ہے۔ اور باوجود کسی برأت کے لوگ اپنی باتوں سے باز نہیں آتے۔ حد درجہ کی غلطی سمیت کی وقت بلا اختیار اسے صلعم بد معاشر جاتی ہیں اور وہ صلعم قبول پورا اس کا انتقام لے لیتی ہے اور اس واسطے ہی کہ نہ غلطیوں کی دعا سے ڈرایا ہے۔ اور فرمایا یہ ایلا و دعوی المظلوم فانه ليس بينهما وبين الله حجاب + صلعم اس میں اور وقت ہی وہی آجاتے ہیں۔ کہ سے کم سورہ فاتحہ پڑھ کر شرف کی پڑھنی چاہیے خواہ قرأت جہری چھپا نہ ہو جب قرأت جہری ہو تو نام کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ کے ایک ایک فقرہ کو اس طرح ذوق سے کہ پڑھے کہ اس قدر مقصد ہی اس کلمہ کو دہرائے کہ سورہ فاتحہ کو یہ عظمت اسے آدمی جو کہ نہ صرف قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ بلکہ اس میں جو دعا سمجھائی گئی ہے وہ ایسی ہے کہ اسے دیکھ کر انسان پانچ وقت سچلے وہ وہاں لگے تو دین دنیا کی حسرت کو اپنے اندر جمع کرے +

(۲۶۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ

رجل فصل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال أرجع فصل فإذك كم

فصل فرجع فصل كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال

أرجع فصل فإذك كم فصل فلنا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيرة

فعلني فقال إذا قدمت على الصلوة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن

أركع حتى تطمئن ركباً ثم أركع حتى تعدل قائماً ثم اسجد حتى تطمئن

ساجداً ثم أركع حتى تطمئن جالساً وأقل في صلواتك كلها باب القراءة

في الظهر (م) ۲۵۳ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (متكرر ۳۶۵) ۲۶۸ عَنْ أَبِي

قَتَادَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ

صَلَاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى وَيَقْصِرُ فِي الثَّانِيَةِ

وَيُسَمِعُ الْأَيَّةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَكَانَ

يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الضُّمِيِّ وَيَقْصِرُ

فِي الثَّانِيَةِ (م) ۲۵۴ عَنْ أَبِي مُعْمَرٍ (متكرر ۲۶۲) بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعَصْرِ

(م) ۲۵۵ عَنْ أَبِي مُعْمَرٍ (متكرر ۲۶۲) (م) ۲۵۶ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ (متكرر ۲۶۸) بَابُ

الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ (م) ۲۶۹ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لَنْ أَمُ الْفَضْلَ سَمِعْتَهُ وَهُوَ يَقْرَأُ

مغرب میں قرأت

کتاب الصلوة
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

مغرب میں پہلی ایک رکعت ہے دو نہیں۔ امام بخاری کے نزدیک بھی صحیح روایت صلاقی العشی معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ عنوان باب قرأت فی الظھر ہے + کلمہ
پہلی رکعت کو لیا کرنا اس غرض سے بھی تھا۔ کہ زیادہ لوگ شال ہو جائیں + کلمہ حدیث نمبر ۲۶۸ یہاں اختصار سے آئی ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ
فی الرکتین من الظھر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة ويسمع الاية احيانا + کلمہ مکرر روایت کے الفاظ قریبا وہی ہیں۔ جو نمبر ۲۶۲ کے
ہیں +

وَالرُّسُلُ سَلَّمَ عُرْفًا فَقَالَتْ يَا بَنِي لَقَدْ ذَكَرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ إِنَّهَا لِأَخْرَجَا

والرسل عرفا پڑھتے تھے تو کہا لے میرے بچے تو نے اس سورت کے پڑھنے سے مجھے یاد دلایا کہ یہ وہ آخری سورت ہے جو

سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ (۲۷۰) عَنْ مَرْوَانَ

میں نے رسول مدظلہ سے سنی تھی اسے مغرب میں پڑھتے تھے علی مروان

ابن الحکم قال قال لبي زيد بن ثابت قال قال تقرأ في المغرب بقصار وقد سمعت النبي

بن حکم سے روایت ہے کہ محمد سے زید بن ثابت نے کہا کیا بات ہے کہ آپ مغرب میں چھوٹی سورتیں پڑھتے ہیں اور میں نے نبی صلعم سے سنا

صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطويلين باب الجهر في المغرب (۲۷۱) عَنْ

کہ دو لمبی سورتوں میں سے زیادہ لمبی پڑھتے تھے بطور باب مغرب میں اور اسے پڑھنا

جبر بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور

جبر بن مطعم سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلعم کو مغرب میں (سورۃ طور پڑھتے سنا علی

باب الجهر بالعشاء (۲۷۲) عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةِ

باب عشاء میں آواز سے پڑھنا اور رافع سے روایت ہے کہ میں نے ابو ہریرہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی

فَقَرَأَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَبَّحَ فَقُلْتُ لَهُ قَالَ سَجَدْتُ خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ

تو انہوں نے اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ پڑھی اور سجدہ کیا تو میں نے ان سے پوچھا تو کہا کہ ابوالقاسم صلعم کے پیچھے میں نے سجدہ کیا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَرَأَى أَنْ أُسَجِّدَ بِهَا حَتَّى أَقَادَ (۲۷۳) عَنْ عَدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ لِلرَّاءِ

میں میں ہمیشہ اس میں سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ آپ سے جا لوں۔ عدی سے روایت ہے کہ میں نے ہمارے ساتھ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ فِي أَحَدِ الرُّكْعَتَيْنِ بِاللَّيْلِ

نبی صلعم سفر میں تھے تو عشاء میں دو رکعت میں والتین والذیتون پڑھی

وَالزَّيْتُونَ بَابِ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ بِالسُّجْدَةِ (۲۷۴) عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَتَكْرَرًا

باب عشاء میں سجدہ (دو الی سورت) کی قرات دیکھو حدیث نمبر ۲۷۴ علی

(۲۷۲) بَابِ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ (۲۷۵) عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ (مَتَكْرَرًا)

باب عشاء میں قرات دیکھو حدیث نمبر ۲۷۵ علی

بَابِ يُطَوَّلُ فِي الْأَوَّلَيْنِ وَيُحْذَفُ فِي الْآخِرَيْنِ (۲۷۶) عَنْ جَابِرِ

باب پہلی دوہیں لمبی (قرات) پڑھے اور پچھلی دوہیں اختصار کے دیکھو حدیث

أَبِي سَمُرَةَ (مَتَكْرَرًا) بَابِ الْقِرَاءَةِ فِي الْغَيْثِ وَقَالَتْ

نمبر ۲۷۵ علی باب قرات اور

أُمَّ سَمَةَ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطُّورِ (۲۷۹) عَنْ سَيِّدِ بْنِ

ام سلمہ نے کہا نبی صلعم نے (سورۃ طور پڑھی دیکھو حدیث

علی یہی حدیث

باب اوقات میں کر

آئی ہے جس میں ہے

سے قسم ماضی لانا

بعد واضح فیضہ

اللہ نے آنحضرت

صلعم سے اس کے بعد

ہیں کوئی نماز نہیں

پڑھائی یہاں تک کہ

آپ کا انتقال ہو گیا

حدیث نمبر ۲۳۳

میں ہے کہ عرض ہوت

میں جو نماز آنحضرت

صلعم نے پڑھائی تو

ظہر کی تھی۔ سنانی

کی روایت میں ہے

کہ مغرب کی نماز جو

ام الفضل کی روایت

میں ہے وہ اپنے

گھر میں پڑھا تھی

اور نمبر ۲۳۴ کی

روایت میں جو ظہر کی جو

وہ آپ نے مسجد میں

پڑھائی تھی۔ اور نماز

مغرب میں مدد و تکرار

کی سورتوں کا پڑھنا

نبی کریم صلعم سے

ثابت ہے + علی

سنانی کی روایت میں

ہے کہ زید بن ثابت نے

مروان سے کہا کہ آپ نے

کی تھی ہے جو اٹول کی تائید ہی اور للبعیم الطیل سورہ بقرہ سے لیکر سورہ توبہ تک کو کہا جاتا ہے۔ تو ممکن ہے کہ آپ انہی سورتوں کا کچھ حصہ پڑھتے ہوں یا کبھی ان کو پورا پڑھا ہو۔ اور ایک

روایت میں ہے کہ احراف کو روڈوں کتوں میں پورا کیا۔ اور عموماً آپ فضلات میں سے چھوٹی سورتیں پڑھتے تھے۔ جبکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے + علی ترمذی نے کہا کہ مالک نے

کہا کہ مغرب میں نبی سورتیں پڑھنا جیسے طور اور والمرسلت مکروہ ہے حالانکہ آنحضرت صلعم کا لمبی سورتیں مغرب میں پڑھنا صحیح احادیث سے ثابت ہے + علی مکر روایت کے لفظ

قریبا وہی ہیں جو نمبر ۲۷۴ کے ہیں۔ فقالت لہ کی جگہ ہے فقالت ما ہذا یعنی یہ سیدہ کیسا ہے + علی مکر روایت میں سزا کا ذکر نہیں۔ اور یہ جملہ زائد ہے و ما سمعت احدنا

احسن صلوۃنا و قراتہ یعنی آنحضرت صلعم سے بڑھ کر خوش آواز یا اچھی قرات پڑھنے والا میں نے کسی کو نہیں سنا۔ علی یہاں مکر روایت ۲۷۵ سے ملتی جلتی ہے قال ابو

لسعد لقد شکرک فی کل شیء حتی الصلوۃ قال اما انما فامد فی الاولین و احذف فی الاخرین ولا الواما القدت بت بہ عن صلوۃ رسول اللہ صلعم قال قد

ذاک الظن بک لو ظنی بک +

وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَأَنْصَرَفَ أُولَئِكَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا خَوَاتِمًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى

علم سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم کے فضل کو نشا عظم الہی کے مطابق اور قرآن کریم کی عملی تفسیر سمجھتے تھے اور آپ کا عمل واجب الاتباع سمجھتے تھے۔ اگرچہ قرآن میں کوئی صریح آیت ہر اور سرکاری تفسیر کے لئے نہیں ہے۔ لیکن ابن عباسؓ حضرت کا عمل یعنی آواز سے پڑھنا اور آہستہ پڑھنا امر الہی کی تفسیر سمجھتے ہیں۔ علم اصحاب میں ہر بار سولوں کو صحیح کیسے۔ دو سورتوں کو ایک رکعت میں پڑھنا۔ اور ایسا ہی کی حدیث اور عبداللہ بن مسعود کی حدیث سے جو باب کے اخیر میں ظاہر ہے۔ سورتوں کے آخری حصے پڑھنا سے سورتوں کے پہلے حصوں پر تپاس کیا ہے۔ اور قتادہ کے اس قول سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ کتاب اللہ پہلی سورت کو پہلی رکعت میں پڑھنا۔

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بَخْلَةٌ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عَكَاظٍ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ

الفجر فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمِعُوا لَهُ فَقَالُوا هَذَا وَاللَّهِ الَّذِي حَالُ بَيْتِكُمْ وَبَيْنَ

خَبَرِ السَّمَاءِ فَهَذَا لَكَ حِينَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا

يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَامْتَابِهِ وَلَنْ نَشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ نَبِيَّهُ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ أَوْحِيَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَوْحِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الْحَجَّاجِ بْنِ

عَبَّاسٍ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أَمْرٍ وَسَكَتَ فِيمَا أَمْرٍ وَقَالَ

كَانَ رَبُّكَ نِسْبًا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ بَاب

اجتمع بين السورتين في ركعة والقرآنة بأحوالهم ويسورة قبل سورة

وبأول سورة ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأت النبي صلى الله عليه وسلم

المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء رد كرموسى وهرون أود ذكر عيسى أخذته

سعة فرجة وقرا عمر في الركعة الأولى بمائة وعشرين آية من البقرة وفي

الثانية يسورة من المثاني وقرا الأحف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف

أوبوش وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بهما وقرا ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال

وفي الثانية يسورة من المفصل وقال قتادة فيمن يقرأ يسورة واحدة في ركعتين

أورد دوسری میں مثانی علم میں سے ایک سورت اور احضف نے پہلی میں کھف پڑھی

اور دوسری میں یوسف

اور بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر کے ساتھ صبح ان دوسے پڑھی اور ابن مسعود نے انفال میں سے چالیس پڑھیں

اور دوسری میں مفصل میں سے ایک سورت اور قتادہ نے اس شخص کے بارہ میں کہا

جو ایک سورت دو رکعتوں میں پڑھتا ہے

اور دوسری میں صحیح قول یہ ہے کہ وہ سورہ ق سے لیکر اخیر تک ہیں

ہم نے محبوب قرآن سنا ہے۔ پس اس موقع پر جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے کہا کہ ہماری قوم بھلائی کی طرف ہانت کرتا ہے۔ پس ہم آپس ایمان لائے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کیوں ہرگز شریک نہ سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا کہہ دے مجھے وحی کی گئی ہے اور آپ کو قول جن کی وحی کی گئی تھی

اور عبدالرزاق نے صحیح سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر نے صحابہ کو صبح کی نماز پڑھانی تو سورہ بقرہ کو دو رکعتوں میں پڑھا۔ اور ابن مسعود کی حدیث کہ انہوں نے انفال کی چالیس آیتیں پڑھیں۔ عبدالرزاق نے روایت کی ہے اور اس میں تصریح ہے کہ انفال کو شریع سے پڑھا۔ علم مثانی ان سورتوں کو کہتے ہیں کہ جن کی آیتیں سو تک پہنچتی ہوں یا سو سے کچھ کم ہیں۔ اور بعض نے کہا ہے کہ مثانی پہلی سات سورتوں کو چھوڑ کر مفصل تک ساری سورتوں

أَوْ بِرُودِ سُورَةٍ وَاحِدَةٍ فِي رَكْعَتَيْنِ كُلِّ كِتَابٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ عُمَيْدُ اللَّهِ

یادوں رکعتوں میں ایک ہی سورت دوہرانا کر سب انگریزوں کی کتاب پر اور عبد اللہ نے

عَنْ نَائِبٍ عَنْ أَنَسٍ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُؤَمِّمُ فِي مَسْجِدِ قِبَاءٍ وَكَانَ كَلِمًا

ثابت سے اس نے انس سے روایت کی کہ انصار میں سے ایک شخص مسجد قبا میں ان کی امامت کرتا تھا اور جب کبھی

أَقْبَتَهُ سُورَةٌ يَقْرَأُهَا لَمْ يَفْرِغْ فِي الصَّلَاةِ مِنْهَا يَقْرَأُهَا فَتَحْتَهُ يَقُولُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حَتَّى

کوئی سورت شروع کرتا کہ اسے ان کے واسطے نماز میں پڑھے اس سے جو پڑھا جاتا تو قل هو الله احد سے شروع کرتا یہاں تک کہ

يَفْرَغَ مِنْهَا ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً أُخْرَى مَعَهَا وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَكَلِمَةً

جس سے فارغ ہو جاتا پھر دوسری سورت اس کے ساتھ پڑھتا اور ہر رکعت میں آیا ہی کرتا تو اے

أَصْحَابِهِ وَقَالُوا أَإِنَّكَ لَتَقْتَضِي هَذِهِ السُّورَةَ ثُمَّ لَا تَرَى أَنَّهَا بَخْرٌ حَتَّى تَقْرَأَ بِأُخْرَى

ساتھیوں نے اس سے گفتگو کی اور کہا تم یہ سورت شروع کرتے ہو پھر تم نہیں سمجھو کہ وہ تمہیں کافی ہے یہاں تک کہ دوسری پڑھے

فَأَمَّا تَقْرَأُهَا وَإِنَّمَا أَنْ تَدْعُهَا وَتَقْرَأُ بِأُخْرَى فَقَالَ قَالُوا إِنَّا نَبْرٌ كَمَا إِنْ أَجَبْتُمْ

پس یا تو صرف اسی کو پڑھو یا اسے چھوڑ دو اور دوسری پڑھو تو اس نے کہا کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا اگر تم پسند کرو

أَنْ أَوْمَرْتُكُمْ بِذَلِكَ فَعَلْتُمْ وَإِنْ كَرِهْتُمْ ثَرْكُكُمْ وَكَأَنَّهُمْ يُرُونَ أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِهِمْ

کہا میں نے تمہاری امامت کر دی تو کروں گا اور اگر ناپسند کرتے ہو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان میں سے افضل ہیں

وَكَرِهُوا أَنْ يُؤَمِّمَهُمْ غَيْرَهُ فَلَمَّا آتَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرُوهُ الْخَبْرَ

اور وہ ناپسند کرتے تھے کہ ان کا امام اس کے سوا کوئی اور ہے اس جب ان کے پاس نبی کریم صلعم تشریف لائے تو انہوں نے آپ کو اسی طرح

فَقَالَ يَا فُلَانُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ أَصْحَابُكَ وَمَا يَحْجُجُكَ عَلَى لُزُومِ

تو فرمایاے فلاں کو کسی چیز سے روکتی ہے کہ تو اس طرح کرے جس طرح تیرے ساتھی کہتے ہیں اور ہر رکعت میں اس سورت کو لازم کرنے کے لئے

هَذِهِ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَقَالَ لِمَنْ أَجَبْتُهَا قَالَ جِبْتُهَا إِذَاهَا ادْخَلَكَ الْجَنَّةَ (۲۶۷)

مجھے کوئی چیز باعث ہوتی ہے تو کہا میں اس سے محبت رکھتا ہوں فرمایا تیری اس سے محبت ہے تجھے جنت میں داخل کر دیا جائے

عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ جَاءَهُ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ قَرَأْتُ الْمَفْصَلَ لِلَيْلَةِ فِي رَكْعَةٍ

ابو ایل سے روایت ہے کہ ایک شخص ابن مسعود کے پاس آیا تو کہا میں نے مفصل کو آج رات ایک رکعت میں پڑھا

فَقَالَ هَذَا كَعَدِّ الشَّعْرِ لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظْرَ الَّذِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تو انہوں نے کہا یہ شہر کی جلدی کی طرح جلدی رہتا ہے۔ میرا ایک جیسی سورتوں کو جانتا ہوں جنہیں نبی صلعم لاتے تھے

يَقْرَأُ بَيْنَهُمْ قَدْ كَرِهْتُمْ بَيْنَ سُورَةٍ مِنَ الْمَفْصَلِ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بَابُ

پس مفصل میں سے بیس سورتیں بیان کیں ہر رکعت میں دو سورتیں جملہ باب

يَقْرَأُ فِي الْأَخْرَبِينَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (۲۶۸) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ (مُتَكَرِّرًا ۲۶۸) بَابُ مَنْ

پہلی دو رکعتوں میں فاتحہ کتاب پڑھے دیکھو حدیث نمبر ۲۶۸ جملہ باب

خَافَ الْقِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ (۲۶۹) عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ (مُتَكَرِّرًا ۲۶۹)

جو ظہر اور عصر میں آہستہ قرات پڑھے دیکھو حدیث نمبر ۲۶۹ جملہ باب

بَابُ إِذَا سَمِعَ الْأَمْرَ الْآيَةَ

باب جب امام کوئی آیت سنائے

جملہ اس سے ثابت ہوا کہ ایک ہی سورت کو بار بار نماز میں پڑھنا بھی جائز ہے۔ خواہ اس کے ساتھ کوئی دوسری ملائی جائے یا نہ۔ جملہ یہ شخص نیک میں مسلمان تھا جس نے ق سے لے کر آٹھ تک ایک رات میں پڑھا۔ عرب کی عادت تھی کہ شعر کو جلدی اور تیزی سے پڑھتے تھے۔ اس واسطے عبد اللہ میں مسود نے اسے کہا کہ تم قرآن کو تریل سے نہیں پڑھتے اور اشعار کی مانند اسے جلدی جلدی پڑھ لیتے ہو۔ اور صحابہ یا اس طرح پڑھ جانے سے عرض حاصل نہیں ہوتی اور ابن مسود نے جو کہا کہ انہیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلعم کون سورتوں کو لاتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نماز تہجد میں کون سورتوں کو اکٹھا پڑھتے تھے۔ اس کا نام نالیف ابن مسود رکھنا ناواقفی ہے۔ نماز میں سورتوں کی اس ترتیب کو نظر رکھنا ضروری نہ تھا۔ جیسا اور ثابت ہو چکا جو ترتیب صحیفہ میں ہے۔ جملہ اس کا رد روایت میں ظہر کی نماز کے ذکر میں ہے۔ جملہ نامہ ہے و فی الرکتین الاخرین باہر کتاب بیٹے

پہلی دو رکعتوں میں صرف امر کتاب یعنی سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ اور اسی سے باب کا عنوان ثابت ہوتا ہے۔ اور عصر اور صبح کا ذکر یہاں صرف ان لفظوں میں ہے۔ و ہکذا فی العصر و ہکذا فی الصبح *

(۲۶۲) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ (متکررہ ۲۶۶) بَابُ يَطْوِلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى (۲۶۳)

دیکھو حدیث نمبر ۲۶۸ جلد باب پہلی رکعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب امام کا ہاتھ اٹھائے اور عطا کرتے ہیں آمین

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ (متکررہ ۲۶۶) بَابُ جَهْرًا أَمْرًا بِالتَّامِينَ وَقَالَ عَطَاءُ ابْنُ دُعَاءٍ أَمْرًا ابْنُ الزَّيْرِ وَمَنْ وَرَاءَهُ حَتَّىٰ إِنَّ السَّجْدَةَ لَكُنْتُمْ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَنَادُ

دعا ہے ابن زبیر نے اور انہوں نے جو ان کے پیچھے تھے آمین کہا یہاں تک کہ سجدہ کو گونج آئی اور ابو ہریرہ امام کو کولاد دیتے تھے

الإمام لا تفتني يا مينا وقال نافع كان ابن عمر لا يدعه ويحضرهم وسمعت منا جهره آمين فوننه يومئذ عطا اور نافع نے کہا ابن عمر سے نہیں چھوڑتے تھے اور انہیں ترغیب دیتے تھے اور میں نے ان سے

في ذلك خبرا (۲۶۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَمَرَ بِالتَّامِينَ أَمْرًا فَامْرَأَتُهَا مَنْ وَافَقَ تَامِينَهُ تَامِينَ الْمَلَائِكَةِ عَفْوَةً مَالِقَتُمْ

اس بارہ میں ایک حدیث سنی ہے ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

من ذنبيه بآب فضل التَّامِينَ (۲۶۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَتْ

معاذ کہہ دینے والوں کے جملے باب آمین کہنے کی فضیلت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آمین کہے اور فرشتے آسمان میں آمین کہیں اور یہ ایک دم سے موافق ہوں

أَحَدًا مِمَّا الْأُخْرَى عَفْوَةً مَالِقَتُمْ بَابُ جَهْرًا أَمْرًا بِالتَّامِينَ (۲۷۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکررہ ۲۶۶) بَابُ إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ (۲۸۰) عَنْ أَبِي

تو اس کے گناہ جو ہو چکے معاف کر دینے جائیں گے باب متقی کا آواز سے آمین کہنا

بكرة أنه أتته لي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو رَاكِعٌ وَرَكَعٌ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ زَادَكَ

پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بگاد کر گیا

اللَّهُ جَوْصًا وَرَأَعْدُ بَابُ إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي الرَّكْعَةِ

اللہ تعالیٰ (تیک کا موں پر) تیری حرص بڑھائے پھر ایسا، ذکرنا باب اشراکیر کار کو ع میں پورا کرنا جملہ

قاله ابن عباس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ مَالِكُ بْنُ الْحَوَارِثِ

اسے ابن عباس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے اور اس میں مالک بن حواریث کی حدیث ہے

جلد یہاں حدیث کو مختصر کر دیا ہے نماز فجر کا ذکر نہیں اور نظر اور ہر صر کے ذکر کو اٹھا کر دیا ہے ان النبی صلہ کان یقرأ بآمر المکتاب وسورة معها فی الرکعتین الاولین من صلوة الظهر وصلوة العصر ولیس معنا الا بترا حینا فکان بیطیل فی الرکعة الاولی + جملہ یہاں معمر کا ذکر نہیں نظر اور فجر کا ہے ان النبی صلہ کان یطویل فی الرکعة الاولی من صلوة الظهر ویقصر فی الثانیة ویفعل ذلك فی صلوة الصبح + جملہ نماز جلدی شروع کر کے فاتحہ کو جلد ختم نہ کر دیں کہ ان کے منہ سے پہلے فاتحہ ختم ہو جائے اور انہیں آمین کہنے کا موقع نہ دے + جملہ گویا آپ کا ارشاد کہ امام آمین کہے - تو متقی آمین کہیں بتاتا ہے کہ آمین بلند آواز سے کہا جاتا تھا میرے نزدیک یہ کوئی اہم اختلاف نہیں ہے غرض تو آمین کہنے سے ہے - بلند کہے یا ہتھ ترمزی ہیں آہستہ کہنے کی روایات بھی ہیں صحابہ میں بھی سہولت مل خلاف پایا جاتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بلند آواز سے کہا کبھی سہولت سے اور یہ قدر انسان کی حالت پہنچی تھمیر سے تکلف کو اس میں خلل نہ ہونا چاہیے - نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی قرأت آہستہ پڑھنے پر مشورہ کی ہے کبھی کوئی آیت بلند آواز سے سنا دیا کرتے تھے - اسے شک نہیں کہ بلند آواز سے آمین کہنا نازک انداز ہے اور جلال اللہ میرا آرا ہے - ملائکہ کی آمین سے موافقت ہونا یہ ہے کہ اس میں افلاص اور وضوح حضور کی حالت ہو کیونکہ ملائکہ کی حالت ہر وقت فرمانبرداری کی ہے پس جس کے قلب کے اندر آمین کہنے وقت کمال فرمانبرداری کی حالت پیدا ہو گئی اس کا آمین کہنا ملائکہ کے آمین کہنے سے موافق ہونا + جملہ یہاں بجائے نمبر ۲۶۵ کے اذاعتن انام فاصنوا کے ہوا ذاقال الامراء للمضروب لیم ولا الصالین فقولوا آمین فی الفاظ وہی ہیں - ہست لال یہ ہے کہ قبل سے مراد آواز سے کہنا ہے + جملہ تمام کتب سے مراد یہی معلوم ہوتی ہے کہ رکوع جاتے وقت تکبیر کو پورا کرنا چاہیے - یعنی اللہ اکبر فتح الباری میں ہے کہ اس میں اس کے ضعف کی طرف اشارہ کیا جو ابوداؤد نے عبد الرحمن بن ابی ہریرہ سے روایت کیا ہے و صلیبت خلف النبی صلہ فہم یتم التکبیر ان یسار کا قول نمبر ۲۶۸ ہے اور ملائکہ بن حواریث کی حدیث نمبر ۲۶۹ ہے - مگر یہاں اشارہ اس کی کسر و ابیت کی طرف ہے - ۲۸۳ پر آئی ہے جس میں یہ لفظ نہیں ہے مگر فکرت یعنی رکوع کو جانے وقت تکبیر کی

(۲۶۵) عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ (متکرر ۲۸۲) (۲۸۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

کہ وہ اس میں نماز پڑھتا ہے تب پس جب رسم بیجا کرنے اور اٹھانے تو اللہ اکبر کہنے جب فارغ ہوئے گا

اِنَّهٗ كَانَ يُصَلِّيْ بِهَمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفِضَ وَرَفَعَ فَاِذَا انصَرَفَ قَالَ

رَبِّیْ لَا شُبُهَكَ صَلَاةٌ بِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ یَا بَاب

بین نمازیں نبی صلعم سے تم سب سے زیادہ متاثر نہ ہوں

اِتِّمَامُ التَّكْبِیْرِ فِي السُّجُودِ (۲۸۲) عَنْ مُطْرِفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ

اللہ اکبر کا سجدہ میں پورا کرنا

مطرف بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ

قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ اَنَا وَعُمَرَ اَنَّ بُنُ حُصَيْنٍ كَانَ

ہیں نے اور عمر بن حصین نے علی بن ابی طالب کے پیچھے نماز پڑھی

اِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ وَاِذَا خَفَضَ مِنْ الرُّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ

جب وہ سجدہ کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور جب اپنا سر اٹھانے تو اللہ اکبر کہتے اور جب دو رکعتوں سے اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے

فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ اخَذَ بِيَدِي عُمَرَانُ بِنُ حُصَيْنٍ فَقَالَ قَدْ

پس جب نماز ختم کر دی

تو عمر بن حصین نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا

ذَكَرْتَنِي هَذِهِ الصَّلَاةَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَوْ قَالَ لَقَدْ صَلَّى

اس نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد دلائی یا کہا اس نے ہمیں

بِنَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ (۲۸۳) عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھائی صلعم

عکرمہ سے روایت ہے کہ

رَأَيْتُ رَجُلًا عِنْدَ الْمَقَامِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفِضٍ وَرَفِعٍ وَاِذَا قَامَ

میں نے مقام (ابراہیم) کے پاس ایک شخص کو دیکھا ہر مرتبہ رسم بیجا کرنے اور اٹھانے میں اللہ اکبر کہتا اور جب کھڑا ہوتا

وَاِذَا وُضِعَ فَاخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ اَوْ لَيْسَ تِلْكَ صَلَاةَ

اور جب جھکتا پہنہ نے ابن عباس کو خبر دی تو فرمایا تیری ماں نہ ہو

النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ لَا اَمْرُكَ بَابُ التَّكْبِیْرِ اِذَا

کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں صلعم

باب اللہ اکبر کہنا جب

فَاَمَرَ مِنَ السُّجُودِ (۲۶۶) عَنْ عِكْرَمَةَ (متکرر ۲۸۳) (۲۸۳) عَنْ

سجدہ سے کھڑا ہو

نمبر ۲۸۳ صلعم

دیکھو حدیث

اَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

جب نماز کے لئے

اِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ تَرِيكِبُرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ

کھڑے ہوتے اللہ اکبر کہتے جب کھڑے ہوتے پھر جس وقت رکوع کرتے اللہ اکبر کہتے پھر

صلعم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد دلائی یا کہا اس نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھائی صلعم

عکرمہ سے روایت ہے کہ

نمبر ۲۸۳ صلعم

دیکھو حدیث

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

جب نماز کے لئے

کھڑے ہوتے اللہ اکبر کہتے جب کھڑے ہوتے پھر جس وقت رکوع کرتے اللہ اکبر کہتے پھر

ذکر کیا لامرک انظار انہوں کے لئے معاوہہ ہے۔ لفظی معنی مراد نہیں۔ صلعم اس حدیث کا الفاظ یہ ہیں عن عکرمہ قال صلوتی خلف شیخہ فکبر تسبیحاً وتحت رکعة فقلت لا بن عباس نہ اہم فقال تکلمتک امامک سنن ابی القاسم صلعم یا ایس کی تعداد تب پوری ہوتی ہے۔ کہ سجدہ سے اٹھنے کے وقت اللہ اکبر کہنا ہے۔ اور اللہ اکبر کی یہ تعداد چار رکعت نماز میں ہے +

سَمِعَ اللَّهُ مِنْ حَمْدِهِ حِينَ يَرْفَعُ صَلْبَهُ مِنَ الرُّكْعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ

ملے حدیث کر کے الفاظ قریباً وہی ہیں جو نمبر ۲۸۲ کے ہیں۔ قال واحده کما

قَالَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يَكْبِرُ حِينَ يَهْوِي ثُمَّ يَكْبِرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ

آخری حصہ یوں ہے ولومت مت علی غیر الفطرة التي فطر الله عمل صلعم نمبر ۲۸۲ میں لفظ تھے

ثُمَّ يَكْبِرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يَكْبِرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا

غیر صحت عمل صلعم اور یہاں فطرت سے مراد وہ ہے + ملے ابو حمید کی حدیث نمبر ۲۸۹ پر آتی ہے

وَيَكْبِرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثَّنَتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ وَقَالَ جَبْدَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَلْبَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي

جہاں رکوع کے ذکر میں ہے ثم ہصر ظفرۃ + ملے بیٹے رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد

الْحَكَّامِ رَأْسًا وَضَعُ الْأَكْفِ عَلَى الرُّكْبِ فِي الرُّكُوعِ وَقَالَ أَبُو حَمِيدٍ فِي أَصْحَابِهِ

اور میں ابوسعید بن جریج سے روایت ہے میں نے مصعب بن سعد سے سنا کہ میں نے اپنے باپ کے پہلو میں نماز پڑھی تو میں نے دونوں

أَمَّا مَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَا يَدَيْهِ مِنْ سُرَّ كِتَابِهِ (۳۸۵) عَنْ

ہنصلیوں کو ملایا پھر انہیں اپنی ہانوں کے درمیان رکھا پس میرے باپ نے مجھ سے روکا اور کہا ہم اس طرح کرتے تھے تو ہمیں اس سے روکا گیا

أَبِي يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ مَصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ صَلَّيْتُ لِي جَنَابِي قَطَّقْتُ بَيْنَ

اور میں حکم دیا گیا کہ ہم اپنے ہاتھ کھٹنوں پر رکھیں

لَعْنِي ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخْذِي فَهَلَانِي أَبِي وَقَالَ كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِنَا عَنْهُ

چلے جاتے ہیں۔ اور سعیدوں کے درمیان بھی نہیں بیٹھتے۔ حالانکہ ہر وقت کے لئے دعا میں ہیں + ملے کمر روایت کے لفظ کجاوی ہیں۔

وَأَمْرُنَا أَنْ نَضَعُ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكْبِ بَابٌ إِذَا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعُ

جو نمبر ۳۶۶ کے۔ مگر آخر میں لفظان جالساً کے بعد اور

(۳۶۷) عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ (متكرر ۲۸۳) بَابُ اسْتِئْذَانِ الظَّهْرِ

یا فضل فی صلواتک کھاہات پسے ودرست سجدے کا ذکر ہے ثم استجد حتی تطقت ساجدا اور حدیث میں رکوع سے اٹھ کر ہونے

فِي الرُّكُوعِ وَقَالَ أَبُو حَمِيدٍ فِي أَصْحَابِهِ رَكَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

پہل عدال اور میں نے ابوسعید بن جریج سے روایت ہے نبی صلعم کا رکوع اور اس میں برابر ہونا

وَسَلَّمَ ثُمَّ هَضَرَ ظَفْرَهُ بَابٌ رُكُوعٌ كَيْ يَدُورَ أَوْ رَأْسٌ مِمَّنْ يَبْرَأُونَ

السجدتین اطمینان کا ذکر ہے +

فِيهِ وَالْإِطْرَابِيْنَةَ (۳۸۶) عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رُكُوعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْجُدُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَلَا ذَرْفَعٍ مِنَ الرُّكُوعِ مَا خَلَا

الْقِيَامَ وَالْفَعَادَ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ بَابٌ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ إِلَّا عَادَةً

(۳۸۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر ۳۶۷) بَابُ الدُّعَاءِ فِي الرُّكُوعِ

بَابٌ رُكُوعٌ مِمَّنْ يَبْرَأُونَ

اور آپ

کھڑے ہوتے رہنا کما

پھر جس وقت سر اٹھائے کہتے ہیں کہ اسے ختم کر دیتے

اور عیادتہ بن صالح نے لیث سے کہا

ابو حمید نے اپنے دونوں ہاتھوں پر رکھنا

ابو یعقوب سے روایت ہے میں نے مصعب بن سعد سے سنا کہ میں نے اپنے باپ کے پہلو میں نماز پڑھی تو میں نے دونوں

ہنصلیوں کو ملایا پھر انہیں اپنی ہانوں کے درمیان رکھا پس میرے باپ نے مجھ سے روکا اور کہا ہم اس طرح کرتے تھے تو ہمیں اس سے روکا گیا

اور میں حکم دیا گیا کہ ہم اپنے ہاتھ کھٹنوں پر رکھیں

دیکھو حدیث نمبر ۲۸۳

ابو ابو حمید نے اپنے رفیقوں میں کہا

پھر اپنی پیٹھ کو چکایا

برائے روایت ہے نبی صلعم کا رکوع اور اس میں برابر ہونا

اور سجدوں کے درمیان (کھڑے نا) اور جب رکوع سے سر اٹھاتے

قیام اور تلوکے بغیر برابر کے قریب تھے

اس شخص کو زمان لوٹانے کا حکم

دیکھو حدیث نمبر ۳۶۷

رکوع میں دعا کرنا

۱۔ نمبر ۳۹۶ میں ذکر ہے کہ رکوع سے قیام اور صبر کے درمیان اس قدر فاصلہ ہے کہ کوئی شخص جتنا کہ آپ بھول گئے۔ یہاں صرف رکوع سے قیام کا ذکر ہے قال کان النبی بعدت لئلا صلوة النبی صلعم مکان یصلی فاذا رفع رأسہ من الرکوع قائم حتی یقول قد نسیت علی ذکر دعایت میں ماحلا القیام والتعود کے لفظ چھوڑ دیے ہیں۔ یا قیومی میں علی کر روایت کے الفاظ اور ہیں۔ کان مالک ابن الحویث یریدنا کیف کان صلوة النبی صلعم وذاک فی غیر وقت صلوة فقلم فامکن القیام ثم رکع فامکن الرکوع ثم رفع رأسہ فانصب ہیئته قال فضلی بناصلة شیخنا اھذا الی ینبیا وکان ابو ینبیا اذا رفع رأسہ من الصلوة الاخوة استنوی فاعل ثم ھض۔ یعنی مالک ابن حویث نے ہیں نبی کریم کی نماز کی کیفیت دکھائی۔ اور یہ نماز کے وقت میں

رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْتَوَى حَتَّى يَبُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ ۲

نبی صلعم نے سر اٹھانے اور سیدھے کھڑے ہونے یہاں تک کہ ہر ایک جوڑا اپنی جگہ لوٹ آتا

عَنْ ثَابِتٍ (متكرر ۳۹۶) (مر ۲۷۱) عَنِ الْبَرَاءِ (متكرر ۳۸۶) (مر ۲۷۱) عَنْ

دیکھو حدیث نمبر ۳۹۶ علی دیکھو حدیث نمبر ۳۸۶ علی

أَنَّ قَلَابَةَ (متكرر ۳۳۵) بَابٌ يَهْوَى بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَسْجُدُ وَقَالَ نَافِعٌ

نمبر ۳۳۵ علی باب جب سجدہ میں جاسے تو اس کے ساتھ جھکے اور نافع نے کہا

كَانَ ابْنُ عَمْرٍو يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ (۳۹۲) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

ابن عمر اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں سے پیٹ رکھتے تھے علی ابوسعید بن عبد الرحمن سے روایت ہو کر

أَنَّ أَبَاهُ إِذْ كَانَ يَكْبُرُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ

ابوہریرہ ہر ایک فرض اور غیر فرض نماز میں رمضان میں اور غیر رمضان میں اللہ اکبر کہتے

فِي التَّكْبِيرِ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يَكْبُرُ حِينَ يَرُكُّ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَقُولُ

جب کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے پھر جب رکوع کرتے تو اللہ اکبر کہتے پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے پھر کہتے

رَبَّنَا وَكَانَ أَحْمَدٌ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ حِينَ يَهْوَى سَاجِدًا ثُمَّ

ربنا واک الحمد قبل اس کے کہ سجدہ کریں پھر جب سجدہ کو چھٹے تو اللہ اکبر کہتے تو

يَكْبُرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ ثُمَّ يَكْبُرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يَكْبُرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ

پھر جب اپنا سر سجدہ سے اٹھانے تو اللہ اکبر کہتے پھر جب سجدہ کرتے تو اللہ اکبر کہتے پھر جب اپنا سر سجدہ سے اٹھانے

مِنَ السُّجُودِ ثُمَّ يَكْبُرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الرَّسْتَيْنِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ

تو اللہ اکبر کہتے پھر جب دو رکعت کے بعد نعرہ سے اٹھنے تو اللہ اکبر کہتے اور بطریق

فِي كُلِّ رُكْعَةٍ حَتَّى يَفْرُقَ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَنْصَرِفُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ

ہر رکعت میں کرتے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جائے پھر جب فارغ ہونے کہتے اس ذات کی قسم کہ میری جان اسکے ہاتھ میں ہے

إِنِّي لَأَوْ بِكُمْ شَبَّاهُ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ الصَّلَاةُ

کہیں رسول اللہ صلعم کی نماز کے ساتھ مشابہت میں تم سب سے قریب تر ہوں یہی آپ کی نماز تھی

حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَكَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ

یہاں تک کہ دنیا سے مفارقت کی اور ابو ہریرہ نے کہا اور رسول اللہ صلعم جس وقت

يَرْفَعُ رَأْسَهُ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَكَانَ أَحْمَدٌ يَدْعُو الرِّجَالَ فَيَسْمِعُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ

اپنا سر اٹھانے کہتے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا واک الحمد کہتی لوگوں کے واسطے دعا کرتے اور ان کے نام کہتے

فَيَقُولُ اللَّهُمَّ أَيُّهُ الْوَالِدُ بْنُ الْوَالِدِ وَسَلَمَةُ بْنُ هِشَامٍ وَعِيَاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ وَ

کہتے ہے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے اور سلمہ بن ہشام کو اور عیاش بن ابی ربیعہ کو اور

الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ مَوَاقِبِ الدِّمِ أَشَدُّ وَطَأْتُكَ عَلَى مَضْرٍ وَاجْعَلْهَا عَلِيمٌ سِينِينَ

اسے اللہ اپنی گرفت مضرب سخت کر اور نبیہاں پر (مخط کے) سال بنا مومنوں میں سے کمزوروں کو (نجات دے)

میں تھا۔ تو کھڑے ہوئے۔ اور اچھی طرح قیام کیا۔ پھر رکوع کیا۔ تو اچھی طرح رکوع کیا۔ پھر اپنا سر اٹھایا تو تھوڑی دیر آرام لیا۔ اس کے بعد الفاظ نمبر ۳۳۵ کے الفاظ قال مثل من شیخنا اھذا سے منے جاتے ہیں۔ یہاں نماز کی ساری کیفیت بیان کی ہے۔ وہاں صرف یہ ذکر ہے کہ پہلی رکعت سے اٹھنے وقت شیخ بیٹھ کر شکر کرتے تھے علی یہ ابن عمر کا نقل ہے گویا یہ بتایا ہے۔ کہ یہ بھی جائز ہے۔ ذرہ ترتیب طبعی ہی ہے کہ پیٹے گھٹنے رکھے جائیں پھر ہاتھ +

اس حدیث کا پہلا حصہ جہاں فقہاء من الجہلوس نے الاشتہاب تک سہ ماہ سے لکھا ہے۔ اوس پر یہ کافل بیان کیا گیا ہے۔ وہاں ابو ہریرہ نبی کو مسلم کے فعل کی اسی الفاظ میں حکایت کرتے ہیں۔ پہلا حصہ جو قنوت کے متعلق ہے۔ نمبر ۲۸۹ سے لکھا ہے۔ وہاں صرف ابو ہریرہ کے فعل کا ذکر ہے۔ یہاں رسول اللہ مسلم کے فعل کا ذکر ہے۔ اور وہاں ابو ہریرہ کفار پر لعنت کرتے ہیں جو بیٹھ کر سجدہ کرتے ہیں۔ صدمہ بھی کفار پر لعنت کیا کرتے تھے تو اسی تشبیح یہاں موجود ہے کہ بیان مسلمانوں کی نعمت کے لئے وفا کرتے تھے۔ جو کفار کے مظالم کا تختہ مشق بنے ہوتے تھے۔ اور اسی ظلم کفار پر لکھا تھا۔ کی سزا اور خطہ کے آنے کے لئے دعائی۔ عام جگہ

كُنِّي يُوْسُفَ وَاَهْلَ الْمَشْرِقِ يَوْمَئِذٍ مَنْ مَضَرَ حَالَ الْفَوْنِ لَهُ (م ۲۷۳) عَنْ
 جہاں جہاں کے (مذکورہ) ہوں اور اس وقت سے پہلے مشرق کی آج کے مخالف تھے علم
 اَنْسُ بْنُ قَالِكٍ (مُتَكَرِّرٌ ۲۷۴) بَابُ فَضْلِ الشُّجْرِ (۳۹۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 دیکھو حدیث نمبر ۲۷۳ باب سجدہ کی فضیلت ابو ہریرہ سے روایت ہے
 اَنَّ النَّاسَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلْ تَرَى رَسُوْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ هَلْ تَمَارُوْنَ فِي الْفِرِّ
 کہ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا تم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھیں گے فرمایا لیکن تم
 لَيْمَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُوْنَهُ سَحَابٌ قَالُوْا لَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ فَهَلْ تَمَارُوْنَ
 ہر صبح صبح کے وقت میں شکر کرتے ہو جب اس کے سامنے ابرو ہو کہا یا رسول اللہ نہیں فرمایا لیکن تم
 فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُوْنَهَا سَحَابٌ قَالُوْا لَا قَالَ فَاَتَكْمُ تَرُوْنَهُ كَذَلِكَ يَحْتَشِرُ
 آفتاب کے سامنے ابرو ہو شکر کرتے ہیں کہا نہیں فرمایا تم ایسا ہی اسے دیکھو گے قیامت کے دن
 النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ
 لوگ اٹھنے کے جا رہے ہیں پس (اللہ) فرمائے گا جو کسی چیز کی پرستش کرتا تھا اسکے پیچھے ہوں تو ان میں سے کوئی
 الشَّمْسِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الْقَمَرَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الطُّرَابِ وَيَتَّبِعُ هَذِهِ
 سورج کے پیچھے ہوں گے اور کوئی ان میں سے ہانڈے کے پیچھے ہو لیگا اور کوئی ان میں سے طاعونوں کے پیچھے ہونے کا عمل اور
 اَلَا قَتَلْتُمُوْهُمَا مَا يَفْعُوْهُمَا يَا اَيُّهَا اللهُ يَقُوْلُ اَنْزَلْتُمْ يَقُوْلُوْنَ هَذَا كَمَا نَسَخْتُمْ
 امت رہ جائے گی اس میں اس کے منافع ہونگے پس اللہ تعالیٰ نے ان کے پس آنے کا تو فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں پس وہ کہیں گے ہماری کیا ہے
 يَلْتَبِنَا رَبَّنَا فَاذْجَاء رَبَّنَا عَرَفْنَاكَ يَا اَيُّهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ اَنْزَلْتُمْ يَقُوْلُوْنَ
 میں کہ کہ ہمارا رب ہمارے پاس آئے ہیں پس جب ہمارا رب آئیگا ہم اسے پہچانیں گے پس اللہ تعالیٰ نے ان کے پس آنے کا فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں
 اَنْتَ رَبَّنَا فَيَدْعُوْنَهُمْ وَيَضْرِبُ الصُّرَابِ يَنْظُرُوْنَ ظَهْرَانِي جَهَنَّمَ فَاَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْ
 پس وہ کہیں گے تو ہمارا رب تیری ہی پیدائش اور ہمیں بلائیگا اور جہنم کے ابواب سے رستہ بنا جائے گا پس میں رسولوں سے پہلا ہو گا
 الرَّسُوْلِ يَا مَيِّتَةٌ وَكَلِمَتُكُمْ يَوْمَئِذٍ اَحَدٌ لَا الرَّسُوْلَ وَكَلِمَةُ الرَّسُوْلِ يَوْمَئِذٍ اَللَّهُمَّ
 جو اپنی امت کے ساتھ گزردوں گا اس واسطے کہ وہ لوگوں کے سوا کوئی بات نہیں کرے گا اور رسولوں کا کلام ہمدن ہو گا اے اللہ تعالیٰ جو
 سَلَّمَ وَفِي جَهَنَّمَ كَلِمَتٌ مِثْلُ سُوْرَةِ السَّعْدَانَ هَلْ رَأَيْتُمْ سُوْرَةَ السَّعْدَانَ قَالُوْا اَنْعَمْ
 سلامتی ہو اور جہنم میں ناکرے ہوں گے سعدان کے کائناتوں کی طرح کیا سعدان کے کائنات تھے دیکھتے ہیں کہاں

پرفکار پر لعنت کرنا آپ کا شیوہ نہ تھا۔ اور ان پر عذاب کی دعا بھی آپ نے اسلئے کی کہ اوس کی طرح نضر عرض اختیار نہیں کرتے تو عذاب ہی کہنے تاکہ اللہ تعالیٰ کی لطف تو ہیریں۔ چنانچہ اہل مکہ پر یہ خط آیا ہے
 اس حدیث کے الفاظ نمبر ۲۷۳ کی نسبت م ۲۱۵ سے زیادہ ملتے ہیں۔ لیکن م ۲۱۵ کا پہلا حصہ واذ اصل حال النساء سے آخر تک نہیں۔ بلکہ ربنا واللہ العلی کے بعد ہی فاذا
 صحیح فاصحی واوراخرین شفاء الامین کی بجائے صحیح ساقہ الامین کو بتایا ہے یعنی آپ کی واپسی پنڈلی چھل گئی تھی۔۔۔۔۔ خون باب کا معلق اس حدیث میں واذ
 مسجد فاصحی دے ہے اور اس کی شرح نمبر ۳۹۳ کے اس جملہ سے ہوتی ہے تم بقولہ اللہ
 دیا ہے + سجدہ کی فضیلت حدیث کے اس جملہ سے ثابت ہوتی ہے وحرمد اللہ علی لانا ان ناکل اننا للبیعد۔ اللہ تعالیٰ کی رویت کے متعلق دیکھو نمبر ۳۹۳ پر اذ
 حدیث کے ساتھ نمبر ۳۹۳ کو پڑھ کر کوئی شبہ نہیں رہ جاتا۔ نمبر ۳۹۳ میں بھی لانتصاف میں سے مراد یہی ہے کہ تم سب کے سب نہایت مغفانی سے دیکھو گے۔ جس طرح چاند اور سورج کو دیکھتے
 ہو۔ اس سے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی پرستش کی اہل عرض اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرتا ہے۔ جس نے جس چیز کی پرستش کی۔ یا جس سے تعلق پیدا کیا وہی اسکو نظر آئے گی۔ سورج
 کے پرستار کو سورج نظر آئیگا۔ مگر خدا کے پرستار کو خدا نظر آئے گا۔ طاعت بیت اور شیطان کو بھی کہتے ہیں۔ اور اسکو بھی جو کفار اور مشرکین سے تعلق ہے۔ اس لئے اس سے مراد ان کے
 عقول وروما بھی ہو سکتے ہیں (نہایت) یہی + صراط ہے جو پھر اس کے نام سے مشہور ہے۔ اور صراط اہل میں سے کہ ہی کہتے ہیں۔ اور چونکہ جہنم کے اوپر سے رستہ بنانے کا ذکر
 ہے اسلئے اسے پہلا رکھیا جاتا ہے۔ اور اسکی حقیقت کیا ہوگی اسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ لیکن عرض یہ کہ منافق اور مومن اس سے الگ الگ ہو جائیں گے۔ مومن مجاہد لوگ جو دنیا اور
 طراط مستقیم پر چلتے تھے۔ وہاں بھی صراط مستقیم پر چلے جائیں گے۔ اور منافق جو دنیا پر مومنوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ مگر صراط مستقیم کی اتباع نہ کرتے تھے۔ ان کا دنیا براتی پر مشغول ہے۔

قَالَ فَانْتَهَى مِثْلَ سُورَةِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَحْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلَّا اللَّهُ خَلِيفُ

فرمایا پس وہ سعدان کے کانٹوں کی مانند ہیں ہاں ان کی بڑائی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا وہ

النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ فَبِمَنْ يَدْعُونَ نَبِّئِهِمْ وَمَنْ يَدْعُوا لَكُمْ عَلَيْهِمْ وَمَنْ يَدْعُوا لَكُمْ عَلَيْهِمْ

لوگوں کو اپنے عملوں کے مطابق ایک میں سے عمل ہیں ان میں سے وہ ہوں گے جو اپنے اعمال کے سبب بلاگ کو جائیں گے اور ان میں سے وہ ہوں گے جو برہنہ اور برہنہ کو

رَحْمَةً مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمْرًا لِلَّهِ الْمَلَائِكَةُ أَنْ يَخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ

پھر نجات پانچ گنے بیان تک کہ جب اللہ تعالیٰ اہل نار میں سے جس کے لئے چاہے رحمت کا ارادہ کرے تو فرشتوں کو حکم دے گا جو اللہ کی پرستش کرتے تھے

يَخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِأَقْرَابِهِمْ وَيَخْرِجُونَ عَلَى النَّارِ أُمَّةً كَأُمَّةِ الْيَوْمِ

انہیں نکال دے گا اور انہیں سجدہ کے نشان سے پہچانیں گے اور اللہ تعالیٰ نے آگ پر حرام کر دیا ہے کہ سجدہ کے نشان کو مٹائے

يَخْرِجُونَ مِنَ النَّارِ كُلِّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أُمَّةً يَخْرِجُونَ مِنَ النَّارِ

پس آگ سے نکال دیتے جائیں گے اور ابن آدم کے سارے کے سارے کو سوائے سجدہ کے نشان کے آگ کھا لیتی ہے۔ پس آگ سے نکالیں گے

قَدْ امْتَحَسُوا فِصْبًا عَلَيْهِمْ قَاءِ الْحَيَاةِ فَيَتَّبِعُونَ كَمَا تَنبَتُ الْحَبَّةُ فِي حِمْلِ السَّبِيلِ

اس حالت میں کہ جل کر سیاہ ہو چکے ہوں گے اور ان پر زندگی کا پانی ڈالا جائے گا تو آگ میں سے جس طرح دان سیلاب کے ٹوکے میں نکلتے ہیں

ثُمَّ يَقْرَأُ اللَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَيَقُولُ رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَهُوَ خَيْرُ

پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان قرآن سے قاری ہو جائے گا۔ اور ایک شخص جنت اور آگ کے درمیان رہ جائیگا اور وہ اہل نار میں سے آخری شخص ہوگا

أَهْلِ النَّارِ دُخُولَهُ الْجَنَّةَ مُعْبِدًا وَبُحْبُوحًا قِيلَ يَا رَبِّ أَصْرَفَ وَجْهِي

جو جنت میں داخل ہو گا مکمل اس کا منہ آگ کے سامنے ہوگا۔ پس کہے گا میں نے رب میرا منہ آگ سے پھیرنے

عَنِ النَّارِ فَقَدْ قَسَيْتَ رِيحَهَا وَأَحْرَقْتَنِي ذَكَرًا وَهَذَا يَقُولُ هَلْ عَسَيْتَ إِنْ رُدُّوا

مجھے اس کی بدبو سے ہلاک کر دیا اور اس کی تیزی نے مجھے جلادیا پس زمانے کا کہ قریب ہے کہ آگ سے یہ کیا گیا

ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَلِكَ يَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ فَيُعْطِي اللَّهُ عِزًّا وَجَلَّ مَا يَسْأَلُونَ

تو تو اس کے سوا اور چاہے گا وہ کہے گا تیری عزت کی قسم نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے جس طرح وہ چاہے

مِنْ عَمْدٍ وَمِثْقَالِ فَصْرَفُ اللَّهِ وَبِحَمَّةٍ عَنِ النَّارِ فَإِذَا قِيلَ لَهُ عَلَى الْجَنَّةِ رَأَيْتَ مَا

عمدا اور آواز کرے گا پس اللہ تعالیٰ اس کے من کو آگ سے پھیرے گا پھر جب منہ جنت کی طرف کرے گا اس کی خوشنوا کو دیکھے گا

سَكَتَ فَأَشَارَ اللَّهُ أَنْ تَسْأَلَ نَمَّ قَالَ يَا رَبِّ قَدِمْنِي عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ يَقُولُ اللَّهُ لَهُ

خاموش رہے گا اور اللہ اشارے کے ساتھ خاموش رہے پھر کہے گا میں نے جنت کے دروازے تک مجھے آگے کر دئے پس اللہ تعالیٰ سے فرمایا

اور لذت مند میوؤں کے رنگ میں ظاہر ہوں گے۔ بد عملوں کے نتائج کا منوں اور جھارٹیوں کے رنگ میں جو انسان کی ترقی کو روک دیتے ہیں اور اسے کپڑے لیتے ہیں۔ وہ آگ کے پھلے

کے قابل نہیں رہتے۔ اور میوؤں کا یہ کسانہ یہ ہماری نگہ سے مراد اس سے ہے کہ پہلے جب احتشاف نام نہ ہوا ہوگا۔ تو وہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ

کو ہم دیکھیں تب احتشاف نام ہو جائیگا۔ عمل عنوان باب کا نعتی اس سے ہے۔ کہ سجدہ کے نشانوں کو آگ نہ کھا لے گی۔ یہ سجدہ کی فضیلت ہے۔ آیا سجدہ کے آثار بادشاہوں سے ملا

اسکے جسم پر کوئی نشان ہیں جو اکثر حالات میں نہیں ہوتے یا وہ آخری جسے انسان کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ اور وہ اسکی سوچ پر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اعمال کے نتائج کا تعلق انسان کے جسم سے نہیں بلکہ

اسکی سوچ سے ہے۔ اسلئے آثار سجدہ سے ملا بھی وہی نشان ہیں جو کسی بد عمل پر ہیں اور آگ کے ابن آدم کو سوا آثار سجدہ کے کھا جائے گا مطلب یہی ہے کہ جو اللہ کی عبادت یا اس سے تعلق پیدا کیا

منافع نہیں ہوگا۔ باقی سب کچھ ضائع ہو جائیگا۔ واللہ احد عندہ من نخوة تجوزی الابلتداء وجهه ربه الاعلیٰ کوئی نعمت کسی کے نام نہیں ہے جس میں نیک بلکہ ہے۔ سوا اپنے ت

بقایا از صفحہ نمبر ۲۰۳
چونکہ صراط مستقیم
پر چلنے کی طاقت
پیدا نہیں ہوئی۔
اس لئے وہ بہرہ
چل سکیں گے۔ قرآن
کریم نے اس بات کو
کھول کر واضح
کر دیا ہے کہ جنتیم
کے اعمال انسان کرتا
ہے وہی ہی ان کی
پاداش ملتی ہے جنت
وفاقا صراط مستقیم
پر چلنے کی طاقت
انسان اسی نیات سے
لیکھا گیا ہے من
کان فی هذا اعتراف
فی وہی الاخوة اعتراف
اور دوزخ کے اوپر
صراط کے ہونے کا
یہ منشا ہے۔ کہ جو
شخص سیدھے رستے
سے ادھر ادھر ہوتا
ہے وہ اپنے آپ کو
جہنم میں لے جاتا ہے۔

مکمل یہ جہنم کے
کاٹنے درحقیقت
انسان کے اپنے بہ
اعمال کے نتائج پر
جیسے عمل ہیں وہی
پھل ہوں گے۔ نیک
عملوں کے پھل خوشنوا
اور لذت مند میوؤں کے
رنگ میں ظاہر ہوں گے۔
بد عملوں کے نتائج
کا منوں اور جھارٹیوں
کے رنگ میں جو انسان
کی ترقی کو روک دیتے
ہیں اور اسے کپڑے
لیتے ہیں۔ وہ آگ کے
پھلے کے قابل نہیں
رہتے۔ اور میوؤں کا یہ
کسانہ یہ ہماری نگہ
سے مراد اس سے ہے کہ
پہلے جب احتشاف نام
نہ ہوا ہوگا۔ تو وہ
کہیں گے کہ ہمارے
ساتھ وہ ہے کہ اللہ
تعالیٰ کو ہم دیکھیں
تب احتشاف نام ہو
جائیگا۔ عمل عنوان
باب کا نعتی اس سے
ہے۔ کہ سجدہ کے
نشانوں کو آگ نہ کھا
لے گی۔ یہ سجدہ کی
فضیلت ہے۔ آیا
سجدہ کے آثار
بادشاہوں سے ملا
اسکے جسم پر کوئی
نشان ہیں جو اکثر
حالات میں نہیں ہوتے
یا وہ آخری جسے
انسان کی آنکھ دیکھ
نہیں سکتی۔ اور وہ
اسکی سوچ پر ہوتا
ہے۔ ظاہر ہے کہ
اعمال کے نتائج کا
تعلق انسان کے جسم
سے نہیں بلکہ اسکی
سوچ سے ہے۔ اسلئے
آثار سجدہ سے ملا
بھی وہی نشان ہیں
جو کسی بد عمل پر
ہیں اور آگ کے ابن
آدم کو سوا آثار
سجدہ کے کھا جائے
گا مطلب یہی ہے کہ
جو اللہ کی عبادت یا
اس سے تعلق پیدا
کیا منافع نہیں
ہوگا۔ باقی سب کچھ
ضائع ہو جائیگا۔
واللہ احد عندہ
من نخوة تجوزی
الابلتداء وجهه
ربه الاعلیٰ کوئی
نعمت کسی کے نام
نہیں ہے جس میں
نیک بلکہ ہے۔ سوا
اپنے ت

الَيْسَ قَدْ أُعْطِيَ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلْتَ فَيَقُولُ
کیا تو نے عہد اور آوار نہیں کیا تھا کہ جو نامگ چکا اس کے سوا اور نہ مانگے گا۔
وہ کہے گا

يَا رَبِّ لَا أُكُونُ أَشْفَقَ خَلْقِكَ فَيَقُولُ فَمَا عَسَيْتَ أَنْ أُعْطِيَ ذَلِكَ أَنْ لَا
اے میرے رب تیری مخلوق سے میں بہت ہی بد نصیب نہ رہ جاؤں پس وہ اسے کہا کہ قریب نہیں اگر تجھے یہ دیا گیا تو تو

تَسْأَلَ غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَ ذَلِكَ فَيُعْطِيهِ اللَّهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ
اے سوا اور مانگے گا وہ کہے گا نہیں تیری عزت کی قسم اس کے سوا تجھ سے نہیں چاہوں گا پس اپنے رب سے عرض کر وہ چاہے گا عہد

وَمِيثَاقٍ فَيَقْدِمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا فَرَأَى زَهْرَتَيْنِ وَكُلَّهَا مِنَ النَّضْرَةِ
اور آواز کر کے گئے تو اے جنت کے دروازے تک آگئے اور پچھا تو جب جنت کے دروازے تک پہنچے گا اور اس کی بہار اور ہفتا زاری

وَالسُّورِ فَيَسْأَلُكَ فَأَشَاءَ اللَّهُ أَنْ تَسْأَلَكَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ ادْخُلْنِي اجْنَةً فَيَقُولُ
اور خوشی جو اس پر دیکھے گا تو خاموش رہے گا تب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے کہ خاموش رہے پھر کہے گا کہ میرے رب مجھے جنت میں داخل کر دے اور وہاں فرما دے

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيُحَكِّ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ الْإِيسَ قَدْ أُعْطِيَ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ
اے ابن آدم مجھ پر افسوس ہے تو کیا بد عہد کیا تو نے عہد اور آوار نہیں کیا تھا کہ جو تجھے دیا گیا ہے

أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي أُعْطِيَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لِمَ جَعَلْتَنِي أَشْفَقَ خَلْقِكَ فَيَضْحَكُ
اس کے سوا نہیں چاہے گا تو کہے گا اے میرے رب مجھے اپنی مخلوق میں سے بہت ہی بد نصیب نہ بنا

اللَّهُ مِنْهُ ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِي دَعْوَالِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ مَنْ فَيَتَمَنَّى حَتَّى إِذَا انْقَطَعَ أَمْنِيَّتُهُ
اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا جملہ اور اسے جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے گا پھر فرمائے گا کہ جس تک کہ جہاں تک کہ جب تک کہ آواز دے پھیلے

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ زِدْ مِنْ كَذَا كَذَا أَقْبَلْ يَدُكَ رُؤْيُ رَبِّهِ حَتَّى إِذَا انْقَلَبْتَ بِرَأْسِكَ إِلَى
اللہ عزوجل فرمائے گا اور نامگ فلاں در فلاں نعمت سے اس کا رب اسے یاد دلائے گا یہاں تک کہ اس کی آواز دے تم ہو جائیگی

قَالَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ لِي حَدِيثِي لَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ
اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے لئے یہ ہے اور اس کے ساتھ اس کی مانند اور اور ابو سعید خدری نے ابو ہریرہ سے کہا کہ رسول اللہ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ ذَلِكَ وَعَشْرَةٌ أَمْثَالَهُ قَالَ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل کا تمہارے واسطے یہ ہے اور اس کا دس گنا

أَبُو هُرَيْرَةَ لَمْ أَحْفَظْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَوْلَكَ ذَلِكَ وَ
ابو ہریرہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے صحن آئی کہ یہ قول محفوظ رکھا ہے تمہارے واسطے یہ ہے اور

مِثْلَهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ يَا سَمْعَةَ يَقُولُ ذَلِكَ لَكَ وَعَشْرَةٌ أَمْثَالَهُ يَا سَمِعَةَ
اس کے ساتھ اس کی مثل ابو سعید نے کہا میں نے آپ سے سنا ہے کہ تیرے واسطے یہ ہے اور اس کا دس گنا ہے باب سجدہ میں

ضَعِيحٌ وَيُحَافِي فِي السُّجُودِ (۲۴۴) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَدَةَ (مُتَكَرِّرٌ ۲۸۳)
اپنے دونوں بازوؤں کو کھولے اور دو رکعت کے

يَا رَبِّ يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب اپنے بازوؤں کی انگلیوں کو تہ تیغ رکھے اسے ابو سعید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے

کتاب الصلوة کا لفظ
ہم نے یہ بھی استعمال کیا
ہے اور جو مذکور ہے یہی اور
تعب پر بھی۔ اور مہینا
اسے ظاہر ہے میں
جو کہ چہرہ کی ایک
خاص کیفیت سے
تعلق رکھتا ہے اسلئے
اللہ تعالیٰ پر صلیک
کا استعمال سردیا
تعب کے معنی میں
ہی ہو سکتا ہے کیونکہ
اللہ تعالیٰ جسم سے
پاک ہے + علی
مطلب یہ ہے کہ جب
انسان کے سامنے اس
دوسری زندگی کے
محاسبات کھلنے ہیں
تو اس کے اندر
اس قدر لذت اور
سرور ملتا ہے جو کہ
دہم و گمان میں بھی
نہیں ہوتا۔ اور
اس کی پروری ہے جی
آرزو بھی وہاں
میں نہیں پہنچی ہوتی
جی کہ صلعم نے
اسکی مثل فرمایا
رس گنا۔ اتنی لمبی
حدیفہ میں ایک ایک
لفظ نبی کریم صلعم
کا نہیں ہو سکتا
خاصہ مطلب جو طرح
مذکور ہے نے سمجھا
بیان کیا ہے۔ ان
بعض الفاظ بھی ایسے
مختصر رہ گئے جو کہ
جو نبی کریم صلعم کی
زبان مبارک سے
نکلے تھے + علی
باب ۱۲ میں ہے

ضعیحہ و یحافی فی السجود پہلے گزر چکا ہے۔ اور حدیث بھی نمبر ۲۸۳ پر ان ہی الفاظ میں گزر چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سجدہ کرنے تو ایسی وضع اختیار کرے جس سے غفلت اور سستی پیدا نہ ہو + علی اس باب کا عنوان بھی یا یحافی ضعیحہ کے بعد کے باب میں گزر چکا ہے۔ اور حدیث نمبر ۲۸۳ اس کی تائید میں ہے + ابو سعید کی حدیث میں جو باب سنتہ العجوس میں آتی ہے یہ لفظ آتے ہیں واستقبل باطراف رجليه القبلة یعنی سجدہ کے وقت نبی کریم نے پاؤں کی انگلیوں کو تہ تیغ کیا ملاحظہ ہو صفحہ ۲۸۱ علیہ السلام السجود بھی گزر چکا ہے۔ اور یہی حدیث ان ہی الفاظ میں ۲۸۳ پر پہلے گزر چکی ہے +

بَابُ عَقْدِ الشَّيَابِ وَشَدِّهَا وَمَنْ ضَمَّ التَّوْبَةَ إِذَا خَافَ أَنْ تَتَكَشَّفَ عَنْ كَتِفَيْهِ

باب بکڑوں میں گرہ دینا اور ان کا باندھنا اور جو اپنا کپڑا اپنے اوپر لپیٹ لے جب ڈرتا ہو کہ اس کا سر نہ کھل جائے

(۲۷۹) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (متكرر ۲۷۰) بَابُ لَا يَكْفُ شِعْرًا (۲۸۰) عَنْ

ابن عباس (متكرر ۲۷۹) بَابُ لَا يَكْفُ تَوْبَةً فِي الصَّلَاةِ (۲۸۱) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

(متكرر ۲۷۹) بَابُ التَّسْبِيحِ وَالذِّكْرِ فِي الشُّعْرِ (۲۸۲) عَنْ عَائِشَةَ (متكرر ۲۸۰)

بَابُ الْمَكْتَبِ بَيْنَ الشَّجَدَتَيْنِ (۲۸۳) عَنْ أَبِي قَلَابَةَ (متكرر ۲۸۳)

عَنْ الزَّيَّادِ (متكرر ۲۸۶) (۲۹۶) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا لَمْ يَلِي لَوْلَا أَنِ أَصَلَى بِكُمْ

مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيَّ يَصَلِّي بِنَا قَالَ ثَابِتٌ كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَهُ

حَتَّى يَقُولَ لِقَائِلٍ قَدْسِي يَا قَدْسِي وَيَقُولُ لِقَائِلٍ قَدْسِي وَيَدِينُ الشَّجَدَتَيْنِ

حَتَّى يَقُولَ لِقَائِلٍ قَدْسِي يَا قَدْسِي وَيَقُولُ لِقَائِلٍ قَدْسِي وَيَدِينُ الشَّجَدَتَيْنِ

عَلَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُقْتَرَبِينَ وَلَا قَابِضِينَ (۲۹۷) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ اخْتَدُوا فِي الشُّعْرِ وَلَا يَسْطِطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ يُسَاطِطُ الْكَلْبُ بَابٌ مِنْ اسْتَوَى فَأَعْلَا

فِي وَتَرْتَمِنُ صَلَاتُهُ ثُمَّ نَهَضَ (۲۸۵) عَنْ مَالِكِ بْنِ حُوَيْرِثٍ (متكرر ۲۸۵) بَابُ كَيْفَ

عقل کر رہا ہوں
عاقدا ازہم
کے بعد من الصغر
کے لفظ زیادہ ہیں
جہاں نمبر ۲۷۰ میں ہے
علیٰ عنانہم کہتے
الصبيان کو یا یہاں
صاف کر دیا کہ یہ اچھا
تہذیبی رویہ ہے گردن پر باندھ
لینے تھے جو کہ حدیث میں ہے
پریشانی سے جانفت آتی
ہے۔ اسلئے یہاں بتایا
ہے کہ جب کشف عورت
کا خوف ہو یا اور کوئی
مزدت ہو تو یہ نماز
نہیں ہے۔ علم کر
روایت ۲۷۹ میں زیادہ
ہے امر اللہ صلعم
ان بیچوں علی سبقت
اعظم ولا یکن شیء
ولا تولى
صیغہ واحدہ شکم کہتے
۲۷۹ کے لفظ میں
یہاں ہے کان
النبی صلعم یکران
یقولہ فی ذکر عہدہ
بیخودہ سبحانک
اللہ ربنا وحمدک
اللہ اعظم لی ویا ولہ
القرآن یعنی یہ دعا
نزلت سے کرتے تھے۔
اور اس میں بتاوا للقرآن

باب
نمبر ۲۸۵
دیکھو حدیث
پہرا گئے

میں اشارہ ہے کہ قرآن کریم جو حکم نازل ہوا اس کی تعمیل کرتے تھے تسبیح حمد ربک واستغفرک انہ کان تو اب اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلعم نے نماز کی دعائیں تسبیح قرآن کریم کے احکام کی تعمیل میں ہی کی ہیں + علم اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں ان مالک بن الحویث قال لا یصلی الا ان یشکر صلوة رسول اللہ صلعم قال ذلک فی غیر صحن صلوة فقام ثم رکع فکیث ثم رفع راسہ فقارہ ہدیۃ ثم سجد ثم رفع راسہ ہدیۃ فقال لورجعت الی اہالیکم صلوا صلوة کذا فی صحن کذا اصلوا صلوة کذا فی صحن کذا فاذا حضرت الصلوة فلیؤذن احدکم ویؤمکم احدکم باب کے من ان کان من اهلن من اهلن صحن سے ہو ثم بعد ثم رفع راسہ ہدیۃ یعنی سجد سے سر اٹھا کر تھوڑی دیر بیٹھ کر ٹھہرتے۔ دوبارہ جو تم سجد ثم رفع راسہ ہدیۃ ہو یعنی سجد میں نہیں ہو۔ اور طلب ہے کہ پہلی اور تیسری رکعت کے سجود کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرا رکھتے تھے اس سے کھانسی اور استراحت ہوتے ہیں۔ کان یقعد فی الثالثة اور الاربعة سے مطلب ہے کہ تیسری رکعت کے اخیر یا چوتھی کے شروع میں بیٹھ کر ٹھہرے + علم اس حدیث کے الفاظ اہل کے ہیں مگر واذا رفع راسہ من الرکع اس میں نہیں ہے یعنی جس طرح کہ اپنے اگلے پاؤں زمین سے الٹا کر بیٹھتا ہے۔ اس طرح سجود سے زمین سے الٹا کر بیٹھتا ہے۔ اس سے کھانسی پیدا ہوتی ہے + علم حدیث کے الفاظ یہ ہیں عن مالک بن الحویث انہ راى النبى صلعم یصلی فاذا کان فی وتر من صلواتہ لم یہض حتی لیستقر قاعد علی یمنی مالک بن حویث نے نبی صلعم کو دیکھا کہ جب وتر (پہلی یا تیسری) رکعت سے اٹھتے تو ٹھیک طور سے بیٹھ کر اٹھتے تھے اس سے کھانسی کو امام شافعی اور صاحب حدیث کی ایک جماعت نے نماز کے ادا کرنے میں شمار کر کے مستحب کہا ہے۔ مگر دوسری روایات میں بیٹھ کر اٹھنے کا ذکر نہیں۔ اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ہاتھ زمین سے الٹا کر بیٹھتا ہے اور اس سے کھانسی پیدا ہوتی ہے۔

يَعْتَدُ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَةِ (۲۸۶) عَنْ أَبِي قَلَابَةَ (متكرر ۴۲۸) بَابُ

جلسہ ابن مسعود سے

يَكْبُرُ وَهُوَ يَنْهَضُ عَلَى صَدْرِهِ (۲۸۷) عَنِ سَعِيدِ

باسناد صحیح مروی ہے

ابن الحارث قال صلى لنا ابو سعيد فحجرا بالتيكبير حين رفع رأسه من السجود وحين

قد جہلہ یعنی نبی کریم

سجد وحين رفع وجهه من الركعتين وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم

پاؤں کے چلنے پر

عن مطرف (متكرر ۲۸۲) باب ستة اجلوس في الشهد وكانت امر اللاداء

اٹھنے - بیٹھنے وغیرہ

تجلس في صلواتها جلست الرجل وكانت فقيهه (۲۸۸) عن عبد الله بن عبد الله

زین پر بیٹھ کر

انه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلوة اذا جلس ففعلته واذا يومئذ

نہ اٹھنے - اسی سے

حديث السنين فلما كان عبد الله بن عمر قال انما استت الصلوة ان تنصب بجلدك

خفیفہ کے نزدیک اٹھنے

اليمنى وكشي اليسرى فقلت انك تفعل ذلك فقال ان رجلا لا يجملاني

وقت زمین پر بیٹھنے

عن محمد بن عمرو بن عطاء انه كان جالسا مع نفر من اصحاب النبي صلى

۷۰ - یہاں تک روایت

الله عليه وسلم فذكر ناصلة النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو حميد الساعدي انكنت

میں شیخ کا نام جو روایت

احفظكم لصلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت انك اذا كبر جعل يديك حدا و

سے یعنی عمرو بن طلحة

منكبته واذا ركة امكن يدي من كنبته ثم هصر ظفيرة فاذا رفع رأسه استنحتني

اور نمبر ۳۳۵ کے آخری

يعود كل فقار مكانه واذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضها واستقبل

الفاظ کی بجائے یہاں

باطراف اصابع رجله القبلة فاذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى فاذا

یوں لفظ برج کان

جلس في الركعة الاخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعدته بآب

ذلك التبعيض يتم التكبير

من لم يركب الاضحية الاضحية الاولى واجبالا ان النبي صلى الله عليه وسلم يركع

واذا ارفع يده عن

جس نے پہلا تشدد واجب نہیں تھا اس لئے کہ نبی صلعم

السجود الثانيه جلس

واعتمد على الارض

ثم قام خنفي بيده

اٹھنے کو حالت نذر

پر ٹھوس کرتے ہیں

جلس جب دو رکعتیں

بیٹھنے تو بائیں پاؤں کے تھامنے سے شاید زیادہ درست ہو اور ایسا کرنے سے بیٹھنے سے قریباً ان ہی الفاظ میں نمبر ۳۸۲ کا مضمون دہرایا ہے

(۵۰۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ وَهُوَ مِنْ أَرْضِ شَوْعَةَ وَهُوَ حَلِيفَةُ لَيْثِ بْنِ عَبْدِ

عبداللہ بن جعفر سے روایت ہے اور وہ قبیلہ ازوش شوعہ سے اور لیس بن عبد مناف کے حلیف

مَنَاوٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ الظُّهْرِ فَقَامَ فِي

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ظہر پڑھائی

الرُّكْعَتَيْنِ لَا وَيَلِينَ لَهُمْ جُلُوسٌ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَهَرَ

دو رکعتوں میں کھڑے ہوئے بیٹھے نہیں تو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے یہاں تک کہ جب نماز پوری کی اور لوگوں نے آپ کے سلام کی

النَّاسُ تَسْلِيمًا كَثِيرًا وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ ثَلَاثِينَ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ ثُمَّ سَلَّمَ بِأَبِ التَّشَهُدِ

انظار کی اندازہ کیا اور آپ بیٹھے تھے تو سلام سے پہلے دو سجود کئے پھر سلام پھیرا

فِي الْأُولَى (۲۸۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ (مُتَكَرِّرًا) (۵۰۰) بِأَبِ التَّشَهُدِ فِي الْآخِرَةِ

تشریح پڑھنا دیکھو حدیث نمبر ۵۰۰ باب دوسرے فقہ میں تشریح پڑھنا

(۵۰۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ كَتَبًا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا سَلَّمَ عَلَيَّ جِبْرِيْلُ وَ

عبداللہ سے روایت ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو تم کے پیچھے جبریل

مِيكَائِيلُ السَّلَامُ عَلَيَّ فَلَإِنْ وَفَلَإِنْ كَأَنْتُمْ لَيْسَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ

میکائیل پر سلام فلاں اور فلاں پر سلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہماری طرف دیکھا اور فرمایا

اللَّهُ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا صَلَّي أَحَدُكُمْ فَلْيَقْبَلِ التَّحِيَّاتِ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتِ وَالطَّيِّبَاتِ السَّلَامُ

مناخذ ہی سلام ہے پھر جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اس کے سب سے پہلے اللہ کی تحیات اور نماز میں اور پاکیزہ اعمال

عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبُرُكَانُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ قَائِمًا

اسے نبی تجھ پر سلام ہے اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام کیوں کہ جب تم

إِذَا قَلَمْتُمْ هَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ شَهْدًا لِدَعْوَةِ اللَّهِ

یہ کہو گے تو ہر ایک نیک بندے کو جو آسمان اور زمین میں ہے پہنچ جائے گا میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے مبرا کی عبادت میں

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ بِأَبِ التَّشَهُدِ قَبْلَ السَّلَامِ (۵۰۲) عَنْ عَائِشَةَ

اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے باب سلام سے پہلے دعا حضرت عائشہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے

زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ إِنِّي

نماز میں دعا پڑھتے تھے اے اللہ میں کہ رہا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

۱۔ یہ سیدہ سہولہ کبریٰ سے تفصیل کے آگے آگے ہے۔
۲۔ مکرر روایت کے الفاظ یوں ہیں۔
۳۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یوں پڑھے۔
۴۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یوں پڑھے۔
۵۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یوں پڑھے۔
۶۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یوں پڑھے۔
۷۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یوں پڑھے۔
۸۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یوں پڑھے۔
۹۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یوں پڑھے۔
۱۰۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یوں پڑھے۔
۱۱۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یوں پڑھے۔
۱۲۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یوں پڑھے۔
۱۳۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یوں پڑھے۔
۱۴۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یوں پڑھے۔
۱۵۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یوں پڑھے۔
۱۶۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یوں پڑھے۔
۱۷۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یوں پڑھے۔
۱۸۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یوں پڑھے۔
۱۹۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یوں پڑھے۔
۲۰۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یوں پڑھے۔

جناب باری سے دعا کریں۔ یا اس کی حمد کریں۔ چنانچہ دنیا و ملک اللہ کی تعظیم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کی تھی کسی نے بڑھایا کھلا کتبا و طیبیا صبار کا فیرا سبط صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے کہ تعقیبات میں کلمات کسی نے بڑھائے۔ تو آپ نے اسکی اصلاح کر دی اور فرمایا کہ عباد اللہ الصالحین جامع دعا ہے + مکتبہ تحیات تخیبہ کی جمع ہے۔ اور تخیبہ اصل میں یہ ہے کہ دوسرے کو جیباک اللہ کے۔ یعنی اللہ تجھے زندہ رکھے۔ پھر ہر دعا پر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ (رابع) اور نماز میں ہے کہ تخیبہ اصل میں جیباک اللہ کنہاری۔ اور کسی نے تخیبہ کو ملک اور کسی نے تقابلی کہا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ مسلمانوں کو کہا گیا کہ تعقیبات اللہ کو۔ یعنی وہ الفاظ جو ملک و رسالتی اور تقابلی پر دلالت کرتے ہیں وہ اللہ کیلئے ہی ہیں۔ اور طلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندہ جو چیز اپنی طرف سے پیش کر سکتا ہے۔ وہ ہی دعائیں اور نمازیں اور پکارا عمل ہیں۔ اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لئے ہی ہے + مکتبہ یہاں اسحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کی زندگی میں صحابہ السلام علیک ہی کہتے تھے۔ اور آپ کی وفات کے بعد السلام علی اللہ تعالیٰ توبہ قابل قبول نہیں۔ اسلئے کہ زندگی میں ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سزا دیا نہیں کہتے تھے۔ پس آپ کی وفات سے کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس رنگ میں خطاب کہنا شرک میں داخل نہیں ہے۔ بظاہر محض تنہا صانع محبت ہے اور ہر مسلمان کو کہ چو کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی کھائی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور مسلمان محض اس خطاب کو نقل کرتے ہیں۔ جیسے قرآن شریف میں آیا ہے اللہ تعالیٰ وغیرہ پڑھنا ہے + مکتبہ صحیح مسلم پر کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ میں پڑھی جائے۔ اور صحیح ابن خریزمی پر روایت عائشہ سے کہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ کے انور میں پڑھتے تھے۔ اور یہ اہم کی تعظیم کیلئے ہے۔ اور فی التقیقستان سے محفوظ ہی وہی ہے جو اللہ کی پناہ ہے آجاتا ہے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محفوظ تھے +

أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيِّ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ

توڑ کے عذاب سے تیری پناہ میں آنا ہوں اور جو دجال کے ہرکھانے سے تیری پناہ میں آنا ہوں

فِتْنَةِ الْمِحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ وَمَا

اور زندگی کے فتنے سے اور موت کے فتنے سے تیری پناہ میں آنا ہوں اسے اللہ گناہ اور قرض داری سے تیری پناہ میں آنا ہوں کسی کھنے والے نے آپ سے کہا کہ

أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيدُ مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ إِنْ الرَّجُلَ

آپ قرض سے بہت پناہ مانگتے ہیں فرمایا انسان جب قرضدار ہو جائے

إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذِبٌ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُسُفَ سَمِعْتُ خَلْفَ بَنِي عَامِرٍ

ہات کرنا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے اور محمد بن یوسف نے کہا میں نے خلف بن عامر سے

يَقُولُ فِي الْمَسِيِّ وَالْمَسِيءِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ وَهُمَا وَاحِدٌ أَحَدُهُمَا عَلِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْآخَرُ

کہتے ہوئے سنا کہ مسیح اور مسیح ان دونوں میں فرق نہیں ہے اور وہ دونوں ایک ہیں ایک عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور دوسرا

الدَّجَالُ وَعَنْ زُهَيْرٍ قَالَ خَبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

دجال اور زہری سے ہے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ عائشہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا

صَلَّى عَلَيَّمَا يَسْتَعِيدُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ (۵۰۳) عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ

اللہ عنہما میں دعا کرتا ہوں کہ تم دونوں کو فتنے سے پناہ مانگتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

اللَّهُ عِنْدَ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُعَاءٌ ادْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ

انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی ہے دعا کہھا ہے کہ اسے اپنی نماز میں پڑھا کروں فرمایا کہ اسے خدا

إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظَلَمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ

میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی گناہوں سے مغفرت نہیں کرتا تو تو اپنے پاس سے مجھے مغفرت سے

وَأَرْحَمِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ بَابُ مَا يَتَّبِعُ مِنْ الدُّعَاءِ بَعْدَ الشُّهُدِ وَلَيْسَ بِوَأَجِبَ (۲۹۰)

اور مجھ پر رحم کر تو تجھ سے والا رحم کرنے والا ہے بَابُ جود دعا شد کے بعد پڑھنے کی جائے اور واجب نہیں

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (مَنْكُرًا ۱۰۵) بَابُ مَنْ لَمْ يَمْسُجْ جَهَنَّمَ وَالْفَاحِشِيُّ صَلَّى قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَأَيْتَ

دیکھو حدیث نمبر ۱۰۵ بَابُ مَنْ لَمْ يَمْسُجْ جَهَنَّمَ اور ابی بکر نے کہا میں نے اپنے پیشانی اور ناک کو نماز سے فارغ ہونے تک پونچھا ابو عبد اللہ کہتا ہے کہ میں نے

الرَّحِمِيِّ يَجْزِي هَذِهِ الْحَدِيثَ أَنَّ لَا يَمْسُجُ الْجَهَنَّمَ فِي الصَّلَاةِ (۲۹۱) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (مَنْكُرًا ۲۳۲)

رحمید کی دیکھا اس حدیث سے استدلال کرتے تھے کہ پیشانی کو نماز میں نہ پونچھے دیکھو حدیث نمبر ۲۳۲ (مَنْكُرًا ۲۳۲)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (مَنْكُرًا ۱۰۵) بَابُ مَنْ لَمْ يَمْسُجْ جَهَنَّمَ وَالْفَاحِشِيُّ صَلَّى قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَأَيْتَ

دیکھو حدیث نمبر ۱۰۵ بَابُ مَنْ لَمْ يَمْسُجْ جَهَنَّمَ اور ابی بکر نے کہا میں نے اپنے پیشانی اور ناک کو نماز سے فارغ ہونے تک پونچھا ابو عبد اللہ کہتا ہے کہ میں نے

الرَّحِمِيِّ يَجْزِي هَذِهِ الْحَدِيثَ أَنَّ لَا يَمْسُجُ الْجَهَنَّمَ فِي الصَّلَاةِ (۲۹۱) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (مَنْكُرًا ۲۳۲)

کے معنی ہی لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور دجال پر بھی بولا جاتا ہے۔ اور یہ لفظ سیاحت سے لیا گیا ہے حضرت عیسیٰ نے بھی سیاحت کی اور دنیا میں جن کی شہادت اور تبلیغ کے لئے پھرتے اور دجال بھی سیاحت کرتا ہے۔ مگر حق کے دبانے اور باطل کے پھیلانے کے وسط اور لفظ دونوں طرح سے مسیح بھی اور مسیح بر وزن صدیق بھی لفظ کے ہیں۔ مسیح ہر مذموم شئی فی غایہ وضع لفظ ہے۔ یہ لفظ ایک چیز کا اس جگہ سے جو اس کے لئے خاص ہو جیسا کہ دوسری جگہ لکھا ہے۔ پھر اس لفظ کا استعمال بہت وسیع ہے۔ اس سے اسے حضور جو انسان کی ترقی میں روک ہو جاتا ہے۔ ظلم کلاسا سکتا ہے۔ پس اگر انسان کا ظلم ایک ہے اور ذنوب کے غم سے بھی دونوں طرح مراد ہو سکتی ہے۔ یعنی صدور ذنوب سے حفاظت یا یہ کہ گناہ سرزد ہی نہ ہو اور جو گناہ ہو جائے اس کی سزا سے حفاظت یا اس کا بخشا جانا۔ کمر روایت میں ایک تو السلام علی جبریل میکائیل کی جگہ سے والسلام علی اللہ من عبادة اور اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں یہ لفظ بیان زیادہ ہیں لافقوا السلام علی اللہ اور دوسرا اس کے آخر میں ہے شمس لیستخبر من اللہ عا عجبہ الیہ دید جو یعنی دعا ہے جو اسے پسند ہو اختیار کرے۔ شمس لیستخبر کے لفظ سے ام بخاری نے دو نتیجے نکالے ہیں ایک کہ جو اس نے پسند اور خواہش کے مطابق جو دعا چاہے کرے کسی خاص رنگ کا رسم کے طور پر ہے۔ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ دعا کا اسکی پسند پر منحصر ہے۔ اور واجب نہیں ہے لیس بواجب کا مطلب اس بقدر معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خاص ما واجب نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ نہ کچھ دعا کرنا ثابت ہے۔ البتہ یہ اس حدیث سے بتایا کہ مسلمانوں کا جو وہ طرز عمل کھرف چند ماثورہ دعاؤں کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے مطابق ہیں جو نماز کا اس نماز کے ذریعہ سے بندہ قرابتی کو حاصل کرے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کے دل سے بعض دعائیں اور بعض حمد و ثناء کے کلمات جوش مبارک تخلیق اور اسکی کیفیت ہر شخص میں ایک کلمات بیشک اپنی زبان میں ہوں۔ اور دعائیں بھی اپنی زبان میں ہوں۔ کوئی ہرج نہیں بلکہ ضروری ہے کہ اپنی زبان میں ہوں تاکہ دل میں ہوا چوش پیدا ہو۔ اگر اس زمانہ طریق کو قائم رکھا جائے تو آج جو بعض جگہ اس سلسلہ میں فرط کارنگ پیدا ہوا ہے کہ بعض لوگ اپنی زبان عربی کو باکل نہکرنیکے دینے ہیں اسکی ضرورت پیش آئے۔ کمر حدیث نمبر ۳۳۰ کا آخری حصہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر تک میں لکھا گیا ہے۔ آپ کی پیشانی پر کچھ لکھا کرتا تھا۔ گویا اپنے نماز میں پونچھا نہیں۔ مگر ہر ایک کو اسقدر متفرق نماز میں یہ لکھا ہوا شکل ہر ذیل پڑھ دے ہے کہ حتی الوسع اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ ہو۔ اور چھوٹی چھوٹی جسمانی تکالیف کے دور کرنے کا خیال نہ ہو۔

باب التسليم (۵۰۴) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ
 الْبَابُ سَلَامٌ بِحَيْرَاتِهِ
 ۱۱۱ سلمتے روايت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے
 النِّسَاءُ مَجِيئِينَ يَفْعَلُ تَسْلِيمَهُ وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ فَإِنَّ اللَّهَ
 تُوحي وقت سلام ختم ہو چکا عورتوں میں اٹھے جائیں اور آپ اٹھنے سے پہلے تھوڑی دیر ٹھہرتے رہتے ابن شہاب نے کہا میں خیال کرتا ہوں
 أَعْلَمُ أَنَّ مَكَثَ الْبَابِ لَكِنِّي تَفَعَّلْتُ النَّسَاءَ قَبْلَ أَنْ يَدْرِكَهُنَّ مِنْ أَنْصَرَفَ مِنَ الْقَوْمِ يَا سَلَمَةُ
 واللہ اعلم کہ آپ کا ٹھہرنا اس واسطے تھا کہ عورتوں میں جائیں اس سے پہلے کہ انہیں وہ لوگ پائیں جو نماز سے فارغ ہو کر نکلیں عمل باب سلام پھیرنے کے
عَنْ عِثْبَانَ بْنِ مَرْثَدَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ كَيْسَرِيًّا إِذَا سَلَّمَ الْأَمَامُ تَسْلِيمًا مِنْ خَلْفِهِ (۲۹۲)
 ۲۹۲ جب وقت امام سلام پھیرے اور ابن عمر کے پیچھے تھے کہ جب امام سلام پھیرتے تو اس کے پیچھے کے لوگ بھی سلام پھیریں
عَنْ عِثْبَانَ بْنِ مَرْثَدَةَ (مُتَكَرِّرًا ۲۹۸) بَابٌ مِنْ لَمْ يَزِدْ السَّلَامَ عَلَى الْأَمَامِ وَكَانَ يُكْفَى
 ۲۹۸ دیکھو حدیث نمبر ۲۹۸ باب جملہ امام کے سلام کا جو پانے اور نماز کے سلام کو کافی سمجھے
بِتَسْلِيمِ الصَّلَاةِ (۲۹۳) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ (مُتَكَرِّرًا ۲۹۹) بَابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ (۵۰۵) عَنْ ابْنِ
 ۲۹۹ دیکھو حدیث نمبر ۲۹۹ باب نماز کے بعد ذکر
 عِبَّاسٍ أَنَّ رَفَعَ الصَّوْفَ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصُرُ النَّاسَ مِنَ التَّكْوِينِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 ابن عباس نے نماز سے روایت ہے ذکر کے ساتھ آواز بلند کرنا جس وقت لوگ فرض سے فارغ ہو جاتے نبی صلعم کے زمانہ میں تھا
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتَهُ (۲۹۴) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
 اور ابن عباس نے کہا ہمیں اس سے جان لیا جب وہ فارغ ہو جاتے جب میں اسے سنتا تھا
مُتَكَرِّرًا (۵۰۵) (۵۰۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا ذَهَبَ
 ابو ہریرہ سے روایت ہے غریب لوگ نبی صلعم کے پاس حاضر ہوتے اور عرض کیا
أَهْلُ الدُّنْيَا مِنْ أَمْوَالِ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمَقِيمِ يَصْلُونَ كَمَا صَلُّوا وَيَصُومُونَ
 دو دنیا والوں نے بلند مرتبے اور ہمیشہ کی خوشی حاصل کی
كَمَا تَصُومُ وَلَمْ يَفْضَلْ مِنْ مَوَالٍ يَجُونَ بِهَا وَيَعْتَمِدُونَ وَيَجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ
 روزے رکھتے ہیں وہ رکھتے ہیں اور ان کے لئے مالوں کی فضیلت پر ان سے حج اور عمرہ اور جہاد اور صدقہ کرتے ہیں
فَقَالَ لَأَحَدِكُمْ إِذَا أَخَذْتُمْ مِنْ أَدْرِكْتُمْ مِنْ سَبَقِكُمْ وَلَمْ يَدْرِكْكُمْ أَحَدًا بَعْدَكُمْ
 تو فرمایا کہ تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں اگر تم اس پر عمل کرو
وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ نَمَّ بَيْنَ ظَهْرَيْهِمْ إِلَّا مِنْ عَمَلٍ مِثْلِهِمْ سَبْحًا وَتَسْبُحُونَ وَتَكْبِرُونَ
 سوائے ان کے جو ایسا ہی عمل کریں پھر نماز کے بعد تین تیس بار سبحان اللہ
خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَاخْتَلَفْنَا بَيْنَنَا فَقَالَ بَعْضُنَا لَسَبَّحَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَسَبَّحَ
 اور تم ان میں بہترین ہو گے جن کے فائدہ میں تم ہو
ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَكْبَرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ
 تم ہمارے درمیان اختلاف ہوا بعض نے ہم سے کہا تین تیس بار سبحان اللہ
كَبِيرًا
 اور تین تیس بار سبحان اللہ کہیں گے اور جو تین تیس بار اللہ اکبر کہیں گے اس کے پاس لوٹ کر گیا تو کہا سبحان اللہ

۱۱۱ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پردہ کے احکام کے بعد بھی عورتیں مسجدوں میں نماز کیلئے آئیں اور مردوں کے پیچھے کھڑی ہوتی تھیں عمل حدیث نمبر ۲۹۲ یعنی حدیث ابن عباس نے عثبان بن مرثدہ کے رسول اللہ صلعم کو اپنے گھر میں بلانے کا اور آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا ذکر ہے یہاں صرف اس قدر لفظ مکرر تھا کہ طور پر آئے ہیں۔
 ۲۹۲ فال صلینا مع رسول اللہ صلعم فرسٹھنا حسین سلمہ اور یہ آج لفظ اصل روایت میں نہیں ہے۔
 ۲۹۲ مالکیہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہونے کے علاوہ ان کے درمیان تیسرے سلام امام پر کر کے امام بخاری نے اس باب سے اس کی تردید کی طرف اشارہ کیا ہے عمل حدیث کے شروع کے الفاظ ہیں اخبرنی محمود بن الربیع و زعمانہ عقل رسول اللہ صلعم و عقل حجۃ مبینا من دلوکانت فی دارہم قال سمعت عثبان بن مالک الاصل ثم احسنہ بن مالک۔ حدیث کا یہ مکررہ قال سمعت من کتاب العلم بامتی بعد تمام الصغیر ہیں گذر چکا ہائی حدیث نمبر ۲۹۲ کا طرح ہو فرقی ہند

ہے کہ یہاں اس قسم کی حکایت مذکور ہے جس اور نمبر ۲۹۸ میں محمود بن ابی ہریرہ نے لفظ ہیں و سلمنا حسین سلمہ۔ ۲۹۸ کا وہ عقیدہ جو حبسنہ علیٰ غیریقہ سے شروع ہوتا ہے یہاں نہیں ہے۔ عمل اس سے بہت ہی نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا ثابت ہوتا ہے۔ اس ذکر کی بجائے جو حدیث ثابت ہے۔ لوگ امام کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر منہ پر مجھ لیتے ہیں۔ اور خود وہاں ذکر نہیں کرتے۔ عمل اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کنت اعرفنا فضلاء صلعم الذی صلعم بالنگاہ بڑا ہمیں ذکر کو اٹھانے کے تھیں کہ یہی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر وقت میں عباس چھوٹے تھے اور جماعت میں قاعدہ شریک نہیں ہوا کرتے تھے۔ عمل اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی جماعت اور سرگتے نیک کاموں کی طرف بڑھتے تھے اور انک ایسا حقون فی الخیرات و ہم لہما حقون جن برتر ہے کہ جب جہاں تھے میں تو سب طرح اور اعمال سے صدقہ طرز پڑھنے میں سبقت کریں۔

وَأَسْمَدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ حَتَّىٰ يَكُونَ مِنْهُمْ كَلِمَةٌ ثَلَاثَةٌ وَتَلَاؤُنَ (۵۰۸) عَنْ وَرَادٍ

اور انھیں اللہ اور اللہ اکبر کو یہاں تک کہ ہر ایک ان میں سے تین تین بار پڑھائے۔

کَاتِبِ الْغَيْبَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْغَيْبَةِ بْنِ شُعْبَةَ فِي كِتَابِ لِي مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ

مغیرہ بن شعبہ نے روایت کی کہ میں نے ایک خط میں معاویہ کی طرف مجھے یہ لکھا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

صَلَّىٰ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ فِي دُرُوكِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

ہر ایک فرض نماز کے بعد کہتے عبادت کا سنتی اللہ کے سوا کوئی نہیں وہ لیکھے اس کا کوئی شریک نہیں

الْمَلِكُ وَاللَّهُ وَالْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَا نِعْمًا أَعْطَيْتَ وَلَا مَعْطَا مَانَعْتَ

حکومت اسی کی جو اور سب تو انہیں اسی کیلئے ہی ارادہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے لے اللہ جو تو نے اس کا روکنے والا کوئی نہیں اور جو تو روک دے

وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ بَابٌ يَسْتَقْبِلُ الْأَمَامُ النَّاسِ ذَا اسْمٍ (۵۰۸) عَنْ

اس کا لینے والا کوئی نہیں اور والد کو اس کا مال جتنے چھوڑ کر کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ بَابُ جِبَالِ بِلَادِ سَلَامٍ عَجِيزٌ تُوَدُّونَ كَمَا تُوَدُّونَ مَنْزِلَ كَرِيحٍ

سَمْرَةَ بِنْتُ جَنْدَبٍ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَوَّلَ صَلَاةٍ يَوْمٍ

سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ لیتے تو چاروں طرف منکر لیتے

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الرَّحْمَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

زید بن خالد رحمانی سے روایت ہے کہ حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھائی

صَلَاةَ الصُّبْحِ بِأَحَدِ بَيْتَيْهِ عَلَىٰ أَرْضِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ

صبح کے بعد جو رات کو پرس چکا تھا تو جب فارغ ہوئے

أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ قَالُوا اللَّهُ

لوگوں کی طرف منگیا اور فرمایا کیا جانتے ہو تمہارے رب غالب برتر نے کیا کہا انہوں نے کہا اللہ

وَرَسُولُهُ أَعْلَىٰ قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنِينَ وَكَافِرِينَ فَاكْفَرُوا قَالُوا

اور اس کا رسول بجز جاننا ہی (فرمایا) وہ فرمایا میرے بندوں میں سے کسی نے مؤمن ہو کر صبح کی کسی نے کافر ہو کر جس نے کہا

مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فذلِكَ مُؤْمِنِينَ وَكَافِرِينَ بِاللَّكُوكِبِ وَأَقَامَنَ قَالَ

خدا کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش ہوئی تو وہ محمد پر ایمان رکھتا ہے اور ستارے کا انکار کرتا ہے اور جس نے کہا

مُطِرْنَا بِبَنُو عَدْنًا وَكَذَافًا ذلِكَ كَافِرِينَ وَمُؤْمِنِينَ بِاللَّكُوكِبِ (م ۲۹۵)

ہم پر ایسے ایسے (ستارے) کے طلوع سے بارش ہوئی تو وہ میرا انکار اور ستارے پر ایمان رکھنے والا ہے

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متكرر ۳۸۰) بَابُ مَكْتُوبَةِ الْأَمَامِ فِي صَلَاةٍ

دیکھو حدیث نمبر ۳۸۰ بَابُ امام کا سلام کے بعد اپنی نماز گاہ میں ٹھہرنا

بَعْدَ السَّلَامِ (۵۱۰) عَنْ ذَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي مَكَانِهِ الَّذِي

ناقص سے روایت ہے کہ ابن عمر اپنی اس جگہ پر جس میں فرض پڑھتے نماز پڑھ لیا کرتے تھے

مجلس اس کا قائل ہے جیسا کہ مسلم میں ہے صحیحی راوی حدیث ہے سارو وہ اپنے ہنسا ابو صالح ابو ہریرہ کے شاگرد کے پاس پڑھنے گئے کہ اللہ اکبر انتہیں مرتب ہے یا چوتھیں مرتبہ ابو صالح نے کہا انتہیں مرتب بعض روایات میں چوتھیں سوا لالہ اللہ وحده لا شریک لہ الخ ہے اور بعض روایات میں کہ اللہ اکبر چوتھیں مرتبہ ہے۔ بخاری لکھتا ہے الدعوات میں بروایت صحیح سبحان اللہ اور انھیں اللہ اور اللہ اکبر دوسری مرتبہ سے اس حدیث میں خلفاء کا صلوة لفظ ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بعد الصلوۃ ہے سبحان اللہ میں اسد قتالی کا اس کے عجیب اور ناقص ہے برأت کرتا ہے اور الحمد للہ اللہ میں سوائے کے اللہ واطاعت کا اللہ تک میں مانا ہے اور اللہ اکبر میں اسکی عظمت اور بزرگی کا اظہار ہے اور اس کا لفظ

بھی ہو گا ایسی بلند سستی کے سامنے ہی چمکنا چاہیے۔ مسئلہ حدیث واداکو بھی کہتے ہیں اور حنا کو بھی کہتے ہیں اور منکان میں من بنیفہ بدل کے چلا نیفیع ذالجن منکان اللہ کا معنی ہے کہ کسی مال اور غنا یا کسی کا واد یعنی نسب خدا کے بدلے یعنی خدا کو چھوڑ کر اسے کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ مسئلہ فوع طوع کو کہتے ہیں۔ عرب کے لوگ بارش کو ستاروں کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ اور یہ فی تحقیق کمات کا اثر تھا کہ ظلمت کے طلوع سے یا ظلم کے ظلم منزل میں جانے سے بارش ہوتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کمات کی تمام باتوں کو لکھ کر عیسے نابود کیا۔ اور اگر کسی شخص کا طریقہ صرف یہ بیان کرنا ہو کہ ظلمت میں ہم پر بارش ہوئی۔ اور وہ وقت متاخر سے طلوع یا غامض منزل کا ہو تو اس میں ہرج نہیں مطلب صرف ہم پر ہی کو دہرنا تھا چنانچہ نہایت میں ہے واما غلط الدعوی صلعم فی لولا ان العرب کانت تنسب المطر الیہا فاما من جعل المطر من فعل اللہ لثقا واد بقوله مطرنا بنورکنا ای فی وقت کنا وھو ھذا النوع اللہ فان ذلک جازا لئلا ان اللہ قد جری العادۃ ان یاتی المطر فی ھذا الاوقات۔ مسئلہ خیفنا خیفنا یعنی سے نمبر ۳۸۰ مکرر آئی ہے مگر یہاں زائد ہے فلما صلی قبل علینا یوجہ اللہ اس کے عنوان بآب ہے۔ نمبر ۳۸۰ کا آخری حصہ زاد ابن علی سے یہاں نہیں ہے

صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ وَفَعَلَهُ الْقَاسِمُ وَيَدْرَعُنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهَا يَتَطَوَّعُ إِلَّا مَا مَرَّ

اور ایسا ہی قائم ہے کیا اور ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اپنے کو بجز نماز کے نہیں پڑھا

فِي مَكَانِهِ وَلَوْ يَصْرُحُ (۲۹۶) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (مُتَكَرِّرًا ۵۰۴) بَابُ مَنْ صَلَّى بِاللَّتَائِرِ

اور یہ صحیح نہیں ہے دیکھو حدیث نمبر ۵۰۴ ع۔ باب جس نے لوگوں کو نماز پڑھانی

فَذَكَرَ حَاجَتَهُ فَفَتَحَ لَهُمُ (۵۱۱) عَنْ عَقْبَةَ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

پھر کوئی اپنی ضرورت یاد آئی تو انہیں بھانڈتا ہوا چلا گیا عقبہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ میں عصر کی نماز پڑھی تو

بِالْمِنْبَةِ الْعَصْرِ فَمَسَّ فَمَسَّرًا فَفَتَحَ رِقَابَ النَّاسِ لِي بَعْضُ حُرِّسَاءَ فَقَرَأَ

آپ نے منبہ پر عصر کی پھیرا اور جلدی سے کھڑے ہوئے اور لوگوں کی گردنوں پر سے بھانڈتے ہوئے آپ ہی پوری کے حجرے میں گئے

النَّاسِ مِنْ سُرْعَتِهِ فَحَزَبُوا إِلَيْهِمْ فَرَأَى أَنَّهُمْ قَدْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ قَالَ ذَكَرْتُ شَيْئًا

لوگ آپ کی جلدی سے گھبرائے پھر آپ ان کے پاس باہر نکل آئے تو دیکھا کہ انہوں نے آپ کی جلدی سے تعجب کیا دیکھا کہ کچھ سونا یاد آ گیا

مَنْ تَبِعَ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُمْ أَنْ يَحْسَبُنِي فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ بَابُ الْإِنْفِتَالِ الْإِنْصِرَافِ عَنْ

جو ہمارے ہاں تھا پس میں نے تاپس نہ کیا کہ وہ مجھے روکے تو میں نے اسے بانٹنے کا حکم دیا ع۔ باب نماز پڑھ کر دہانوں یا بائیں طرف پھر جانا

الْيَمِينِ وَالشَّهَادِ وَكَانَ أَسْبُؤًا لِي تَبْقِيْلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِسَارِهِ وَيَعِيبُ عَلَى مَنْ

اور اس میں مالک اپنی دائیں اور بائیں طرف پھر جاتے تھے

يَتَوَخَّى أَوْ مِنْ نَعْمَدِ الْإِنْفِتَالِ عَنْ يَمِينِهِ (۵۱۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ لَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ الشَّيْطَانَ

اوسے جو قصد یا ارادہ اپنی دائیں طرف ہی پھیرے اچھا نہ سمجھتے عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے تم میں سے کوئی شخص

شَيْئًا مِنْ صَلَواتِي يَزِي أَوْ يَحْقُقُ عَلَيَّ لَنْ لَا يَصْرُحُ الْإِسْمُ عَنْ يَمِينِهِ لَقَدْ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اپنی نماز میں سے شیطان کے لئے کچھ حصہ نہ چھوڑے یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر لازم ہے کہ صرف اپنے دائیں سے ہی لوٹے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا اوقات

يَنْصُرُ عَنْ شِسَارِهِ بَابُ كَابَاءٍ فِي التَّوْمِ الْيَوْمِ وَالْبَصْلِ الْكِرَاثِ وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اپنے بائیں سے لوٹ جاتے ع۔ باب جو کبھی بسن اور بیاز اور گندنا کے بارہ میں آیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول

مَنْ أَكَلَ التَّوْمَ وَالْبَصْلَ مِنْ جَوْعَةٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا يَفِرُّنَّ سَبِيحًا (۲۹۷) عَنْ عَطَاءٍ (مُتَكَرِّرًا ۵۱۳)

جس نے بسن یا بیاز چھو کر یا اور جو سے کھایا تو چھاری سجدے کے پاس نہ آئے ع۔ دیکھو حدیث نمبر ۵۱۳ ع۔

ع۔ امام بخاری نے ابو ہریرہ کی اس حدیث کو جو اوپر آؤد میں ہے غیر صحیح قرار دیا ہے اصل بات صرف اس قدر معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد بائیں طرف سے لوٹنے میں منع فرمایا ہے۔ اس طرح گھروں میں بھی ذکر الہی ہوتا ہے شاید اس لحاظ سے کبھی آپ نے فرمایا ہو کہ امام اپنی جگہ پر نفل نہ پڑھے تو مراد اس سے بھی ممانعت نہیں ہو سکتی یہاں سے ایسا ثابت ہے۔ اور یہی امام بخاری کی اصل غرض ہے۔ اور بعض نے صرف اس وقت ضروری سمجھا ہے کہ اپنی جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ وادف پڑھے۔ اصل یہ ہے کہ چنانچہ پڑھے

ع۔

ع۔

ع۔

ع۔

نماز ہو جاتی ہے۔ ع۔ مکرر روایت میں مساکر لفظ حضرت سلمہ کی طرف منسوب ہے۔ میں کان ایسا کہ فذینہ عرف النساء فذین جن جن بیوتہن من قبل ان یصرفہ رسول اللہ صلواتہ علیہم اجمعین کے بعد حضور اٹھنے والے سے دونوں غرضیں پوری ہوتی تھیں۔ یعنی ذکر الہی کا موقع بھی مل جاتا تھا۔ اور خواہ میں پہلے نکل جاتی تھیں۔ ع۔ جب کبھی باہر سے مال آتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے وڑا لوگوں میں تقسیم کر دیتے۔ اور آپ کو فکر ہونا تھا کہ وہ سختیں پر تقسیم ہو۔ یہی وجہ آپ کے نماز سے فارغ ہوتے ہی جلدی بیلا جانے کی تھی۔ دنیا کے مال سے اس قدر خناسی قلب کا حاصل ہو سکتا ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کاں ہو۔ کاش کوئی غور کرے تو اولاد ہو تو اس پر ایک لمحہ کے لئے بھی یہ مشتبہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو مال دنیا اور خواہشات نفسانی سے ذرا بھر تعلق نہ تھا۔ یاوشاہ ہو سکتا ہے جنت میں اگر آپ کچھ سونا پاس رکھتے بھی تو ہرج نہ تھا۔ مگر یاوشاہ ہو کر بے زر ہونے کا مزہ دنیا میں اور کسی انسان لئے نہیں دکھایا۔ یاوشاہ ہوتے ہو پھر فقیر ہو جانا آسان ہے۔ مگر ایک وقت میں یاوشاہ اور فقیر ہونا مشکل ہے۔ ع۔ ان چھوٹے چھوٹے امور میں تنگی برتنا اور اسی شیطان کا حصہ ہے۔ آج مسلمانوں کے تمام چھوٹے چھوٹے امور میں اس قسم کے کہ گئے ہیں اور میں کی اصل غرض کو چھوڑ کر اپنے سے اپنے امور پر لڑتے چھوٹے ایک دو سے کہ اگر وہ بدعتی کا فرقہ دیتے ہیں۔ اور اپنی ساری طاقت کو ان ہی جھگڑوں پر ختم کر دیا ہے۔ اس لئے فقیر کا مقابلہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ ع۔ بسن بیاز اور اسی قسم کی اور ہر دو چیزیں کھائیں تو منہ میں بدبو ہو جاتی ہے جس سے عام لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ مسجد کی کوئی خصوصیت نہیں مگر چونکہ مسجد میں عموماً اجتماع ہوتا ہے۔ اس لئے ایسے لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکا۔ ورنہ ہر ایک اجتماع کی جگہ ایسے شخصوں کا آنا ٹھیک نہیں۔ تاؤ فتنیکہ بدبو کا اثر نہ اٹل نہ ہو جائے۔ جیسے حدیث نمبر ۵۱۳ کے اس فقرے سے ظاہر ہے۔ وَ لَيَقْتُلَنَّ فِي بَيْتِهِ عَيْنِي أَيَا شَخْصٍ يَخْتَلِعُ فِي مَكْرَمٍ مِثْلِهِمْ رَحِمَهُمْ رَبِّي رَحِيمًا رَحِيمًا۔ ایک طرف اگر صفائی کا خیال ہے۔ تو دوسری طرف اس خیال سے کہ جس حد تک ترقی کی ہو کہ انسان کی نفس میں دوسرے کا باندہ بننے۔ جس شخص کو یہاں تک دوسروں کو باندہ بننے کا خیال ہے۔ انسانی ہمدردی کا خیال اس قدر گہرا رکھے کہ اس میں گرا پڑا ہے۔ ع۔ حدیث فضیل سے آگے نمبر ۵۱۳ پر آئی ہے یہاں صرف اس قدر لفظ ہیں۔ من اکل من هذه الشجره يوبى اللوم فلا يخشانا في مسجدنا مگر نمبر ۵۱۳ سے یہاں سے زائد ہے۔ قلت ما يعنى به قاله الماراه بعض الانبياء (وفى رواية) نشتك، یعنی میں نے جارے سے پوچھا اس سے کیا مراد ہے۔ کہاں یہی سمجھتا ہوں کہ اس سے صرف کبھی بسن مراد ہے۔ اور ایک روایت میں ہے اس کی بدبو مراد ہے۔

اسے اس کر رہا تھا... میں نے نہ لیا... خیر کہ واقعہ جو ان... النبی صلعم قال فی... غزوہ خیبر میں اکل... من ہذا الخیر یعنی... الثور فلا یقربون... کلمے آپ کا مطلب... یہ تھا کہ ان چیزوں کو... حرام نہ سمجھا جائے۔
جس قدر کسی شخص کا... تعلق دوسرے عالم سے... جو بہت لطیف ہے زیادہ... ہو گا۔ اسی قدر زیادہ... وہ کثیف چیزوں سے... پرہیز کر لیا۔ یہی مطلب... ہے اناجی من کا... تناجی کا۔ آپ ویسے... بھی غذا کھا تھے... اور سادہ کھاتے تھے۔
ان چیزوں میں کوئی خاص... سبزی ایسی معلوم... ہوتی ہے جسے آپ نے... نہیں سمجھا۔ اسے... یہ مکرر روایت یوں ہے... سال رحیل انہی... بن مالک ما سمعت... النبی صلعم فی الثور... فقال قال النبی صلعم... من اکل من ہذا

(۲۹۹) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (متکرر ۵۱۳) (۵۱۳) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ تَوْمًا وَبَصَلًا فَلْيَعْتَرِلْنَا أَوْ لْيَعْتَرِلْنَا مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعَدْ فِي بَيْتِنَا

جبر نے سن کمانی یا پیاز وہ ہم سے یا ہماری مسجد سے الگ رہے اور اپنے گھر میں بیٹھا رہے

وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِقَدْرِ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بَقُولِ وَجَدَ لَهَا رِيحًا فَسَأَلَ فَخَابِرٌ

اور کہ نبی صلعم کے پاس ہانڈی لائی تھی اس میں سبز ترکاریاں تھیں تو آپ کو اس سے کچھ معلوم ہوئی پوچھا تو اسے فرمایا

بِمَا فِيهَا مِنْ لَبَقُولٍ فَقَالَ قَرَّبُوها إِلَى بَعْضِ صَحَابِيہِ كَانَ مَعَهُ قَلْبًا رَاهُ كَرَهُ أَكْلَهَا فَاسْتَفْكَرَ

کہ اس میں بڑی ترکاریاں ہیں زیادہ سے زیادہ آپ کے کسی ساتھی کو جو آپ کے ساتھ تھا سب آپ سے اسے دیکھا کہ وہ اکل کھانا ناپسند کرتا

كُلُّ فَإِنِّي أَنَا جِيٌّ مَنْ كَلَّمَنِي أَوْ نِي رَوَايَةٌ ابْنِ بَدْرِ لِعَنِي طَبَقَافِي خَضِرَاتٍ (م ۲۹۹)

زیادہ کھا لے میں اس سے ہمزاد ہوتا ہوں اس سے تو ہمزاد نہیں ہوتا۔ اور ایک روایت میں ہے مدنی طشت آپ کے پاس لیا گیا میں نے سبزیوں میں سے

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ (متکرر ۵۱۳) بَابُ وَضْعِ الصَّبْيَانِ وَمَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمُ

غسل و الطهور و حضورہم الجماعه و العبدین و الجنائز و صوفوفہم (۵۱۴)

عسل اور پاک رہنا کہ واجب ہوتا ہے اور ان کا جماعت اور عہدوں میں اور جنازوں میں حاضر ہونا اور ان کی صفیں

عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَدَمَيْهِ فَمَرَّ

شعبی سے روایت ہے مجھے اس نے خبر دی جو نبی صلعم کے ساتھ ایک لنگ تھلا کر قبر کے کنارہ پہنچا آپ نے انکی

وَصَفَّقُوا عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَمْرٍ وَمَنْ حَدَّثَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (۵۱۵)

امانت کی اور انہوں نے اس پر صدمہ ہانڈی میں نہ کھائے ابو عمر کے لئے مجھے سے بیان کیا کہ ابن عباس نے مجھ سے

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْغُسْلُ

ابو سعید خدری سے روایت ہے نبی صلعم نے فرمایا نبی صلعم نے فرمایا

يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ (م ۳۰۰) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

ہر بالغ پر واجب ہے

الثخيرة فلا يقربنا ولا يصليان محتالين اليانض نهاره تربيبك لانه ما لسانه ناز برحمة جس سے معلوم ہوا کہ مسجد کی خصوصیت نہیں عرض یہی ہے کہ اپنے منہ کی بوسے
رد سے لوگوں کو ایذا نہ دے۔ جو لوگ اپنے ہونوں کو سوسا سے صاف نہیں کرتے وہ نہ صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بلکہ اپنے منہ کی بدبو سے دوسروں کو بھی تکلیف دیتے ہیں۔ مگر امام
بخاری اس باب میں آت حدیثیں لائے ہیں۔ جن میں وضو اور غسل کے واجب ہونے کے وقت کا ذکر سوائے ابو سعید خدری کی حدیث کے نہیں ہے۔ جس میں غسل جمعہ کو بتدبیر فرمایا گیا ہے۔ اور اس کا مفہوم
یہ ہے کہ نابالغ غسل وضو واجب نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رض القلوب عن الصبی حتی یختلم یعنی بچہ جو بلوغ تک نہ نکلتا ہے۔ یعنی اس پر کچھ بھی واجب نہیں۔ البواہو اور ترمذی
اور ابن خزیمہ نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا کہ ہر بچہ جو بلوغ تک نہ نکلتا ہے۔ یعنی اس پر کچھ بھی واجب نہیں۔ البواہو اور ترمذی
نماز پڑھا کر وہ اس حدیث کا پہلا حصہ تو پڑھا اور دوسرے معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ چھوٹی عمر میں نہ صرف نماز کی عادت نہ ہو جائیگی۔ بلکہ جو گفتار چھوٹی عمر میں سمجھتا ہے۔ وہ عمر بھر زائل نہیں ہوتا۔ مگر دوسرے حصہ
نبی کریم صلعم کی علم عادت کے مطابق معلوم نہیں ہوتا۔ اور ماہر کا کام کرنا جو کہہ کر ان کا جبر واکراہ کی صورت ہے اور اللہ تعالیٰ فرمانا ہو کہ لا کر اہ کی لفظ میں جو لوگ بچے نماز میں نہیں لیتے تھے جیسے مانتی۔ اپنے
ان کو بھی نہیں لانا صحیح ہے۔ بلکہ ایک ایک بچہ کو مار کر اسی طبیعت کے ہمیشہ کیلئے نماز سے مستغفر کر دیا جائے۔ البتہ اپنے نمونے سے اور غلط و فصیح سے بد وقت ضرورت قدرے تشبیہ سے بھی بچوں کو دیکھو
کو نماز کی عادت ڈالنی چاہیے۔ آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ بچے جماعت سے اپنے خلاف نشا زرا سا قصور ہوجائے تو اس کا سزا دینے کے کو تیار ہوتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کے حکام کی خلاف ورزی
صریح کوئی نوازشا بھی نہیں کرتے کہ بڑا کام ہے تم اپنی اصلاح کرو کہ مجھ سے اس باب میں ابن عباس سے چار حدیثوں کی روایت ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ وہ جنازہ میں شریک ہوئے۔ یا
کی تیسری حدیث میں ہے کہ وہ نبی کریم صلعم کے ساتھ رات کی نماز میں شریک ہوئے۔ یا چوتھی میں ہے کہ وہ موسم حج میں فرض نماز میں شریک ہوئے۔ اور صف میں کھڑے ہوئے۔ یا ساتویں میں
کہ وہ عید کی نماز میں شریک ہوئے۔ یا چوتھیں اور ساتویں میں صراحت ہے کہ وہ ابھی بلوغ تک نہیں پہنچے تھے +

کتاب الصلوة

<p>(متکرر ۱۱۹) (۳۰۳) عَنْ اَبِي بَنْ مَالِكٍ (متکرر ۲۷۵) (۳۰۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ</p>
<p>نمبر ۱۱۹ محلہ دیکھو حدیث نمبر ۲۷۵ محلہ دیکھو حدیث</p>
<p>ابن عباس (متکرر ۶۹) (۳۰۳) عَنْ عَائِشَةَ (متکرر ۳۷۷) (۵۱۶) عَنْ عَبْدِ</p>
<p>نمبر ۶۹ محلہ دیکھو حدیث نمبر ۳۷۷ محلہ دیکھو حدیث</p>
<p>الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَقَالَ لَكَ رَجُلٌ شَهِدْتَ تَخْرُوجُ مَعَ النَّبِيِّ</p>
<p>عبدالرحمن بن عباس سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس سے سنا اور ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نبی صلعم کے ساتھ (عید کو نکلنے وقت</p>
<p>صَلَّى عَلَيْهِ قَالَ لَعَمْرُؤُا لَوْ لَا مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتَهُ يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ أَيْ الْعِلْمَ الَّذِي</p>
<p>حاضر تھے کہاں اور اگر میرا مقام قرابت آپ سے نہ ہوتا تو میں حاضر نہ ہو سکتا یعنی ان کے بچپن کی وجہ سے آپ اس شان کے پاس کے</p>
<p>عِنْدَ دَارِ كَثِيرِينَ الصَّلَاتِ ثُمَّ حُطِبْتَ أَنْى النِّسَاءِ فَوَعظهنَّ وَذَكَرهنَّ وَأَمْرهنَّ</p>
<p>جو کثیرین صلت کے گھر کے پاس ہی پھر خطبہ پڑھا پھر عورتوں کے پاس گئے تو انہیں وعظ اور نصیحت کی اور انہیں صلحہ کہ نیک حکم دیا</p>
<p>أَنْ تَتَّصِدْنَ فَمَنْ جَعَلَتْ الْمَرْأَةُ هُوَ فِي بَيْدِهَا إِلَى حَافِيهَا لَفِي فِي تَوْبٍ بِلَالٍ ثُمَّ آتَى هُوَ</p>
<p>پس عورتیں اپنے ہاتھ اپنی آنکھوں کی طرف بڑانے لگیں بلال کے کپڑے میں ڈالیں پھر آپ</p>

کتاب الصلوة
اسے اس کرر روایت
میں خفیف اختلاف لفظی
سے بعینہ نمبر ۱۱۹ کا
مضمون ہے۔ اور ابن
عباس کے وضو کرنے
اور نماز تہجد میں شریک
ہونے کا ذکر ہے۔
اسے اس کرر روایت
میں الفاظ اور مضمون
نمبر ۲۷۵ کے میں صرف
آخری الفاظ میں خفیف
تغییر لفظی ہے۔ اس روایت
میں اس کے ساتھ ایک
تیمیم (یعنی ناخالص) ایک
صفت میں گھڑا ہوا ہے۔
اور رسول اللہ صلعم
کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔
اس میں نمبر ۶۹
کا مضمون اور الفاظ
ہیں کہ کبھی کبھی
نماز پڑھا ہے تھے۔
اور ابن عباس روایت
بلوغ کے قریب تھے۔
گو بلوغ کو نہ پہنچے تھے
وہ بھی نماز میں شامل
ہوتے۔
نمبر ۳۷۷ کا مضمون
خفیف تغیر کے ساتھ
دوسرا ہے کہ کبھی کبھی
صلعم نے ایک رات

عشائی نماز میں بیٹھ کر حضرت عمر نے آپ کو آواز دی کہ نام النساء والصبیان جس سے معلوم ہوا کہ بچے بھی نماز عشا کی انتظار میں تھے جو در کی وجہ سے سو گئے۔ نمبر ۷۷ کے شروع میں وہ ظاہر
قبل ان پیشکش کلا سلوا اس کا ہے کرر روایت کے آخر میں یہ روایت کی حدیث صحیحہ علی غیر اهل المدينة یعنی اسلام بھی صرف مدینہ تک محدود تھا۔ اسے اس کرر روایت کے الفاظ ص
سے زیادہ ملے ہیں مگر اخیر یہ بدلہ ہے جو نمبر ۷۷ میں بھی نہیں وکانوا يصلون العتمة فيما بين ان يغيب الشفق الى ثلث الليل الاول اور ص ۱۲۱ کے اخیر میں ہے کہ رات کے وقت
اس وقت کا زیادہ ہوتا ہے جسے خوف سے دن کے وقت بھی مسلمان اپنی عورتوں کو مسجدوں میں نہیں جانے دیتے۔ کہاں ہی صلعم کا ارشاد اور کہاں مسلمانوں کی موجودہ حالت۔ اس کا مطلب نہیں ہو سکتا
کہ جب جوہر میں جانا ہوتا ہے ہی اجازت میں صل عرض تو صرف یہ ہے کہ خاندانوں کو منع کیا ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکیں۔ اسے اس کرر روایت کے الفاظ یہ ہیں ان النساء في
عهد رسول الله صلعم کن انفسهن من المكتوبة فمن وثبت رسول الله صلعم ومن صلى من الرجال ما شاء الله فاذنا قال رسول الله صلعم قال الرجال۔ اسے اس کرر روایت میں
خفیف اختلاف لفظی ہے نمبر ۲۷۹ کا مضمون یہ ہے کہ عورتوں کی کیم صلعم کے ساتھ نماز پڑھ کر وہ اپنی عورتوں کو مسجد میں نہ جانے دیتے۔ مگر یہاں یہ تصریح موجود ہے کہ ان کا نہ پوجا جانا اس وجہ سے تھا کہ اہل نبیوں
ہوتا تھا۔ پھر یہاں لفظ میں ما بعد من الغلس یعنی انہوں نے چادر پڑھ لی ہوئی ہوئی تھیں مختلفہا بسو و ظن۔ لیکن ان کا نہ پوجا جانا اس وجہ سے تھا۔ بلکہ تاریکی کی وجہ سے
اس وجہ سے باقی صاف معلوم ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ اگر تاریکی نہ ہوتی تو عورتیں پوجائی جاتیں ان کی چادر میں ان کے پوجا جانے سے منع نہ تھیں۔ اور ایک شخص کو پوجا نہ پانے کے چہرے سے ہاتھ جو ظاہر ہے کہ گھبرا
ہو گا اور دوسرے یہ کہ یہ پڑھنے کے احکام کے بعد کا ذکر ہے۔ اسے اس کرر روایت کے الفاظ اور مضمون نمبر ۳۷۷ کے ہیں۔ باب کی ان پانچ حدیثوں میں بہت کئی شہادت ہے کہ عورتیں مسجد میں جانتے گئے
نبی کریم صلعم کے وقت نماز پڑھ گئی تھیں۔ ابو داؤد اور ابن خزیمہ میں روایت ابن عمر تاجی کہ اپنی عورتوں کو مسجد میں نہ لے کر اور ان کے گھرانے کے واسطے بہترین لیکن اگر صحیح ہوتا تو نبی کریم صلعم خود
عورتوں کو بہت کرنے اور گھر میں نماز پڑھ کر وہ افضل ہو۔ جو کہ جس قدر شیش صحیح نماز میں ہیں ان سب میں یہ ذکر ہے کہ عورتیں جماعت کے ساتھ مسجدوں میں شامل ہوتی تھیں۔ کسی میں ذکر نہیں کہ
آپ نے عورتوں کو فرمایا پھر گھر میں تھا اور نماز پڑھتا ہر روز ہے۔

علم یہ حضرت عائشہ کا صرف قیاس ہی قیاس ہے نہ نبی کریم سے پہلے پہلی عورتوں کے حالات دیکھے۔ نہ انہیں منع کیا۔ اور یہ بھی ثابت نہیں کہ نبی اسرائیل کی عورتوں کو اس وجہ سے مسجد میں رکھ کر دیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کو بری سے بری اخلاقی حالت میں پایا تو آپ نے ان کی اصلاح کی تو حضرت عائشہ کے قیاس کے بالمقابل یہ کہا جاسکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی عورتوں کے حالات دیکھتے تو انہیں بھی منع کرنے نہ فرماتے۔ بلکہ صلح کا کام امت کی اصلاح

مُنِعَتْ نِسَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقُلْتُ لِعُمْرَةَ أَوْ مَنَعَنَ قَالَتْ نَعَمْ بَابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ

بنی اسرائیل کی عورتوں کو گھنٹے تو نہیں پڑھنے سے منع کیا وہ روکی گئی تھیں کہاں باب عورتوں کا

خَلْفَ الرِّجَالِ (م ۳۰۸) عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (متکرر ۵۰۴) (م ۳۰۹) عَنْ اُمِّ اَسْمَاءِ (متکرر ۲۷۵)

مردوں کے پیچھے نماز پڑھنا دیکھو حدیث نمبر ۵۰۴ علم دیکھو حدیث نمبر ۲۷۵ علم

بَابُ سُرْعَةِ اَصْرَافِ النِّسَاءِ مِنَ الصُّبْحِ وَقَلَّةِ مَقَامِهِنَّ فِي الْمَسْجِدِ (م ۳۱۰) عَنْ عَائِشَةَ (متکرر ۲۷۶) بَابُ اسْتِئْذَانِ الْمَرْءِ زَوْجَهَا بِاِحْرَاجِهِ اِلَى الْمَسْجِدِ (م ۳۱۱)

عورتوں کا صبح کی نماز سے جلدی داپس جانا اور مسجد میں ان کا حضور اٹھنا صبح کی نماز سے جلدی داپس جانا اور مسجد میں ان کا حضور اٹھنا عورتوں کا

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (متکرر ۵۱۷) دیکھو حدیث نمبر ۵۱۷ علم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہ بے انتہا رحم والے بار بار باریک کر کے والے کے نام سے

کتاب الجمعة

کتاب جمعہ

بَابُ فَرَضِ الْجُمُعَةِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا

باب جمعہ کی فرضیت اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے جب جمعے کے دن نماز کے لئے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف چلے آؤ علم

ہوتی ہے نہ یہ کہ ایک نوری کی وجہ سے اور ایک کا موسم رکنا اور چل جیں ڈالنا جب سے عورتیں جماعتی کاموں میں لگتی ہیں اور انہیں تو فی کاموں میں جاہل رکھا گیا ہے مسلمانوں کی حالت رو بہ تیزی ہے۔ یہ سائنسوں کا تمام کرکھو عورتوں کو بچا رکھی اور بیڈین بھی بنا دیا گیا ہے۔ علم اس کرکر وائٹ میں ایک دلفظ کے تغیر سے بعینہ نمبر ۵۰۴ کا مضمون ہر آیا گیا ہے۔ کہ عورتیں نبی کریم کے سلام پھیرنے کے بعد چل جائیں۔ اور آپ صبح مردوں کے پیچھے رہتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کی صفیں مردوں کے پیچھے ہوتی تھیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہ ہو۔ عیب عیبائوں کے گرج میں ہوتا ہے جو موجب فتنہ ہے۔ علم یہاں نمبر ۵۰۴ کا مضمون تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت ام سلمہ فقہت و بتیہ و خلفہ و علم وسلم خلفتہ علم اس کرکر وائٹ کے الفاظ میں لیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی الصلوة یجلس فی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت ام سلمہ فقہت و بتیہ و خلفہ و علم وسلم خلفتہ علم اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں ہر نماز کی ایک دوسری کو بھی نہ پہنچا تھیں۔ علم اس کرکر وائٹ کے الفاظ میں لیا ان استاذت امراة احدہ کہ فلا یمنعہا اس میں مسجد کا ذکر نہیں تو جب دوست کا علم کیلئے عورتوں کو باہر جانے سے روکنا ہر نماز میں مسجد سے روکنا جو جائز ہے۔ علم جمعہ کی فرضیت پر پہلے قرآن کریم کی سورہ جمعہ کی آیت سے استدلال کیا ہے۔ جیسا کہ امام بخاری کی عادت ہے کہ پہلے آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ کہ چونکہ یہ اصل الاصل ہے جو کہ سورہ جمعہ مدنی ہوا اور جمعہ کی فرضیت اسی کی آیت سے ہوئی ہے۔ اس لئے اکثر مفسرین یہی ہے۔ کہ جمعہ مدنیہ میں فرض نماز۔ عبد اللہ بن مسعود نے روایت کی ہے کہ نبی کریم کی ہجرت اور ہجرت کے نزول سے پہلے مدینہ والی جمعہ پڑھا۔ اور انہیں اس میں زرارہ نے جمعہ پڑھایا۔ اسکی تائید احمد ابو داؤد ابن ماجہ اور ابن خزیمرہ روایت سے کی گئی ہے۔ کہ ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ کہ نبی کریم کی تشریف آوری سے پہلے ہمیں اس میں زرارہ نے جمعہ پڑھایا۔ اگر اس روایت کو صحیح مانا جائے تو ماننا پڑے گا۔ کہ مدینہ میں اسلام کی جمعیت ہونے سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جمعہ پڑھنے کا حکم اور ہدایات بھیج دی ہوئی۔ اور انہی کے مطابق اس میں زرارہ نے عمل کیا ہوگا۔ یہ کہنا کہ انہوں نے اپنے اپنے نام سے ایسا کیا بالکل بے معنی بات ہے۔ وہ اپنے اجتہاد سے شریعت نہ بنا سکتے تھے۔ اس کی تائید اس سے ہوتی ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آئے ہی جمعہ پڑھا۔ اور ظاہر ہے کہ اذان دہن کا ذکر اذان کے لئے صلوة من بعد اللجمۃ میں ہے۔ بعد میں ہی گئی ہے۔ اگر یہ آیت بعد میں نازل ہوئی ہو تو ہر جمعہ نہیں۔ رہا یہ کہ جبکہ حکم طرح دیا گیا۔ تو جس طرح باقی پانچ نمازوں کے اوقات ارکان وغیر ذی شخصی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے گئے۔ اس طرح جو حکم بھی اسی ذی شخصی سے تھا۔ مدینہ ہی متلو سے اس فرض کو اہمیت دیا کہ ان الفاظ میں کیا جو قرآن کریم میں نازل ہوئے ہیں تو گویا یہاں جمعہ کی فرضیت کا ذکر نہیں۔ فرض وہ اس طرح ہے جسے دوسری نمازیں۔ یہ ان کی اہمیت کا ذکر ہے۔ کہ چونکہ اس میں ایک جزو و حفظ و نصیحت کا بھی ہے۔ البتہ حدیث نمبر ۵۱۷ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلا جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پڑھا۔ کہ چونکہ وہاں بطور خصوصیت اسبار کا ذکر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا جمعہ جو ان کی مسجد میں پڑھا گیا۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پڑھنے سے پریشانی بھی جمعہ پڑھا گیا ہوتا تو یہ خصوصیت نہ ہوتی۔

إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذُرْوَابِيَعَهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَاسْعَوْا فَاْمُضُوا (۵۱۹)

اور خیر و ذر وقت مجھو دو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو
فاسعوا کے لئے میں چلو

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَمَّا لَمْ يَخْرُجُوا إِلَى الْقِيَامَةِ
بَيَدِهِمْ أَوْ تَوَاتُوا الْكُتُبَ مِنْ قَبْلِنَا ثُمَّ هَذَا يَوْمٌ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَأَخْتَلَفُوا فِيهِ فَاْمُضُوا

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم آخری رات (قیامت کے دن) سب سے آگے ہوں گے
جو ان پر فرض کیا گیا تھا تو انہوں نے اس میں اختلاف کیا

اللَّهُ لَهُ فَالْتَأَسُّ كُنْفَرِيَةً يَتَّبِعُ الْيَهُودَ عِدَاؤَ النَّصَارَى بَعْدَ عِدَابِ بَابِ فَضْلِ الْغُسْلِ يَوْمَ
الْجُمُعَةِ وَهَلْ عَلَى الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ عَلَى الْإِسَاءَةِ (۵۲۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

اور اللہ نے ہمیں اس کی دہشت کی پس لوگ اس میں ہمارے بعد ہیں یہود کل اور نصاریٰ کے بعد
جعد میں آنا واجب ہے

عَمْرًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةُ فَلْيَغْتَسِلْ (۵۲۱) عَنْ
ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَا هُوَ قَائِمٌ فِي خُطْبَةٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَأَى

عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب کوئی تم میں سے جمعہ کو آئے گا تو غسل کرے

جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ جَرِينِ الْأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدَاهُ عَمْرًا يَهُودِيَةً
هَذِهِ قَالَ لِي شَغَلْتُ فَلَمْ أَتَقَلِّبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّادِيْنَ فَلَمْ أَرِدْ أَنْ تَوْصَلَ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نمازین اولین میں سے ایک شخص آیا تو
حضرت عمر سے اسے آواز دی کہ یہ

قَالَ وَالْوُضُوءُ أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ (۵۲۲) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ خَدْرِيِّ (مُتَكَرِّرًا)

حضرت عمر نے کہا
صرف وضو بھی مسے اور آپ کو علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

مسل کا حکم دیتے تھے

یہ معنی بھی ہے کہ کھانے جو کھانے کو فرض کیا اور بتایا نہیں۔ اور اگر یہ معنی ملو تو۔ جس طرح ہفتہ میں ایک دن خاص حکام کے ساتھ اسلام میں خاص کیا گیا اور اسے جمعہ کہتے ہیں۔ سب طرح ان پر بھی ہفتہ

میں ایک دن بعض خاص احکام کے ساتھ خاص کیا گیا تھا جو سبت تھا۔ اور لغوی معنی کے لئے خاص طور سے جمع ہونے میں۔ تو یہ معنی درست ہیں۔
تو مختلفو اذیہ کے معنی ہے کہ انہوں نے اسمیل مختلف کیا۔ یعنی عیسائیوں نے۔ اس دن کو سبت کی بجائے اتوار مقرر کیا۔ تو یہود کا ہفتہ رہا۔ اور نصاریٰ کا اتوار۔ اور محمد بن خالد

لہ کہ یہ معنی ہیں کہ میری امت اس میں اختلاف نہیں کرے گی۔ اور بالاتفاق جمعہ بنا لیں۔ اور یہود عدل والنصا بعد غدا میں ان کے اختلاف کو بیان کیا۔ اسلام نے عبادت کیسے
جس سے روحانی ترقی حاصل ہوتی ہے ظاہری صفائی کی ضروری قرار دیا۔ بینظاہری صفائی عبادت کی بے لے روحانی پاکیزگی میں ممدوار اور کام دہنی ہے۔ پھر جماع کے فروع پر ظاہری صفائی کا
بہت خیال رکھا ہے جو عید میں ہر ناگہر یا جماع اور میل جول ایک دو سے کی تکلیف کا موجب ہوں اور زیادہ محبت ہو۔ اس لئے نبی کریم نے غسل عید کی تاکید فرمائی ہے۔ مگر اس پر
فدوی کی حدیث میں جواب کی تیسری حدیث ہے اور نمبر ۱۵۱ پر لکھ دیکھی اور نمبر ۵۲۲ کا بھی ایک گٹوہ ہے یہ ہے کہ جمعہ کا غسل بالغ پر واجب ہے۔ جس سے بطور تقویٰ نہ لکھا گیا لے جو جمعہ کا غسل ہے
نہیں اس لئے کہ جو جمعہ پر فرض نہیں۔ لیکن اگر چہ نماز اور نماز کا واجب نہیں۔ لیکن ان کے سر پرستوں پر لازم ہے کہ انہیں عادت ڈالنے کے لئے جماعتوں میں شامل ہونے کی ہدایت کیا کریں۔ عورتوں پر
ہے یا نہیں اس کے متعلق کوئی حدیث اب میں نہیں لائے۔ اور امام بخاری نے کوئی فیصلہ کیا ہے۔ ابوداؤد نے کہا کہ عورتوں کا غسل عید پر واجب نہیں ہے۔ لیکن ابوداؤد نے کہا کہ اگر عورتوں
ابن شداد سے راوی ہیں۔ اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرم دیا۔ روایت آپ سے نہیں کی۔ قرآن کریم کا خطاب اسعوا لے ذکر اللہ عام ہے اور عورتوں میں مشاغل ہیں خطاب اگر باریک بینی سے
قرآن کریم کے خطاب عام طور سے بصیغہ مذکر ہی ہے۔ ان بعض حالات میں جو امام جلالہ علیہ السلام نے فرمائی ہیں۔ عورتوں کو مستثنیٰ کیا گیا اس لئے کہ عید کے لئے دو کی ہوتی
میں چاہے اسے اور اس قسم کا بوجھ ہو جسے عورتیں بردہت نہ کر سکیں۔ مگر ایسے ہی دوسری کو تا ہی ہے۔ ایک یہ ہے کہ آئے۔ دو سے غسل کر کے نہیں لے۔ بہ عورت عثمان تھے

۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

صحیح بخاری - سچو صحابہ

کلمہ جمہور میں رکھا گیا
کا استعمال سنہ کی صفائی
کیلئے اور خوشبو کا
استعمال بوجہ اجتناب
ضروری ہے۔ نبی صلی
کا ارشاد بھی ہے۔ اور
آپ خود بھی خوشبو
لگانے تھے۔ اس حدیث
کا یہ حصہ غسل اور
الجمعة واجب کل
مختص ہے۔ ۱۵۵
گذر چکا ہے۔ کلمہ
یہ سبقت اور اس وقت
نے انہی بات کی تشریح
سے جس قدر صحت
ضد کی طرف میل میں
ہوگی۔ اتنا ہی قریب
آئی ہر جہاں بیگانہ
اور جتنا زیادہ وقت
عبادت آئی پھر فرج
ہوگا۔ اتنا ہی اجر بھی
زیادہ ملے گا۔ فرشتے
چونکہ نبی کے مومک
میں اسلئے خطبہ میں
ان کی موجودگی سے شرمندہ
ہے کہ وہ نبی کی
تشریح کے لئے موجود
ہوتے ہیں اور جو شخص
خطبہ کو پڑھنے سے سنا
ہے اس کے دل میں نبی
کی تشریح پیدا کرنے
ہیں اور فرشتوں کے
استماع میں یہ شام
ہے کہ مخاطبین کو بھی
خطبہ غور اور توجہ سے

بَابُ الطَّيْبِ لِلْجُمُعَةِ (۵۲۲) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّ تَصَارِيْفَ قَالَ اشْهَدُ عَلَى ابْنِي

عروہ بن سلیم انصاری نے روایت کی کہ میں ابوسید خدری کے گواہی دیتا ہوں

سَعِيدٍ قَالَ اشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْغَسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ

انہوں نے کہا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے فرمایا ہر ایک بالغ پر جمعہ کے دن غسل واجب ہے

عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَأَنْ يَسْتَنْ وَأَنْ يَمْسَ طَبِيبًا إِنْ وَجَدَ قَالَ عُمَرُ أَمَا الْغَسْلُ فَاشْهَدُ أَنَّهُ

اور مسواک کرنا اور اگر مل جائے تو خوشبو لگانا عروہ نے کہا غسل کی شہادت تو میں دیتا ہوں کہ وہ

وَاجِبٌ وَأَمَّا الْأَسْتِنَانُ وَالطَّيْبُ فَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَوْجِبُ هُوَ أَمْرٌ لَوْلَا لَكِنْ هَكَذَا فِي الْحَدِيثِ

واجب ہے لیکن مسواک کرنا اور خوشبو لگانا تو اسدبتر جانتا ہے کہ وہ واجب ہے یا نہیں لیکن حدیث میں اس طرح ہے

بَابُ فَضْلِ الْجُمُعَةِ (۵۲۳) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ غَسَلَ

ابو ہریرہ سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن

يَوْمَ الْجُمُعَةِ غَسَلَ الْجَنَابَةَ ثُمَّ رَاحَ فَكَانَتْ مَقْرَبٌ بَدَنًا وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ

چنابت کا راس غسل کیا پھر چلا تو گویا اس نے اونٹ کی قرانی کی اور جو دوسری گھڑی میں چلا

فَكَانَتْ مَقْرَبٌ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّلَاثَةِ فَكَانَتْ مَقْرَبٌ كَبْشًا أَقْرَبُ وَمَنْ رَاحَ

تو گویا گائے کی قرانی کی اور چوتھی گھڑی میں تو گویا سینگوں والے مینڈے کی قرانی کی اور جو

فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَانَتْ مَقْرَبٌ بَعِجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَانَتْ مَقْرَبٌ

چوتھی گھڑی میں چلا تو گویا مرغی کی قرانی کی اور جو پانچویں گھڑی میں چلا تو گویا بھینس نے

بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ مُحَضَّرَتِ الْمَلَائِكَةُ لِيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ بَابُ (۵۲۴) عَنْ

ایک ایذا خدا کی راہ میں دیا پھر جب امام خطبہ کے لئے نکلتا ہے تو فرشتے حاضر ہو کر خلیفہ سنتے ہیں

ابْنِ هُرَيْرَةَ (مُتَكَرِرٌ ۵۲۱) بَابُ الدُّهْنِ لِلْجُمُعَةِ (۵۲۴) عَنْ سَيِّدِ الْفَارِسِيِّ قَالَ

دیکھو حدیث نمبر ۵۲۱ (متکرر) باب جمہور کے لئے تیل لگانا باب دھن کے لئے تیل لگانا سلمان فارسی سے روایت ہے کہ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جہاں تک صفائی کر سکے کہ

طَهْرٍ وَيُدْهِنُ مِنْ دُهْنٍ أَوْ يَمْسُ مِنْ طَبِيبٍ يَبْتِهَ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يَفْرُقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يَخْرُجُ

اور اپنے تیل میں سے تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو سے لگائے پھر نکلے اور دو لوگ نہ کرے کلمہ پھر نماز پڑھے

فَاكْتُبُ لَهُ ثُمَّ يَنْصَبُ إِذَا نَكَلُوا أَمْرًا لَا غَفْرَةَ لَهُ وَابْنَهُ وَابْنَةَ الْجُمُعَةِ الْآخِرَى

چرا کہ وہ لکھی گئی ہے پھر جب امام خطبہ دیتا ہو تو خاموش رہے تو اس کے اور اگلے جمعہ کے درمیان جو کچھ ہے اس سے اس کی حفاظت کی جائیگی

سنتنا چاہیے کہ

نمبر ۵۲۱ کی حدیث کو اختصار اور تفسیر الفاظ کے ساتھ دہرایا ہے۔ آخری فقرہ میں زیادہ وضاحت کر دی ہے فقال لہم تسعوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فالرسل احکم الی الجمعة

خلیفہ غسل کرے، کلمہ سننے کے لئے جوئے لوگوں کو تظہیر دیتا ہوا ان کے اندر سے نہ گذرے۔ یہ ایک حکم اصولی ہے کہ اسلام میں گناہ کوئی نہیں۔ اسلئے ان الفاظ کا یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا

کہ ایک جمہور میں ایک ایسا توبہ چاہے گا کہ اگلے جمعہ تک کہ رہے وہ صرف نہانے نہ ہونے اور خوشبو لگانے کا خطبہ سننے کی وجہ سے معاف ہوتے جائیں گے۔ سنا رہنے میں انکی توجیہ وغیرہ کیا ہوگی کہ وہ

کیے رہیں۔ میں یہ لفظ بھی ہاں اور تعش کیا توجیہ کہہ کر کہا اور کار کا ثبات کرے تو اس سے ایک اور شرط بڑھ گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکام کی صریح نافرمانیوں کی پارہ میں جس میں مراد صحت میں صرف غلطی نہیں

ہیں گناہ جو کیا زمین ہاں نہیں۔ مگر چونکہ غفر کے معنی حفاظت کرنا ہیں اسلئے مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ حکام آئی کی تعمیل کی ایسی روح اپنے اندر پیدا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اسے گناہ سرزد نہ ہونے

سے بچائے گا۔ اور اگلے جمعہ کا ذکر اسلئے کیا کہ پھر اگلے جمعہ کو بھی موقع ہے اور سچ تو یہ ہے کہ خطبہ جمہور میں ایک ایسا اعلان درجہ کا نظام مسلمانوں کیلئے رکھا گیا تھا کہ اگر اس سے فائدہ اٹھائے تو جمہور ان کی توجیہ

زندگی کا سب سے بڑا مسلمان تھا ہر ذہنہ وہ اپنی توجیہ ضروریات کو سنتے۔ یا اپنے فرائض کا احساس ان کے اندر پیدا ہوتا تو وہ مرگی کی حالت تو مرنے آتی۔ جسکے شیخے آج مسلمان آئے ہوتے ہیں۔ مگر حقیقت

ہے کہ خطبہ جمہور میں جو کوئی نہیں ہی۔ ایک تو علمائے اہل باطن پر چاہتا ہے جو لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ دوسرے خطبہ سننے والے وہ لوگ ہیں جنکو اللہ تعالیٰ کو کوئی تعلق نہیں اور جنکو مراد دنیا کے لئے اہمیت خطبہ

کو محض پیشہ بنایا ہوا ہے۔

(۵۲۵) عَنْ طَاوُسٍ قُلْتُ يَا بَنِي عَبَّاسٍ ذَكُرُوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَسِلُوا

طاوُس سے روایت ہے میں نے ابن عباس سے کہا لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلعم نے فرمایا جمعہ کے دن غسل کرو
يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنُبًا وَأَصْلَبُوا مِنْ الطَّيْبِ قَالَ بِن

اور اپنے سروں کو دھوؤ اگرچہ تم جنابت میں نہ ہو اور خوشبو لگائو
عَبَّاسٍ قَالَا الْغَسْلُ فَنَعَمْ وَأَمَّا الطَّيْبُ فَلَا أَدْرِي (مر ۳۱۴) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر)

عباس نے کہا غسل تو بیشک ہے مگر خوشبو لگانے کا مجھے علم نہیں
باب سب سے عمدہ لباس پہننے کے
(۵۲۵) بَابُ يَلْبَسُ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ (۵۲۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب نے
رَأَى حُلَّةً سَيْرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِستَهَا

مسجد کے دروازے کے پاس ریشمی جوڑا دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ آپ اسے خریدیں اور اسے
يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَمَّ

جمعہ کے دن اور قاصدوں کے لئے جب آپ کے پاس آئیں ہمیں
رسول اللہ صلعم نے فرمایا
يَلْبَسُ هَذِهِ مِنْ خَلْقٍ لَهُ فِي الْآخِرَةِ ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں حصہ نہیں
پھر رسول اللہ صلعم کے پاس
مِنْهَا حُلٌّ فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

اس کے جوڑے آئے تو عمر بن خطاب کو ان میں سے ایک جوڑا دیا تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ
كَسَوْتِنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عَطَّارٍ مَا قُلْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

آپ نے مجھے یہ پہننے کو دیا اور عطّار کے جوڑے کی نسبت جو آپ نے فرمایا سو فرمایا
تو رسول اللہ صلعم نے فرمایا
وَسَلَّمَ إِلَيَّ لَمْ أَكْسُهَا لَتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رِضًا خَلَّةً مِمَّا

میں نے یہ تمہیں اس لئے نہیں دیا کہ اسے پہنو
تو عمر بن خطاب نے اسے اپنے ایک شکر کھیل کو دیا جو مکہ میں تھا
مُشْرِكًا بَابُ السَّوَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب جمعہ کے دن مسواک کرنا اور ابو سعید بنی صلعم سے روایت کرتے ہیں کہ
يَسْتَنُّ (۵۲۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مسواک کرے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
قَالَ لَوْلَا أَنَّ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْلَادًا أَنَّ أَشَقَّ عَلَى النَّاسِ لَأَمْسَسْتُمْ بِالسَّوَالِ

اگر اپنی امت یا لوگوں پر شفت ڈالنے کا مجھے خوف نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے لئے مسواک کا حکم دیتا
مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ (۵۲۸) عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا
أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السَّوَالِ (مر ۳۱۵) عَنْ حُدَيْفَةَ (متكرر ۱۹۶) بَابُ مَنْ تَسْوَأُ

میں نے مسواک کے بارہ میں تم سے بہت کچھ کہا
دیکھو حدیث نمبر ۱۹۶
السَّوَالِ غَيْرَهُ (۵۲۹) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَفَعَهَا

استعمال کرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر آئے اور ان کے پاس
عمدہ لباس پہن لیا جانے پر اسے روک دیا۔ یہ صرف نبی کریم صلعم سے ان کی محبت تھی۔ اور وہ اپنے محبوب پر بہتر سے بہتر لباس پہننا چاہتے تھے۔ مگر جب ہر نماز کے لئے مسواک کو ضروری سمجھتے تھے تو جب مسواک
اور بھی ضروری تھا۔ مسواک صرف مٹھکی یا صفائی کے لئے ہے۔ بلکہ مسواک دن و رات ہر نماز کی بہت سی نیاروں کا علاج ہے اور مسواک کے عدم استعمال سے مٹھکی بہت تلخ اور بڑھتی ہے۔ مگر یہ لفظ جمعہ
نمبر ۱۹ کے میں۔ سو اتنے اس کے کریشوں فافا کے بعد بالسوال کا لفظ نہیں +

۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

سَوَاءٌ كَيْسَتْ بِهِ فَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ أَعْطِنِي هَذَا السُّوَاءَ

سواک تمہی جیسے وہ استعمال کرتے تھے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کمانے عبدالرحمن بن سواک مجھے دیدو
يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْطَانِيهِ فَقَضَمْتُهُ ثُمَّ مَضَغْتُهُ فَأَعْطَيْتُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تو انہوں نے وہ مجھے دیدی یہی ہے اسے توڑا پھر اسے چبایا
وَسَلَّمَ فَأَسْتَنْ بِهٖ وَهُوَ مُسْتَبِدُّ لِي صَدْرِي بِكَابٍ مَا يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

تو آپ نے اس سے سواک کی اور آپ میرے سینے سے سہا لے کر ہونے لگے باپ جو جمعہ کے دن صبح کی نماز میں پڑھا جاتا ہے
(۵۳۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن
الْمُتَنَزِّلِ وَهَلْ أُنِيَ عَلَى الْإِنْسَانِ بِرُءُوكِ تَقِي يَابِ كَادُنْ أَوْ شَهْرُونَ فِي مَجْمَعٍ بَرُّنَا

الم تنزیل اور ہل اتنی علی الانسان پڑھا کرتے تھے یاب کادوں اور شہروں میں جمعہ پڑھنا
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنْ أَوَّلَ جُمُعَةٍ تَجَمَّعَتْ بَعْدَ مَجْمَعَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

ابن عباس سے روایت ہے کہ پہلا جمعہ جو
مُسَيِّدٍ عَبْدِ الْغَيْسِ بَجَوَانِي مِنْ الْبَحْرَيْنِ (۵۳۲) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ

عبدالغیس کی مسجد میں تھا جو بحرین میں جوانی میں تھی
اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ كَتَبَ رَزِيقُ ابْنِ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سناتم میں سے ہر ایک گنہگار ہے
حَكِيمٍ ابْنِ ابْنِ شَهَابٍ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَ مِيزِ بَوَادِي لُقْرَى هَلْ تَرَى أَنْ أَجْمَعُ وَ

حکیم نے ابن شہاب کو لکھا اور میں ہمدان کے ساتھ وادی القری میں تھا
رَزِيقٌ عَامِلٌ عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلُهَا وَفِيهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السُّعَادَانِ وَغَيْرِهِمْ وَرَزِيقُ

رزق ایک زمین پر عامل تھا جس پر وہ کاشت کرتا تھا اور اس میں حبشیوں وغیرہ کی ایک جماعت تھی اور رزق
يَوْمَ مِيزِ عَلَى آيَلَةٍ فَلَتَبْنَ ابْنَ شَهَابٍ وَأَنَا مَعَهُ بِأَمْرَةٍ أَنْ يَجْمَعُ بِحَبْرَةَ أَنْ

اس دن اہل کاعام تھا لکن تو ابن شہاب نے (جواب) لکھا اور میں سن رہا تھا اسے حکم کیا کہ جمعہ پڑھے (اور ان سے خبر دی
سَلَّمَ أَحَدُهُ أَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کہ سالم نے اس سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَأَمَامٌ

تم میں سے ہر ایک گنہگار ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اپنی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا
رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

بادشاہ گنہگار ہے اور اپنی رعیت کے ہر ایک سے پوچھا جائے گا اور مرد اپنے گھرانوں کا گنہگار ہے اور اس سے اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا

صلی اللہ علیہ وسلم
الموت کا واقعہ پڑھو
مکہ حنیف اور بعض
صحابہ کا جیسے حنیف
اور حضرت علی کا یہ
مذہب ہے۔ کہ جمعہ
صرف شہروں میں پڑھا
جاسکتا ہے۔ گاؤں
اور چھوٹی بستی میں
نہیں پڑھا جاسکتا
اور پھر شہر کی طرف
میں فقہ حنیفی کی
کتبوں میں اس فقہ
اختلاف ہے کہ بعض
تعلیقوں کی بنا پر
چھوٹے سے چھوٹا
گاؤں بھی شہر جو
سکتا ہے۔ شہر کی
تعلیق میں اختلاف
کی وجہ سے جو اتفاقی
شہر نہیں ہاں جمعہ
کی صحت میں شبہ ہے
کی وجہ سے اپنی طرف
ایک اور نافرمانی
کی تھی جو ہے اعتدالی
کہتے ہیں۔ اپنی طرف
سے آیت جمعہ کو کسر
کے ساتھ میں کرنا اور
پھر شہر میں اختلاف
کی وجہ سے بھی شریعت
تمام کرنا ظاہر ہے جو
اہم بخاری نے اس باب
سے اسکی تردید کی ہے
کہ جمعہ ہر وقت پڑھنا
ہے۔ شہر ہو گاؤں
جو۔ بلکہ اگر صحابہ
اتفاق ہو تو وہاں بھی
پڑھا جائے۔ خاص
مکان کے ساتھ جمعہ کو خاص کرنا عبادت کا رنگ ہی۔ جبکہ نماز گراہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ یہ حضرت صلعم فرماتے ہیں کہ میرے لئے ساری زمین مسجد بنائی گئی اور اسے اپنی خصوصیت بتاتے ہیں
اگر دوسرے مذاہب کی عبادت کی عبادت کا ہونے کے ساتھ ہو سکتی ہو تو یہ درست ہے مگر اسلام کی عبادت ہر گز ہو سکتی ہے۔ بعض رعایات میں جاتی کیا تھے قریہ کا لفظ ہے۔ اور اسکی باب کا
عنوان ثابت ہوتا ہے عبدالغیس کا وہی ایک کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور سلام کے احکام سکھ کر واپس گئے تھے۔ اہل شام اور مدینہ کے رستہ میں ایک شہر شہر تھا۔ اور رزق بن عمر بن عبدالغزوی
کی طرف سے اسکا حکم تھا مگر اسوقت خود اہل مدینہ نہ تھے۔ بلکہ باہر کہیں زمین پر کاشت کا کام کرنا تھا۔ ابن شہاب نے ان کے خط کے جواب میں لکھا کہ آپ ہاں جمعہ پڑھا کر سکیں گے آپ ہاں کے اہل زمین
اور جمعہ کے انتظام کو زمیندار آپ پر عائد ہوتی ہے۔ اگر آپ انتظام نہیں کریں گے تو خداوند جواب دہ ہو گئے۔ اور جواب میں ابن عمر کی حدیث لکھی کہ ہر ایک شخص کسی نہ کسی طرح حاکم پر اور رعیت کی ہوسکتی
انکی زمین پر تو جمعہ پڑھا کرنا اور اس کے متعلق باہر سے ہوگی حنیف نے جمعہ کیلئے بادشاہ کا ہر شرط ٹھہرایا ہے۔ کہ جمعہ کا انتظام ہو۔ اس سے پہلے ہی کی تردید ہوتی ہے۔ ہر شخص کو جان بوجھ کر
وہ ایک ننگ میں ہاں کا بادشاہ ہے۔

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالتَّخَادِيمُ رَاعِيَةٌ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَ

اور عورت اپنے فائدہ کے گھر کی نگہبان ہے اور اس سے اپنی رعیت کی پرکاشش ہوگی اور خادم اپنے اسی مال کا نگہبان ہے اور

مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعِيٌ فِي مَالِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ

اپنی رعیت کے بارہ میں پوچھا جائے گا۔ کہا اور میرا خیال ہے کہ اس مرد اپنے باپ کے مال کا نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے بارہ میں پوچھا جائے گا

عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكَلِمَةُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ بِأَبْ هَلْ عَلَى مَنْ لَا يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ

اور تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے بارہ میں پوچھا جائے گا باب جو عورتیں اور شیخے وغیرہ جمعہ کو نہ آئیں

عَسَلٌ مِنْ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ نَأْمَا الْغَسَلُ عَلَى مَنْ يَجِبُ

کیا پرنہنا ہے اور ابن عمر نے کہا غسل صرف اسی ہے

عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ (مر ۳۱۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (متكرر ۵۲۰) (مر ۳۱۷) عَنْ ابْنِ

جس پر جمعہ واجب ہے دیکھو حدیث نمبر ۵۲۰ دیکھو حدیث نمبر ۵۱۹

سَعِيدِ بْنِ خَدْرَةَ (متكرر ۵۲۲) (مر ۳۱۸) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ (متكرر ۵۱۹)

حدیث نمبر ۵۲۲ حدیث نمبر ۵۱۹

(مر ۳۱۹) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (متكرر ۵۱۷) (مر ۵۳۳) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ امْرَأَةٌ

دیکھو حدیث نمبر ۵۱۷ ابن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر کی ایک بیوی تھیں

لِعَمْرٍ كُنْتُ شَهِدَ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَقِيلَ لَهَا لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ

صبح اور عشاء کی نماز باجماعت میں مسجد میں شامل ہوتی تھیں تو کسی نے انہیں کہا کہ

تَعْلَمِينَ أَنَّ عَمْرًا يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَعَارُ فَالْتَقَمَتْ فَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَبْتَهَكُنِي قَالَ يَمْنَعُهُ قَوْلُ

تم جانتی ہو کہ عمار سے ناپسند کرتے ہیں تو کیوں نکلتی ہو کہا انہیں مجھے منع کرنے سے کیا مانع ہے کہا انہیں نبی صلعم کا قول روکتا ہے

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا إِفَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ بِأَبِ الرُّخَصَةِ ابْنِ

کہ اللہ کی بندگیوں کو اللہ کی مسجدوں سے ڈرو کہو حدیث نمبر ۳۲۰

يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَطْرِ (مر ۳۲۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ (متكرر ۴۰۶) بِأَبِ

اجازت ہے دیکھو حدیث نمبر ۴۰۶ باب

مَنْ ابْنُ تَوْنِي الْجُمُعَةَ وَعَلَى مَنْ يَجِبُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِذَا تَوَدَّى لِلصَّلَاةِ

جمعہ کے لئے کہنی دروسے آنا چاہیے اور کس پر واجب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے قول کی وجہ سے جب جمعہ کے دن کی نماز

حدیث نمبر ۵۲۲ کا صرف
اس کا ذکر یہاں کرنا
ہرگز رسول اللہ صلعم
قال غسل يوم الجمعة
واجب على كل محتلم
حدیث اس سرور کا
میں نمبر ۱۹ کا ماضی
غیبت تفسیر اور زیادہ
کے ساتھ ہے یا ہے
نمبر ۱۹ میں ہے حدیث
یوحی الذی فی فضل
اللہ علیہم واختلفوا
فیہ اور جہاں اسکے
عوض فی فضل الیوم
الذی اختلفوا فیہ
اور آخر میں یہ زیادت
سے شکست تم قال
حق علی کل مسلم
ان یغتسل فی کل
سبعتہ ایام یوما
یغتسل فیہ واسم
وجسدہ اور اسکے
بعد دوسری روایت
میں یہ زیادہ ان الفاظ
سے قال التنبی
صلعم اللہ علی کل
مسلم حتی ان یغتسل
فی کل سبعتہ ایام
جس کا خلاصہ یہ ہے
کہ ہر ایک مسلمان پر
ہر سات دن میں ایک
دفعہ غسل کا ضروری
ہے۔ ہر ایک جمعہ میں

آنیوال کیلئے کسی طرح مخصوص نہیں کیا جاسکتا۔ کل مسلم کے لفظ موجود ہیں۔ پس جو جمعہ کو آئیں وہ جمعہ کے دن جمعہ سے پیشتر غسل کر کے آئیں جو جمعہ کو نہ آئیں وہ بھی غسل ضرور کریں۔ خواہ آنگے
بیچھے کریں۔ خواہ سوائے جمعہ کے کسی اور دن کریں۔ مگر غسل کو سب پر ضروری نہیں لایا ہے۔ اور اس میں بچوں کو بھی شامل ہیں۔ پاک صاف ہونا بھی اسلام کی تعلیم میں داخل ہے۔ اور ہفتہ میں ایک دفعہ غسل
صاف کیلئے نہایت ضروری ہے۔ زیادہ معنی دفعہ ضرورت ہو یا دل چاہے یا میرے آئے کہ ہے۔ حدیث نمبر ۳۱۹ کے الفاظ یہ ہیں اذ قال اللہ تعالیٰ باللیل للمساجد اور اس سے یہ نتیجہ نکالنا لایا ہے۔ کہ
چونکہ اس صبیح میں سات کو عورتوں کو مسجد میں جانے کے لئے اجازت دینے کا حکم ہے اس لئے کہ انہیں اجازت نہیں اور جو دن کو ہے۔ پس جمعہ بھی واجب نہ تھا نہ غسل۔ یہ سب سے حدیث کے منطوق کے
بالکل خلاف ہیں۔ مطلب تو صاف ہے کہ حیرات کو بھی عورتوں کو مسجد جانے سے روکنا جائز نہیں تو دن کو انہیں کس طرح دیکھا جاسکتا ہے۔ اس لئے وہ جمعہ کو بھی جائز ہے۔ بلکہ جمعہ کی اہمیت تو تورات
کرم نے واضح کر دیا۔ اس میں عورتوں کی شمولیت نماز سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اور جب جمعہ کو یا تیس کی تو ان پر غسل بھی واجب ہوتا۔ جمعہ کی عظمت و نصیحت سے عورتوں کا محروم ہونا مسلموں
کے تنزل کے لئے سبب نہیں ہے۔ گھروں کے اندر مجالت بدعت اور شرکاتہ رسوم ہے۔ جبکہ یہ ہوتی ہے اور عورتیں جو ان ریعات سے گھروں کو پاک کر سکتی ہیں انکو اللہ اور رسول کے حکام کا علم
نہیں دیا جاتا۔ حدیث حضرت عمر علی مدینہ میں ہوتے تھے جو مدینہ سے کم سے کم دو میل ہے۔ وہاں ان کی بیوی عاتکہ سے تروی ہیں اور عرش کی نماز میں حاضر نہیں۔ ایک شائستہ میں ہے کہ حضرت عمر
کے ساتھ آئیں۔ جو حضرت عمر خود سے پسند نہ کرتے تھے۔ مگر حضرت صلعم کے حکم کی وجہ سے روکتے تھے۔ حدیث نمبر ۴۰۶ کو تفسیر الفاظ کے ساتھ یہاں لایا ہے۔ قال ابن عباس سلموہ فی یوم
مطیرا اذ قلت اشہد ان محمداً رسولاً لله فلا تقبل حجی علی الصلوة فی صلواتی ابو تکھم فکان الناس مستنکروا فقال صل من یوحی عنی ان الجمعة عرفة وانی کوہتان اور جو
فانتقن فی اللین والحق یہاں صاف ہے کہ جمعہ کا دن اور جمعہ کی نماز جمعہ کو یا جو کسی فرضیت اور اہمیت کے جب لوگوں کو اپنے نکلنے شکل تہا اور بہت کچھ اور اپنی تہا تو نہیں اجازت دی گئی

علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ اس میں حاضر ہو کر نماز پڑھنے سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے اور اس کا علم وقت کی شناخت یا گھڑی سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا محل نماز کے ایک موقع تھا اور پھر کبھی بصر سے دوسرے کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس میں وہ بھی جمعہ پڑھتے اور جمعہ پڑھتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کی دوری سے اگر نہ مال ہو سکے تو جمعہ نہیں ہے۔ عموماً دو تین میل کے فاصلہ پر ہے وہاں باری باری آنا ہوا تھا۔ تین تا چار کبھی بھی آتے تھے۔ اس میں تکبیر سے بھی رخصت ہے۔ جو کہ جمعہ ظہر کی نماز کا نام تھا۔ اور اذکار الصلوٰۃ لیل لیلۃ الشہدہ کی رو سے ہر وقت زوال کے بعد اس وقت تک بھی وال سے شروع ہوتا ہے اور حضرت صلعم کا عمل جیسا کہ اس کی حدیث الباب میں ذکر ہے۔ یہی تھا کہ سورج ڈھلنے کے بعد آپ جمعہ پڑھتے تھے۔ صحابہ کا عمل مختلف طور سے مروی ہے۔ لیکن صحیح مذہب یہی ہے کہ جمعہ کا وقت زوال کے بعد ہے۔

مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَالَ عَطَاءٌ إِذَا كُنْتُ فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٌ فَنُودِي بِالصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ

کے لئے بکار لیا جائے۔ اور عطاء کہتے ہیں جب تو جمعہ والی سستی میں ہو اور جمعہ کے دن کی نماز کے لئے بکار لیا جائے

الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ أَنْ تَشْهَدَهَا سَمِعْتَ الْبَلَاءَ أَوْ لَمْ تَسْمَعْهُ وَكَانَ الشَّيْءُ فِي قَصْرِ

تو جمعہ پر لازم ہے کہ اس میں حاضر ہو خواہ اذان سنی ہو یا نہ سنی ہو اور اس کو بھی اپنے گھر میں جمعہ پڑھنے سے

أَجْمَعًا يَجْمَعُ وَاجْتِمَاعًا لَا يَجْمَعُ وَهُوَ بِالْزَّوَايَةِ عَلَى فَوْسِحَيْنِ (۵۳۴) عَنْ عَائِشَةَ

اور وہ زواویہ میں دوسرے پڑھتے۔ اور وہ زواویہ میں دوسرے پڑھتے۔ حضرت عائشہ

رَوَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَتَّبِعُونَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ

نبی صلعم کی پیروی سے روایت ہے کہ لوگ باری باری اپنے ڈیروں

وَالْعَوَالِي فَيَأْتُونَ فِي الْغُبَارِ يُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ فَيُخْرِجُ مِنْهُمْ الْعَرَقُ فَاتِي رَسُولُ

اور عموماً سے جمعہ کو آیا کرتے تھے مٹا پس گردیں آتے تھے ان پر گرد پڑتی اور پسینہ آجاتا اور ان سے غلبہ پسینہ ہوتا تو رسول اللہ صلعم کے

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِشْرَافًا مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

پاسل ان میں سے ایک آدمی آیا اور آپ میرے پاس تھے تو نبی صلعم نے فرمایا

لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا بَابٌ وَقَدْ أَزَالَتِ الشَّمْسُ وَكَذَلِكَ

کیا اچھا ہوا اگر تم اپنے اس دن کے لئے صفا ہو کر لیا کرو۔ باب جمعہ کا وقت جب سورج ڈھل جائے ہے اور کبھی طرح

يَدْخُلُ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَالتَّعْمُرِ بْنِ بَشِيرٍ وَعُمَرُ بْنُ حُرَيْثٍ (۵۳۵) عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

عمر اور علی اور نعمان بن بشیر اور عمر بن حریث سے بیان لیا جاتا ہے کہ نبی صلعم سے روایت ہے

أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ عَنِ الْغَسَلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ النَّاسُ

کس نے اس عہد سے جمعہ کے دن غسل کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ حضرت عائشہ نے کہا لوگ

مَهْنَةٌ أَنْفُسِهِمْ وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الْجُمُعَةِ رَاحُوا فِي هَيْبَتِهِمْ فَيَقِيلُ لَهُمْ

اپنے کام آپ ہی کرتے تھے اور جب جمعہ کے لئے آتے تھے تو اسی ہیبت میں آتے تو ان سے کہا گیا

لَوْ اغْتَسَلْتُمْ (۵۳۶) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اگر تم غسل کر لیتے (تو بہتر ہوتا) انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم

كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَبِيلُ الشَّمْسِ (۵۳۷) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ

جمعہ اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا انس بن مالک رضی سے روایت ہے

اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا بُكْرًا بِالْجُمُعَةِ وَنَقِيلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ بَابٌ إِذَا اشْتَدَّ

کہ ہم جمعہ اول وقت میں پڑھتے اور آرام جمعہ کے بعد کرتے۔ باب جب جمعہ کے دن سخت

الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (۵۳۸) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

گرمی ہو انس بن مالک سے روایت ہے کہ

وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ الْبُرْدُ بَكَرَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أُرِدَّ بِالصَّلَاةِ لِعَجْرِ الْجُمُعَةِ

جب سخت سردی ہوتی تو نبی صلعم نماز اول وقت پڑھتے اور جب سخت گرمی ہو جاتی تو نماز ٹھنڈے وقت پڑھتے یعنی جسے کی

نہر پر قیاس کیا کہ جمعہ کو بھی ٹھنڈے میں پڑھنا چاہیے۔

روفي رواية لم يذكر الجمعة روفي رواية صلى بنا امير الجمعة ثم قال لا يس كيف

اور ایک روایت میں ہے کہ جمعہ کا ذکر نہیں کیا صلوات اور ایک روایت میں ہے کہ ہمیں امیر نے جمعہ پڑھایا

كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر باب المشي الى الجمعة وقول الله عز وجل

وجل فاسعوا الى ذكر الله ومن قال السعي العمل والذهب لقوله تعالى وسعى لها

سعيها وقال ابن عباس يحرم البيع جنيدين وقال عطاء محرم الصناعات كلها

وقال ابراهيم بن سعد عن سعد بن الزهري اذا اذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر

فعلية ان يشهد (۵۳۹) عن عباية بن رفاع قال ادركني ابو عيسى وانا اذهب الى الجمعة

فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غابت ذمارة في سبيل الله حرمه الله على الناس

(۳۲۱) عن ابي هريرة (متكرر ۴۱۲) (۳۲۲) عن ابن قتادة (متكرر ۴۱) باب لا يفرق بين

اثني عشر يوم الجمعة (۳۲۳) عن سليمان الفارسي (متكرر ۵۲۴) باب لا يقيم الرجل اخاه يوم

الجمعة ويقعد في مكانه (۵۲۰) عن ابن عمر يقول سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم الرجل

اخاه من مقعدته ويجلس فيه قلت لنافع اجمعة قال الجمعة وغيرها باب

الاذان يوم الجمعة (۵۲۱) عن السائب بن يزيد قال كان التداء يوم الجمعة

اوله اذا جلس الامام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واني بكره

عمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد التداء الثالث على الزوراء قال ابو عبد الله الزوراء

موضع بالسوق بالمدينة باب المؤذن الواحد يوم الجمعة (۳۲۴) عن السائب بن

يزيد (متكرر ۵۲۱) باب يجيب الامام على المنبر اذا سمع التداء يوم (متكرر ۳۲۵)

باب جمعة من اذان من اذان الدنيا

باب ام منبر جواب من

باب جمعة من اذان من

باب ام منبر جواب من

باب ام منبر جواب من

کتب زہری سے روایت
بھی آئی ہے کہ مسافر
پر جمعہ فرض نہیں شائد
مختلف حالات کے لحاظ
سے مختلف باتیں کہی
ہوں۔ مگر یہاں شروع
کے الفاظ ہیں اذنا
انجبت الصلوة فلا
تاوها تسعون و
انھا تمشون علیکم
کے بعد ایک ہی لفظ
ہیں۔ یہ لفظ
لفظ میں لا تقوا
حق تو دی اور علیکم
السکینة کا
یہاں خفیف تغیر لفظی
سے بعینہ نمبر ۵۲۲
کا مفہوم ہے کہ
مجاذان کی پہلے دی
جاتی ہے اس تیسری
کما ہے اس لئے
کما اس کا وجود اذان
خطبہ اور اقامت کے
بعد ظاہر ہوا ہے
الفاظ ہوں ہیں ان
الذی زاد التاذین
الثالث یوم الجمعة
عثمان بن عفان حین
کثر أهل المدينة
ولم یکن للنبی صلعم
مؤذن غیر واحد
وکان التاذین یوم
الجمعة حین یجلس
الامام یعنی علی المنبر
حضرت صلعم کا ایک
ہی مؤذن تھا جیسے
میں ذکر ہے جیسے ہی
اذان کثرت اور تیسری
نمبر ۳۲۴
بہت مختصر اور یہاں
تفصیل ہی کا سماعت
مغویہ بن ابی سفیان
وہو جالس علی المنبر

۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

اذن المؤذن قال الله اكبر الله اكبر الله اكبر فقال اشهد ان لا اله الا الله فقال معاوية وانا قال اشهد ان محمدا رسول الله قال معاوية وانا
انا قلنا ان قضى التاذين قال يا ايها الناس في سمعت رسول الله صلعم على هذا المجلس حين اذن المؤذن يقول ما سمعتم من مقالتي
مع في درون فوف كجيلة صغور كد كجيكه من

بَابُ الْجُلُوسِ عَلَى الْمِنْبَرِ عِنْدَ التَّأْدِينِ (۳۲۷) عَنْ الشَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ (مُتَكَرِّرًا ۵۴۱)

باب اذان کے وقت منبر پر بیٹھنا دیکھو حدیث نمبر ۵۴۱ ع

بَابُ التَّأْدِينِ عِنْدَمَا خُطِبَ (۳۲۷) عَنْ الشَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ (مُتَكَرِّرًا ۵۴۱) بَابُ

باب خطبے کے وقت اذان دینا دیکھو حدیث نمبر ۵۴۱ ع

الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَقَالَ سَخَّ خُطِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ (۳۲۷) عَنْ

منبر پر خطبہ دینا اور اس نے کہا نبی صلعم نے منبر پر خطبہ دیا

أَبِي حَازِمٍ (مُتَكَرِّرًا ۲۷۳) (۵۴۲) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ جَدِّي يَقُومُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ

دیکھو حدیث نمبر ۲۷۳ ع جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ مجھ کی ایک کڑی تھی اسے نبی صلعم کھڑے ہوتے تھے

صَلَّى عَلَيْهِ فَلَمَّا وَضَعَهُ الْمِنْبَرَ سَمِعْنَا الْجَعْدَ مِثْلَ صَوَاتِ الْعِشَاءِ حَتَّى نَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نوحہ آپ کے لئے منبر رکھا گیا ہم نے اس کو اس کی سہراہ کی گاہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی یہاں تک کہ نبی صلعم اترے

وَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهِ (۳۲۷) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (مُتَكَرِّرًا ۵۲۰) بَابُ الْخُطْبَةِ قَائِمًا وَقَالَ سَخَّ بَيْنَنَا

اور اس پر ہاتھ رکھا منبر پر خطبہ پڑھنا اور اس نے کہا اور اس نے کہا

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا قَالَ كَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ

نبی صلعم کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے تھے منبر پر بیٹھتے تھے پھر کھڑے ہوتے تھے پھر کھڑے ہوتے تھے

كَمَا تَقْعُدُونَ لَأَنَّ بَابَ اسْتِقْبَالِ الْمَأْمُورِ إِذَا خُطِبَ لِلسُّبْقِ لِلْبَنِي عُمَرَ وَالنَّسَاءِ (۵۴۳) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

جس طرح تم بے حرکت ہو کر بائیں طرف رخ کرنا جب وہ خطبہ پڑھے اور اس نے کہا اور اس نے کہا کی طرف رخ کرتے تھے ابوسعید

بِإِخْرَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَجْلِسَ اتَّيْتُهُمْ يَوْمَ عَلِيٍّ الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ بَابُ مَرْقَالٍ فِي الْخُطْبَةِ تَعْدُ

خدیجہ سے روایت ہے کہ نبی صلعم اپنے منبر پر بیٹھتے تھے اور ہم آگے بیٹھتے تھے

الشَّاءِ أَقْبَلَ بَعْدَ رَأْيِهِ عَرَفَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۳۳۸) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (مُتَكَرِّرًا ۵۴۷)

اما بعد کہ اسے عکس میں نبی صلعم سے روایت کیا ہے

عَلَى الْفَاظِ وَاسْتَأْذَنَ
يَوْمَ مِيلَانِ التَّأْدِينِ
الثَّانِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ
أَمْرَهُ عَثَانَ حِينَ
كَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ
كَانَ التَّأْدِينُ يَوْمَ
الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ
الْإِمَامُ مِمَّا بَيْنَ أَزْوَاجِ
تَانِي كَمَا يَرَى تَحْيِيْرُ كَوْشَلِ
نَسَبِيْنَ كَيْفَهُ عَمَّا
كَرِّرَ وَاسْتَأْذَنَ كَمَا
نَمْرُ ۵۴۱ كَمَا يَرَى
بَسْمِ الْخُطْبَةِ تَعْيِيْرُ
أَمْرٍ يَوْمَ مِيلَانِ
الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ يَوْمَ
يَوْمِ كَسْرَةِ قَائِمٍ يَوْمَ
عَمَّا
بِهِا نَمْرُ ۵۴۲
كِيَسْتَأْذِنُ شَرْعِيًّا
كَيْفَهُ مَعْنَى زِيَادَةِ
أَوْ رَأْيِهِ يَوْمِ نَمْرٍ
سَهَانَ رَجُلًا إِذَا سَهَلَ
أَبْنُ سَعْدٍ السَّاعِدُ
وَقَوْلُهُ تَوَدَّقُوا الْمِنْبَرَ
مَعْنَى عُدُّوا فَسَالُوا
عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ
الْإِسْلَامِيُّ لَعَرَفَ مَا
هُوَ وَقَدْ رَأَيْتُهُ

یوم وضع واقل یوم جلس علیہ رسول اللہ صلعم اور رسول اللہ صلعم الی فلا تماراة من الاضار قد سماها سهل مری خلاص الفاران یعمل فی احوال اجلس علیہن اذا کلمت الناس فامرتہ فخلها من طرفاء البنا ثم جاءها فارس فاسلحت الی رسول اللہ صلعم فامرہا فوضعت ہذا ثم لیت رسول اللہ صلعم علیہا وکرر علیہا ثم کتب ثم نزل الفقہری فیہ فی اصل المنبر ثم عاد فلما فرغ اقبل علی الناس فقال ہما الناس فما صنعت ہذا لانا تو ابی ولتعلوا اصلا فی نبیہا و نجا کلوا ہر کر نماز پڑھنے کی اور مجھ سے بیکے وقت پیچھے بیٹھنے کی وجہ تہدی۔ قال وجعل اللہ سے ازینک میں نہیں منگے مولانا دم نے خوب کہا کہ یہ فلسفی کو منکر نشانہ بہت ہے اور اس میں نیبا بیگانہ بہت ہے کڑی کی اس روئے کی اور انکا حضرت صلعم نے انہی میں کاشفہ کے ساتھ ساتھ جو عام آدمیوں کو نہیں ہے اور یہ ایسا بد بخت کاشفہ تھا کہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا ذکے سننے کیلئے ہی جو اس میں لگے وہ کاشفہ شروع میں ہی جملہ زائد ہی سمعت النبی صلعم خطب علی المنبر جرے عزان بابہ۔ الفاظ پر تیار ۳۱۶ ع ہے اسکا نام بخاری عہد مستقیمین صل کیا ہے وہ منگے پہلے خطبے کے بعد پیچھے بیٹھتے ہیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ خطبہ کچھ آرام کے اور پہلے خطبے میں اگر کچھ بھی ہو گئی ہو تو اسے دوسرے خطبے میں پورا کرنے سے صرف تم نہیں ہے وہ منگے اس طرف رخ کرنے میں یہ سمجھائیے کہ خطبہ کو فضول نہ سمجھیں بلکہ پڑھنے سے ان اشخاص کو نہیں خطبے سے ہی نماز جمعہ کی اہمیت ہے۔ اور فاسحا الی ذکر اللہ میں ذکر اللہ کے بعد خطبہ لیا گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ امام کو چاہیے کہ دائیں بائیں بیٹھے یعنی اپنی طرف میں سارے سامعین کو دیکھ کر لکھے۔ اگر وہ محض سہم کے طور پر چند لفظ پڑھ دیتا ہے تو اس سے سامعین کو کچھ فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اور نہ جمعیہ کو عرض ہوتی ہے کہ وہ ہاتھوں عربی زبان میں خطبہ پڑھ دینا بالکل بے معنی ہے۔ اس باب میں سب سے حدیثیں لئی گئی ہیں۔ جن میں یہ ذکر ہے کہ حضرت صلعم نے خطبے کا یہی عظیم اما بعد کہا منہ فیئہ کا مضمون دوسرا ہے۔ اللہ شہد کہ تم نے کچھ بھی لیا نہیں۔ اور باقی خفیف تغیر لفظی ہے۔ شریح کا حصہ یہ کہ عن اسماء بنت ابی بکر حالت حجلت علی عائشہ والناس یصلون قلت ما شان الناس فاشارت براسہا الی السماء فقلت ایتہ فاشارت براسہا الی ہما فقلت فاطما رسول اللہ صلعم جلا حتی تجلانی الغشی الی الوجہی ثم فریما ما ہد فخطبها فجمعت اصب مترا علی لیس فاقترت رسول اللہ صلعم وقد جلعت الشمس فخطب الناس فجل اللہ جاہوا لہ ثم قال اما بعد اللہ لیت ولتعلو نسو من الاضار فاکفوا لہم ان لا سکتمہن فقلت لعلتہ فاقال قالت قال اللہ حدیث کی بحث نمبر ۷ کے نوٹ میں دیکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلعم کے عہد میں عورتیں صرف ان کو فریض کی جماعت میں شریک ہوتی تھیں۔ بلکہ تو ان کی اتفاقی جماعتوں میں بھی ان کو شریک ہوا کرتی تھیں۔ نیز یہاں ان میں ساری کا یہ قول ہے جو نمبر ۷ میں نہیں قال هشام فقلت قالت لی فاطمہ فادعیتہ غایر انہا ذکر ت ما یخط علیہ یعنی ہشام نے کہا کہ فاطمہ کی ساری میں میں خطبہ لکھی۔ لیکن ہشام نے یہ جو سختی کا اس ذکر کیا اسے حفظ نہ کر سکا اس کی روایت میں الفاظ اما بعد کے ہیں اور یہی عزان ہے

جلد ۳۳۲
 کے الفاظ یہ ہیں کہ
 النبی صلعم خطب
 خطبتین بقعد
 بینہما + دیکھو حدیث
 نمبر ۵۳۳ پر نوٹ +
 جگہ نمبر ۵۳۳
 کو اختیار اور لفظ
 تفسیر کے ساتھ دہرایا
 ہے قال النبی صلعم
 اذا کان یوم الجمعة
 وقتت الملائكة
 علی باب المسجد
 یکتبون الا قول
 قالوا ومن مثل
 المہجور کما ان
 یمدی یدہ ثم
 کالذی یمدی
 بقرۃ ثم کبشا
 ثم دجالۃ ثم
 بیضۃ فاذا خرج
 الامام طوقوا عنقہ
 ولیس معین الذکر
 یعنی جمعہ کے دن
 فرشتے سمجھ کے دروازے
 پر کھڑے ہوتے ہیں
 اور پہلے آنے والے
 کو پہلوں میں کھینچتے ہیں
 اور سب کے انہاں ایسا ہی
 جیسے کہ وہ جوارش کی
 قزاقی تازی بھڑوچ
 لگاتے کی قزاقی تازی بھڑوچ
 پھر مینڈھے کی -
 پھر مرغی کی - پھر
 انڈیا - جب امام قاضی
 ہے تو اپنے فرقہ پریش
 لیتے ہیں - اور ذکر
 لینے خطبہ سنتے ہیں
 انہی آخری الفاظ
 سے عثمان باجیس -
 اور فرشتوں کا

بَابُ الْقَدِّ بَيْنَ الْخَطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (مكرر ۳۳۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (منكر ۵۳۳)
 باب جمعہ کے دن دو خطبوں کے درمیان بیٹھنا دیکھو حدیث نمبر ۵۳۳ جگہ

بَابُ اَلَا سْتَعْرَابِي الْخُطْبَةِ (مكرر ۵۳۳) عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ (منكر ۵۳۳) اِذَا
 باب خطبہ غور سے سننا دیکھو حدیث نمبر ۵۳۳ جگہ

رَأَى اَلَا مَا مَرَّ جُلُوجًا وَهُوَ يَخْطُبُ امْرَاةٌ اَنْ يَصِلَ رِكَعَتَيْنِ (۵۳۴) عَنْ جَابِرِ بْنِ
 امام کسی شخص کو دیکھے کہ آیا اور وہ خطبہ پڑھتا ہے اسے حکم ہے کہ دو رکعتیں پڑھ لے جابر بن

عَبْدُ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ
 عبد اللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا اور نبی صلعم لوگوں کو جمعہ کے دن خطبہ بنا رہے تھے تو فرمایا

اَصْلَيْتَ يَا فُلَانُ فَقَالَ لَا قَالَ فَمَنْ جَاءَ مِنْ جَاءٍ وَاَلَا مَا مَرَّ يَخْطُبُ صَلَّى
 اسے فلاں تو نے ناپڑھی ہے یا نہیں فرمایا اللہ اور پڑھ باب جو آئے اور امام خطبہ پڑھ رہا ہوتو

رِكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ (مكرر ۳۳۶) عَنْ جَابِرِ (منكر ۵۳۴) بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي
 دو مختصر رکعتیں پڑھ لے دیکھو حدیث نمبر ۵۳۴ جگہ

الْخُطْبَةِ (مكرر ۳۳۵) عَنْ اَنَسِ (منكر ۵۳۸) اَلَا سْتَسْقَاءُ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
 دیکھو حدیث نمبر ۵۳۵ جگہ باب جمعہ کے دن خطبہ میں بارش کی دعا کرنا

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَتَجَبَّ
 انس بن مالک سے روایت ہے کہ لوگوں پر نبی صلعم کے زمانہ میں قحط پڑا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَامَا عَرَابِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَاكَ الْمَالُ وَ
 پس جب نبی صلعم جمعہ کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے تو ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ ہلاک ہو گیا مال

جَاءَ الْجِبَالُ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ فِرْعَانَ الَّذِي نَفْسِي بِهِ
 بال بچے بھوکے ہیں سوائے ہمارے لئے دعا کیجئے تو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور میں آسمان میں بارگاہ کوئی نگاہ میں نظر آتا تھا میں اس قسم کے باتیں

مَا وَضَعَهَا حَتَّى تَارَ السَّحَابَ اَمْثَالَ الْجِبَالِ ثُمَّ لَمْ يُزَلْ عَنْ مَنبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ
 اسے اپنے ہاتھ نیچے نہیں کھینچ کر بارشوں کی طرح ہول مند آئے اور پھر آپ منبر سے اترے نہیں باغے تھے

الْمَطَرِ يَتَكَدَّرُ عَلَى رِجْلَيْهِ فَيَطْرُقُ يَوْمَئِذٍ اُولَئِكَ وَمِنَ الْغَدِ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ وَالَّذِي
 کہ آپ کی ریش (مبارک) سے میرے پاس پانی ٹپکتا ہوا دیکھا پس ہم برائے دن بارش ہوتی رہی اور اگلے دن اور اس سے اگلے دن اور اس سے اگلے دن

يَلِيهِ حَتَّى الْجُمُعَةِ الْاُخْرَى فَقَامَ ذَلِكَ الْاَعْرَابِي اَوْ قَالَ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا
 دو سے جزینک تو وہی دیہاتی یا کما کوئی دوسرا کھڑا ہوا اور کہا

رَسُولَ اللَّهِ تَهْدِمُ الْبِنَاءَ وَغَرِقَ الْمَالُ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ
 یا رسول اللہ عمارتیں گر گئیں اور مال غرق ہوا سو ہمارے واسطے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے تو آپ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا

اللَّهُمَّ حَرِّمْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَمَا لَيْسَ بِيَدِنَا اِلَّا نَاجِيَةٌ مِنَ السَّحَابِ اِلَّا اَنْفَرَجَتْ
 اے اللہ ہمارے اور گرد اور ہم پر نہ ہو تو آپ نے ہاتھ سے ابر کی کسی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا

خطبہ سننا ہی ہے کہ وہ کسی تاثیر سے زمین کے کل میں پیدا کر دینے کے تیار نہیں بلکہ وہ اسے توہم سے سنیں جو لوگ جمعہ کے خطبہ میں شامل نہیں ہوتے وہ نماز جمعہ کی فرض کو پورا نہیں کرتے +
 جگہ دو باب پیشے میں پیش ہے کہ امام انبیولہ کو کہہ کے دروگت نماز پڑھ لو یہ اس صورت میں ہے کہ وہ خود نہ پڑھے اور اس میں بائیں ہاتھ یا کہ انبیولہ کو کہہ کر پڑھے۔ نمبر ۵۳۴ میں تاکہ آپ نے
 فرمایا ہم فارکھ ہواں پر ہم فصل رکعتیں یعنی دروگت کا مرتبہ سے ذکر ہے جگہ یہ حدیث فصل نمبر ۵۳۸ پر آتی ہے۔ یہاں صرف اس کا ایک کلمہ ان الفاظ میں جو بیابا النبی صلعم خطبہ پھر
 اجمعہ اذا قام رجل فقال يا رسول الله هلك الكراع هلكت اثمنا فادع الله ان يقينا فمد يديه ودعا - كرام محمودة - شاہ برابن - طلبت خطبہ میں تھا اٹھا اور کہا جی جائز ہے +

وَصَارَتْ الْمَدِينَةُ مِثْلَ الْجَزِيرَةِ وَسَأَلَ الْوَادِي قَنَاءَ شَهْرًا وَلَمْ يَجْعَلْ أَحَدًا مِنْ أَجْمَعٍ
 اور مدینہ ایک تالاب کی طرح ہو گیا اور قنات کا نالہ مہینہ بھر نہ بنا اور جس طرف سے کوئی آتا ہی غمزدگ
 لَا حَدَّثَ بِأَجْمَعٍ إِلَّا نَصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْأَمَامُ يُخْطَبُ وَإِذَا قَالَ
 خوب باتیں ہوتی ہے علم باب جمعہ کے دن خاموش رہنا جب امام خطبہ پڑھے اور جب
 لِصَاحِبِهِ نَصَتْ فَقَدْ لَغَا وَقَالَ سَلْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنصِتُ لِمَا
 اپنے ساتھی کے چپ رہ تو یہودہ کام کیا اور سلمان نے نبی صلعم سے روایت کی ہے جب امام پہلنا شروع کر دے تو خاموش رہے
 تَكَلَّمَ إِلَّا قَامَ (۵۴۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ
 ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا جب تم
 لِصَاحِبِكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ نَصَتْ وَالْأَمَامُ يُخْطَبُ فَقَدْ لَغَوْتَ يَا أَيُّهَا السَّاعِرُ الْتَمِي
 جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے چپ رہ اور امام خطبہ پڑھ رہا ہو تو تونے بیہودہ کام کیا علم باب وہ گھڑی جو
 فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ (۵۵۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
 جمعہ کے دن میں ہے ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے جمعہ کے دن کی ذکر کیا
 فَقَالَ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُؤْفَقُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهِيَ قَائِمٌ صَلَّى يُسْأَلُ اللَّهُ شَيْئًا إِلَّا
 تو فرمایا اس میں ایک گھڑی ہے جب کوئی مسلمان یہ کہے اسے اور وہ اٹھ اٹھاتا ہوا نماز پڑھتا ہو تو جو کچھ وہ اللہ سے مانگے
 أَعْطَاهُ آيَاتُهُ وَأَشَارَتُهَا يَقْبَلُهَا لَهُ سَائِرٌ إِذَا انْقَرَأَ النَّاسُ عَنِ الْأَمَامِ فِي صَلَاتِهِ
 وہ اسے دیدیگا اور اپنے اللہ سے اشارہ کیا کہ وہ غمزدگی ہے علم باب جب ہماری نماز میں (کچھ) لوگ غلام کو چھوڑ کر چلے جائیں
 الْجُمُعَةِ فَصَلَاةُ الْأَمَامِ وَمَنْ بَقِيَ جَاهِلٌ (۵۵۱) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
 امام اور ان لوگوں کی نماز جو رہ گئے صحیح ہے علم جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے
 بِيَمَانٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَبِلْتَ عِدْرًا تَحْمِلُ طَعَامًا فَالْتَقِنُوا إِلَيْهَا حَتَّى الْبِقِي
 جب وقت ہم نبی صلعم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے اچانک ایک قافلہ گذرے ہوئے آگیا تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے یہاں تک کہ
 مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنَا عَشْرٌ رَجُلًا فَذَلْتُ هَذِهِ الْآيَةَ وَإِذَا رَأَيْتَ تِجَارَةً أَوْ
 نبی کریم صلعم کیساتھ صرف بارہ آدمی رہ گئے تو یہ آیت اتاری اور جب تجارت

علم نبی کریم صلعم کی قبولیت دعا کا معجزہ ہے۔ اور آپ نماز استسقاء بھی سکھایا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ امت میں بھی ایسے لوگ ہوتے رہتے ہیں۔ چکی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے اس قسم کے خاتر عبادت امور اب بھی دکھانا رہتا ہے اور اگلے سے اگلے باب میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی قبولیت دعا کی بھی ہوتی ہے۔ علم اپنے خود بولا اور دوسرے کو چپ رہنے کی ہمت کی۔ سماع مطر ایک دوسرے کو کہیں تو اور زیادہ شوق کا احتمال ہے۔ امام کہہ سکتا ہے علم اس گھڑی کی تعین میں اختلاف ہے کہ فریج الباری میں اس کے متعلق اوتیس قول نقل کئے ہیں اور

ہر ایک قول کو ہی کریم صلعم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے اور یہی کہا گیا ہے کہ یہ گھڑی پہلے تھی اب نہیں اور بعض نے کہا ہر سال بھر ایک جمعہ میں ہوتی ہے۔ اور فریج الباری میں ذکر اس گھڑی کی تعین میں جس قدر شبہات ہیں ان میں سے دو سب صحیح ہیں (نمبر) یہ کہ گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے اور نماز سے فارغ ہو چکے دوستان کو (نمبر) یہ کہ وہ عسکر اور عروہ کے کتابت درسیا ہے۔ اور اس حدیث میں جو وہ وقت نام لیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے کا وقت ہے۔ اور خطبے کا اور عسکر کے بعد عروہ کا وقت ہے۔ اور نماز کا نہیں صلوات علیہ کہ اس گھڑی کا تعلق طیب صانی سے ہے جو فدائی راہ میں کوشش کرتا ہوا اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص چوس میں گھنٹے بجا بھی لکھتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ساعت سے ل جائے بلکہ اسے اپنے کا خاصا اسکے دل کے ضروع و شریع کی حالت پر ہے۔ اور ہم اپنی کوشش سے اس تک پہنچ سکے ہیں۔ جمعہ کے دن ظالم اور باطنی صفاتی کا خاص طور سے اہتمام کیا جاتا ہے۔ جس کا اثر فریج الباری اور وہ خلافت میں حاصل تھی اور پھر جماعت اور اجتماع سے فریج آمد میں درج بھی ہوتی ہے۔ تو آسن ایسی پاک دھن کی دعا سب کمال قرب حاصل کی تو کوہ اپنی طرف کھینچتی ہے اور قریبہ محبوب مذکور اجات باطنی عاقل کا استقبال کرتی ہے۔ اور فدائی برکات نازل ہوتی ہیں۔ ایسا اتفاق خطبے کے وقت جو نماز میں جو عسکر کے وقت جو وہ ضلع نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ دعا کو سن لیتا ہے۔ اس کو تیسری مرتبہ عرض نہیں ہوتا کبھی وہ گھڑی ایک وقت ہاتھ لگی کبھی دوسرے وقت۔ تو یہی نہیں سکتا کہ کوئی خاص وقت دعا کے واسطے مقرر ہوا ہے۔ اختلاف انان اور اختلاف مطالعہ لکھی ہوئے جیسے کا دن بھی مختلف ہوتا ہے۔ کہ کبھی طلوع اور عروبہ میں بھی اختلاف پڑتا ہے۔ تو جسے کہ دن اور وقت کے اختلاف کی وجہ سے کسی خاص وقت کا تقریباً ہی نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی دعا تو ساری ٹیکے مسلمانوں کے لئے نہ ہوگا۔ بلکہ کسی خاص اہمیت کے لئے ہوگا جو یہ معنی ہے۔ وہ ساری بات یاد رکھنے کے قابل ہے۔ کہ یہاں فرمایا جو کچھ مانگے وہ آج دیا جاتا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے ہاتھ جو شہید ہوئے تھے اللہ نے فرمایا کہ میں تم سے خوش ہوں۔ ہاں لوگوں میں عمل لگا۔ تو اسے خواہش کہ مجھے پھر زندہ کر کے دنیا میں بھیجا جائے۔ تاکہ پھر شہادت حاصل کروں تو فرمایا یہ پیکر عروہ کے خلاف جو پیکر چڑھ گیا ہے اور لگا دیا جاتا ہے۔ تعالیٰ کے وعدے اور کلمہ کلمات نہیں دہری لیا گیا۔ علم اس باب کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ جسے کی محنت کیلئے جماعت کی کوئی خاص تعداد شرط نہیں خاص تعداد کے متعلق فریج الباری میں پندرہ اول نقل کئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس سے کم امام کے ساتھ تین ہونے چاہئیں۔

لَقَوْلِ نَفْسِهِ اِيْمَانًا وَتُرْكُوْنَا قَارِئًا وَابَابِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَقَبْلِهَا (۵۵۲)

کہیں دیکھتے ہیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور کچھ کہتا چھوڑ دیتے ہیں علم باب جمعہ کے بعد نماز اور اس کے پہلے علم
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظَّهْرِ رَكْعَتَيْنِ

وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ
اور اس کے بعد دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور مغرب کی نماز کے بعد دو رکعتیں اپنے گھر میں اور عشاء کی نماز کے بعد دو رکعتیں اور

لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بِبَابِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
جمعہ کے بعد پڑھتے ہیں اب تک کہ (گھر) لوٹ جاتے تو دو رکعتیں پڑھ لیتے باب اشہد انزل کا قول

وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (۵۵۳)

پس جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور خدا کا فضل تلاش کرو
عَنْ سَهْلِ قَالَ كَانَتْ فَيَدًا أَمْرًا أَنْ تَجْعَلَ عَلَى أَرْبَعَاءٍ فِي مَرْزَعَةٍ أَوْ سَلْفًا

فَكَانَتْ لِذَاكَ كَانَ يَوْمًا الْجُمُعَةَ تَنْزِعُ أَصُولَ السَّلِقِ فَيَجْعَلُهُ فِي قَدْرٍ ثُمَّ يَجْعَلُ
تو جب جمعہ کا دن ہوتا ہے ہم میں ایک عورت تھی کہ اپنے کھیت کی کانالیوں پر چھند لگاتی تھی اور

عَلَيْهِ قُبْضَةٌ مِنْ شَعِيرِ طَوْحُنٍ فَتَكُونُ أَصُولَ السَّلِقِ عَرْقَهُ وَكَانَ يَنْصَرِفُ مِنْ
اس پر چھتی پھر جو کا آٹا پکے ڈالتی تو چھند لگتی جو میں گویا اس میں پوٹیاں ہوتیں اور ہم جمعہ کی نماز سے لوٹ کر

صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَسَلِمَ رُكُوعُهَا فَقَرَّبَ ذَلِكَ الطَّعَامَ لِيَنَا فَنَلَقَهُ وَكُنَّا
اس پر سلام کرتے تو وہ یہ کھانا ہمارے پاس لاتی تو ہم اسے چاٹ لیتے اور اس کے

نَتَمَتْنِي يَوْمًا الْجُمُعَةَ لَطَعَامِهَا ذَلِكَ (وَأَدْرِي رَوَايَةً) فَالْكَانَتْ تَقْبِيلٌ وَلَا تَعْدِي لِأَبَدِ الْجُمُعَةِ
اس کھانے کے لئے ہمیں چمچے کے دن کا خیال ہوتا ہے اور ایک روایت میں زیادہ کہا ہے کہ ہم نے قبول کر کے اور نہ صبح کا کھانا کھاتے مگر جمعہ کے بعد

أَيُّهَا الْقَائِلَةُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ (۳۳۹) عَنْ أَبِي (مُتَكَرِّرًا ۵۵۳) عَنْ سَهْلِ (مُتَكَرِّرًا ۵۵۳)

باب جمعہ کے بعد قبول کرنا دیکھو حدیث نمبر ۵۵۳ دیکھو حدیث نمبر ۵۵۳

علم اس تعداد کے مستقل روایت میں اختلاف ہے۔ اور قاضی میں پائیس کی روایت ہے۔ لیکن بارہ کی روایت کو معتبر سمجھا گیا ہے۔ جو سکتا ہے کہ از روئے اصول روایت بارہ کی روایت صحیح ہو۔ لیکن درنا کی روایت صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ وقت حدیث میں ایضا کی تعداد کا فی حق اور ہمارے جین کی تعداد بھی خاصی تھی اور جمعہ میں سب شریک ہوتے تھے اور تمنا الی ذکر اللہ و ذرولہ اللعیم میں خطہ سننا ضروری قرار دیا گیا ہے اور تجارت حرام۔ پس جن لوگوں نے اپنی قرآنیاں لیں کہ اپنی جائیدادوں کو خدا کیلئے چھوڑا اور اپنے عزیزوں سے شہ وادوں سے اور بیویوں تک کو چھوڑا اور زمینوں سے صرف اسلام کی محبت کرے جو

سے ہمارے جین کو چھوڑ دی اور انہوں نے وہ یوں تو ان علیٰ نفسہم ولو کان ہم خصاصۃ کا نظارہ دکھایا۔ انکے مستقل یہ وہم بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ خطہ کو چھوڑ کر ایک فقیر جبر کے پیچھے گئے ہیں اور پھر نماز میں بھی شریک نہ ہوں۔ علاوہ ازیں اگر سورہ جمعہ کے آخری کورع کے سیاق و بیان کو مد نظر رکھا جائے تو یہ سمجھا آتا ہے کہ اس کی آخری آیت میں مؤمنین کا ذکر نہیں منافقوں کا جو۔ پہلی دو آیتوں میں یا ایہ الذین امنوا سے لیکر لکھ کر تعلق تک مسلمانوں کو مخاطب کر کے مہاباث ہی ہیں اور اس آخری آیت میں واذا راوا تجادوا فاناب کے صیغے استعمال ہوئے ہیں۔ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن کا ذکر اس آیت میں ہے وہ ان سے غیر ہیں۔ جو پہلی دو آیتوں میں مخاطب ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ منافق طبع اور دنیا پرست لوگ خدا کی اطاعت نہیں کرتے اور خطہ نہیں سنتے۔ فضول باتوں کے پیچھے تو لگ جاتے ہیں۔ مگر خدا کا ذکر نہیں سنتے منافق طرح خطبے میں شریک نہیں ہوتے تھے اس طرح وہ جنگ کے موقعوں پر بھی الگ ہوجاتے تھے۔ ۱۔ ۲۔ جمعہ سے پہلے نماز پڑھنے سے مستحق حدیث انبیا میں کوئی ذکر نہیں۔ یا تو امام بخاری نے اسے ظہر پر قیاس کیا ہے۔ اور ظہر کے پہلے آنحضرت صلعم دو رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ یا جاہل کی حدیث نمبر ۵۵۳ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جس میں ہے کہ ایک شخص آیا۔ اور رسول اللہ صلعم خطبہ پڑھ رہے تھے۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے نماز پڑھی ہے۔ اس نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا کہ اٹھ کر دو رکعتیں پڑھو ۴۔ ۵۔ سورہ جمعہ میں جمعہ کے متعلق تین آیتیں ہیں۔ تینوں میں جاتہ اور دنیاوی روزگار کا ذکر ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن ہر ایک قسم کا کاروبار جائز ہے۔ اور جمعہ رہبانیت کا دن نہیں۔ کہ انسان کو کشم میں بھیج کر صرف اللہ شاد کرے اور دنیاوی کاروبار کو ترک کرنے۔ ہاں اذان سے لیکر نماز کے ختم ہونے تک کاروبار چھوڑے اور آگے پیچھے کرنا ہے۔ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سبت کے خلاف ہے۔ جن کے ہاں ساتویں دن دنیا کا کام کرنا منع ہے۔ مگر وہ اس کو بناہ نہیں سکے ۴۔ ۵۔ ۳۳۹ و ۳۴۰ اور ۳۳۹ میں ۳۳۹ نمبر ۵۵۳ کا صرف وہ حصہ ہے۔ جو آخر پر دوسری روایت کی زیادت ہے۔ اول میں کنا فی ذکر یوم الجمعۃ شہ فقیر دوسری میں ہے کہ انصالی مع الذبی صلحہ الجمعۃ شہ تكون القائلۃ ۴۔ ۵۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں عورتیں دوکانداری بھی کرتی تھیں اور ان کا مردوں کو سود دینا یا مردوں کا ان سے سود لینا مجبوب نہ تھا +

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللہ کے نام سے جو ہے انتہا رحم والا بار بار تم کو نواہے

۱۲ ابواب صلوة الخوف

نماز خوف کے باب

وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَقُولُوا عَذَابًا

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں عذاباً

مُهَيَّبًا (۵۵۳) إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مہینا تک علیٰ عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ

قَبْلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ وَصَافَقْنَا كَوْمًا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِجْلَيْهِ
نجد کی طرف جھاڑو کے مقابل ہوئے اور ہم نے ان سے لڑنے کیلئے صفیں باندھیں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

لَنَا فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَاقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ وَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
کھڑے ہوئے تو ایک گروہ کے ساتھ کھڑا ہوا اور ایک گروہ دشمن کے مقابل بر کھڑا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَرُّوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تَضِلْ
ساتھ تھے رکوع کیا اور دو سجدے کئے پھر اس گروہ کی جگہ پر چلے گئے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی

حِجَابًا وَوَرَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ رُكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ
اور وہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ رکوع کیا اور دو سجدے کئے پھر آپ نے سلام پھیرا پھر

كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَّكَ بِنَفْسِهِ رُكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ۖ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُوفًا
ہر ایک گروہ ان میں سے کھڑا ہوا اور ایک ایک رکوع کیا اور دو سجدے کئے اب خوف کی نماز کا بیان ہے

رُكْبَانًا فَارْتَجِلْ قَائِمًا (۵۵۵) عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَخَى مِنْ قَوْلِ مُحَمَّدٍ إِذْ اخْتَلَطُوا قِيَامًا وَرَأَى
سوار ہوئے ہر ایک حالت میں رکھ کر رکوع کرنے میں کھڑا ابن عمر سے روایت ہے محمد کے قول کی مانند کہ جب لوگوں میں دشمن سے ڈرے ہوئے ہوں تو

ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرًا مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا
کھڑے کھڑے پڑھیں اور اگر وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے زیادہ کیا اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو کھڑے کھڑے یا سوار کر نماز پڑھیں

۱۲ ابواب صلوة الخوف
صلوة الخوف کا
دو گونہ صلوة خوف کا
ذکر ہے۔ ایک اس
آیت میں ولذا اضربتم
فی الارض فلیس
علیکم جناح ان
تقصر وامن الصلوة
ان خضعتان یفتنکم
الذین کفروا الذین
۱۰۱۱ دوسرا فرض ہے
فی حالہ اور کیا
البقرة ۴-۱۰۳۹
طرف اگلے باب کے
عنوان میں اشارہ کیا
ہے۔ ۴۱۱۱ میں بھی
قرآن کریم کو ٹھہرایا ہے
اور حدیث کو اسکی
وضاحت کیلئے لائے
ہیں۔ اول الذکر آیت
سر حالت کو بیان کرتی
ہے۔ جب باوجود خوف
کے جماعت کا قیام
ہو سکتا ہے۔ دوسری
میراں حالت کا ذکر ہے
جب مقابلہ کی وجہ سے
قیام جماعت کا موافق
ہی نہیں ہر ایک اپنی
جگہ پر سیدل ہویا سوار
پڑھے گے جیسا اگلے
باب میں آتا ہے عرض
سفر میں خوف
ہو تو قصر اس میں بھی
ہے۔ اور یہی صلعم
کے عمل اور عادت سے ثابت ہے۔ جیسا کہ ابوداؤد نے اپنی مسلم میں اس کی روایت ہے فرضاً اللہ الصلوة علی لسان نبيکم فی الحضر والبعاد فی السفر رکعتین وفي الخوف رکعة۔ گویا
نماز کی صورت ہی ہے کہ جن نمازوں میں ہر نماز میں چار رکعت ہیں سفر میں دو رکعت ہیں۔ اور تو ان کریم نے بھی اس سے الٹی آیت (یعنی الذکر ۱۰۲) میں اسکی طرف اشارہ کیا ہے۔ لیکن جہاں مقتدی ایک
ایک رکعت پڑھتے ہیں۔ امام دو رکعت پڑھتا ہے چار نہیں پڑھتا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تک کہ دو رکعت ہو سفر میں اور دو سے ایک یہ خوف ہوئی۔ ہاں اسکی خواہش آیت میں دو رکعتیں ہیں اولیٰ تم سفر
کی حالت میں ہو دو رکعت خوف ہو۔ خوف کی حالت میں نماز کی کوئی صورت میں مختلف عادتیں ہوتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خوف کے عمل کے لحاظ سے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب دیکھا اسے یہ طرح
نماز پڑھادی اسلئے کہ جیسا کہ پیش آئے ہیں ان میں سے جو صورت مناسب ہوتی ہے اسکی ہی جائز ہے۔ اسلئے کہ یہ ہندی کو کھتے ہیں اور وہ اس حد تک نام کی وجہ سے طویل اور سخت ہوتی ہے اور سفر میں رکعتوں کی
سفر میں رکوع کا ذکر ہے وہ غرضہ فوات الرکوع ہے۔ صورت نماز میں یہ جاتی ہے کہ کل فوج دھوسو تقسیم ہوگی۔ ایک حصہ دشمن کے مقابل بر کھڑا رہے۔ دوسرے ایک کھتے ہیں صلعم کے ساتھ پڑھیں۔ پھر دشمن
کے مقابل پر چلا گیا اور اپنے نے دوسری کھت نماز کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مانگی اور آخر پر ہے کہ ہر ایک گروہ نے ایک ایک کھت خود اپنے طور پر کیلئے کیلئے پڑھی ہے۔ تاکہ ہر صورت میں اللہ کی حمد ہو اور اللہ کی
یوں ہے۔ کہ جو گروہ پیچھے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تھا اسے اپنی دوسری کھت پوری کر لی۔ پھر دشمن کے مقابل پر چلے گئے تو پہلے نے ہٹ کر اپنی رکعت پوری کر لی۔ اسلئے کہ ہر کھت کے قول کی رعایت سے ہر ایک
کی ہر کھت کے الفاظ ہیں عن محمد قال اذا اختلطوا فانا هو الاشارة بالراس یعنی جب دشمن کے ساتھ لڑائی میں آئے ہوں تو صرف سر کے ساتھ اشارہ کر لیا کہ اتنی ہی اور نافع ہے ابن عمر سے مجاہد کے قول کی
طرح روایت کیا ہے جیسے الفاظ میں اذا اختلطوا فانا هو الذکر والاشارة بالراس اور یہ دونوں باتیں موقوف ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقوف نہیں لانا اختلطوا کے بعد جو قیام کا ریا تیبی ہے (۱۰۳)

۵۵۳

۵۵۵

عذاباً

عذاباً

عذاباً

عذاباً

عذاباً

عذاباً

(تقریباً صفحہ ۲۲۹) غلط ہے وہ نہ جاہد کی رسالت میں آیا اور ذابین عمر کی روایت میں - غالباً وہ فاتحاً ہوا لا شافہ بالراس کی جگہ بطور غلطی لکھا گیا ہے اور کچھ کچھ غلطی غلطی سے اشارے سے - اسدائز عمر کی حدیث مرفوع کا مطلب یہ ہے - اگر دشمن زیادہ ہوں اور ایک گروہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور فوج کی تقسیم میں دشمن کا خوف زیادہ ہو تو اس طرح جاہل کھڑے کھڑے اور ساری یہ نماز پڑھیں ظاہر ہے کہ یہ بھی اشارہ ہی ہو سکتی ہے

باب یحرس بعضهم بعضاً فی صلوة الخوف (۵۵۵) عن ابن عباس قال قام

ابن عباس سے روایت ہے کہ

النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكثر وكبر وأمعده وركع وركع ناس

نبی صلعم کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے تو آپ نے آگے ساتھ اسدرا کہا اور آپ نے رکوع کیا

ثم سجد وسجد وأمعده ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحسوا آخرهم

اور ان میں سے کچھ لوگوں نے آگے ساتھ رکوع کیا اور آپ نے سجد کیا اور انہوں نے آگے ساتھ سجد کیا پھر آپ نے رکعت کی پہلے کھڑے ہوئے تو جنہوں نے سجد کیا اتنا وہ

والت الطائفة الأخرى ركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلوة ولكن

کھڑے ہو کر اپنے جہازوں کی حفاظت کرنے لگے اور دوسرے گروہ آیا تو انہوں نے آگے ساتھ رکوع اور سجد کیا اور سب لوگ نماز میں تھیں

يحرس بعضهم بعضاً باب الصلوة عند المناهضة الحصىون وإلقاء العدو

بعض بعض کی حفاظت کرنے کے باب نماز جب تلگوں کے نچ کرنے کی امید ہو اور دشمن کا مقابلہ ہو سکا ہو

وقال له وذاعى ان كان هيباً القتم ولم يقدرُوا على الصلوة صلوا إيماناً كل

اور اور ازا محی کہتے ہیں اگر نزع قریب ہو اور نماز ادا نہ کر سکیں تو پھر نفس ایلا اشارہ سے نماز پڑھے

أمرى لنفسه فان لم يقدرُوا على الأيداء آخروا الصلوة حتى ينكشف القتال

اور اگر اشارہ سے یہ قدرت نہ رکھتے ہوں تو نماز کو تاخیر میں ڈالیں یہاں تک کہ لڑائی ختم ہو جائے

أولاً منوا فيصلوا ركعتين فان لم يقدرُوا وصلوا ركعة وسجدتين فان

پہلے میں ہو جائیں تب دو رکعتیں پڑھیں اور اگر وہ یہ قدرت نہ ہو تو ایک ہی رکوع اور دو سجدے کریں اور اگر

لم يقدرُوا وأقلاً يحز لهم التكمير وتوخرونها حتى يأمنوا ويدم قال فحول

(یہ جہی) نہ ہوئے تو انہیں مرف تکیہ و تخریم کافی نہیں اور (نماز کو) تاخیر میں ڈالیں یہاں تک کہ آپ میں ہو جائیں اور یہی کھول لیں

وقال الحسن بن مالك حضرت مناهضة حصن سدر عند اضاءة الفجر

اور اس میں مالک نے کہا میں نے جب حصن سدر کی چٹائی میں سجدہ کیا

واللهذا اشتعال القتال فلم يقدرُوا على الصلوة فلم يصلوا إلا بعد ارتفاع

اور لڑائی کی آگ تیز ہو گئی تو وہ نماز نہ پڑھ سکے پس آپ نے مرفین پڑھنے کے بعد نماز پڑھی

النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا قال الحسن بن مالك وما كسرني

اور ہم نے اسے فتح کیا اور ہم ابو موسیٰ کے ساتھ تھے پھر وہ (صلو) پڑھنے کے نچ ہو گیا اس لئے کہ میں

بعضنا بعضاً في صلوة الخوف (متكرر ۳۹۲)

اور اس نماز کے عرض میں ساری نما اور جو کچھ اس میں ہے خوش نہیں کر سکتی

دیکھو حدیث نمبر ۳۹۲

کے

کے

کے

کے

بَابُ الْحَرَابِ وَالذَّرَقِ يَوْمَ الْعِيدِ (۵۵) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ

عید کے دن برہمچاریوں اور ڈھانسیوں کے ساتھ حضرت عائشہ سے رات کو میرے پاس بیٹھی

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارَتَانِ تَغَيَّبَانِ بِغَنَاءٍ بَعَاتٍ فَاصْطَبَعَهُ عَلَى

صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا اور میرے پاس دو لڑکیاں جنگ بھات کا لہنگا رہی تھیں انہیں تو آپ نے چھوئے پر لیٹ گئے

الْفِرَاشِ وَحَالَ وَبِهَا وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ مَرْقَاةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ

اور اپنا منہ پھیر لیا اور حضرت ابو بکر نے لایا تو مجھے جہر کا اور فرمایا نبی صلعم کے پاس شیطان کا رگ؟

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعَا

تو نبی صلعم نے ان کی طرف منہ پھیر کر فرمایا انہیں چھوڑ دو

فَلَمَّا غَفَلَ عَنِّي تَهَاخَرْتَا وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالذَّرَقِ وَالْحَرَابِ

تو جب آپ کی توجہ ہٹ گئی میں نے انہیں اشارہ کیا وہ دونوں ہل گئیں اور عید کا دن تھا حبشی ڈالوں اور برہمچاریوں کا کھیل رہے تھے

فَأَمَّا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا قَالَ كُنْتَهُنِ نَتْنَيْنِ فَقُلْتُ لَعَمْرُ

کیا دیکھنا چاہتی ہو میں نے کہا ہاں تو مجھے اپنے بیٹھے لگا کر دیا

وَرَاءَهُ خِدْمَةٌ عَلَى خِدْمَةٍ وَهُوَ يَقُولُ وَتَكُنَّ يَا بِنْتِي زَفْدَةً حَتَّى ذَا بِلْتٍ قَالَ لِي حَسْبُكَ

اور میرا اشارہ آپ کے رخسار پر تھا اور آپ فرماتے تھے اسے بھی ارفدہ کھینچو یہاں تک کہ جب میں اتر گئی تو فرمایا بس بیٹھے کہا

لَعَمْرُ قَالَ فَاذْهَبِي بِبَابِ سَنَةِ الْعِيدَيْنِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ (۵۵) عَنِ الزَّوْجِ

ہاں فرمایا تو جاؤ باب اہل اسلام کے لئے دو دنوں عیدوں کی سنت میرا سے روایت ہے

قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَقَالَ لَنْ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نَضَلِّي

کہا میں نے نبی صلعم کو پہلے فرمایا اور وہ فرمایا پہلا وہ کام ہے آج کے دن شروع کرنے میں ہے کہ نماز پڑھیں اور

نَمْرُ لَوْ جَمَعْتُمُ مِمَّنْ فَعَلْ فَقَدْ صَابَ سُنَّتَنَا (۳۴) عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَرِّرًا ۵۵)

اچھ لڑکیوں اور قرظیوں کو کہیں تو جینے (اس طرح) کیا وہ ہماری سنت پر چلا دیکھو حدیث نمبر ۵۵

بَابُ الْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ (۵۹) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

باب عید الفطر کے دن (عید گاہ کو) کھانے سے پہلے کھانا انس بن مالک سے روایت ہے

لَا يَجِدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمْرَاتٍ (وَزَادَنِي رَوَايَةً) وَيَأْكُلُ مِنْ وَرَاءِ بَابِ الْأَكْلِ يَوْمَ الْخُرُوجِ (۳۴) عَنْ

عید الفطر کے دن نہ کھانے یہاں تک کہ کھجوریں کھاتے (اور ایک روایت میں ہے) اور طاق (عدد) کھاتے تھے باب بقر عید کے دن کھانا دیکھو حدیث نمبر ۵۹

بَابُ الْفِطْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ (۵۹) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

باب عید الفطر کے دن (عید گاہ کو) کھانے سے پہلے کھانا انس بن مالک سے روایت ہے

لَا يَجِدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمْرَاتٍ (وَزَادَنِي رَوَايَةً) وَيَأْكُلُ مِنْ وَرَاءِ بَابِ الْأَكْلِ يَوْمَ الْخُرُوجِ (۳۴) عَنْ

عید الفطر کے دن نہ کھانے یہاں تک کہ کھجوریں کھاتے (اور ایک روایت میں ہے) اور طاق (عدد) کھاتے تھے باب بقر عید کے دن کھانا دیکھو حدیث نمبر ۵۹

بَابُ الْفِطْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ (۵۹) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

باب عید الفطر کے دن (عید گاہ کو) کھانے سے پہلے کھانا انس بن مالک سے روایت ہے

لَا يَجِدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمْرَاتٍ (وَزَادَنِي رَوَايَةً) وَيَأْكُلُ مِنْ وَرَاءِ بَابِ الْأَكْلِ يَوْمَ الْخُرُوجِ (۳۴) عَنْ

عید الفطر کے دن نہ کھانے یہاں تک کہ کھجوریں کھاتے (اور ایک روایت میں ہے) اور طاق (عدد) کھاتے تھے باب بقر عید کے دن کھانا دیکھو حدیث نمبر ۵۹

بَابُ الْفِطْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ (۵۹) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

باب عید الفطر کے دن (عید گاہ کو) کھانے سے پہلے کھانا انس بن مالک سے روایت ہے

لَا يَجِدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمْرَاتٍ (وَزَادَنِي رَوَايَةً) وَيَأْكُلُ مِنْ وَرَاءِ بَابِ الْأَكْلِ يَوْمَ الْخُرُوجِ (۳۴) عَنْ

عید الفطر کے دن نہ کھانے یہاں تک کہ کھجوریں کھاتے (اور ایک روایت میں ہے) اور طاق (عدد) کھاتے تھے باب بقر عید کے دن کھانا دیکھو حدیث نمبر ۵۹

بَابُ الْفِطْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ (۵۹) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

باب عید الفطر کے دن (عید گاہ کو) کھانے سے پہلے کھانا انس بن مالک سے روایت ہے

لَا يَجِدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمْرَاتٍ (وَزَادَنِي رَوَايَةً) وَيَأْكُلُ مِنْ وَرَاءِ بَابِ الْأَكْلِ يَوْمَ الْخُرُوجِ (۳۴) عَنْ

عید کے دن برہمچاریوں اور ڈھانسیوں کے ساتھ حضرت عائشہ سے رات کو میرے پاس بیٹھی صلے اللہ علیہ وسلم نے لایا اور میرے پاس دو لڑکیاں جنگ بھات کا لہنگا رہی تھیں انہیں تو آپ نے چھوئے پر لیٹ گئے اور یہ عید کا دن تھا۔ یہ صرف کھیل ہی کھیل نہیں تھا۔ بلکہ کھیل ایسا تھا جس سے قوت اور شجاعت اور چھپا کے ہتھال کی ہمارت بڑھتی تھی۔ حدیث الباب میں دو لڑکیوں کے گانے اور نبی کریم کے نہ رونے کا ذکر ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ معمولی گانا منہ نہ بند کرے۔ عید بھات اوس کے نکلے کا نام ہے جو مدینے دو دن کی مسافت پر ہے۔ جنگ بھات کسی سے اس جنگ کو فرمایا ہے۔ جو اوس اور خزرج مدینہ کے دو قبیلوں میں ایک سہ ماہی سال پر ہے اور کسی نے کہا جنگ بھات حجرت سے تین یا پانچ سال پہلے ہوئی۔ حدیث دھما کا مطلب ہے کہ انہیں گانے دو۔ رو کو نہیں۔ ہشام کی روایت میں جو آگے ۳۴ پر آئی ہے لفظ بڑانے ہیں۔ ان لفظ پر عید لا ہذا عیدنا ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے اور ۳۴ میں بھی ہے۔ فاما ہذا عیدنا۔ یہ عید کے دن ہیں۔ اور وہ ان سے بڑھتا ہے۔ ذلک لا یامرنا بہ فی عید کے بعد کے دن تھے۔ جس سے معلوم ہوا کہ وہ دن بھی کو یا عید میں ہی شامل ہیں اور سنہ ۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰ میں کو یہ بھی کہانی تھیں۔ تفرقانہ وقتہ وہاں۔ حدیث جنہیں کھیل حضرت عائشہ کو آپ نے دکھایا۔ آپ کا حضرت عائشہ کو اپنے پیچھے کھڑے کر کے دکھانا بتاتا ہے۔ کہ یہ وہ کام کے نزدیک بہت کچھ ہے۔ پس عورتوں کا تفریح کیلئے برسات پر وہ کھیل کو دیکھنا ممنوع نہیں ہے۔ مگر جو مسلمان کی عید کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے سے اور اس کی عظمت کے ذکر سے ہر طرف سے ہنسے کیوں کہ اس میں کھانے پینے کا بھی حق ہے۔ قرآن کریم میں بھی ہے تیب کی طرف اشارہ ہے۔ فصل لربک واخرہ۔ حدیث مکرروا نت کے الفاظ یہ میں خلو ویکروا عندہا ریتان من جوار علی الانصار۔ تفتیلک یا تاقولت لا تصایر بعات فالتی تلیت ما تخبتین فقال ویکروا بہا ریتان الشیطان فی بیتہ۔ سوا اللہ صلوا وذلك فی یوم عیدہ فقال رسول اللہ صلوا یا ایہا النصار۔ حدیث عید و ہذا عیدنا۔ حدیث نمبر ۵۹۔ پھر روایت زیادہ تفصیل سے آئی ہے۔ یہاں سے قال اللہ صلوا من ذبح قبل الصلح فلیجد قدام رجل ھذا لھذا یوم لیس فی اللہ وذلک من جبارہ لکن اللہ صلوا حدیث قال عندہ جنہما حبیب اللہ فی شاتی لمحہ فوضع اللہ فی صلحہ فلا اذک ابغلت الرخصۃ صلحہ املا۔ جنۃ اوتہ فی جو پانچویں لی میں داخل ہے۔ اور گانے کا پھر جو دوسرے تیسرے لی میں داخل ہے۔ اور بکری کا پھر جو ایک سال کا ہو کر دوسرے میں داخل ہو چکا۔ اور بھیر کا پھر جو ایک سال کا ہو یا اس سے کم۔ اور نمبر ۵۹ میں ہے عناق بھی کہا اور فرمایا ہے کہ وہ بکری کا پھر جو ایک سال پورا نہ کیا ہو۔ مگر جاورا چھپا تھا۔ تو آپ نے اجازت دی اور نمبر ۶۰ میں ہے کہ باجارت دوسرے کو نہیں لینی آپ نے اسے عام نہیں کیا۔ گویا یہی تھی حالت میں نبی کریم صلعم کے اس فعل سے نہ لیکر ایسی اجازت دی جا سکتی ہے۔

بَعْدَ الصَّلَاةِ فَجَعَلَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ بِأَبِ الْمَثُيِّ وَالرُّكُوبِ إِلَى الْعِيدِ بغيرِ إِذَانٍ

اسے ہم نے اسے نماز سے پہلے کر دیا ہے۔ باب عید کو قبل کر اور سوار ہو کر جانا۔

وَلَا إِقَامَةَ (۵۶۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

اور نہ اقامت۔ عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

يُصَلِّي فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرَةَ يَخْتَبِعُ بَعْدَ الصَّلَاةِ (۵۶۲) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

عید اضحیٰ اور عید فطر میں (پہلے) نماز پڑھتے پھر نماز کے بعد خطبہ دیتے۔ جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ قَالَ وَاخْتَارَ

کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن نیچے تو خطبے سے پہلے نماز کے ساتھ شروع کیا۔ (ابن جریج نے کہا)

عَطَاءً أَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ رَسَلَ إِلَى ابْنِ زَيْدٍ فِي أَوَّلِ مَا بُوِيعَ لَهُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَدُّ

اور مجھے عطاء نے خبر دی کہ ابن عباس نے ابن زید سے کہیں کہ اول جب ان کی بیعت ہوئی کہلا بھیجا کہ عید الفطر کے دن نماز کی اذان نہیں دی جاتی تھی

بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَاسْمَا الْخُطْبَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَعَنْ عَطَاءِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ جَاءَ

اور خطبہ نماز کے بعد ہے اور عطاء سے روایت ہے کہ

ابن عبيد الله قال لا يمكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قام

بن عبد اللہ سے کہا کہ نہ عید الفطر کے روز اور نہ فطر عید کے دن اذان دی جاتی تھی اور جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

بِالصَّلَاةِ تَمَّ خُطْبَةَ النَّاسِ بَعْدَ ذَلِكَ فَذَكَرَ فِي النَّسَاءِ قَدْ كَرِهْنَ وَهُوَ يَوْمُ كَاعِلَةَ

تو نماز کو شروع کیا اسکے بعد پھر لوگوں کو خطبہ سنا یا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے پہلے اور عورتوں کے پاس تشریف لائے اور اس میں نصیحت کی

يُدْبِلُ الْبَلَدِ وَيَبْلُغُ الْبَلَدِ بِأَسِطِ ثَوْبَةٍ تَلْفِي فِيهِ النَّسَاءُ صَدَقَةٌ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَلَا تَرَى حَقًّا

اور آپ بادل کے ہاتھ پر ٹھیکے لگاتے تھے اور بادل بے اپنا لہا پھیلایا ہوا تھا عورتوں میں صدقہ والی تھیں میں نے عطاء سے کہا

عَلَى مَا مَرَّ لَأَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ يَنْدُرُ كَرِهْنَ فِي النَّسَاءِ قَدْ كَرِهْنَ فِي النَّسَاءِ قَدْ كَرِهْنَ فِي النَّسَاءِ قَدْ كَرِهْنَ فِي النَّسَاءِ

کیا آپ امام کہتے اب بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ فارغ ہونے کے بعد عورتوں کے پاس آئے اور انہیں نصیحت کر کے کہا بیان پر لازم ہے

وَمَا لَكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا بِأَبِ الْخُطْبَةِ بَعْدَ الْعِيدِ (۵۶۳) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ

اور کیا وجہ ہے کہ وہ نہ کریں خطبہ عید کے بعد جو

صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وأبي بكر وعمر وعثمان حكاه كانوا يصلون قبل خطبة (۵۶۳) عن ابن عباس قال

على بعض روايات
میں آتا ہے کہ مرغان
کے خطبے میں حضرت
علی اور ان کے رفقاء
پر طعن و تشنیع ہوتا
تھا۔ اور ابو امیہ
کی طرح میں بہت
مبالغہ سے کام لیتے
تھے۔ اس لئے لوگ
ان کا خطبہ نہیں سنا
چاہتے تھے۔ مگر
بعض روایات سے
ایسا معلوم ہوتا ہے
کہ گو یا سوار ہو کر
عید کو جانا خلاف
سنت ہے۔ امام
بخاری نے ان روایات
کو قابل قبول نہیں
سمجھا۔ اور یہی صحیح
ہے۔ بالفرض اگر
نبی کریم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے بھی سوار
ہوئے ہوں تو جو
لوگ دُور سے چکر
آتے ہیں ان کے لئے
سوار ہونا کیوں
ناجائز ہو گا۔ مگر
آج مسلمان دنیا میں
کتنی عید گاہیں
ہیں۔ جہاں عورتیں
جاتی ہیں۔ اور امام
حاکم انہیں نصیحت
کرنا ہے۔ عورتوں
کی تعلیم سے بیخفت
بھی ان کی سبابت میں

بعض روایات میں

ابن عباس سے روایت ہے کہ امامیں عید میں

ابن عمر سے روایت ہے کہ

ابن عباس سے روایت ہے کہ

باب عید میں اور عید میں ہتھیار لے جانا کا رو ہے اور سن نے کہا عید کے دن ہتھیار لے جانے سے روکا گیا

یَوْمَ الْعِيدِ لَا أَنْ يَخْرُجَ فَاوْحَادًا (۵۶۴) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ جِئْنَا سَوَاعِيءَ اس کے گوشوں سے خوف ہو گیا

أَصَابَهُ سِنَانٌ لَزِقَ فِيهِ أَخْمَصُ قَدَمِهِ فَلَزَقَتْ قَدَمُهُ بِالرَّكَابِ فَزَلَتْ فَزَعَمَهَا وَ جہا نہیں تیز سے کی یہاں ان کے پاؤں کے ٹوسے میں لگی

ذَلِكَ بِمَنْ بَلَغَهُ الْحَجَّاجُ فَجَاءَ يَعُودُهُ فَقَالَ الْحَجَّاجُ لَوْ عَلِمْتُ مِنْ أَصَابِكَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَنْتَ أَصْبَتَنِي صحیح میں تھا صحیح کو (خبر) پہنچی تو ان کی عبادت کے لئے آیا صحیح نے کہا اگر میں علم ہوتا کہ آپ کو کس نے یہ مارا تو اسے سزا دیتے، ابن عمر نے کہا تم نے

قَالَ وَكَيْفَ قَالَ حَمَلَتْ السَّلَامَةَ فِي يَوْمٍ مُمْ يَكُنْ يَحْمِلُ فِيهِ وَأَدَخَلَتْ السَّلَامَةَ الْحَرَمَ وَمِنْ يَكُنْ السَّلَامَةَ کہا اس طرح کہا ایسے دن میں تم نے ہتھیار اٹھا کر اس میں ہتھیار نہیں اٹھائے جانتے تھے اور حرم کے اندر تم ہتھیار لاتے

يَدْخُلُ فِي الْحَرَمِ رَمْرَمًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ (متكرر ۵۶۴) أَبَا بَابِ التَّكْبِيرِ نہیں لائے جاتے تھے۔

بَلِّغِيهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَيْسَانَ كُنَّا فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَذَلِكَ جِئْنَا الشَّيْبَةَ عید کی نماز کے سویرے جانا اور عبد اللہ بن کبیر نے کہا ہم اس وقت فارغ ہو جاتے اور یہ نفل نماز کا وقت تھا

رَمْرَمًا (۳۵) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر ۵۶۴) أَبَا بَابِ التَّكْبِيرِ (متكرر ۵۶۴) باب

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ أَيَّامُ الْعَشْرِ وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتِ ابن عباس نے کہا خدا کو

أَيَّامُ الشَّرِيقِ وَكَانَ ابْنُ عَمْرٍو أَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ اور ابن عمرو اور ابو ہریرہ دس دنوں میں بازار کو جاتے تو

يَكْبُرَانِ وَيُكْبِرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا وَكَبَّرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ خَلْفَ النَّافِلَةِ (۵۶۵) تکبیر کرتے جاتے اور لوگ (صحیح) ان کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کرتے تھے اور محمد بن علی نے نفل نماز کے بعد تکبیر کی

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ الْعَلِيُّ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ابن عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں

مِنْهَا فِي هَذِهِ قَالُوا وَلَا إِسْمَاءُ قَالَ وَلَا إِسْمَاءُ وَلَا رَجُلٌ خَرَجَ يَخَاطِبُ نَفْسِهِ عرض کیا نہ جناد

وَمَا لَهُ فَلَمْ يَرُجِعْ لَيْشَى بَابِ التَّكْبِيرِ أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ وَإِذَا خَدَّ إِلَى عَرَفَةَ اور کچھ (صحیح) اور میں نے لیا

وَكَانَ ابْنُ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَكْبُرُ فِي قَبْتِهِ بِمَنْ فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ اور ابن عمر اپنے قبے میں جوتے ہیں تھا تکبیر کرتے تھے

يَكْبُرُونَ وَيَكْبُرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ حَتَّى تُرْتَمِيَ مِنِّي تَكْبِيرًا وَكَانَ ابْنُ عَمْرٍو يَكْبُرُ تو وہ تکبیر کرتے اور بازار والے تکبیر کرتے یہاں تک کہ میری تکبیر سے گونج اٹھتی اور ابن عمر میں

بِمَنْ تِلْكَ الْأَيَّامُ وَخَلْفَ الصَّلَاةِ وَعَلَى فِرَاشِهِ وَفِي سَطَاطِهِ وَمَجْلِسِهِ ان دنوں اور نماز کے بعد اور اپنے پچھوٹے پہ اور اپنے بچھوٹے

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر ۵۶۴) أَبَا بَابِ التَّكْبِيرِ (متكرر ۵۶۴) باب

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ أَيَّامُ الْعَشْرِ وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتِ ابن عباس نے کہا خدا کو

أَيَّامُ الشَّرِيقِ وَكَانَ ابْنُ عَمْرٍو أَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ اور ابن عمرو اور ابو ہریرہ دس دنوں میں بازار کو جاتے تو

يَكْبُرَانِ وَيُكْبِرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا وَكَبَّرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ خَلْفَ النَّافِلَةِ (۵۶۵) تکبیر کرتے جاتے اور لوگ (صحیح) ان کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کرتے تھے اور محمد بن علی نے نفل نماز کے بعد تکبیر کی

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ الْعَلِيُّ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ابن عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں

مِنْهَا فِي هَذِهِ قَالُوا وَلَا إِسْمَاءُ قَالَ وَلَا إِسْمَاءُ وَلَا رَجُلٌ خَرَجَ يَخَاطِبُ نَفْسِهِ عرض کیا نہ جناد

وَمَا لَهُ فَلَمْ يَرُجِعْ لَيْشَى بَابِ التَّكْبِيرِ أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ وَإِذَا خَدَّ إِلَى عَرَفَةَ اور کچھ (صحیح) اور میں نے لیا

کتاب العیدین
۱۳
کتاب العیدین میں
کے عید گاہ میں ہتھیار
لے جانے کا نہیں اس لئے
کہ انہوں میں دوست کو
تکلیف پہنچانے کا
خطرہ ہے۔ اور حرم
میں ہتھیار نہ لیا جائے
اس لئے کہ وہ امن کی
حکایت اور اس لئے
صحیح کو کہاں بھی انہوں
ہو تھے۔ اور شروع
کتاب میں باب
الحجاب والذکر
یوم العید گذر چکا
یعنی عید کے دن بچوں
کو ہاتھ سے کھیلنا تو
وہ عید کے بعد ہے
اور کھیلنے کے دن
کھیل دیکھنے والوں
میں سے ہوتے نہیں
ہوتے۔
یہاں الفاظ میں قال
داخل الحجاج علی
ابن عمرو وانعادت
قال کہتے ہو
قال ابن عباس
اصحاب قال
اصحابی من امر
بجملہ السلام فی
یوم لا یجوز فیہ
حملہ یعنی الحجاج
کے الفاظ میں
سے تھے جتنے ہیں
کے سورہ حج میں ہی
دیکھا کہ اسم اللہ
فی یوم معلومات
علیٰ لاذکرہم اور سورہ
بقیہ میں جو وارد کروا
اللہ فی یوم معلومات
دو دنوں کا ذکر ہے
میان میں۔ ابن عباس
کہتے ہیں امام صلوات
سورہ حج میں دنوں
کے پہلے اور امام صلوات

وَمَمْسَاهُ وَوَقْلِكَ إِلَّا بِمَا مَرَّ بِهَا وَكَانَتْ مَيْمُونَةٌ تَكْبِرُ يَوْمَ النَّحْرِ وَكَانَ النَّسَاءُ يَكْبُرُونَ

اور چلیں اور ان سب دنوں میں کبیر کئے اور حضرت ميمونہ قرآنی کے دن کبیر کستیں اور عورتیں

خَلَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِيَأْتِيَ الشَّرِيفَ مَعَ الرَّجَالِ فِي السَّجْدِ

ابن بن عثمان اور عمر بن عبد العزیز کے پیچھے سجدیں شریف کے دنوں میں مردوں کے ساتھ کبیر کستیں

(۵۶۶) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ التَّقِيُّ قَالَ سَأَلْتُ أَسْبَ بْنَ مَالِكٍ وَمُحْنَ غَارِدِيانَ

محمد بن ابی بکر تقفی سے روایت کی کہ اس میں سے پوچھا اور ہم

مِنْ مَرَّتِي لِي عَرَفَاتٍ عَنِ التَّلْبِيَةِ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صبح کو منی سے عرفات جا رہے تھے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے

قَالَ كَانَ يَكْبُرُ الْمَلْبِيُّ لَا يَتَكَبَّرُ عَلَيْهِ وَيَكْبُرُ الْمَكْبُرُ فَلَا يَتَكَبَّرُ عَلَيْهِ (م ۳۵۸) عَنْ

کہا بلیک کہنے والا بلیک کہتا تھا اس پر کوئی اعتراض نہ ہوتا اور کبیر کئے والا کبیر کہتا تھا اور کبیر کئے والے نے ہوتا تھا

أُمِّ عَطِيَّةَ (مكرر ۲۳۹) آيَاتُ الصَّلَاةِ إِلَى الْحَرَبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ (م ۳۵۲) عَنْ

دیکھو حدیث نمبر ۲۳۹ آیت باب نیزہ کو سامنے رکھ کر عید کے دن نماز پڑھنا

ابنِ عُمَرَ (مكرر ۳۳۹) آيَاتُ حُلِّ الْعِزَّةِ أَوْ الْحَرَبَةِ بَيْنَ يَدَيْهَا مَا يَوْمَ الْعِيدِ

دیکھو حدیث نمبر ۳۳۹ آیت باب نیزہ یا برجی کو عید کے دن امام کے آگے آگے اٹھا کر لے جانا

(م ۳۵۳) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مكرر ۳۳۹) آيَاتُ خُرُوجِ النِّسَاءِ وَالْحَيْضِ إِلَى الْمَصَلِّ

دیکھو حدیث نمبر ۳۳۹ آیت باب عورتوں اور حیض والیوں کا عید گاہ کو جانا

(م ۳۵۴) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ (مكرر ۲۳۹) آيَاتُ خُرُوجِ الصَّبِيَّانِ إِلَى الْمَصَلِّ

دیکھو حدیث نمبر ۲۳۹ آیت باب بچوں کا عید گاہ کو جانا

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مكرر ۸۵) آيَاتُ اسْتِقْبَالِ الْأَمْرِ النَّاسِ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ

دیکھو حدیث نمبر ۸۵ آیت باب عید کے دن خطبے میں امام کا لوگوں کی طرف رخ کرنا

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَابِلَ النَّاسِ (م ۳۵۶) عَنْ

اور ابو سعید نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے

الْبَرَاءِ (مكرر ۵۶۰) آيَاتُ الْعَابِ الْمَصَلِّ (م ۳۵۵) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مكرر ۸۵)

دیکھو حدیث نمبر ۵۶۰ آیت باب عید گاہ میں شان لگانا دیکھو حدیث نمبر ۸۵

آيَاتُ مَوْعِظَةِ الْأَمْرِ النَّسَاءِ يَوْمَ الْعِيدِ (م ۳۵۷) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (مكرر ۵۶۱)

آیت امام کا عید کے دن عورتوں کو نصیحت کرنا دیکھو حدیث نمبر ۵۶۱

صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کوشال کے کسے چار ہیں اور عرفہ کا دن ذوالحجہ کی نوین تاریخ ہے تو گویا کبیر کے دن نوین سے لے کر تیرہ تک پانچ ہیں یہی کریم سے اسما تہی کوئی روایت نہیں اور صحابہ کے عمل کے متعلق سب زیادہ صحیح حضرت علی اور عبد بن مسعود کا قول ہے کہ اس کا وقت عرفہ کی صبح سے لیکر تیرہ کی عصر تک ہے ان دنوں میں خود نہیں مرد مسجروں میں نماز کے بعد کبیر کتے + مکمل نمبر ۲۳۹ میں آیا ہے - قالت کتا و عمران نخوع یوم العید حتی یتخرج الی المصلى خذ را حاسی تخرج الحیض من بیتک خلف الناس فی کبیر بد کبیر ہور بد عون بد عاشہ بی چون برکتہ ذلک الیوم وطہرۃ عنوان باب کا تعلق فی کبیر بد کبیر ہور سے ہے عورتیں اور مرد سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کبیر کتے تھے + یہاں یہ لفظ ہیں ان الذی صلحہ کان ترک لہ الحریۃ ذلک ما یوم الفطر والمخوتم یصلحہ + مکمل مکرر روایت کے الفاظ ہیں ان الذی صلحہ یدر الی المصلی والعترة بین یدیه ثم یصلی الیہا + یہ مکرر روایت بہت مختصر ہے اور ان نخوع العواتق ذوات الحد زوار کے آگے بڑھا جاوے ذلک فی حدیث حفصہ ویختر ان الحیض المصلی + مکمل ابن عباس کی اس مکرر روایت میں یہ لفظ ہیں زوجت مع الذی صلحہ یوم فطر الذی اضحی اضحی ثم خطب ثم اتی النساء فخطبهن وذکرهن وامرهن بالصدقة - مرہ ۳۵۷ میں آج اس وقت وہ چھوٹے تھے جن میں معلوم ہوا کہ کچھ بھی عید گاہ میں جاتے تھے + مکمل یہاں شروع میں یہ لفظ لفظ ہیں زوجت الذی صلحہ یوم اضحی الی التبعیم فصلی کتبتین ثم قبل علینا ابو سعید اور اس سے عنوان باب کا تعلق ہے - باقی حدیث کے الفاظ سوائے کھوٹے تھے کہ مرہ ۳۵۷ میں طرح ہیں + مکمل شروع میں ہوتی ہے قبیلہ (ابن عباس) اشہد ان العید مع النبی صلحہ قال النخوع لا مکان فی عن الصغیرا شہدا تہ حتی قال العلم الذی عند ان الذی یصلت فصلی بجر کے الفاظ سے جتنے ہیں تم خطبتم ان النساء ومعہ بلال فخطبهن وذکرهن وامرهن بالصدقة فزاتیہن یتھن یتھن یتھن فی ثوب لیل ثم نطلت ہو لیل ال بنیہ + مکمل یہاں نمبر ۵۶۱ کا پچھلا حصہ عن جابر بن عبد اللہ ان النبی صلحہ خنیف تیر لفظی سے دوسرا ہے - مگر جہاں عورتوں کے صدقہ دینے کا ذکر ہے - وہاں اس قدر زیادہ ہے قلت لخطاء ذلک یوم الفطر قال لا ولكن صدقاتہ تصدقن حیث ینین غیر ان صدقہ فطر تھی - علیہ رحمۃ +

عورتیں اور مرد سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کبیر کتے تھے + یہاں یہ لفظ ہیں ان الذی صلحہ کان ترک لہ الحریۃ ذلک ما یوم الفطر والمخوتم یصلحہ + مکمل مکرر روایت کے الفاظ ہیں ان الذی صلحہ یدر الی المصلی والعترة بین یدیه ثم یصلی الیہا + یہ مکرر روایت بہت مختصر ہے اور ان نخوع العواتق ذوات الحد زوار کے آگے بڑھا جاوے ذلک فی حدیث حفصہ ویختر ان الحیض المصلی + مکمل ابن عباس کی اس مکرر روایت میں یہ لفظ ہیں زوجت مع الذی صلحہ یوم فطر الذی اضحی اضحی ثم خطب ثم اتی النساء فخطبهن وذکرهن وامرهن بالصدقة - مرہ ۳۵۷ میں آج اس وقت وہ چھوٹے تھے جن میں معلوم ہوا کہ کچھ بھی عید گاہ میں جاتے تھے + مکمل یہاں شروع میں یہ لفظ لفظ ہیں زوجت الذی صلحہ یوم اضحی الی التبعیم فصلی کتبتین ثم قبل علینا ابو سعید اور اس سے عنوان باب کا تعلق ہے - باقی حدیث کے الفاظ سوائے کھوٹے تھے کہ مرہ ۳۵۷ میں طرح ہیں + مکمل شروع میں ہوتی ہے قبیلہ (ابن عباس) اشہد ان العید مع النبی صلحہ قال النخوع لا مکان فی عن الصغیرا شہدا تہ حتی قال العلم الذی عند ان الذی یصلت فصلی بجر کے الفاظ سے جتنے ہیں تم خطبتم ان النساء ومعہ بلال فخطبهن وذکرهن وامرهن بالصدقة فزاتیہن یتھن یتھن یتھن فی ثوب لیل ثم نطلت ہو لیل ال بنیہ + مکمل یہاں نمبر ۵۶۱ کا پچھلا حصہ عن جابر بن عبد اللہ ان النبی صلحہ خنیف تیر لفظی سے دوسرا ہے - مگر جہاں عورتوں کے صدقہ دینے کا ذکر ہے - وہاں اس قدر زیادہ ہے قلت لخطاء ذلک یوم الفطر قال لا ولكن صدقاتہ تصدقن حیث ینین غیر ان صدقہ فطر تھی - علیہ رحمۃ +

(مرو۳۵۰) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

سکین

(متکرر ۵۶۳ و ۱۸۵) بَابُ إِذَا كُرِّمَ لَهَا جِلْبَابٌ فِي الْعِيْدِ (مرو۳۶۰) عَنْ حَفْصَةَ

نمبر ۵۶۳ و ۱۸۵ ع ل باب جب عید کے دن عورت کے پاس اور صحنی نہ ہو دیکھو حدیث

بِتَّ سَيِّرِينَ (متکرر ۳۳۹) بَابُ اعْتِزَالِ حَيْضِ الْمَصْلِيِّ (مرو۳۶۱) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ

نمبر ۳۳۹ ع ل باب حیض والیوں کا عید گاہ سے الگ رہنا دیکھو حدیث

(۳۳۹) بَابُ النَّحْوِ وَالذَّيْمِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَصْلِيِّ (۵۶۴) عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نمبر ۳۳۹ ع ل باب قربانی کے دن عید گاہ میں قربانی اور ذبح کرنا ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

كَانَ يَنْحَرُ وَيَذْبَحُ بِالْمَصْلِيِّ بَابُ كَلَامِ مَا رَوَى النَّاسُ مِنْ خُطْبَةِ الْعِيْدِ إِذَا سَأَلَ الْكَلَامَ

عید گاہ میں قربانی کرتے تھے یا ذبح کرتے تھے باب امام اور لوگوں کا عید کے خطبے میں کلام کرنا اور جب امام سے کسی چیز کے متعلق پوچھا جائے

عَنْ ثَمِيٍّ وَهُوَ يَخُطُّ (مرو۳۶۲) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (مرو۳۶۳) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ

جب وہ خطبہ دے رہا ہو دیکھو حدیث نمبر ۵۶۰ ع ل

(متکرر ۵۶۰) (مرو۳۶۳) عَنْ جُنْدُبٍ (متکرر ۵۶۰) بَابُ مَن جَافَ الطَّرِيقَ إِذَا رَجَعَ يَوْمَ الْعِيْدِ

نمبر ۵۶۰ ع ل دیکھو حدیث نمبر ۵۶۰ ع ل باب جو عید کے دن واپس ہونے سے دو سو گز دور ہونے سے

(۵۶۸) عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمَ عِيْدِهِ خَالَفَ الطَّرِيقَ (مرو۳۶۵) بَابُ إِذَا نَهَى

جاہل سے روکتے ہے لکن جب عید کا دن ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بدل کر گئے

الْعِيْدَ لِيُحَيِّزَ كَعْتَيْنِ وَكَذَلِكَ الشَّاءُ وَمَنْ كَانَ فِي الْبُيُوتِ وَالْقُرَى يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عید کی نماز پڑھتا رہے تو دور کشتیں پڑھ لے اور سیطرہ عورتیں بھی اور جو گھر اور گاؤں میں ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی وجہ سے

کتب الحدیث
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰

الفتح والحجاء بعد في ثوب بلال قال عيدا لوزان الفتح الحواتيم العظام كانت في الجاهلية - نبى صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیاں اور بچے کو دیکھا نہیں، جس نے تہ پہنے تھے (اشارہ) سے روگوں کو ٹھلا رہے تھے۔ پھر ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے عورتوں کے پاس تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ ہلال تھے۔ اور یا تھا النبی اذا جاءك للمحرمات بياضك انك اغيرة بک ہرچی پھر جب اس آیت کے پڑھنے سے فرار ہوئے (تو اس میں جو شرائط بیعت میان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا) تم ان شرطوں پر قائم ہو تو صرف ایک عورت سے ان میں سے جو اب دیا کہ ماں کو یا کہ ایک نے ساری جماعت کی وکالت کی۔ ان شرائط میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہاں عید کے دن کسی کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ اور انہیں صدقہ کا جو معرفت کام ہے وہ دیکھا جیسا کہ اور روایا میں ہے تو وہ صدقہ فقیہ لکھیں اور مال لیتے رہے۔ + ع ل خفیف تغیر لفظی کے ساتھ نمبر ۳۶۰ کو دہرایا ہے + ع ل نمبر ۳۶۰ کے آخری حصہ کو جہاں مصطلح کی روایت ہے کہ سید تغیر لفظی سے دم ایسی اور ان فخر فخر الحیض والحوائق وذوات الخدود وقال ابن عون او الحوائق ذوات الخدود فاما الحيض فبشهادة جماعة المسلمين ودعوتهم وبعثتن مصلاهم + ع ل میں عید گاہ میں بااس کے متصل قرآنی کرنے سے ہرچ نہیں + ع ل خفیف تغیر لفظی سے نمبر ۵۶۰ کو دہرایا ہے ان الفاظ سے واحببت ان تکن شاقی اول شاة تدبج فی بیہنی فذبححت مشاقی وتعدتیت قبل ان اقل الصلوة کی بجائے ہرچ فعلت اکلنت واطمعت اهل جبارانی اس حدیث میں شاة خلیفہ میں سوال جباری اس شخص کی توفیر اس شخص کی وضاحت چاہی ہے۔ جو آپ میں فرار ہے تھی۔ یہ مطلب نہیں کہ عید کے خطبے میں جو چاہے باتیں کہتا ہے + ع ل یہ کہ روایت بہت مختصر ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخیرم خطب نام من ذبح قبل الصلوة ان بعدہ لہ ففقد من الاضمار فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبارانی لما قال لهم خصاصة واما قال لهم فخر جباری ذبحت قبل الصلوة وعندہ عنان لی احبال لی من شاقی لخم فخرخص لہ فیہما + ع ل یہاں یہ الفاظ ہیں: - صلی اللہ علیہ وسلم الخیرم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل ان یصلی ذلیذہم اخری حکا نہا ومن لم یذبح فلیذہم باسم اللہ۔ یہ واقعہ وہی ہے کہ ذبح کے بعد وقال لائے سے یغلط فہمی ہوئی ہے کہ ذبح کر کے بعد اپنے ایسا فرمایا۔ حالانکہ مطلب صرف یہ ہے کہ خلیفہ میں یا ذرایا اتنا۔ اس کے نام جباری اسے اس باب میں لے ہیں۔ جس میں خطبہ میں کلام کرنے کا ذکر ہے + ع ل رستہ بدل لینے سے منشا یہ معلوم ہوتی ہے۔ تاکہ سب یہود اور منافقین دیکھ لیں کہ ان کی شرارتوں کے باوجود اسلام ترقی کر رہا ہے اور اسلام اور بھی پھلتا پھولتا جائے گا۔ واللہ متعذرونہ ولو کہہ الکافر ذین + ع ل اس باب کا مقصد یہ ہے کہ عید کی نماز میں عورتوں کو سب مردوں عورتوں سے پہلے ہر جہاں عید کی نماز باجماعت ہوتی ہے۔ اور اس میں شامل ہونا ممکن ہے تو شامل ہو جائے۔ ورنہ کیلئے دور کشتیں پڑھے۔ اور جو جماعت میں شریک نہ ہو سکا اور اس سے جماعت کی نماز جاتی رہی تو وہ بھی کیلئے دور کشتیں پڑھے ہو یا عورت +

هَذَا عَيْدُنَا يَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ يَا مَرَأْسَ بْنَ مَالِكٍ صَوْلَاهُ ابْنُ أَبِي عُنَيْبَةَ بِالزَّوْاِئِدِ فِيمَا

اسے اہل اسلام یہ ہماری عید ہے اور اس نے زواہد میں اسے غلام کو حکم دیا

أَهْلَهُ وَبَيْنَهُ وَصَلَّى كَصَلَاةِ أَهْلِ الْبَصْرِ وَتَكْبِيرُهُمْ وَقَالَ عُرْوَةُ أَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُونَ فِي الْعِيدِ

اور شہر والوں کی نماز کی طرح نماز پڑھیں اور ان کی تکبیر کی طرح تکبیر لگی اور عکرمہ نے کہا گاؤں والے عید کے دن جمع ہوں

يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصْنَعُ إِلَّا قَامُوا وَقَالَ عَطَاءٌ إِذَا قَامَ الْعِيدُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ (۳۶۴) عَنْ

اور دو رکعتیں پڑھیں جس طرح نماز پڑھتا ہے اور عطا کہتے ہیں جب اس سے عید کی نماز پڑھتا ہے تو دو رکعتیں پڑھ لے

عَنْكَتُمْ (متکرر ۵۵) بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا وَقَالَ ابُو لَعْلَةَ سَمِعْتُ سَعِيدَ ابْنِ

دیکھو حدیث نمبر ۵۵ بَاب عید کی نماز سے پہلے اور اس کے بعد نماز پڑھنا اور ابو لعلہ نے کہا میں نے سعید سے

عَبَّاسٍ كَرِهَ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْعِيدِ (۳۶۵) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکرر ۸۵ و ۷۶ و ۳۶۷)

ابن عباس سے روایت کرتے ہوئے سننا کہ انہوں نے عید کی نماز سے پہلے نماز کو ناپسند کیا تھا دیکھو حدیث نمبر ۸۵ و ۷۶ و ۳۶۷

۱۲ أَبْوَابُ الْوُتْرِ

ابواب وتر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے جو ہے ارحم الراحمین والا

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُتْرِ (۳۶۵) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (متکرر ۳۳) (۳۶۶) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکرر ۱۵)

بَابُ جَوَازِ كَرِهَ فِي الْوُتْرِ (۳۶۵) دیکھو حدیث نمبر ۳۳۰

(۳۶۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (متکرر ۳۳) (۵۷۰) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْنَا

دیکھو حدیث نمبر ۳۳۰ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم علی

وہ عید کی نماز میں دن نہ پڑھے تو باقی ایام میں پڑھ سکتا ہے۔ کیونکہ وہ بھی عید کے دن ہیں۔ حضرت ابو بکر نے گانے اور دف بجانے پر اعتراض کیا۔ اور حضرت عمر نے مجلسوں کے مسجد میں کھیلنے پر آنحضرت صلعم نے دونوں کو منع فرمایا۔ اور شریعت کو تنگ نہیں ہونے دیا۔ کیونکہ ان ذرائع سے خوشی حاصل کرنا بھی فطرت انسانی میں داخل ہے۔ ہر مجلس ہر گھر میں اختلاف ہے۔ ان میں کسی ایک سے بھی بڑھ کر آنحضرت صلعم عید سے واپس آ کر گھر میں دو رکعت پڑھ لیتے تھے۔ صبح عید کی نماز صرف دو رکعت ہر اس کے زیادہ نہیں۔ ہر روایت مکرر ۳۶۷ کا پہلا فقرہ ہے۔ جو نمبر ۸۵ پر جس کی مکرر روایت نمبر ۳۶۷ ہے زیادہ ہے۔ ان النبی صلعم خروج يوم الفطر فصلى ركعتين لصلاة فيها ولا يدعها ولا معدة بلال - نمبر ۸۵ کا مضمون بلال کے ساتھ نکلنے اور عورتوں کو منع کرنے پر ہے اور وہ ان پر بڑھ کر نہیں کہ عید آپ نے پڑھی یا انتی رکعت پڑھی۔ بلکہ عید کا ذکر بھی نہیں مگر وہ ایک ہی ہے۔ وتر۔ کسو اور فقہ دونوں کے ساتھ طاق کے معنی میں آیا ہے۔ یہاں وہ نماز اور جو حرمت کی نماز کے بعد تین رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ مسجد کیسے امام بخاری نے الگ کتاب بھی لکھی۔ اور اصل وتر مسجد کا ہی ہے۔ جو مسجد کی بائیں طرف سے نہیں لگتے وہ تین رکعت تراویح نماز میں نماز عشاء کے بعد پڑھے لیتے ہیں۔ عشاء خفیہا اختلاف لفظی سے نمبر ۳۳۰ مکرر آتی ہے۔ آخری فقرہ واہ کان بقولہ سے آخر تک یہاں نہیں۔ مگر یہاں زیادہ ہے۔ وحسن نافع ان عبد اللہ بن عمرو کان یسلم دین الکرکة والکرکة تین فی الوتر حتی یامر بعض حاجتہ یعنی بددکنت کے بعد سلام کرتے تیسری رکعت پڑھتے اور اگر کوئی ضرورت ہوتی تو کہہ بھی دیتے۔ ہر مکرر روایت نہایت ہی خفیہ اختلاف لفظی سے نمبر ۱۵۵ پر لگے ہیں۔ اس کی دوسرے تیرہ رکعت آپ کی نماز سے بنتی ہے۔ مگر جس کا پہلے نمبر ۲۱۸ کے نوٹ میں لکھا یا جاسکا ہے۔ اس حدیث کی مکرر روایات سے تعداد رکعت مسجد میں اختلاف پایا جاتا ہے جو یقیناً کسی اسی کی غلطی ہے۔ اور باوجود صحت روایت کے درائن میں ہی بعض روایات کو غلط سمجھتی ہے۔ روایات کا رجحان سیرف ہے۔ کہ آنحضرت صلعم کی نماز تیرہ عموماً گیارہ رکعت تھی۔ اور نمبر ۵۷۰ میں حضرت عائشہ کی روایت میں گیارہ رکعت کا ہی ذکر ہے۔ ہر کسی قدر اختلاف لفظی سے نمبر ۳۳۰ کو لائے ہیں فاذا اتممت احدکم الصبیحہ کی جگہ سے فاذا اتمت ان تصوم۔ نمبر ۳۶۷ کی طرح یہاں بھی واہ کان بقولہ سے آخر تک نہیں۔ مگر یہاں ہی پر قال القاسم ورا یبانا اناسا منذ ادکنا و ترون بلاثا وان کلا لواسع الرجوان کیونکہ بشی منہ لیا میں ہی قائم کہتے ہیں جب ہم نے ہوش مند ہلائے۔ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ تین رکعت نہ پڑھتے ہیں اور ہر طرح نماز پڑھتے ہیں اور میں امید رکھتا ہوں کہ ان میں سے کسی میں بھی گناہ نہیں ہے۔ یعنی خواہ تین رکعت اٹھی پڑھے یا دو کے بعد سلام پھیر کر ایک رکعت پڑھے۔ میں نے تین رکعتیں ایک سلام یا دو سلام کے ساتھ وتر کی ہوتی تھیں۔ اور اسکے بعد صبح کی دو سنت پڑھنے سے ملا تیرہ نہیں۔ مسجد کی نماز میں پندرہ

کلمہ نمبر ۳۶۴
الفاظ بہرین عائشہ
ان ابابکر دخل علیہا
وعندہا جاریتان
فی ابابکر مرفوعتان
ونضربان والنبی
صلعم متخش شوبہ
فانہما ابوبکر
تکشف الذی صلعم
عن وجهہ فقالوا
یا ابابکر فانہا یا ام
عبد تلک الا یا ام
ایام منی وقالت
عائشہ سلطیت لہجر
صلعم یستغنی وانا
انظر الی عیشتہ و
ہم یلعجون فی المسجد
فخرجہم عنہم فقال
النبی صلعم دعہم
انما بنی اذ فدتہ
یعنی من الام -
اس حدیث میں ہے کہ وہ
منی کے دن تھے۔ اور
نبی کریم صلعم نے تیرہ
ایام عید میں عید
کے دن فرمایا۔ اس سے
معلوم ہوا کہ اگر کسی

دعائیں کرتے تھے۔ خاص کر کعبہ میں اسی لئے بعض وقت ہی سے ہیں بہت دیر تک پھیرتے۔

كَانَ يُصَلِّيَ أَحَدَ عَشْرَةَ رُكْعَةً كَانَتْ تِلْكَ صَلَاتَهُ لَيَالِيهِ فَيُصَلِّيُ السُّجُودَ

کیاں رکعتیں پڑھا کرتے تھے یہ آپ کی نماز تھی یعنی رات میں تو اس میں اتنی دو رکعتیں تھیں کہ

مِنْ ذَلِكَ قَدْ رَأَيْتُمْ أَحَدَكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ رَأْسُهُ وَبِرُكْعَتَيْنِ قَبْلَ

جتنی دیر میں پڑھیں تو اس سے کوئی پچاس آیتیں پڑھتے اس سے پہلے کہ اپنا سر اٹھاتے اور دو رکعتیں

صَلَاةِ الْفَجْرِ تَمَّ يَضْطَبِعُ عَلَى شِقِّهِ الْيَمِينِ حَتَّىٰ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ ذُنُوبُ الصَّلَاةِ بِبَابِ

صبح کی نماز سے پہلے ہر پہلو پر ہاتھ رکھ کر رکھتا ہے جہاں تک کہ مؤذن نماز کے لئے دہلانے کو، آپ کے پاس آتا

سَاعَاتِ الْوُتْرِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَوْصَانِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوُتْرِ قَبْلَ

دن کے اوقات اور ابو ہریرہ نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ نماز کے

الْوُتْرِ (۱۵) عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ قُلْتُ لَأَبْنِ عُمَرَ أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ

ان بن سیرین سے روایت ہے کہ انہوں نے ابن عمر سے کہا کہ ان سے روایت ہے

صَلَاةِ الْغَدَاةِ أُطِيلُ فِيهَا الْقِرَاءَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُ مِنْ

صبح کی نماز سے پہلے (جو) دو رکعتیں ہیں ان میں لمبی قرات پڑھتا تھا

الْبَيْتِ مَشْنِي مَشْنِي وَيُؤْتِرُ بِرُكْعَةٍ وَيُصَلِّيُ رُكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَكَانَ الْأَذَانَ

دو دو رکعتیں پڑھتے تھے اور ایک رکعت سے دو رکعتیں (پڑھتا تھا) پڑھتے تو یا کہ تمہیں

بِأَذْيِهِ قَالَ حَمَادُ بْنُ إِسْرَعَةَ (۵۷) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُلَّ لَيْلٍ

آپ کا نماز میں ہوتی نماز کے کامیابی سے جلدی سے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک صبح

أَوْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَهَى وَرَدَّ إِلَى الشَّجَرِ بِبَابِ إِبْرَاهِيمَ النَّبِيِّ صَلَّى

دو رکعتیں پڑھتا تھا اور فرمایا کہ ایک دو رکعتیں پڑھنا اور اپنے بیویوں کو

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَهُ بِالْوُتْرِ (۳۶) عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَرِّرًا) بِبَابِ لِيَجْعَلَ آخِرَ

نماز کے آخر میں پڑھتے عہد اللہ بن عمر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا اپنی آخری نماز

علم امام بخاری کا
نشا اس باب سے ہے
کہ رات کے ہر ایک صبح
میں دو رکعتیں پڑھتے
ہیں۔ اول وسط آخر۔
آخری حصہ میں دو رکعتیں
افضل ہے لیکن ان کے
لئے جو پچھلی رات
انہ کے ہیں۔ چونکہ
انہ کے ان کے لئے
بہتر ہے کہ اس سے
سے پہلے پڑھ لیں۔
جیسے نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کو وصیعت کی
محلہ خفیسہ نزدیک
سوارى پر دو رکعتیں پڑھا
ناجاڑ سے امام بخاری
نے اس خیال کی اس
باب سے تردید کی۔
محلہ یہاں الفاظ ہیں
ہیں کہ ان کی صلوات
یصلی فی السجود
راحت حدیث سے
بہ یوحی ایام صلوات
اللیل الا الغدا
ویجوز علی لیل
یعنی نبی کریم صلی
میں سوارى پر ہر
اسکا نماز ہوتا تھا
سے رات کی نماز پڑھتے
سوائے کہ نماز کے۔ اور
دو رکعتیں اور غیبی پر
پڑھتے۔ یعنی فرض
سوارى پر پڑھتے
تھے۔ مگر یہ سن جاؤ
کے لئے جو خبر کا
یا کہ اگر انہ اپنے
میں جو سوارى پر
میں ہوتا فرض بھی
اسی طرح لو اس کے
جائیں گے
علم دیکھو اگلا صفحہ

۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰

۲۳۹ نمبر

مزاد یہاں وہ دعا ہے جو نماز میں پڑھنی جاتی ہے۔ اس باب میں یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ قنوت کو رکوع سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ اور صرف چند روز رکوع کے بعد پڑھا ہے۔ جب ظالموں پر بد دعا کرتے تھے۔

قنوت کے باب کو ابواب الوتر میں اس واسطے لائے ہیں کہ قنوت کا وتر میں پڑھنا سنن میں بروایت حسن بن علی مروی ہے جسے ترمذی نے صحیح کہا ہے۔ کہ جبے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات سکھا دیے جو میں وتر میں پڑھا اور وہ کلمات یہ ہیں:- اللهم اهدنی صراطك المستقیم اور یتواقی فیمن عاقبتک تو اقی فیمن توایقت

(۵۷) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قُنُوتِ رُكُوعِ الْوُتْرِ فَقَالَ قُنُوتُ رُكُوعِ الْوُتْرِ قُنُوتُ رُكُوعِ الْوُتْرِ

خمس بن سیرین سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت کو رکوع سے پہلے پڑھا کرتے تھے؟ تو فرمایا ہاں۔

قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قُنُوتِ رُكُوعِ الْوُتْرِ فَقَالَ قُنُوتُ رُكُوعِ الْوُتْرِ قُنُوتُ رُكُوعِ الْوُتْرِ

میں نے اس میں ایک سے قنوت کے متعلق پوچھا تو فرمایا ہاں۔ قنوت قنوت تھا میں نے کہا رکوع سے پہلے یا بعد؟

قَالَ قُنُوتُ رُكُوعِ الْوُتْرِ قُنُوتُ رُكُوعِ الْوُتْرِ قُنُوتُ رُكُوعِ الْوُتْرِ قُنُوتُ رُكُوعِ الْوُتْرِ

کما اس سے پہلے کہا فلاں نے مجھے آپ کے متعلق خبر دی کہ آپ نے کہا رکوع کے بعد پڑھے۔

قَالَ قُنُوتُ رُكُوعِ الْوُتْرِ قُنُوتُ رُكُوعِ الْوُتْرِ قُنُوتُ رُكُوعِ الْوُتْرِ قُنُوتُ رُكُوعِ الْوُتْرِ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد صرف ایک ماہ قنوت پڑھا میرا خیال ہے آپ نے قنوت پڑھا اور قنوت کی طرف مبہما اور ان کے اور

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متكرر ۵۷۶) (۳۷۱) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متكرر ۳۷۱)

رسول اللہ کے درمیان حد تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ایک ماہ تک بد دعا کی۔

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متكرر ۵۷۶) (۳۷۱) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متكرر ۳۷۱)

دیکھو حدیث نمبر ۵۷۶ دیکھو حدیث نمبر ۳۷۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَبْوَابُ الْأَسْتِسْقَاءِ

استسقاء کے باب

أَبْوَابُ الْأَسْتِسْقَاءِ وَخُرُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةِ الْأَسْتِسْقَاءِ (۵۷۷) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَأَمَّا بَعْدُ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الْعَلِيمَ الْعَظِيمَ أَنْ يَهْدِيَنِي سُبُلَ الْحَقِّ وَأَعِزَّنِي فِي الْأَسْتِسْقَاءِ

ابو انیس بن مالک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے ساتھ اپنے صحابی دعوت و تبلیغ اسلام کے لئے اہل نجد کیلئے بھیج دیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی دعوت وہ قبول کریں گے۔ تو آپ نے ستر جاری بھیجے۔ رعل اور ذکوان کے قبیلے رستم میں آتے ہیں۔ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ تھا۔ یہ مبلغین، مشرعوں پر اترے۔ اور عامر بن الطفیل کے نام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا اسے اس کے پاس بھیجا۔ وہ ان کا سردار تھا۔ اس نے ذکوان اور رعل وغیرہ قبائل کو جمع کر کے ان پر حمل کیا۔ انہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک رکوع کے بعد بد دعا کی۔ اس حدیث میں لفظ کذب آتا ہے۔ اس کا استعمال اہل حجاز میں جیسا کہ فتح الباری میں بھی ہے صرف عمیر بن قیس کا غلط بیانی کو بھی کذب کہتے تھے + مگر مکر روائت میں صرف یہ لفظ ہے قنوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رعل و ذکوان + مگر استسقاء کے معنی پانی مانگنا یا بارش کی دعا کرنا نہیں۔ جس طرح عید کی نماز کے لئے بیعتی کے سارے لوگ یا ہر عید گاہ میں جا کر اگٹھے نماز پڑھتے ہیں۔ اور دعائیں کرتے ہیں۔ یہ طریقہ جب پانی کے نہ ہونے سے ملک پر قحط اور مصیبت ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے۔ کہ لوگ یا ہر عید گاہ میں جا کر اگٹھے نضر اور زاری سے دو رکعتیں نماز پڑھ کر دعائیں کریں +

کتبہ الاستسقا

۱۔ چادر کا اٹھانا
۲۔ مصلح ایک اتفاقی امر
۳۔ تیرا یا ارادۃ آپہئے
۴۔ ایسا کیا۔ اگر اراداً
۵۔ ایسا کیا تو کیا اس کا
۶۔ تعلق خاص دعائے
۷۔ استسقا سے ہے یا
۸۔ اسکی عرض صرف یہ
تھی کہ دعا کے لئے ہاتھ
اٹھانے وقت چادر
گرنے جائے۔ اور آیا
یہ دعا سے پہلے کیا یا
دعا کے بعد۔ ان سوال
کا قطعی جواب دینا
مشکل ہے۔ جمہور نے
اسے غلط سمجھا ہے

عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُؤَيْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقَى وَحَوْلَ رِءَاثَةِ
عبد اللہ بن ابی مؤیم سے روایت کرتا ہے کہ نبی مسلم نے بارش کیلئے دعا مانگتے تھے اور اپنی چادر اٹھاتے تھے
بَابُ دَعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِجْعَلْهَا سَبِينَ كَسْبِي يَوْسُفَ (۲۷۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
نبی مسلم کی دعا کے لئے اللہ انہیں ایسے سال کرتے جسے یوسف کے قتل کے سال سمجھا جاتا ہے
(متكرر ۲۹۲) (۵۷۸) عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ لَنَا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مسروق سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا نبی مسلم نے
لَمَّا رَأَى مِنْ النَّاسِ دَبَّارًا فَقَالَ اللَّهُمَّ سَبِّعَا كَسْبِي يَوْسُفَ فَأَخَذَ لَهَا سَنَةً
تو کہہ لے اللہ یوسف کے سات (سال) جسے سات (سال) ان پر لا، تو انہیں ایسے قوت نے پورا
جب لوگوں سے بے نوجبی ہو گئی
حَصَّتْ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى أَكَلُوا الْجَلُودَ وَالْبَيْتَ وَابْجِيفَ وَيَنْظُرُ أَحَدُهُمْ إِلَى السَّمَاءِ
جس نے ہر ایک چیز کو فنا کر دیا جہاں تک کہ انہوں نے کھال اور مرے ہوئے جانور اور مردار کھائے اور ان میں سے ایک آسمان کی طرف
فِي رَيْ لِدُخَانَ مِنْ أَلْبَحَى فَاقَاتَهُ أَبُو سَعِيَانَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ تَأْمُرُ بِطَاعَةِ اللهِ
پس ابوسفیان آپ کے پاس حاضر ہوا اور کہا آپ اللہ تعالیٰ کی فرما باری کا
دیکھتا تو مجھ سے دُخَانَ سَانِظًا آتَا مَنَا

مستحب قرار دیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جب چادر لباس کا حصہ ہی نہیں رہا۔ مگر بہت کم تو اس صورت میں کیا دعائے استسقا چادر کے بغیر ہو سکتی ہے یا نہیں؟ فریق الباری نے
کھارہ رو قال بعضہم اجتمعوا لرداعہ لیکون اثبت علی عاقبتہ عندہم یہ فی الحدیث والحدیث سندر فی کل حال یعنی بعض کا قول ہو کہ چادر صرف اسے اٹھانے کے لئے ہی تھا کہ دعا
میں اٹھانے کے وقت کندھوں پر جمی رہے۔ یہاں ہر حال میں سنت نہیں اور مانگے کھائے کہ بہتر یہی ہے کہ اس نعل کی اتباع کی جائے۔ بہ نسبت اسکے کہ اسے ترک کر دیا جائے۔ لیکن سنت یہ اس
صورت میں کون کئی ہے۔ کہ چادر کا رکھنا پہلے سنت قرار دیا جائے۔ اور یہ آج تک کسی نے نہیں کیا۔ پس جب چادر کا عام طور پر یا خاص دعائے استسقا کے وقت و اٹھانے کے سنت قرار
نہیں دیا۔ تو اس کا اٹھنا کیونکہ سنت ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف حدیث کے الفاظ یہاں تو صریح نہیں کہ دعا پہلے کی یا چادر پہلے اٹھانی لیکن اگر اسکی حدیث کی مکرور روایت ۳۳ میں صاف آتا ہے
استسقی قلبہ دعاۃ بارش کیلئے دعا کی پھر چادر کا اٹھانا یہ ۳۷ میں فرما استسقی فاستسقی القبۃ قلب دعاۃ ووصلی کعبین یعنی دعا کی پھر قبۃ کی طرف منکبیا اور چادر اٹھانی
اور دو کعبت نماز پہلی اور گناہ کی تہہ کر کہ آنحضرت مسلم نے مجھ میں دعا ہے استسقا کی اور چادر نہیں اٹھانی۔ اور ہر سکتا ہے کہ انکی یہ عبادت عاکیلے کی شان دیا گیا تھا یعنی چادر کا اٹھانا ایک
نشان تھا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اور لوگوں کی حالت تبدیل ہو جائے گی یعنی بارش کے ساتھ قحط دور ہو جائے گا وانما الخویل عمارۃ بلبۃ ویاں رہہ قبلہ حولہ لعلہ الخویل
حالک (فریق الباری) تو اس صورت میں بھی سنت نہیں ہو سکتی۔ اور ابو حنیفہ اور بعض مالکیوں کے نزدیک یہ سنت نہیں۔ اور یہی درست ہے اور اگر کچھ جہالت منظرہ کی یا نتیجہ سمجھا جائے تو بھی
نکلتے اس کا کہ انصاف پر یہاں نہیں کہ سکتا۔ اور جن لوگوں نے اسے ضروری قرار بھی دیا ہے۔ ان میں بھی اختلاف ہے کہ آیا صرف امام چادر کو اٹھانے یا مکتدی بھی۔ لیکن اگر ابو یوسف
قائل ہیں کہ فقط امام چادر اٹھانے۔ اور انہیں امامستانوں نے خودوں کو اس سے مستثنیٰ کیا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو بھی مائے استسقا میں بچانا ہے۔ اور چونکہ اصل غرض دعا استسقا
کی ہی ہے کہ سب لوگ اٹھنے ہو کر جناب باری کی طرف بیوج کر سں۔ اور تضرع کی حالت پیدا ہو اسلئے اسمیں حج کی کثرت پر اور لوگوں کے قلوب کی حالت بہت کچھ ٹھنڈا ہے۔ حلالہ جب لوگ
دنیا پر ہمدے زیادہ کر جائیں اور نبوی زینت اور اسوۃ کی پیچھے دیوانہ ہو کر انسانیت کے بلند مقام سے گرا جائیں تو اللہ تعالیٰ ان پر تکالیف بھیجتا ہے۔ غرض صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ
کی طرف بیوج کریں اور اگر اسوۃ کی ادب تعالیٰ کی یاد سے مانع ہو گئی ہو تو اس بلند غرض کے حصول کیلئے ان پر تکالیف بھیجتی جاتی ہیں فاحذہم بالیأس والاضواء لعلہم یتقوا حق
میں قرآن کریم نے اس قانون کو صراحت سے بیان کر دیا ہے اسامی قانون الہی کے ماتحت آنحضرت مسلم نے قریش کے حصے سے تجاوڈ کرنے پر قحط کے لئے دعا کی۔ نہ ان کی ہلاکت کیلئے۔
بنا کہ مصیبت آئے پھر تضرع اختیار کریں۔ جب صلح بغیر تکلیف کے آنے کے نہ ہو تو تکلیف کا آنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اور یہ بھی درست ہے کہ ان لوگوں نے بجائے پیغام حق کو قبول کرنے کے
آنحضرت مسلم کو سخت ترین تکلیفیں دینی شروع کیں۔ اسی حالت کی یہ دعا ہے + ۱۰۷ میں نمبر ۲۹۲ کا آخری حصہ جو صرف دعائے تلقن رکھنا ہے کسی قدر توفیر لفظی کے ساتھ
دوسرا ہے۔ اس حدیث کی ایشمان الفاظ سے ہوتی ہے ان النجی صلحہ کان اذا دفع راسہ من الکعبۃ الاخرۃ یقول اللہ اعی بر عابہ اللہم اجعلہا سبین کسبی یوسف
اور اھل المشرق و مشرق من حضرہم الخالفون لہ کے لفظ یہاں نہیں ہیں اور اسکی جگہ یہ الفاظ ہیں ان النجی صلحہ قال غفرا غفرا لله لها واسوا سلمہ اللہ یعنی قبیلہ غفرا
کو خدا مغفرت ہے۔ اور قبیلہ یہ سلم کو خدا سلامت کہے۔ ان دو قبیلوں کیلئے آنحضرت مسلم نے اس واسطے دعا کی کہ غفرا رہت پہلے سے سلام لا اچکا تھا۔ اور اسلم نے آپ سے صلح کی
تمی پھر اسکے اخیر میں یہ زیادت ہے قال ابن ابی لؤئاع عن ابیہ ہذا اکلہ فی الصبح یعنی یہ صبح کی نماز میں آپ پہنچتے تھے۔ ابویا لؤئاع کے اخیر ۲۱ میں اسکی روایت ہے کہ ان
القبون فی المغرب والخروج حلالہ قحط کی پیشگوئی سورۃ الدخان میں ہے۔ جبکہ اس حدیث سے بھی ظاہر ہے اور حج کی سواریوں میں سے جہاں ہے روایتی کی زمانہ کی ہیں۔
یعنی چھٹے ساتویں اٹھویں سال بعثت کی تو ظاہر ہے اسلم صلح ہوتا ہے کہ یہ قحط آنحضرت مسلم کی جہت سے پہلے شروع ہوا۔ اور قرن قیاس ہے کہ ساتویں اٹھویں سال میں شروع ہوا۔ اور اسکی پشت
آپ کے آخری کی زمانہ میں یا اجنا بی فی زمانہ میں ہوتی تو ابوسفیان آپ کے پاس آیا۔ اور یہاں تک کہ آنحضرت نے اسے لیا اور اسکا انا ہر حال جنگ بدر سے پیشتر ہے کیونکہ قحط کے دور ہو چکے اور یوں ہر (باتی شامیر صفحہ ۳۲۷)

وَبِصَلَةِ الرَّجْمِ وَلَا تَقُومَكَ فَذَهَلَكُمَا فَادْعَا اللَّهَ لَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَارْتَقِبْ يَوْمَ

فَأَتَى السَّمَاءَ وَدَخَلَ فِيهَا مِنْ نُورٍ أَلْوَانُهُ لَيْلٌ وَنَهَارٌ يُنَادِي بِأَصْوَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ تَقُولُ لِمَنْ فِي السَّمَاءِ

فَالْبَطْشَةُ يَوْمَ بَدَأَ فَقَدْ مَضَتْ الدُّخَانُ وَالْبَطْشَةُ وَاللِّزَامُ وَآيَةُ الزُّومِ وَاب

سُؤَالِ النَّاسِ كَمَا مَرَّ الْأَسْتِسْقَاءُ إِذَا أَحْطَوْا (۵۹۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُنَادِي بِشِعْرٍ أَيْ طَالِبٌ وَأَبْيَضٌ لَيْسَتْ سَمْتُهُ الْعَامُ بُوْجْهَهُ وَشِمَالُهُ

الْيَتْمَى عَصْمَةَ لِأَرَامِلٍ وَقَالَ عُمَرُ مِنْ حَمْرَةَ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ وَزَيْدُ بْنُ كَرْتٍ

قَوْلَ الشَّاعِرِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا يَبْزُلُ حَتَّى يَخْتِمْ

كُلَّ مِزَابٍ وَأَبْيَضٌ لَيْسَتْ سَمْتُهُ الْعَامُ بُوْجْهَهُ شِمَالُهُ الْيَتْمَى عَصْمَةَ لِأَرَامِلٍ وَهُوَ

قَوْلُ أَبِي طَالِبٍ (۵۸۰) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ

عَنْهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا

فَأَسْقِنَا قَالَ فَيَسْقُونَ بَاب

فِي الْأَسْتِسْقَاءِ (۳۴۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ (مُتَكَرِّرًا ۵)

(بقیہ از ص ۲۳۱ گذشتہ) ندیش لبطشة الکبوعی آنا ہے جو جنگ ہرکے متعلق ہے۔ اور بدست پہلے اگر بو سفیان مدینہ میں ہوتی آ یا ہو جب ابھی لڑائی شروع نہ ہوئی تھی تو اس میں کوئی بھی معلوم نہیں ہوتا۔ اور خط ددر ہوئیے بعد پھر انہوں نے زیادتی شروع کی اور مسلمانوں پر چڑھائی کی۔ اور آخر بدیش ان کے سپرد کر کے گئے اور یہی جبری گرفت ہے۔ یہاں چار بیچ ہیں کے پورا ہو گیا کرے جو مسلمانوں کے انہا درجہ کی گزری کے وقت کی نہیں تھی خط کی پیشگی بیگ بدسکی پیشگی۔ رمیوں کے ایمانیوں غالب آئیے پیشگی اور لزام لفظ لام قرآن کریم میں دو جگہ آتا ہے و لولہ کلمۃ سبقت من ربک لکن انما ارا رطانی فذلک ان کہ فسوف یکن انما ارا رطانی حدیث میں تصریح نہیں کہ لزام سے کیا مراد ہے۔ غالباً اس میں اشارہ فتح کی طرف ہے کیونکہ وہ حالت مغلوبیت ایسی تھی کہ ان کے لازم حال ہو گئی۔ اور یہی قریش کی طاقت کا خاتمہ تھا۔

ابو طالب کے دو اخبار جن میں سے ایک یہ ہے۔ اس وقت کہ جب قریش نے ان سے یہ درخواست کی تھی کہ محمد صلعم کو ان کے حوالے کر دیں لڑائی کتنا ہے کہ جب آنحضرت صلعم بارش کی دعا مانگے اور بارش آجاتی تو مجھے ابو طالب کا وہ شعر یاد آجائے کیونکہ اس میں یہ ذکر ہے کہ کیا ایسا روشن جیرو تھا کہ اسکی وساطت سے بارش آئی جاتی کہ جسے لوگوں کی مصیبتوں کو کھٹینا اسکی روشنی سے دور ہو جاتی ہیں۔ اسکا ظاہر ہے کہ یہاں وسیلہ بنانے سے غرض صرف اسقدر ہے کہ انکو امام دعا بناتے تھے۔ امام چونکہ ایک تنگ میں سیکنا نادرہ ہوتا ہے۔ اسلئے اسے وسیلہ کہاجی۔ یعنی آنحضرت صلعم اپنی زندگی میں ہمارے امام دعا ہوتے تھے۔ اسلئے آپ کے چچا عباس کو امام دعا بناتے ہیں اور یہ بھی ظاہر ہے کہ امام کی دعا کے ساتھ دوسرے لوگ بھی دعا کرتے تھے۔ یہ نہ ہوتا تھا کہ وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ہماری دعا تو خدا مستقیم اسلئے ہم کسی کو دعا کرتے ہیں۔ سان کا خود دعاؤں میں شامل ہونا ہوتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اور صحابہ حضرت عمر حبیب انسان کبھی اس شکر کا عقیدہ کے قائل نہیں ہوتے جو آج مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ امام بہر حال ایک کو بنانا تھا۔ تو نبی صلعم کے قرب کے لحاظ سے حضرت عباس کو امام بنایا گیا۔ لہذا لفظ یہاں النبی صلعم استسقی قلب و دعا ہے یعنی دعا کا نبی محمد مراد الٹا ہے۔

بہرہ ۵۷۷

دیکھو حدیث

(۳۷۴) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ (متكرر ۵۷۷) بَابُ اتِّقَامِ الرَّبِّ تَعَالَى عَزَّ

وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ بِالْفُحْطِ إِذَا انْتَهَكَ حَاجِرُهُ بَابُ الْأَسْتِسْقَاءِ فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ

(۳۷۵) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متكرر ۵۷۸) بَابُ الْأَسْتِسْقَاءِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ

غَيْرِ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ (۳۷۶) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متكرر ۵۷۸) بَابُ الْأَسْتِسْقَاءِ

عَلَى الْمِنْبَرِ (۳۷۷) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متكرر ۵۷۸) بَابُ مَنْ اتَّقَى بَصُلُوقَ الْجُمُعَةِ

فِي الْأَسْتِسْقَاءِ (۳۷۸) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متكرر ۵۷۸) بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا

تَقَطَّعَ الشَّجَلُ مِنْ كَثْرَةِ الْمَطَرِ (۳۷۹) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متكرر ۵۷۸) بَابُ

مَقْبُولِ الرَّبِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ يَجْرُلُ دَاءُهُ فِي الْأَسْتِسْقَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (۳۸۰) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

(متكرر ۵۷۸) بَابُ إِذَا اسْتَسْقَى الْأَقَامُ السُّسُقَةَ لَمْ يَرُدَّهُمْ (۳۸۱) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متكرر ۵۷۸)

بَابُ حُبِّ الْأَمِّ سَفَرًا بِمَا فِيهَا مِنْ كَرَامَاتٍ وَسَائِرِ بَابِ كَرَامَاتِهَا كَرَامَاتُهَا كَرَامَاتُهَا كَرَامَاتُهَا

بَابُ حُبِّ الْأَمِّ سَفَرًا بِمَا فِيهَا مِنْ كَرَامَاتٍ وَسَائِرِ بَابِ كَرَامَاتِهَا كَرَامَاتُهَا كَرَامَاتُهَا كَرَامَاتُهَا

بَابُ حُبِّ الْأَمِّ سَفَرًا بِمَا فِيهَا مِنْ كَرَامَاتٍ وَسَائِرِ بَابِ كَرَامَاتِهَا كَرَامَاتُهَا كَرَامَاتُهَا كَرَامَاتُهَا

یہاں لفظ میں ان النبی صلعم خیر المصلی فاستسقی استقبال القبلة وقد رداہ وصلی رکعتین یعنی بعد میں دو رکعت نماز بھی پڑھی اور اس روایت کے آخر میں امام بخاری نے بتایا ہے کہ اسے راوی عبد بن زید وہ نہیں جنوں نے اذان کی رو یاد بھی تھی بلکہ یہ عبد اللہ بن زید بن عاصم زانی ہیں اور اذان کی روایا دیکھنے والے عبد اللہ بن زید بن عبد ربیع سے ہیں اور اسے عنوان کے ساتھ عبد اللہ ابن مسعود کی حدیث

نمبر ۵۷۴ زیادہ مردوں ہے کسی خاص وجہ سے اس حدیث کو یہاں نہیں دہرایا + ۵۷۷ کو اختلاف لفظی سے دہرایا ہے۔ یہاں لفظ یہ ہیں۔ ان رجلا دخلوا جمعہ من یاب کان وجاہ المذبح ورسول اللہ صلعم قائم یخطب فاستقبلہ رسول اللہ صلعم قائم فقال یا رسول اللہ هلکت الہموال وانقطعت السبل فادع اللہ ان یغیثنا قال فرغم رسول اللہ صلعم ید ید یہ فقال اللہ استقنا اللہ استقنا اللہ استقنا قال انس فلاولہ ما نری فی السماء من سحاب الا قرعۃ ولا شیئا ولا یسینا وین سلم من بیت ولاد اقل فطلعت من ورائہ سحابہ مثل القوس فلما توسطت السماء انتشرت ثم اطرت قال فواللہ ما رأینا الشمر سبتا ثم دخل رجل من ذلك الیاب فی الجمعۃ المقبلۃ ورسول اللہ صلعم قائم یخطب فاستقبلہ قائم فقال یا رسول اللہ هلکت الہموال وانقطعت السبل فادع اللہ ان یمسکها قال فرغم رسول اللہ صلعم ید ید یہ ثم قال اللہ هو اللہ والاعلینا اللہ علی الا کام والجمالی والنظاری والاودیتہ ومنابت الشجره قال فانقطعت وخرجنا تمشی فی الشمس قال شریک فمالک انسا اھو الرجل الاول قال لا ادری + ۵۷۸ اس کر روایت کے الفاظ ۵۷۵ سے ملتے ہیں میں باب کان وجاہ المذبح کی جگہ یہاں میں باب کان خود دار القضاء اور دار القضاء ایک کان تھا جو حضرت عمر نے بنوایا تھا۔ پھر انکی وصیت کے مطابق اسے فروخت کر کے اسے آپ کا فرزند ادا کیا گیا۔ پھر اس کا نام دار القضاء ہوا۔ اس حدیث سے یہ ثابت کیا گیا کہ بارش کی دعا مانگنے کیلئے یہ ضروری نہیں کہ علیہ وہی لوگوں کو جمع کر کے نماز پڑھی جائے اور دعا کی جائے بلکہ کسی حالت میں بھی دعا ہو سکتی ہے اور یہ صحیح ہے جو دعائیں حالت میں ان سے چاہے کر سکتا ہے + ۵۷۷ اس حدیث کے یہ لفظ ہیں بیمار رسول اللہ صلعم یخطب یوم الجمعۃ اذ جاء رجل فقال یا رسول اللہ المطرف فادع اللہ ان یسقینا فاعطونا فاذا کان نضال لیمانار لنا عطر الی الجمعۃ المقبلۃ قال فقار ذلك الرجل وغیرہ فقال یا رسول اللہ ادع اللہ ان یرفعنا فقال رسول اللہ صلعم اللہ هو اللہ والاعلینا قال فلنکاب لیت السحاب یتقطع عینا و شمالا یمطرون ولا یمطر اھل المدینۃ + ۵۷۸ کے لفظ یہ ہیں اور رسول اللہ صلعم فقال هلکت الملیاشوق فانقطعت السبل فاعطونا من الجمعۃ الی الجمعۃ ثم جاء فقال لھم من الیوت فانقطعت السبل وھلکت الملیاشوق فقال اللہ علی الا کام والظاری والاودیتہ ومنابت الشجره فانحابت عن المدینۃ انھیاب الغیب۔ انجابت یعنی بادل چھٹ گیا۔ انجباب الرب کچھ بھٹنے کی طرح + ۵۷۸ اس کر روایت کے لفظ ۵۷۵ سے ملتے ہیں۔ باب کا اسطیہ یہ ہے کہ جس طرح بارش کیلئے دعا کی جاتی ہے زیادہ بارش ہو جس سے نقصان ہو تو اسے دور کرنے کے لئے بھی دعا کی جاتی ہے + ۵۷۷ بیروایت نہایت مختصر آئی ہے ان رجلا شکا الی النبی صلعم ہلالہ بالمال والرحم والعیال فادع اللہ لیستسقی لھم ولین کرانہ حرداوعہ ولا استقبل القبلة اس سے معلوم ہوا

چادر کا لٹانادے اسے استسقا میں ضروری نہیں + ۵۷۸ اس کر روایت کے الفاظ ۵۷۵ سے ملتے ہیں +

صحیح بخاری جو تھا ہوا
جلد نمبر ۵۵ کا
مضمون یہاں کتب
اختصار سے بیان کیا گیا
ہے عن مسروق
قال انبت ابن مسعود
فقال ان قریشنا
البطا عن الاسلاف
فذا علمم النبی
صلیہ فخذتم
سنة حتی ملکوا
فیہا واکلوا اللبنة
والعظام فجاءه
ابوسفیان فقال
یا محجر جئت نائم
بصلة الزحوان
فولک قد ملکوا
فادع الله عز و
جل ففازا فارتقا
یوم رتافی السماء

بَابُ إِذَا اسْتَسْقَفَ الشُّرُكُونَ بِالْمَسْبُورِ عِنْدَ الْقِحْطِ (۳۸۲) عَنْ مَسْرُوقٍ

باب جب شرک کے وقت مسلمانوں سے دعا کروانا چاہیں
دیکھو حدیث

(متکررہ ۵۵) بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا كَرَّ الْمَطْرُ حَوْلَ الْبَيْتِ وَلَا عَلَيْنَا (۳۸۳) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

باب جب بارش زیادہ ہو تو دعا کرنا کہ اے اللہ ہمارے ارد گرد ہو اور ہم پر نہ ہو
دیکھو حدیث

بَابُ اسْتِسْقَاءِ الْمَاءِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ قَائِمًا (۵۸۱) عَنْ أَبِي إِسْحَاقٍ خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ

باب استسقا میں کھڑے ہو کر دعا مانگنا
ابو اسحاق سے روایت ہے عبد اللہ

ابن يزيد الأنصاري وخرج مع البراء بن عازب زید بن ارقم فاستسقى فقام لهم

بن یزید انصاری اور ان کے ساتھ براء بن عازب اور زید بن ارقم نکلا انکراش کے لئے دعا مانگی قرآن کے لئے
عَلَى رَجُلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مَنِيْرٍ فَاسْتَسْقَى ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مُجَهَّرًا بِالْقِرَاءَةِ وَكَمْ يُوَدُّنَ

منبر کے بغیر پاؤں پر کھڑے ہونے اور بارش کی دعا کی
پھر دو رکعتیں پڑھیں آواز سے قرأت پڑھتے تھے اور نہ اذان دی اور نہ

لَمْ يَقُمْ (۳۸۴) عَنْ عَبْدِ بْنِ تَيْمِيمٍ (متکررہ ۵۵) بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي

دیکھو حدیث نمبر ۵۵ باب استسقا میں آواز سے قرأت پڑھنا
تیمیم سے روایت ہے

الْإِسْتِسْقَاءِ (۳۸۵) عَنْ عَبْدِ بْنِ تَيْمِيمٍ (متکررہ ۵۵) بَابُ كَيْفَ حَوَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

دیکھو حدیث نمبر ۵۵ باب نبی صلعم نے لوگوں کی طرف اپنی پیٹھ
بَابُ كَيْفَ حَوَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ إِلَى الْكُفْرَةِ

یوحنا مبین الانبیاء علیہم السلام فذکرہ فقال تعالیٰ یہ نبطش المپشتہ الکبریٰ یوحنا مبین اسکے بعد بچھ بڑا یا ہے جو نمبر ۵۵ میں نہیں ہے ذوالاسیاط عن

منصور فداعرسول الله صلعم فسقوا الخبت فاطبقت عليهم سبعاء وشكا الناس كثرة المطر فقال اللهم حوالينا ولا علينا فخذنا من الخسابة عن لاسه فسقوا لنا

حولم اسے معلوم ہوا کہ سات دن والی بارش کا واقعہ جس کا ذکر نمبر ۵۴ میں ہے قریش کے سات سالہ قحط کے متعلق ہے۔ سپر سپر بنا پرا عرض کیا گیا ہے کہ سات دن کی بارش ہلا کر
مربیہ کا ہے۔ کیونکہ خطبہ مجید میں نبی صلعم نے دعا مانگی۔ مگر یہ عرض صحیح نہیں۔ کیونکہ قرین قیاس یہی ہے کہ قریش سات سالہ قحط کی ابتدا اسوقت ہوئی جبکہ حضرت صلعم ابھی
میں تھے۔ اور وہ ختم ہوا۔ قریش پر ربینہ تشریف لائے۔ اور ہو سکتا ہے کہ ابوسفیان نے جس آدمی کو بھیجا ہو جس کا ذکر نمبر ۵۴ میں ہے۔ بلکہ یہی ہی کی روایت میں ہے کہ ابوسفیان
اور مکہ کے کئی آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ اور نمبر ۵۴ میں جو ایک عربی کا ذکر ہے تو اس سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے۔ اسی کی کر روایت آگے آئی ہے نمبر ۳۸۳ میں ہے۔

لفظ میں فقار الناس فحوا لوگ کھڑے ہوئے اور پکارا تھے۔ تو ممکن ہے کسی آدمی نے کسی کا ذکر کر دیا کسی نے کسی کا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس روایت کے راوی اسباط سے دونوں
واقوں میں غلط ہو گیا ہو۔ یہ حال قریش کا اسی حالت میں اسحضرت صلعم کی طرف دعائے بارش کی درخواست لیجانا جبکہ اسے انتہا دیکھ کر مخالفت تھی (بلکہ آپ کو گھر سے نکال چکے تھے)
بتا ہے کہ آپ کے اصحاب کرینہ پر ان لوگوں کو کس قدر بھروسہ تھا۔ اور یہ کوئی عجیب بات نہیں کہ ایسا ہوا جو اسلئے کہ فرج مکہ کے بعد جب سخت ترین سزا دینے کا موقعہ تھا۔ آپ نے ان لوگوں
سے دریافت کیا کہ تم مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو۔ تو سوچتے بھی انہوں نے یہی جواب دیا تھا اسخ کو یہاں اسخ کو یہ سخت ترین اعدا یعنی حاجات کو آپ کے پاس لے جانے۔ اور
آپ نے بادی و ان حاجات کو پورا کرتے۔ یہ وہ نمونہ ہے جو کسی نبی کی زندگی میں نہیں ملتا۔ ان کی عداوت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ اور آپ کے رحم انتہا کو پہنچا تھا اور اسلئے کہ اللہ جل جلالہ
للعالمین + حدیث کے لفظ دوسری کر روایت سے قدرے مختلف ہے عن النزال کان رسول الله صلعم خطب يوم الجمعة فقام الناس فحوا لوالا رسول الله صلعم

المطر وهو من الشجر وهلك المبهات فادع الله ان يسقنا فقال اللهم اسقنا من تين وايجر الله حازري في السماء قوتة من سبحان فمشتات بحاجبة وامطرت من نزل عن المنبر
فصلی فلما انصرفوا عن نزل المطر الى الجمعة التي يليها فلما نام النبي صلعم خطب صلحو اليه فهدم البيوت انقطعت السبل فادع الله صلعم ما عانا فبسم النبي صلعم وقال
اللهم حوالينا ولا علينا ونكثت المدن فجلعت تمطر حولها وما تمطر بالمدينة فطرط فظنرت الى المدينه وانما النقي مثلا لا كليل اكليل نالج كوكبته هليلج من صبر
چیز ہے جو اساطر کر لیتی ہے۔ نہ مطلب ہے کہ بادل بنے چاروں طرف سے اساطر لیا ہوا تھا۔ اور ربینہ بیچ میں غالی تھا۔ نبی کریم صلعم کی دعا کے الفاظ قابل غور ہیں۔ یوں دعا نہیں کی کہ اے اللہ تعالیٰ بارش
کو بند کر دے۔ کیونکہ کسی رحمت کے بند ہونے کی خواہش نبی کے قلب میں جو مرفعت اسے بھرا ہوا پیدا نہیں ہو سکتی۔ اسلئے یوں دعا کی۔ کہ ہمارا ارد گرد ہو جہاں بھی ضرورت ہو اور ہم پر نہ ہو
نبی کریم کی دعا میں اپنے اندر بڑے بڑے عقبات لکھی تھی ہل و علیہ مستقل مسالہ کو چاہتی ہیں + حدیث اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبد اللہ بن زینب نے ناز دعا کے بعد پڑھی ہے صحابی تھے۔ نبی صلعم
سے بھی ایسا ہی ثابت ہے کہ نمبر ۵۴ اور ۵۵ حضرت عائشہ سے لیا واد میں و عبد اللہ بن عباس سے سند احمد میں جو روایت نبی کریم کے استسقا کے متعلق ہے۔ اس میں بھی نمبر پڑھنا ہوگا کہ ناز سے پہلے ہی
بعض روایات میں سے خلاف بھی ہے۔ مگر یہ آپ نے متعدد مرتبہ ناز استسقا پڑھی ہو تو دعا کبھی پہلے کی ہو کبھی پیچھے۔ اسلئے کہ نبی کریم کا واقعہ ہے عبد اللہ بن زینب عبد اللہ بن زینب کی روایت سے کہ ان
حدیث میں الفاظ یہ ہیں ان النبي صلعم خرج بالناس استسقى لهم فقار دعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وجعل يداه فادعوا حدیث اس سے روایت میں نمبر ۳۸۴

سے بھی کچھ روایت ہے ایک فتوحہ مالی العقبانہ کے بعد دعا کا لفظ بڑا یا ہے۔ یعنی قبیلہ کی طرف منہ کر کے دعا کی۔ پھر تم صلح کتب ان کے بعد یہ بھی فرمایا بالقرآنہ اسی سے عز ان باب ۵۰

ظہرہ الی الناس (مر ۳۸۶) عَنْ عَبْدِ بْنِ تَيْمِيمٍ (متکرر ۵۷۷) بَابُ صَلَاةِ الْأَسْتِسْقَاءِ	کس طرح پھیرا دیکھو حدیث نمبر ۵۷۷ باب استسقاء کی نماز
رُكْعَتَيْنِ (مر ۳۸۶) عَنْ عَبْدِ بْنِ تَيْمِيمٍ (متکرر ۵۷۷) بَابُ الْأَسْتِسْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ (مر ۳۸۸)	دو رکعت ہے دیکھو حدیث نمبر ۵۷۷ باب عید گاہ میں استسقاء
عَنْ عَبْدِ بْنِ تَيْمِيمٍ (متکرر ۵۷۷) بَابُ اسْتِيقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الْأَسْتِسْقَاءِ (مر ۳۸۹)	دیکھو حدیث نمبر ۵۷۷ باب استسقاء میں قیود بخ ہوتا
عَنْ عَبْدِ بْنِ تَيْمِيمٍ (متکرر ۵۷۷) بَابُ رَفْعِ النَّاسِ يَدَيْهِمْ مَعَ الْأَمَامِ فِي الْأَسْتِسْقَاءِ (مر ۳۹۰)	دیکھو حدیث نمبر ۵۷۷ باب استسقاء میں لوگوں کا اپنے ہاتھوں کو امام کے ساتھ اٹھانا
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متکرر ۵۸۱) بَابُ رَفْعِ الْأَمَامِ يَدَيْهِ فِي الْأَسْتِسْقَاءِ (مر ۵۸۱) عَنْ أَنَسِ بْنِ	دیکھو حدیث نمبر ۵۸۱ باب امام کا بارش کی دعا میں اپنا ہاتھ اٹھانا
مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِمَّنْ عَادَ فِي الْأَسْتِسْقَاءِ وَرَأَى فِي رُفْعِهِ حَقِي	بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلعم اپنے ہاتھ کبھی دعا میں نہ اٹھاتے تھے سوائے استسقاء کے اور آپ یہاں تک اٹھاتے کہ
يُرَى بَيَاضَ بَطْنِهِ دَابَّ مَقَالًا إِذَا مَطَرَتْ وَقَالَ بِنُ عَتَّاسٍ كَصَيْبِ الْمَطَرِ وَقَالَ غَيْرُهُ	آپ کی ٹھنوں کی سفیدی دکھائی دیتی ہے۔ باب جب مینہ برسے تو کیا کہا جائے اور ابن عباس نے کہا صیبت بارش ہے اور اوصاف
صَادَ أَصَابُ يَصُوبُ (مر ۵۸۲) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى مَطَرًا قَالَ	صاب ٹھنوں اور صوب (ہے) اصاب تک حضرت عائشہ سے روایت ہے جب رسول صلعم بارش دیکھتے تو کہتے
اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا بَابُ مَنْ تَطَرَّفَ فِي مَطَرٍ عَنِ ابْتِحَاحٍ دَعَى حَيْثُ رَأَى مَطَرًا	اے اللہ اسے مفید بارش دے، باب جو بارش میں یہاں تک ٹھنیرا ہے کہ اس کی ڈاڑھی پر پڑتی ہے دیکھو حدیث
(متکرر ۵۸۳) بَابُ إِذَا أَهْبَتِ الرِّيحُ قَالَ عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَتْ الرِّيحُ الشَّدِيدَةُ	نمبر ۵۸۳ باب جب ہوا چلے۔ ان بن مالک سے روایت ہے جب زور کی ہوا چلتی
إِذَا هَبَّتْ عَرَفَ فِيكَ نِيَّ وَحَدَّثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصْرَتِي يَا صَبَابُ (مر ۵۸۴)	تو نبی صلعم کے چہرے سے اسکا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ باب نبی صلعم کا قول کہ مجھے (بار) صیبت مدہلی

کتاب الاستسقاء
 ۳۸۵ اس میں
 پر بھی الفاظ میں زیادت
 ہے۔ موصوفوں میں نہیں
 سارے الفاظ ہیں
 روایت النبی صلعم
 پر خروج يستسقى
 قال فحول الى الناس
 ظہرہ واستقبل القبلة
 بن وعاشم حول دعاه
 ثم صلى لئلا يركبتين
 جهر فهاها لئلا
 مر ۳۸۵ میں فحول الى
 الناس ظہرہ کے الفاظ
 نہیں ان دونوں حدیثوں
 سے بالمرتب ثابت
 ہے کہ نبی صلعم نے دعا
 کے بعد نماز پڑھی ہے
 ۳۸۶ یہاں الفاظ
 ہیں ان النبی صلعم
 استسقى فضلى كقول
 وقلب دعاه + ۵۷۷
 یہاں الفاظ میں خروج
 النبی صلعم الى الصل
 يستسقى واستقبل
 القبلة فضلى كقول
 وقلب دعاه - آل
 المصلی کے الفاظ آپ کی
 دیگر روایات کے
 میں نہیں اور اسی سے
 عنوان باب ہو یہاں

قبیلہ رخ ہو کر دعا مانگنے کا ذکر نہیں صرف نماز پڑھنے کا ذکر ہے اور چادر اٹھانے کا ذکر نماز کے بعد ہے۔ ۵۷۷ یہاں الفاظ ہیں ان النبی صلعم خروج المصلی یصلی اذہ لمادعا اذ اراد ان یدعوا الاستقبال القبلة وحول دعاه یہاں یصلی کا لفظ چیلے آ گیا ہے۔ مگر مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لئے عید گاہ کو گئے تھے۔ اور حدیث میں ذکر صرف دعا ہے۔ نماز پڑھنے کے ذکر کو یہاں تک کر دیا ہے + ۵۷۷ یہاں الفاظ ہیں ان النبی صلعم یصلی فی حال العزای من اهل البدر والرسول اللہ صلعم یصلی فی الحجة فقال لایسوال اللہ هلکت الماشیتہ هلاک العیال هلاک الناس فم رسول اللہ صلعم یدبہ یدعو ورفم الناس یدعون مع رسول اللہ صلعم یدعون قال فما خرجوا من المسجد حتى مطرونا فمنا نأخذ حتى کانت الحجة الاخری فی ذی الحجۃ الی رسول اللہ صلعم فقال لایسوال اللہ یسئ المسافر الطریق یسئ ای صلی (یعنی مسافر تنگ آ گیا) اور ایک مسکن روایت میں ہے ان میں یہ زیادت ہے اور رفع یدہ حتی یبایض البطن یدہ حتی یسئ ای صلی نے بہت مقام میں یہاں تک کہا تھا تھا ہے کہ آپ کی ٹھنوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔ نمبر ۵۸۲ میں فرمایا ہے کہ نبی صلعم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی یہاں تک کہ پچھلے ہاتھ کے ہاتھ اٹھانے کا بھی ذکر ہے۔ گو یہاں میں سریشال ہوتے + ۵۷۷ دعا میں ہاتھ اٹھانے کے مستحق مفصل بحث آگے آئیگی۔ ان الفاظ کی کہ رسول نے استسقاء کے اور دعاؤں میں آئے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ یہ تو صیبت کی بنا کہ استسقاء کے بہت زیادہ ہاتھ اٹھانے یہ گویا اللہ میں ہانکے کے طور پر تھا + ۵۷۷ صیبت بارش کو کہتے ہیں صیبت کہ ان عباس نے کہا۔ اس فعل اضی صاب آتا ہے جسے نزل اور ضراع یصوب یعنی نزل اور اس سے بالاضافہ کی ماضی اصبا آتی ہے جو صاب فعل لازم کا متعدی ہے اور اسکا مضارع یصیب ہے۔ لکھنے والے اصبا کو صاب یصیب کے بیچ میں ڈال دیا۔ اور اسکی جگہ یصوب کے بعد صیبت کا ذکر اس حدیث الباب میں آیا ہے جسکے متعلق قرآن کریم کے لفظ کی تشریح کی ضرورت ہوئی + ۵۷۷ اس کی روایت کے الفاظ اور مضمون نمبر ۵۸۳ کی طرح ہیں۔ بہت خفیف تغیر لفظی ہے۔ بار کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلعم نے جنت چیلے کے باوجود اپنی جگہ کو نہیں چھوڑا اور خطبے کو پورا کر کے اتنے + ۵۷۷ مراد زور کی ہوا اور اندھی ہے جبکہ حدیث کے الفاظ سے ظاہر ہے + ۵۷۷ یہاں ذکر نہیں کہ ایسے وقت میں کیا کیا جائے عرض اس قدر کر کے کہ آپ کے چہرے سے فکر محسوس ہوتا تھا کیونکہ بعض وقت اندھی قوموں یا انسانوں کی ہلاکت کا موجب ہوجاتی ہے۔ اور ممکن ہے کہ آپ کا فکر اس وجہ سے ہو کہ میرا آپ کی قوم ہلاکت ہو جائے بعض دوسری روایات میں ہے کہ آپ کا بھی ذکر ہے اللہ صافی استسقاء میں صیبت دعا صرف یہ واخذ بک من شہوا الموت بہ +

صحیح بخاری - جو صحابہ

کے صباوہ ہمارے
جو مشرق کی طرف سے
چلتی ہے۔ اور جو مغرب
کی طرف سے چلتی ہے
اسے دیکھتے ہیں
یاد رہے اسے آپ کو
خاک کہ جنگ احزاب
میں آگے دشمن جا رہے
خاص روایں ہر شیخ
ان میں سے اس ہجرت
ایک متنفس بھی ہوا
نہیں ہوا ہے
یہاں لفظ ہے ہر حال
النبی صلعم لا تقم
الساعة حتى يقبض
العلم وبتكثير
الزلازل وبتقارب
الزمان ونظها
الفتن ويكثر الفرج
وهو القتال القتل
حقى بكذا فيك
للمال فيفيض -
زلازل سے اگر زمین
کی حرکت کا خطر بار
لیا جائے تو بظاہر
استعداد اور ہواؤں
کے چلنے سے اس کی
مناسبت یہ ہے کہ
یہ بھی ایک حدیث ہے
جس کے دیکھنے سے
اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ضروری ہے۔ مگر اس
سے مراد عام صحابہ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهَرْتُ بِالصَّبَا وَأَهْلَيْتُ عَادِيَةَ النَّوْرِ
ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا یہ نچھو یا صبا سے مدنی اور عادی کو قوماں ہوتے ہیں

بَابُ مَا قِيلَ فِي الزَّلَازِلِ وَالْآيَاتِ (م ۳۹۳) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر ۶) (۵۸۵) ع
باب جو زلازل اور آیتوں کے متعلق کہا گیا ہے

ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے شام اور ہمارے یمن میں برکت دے گا لوگوں نے عرض کیا اور ہمارے نجد میں کیا ہے اللہ
بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَاوِي وَمِينَا قَالَ الْوَادِي بَعْدَ مَا قَالَ قَالَ اللَّهُ
یہیں ہمارے شام اور ہمارے یمن میں برکت دے انہوں نے عرض کیا اور ہمارے نجد میں فرمایا وہاں زلزلے اور نقص ہیں اور وہیں سے

قُرْنِ الشَّيْطَانِ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكْفِرُونَ
شیطان کا گروہ نمودار ہوگا

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ شُكْرُكُمْ (م ۳۹۳) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ (متكرر ۹) (۵۰۹)
ابن عباس نے کہا ہے تمہارا شکر ہے

بَابُ لَا يَدْرِي مَتَى يَخْرُجُ الْمَطْرُ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ
باب بارش کے آنے کا وقت اللہ غالب برتر کے سوا کوئی نہیں جانتا اور ابو ہریرہ نے نبی صلعم سے روایت کیا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَسُّمٌ لَا يَعْلَمُ مِنْ إِلَّا اللَّهُ (۵۸۶) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
پانچ (بائیں) ہیں جنہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتَمٌ الْخَيْمَةُ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ لَا يَعْلَمُ أَحَدٌ
غیب کی خیموں پانچ ہیں جنہیں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا

مَا يَكُونُ فِي غَيْبٍ وَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي الْأَرْحَامِ وَلَا تَعْلَمُ مَفْسٌ
کوئل کو کیا ہوگا اور کوئی نہیں جانتا کہ رحموں میں کیا ہوتا ہے اور کوئی نہیں جانتا

مَا آذَانُ كَسِبَ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَوَالِدٌ
کوئل کیا کرے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین میں مرے گا اور

أَحَدٌ مَتَى يَخْرُجُ الْمَطْرُ
کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی

وشرارہ بھی ہو سکتے ہیں جو بعد میں ظاہر ہوتے ادب بھی ان کا ظور ہوتا ہے۔ قیض علم سے مراد معرفت الہی کا علم ہے جو آجکل بالکل مفقود کا حکم رکھتا ہے۔ اور تریبہ میں سے یہ ہمارے کہ
لوگ دنیاوی مشاغل میں اس قدر منہمک ہونگے یا ظاہری آسائشیں اس قدر ہونگی کہ وقت کے گذرنے کا احساس کرتے ہونگے۔ یہ حدیث مفصل کتاب الفتن میں آئی ہے۔ ۱۰۰۰
یہ قول ابن عمر کا ہے۔ مگر لگایا ہے کہ نبی صلعم کا لفظ میاں سخن میں سے رہ گیا ہے۔ بخیر سے کون سے فتنے ظاہر ہونگے۔ اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ شاید آئینہ کے متعلق ہو۔ اور یا
مراد نجد سے وہ سارا علاقہ ہو جس میں بارش بھی آجاتی ہے۔ جہاں سے سیدہ کذاب کا ظور ہوا اور شاید اسی کی طرف اشارہ ہو۔ ۱۰۰۰
کرنا چاہیے تھا۔ مگر تمہارا شکر یہ ہے کہ تم جھگلاتے ہو۔ ۱۰۰۰
جہاں سے سارا علاقہ کا کفر ہے۔ ۱۰۰۰
ان پانچ باتوں کا ذکر کیا ہے جن کے متعلق عموماً کاہن یا نجوم لوگوں کو دھوکا دیتے پھرتے ہیں کہ ہم فلاں باتیں بتا سکتے
ہیں بلکہ فرمایا کہ یہ سب کچھ انہوں کی اہمکلیاں ہیں ان کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ سورہ لقمان میں بھی پانچ باتوں کا ذکر ہے۔ گردان علم الساعۃ ہے یہاں ما یکتفی فی غناس قسم کی
اہمکلیاں ہیں جو کہیں یا بخوبی کرتے ہیں انسان کی حقیقی ترقی میں ملنے ہیں۔ مثلاً یہ معلوم کرنے کی بجائے کہ کل کیا ہوگا انسان کو چاہیے کہ ان افعال کے انجام پر نظر کرے جو وہ کرتا ہو اگر
اس کے اعمال چھے ہیں تو اسے نتیجہ بھی اچھلے گا۔ اور قرآن کریم سے پوری بجائے علم الساعۃ لکھا تو اس میں بھی یہی اشارہ ہے کہ قوم کی تباہی انکے افعال سے آتی ہے۔ اور یہ اہمکلیاں یا زلازل کہ لکھا گیا
ہوگا یا زلزلے کی فضول ہیں جو کچھ اولاد اللہ تعالیٰ نے بسکی بہترین تربیت کرنی چاہیے۔ لڑکا ہوا یا لڑکی ہو۔ ایک پروردگار سے زیادہ خوش اور دوسرے پر بے خبر نہیں ہونا چاہیے۔ سادہ کل کیا لکھا گیا کہ
انسان کچھ کام کو کل پر چھوڑے۔ اور انسان نہیں جانتا کہ کب اور کہاں مر گیا۔ پس موت کیبھی ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ لا تقم فی الاذانہ مسلین ہر وقت فرمایا دارا لہی ہے۔ اور بارش کب ہوگی یہ بھی
انسان کو علم نہیں۔ یہاں ہی طبیعت کا انحصار صرف اس پر ہر کسے۔ بلکہ جو کچھ کو شمشیر انسان کی طاقت میں ہے وہ کرے +

ابواب الكسوف

گہن کے باب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اس کے نام سے جو ہے ایشیا نام والا
باب سورج گہن میں نماز پر ہونا

باب الصلوة فی کسوف الشمس (۳۹۷) عَنْ ابْنِ بَكْرَةَ (متكرر ۵۸) (۳۹۵)

باب سورج گہن میں نماز پر ہونا
باب سورج گہن میں نماز پر ہونا

باب سورج گہن میں نماز پر ہونا
باب سورج گہن میں نماز پر ہونا

باب سورج گہن میں نماز پر ہونا
باب سورج گہن میں نماز پر ہونا

باب سورج گہن میں نماز پر ہونا
باب سورج گہن میں نماز پر ہونا

باب سورج گہن میں نماز پر ہونا
باب سورج گہن میں نماز پر ہونا

باب سورج گہن میں نماز پر ہونا
باب سورج گہن میں نماز پر ہونا

باب سورج گہن میں نماز پر ہونا
باب سورج گہن میں نماز پر ہونا

باب سورج گہن میں نماز پر ہونا
باب سورج گہن میں نماز پر ہونا

باب سورج گہن میں نماز پر ہونا
باب سورج گہن میں نماز پر ہونا

باب سورج گہن میں نماز پر ہونا
باب سورج گہن میں نماز پر ہونا

۱۷۵
۱۷۴
۱۷۳
۱۷۲
۱۷۱
۱۷۰
۱۶۹
۱۶۸
۱۶۷
۱۶۶
۱۶۵
۱۶۴
۱۶۳
۱۶۲
۱۶۱
۱۶۰
۱۵۹
۱۵۸
۱۵۷
۱۵۶
۱۵۵
۱۵۴
۱۵۳
۱۵۲
۱۵۱
۱۵۰
۱۴۹
۱۴۸
۱۴۷
۱۴۶
۱۴۵
۱۴۴
۱۴۳
۱۴۲
۱۴۱
۱۴۰
۱۳۹
۱۳۸
۱۳۷
۱۳۶
۱۳۵
۱۳۴
۱۳۳
۱۳۲
۱۳۱
۱۳۰
۱۲۹
۱۲۸
۱۲۷
۱۲۶
۱۲۵
۱۲۴
۱۲۳
۱۲۲
۱۲۱
۱۲۰
۱۱۹
۱۱۸
۱۱۷
۱۱۶
۱۱۵
۱۱۴
۱۱۳
۱۱۲
۱۱۱
۱۱۰
۱۰۹
۱۰۸
۱۰۷
۱۰۶
۱۰۵
۱۰۴
۱۰۳
۱۰۲
۱۰۱
۱۰۰
۹۹
۹۸
۹۷
۹۶
۹۵
۹۴
۹۳
۹۲
۹۱
۹۰
۸۹
۸۸
۸۷
۸۶
۸۵
۸۴
۸۳
۸۲
۸۱
۸۰
۷۹
۷۸
۷۷
۷۶
۷۵
۷۴
۷۳
۷۲
۷۱
۷۰
۶۹
۶۸
۶۷
۶۶
۶۵
۶۴
۶۳
۶۲
۶۱
۶۰
۵۹
۵۸
۵۷
۵۶
۵۵
۵۴
۵۳
۵۲
۵۱
۵۰
۴۹
۴۸
۴۷
۴۶
۴۵
۴۴
۴۳
۴۲
۴۱
۴۰
۳۹
۳۸
۳۷
۳۶
۳۵
۳۴
۳۳
۳۲
۳۱
۳۰
۲۹
۲۸
۲۷
۲۶
۲۵
۲۴
۲۳
۲۲
۲۱
۲۰
۱۹
۱۸
۱۷
۱۶
۱۵
۱۴
۱۳
۱۲
۱۱
۱۰
۹
۸
۷
۶
۵
۴
۳
۲
۱
۰

وہ جس سے سورج کو گہن نہیں لگتا۔ نہ ابراہیم کی موت سے اس کا کوئی تعلق ہے البتہ یہ فرمایا کہ اس وقت نماز پڑھو اور اگر کسی وقت میں صدقہ دینے کا بھی ذکر ہے۔ تو عرض فرمائی کہ کوئی غیر معمولی امر پیش آجائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے۔ بلاشبہ کیوں ہوتی ہے۔ کس طرح ہوتی ہے۔ اس سے ان لوگوں کو سرد کار نہیں ہونا جو انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے پیدا کرنے آئے ہیں۔ بسطرح سورج کو گہن کیوں لگتا ہے۔ کس طرح لگتا ہے۔ کب لگتا ہے اس سے بھی انہیں کوئی سرد کار نہیں۔ ہاں باتیں نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں خدا کے جسکو سورج کو گہن لگے وہ کہتے ہیں خدا کے جسکو۔ سورج کا زوال شروع ہوتا ہے تو نماز کا حکم ہوتا ہے۔ سورج نکلنے کو چاہئے تو نماز کا حکم ہوتا ہے۔ مگر یہ سورج کی پریشانی نہیں اس خدا کی پریشانی سے جسکے تصرف تام سے یہ سب تفسیرات ناسخ ہوتے ہیں۔ بسطرح سورج کا گہن ایک تفسیر ہے جو عامہ حالات میں آتی ہے۔ پھر اس وقت بھی اس خدا کے جسکے سکھایا جس کے تصرف تام سے تفسیر آتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج گہن کے دور ہونے کے لئے دعا کی جائے نہ کسی حدیث میں لکھا ہے۔ ہاں اس کو ایک نشان کہا ہے۔ سورج اس نماز میں ہو جائے جسکو سورج ایک نوردنیا کے ایک وقت کے لئے رک لیا جاتا ہے۔ اس طرح انسان کے نور ظہیر بعض وقت ایسے ہر سبب سے جن کا انسان کو علم نہیں ایک تفسیر واقع ہوا جاتا ہے۔ اور روشنی کی بجائے تاریکی ہو جاتی ہے۔ یا یہ کہ اللہ کے نور کا پورا انسان پر چڑھنے سے رک جاتا ہے۔ نماز کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسا حقیقی تعلق پیدا کرنے کی کوشش کی جائے کہ وہ تعلق کسی وقت منقطع نہ ہو۔ مگر یہاں دو جہی اخفا کر لیا ہے۔ قال لی صلح ان الشمس والقمر لا یخسفان لموت احد من الناس ولکن ہما آیتان من آیات اللہ فاذا رأیتھما فقوموا فصلوا۔ اس کے لفظ مر ۳۹۵ کی طرح ہیں سو ان کے کہیں موت احد کے ساتھ ولا لیا آتہ بھی پڑا ہے۔ مگر اس کو رد و انت میں یہ ذکر کر دیا ہے کہ یہ واقعہ ابراہیم کی وفات کے دن ہوا۔ اور لوگوں نے ابراہیم کی موت کی وجہ سے سمجھا تو اپنے ذہن کو یہ خیال غلط ہے قال کسفت الشمس علی محمد رسول اللہ صلح یہ ہمتا یا ابراہیم فقال الناس کسفت الشمس لموت ابراہیم فقال رسول اللہ صلح ان الشمس والقمر لا ینکسفان لموت احد ولا لیا آتہ فاذا رأیتھما فصلوا وادعوا اللہ +

وَأَتَىٰ عَلَيْهِمْ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنَ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ

اور تمنا کی پھر فرمایا سورج اور چاند خدا کے نشانوں میں سے دو نشان ہیں انہیں کسی کی موت یا کسی کی زندگی سے کچھ نہیں بدلتا اور تمنا کی

وَلَا يَحْيِيهِمْ وَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا ثُمَّ قَالَ يَا

کی دعویٰ کہ میں نہیں گنا تو جب تم اسے دیکھو تو اس سے دعا کرو اور بڑائی کرو اور نماز پڑھو اور صدقہ دو پھر فرمایا اسے

أُمَّةٌ مُحَمَّدٌ وَاللَّهُ فَا مِنْ حُدِّ غَيْرِ مِنَ اللَّهِ أَنْ تُزْنِي عَبْدًا أَوْ تُزْنِي أُمَّةً يَا مُحَمَّدُ

امت محمد خدا کی قسم خدا سے بڑھ کر شہرت والا کوئی نہیں کہ اس کا غلام یا اونٹنی زنا کرے اسے امت محمد

وَاللَّهُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْمَلْتُمْ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَكِنِّي بَابُ الْبَدْعِ الصَّلَاةِ

خدا کی قسم اگر تم اسے جانتے تو تم جہنم جاتا ہوں تو تم کو ہنسنے اور زیادہ رونے سے بے باب کسوف میں

جَامِعَةٌ فِي الْكُسُوفِ (۵۸۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَقَالَ لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلِيَّ

جامعہ کسوف میں (۵۸۸) عبد اللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج کو گریز ہوا

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُودِيَ أَنْ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ بَابُ خُطْبَةِ الْوَعْدِ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا گیا کہ نماز جامعہ ہے اور اس کے لئے جمع ہوا ہے بے باب کسوف میں امام کا

فِي الْكُسُوفِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَسْمَاءُ لَخُطِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۳۹۸)

کسوف میں اور حضرت عائشہ اور اسماء نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوف پڑھا

عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَرِّرًا ۵۸) بَابُ هَلْ يَقُولُ كَسَفَتِ الشَّمْسُ أَوْ خَسَفَتِ وَقَالَ اللَّهُ

عزوجل و خسفت القمر (۳۹۹) عن عائشة (متكرر ۵۸) باب کیا کسفت الشمس اور خسفت اور اللہ

عَزَّ وَجَلَّ وَخَسَفَ الْقَمَرُ (۳۹۹) عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَرِّرًا ۵۸) بَابُ قَوْلِ

غالب پڑھا اور خسفت القمر بے باب کسوف میں اور حضرت عائشہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوف پڑھا

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَوِّفُ اللَّهُ عِبَادَهُ بِالْكَسُوفِ قَالَ أَبُو مُوسَىٰ عَنِ النَّبِيِّ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کے بھائی (عبداللہ بن الزبیر) نے تو جبرائیل رضی اللہ عنہم سے روایت کیا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۴۰۰) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ (مُتَكَرِّرًا ۵۸)

صلى الله عليه وسلم (400) عن ابي بكر (متكرر 58) بے باب کسوف میں اور حضرت ابوبکر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوف پڑھا

بَابُ النَّعْوِ ذِمِّنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْكُسُوفِ

بے باب کسوف میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگنا

علم آنحضرت مسلم کی
شہاد کسوف میں قیام و
کسوف وغیرہ کے متعلق
اسی کی مثل نمبر ۳۹۱
میں گذر چکا ہے مگر وہاں
بعد نماز جو پڑھا آپ نے
خطبہ میں بیان فرمایا
وہ اور ان میں ہیں یوں
یہ حدیثیں ایک دوسری
کی تکمیل کرتی ہیں یہاں
اخلاقی اصلاح کی صورت
خصوصیت سے توجہ
دلائی ہے + علم
نمبر ۵۸۷ میں حضرت
عائشہ کی روایت میں
فخطبہ الناس میں خطبہ
کا صریح لفظ ہے -
اس باب میں ۳۹۸
میں در اسما کی روایت
نمبر ۳۹۷ و نمبر ۳۹۸
وہ ۳۹۷ میں لکھی
خطبہ کا صریح لفظ
نہیں ہے - لیکن مضمون
خطبہ میں ہے - او
واقفہ ایک ہے +
علم اس کی ابتدا
ان الفاظ سے ہوتی ہے
خسفت الشمس فی کل
حینۃ النبی صلی اللہ
علیہ وسلم قال نصف
الناس وراۃ فلکبر
فاقتر رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم
اسی طرح ایک رکن کے بعد اللہ اکبر - سمع اللہ من حمد - دینا لک الحمد کا اپنے اپنے موقع پر ذکر ہے - جو نمبر ۵۸۸ میں نہیں - اور ایک قیام میں قرأت طویلہ کے پڑھنے کا ذکر
ہے - ذکر نماز کے بعد ہے - فاستكمل اربع رکعات فی اربع مسجد ات یعنی اس نماز میں چار رکوع اور چار مسجد سے پورے کئے - اور آخر خطبہ کے ذکر میں ہے فاذا ارأیتوھا ما وخطب
الصلوۃ بجا فادعوا للہ وکبروا واصلوا وصدقوا کے اور شہدہ قال سے لیکر آخر تک یہاں نہیں - یا فی مضمون میں صرف فقہوا اس لفظی تفسیر ہے - پھر یہ زیادہ ہے وہاں محدث
کہتے ہیں عباس بن عبد اللہ بن عباس کان یحدث یوم خسفت الشمس بمثل حدیث عمرہ عن عائشہ یعنی (زہری راوی نے کہا کہ) کثیر بن عباس کی روایت سے
بیان کیا کہ عبداللہ بن عباس کسوف شمس کی حکایت اسی طرح کرتے تھے جس طرح عمرہ نے حضرت عائشہ سے کی ہے فقالت لعمرہ ان احاک لہم خسفت الشمس بلذاتہ
لہ یزید علی رکاتین مثل الصبح قال اجل لانه اخطا السنۃ تو میں نے عمرہ سے کہا کہ آپ کے بھائی (عبداللہ بن الزبیر) نے تو جبرائیل رضی اللہ عنہم سے روایت کیا
تو صبح کی طرح صرف دو رکعتیں پڑھیں - اس نے کہا ان یہ اسلے کہ سنت میں اسے غلطی لگی + علم اس حدیث کے الفاظ نمبر ۳۹۸ سے ملتے ہیں - مگر انصاف کے ساتھ اسے مضمون کو دو رکعت
ہے - ابتدا یوں کی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوف پڑھا اور خسفت الشمس فقہوا فلکبر - مگر نمبر ۳۹۸ و ۳۹۹ کا ذکر خاندانہ حدیث وہاں محدث سے یہاں نہیں ہے - اور حدیث فاقتر رسول اللہ الصلح
پر ختم ہو جاتی ہے - ان دونوں حدیثوں میں سورج کیسے خسفت کا لفظ استعمال ہوا ہے - اسی سے عنوان باب ہے + علم یہاں نمبر ۵۸ کا صرف یہ حصہ ہے ان الشمس والقمر آیتان
من آیات اللہ لایبکسفان لموت احد اور آخر میں لیکن بخوف اللہ ما عبادہ زیادہ ہے - لہذا سے اشد اپنے بندوں کو خوف دلانا ہوا اور اس کے بعد ہے کہ نبی راویوں
نے یہ زیادہ لکھا اور امت نہیں کیا +

(مر ۲۰۱) عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَرَّرًا ۵۸) بَابُ طَوْلِ الشُّجُودِ فِي الْكُسُوفِ (مر ۲۰۲) عَنْ عَبْدِ

دیکھو حدیث نمبر ۵۸۷۔ بَابُ كُسُوفٍ مِمَّنْ جَمَعَهُ كَرِيحًا كَرِيحًا
اللَّهُ بْنِ عُمَرَ (مُتَكَرَّرًا ۵۸) بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ جَمَاعَةً وَصَلَّى اللَّهُمَّ إِنِّي خَتَّابٌ فِي صَفَةِ زَمْرٍ

حدیث نمبر ۵۸۸۔ بَابُ كُسُوفٍ كِي مُنَادٍ جَمَاعَةٍ مَعَهُ بِرُحْمَةٍ - اور عبد اللہ ابن عباس نے انہیں نغمہ کے ساتھ ان میں نماز
وَجَمَعَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مر ۲۰۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْكَ (مُتَكَرَّرًا ۵۸) -

پڑائی اور علی بن عبد اللہ ابن عباس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان عمر نے نماز پڑھائی
۲۰۱-۲۰۲) بَابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْكُسُوفِ (مر ۲۰۴) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ

بَابُ كُسُوفٍ مِمَّنْ عَرَفْتُمْ كَامِرِدُونَ كَامِرِدُونَ كَامِرِدُونَ كَامِرِدُونَ
(مُتَكَرَّرًا ۵۸) بَابُ مَنْ أَحَبَّ الْعَتَاقَةَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ (مر ۲۰۵) عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

بَابُ كُسُوفٍ مِمَّنْ عَرَفْتُمْ كَامِرِدُونَ كَامِرِدُونَ كَامِرِدُونَ كَامِرِدُونَ
بَابُ مَنْ سَمِعَ سُرُجًا فِي مَسْجِدٍ مِنْ غَلَامٍ أَوْ نَارًا كَالسُّنْدِ
عَلَيْهِ بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ فِي الْمَسْجِدِ (مر ۲۰۶) عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَرَّرًا ۵۸)

سے سورج کو گن میں غلام آواز کی طرح دیا۔ بَابُ سَمْعِ كُسُوفٍ كِي نَمَازٍ بِرُحْمَةٍ - دیکھو حدیث نمبر ۵۸۷
بَابُ تَشْكِيفِ الشَّمْسِ لِمَنْ أَحَبَّ رَوْاهُ أَبُو بَكْرٍ وَالْمَغِيرَةَ وَأَبُو مَوْسَى وَأَبُو عُبَيْكَ

بَابُ سَمْعِ كُسُوفٍ كِي مَوْتٍ يَأْتِي كِي جَمَاعَةٍ وَجَمَعَهُ مِمَّنْ هُوَ - اسے ابو بکر اور مغیرہ اور ابو موسیٰ اور ابن عباس
وَأَبُو عُبَيْكَ (مر ۲۰۶) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ (مُتَكَرَّرًا ۵۸) (مر ۲۰۷) عَنْ

اور ابن عمر نے روایت کیا ہے۔ دیکھو حدیث نمبر ۵۸۷

عَلَى يَمَانِ ابْتِدَاءِ
ان الفاظ سے جوق
سے عن عائشة
زوجہ النبی صلعم
ان یہود بیجاوت
تسا لھا فقالت لھا
احاذك الله من
عذاب القبر فسالنت
عائشة رسول الله
صلعم اجواب
الناس فی تبورهم
فقال رسول الله
صلعم عاذنك ابالله
من ذلك ثم ركب
رسول الله صلعم
ذات عداة موكبا
فخسفت الشمس
فخرج نضحي فرسول
الله صلعم بیان
ظہر ان الحجر ثم
قام لصلعم قام

الناس واداه اُسے بد دو دن رکعتوں کا تفسیر کے ساتھ ذکر ہے کہ آپ نے دو مرتبہ ہر ایک رکعت میں قیام کیا اور دو رکوع کے اور پہلا قیام اور دو رکوع کے لہذا تھا۔ لہذا
یہاں دوسری رکعت کے متعلق بھی قیام و رکوع ثانی کا ذکر کرتے ہوئے یہ لفظ میں وہود دن القیام کا دل۔ وہود دن رکوع الاول پھر اسکے آخر میں ہی فقال ما شاء الله
ان يقول شہ امرهم ان يتعدوا من عذابه لہذا یعنی نماز سے ذراغت کے بعد خطبہ پڑھا۔ جیسا کہ حضرت عائشہ کی اور روایتوں میں تصریح ہے۔ لیکن خطبہ کی وہ تفسیر نہیں
دی جو نمبر ۸۷ میں ہے اور انہیں بد امت کی کہ عذاب قبر سے پناہ مانگیں۔ قبر سے مراد وہ حالت ہے جو موت اور بخت ثانی کے درمیان ہے جو دنیا اور آخرت میں ایک مرتبہ ہے
اور یہاں شرع میں جو ذکر ہے کہ آپ ایک دن سورسے سوار ہو گئے اور واپس آئے۔ تو یہ آپ حضرت صلعم کے صاحبزادے ابراہیم کے دفن کرنے کے لئے تھا جو اس دن انتقال کر گئے
تھے + ع۔ اس کے الفاظ دوسری روایات سے علیحدہ ہیں۔ پہلے فقرہ میں حدیث نمبر ۵۸۸ کو دوہرایا ہے اور پچھلے حصے میں نمبر ۸۷ کے مضمون کو مختصر کیا ہے
بیان کیا ہے۔ لہذا کسفت الشمس علی محمد رسول الله صلعم یعنی ان الصلوة جامعہ فرمک النبی صلعم رکعتین فی سجدة ثم قام فرمک رکعتین فی سجدة ثم جلس ثم
خروج عن الشمس قالوا قالت عائشة رضی اللہ عنہا ما سمعت مسجوداً حفظ كان اطول منها یعنی میں نے اس سے لہذا سجدہ کبھی نہیں کیا + ع۔ اس حدیث میں کسی گذشتہ حدیثوں
کا مضمون اختلاف لفظی کے ساتھ دوہرایا ہے۔ اسکے پہلے حصے میں نماز کسوف کی تفصیل مر ۳۹ سے ملتی جاتی ہے۔ مگر شروع میں ہاں ہی قاترا رسول الله صلعم فواذ ان طویلہ یہاں آ
فقام قیاماً طویلًا نحو من قولہ سورة البقرة یعنی سورہ بقرہ کے برابر لمبی قرأت تھی۔ ویسے سورہ بقرہ نہیں پڑھی۔ بلکہ کوئی اور سورت یا سورتیں پڑھیں۔ پھر مر ۳۱ کی طرح
دوسری رکعت کی بھی تفسیر لکھی گئی ہے۔ اور خطبہ کے الفاظ یہاں تک دیکر فاذا راہتم ذلك فاذا روا اللہ فی مضمون نمبر ۶۱ م کے آخری حصہ کا شروع ہوا ہے۔ مگر الفاظ میں اختلاف ہے
قالوا رسول الله ربنا انك تنازلت شیعانی مقامك ثم راہنا انك تكلمت فقال انی راہت الجنة و تنازلت عنقود اولوا صیبة لاکلم منہ ما لقیبت الہنا یہی لفاظ بعینہم
مر ۲۳۸ مگر دیکھیں یہاں اسکے بعد روایت النازلہ اور منظر الیہا لہذا قطع اسکے بعد حدیث نمبر ۲ کو خفیف تغیر لفظی سے دوہرایا ہے + ع۔ یہاں نمبر ۷۷ کے مضمون معمولی تغیر لفظی کے ساتھ دوہرایا
ہے اور لفاظ بعینہم مر ۲۳۸ م کے بعد مر ۲۳۸ م میں شروع کا پہلا اس طرح ہے ایت عائشة زوج النبی صلعم حین خسفت الشمس فاذا الناس قیام یصلون فاذا ہی قائمۃ تنصلي نمبر ۷۷ میں خود کا
ذکر ہے۔ اس حدیث میں ہی حضرت عائشہ اور اسامہ صلوة کسوف کی جماعت میں شریک تھیں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اور عورتیں بھی اسے سے آگ جماعت میں شریک تھیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ عورتیں جو قوت
ناز میں ہی نہیں بلکہ نازل کی جماعت میں بھی مردوں کے ساتھ شامل ہوتی تھیں + ع۔ اس کے بعد روایت کا مضمون بعینہ وہی ہے جو مر ۲۳۸ م کا ہے اور اسکے الفاظ بھی خفیف تغیر لفظی کے ساتھ دوہرایا ہے۔ سچ کا ذکر
یہاں بیان ظہر ان الحجر میں ہی کیونکہ جو ہے کے ساتھ تھی اور اسے انہیں مر ۳۹ میں جو کا ذکر مر ۳۹ م میں ہے + ع۔ ابو بکر کی روایت مر ۲۳۸ م میں اور ابن عمر کی مر ۳۹۶ اور مغیرہ کی مر ۳۹۷
اور ابن عباس کی مر ۳۹۸ م میں لکھی اور ابو موسیٰ کی مر ۳۹۹ م میں آتی ہے + ع۔ نمبر ۷۷ کا مضمون ایک کلمہ حضرت صلعم کے خطبہ میں ہی یہاں بیان کیا ہے۔ لفظ مر ۳۹۷ م کے پچھلے حصے سے ملے ہیں قال
رسول الله صلعم الشمس والقمرا ینکسفان لموت احد و لکنما یتان من آیات اللہ فاذا راہتموا فضلوا +

۵۸۴ نمبر ۸۷ کا
آخری حصہ جو ذکر
باقی کو تغیر لفظی کے
ساتھ دوسرا ہے
یہاں قیام کی جگہ سے
قرأت کا لفظ ہے
اور اس کی لمبائی اور
مختصر ہونے کا ذکر ہے
ہے۔ اور تم سجدہ
فاطال السجود کی جگہ
پر تم سجدہ سجدہ میں
یعنی ہر رکعت میں
دو سجود کے اور
فلا ایلہ الا یتہ کے بعد
یہاں سے فافزعوا
الی الصلوٰۃ اور
فادعوا للہ سے
آخر تک بیان نہیں
مکمل واقعہ اور
مضمون وہی ہے
مگر الفاظ بہت مختلف
ہر خففت الشمس
فقام النبی صلعم
فزعاجش ان
تكون الساعة فاني
المسجد فظلي فاطل
قیام و رکوع و سجود

عَائِشَةَ (متنکر ۵۸۴) بَابُ الَّذِي كَرِهِيَ لِكُفُوفِ رِوَاةِ ابْنِ عَبَّاسٍ (مر ۳۰۷) عَنْ أَبِي
دیکھو حدیث نمبر ۵۸۴ ع
باب کسوف میں (خدا کا) ذکر کرنا اسے ابن عباس نے روایت کیا ہے

مُوسَى (متنکر ۵۸۴) بَابُ الدُّعَاءِ فِي لِكُفُوفِ قَالَهُ أَبُو مُوسَى وَعَائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
حدیث نمبر ۵۸۴ ع
باب کسوف میں دعا کرنا اسے ابو موسیٰ اور حضرت عائشہ نے نبی صلعم سے روایت کیا ہے

اللَّهُ عَلَيْهِ (مر ۳۰۸) عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ (متنکر ۵۸۴) بَابُ قَوْلِ الْأَمَامِ فِي خُطْبَتِهِ
دیکھو حدیث نمبر ۵۸۴ ع
باب امام کا خطبہ کسوف میں

الْكُفُوفِ أَقْبَعِدُ (مر ۳۰۹) عَنْ أَنَسٍ (متنکر ۵۸۴) بَابُ الصَّلَاةِ فِي سُورَةِ الْقَبْرِ (مر ۳۰۸)
ابنہ کننا دیکھو حدیث نمبر ۵۸۴ ع
باب چاند گرہن میں نماز پڑھنا

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ (متنکر ۵۸۴) (مر ۳۱۱) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ (متنکر ۵۸۴) بَابُ صَبِّ
دیکھو حدیث نمبر ۵۸۴ ع
دیکھو حدیث نمبر ۵۸۴ ع
باب

الْمَرْأَةِ عَلَى رَأْسِهَا الْمَاءَ إِذَا طَالَ إِذَا قَامَ الْقِيَامُ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى بَابُ الرُّكْعَةِ الْأُولَى
عورت کا اپنے سر پر پانی ڈالنا جب امام پہلی رکعت میں قیام کو لے کرے ع
باب کسوف میں پہلی رکعت

فِي لِكُفُوفِ طَوَّلُ (مر ۳۱۲) عَنْ عَائِشَةَ (متنکر ۵۸۴) بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ
نبی ہے دیکھو حدیث نمبر ۵۸۴ ع
باب کسوف میں آواز سے

فِي لِكُفُوفِ (مر ۳۱۲) عَنْ عَائِشَةَ (متنکر ۵۸۴) (وَفِي رِوَايَةٍ) عَنْ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ
قرأت پڑھنا دیکھو حدیث نمبر ۵۸۴ ع
(اور ایک روایت میں) عروہ حضرت عائشہ سے روایت کرتا ہے

أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ مُنَادِيًا الصَّلَاةَ
کہ نبی صلعم کے زمانہ میں سورج گرہن لگا تو الصلوٰۃ جامعہ کی منادی کو کہانی

جَامِعَةً فَقَدَّمَ رَفِصْلًا أَرْبَعَ رُكْعَاتٍ فِي رُكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ قَالَ
تو آپ آگے بڑھے تو دو رکعتوں میں چار رکوع اور چار سجدے کئے

دائیتہ قطیعہ وقال هذه الآيات التي يرسل الله عز وجل لا تكون لعل ولا تحيوتہ ولكن يجتث الله بها عباده فاذا ارايتك شيئا من ذلك فافزعوا
الی ذکر اللہ ودعا یتہ واستغفاره یہ واقعہ اوروں کی زبانی بھی گذر چکا۔ مگر کسی نے نہیں کہا کہ نبی کریم صلعم کو خوف ہوا تھا کہ قیامت آگئی ہو۔ ابو موسیٰ نے صرف آپ کے زیادہ خضوع و خشوع
سے اور نماز کو لے کرے سے ایسا خیال کر لیا۔ اگر آنحضرت صلعم نے ذکر کیا ہوتا تو کوئی اور راوی بھی اسے محفوظ رکھتا۔ ع ع ع خفیف تغیر لفظی سے یہاں م ۳۰۹ کو دو دہرایا ہے آخر یہ
خفیف بخیلی زیادہ ہے یعنی نماز اس وقت تک پڑھتے رہو جب تک کہ گرہن دور ہو جائے۔ ع ع ع یہ نمبر ۷ کا ایک جزو ہے۔ مگر یہاں لفظ ہیں قانت فانصرف رسول الله صلعم
وفذ تجلث الشمس فخطب محمد الله بما هو اهله ثم قال فابعد ع ع ع یہ روایت بہت ہی مختصر ہے انکسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلعم فظلی
رکعتیں چاند گرہن میں نماز کا استدلال اسی سے کیا ہے۔ ع ع ع ۳۰۹ کا مضمون ہے اور الفاظ میں خفیف تغیر لفظی ہے کہنا عند اللہ صلعم کی جگہ سے خففت الشمس علی
عہد رسول اللہ صلعم اور ان الشمس القمر کے بعد آیتان من آیات اللہ کا لفظ زیادہ ہے اور حتی یکشف ما یکو کے بعد یہ لفظ زیادہ ہیں وذلک ان ابنا اللہ صلعم
یقال له ابراهیم مات فقال الناس فی ذلک یعنی اپنے خطبے میں جو یہ فرمایا کہ چاند یا سورج گرہن کسی کی موت کی وجہ سے نہیں ہوتا یہ اس واسطے فرمایا کہ اس نے آنحضرت صلعم کا
صاحبزادہ ابراہیم وفات پائی تھا تو لوگوں نے کہا کہ یہ ان کی موت کی وجہ سے ہوا۔ ع ع ع یہ مضمون نمبر ۷ میں گذر چکا۔ یہاں حدیث کو دو دہرایا نہیں۔ ع ع ع یہاں بھی روایت
منائت مختصر ہے ان اللہ صلعم صلی ہم فی کسوف الشمس اربع رکعات فی سجدةین الاطولی اطولی یعنی دو رکعتوں میں چار رکوع کے پہلی رکعت زیادہ یعنی ع ع ع وہی وہی
مختصر الفاظ میں جو نمبر ۸۷ میں گذر چکا۔ البتہ یہاں قرأت باجمہر کا ذکر ہے جو وہاں نہیں قانت سجود اللہ صلعم فی صلوة الخسوف بقوله فاذا فرغ من قرأته کہ فرما
واذا فرغ من الرکعة قال سمع الله لمن حمده وبعثوا ذلك المجرثم بعباد القردة فی صلوة الکسوف اربع رکعات فی رکعتین واربع سجودات اسکے بعد دوسری روایت ہے
میں جس میں نمبر ۸۸ مضمون بھی آگیا جو ان الشمس خففت علی عہد رسول اللہ صلعم فبعث منادیا الصلوة جامعہ فقدّم رفصلا اربع رکعات فی رکعتین واربع
سجدات اسکے بعد ۳۰۸ کا آخری حصہ ہے جو قفلت لعروۃ سے شروع ہوتا ہے۔ اور یہاں عبد اللہ بن زبیر کا نام بھی ہے قفلت ما صنع اخوك ذلک عبد اللہ بن الزبیر
ماصلی الارکعتین مثل الصیاد صلی بالمدينة وقال اجل انما اخطأ السنة ع حدیث کے یہ فقرے متن میں بھی آگئے ہیں۔

الزهری نقلت ما صنع أخوك ذلك عبد الله بن الزبير وأصلي إلا ركعتين مثل

زہری کہتے ہیں میں نے کہا تیرے بھائی عبد اللہ بن زبیر نے کیا کیا صرف دو رکعتیں صبح کی ناز کی طرح پڑھیں

الضبير إذ صلى بالمدينة وقال أجل الله أخطأ السنة

جب مدینہ میں نماز پڑھی کہا انہوں نے غلطی سے سنت کے خلاف کیا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اس کے نام سے جو ہے انتہا رحم والا ہے

بَابُ مَا جَاءَ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ وَسَمِعْتُهُمَا (۵۹۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ

باب جو قرآن کے سجدے میں اور اس کے سنت ہونے میں آیا ہے عبد اللہ سے روایت ہے نبی صلعم نے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ فَسَجَدَ فِيهَا وَسَجَدَ مِنْ مَعَهُ غَيْرُ شَيْءٍ أَخَذَ لِقَاءِ

کہ میں جمعہ پڑھی تو اس میں سجدہ کیا اور جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے (مجھ) سجدہ کیا سوائے ایک شخص کے

مَنْ حَصَّ أَوْ تَرَابَ فَرَفَعَهُ إِلَى جِهَتِهِ وَقَالَ لِيُعِينِي هَذَا فَإِنَّهُ بَعْدَ قِتْلِ كَافِرٍ

جس نے ایک ٹھکی بھر کر یا مٹی کی اور اسے اپنی پیشانی کی طرف اٹھایا اور کہا مجھے یہ کافی ہے اور میں نے اسے دیکھا کافر ہونے کی حالت میں پڑا

بَابُ سَجْدَةٍ تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ (۴۱۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر ۵۳) بَابُ سَجْدَةِ

باب تنزیل السجود کا سجدہ دیکھو حدیث نمبر ۵۳۰ باب سورہ ص کا سجدہ

ص (۵۹۳) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَ لَيْسَ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ وَقَدْ آيَتِ النَّبِيَّ

ابن عباس سے روایت ہے کہ ص صجدوں میں سے نہیں جن کا حکم ہے اور میں نے نبی صلعم کو

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهَا بَابُ سَجْدَةِ التَّجْمَعِ قَالَ ابْنُ

اس میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے باب التجمع کا سجدہ ہے

عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۴۱۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (متكرر ۵۹۲)

ابن عباس نے نبی صلعم سے روایت کیا دیکھو حدیث نمبر ۵۹۲

بَابُ سُبْحِيٍّ وَالْمُسْلِمِينَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِ مَجْسُومٍ

باب مسلمانوں کا مشرکوں کے ساتھ سجدہ کرنا اور مشرک کا ناپاک ہونا

لَيْسَ لَهُ وَضُوءٌ وَكَانَ ابْنُ عَمْرٍو يَسْجُدُ عَلَيَّ غَيْرَ وَضُوءٍ (۴۱۵) عَنْ

اس کا وضو نہیں اور ابن عمر بغیر وضو کے سجدہ کرتے تھے

عَلَى سُجُودِ الْقُرْآنِ سے مراد سجدہ تلاوت ہے۔ یعنی جہاں قرآن شریف میں سجدہ آیا ہے۔ وہاں تلاوت کرتے وقت سجدہ کرنا۔ نبی کریم صلعم نے اس طرح سجدہ کرنے میں بتایا ہے۔ کہ ایک مسلمان کو امر اتھی کی تعمیل میں کس قدر سرعت سے کام لینا چاہیے۔ عدا سجدہ النجم کی تفسیر باب قولہ فاسجدوا لله واعبدوا اس میں ہے اول سورۃ نزلت فیہا سجدۃ النجم یعنی پہلی سورت جس میں سجدہ آتا وہ النجم ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ آخرت کی اول پانچ آیتوں کے سوا باقی حصہ دیر بعد نازل ہوا۔ من معہ کی تشریح بھی النجم کی تفسیر میں ہے۔ اس سجدہ معہ المسلمون یعنی والمشرکون یعنی

مسلمانوں اور مشرکوں سب نے سجدہ کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کا اثر ان پر اس قدر غالب ہوا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ سجدے میں مشرک بن گئے۔ جن بے بنیاد روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آنحضرت صلعم نے افراتیتم اللات والعزى کی تلاوت کے وقت ان بتوں کی تعریف کی۔ اس لئے مشرکوں نے سجدہ کیا۔ وہ موضوع روایتیں ہیں۔ جس بڑھے نے سجدہ نہیں کیا۔ وہ امیر بن خلف تھا۔ جیسا کہ النجم کی تفسیر میں عبد اللہ کی روایت میں ہے۔ اگر بتوں کی تعریف کی وجہ سے مشرکوں نے سجدہ کیا ہوتا۔ تو یہ بڑے سجدے میں کیوں مشرک نہ ہوتا۔ جو بعد میں کافر قتل ہوا + عدا یہاں لفظ قریباً ہی ہے۔ جو نمبر ۵۳۰ میں ہے حدیث میں صرف یہ ذکر ہے کہ آنحضرت صلعم جمعہ کے دن نماز فجر میں الحمد تنزیل السجدة اور رھل آئی پر پڑھتے تھے۔ تو اس کے نام میں ہی سجدہ کی طرف اشارہ ہے + عدا سورہ ص کی آیت سجدہ میں سجدے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ صرف حضرت داؤد کے سجدے کی حکایت ہے۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلعم نے اس میں سجدہ کیا۔ اس لئے ہم بھی کرتے ہیں۔ ص کی تفسیر میں کہاجئے ابن عباس سے یہ سجادہ سورہ ص میں آپ نے کیسے سجدہ کیا۔ تو جواب دیا وما تقراء ومن ذنبتہم داؤد وسليمان الذنبتہم انهم اذ قد ذكروا نبيك فمن امران يفتخون به يعني چونکہ ایک نبی نے ایسے حالات میں سجدہ کیا۔ اس لئے امت محمدیہ کو بھی آنحضرت صلعم نے وہاں سجدہ کرنے کا ارشاد اپنے من فریاد نمبر ۵۵۰ کو ضعیف لفظی تفسیر کے ساتھ دہرایا ہے + عدا جب قرآن کریم کو انسان ہر حالت میں پڑھ سکتا ہے۔ وضو ہو یا نہ ہو تو اس میں سجدہ بھی کر سکتا ہے امام بخاری نے دو باتوں سے استدلال کیا ہے۔ اول مشرکوں کے سجدہ کرنے سے۔ دوسرا حضرت ابن عمر کے بغیر وضو سجدہ کرنے سے۔ پھلا استدلال نوی نہیں۔ گونجی صلعم نے من فریاد ہو مشرک کے جس ہونے پر دوسری جگہ بحث ہوگی۔

ابن عجاكس (متكر ۵۹۲) بَابُ مَنْ قَرَأَ السُّجْدَةَ وَلَمْ يُسْجِدْ (۵۹۳) عَنْ عَطَاءٍ

دیکھو حدیث نمبر ۵۹۲ علیٰ باب جس نے سجدہ کی آیت پڑھی اور سجدہ نہیں کیا عطاء

ابن یسار لانه سال زيد بن ثابت ذابت فزعم انه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم

بن یسار سے روایت ہے اس نے زید بن ثابت سے پوچھا تو کہا کہ اس نے نبی صلعم کو بخیر سنائی تو آپ نے

والبحر فلم يسجد فيهما (۲۱۶) عن زيد بن ثابت (متكر ۵۹۳) بَابُ سَجْدَةِ

اس میں سجدہ نہیں کیا گیا دیکھو حدیث نمبر ۵۹۳ باب

اذا السماء انشقت (۴۱۷) عن ابي سلمة (متكر ۴۷۲) بَابُ مَنْ سَجَدَ

اذا السماء انشقت کا سجدہ دیکھو حدیث نمبر ۴۷۲ علیٰ باب جس نے

لسجد القارئ وقال ابن مسعود لم يمم بئنا من خدام وهو غلام فقرا عليه سجدا

پڑھنے والے کے سجدہ کرنے کے وقت سجدہ کیا اور ابن مسعود نے اتیم بن خذلم سے کہا اور وہ لاکھٹا اور اس نے سجدہ کی آیت اُن کے سامنے

فقال يسجد فانك امامنا يومها (۵۹۵) عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه

پڑھی۔ سجدہ کر گویا کہ ہمیں ہمارا امام ہے علیٰ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلعم

وسلم يقرأ علينا السورة التي فيها السجدة فيسجد وتسجد حتى ما يجدا حدانا

ہیں وہ سورت میں جس میں سجدہ ہوتا مسنا تے تو سجدہ کرتے اور ہم بھی سجدہ کرتے۔ یہاں تک کہ ہم میں سے بعض کو پیشانی

موضع جبهته بَابُ اَزْدِحَامِ النَّاسِ ذَا قُرْآنِ الْاِمَامِ السُّجْدَةِ (۴۱۷) عن ابن

(ارکھنے کی) جگہ ذلتی باب جب امام سجدہ کی آیت پڑھے (اور لوگوں کا ہجوم ہو) دیکھو

عمر (متكر ۵۹۵) بَابُ مَنْ رَأَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُوجِبِ السُّجُودَ وَقِيلَ

حدیث نمبر ۵۹۵ علیٰ باب جس کی رائے ہے کہ اگر غالب بڑے سے سجدے کو واجب نہیں سمجھایا اور عمر

لعمران بن حصين الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها قال رايت لو قعد لها

بن حصین سے کہا گیا ایک شخص سجدہ میں آیت سے گواہی دے گا اس عزم سے بٹھا نہ ہو گا تاہم اگر اس عزم سے لے کر بٹھا ہو تو کیا،

كانه لا يوجب عليه وقال سلمان ما هذا عندنا وقال عثمان اللهم السجدة على من استمعها

گویا وہ اسے سجدہ لازم نہ سمجھتے تھے اور سلمان نے کہا ہم اس کے لئے نہیں آئے تھے اور حضرت عثمان نے کہا سجدہ صرف اس پر ہے جو

وقال لزهري لا يسجد الا ان تكون طاهر فاذا سجدت وانت فحضر واستقبل القبلة فان

ادارہ اسے سنے اور نہ ہر جگہ ہے سجدہ نہ کر کر جب تو با وضو ہو۔ اور جب تو حضور میں سجدہ کرے تو قبلی کی طرف رخ کرادارگر

كنت ركباً فلا عليك حيث كان وجهك وكان السائب بن زيد لا يسجد لسبي الفاص

تو سواریوں کو جس طرف تیرا منہ ہو بخیر کوئی گناہ نہیں اور سائب بن زید قصہ بخوان کے سجدے پر سجدہ نہ کرتے تھے علیٰ

علیٰ یہاں لفاظیہ
ہیں ان نبی صلعم
سجدہ یا لجم و
بجہدہ المسلمین
والمشركون والکفر
والا من ابن عباس
تواسقت سجدہ بھی
نہ ہوتے ہوں گے
اور غیر نبی صحتیا
جو جن کھلائی ہیں
انہیں سجدہ کرتے ہوئے
کوئی دیکھ نہیں سکتا
جن و اس سے مراد
یہاں بڑے اور چھوٹے
ہی ہو سکتے ہیں
علیٰ پس اگر کسی
وقت پڑھے والا
سجدہ نہ کرے تو
گناہ نہیں۔ یہاں
پڑھنے والے زید سے
اگر وہ سجدہ کرتے
تو آنحضرت صلعم بھی
کرتے۔ اور آنحضرت
نے انہیں مکہ نہیں
دیا تاکہ سجدہ نہ کرنے
کا جواز معلوم ہو جا
علیٰ لفظ وہی
ہیں صیغہ منکلم ہو
علیٰ لفظ قدرے
مختلف ہیں کہ مطلب
وہی ہے حدیث
ابا ہریرہ قرآن اذا
السماء انشقت
فیسجد بها فقلت
یا ابا ہریرہ انزل الراء

تسجد قال لو انزل النبي صلعم سجدا لورا ايضاً اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ انشقاق کا سبب بعض لوگ نہیں کرتے تھے۔ امام مالک کے نزدیک یہ سجدہ نہیں ہے کسی بھی چیز پر جو معلوم
ہوئی ہو۔ علیٰ جب نبی صحتیا کے توجہ اور ادا سنتا ہے کبھی لازم ہے کہ سجدہ کرے اور آپر علیا کا اتفاق ہے۔ اور اس میں پڑھنے والا بمنزل امام کے سمجھا گیا ہے۔ جیسا کہ
ابن مسعود نے تمہیں جو قدم سے فرمایا۔ نمبر ۵۹۳ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ زید سے جو پڑھ رہے تھے سجدہ نہیں کیا۔ تو آنحضرت صلعم بھی نہیں کیا۔ حدیث ابیابہر میں کہ نبی کریم صلعم
سجدہ کرتے تو آپ کیساتھ سننے والے سب شریک ہو جاتے۔ علیٰ تحقیق نیز لفظ سے نمبر ۵۹۵ کو دہرایا ہے اس میں ازحام کا ذکر احت ہے ہی فنزد حم حتی ما يجدا احدنا لاجل حسنه
صحتعا لیسجد علیہ مگر نیز کہ نہیں کہ آیا ایسے لوگ سجدہ نہ کرتے تھے۔ گو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر ہی سجدہ کر لیتے ہوں۔ لیکن ان سبب آثار
سے روایتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ جب ایک شخص بہت سجدہ پڑھتا ہے اور دوسرا اسکو سننے کیلئے نہیں بیٹھا۔ بلکہ اتفاقاً وہاں موجود ہے تو سننے والے پر سجدہ نہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر اس
نیت سے بھی بیٹھا ہو تو بھی اگر سجدہ نہ کرے تو گناہ نہیں۔ یہاں نہری کے مذہب میں دو باتیں بیان کی ہیں۔ اول یہ کہ با وضو نہ ہو تو سجدہ نہ کرے۔ حالانکہ اوپر لکھا کہ اس میں وسعت ہے
یعنی وضو نہ ہونے کو بھی سجدہ کرے۔ اور دوسرا یہ کہ حضور میں ہونے پر سجدہ کرے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نہری نے دونوں باتوں میں سجدہ تلاوت کو نماز پر قیاس کیا ہے۔ اسی لئے کہتے ہیں میں سجدہ ہونے کو
سجدہ تلاوت غیر قبلہ کی طرف بھی کرے۔ حالانکہ سجدہ تلاوت کا قیاس نماز پر درست نہیں۔ اور وضو اور قبلہ رخ ہونا صرف نماز کے لئے ضروری ہے۔ جب تلاوت کیلئے با وضو نہ ہونا اور قبلہ رخ ہونا
ضروری نہیں تو سجدہ تلاوت کے لئے بھی نہیں ہے۔

(۵۹۶) عَنْ رَبِيعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَدَيْرِ النَّبَخِيِّ قَالَ بَوَّكِرٌ وَكَانَ رُبَيْعَةً مِنْ خِيَارِ

ربیع بن عبداللہ بن ہدییر نبخی سے روایت ہے ابو بکر کے ہیں ربیع بہت اچھے لوگوں میں سے
التاس عمّا حضر ربیعاً من عمر بن الخطاب قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل
جبریل نے حضرت عمر کے متعلق دیکھا انہوں نے جمعہ کے دن منبر پر سورہ النحل پڑھی

حتى إذا جاء الشجره نزل فوجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة لقرآنها
یہاں تک کہ جب سورہ پڑھے آئے اور وہ سجود کیا اور لوگوں نے (سج) سجود کیا یہاں تک کہ جب اگلا جمعہ آیا تو اسی کو پڑھا

حتى إذا جاءت السجدة قال يا أيها الناس إنما نسروا السبعي فمن سجد فقد صدق
یہاں تک کہ جب سورہ آیا فرمایا اے لوگو مجھ سے سجود کرو گے نہیں تو جس نے سجود کیا اچھا کیا

ومن لم يسجد فلا اثم عليه ولم يسجد عمر وزاد اذ افع عمر بن الخطاب ان الله لو يرض
اور جس نے سجود نہیں کیا تو گناہ نہیں اور عمر نے سجود نہیں کیا اور ابن عمر سے ناخفے یہ بڑا کر وایت کیا ہے کہ اللہ نے

السبعي الا ان شاء باء من قرأ السجدة في الصلوة فسجد بها (م ۱۹) عن ابی لافع
سجود کو فرض نہیں کیا ہاں ہماری مرضی ہے۔ باب میں نے نماز میں آیت سورہ پڑھی اور اس سے سجود کیا

(متکرر ۲۷۷) باء من لم يجد موضعاً للسبعي من الزحام (م ۲۳) عن ابن عمر (متکرر ۵۹۵)
باب جس نے هجوم کی وجہ سے سجود کی جگہ نہ پائی دیکھو حدیث نمبر ۵۹۵ م

آبواب تقصير الصلوة

نماز کے قصر کے باب

بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ کے نام سے جو رحیم مہربان والا

باب ما جاء في التقصير وكيفية يعيم حتى يقصر (۵۹۷) عن ابن عباس قال اقام
باب جو قصر کے متعلق آیا ہے اور کتنی آقامت اور تو قصر کرے ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلعم نے

النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يعصرون اذ اسافرنا تسعة عشر قصرنا
انہیں دن آقامت کی (اور) قصر کرتے تھے تو ہم جب سفر میں آئیں دن کی (آقامت) کرتے ہیں تو قصر کرتے ہیں

وان زدنا اممنا (۵۹۸) عن انس يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه
اور اگر زیادہ ہو تو پورا پڑھتے ہیں انس سے روایت ہے ہم رسول اور صلعم کے ساتھ

وسلم من المدينة الى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة
میں سے مکہ کو نکلے تو آیت دو دو رکعتیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ ہم مدینے کو لوٹ آئے

پڑھنا واجب ہے۔ اور کم میں قصر ہے۔ مذکورہ چار روایات میں جو کم سے کم میعاد بتائی گئی ہے۔ اور جو یقیناً ہے امام ابو حنیفہ نے اس پر عمل کیا ہے۔ اور ابن عمر کا بھی یہی مذہب ہے۔ لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ اگر حضرت صلعم انیس سے زیادہ دن قصر کرتے تو قصر نہ کرتے۔ اور جو فقہاء نے شرط پڑھائی ہے۔ کہ اگر چاہے دن یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہو تو نماز پوری کرے اس کا ذکر احادیث میں کوئی نہیں۔ حضرت صلعم فتح مکہ میں انیس دن ٹھہرے۔ تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کا ارادہ تین دن سے زیادہ ٹھہرنے کا نہیں تھا۔ ایسا ہی اگلی حدیث میں جو حج میں دن میں دن ٹھہرنے کا ذکر ہے۔ تو صاف ظاہر ہے۔ کہ اس سے کم میں دواپس نہ ہو سکتے تھے۔ اور پہلے سے آپ جانتے تھے کہ چودہ تاریخ کو واپسی ہوگی۔ باوجود اس کے قصر کیا۔ پس نیت ہو یا نہ انیس دن تک۔ قصر کرنا آپ سے ثابت ہے۔ اور اس سے زیادہ بھی حالت سفر میں رہنے تو قصر کر سکتا ہے +

۱
اسکے الفاظ قریباً وہی ہیں جو نمبر ۴۷۲ کے ہیں +
۲
اسکے الفاظ وہی ہیں۔ جو نمبر ۵۹۵ کے ہیں۔ صرف آخر میں خود جمع ہونے کے بجائے مکاناً لموضع جہنم ہوا +
۳
یہ اقامت فتح مکہ کے وقت مکہ میں تھی۔ اس کی میعاد کے متعلق روایات میں بہت اختلاف ہے۔ ابو داؤد میں روایت ہے عکرمہ بن ابی عیاس سے روایت ہے ابن عباس نے حضرت عمر بن حصین سے روایت ہے انہوں نے اٹھارہ اور تیسری روایت میں ابن عباس سے پندرہ ہیں۔ اور بخاری میں یہاں انیس ہیں۔ امام مالک نے شیخ ابی احمد رحمہ اللہ کے نزدیک پانچ روز کی آیت میں پورا پڑھنا واجب ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک پندرہ دن کی اقامت میں پورا اقامت میں پورا

قُلْتُ أَقْتَمُ بِمَكَّةَ شَيْئًا قَالَ أَقْتَمُ بِهَا عَشْرًا يَا أَبَا الصَّلْوَةِ مِمَّنِي (۵۹۹) عَنْ عَبْدِ

بنی نے کہا کہ میں کچھ ٹھہرے تھے کہا اس میں تم سب دن ٹھہرے بلا باب میں نماز پڑھنا۔ عبداللہ (ابن عمر)

اللَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رُكْعَتَيْنِ ابْنِ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَمَعَ عُمَانَ

سے روایت ہے بنی سلم کے ساتھ منی میں دو رکعت پڑھیں (اسی طرح) حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کیساتھ

صَلَّيْتُ مِنْ رُكْعَتَيْهِ ثُمَّ أَتَاهَا (۲۲۱) عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ (مُتَكَرِّرٌ ۵۹۹) (۶۰۰)

اور حضرت عثمان کے ساتھ ان کی حکومت کے ابتدائی زمانہ میں پھر انہوں نے اسے پورا کیا صلہ دیکھو حدیث نمبر ۵۹۹ صلہ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ يَقُولُ صَلَّى بِنَا عُمَانَ بْنِ عَفَّانَ مِنْ رُكْعَتَيْهِ مِنْ رُكْعَاتِ

عبدالرحمن بن زید سے روایت ہے کہ میں نے عثمان بن عفان سے منی میں چار رکعتیں پڑھیں

فَقِيلَ فِي ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَا سَارِجُ ثُمَّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

پس اس بار میں عبداللہ بن مسعود سے ذکر ہوا تو انہوں نے انا لہذا نماز پڑھا پھر کہا میں نے رسول اللہ صلعم کے ساتھ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رُكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ بَكْرٍ الصَّدِيقِ مِنْ رُكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ

منی میں دو رکعتیں پڑھیں اور حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ منی میں دو رکعتیں پڑھیں اور

مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ رُكْعَتَيْنِ فَلَيْتَ حَتَّىٰ مِنْ أَرْبَعِ رُكْعَاتِ رُكْعَتَانِ مُتَقَبِّلَتَانِ

حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ منی میں دو رکعتیں پڑھیں تو کاش چار رکعتوں کے بدلے میرا حصہ دو مقبول رکعتیں ہوتیں

يَا بَأُكَ كَمَا أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ (۶۰۱) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

باب نبی صلعم اپنے حج میں کتنے دن (رکعتیں) ٹھہرے ابن عباس سے روایت ہے کہا

فَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ لِصَبْرٍ رَابِعَةَ يَلْبُوثُونَ يَا بَعْجُ فَا مَرَّ هُوَ أَنْ يَجْعَلُوهَا

چوتھی تاریخ کی صبح کوچ کے ساتھ لیک کہتے ہوئے اسے تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ

عُمُرَةَ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدًى يَا بَأُكَ فِي كَمْ تَقْصُرُ الصَّلَاةَ وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

اس عمر بنا نہیں سوائے ان کے جن کے ساتھ قربانی ہے عہد باب کتنی مسافت میں نماز کا قصر کیا جائے اور نبی صلعم نے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّفَرِ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ يَقْصُرَانِ وَ

ایک دن رات کو سفر سے موصوم کیا صلہ اور ابن عمر اور ابن عباس

يُقْصِرَانِ فِي الرَّبْعَةِ يَوْمًا وَهُوَ سِتَّةٌ عَشَرَ فَرَسًا (۶۰۲) عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ

چار ہریہ میں اور وہ سو فرسخ ہی قصر اور افطار کرتے تھے صلہ ابن عمر سے روایت ہے کہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نَسْفِرُ الْمَرْأَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَهُ ذِي حَجْرٍ (۲۲۲) عَنْ

عورت تین دن سفر نہ کرے مگر اس کے ساتھ اس کا حرم رشتہ دار ہو صلہ نبی صلعم نے فرمایا

ابْنِ عُمَرَ (مُتَكَرِّرٌ ۶۰۲) (۶۰۳) عَنْ ابْنِ كَهْرَبَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہا نبی صلعم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

دیکھو حدیث نمبر ۶۰۲ صلہ

صلہ یہ دو روز کی
اقامت حجۃ الوداع
میں تھی جن لوگوں
نے چار روز کو قصر
رکھا ہے۔ انہوں نے
کہا کہ چار روز آپ
خاص مکہ میں رہے
پھر منی عرفات میں
مگر یہ استبدال صبح
نہیں منی عرفات
مکہ میں ہی مثال
ہیں۔ علاوہ ازیں
ایسی احادیث سے
کہ درسن ٹھہرے
یا انہیں دن حد پھر
بھی قائم نہیں ہوتی
مطلب حالت سفر
میں چوتھے سے ہے
البتہ اگر دوسری جگہ
مکہ کو سوت اختیار
کرے تو وہ سفر میں
شامل نہیں صلہ
حضرت عثمان کے قصر
کی توجیہ بھی ہو سکتی
ہے کہ وہ اسے حضرت
اور اجازت سمجھتے
تھے۔ اور پوری نماز
پڑھ لینے میں ہرج
نہ سمجھتے تھے صلہ
یہاں لفظ یوں ہیں
صلی بنا اللہ صلعم
۴ من مکان یعنی
رکعتیں یعنی نبی کریم
نے ہمیں منی میں دو
رکعتیں پڑھائیں حالانکہ
وہ ہمت ہی امن کا
وقت تھا۔ بعض لوگ
قصر کو حالت خوف کے

روایت ہے اور یوں من ہوئے صلہ خلیفہ اختلاف لفظی سے اور والی حدیث دوبارہ آئی ہے

لَا يَجُزُّ لِمَرْأَةٍ تَوَضَّعَتْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَكَيْلَةَ لَيْسَ مَعَهَا

کسی عورت کے لئے جو اللہ اور یوم آخریہ ایمان رکھتی ہے۔ یہ جائز نہیں کہ سفر یا روزہ رکھنے کا سفر اس حالت میں کرے کہ اس کے ساتھ

حَوْمَةٌ بَابٌ يَقْصُرُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ وَخَرَجَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَقْصُرُ وَهُوَ رِي

ذی حجرم نہ ہو۔ علی باب ابی جگ سے علی جائے تو قصر کر سکتی ہے اور علی بن ابی طالب کئے اور اس حالت میں قصر کیا کہ انہیں

الْبُيُوتِ فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ هَذَا الْكُوفَةُ قَالَ لَا حَتَّى نَدْخُلَهَا (۶۰۴) عَنْ النَّسَائِيِّ

گھر دکھائی دیتے تھے۔ جب لوٹنے کو آیا کہ کوفہ ہے۔ کہا نہیں جب تک اس میں داخل نہیں (قصر کرتے ہیں) علی ابن النسائی

فَالَيْكَ قَالَ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ

سے روایت ہے کہ میں نے ظہر نبی صلعم کے ساتھ مریضیں چار رکعتیں پڑھیں اور عصر

بِذِي حُلَيْفَةَ رَكْعَتَيْنِ (۴۲۳) عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَرِّرًا ۲۵) بَابٌ يُصَلِّيُ الْمَغْرِبَ

ذو حلیفہ میں دو رکعتیں صلعتے دیکھو حدیث نمبر ۲۵ علی باب سفر میں مغرب میں

ثَلَاثًا فِي السَّفَرِ (۶۰۵) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تین رکعت پڑھے۔ عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلعم کو دیکھا

إِذَا أَحْجَلَهُ الشَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَيَبْنِي الْعِشَاءَ قَالَ سَالِمٌ

جب آپ کو سفر میں جھکنے کی جلدی ہوتی تو مغرب کو تاخیر میں ڈالتا یہاں تک کہ اسے اور عشاء کو اکٹھا کرتے سامنے کیا

وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ إِذَا أَحْجَلَهُ الشَّيْرُ (وَفِي رِوَايَةٍ) قَالَ سَالِمٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ

اور جب عبد اللہ بن عمر کو جھکنے کی جلدی ہوتی تو وہ (بھی) ایسا کرتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ابن عمر مغرب اور عشاء کو

يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَزْدَلِيفَةِ وَقَالَ سَالِمٌ وَأَخْرَجَ ابْنُ عُمَرَ الْمَغْرِبَ وَكَانَ

مزدلفہ میں اکٹھا کرتے تھے اور اس لئے کہا اور ابن عمر کو اپنی بیوی

اسْتَصْرَخَ عَلَيَّ امْرَأَتُهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلَاةُ فَقَالَ سِرَّ فَقُلْتُ لَهُ

صفیہ ابی عبید کی بیوی کی سخت بیماری کی خبر ملی تو مغرب کو تاخیر میں ڈالا تو میں نے اسے عرض کیا نماز فرمایا چل پھر میں نے اسے

الصَّلَاةُ فَقَالَ سِرَّ حَتَّى سَارَ مِبْلَكِينَ أَوْ ثَلَاثَةَ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ قَالَ

عرض کیا نماز فرمایا چل یہاں تک کہ دو یا تین میل چلے پھر اترے اور نماز پڑھی پھر فرمایا

هَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِذَا أَحْجَلَهُ الشَّيْرُ وَقَالَ

میں نے نبی صلعم کو ایسا طے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جب آپ کو جھکنے کی جلدی ہوتی اور

عَبْدُ اللَّهِ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحْجَلَهُ الشَّيْرُ يَقِيمُ

عبد اللہ نے کہا میں نے نبی صلعم کو دیکھا جب آپ کو جھکنے کی جلدی ہوتی تو مغرب کی

الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيُهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ قَلَّمَا كَلِمَتٌ حَتَّى يَقِيمَ الْعِشَاءَ

تکبیر کہلاتے ہیں اسے تین رکعت پڑھ لیتے پھر سلام پھیر دیتے پھر تھوڑی دیر ٹھہرتے یہاں تک کہ کھانسی کی تکبیر کہلاتے

فَيُصَلِّيُهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَلَا يُسَلِّمُ بَعْدَ الْعِشَاءِ حَتَّى يَقُومَ مِنْ حَقْوِ اللَّيْلِ

تو اسے دو رکعتیں پڑھتے پھر سلام پھیرتے اور نماز عشاء کے بعد نفل پڑھتے یہاں تک کہ وسط رات میں اٹھتے ہوں

علی یہاں ایک دن رات کو سفر کیا ہے۔ گو اس کے سفر نہ ہونے پر بھی کوئی دلیل نہیں۔ علی صلعتے جس بستی سے سفر کرتا ہو۔ جب اس سے نکل جائے تو قصر بھی پڑھ سکتا ہے اور اضطراب بھی کر سکتا ہے۔ یہی حکم واپسی کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہما کا عمل بھی بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے۔ صلعتے ذوالحلیفہ مدینہ سے چھ میل کے فاصلے پر ہے۔ حضرت صلعم کو کو جا رہے تھے۔ پس جب سفر کو نکل پڑے تو چاہے گھر سے ایک میل نکلے یا چھ میل۔ گھر سے مراد وہ بستی ہے جس میں رہتا ہے۔ علی ابتدائی حصہ نمبر ۲۵ کا لکھ رہی قالت الصلوة اول ما حضرت رکعتان فاخرت صلوة السفر و امت صلوة الحضرة اكل حصه يها انما سے فقلت لعونك فما بال عاتشة ثم قال تاولت ما تاول عثمان يعني ابيك طرف و

کتنی ہیں کہ صلوة سفر میں مقرر ہی دو رکعت ہوتی ہیں۔ پھر خود چار رکعت پڑھتی ہیں۔ تو جواب دیا کہ وہ وہی تاولت کہتی ہیں۔ جو حضرت عثمان کرتے ہیں۔ یہی حکم ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا انہ لا یشتق علی چھ اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان بھی ان کی طرح اسے نصحت سمجھتے تھے ضروری نہ سمجھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مغرب میں قصر نہیں۔ پوری تین رکعت پڑھی جاتیں۔ عشاء میں رادوان نمازوں میں جن میں چار رکعت ہیں انفر کر کے دو رکعت پڑھی جاتیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسافریں سفر میں نہ پڑھی جاتی تھیں۔ مگر نواز اور نماز تہجد آپ برابر پڑھتے +

۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الدَّوَابِّ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ (م ۲۲۴) عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ
 باب تطوعوں پر (سواری کی حالت میں) اصل نماز پڑھنے کے خواہ مسیطرت اسکا نہ ہو
 دیکھو حدیث نمبر ۵۷۴ ع ۱

(متکرر ۵۷۴) (م ۲۲۵) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (متکرر ۲۸۹) (م ۲۲۶) عَنْ نَافِعِ
 دیکھو حدیث نمبر ۵۷۴ ع ۱

(متکرر ۵۷۴) بَابُ الْأَيْمَاءِ عَلَى الدَّابَّةِ (م ۲۲۷) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ (متکرر)
 باب سواری پر اٹھارے سے نماز پڑھنا
 دیکھو حدیث نمبر ۵۷۴ ع ۱

(۵۷۴) بَابُ يُنَزَّلُ الْمَكْتُوبَةُ (م ۲۲۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ (متکرر)
 باب فرض کے لئے (سواری سے) اترنا
 دیکھو حدیث نمبر ۵۷۴ ع ۱

(۵۷۴) (م ۲۲۹) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (متکرر ۲۸۹) بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى
 دیکھو حدیث نمبر ۲۸۹ ع ۵
 باب نفل نماز کے لئے

الْحَارِ (۶۰۶) عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ اسْتَقْبَلَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ حِينَ قَدِمَ مِنْ
 انس بن سیرین سے روایت ہے جو وقت انس بن مالک
 شام سے واپس ہوئے

الشَّامِ فَلَقِينَاهُ بَعْدَ الشَّمْرِ فَأَيْتَهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا الْجَانِبِ لَعِينِ
 تو ہم ان کے استقبال کیلئے نکلے اور ان التمر عرق کے پائے میں نے انہیں گھسے پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور انہیں عرق اس طرف تپتی

عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةَ فَقُلْتُ رَأَيْتُكَ تَصَلِّي لِبَعْدِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ لَوْلَا إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ
 تپتی کی بائیں طرف تھا تو میں نے کہا میں نے آپ کو کبھی سے ہٹ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے انہوں نے کہا اگر میں رسول اللہ صلی

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ لَمَا فَعَلَهُ بَابُ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ فِي السَّفَرِ دَبَّرَ الصَّلَاةَ
 کو اس طرح کرتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں (بھی) الراء اور نہ ہی
 باب جو فرض نمازوں کے بعد اور ان کے پہلے سفر میں

وَقَبْلَهَا (۶۰۷) عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ حَبِطَ النَّبِيُّ صَلَّى
 حنظل بن عامر سے روایت ہے کہ میں نے ابن عمر سے پوچھا تو کہا میں نبی صلیم کے ساتھ رہا
 نفل نہ پڑھے

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلِمًا رَأَى السَّفَرَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
 ان میں نے آپ کو سفر میں نفل پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لئے رسول اللہ میں

أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ (م ۲۳۰) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (متکرر ۵۹۹) بَابُ مَنْ تَطَوَّعَ فِي السَّفَرِ فِي عِدَّةِ الصَّلَاةِ
 اور
 باب جو (فرض) نمازوں کے بعد کے نماز اور مسیطرت اور ان کے پہلے نفل

الراحلة يسبقونني برأسه قبل أي وجه توجه ولم يكن رسول الله صلعم بضم ذلك في الصلاة المكتوبة بغير دوسرے طریق سے نمبر ۵۷۴ کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے قال سالہ کان عبد اللہ یصلی علی دابته من اللیل وهو صافر صیالی حیث ما کان وجمہ قال ابن عمر وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسبح علی الراحلة قبل ای وجه توجه ویوتر علیہا غیر انہ لا یصلی علیہا المكتوب بغير ع ۱ یہاں لفظ قریناً وہی ہیں جو نمبر ۲۸۹ میں گذرے حیث توجھت بہ کی جگہ ہے خواہ المشرق + ع ۱ نفل نماز پڑھنا ہر ایک سواری پر درست ہے جیسا کہ باب التطوع علی الدواب میں گذر چکا۔ لگنے کا ذکر فرضیت سے اسلئے کیا کہ اس کا گوشت کھایا نہیں جاتا + ع ۱ عین التمر عرق کی حدیث م کی طرف ایک مقام کا نام ہے۔ جہاں حضرت ابو بکر کے زمانہ ظلمات کے آخر میں خالد بن الولید اور رابیعہ کے درمیان ایک شہسور لڑائی ہوئی تھی + ع ۱ سواری پر نماز کی صورت میں منہ قبل کی طرف نہیں رہ سکتا۔ بلکہ عبد صحر سواری پھیرے اور صحر ہی نمازی کا منہ پھیر جاتا ہے۔ یہی حالت ریل اور جہاز کی ہے + ع ۱ نفل سے مراد سنتیں ہیں۔ جو فرضوں کے پہلے یا پیچھے پڑھی جاتی ہیں۔ مگر آنحضرت صلعم کا سفر میں پاشت یا شت کی نماز پڑھنا تاہم ہے۔ فرضوں میں چونکہ قصر کیا اسلئے سنتیں بھی نہیں پڑھیں + ع ۱ یہاں مکرر روایت کے الفاظ یہ ہیں صحبت رسول اللہ صلعم مکان لا یرید فی السفر علی رکبتین وایا بکر و عمر و عثمان کذلک۔ لیکن نمبر ۵۹۹ ابن عمر کی روایت میں ہے کہ حضرت عثمان ابتدائے زمانہ خلافت میں دو رکعتیں منی میں پڑھتے۔ اور بعد میں منی میں چار پڑھتے تھے + ع ۱ یہاں اختصار ہے کہ ابن عمر یصلی علی الراحلة ویوتر علیہا وغیر ان اللہ صلیم کا یفعل

وقبلها وركع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتي الفجر (۲۳۱) عن ابن
ابو نعیم اور نبی صلعم نے سفر میں صبح کی دو رکعتیں پڑھی ہیں

ابن کلبی (متنکر ۲۱۷) (۲۳۲) عن ابن عمر (متنکر ۵۷۴) باب اجمع في السفر
دیکھو حدیث نمبر ۲۱۷ سے باب اجمع فی سفر میں

بين المغرب والعشاء (۲۳۳) عن سالم بن عبد الله (متنکر ۶۰۵) (۶۰۸) عن ابن عباس
مغرب اور عشاء کو جمع کرنا دیکھو حدیث نمبر ۶۰۵ سے ابن عباس سے روایت ہے

قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلوة الظهر والعصر اذا كان على ظهر سير ويجمع
کہ رسول اللہ صلعم نماز اور عصر کی نماز کو جب سفر میں جلتے جمع کرتے تھے اور

بين المغرب والعشاء (۲۳۴) عن انس بن مالك (متنکر ۶۰۵) باب هل يؤذن او يقيم
مغرب اور عشاء کو جمع کرتے تھے دیکھو حدیث نمبر ۶۰۵ سے باب جب مغرب اور عشاء کو جمع کر کے

اذا جمع بين المغرب والعشاء (۲۳۵) عن عبد الله بن عمر (متنکر ۶۰۵) (۲۳۶) عن
تو کیا اذان یا تکبیر کے دیکھو حدیث نمبر ۶۰۵ سے

انس (متنکر ۶۰۵) باب يؤخر الظهر الى العصر اذا ارسل قبل ان تزيع الشمس في عين
حدیث نمبر ۶۰۵ سے باب ظہر کو عصر تک پیچھے کر کے جب سورج ڈھلنے سے پہلے سفر پہلے اس میں

ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم (۶۰۹) عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارسل
ابن عباس سے نبی صلعم سے روایت ہے انس بن مالک سے روایت ہے جب رسول اللہ صلعم

قبل ان تزيع الشمس اخر الظهر الى وقت العصر يجمع بينهما فاذا زاعت صلى الظهر ثم ركب
سورج ڈھلنے سے پہلے کوچ کرتے تو ظہر کو عصر کے وقت تک تاخیر میں ڈالتے دو دن نمازیں جمع کر کے پڑھتے اور جب (سورج ڈھلنے سے پہلے) رات

باب اذا ارسل بعد ما زاعت الشمس صلى الظهر ثم ركب (۲۳۷) عن انس بن مالك (متنکر ۶۰۹)
باب جب سورج ڈھلنے کے بعد کوچ کرے تو ظہر پڑھے پھر سوار ہو جائے دیکھو حدیث نمبر ۶۰۹ سے

۱۔ نمبر ۲۱۷ سے
مغرب اور عشاء کو جمع کرنا
دیکھو حدیث نمبر ۲۱۷ سے
ابن عباس سے روایت ہے
جب رسول اللہ صلعم
نماز اور عصر کی نماز کو
جمع کرتے تھے اور
نماز کو عصر تک
پیچھے کر کے
جب سورج ڈھلنے
سے پہلے سفر
پہلے اس میں
ظہر کو عصر کے
وقت تک تاخیر
میں ڈالتے دو
دن نمازیں
جمع کر کے
پڑھتے اور
جب سورج
ڈھلنے سے
پہلے کوچ
کرتے تو
ظہر کو عصر
کے وقت
تک تاخیر
میں ڈالتے
دو دن
نمازیں
جمع کر
کے پڑھتے
اور جب
سورج
ڈھلنے
سے پہلے
رات

پھر لائے ہیں۔ مگر یہاں صَلَّى الْمَسْبُوكَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ کے لفظ زائد ہیں یعنی رات کے وقت نفل نماز سفر میں دشمنی پر پڑھتے تھے اور یہ نماز تہجد تھی جیسا کہ
اس حدیث کی دوسری ہر روایات سے ظاہر ہے + مسئلہ اس ہر روایت کے لفظ ہر ۳۱۹ سے ملتے جلتے ہیں۔ جو نمبر ۵۷۴ کے ایک حصے کی روایت ہے اور رسول اللہ صلعم
کان یجمع علی ظہر راحلۃ حیث کان وجہہ یؤتی بولاسو کان ابن عمر فیصلہ + مسئلہ ۲۱۵ کا مضمون بہت مختصراً ہے یہاں صرف اس قدر بیان کیا تو کان النبی صلعم
یجمع بین المغرب والعشاء اذا جدَّ بہ السیر یعنی جلد پہلنا ہوتا تو مغرب و عشاء کو جمع کر لیتے۔ اس حدیث کو یہاں لانے سے فتناء معلوم ہوتا ہے کہ ایسی حدیث میں مغرب کے
بعد کی سنتیں پڑھتے تھے۔ کیونکہ مغرب کے وقتوں کے بعد فوراً عشاء کے فرض پڑھے جاتے تھے + مسئلہ یہاں بھی اختصاراً نمبر ۶۰۸ کا وہی حصہ بیان کیا ہے جو نمبر ۲۳۳ میں ہے
اذا جدَّ بہ السیر کی جگہ نے سفر ہے۔ یعنی جلد ہی چلنا ہو یا نہ ہو سفر میں جمع کر لیتے تھے + مسئلہ نمبر ۶۰۸ کا پہلا حصہ وہی روایت ہے پہلے لاکر درمیانی حصہ
کو چھوڑ دیا ہے۔ اور آخری حصہ کو قریناً انہی الفاظ میں بیان کیا ہے یقیم المغرب فیصلہ ما نلتا ثم لیسلم ثم قلما یلیث حتی یقیم العشاء فیصلہ ما یکتب
ثم یسلم ولا یقیم بینہما رکعۃ ولا یجد العشاء لیسجدۃ حتی یقوم من جوف اللیل پس حدیث میں دو دن نمازوں کے لئے علیہ واقامت یعنی تکبیر کیوں کہ
کا ذکر ہے۔ اذان کا ذکر نہیں۔ لیکن اس سے اذان کی نفی نہیں نکلتی۔ مگر چونکہ اذان کی عرض لوگوں کو جمع کرنا ہے۔ اس لئے اذان ایک بھی کافی ہو سکتی ہے۔ مگر امام
بخاری نے کتاب المناکب میں باب من اذن واقام لكل واحد واحد منهما میں ابن مسعود کا فعل علیہ علیہ اذان نفل کیا ہے + مسئلہ الفاظ روایت نمبر ۲۳۳
کی طرح ہیں + مسئلہ جب دو نمازوں کو پہلی نماز کے وقت جمع کیا جائے تو اسے جمع قدیم کہتے ہیں۔ اور جب پھلی نماز کے وقت جمع کیا جائے تو اسے جمع تاجیر کہتے ہیں۔ جمع
تاجیر یعنی دو نمازوں کو آخری نماز کے وقت پڑھنا تو بہت ہی صحیح روایات میں ہے اور سوائے چند تابعین کے سب علماء اس کے قائل ہیں۔ اور اس حدیث میں بھی جمع تاجیر کا ہی
ذکر ہے۔ جمع قدیم کا نہیں۔ لیکن بعض دوسری روایات میں جمع قدیم کا ذکر بھی ہے۔ اور گو انہیں ضعیف کہا گیا ہے۔ لیکن عرفات میں آنحضرت صلعم کا جمع قدیم ثابت ہے۔ اس لئے
دونوں طرح جائز ہے + مسئلہ ضعیف اختلاف لفظی سے اوپر کی حدیث کو دوہرایا ہے +

۱۔ اس حدیث کے الفاظ وہی ہیں جو نمبر ۲۴۷ کی کتاب میں روایت ۲۱۴ کے ہیں۔ صرف آخری حصہ واذنا قال سمع اللہ سے آخر تک نہیں حدیث میں ہی مسلم کے بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ذکر ہے۔ حدیث اس کمر روایت کا مضمون نمبر ۲۴۷ کی کمر روایت ۲۱۵ کی طرح ہے۔ فقط ضعیف اختلاف لفظی ہے۔ مگر بناوٹ الکل کے بعد حصہ یہاں نہیں ہے۔ اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی توجیہ ہے۔ کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا سستی اور کاپی کی دلیل ہے اس کے معمولی عذر پر بیٹھ کر نماز پڑھنا نہیں چاہیے۔ اور سوائے قوی عذر کے لیٹ کر نہیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھنا یا لیٹ کر پڑھنا جائز ہے + مگر قریباً ان ہی الفاظ میں حدیث نمبر ۲۱۰ کو دہرایا ہے۔ اس میں اشارہ سے پڑھنے کا ذکر نہیں۔ امام بخاری کا استدلال یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے جس میں قیام ترک ہوتا ہے تو اور ارکان بھی بوجہ عذر ترک ہو سکتے ہیں + ۲۱۰ نمبر بھی عمران کی ہی روایت ہے۔ مگر اس میں سوال اور جواب عام ہیں۔ کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بیٹھ کر پڑھنے سے افضل ہے۔ یہاں یہ بتایا ہے کہ جو شخص کھڑا ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ بیٹھ کر پڑھے اور اس کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر۔ کھڑے ہونے میں زیادہ مستندی کی حالت پائی جاتی ہے اور عرض یہ ہے کہ عبادت کی حالت میں بھی انسان کے اندر مستندی پائی جائے۔ پس نماز مست کرنے والی چیز نہیں۔ اور اسلام کی ابتدائی تاریخ اس پر مشتمل ہے۔ و قوم جو بیعتوں اور پیمانوں اور قیام کی مصداق تھی۔ یعنی رات سجدہ اور قیام میں کامی تھی۔ وہ دن کو سونہر تھی تھی۔ بلکہ اپنے کاروبار کرتی تھی۔ اور اس کے علاوہ ضرورت ہوتی تو خدا کے رستہ میں جنگ بھی کرتی تھی + مگر ۲۱۴ کے الفاظ یہ ہیں انفا لہ ترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صلوۃ اللیل قاعد اقط حتی استن فكان یقرأ قاعدا حتی اذا اراد ان یکرم قاهر فقرا نحواً من ثلثین اور یعین ایتہ لہ رکنک حضرت عائشہ رضہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی صلعم کو رات کی نماز کبھی بیٹھ کر پڑھتے نہیں دیکھا۔ جب تک کہ آپ کی عمر زیادہ نہیں ہوئی۔ تب آپ بیٹھ کر قرات پڑھتے۔ یہاں تک کہ جب ارادہ کرتے کہ کوع کریں تو کھڑے ہو جاتے۔ تب قریباً تیس یا چالیس آیتیں پڑھتے پھر رکوع کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی قرات چونکہ بہت لمبی ہوتی تھی۔ اس کے زیادہ حصہ قرات کا بیٹھ کر پڑھ لینے۔ اور آخری تیس یا چالیس آیتیں کھڑے ہو کر پڑھنے +

بَابُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ (مر ۲۳۹) عَنْ عَائِشَةَ (متکرر ۲۴۷) (مر ۲۳۹) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متکرر ۲۴۷) (۲۱۰) عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ وَكَانَ مَبْسُورًا قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ إِنِ صَلِيَ فَأَمَّا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ

بَابُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ (مر ۲۳۹) عَنْ عَائِشَةَ (متکرر ۲۴۷) (مر ۲۳۹) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متکرر ۲۴۷) (۲۱۰) عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ وَكَانَ مَبْسُورًا قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ إِنِ صَلِيَ فَأَمَّا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ

بَابُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ (مر ۲۳۹) عَنْ عَائِشَةَ (متکرر ۲۴۷) (مر ۲۳۹) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متکرر ۲۴۷) (۲۱۰) عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ وَكَانَ مَبْسُورًا قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ إِنِ صَلِيَ فَأَمَّا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ

بَابُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ (مر ۲۳۹) عَنْ عَائِشَةَ (متکرر ۲۴۷) (مر ۲۳۹) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متکرر ۲۴۷) (۲۱۰) عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ وَكَانَ مَبْسُورًا قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ إِنِ صَلِيَ فَأَمَّا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ

بَابُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ (مر ۲۳۹) عَنْ عَائِشَةَ (متکرر ۲۴۷) (مر ۲۳۹) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متکرر ۲۴۷) (۲۱۰) عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ وَكَانَ مَبْسُورًا قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ إِنِ صَلِيَ فَأَمَّا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ

بَابُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ (مر ۲۳۹) عَنْ عَائِشَةَ (متکرر ۲۴۷) (مر ۲۳۹) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متکرر ۲۴۷) (۲۱۰) عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ وَكَانَ مَبْسُورًا قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ إِنِ صَلِيَ فَأَمَّا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ

بَابُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ (مر ۲۳۹) عَنْ عَائِشَةَ (متکرر ۲۴۷) (مر ۲۳۹) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متکرر ۲۴۷) (۲۱۰) عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ وَكَانَ مَبْسُورًا قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ إِنِ صَلِيَ فَأَمَّا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ

بَابُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ (مر ۲۳۹) عَنْ عَائِشَةَ (متکرر ۲۴۷) (مر ۲۳۹) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متکرر ۲۴۷) (۲۱۰) عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ وَكَانَ مَبْسُورًا قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ إِنِ صَلِيَ فَأَمَّا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ

بَابُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ (مر ۲۳۹) عَنْ عَائِشَةَ (متکرر ۲۴۷) (مر ۲۳۹) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متکرر ۲۴۷) (۲۱۰) عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ وَكَانَ مَبْسُورًا قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ إِنِ صَلِيَ فَأَمَّا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ

بَابُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ (مر ۲۳۹) عَنْ عَائِشَةَ (متکرر ۲۴۷) (مر ۲۳۹) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متکرر ۲۴۷) (۲۱۰) عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ وَكَانَ مَبْسُورًا قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ إِنِ صَلِيَ فَأَمَّا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ

بَابُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ (مر ۲۳۹) عَنْ عَائِشَةَ (متکرر ۲۴۷) (مر ۲۳۹) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متکرر ۲۴۷) (۲۱۰) عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ وَكَانَ مَبْسُورًا قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ إِنِ صَلِيَ فَأَمَّا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ

بَابُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ (مر ۲۳۹) عَنْ عَائِشَةَ (متکرر ۲۴۷) (مر ۲۳۹) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متکرر ۲۴۷) (۲۱۰) عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ وَكَانَ مَبْسُورًا قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ إِنِ صَلِيَ فَأَمَّا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ

كَانَ يَصِلُ جَالِسًا فَيَقْرَأُ هُوَ جَالِسًا فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَائَتِهِ شَيْءٌ مِنْ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ

بیتھر نماز پڑھتے ہیں بیٹھر قرات پڑھتے توجہ آپ کی قرات میں سے اسیس یا بیاسیس
آیتہ قام فقراہا وهو قائم ثم ركع ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك
آئیں رہ جائیں تو کھڑے ہو جاتے اور انہیں کھڑے ہو کر پڑھنے پڑھ کر کے پھر سجدہ کرتے دوسری رکعت میں بیٹھر کرتے

وَإِذَا قَضَى صَلَوَتَهُ نَظَرَ فَإِنْ كُنْتَ يَقْظَى تَحَدَّثَ شَيْئًا وَإِنْ كُنْتَ كَأَنَّكَ تَحْتَضِرُ

پس جب پڑھ چکے دیکھ لینے اگر میں جاگتی ہوتی تو مجھ سے باتیں کرتے اور اگر سوئی ہوئی ہوتی تو لیٹ جاتے

کتاب النہج

تہجد کی کتاب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمین

بَابُ التَّهَجُّدِ بِاللَّيْلِ وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ ذَا نِفَاءٍ لَكَ (۶۱۳)

باب رات کو تہجد پڑھنا اور اللہ عزوجل کا قول اور رات کے ایک حصے میں تہجد پڑھنا تیس سے چل کے طور پر ہے

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قِيمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ

سے اللہ تعالیٰ تجھے ہی سزاوار ہے تو ہی آسمانوں اور زمین کو اور ان کو جو ان میں ہیں قائم رکھنے والا ہے اور تعریف تجھی ہی سزاوار

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ

سے تو ہی آسمانوں اور زمین اور آسمانوں اور زمین میں ہیں روشن کرنے والا ہے اور تعریف تجھے ہی سزاوار ہے تو ہی آسمانوں اور زمین اور ان میں ہیں

فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ حَيٌّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَالْحَقُّ الْحَقُّ وَالْحَقُّ الْحَقُّ

بارشہ ہے اور تعریف تجھے ہی سزاوار ہے تو سچا اور تیرا وعدہ سچا اور تیرا ظنا سچا اور تیری بات سچی اور حجت سچ

وَأَنْتَ تَعْلَمُ الْغُيُوبَ وَالْحَقُّ الْحَقُّ وَالْحَقُّ الْحَقُّ وَالْحَقُّ الْحَقُّ وَالْحَقُّ الْحَقُّ وَالْحَقُّ الْحَقُّ

اور دوزخ سچ ہے اور سب جہنم سے ہیں اور حضرت امیرالمؤمنین سے ہیں اور قیامت (کا آنا) سچ ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما کر اس اور

وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أُنْتُ وَإِلَيْكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ كَلِمَاتُكَ فَاعْفُ عَنِّي مَا قَدِّمْتُهَا خَيْرًا

اور تجھ پر ہی ہجو و مدح کرتا ہوں اور تیری طرف ہی بھٹتا ہوں اور تیری ہی مدد سے مقابلہ کرتا ہوں اور تجھ سے ہی نصوحتا ہوں پس میری مخالفت فرما ان میں جو میں نے بھجوا اور

عمل تہجد چود سے ہے جس کے بیٹھے نیند میں آتا ہے تہجد کے حصے میں نیند کو دور کیا۔ رات کی نماز کو تہجد کہا جاتا ہے اس لئے کہ اس کے لئے مشقت سے نیند سے ہوا ہونا پڑتا ہے۔ تہجد نبی کریم صلیم کے لئے اور خدا کا کے علاوہ ایک نوکد عبادت تھی جسے حضرت معلم نہایت اہتمام سے پڑھتے تھے اور جو شخص آپ کے اتباع میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کامل طور پر پیدار کیا جاتا ہے اس کے لئے بھی یہی رستہ ہے۔ لیکن یہ نماز بطور نفل ہے۔ فرض اسے نہیں کیا۔ تاکہ امت پر مشقت نہ ہو اور آگے حدیث ترمذی سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماری میں آپ صلا رات کی نماز کا ذکر اس تہما میں بتانا ہے کہ آپ کا قلب اپنی صداقت کے یقین سے کھنڈ ہو چکا ہے۔ انسان باہر بیٹھ کر دوستوں یا دشمنوں کو اپنے متعلق مختلف سے بہت کچھ کہہ سکتا ہے۔ مگر اس تہما کی گھڑی میں جب ساری دنیا سوئی پڑی ہو ان خیالات کا اندرون قلب سے چھوٹ کر نکلنا بتاتا ہے۔ کہ اپنی سچائی پر کس قدر یقین ہے۔ مفسر ہی یہ نہیں کر سکتا۔ نہ محضوں کے خیالات ایسے ہو سکتے ہیں۔

عملہ رات کی نماز کی کیفیت سے خود قرآن کریم پھاڑا ہے۔ سورہ وقت کے آخری رکوع میں عماد الرحمن کی تعریف میں ہے واللہ بینہما ربہما سبحان و قیاما۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ نماز ایمان کی شہادت قرار دی گئی ہے۔ تنجانی جنوہم عن لہما۔ یہ دعوت رہے جو خاف و طمعا۔ سورہ زمر آیات میں متقین کی تعریف میں ہے کانتوا قلیلا من اللیل ما یصلحون۔

بَابُ فَضْلِ قِيَامِ اللَّيْلِ (۶۱۴) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاتِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى رُؤْيَا قَضَاهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَمَيَّزَ أَنْ

ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب کوئی شخص خواب دیکھتا تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا تھا یعنی یہ آرزو تھی

أَرَى رُؤْيَا قَضَاهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَتَبْتُ لَهُ مَا سَأَلْتُكَ وَكَنتَ أَدُلُّمُ

کہ کوئی خواب دیکھنے والے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر دے اور میں جو ان کا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

فِي السَّيْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَائِكَةَ أَخَذَانِي

وقت میں مسجد میں سوایا کرتا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتوں نے مجھے پکڑا اور مجھے ان کی طرف لے گئے اور وہ اس طرح ہی رہتی تھی طرح کھڑا بنا ہوا ہوتا ہے اور اسے دو کونے تھے اور اس میں کچھ لوگ تھے جنہیں

عَرَفْتُهُمْ فَجَحَلْتُ قَوْلَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ فَإِنْ لَقِينَا فَكَأَنَّكَ لَمْ تَرَ عَرَفْتُهُمْ فَجَحَلْتُ قَوْلَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ فَإِنْ لَقِينَا فَكَأَنَّكَ لَمْ تَرَ

میں پہچانتا تھا تو میں نے کہا کہ اللہ سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ تو ہم سے ایک اور فرشتہ ملا اور اس نے مجھے کہا کہ تمہیں قصصہ ما علی حصۃ فقصصہ ما حصۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال

سو اسے میں نے حصہ سے بیان کیا اور حصہ سے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا آپ نے فرمایا

نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنْ لَيْلٍ وَكَانَ بَعْدَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ لَا فَخْرًا

عبداللہ اچھا آدمی ہے کاش رات کو نماز پڑھتا اور وہ اس کے بعد رات کو اٹھتا سوتا تھا

بَابُ طَوْلِ السَّبْحِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ (۶۱۵) عَنْ الْأَسَدِ قَالَ سَمِعْتُ جَنْدَبًا يَقُولُ اشْتَكَيْتُكَ اللَّيْلُ

ابن اسود سے روایت ہے کہ میں نے جندب سے سنا کہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تنگ کرنا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَمِمْ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ (۶۱۶) عَنْ جَنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

ہوئے تو ایک یا دو رات نہ اٹھے جندب بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ

أَحْسَسَ جَدِيلَ عَبْدِ السَّلَامِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ فَذَلَّتْ وَالصَّحْبُ وَاللَّيْلُ ذَا سَبْحِي مَا وَدَعْتُكَ رَيْبًا وَأَقْبَلِي

نے کہا اس کے سر میں نے اسے پاس آئے میں دیر کی ہے۔ قورینہ سورت اُترتی اور صبحی دن کی روشنی گواہ ہے اور رات جب

بَابُ تَحْرِيزِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ وَالتَّوَاتُرِ مِنْ غَيْرِ أَحْبَابٍ

باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے اور تواتر کی طرف رغبت دلانا بغیر واجب چھڑانے کے

بَابُ تَحْرِيزِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ وَالتَّوَاتُرِ مِنْ غَيْرِ أَحْبَابٍ

سُنَّكَ انہیں رات کی نماز کیلئے ہدایت کی ہے۔ حالت سجدہ میں آپ صبح کے علاوہ دعائیں بھی کرتے تھے۔ اس حدیث کا بظاہر عنوان باب سے کوئی تعلق نہیں۔ مگر دراصل یہ نمبر ۶۱۵ کا ہی ایک حصہ ہے۔ چنانچہ ترمذی میں دونوں ٹکڑے ساتھ ذکر ہیں۔ لیکن یہ امام بخاری نے واللہ اذا سبھی میں تفسیرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے اور تواتر کی طرف رغبت دلانا بغیر واجب چھڑانے کے

وَطَرَقَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ وَعَلِيًّا لَيْلَةَ الصَّلَاةِ (مكرر ۲۲۲) عَنْ

أَبِي سَلَمَةَ (مكرر ۱۰۰) (۶۱۸) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ فَقَالَ لَا

تَصَلِّيَانِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ انْفَسْنَا بِيَدِ اللَّهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعْدَنَا فَأَنْصُرُ

حِينَ قُلْتَ ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ لِي شَيْئًا نَمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مَوْلٍ يُضْرَبُ فُجْدَاهُ وَهُوَ

يَقُولُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جِدَلًا (۶۱۹) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَدَأَ الْعَمَلَ وَهُوَ يَحْتَبُ أَنْ يَعْلَمَ بِهِ النَّاسُ

فَيَفْرُضَ عَلَيْهِمْ وَمَا سَبَّحَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَةَ الضُّعْفَى قَطُّ وَلَا رَفِيَّ

لَا سُبْحَهَا (مكرر ۳۳۳) عَنْ عَائِشَةَ (مكرر ۴۵) بِأَنَّ قِيَامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَتَّى تَرْمُقَ قَدَمَاهُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ حَتَّى تَفْطُرَ قَدَمَاهُ وَالْقَطُوفُ الشَّفُوقُ انْفَطَرَتْ

أَنْشَقَّتْ (۶۲۰) عَنِ الْغُبَيْرَةِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَقُومُ أَوْ

علا مکر روایت کے الفاظ قریباً ہی ہیں جو نمبر ۱۰۰ کے ہیں اور ذکر یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھوں والیوں کو جگا دو فقط صواحب الکجرات یہاں اس کی ترجمہ من یؤتھ صواحب الحجرات اور یازنہ کا مستی فی اللہ بنا عاریتی فی الاخرة الفاظ پر اس حدیث کو فہم کر کے توجہ لانی ہے کہ نماز بھی نہان کے لئے ہاں کا کام دیتی ہے۔ علا لان پر ہاتھ مارنا حضرت علی رضی کے جواب پر انوشن ظہر کرنے کی وجہ سے تھا کہ ان کا جواب ٹھیک نہیں۔ انسان جب رات کو اٹھنے کا عزم کرے تو اٹھ سکتا ہے۔ آج بھی بہت لوگ اس قسم کے عذر بنا لیتے ہیں اور اپنی سستی اور

اور بی صلح ایک رات حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے پاس انہیں نماز کے واسطے جگانے کے لئے انشرف لائے۔
حضرت علی رضی سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلعم
اور فاطمہ بنت نبی صلعم کے پاس انشرف لائے تو فرمائے گئے تم دونوں
نمازیں پڑھتے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری جا میں خدا کے ہاتھ ہیں پس جب ہمیں تھا نا چاہتے تھا تو ہاں ہے
جب میں نے عرض کیا تو آپ واپس ہوئے اور مجھے کچھ جواب دیا پھر میں نے سنا جب آپ واپس ہوئے ہوتے اپنی زبان پر ہاتھ مارنے لگے
بہت جھگڑا ہے
نماز کا کام کو چھوڑ دینے تھے حالانکہ آپ کو سہنہ ہونا تھا اگر سکو کوئی اس عزم سے کہ لوگ سے کرتے نہیں
تو نہ فرض ہو جائے علا اور رسول اللہ صلعم نے چاشت کی نفل نماز کبھی نہیں پڑھی اور میں
اُسے پڑھتی ہوں علا دیکھو حدیث نمبر ۲۵۳ علا باب نبی صلعم کا رات کو کہاں تک نماز
میں کھڑا رہنا کہ آپ کے پاؤں سوچ جاتے اور حضرت عائشہ نے لکھا ہاتھ کا پے پاؤں چھٹ جاتے اور نظر چھٹنا ہے۔ لفظ کج معنی میں
پھٹ جاتے نمبر ۲۰ سے روایت ہے کہ نبی صلعم

غفلت کو خدا کی طرف منسوب کرنے لگتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ خدا چاہے تو ہم یوں کریں گے یا وہ یوں کریں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بہ طاقت رکھی ہے۔ کہ جب ایک کام کے لئے عزم کرے تو وہ ہو جاتا ہے۔ تقدیر کا غلط مسئلہ بھی اسی خیال پر مبنی ہے۔ تقدیر کے ہرگز یہ سمجھنے نہیں۔ کہ جو برا کام انسان کرے یا جو غفلت اس سے سرزد ہو وہ خدا کے منشا سے ہی ہوتی ہے۔ ان احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں کس قدر تقین تھا۔ کہ یہی ذریعہ انسان کی فلاح کا ہے۔ اسی لئے آپ اپنی بیویوں کو بھی راتوں کو اٹھنے کی نصیحت کرتے اور اپنی عزیز بیٹی اور داماد کو بھی۔ عسل فرض ہو جانے سے مطلب یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسے فرض سمجھ کر تکلیف نالایطاق میں پڑ جائیں اور بر ایسے امور میں ہے جو عبادات سے تعلق رکھتے ہیں۔ نفل عبادت میں جب تک انسان کو راحت ہو وہ اس کی ترقی کا موجب ہے۔ لیکن جب وہ مشقت کا رنگ اختیار کرے تو وہ فائدہ اس سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلعم کا کبھی کبھی ایسی عبادت کو ترک کر دینا یہ ظاہر کرنے کے لئے تھا کہ یہ فرض نہیں۔ عسل چاشت کی نماز رسول اللہ صلعم سے ثابت ہے دیکھو مر ۳۳۳۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ کے سامنے آپ نے یہ نماز کبھی پڑھی ہو۔ مگر حضرت عائشہ کا اسے پڑھنا خود بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلعم سے انہیں ایسی خبر پہنچی تھی + عسل بتقریر الفاظ نمبر ۲۵۳ کا مضمون بیان کر رہا ہے۔ مگر وہاں ہے کہ آپ اپنے حجرے میں نماز پڑھا کرتے تھے اور حجرے کی دیوار چھوٹی تھی۔ تو لوگوں نے دیکھ لیا۔ اور یہاں ہے صلی ذات لیلۃ فی المسجد یعنی آپ نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی۔ اور مر ۳۳۳ میں ہے خروج لیلۃ من جوف اللیل فصلی فی المسجد یعنی رات کے وقت تھکے اور مسجد میں نماز پڑھی۔ اور یہاں یہ بھی لفظ آخر پر پڑے ہیں وذلك فی رمضان یعنی یہ واقعہ رمضان کا ہے۔ پس بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے۔ کہ اعتکاف لینے آپ نے مسجد میں حجروں جو ابایا تھا۔ اور یہ اسی کا ذکر ہے +

لِيَصِلَ حَتَّى تَرْمَ قَدْ مَاهُ أَوْ سَأَاهُ فَيَقَالَ لَهُ فَيَقُولُ أَفَلَا كُنْ عَبْدًا شَكْرًا كَاتِبًا

ماز پر سے کاپ کے پاؤں یا ہنڈلیوں سوچ جائیں تو آپ کے اس بار میں کہا جاتا تو فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار ہونے پر تمہیں کیا ہے

مَنْ ذَا عِنْدَ السَّجْرِ (۶۲۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

برسوی کی وقت سوچتے عبد اللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَبِّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ وَحَبِّ الصِّيَامِ صَلَاةُ اللَّهِ صِيَامُ

نے فرمایا پسندیدہ نماز اللہ کے نزدیک داؤد کی نماز ہے اور پسندیدہ روزہ اللہ کے نزدیک داؤد کا

دَاوُدُ وَكَانَ يَبْنَاهُمْ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَبْنَاهُمْ سُدَّةً وَلِصَوْمِهِ يَوْمًا وَيُفْطِرُ

روزہ سے آدھی رات سوئے رہتے اور ایک تہائی رات جاگتے اور چھٹا حصہ بھر سو جاتے اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک

يَوْمًا (۶۲۲) عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْبَيْتِ كَانَتْ لِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

دن گزارتے تھے مسروق سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا کام سے زیادہ پسند تھا

عَلَيْهِمْ قَالَتْ لَأَنْتُمْ قُلْتُمْ مَنِي كَانُ يَقُومُ قَالَتْ يَقُومُ إِذْ اسْمَعُ الصَّارِخَ (مَرۡۤۨ۲۲)

کہا جو ہمیشہ ہو گا میں نے کہا اس وقت جاگتے فرمایا جب صبح کی آواز سنتے تھے

عَنْ الْأَشْعَثِ (مَتَكَرَرۡۤ۲۲) (۶۲۳) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا لَقَاكَ السَّجْرُ عِنْدِي

دیکھو حدیث نمبر ۶۲۲ ۵۷ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) کو سحری کے وقت نے

رَأَى كَأَنَّكَ تَعْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبٍ مِنْ سَخْرٍ فِيمَ حَتَّى صَلَّى الصَّبْرُ

بیرے پاس سوئے ہی یا صلا باب جو سحری کھانے اور پھر اس سوئے یہاں تک صبح کی

(مَرۡۤۨ۲۵) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (مَتَكَرَرۡۤ۲۸) بِأَبٍ طَوْلِ الصَّلَاةِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ

دیکھو حدیث نمبر ۳۸۲ باب رات کے جاگنے میں نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

(۶۲۴) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَلَمَّا قَامَ

عبد اللہ (بن مسعود) سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات نماز پڑھی تو آپ اٹھتے رہے

حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرٍ سَوِيٍّ فَلَمَّا هَمَمْتُ قَالَ هَمَمْتَ أَنْ أَقْدُوا ذَرَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

یہاں تک کہ میں نے ایک بڑے کام کا ارادہ کیا ہم نے کہا ارادہ کیا کہ میں نے ارادہ کیا کہ بیٹھ جاؤں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھنے سے روک دوں

افلا اكون عبدك شكورا امي شكر نعمتك في حقيقته كوجيان فرمايا - يقيني الله تعالى انك لو كان يادونته في رات جم

کے آدم کیلئے۔ اور ایک تہائی عبادت کے لئے رکھتی چاہیے۔ یہ اس کے لئے ہے جو رات کو بیدار رہنا چاہتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ نیند کو اور راحت جسمانی کو بالکل اپنے لئے

حرام رکھے اور اس کا نتیجہ دماغی حالت پر برابرو۔ ایسا ہی فضل روزوں میں حد اعتدال قائم کر دی۔ اور چھٹا حصہ رات سوئے کو پیچھے رکھا ہے تاکہ نماز تہجد کی کو فتنہ دہ ہو جائے

اور فجر کی نماز کے لئے تیار ہو جائیں۔ صلا جو کام ہمیشہ ہوتا ہے اگرچہ تھوڑا جو اس کا اثر قائم رہ کر ترقی کرتا ہے۔ اور جو کام کبھی زیادہ کیا جائے اور کبھی نہ کیا جا

وہ کم مفید ہوتا ہے نہ اس سے ترقی ہوتی ہے نہ اس کا اثر باقی رہ سکتا ہے۔ صلا آدھی رات کے بعد صبح پہلی مرتبہ آواز دینا ہے اس سے وہی مراد ہے + صلا نمبر ۴۴۳

کے الفاظ میں اس اسمع الصارخہ کا مفسر فصلی + صلا جیسا دوسری حدیثوں میں مذکور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ کر سوجاتے یہاں تک کہ اذان ہوتی تو اٹھتے۔ اس لئے

فرمایا کہ سحری کے وقت سوئے ہوتے تھے۔ مگر جیسا اگلی حدیث میں آیا ہے کہ رمضان میں ایسا نہ تھا اسلئے کہ وہ کھانے کا وقت ہوتا تھا۔ اور حضرت عائشہ کی حدیث بھی

صرف عموماً پر دلالت کرتی ہے اگر کبھی اسکے خلاف بھی ہڑا تو ہرگز نہیں + صلا اس کے روایت کے لفظ بالکل وہی ہیں جو مور ۱۶۵ کے ہیں جہاں نمبر ۳۸۲

پہلے گذر چکی ہے سوائے اسکے کہ فصلی کی جگہ فصلیاً ہے۔ یعنی دونوں نے نماز پڑھی۔ زائد حضرت صلعم اور زید بن ثابت (رض) حدیث میں ذکر ہے کہ سحری کھا کر نماز تک

اس قدر وقفہ تھا جس میں پیاس آنتیں پڑی جائیں + صلا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ میں کس قدر نبی اور نبی کا احساس توت پڑ گیا تھا۔ کہ آنحضرت

صلعم کا ساتھ نہ دینے کو اور پیچھے جانے کو بھی بڑا کام کہا۔ حالانکہ عبداللہ بن مسعود نے فوجان تھے۔ مگر پھر بھی اس قدر قیام کی طاقت ان میں نہ تھی جس قدر

آنحضرت صلعم نے کیا +

صلعم آنحضرت صلعم کی زندگی راہبانہ زندگی نہ تھی بلکہ ہر قسم کے امور کو سرانجام دینے کے علاوہ با دشامت کا کام بھی آپ کے سپرد تھا۔ مگر با اس کی حقیقی راحت تعلق نہ تھا میں تھی اور اس قدر آپ کو اس میں جنت ہوتی تھی کہ جسمانی تکلیف رہنے پاؤں کا سوج جانا یا پھٹ جانا بھی اس راحت کو کونہ نہ کر سکتا تھا۔ با دشامت ہو کر دنیا کی ہر قسم کی نعمتوں کو رکھتے ہوئے۔ نو یا داس بیویوں کے باوجود۔ اگر وہ راحت پھر آتی ہے جو جسمانی تکلیفوں کو بھی بھلا دیتی ہے تو اللہ کے ساتھ تعلق میں اسی نے زیا یافتہ عیبی فی الصلوۃ۔ افلا اكون عبدك شكورا امي شكر نعمتك في حقيقته كوجيان فرمايا - يقيني الله تعالى انك لو كان يادونته في رات جم کے آدم کیلئے۔ اور ایک تہائی عبادت کے لئے رکھتی چاہیے۔ یہ اس کے لئے ہے جو رات کو بیدار رہنا چاہتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ نیند کو اور راحت جسمانی کو بالکل اپنے لئے حرام رکھے اور اس کا نتیجہ دماغی حالت پر برابرو۔ ایسا ہی فضل روزوں میں حد اعتدال قائم کر دی۔ اور چھٹا حصہ رات سوئے کو پیچھے رکھا ہے تاکہ نماز تہجد کی کو فتنہ دہ ہو جائے اور فجر کی نماز کے لئے تیار ہو جائیں۔ صلا جو کام ہمیشہ ہوتا ہے اگرچہ تھوڑا جو اس کا اثر قائم رہ کر ترقی کرتا ہے۔ اور جو کام کبھی زیادہ کیا جائے اور کبھی نہ کیا جا وہ کم مفید ہوتا ہے نہ اس سے ترقی ہوتی ہے نہ اس کا اثر باقی رہ سکتا ہے۔ صلا آدھی رات کے بعد صبح پہلی مرتبہ آواز دینا ہے اس سے وہی مراد ہے + صلا نمبر ۴۴۳ کے الفاظ میں اس اسمع الصارخہ کا مفسر فصلی + صلا جیسا دوسری حدیثوں میں مذکور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ کر سوجاتے یہاں تک کہ اذان ہوتی تو اٹھتے۔ اس لئے فرمایا کہ سحری کے وقت سوئے ہوتے تھے۔ مگر جیسا اگلی حدیث میں آیا ہے کہ رمضان میں ایسا نہ تھا اسلئے کہ وہ کھانے کا وقت ہوتا تھا۔ اور حضرت عائشہ کی حدیث بھی صرف عموماً پر دلالت کرتی ہے اگر کبھی اسکے خلاف بھی ہڑا تو ہرگز نہیں + صلا اس کے روایت کے لفظ بالکل وہی ہیں جو مور ۱۶۵ کے ہیں جہاں نمبر ۳۸۲ پہلے گذر چکی ہے سوائے اسکے کہ فصلی کی جگہ فصلیاً ہے۔ یعنی دونوں نے نماز پڑھی۔ زائد حضرت صلعم اور زید بن ثابت (رض) حدیث میں ذکر ہے کہ سحری کھا کر نماز تک اس قدر وقفہ تھا جس میں پیاس آنتیں پڑی جائیں + صلا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ میں کس قدر نبی اور نبی کا احساس توت پڑ گیا تھا۔ کہ آنحضرت صلعم کا ساتھ نہ دینے کو اور پیچھے جانے کو بھی بڑا کام کہا۔ حالانکہ عبداللہ بن مسعود نے فوجان تھے۔ مگر پھر بھی اس قدر قیام کی طاقت ان میں نہ تھی جس قدر آنحضرت صلعم نے کیا +

کتاب التمجید

(۴۶۶) عَنْ حَدِيثِهِ (متكرر ۱۹۶) بَابٌ كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَكَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى

وَبِكَيْفِ حَدِيثِ نَمْبِر ۱۹۶ بَابُ رَاتِ كِي نَاَزْ كِ نَسْ طَحْ عَ اَوْرَجِي صَلَم كَسْ طَحْ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ (۴۶۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (متكرر ۳۳) (۴۶۸)

رَاتِ كُو نَاَزْ پُرْدَا كَرْتے تھے دیکھو حدیث نمبر ۳۳۳ ع

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر ۳۳) (۶۲۵) عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ

مَسْرُوقِ تے رَوَاتِ تے کما ہیں نے حضرت عائشہ سے دیکھو حدیث نمبر ۳۳۳ ع

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ سَبْعٌ وَتِسْعٌ وَوَاحِدٌ عَشْرَةٌ سَوْرَةٌ لِعَنِي

نَبِي صَلَم كِي رَاتِ كِي نَاَزْ كِ نَسْ طَحْ پوچھا تو کہا صبح کی دو رکعتوں کے علاوہ سات اور نو اور گیارہ

الْفَجْرِ (۶۲۶) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ

عَشْرِ تَحْتِ حَضْرَتِ عَائِشَة سے روایت ہے کما نبی صلعم رات کو تیرہ رکعتیں پڑھتے

ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا اُولُو رَكْعَتَا الْفَجْرِ بَابٌ قِيَامُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اِنِی سے دت اور فجر کی دو رکعتیں تھیں باب نبی صلعم کما رات کو

وَاللَّيْلِ وَوَمِنْهُمَا نِسْفٌ مِنَ قِيَامِ اللَّيْلِ وَقَوْلُهُ يَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قِمِ اللَّيْلَ الْقَلِيلًا

اُحْصَا اَوْرَابِ كَا سَوَا - اور جرات کی عبادت سے نسخ ہوا عشر اور اللہ تعالیٰ کا قول سے اُوْر اُحْصَا دے رات کو اُوْر اُوْر

تَصَفِّهِ اِلَى قَوْلِهِ سُبْحًا طَوِيلًا وَقَوْلُهُ عَلِمَ اَنْ اَنْ تَخْصُوهُ قَاتِبُ عَلَيْكُمْ اِلَى قَوْلِهِ

اُدھی رات اور تعالیٰ سے اس قول تک معنی طویل اور اللہ تعالیٰ کا قول علم ان ان خصوصاً قناریہ سے اور تعالیٰ کے قول

وَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ اِنَّ اَللَّهَ عَفُوٌّ رَحِيْمٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَشَأَ قَامٌ بِالْحَنِيشَةِ وَطَاءٌ

و استغفر واللہ ان اللہ عفور رحیم تک ابن عباس سے ہیں (انت) جنبہ میں نشا (کے بی بی) کھا رہا اور وٹا

مُوَاظَاةٌ لِلْفَرَانِ اَشَدُّ مُوَافَقَةً لِسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَقِيلَهُ لِيَؤَاظُمُوا اِلَى اِقْفَاءِ (۶۲۷)

کے معنی میں قرآن کے ساتھ وقت یعنی وہ انسان کے کان اور اس کی آنکھ اور اس کے دل سے بہت موافق ہو جائے لے لیا اظموا کے معنی میں

عَنْ اَنَسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظَرَ

النس سے روایت ہے کہ نبی صلعم کسی مہینے میں بھانٹا نہ بچھرتے کہ بچھال کرے

اَنْ لَا يَصُومَ مِنْهُ وَيَصُومُ حَتَّى نَظَرَ اَنْ لَا يَفْطِرُ مِنْهُ شَيْءًا وَاَنْ لَا يَشَاءَ اَنْ

کاس میں کوئی روزہ نہ لے سکے اور بھی روزے رکھتے بھانٹا کہ بچھال کرے کاس میں کوئی روزہ نہ چھوڑے کے اور آپ کی نازی جانان

کر روایت کے
الفاظ نمبر ۱۹۶ کے
ہی ہیں سوائے
اس کے کہ یہاں
اذا قاهر کے بعد
للتمجید ہے۔ یہاں
حدیث میں آپ
کے رات کو سواک
کرنے کا ذکر ہے۔
نازک کے لبا کرنے
کا ذکر نہیں شاید
یوں استدلال کیا
ہے۔ کہ اگر نماز کا
نیا کرنا مقصود نہ
ہوتا تو اس قدر تیسرے
کیوں نہ مانتے کہ
رات کو اچھ کر
سواک بھی کریں
یا جو عبادت کیلئے
تیار ہی ہے اسے
بھی عبادت کا ہی
جزو سمجھنا چاہیے

میں کر روایت
اشقتار سے آئی
ہے ان رجلا
قال یا رسول اللہ
کیف صلوة اللیل
قال مشی مشی
واذا خفت اصعب
فاد فوجا حدة
یعنی نماز تیرہ روزہ

۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰

ع

مطلب یہ ہے کہ رات کو نماز میں بھی مشغول رہے اور سونے بھی نہ ساری رات چلتے تھے نہ ساری رات سوتے تھے اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ کبھی رات کو زیادہ جاگتے بھی کم + نماز سے روکنے والی چیز کو شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے نیند میں طبعی طور سے غفلت اور سستی آجاتی ہے جو اٹھنے سے مانع ہوتی ہے۔ اسلئے اسے شیطان کی گہرا قرار دیا گیا ہے اور تین گزہ کے دینے میں خلقت اور سستی کی زیادتی کی طرف اشارہ ہے۔ اور شیطان کے چھوکنے میں اسکی وسوسہ سازگار کی طرف اشارہ ہے اور سونو - اور

تَرَاهُم مِّنَ اللَّيْلِ مُصَلِّينَ أَلَا رَأَيْتَهُمْ إِذْ هُم يَدْعُونَكَ تَارَةً أُخْرَىٰ أَلَا رَأَيْتَهُمْ إِذْ هُم يَدْعُونَكَ تَارَةً أُخْرَىٰ أَلَا رَأَيْتَهُمْ إِذْ هُم يَدْعُونَكَ تَارَةً أُخْرَىٰ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب رات کو نماز نہ پڑھو تو کہو کہ تمہاری دعا ساری رات چلتی رہے گی اور تمہاری دعا ساری رات چلتی رہے گی اور تمہاری دعا ساری رات چلتی رہے گی۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْقِلُ الشَّيْطَانُ عَلَىٰ قَائِمَةٍ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عَقَدٍ

یَضْرِبُ عِنْدَكَ عَقْدَةٌ عَلَيْكَ كَيْلٌ طَوِيلٌ فَإِذَا سَبَقْتَ ظَدْرَ اللَّهِ أَحَلَّتْ

عَقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأْتَ أَحَلَّتْ عَقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى أَحَلَّتْ عَقْدَةٌ فَأَصْبَحَ لَلشَّيْطَانِ طَبَقٌ

النَّفْسِ وَالْأَصْبَحُ نَمِيَّتِ النَّفْسُ كَسَلَانَ (۶۲۹) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّوْيَا قَالَ أَمْرٌ الَّذِي يُتْلَغُ رَأْسُهُ بِأَجْرِ

فَإِنَّهُ بِأَخْلِ الْقُرْآنِ فَيَرْضَاهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ يَا بَابَ إِذَا

نَامَ وَكَمَّ يَصِلُ بَالَ الشَّيْطَانِ فِي أُذُنِهِ (۶۳۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ذَكَرَ

عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقِيلَ لَهُ يَا لَيْسَ بِأَحْسَنَ أَصْبَحَ

مَا قَامَ لِي الصَّلَاةَ فَقَالَ بَالَ الشَّيْطَانِ فِي أُذُنِهِ يَا بَابَ الدُّعَاءِ وَالصَّلَاةِ

نَمَاكَ لَنْ (بھی) نہیں آٹھا تو فرمایا شیطان نے اس کے کان میں پشاپ کر دیا۔

کے جس پہ نظر نہیں کھنڈے اور لمبی راتیں ساری ساری سو کر گذارتے ہیں۔ ان کی طبیعت میں سب اور پوچھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور کسی کام کو دل لگا کر کرنے کی ہمت ان کو نہیں پڑتی۔ اور جو نیند کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں اور حد اعتدال کے اندر رہتے ہیں۔ ان کی طبیعت میں تازگی اور راحت پیدا ہوتی ہے + علی یہ حدیث نمبر ۴۳۴ کا ایک گٹھڑہ ہے۔ اور حدیث مذکور میں نبی صلعم کے ایک روایا کا بیان ہے کہ آپ نے کہا کہ رنگوں میں لوگوں کو مذاب پتھا دیکھا۔ اس گٹھڑے میں وہ باتیں مذکور ہیں۔ ایک قرآن کو حاصل کرنا پھرے چھوڑ دینا۔ دوسرے فرض نماز سے سوتے رہنا۔ حدیث نمبر ۴۳۴ میں بھی ایسی جملے بول لفظ ہیں والدی لیکن تفسیر راسدہ فرج علیہ القرآن ختام عند باللیل ہم بصحل قیہ بالانہ۔ یعنی یہ ایسا شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن سکھایا۔ مگر وہ رات کو اس سے غافل ہو کر سورت پڑھتا ہے اور دن کو اس پر عمل نہیں کرتا۔ یہ لفظ عنوان باب کے مطابق ہیں کیونکہ عنوان باب میں قیام لیل کا ذکر ہے اور حدیث نمبر ۴۳۴ میں بھی یہ ذکر ہے کہ رات کو اٹھ کر قرآن نہیں پڑھتا۔ مگر حدیث باب میں نمبر ۴۳۹ میں فرض نماز سے سوتے رہنے کا ذکر ہے جو عنوان باب کے مطابق نہیں دہر سکتا ہے کہ غشاء اور خبر کی نمازوں کو بھی قیام لیل میں شامل کیا گیا ہے۔ دوسری بات جس میں حدیث نمبر ۴۳۴ میں وصفا کرتی ہے یہ ہے کہ جسے یہاں قرآن کا ترک کرنا گیا ہے اسے وہاں عمل کرنا کرنا گیا ہے گو یا قرآن کو سیکنے کی بات نہیں کرنا اسے چھوڑ دینے کے قائم مقام ہے + علی ابھی اوپر شیطان کے گزہ دینے کا ذکر رکھا یہاں شیطان کے پشاپ کرنے کا ذکر ہے۔ توبہ دونوں باتیں بطور تمنا ہے۔ ابن اثیر اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں قبل معناه معوضہ وظاہر علیہ حتی نام عن طاعة الله عزوجل لفقول الشاعر بال سهیل فی الفضیض ففسد یعنی کہ ایسا ہے کہ بال لشیطان کے معنی ہیں اس سے ہستی کی اور غالب ہو گیا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے الگ ہو جائے۔ اسکا جیسا کہ شاعر کے قول میں ہے سہیل (شاعر) نے تفسیر (ایک قسم کی شراب جو کھجور سے بنتی ہے) پانی پر

مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ وَقَالَ كَاوُفْلًا مِّنَ اللَّيْلِ فَاِيْجْعُوْنَ يِنَا مَوْنٌ (۶۳) عَنْ اَبِيْ

اور فرمایا کہ ^{تھوڑا سو جاگنے سے} کھڑا سو جاگنے سے ^{تھوڑا سو جاگنے سے} کھڑا سو جاگنے سے ^{تھوڑا سو جاگنے سے} کھڑا سو جاگنے سے

هَرُونَ اَنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَزُلُّ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہمارے رب کو توں والا اور بلند ہر رات کو

السَّمَاءِ الدُّنْيَا جِئْنَ يَبْقَى ثَلَاثَ لَيَالٍ لَا خَيْرَ يَقُوْلُ مِنْ بَدْعِ عَرَبِيٍّ فَاَسْتَجِيْبُ لَهُ اَمِنْ

قرب کے آسمان کی طرف زول فرماتا ہے۔ جب رات کی آخری تہا کی رہ جاتی ہے فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں سے قبول

يَسْأَلْنِي فَاَعْطِيْهِ اَمِنْ كَيْتَغْفِرَنِي فَاَغْفِرْ لَهُ كَابٌ مِّنْ نَّاصِرٍ اَوَّلِ اللَّيْلِ وَاٰخِرِيْهِ

کہوں کہ مجھ سے مانگتا ہے کہ میں سے دوں کہ مجھ سے بخش دے کہ میں سے بخشوں علیٰ باب جو پہلی رات سوا گئے اور چھٹی رات

اٰخِرُهُ وَقَالَ سَمَّاكَ اَلِى الدَّرْدِ اَوْ نَمَّ فَلَمَّا كَانَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ قَالَ فَمَنْ قَالَ النَّبِيُّ

جاگے اور سلمان نے ابو ہریرہ سے کہا سوا جب رات ختم ہوتے کہ سو تو کہا اے نبی صلعم اے فرمایا

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ سَمَّاكَ (۶۳) عَنْ اَبِيْ سُوْدٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ

سلمان بیچ کہتا ہے علیٰ اسود سے روایت ہے کہا میں نے حضرت عائشہ کو پوچھا

كَانَ صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ يَبْتَأَمُّ اَوَّلَهُ وَيَقُوْمُ اٰخِرَهُ

اور نماز پڑھتے پھر بٹے پھوٹے بڑا جاتے جب نوزن اذان دیتا اٹھ کر بٹے ہونے اور اگر آپ کو ضرورت ہوتی تو غسل کر لیتے

وَلَا تَوَضُّؤًا وَّخَرَجَ بِكَابٍ فَبَايَعُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ

روز وضو کر کے نکلتے باب نبی صلعم کا رمضان اور غیر رمضان میں رات کو

وْغَيْرِهِ (۶۳) عَنْ اَبِيْ سَمِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَ

جاگن ابوسلمہ بن عبدالرحمن سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا نبی صلعم

صَلَاةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى

کی نماز رمضان میں کس طرح تھی تو کہا رسول اللہ صلعم

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيْدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِيْ غَيْرِهِ عَلَيَّ اِحْدَى

رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے

عَشْرَةَ رَكَعَةً يَّصَلِّيْ اَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حَسَنِيَّهِنَّ وَطَوَّلِيْنَ ثُمَّ يَصَلِّيْ

چار رکعتیں پڑھتے ان کی خوبی اور لمبائی نہ پوچھتے پھر چار

اَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حَسَنِيَّهِنَّ وَطَوَّلِيْنَ ثُمَّ يَصَلِّيْ ثَلَاثًا قَالَتْ عَائِشَةُ

پڑھتے سو دن کی خوبی اور لمبائی نہ پوچھتے پھر تین چوتھتے

فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَمَّ قَبْلُ اَنْ تُؤَيَّرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اِنْ عَيْتَ

میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ دن پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں تو فرمایا اے عائشہ میری آنکھیں

ملے ابن اشیر میں نزل کے نیچے اسی حدیث کو لاکر لکھا ہے کہ نزول اور صعود اور حرکت اور سکون جسم کی صفات ہیں۔ اور اللہ اس سے بلند اور پاک

ہے۔ اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانیاں ہیں اور بندوں سے ان کا قریب ہونا۔ اور حدیث سے اللہ تعالیٰ کے نزول سے جو مراد ہے

اسے خود بتا دیا جب یہ فرمایا کہ اس وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور سوال کرنے والے کو دیا جاتا ہے اور بخشش مانگنے والے کو بخشا جاتا ہے۔ گویا

انسان کے قلب کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے قرب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اس لئے اس وقت کی دعائیں بھی

زیادہ مقبول ہوتی ہیں۔ لہذا یہ ایک نئی حدیث کا کلام ہے جو کتاب الادب میں آئی ہے

بقیہ حاشیہ از (صغیر گزشتہ) میں بول گیا سو وہ بگڑ گئی رتو مطلب صرف استحد سے کہ سہیل کے طلوع پر کچی کھجور کا موسم جاتا رہتا ہے گویا اس کے طلوع پر اس خاص قسم کی شراب میں فساد واقع ہو گیا۔ اور یہی اسکا بول کرنا ہے۔ گویا شیطان کا بول کرنا بھی ایک قسم کا بگاڑ پیدا کرتا ہے اور ابن اشیر شیطان کے پیشاب کرنے کے متعلق پھر اور آواز کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ یہ سب بطور حجاز اور ستارہ ہے اور تاج العروس میں ہے کہ کہ بول مجازاً پیشاب بولا جاتا ہے پتا پتہ جب کسی شخص کے متعلق کہیں بال بولا بشرطاً تو مراد اس سے ہوتی ہے کہ اسکے اس شریف بیٹا ہوا۔ اور التعمیر یعنی ایک چیز کے پتہ نکلنے پر بھی بال کہا جاتا ہے اور بال الشعر کے معنی ہیں۔ چینی پھل گئی۔ پس بال الشیطان کے معنی لیتا کہ شیطان انسان کی طرح پیشاب کرتا ہے صحیح نہیں۔ مطلب صرف مقدس کر شیطان میں فساد پیدا کرتا ہے یا شیطان کی صفات اس میں ملتی پتیر ہو جاتی ہیں

اس سے منظم
ہوتا ہے کہ چار رکعتوں
کے بعد تھوڑا آرام
کر لینے۔ مگر ہر وقت
بند ایسی گہری نہ
ہوتی تھی۔ بلکہ یہ
محض حیاتی مکان
کو دور کرتے کیلئے
وقفہ تھا۔ اسلئے
حضرت عائشہ کے ہا
پر کہ وتر پڑھنے سے
پیشتر سو جاتے ہر
جو غالباً اسی وقفہ
کی طرف اشارہ تھا
فرمایا کہ میرا دل نہیں
سوتا۔ عجلہ حدیث
نمبر ۶۱۲ کو تم رکم
تک یہاں غریف
تغیر لفظی سے دوہرایا
ہے۔ جس میں آپ کے
بیٹھ کر نماز تہجد
کی قرأت پڑھنے کا
ذکر ہے۔ تھوڑے
کے بعد کا حصہ پنا
چھوڑ دیا ہے +
عجلہ ظاہر ہے کہ
یہ روایا کا وقفہ ہے
اس پر کئی قرآن میں
اول نماز فجر کے وقت
آپ کا یہ فرمانا کہ

تَنَامَانُ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي (م- ۴۴۹) عَنْ عَائِشَةَ (متكرر ۶۱۲) بَابُ فَضْلِ الطُّهُورِ

سوئی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا عجلہ دیکھو حدیث نمبر ۶۱۲ عجلہ باب رات اور دن کو

بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَفَضْلِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْوُضُوءِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ (۶۳۴) عَنْ أَبِي

با وضو رہنے کی فضیلت اور رات اور دن کو وضو کے بعد نماز کی فضیلت ابو ہریرہ

هَزْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْلًا عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَا بِلَالُ

سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے صبح کی نماز کے وقت فرمایا بلال

حَدَّثَنِي يَا رَجُلِي عَمَلَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّي سَمِعْتُ دِقَّ نَحْلِكَ بَيْنَ يَدَيَّ

مجھے بتا کر ہے زیادہ امید کا کام جو تو نے اسلام میں کیا ہے کیونکہ میں نے بہشت میں اپنے آگے تیری جوتی کی آواز

فِي الْجَنَّةِ قَالَ مَا عَمَلْتَ عَمَلًا رَجِي عِنْدِي إِذْ لَمْ أَتَطْرُقْ طَهْرًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ

ساعتی ہے۔ عرض کی اپنے نزدیک میں نے کوئی امید کا کام نہیں کیا بل رات یا دن کو جب بھی وضو کر لیتا ہوں

نَهَارًا وَلَا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كَتَبَ لِي أَنْ أَصِلِيَ بِكَ يَا كِرَّةُ مِنَ الشَّيْءِ

تو جو نماز پڑھتا ہوں اسے مقصد ہوتا ہے اس وضو کے ساتھ پڑھتا ہوں عجلہ باب عبادت میں تشدد و اختیار

فِي الْعِبَادَةِ (۶۳۵) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کرنا مکروہ ہے انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

فَإِذَا حَبِلَ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّكْرَيْنِ فَقَالَ مَا هَذَا حَبِلَ قَالُوا هَذَا حَبِلٌ

تو دیکھا کہ دوستانوں کے درمیان رسی تھی ہوئی ہے فرمایا یہ رسی کیسی ہے لوگوں نے کہا یہ زینب

رَبُّ زَيْبٍ فَإِذَا فُتِرَتْ تَعَلَّقَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَلْوَةَ لِيَصِلَ

کی رسی ہے جب ٹھک جاتی ہیں تو اسے لگے جاتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہونا چاہئے رے حلال دو تم

أَحَدُكُمْ شَطَاطُهُ فَإِذَا فُتِرَ فَلْيَقْعُدْ (م- ۴۴۹) عَنْ عَائِشَةَ (متكرر ۶۱۲)

میں سے کوئی جب تک دل لگے نماز پڑھا کرے جب ٹھک جائے تو بیٹھ جائے عجلہ دیکھو حدیث نمبر ۶۱۲

بَابُ مَا يَكْرَهُ مِنْ تَرْكِ قِيَامِ اللَّيْلِ مَنْ كَانَ يَقُومُهُ

رات کا اٹھنا بھٹوڑا ہونا اس کے لئے مکروہ ہے جو اٹھاتا تھا عجلہ باب

آپ کی عادت تھی کہ نماز فجر کے وقت صحابہ کے خواب سنتے یا اپنا خواب بیان کرتے دوسرے بنا قب عمر میں بھی بلال کے متعلق اسی قسم کا ذکر آتا ہے اور وہاں سے راایتی
دخلت الجنة اور مسلم کی حدیث میں فانی سمعت کے بعد بحوالہ اللیلۃ یعنی آج رات میں نے سنا۔ جس سے معلوم ہوا کہ یہ خواب تھا جو آپ نے بیان فرمایا۔ تو خواب میں آپ نے
ایسا دیکھا کہ جنت میں آپ بلال کے آگے چلنے کی آواز سن رہے ہیں جسے دف نعل کہا جاتا ہے جو آواز چلتے وقت جوتی سے پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ نے بلال سے پوچھا کہ وہ
کون سا نیک عمل ہے جو اس بشارت کو لایا ہے۔ اس پر حضرت بلال نے یہ جواب دیا۔ اور نماز سے یہاں نفل ہے جسے تحیۃ الوضوء کہا جاتا ہے۔ گویا نبی کریم صلعم کو
رہو یا میں یہ دکھایا گیا کہ بلال کس طرح اللہ کی طرف رجوع کرنے میں آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت بلال کی یہ روحانی حالت نبی کریم صلعم کو روایا میں نہ دکھائی گئی کہ وہ جنت میں آگے
آگے چل رہے ہیں + عجلہ عبادت کا جو مفہوم آپ سے پہلے لیا جاتا تھا۔ آپ نے اسے بدل دیا اور بتا دیا کہ عبادت مشقت کا نام نہیں۔ بلکہ یہ روح کی ترقی کا
سامان جو۔ اور ظاہر ہے کہ روح کی ترقی کا موجب وہی عبادت ہو سکتی ہے جس سے دل میں لذت پیدا ہو۔ اور اسے مالک حقیقی سے تعلق بڑھے۔ تسبیحات یا نوافل
کی کسی گنتی کو پورا کر لینا عبادت کی اصل غرض کو پورا نہیں کرتا۔ اور بیٹھ جانے سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کو اٹھ کر اٹھک جائے تو بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اور بیٹھ کر
کہ نماز کو چھوڑے۔ اور یہ نوافل کے متعلق ہے + عجلہ مکرر روایت میں تغیر لفظی ہے اور آخری حصہ دوکان احب الدین یہاں نہیں اور اس قدر زیادہ ہے کہ جیسے
امراۃ کے موافقہ میں بیٹھا ہے یعنی یہ بنی ہمد کی عورت تھی۔ اور یہ بھی ہے کہ لانتام باللیل رات بھر سوئی نہیں + عجلہ جملہ عبادت میں تشدد کرنے کو ناپسند کیا کہ عبادت کی
اصل غرض جو روح کی ترقی ہے اس طرح حاصل نہیں ہوتی اسلئے اسے بھی ناپسند کیا کہ انسان ایک ترقی کے رستے پہلے کہ بچہ قدم پیچھے ہٹائے۔ قدم ہر حال میں آگے بڑھا نا چاہیے۔ اگر ایک
شخص رات کو اٹھتا ہے تو پھر اسے ترک کر کے گویا اس نے اپنا قدم پھرتیچھے ہٹالیا۔ اور بجائے ترقی کے تنزل کی راہ اختیار کی +

(۶۳۷) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 عبادہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

بِعَبْدَةِ اللَّهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فَلَانٍ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ بَابِ
 لے عبد اللہ فلان کی طرح نہ ہونا وہ رات کو اٹھتا کرتا تھا پھر رات کا اٹھنا چھوڑ دیا

(۶۳۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ أَخْبِرْ
 عبادہ بن عمرو سے روایت ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی

أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتُ لِمَ لِمَ فَعَلْتُ ذَلِكَ إِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ
 کہ تو ساری رات کھڑا رہتا ہے اور دن بھر روزہ رکھتا ہے میں نے عرض کیا میں ایسے ہی کرتا ہوں فرمایا تو ایسا کرنا

بِهَيْبَتِ عَيْنِكَ وَنَفْهَتِ نَفْسِكَ وَأَنَّ لِنَفْسِكَ حَقًّا وَلَا هَيْبَتِكَ حَقًّا فَصُمِّمْ وَأَفْطُرْ
 تو تیری آنکھیں بیٹھے جائیں گی اور تیری زبان کمزور ہو جائے گی اور تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے اور تیری بوی کا تجھ پر حق ہے روزہ بھی

وَقُمْ وَنَمَّ بَابِ فَضْلٍ مِنْ تَعَاَزُرِ مِنَ اللَّيْلِ فَضْلٌ (۶۳۹) عَنْ عِبَادَةَ عَنْ النَّبِيِّ
 عبادت یعنی کرا اور سو (یعنی جاہک بآب جورات کو جاگ کر نماز پڑھنے اور نماز کی فضیلت عبادہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ فرمایا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَعَاَزَرَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
 جورات کو جاگ اٹھے اور کہے کوئی پرستش کے لائق نہیں مگر اللہ وہ ایک ہے اسکا

شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَحْمَدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ
 کوئی شریک نہیں اس کی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے تعریف اللہ ہی کے لئے ہے

اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَوْدَعَا
 اور اللہ پاک ہے اور اللہ بڑا ہے بخدا اور قوت یا ناصر اللہ ہی کی مدد سے ہے پھر اس نے اللہ میری خطا طغما یا دعا کرے

السُّجُودِ إِنْ تَوَضَّأَ قَبْلَكَ صَلَوَتُهُ (۶۴۰) عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي سِنَانٍ أَنَّهُ
 تو اس کی دعا قبول ہوگی اور اگر وضو کیا اور نماز پڑھی تو اس کی نماز مقبول ہوگی حلیٰ ہیشم بن ابی سنان سے روایت ہے

سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَقُصُّ فِي قَصْصِهِ وَهُوَ يَقُصُّ رُؤْيَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 کہ میں نے ابو ہریرہ سے سنا وہ اپنے وعظ میں بیان کرتے تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تھے

إِنَّ أَخَالَكُمْ لَا يَقُولُ الرَّفَثُ يَعْنِي بِذَلِكَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ
 کہ تمہارے بھائی نے کوئی بیہودہ بات نہیں کہی اور اس سے عبد اللہ بن رواحہ راوی ہیں (جنہوں نے یہ شعر کہا ہے)

وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ
 اور ہمیں اللہ کا رسول ہے جو اس کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے

أَرَادَ الْهَدَى بَعْدَ الْعِيِّ فَقَالُوا
 ہمیں گمراہی کے بعد ہدایت دلکھا یا تو ہمارے دل

يَبْلَيْتُ حَيَاتِي جَنَّةَ عَنْ فِرَائِشِهِ
 رات کو اٹنا کروٹ بیچھونے سے دور رکھنا ہے جب شکر کی خواہش ہو تو صبح ہوئی ہیں صبح

۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰
۱۰۰۱
۱۰۰۲
۱۰۰۳
۱۰۰۴
۱۰۰۵
۱۰۰۶
۱۰۰۷
۱۰۰۸
۱۰۰۹
۱۰۱۰
۱۰۱۱
۱۰۱۲
۱۰۱۳
۱۰۱۴
۱۰۱۵
۱۰۱۶
۱۰۱۷
۱۰۱۸
۱۰۱۹
۱۰۲۰
۱۰۲۱
۱۰۲۲
۱۰۲۳
۱۰۲۴
۱۰۲۵
۱۰۲۶
۱۰۲۷
۱۰۲۸
۱۰۲۹
۱۰۳۰
۱۰۳۱
۱۰۳۲
۱۰۳۳
۱۰۳۴
۱۰۳۵
۱۰۳۶
۱۰۳۷
۱۰۳۸
۱۰۳۹
۱۰۴۰
۱۰۴۱
۱۰۴۲
۱۰۴۳
۱۰۴۴
۱۰۴۵
۱۰۴۶
۱۰۴۷
۱۰۴۸
۱۰۴۹
۱۰۵۰
۱۰۵۱
۱۰۵۲
۱۰۵۳
۱۰۵۴
۱۰۵۵
۱۰۵۶
۱۰۵۷
۱۰۵۸
۱۰۵۹
۱۰۶۰
۱۰۶۱
۱۰۶۲
۱۰۶۳
۱۰۶۴
۱۰۶۵
۱۰۶۶
۱۰۶۷
۱۰۶۸
۱۰۶۹
۱۰۷۰
۱۰۷۱
۱۰۷۲
۱۰۷۳
۱۰۷۴
۱۰۷۵
۱۰۷۶
۱۰۷۷
۱۰۷۸
۱۰۷۹
۱۰۸۰
۱۰۸۱
۱۰۸۲
۱۰۸۳
۱۰۸۴
۱۰۸۵
۱۰۸۶
۱۰۸۷
۱۰۸۸
۱۰۸۹
۱۰۹۰
۱۰۹۱
۱۰۹۲
۱۰۹۳
۱۰۹۴
۱۰۹۵
۱۰۹۶
۱۰۹۷
۱۰۹۸
۱۰۹۹
۱۱۰۰
۱۱۰۱
۱۱۰۲
۱۱۰۳
۱۱۰۴
۱۱۰۵
۱۱۰۶
۱۱۰۷
۱۱۰۸
۱۱۰۹
۱۱۱۰
۱۱۱۱
۱۱۱۲
۱۱۱۳
۱۱۱۴
۱۱۱۵
۱۱۱۶
۱۱۱۷
۱۱۱۸
۱۱۱۹
۱۱۲۰
۱۱۲۱
۱۱۲۲
۱۱۲۳
۱۱۲۴
۱۱۲۵
۱۱۲۶
۱۱۲۷
۱۱۲۸
۱۱۲۹
۱۱۳۰
۱۱۳۱
۱۱۳۲
۱۱۳۳
۱۱۳۴
۱۱۳۵
۱۱۳۶
۱۱۳۷
۱۱۳۸
۱۱۳۹
۱۱۴۰
۱۱۴۱
۱۱۴۲
۱۱۴۳
۱۱۴۴
۱۱۴۵
۱۱۴۶
۱۱۴۷
۱۱۴۸
۱۱۴۹
۱۱۵۰
۱۱۵۱
۱۱۵۲
۱۱۵۳
۱۱۵۴
۱۱۵۵
۱۱۵۶
۱۱۵۷
۱۱۵۸
۱۱۵۹
۱۱۶۰
۱۱۶۱
۱۱۶۲
۱۱۶۳
۱۱۶۴
۱۱۶۵
۱۱۶۶
۱۱۶۷
۱۱۶۸
۱۱۶۹
۱۱۷۰
۱۱۷۱
۱۱۷۲
۱۱۷۳
۱۱۷۴
۱۱۷۵
۱۱۷۶
۱۱۷۷
۱۱۷۸
۱۱۷۹
۱۱۸۰
۱۱۸۱
۱۱۸۲
۱۱۸۳
۱۱۸۴
۱۱۸۵
۱۱۸۶
۱۱۸۷
۱۱۸۸
۱۱۸۹
۱۱۹۰
۱۱۹۱
۱۱۹۲
۱۱۹۳
۱۱۹۴
۱۱۹۵
۱۱۹۶
۱۱۹۷
۱۱۹۸
۱۱۹۹
۱۲۰۰

انہی میں راتیں گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ دن کو بھی سو نہیں رہتے۔ بلکہ ساری دنیا کے کام آپ کو کرنے پڑتے ہیں۔ ایک مغربی یا طالب عیش سے یہ ناممکن ہے کہ وہ اس طرح اپنی راتوں کو عبادت انہی میں گزار دے۔ اور قرآن کریم اگر نہ پڑے یا اللہ آپ کا افزا ہوتا تو اس کی تلاوت میں آپ کو اس قدر خلل نہ آسکتا تھا کہ یاوں سوچ جائیں اور کھڑے پڑتے چلے جاتے ہیں۔

۱۔ اس حدیث کے مضمون کا اوپر کا حصہ ۱۱۲ میں بھی ذکر چکا ہے۔ مگر جن تفصیلات کا وہاں ذکر ہے وہ وہاں نہیں۔ اور جن کا یہاں ذکر ہے وہ وہاں نہیں۔

۲۔ کتاب الصوم میں باب فضل لیلة القدر میں یہ تھتہ حدیث کا ابن عمر کی روایت سے یوں آتا ہے۔ ان رجال من اصحاب النبی صلحہم اربو البیلة القدر فی المنام فی السبع الاواخر فقال لی اخر الحدیث۔

۳۔ اس پر روایت کے الفاظ یہ ہیں صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء ثم صلی رکعتا و رکعتین جالسا و رکعتین بین المنانین و لہم یکن بعد ما اول رکعتین بین المنانین سے صبح کی دو سنتیں مراد ہیں بولوا ان لو اقامتک و دریتا آپ پر پا کرتے تھے یہاں تو ذکر نہیں لیث کی روایت میں ہے کان یصلی بثلاث عشرة رکعة دنعا قانما و رکعتین

(۶۲۱) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَانَ يَبْدِي قِطْعَةَ اسْتَبْرَقٍ فَيَكْنِي لَهَا أُرَيْدُ مَكَانًا مِنْ حِجَّةِ الْأَطَارِتِ لِنَبِيِّهِ

وَرَأَيْتُ كَانِ اثْنَيْنِ ابْتِئَابِي أَرَادَا أَنْ يَذْهَبَا فِي الْإِلَى التَّارِفَتِ لِقَاءِ هُمَا مَلَكَ فَقَالَ

لَمْ تَرَ خَلِيَاءَ عَنَّا فَقَصَصْتُ حَفْصَةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُ رُؤْيَا

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ الرَّسُولُ عَبْدُ اللَّهِ وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ

فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَكَانُوا لَا يَزَالُونَ يَقْضُونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الرُّؤْيَا أَنَهَا فِي اللَّيْلِ السَّابِعَةِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ سَوَّيْتُمْ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَابِلًا فَاسْتَعْرِهَا

مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ بَابُ الْمَدَامَةِ عَلَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ (ص ۲۵۰) عَنْ عَائِشَةَ

(متكر ۶۲۶) بَابُ الصُّبْحَةِ عَلَى الشُّقِّ الْأَيْمَنِ بَعْدَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ (ص ۶۲۲) عَنْ

عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ

الْأَيْمَنِ بَابُ مَنْ تَحَدَّثَ بَعْدَ الرُّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَرْجِعْ (ص ۲۵۰) عَنْ عَائِشَةَ

مَنْ تَرَكَ بَابُ مَا جَاءَ فِي الظُّوْعِ مَثْنِي مَثْنِي قَالَ مُحَمَّدٌ وَبَدَّكَ عَنْ عَمْرٍو

أَبِي خَدِجٍ وَأَبِي جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعِكْرَمَةَ وَالزُّهْرِيَّ وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ سَعِيدٍ الْبَصْرِيُّ

كَأَدْرَكَتْ فَقَهَاءُ أَرْضِنَاكَ الْإِسْلَامُونَ فِي كُلِّ اثْنَتَيْنِ مِنَ الْقَارِئِينَ (ص ۶۲۳) عَنْ جَابِرِ بْنِ

عَبْدِ اللَّهِ

جالسا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نوبت کو کھنڈہ تڑکی تھی اور بیٹھ کر دو رکعتیں ترکے بعد پڑھیں کبھی ایسا بھی پڑھتے ورنہ عام عادت ہی تھی کہ وتر اخیر میں پڑھتے۔ ع ۱۱۲ کا صرف آخری تھتہ بیان تفسیر الفاظ کیا ہے ان النبی صلحہم کان اذا صلی فان کنت مستیقظت حدیثی و الا اضبطت حتی یوذن بالصلوة یہاں یہ ذکر نہیں کرنا کہ بعد ایسا کرتے ہیں میں کرٹ لیتے اور بات کرنا ذکر صلحہ اللیل کے بعد ہے۔ دونوں کی تشریح نمبر ۶۲۲ کرتی ہے کہ آپ کا کرٹ لینا صبح کی دو سنت پڑھنے کے بعد تھا۔ یہ ذکر نمبر ۵۷۰ و ۶۲۲ میں بھی ہے۔ ع ۱۱۲ نماز تہجد کی دو رکعت پڑھنے کی تشریح ص ۳۶۶ میں ہے۔

عَبْدَ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الْاِسْتِخَارَةَ فِي الْاُمُورِ

روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سب کاموں میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے

كُلُّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هَجَأْتُمْ أَحَدًا مِنْكُمْ يَدًا مِنْ فَلَذِكُمْ رُكْعَتَيْنِ

جو کچھ ہمیں قرآن کی ایک سورہ کی تعلیم دیا کرتے تھے فرماتے تھے جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو دو رکعتوں سے تلاوت کرے اور پھر اس سے علم کی بدولت کچھ سے بھلائی جائے گی اور تیری قدرت کی بدولت

وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ

اور تجھ سے میرا فضل مانگتا ہوں کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں نہیں رکھتا اور تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اور تو

عَلَمُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي

غیب کا جاننے والا ہے اس لئے اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لئے میرے دین اور میری معاش اور میرے انجام

وَعَاقِبَتِي أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَأَجَلِهِ فَأَقْدِرْ لِي وَكَيْسِرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَ

کار کے لئے یا کہا میرے کام کے لئے فوراً اور آگے کے لئے اچھا ہے تو اسے میرے لئے مفید اور آسان کر پھر اس میں

إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَتِي أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي

اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لئے میرے دین اور میری معاش اور میرے انجام کا میرے کام کے لئے

عَاجِلِ أَمْرِي وَأَجَلِهِ فَأَصْرِفْهُ عَنِّي وَأَصْرِفْنِي عَنْهُ وَأَقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ

فورا اور آخر میں مجھے تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے اور میرے لئے بھلائی تقدیر کر جہاں ہو

ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ قَالَ وَسَمِعْتُ حَاجَتَهُ (م۵۵۲) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ (متكرر ۳۰۹) (م۵۵۲)

پھر مجھے اس سے خوش کر دے فرمایا اور ابی حاجت کا نام ہے دیکھو حدیث نمبر ۳۰۹

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متكرر ۲۷۵) (م۵۵۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (متكرر ۵۵۲)

دیکھو حدیث نمبر ۲۷۵ دیکھو حدیث نمبر ۵۵۲

(م۵۵۴) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (متكرر ۵۲) (م۵۵۵) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ (متكرر ۲۸۶) بَابُ الْخَيْرِ

دیکھو حدیث نمبر ۵۲ دیکھو حدیث نمبر ۲۸۶

بَابُ الْخَيْرِ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْاِسْتِخَارَةِ فِي الْاُمُورِ

صوابی سنن حدیث میں اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی دو رکعتوں کی وصیت کی ہے اور دوسری عثمان بن مالک کی معلق حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر صحیح کون چڑھتے ہیں میرے پاس آئے اور ہم نے آپ کے پیچھے صف باندھ کر دو رکعتیں پڑھیں یہ ایک نبی حدیث کا گواہ ہے جو نمبر ۲۹۹ میں لکھی ہے لیکن وہاں حضرت عمر کا نام نہیں ہے ان حدیثوں سے یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اور نفل نماز دو رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیتے تھے اور یہی آپ کی عام عادت تھی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دعائے استخارہ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے محض ایک غیر باہلان کا چاہنا ہے۔ کہ ایک کام جو انسان کے سامنے ہے۔ اگر علم الہی میں اس کی بھلائی کا موجب ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے رستے کھول دے۔ اور سامان عطا فرمائے اور اگر علم الہی میں وہ اس کے لئے نقصان رسان ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اسکی طبیعت کو پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی خبر کا ملنا استخارہ کے لئے ضروری نہیں۔

۳۰۹ م ۵۵۲ میں ۵۵۲ کا مضمون خفیف تغیر لفظی سے دوہرایا ہے اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى

بَعْدَ رَكْعَتِي الْفَجْرِ (مر ۴۵۶) عَنْ عَائِشَةَ (متكرر ۶۱۲) بَاب

تَعَاهُدِ رَكْعَتِي الْفَجْرِ وَمَنْ سَمَّاهَا تَطَوُّعًا (۶۳۵) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ التَّوَاتُرِ إِلَّا أَشَدَّ تَعَاهُدًا

مِنْهُ عَلَى رَكْعَتِي الْفَجْرِ بَاب مَا يَفْعَرُ فِي رَكْعَتِي الْفَجْرِ (مر ۴۵۷)

عَنْ عَائِشَةَ (متكرر ۶۲۶) (۶۳۶) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ

حَتَّى رَأَى كَأَنَّ قُرْآنَ الْفُرْقَانِ بَاب التَّطَوُّعِ

بَعْدَ الْمُتَكَوِّبَةِ (مر ۴۵۸) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (متكرر ۵۵۲) بَاب

مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ بَعْدَ الْمُتَكَوِّبَةِ (مر ۴۵۹) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر

۳۶۳) بَاب صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي السَّفَرِ (۶۴۷) عَنْ

مُورِقٍ قَالَ قُلْتُ لَأَبْنِ عُمَرَ أَصَلَّى الصُّبْحِ قَالَ لَا قُلْتُ

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

وركعتي الفجر اور يہاں مکرر روایت میں جو کہ ان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلى اذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين تو دونوں میں بڑا بخاری اختلاف ہو۔ کہ وہاں تیرہ رکعت صبح کی دو رکعت شامل کر کے بتائی ہیں اور یہاں تیرہ رکعتوں سے علاوہ صبح کی دو رکعت بیان کی ہیں۔ اور نمبر ۶۳۳ میں بھی حضرت عائشہ کی روایت سے صراحت ہے کہ آنحضرت صلعم رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نماز تہجد نہ پڑھتے تھے پس مکرر روایت میں یقیناً کچھ غلطی ہو گئی ہے اور یہاں رکعتیں خفیفتین سے استدل لال کیا ہے کہ دو سنتوں میں قرأت کم ہوتی تھی + لکھ بیٹے اس قدر چھوٹی سورتیں پڑھتے تھے مسلم میں ہے کہ کافرون اور قل هو الله پڑھتے تھے + لکھ مر ۴۵۸ کے الفاظ مر ۴۵۷ سے ملتے جلتے ہیں صرف رکعتیں کی جگہ سجدا تین ہے اور جمعہ کا ذکر کیا آخر یہ ہے اور اسکے بعد یہ حصہ اندر ہے فاما المغرب والعشاء ففي بيتہ یعنی مغرب اور عشاء کی سنتیں اپنے گھر میں پڑھتے وحدثی احنی حصفتہ ان النبى صلعم کان يصلى ركعتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر وكانتا سلتك لادخل على النبى صلعم فيها لکھ مر ۴۵۹ کے الفاظ میں سمعت ابن عباس قال صلعت مع رسول الله صلعم ثمانيا جميعا و سبعا جميعا قلت يا ابا الشفاء اظنه اخو الظاهر وعجل العصر وعجل العشاء واخر المغرب قال وانا اظنه يعني ابن عباس رسنا کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلعم کے ساتھ آٹھ رکعتیں اکٹھی اور سات اکٹھی پڑھی ہیں۔ (مر ۳۶۳) میں صراحت ہے الظہر والعصر والمغرب والعشاء) میں نے کہا کہ ابا الشفاء میں خیال کرتا ہوں ظہر میں تاخیر کی۔ اور عصر کو جلدی پڑھا۔ اور مغرب میں تاخیر کی۔ اور عشاء کو جلدی پڑھا کہا میں بھی یہی خیال کرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ظہر کے بعد کی دو سنتیں اور مغرب کے بعد دو سنتیں نہیں پڑھیں +

قَالَ بَكَرٌ قَالَ لَا قُلْتَ فَالتَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا إِخَالَهٗ (مر ۴۶۰)

میں نے کہا تو حضرت ابو بکر کہا نہیں میں نے کہا تو نبی صلعم کہا میں سمجھتا ہوں کہ نہیں علی

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى (متکررہ ۲۱۶) بَابٌ مِنْ تَمْرِ بَيْتِ الصُّحْبِ وَ

دیکھو حدیث نمبر ۲۱۶ ص ۱۱۱ باب جو چاشت کی نماز نہ پڑھے اور اس میں

رَأَاهُ وَأَسَعًا (مر ۴۶۰) عَنْ عَائِشَةَ (متکررہ ۶۱۹) بَابٌ صَلَوةِ الصُّحْبِ فِي

دست بھی دیکھو حدیث نمبر ۶۱۹ ص ۱۱۱ باب حضر میں چاشت کی

الْحَضَرِ قَالَهُ عِتْبَانُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۶۴۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

نماز پڑھنا اسے عتبان نے نبی صلعم سے نقل کیا ہے ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ

أَوْصَانِي خَيْلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لَا أَدْعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ صَوْمٌ

مجھے میرے دوست صلعم نے تین باتوں کی وصیت کی انہیں میں نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ مر جاؤں

ثَلَاثَةٌ أَيَاكُم مِّنْ حَجَلِ شَهْرِ وَصَلَاةِ الصُّحْبِ وَنَوْمٍ عَلَى وَجْهِكَ (مر ۴۶۱) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

ہر مہینے میں آئین دن روزے اور چاشت کی نماز اور وتر پڑھ کر سو جانا دیکھو حدیث

وَالْإِسْبَاطِ (متکررہ ۲۹) بَابٌ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ (مر ۴۶۲) عَنْ إِبْنِ عُمَرَ (متکررہ ۵۵۵)

نمبر ۲۹ ص ۱۱۱ باب نمبر کے پہلے دو رکعتیں دیکھو حدیث نمبر ۵۵۵ ص ۱۱۱

(۶۵۰) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدْعُو رُبْعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلعم پہلے چار رکعت اور صبح سے پہلے دو رکعتوں کو

قَبْلَ العَدَاةِ بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ المَغْرِبِ (۶۵۱) عَنْ عَبْدِ اللهِ المَزْنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

نہیں چھوڑنے تھے صلا باب مغرب سے پہلے نماز عبد اللہ زنی نے نبی صلعم سے روایت کرتے ہوئے کہا

صَلُّوا قَبْلَ الصَّلَاةِ المَغْرِبِ قَالَ فِي الثَّلَاثَةِ مِمَّنْ شَاءَ كَرَاهِيَةٌ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً

کفر یا مغرب کی نماز سے پہلے نماز پڑھو تیسری مرتبہ کہا جو چاہتے تھے تاہم سنت گتے ہوئے کہ لوگ اسے لازمی سمجھ لیں صلا

۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰

کی کوئی قید نہیں ہے۔ مگر ام ہانی کی روایت میں چاشت کی نماز آنحضرت صلعم سے ثابت ہے۔ امام بخاری نے سب قسم کی حدیثوں کو جمع کر کے وسعت کو ثابت کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ صحابہ میں بعض باتوں میں اختلاف تھا۔ یہاں عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کی روایت انہی الفاظ میں ہے۔ جن میں ۴۶۲ سے ہم لوگوں والی صلیٰ تک یعنی ام ہانی کے سوا کسی نے نہیں کہا۔ اس نے نبی کریم صلعم کو چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا۔ نمبر ۲۱۶ میں نماز کا ذکر نہیں صرف غسل کا ذکر ہے صلا حدیث نمبر ۶۱۹ کا آخری حصہ یہاں مکررایا ہے۔ ما روایت النبی صلعم سیر بسیمۃ الضحیٰ والی لا یسبحھا اور عنوان باب کو نمبر ۶۱۹ کا پہلا حصہ واضح کرتا ہے جس میں آتا ہے کہ آنحضرت صلعم ایک عمل کو پسند کرتے۔ مگر اسے اس خوف سے چھوڑ دیتے کہ لوگ اسے فرض نہ سمجھ لیں۔ صلا ۴۶۱ میں نمبر ۲۹ کی یعنی حدیث کے مقبول کا ایک ٹھوسا سا حصہ دہرایا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں قال رجل من الانصار وكان غفيا النبی صلعم فی الاستطیبع الصلوة معك فصنم للنبی صلعم طعاما فذاع الی بیتہ ونفضله طرف حصیرا فجاء فضلی علیہ رکعتین وقال فلان ابن فلان بن الجارود لانس ابن مالک انکان النبی صلعم یصلی الضحیٰ فقال ما لایصلی غیر ذلک الیہ ص ۴۶۲ کی ابتدا ان الفاظ سے ہوتی ہے ابن عمر حضرت من النبی صلعم عشر رکعات اسکے بعد ص ۴۵۳ و ص ۴۵۴ و ص ۴۵۵ و ص ۴۶۲ پاروں صیثوں میں جن کے راوی ابن حجر کے ذکر کے ساتھ ہر ایسا ہے واذن المؤذن یعنی دو سنتیں اذان فجر کے بعد پڑھتے تھے ص ۴۵۲ و ص ۴۵۳ و ص ۴۵۴ و ص ۴۵۵ و ص ۴۶۲ پاروں صیثوں میں جن کے راوی ابن عمر ہیں یہ ذکر ہے کہ نبی کریم صلعم فجر کی نماز سے پہلے دو رکعتیں پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ فجر سے پہلے چار رکعتوں کو نہ چھوڑتے تھے۔ حضرت عائشہ کا علم عام طور سے گھر کے انفال سے تعلق رکھتا ہے۔ پس آپ گھر میں چار پڑھتے ہوں گے۔ اس کی تائید احمد اور ابو داؤد کی روایت سے ہوتی ہے جو حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ انہی صلی فی بیتہ قبل الظہر لریحاً یعنی آپ گھر میں فجر کی نماز سے پہلے چار رکعتیں پڑھتے تھے۔ ابن عمر کی دو رکعتوں کی روایت گھر سے باہر کے فعل کی حکایت ہے۔ یا کبھی چار پڑھیں کبھی دو۔ صلا اس نماز کا ذکر نمبر ۲۳ و ص ۱۸۳ میں ہو چکا ہے۔ مغرب سے پہلے دو سنتیں نبی کریم صلعم کے فعل سے ثابت نہیں۔ اور یہاں بھی یہی فرمایا کہ جو چاہے پڑھ لے ضروری نہیں۔

(۶۵۲) عَنْ مُرْتَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ قَالَ أَتَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ فَقُلْتُ

مرشد بن عبد اللہ یزنی سے روایت ہے کہ میں عقبہ بن عامر جہنی کے پاس آیا تو میں نے کہا

اَلَا أُحِبُّكَ مِنْ ابْنِي تَيْمِيمٍ يَرْكَبُ رُكْعَتَيْ قَبْلِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ عُقْبَةُ إِنَّكَ

کہ آپ کو ابو تیمیم کے متعلق عجیب بات نہ سناؤں وہ مغرب کی نماز سے پہلے دو رکعتیں پڑھا ہے تو عقبہ نے کہا ہم

كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ فَمَا يَمْنَعُكَ الْآنَ قَالَ

رسول اللہ صلعم کے زمانہ میں اسے کرتے تھے میں نے کہا اب آپ کو کیا روکتا ہے

الشُّغْلُ بِأَنَّ صَلَاةَ التَّوَائِفِ جَمَاعَةٌ ذِكْرُ النَّسِّ وَعَائِشَةُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

کاروبار باب نفل کی نماز جماعت سے پڑھنا ایسے انس اور حضرت عائشہ نے نبی صلعم سے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (م ۲۶۳) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ (متكرر ۲۹۸) بَابُ التَّنَطُّقِ عَنِ

روایت کیا علی دیکھو حدیث نمبر ۲۹۸ باب گھر میں نفل

الْبَيْتِ (م ۲۶۴) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (متكرر ۳۰۲)

پڑھنا دیکھو حدیث نمبر ۳۰۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع کرنے والے کے نام سے

بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ (۶۵۳) عَنْ قُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا

باب مکہ اور مدینہ کی مسجد میں نماز کی فضیلت قرۃ سے روایت ہے کہ میں نے ابو

سَعِيدٍ أَرِبَعًا قَالَ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ غَزَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

سید سے چار باتیں سنیں انہوں نے کہا میں نے نبی صلعم سے سنا اور انہوں نے نبی صلعم کے ساتھ مکہ

رَفِئْتُ حَشْرَةَ غَزْوَةٍ عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَشْدُوا الرِّحَالَ

بارہ اونچاں کریں اور ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ سفر میں تین

الْحَلَالَ إِلَى ثَلَاثِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الرَّسُولِيِّ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى (۶۵۴) عَنْ ابْنِ مَرْزُوقٍ

مسجدوں کی طرف گیا جائے مسجد حرام اور مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ علی ابو ہریرہ سے روایت ہے

والله ما اظن رسول الله صلعم قال ما قلت قط فكبر ذلك على فجعلت الله على ان سلمني حتى اقل من غزوتي ان اسأل عنها عتبان بن مالك ان

وجدته حيا في مسجد قومه فقلقت فاقلت بجزء اوجمة ثم سرت حتى قدمت المدينة فقايت بنى سالم فاذا عتبان شيخ اعلم بصلي لقومه

فلما سلم من الصلوة سلمت عليه واخبرته عن ان اقمه سالته عن ذلك الحسن بن محمد ثنيه كما حدثنه اول مرة حضرت ابو ايوب انصاري حضرت عائشة

ك زمانہ میں نہ پھر میں حاضرہ قطیف میں شہید ہوئے محمود کی روایت پر غالباً انہوں نے اس جملہ سے انکار کیا جو کہ اوپر کے مضمون میں ہے کہ فان الله قد مره على الناس ان

قال لا اله الا الله لعني جو کلمہ توحید پڑھے اسے اللہ تعالیٰ ایک میں نہیں ڈالے گا۔ ان کا مشارا اعمال صالحہ کی طریقت توجہ دلانے کا ہوگا۔ محمود نے خیال کیا کہ شاید ضبط حدیث میں مجھ

سے کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی اسلئے غلبان سے دوبارہ اسکی تصدیق کرائی۔ اصل حدیث پر پہلے بحث گذر چکی ہے + علی حدیث اسنی الفاظ میں ہے مضمون یہ ہے کہ کچھ نماز لینے نفل

گھر میں بھی پڑھا اور انہیں قرین نہ بناؤ + علی چاروں کا ذکر نمبر ۶۵۳ میں آیا ہے چاروں میں سے صرف ایک بات حکمی روایت کرنے میں بوسید کہیا تھا ابو ہریرہ بھی شریک ہیں یہاں تک

ہیں یعنی تین مسجدوں کی زیارت کیلئے سفر کرنا اسکی عظمت ظاہر ہے۔ مسجد حرام وہ جگہ ہے جو دنیا میں سب سے پہلے خدا کی عبادت کیلئے بنی اور ہمیں سے آخری چیز توحید چھوٹا۔ مسجد نبوی

مدینہ میرا اسلام کی ترقی کے ابتدا کا نشان ہے۔ مسجد اقصیٰ ایک جلیبے میں مقام ہے ان میں لوگوں کی زیارت سے جب دل کی تڑپ سے ہو حال حالت میں ایک انقلاب در ترمیمی پیدا ہوتی ہے اور یہاں تک

۱۔ اس کی حدیث نفل یا جماعت کے بارے میں نمبر ۲۵۵ و ۲۳۶ میں گذر چکی اور حضرت عائشہ کی نمبر ۲۵۴ میں یہاں حدیث ۲۵۴ کا سارا مضمون تغیر الفاظ و ہر ایسا ہے بلکہ اس پر زیادہ کیا ہے۔ ابتدا میں محمود بن الربیع کا ذکر ۹۳ ص ۲۰۱ الفاظ میں ہے۔ اور عتبان کی قوم کا نام بنی سالم دیا ہے اور الفاظ بیعتی ہیں انك وعباد الله کے بعد یہ پڑھا ہے۔ قال محمود بن الربيع فخذتها قوما فيهما ابو ايوب الانصاري صاحب رسول الله صلعم في غزوة النبي توفي فيها ويزيد بن معاوية عليهم بارض الجور فانكوا على ابو ايوب قال

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوة في مسجدتي هذا خير من الف صلوة

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں نماز ہزار نمازوں سے زیادہ بہتر ہے

باب مسجد حرام باب مسجد قبا

يُصَلِّي مِنَ الصُّحَى رَأَةً فِي يَوْمٍ يُقَدِّمُ مَكَّةَ فَإِنَّهُ كَانَ يُقَدِّمُهَا صُحَى فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ

کی نماز صحت میں دن پڑھتے ہیں جس دن مکہ آتے اور وہ مکہ جانتے کے وقت آتے اور بیت اللہ کا طواف کرتے

ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَيَوْمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قَبَاءَ فَإِنَّهُ كَانَ يَأْتِيهِ كُلُّ سَبْتٍ

پھر اقامت (ایراہیم) کے پیچھے دو رکعتیں پڑھتے دوسرے جس دن مسجد قبا میں آتے اور وہ ہر سبت کے دن قبا میں آتے

فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ لَرَأَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ قَالَ وَكَانَ يَحْدِثُ أَنَّ رَسُولَ

تو جب مسجد میں داخل ہوتے تو ناپسند کرتے کہ اس سے نکلیں یہاں تک کہ اس میں نماز پڑھ لیں اور وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ زُورًا رَاكِبًا وَمَا شَيْبًا قَالَ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّمَا أَصْنَعُ كَمَا رَأَيْتُ

سوار ہو کر اور پیادہ چل کر اس کی زیارت کرتے تھے کہا اور وہ مکرانے تھے کہ میں اپنے

أَصْحَابِي يَصْنَعُونَ وَلَا أَمْتَعُ أَحَدًا ن صَلَّى فِي أَبِي سَاعَةَ تَشَاءُ مِنْ لَيْلٍ وَنَهَارٍ عَيْرَانِ

کرتا ہوں جتنے میں نے اپنے ساتھیوں کو کرتے دیکھا اور میں سب کو نہیں روکتا کہ وہ رات یا دن میں کسی وقت جب چاہے نماز پڑھے اللہ

لَا يَتَخَرَّ وَاطْلُوعِ الشَّمْسِ وَأَعْرُوبَهَا بَابٌ مِنْ أَبِي مَسْجِدَ قَبَاءَ كُلِّ سَبْتٍ (۲۶۵)

آفتاب کے طلوع اور اس کے غروب کا قصد نہ کریں صلا باب جو ہر سبت کے دن مسجد قبا میں آتے

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مُتَكَرِّرًا ۶۵) بَابُ اثْنَانِ مَسْجِدَ قَبَاءَ رَاكِبًا وَمَا شَيْبًا (۲۶۶) عَنِ

دیکھو حدیث نمبر ۶۵ صلا باب باب مسجد قبا کہ سوار ہو کر اور پیادہ چل کر آنا

ابن عمر (متکرر ۶۵) بَابُ فَضْلِ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ (۲۶۷) عَنِ عَبْدِ اللَّهِ

دیکھو حدیث نمبر ۶۵ صلا باب اس جگہ کی فضیلت جو قبر اور منبر کے درمیان ہے

ابن زید (متکرر ۶۵) (۶۵۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

حدیث نمبر ۶۵۶ صلا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا

صلو صلا ظاہر ہے کہ حدیث کا مشنا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک منافق یا ریاکار بھی مسجد نبوی میں نماز پڑھے۔ تو ایک حضور و خشوع کے ساتھ دوسری جگہ نماز پڑھنے کا پراسے فضیلت مل جائے گی۔ نماز یا جامعہ کو اکیلے کی نماز پڑھیں یا ساتھیوں کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں انسان زیادہ خوشگراؤ اور حضور و خشوع اس حالت میں زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ پس مسجد نبوی میں نماز کی فضیلت بھی کسی ایسی بنا پر ہی ہو سکتی ہے۔ بالخصوص

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز پڑھانے والے ہوں۔ جب بڑے بڑے باخلاصت میں موجود ہوں۔ تو ان کے ساتھ شامل ہو کر نماز پڑھنے میں جو حضور و خشوع کی حالت پیدا ہوتی ہوگی وہ دوسری جگہ کہاں میسر آ سکتی تھی۔ آج بھی جو شخص سفر کر کے وہاں پہنچتا ہے۔ اس کو جو کیفیت نماز کی وہاں میسر آتی ہوگی وہ دوسری جگہ میسر نہیں آ سکتی۔ اور اوپر کی حدیث میں سفر کا ذکر اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ + مسجد مسجد قبا نبی عمر بن عوف کی مسجد تھی۔ جو مدینہ کے حوالی میں مدینہ سے دو یا تین میل کے فاصلہ پر تھی۔ وہاں ایک کنواں تھا جس کا نام قبا تھا۔ اسی سے اس کا نام پڑ گیا۔ اولیہ پہلی مسجد تھی جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی تھی۔ اور آپ کی مدینہ میں تشریف آوری سے پہلے جو صحابہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے وہ یہیں نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک تو یہ مسجد پہلی یادگار اسلامی تھی۔ دوسرے یہاں پر مسلمانوں کی جماعت رہا کرتی تھی۔ اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ میں ایک مرتبہ وہاں پر تشریف لے جاتے۔ اور آپ مسجد میں نماز بھی پڑھ لیتے تھے۔ ابن عمر سخت متبع سنت اور محبت اتباع میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس لئے وہ بھی یہی طرح جایا کرتے تھے۔ حدیث کا آخری حصہ انصاف کے ساتھ لیا گیا ہے آخر تک تفسیر سے مراد میں لے چکا ہے + مسجد مکرر روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا حتی مسجد قبلہ کل سبت ما شیبوا وراکبا وکان یقول انما اصنع کما رايت

عبداللہ بن عمر کا ذکر ہے۔ اور اخیر میں ایک راوی نے یہ لفظ بڑھائے ہیں فیصلی فیہ رکعتین + ۶۵ و منبری علی حوضی کا جملہ اس میں نہیں +

۱۔ یہ حدیث کتاب
الحج کے آخر فضل
المدینہ کے آخر کے
حصہ میں بھی آتی
ہے۔ اور حدیث
میں بیت کا لفظ
ہے۔ مگر عنوان
باب میں قبر ہے
اور مراد دونوں سے
ایک ہے۔ کیونکہ
آپ کی قبر گھر میں
ہی بنی۔ جہاں
آپ فوت ہوئے
شاید بیت کی
جگہ قبر کا لفظ
لانے سے امام
بخاری کا یہ منشاء
ہے کہ یہ فضیلت
ہجرت کے لئے ہے
کیونکہ قبر وہاں
ہمیشہ تک رہے
گی۔ بعض نے
اسے ظاہر پر حمل
کہ نیک کو شہنشاہ
کی ہے اور یوں
معنی کئے ہیں کہ
یہ جگہ قیامت کے
دن جنت میں منتقل ہونے
کی جائے گی۔ مگر
یہ بھی ظاہر پر حمل

فَاِنَّ بَيْتِي وَمَنْبَرِي رَوْضَتَانِ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمَنْبَرِي عَلَى حَوْضِي بَابُ مَسْجِدِ

بیت المقدس (۶۵۷) عَنْ قُرْعَةَ مَوْلَى زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابا سَعِيدٍ يَخْبُرُنِي بِحَدِيثِ

بَارِزٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَعْجَبَنِي وَاقْتَنَيْتَنِي قَالَ لَا نَسْأَلُ الْمَرْءَ

يَوْمَئِذٍ اِلَّا وَمَعَهَا رُؤُوسُهَا اَوْ ذُؤُوعُهَا اَوْ مِحْرَمٌ وَلَا صَوْمٌ فِي يَوْمِئِذٍ وَلَا اَصْحٰى وَلَا

صَلٰوةٌ بَعْدَ صَلٰوةٍ تَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّىٰ اَطْلُعَ الشَّمْسُ وَاَبْعَدَ الْعَصْرِ حَتَّىٰ تَغْرُبَ الشَّمْسُ

وَلَا تُشَدُّ الرِّجَالُ اِلَّا اِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْاَقْصَى وَمَسْجِدِ

لِللَّهِ الرَّحْمٰنِ

بَابُ اسْتِعَانَةِ الْيَدِ فِي الصَّلٰوةِ اِذَا كَانَ مِنْ اَمْرِ الصَّلٰوةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

يَسْتَعِينُ الرَّجُلُ فِي صَلٰوةِهِ مِنْ جَسَدِهِ بِمَا شَاءَ وَوَضِعُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْ نَسَوْتَهُ

فِي الصَّلٰوةِ وَرَفَعَهَا وَوَضِعُ عَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَفْعُهُ عَلَى رِصْفِهِ اِلَّا اِسْرًا اِلَّا اَنْ

يُحَلِّقَ جِلْدًا اَوْ يُصَلِّحَ ثَوْبًا (مر ۴۶۸) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (متنكر ۱۱۹)

دیکھو حدیث نمبر ۱۱۹

منہیں کھلا سکتا۔ کیوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جگہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ اور یہ کہنا کہ قیامت میں ایسا ہو جائے گا ظاہر پر حمل نہیں
ہیں اس میں کچھ شبہ نہیں کہ یہ کلام مجاز کے رنگ کا ہے۔ کیونکہ کہا کہ اس میں عبادت جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ مگر عبادت جہاں بھی ہو جنت کی طرف
لے جائے گی۔ یہاں بھی معنی کئے گئے ہیں۔ کہ نزول رحمت میں اور حصول سعادت میں یہ جگہ جنت کے روضہ کی طرح ہے۔ کیونکہ یہاں ذکر کے طلقے قائم
ہوتے ہیں۔ بالخصوص نبی صلعم کی زندگی میں۔ منذری علی حوضی کے معنی تو ظاہر ہیں۔ کہ آپ کے منبر سے وہ علوم بافاضل ظاہر ہوئے جو حوض پر پہنچانے کا
موجب ہیں۔ اور گھر سے منبر تک کو جنت کے ساتھ شاید اس لئے تشبیہ دی ہو کہ آپ کا آنا جانا اس حصہ پر تھا۔ اور نبی کریم صلعم کی نشانی اور نبی
یا آپ کے صحابہ کے اندر بیٹھنے سے جو روحانی حظ لوگوں کو ملتا تھا وہ واقعی ایک جنت کی کیفیت تھی اور صحابہ بوقت خاص ایجابی لذت اپنے دلوں کے اندر پاتے تھے اور اکثر یہی
جگہ تھی جہاں وہ آپ کو پاتے تھے اور اب بھی جو شخص آنحضرت صلعم کی قبر کی زیارت کر کے مسجد میں داخل ہوتا ہے وہ انوار و برکات کا کچھ حصہ ضرور پاتا ہے جو آپ کی زندگی میں تھے
تھے۔ * محل عورت کے سفر کے متعلق دیکھو نمبر ۶۱۲ و ۶۱۳ و ۶۱۴ نماز صبح اور نماز عصر کے بعد نماز پڑھنے کے متعلق دیکھو نمبر ۳۸۵ و ۳۸۶ و ۳۸۷ و ۳۸۸ و ۳۸۹ و ۳۹۰ و ۳۹۱ و ۳۹۲ و ۳۹۳
کی طرف مقرر کرنے کے متعلق دیکھو نمبر ۶۵۳ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزہ کی بھجوت کا بالخصوص میں آئیگی۔ * محل نماز میں آل مد نظر شروع سے شروع کے اندر جملہ نفل ہو تو شروع
کو قائم رکھنے کیواسطے اسے دور کرنا چاہیے ابن عباس اور ابواحقان سے جو نفل ہے وہ بھی اصلاح نماز کیواسطے ہے دنہ نماز میں لا بیچنے باتیں درست نہیں۔
* محل مر ۴۶۸ کے الفاظ مر ۴۶۹ کے الفاظ سے ملنے ملتے ہیں۔ مگر یہاں کہ بات کے متعلق تصریح ہو کہ آخرا لکن اکثر کی
آیاتیں۔ اور عنوان ایسے یہ نفل ہے کہ حالت نماز میں آپ نے ابن عباس کا کان پکڑ کر اسے بائیں سے دائیں طرف کروایا۔

بَاب مَا يَتَّبِعُ مِنَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ (۶۵۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا سَاءَ عَمَلٍ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيُرَدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ

الْبَحَاثِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْنَا وَقَالَ لَنْ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا (۶۵۹) عَنْ

زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ إِنْ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا

أَحَدٌ فَأَصَابَهُ بِحَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ حَافِظًا عَلَى الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَى

وَقَوْمًا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَأَمْرًا بِالشُّكُوتِ بَابٌ مَا يَجُودُ مِنَ الشَّيْبِ وَالْحَمْدُ فِي

الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ (۴۶۹) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (متكرر ۴۳) بَابٌ مَنْ سَمِعَ

قَوْمًا أَوْ سَمِعَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ مَوْجِهَةٍ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ (۴۷۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (متكرر

۵۰) بَابٌ التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ (۴۷۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر ۴۳) (۴۷۲) عَنْ سَهْلِ

ابْنِ سَعْدٍ (متكرر ۴۳) بَابٌ مَنْ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فِي صَلَاةٍ أَوْ تَقَدَّمَ بِأَمْرٍ تَزِيحُهُ رُؤْيَا

إِنْ سَعِدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۴۷۳) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متكرر ۴۳)

بن سعد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا

۶۵۸ باب نمازیں بات کرنے کی حالت نماز میں السلام لیا تو ہمیں جواب نہیں دیا اور فرمایا نمازیں صرف وقت سے ملے زید بن ارقم سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نمازیں بات کرتے تھے ایک نماز میں سے کوئی پلنے ساغی سے اپنی ضرورت کہہ دیتا۔ ہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی نمازوں کی ایسی حالت کہ وہ نماز کی حالت کروا دے اور اس کو لوگوں نے وسیع کرنے نماز میں کلام کرنے کو جائز سمجھا جیسا کہ اگلی حدیث میں ذکر ہے۔ تو آپ نے اسے ترک کر دیا۔ اور فی الصلوٰۃ شغل سے مراد یہ ہے۔ کہ نماز میں نواہر چیزوں کی طرف سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ پس اذھر سے توجہ کا ٹھکانا حالت صلوٰۃ میں مغل ہے + عمل کچھ اختلاف لفظی سے حدیث نمبر ۴۳۷ کا مضمون دوہرایا ہے۔ مگر آخری حصہ فلما

الضرب قال یا ایاکم ما منعک سے آختر تک یہاں نہیں ہے۔ حدیث میں یہ ذکر ہے۔ کہ جب بنی عمرو بن عوف کی صلح کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آئے جب نماز کھڑی تھی۔ اور آپ نے ابوبکر کو اشارہ کیا کہ امامت کرتے رہیں۔ تو حضرت ابوبکر نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی حمد کی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند نہیں کیا تو نماز چونکہ تسبیح اور تحمید ہی ہے۔ اس لئے نمازیں تسبیح و تحمید کلام کرنے کے ہم معنی نہیں + ۶۵۸ ہر ۴۷۰ کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہنا نقول الخیر فی الصلوٰۃ ونسبی ویسئل بعضنا علی بعض فسمعه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال قولوا التحیات لله اسکے بعد کا مضمون ایک ہے مگر تشدید کا ذکر فاکھرا اذا فعلتہ سے پہلے ہے۔ اور آخری الفاظ شعر لیتخیر سے نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے سلام سے جیسے التحیات میں ہے کہ کسی کو سامنے رکھ کر سلام نہیں کیا۔ نمازیں نفل واقعہ نہیں ہوتا کیونکہ اس سے توجہ تازگی طرف سے نہیں ہوتی + ۴۷۱ ہر ۴۷۲ کے لفظ میں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التصفیق للنساء والتسبیح للرجال ۴۷۳ میں بھی تقدیم و تاخیر سے ہی لفظ ہیں۔ اور نمبر ۴۳۷ کے آخری حصہ میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ دیکھو نمبر ۴۳۷ پر نوٹ ۳ ہر ۴۷۳ کے ابتدا یوں ہوتی ہے ان المسلمین بیناھم فی الفجر یوم الاتین + ابوبکر صلی اللہ علیہ وسلم قد کشف سائر شجرة عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد نمبر ۴۳۷ کے مضمون کا لفظی اختلاف کے ساتھ ذکر ہے۔ اس میں ہے کہ حضرت ابوبکر نے یہ کہا۔ کہ آپ نماز کے لئے تشریف لائے ہیں۔ تو لے پاؤں مقام امامت سے پیچھے ہٹنے لگے۔ عنوان باب کا اسی سے تعلق ہے۔ کہ قبلہ رخ ہو کے پیچھے ہٹنا چاہیے۔ ایسا ہی جب نام اور ایک امتیازی کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہوں۔ اور کوئی اور آدمی آئے۔ تو یا امام آگے بڑھ جائے۔ یا مقتدی اسی طرح قبلہ رخ پیچھے ہٹ کر دونوں امام کے پیچھے صف بنا لیں +

بَابٌ إِذَا دَعَتْ لَأُمَّ وَلَدَهَا فِي الصَّلَاةِ (۶۶۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

بَاب جب ماں لینے بیٹے کو بلائے اور وہ نماز پڑھ رہا ہو

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَتْ امْرَأَةً ابْنَهَا وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ قَالَتْ يَا جَرِيحُ قَالَ اللَّهُمَّ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اپنے عبادت خانے میں تھا کمالہ جہرہ اسے کمالہ سے

أُحْيِيَّ وَصَلَوْتِي فَقَالَتْ يَا جَرِيحُ قَالَ اللَّهُمَّ

اُڑھا اور میری ماں ہے اور (اور میری ناز ہے پھر کمالہ جہرہ اسے کمالہ سے اُڑھا اور میری ماں ہے اُڑھا اور میری ناز ہے

أُحْيِيَّ وَصَلَوْتِي فَقَالَتْ اللَّهُمَّ لَا يَمُوتُ جَرِيحٌ حَتَّى يَنْظُرَ بِنِي وَحَرِّ الْبَابِ مَيْسِرٌ وَكَانَتْ تَأْوِي إِلَى

اُڑھا اور میری ماں ہے اور (اور میری ناز ہے اُسے کمالہ سے اُڑھا اور میری ناز ہے اُڑھا اور میری ناز ہے اُڑھا اور میری ناز ہے

صَوْمِعْتَهُ رَاعِيَةً تَرْعَى الْغَنَمَ فَوَلَدَتْ فِقِيلًا لَهَا مِنْ هَذَا الْوَلَدِ فَقَالَتْ مَنْ جَرِيحٌ

عبادت خانے کے پاس ایک چرواہی جو بکریاں چرا کرتی تھی اُسے ماں پھر ہوا اس سے پوچھا کیا یہ بچہ کس سے ہے اُسے کہا جریح

نَزَلَ مِنْ صَوْمِعْتِهِ قَالَ جَرِيحٌ أَيْنَ هَذِهِ الَّتِي تَزْعُمُ أَنَّ وَلَدَهَا لِي قَالَ يَا بَابُ

سے وہ اپنے عبادت خانے سے اُڑھا تھا۔ جریح نے کہا وہ کہاں ہے جو کہتی ہے کہ اسکا بچہ مجھ سے ہے کمالہ بابوس

مَنْ أَبُوكَ قَالَ رَاعِي الْغَنَمِ بَابٌ مَسْرُوحٌ فِي الصَّلَاةِ (۶۶۱) عَنْ مَعْقِبِ بْنِ

نیرا باپ کون ہے کہا بکریوں کا چرواہا باب باب نماز میں لکڑیاں پٹانا

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَسُودُ لِرَأْبٍ حَيْثُ كَيْبٌ قَالَ لَنْ

اُس شخص سے متعلق فرمایا جو نماز میں جہاں سجدہ کرتا ہے وہی برابر کرتا ہے اگر نہیں

كُنْتُ فَأَعْلًا فَاحِدَةً بَابٌ بَسَطَ الثُّوبَ فِي الصَّلَاةِ لِلْسَّبْعِيَّةِ (۶۶۲) عَنْ أَنَسِ

ایسا کرتا ہے تو صرف ایک بار کروا باب نماز میں سجدے کے لئے کپڑا بچھانا

بَابُ مَا يُجَوِّزُ مِنَ الْحُكْمِ فِي الصَّلَاةِ (۶۶۵) عَنْ عَائِشَةَ

باب نماز میں کونسا حکم درست ہے

(متكرر ۲۶۶) (۶۶۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر ۳۲) بَابٌ إِذَا نَفَلْتَ الدَّائِمَةَ

نمبر ۲۶۶ دیکھو حدیث نمبر ۳۲ باب جب نماز پڑھتے وقت

فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ قَتَادَةُ إِنْ أَخَذَ ثَوْبُهُ يَتْبَعُ السَّارِقَ وَيُدْعَى الصَّلَاةَ (۶۶۲)

جاؤ پھوٹ جائے اور قنود کہتے ہیں اگر کسا پورا اٹھا جائے تو جہرہ کے پیچھے چل پڑے اور نماز چھوڑ دے

عَنْ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنَّا بِالْأَهْوَازِ نَقَاتِلُ الْحُرُورِيَّةَ فَبَيْنَا أَنَا عَلَى

الزرق بن قیس سے روایت ہے کہ ہم اہواز میں خار جہوں سے لڑ رہے تھے اہل

حَرْفٍ نَهَرًا إِذَا جَاءَ رَجُلٌ يَصِلُ فَإِذَا جَاءَ رَجُلٌ دَابَّتْ بِيَدِهِ فَجَعَلَتْ الدَّائِمَةَ تَمَارِعَهُ

نہر کے کنارے پر تھا اٹنے میں ایک شخص اگر نماز پڑھنے لگا اور اُس کے جانور کھام اُس کے ہاتھ میں تھی پس جانور سے کھینچے لگا

ملا یہ بنی اسرائیل کا کوئی قصہ ہے یا عیسائیوں کا۔ اسلئے اخذ مسائل میں کوئی بڑا کام نہیں دیتا یا پس کے معنی شہر خرا بچھ میں۔ کمالہ مقام سجدہ میں لکڑیاں ہوں یا مٹی یا کچھ اور اور تکلیف وہ جو جس سے نماز کے حضور میں غل و تم ہونا ہو اسے پٹانا چاہئے۔ ایک بار اسلئے کہا کہ جب ایک بار درست کر لیا تو بار بار کی ضرورت نہیں۔ گرمی کی وجہ سے سجدہ گاہ پر کپڑا بچھنا بھی تکلیف ہے۔ جتنے اور حضور قائم رکھنے کے لئے ہے۔ جیسا کہ اگلے باب میں آتا ہے۔ کمالہ مکہ روایت میں ہے کہنا صلی مع رسول اللہ صلح فی شدۃ اکتھر فاذا لحد یستطعم احدنا ان یمکن وجھہ من الارض بیط ثوبہ فینید علیہ۔ یہاں لفظ یوں ہیں اور زحینی فی قبیلۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یصلی فاذا سجد غمض فی فرغتها فاذا اقام مردہا تماملت بکفر ضرورت ہو تو اس قدر کام میں ہرگز نہیں ۶۶۵ مرہم کی ابتدا یوں ہوتی ہے عن النبی صلعم انہ صلی صلوة فقال ان الشیطان عرض لی فشد علی لیقطع الصلوة علی فامکن فی اللہ منہ فذقتہ لینۃ شیطان نماز میں میرے سامنے آیا۔ کہ میری نماز کو توڑ دے۔ تو ضد بچھے اس پر نفاو دیا۔ میں نے اسے پکڑا اور دھکا دیا۔ اس کے بعد لفظ فریبا کیا ہیں۔ یہاں بھی ترجمۃ الباب سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری کا استدلال یہی ہے کہ کوئی انسان تھا جسے آپ نے پکڑا اور دھکا دیا۔ گو یا اگر نماز میں کوئی شخص حملہ آور ہو جائے تو اپنے ہاتھ پچائے۔ دیکھو نوٹ نمبر ۲۳۳۔ کمالہ اہواز ایک مشہور شہر کا نام ہے۔ جو بصرہ اور فارس کے درمیان ہے۔ حضرت عمر کی خلافت میں فتح ہوا۔ خوارج نے ۳۵ھ میں بصرہ کا محاصرہ کیا تھا۔ الزرق اس فتح میں تھے۔ جو اس وقت خار جہوں سے لڑ رہی تھی +

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اپنے عبادت خانے میں تھا کمالہ جہرہ اسے کمالہ سے اُڑھا اور میری ماں ہے اور (اور میری ناز ہے پھر کمالہ جہرہ اسے کمالہ سے اُڑھا اور میری ماں ہے اُڑھا اور میری ناز ہے اُڑھا اور میری ناز ہے اُڑھا اور میری ناز ہے

وَجَعَلَ يَتَّبِعُهَا قَالَ شُعْبَةُ هُوَ ابُو بَرْزَةَ الْاَسَدِيُّ فَعَجَلَ رَجُلٌ مِّنْ اَخْوَارِ رَج

يَقُولُ اللَّهُمَّ اَفْعَلْ هَذَا الشَّيْءَ فَلَمَّا انْصَرَفَ الشَّيْخُ قَالَ لِي سَمِعْتُ قَوْلَكُمْ وَ

رَأَيْتُ عُرُوتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِزُّ بِوَاتٍ وَسَبْعَ عَزْوَاتٍ

اَوْ تَمَارِكِي وَشَهِدْتُ تَيْسِيْرَهُ وَاِنِّي اِنْ كُنْتُ اَنْ اَرْجِعَ مَعَ دَا بَتِي اَحَبُّ لِي مِمَّنْ

اَنْ اُدْعَهَا تَرْجِعُ اِلَيَّ مَا لَمْ يَفِيضْ عَلَيَّ (۲۷۷) عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَرِّرًا ۵۸)

بَاب مَا يَحِيْرُ مِنَ الْبُصَاقِ وَالتَّغْيِرِ فِي الصَّلَاةِ وَبِدْرُكِ رُوْعِنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَنَفْسِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّجُودِ فِي كُوفٍ (۲۷۸) عَنْ ابْنِ عُمَرَ

(مُتَكَرِّرًا ۲۹۳) عَنْ اَبِي سَلَمَةَ (مُتَكَرِّرًا ۲۹۳) عَنْ ابْنِ عُمَرَ

جَاهِلًا مِّنَ الرِّجَالِ فِي صَلَاةِهِ لَمْ تَقْسُدْ صَلَاةً فِيهِ سَمَلٌ بِنِ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ ذَا قِيْلٍ لِمَصَلَّةٍ تَقْدَمُ وَاِنْ تَطَرَّقَا نَتَطَرَّقَا كَا سِ

عنه ابو بزره اسلمہ کے سپاہی تھے۔ ایک طرف نماز میں گئے ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف گھوڑے کی کھام ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ اور پھر گھوڑے کے بدمک جاتے تھے اسے بھوکھو نہیں دیا۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تھم گئے جو گئے یہاں تک کہ وہ قابو میں آئے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان معاملات میں بہت فریضی دیتے تھے۔ ضرورت کے وقت اتنا کر لینے میں بھی ہرج نہیں۔ مگر بلا ضرورت تو طو پر طو طاز میں ہلانا یا ہاتھ اٹھانا بھی

۵۸ (متکرر) ۲۹۳ (متکرر) ۲۹۳ (متکرر)

درست نہیں۔ خوارج نے دین کے معاملہ میں بہت شدت اختیار کی۔ اور ذرا ذرا باتوں پر کفر کے فتوے لگاتے تھے۔ آج کل کے اکثر علماء صحابہ رضی اللہ عنہم کی نسبت خوارج کے زیادہ نقش قدم پر چلتے ہیں۔ مگر ۷۷۷ کے الفاظ یہ ہیں خضفت الشمس فقاع رسول اللہ صلعم فقل سورة طویلۃ ثم رکع فاطال ثم رفع والسننم استغفر سورة اخری ثم رکع حتی قضیها وسجد ثم فعل ذلک فی الثانیۃ ثم قال انما ایتان من آیات اللہ فاذا قرأتم ذلک خضوا حتی یفرج عنکم لقد لمیت فی مقامی هذا اکل شئی وعدت حتی لقد لمیت اربین ان اخذت قطفا من الجنة تحین لایتمونی جعلت اقدیم ولقد لمیت یحتم یحتم بعضہا بعضا حین لایتمونی تاخرت و لمیت فیما عہد من لشی و هو الذی سبب السنو انب۔ جنت اور نار کے دیکھنے ذکر نمبر ۷۷۷ اور ۷۷۸ اور ۷۷۹ اور ۷۸۰ میں ہو چکا ہے۔ جنت کی طرف آگے بڑھنا اور آگ سے بچنے ہٹنا یہ عمل نماز میں ہی تھا۔ اس سے نماز میں کوئی ہرج لازم نہیں آتا۔ عمروں ہی کا ذکر یہاں زائد ہے اور اسکے متعلق یہاں یہ ذکر ہے کہ کسی نے ساتھ کی رسم نکالی تھی۔ اس کا ذکر اخبار جاہلیت میں آئے گا۔ ۷۷۷ نماز میں تھوک تو لمغم وغیرہ نکلنا ہے جس میں انسان مجبور ہوتا ہے اور نفع کے منفع ہوا کا کھانا ہے۔ مگر چھوٹک ارنا کوئی ضروری فعل نہیں۔ اور جس تطبیق کو یہاں نام بخاری نفع کی تائید میں لائے ہیں وہ روایت ابن خزیمہ وغیرہ نے لی ہے اور اس میں یہ نظر آتا ہے میں وجعل ینفخ فی الارض ویسکب وهو ساجد یعنی آپ زمین میں پھیکنے تھے اور آپ روتے تھے اور سجدے میں تھے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چھوٹکنا اس ضروری قہر ہے جو روتے کے ساتھ بعض وقت ہو جاتا ہے اور یا ممکن ہے اس سے مراد ناک کا نفع ہو۔ مگر یہ دیکر روایت یوں ہے ان النبی صلعم راخی نخاۃ فی قنلۃ المسجد فتعظیم علی اهل المسجد وقال ان اللہ یرسل احدکم فاذا کان فی صلوتہ فلا یزقن او قال لا یفخن ثم نزل فختا بیدۃ فقال ابن عمر اذا بزق احدکم فلیبزق عن یدارہ۔ صل صریح میں آخری الفاظ بھی آنحضرت صلعم سے مروی ہیں ۷۷۷ اسکے الفاظ ۷۷۷ سے ہیں غلام کے کھینچنے وغیرہ کا واقعہ نہیں صرف رتاد ہے اور لکن عن یدارہ او تحت قدمہ کے بجائے ہو وکن عن شمالہ تحت قدمہ اللیشر حوس معلوم ہوا کہ بسیارہ کا لفظ جہاں وسیع معلوم ہوتا ہے وہاں بھی منشا یہی ہے کہ بائیں ہاتھ کے نیچے دبا دے کیونکہ مسجد میں فرش سنگریزوں کا تھا۔ ۷۷۷ میں مسجد کی وادست ۷۷۷ اور ۷۷۹ پر گتہ چلی کہ نبی کریم صلعم کی آخری جمالی کے ایام میں جب حضرت ابوبکر نماز پڑھا ہے تھے اور نبی کریم صلعم نے حضرت عائشہ کے حجرہ کا پردہ اٹھا کر جماعت کو دیکھا تو متعجب ہوئے حضرت ابوبکر اس بات کی اطلاع دینے کے لئے کہ نبی کریم صلعم تشریف لائے ہیں تالییاں بجا لیں۔ نبی کریم صلعم نے تالییاں بجا لے کر نماز کو خاسد نہیں ٹھہرایا۔

۱ ملہ حدیث نمبر ۲۶۰
 ۲ خفیف اختلاف لفظی سے آئی ہے کہ چونکہ مردوں نے بیشتر بندھا ہے گردنوں پر باندھے ہوئے ہوتے تھے اس لئے عورتوں کو کہا جاتا تھا کہ جنک مرویہ نہ جائیں۔ وہ عورت سے نہ ٹھہرے عاقدوا الذہم کے ساتھ بہاں عن الصغیرہ ہا کہ تصریح کر رہی ہے کہ پادریوں کے چھوٹا ہونے کے وجہ سے انہیں ایسا کرنا پڑتا تھا۔ باب کا مطلب یہ ہے کہ نمازیں یہ نظر کسی غار جی مصلحت کی وجہ سے تھا۔ اور جب عورتیں نظر کرتی تھیں تو نازا مردان سے پہلے سے اٹھتے تھے۔ عورتوں کے نظر کے حکم میں مردوں کے پہلے کرنا حکم صحیح آگیا۔ ملہ خفیف تفسیر لفظی سے حدیث کو دودھ پلانے سے یہاں ذکر ہے بصیغہ واحد متکلم ہے

(۳۸۰) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (متکرر ۲۶۰) بَابُ لَا بُدَّ السَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ

دیکھو حدیث نمبر ۲۶۰ ملہ باب نماز میں سلام کا جواب نہ دے

(۳۸۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (متکرر ۶۵۸) (۶۶۳) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَعَثَنِي

دیکھو حدیث نمبر ۶۵۸ ملہ جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے کسی کام کے لئے بھیجا تو میں گیا پھر ادا پس آیا اور میں نے کام کر لیا تھا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ لَّهُ فَأَنْطَلَقْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ وَقَدْ قَضَيْتُهَا

تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ پر سلام کیا تو آپ نے کہا تم میرے دل میں ایسا خیال آیا

فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِي مَا

اللہ ربہ اعم فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي ابي

جسے خدا ہی خوب جانتا ہے میں نے اپنے دل میں خیال کیا شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ناراض ہو گئے ہیں کہ میں نے

أَبْطَأْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِي الشُّكُّ مِنَ الْمَرْءِ الْأَوَّلِ

پھر میں نے آپ پر سلام کیا تو مجھے جواب دیا اور فرمایا کہ مجھے تجھ پر سلام لوانا ہے صرف یہ روی تھی کہ میں نماز میں تھا اور

ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ وَقَالَ إِنَّمَا مَنَعَنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِنِّي كُنْتُ أَصَلِّيُ وَ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

كَانَ عَلَيَّ رَاحِلَتَهُ مُتَوَجِّهًا إِلَى عِيَالِي بَابُ رَفْعِ الْأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ كَمَا

آپ سواری پر تھے اور منہ سجلی کی طرف نہیں تھا باب کسی بات کی وجہ سے جو نماز میں پیش آئے

يُزِيلُ بِهِ (۳۸۲) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (متکرر ۲۳۷) بَابُ الْخُضْرُ فِي الصَّلَاةِ

دیکھو حدیث نمبر ۲۳۷ ملہ باب نماز میں گرہ باندھ رکھنا

(۳۸۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرر ۶۶۴) (۶۶۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

صَلَّى عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا بَابُ يُفَكِّرُ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ عُمَرُ

اس سے منع کیا کہ کوئی شخص گرہ باندھ رکھ کر نماز پڑھے باب آدمی کا نماز میں کسی بات کا خیال کرنا اور حضرت عمر نے کہا

أَبِي لَا يَجْهَرُ جِلْبَتِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ (۳۸۴) عَنْ عَقِبَةَ بْنِ الْحَارِثِ (متکرر ۱۵۱)

دیکھو حدیث نمبر ۱۵۱ ملہ میں نبی فرج کو گرہ باندھ کرنا نہیں اور میں نماز میں ہوتا ہوں

یہاں ذکر ہے بصیغہ واحد متکلم ہے اس حدیث کے پہلے حصہ کے الفاظ مر ۴۶۹ سے ملتے ہیں۔ لیکن مر ۴۶۹ میں نمبر ۴۳ کا پچھلا حصہ نہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو اور لوگوں کو کچھ فرمایا۔ بیان وہ حصہ تفسیر و تائید سے ہے یعنی پہلے لوگوں کو تصفیق کے متعلق ارشاد فرمائے گا ذکر ہے۔ اور پھر حضرت ابو بکر سے خطاب کرنے کا کہو کہیں امامت نہ کرتے رہے۔ ملہ مر ۴۳ کے الفاظ یہ ہیں یعنی عن الخضر فی الصلوة یعنی نماز میں گرہ باندھ رکھنے سے منع کیا گیا۔ وہی ہے کہ یہ حدیث انکساری کہ سب نماز میں پیدا کرنا مقصود ہے۔ ملہ الفاظ یوں ہیں۔ قال صلیت مع النبی صلعم العصر فلما سلم قام سر لیا دخل علی بعضنا ثم نزع حرم وداخی مانی ووجوه القوم من تعجبهم بعد عنده فقال ذکرت وانا فی الصلوة تبرأ عندنا فکرت ان یجسی ویکبت عندنا فامرت بقسمته وشرعنا ہر ما میں۔ ذکر نہیں کہ آپ نے فرمایا ہو کہ نماز میں جیسے یہ خیال آیا۔ لیکن اگر اسی کو درست مانا جائے تو بھی ہرج نہیں۔ نماز میں کوئی قرآن کریم کا ایسا حصہ پڑھا ہوگا۔ جو فوراً ذہن کو اس طرف لے گیا اور آپ نے نماز پڑھتے ہی اس سوئے کو تقسیم کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے مال و دولت کیلئے آپ کے ذہن میں طمأنینہ کوئی جگہ نہ تھی یہاں تک کہ گھر میں اس کا رکنا بھی پسند نہ کیا۔ نماز کا اصل مقصد تو توجہ الی اللہ ہی ہے اور اسی کو نام کرنا بھی کو شین کرنا چاہیے۔ لیکن تمنا ضاٹے بشریت بعض وقت کوئی خیال بھی انسان کے دل میں آ جاتا ہے۔ پھر وہ خیال و قسم کے ہونے ہیں ایک وہ جو صلوات کے دل میں آ جاتا ہے جیسے نبی کریم صلعم کا خیال کہ سونا ایک گھر میں پڑا ہوا ہے وہ خدا کے رستے میں خرچ ہو جانا چاہیے یا حضرت عمر کا خیال کہ دشمن کے مقابلہ کیلئے لشکر کی تیاری کا خیال آ گیا۔ بلکہ بعض احادیث میں یہاں تک ہے کہ ایک دن (باقی برص ۴۴)

(۲۸۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر ۳۳۶) بَابُ مَنْ لَمْ يَكْتُمْ لِي فِي سَجْدَةِ الشُّهُوِ

دیکھو حدیث نمبر ۳۳۶ ۱۰ باب من جو سوکے دو سجدوں میں تشہد نہ پڑھے

وَسَلَّمَ اَللّٰهُنَّ وَاحْسِنَ وَلَمْ يَكْتُمْ لِيْ اَوْ قَالَ قِتَادَةَ لَمْ يَكْتُمْ لِيْ (۲۹۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

اور اس نے سلام پھیرا اور تشہد نہیں پڑھا اور قنارہ کے ہیں تشہد نہ پڑھے ۱۰

(متكرر ۳۳۶) (۲۹۱) عَنْ سَمِيَةَ بِنْتِ عِلْفَةَ قَالَتْ لَبَّيْكَ فِي سَجْدَةِ الشُّهُوِ

نمبر ۳۳۶ ۱۰ سلم بن علف سے روایت ہے کہ میں نے تمہارے دو سجدوں میں تشہد کہا

فَقَالَ لَيْسَ فِيْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بَابٌ مِّنْ يَكْتُمُ فِي سَجْدَةِ الشُّهُوِ (۲۹۱) عَنْ

تو کہا ابو ہریرہ کی حدیث میں نہیں ہے بلکہ باب جو سوکے دو سجدوں میں تشہد نہ پڑھے

أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر ۳۳۶) (۲۹۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَجِيَّةَ (متكرر ۵۰۰) بَابُ إِذَا أَمَّ

دیکھو حدیث نمبر ۳۳۶ ۱۰ دیکھو حدیث نمبر ۵۰۰ ۱۰ باب جب بادار سے

يُدْرِكُ صَلَاتِي ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا سَجِدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ (۲۹۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر

کہ کتنی (رکتیں) پڑھیں تین یا چار تو بیٹھے بیٹھے دو سجدے کرے

(۳۹۸) بَابُ الشُّهُوِ فِي الْفَرَضِ وَالنَّطَوْرِ وَسَجْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ وَثْرَةٍ (۲۹۴)

۱۰ باب فرض اور نفل میں سجدہ سوہو اور ابن عباس نے پائے دتر کے بعد دو سجدے کئے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر ۳۹۸) بَابُ إِذَا كَلِمَةٌ وَهُوَ لَيْسَ بِأَشَارَ بِيَدِهِ وَأَسْتَمَعَ

دیکھو حدیث نمبر ۳۹۸ ۱۰ باب جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اس سے بات کی جائے اور وہ سن لے اور بے

(۲۹۵) عَنْ كُرَيْبِ بْنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سُوَيْرَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ (اسئلوا

کرے روایت ہے کہ ابن عباس اور سویر بن محرز اور عبد الرحمن بن ازہر نے مجھے

إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ إِذَا قَرَأَ عِلْمًا سَلَّمَ مِنْهَا جَمِيعًا وَسَلَّمَ عَزْرَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ

حضرت عائشہ کے پاس گیا اور انہوں نے کہا ہم سب کی طرف سے آپہیں سلام کرنا چاہتے تھے نماز کے بعد دو رکعتوں کے

صَلَاةِ الْعَصْرِ وَقَالَ لَهَا إِنَّا أَخْبَرْنَا أَنَّكَ لَتَصَلِّيهِمَا وَقَدْ بَلَّغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا

متعلق دریافت کرو اور ان سے عرض کرو کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ نے فرمائی ہے اور ہمیں خبر پہنچی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے روکا ہے

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ أَضْرِبُ النَّاسَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَمَّا قَالَ كُرَيْبٌ فَدَخَلَتْ عَلَيَّ عَائِشَةُ

اور ابن عباس نے کہا میں حضرت عمر کے ساتھ ان سے روکنے کے لئے لوگوں کو مارا کرتا تھا کرے کہ میں حضرت عائشہ کے پاس گیا اور

نہیں۔ مگر بعض کے نزدیک ہے۔ اور جہاں سلام کے بعد ہو تو وہاں احمد سفین اور حنفیہ کے نزدیک دوبارہ تشہد پڑھ لے۔ اور بعض کے نزدیک وہاں بھی

دوبارہ تشہد پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں بھی نمبر ۳۳۶ م مضمون اختصار اور لفظی اختلاف کیساتھ دہرایا

گیا ہے۔ ان روایات میں سجدہ سوہو کے بعد تشہد پڑھنے کا کوئی ذکر نہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے تشہد دوبارہ نہیں پڑھا۔ ۱۰ نمبر ۳۳۶ و ۲۸۹

وہ ۲۹۱ تینوں باہر کی روایت سے ہیں۔ اس میں سجدہ سوہو کے بعد تشہد پڑھنے کا ذکر نہیں۔ ۱۰ اس کے روایت کے الفاظ نمبر ۳۳۶ سے زیادہ ملتے

جلتے ہیں اور وہی سارا مضمون ہے مگر وہاں ہے کہ ابن سیرین نے کہا ابو ہریرہ نے نماز کا نام لیا تھا میں بھول گیا۔ یہاں سے قال محمد واکثر ظنی انھا العصر رواہ

آخر یہ سجدہ سوہو کیے بکبیر کہنے کا ذکر ہے۔ ۱۰ یہاں قدر ہے خضار ہے ان رسول اللہ صلعم قام فی صلوة الظہر وعلیہ جلیوس فلما اتھ صلوتہ سجدتہ

یکوئی کل سجدتہ وھو جالس قبل ان یسلم وھما الناس معہ مکان ماشی من الجلس۔ ۱۰ نمبر ۳۳۶ م مضمون لفظی اختلاف کے ساتھ دہرایا ہے۔

مگر آخر میں اس قدر زیادہ کہ ہے فاذا المرید من احد کفر کفر صلی ثلاثا اواربعاً فلیسجد سجدتین وھو جالس مرہ ۲۸۸ میں اس مضمون کے لفظ ابو سلمہ کی طرف متوجہ

ہیں۔ یہاں اختلاف صلعم کی طرف ہے۔ ۱۰ یہاں حرف ۲۸۹ کا آخری حصہ لفظی اختلاف سے دہرایا ہے ان رسول اللہ صلعم قال ان احدکم اذا قام یصلی جلا الشیطان

فلیس علیہ حتی یذکر صلی فاذا جلا ذلک حکم فلیسجد سجدتین وھو جالس ۱۰ نماز عصر کے بعد دو رکعتوں کے متعلق بحث پہلے گذر چکی ہے۔

۱۰

۱۰ جہاں سجدہ سوہو سلام سے پہلے کیا جائے۔ وہاں سجدہ کے نزدیک پہلا تشہد کافی ہے۔ اور دوبارہ اس کے پڑھنے کی ضرورت

۱۰

رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَبَنَعْنَهَا مَا أَرَسَلُونِي فَقَالَتْ سَلِ أُمَّ سَلْمَةَ فَخَرَجَتْ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرَتْهُمْ

بِقَوْلِهَا قَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ

عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ

عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ

عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ

عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ

عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ

عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ

عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ

عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ

عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ

عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ

عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ

عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ

عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ

عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ

عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ

عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ

اس سے معافی
ہوگا کہ نماز پڑھنے
والے کو بات سنانا
اور اس کا اسے سنانا
اور ہا مختصر اشارہ
کرنا ضرورت کے
وقت میں عیب نہیں
ابو امیہ حضرت
ام سلمہ ام المؤمنین
کے والد کی کنیت
تھی + م
بطور تعلق اس
حدیث کا ذکر کیا
ہے جو ابھی گذر
چکی - اور علیحدہ
باب کا مطلب
یہ ہے کہ بطور اشارہ
بھی اشارہ کرنا
جائز ہے - اسکی
تائید اگلی حدیث
سے کی ہے + م
اس سرور و شادانہ الفاظ
مر ۳۸۲ سے بہت
مٹتے ہیں - اس میں
آپ نے کہا کہ حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے
کھڑے ہو گئے - تو
ابو بکر نے پچھنے لگے
تو آپ نے اشارہ
کیا کہ کھڑے رہیں
مگر یہاں خود
بہت ہی مختصر
ہے قالت تخلت
علی عائشہ و
ھی تضحی قائمہ
والناس قیام
فقلت ما شأن
الناس فأشارت

ابو امیہ حضرت ام سلمہ ام المؤمنین کے والد کی کنیت تھی + م

کتاب الجنائز

بخاری کی کتاب ۱۱

باب ما جاء في الجنائز ومن كان اخر كلامه لا اله الا الله وقيل لو هب

باب جو بخاری کے بارہ میں آیا ہے اور وہ جسکا آخری کلام لا اله الا الله ہو گیا اور وہ ہب بن عبد سے کہا گیا

برا سہا الى السماء فقلت اية فاشارت بلسها اي نعم حضرت عائشہ نے نماز ہی میں دوم تہ بار اشارہ سے اسما کو جواب دیا + م اس سرور و شادانہ کے الفاظ
سوائے ایک لفظ فضلی کے جو چھوڑ دیا گیا ہے، بالکل وہی ہے جو مر ۳۳۳ کے پیر + م کتاب الجنائز میں آیا ہے جنابہ سے جنابہ کی فتح
اور کسرہ دونوں کے ساتھ مستعمل ہے بعض نے کہا ہے کہ جنازہ کے کیا فقہ لغش کو کہتے ہیں اور فقہ کیا فقہ میت کو - چار یا پانچ پر جب میت ہوتی ہے نعت کا جانا ہے + م
یہ ایک حدیث کا کٹوا ہے جسے ابو داؤد اور حاکم نے معاذ بن جبل سے مرفوعاً روایت کیا ہے - اس کے الفاظ یہ ہیں من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة

ابن مہدیہ ایس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنة قال لی ولكن ليس مفتاح الا له

کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں؟ کہاں لکھو گی چابی کہاں لکھو گی؟

استان وان جنت مفتاح لہ استکان فتحک والا لم یفتحک (۶۶۸) عن

نہیں ہوتی تو اگر تو ایسی چابی لایا بیٹھا جسکے ذمے نہ ہوں تو تیرے سے چل جائیگا ورنہ نہیں چلیگا

ابو ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذانی ات من ربی فاخبرنی او قال

بشرنی اذ من فات من امتی لا یشکرہ باللہ شیئا دخل الجنة فقلت وان ربی

ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آئینہ آیا تو مجھے

وان سرق قال وان ربی وان سرق (۶۶۹) عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ

گوئے سنے چوری کی ہو فرمایا گوئے زنا کیا ہو گوئے چوری کی ہو

صلى اللہ علیہ وسلم من مات شرب الخمر دخل النار وقلت انا من فات لا یشکرہ

فرمایا جو خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہوا ہے اگ میں جائیگا اور میں کہتا ہوں خدا کے ساتھ شریک نہ

باللہ شیئا دخل الجنة باب الامر بالتباعد الجحیم (۶۷۰) عن البراء بن

ٹھہرا ہوا ہے جنت میں جائیگا باب جنازوں کے ساتھ جانیکا حکم

عازب قال امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نسیب ومانا عن سبب امرنا بالتباعد الجحیم

روایت ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امرات (باتوں) کا حکم دیا اور سات سے روکا ہمیں جنازوں کے ساتھ جانیکا حکم

وعیاد المریض واجابة الداعی ونصر المظلوم واثر القسم والصلوات والصلوات

اور بیمار پر سی کا اور دعوت قبول کرنے کا اور مظلوم کی مدد کرنا اور قسم کے پورا کرنے کا اور سلام کے احکام اور چھینک

العاطس فما کان عن نية الفضة وخاتم الذهب والحریر والذی یکرم والقسم والصلوات

دالے کے لئے دھا کرنا اور ہمیں چاندی کے برتن سے روکا اور سونے کی انگوٹھی سے اور لٹیر اور دیباچ اور نسیب اور سب سے حکم

(۶۷۰) عن ابی ہریرة (متکرر ۶۷۰) باب الدخول علی میت بعد الموت اذا ادبر

دیکھو صبرت نمبر ۶۷۰ باب میت کے پاس مرنے کے بعد جا کر دیکھنا جب اسے

فی اکانہ (۶۷۱) عن عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت اقبل ابوبکر

کنین میں لیٹ لیا جائے حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے روایت ہے کہا ابوبکر اپنی جائے راہ سے

۱۔ یعنی توحید
نجات کی کنجی ہے
لیکن جس طرح کنجی
بیخود اندازوں کے
نہیں ہو سکتی۔
اس طرح ایمان
بیخبر اعمال صالحہ
کے فائدہ نہیں دیتا
۲۔

حدیث کا مطلب
صرف اس قدر ہے
کہ اگر ایک شخص
کا انکار اچھا ہو
اور وہ توحید پر
مرے۔ تو دوزخ
جنت ہوگا۔ گو
اس سے چوری
یا زنا کا ارتکاب
۳۔

بھی ہو چکا ہو۔
شرک نہ کرنا یا
توحید پر قائم رہنا
یہی ہے۔ کہ اللہ
تعالے کے حکام
کی فرمانبرداری
کے لئے کوشش
کرتا ہو۔ جیسا کہ
ابھی اوپر لکھا گیا
۴۔

۱۔ لا الہ الا اللہ
پرستش کی کنجی ہے
لیکن اعمال صالحہ
اس چابی کے ذمے
ہیں۔ توحید صرف
مذہب سے یہ کہہ دیتے
کا نام نہیں کہ خدا ایک ہے۔ بلکہ اصل توحید یہ ہے کہ ایک خدا کے حکم کے مقابل پر اور کسی کی پرواہ نہ کرے۔ ورنہ جس کی خاطر خدا کے حکم کو توڑتا ہے اسی کو توحید
خدا کا شریک بنانا ہے۔ مصیبت اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ جیسا کہ خود حدیث میں ہے لا یزنی الزانی حسین یزنی وهو من جیسا فرمایا ارایت من اتخذ
اللہ ہونہ پس جیسا انجام اس توحید پر ہو تو اس سے پہلے اگر اس سے دنیا یا چوری کا ارتکاب بھی ہو چکا ہے تو اس سے عملاً اب یہ تائب ہو چکا۔ اور آئندہ زندگی خاتمہ کے مطلق
ہے۔ + مسلم میں بروایت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے اور بروایت ابن مسعود اس کا الٹ مروی ہے جو یہاں یعنی من مات لا یشکرہ باللہ شیئا
دستار الجنت یعنی کہ یہ مسلم کا قول ہے اور من مات لا یشکرہ باللہ شیئا داخل النار عبد اللہ بن مسعود کا قول شریک ورتوحید کی اس تشریح کیساتھ جو اجماعی ہے پھر لڑی و فون ہائیں دست شریک
نیک جنازے کے ساتھ جانا جنازہ اٹھانے کی اعانت اور میت کے انہار سے انہار ہمدردی اور تعلقات محبت کیلئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریب سے غریب آدمی کا جنازہ پڑھ کر دفن کیلئے لڑی
بھی ساتھ تشریف لے جانے اور تیرے کچھ وعظ و نصیحت بھی کرتے۔ چھینکنے والا جب الحمد للہ کہ تو اسکی تشہیت یہ ہو کہ اسکے جواب میں یہ حکم اللہ کہنا جائے۔ اس حدیث میں جو اس
کا میں کا حکم ہے وہ سب محبت اور تعلقات پڑا کیلئے اسباب ہیں۔ اور جیسا کہ مسلمانوں کے ایمان میں سے ایک لڑکے کا گناہ ہی یہ ساتوں نعم کے اسباب ہیں جو انسان کو کمزور کرتے ہیں
لیکن عورتوں کیلئے یہی چیزیں مثلاً چاندی سونے کے زیور یا ریشمی کپڑے ہائیں کیونکہ ان کے لئے یہ زینت کا کام دیتے ہیں۔ + مسلم بروایت یوں ہے حق المسلم
علی المسلم خمس رد السلام وعیاد المریض والتباعد الجحیم والجماعة والصلوات والصلوات

۱۔ یعنی توحید
نجات کی کنجی ہے
لیکن جس طرح کنجی
بیخود اندازوں کے
نہیں ہو سکتی۔
اس طرح ایمان
بیخبر اعمال صالحہ
کے فائدہ نہیں دیتا
۲۔

۱۔ یعنی توحید
نجات کی کنجی ہے
لیکن جس طرح کنجی
بیخود اندازوں کے
نہیں ہو سکتی۔
اس طرح ایمان
بیخبر اعمال صالحہ
کے فائدہ نہیں دیتا
۲۔

۱۔ یعنی توحید
نجات کی کنجی ہے
لیکن جس طرح کنجی
بیخود اندازوں کے
نہیں ہو سکتی۔
اس طرح ایمان
بیخبر اعمال صالحہ
کے فائدہ نہیں دیتا
۲۔

عَلَى قَوْمِهِ مِنْ مَسْكِنِهِ بِاللَّيْلِ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمَّا يَكُونُ النَّاسُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى
 جَوْشَمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَرْثَدَةَ فِي بَيْتِهِمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لَمَّا كَانَتْ حَالَتُهُ
 عَاشِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَتَبِعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسْتَبِيحٌ يَدُورُ حَيْثُ فَكَشَفَ عَنْ
 كَيْفَ يَأْتِي كَثْرَةَ لَيْلَتِهِ وَأَنَّ صَاحِبَهُ اسْتَبْرَأَ مِنْهُ وَأَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَجْهَهُ ثُمَّ الْبَيْتُ عَلَيْهِ فَيَقْبَلُهُ ثُمَّ يَكْبِتُ فَقَالَ يَا بَنِيَّ أَنْتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ
 مَوْتَيْنِ إِلَّا الْمَوْتَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فَقَدِمَتْهَا قَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَأَخْبَرَنِي بَنُو
 عُبَّاسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ خَرَجَ وَعَمْرٌ يَكْتُمُ النَّاسَ فَقَالَ جَلَسْتُ قَابَنِي فَقَالَ اجْلِسْ قَابَنِي
 فَسَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ قَدْ قَالَ لِلنَّاسِ وَتَرَكُوا عَمْرٌ فَقَالَ قَابَلْتُ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ
 يَبْعِدُ مُحَمَّدًا وَإِنَّمَا مُحَمَّدٌ قَدِمَاتٌ وَمَنْ كَانَ يَبْعُدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ
 حَتَّى لَا يَمُوتَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ
 الرُّسُلُ إِلَى الشَّاكِرِينَ وَاللَّهُ لَكُنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ
 حَتَّى تَلَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَتَلَقَّا هَا مِنْهُ النَّاسُ فَمَا يَسْمَعُ بَشِيرًا وَلَا نَذِيرًا
 (۶۷۲) عَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ امْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَلَسْتِ
 الْمُهَاجِرُونَ فَرَعَةَ فَطَرْنَا عَمْرَانَ بْنَ مَطْعُونٍ فَأَنْزَلْنَا فِي آيَاتِنَا فَوَجِعَ وَجَعًا
 ذَالِكُمْ بَانْتُ دَيْعَةَ كَيْفَ تَوَهَّاسَ عَمْرَةَ فِي عَمْرَانَ بْنِ مَطْعُونٍ كَيْفَ تَوَهَّاسَ عَمْرَةَ فِي عَمْرَانَ بْنِ مَطْعُونٍ

ملے عنوان باب
 تو صرف اس حصہ کا
 تعلق ہے کہ حضرت
 ابو بکر سے آنحضرت
 صلعم کا چہرہ مبارک
 کھولا اور اسے
 دیکھا اور عنوان
 میں لفظ پہنانے کا
 ذکر ہے۔ اور حدیث
 میں ہے کہ آپ پر
 چادر ڈالی جوتی
 تھی لیکن ابھی لفظ
 نہ پہنایا گیا تھا۔
 تو مطلب دونوں
 کا صرف یہ ہے کہ
 میت کا چہرہ صرف
 اس حالت میں
 دیکھنا جائز ہے کہ
 مناسب طریق پر
 اسے ڈھکا گیا ہو
 اور یہ عمر کا لفظ سے
 ہی ہوتا ہے۔
 حضرت ابو بکر
 کے ان الفاظ سے
 کہ اللہ تعالیٰ آپ پر
 دو موتیں وارد
 نہیں کرے گا۔ یہ مراد
 ملی تھی ہے کہ یہ
 نہیں ہو سکتا کہ
 آپ کو پھر زندہ کیا
 جائے۔ اور آپ
 پھر میں کیونکہ
 حضرت عمر سے
 کہہ رہے تھے کہ آنحضرت صلعم پھر زندہ ہو کر آئیں گے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ مراد اس سے یہ ہو کہ آپ کے جسم پر جو موت مقدسہ وارد ہو چکی۔ لیکن آپ کی روح پر موت نہیں آسکتی۔ یا یہ مطلب ہے کہ آپ کے امر اور دین پر موت نہیں آسکتی۔ کیونکہ آپ فاطمہ الزہراء ہیں اور آپ کا دین قیامت تک باقی رہے گا۔

بظاہر سے لگتا ہے

۶۷۲

حضرت ابو بکر کا اسلٹ و صاحب الامر رسول سے آنحضرت صلعم کی وفات پر استدلال کرنا صاف بتانا ہے کہ سب صحابہ کا یہ مذہب تھا۔ کہ سب صحابہ آپ سے پہلے وفات پا چکے ہیں۔ اگر صحابہ کا یہ خیال ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو وہ حضرت ابو بکر کو ضروریہ جواب دیتے۔ یا انھوں میں حضرت عمر جو اس قدر ذور و شور سے آنحضرت صلعم کی وفات سے انکار کر رہے تھے۔ گو یا حضرت ابو بکر سے اس موقع پر یہ آیت پڑھنے سے صحابہ کا اس بات پر اجماع ہو گیا۔ کہ آپ سے پہلے تمام نبی وفات پا چکے ہیں۔ پس یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر اجماع ہے۔ اور اتنا بڑا اجماع اور کسی بات پر ثابت نہیں۔ تعجب ہے کہ قرآن کریم میں فلما توفیٰ نوحیٰ جنتی جنتی ہوئے اور حدیث صحیح میں اسل جاع کا ثبوت۔ یعنی کے باوجود بھی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے خیال کو ترک نہیں کرتے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر سے اس سے کثیر تو بد دلانے سے پیشتر لوگوں کا خیال ادھر نہ گیا تھا۔ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات تیس آیات قرآنی سے ثابت ہے مگر ان آیتوں کی طرف لوگوں کو پہلے کافی توجہ نہیں ہوئی۔

الَّذِي تَوَدَّى فِيهِ فَلَمَّا تَوَفَّى وَغَسَلَ وَكُنَّ فِي أَتْوَابِهِ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
جہاں وفات پائی تو جب وفات پائی اور انہیں غسل دیا گیا اور کفن کے کرتے پہنائے گئے تو رسول اللہ صلی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ يَا أَسَائِبَ قَشَّاهُ دَنِي عَلَيْكَ لَقَدْ
تشریف لائے۔ تو میں نے کہا اے ابوالسائب مجھ پر خدا کی رحمت ہو میری گواہی تو مجھ پر یہ ہے کہ خدا نے

أَكْرَمَكَ اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيُّدْرِيكَ أَنْ اللَّهُ أَكْرَمَهُ فَقُلْتُ
مجھے ظاہر تہدید تو نبی صلی نے فرمایا اور کس بات سے مجھے علم ہوا کہ خدا نے اسے ظاہر تہدید ہونے سے

يَا بَنِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ يُكْرِمُهُ اللَّهُ فَقَالَ أَقَاهُو فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ وَاللَّهُ لِي
عرض کیا یا رسول اللہ میرا باپ آپ پر قربان تو خدا سے ظاہر تہدید کیا فرمایا اس کے متعلق تو میرے پاس یہ ہوتی ہے اور خدا کی قسم میں

لَا رَجْوَالَهُ الْخَيْرُ وَاللَّهُ مَا أَذْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يَفْعَلُ لِي قَالَتْ قَوْلَ اللَّهِ لَا آذِي
اس کے لئے بہتر کسی کو امید رکھتا ہوں۔ خدا کی قسم میں خدا کا رسول ہوں۔ مگر مجھے علم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائیگا علامنے کہا تو خدا کی

أَحَدٌ أَبَدًا أَبَدًا وَقَالَ نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَقِيلٍ مَا يَفْعَلُ بِهِ (۶۴۳) عَنْ
اس کے بعد میں سیکر ہاں نہیں مٹھراؤں گی اور نافع بن یزید نے عقیل سے روایت کی ہے کہ عثمان کا کیا حال ہوگا۔ جابر

جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا قُتِلَ أَبِي جَعَلْتُ كَشْفَ التُّوبَةِ عَنْ وَجْهِهِ أَيْكِي وَ
بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ جب میرے والد قتل ہوئے تو میں روٹا ہوا اس کے منہ سے کپڑا ہٹانے لگا اور

يَنْهَوْنِي وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْهَانِي فَجَعَلْتُ عَمْرِي فَاطِمَةَ تُبْكِي فَقَالَ
وگ مجھے روکنے تجھے مگر نبی صلی نے نہیں روکا اور میری پھوپھی فاطمہ بھی رونے لگی پس

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبْكِينَ أَوْ لَا تَبْكِينَ فَمَا زِلْتُ الْمَلَائِكَةَ تَطَّلُ بِأَجْحَتِهَا
نبی صلی نے انہیں فرمایا رو یا نزو فرشتے اچسر ہوں سے ساری کرتے رہے اور

حَتَّى رَفَعَتُهَا وَذَاعَ لِبْنِ جَرِيحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ رَسْمَ جَابِرِ ابْنِ أَبِي
یہاں تک کہ تم نے اسے اٹھایا۔ جابر

الزَّجَلِ لِيْنِي رَأَى أَهْلَ الْبَيْتِ بِنَفْسِهِ (۶۴۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
انسان خود میت کی موت کی خبر کے متعلقین کو مدد سے سمجھا ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جس دن نجاشی نے

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَى النَّجَاشِيِّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ خُرُوجِي إِلَى الْمَصَلِيِّ أَصْفَتْ
وفات پائی تو اس کی موت کی خبر رسول اللہ صلی نے دی عیب گاہ کو تشریف لے گئے اور لوگوں کی صف

بِهِمْ وَكَذَرْتُهَا (۶۴۵) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
بندھائی اور چار تیرہ لکھیں انس بن مالک سے روایت ہے کہا نبی صلی نے فرمایا

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الزَّيْرَةَ زَيْدًا فَاصْبَدَ ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرًا فَاصْبَدَ
زید نے جھنڈ لیا تو وہ شہید ہو گئے پھر اسے حضرت زینا تو وہ (بھی) شہید ہو گئے

ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ فَاصْبَدَ وَإِنَّ عَيْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
پھر اسے عبد اللہ بن رواحہ نے لیا اور وہ (بھی) شہید ہو گئے اور رسول اللہ صلی کی آنکھوں سے

میں نے دیکھا کہ انام واؤدی نے کہا ہے راوی کا دوہم جز

۱۔ بعض روایا میں ہے کہ آنحضرت صلعم تشریف لاکر ان پر گئے۔ اور روئے اور ہکا پسے لیا۔ اس کا تعلق عنذ ان باسے ہے۔ ۲۔ دوسری روایت میں مَا يَفْعَلُ لِي کی بجائے مَا يَفْعَلُ بِي ہے۔ ۳۔ جیسے کہ ابھی آگے آتا ہے یعنی مجھے یہ علم نہیں کہ اس کے لئے بہتر کسی کو امید رکھتا ہوں۔ ۴۔ کیا معاملہ ہوگا۔ ۵۔ قرآن کریم میں آتا ہے و ما ادری ما يفعل بي ولا بکھو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ علم نہیں کہ انڈ کیا ہوئے والا ہے اور میں کس حالت کو پہنچوں گا۔ ۶۔ یا تم کس حال میں ہو گے۔ کیونکہ قبل از وقت تفصیل کا علم نہیں دیا جاتا۔ ۷۔ لیکن نجات کا علم انہما کو یقینی ہوتا ہے۔ بلکہ وہ اس دنیا میں خدا کے حضور رہتے ہیں اور اس لئے جنت میں ہوتے ہیں یہاں صحیح روایت ما یفعل به ہے۔ اور ما یفعل لی جیسا کہ انام واؤدی نے کہا ہے راوی کا دوہم جز

میں نے دیکھا کہ انام واؤدی نے کہا ہے راوی کا دوہم جز ۱۔ بعض حدیثوں میں نعی کی ممانعت آتی ہے۔ ۲۔ تو ان کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کے مرنے کی خبر ہی دوسروں کو نہ پہنچائی جائے۔ جاہلیت میں جو فخر و مباحات کے طور پر ڈھنڈورہ بٹوایا جاتا تھا۔ نعی کی ممانعت میں اسی طرح شادہ معلوم ہوتا ہے۔ ۳۔ ورد متعلقین کو یا دوسروں کو خبر دینا تو لا بدی ہے۔ اور اس میں ہر ج بھی کوئی نہیں۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْذِرَ قَانَ ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ امْرَأَةٍ فَفَتَرَهُ لَهَا بَاب

آنسو بہ رہے تھے پھر اسے خالد بن ولید نے سنبھالا بغیر نام زد کرنے کے تو اسے فتح ہوئی اور بَاب
الَادْنِ بِالجَنَازَةِ وَقَالَ ابُو رَافِعٍ عَنْ ابِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اَلَا اذْ تَمُوْنِي (۶۷۶) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاتَ اِنْسَانٌ كَانَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى

آپ لوگوں نے مجھ کوئی خبر دی ہے اب ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک شخص جس کی بیاری سی کے لئے رسول اللہ
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعُدُ عَنْ مَاتَ بِاللَّيْلِ فَدَفَنُوهُ لَيْلًا فَلَمَّا أَصْبَحَ اخْبَرُوهُ فَقَالَ

مَا مَنَعَكُمْ اَنْ تَعْلَمُوْنِي قَالُوْا كَانِ اللَّيْلُ فُكِرْهُنَا وَكَانَتْ ظِلْمَةٌ اَنْ نَشُوْقَ عَلَيْكَ

مجھے اطلاع دینے سے تمہیں کس بات نے روکا؟ انہوں نے عرض کیا رات تھی اور اندھیرا تھا تو ہم نے پسند نہیں کیا کہ آپ کو تکلیف دیں
فَاَنِي قَدَرْتُ فَصَلَّى عَلَيْهِ بَاب فَضِّلَ مِنْ مَاتَ لَهُ وَوَلَدٌ فَاَحْسَبُ وَقَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

وَكَيْفَ الضَّارِبِينَ (۶۷۷) عَنْ اَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَا

عبر کرنے والوں کو خوشخبری دو اس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے
مِنَ النَّاسِ مَنْ مَسَلَتْ يَتُوْقِيْ لَهُ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَلْعَبُوْا الْحَنْثَ اِلَّا اَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ

کوئی مسلمان نہیں جس کے آئین (بچے) مر جائیں جو بلوغ کو نہ پہنچے ہوں تو خدا ان بچوں پر اپنی بڑی رحمت
بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ اِيَّاهُمْ (مر ۴۹۹) عَنْ ابِي سَعِيْدٍ (متكرر ۸۸) (مر ۵۰۰) عَنْ ابِي

کی وجہ سے جنت میں لیجائے گا صلح دیکھو حدیث نمبر ۸۸ صلح دیکھو حدیث
هَرَبْرَةَ (متكرر ۶۷۷) بَاب قَوْلِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ اَصْدِيْ (۶۷۸)

باب قبر کے پاس مرد کا عورت سے کہنا صلح
عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَرْأَةُ عِنْدَ قَبْرِ وَهِيَ تَبْكِي

انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی علیہ وسلم نے کہا عورت کے پاس سے جو قبر پر تھی گزرتے اور وہ روتی تھی

صلح اس حدیث میں موت کی طرائق کا ذکر ہے جو سرحد شام ہے اس جنگ میں فوج کی کمانڈر زید بن حارثہ کے ہاتھ میں تھی جو ایک آزاد و شہ غلام تھے۔ اور نبی صلح سے فرمایا تھا کہ وہ مارے جائیں تو جعفر۔ اور وہ مارے جائیں تو عبد اللہ بن روہ کمانڈر ہوں تین ہزار فوج تھی۔ دشمن کی فوج ایک لاکھ کے قریب تھی۔ تینوں شہید ہوئے اور آخر خالد بن ولید نے کمانڈر اپنے ہاتھ میں لی تو ان کے ہاتھ پر فتح ہوئی۔ نبی صلح کو ان کی شہادت کا علم پڑ گیا وہی آئی ہو گیا۔ اس لئے ایسے عزیز دوستوں کو قبر پر لے کر جہاد کی پراپیگنڈا

آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے + صلح یعنی جب جنازہ تیار ہو جائے تو جنازہ پڑھنے والوں کو اس کی اطلاع دی جائے۔ تاکہ جنازہ پڑھ لیں۔ ابو ہریرہ کی حدیث معلوم ۷۷۷ میں گذر چکی کہ مسجد کی چھاروں دوسینے والی وقایع ہو گئی تھی۔ صحابہ نے آپ کو اطلاع نہ دی اور اس کا جنازہ پڑھ لیا۔ آپ نے فرمایا مجھے اطلاع کیوں نہ دی۔ اور جا کر قبر پر اس کا جنازہ پڑھا + صلح یہ آدمی طلحہ بن برادر تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی علیہ وسلم کس طرح صحابہ کی خبر گیری فرماتے تھے + صلح نابالغ بچوں کے ساتھ ماں باپ کی محبت زیادہ ہوتی ہے اس لئے ان کی جہاد سے صلح بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں صبر کرنا۔ اور رضامندانہ اختیار کرنا موجب دخول جنت ہی اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ ماں باپ کی شفاعت بھی کریں گے + صلح یہاں نمبر ۸۸ کو خفیہ اختلاف لفظی سے دوہرایا ہے + صلح یہاں لفظ یوں ہیں لا یجوز لمسلم ثلاثه تمن الولد فیلمہ النار اذ حمله القوم یعنی جس مسلمان کے تین بچے مر جائیں تو وہ آگ میں نہیں جائیگا ماں قسم پورا کرنا ہوگا حمله القوم میں ایشہ آنت قرآنی ان منکم الا واردہا کی طرف سمجھا گیا ہے یعنی تم میں سے کوئی نہیں مگر اسے رونق کے اوپر سے گدنا ہوگا۔ اور وہ ۱۱۱۱ صرف کے اوپر بیٹھا ہے تاکہ اندر داخل ہوتا تو یہ مراد یہیں ہوگی۔ بظاہر مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا شخص گناہگار بھی ہے تو وہ دونوں میں نہیں جائے گا۔ یعنی یہ حدیث جو اسے پہنچے ہیں وہ اسے دوسرے گناہوں کیلئے گناہ ہو جائیں گے اور حمله القوم میں یہ اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعمال بد کی سزا جو قطعیت اور یقین کیساتھ جہنم ہے۔ اور یہی قطعیت ہنزلہ قسم ہے تو اس سے انسان کو داخل ہوتے ہی بخال لیا جائیگا + صلح چھ ماہ میں صبر پر نجات تھی۔ اس میں صبر کی تہنیت ہے مفسس حدیث آگے باب زیارت القبر میں آئی ہے کہ اس عورت نے نبی کریم صلی علیہ وسلم کو نہ پہچانا مگر یہ لفظ سن کر کہا کہ جاؤ جس پر نصیحت پڑتی ہے وہی جانتا ہے اور بعد میں نبی کریم صلی علیہ وسلم کے گھر آئی تو اپنے اسے نصیحت کی۔ اور فرمایا پہلے صدر کے وقت صبر کرنا چاہیے۔ یعنی بعد میں تو خود بخود صبر آ ہی جاتا ہے۔ دیکھو مر ۵۲۰ +

فَقَالَ تَقَىٰ لِلَّهِ وَأَصْبِرِي يَا بِنْتِ عَسَلٍ الْمَيْتِ وَوَضُوعَهُ بِالْمَاءِ وَالسُّدْرِ وَحَطَّ

تو فرمایا اللہ کا تقویٰ کر اور صبر کر باب پانی اور بیری کے بتوں سے میت کا غسل اور وضو کرنا علم اور

ابن عمر ابی السجید بن زید وحملہ وصالی ولم يتوضأ وقال ابن عباس لم يمسحوا

ابن عمر نے سید بن زید کے ارکے کو خوشبو لگائی اور اسے اٹھایا اور چارہ پڑھا اور وضو نہیں کیا اور ابن عباس کہتے ہیں کہ مسلمان

لا يجس جيا ولا ميتا وقال سعد لو كان جسما قاما فمسستہ وقال النبي صلى

ناپاک نہیں ہوتا نہ زندہ اور نہ مر ہوا اور سعد نے کہا اگر وہ (یعنی مردہ) ناپاک ہوتا تو میں اسے نہ چھوتا اور نبی صلعم نے

الله عليه وسلم المؤمن لا يجس (م ۱۵۰) عن أم عطية (متكرر ۶۴۹) باب

فرمایا مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ علم دیکھو حدیث نمبر ۶۴۹ باب

ما استحبت ان تجس وترأ (۶۴۹) عن أم عطية قالت دخل علينا رسول الله

میت کا طاق بار نہ ملنا مستحب ہے ام عطیہ سے روایت ہے کہا ہمارے پاس رسول اللہ صلعم

عليه وسلم ونحن نجس ابنته فقال اغسلنها ثلثا او محسما او اكثر من ذلك

تشریف لائے اور ہم آپ کی صاحبزادی کو غسل دے رہے تھے علم تو فرمایا اسے پانی اور بیری کے بتوں سے تین یا پانچ بار یا اس

بماء وسدر واجعلن في الاخرة كافورا فاذا فرغتن فاذني فلما فرغنا اذناه

زیادہ نہلاؤ اور آخری مرتبہ کا فریڈالو جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے اسلحہ دو سو جبہ فارغ ہوتے تو آپ کو

فالتقى البنا حقوا فقال اشعر لها اياه فقال ايوب وحدثني حفصة بمثل

خبری تو آپ نے اپنا تہ بند ہماری طرف چھینکا اور فرمایا اسے اس کے بدن پر بیٹھ دو اور ایوب نے کہا مجھے حفصہ نے محمد کی

حديث محمد وكان في حديث حفصة اغسلنها وترأ وكان فيه ثلثا او

حدیث کی طرح بیان کیا اور حفصہ کی حدیث میں ہے اسے طاق بار نہلاؤ اور اس میں ہے تین یا

خمسا وسبعا وكان فيه انه قال بداءوا بما منيها وقواضيع الوضوء منها و

پانچ یا سات بار اور اس میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کی داہنی طرف سے اور وضو کے اعضا سے شروع کرو اور

كان فيه ان أم عطية قالت ومشطنا ها ثلثة فرؤن باب يبدأ بها من

اس میں ہے کہ ام عطیہ نے کہا ہم نے اس کے بالوں میں لنگھی کر کے تین نہیں کر دیں باب غسل میت کی داہنی

الميت (م ۵۰۲) عن أم عطية (متكرر ۱۴۰) باب مواضع الوضوء

طرفوں سے شروع کیا جائے دیکھو حدیث نمبر ۱۴۰ باب میت کے وضو کے

من الميت (م ۵۰۳) عن أم عطية (متكرر ۱۴۰) باب هل

مقام دیکھو حدیث نمبر ۱۴۰ باب کیا

تلقن المرأة في ازار الرجل (م ۵۰۴) عن أم عطية (متكرر ۶۴۹)

عورت کو مرد کے زندہ کا گھن پھنایا جا سکتا ہے دیکھو حدیث نمبر ۶۴۹ علم

علم میت کے وضو سے مراد یہ ہے کہ غسل دیتے وقت مواضع وضو سے شروع کیا جائے جیسا کہ نمبر ۶۴۹ میں ہے۔ جو اگلے باب میں ہے میت کو غسل دینا اور جس سے نہیں کر مر کر انسان کا جسم جس ہو جاتا ہے۔ بلکہ نظافت اور صفائی کے لئے ہے تاکہ اگر کوئی آلاش وغیرہ چھو تو دوسرے ہو جائے علم مطلب یہ ہے کہ میت کو غسل دینے سے آدمی ناپاک نہیں ہوتا کہ اسے وضو یا غسل کی ضرورت ہے سو سے ہو۔ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث میں جو مذکور ہے کہ میت کو غسل دینے والا غسل کرے سوہ حدیث ضعیف ہے یا ایسی صورت میں فرمایا ہوگا۔ جب میت کی آلاش وغیرہ سے چھینٹوں وغیرہ کا احتمال ہو۔ علم یہاں بجائے وضو کا غسل ابنتہ کے ہے حین توفیت ابنتہ اور باقی حدیث حدیث کا مضمون فرمایا

آیت ہے۔ اور اکثر فرقہ کے بعد ہے ان راياتن ذلك یعنی اگر تم سمجھو کہ پانچ یا زیادہ بار نہلائی ضرورت ہے اور زائد حفصہ فقال ایوب سے لیکر یہاں نہیں ہے۔ بلکہ مردہ میل بن سیرین کی روایت میں ہے ولاد رحای بناتہ یعنی میں نہیں جانتا یہ کونسی مٹی تھیں۔ اور سلم کی ایک روایت میں ن کا نام زینب تبلیب سے جو امام کی والدہ اور ابو لہاں کی بیوی تھیں اور ابنتہ سے تھیں یعنی بعض روایات میں ہے کہ یہ کلثوم تھیں۔ علم یہ نمبر ۱۴۰ میں گدھ چکا ہے۔ علم کر روایت کا مضمون اور الفاظ نمبر ۱۴۰ کے میں اور نمبر ۶۴۹ کے اخیر میں بھی یہ نمبر گدھ چکا ہے اور کچھ اور کثوت۔ علم یہاں بتا دیوں کی ہوا غسلنا بنت النبی صلعم قال لنا ونحن نغسلها ابن دالح۔ علم یہاں حدیث کا اس قدر حصہ دہرایا ہے جو ۱۰۰ میں گدھ چکا۔ مگر یہاں بلا وسدہ واجعلن فی الاخرة کا خود کو چھو دیا ہے۔

بَابُ يَجْعَلُ الْكَافِرُ فِي الْأَخِيرَةِ (مر ۵۰۵) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ (متكرر ۶۷۹)

عمل اسکی ابتدا یوں ہوتی ہے۔

بَابُ نَقِضِ شَعْرِ الْمَرْأَةِ وَقَالَ ابْنُ سَيِّدِينَ لَا بَأْسَ أَنْ يَنْقُضَ شَعْرَ الْمَرْأَةِ

توفیتہ احدہ فوات النبی صلعم فخر جہ النبی صلعم فقہا

(مر ۵۰۶) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ (متكرر ۶۷۹) بَابُ كَيْفَ الْأَشْعَارُ لِلْمَيِّتِ وَقَالَ

غسلہا یہاں بھی اوکاثر من ذلک کے بعد ان رایتن کا لفظ ہے

أَحْسَنُ الْخُرُوقِ الْخَامِسَةَ شُدَّهَا الْفَخْدَيْنِ وَالْوَرَكَيْنِ تَحْتَ الدَّرْعِ (مر ۵۰۵)

اور نمبر ۶۷۹ کی دوسری روایت کے سبباً لفظ کے بعد یہاں ہے

عَنْ ابْنِ سَيِّدِينَ (متكرر ۶۷۹) بَابُ هَلْ يَجْعَلُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ

ان رایتن اور غسلہا و تراؤ و وادمان ہیا ضیا و مواضع الوضوء منہا کے لفظ یہاں نہیں ہے

(مر ۵۰۸) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ (متكرر ۶۷۹) بَابُ يَلْقَى شَعْرَ الْمَرْأَةِ خَلْفَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ

ان رایتن اور غسلہا و تراؤ و وادمان ہیا ضیا و مواضع الوضوء منہا کے لفظ یہاں نہیں ہے

(مر ۵۰۹) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ (متكرر ۶۷۹) بَابُ الثَّيَابِ الْبَيْضِ الْكُفْنِ (مر ۶۸۰) عَنْ

ان رایتن اور غسلہا و تراؤ و وادمان ہیا ضیا و مواضع الوضوء منہا کے لفظ یہاں نہیں ہے

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفْنٌ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَّةٍ

ان رایتن اور غسلہا و تراؤ و وادمان ہیا ضیا و مواضع الوضوء منہا کے لفظ یہاں نہیں ہے

بَيْضٍ سَحَابِيَّةٍ مَنْ كَرَسَفَ لَيْسَ فِيهَا قَبِيضٌ وَلَا عِمَامَةٌ بَابُ الْكُفْنِ فِي ثَوْبَيْنِ

ان رایتن اور غسلہا و تراؤ و وادمان ہیا ضیا و مواضع الوضوء منہا کے لفظ یہاں نہیں ہے

قُرُونٍ نَقِضَتْهُ

نہ غسلہ نہ جعلہ ثلاثہ قرون + اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کے نزدیک عورت کے کفن کے کپڑے پانچ ہیں۔ اور جوڑتی سنہ ام عطیہ کی روایت میں یہ الفاظ بیان کئے ہیں ثالث نکفتاھا فی خمسۃ اثواب و خمر فاھا کما یجزا لہی انہیں پانچ کپڑوں میں نکفتاھا اور چادر میں پیٹھا جس طرح زندہ لپیٹا جاتا ہے + اس کی ابتدا یوں ہوتی ہے جاءت ام عطیہ امراة من الانصار من اللاتی با یعن النبی صلعم قد حمت البصرۃ تبادر ابنا لہا فالمد رکہ فحد ثنتنا یعنی ام عطیہ جو انصار کی ان عورتوں میں سے تھیں جنہوں نے نبی صلعم سے بیعت کی۔ لہذا میرا اپنے بیٹے کے دیکھنے کے لئے آئیں لیکن اُسے نہ پایا۔ اور یہ حدیث بیان کی۔ یہاں بھی اوکاثر من ذلک کے بعد ان رایتن کا لفظ ہے۔ اور آخر میں ہے ولہ تزد علی ذلک ولا ادری لہی بنا نہ و زعم ان الاشعار الففتھا فبہ و کذلک کان ابن سیدین یا مر بالمرأة ان تشعرو ولا تقضرا یعنی ام عطیہ نے اس سے زیادہ نہیں کہا اور میں میں جانتا کہ نبی کریم صلعم کی کونسی صاحبزادی مراد ہے اور کہا کہ اشعار کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہمیں لپیٹ دو۔ اور ابن سیرین عورت کے متعلق اسی طرح حکم دیتے کہ اسے لپیٹ لیا جائے اور تہ بند نہ یادھا جائے + عہد حنفیہ کے نزدیک دو چوٹیاں کر کے سینے پر ڈال دی جائیں۔ ان باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ اس کے لفظ میں قلت نصف نا شعر بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعنی ثلاثہ قرون وقال وکیع عن سفیان ناصبتھا و فرینھا یعنی ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلعم کی صاحبزادی کے بالوں کی تین چوٹیاں کر دیں۔ اور وکیع نے سفیان سے روایت کی کہ پیشانی کے بالوں کی چوٹی اور دونوں طرفوں کی دو چوٹیاں + مگ اس کی ابتدا مر ۵۰۵ کی طرح ہوتی ہے۔ باقی مضمون نمبر ۶۷۹ کا ہے فالقی الینا حقوۃ تکلس کے بعد ہے۔ فضفرنا شعرھا ثلاثہ قرون والقیناھا خلفھا عنوان باب کا تعلق اسی سے ہے + حدیث باب میں صرف یہ ذکر ہے۔ کہ آنحضرت صلعم کا کفن سفید تھا۔ اور ترمذی وغیرہ کی روایت میں ہے۔ کہ آپ نے سفید کپڑوں کا ذکر کر کے فرمایا و کفنتوا فیھا موتاکم + آنحضرت صلعم کے کفن کے بارے میں یہی صحیح ترین روایت ہے کہ سفید قطن یا موت ہے اور صحیحیۃ منسوب الی السحول ہے جو دھوئی کو کہا جاتا ہے۔ اور ایک گاؤں کا نام بھی ہے +

نہ غسلہ نہ جعلہ ثلاثہ قرون + اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کے نزدیک عورت کے کفن کے کپڑے پانچ ہیں۔ اور جوڑتی سنہ ام عطیہ کی روایت میں یہ الفاظ بیان کئے ہیں ثالث نکفتاھا فی خمسۃ اثواب و خمر فاھا کما یجزا لہی انہیں پانچ کپڑوں میں نکفتاھا اور چادر میں پیٹھا جس طرح زندہ لپیٹا جاتا ہے + اس کی ابتدا یوں ہوتی ہے جاءت ام عطیہ امراة من الانصار من اللاتی با یعن النبی صلعم قد حمت البصرۃ تبادر ابنا لہا فالمد رکہ فحد ثنتنا یعنی ام عطیہ جو انصار کی ان عورتوں میں سے تھیں جنہوں نے نبی صلعم سے بیعت کی۔ لہذا میرا اپنے بیٹے کے دیکھنے کے لئے آئیں لیکن اُسے نہ پایا۔ اور یہ حدیث بیان کی۔ یہاں بھی اوکاثر من ذلک کے بعد ان رایتن کا لفظ ہے۔ اور آخر میں ہے ولہ تزد علی ذلک ولا ادری لہی بنا نہ و زعم ان الاشعار الففتھا فبہ و کذلک کان ابن سیدین یا مر بالمرأة ان تشعرو ولا تقضرا یعنی ام عطیہ نے اس سے زیادہ نہیں کہا اور میں میں جانتا کہ نبی کریم صلعم کی کونسی صاحبزادی مراد ہے اور کہا کہ اشعار کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہمیں لپیٹ دو۔ اور ابن سیرین عورت کے متعلق اسی طرح حکم دیتے کہ اسے لپیٹ لیا جائے اور تہ بند نہ یادھا جائے + عہد حنفیہ کے نزدیک دو چوٹیاں کر کے سینے پر ڈال دی جائیں۔ ان باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ اس کے لفظ میں قلت نصف نا شعر بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعنی ثلاثہ قرون وقال وکیع عن سفیان ناصبتھا و فرینھا یعنی ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلعم کی صاحبزادی کے بالوں کی تین چوٹیاں کر دیں۔ اور وکیع نے سفیان سے روایت کی کہ پیشانی کے بالوں کی چوٹی اور دونوں طرفوں کی دو چوٹیاں + مگ اس کی ابتدا مر ۵۰۵ کی طرح ہوتی ہے۔ باقی مضمون نمبر ۶۷۹ کا ہے فالقی الینا حقوۃ تکلس کے بعد ہے۔ فضفرنا شعرھا ثلاثہ قرون والقیناھا خلفھا عنوان باب کا تعلق اسی سے ہے + حدیث باب میں صرف یہ ذکر ہے۔ کہ آنحضرت صلعم کا کفن سفید تھا۔ اور ترمذی وغیرہ کی روایت میں ہے۔ کہ آپ نے سفید کپڑوں کا ذکر کر کے فرمایا و کفنتوا فیھا موتاکم + آنحضرت صلعم کے کفن کے بارے میں یہی صحیح ترین روایت ہے کہ سفید قطن یا موت ہے اور صحیحیۃ منسوب الی السحول ہے جو دھوئی کو کہا جاتا ہے۔ اور ایک گاؤں کا نام بھی ہے +

عمل کتاب الحج میں ہے کہ آپ نے فرمایا کفنتہ فی ثوبیہ یعنی اسے اس کے احرام کے دو کپڑوں میں لگنا دو۔ انہی احرام کے دو کپڑوں میں لگنانے کی وجہ سے احرام کا احترام بھی بڑھا ہو سکتا ہے۔ اور جیسا کہ فتح الباری میں ہے۔ یہ بھی کتب کے اسکے سوائے اور کتب کے نہ ہوں اور اصل یہ ہے کہ احرام کے کپڑے چونکہ دو چادریں ہی ہوتی ہیں اس لئے وہی بڑی سہولت سے کفن کا کام لے سکتی ہیں۔ اور لیکھتے ہوئے اٹھایا جانے میں یہ اشارہ ہے کہ جس حالت پر کفن کا خاتمہ ہوتا ہے اسی حالت پر کفا بعت ہوگی۔ اس میں نمبر ۶۸۱ کو دہرایا ہے اس میں محرم کے متعلق جو اونٹنی سے کر کر گیا تھا۔ فرمایا کہ اسے خوشبو نہ لگاؤ

(۶۸۱) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِبَحْرَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَأْسِهِ

ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک شخص عرفات میں کھڑا تھا اچانک اپنی اونٹنی پر سے گرا

فَوَقَعَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَوْقَعَتْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ

اسے اس کی گردن توڑ ڈالی نبی صلعم نے فرمایا اسے پانی اور

وَسَابِرٍ وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تَحْطُوكَ وَلَا تَحْطُوكَ وَلَا تَحْطُوكَ وَلَا تَحْطُوكَ

پیر کی پتوں سے نہلاؤ اور اسے دو کپڑوں میں لگناؤ اور خوشبو نہ لگاؤ اور نہ اسکا سر ڈھانکو وہ قیامت کے دن

الْقَبْرِ مُكَيَّبًا بِأَبِ الْخَطْوِ لِلْمَيِّتِ (م ۵۱۰) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متنکر ۶۸۱)

لیکھنا کرنا ہوا اٹھایا جائے گا اب میت کو خسر لگانا دیکھو حدیث نمبر ۶۸۱

بَابُ كَيْفَ يُكْفَنُ الْمُحْرَمُ (م ۵۱۱) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متنکر ۶۸۱) (م ۵۱۲) عَنْ

باب محرم کو کس طرح لگنا دیکھو حدیث نمبر ۶۸۱ دیکھو

ابْنِ عَبَّاسٍ (متنکر ۶۸۱) بَابُ الْكُفْنِ فِي الْقَبْرِ الَّذِي يُكْفَى أَوْ لَا يُكْفَى

حدیث نمبر ۶۸۱ باب اس میں میں لگنا جس کا خسر سیاہا سو یا سیاہا ہوا ہو

وَمَنْ كُفِنَ بِغَيْرِ قَبْرِ (م ۶۸۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَدَانَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَهَبٍ

اور سے قیص کے بغیر کفن دیا گیا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے جب عبداللہ بن ابی

تُوِيَ جَاءَ ابْنَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَطِنِي قَبْرَكَ أَكْفَنَهُ

وفات پا گیا تو اس کا بیٹا نبی صلعم سے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا آپ اپنی قبر میں مجھے دیکھتے آئے

رَفِيَهُ وَصَلَّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفَرَهُ فَأَعْطَاهُ قَبْرَهُ فَقَالَ إِنْ نَصَلَّ عَلَيَّ وَأَصَلَّ عَلَيْهِ فَادْنُ

اس میں کفن دوں اور اب اسکا جنازہ بڑھیں اور اس کے لئے شش ماہیں آئے اسے اپنی قبر میں دیدی اور فرمایا صلے دینا میں کا

فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَصِلَ إِلَى قَبْرِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَيْسَ اللَّهُ بِهَذَا أَنْ تَصِلَ عَلَيَّ مِنْ مَنَاقِبِينَ فَقَالَ نَأَى

جب آجیے ہاں اس کا جنازہ بڑھیں تو حضرت عمر نے آپ کو ٹھہرا اور عرض کیا کیا آپ کو فرلے منا فقو کا جنازہ بڑھتے سے نہیں روکا فرمایا مجھے

بَيْنَ خَيْرَيْنِ قَالَ سَتَغْفِرُ لِمَنْ أَوْلَا سَتَغْفِرُ لَهُمْ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَمْ

اختیار دیا گیا ہے گو کہ اسی لگنا ہے تو اس کے لئے شش ماہ یا بائیس ماہ اگر تو اسے سے ستر مرتبہ بخش مانگے تو اللہ انہیں نہیں

يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ فَصَلَّ عَلَيْهِ فَذَلْتَ وَلَا تَصِلْ عَلَيَّ أَحَدٌ نَمَّ قَاتِلًا وَلَا تَقْرَبْ عَلَيَّ قَبْرًا

سو آجیے اسکا جنازہ بڑھا پھر (بیت) آئی اور ان میں سے کسی کا بھی اپنی جنازہ نہ بڑھا اور نہ کسی قبر پر لگا ہوا کسی

بخشیدگا

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عام طور سے خوشبو لگانا ہی کافی اور سر بھی ڈھانکا جاتا تھا۔ لیکن صرف اس محرم کے متعلق آپ نے فرمایا کہ اسے خوشبو نہ لگاؤ۔ جیسا کہ یہ بھی فرمایا۔ کہ اس کا سر نہ ڈھانکو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ ہر کبھی انسان حالت احرام میں ہی رہتا ہے۔ بلکہ یہ صرف حالت احرام کا احترام ہے کیونکہ احرام میں بھی انسان دنیا و مافیہا کو چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ اس میں نمبر ۶۸۱ کو خفیف اختلاف لفظی سے دہرایا ہے اور لا تحطوک کی جگہ پر ولا تمسوه طیبیا مگر آخر پر فائہ بیعت یوم القیامہ صلیدا ہے۔ یعنی اس وراثت میں جیسے ملیتیا کے ملیتیا ہے۔ جو بطور ہرادی کی لفظی معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ حالتیا کے معنی میں گو نہ سے مال جائے ہوئے جو احرام میں ہوں کہ پر آگندہ ہونے سے بچانے کیلئے کہہ لیتے تھے۔ اور باقی مکر روایات میں بھی لفظ ملیتیا ہی ہے اور ۵۱۲ میں ہر قال یوب لیکی وقال عمر و ملیتیا۔ محمد عبداللہ بن ابی مشورہ اس میں منافقین تھا اور مسلمانوں کا درپردہ بڑا بھاری دشمن تھا بڑے لفظان پہنچانے کی کوششیں بھی کیں مگر نام ہوا۔ اسکے بیٹے عبداللہ نے آنحضرت صلعم سے کہا کہ تانا لگا۔ تاکہ تبرک کے طور پر اس کا کفن پہناتے اور آنحضرت صلعم سے جنازہ کی رضوت کی آپ نے اسے قبول کر لیا کیونکہ لظاہر و ظاہر ملکہ گو تھا حضرت عمر نے اس کی طرف توجہ دلائی استغفر لہم ولا تستغفر لہم تو آپ نے فرمایا کہ اس میں مجھے اختیار رہی دیا ہے ایسے سخت دشمن کہیا تھا بھی مل میں استغفر ہندی کا جوش بتاتا ہے کہ آپ کا رحم سقد و وسیع تھا۔ اسکے بعد آپ یوں منافقوں کا جنازہ بڑھنے سے قطعاً روک دیا جگہ شافعی ہونیکا علم آچویدہ پایا تھا۔ کتاب التفسیر میں یہ حدیث زیادہ مفصل آتی ہے اور ۵۱۲ پر بھی قدرے زیادہ تفصیل آئی ہے۔ و بالخصوص قیص کے متعلق زیادہ تفصیل ہے۔

فان فیہ فیہ لکھتا ہے

(۶۸۳) عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَمَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَعْلٍ مَكَ
جابر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن ابی بعل سے کہا

دُفِنَ فَأُخْرِجَهُ فَنُفِثَ فِيهِ مِنْ رَيْفِهِ وَالْبَسَهُ قَبِيصَةَ بَابِ الْكُفْنِ بغير قَبِيصِ
جب وہ قبر میں رکھا جا چکا تھا تو اسے نکلوایا اور پائے کھجور کے منہ میں ڈالا اور پائے کھجور سے پہنایا بَابِ الْكُفْنِ بغير قَبِيصِ کے کفن دینا

(۵۱۳) عَنْ عَاكِشَةَ (متكرر ۶۸۰) (۵۱۳) عَنْ عَاكِشَةَ (متكرر ۶۸۰) بَابِ
دیکھو حدیث نمبر ۶۸۰ لفظ دیکھو حدیث نمبر ۶۸۰

الْكُفْنِ بِالْعِمَامَةِ (۵۱۵) عَنْ عَاكِشَةَ (متكرر ۶۸۰) بَابِ الْكُفْنِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
بغير عمامہ کے کفن دینا دیکھو حدیث نمبر ۶۸۰ بَابِ الْكُفْنِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالزُّهْرِيُّ وَعُمَرُ بْنُ دِينَارٍ وَقَتَادَةُ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ دِينَارٍ الْحَقُّ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ أَوْ قَالَ
یہی عطاء اور زہری اور عمر بن دینار اور قتادہ کا قول ہے اور عمر بن دینار کہتے ہیں حق سب کا خرچہ اچھی طرح سے (ہو) اٹھاؤ

أَبْرَاهِيمَ يَبْدَأُ الْكُفْنَ ثُمَّ بِالْبَدَنِ ثُمَّ بِالْوَصِيَّةِ وَقَالَ سَعْيَانُ أَجْرُ الْقَبْرِ وَ
مال سے ہو اور ابراہیم کہتے ہیں پہلے کفن کا خرچہ ہے پھر زندہ پھر وصیت اور سعیان کہتے ہیں قبر اور

الغسل هو من الكفن (۵۱۶) عَنْ أِبْرَاهِيمَ (متكرر ۶۸۰) بَابِ إِذَا لَمْ
عسل کی اجرت کفن میں شامل ہے دیکھو حدیث نمبر ۶۸۰ بَابِ إِذَا لَمْ

يُوجَدَ إِلَّا تَوْبٌ وَاحِدٌ (۶۸۴) عَنْ أِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَرَى
ابراہیم سے روایت ہے عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا

يَطْعَمُ وَوَكَانَ صَائِمًا فَقَالَ قَتِيلٌ مَصْعَبُ بْنُ عَمِيرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي كُفْنٌ فِي
لا لایگیا اور وہ روزہ سے تھے تو کہا مصعب بن عمیر شہید ہو گئے اور وہ مجھ سے اچھے تھے ایک چادر میں

بِرْدَتَانِ عَطَى رَأْسَهُ بَدَتِ رَجُلًا هُ وَأَنْ عَطَى رَجُلًا بَدَأَ رَأْسَهُ وَأَرَاهُ قَالَ
کفناتے تھے اگر آٹا کھاس کر ڈھانکا جاتا تو اس کے پاؤں نکلے ہوتے اور اگر کھانے پاؤں ڈھانکے جاتے تو ان کا سر نکلتا ہوتا اور میں خیال کرتا

وَقِيلَ حَمْرَةٌ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي ثُمَّ بَسَطْنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بَسِطَ أَوْ قَالَ
ہوں کہنا اور حمزہ شہید ہو گئے اور وہ مجھ سے اچھے تھے پھر ہمارے لئے دنیاوی فراخی ہوئی جو پہلی

أَعْطَيْنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أَعْطَيْنَا وَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنًا لَنَا
ہمیں دنیا سے دیا گیا جو دیا گیا اور ہمیں ڈر ہے کہ ہماری نیکیوں کا

عَجَلْنَا لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ بَابِ إِذَا
رہا، ہمیں جلد نہ ملا ہو پھر رونے لگے یہاں تک کہ کھانا ناچھوڑ دیا

لَمْ يَجِدْ كَفَنًا لَهَا مَا يُجَارِي رَأْسَهُ أَوْ قَالَ مَبِئْهُ عَطَى بِهِ رَأْسَهُ
صرف اتنا کفن میسر ہو کہ میت کا سر پاؤں میں سے ڈھانکے جاسکے ہیں

مطلب پہلی حدیث میں ہے کہ عبد اللہ آپ کے پاس آیا۔ فاعطاه قبيصة اور یہاں ہے کہ قبر سے باہر نکلوایا اور اسے انجی قبیصہ پہنائی۔ قولہ کا مطلب یہ ہے کہ اسے قبیصہ جیسے کا وعدہ کیا۔ اور یا حدیث ثانی میں ترتیب کو ملحوظ نہیں رکھا۔ بلکہ سب واقعات کا ایک جگہ اکٹھا کر کے ذکر کر رہا ہے اور قبیصہ جو پہلے ہی پہنایا دی گئی تھی اس کا ذکر بھی پہلا کر دیا ہے۔ اور آپ کو مشاگرد ہونے کی جگہ وصیت سے لوگوں سے اسے قبر میں اتار دیا۔ تب آپ نے اس کو نکلوایا اور اپنی قبیصہ بھی پہنائی اور جنازہ بھی پڑھا۔ تو یہ سب سمجھ تو اسکے پیچھے عبد اللہ کی درخواست کے مطابق تھا۔ اور تھوکر کا منہ میں ڈالنا ضروری تھا جس سے آپ کی سر

شفقت اور رحمت کا اظہار ہوتا ہے جو آپ کو دشمنوں تک پر تھی و ما ارسلناك الا رحمة للعالمين + مطلب سوائے لفظ جانہ کے جو یہاں نہیں حدیث کے الفاظ نمبر ۶۸۰ میں۔ اس باب کا عنوان پچھلے باب میں گذر چکا ہے اسلئے بعض نسخوں میں یہ باب نہیں ہے کہ معمول پہننے کی قبیصہ عموماً کفن میں نہیں ہوتی۔ چنانچہ انجی صلعم کے کفن میں بھی نہ تھی۔ اگلی دو حدیثوں میں بھی الفاظ قبیصہ ہی میں سوائے اسکے کہ نمبر ۵۱۳ میں قول کر سفت نہیں اور نمبر ۵۱۵ میں کر سفت نہیں + مطلب یعنی میت کے متروکہ مال سے سب سے پہلے اس کی تجویز و کفین کا خرچہ ادا کیا جائیگا + مطلب یہاں حدیث نمبر ۶۸۴ کو قدر سے مختصراً بیان کیا کہ اگر قبیصہ عبد الرحمن بن عوف دیکھا بطنعام فقال قتل مصعب بن عمیر وكان خيلاً مني فلم يوجد له ما يكفن فيه الا بركة فلهذا خشيت ان يكون قد عجلت لنا طيباً لنا في حياتنا الدنيا ثم جعل يبكي + مطلب یہ اس زمانہ کا ذکر ہے جب مسلمانوں میں فراخی آگئی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے وہ وقت یاد دلا یا جب اس قدر کھڑا بھی میسر نہ تھا کہ میت کو پورا کفن پہنا سکیں +

۷۸۵) عَنْ خَبْرٍ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَلْتَمِسُ وَجْهَ

خاصے روایت ہے کہا ہم نے نبی صلعم کے ساتھ رضائے الہی چاہتے ہوئے ہجرت کی
اللَّهُ فَوَجَّهْنَا عَلَى اللَّهِ فِيمَا مَنَّا قَاتٍ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا فَمِنْهُمْ مَصْعَبٌ

تو ہمارا اجر خدا پر تھا پس ہم میں سے کوئی مر گیا اور اپنے اجر میں سے کچھ نہ کھایا انہیں سے مصعب
ابن عمیر و من من امنعت له ثمرة فهو يهدى بها قتل يوم أحد فلم نجد ما

بن عمیر تھے اور ہم میں سے کبھی بھول چکا گیا تو وہ اسے توڑ رکھا تاکہ وہ اُحد کے دن شہید ہو سکے تو ہمیں انہیں کفن
نكفنه به إلا بردة إذا عطيتنا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا عطيتنا رجليه

دینے کے لئے صرف ایک چادر ہی جب ہم اس سے انکا سر چھاتے تو انکے پاؤں نکل پڑتے اور جب ہم انکے پاؤں چھاتے
خبر رأسه فامرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على

تو انکا سر ننگا ہو جاتا تو نبی صلعم نے ہمیں حکم دیا کہ ان کا سر فلامک دیں اور انکے پاؤں پر
رجليه من إذر خرباب من استع الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

اذر (خاکس) ڈال دیں باب جس نے نبی صلعم کے زمانے میں کفن تیار کیا
فلم ينكر عليه (۷۸۶) عن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم

اور اس پر اعتراض نہ ہوا سہل سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی صلعم کے پاس
يبردة ملسوجة فيها حاشية فأتوا بالبردة قالوا الشبهة قال نعم قالت

نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے ہاتھ سے بنا ہے اور انی ہوں کہ آپ کو پہننا ہوں پس نبی صلعم نے اسے لے لیا اور آپ کو اس کی ضرورت
سئمتها كبريدى فحمت لا كسوكها فآخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا

کہا اسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنا ہے اور انی ہوں کہ آپ کو پہننا ہوں پس نبی صلعم نے اسے لے لیا اور آپ کو اس کی ضرورت
إلينا فخر بكتنا وإتهمنا أزاره فحسناها فلان فقال الكسبية لها ما أحسن ما فقال

تمہی بھرا آپ ہمارے پاس باہر فریفت لائے اور جی آپ کا تر بندھا ایک شخص نے اس کی تعریف کی اور عرض کیا یہ مجھے عنایت کر دیکھی
القوم فأحسنت لیسما النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألتها و

لوگوں نے کہا تو نے اچھا نہیں کیا نبی صلعم نے اسے پہننا اور آپ کو اس کی ضرورت تھی پھر نے ان حضرت سے مانگا
علمت أنه لا يبرد قال لبي والله فاسألته لا لبسه وإتتهما سألته لتكون كفنني

تم جانتے ہو کہ آپ کسی کا سوال رو نہیں کرتے مگر کہا خدا کی قسم میں نے آپ سے یہ اسلئے نہیں مانگی کہ میں سے ہنوں میں نے آپ سے
قال سهل فكانت كفته باب اتباع النساء الجنائز (۷۸۷) عن أم

سہل نے کہا سو وہ اسکا کفن ہوئی باب عورتوں کا جنازے کے ساتھ جانا ام عطیہ سے
عطية أتت قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا باب

روایت ہے اسے کہا ہمیں جنازوں کے ساتھ جانے سے روکا گیا لیکن قطعی طور پر منع نہیں ہوا
أحداء المرأة على غير زوجها (۷۸۸) عن محمد بن سيرين

شوہر کے سوا اور کسی پر عورت کا سوگ کرنا محمد بن سیرین سے روایت ہے
قال توفي ابن كرام عطية فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة

کہا ام عطیہ کا ایک بیٹا مر گیا جب تیسرا دن ہوا تو انہوں نے ذر و خوشبو منگوائی
فتمسحت به وقالت نهينا أن نجد أكثر من ثلاث إلا لزوم

اور اسے اپنے جسم پر ملا اور کہا ہمیں منع کیا گیا ہے کہ خاندکے سوا کسی اور پر تین دن سے زیادہ سوگ کریں
ملا

۷۸۵
یہ حدیث اور سی
فتم کی اور بہت
سی احادیث اکثر
صلعم کے لیے نظیر
سموات پر گواہ
ہیں۔ سچے یہ کہ
آپ نے کبھی
سوالی کو رو نہیں
کیا +
۷۸۶
امام بخاری نے
تقریباً ہر ایک
عبارت میں عورت
کی شرکت کیلئے
باب باندھا ہے
جس سے معلوم
ہوتا ہے۔ کہ
عورتوں پر بیجا
بندشیں عائد
کرنا ان کے نزدیک
نہ صرف اسلام کا
حکم نہیں۔ بلکہ
اس کے خلاف
ہے۔ عورتیں عبادت
میت پر جزیع
فزع بہت کرتی
ہیں۔ اسلئے انہیں
جنازہ کے ساتھ
جانے سے روکا
جاتا تھا۔ ورنہ
فی نفسہ ان کے
جانے میں کوئی
عیب نہیں بلکہ
مستحسن ہے تاکہ
ضرورت کی وقت
اگر مرد نہ ہوں تو
وہ خود میت کو
دفن کر سکیں لے
ام عطیہ نے کہا کہ
ہمیں قطعی طور سے
نہیں روکا گیا +
۷۸۷
یعنی ایسا نہ ہو کہ
زینت نہ کرنے کو
۷۸۸

میں نے اپنے ہاتھ سے بنا ہے اور انی ہوں کہ آپ کو پہننا ہوں پس نبی صلعم نے اسے لے لیا اور آپ کو اس کی ضرورت

۵۱۹) عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ (متکرر ۲۸۸) (۲۸۸) عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ

زینب ابوسلمہ کی بیوی کے پاس گئی
ابوسلمہ کی بیوی کے پاس گئی

ابنِ سَلَمَةَ اَنَّهَا قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى امِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجِلُّ لِمَرْأَةٍ تَوَدُّ مِنْ بِاللَّهِ

تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلعم سے سنا
افراتے تھے کسی عورت کے لئے جو اللہ اور آخرت

وَالْيَوْمِ لَا خِرَانَ يَحُدُّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ أَشْهُرٍ وَارْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

کے دن پر ایمان لاتی ہے جائز نہیں
کہ میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے مگر چار ماہ اور اس دن کے

ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ جِئْتُ تَوَفَّى أَخِيهَا فَادْعَتْ بَطِيئًا فَسَمِعْتُ يَهُنَّمُ

پھر زینب بنت جحش کے پاس گئی
جس وقت اٹھا جھاتی وفات پا گیا تھا تو انہوں نے خوشبو چھوڑی اور اسے اپنے اور پلا پھر

قَالَتْ قَالِي بِالطَّيِّبِ مِنْ حَاجَةِ غَيْرِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کہا مجھے خوشبوی کوئی ضرورت نہ تھی
مگر میں نے رسول اللہ صلعم سے سنا ہے

لَا يُجِلُّ لِمَرْأَةٍ تَوَدُّ مِنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ لَا خِرَانَ يَحُدُّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ أَشْهُرٍ

کسی عورت کے لئے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے جائز نہیں کہ میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے مگر

زَوْجِ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ (م ۵۱۹) عَنْ اَبِي سَلَمَةَ

شوہر پر چار ماہ اور اس دن کے
باب قبور کی زیارت

(متکرر ۲۷۸) بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَذِّبُ الْمَيْتَ بِبَعْضِ بَدَنِ امْرِئٍ اِذَا كَانَ النَّوْمِ

نہر ۲۷۸ باب
نبی صلعم کا فرمانا کہ میت کو بعض اعضا (وقت) گھر والوں کے رونے سے عذاب دیا جاتا ہے جب سو کر جائے اس

کتاب الحجرات

علا
کند روایت یوں ہے
لدعاء نعی ابی
سفیان من النسا
دعت ام حبیبہ
بصفرۃ فی الیوم
الثالث فصاحت
عارضیہا وخذت
وقالت ان کنت
عن هذا لحنۃ
لولا ان سمعت
رسول اللہ صلعم
یقول لا یجیل لمرء
تومن باللہ و
الیوم الاخر ان
تحن علی میت
فوق ثلاث الا
علی زوج فانما
تحن علیہ اربعۃ
اشھر وعشر
یعنی جب الوسنیہ
کی وفات کی خبر
شام سے آئی تو
ام حبیبہ رضی نے تیس

دن درد خوشبو منگوائی اور اسے اپنے رخساروں اور ہاتھوں پر ملا اور کہا مجھے اسکی حاجت نہ تھی اگر میں نے رسول اللہ صلعم کو یہ فرماتے نہ سنا ہوتا تو اور بوسنیان
حضرت ام حبیبہ کے والد تھے + حملہ بہرہ عورت کی عدت چار ماہ دس دن ہے۔ ان ایام میں اسے زینت کرنا جائز نہیں + حملہ بھلا حدیث نمبر ۶۷۸ زیادہ تفصیل
سے ہے مراد نبی صلعم باصراۃ تبکی عند قبر فقال اتقی اللہ واصبری قالت الیدک عنی فانک لم تصیب بمصیبتی ولو تحفظه فقیر لہانہ اللہ الہی صلعم فانت باب
النبی صلعم فلو تجد عندہ بنو ابین فقال ما اعرفک فقال اما الصلح عند الصلح الا لا فی بیبی نبی کریم صلعم ایک عورت پر ہے جو قبر کے پاس وہی تھی گذرے تو فرمایا
اللہ کا تقویٰ کر اور صبر کرو۔ دو کہنے لگی ہرٹ جاؤ تمہیں میری مصیبت نہیں پہنچی۔ وہ آپکو جانتی نہیں تھی۔ کسی نے اس سے کہا یہ رسول اللہ صلعم ہیں۔ تو وہ نبی کریم
صلعم کے دروازے پر آئی وہاں دریاؤں کو نہیں پایا۔ اور عرض کیا میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ آپ نے فرمایا صبر وہ ہے جو صدمہ کے شروع میں ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ
عورتیں بھی قبروں پر جاتی تھیں اور مسلم ہیں کہ خبیثت کو عن زیارۃ القبور دروزہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا پر اب ان کی زیارت کرو۔ شاندار باتیں
روکا ہو کہ لوگ شرم نہ کر لیں جیسے قبروں پر ہوناسے یا عورتوں کو نوحہ وغیرہ کی وجہ سے روکا ہو۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلعم کے دروازے پر دربان نہ ہوا
تھے۔ مگر اسکا یہ مطلب نہیں کہ لوگ بلا اذن اندر چلے جاتے تھے اذن مانگنے کا حکم خود قرآن شریف میں ہے۔ اور بعض حدیثوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ اذن لینے والے خادم
کے ذریعہ آنحضرت صلعم کو اطلاع دیتے تھے جیسے حضرت عمر کی حدیث میں ہے کہ جتنے مشرب میں ایک ماہ کیلئے علیہ کی اختیار رکھی تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایسے دربان
نہ تھے جیسے حکام یا امراء کے دروازاؤں پر ہوتے ہیں صاحب حاجت کو وہاں تک پہنچنے سے روکتے ہیں + حملہ یعنی جو نوحہ یا پکار پکار کر رونا ایک گھر کی رسم ہے۔ اور جو شخص
مر گیا ہے وہ جملی رسم کے قائم کرنے میں مدعاؤں ہے اور اس رسم کی بنگلہ نہیں کرتا تو ایسی حالت میں آپ بھی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ وہ بھی اپنے گھر میں عاکم تھا پس اسکا
اس رسم کے قیام میں مدعاؤں ہونی کی وجہ سے عذاب یا جانا لا تزدر وا ذرتہ کے خلاف نہیں جس کا حوالہ اس کے حضرت عائشہ کے قول میں آیا ہے اور اس کے حضرت عائشہ کا قول لائے ہیں
کہ جب آپ کے سامنے یہ حدیث بیان کی گئی کہ میت کو گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے تو آپ نے یہ آیت پڑھی ولا تزدر وا ذرتہ و ذر اخری کوئی پوچھا اٹھانا ہوالا
دوسرے کا ہرچہ نہیں اٹھانا یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ روئیں گھر والے اور عذاب میت کو دیا جائے تو یہ اوپر والی صورت کے خلاف نہیں کیونکہ یہ وہ صورت ہے جو یہ رسم
کے قائم کرنے میں بھی مدعاؤں نہیں آتی لے امام بخاری نے عنوان باب میں بعض بکاء اہلہ علیہ لکھا ہے۔ یعنی بعض وقت اس پر نوحہ (بائی حدیث نمبر ۲۹۲ پر دیکھیں)

مَنْ سَنَّتَهُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى قُودًا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً رَأَى وَكَلِمَةً مَسْمُوعَةً عَنْ رَجِيئَتِهِ وَأَذَى لِمَنْ يَكُونُ مِنْ

سُنَّتِهِ فَهُوَ كَمَا قَالَتْ عَاكِشَةُ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَهُوَ كَقَوْلِهِ وَإِنْ

تَدَعَى مُثْقَلَةٌ إِلَى جِهَتِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَمَا يُرْخِصُ مِنَ الْبُكَاءِ فِي غَيْرِ نَوْبٍ

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلْ نَفْسًا ظَلَمَتْهَا إِلَّا كَانَ عَلَى بَنِي آدَمَ

الْأَوَّلِ كَقَوْلِ مَنْ دَمِيهَا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ (۶۸۹) عَنْ أُسَاةِ

ابْنِ زَيْدٍ قَالَ أُرْسِلَتْ بِنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ إِنْ أُنْتَأَى قَبْضُ

فَاتِنَا فَأَرْسَلَ يَقْرئُ السَّلَامَ وَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا عَطَى وَكُلُّ

عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْسِبْ فَأُرْسِلَتْ اللَّهُ تَقْسِمُ عَلَيْهِ لِيَأْتِنَهَا

فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَبِي بَنْ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ زَابِيَةَ

وَرَجُلَانِ فَرَفَعَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبْرُ وَنَفْسُهُ تَتَقَعَّقُ

قَالَ حَسْبُنَا اللَّهُ قَالَ كَأَنَّهَا شَتَّى ففَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ

اللَّهُ مَا هَذَا قَالَ هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ

مَنْ عَابَدَهُ الرَّحْمَاءُ (۶۹۰) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ شَهِدْتُ نَيْبَةَ الرَّسُولِ صَلَّى

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَسَ عَلَى الْقَبْرِ قَالَ

فَرَأَيْتَ عَيْنِيهِ تَدْمَعَانِ قَالَ فَقَالَ هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَارِفُ اللَّيْلَةَ فَقَالَ بُوَطَيْحَةُ

مِنْ نَفْسِي وَبِكَيْفِ الْكَأَبِ كَيْفِ الْكَلْبِ مِنْ نَفْسِي وَبِكَيْفِ الْكَأَبِ كَيْفِ الْكَلْبِ مِنْ نَفْسِي

مِنْ نَفْسِي وَبِكَيْفِ الْكَأَبِ كَيْفِ الْكَلْبِ مِنْ نَفْسِي وَبِكَيْفِ الْكَأَبِ كَيْفِ الْكَلْبِ مِنْ نَفْسِي

مِنْ نَفْسِي وَبِكَيْفِ الْكَأَبِ كَيْفِ الْكَلْبِ مِنْ نَفْسِي وَبِكَيْفِ الْكَأَبِ كَيْفِ الْكَلْبِ مِنْ نَفْسِي

مِنْ نَفْسِي وَبِكَيْفِ الْكَأَبِ كَيْفِ الْكَلْبِ مِنْ نَفْسِي وَبِكَيْفِ الْكَأَبِ كَيْفِ الْكَلْبِ مِنْ نَفْسِي

مِنْ نَفْسِي وَبِكَيْفِ الْكَأَبِ كَيْفِ الْكَلْبِ مِنْ نَفْسِي وَبِكَيْفِ الْكَأَبِ كَيْفِ الْكَلْبِ مِنْ نَفْسِي

مِنْ نَفْسِي وَبِكَيْفِ الْكَأَبِ كَيْفِ الْكَلْبِ مِنْ نَفْسِي وَبِكَيْفِ الْكَأَبِ كَيْفِ الْكَلْبِ مِنْ نَفْسِي

(بقیہ از صفحہ ۲۹۱)
میت کے لئے
بھی عذاب کا جو
ہوتا ہے حضرت
عائشہ کا یہ قول
آگے تفصیل سے
نمبر ۶۸۹ میں آیا ہے
اور اس کے بعد یہ
رسول کے جاری
کرنے والوں کو
ان لوگوں کی بد
کرداریوں کا ذمہ
ٹھہرایا ہے۔ جو
ان بد رسوں میں
میں ملا ہوتے ہیں
جیسے قابیل پر
قتل ناحق کی بد
رسم کی ذمہ داری
ہے۔

علی اسکے منتقل
کئی قول میں کسی
نے کہا وہ علی ابن
ابی العاص ہیں۔
جو زینب کے
بطن سے تھے اور
کسی نے عبد اللہ
بن عثمان پر اسے
چسپان کیا ہے
جو رقیہ کے بطن
سے تھے۔ اور
کسی نے اسے محسن
بن علی بن ابی
طالب کہا ہے۔
مگر فتح الباری
میں ہے کہ صحیح
یہ ہے کہ یہ لڑکا
نہ تھا۔ بلکہ لڑکی
تھی۔ یعنی امامہ
اور اس کے منتقل
قبض کا لفظ
قریب الموت
ہونے کی وجہ سے

بول دیا ہے۔ کیونکہ اگلے الفاظ سے خود ثابت ہے کہ اس میں یہ مجرم نہیں تھا اور یہ بھی ثابت ہے کہ امامہ زندہ رہیں اور حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد ان کا

۶۸۹

اَنَا قَالَ فَانزِلْ قَالَ فَانزِلْ فِي قَبْرِهَا (۶۹۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي

مَلِكَةَ قَالَ وَفِيَتْ بِنْتُ لَعْنَانَ بِنْتُكَ وَجِئْنَا لِنَشْفِدَهَا وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ

وَإِبْنُ عَبَّاسٍ وَرَأَى بَحَّاسٌ بَيْنَهُمَا أَوْ قَالَ حَسِبْتُ لِي أَحَدُهُمَا ثُمَّ جَاءَ الْآخِرُ

فَجَلَسَ لِي جَنَيْبِي فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لِعَمْرٍو بْنِ عُمَرَ أَنْ لَا تَتَّبِعِي عَنِ الْبُكَاءِ فَإِنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ

ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ كَانَ عَمْرٌو يَقُولُ بَعْضُ ذَلِكَ ثُمَّ حَدَّثَ قَالَ صَدَقَتْ مَعَهُ عَمْرٌو

مِنْ هَكَذَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرُكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ سَمُرَةٍ فَقَالَ ذَهَبَ

فَانظُرْ مَنْ هُوَ لِأَنَّ الرُّكْبَ قَالَ فَانظُرْتُ فَإِذَا أَصْهَبٌ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ دَعَا لِي

فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْهَبٍ فَقُلْتُ أَرَأَيْتَ لِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا أَصِيبَ عَمْرٌو

دَخَلَ أَصْهَبٌ لِي يَقُولُ وَالْأَخَاهُ وَأَصَاحِبَاهُ فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو يَا أَصْهَبُ أَلَيْسَ لِي عَلَى

وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ

عَلَيْكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمَّا كَانَتْ عَمْرٌو ذُرْوَةَ الْعَلَاءِ كَانَتْ فَقَالَتْ بِرَحْمَةِ اللَّهِ عَمْرٌو وَاللَّهِ

فَأَحَدَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَلَكِنْ

رَجِمَ كَرَمَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى فَرَأَى بِرَأْسِهِ كَرَمَةَ الْوَالِدِ كَرَمَةَ الْوَالِدِ كَرَمَةَ الْوَالِدِ

كَرَمَةَ الْوَالِدِ كَرَمَةَ الْوَالِدِ كَرَمَةَ الْوَالِدِ كَرَمَةَ الْوَالِدِ كَرَمَةَ الْوَالِدِ كَرَمَةَ الْوَالِدِ

كَرَمَةَ الْوَالِدِ كَرَمَةَ الْوَالِدِ كَرَمَةَ الْوَالِدِ كَرَمَةَ الْوَالِدِ كَرَمَةَ الْوَالِدِ كَرَمَةَ الْوَالِدِ

كَرَمَةَ الْوَالِدِ كَرَمَةَ الْوَالِدِ كَرَمَةَ الْوَالِدِ كَرَمَةَ الْوَالِدِ كَرَمَةَ الْوَالِدِ كَرَمَةَ الْوَالِدِ

كَرَمَةَ الْوَالِدِ كَرَمَةَ الْوَالِدِ كَرَمَةَ الْوَالِدِ كَرَمَةَ الْوَالِدِ كَرَمَةَ الْوَالِدِ كَرَمَةَ الْوَالِدِ

كَرَمَةَ الْوَالِدِ كَرَمَةَ الْوَالِدِ كَرَمَةَ الْوَالِدِ كَرَمَةَ الْوَالِدِ كَرَمَةَ الْوَالِدِ كَرَمَةَ الْوَالِدِ

كَرَمَةَ الْوَالِدِ كَرَمَةَ الْوَالِدِ كَرَمَةَ الْوَالِدِ كَرَمَةَ الْوَالِدِ كَرَمَةَ الْوَالِدِ كَرَمَةَ الْوَالِدِ

كَرَمَةَ الْوَالِدِ كَرَمَةَ الْوَالِدِ كَرَمَةَ الْوَالِدِ كَرَمَةَ الْوَالِدِ كَرَمَةَ الْوَالِدِ كَرَمَةَ الْوَالِدِ

كَرَمَةَ الْوَالِدِ كَرَمَةَ الْوَالِدِ كَرَمَةَ الْوَالِدِ كَرَمَةَ الْوَالِدِ كَرَمَةَ الْوَالِدِ كَرَمَةَ الْوَالِدِ

یہ صاحبزادی ام کلثوم تھیں۔ جو حضرت عثمان کے گھر میں تھیں۔ حدیث کی فرض صرف یہ ہے کہ محض رونے۔ یا ان آنکھوں سے آنسو کا جاری ہونا۔ برا نہیں۔ بلکہ عین تقاضائے بشریت ہے البتہ یہاں ابو طلحہ کے قبر میں اترنے کے ذکر میں الفاظ لہ قیادت اللیلۃ آئے ہیں۔ ان پر بحث ہوئی ہے قادت کے اصل معنی ہیں۔ کسی چیز کے قریب ہوا۔ تو بعض نے کہا مراد ہے گناہ سے قریب نہیں ہوا۔ بعض نے کہا اپنی زویہ کے قریب نہیں گیا۔ مگر ان دونوں باتوں کا کوئی تعلق میت کو قبر میں اتارنے سے نہیں۔ نہ رسول اللہ صلعم کے عمل میں یہ بات اور

بین ہوں فرمایا اتر جا کہا تو وہ ان کی قبر میں اترے صلعم عبداللہ بن عبد اللہ عبداللہ بن ابی ملک سے روایت ہے کہا حضرت عثمان کی بیٹی کرم میں مر گئی اور ہم اسے جنازے کے لئے حاضر ہوئے اور ابن عمر اور ابن عباس بھی وہاں آئے اور میں ان دونوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا یا کہا ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا پھر اتر کر آیا مجلس لئی جنیبی فقال عبد اللہ بن عمر لعمر و بن عثمان ان لا تتبعی عن البکاء فان اور میرے پہلو میں بیٹھا گیا تو عبداللہ بن عمر نے عمرو بن عثمان سے کہا کیا تم رونے سے نہیں روکتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المیت یعذب ببکاء اہلہ علیہ فقال افزایا ہے کہ میت کو اس کے گھر والوں کے اسپر رونے سے عذاب دیا جاتا ہے تو ابن عباس ابن عباس سے کہتا تھا کہ ان عمر یقول بعض ذلک ثم حدث قال صدقت مع عمر نے کہا حضرت عمر بعض وقت رونے پر عذاب کا ذکر کیا کرتے تھے ابھر بیان کرنے لگے کہا میں حضرت عمر کے ساتھ مکہ سے لوٹا یہاں تک کہ جب ہم بیدار ہوئے تو ہمیں بھل کے سانس کے نیچے سواروں کا علم ہوا فرمایا فانظر من هو لاء الرکب قال فنظرت فاذا اصهب فاخبرته فقال دعوا لى ماؤ اور دیکھو یہ کون ہیں کہا میں نے دیکھا تو صہیب تھا۔ تو میں نے آپ کو خبر دی تو فرمایا اسے مجھے پاس بلاؤ فرجعت الی صہیب فقلت اریح ل فاحتی امیر المؤمنین سے لو پھر جب حضرت عمر زخمی ہوئے تو میں صہیب کے پاس واپس گیا اور کہا جلو اور امیر المؤمنین سے لو پھر جب حضرت عمر زخمی ہوئے دخل صہیب لى یقول واخاه واصحابه فقال له امریک صہیب ایتکی علی صہیب کہ رونے لگے کہتے تھے اے میرا بھائی اے میرا ساتھی تو حضرت عمر نے اسے فرمایا تو مجھ پر رونا ہے وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المیت یعذب ببکاء اہلہ اور رسول اللہ صلعم نے فرمایا ہے اگر دوسرے پر بعض وقت اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب علیہ قال ابن عباس کہتے ہیں تو جب حضرت عمر کا انتقال ہوا تو میں نے حضرت عائشہ سے اسکا ذکر کیا تو کہنے لگیں کہ خدا حضرت عمر پر ماحدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یعذب المؤمن ببکاء اہلہ علیہ ولكن رحم کرے اللہ کی قسم رسول اللہ صلعم نے نہیں فرمایا میت کو اسپر اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب دیا جاتا ہے بلکہ

کسی موقع پر ثابت ہوتی ہے کہ میت کو خواہ وہ عورت ہو قبر میں اتارنے کے لئے آپ نے کبھی ایسی مشرط لگا ئی ہو۔ اسلئے بعض نے کہا کہ یہ راوی کی غلطی ہے آپ نے کچھ اور فرمایا ہو گا اور ہو سکتا ہے کہ یوں ہی ہوا ہو۔ یا آپ نے فرمایا ہے ہو کہ نیند کے قریب نہیں گیا۔ یعنی ساری رات جاگتا رہا ہو تو یہ ایک امر زیادہ زہد کی وجہ سے باعث ترحیم ہو سکتا ہے۔ اور ابو طلحہ کو ان امور میں نہیں اتارنے میں اچھی ہمارت بھی تھی + حضرت عمر نے بعض کا لفظ استعمال کیا یعنی بعض وقت رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ ہر حال میں نہیں اور اسکی توجیہ وہی ہو سکتی ہے جو بخاری نے عنوان باب میں کی ہے یعنی جب وہ خود بھی لحد کا مجوز ہو اور اس بدرم کے قائم رکھنے میں معاون ہو۔ مگر حضرت عائشہ نے حضرت عمر کے اس قول کو اس رنگ میں نہیں لیا بلکہ اسکو کافر کے لئے خاص کیا کہ کافر کے عذاب کو اس کے اہل کے رونے کی وجہ سے بڑایا جاتا ہے تو شاید اسکی اہل وہ انکے نزدیک بھی یہی ہو کہ کافر اس رسم کو مجوز تھا اور مومن نہیں ہوتا۔ نہ کافر ہو یا مومن ایک کے فعل کی وجہ سے دوسرے کا پکڑا جانا کیساں لا نترہا ذریعہ کے خلاف ہے سوائے اسکے کہ پچھلے شخص نے دوسروں کو بدعا پر ڈالا ہو۔ حضرت عمر کے زخمی ہونے کا واقعہ بعد کا ہے اسی وقت کا نہیں +

ع

مسلم میں ہے۔ کہ جب حضرت عائشہ کو ابن عمر کی یہ حدیث پہنچی تو انہوں نے فرمایا انکھ چاہئے لحد شرف عن غیر کا ذہب ولا مکذباہن ولكن السمع مخطیئہ حضرت عمر اور ابن عمر سے جو تم روایت کرتے ہو کہ ان المیت یعذب بیکاء اہلہ علیہ یا بعض بیکاء اہلہ علیہ تو وہ جھوٹ ہونے والے نہیں لیکن قوت سامعہ غلطی کرتی ہے۔ یہاں بھی حضرت عائشہ نے حضرت عمر کی روایت کی تردید کی۔ اور زنیہ کی طور سے فرمایا کہ نبی کریم صلعم نے فرمایا ایسا نہیں فرمایا اور قرآن کریم کی آیت ولا تنزلوا ذرعا واخری سے مراد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الله ليريد الكافر عدلا با بکاء اہلہ علیہ
رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فر کے عذاب کو اسپر اسے کھرا لیں گے تو اسے بڑا ناسخ

وقالت حسبکم القرآن ولا تزوزا زرة وذر احرى قال ابن عباس عند ذلک
اور کہا تمہارے لئے قرآن کافی ہے اور یہ آیت بڑی اور کوئی بوجھ اٹھا نہ سکتا اور دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا لہذا ابن عباس نے اس وقت کہا

والله هو اضحک وابی قال ابن ابی ملیکة واللہ ما قال ابن عمر شیئا (مر ۵۲)
اور خدا ہی ہنسانا اور رلاتا ہے ابن ابی ملیکہ نے کہا خدا کی قسم ابن عمر نے کچھ (بھی) نہیں کہا

عن ابن مولى (متکرر ۶۹۱) (۶۹۲) عن عائشة زوج النبي صلی اللہ علیہ
دیکھو حدیث نمبر ۶۹۱ ع حضرت عائشہ نبی صلعم کی بیوی سے روایت ہے

قالت لئنما امر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم علی یهودیة یتک علیہا اہلہا
رسول اللہ صلعم ایک یہودی عورت پر کھڑے اسے کھرا لے اسپر رو رہے تھے

فقال انہم لیکون علیہا واثما لتعذب فی قبرہا کاب ما یکرہ من التیاجت
تو فرمایا وہ اسپر روئے ہیں اور اسے اس کی قبر میں عذاب دیا جائے لہذا یاب میت پر توہ کرنا

علی المیت وقال عمر دغمین یتکین علی ابی سلیک ان کالم دیکن نفع او لقلقة
مکرو ہے اور حضرت عمر نے فرمایا انہیں بھڑو ابو سلیمان پر روئیں جب تک خاک نہ آرائیں اور چلائیں نہیں لگے

والنفع الثراب علی الراس للقلقة الصوت (۶۹۳) عن المغيرة قال سمعت
نفع سر پر مٹی ڈالنے اور لعلقہ بھلانا ہے نجرہ سے روایت ہے کہ اہل نے

النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان کذبا علی لیس کذیب علی احد من کذب
نبی صلعم کو فرماتے ہوئے اسنا مجھ پر جھوٹ باندھنا اور کسی پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں جو مجھ پر جا کر

علی متعمدا فینبوا مقعدہ من التار وسمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم
جھوٹ باندھے تو اپنا ٹھکانا اگ میں بنالے اور میں نے نبی صلعم کو فرماتے ہوئے سنا ہے

یقول من یتیم علیہ یعذب بہا نیتہ علیہ (مر ۵۲) عن
چسپ نوہ کیلایا تو اسپر نوہ کرنے سے عذاب ہوتا ہے لک دیکھو حدیث

عکس (متکرر ۶۹۱) باب (مر ۵۲) عن جابر بن عبد الله (متکرر ۶۹۱)
نمبر ۶۹۱ ع باب دیکھو حدیث نمبر ۶۹۳ ع

کیا۔ اس سو ثابت ہوگا کہ صحابی کرام کا مسلک یہی تھا کہ جب کسی حدیث کو قرآن کریم کے خلاف پاتے تو اس کے راوی کیسے ہی ہوں اور نبی کریم صلعم سے بلا واسطہ سچے ہوں تو سچی حدیث کو روک کر قرآن تو تمک کرتے اسلئے کہ قرآن کریم ایسا محفوظ تھا جس میں غلطی کا احتمال نہیں ہو سکتا اور حدیث کی حفاظت ایسی نہیں تھی اور میں غلطی کا احتمال سماعت اور روایت اور فہم کے سچ بہت تھا اس پر حدیث کی راویوں کے واسطہ سے مروی ہو اور وہ راوی ہی صحیح ہوں اور روایت یا یعنی صحیح ہوا اور کسی تا بعد تعالیٰ نہ ہو اور اخبار فقوس سے نقل کوشی ہو تو اگر یہی قرآن کریم کے خلاف ہوتا تو کیا جاؤ یہ صحیح ہو سکتا ہے۔ اس میں نمبر ۶۹۱ کا ایک کلمہ دہرایا گیا ہے لما اصاب عہم جعل صہیب یقول و آخاہ فقال عہم اما علمت ان النبی صلعم قال ان المیت لیعذبہ بیکاء الخی + عکس یہاں کہنے یہ نہیں فرمایا کہ اہل میت کے رونے کی وجہ سے اس عورت کو عذاب دیا جائے بلکہ اہل عہم اور عہم کا بیان کیا کہ کسی خوبیاں گن گن کر رو رہے ہیں اور اسے عذاب ہوتا ہے + عکس اس سے معلوم ہوگا کہ انھوں نے مانع نہیں بلکہ نوہ کرنا منہ ہی یعنی پکار پکار کر اور کسی باتوں کو بیان کر کے روٹا یا سر پر مٹی ڈالنا یا کپڑے چھڑانا یا کپڑے کی ترکات صبر کے خلاف ہیں + عکس اس سے مراد بھی ہو سکتی ہے کہ جس پر نوہ کیا جائے اسے اس سے تکلیف پہنچتی ہے کہ کیوں اس طرح واہلہ کیا جاتا ہے۔ ایسا ایسا شخص مراد ہے جو اس زعم کا مجوز ہے + عکس اس کے الفاظ میں المیت یعذب فی قبرہ بصانح علیہ اور دوسری روایت میں ہر المیت یعذب بیکاء الخی علیہ + عکس مکرر روایت اختلاف لفظی آئی یہاں لفظ یہ ہے جی جی یا نبی ہو ا حدیث قد مثل بدحتی رجع بین ینک رسول اللہ صلعم وقد نچی وثیبا ذہبت اریل ان کشف عندہا فی قوی تم ذہبت اکشف عندہا فی قوی فامر رسول اللہ صلعم فرفع فسمع صوتا صائحۃ فقال من قالوا بنت عمرو واخذت عمرو قال لکم انک لکنی فزال اللیلۃ نظلہ باجنتہا یخو

بَابُ لَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ شَقَّ الْجَبُونَ (۶۹۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنْكُمْ لَطْمُ الْخَدَّ وَشَقُّ الْجَبُونَ وَدَعْوَى بَدْعُوِي

الْجَاهِلِيَّةِ بَابُ رِثَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ (۶۹۵)

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ

عَامَ حَجَّةِ الْوُدَّاعِ مِنْ وَجْهِ ابْنَتَيْهِ فَقُلْتُ لِي قَدْ بَلَغَ بِي مِنْ لَوْجِحِ وَأَنَا ذُو

قَالَ وَلَا يَرْتَضِي إِلَّا ابْنَةَ لِي أَمَا تَصَدَّقُ بِشَيْءٍ قَالَ لَا فَقُلْتُ فَالْشُّطْرُ

فَقَالَ لَا تَمَّ قَالَ الثَّلَاثُ كَيْدٌ أَوْ كَيْدٌ لَكَ أَنْ تَذُو لِرَتِّكَ اغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ

أَنْ تَذُرَّهُمْ حَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسُ وَإِنَّكَ لَنْ تَنْفِقَ نَفَقَةَ بِنْتَيْهِ بِهَا وَحَلَّ اللَّهُ الْأَجْرَ

بِهَا حَتَّى فَاثْمَلَتْ فِي نِي امْرَأَتِكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْلَفَ بَعْدَ صَحَابِي قَالَ ذَكَرْتُ خَلْفَ

فَتَجَلَّ عَمَّا صَارَ إِلَّا أَرَدْتُ بِهِ دَرَجَةً وَرَفْعَةً ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ تَخْلَفَ حَتَّى تَتَفَقَّ

عبد اللہ سے روایت ہے کہ نبی صلعم نے
وہ ہم میں سے نہیں جو گالیں پھینکے اور گریبان بھاڑتا ہے اور جاہلیت کی باتیں
کتابے لے باب سعد بن خولہ بن نبی صلعم کا اس میں کرنا
عن سعد بن ابی وقاص عن ابیہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج
الی وقاص سے روایت ہے میری بیاری کی وجہ سے جو مجھ پر سخت ہوئی تھی رسول اللہ صلعم حجۃ الوداع
کے سال میری بیاری پر ہی کے لئے تشریف لایا کرتے تھے تو میں نے عرض کیا میری بیاری صدکوں پہنچ گئی اور میں مالدار
ہوں اور میرا وارث صرف میری بیٹی ہے تو کیا ایسے مال کی دو بہنائی خیرات کر دوں فرمایا نہیں تو میں نے عرض کیا تو آدا
فرمایا نہیں پھر فرمایا ایک بہنائی اور نہائی بھی بڑی یا بہت ہے کیونکہ تو اگر لینے دار تو لے کر عینی چھوڑے تو اس سے بہتر ہے کہ
ان تذرہم حالۃ یتکففون الناس وانک لکن تنفق نفقۃ بنتی بہا وحلہ اللہ الاجر
تو ہمیں محتاج چھوڑے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوں اور تو بھی حال مذکی رضا چاہتا ہوا خرچ کر گا اس کا بدلہ مجھے دیا اور وہ
یہاں تک کہ جو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے گا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں لینے ساتھیوں کے اچھا جانے کے بعد بھیجے
مگر جو نیک کام تو کر لگا اس سے تیرا درجہ اور مرتبہ بڑھ جائے پھر شاید تو زندہ رہے یہاں تک کہ کچھ لوگ

کرتا تھا اگر کیا جو تو بجائے اس کے کہ لوگوں کو اسکی خوبیاں سنا کر انہیں غم و حزن میں مبتلا کریں اور انہیں رلا میں جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی بہنیں پست ہوگی۔ اور وہ اس قسم کی خونی
اور مردانگی کے کام کرنے سے عاری ہو جائیں گے۔ مناسبت یہ ہے کہ لوگوں میں یہ بلج پیدا کی جائے۔ کہ وہ بھی ایسے خوبی کے کام کریں بلکہ کسی اپنے فرض مفوضہ کی ادائیگی
میں یا نیک کام کے کرنے میں موت کو بیچ چھینیں۔ بیٹے۔ کپڑے بھاڑنے وغیرہ سے بھی موت کا ایک خوف دلوں میں پیدا کیا جاتا ہے۔ جو مسلمان کے شایان شان نہیں بلکہ
نبی صلعم نے اسے اس قدر ناپسند فرمایا کہ ایسے شخص کے لئے یہ کہہ کہ وہ ہم مسلمانوں میں سے ہی نہیں۔ اسکا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے
مگر اس کو بہت قبیح فعل قرار دیا ہے جو ایک مسلمان کے شایان شان نہیں۔ کیونکہ اس سے اخلاق انسانی ذلیل ہو جاتے ہیں۔ اور بہت اور شجاعت کا جو مفقود
ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلعم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے اللھم انی اعوذ بک من الھم والحزن * مگر زیادہ میت کے محاسن اور مناقب بیان کرنا نیکو کہنے
ہیں۔ رشیتہ اذا ملاحتہ بعد موتہ اور میت پر بیخ و افسوس ظاہر کرنے کو بھی کہتے ہیں رشیت لہ اذا حزننت علیہ یہاں مراد معنی ثانی ہے۔ احمد اور ابن
ماجر اور حاکم نے عبد اللہ بن ابی اوفی ثریب سے کہا ہے کہ نبی رسول اللہ صلعم عن المرانی اس مرانی سے متعارف مرتبہ خواتین مراد ہے۔ جس سے لوگوں کو رولانا اور انہیں بیخ و
غم میں ڈالنا مقصود ہوتا ہے * مگر رسول اللہ صلعم نے سعد بن ابی وقاص کو یہ سمجھایا کہ جب تم رضائے کسی کچھنے اپنا دل خرچ کرو تو چاہے بوی پر خرچ کرنا یا بیٹی پر
یا کسی دوسرے پر وہ سب سزا دہی ہے اور یہ بھی فرمایا کہ تمہارے وارث اگر مالدار ہوں گے تو اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج کی حالت میں چھوڑو کہ کسی قدر اعدل برآپ
کی تعلیم ہے کہ مال دنیا کی قدر اور حفاظت بھی سکھائی۔ اور اسے خدا کی راہ میں بیدین خرچ کرنا بھی سکھایا۔ زن و فرزند سے بے تعلقی بھی سکھائی اور ان کی بخر گیری کی بھی تعلیم
دی۔ دوسری روایت میں بجائے ائصدہ کے لفظ اوصی آتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ وصیت کے متعلق دریافت کر رہے تھے اور یہ وصیت چونکہ خیراتی کاموں کیلئے تھی
اسلئے ائصدہ کا لفظ لیا ہے۔ اور یہ چونکہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے یعنی سلسلہ ہجرت کا اور اس سے مدت بیشتر سورۃ نساء میں تعلیم حاصل ہوئی تھی اسلئے تعلیم جس سے وصیت کے حکم کو جو
سورہ بقرہ میں لکھنا علیکم اذا حضر احدکم الموت ان تولوہ خیرا ان الوصیۃ منہم منہم کیا۔ کیونکہ یہ وصیت خیراتی کاموں کیلئے تھی نہ دنیا کیلئے * مگر سعد بن ابی وقاص
صحابہ میں سے تھے اور کد شریف میں حجۃ الوداع کے موقع پر بیمار ہو گئے۔ انہیں خیال ہوا کہ اگر میں نہیں مر گیا اور مینہ واپس نہ گیا تو گویا میری ہجرت پوری نہ ہو گی۔ کیونکہ جس

جگہ کو چھوڑ دیا تھا وہیں مرنے کے وقت آگے +

بِكَ أَوْ أَمٍّ وَبِضْرَبِكَ آخِرُونَ اللَّهُمَّ امْضُ لِصَاحِبِيْ هَجْرَتِهِمْ وَلَا تُرَدِّدْهُمْ عَلَيَّ

تجھ سے فائدہ اور تمہیں اور مجھ کو تجھ سے مزید بھیجے علیٰ علیہ السلام سے ہجرت کرنے والے لوگوں کو اور انہیں اپنی طرفوں پر
اعقاربکم لیکن الباقی سعد بن خولہ بن ریحیٰ نے کہا کہ رسول اللہ صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم ان
واپس نہ کر لیکن ہجرت سعد بن خولہ نبی صلعم اپس انہوں نے کرتے تھے کہ

قَاتِ بَمَكَّةَ بَابٌ مَا يَنْهَى مِنَ الْحَقِّ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ (۶۹۶) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ

مکہ میں سے مکہ باب مصیبت کے وقت (بال) منڈانا سے ہے علیٰ ابو بردہ بن ابوموسیٰ سے

أَبِي هُوَسَى قَالَ وَجِعَ أَبُو هُوَسَى وَجَعًا فَغَضِيَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي حَجْرٍ مِنْ أَهْلِهَا

روایت ہے کہا ابو موسیٰ بیمار ہو گئے اور انہیں غصہ آگیا اور انکا سر منہ کے گھر والوں میں ایک عورت کی گود میں
فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُرَدِّدْ عَلَيْهِمْ فَاسْتَبَدَّ فَالْتَمَأَ أَفَاقًا قَالَ نَابِرِيُّ مَنْ بَرِيَ مِنْهُ رَسُولُ

اوپس سے کہ نہ سکتے تھے جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے میں اس سے بیزار ہوں جس سے رسول اللہ صلعم بیزار
اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ

ہوئے رسول اللہ صلعم نے اس عورت سے انہار بیزاری کیا جو چلائے اور جو بال منڈوانے
وَالشَّقَاقَةِ بَابٌ لَيْسَ مِمَّا مِنْ ضَرْبِ الْخُذُودِ (۶۹۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (مُتَكَرِّرٌ)

اور جو کپڑے چھانٹنے باب جو گالیں پٹیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے دیکھو حدیث نمبر ۶۹۳ علیٰ
۶۹۳ بَابٌ مَا يَنْهَى مِنَ التَّوْبِيلِ وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ (۶۹۲) عَنْ

باب مصیبت کے وقت واویل اور جاہلیت کی باتیں کرنے کی مخالفت دیکھو حدیث
عَبْدِ اللَّهِ (مُتَكَرِّرٌ) بَابٌ مِنْ جَلَسَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ يُعْرِفُ فِيهِ الْحَزْنَ (۶۹۷)

نمبر ۶۹۳ باب جو مصیبت کے وقت اس طرح بیٹھے کہ اس (کے چہرے) سے غم ظاہر ہو
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا حَآءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ ابْنُ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٌ

حضرت عائشہ سے روایت ہے جب نبی صلعم کو ابن حارثہ اور جعفر
وَأَبْنُ رَاحَةَ جَلَسَ يُعْرِفُ فِيهِ الْحَزْنَ وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَارِئِ الْبَابِ شَيْقَ الْبَارِكَةِ فَكَانَ

خبر پہنچی علا تو آپ اس طرح بیٹھے کہ آپ (کے چہرے) پر غم ظاہر تھا اور میں دروازے کی دراڑ میں سے دیکھ رہی تھی تو آپ کے پاس
رَجُلٌ فَقَالَ لَأَسْتَأْجِرُ جَعْفَرًا وَذَكَرَ بِنَاءَهُنَّ فَأَمَّا أَنْ يَمَّا كُنَّ فَهَبْتُمْ أَتَاهُ الثَّانِيَةُ طَبَعًا

ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا جعفر کی خبر نہیں اور ان کے رونے کا ذکر کیا تو اسے حکم دیا کہ انہیں روک دے وہ کہا اور وہ بار بار آیا کہ وہ میرا گناہ نہیں
فَقَالَ لَهُمْ وَأَتَاهُ الثَّلَاثَةُ فَأَرَادَ اللَّهُ غَلْبَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَعَمْتَنِي قَالَ فَاحْتَمَى فِي أَوْاهِمِنَ النَّزْرَافِ

فرمایا انہیں روک دے مجھ پر تیری مرتد آپ کے پاس آیا اور عرض کیا خدا کی قسم وہ مجھ پر غالب نہیں حضرت عائشہ کمان کرتی تھیں آپ نے فرمایا ان کے منہ
فَقُلْتُ أَرَأَيْتَ اللَّهُ لَأَفْلَأِمَ تَفْعَلُ فَأَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَرْتَدَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحَتَاةِ

میں نے کہا خدا تیری ناک کو مٹی لگائے (تو تو ذلیل ہوا جس بات کا حکم رسول اللہ صلعم نے دیا وہ تو نہ کر سکا اور رسول اللہ صلعم کو کئی دفعے سے بھی باز نہ
عورت چلاتی ہوتی آئی۔ جیسے دوسری روایت میں ہے تو ابو موسیٰ نے ہوش آنے پر اس قسم کے تمام افعال سے بیزاری کا اظہار کیا۔ اور کہا

کہ رسول اللہ صلعم ان سے بیزار تھے۔ ۵۳۳ اور ۵۳۴ میں لطمہ الخذود کی جگہ ضرب الخذود ہے۔ اور کوئی فرق نہیں ہے۔ علیٰ یہ
غزوہ موتہ کا ذکر ہے۔ آنحضرت صلعم نے اس ہم پر تین ہزار کا لشکر بھیجا۔ اور زبیر بن عارضہ کو امیر فوج بنایا۔ اور فرمایا۔ اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر
امیر بنے اور وہ شہید ہو جائیں تو عبد اللہ بن رواحہ۔ تو یہ تینوں کی جگہ دیگرے شہید ہوئے۔ تو ان مجاہدین کی شہادت سے آپ کو ہمت بڑھ گیا۔ حضرت عائشہ
نے اس شخص پر افسوس کیا جو رسول اللہ صلعم کے حکم کی تعمیل میں عورتوں کو گریہ و زاری کرنے سے باز رکھا۔

علیٰ
نبی کریم صلعم کی
پیشگوئی کے مطابق
سعد بن خولہ تک زندہ
رہے۔ اور خاندان
عراق اور ایران
ان کے ہاتھ سے
فتح کر آئے۔ ان کی
وجہ سے عرب کو
فتح حاصل ہوئی
اور ایرانیوں نے
ان سے شکست
پائی۔ علیٰ
سعد بن خولہ بھی
مجاہدین میں سے
تھے۔ اور مکہ سے
سینہ ہجرت کی تھی
وہ مکہ میں وفات
پاگئے تھے۔ نبی
کریم صلعم نے اپنی
افسوس ظاہر کیا۔
اس سے عنوان پر
کا تعلق ہے۔
علیٰ یہ جاہلیت
کی ایک یہودہ ہم
تھی۔ جو ابھی تک
مہندوں میں باقی
ہے۔ کہ کسی عزیز
کی موت پر سہ
ڈراؤمی تو یہ سب
منڈوا ڈالنے
ہیں۔ علیٰ یہ
اس وقت کا واقعہ
ہے۔ جب ابو موسیٰ
حضرت عمر کی طرف
سے بصرہ کے امیر
تھے۔ انہیں غصہ
آجائے پر ان کی

سین علیٰ ذالک

۵۲۵ عَنْ أَنَسٍ (متکرر ۵۷۶) بَابُ مَنْ لَمْ يَظْهَرْ حُزْنَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

دیکھو حدیث نمبر ۵۷۶ بَابُ مَنْ لَمْ يَظْهَرْ حُزْنَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ اجْزَمُ الْقَوْلُ السَّبِيُّ وَالظَّنُّ السَّبِيُّ وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ حَكِيمٍ

السَّلَامَةُ مَا أَشْكُوا بَيْتِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ (۶۹) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ

أَشْكِي ابْنَ لَأَبِي طَلْحَةَ قَالَ فَمَاتَ أَبُو طَلْحَةَ خَارِجًا فَأَمَارَاتُ مَرَأَتِهِ أَنَّهَا

قَدُمَاتُ هَيَاتُ شَيْءًا وَتَحْتَهُ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ فَأَمَّا جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ كَيْفَ

الْغَلَامُ قَالَتْ قَدْ هَدَا نَفْسَهُ وَأَرْحَوَانُ يَكُونُ قَدْ اسْتَدْرَحَ وَظَنَّ أَبُو طَلْحَةَ أَنَّهَا

صَادِقَةٌ قَالَ فَبَاتَ فَلَئِمَّا أَصْبَحَ اغْتَسَلَ فَأَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَحَلَمَتْ أَنَّهَا قَدْ

مَاتَ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا

كَانَ مِنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُبَارِكَ لَكُمْ فِي لَيْلَتِهَا

قَالَ سَفِيَانٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَرَأَيْتَ تَسْمَعُ أَوْلَادَكُمْ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ

بَابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدَقَةِ الْأُولَى وَقَالَ عُمَرُ لِعَمْرِ الْعَدْلَانَ وَنِعْمَ الْعِلَاوَةُ

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أَوْلِيَاكُمْ عَلَيْهِمُ صَلَواتُ

مَنْ زَمِيهِمْ وَرَحْمَةُ وَأَوْلِيَاكُمْ هُمْ الْمُهْتَدُونَ وَقَوْلُ تَعَالَى وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ

عنا اس کے الفاظ
یہ ہیں گفت
ہو رسول اللہ صلعم
شہرہ اس میں
القرآن غارت
رسول اللہ صلعم
حزن خزانہ
اشد مند اس سے
ثابت ہوا کہ وہ تو
کی مخالفت پر
رنگ ایک قدرتی
اس سے نہیں
یعنی اگر ایک شخص
عم کو دوائے اور
آئے ظاہر ہونے
وہ تو یہ اس ظاہری
تعارف سے حضرت
یعقوب کا ذکر یہاں
لا تا اور ان سے
اس قول کا کہ میں
اپنی پریشانی اور
غم کی شکایت
اللہ تعالیٰ ہی سے
کرتا ہوں صاف
یہ ظاہر کرنے کیلئے
ہے کہ انہوں نے
اپنے غم کو حضرت
یوسف کے خدا
پر جانے پر تھا
لوگوں پر ظاہر نہیں
ہونے دیا اور
یقیناً کہ آپ دن رات
روتے رہتے تھے
جس سے نامینا بھی

اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول صبر اور نماز کے ذریعہ مدد حاصل کرو

ہو گئے صحیح نہیں ہے۔ علیٰ ایک روایت میں ہے کہ ابو طلحہ کی بیوی اسمیہ نے ابو طلحہ سے کہا کہ اگر کوئی قوم کسی کو کچھ سامان عاریتاً دیدے پھر اسے پس لینا چاہے اور وہ
تاریخ جو ہائے تو کیا ہے ابو طلحہ نے کہا اس کا کوئی حق نہیں تو بیوی نے کہا کہ پھر صلے دیا تھا اور اس کے پاس لے لیا بیوی باجرت اور صاحب ہنگام اور مجیدہ بیوی
تھی۔ نہ صرف خود سچ کا اظہار نہیں کیا بلکہ خاندان کو بھی معقول بیویوں میں صبر کی تلقین کی اور جو پہلے الفاظ انہوں نے کیے ہیں وہ بھی غلط نہ تھے کیونکہ وہ کسی
مرتب سے ترقی کر رہی تھی اور سب دکھوں سے کام لیں گیا تھا۔ مگر لفظ ایسے تھے کہ ابو طلحہ کا دھڑکیاں نہ کیا بلکہ یہی نہیں ارادہ تھا کہ وہ اپنے عدل عدل
یعنی راہی کے ہے۔ گمان ہے کہ ابو طلحہ نے اس کے بعد ایک عدل اس کے لئے ہی کہ وہ دن میں دوسرے کے برابر نہ تھے۔ دونوں طرفوں کے درمیان جو پوچھ
رکھا جاتا ہے اسے علاوہ حضرت عمر نے عدل اور علاوہ میں ان تین باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صبر کو تینوں کیلئے بطور اہتمام
بیان فرمایا ہے یعنی صلوات رحمت کو عدل قرار دیا ہے اور اہل کفر کو علاوہ صلوات سے ملو یہاں گناہوں کی بخشش اور ان سے مخالفت ہے اور رحمت
یہ ہے کہ آپ صبر و تحمل کے ساتھ ہر چیز پر صبر و تحمل کی تھی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا کام لیں گے۔ جس طرح
علاوہ سے اونٹ کے بوجھ کی تکمیل ہوتی ہے

عنا اس آیت
 میں رستہ بتا رہے
 کہ مصیبت کا مقابلہ
 کس طرح کرے تو
 دو باتیں بتائیں
 ایک میری مصیبت
 اور مشکلات کے
 وقت اپنے آپ کو
 روک کر رکھنا اور
 بہت دکھانا اور
 تشریح کرنے سے
 بچنا اور دوسرے
 صلوة یعنی مذکے
 حضور صلی اللہ علیہ
 سے مدد مانگنا اور
 دعا مانگنا اور نماز میں
 بھی یہی کچھ کرنا
 ہے اس کے الفاظ
 یہ ہیں یعنی عن النبی
 صلوات اللہ علیہ
 عند الصدق الاولی
 اور بات یہ ہے
 کہ ہمیں تو خود میر
 آگاہی سے غرض فریب
 سے بچنے کا وہی وقت
 ہے جب مصیبت
 پہلے آتی ہے
 حضرت ابراہیم علیہ السلام
 صلوات اللہ علیہ کے
 اور تبلیغ کے بعد
 سے تھے۔ اور اگر مصیبت
 کی سبب ان کو وہی
 پلائی تھی شہر خرابی
 میں ہی ان کا انتقال
 اپنی رضاعی ماں کے
 گھر ہو گیا۔ اولاد
 اور یہ معلوم ہے
 فرق سے معلوم ہے

وَأَنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَشِيِّينَ (۵۲۶) عَنْ أَنَسٍ (متكرر ۶۷۸) بَابُ قَوْلِ

اور یہ مشکل ہے مگر نہ ان پر جو عاجزی اختیار کرتے ہیں اور

الَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَا وَسَلَّمَ إِنَّا بِكَ لَحَزُونُونَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ ہمیں تیری قبر سے غم ہے اور ابن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی

سَلَّمَ تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ (۶۷۹) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلْنَا مَعَ

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دل میں غم ہے انس بن مالک سے روایت ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَيِّفِ الْقَيْنِ وَكَانَ ظَنُّوا لَأَبْرَاهِيمَ فَأَخَذَ

کے ساتھ انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور وہ ابراہیم کی (رضاعی) ماں کا شوہر تھا

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمَ وَقَبْلَهُ وَشَمَّاهُمْ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَ

تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کو روک دیا اور اسے بوسہ دیا اور سو گھبرا پھر اس کے بعد ہم اس کے پاس گئے اور

إِبْرَاهِيمَ ثُمَّ يَجُودُ بِنَفْسِهِ جَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدْرِيانِ فَقَالَ لِي

حضرت ابراہیم دم توڑ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو عبد الرحمن

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ يَا ابْنَ عَوْفٍ يَا هَارِجًا

بن عوف نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ بھی خرابا اسے ابن عوف یہ دعت ہے

ثُمَّ أَنْتَ يَا حُرِّيَّ فَقَالَ إِنْ الْعَيْنُ تَدْمَعُ وَالْقَلْبُ يَحْزَنُ وَإِنَّهُ لَقَوْلُ

پھر دوسری مرتبہ روئے اور فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دل متحوم ہے اور ہم

إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَحَزُونُونَ بَابُ الْبُكَاءِ عِنْدَ

صرف وہی کہتے ہیں جب ہمارا رب راضی ہو۔ اور ابراہیم کی تیری جدائی سے غمگین ہیں یہ باب بیار کے پاس

الْمُرِيضِ (۷۰۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَشَكَوْهُ

ہوئے اور عبد الرحمن نے کہا سعد بن عبد اللہ کسی بیماری سے بیمار

ہذا عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہا سعد بن عبد اللہ کسی بیماری سے بیمار

لَهُ فَمَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ لَمَعَ عَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدُ

بن عبد الرحمن کے لئے عبد الرحمن بن عوف اور سعد

ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ فِي غَاشِيَةٍ أَهْلًا

بن ابی وقاص اور محمد بن مسعود کے ہمراہ نشتر لیا ہے جب آئے اس کے پاس پہنچے تو انہیں اس حالت میں پایا

فَقَالَ قَدْ قَضَى فَقَالُوا أَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَبْلَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا سَأَى

کہ ان کے گھر والے ان کے گھر میں تھے مگر فرمایا کیا اندر گئے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے جب

الْقَوْمِ مَبْكَاءً النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَوْا فَقَالَ لَا تَسْمَعُونَ اللَّهُ لَا يُعَذِّبُ مَعَ الْعَيْنِ

لوگوں نے آپ کو روئے دیکھا تو وہی کہنے لگے آپ نے فرمایا سن لو کہ خدا تمہارے آنسو اور دل کے غم کی وجہ سے غائب نہیں دیتا

اور یہ معلوم ہے

فرق سے معلوم ہے

علیہ ساعتہ حرجی ہیں علیکم یا المؤمنین رؤف رحيم۔ حدیث نمبر ۶۹۶ میں گذر چکا ہے کہ جعفر ابن واہب

وخیوی وقت پر آپ کس طرح معلوم تھے پس اپنے بچے کی وفات پر معلوم ہوا اس لیے اس وقت کی وجہ سے تھلا گیا غاشیہ غشی سے ہے

اس کے معنی تو دکھنا ہیں اور غاشیہ بیدارہلہ سے مراد ان کے اہل و عیال ہیں جو اس وقت انہیں نہیں بوسے ہوئے تھے جماعۃ غاشیہ اور

بعض روایتوں میں اہلہ کا لفظ نہیں۔ تو اس صورت میں مراد ان کا بے ہوش ہونا یا جاگنے کا کہیں نہ غاشیہ اس آفت کو بھی کہا جاتا

ہے جو عام ہو کر چھا جاتی ہے

وَلَا يُحْرَنُ الْقَلْبُ لَكِنْ يُعَذَّبُ بِهَذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ أَوْ بِرَحْمَةِ رَبِّهِ
لیکن اس کی وجہ سے عذاب دیتا ہے اور زبان کی طرف اشارہ کیا یا دم کرتا ہے اور میت کو اسپر

بِكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَكَانَ عَمْرٌ رَضِيَ قَبْرَهُ بِالْعَصَا وَيُرْمَى بِالْحِجَارَةِ وَيُحْتَمَى بِالطَّرَابِ
آگے گھر والوں کے رونے پر عذاب دیا جاتا ہے عا اور حضرت عمر ایسی حالت میں لاشخ اور گھروں سے نکلے اور منہ پر کھان

بَابُ مَا يَنْهَى عَنِ النَّجْوِ وَالْبِكَاءِ وَالزُّجْرِ عَنْ ذَلِكَ رَمَاهُ ۵۲۷ عَنْ عَائِشَةَ رَمَتْكَ
بچھتے عا باب نوحہ اور منے کی ممانعت اور اسپر جوڑی دینا دیکھو حدیث نمبر

۶۹۷ (۷۹۱) عَنْ أُمِّ عَصِيْبَةَ قَالَتْ أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْدًا
۶۹۷ ام عطیہ سے روایت ہے بنی صلعم نے بیعت کے وقت تم سے عیب

الْبَيْعَةَ أَنْ لَا نَنُوحَ فَمَا وَفَتْهُنَّ امْرَأَةٌ غَيْرُ مَسْنُونَةٍ أُمُّ سَلِيمٍ وَأُمُّ الْعَلَاءِ وَابْنَةُ
لیا کہ ہم نوحہ نہیں کریں گے تو اسے پانچ عورتوں کے سوا کسی نے پورا نہیں کیا عا ام سلیم اور ام

رَبِي سَبْرَةَ أَمْرَأَةٌ مُعَاذٍ وَأَمْرَأَةٌ ابْنِ أَبِي سَبْرَةَ وَأَمْرَأَةٌ مُعَاذٍ أَمْرَأَةٌ
اور ابو سبرہ کی بیٹی معاذ کی بیوی اور دو عورتیں اور ابو سبرہ کی بیٹی اور معاذ کی بیوی اور

أُخْرَى بَابُ الْقِيَامِ الْجَنَائِزِ رَمَاهُ ۵۲۸ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَمَتْكَ
ایک اور عورت باب جنازے کے لئے اٹھنا دیکھو حدیث نمبر ۶۰۲

بَابُ مَتَى يَقَعُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَائِزِ (۷۰۲) عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى
باب جنازے کے لئے اٹھنے تو کب بیٹھے عامر بن ربیعہ بنی صلعم

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَأَلَ أَحَدُكُمْ جَنَائِزَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَأْشِيًا
سے روایت کرتا ہے دنیا جب تم میں سے کوئی اور جنازہ دیکھے تو اگر اس کے ساتھ نہیں جاتا تو

مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يَخْلِفَهَا أَوْ تَخْلِفَهُ أَوْ تَوْضِعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَخْلِفَهَا
کھڑا رہے یہاں تک کہ جنازے کو پیچھے چھوڑ دے یا جنازہ لے پیچھے چھوڑ دے یا اسے پیچھے چھوڑنے سے پہلے رکھ جائے عا

۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

بھڑکے اس قدر محبت آپ کو اپنے صحابہ سے تھی۔ سعد اس بیماری سے شفا پا گئے۔ یہاں آ گیا یہ زمانہ کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب تو
ہے یا تو اس سے ہے کہ میت سے مراد مرہین ہے کہ ان کی گریہ و زاری سے اسے تکلیف ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ سعد پر میت کا لفظ
نہر لاجا سکتا تھا۔ اور یا جیسا نمبر ۶۹۴ کے نوٹ میں گذر چکا۔ یہ وہ صورت ہے جب مرنے والا بھی اسی رسم کا موید ہو۔ اور بیکار
سے مراد یہاں روہ ہے نہ صلعم کی کہ میت سے ایسی سختی مروی نہیں بلکہ صرف روکنا ثابت ہے۔ نمبر ۶۹۷ میں صرف یہ لفظ آئے ہیں
کہ حسب بار بار آپ سے یہ کہا گیا کہ جعفر کی عورتیں نوحہ کرنے سے نہیں رکھیں تو آپ نے فرمایا ان کے موہنوں میں مٹی ڈال۔ تو یہ لفظ بقول
رضی اللہ عنہما۔ خود اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ واقعی مٹی ڈال گئی ہو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ نے بھی اسے محض زجر کا کلمہ سمجھا۔
حضرت عمر نے کھن کے کسی موقع پر ان الفاظ کو ظاہر فرمایا کہ عقی سے کام لیا ہو۔ مگر سنت نبوی کریم صلعم کا عمل ہی ہے۔ اور یہی صحیحی آپ کے عمل میں
نہیں ہے۔ بہت خفیف اختلاف لفظی سے نمبر ۶۹۷ کو دوہرایا ہے نہ ہم یہ مطلب نہیں کہ ان پانچ کے سوائے سب کمان عورتیں نوحہ نہ کر سکتیں
بلکہ یہ کہ جن خاص عورتوں نے اس بات پر بیعت کی تھی ان میں سے ان پانچ کے سوائے اور ان کے اقرار کو پورا نہیں کیا۔ یہ معلوم نہیں ہوتا۔ کہ
نبی کریم صلعم سب عورتوں سے نوحہ کرنے کی بیعت لیتے تھے۔ عا اس کے لفظ یہ ہیں اذلا یتدا الجنائزۃ فحقوا حتی تخلفوا اور ایک
روایت میں ہے جس میں اور وضع زیادہ ہے۔ یہ قیام میت کی تخفیف کے لئے ہے اور اظہار ہمدردی کے لئے ہے جس سے میت کے
آفرین بھی اچھا اثر پڑتا ہے۔ مسلمانوں میں اس پر بالکل عمل نہیں رہا۔ رسول اللہ صلعم یہودی کے جنازے کے لئے بھی کھڑے ہو گئے
جس سے معلوم ہوا کہ مسلم اور غیر مسلم دونوں کے جنازے کو یہ حکم شامل ہے عا یتخلفوا او تخلفه۔ مسلم اور نسائی میں صحیحی تخلفہ
ہے۔ شک نہیں۔ یہاں تک کہ جنازہ اسے پیچھے چھوڑ دے۔ لیکن جنازہ آگے نکل جائے۔ اور یہی درست ہے۔ اس پر
یہاں تک عمل مفقود ہوا ہے۔ کہ اسے منسوخ کہہ دیا گیا ہے۔ حالانکہ آج عیسائی تو اس اسلامی حکم پر عمل نہیں
اور وہ جنازے کی تعظیم کرتے ہیں، جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹوپی اتارتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو
کچھ کہہ دینا نہیں پتہ

(۵۲۹) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (متکرر) يَأْتِي مِنْ تَبَعِ جَنَازَةٍ فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى

دیکھو حدیث نمبر ۵۲۹۔ باب جو جنازے کے ساتھ جائے تو نہ بیٹھے

تَوْضَعَهُ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ فَإِنْ قَعَدَ أَمْرًا لِقِيَامِ (۵۳۰) عَنْ كَيْسَانَ قَالَ

جب تک کہ جنازہ لوگوں کے کندھوں سے اٹاکر زمین پر نہ رکھا جائے اور اگر بیٹھ جائے تو اسے کھڑا ہونے کو کہا جائے

كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ أَبُو بَهْرَةَ يَدَ مَرْوَانَ فَجَلَسَا قَبْلَ أَنْ تَوْضَعَ فَجَاءَ أَبُو

کیسان سے روایت ہے کہ ہم ایک جنازے کے ساتھ تھے تو ابو بھر نے مروان کا ہاتھ پکڑا اور دونوں بیٹھ گئے اس سے پہلے کہ وہ رکھا جائے

سَعِيدٍ قَالَ فَأَخَذَ مَيْدِ مَرْوَانَ فَقَالَ قَوْلَ اللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ لِهَذَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَنَّ

تو ابو سعید گئے اور مروان کا ہاتھ پکڑا اور کہا میں نے خدا کی قسم یہ جانتے ہیں کہ نبی صلعم نے ہمیں اس سے روکا ہے

ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو بَهْرَةَ صَدَقَ بَابٌ مِنْ قَامَ جَنَازَةٌ يَهُودِيٌّ (۵۳۱) عَنْ جَابِرِ بْنِ

ابو بھرہ نے کہا صحیح کہتے ہیں باب جو یہودی کے جنازے کیے کھڑا ہونے

عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَرَّ بِجَنَازَةٍ فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَمْنَا فَقُلْنَا

جبرائیل سے روایت ہے کہ ہم پر ایک جنازہ گذرا تو نبی صلعم اس کے لئے کھڑے ہوئے اور ہم بھی کھڑے ہو گئے

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا جَنَازَةٌ يَهُودِيٌّ قَالَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا

ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ یہودی کا جنازہ ہے فرمایا جب جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو۔

(۵۳۲) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ

عبدالرحمن بن ابی لیلی سے روایت ہے کہ سہل بن حنیف

وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَ بَيْنَ يَدَيْهِمَا فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ

اور قیس بن سعد قاعدسیہ میں بیٹھے تھے تو لوگ ایک جنازہ لئے ہوئے ان پر گزرتے

فَقَامَا فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهُمَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ

تو وہ دو کھڑے ہو گئے ان سے کہا کیا یہ اس زمین کے رہنے والوں ہیں یا یہ ہیں ذمیوں میں سے ہے

فَقَالَ الْإِنِّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ

انہوں نے کہا نبی صلعم پر سے ایک جنازہ گذرا تو آپ کھڑے ہوئے

فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا جَنَازَةٌ يَهُودِيٌّ فَقَالَ أَلَيْسَتْ نَفْسًا رَوِيًّا

آپ سے عرض کیا گیا کہ یہ یہودی کا جنازہ ہے آپ نے فرمایا کیا وہ جان (انسان) نہیں ہے اور

رَوَايَةٌ) فَقَالَ كَتَمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ زَكَرِيَاءُ عَيْنِ

ایک روایت میں ہے کہ ہمیں دونوں نے کہا نبی صلعم کے ساتھ تھے اور زکریا نے سنا

الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ أَبُو مَسْعُودٍ وَقَيْسُ لَيْقُومَانَ الْجَنَازَةَ

ابن ابی لیلی سے روایت کرتے ہوئے کہا ابو مسعود اور قیس جنازے کے لئے کھڑے ہو جایا کرتے تھے

علا اس کے الفاظ میں
یہ ہیں اذرا تبت
الجنازة فقوموا
فمن تبعها فلا يقعد
حتى توضع جوازها
كسائے جانے وہ
نہ بیٹھے تک کہ
جنازہ نہ رکھی جائے
ع
حاکم کی روایت
میں ہے کہ مروان
کھڑے ہو گئے۔
اس سے ثابت
ہوتا ہے کہ صحابہ
ہنگام کوئی پہنچانے
میں بیت ویر تھے
اور حاکم رسول اللہ
صلعم کے زمان
سے سرکاری ہیروئن
نہ کرتے تھے۔
مروان کا بیٹے بیٹے
جاننا صرف واقعت
کی وجہ سے تھا۔
ع
حالانکہ یہودیوں
کو مسلمانوں کے
ساتھ سخت عداوت
تھی۔ اور ان کی تباہی
میں کوشاں رہتے
تھے۔ مگر حضرت
صلعم کے اخلاق
کی یہ وسعت تھی
کہ نہ صرف ایک
یہودی کے لئے
جنازہ کے لئے
کھڑے ہوئے
بلکہ یہ بھی فرمایا
کہ جنازہ میں مشرک اور غیر مسلم کا فرق نہ کرو۔ جب جنازہ دیکھو کھڑے ہو جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ آنحضرت صلعم کی
ان عداوت پر کسی طرح عمل کرتے تھے۔ ذمی غیر مشرک رعایا تھی۔ کیوں کہ وہ مسلمانوں کے عہد کے نیچے رہتے تھے
اور یہاں اسے اہل الارض بھی کہا ہے جس سے روایت کراو ہے۔ یا اس زمین کے اصل باشندے۔ کیوں کہ مسلمان ہاں
بحیثیت فاتح گئے تھے۔ اور قاعدسیہ سرزمین ایران میں تھا۔ عہد کس قدر پاک تعلیم ہے۔ یہودی ہونا عیسائی
آخر انسان ہے۔ اور یہ فرض انسانیت کا ہے۔ کہ اس کے جنازہ کی عزت کی جائے۔ آج مسلمانوں کے جنازوں
پر مسلمان متحضر اور استہزاء کرتے ہیں، اسلام کا دعویٰ اور عمل کی یہ حالت ہے۔

علا اس کے الفاظ میں
یہ ہیں اذرا تبت
الجنازة فقوموا
فمن تبعها فلا يقعد
حتى توضع جوازها
كسائے جانے وہ
نہ بیٹھے تک کہ
جنازہ نہ رکھی جائے
ع
حاکم کی روایت
میں ہے کہ مروان
کھڑے ہو گئے۔
اس سے ثابت
ہوتا ہے کہ صحابہ
ہنگام کوئی پہنچانے
میں بیت ویر تھے
اور حاکم رسول اللہ
صلعم کے زمان
سے سرکاری ہیروئن
نہ کرتے تھے۔
مروان کا بیٹے بیٹے
جاننا صرف واقعت
کی وجہ سے تھا۔
ع
حالانکہ یہودیوں
کو مسلمانوں کے
ساتھ سخت عداوت
تھی۔ اور ان کی تباہی
میں کوشاں رہتے
تھے۔ مگر حضرت
صلعم کے اخلاق
کی یہ وسعت تھی
کہ نہ صرف ایک
یہودی کے لئے
جنازہ کے لئے
کھڑے ہوئے
بلکہ یہ بھی فرمایا
کہ جنازہ میں مشرک اور غیر مسلم کا فرق نہ کرو۔ جب جنازہ دیکھو کھڑے ہو جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ آنحضرت صلعم کی
ان عداوت پر کسی طرح عمل کرتے تھے۔ ذمی غیر مشرک رعایا تھی۔ کیوں کہ وہ مسلمانوں کے عہد کے نیچے رہتے تھے
اور یہاں اسے اہل الارض بھی کہا ہے جس سے روایت کراو ہے۔ یا اس زمین کے اصل باشندے۔ کیوں کہ مسلمان ہاں
بحیثیت فاتح گئے تھے۔ اور قاعدسیہ سرزمین ایران میں تھا۔ عہد کس قدر پاک تعلیم ہے۔ یہودی ہونا عیسائی
آخر انسان ہے۔ اور یہ فرض انسانیت کا ہے۔ کہ اس کے جنازہ کی عزت کی جائے۔ آج مسلمانوں کے جنازوں
پر مسلمان متحضر اور استہزاء کرتے ہیں، اسلام کا دعویٰ اور عمل کی یہ حالت ہے۔

عنا اس کے الفاظ
 میں یہی حال نبی
 مسلم تدفون
 البوم رجل صالح
 میں الحبدش
 فضيلة افضلوا
 عليه تال انصفنا
 فضي النبي صلعم
 ونحن صفون
 وقال ابو الزبير
 عن جابر كنت
 في الصفا الثاني
 ان حديثي
 جنازه عائشة اور
 قبر جنازه کا ذکر
 ہے جس سے ان پر
 کا جواز ثابت ہوتا
 ہے نہ اس کی
 اعتبار میں ہوتی ہے
 ان رسول اللہ صلی
 علیہ وسلم و
 بقدر وقت ایلا
 فقال حتى دفن
 هذا افتاء الوالکبار
 قال فلا زنتونی
 قالوا فانه في
 طلة الليل ثم هنا
 ان وقتك
 فصفنا خلفه
 قال ابن عباس
 وانا فيهم فضلي
 عليه ہ اس وقت
 ابن عباس بالغ
 نہ تھے ماسی سے

(۵۳۵) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (متكلم) ٤٦) بَابُ صُفُوفِ الصَّبِيَّانِ مَعَ الرِّجَالِ

وہیجو حدیث نمبر ۴۶ عا باب جنازوں میں بچوں کا رکوع کے ساتھ

عَلَى الْجَنَائِزِ (۵۳۶) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكلم) ٤٧) بَابُ سُنَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى

شامل ہو کر صفیں باندھنا وہیجو حدیث نمبر ۴۷ عا باب جنازے پر نماز کی سنت

الْجَنَائِزِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي الْجَنَائِزِ وَقَالَ صَلُّوا عَلَيَّ

عسے اور نبی صلعم نے فرمایا جو جنازے پر نماز پڑھے اور فرما لے اپنے

صَاحِبَيْكُمْ وَقَالَ صَلُّوا عَلَيَّ فِي النَّجَاشِيِّ سَمَّاهَا صَلَاةٌ لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ

ساختی پر نماز پڑھ لو اور فرمایا نجاشی پر نماز پڑھو اسے نماز کہا اس میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ

وَلَا يُتَكَلَّمُ فِيهَا وَفِيهَا تَكْبِيرٌ وَسَلِيمٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّي إِلَّا ظَاهِرًا وَلَا

اور اس میں بات نہ کی جائے اور اس میں تکبیر اور سلام ہے اور ابن عمر جب تک باوجود ہونے جنازہ نہ پڑھے اور

يُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ غُرُوبِهَا وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَقَالَ حَسَنٌ إِذْ رَكَتَ النَّاسُ

آفتاب کے طلوع اور اس کے غروب کے وقت نہ پڑھتے عک اور ہاتھ اٹھاتے تھے اور حسن کہتے ہیں میں نے لوگوں

وَأَحْفَمُ عَلَى جَنَائِزِهِمْ مِنْ رُضْوَةِ لِقَاءِ أَيْضُهُمْ فَإِذَا أَحْدَثَ يَوْمَ الْعِيدِ أَوْ

کہر لیا ان کے جنازوں پر زیادہ عقدارہ ہوتا ہے وہ اپنے فرض نمازوں کے لئے پسند کرتے تھے اور جب عید کے

عِنْدَ الْجَنَائِزِ يَطْلُبُ الْمَاءَ وَلَا يَتَبَتَّعُكُمْ وَإِذَا اتَّيْتُمْ إِلَى الْجَنَائِزِ وَهُمْ لَيُصَلُّونَ

دن یا جنازے کے وقت وضو مانگا ہے تو پانی کی تلاش کرے اور تم نہ کرے یا اور جب جنازے پر پہنچے اور وہ نماز پڑھ

يَدْخُلُ مَعَهُمْ تَكْبِيرَةً وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيْبِ يُكَبِّرُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالسَّفَرِ وَالْحَضَرِ

رہے ہوں تو اللہ اکبر کہتے ساتھ مل جائے اور ابن مسیب کہتے ہیں رات اور دن اور سفر اور حضر میں

أَرْبَعًا وَقَالَ أَنَسُ التَّكْبِيرَةُ الْوَاحِدَةُ اسْتِفْتَا حُرِّمٌ الصَّلَاةِ وَقَالَ عَزْرُوجَلٌ وَلَا

کے اور انس کہتے ہیں ایک تکبیر نماز کے شروع کرنے کے لئے ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان

تُصَلِّي عَلَى أَحَدِهِمْ قَاتِلًا أَوْ فِيهِ صُفُوفٌ وَإِمَامُهُمُ ٥٣٥) عَنْ الشَّعْبِيِّ

(متكلم) ٤٨) بَابُ فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَقَالَ سُرَيْدُ بْنُ تَابِتٍ إِذَا

عنا باب جنازے کے ساتھ جانے کی فضیلت اور زید بن ثابت کہتے ہیں جب

صَلَّيْتُ فَقَدْ فَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ وَقَالَ مُمَيْدُ بْنُ هَلَالٍ مَا عَلِمْنَا عَلَى

نہ نے جنازہ پڑھا تو جو حق پھر پڑھا تو نے ادا کر دیا اور حمید بن ہلال کہتے ہیں ہم جنازہ پڑھ کر

باب کے عنوان
 کا تعلق ہے
 بن اور کپڑے کا پاک ہونا یا وضو ہونا اسے بقا تبدیل اس میں بات چیت نہ کرنا امام کے پیچھے جماعت فرما لیں کی
 طرح صفیں باندھنا یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ جنازہ میں دعا کے علاوہ اور بھی چند خصوصیات ہیں جس سے جنازہ
 اور دعاؤں کی نسبت امتیاز رکھتا ہے البتہ جنازہ میں صرف قیام ہے رکوع سجدہ نہیں ہذا شافعیہ کے نزدیک طلوع
 اور غروب کے وقت بھی جنازہ پڑھنا جائز ہے شافعیہ اور امام ایوسف کے نزدیک قریب تر عز زید بن ثابت اور امامت ہے
 بعض کے نزدیک جب نماز جنازہ فوت ہونے کا خوف ہو تو تم کھلے ہذا اس کے الفاظ میں ۵۳۵ سے ملتے جلتے ہیں
 قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ نَبِيَّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرِ مَنْ سَمِعَ رُؤْيَا مَنَّا فَصَمَمْنَا خَلْفَهُ فَضَلِينَا فَكُنَّا
 كَمَا أَمَّا عَمْرُو وَمَنْ حَدَّثَكَ قَالَ لِبْنِ عَبَّاسٍ اس میں لفظ صَلَّيْنَا آتا ہے اور امامت اور صفوں
 کا بھی ذکر ہے اس سے استدلال کیا ہے

شرعیات کی اصطلاح میں جنازہ پڑھنے کو صلاۃ کہا گیا ہے ترہ شرائط نماز پڑھنے کی ہیں وہ جنازہ کی بھی ہیں جیسے
 بن اور کپڑے کا پاک ہونا یا وضو ہونا اسے بقا تبدیل اس میں بات چیت نہ کرنا امام کے پیچھے جماعت فرما لیں کی
 طرح صفیں باندھنا یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ جنازہ میں دعا کے علاوہ اور بھی چند خصوصیات ہیں جس سے جنازہ
 اور دعاؤں کی نسبت امتیاز رکھتا ہے البتہ جنازہ میں صرف قیام ہے رکوع سجدہ نہیں ہذا شافعیہ کے نزدیک طلوع
 اور غروب کے وقت بھی جنازہ پڑھنا جائز ہے شافعیہ اور امام ایوسف کے نزدیک قریب تر عز زید بن ثابت اور امامت ہے
 بعض کے نزدیک جب نماز جنازہ فوت ہونے کا خوف ہو تو تم کھلے ہذا اس کے الفاظ میں ۵۳۵ سے ملتے جلتے ہیں
 قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ نَبِيَّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرِ مَنْ سَمِعَ رُؤْيَا مَنَّا فَصَمَمْنَا خَلْفَهُ فَضَلِينَا فَكُنَّا
 كَمَا أَمَّا عَمْرُو وَمَنْ حَدَّثَكَ قَالَ لِبْنِ عَبَّاسٍ اس میں لفظ صَلَّيْنَا آتا ہے اور امامت اور صفوں
 کا بھی ذکر ہے اس سے استدلال کیا ہے

الْجَنَازَةُ إِذْ نَاقَا وَلَكِنْ مَنْ صَلَّى شَمْرَجَةَ فَلَهُ قَبْرًا ط (۷۰۷) عَنِ ابْنِ

عَمْرٍو أَنَّ أَبَاهُ هَرِيرَةَ يَقُولُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ فَلَهُ قَبْرًا ط فَقَالَ أَكْثَرُ

أَبُو هَرِيرَةَ عَلَيْهِمَا فَصَدَّقَتْ بِعَنِي عَائِشَةُ أَبَا هَرِيرَةَ وَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ فَقَالَ ابْنُ عَمْرٍو لَقَدْ فَرَطْنَا فِي قَرَارِيطٍ كَثِيرَةٍ فَرَطْتُ

صَيَّعْتُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ بِأَبٍ مَنْ أَنْظَرَ حَتَّى يَدُفِنَ (۷۰۸) عَنْ أَبِي هَرِيرَةَ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَلَهُ قَبْرًا ط

وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى يَدُفِنَ كَانَتْ لَهُ قَبْرًا طَانٍ قِيلَ فَمَا قَبْرًا طَانٍ قَالَ امْتِلِ الْجَبَلَيْنِ

الْعَظِيمَيْنِ بِأَبِ صَلَوةِ الصَّبِيَّانِ مَعَ النَّاسِ عَلَى الْجَنَازَةِ ر (۷۰۹) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

(مُتَكَرِّرٌ ۶۷) بِأَبِ الصَّلَوةِ عَلَى الْجَنَازَةِ بِالصَّلَةِ وَالْمَسْجِدِ ر (۷۱۰) عَنْ أَبِي

هَرِيرَةَ (مُتَكَرِّرٌ ۶۷) (۷۰۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَأَمْرًا زَنِيًّا قَامَ بِهِمَا فَرَجَمَا فَرِيضًا مِنْ مَوْضِعٍ

الْجَنَازَةِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ بِأَبِ مَا يَكْرَهُ مِنْ التَّحَاذِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْقُبُورِ وَكَمَا

جَنَازَةَ كَيْفَ كَرِهَ الْمَسْجِدَ بِنِهَايَةِ الْمَسْجِدِ بِنِهَايَةِ الْمَسْجِدِ بِنِهَايَةِ الْمَسْجِدِ

بِنِهَايَةِ الْمَسْجِدِ بِنِهَايَةِ الْمَسْجِدِ بِنِهَايَةِ الْمَسْجِدِ بِنِهَايَةِ الْمَسْجِدِ

عام طور سے طریق ہے کہ جنازہ پڑھ کر لوگ اولیاء و میت سے واپس آنے کی اجازت چاہتے ہیں یا وہ خواہ اجازت کا اعلان کر دیتے ہیں، اگر ایسا نہیں ہے اور مالک سے بھی منقول ہے کہ جنازہ پڑھ کر لوگ اپنی اجازت لینے کی ضرورت ہے اور میت سے مراد صحیح اس کے متعلق مردی ہیں امام بخاری نے محمد بن طلحہ سے اس کی روایت نقل کی ہے، اگر مالک کا یہ روایت ہے کہ اجازت لینا شرط نہیں لیکن عمر بن ۴۷ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

دفن کرنا بھی شامل ہے۔ لیکن اختیار ہے کہ دفن کرنے تک پھیرے یا جنازہ پڑھ کر واپس آجائے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ اس وقت بھی امام و میت کے متعلق تحقیق و تمقیق سے کام لیا کرتے تھے، یعنی دفن کرنے کے لئے نہیں جاتے تھے بلکہ الفاظ حسب ذیل ہیں: یا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرا اذنا و اھذا اذنی اور فینت الباس حتمہ قال ابنت عباس نصفنا خلفہ ثم صلی علیہا۔ ابن عباس اس وقت چھوٹے تھے، امام بخاری کے نزدیک مسجد یا عید گاہ میں جنازہ پڑھنا جائز ہے، بعض نے اسے ناپسند کیا ہے۔ لیکن حضرت عمر کا جنازہ ابو بکر و حضرت عمر کا جنازہ مسجد میں پڑھا جاتا ہے، اس کے لفظ یہ ہیں نبی لنامہ رسول اللہ صلحہ النجاشی صاحب الجہشتہ الیوم الذی مات فیہ ذقکال استغفر و الاخصیکہ اس کی دوسری روایت میں ہے ان النبئی صلحہ صف ہم بالصلی فکبیر علیہ (اس لئے کہ عید گاہ میں جنازہ پڑھا۔ مگر یہ ثابت ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ جنازہ پڑھنے کے لئے خاص جگہ مقرر تھی اور لوگوں میں جنازہ پڑھا جاتا تھا، بظاہر عند المسجد شریب من من ضیع الجنائز سے بدل ہے اور مسجد سے مراد عید گاہ ہے، مطلب یہ ہوا کہ جنازہ پڑھنے کی جگہ عید گاہ تھی۔ عید گاہ میں جب جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ تو مسجد میں بھی جائز ہے۔

مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ضَرَبَتْ امْرَأَتُهُ الْقَبْلَةَ عَلَى قَبْرِهِنَّ سَنَةً ثُمَّ رَفَعَتْ
 حسن بن حسن بن علی علیہ السلام کی بیوی نے ان کی قبر پر سال بھر تھپکائی اور رکھ کر اٹھا دیا
فَسَمِعُوا صَوْتًا يَقُولُ الْاَهْلُ وَجَدُوا مَا فَقَدُوا وَاقَابُهَا لَخَيْرٌ لِمَنْ يَسْئُرُهَا فَالتَّقْبِيلُ
 تو ایک پکارنے والے کو کہتے ہوئے سنا کیا جو انہوں نے کھویا تھا پایا تو دوسرے نے اُسے ابھرا دیا وہیں بکھانا اور کھولتے
رَمَدُ ۵۲۷ عَنِ عَائِشَةَ (مُتَكَرَّرٌ ۳) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّفْسَاءِ اِذَا مَاتَتْ فِي
 عہدِ دیکھو حدیث نمبر ۳۰۴ ۵۲۷ باب نفاس والی پر نماز پڑھنا جب وہ زچہ
نِفَاسِهَا رَمَدُ ۵۲۷ عَنِ سَمُرَةَ (مُتَكَرَّرٌ ۲۲) بَابُ اَيِّنْ يَقُومُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ
 کی حالت میں مردانے دیکھو حدیث نمبر ۲۲۲ ۵۲۷ باب عورت اور مرد کے (جنازہ میں) اس جگہ کھڑا ہو
(رَمَدُ ۵۲۷) عَنِ سَمُرَةَ ابْنِ جُنْدُبٍ (مُتَكَرَّرٌ ۲۲) بَابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزَةِ اَرْبَعًا
 دیکھو حدیث نمبر ۲۲۲ ۵۲۷ باب جنازے پر چار تکبیریں کہنا اور
وَقَالَ مُدَّةٌ عَلَى بَعَاثِ فَاكْبُرْنَا ثَلَاثًا سَلَّمَ فُقِيلَ لَهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقَبْلَةَ ثُمَّ
 سمیہ نے کہا اس نے ہیں نماز پڑھانی تو تین تکبیریں کہیں اور سلام پھیرا تو اسے کہا گیا تو قبضہ کر کے اور
كَبَّرَ اَلرَّابِعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ رَمَدُ ۵۲۳ عَنِ ابْنِ هُرَيْرَةَ (مُتَكَرَّرٌ ۶۷) (رَمَدُ ۵۲۲) عَنِ
 پورے تکبیریں پھر سلام پھیرا ۵۲۳ دیکھو حدیث نمبر ۶۷ ۵۲۲ دیکھو حدیث
جَابِرٍ (مُتَكَرَّرٌ ۶۷) بَابُ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَائِزَةِ وَقَالَ الْحَسَنُ
 نمبر ۶۷ ۶۷ باب سورہ فاتحہ پڑھنا اور حسن کہتے ہیں
يُفْرَأُ عَلَى الطِّفْلِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فِرَاطًا وَسَلَفًا وَ
 بچے پر سورہ فاتحہ پڑھی جائے اور پڑھے اے اللہ اسے بنا کر ایسے جیسا ہوا (سامان) اور اسے علی علیہ السلام
اَجْرًا ۷۰۹) عَنِ طَلْحَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ
 اور (موجب) ابیر بن طلحہ بن عبد اللہ بن عوف سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس کے پیچھے جنازہ کی
عَلَى جَنَائِزَةٍ فَقَرَأْتُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ لَتَعْلَمُوْا اَنْهَا سُنَّةٌ بَابُ
 نماز پڑھی تو سورہ فاتحہ پڑھ کر فرمایا تاکہ جان لو کہ سنت ہے باب
الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ مَا يَدْفَنُ (رَمَدُ ۵۲۵) عَنِ الشَّعْبِيِّ (مُتَكَرَّرٌ ۶۷) عَنِ
 قبر پر (سنت کے) دفن ہونے کے بعد نماز پڑھنا دیکھو حدیث نمبر ۶۷ ۵۲۵

عہدِ اس میں کوئی
 تصریح نہیں کہ
 پکارنے والا کون
 تھا شاید نبی والا
 پورا طور الباقی
 آئی یا کوئی انسان
 مردوں جنہوں نے
 حسن بن حسن کی
 بیوی کو سمجھا یا کہ
 قبر پر سال بھر
 رہنے سے کیا
 بالآخر صبر کیے بغیر
 جا رہے نہیں تو
 پیتے ہی سے صبر
 کرنا اچھا تھا اس
 حدیث میں مسجد
 بنانے کی کرامت
 کا کوئی ذکر نہیں
 لیکن غلام ہے
 کہ تکبیر میں وہ
 نبی کی نماز تھی
 پڑھتی ہوگی۔
 الفاظ روایت
 حسب ذیل ہیں
 عن النبي صلى
 قال في مرضه الذي
 مات فيه لعن الله
 اليهود والنصارى
 اتخذوا قبورا انبياءهم
 مساجدات ول

لا والله لا ترفقوا بي اخشى ان يقذفن صخرة في راسي من بين يديهم كما يفعلون قبره من قبل ان يدفنوه
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اگر وہ درختوں کی کٹی ہوئی شاخوں کو اس کی قبر پر ڈال دیتا ہے تو وہ اسے
 نہیں بولی تھی مسجد کی تعمیر کے بعد حضرت عائشہ کے حجروں کی شکل منگوتی کر دی گئی تاکہ نماز پڑھنے وقت اس کی طرف کوئی رخ نہ کر سکے جو کہ صلیبیوں نے اپنے قبیلے کو اپنی
 احتیاط طور پر کیا لیکن مسلمانوں کی قبروں کو مسجد کرتے ہیں نہ سڑے اس کے الفاظ میں صلیبتیوں اور انہی صلیبوں علی امراۃ امتی فی نقاسھا قفا علیھا وسطھا
 سڑے الفاظ روایت ہیں جو عام ۵ کے ہیں اور وہ اور درختوں کی شاخیں ہیں اس سے روایت ہے کہ وہ مرد کا جنازہ پڑھتے وقت اس کے سر کے برابر اور عورت کا جنازہ پڑھتے وقت
 وسط کے برابر کھڑے ہونے اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے امام بخاری نے اس کے ضعف کی طرف اشارہ کر کے دونوں کا حکم ایک ہی قرار دیا کہ میت کے وسط کے برابر
 کھڑا ہو مردوں کا عورت ہونے سے صحابہ کا عمل آپ ان میں مختلف تھا زید بن ارقم سے اور ابن مسعود سے روایت ہے کہ وہ پانچ تکبیریں پڑھا کرتے تھے حضرت علی سے پچھرا اور پانچ اور ایک روایت
 ہے اور ابن عباس سے تین کی۔ امام ابو نعیم میں ہے کہ حضرت عمر نے اگر کوئی تکبیریں پڑھ کر جنازہ پڑھ کر دیا تو اسے عذاب ہے کہ جنازہ میں اپنے پانچ تکبیریں پڑھ
 سات پانچ تکبیریں پڑھ کر کہ اس کے الفاظ نمبر ۶۷ کی طرح ہیں نہ یہاں صرف اس قدر کہ اس وقت تکبیریں پڑھ کر دیا جائے ان میں کسی خاص شے کا نام نہیں آیا
 گیا ہے نہ عمر لڑائی اور نسائی نے اور امام ابو نعیم میں سے روایت ہے کہ نماز جنازہ میں سنت ہے کہ اللہ اکبر کہے پھر ام القرآن یعنی فاتحہ پڑھے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رود بھیجے
 پھر میت کیسے اغوا سے دُعا مانگے تاکہ نہ ابن عباس کے لفظوں میں اس طرح حکایت کی کہ اور میت کیسے دُعا مانگے اور ابن عباس نے پڑھی جس طرح نقل کی ہے اللہ عزوجل
 وان عبد الله صبح فقرب الى رحمتك انت منى عن هذا اهل كان انيا ذكره لان كان خلفنا من غفر له اللهم لحنى مما احيى ولا تقبلنا لبعده ولا يمدح حدیث کی دفعہ گذر کر کے اس روایت کے الفاظ نمبر ۵۲۷

۵۴۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرر ۳۲۱) بَابُ لَمَيَّتٌ لِيَسْمَعَ حَقَّقَ التَّعَالَى (۱۰)

دیکھو حدیث نمبر ۳۲۱ سے باب مردہ جوڑوں کی آواز سننا ہے

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَبْدُ إِذَا وَضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى
انسان بنی صلعم سے روایت کرتے ہیں زمانہ جب قبر میں انسان رکھ دیا جاتا ہے

وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى آتَاهُ لِيَسْمَعَ قَرَعَ نِعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَاقْعَدَاهُ
اور اس کے سامنے دو بیچے سرور کر چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ اُنکے جوڑوں کی آواز سننا ہے۔ تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے

فَيَقُولَانِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٌ فَيَقُولُ شَهَدَاةُ عَبْدِ اللَّهِ وَ
بجانتے ہیں اور اسے کہتے ہیں تو اس شخص محمد کے متعلق کیا کہتا تھا اُنکے تو کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کا بندہ اور

رَسُولُهُ فَيَقَالُ النَّظْرُ إِلَى الْمُقْعَدِ مِنَ النَّارِ أَيْدِكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ
اُس کا رسول ہے تو اسے کہا جاتا ہے اُن میں اپنی جگہ کی طرف دیکھ جانا اُس کے بدلے مجھے جنت میں جگہ دی

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُرَاهُمْ جَمْعًا وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوْ الْفَاسِقُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي
تو وہ ان دونوں کو دیکھنے سے گامگ اور کافر یا منافق کہے گا مجھے علم نہیں

كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيَقَالُ لَا دَرِيءَ لَكَ لَمْ يَضْرِبْ بِمِطْرَقَةٍ
جو رک کہتے تھے میں بھی کہتا تھا تو کہا جائیگا نہ تو مجھ سے گامگ اور وہ جھوٹے کی ہرڑی کی ہرڑی اُس کے دونوں کانوں کے درمیان

مَنْ حَبِيْبٍ ضَرْبَةٍ بَلِيْنٍ اذْنَيْهِ فَيَصِيْبُهُ صَيْبَةٌ لِيَسْمَعَ مَا مِنْ تَلِيْهِ اِلَّا التَّقْلِيْنِ
اُسے کے اڑنے کی ایک چوٹ لگانا جائیگی۔ تو وہ ایک بیچے مارے گا جو اُس کے قریب میں اُسے سن لیتے ہیں سرگتے جن اور انسانوں کے

بَابُ مَنْ أَحَبَّ الدَّنَنَ فِي الْأَرْضِ الْمَقْدَسَةِ أَوْ حَوَّهَا رَأَى
باب جو ارض مقدس یا اسی طرح کی دلد زین میں دنن ہونے کو پسند کرے

أُرْسِلَ مَلَكَ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى فَلَمَّا جَاءَهُ صَدَّقَهُ فَقَعَّدَهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ
زشتہ حضرت موسیٰ کی طرف بھیجا گیا حبیب اُنکے پاس آیا تو اُسے اُسے کہہ چکے اور اُس کی آنکھ پھیر ڈالی وہ اپنے رب کی طرف

أَسَأَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لِأُرِيْدَ الْمَوْتَ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ رَجِعْ فَقُلْ لِيَضَعُ يَدَكَ
کہیں گیا اور عرض کیا تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا پسند کرتا ہے۔ تو خدا نے اُس کی آنکھ پھیر لی اور اُسے اُس سے کہہ کر اپنا ہاتھ اُنکے سینے کی

عَلَى مَائِنِ ثَوْبِهِ لِكُلِّ مَعْظَةٍ بِهَيْدَةٍ كُلِّ شَعْرَةٍ مِنْهُ قَالَ أَعْرَبْتُ لَكُمْ مَاذَا أَقَالَ تَمَّ الْمَوْتُ
پس پھر اُنکے ہاتھ کے نیچے اُنکے سر میں اُس کے ہاتھ میں دھر ہو کر اُس نے کہا اُنکے سر سے روبرو کیا اور کہا یا اے خدا

اسیامی دوبارہ جہازہ پڑھا میں درست ہے علم مردوں کے سخن کے متعلق قرآن کریم میں بالخصوص اُنکے لاشعیر الموتی تو مردوں کو نہیں سنا سکتا کیونکہ اس عالم سے اُن کا قطع
مور جاتا ہے۔ اور قبر میں ہلا لگے کا مردہ سے سوال و جواب بھی سب پر عادی ہے یعنی مسلمان منافق کا فر سے سوال و جواب ہوتا ہے جیسا کہ حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں

لیکن ظاہر ہے کہ لاشوں اور مردوں کی گھاس کے مردے اُن میں جلائے جاتے ہیں اور ان کی شریاں زمین پر کھلی پر جوڑ جاتی ہیں اور پتیرے ایسے ہیں جن کی لاشیں محفوظ رہتی
ہیں اور وہاں کوئی مردہ کسی کو بھیجا ہوا نظر نہیں آیا جس سے معلوم ہوا کہ مردے کا یہ احساس اور اس سے یہ سوال و جواب اس عالم سے نہیں بلکہ دوسرے

عالم سے متعلق رہتا ہے اور اصل میں یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ اس عالم سے انقطاع کے بعد انسان کا انتقال ایک نئے عالم میں ہوتا ہے اور وہ عالم
ایک حقیقت ہے اور اس میں زندگی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ اور وہاں اس عالم کے اعمال پر ایک رنگ میں جزا دلزا بھی مرتب ہوتی ہے

حدیث نمبر ۲۷۰ میں بھی مومن اور منافق کے سوال و جواب کا ذکر ہے۔ اسی سے اس سے معلوم ہوا کہ مومن کو وہیں دوزخ کا نظارہ بھی کرا دیا جاتا
ہے اور بہشت کا بھی۔ حالانکہ بہشت اور دوزخ قبرستان کے اندر نہیں ہوتے اس سے معلوم ہوا کہ ان سب آئوں کا متعلق دوسرے عالم سے

ہے۔ علامہ نمبر ۲۷۰ میں قالیسبح صورتہا کل شئی الا الانسان لیضے مردہ کی آواز کو سونے انسان کے سر پر جوڑتی ہے اور یہاں قالیسبح ہم من علیہ الا التقلین
یعنی جن مانس کے سوا جس کے قریب میں اس کی بھیج دیکار سنتے ہیں یہاں جن کو سنتے کہ دیا۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ گورانا یا مردے کی آواز اس عالم سے

متعلق نہیں کہتی۔ بلکہ دوسرے عالم سے متعلق کہتی ہے اور کانوں کے درمیان چوٹ ٹھکانے سے یہ اشارہ ہے۔ اس سخن کی آواز کو نہ سنا اور اپنے کانوں کا صحیح استعمال نہ کیا۔
تعلق نہیں کہتی۔ بلکہ دوسرے عالم سے متعلق کہتی ہے اور کانوں کے درمیان چوٹ ٹھکانے سے یہ اشارہ ہے۔ اس سخن کی آواز کو نہ سنا اور اپنے کانوں کا صحیح استعمال نہ کیا۔

۳۲۱) عن ابی ہریرۃ
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

قَالَ قَالَ إِنَّ فَسَّالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمِيَةً حَجْرًا قَالَ

عمر بن الخطاب کی تو اس میں ہی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے حج کی مہر کی مقدار ارض مقدسہ سے قریب کرے رسول اللہ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَو كُنْتُ مِمَّنْ لَأَرِيْتُمْ قَبْرَكَ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ

اسلم نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو راستے کے کنارے پھر پھر تجھے کے پاس آن کی قبر

الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ يَا بَدْفِنِ بِاللَّيْلِ وَدْفِنِ أَبُو بَكْرٍ لَيْلًا (۵۲۷) عَنْ ابْنِ

تھیں دکھا دیتا ہے باب رات کو دفن کرنا اور ابو بکر رات کو دفن کئے گئے دیکھو حدیث

عَبَّاسٍ (متکرر ۶۷۶) بِأَبِ بَسَاءِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْقَبْرِ (۵۲۸) عَنْ عَائِشَةَ

نمبر ۶۷۶ سے باب قبر مسجد پر جانا دیکھو حدیث نمبر ۲۹۹

(متکرر ۲۹۹) بِأَبِ مَنْ يَدْخُلُ قَبْرَ الْمَرْأَةِ (۵۲۹) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متکرر

باب عورت کی قبر میں کون اترے دیکھو حدیث نمبر ۶۹۰ سے

(۶۹۰) بِأَبِ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ (۱۲) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى

باب شہید پر نماز جنازہ پڑھنا جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے نبی صلعم

عَلَيْهِمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ شَيْءٍ أَحَدُهُمَا يَتَوَلَّى أَحَدَهُمَا يَقُولُ أَيُّهُمَا التَّوَّابُ أَخَذَ الْقُرْآنَ

اُحَدُكَ مَقْتُولُونَ ہیں سے دو آدمیوں کو ایک کپڑے میں اکٹھا کرتے تھے پھر فرماتے تھے میں سے کس نے قرآن زیادہ حفظ کیا تھا۔

فَأَذَّأْتِيْدُكَ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدْ مَرَّ فِي الْحَدِّ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هُوَ لَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ

جب ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ میں اُسے کرتے اور فرمایا میں قیامت کے دن انکا گواہ ہوں اور

أَمْرِيْدُ قِيَامَتِهِمْ فِي دَعَائِهِمْ فَلَمْ يُعْسَاوْا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ (۱۳) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ

اُسکے خون میں انہیں دفن کرنے کا حکم دیا اور نہ انہیں غسل دیا گیا اور نہ ان پر نماز پڑھی گئی ۱۳ عن عقبہ بن عامر سے روایت ہے

۱ زیادہ سے زیادہ یہ
۲ کہا کہ ابو بکر کی
۳ ہے۔ رسول اللہ صلعم
۴ کا یہ فرمودہ نہیں البتہ
۵ رسول اللہ صلعم کی
۶ طرف اس قدر اٹھاؤ
۷ منسوب ہیں کہ میں
۸ راستے کے کسی ایسے
۹ پر حضرت موسیٰ کی قبر
۱۰ تھیں دکھا دیتا ہوں
۱۱ معلوم ہوتا ہے کہ
۱۲ آپ کو کشت میں
۱۳ حضرت موسیٰ کی قبر
۱۴ دکھائی گئی اور آپ
۱۵ اس کے متعلق فرمایا
۱۶ کہ میں نے اس صفائی
۱۷ سے اسے دیکھا ہے
۱۸ کہ اگر میں وہاں جاتا تو
۱۹ تھیں دکھا دیتا اور
۲۰ اس کی وجہ سے کہ
۲۱ بائبل میں ہے کہ
۲۲ آج کے دن تک کسی
۲۳ اس کی قبر کو نہیں جانتا

(انتشا ۶۵۳۲) اور ارض مقدسہ سے قریب کہا جانے میں شائد اشارہ ان باتوں کی طرف ہے جو اشتہار باب ۳۲ کے شروع میں مذکور ہیں یعنی یہ کہ حضرت موسیٰ کی قبر کا مکان
نے وہ زمین دکھائی جہاں نبی اسرائیل نے داخل ہونا تھا۔ مگر آپ اس میں داخل نہیں ہوئے، باقی کہانی جو ملک الموت کے مشرفیہ تشریح گانے اور اس کی آنکھ پھوٹنے
اور اس کے پاس چلا جانے کے متعلق ہے یہ سب قصہ جو کسی راوی نے بنایا ہے یا سن بیہودی سے سن کہ حضرت ابو بکر کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ یا خود
حضرت ابو بکر نے کسی بیہودی سے سن کر بیان کر دیا ہے۔ اور پھر اسے نبی کریم صلعم کے کسی کشت سے غلط ملکہ کر دیا ہے۔ یہ تمام یہی قرآن حکم اور احادیث صحیحہ کی
صراحت کے خلاف ہیں اور کتاب التبیان میں جو اس کے آخر میں یہ نظر میں عن النبی صلعم خود توجہ تو رہی اس آخری ٹیوٹ کے متعلق ہیں ہاں اس کی تبدیلیوں ہوتی ہے
لما شئتی النبی صلعم ذکر بعض منسأہ کنیسنہ را تھا باوض الخبشہ یقال لہا ماریہ وکانت امرسلۃ واه حبیبة انا ارض الحبشۃ فذکس نامن حسنہا
وقضا ویونہا ذرفع راسہا نقال۔ باقی مضمون نمبر ۲۹۹ کا ہے اس میں نبی کریم صلعم نے فرمایا کہ یہ لوگ جب کوئی نیک آدمی مرتا ہے تو اس کی قبر پر مسجد بناتی ہے
یعنی قبر کی پرستش شروع کر دیتے۔ اس سے قبرستان میں خدا کی عبادت کے لئے مسجد بنانے کی ممانعت ثابت نہیں ہوتی ہاں الفاظ قریباً نمبر ۶۹۰ کے ہی میں
مگر اس کے آخر میں ہے قال ابن المبارک قال فیصلح اراہ یعنی الذنب وقال ابو عبد اللہ لیفتوا لیکتبوا ایمنہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ قلعیح کے خیال میں
لو یقارف کے معنی یہ ہیں کہ گناہ نہ کیا ہو۔ اور بخاری کتابت ہے کہ قرآن میں جو لیتوا فرما ہے اس کے معنی ہیں تاکہ گناہ کریں دیکھو حدیث نمبر ۶۹۰ پر نوٹ ۶۔ مگر اس
باب میں دو حدیثیں نام بخاری لاسے ہیں اور دو نوٹ شدہ اے اُحد کے متعلق ہیں پہلی میں ہے کہ شہداء اے اُحد کو نہ غسل دیا گیا نہ اُنکا جنازہ پڑھا گیا۔ دوسری
میں ہے کہ ایسے ان پر ایسی نماز پڑھی جیسی میت پر پڑھی جاتی ہے۔ قرآن اصل میں بعد کا واقعہ ہے۔ تو اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ شہداء اُحد کا جنازہ پڑھنے
کی حاجت نہیں اور اس وقت شائد اس کے لئے پڑھا ہو کہ آپ خود فرمائی تھے۔ اور صحابہ میں سے بھی بہت سے پھر دفن کرنے کا کام تھا۔ تو آپ نے
اسی کو مقدم کیا۔ اور بعد میں جنازہ پڑھی گئی۔ دونوں حدیثوں کو اکٹھا پڑھنے سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ شہداء پر نماز جنازہ واجب نہیں جیسے دوسری حدیث
پر لیکن جائز ہے اور شائد اس میں ضروریات ہرگ کا بھی لحاظ رکھا گیا ہو۔ عاں ایسے وقت میں نہ اس قدر پائی جاتا ہے کہ سب کے غسل دیا جائے اور پائی کے ہوتے
ہوئے بھی غسل دینے میں حرج عظیم ہے اسی لئے کفن کی ضرورت بھی نہ سمجھی گئی۔ اور کپڑوں میں دفن کئے گئے نیز زخموں کے خون نہ ہونے میں اور ان پر جنازہ
نہ پڑھنے میں ان کی عظمت شان کا اظہار بھی مقصود ہے کہ خدا کے ساتھ ایسی صورت میں ملاقات کریں اور انہوں نے اپنی مغفرت کے لئے ایسی حجت قائم
کر دی کہ ان کے لئے اور ان کی مغفرت مانگنے کی ایسی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ خدا کی راہ میں قتل ہونے کی عظمت کی طرف توجہ دلائی ہے معہ الفاظ حدیث میں
ہیں صلعم النبی صلعم علی رجل بعد ما دن ہلبیلة قام هو وصحابہ وكان سائل عنه فقال من هذا قالوا فلان دنن البارحۃ فسلوا علیہ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّ عَلَى أَهْلِ أَحُدٍ صَلَوَتَهُ عَلَى الْمَدِينَةِ ثُمَّ
 الصَّوْفَ إِلَى الْمَنَابِرِ فَقَالَ إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَظُنُّ الْحَيَاةَ
 الْآخِرَةَ وَأِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ وَمَفَاتِيحَ الْأَرْضِ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ
 عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِي بَابِ مَنْ فِي الْحَيَاتِينَ
 وَالثَّلَاثَةِ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ (م ۵۵۵) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (م ۱۲) بَابُ مَنْ
 لَمْ يَرَعْ عَسَلَ الشَّهَادَةِ (م ۵۵۵) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (م ۱۲) بَابُ مَنْ يَقْدُمُ فِي الْحَدِّ
 قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَلِمَةٍ مُلْتَمِدًا مَعْدَلًا وَلَوْ كَانَ مُسْتَقِيمًا كَانَ
 ضَرْحًا (م ۵۵۲) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (م ۱۲) بَابُ الْأَذْخْرِ الْأَحْسَنِ فِي
 الْقَبْرِ (م ۵۵۳) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (م ۹) بَابُ هَلْ يُخْرَجُ مِنَ الْمَيِّتِ مِنَ الْقَبْرِ وَاللَّحْدِ بَعْدِي

عَلَى أَهْلِ أَحُدٍ صَلَوَتَهُ عَلَى الْمَدِينَةِ
 میں آتا ہے کہ یہ
 آٹھ سال جنگ احد
 کے بعد کا واقعہ ہے
 گویا آپ احد کے
 بعد سارے سات
 سال کے حکم زندہ
 رہے لیکن اس وقت
 کے الفاظ بتاتے ہیں
 کہ آپ کی وفات
 کے قریب کا واقعہ
 ہے اور جو کٹر کو
 دیکھنے میں اشارہ کرتے
 آؤں میں طرف ہی
 نہیں جہاں کثیر القاتل
 آپ کو اور آپ کے
 ساتھیوں کو کھٹے والے
 تھے بلکہ اس کی کثرت
 کی طرف ہی اشارہ
 ہے جو آپ کی امت
 کو اس دنیا میں کھٹے
 والی مٹی کو بھیجا یا
 کر یہ دونوں قسم کی
 کثرت ایسی یقینی

بہی صلعم ایک دن
 قرابہ احد پر نماز پڑھی جس طرح میت پر نماز پڑھتے ہیں
 دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں
 یازمین کی کنجیاں دی گئیں
 اور خدا کی قسم مجھے تم پر یہ
 خوف نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو گے کہ میری موت ہے کہ تم اس دنیا کو اپنا لقب العین بنا لو گے بآب دو یا تین
 اور اس کا ایک قبر میں دفن کرنا
 دیکھو حدیث نمبر ۵۱۲
 بآب جو
 دیکھو حدیث نمبر ۱۱۲
 بآب جو
 دیکھو حدیث نمبر ۱۱۲
 بآب جو
 دیکھو حدیث نمبر ۹۶
 بآب جو

ہے۔ کہیں اسے اتنا انکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور پھر اس کے بعد زمین کی کنجیاں مجھے نہیں تمہاری طرف اشارہ کیا۔ اور اسی کی طرف آخری لفظ بھی اشارہ کرتے ہیں
 کہ مجھے دیکھ کر اس کثرت سے کہ تم کو دنیا میں ہی نہ ملے گا۔ یعنی الحقیقت کھلی پیش گوئی تھی، جو صراحت کے ساتھ پوری ہوئی کہ اہل امت کو کثرت حاجات
 دینی جیسے ضروری گئیں۔ اور ساری زمین ان کے تصرف میں آگئی۔ مگر دنیا پر تھک گئے اس لئے حکومت ان کے ہاتھ سے لے لی گئی۔ اور یہ پیش گوئی بھی پوری ہوئی۔ کہ
 عرب میں پھر تہمت پرستی نہیں آئی۔ اس میں نمبر ۱۱۲ کا صرف ایک ٹکڑا دہرا ہے ان الذی صلعم کان یصح بین الہجرتین من قبضۃ احد کے بعد کے دن انصاری نے
 آنحضرت صلعم سے نرم اور تکلیف کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ فریح قبر کھو دو اور دو اور تین کو ایک قبر میں دفن کرو ضرورت کی وقت یہ جائز ہے۔ یہ بھی نمبر ۱۱۲ کا
 صرف ایک ٹکڑا ہے۔ قال النبی صلعم او فترحم فی دما تم یعنی یوما احد ولد لعنہم نہ عک الحد اصل میں کسی چیز سے عدول اور پھر جانے کو کہتے ہیں جو
 دن سے مائل ہوا اسے ملحد کہتے ہیں محدود جو قبر کے وسط سے مائل ہوتی ہے اس لئے اسے ملحد کہتے ہیں اور جو درمیان میں گر جاوے اسے ضرر پہچ اور تین کہتے
 ہیں ملحد۔ قرآن شریف میں آتا ہے۔ اس کے معنی ہائے پناہ ہیں۔ عہ نہایت خفیف تغیر فعلی ہے شہید کے بعد جو مہالیمہ کا لفظ نہیں اور آخر میں
 غسل اور جنازہ کا ذکر آگے چکے ہے۔ زیادہ قرآن جانتے والے کو سمجھ میں آگے کیا۔ اسی سے عنوان باب ہے۔ نمبر ۱۱۲ کو پورا لاکر ہمیں اس کی ایک روایت یوں
 بیان کی ہے قال کان رسول اللہ صلعم یقول لقتلی احدی ہولاء اکثر اخذوا للقران فاذا اشیرلہ الی قبرہم قالوا فی اللحد قبل صاحبہ وقال
 جابر بن عبد اللہ فی غمہ واحدنا جابر کے والد کے ساتھ جو دفن کیا گیا تھا وہ عمر بن الجموح عبد اللہ بن عمرو والد جابر کا دوست اور ان کی بہن
 بندہ بنت عمر کا شوھر تھا۔ جابر نے اس روایت میں اسے یعنی جی غلط کیا ہے غمہ دھاری دار چادر کو کہتے ہیں۔ یہاں اختصار سے حدیث کو بیان
 کیلئے عن النبی صلعم قال لہم اللہ مکتہ فلہم لحد قبلہ ولا یحل لحد بعدہی احدت لی ساعد من نھا را یحتملنی خلاھا ولا یحصد نجرھا
 ولا ینقص صیدھا ولا تلغظ لغظھا الا المعروف فقال العباس الا الاذخر لاصاعتنا وقتونا فقال الا الاذخر اور آخر میں ہے کہ ایک
 روایت میں ہے یقینہم ویو تہم یعنی جب آپ نے حرمت مگر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی گھاس دکائی جائے۔ نہ درخت کا ٹانھا
 نہ اس کا شکار بھجایا جائے۔ نہ وہاں کی پٹی ہوئی چیز اٹھائی جائے۔ سوائے اس کے جو اسے فنا ختم کرانا چاہے۔ اور عباس نے کہا سوائے
 اذخر کے (جو ایک نرم گھاس ہے) ہمارے سرداروں اور قبروں کے لئے، اور دوسری روایت میں ان کے ہاروں اور گھروں کیلئے

عبارت الفاظ
 میں قدرے تفسیر
 زیادہ ہے اتنی
 یہو اللہ صلعم
 عبد اللہ بن ابی
 سلمہ اور حضرت
 فامرہ فافرج
 فرضہ علی بکیتہ
 ونفت ذہ من
 دھتہ السنۃ
 کان کساعبا سا
 لیتصا قال سفینا
 وقال ابو ہریرہ
 کان علی رسول اللہ
 صلعم فزیان فقال
 لہ ابن عبد اللہ
 یا رسول اللہ اللہ
 ائی فیصلۃ اللہ
 علی جسدک قال
 سفیان فمروا
 ان اللہ صلعم اللبس
 عبد اللہ قبضہ
 مکانا قلم صلعم
 یعنی رسول اللہ
 صلعم عبد بن ابی
 اس وقت آئے
 حیت قبر میں رکھا
 ماحکا تھا تو آپ
 نے ٹھہرا اور اسے

۸۵۵۱۷

۸۵۵۱۸

۸۵۵۱۹

۸۵۵۲۰

۸۵۵۲۱

(مر ۵۵۱) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (مُتَكَرِّرًا ۶۸۳) (۱۲) عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا حَضَرَ أَحَدٌ

دیکھو حدیث نمبر ۶۸۳

دَعَانِي أَبِي مِمَّنِ اللَّيْلِ فَقَالَ مَا أَرَانِي إِلَّا مَقْتُولًا فِي أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ

صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنِّي لَأُتْرِكُ بَعْدِي أَعْرَ عَلِيٌّ هَذَا غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لَأُتْرِكُ بَعْدِي أَعْرَ عَلِيٌّ هَذَا غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لَأُتْرِكُ بَعْدِي أَعْرَ عَلِيٌّ هَذَا غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لَأُتْرِكُ بَعْدِي أَعْرَ عَلِيٌّ هَذَا غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لَأُتْرِكُ بَعْدِي أَعْرَ عَلِيٌّ هَذَا غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لَأُتْرِكُ بَعْدِي أَعْرَ عَلِيٌّ هَذَا غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لَأُتْرِكُ بَعْدِي أَعْرَ عَلِيٌّ هَذَا غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لَأُتْرِكُ بَعْدِي أَعْرَ عَلِيٌّ هَذَا غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لَأُتْرِكُ بَعْدِي أَعْرَ عَلِيٌّ هَذَا غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لَأُتْرِكُ بَعْدِي أَعْرَ عَلِيٌّ هَذَا غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لَأُتْرِكُ بَعْدِي أَعْرَ عَلِيٌّ هَذَا غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لَأُتْرِكُ بَعْدِي أَعْرَ عَلِيٌّ هَذَا غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لَأُتْرِكُ بَعْدِي أَعْرَ عَلِيٌّ هَذَا غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لَأُتْرِكُ بَعْدِي أَعْرَ عَلِيٌّ هَذَا غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لَأُتْرِكُ بَعْدِي أَعْرَ عَلِيٌّ هَذَا غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لَأُتْرِكُ بَعْدِي أَعْرَ عَلِيٌّ هَذَا غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لَأُتْرِكُ بَعْدِي أَعْرَ عَلِيٌّ هَذَا غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لَأُتْرِكُ بَعْدِي أَعْرَ عَلِيٌّ هَذَا غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لَأُتْرِكُ بَعْدِي أَعْرَ عَلِيٌّ هَذَا غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لَأُتْرِكُ بَعْدِي أَعْرَ عَلِيٌّ هَذَا غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لَأُتْرِكُ بَعْدِي أَعْرَ عَلِيٌّ هَذَا غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لَأُتْرِكُ بَعْدِي أَعْرَ عَلِيٌّ هَذَا غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لَأُتْرِكُ بَعْدِي أَعْرَ عَلِيٌّ هَذَا غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

تکلا گیا۔ تو آپ نے اسے اپنے گھٹنوں پر رکھا اور اس پر فتوک ڈالا اور اسے اپنی قمیض پہنائی اور اس (صلعم) نے کبھی عباس کو قمیض پہنائی تھی۔ اور رسول اللہ صلعم اس وقت دو قمیض پہنے ہوئے تھے تو عبد اللہ کے بیٹے نے آپ کو عرض کیا یا رسول اللہ میرے باپ کو وہ قمیض پہنائیے جو آپ کے چہرے سے ملی ہوئی ہے سفیان کہتا خیال کیا جاتا ہے کہ نبی صلعم نے عبد اللہ کو اس کے معاوضہ میں قمیض پہنائی جو اس نے کیا تھا (یعنی عباس کو قمیض پہنائی تھی) ہاں اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ نبی صلعم سے کس قدر محبت صحابہ کو تھی۔ مالا کہ ماہر لینے باپ کے اکلوتے بیٹے تھے اور باقی سب ہمیں تھیں ہاں مؤظاہرین عبد الرحمن بن حصصہ سے ہے کہ عمرو بن الجعد اور عبد اللہ بن عمر انصاری ایک قبر میں تھے۔ سیلاب نے ان کی قبر کو کھودنا شروع کیا تو ان کی قبر کو کھود گیا تاکہ دوسری جگہ دفن کے جائیں۔ اور یہ احد کے چھالیس سال بعد کا واقعہ ہے، ہو سکتا ہے کہ جابر نے پاس ہی دوسری قبر کھود کر لینے والا کہ اس میں دفن کیا ہو اور کمال اتصالی کی وجہ سے دونوں قبریں ایک ہی صلعم ہوئی ہوں اور یا موطا کی روایت میں کسی راوی کو غلطی لگی ہوئے علی نمبر ۱۱۱، کا صرف آخری حصہ یہاں دوبارہ ان الفاظ میں آیا ہے قال دفن صلعم ابي وحی فلما ذهب ليقب لفضی حتى احترقته فحججته فی قبر علی صدقہ ۱۱۱ نمبر ۱۱۱ کو دہرایا ہے من فحججته احد کے بعد ہی قب و احد اور آخر میں لوطیوں علیہم نہیں ہے۔ حدیث میں ذکر ہے کہ زیادہ قرآن جانتے والے کو آپ نہیں آکے کرتے اور عثمان باب میں خود اور شقی (جو قبر کے وسط میں ہوتا ہے) دونوں قبریں قبروں کے انتہا امام بخاری کا یہ ہے کہ ایک کو لکھیں رکھا جاتا جو زیادہ قرآن جانتا تھا تو دوسرے کو شقی میں اور یوں جواز دونوں کا ہے اور ہو سکتا ہے۔ کہ مطلب یہ جو کہ شقی کی فضیلت نہیں محمد میں سہولت بھی زیادہ ہے۔ اس لئے ترجیح اس کو ہے ہاں باب میں صبی کا لفظ ہے جو شقی خراش کی حالت سے ہے کہ اس وقت تک بولا جاتا ہے جب بچہ نوزاد ہو جائے تو یہاں مطلب ایسے بچے میں ہو شوہر حاصل کر چکے ہیں، اگر وہ ابھی بلوغت کو نہ پہنچے ہوں ان پر اسلام پیش کیا جاسکتا ہے۔ اور اسلام کے اصول اس قدر سادہ ہیں کہ معمولی سمجھ کا آدمی بھی انہیں سمجھ سکتا ہے۔ اس کا اصل الاصل خدا کا ایک ہونا و قدرت انسانی میں نہ کہ جنات کی ایک تہیہ اس کو سمجھ سکتا ہے اور ان باپ ہیں کہ اسلام لے گئے تو اولاد مسلم ہوگی۔ ابن عباس اس وقت اپنی ماں کے ساتھ اسلام لائے جب بہت چھوٹے تھے

۸۵۵۱۷

۸۵۵۱۸

۸۵۵۱۹

۸۵۵۲۰

۸۵۵۲۱

۸۵۵۲۲

۸۵۵۲۳

۸۵۵۲۴

۸۵۵۲۵

۸۵۵۲۶

۸۵۵۲۷

۸۵۵۲۸

۸۵۵۲۹

۱۵) عن ابن عمر ان عمر اطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل

ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند اطم نبي مغالة وقد قارب

ابن صياد كل طرف لى تراهم بنى مغالہ کے مکانوں کے پاس بڑوں کے ساتھ کھیلتا ہوا پایا اور ابن صیاد

ابن صياد ان الحکم قام يشعرخ حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال

لا ابن صياد اشهد اني رسول الله فتنظر اليه ابن صياد فقال اشهد انك رسول

الاهميين فقال ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم اشهد اني رسول الله

فرضه وقال مننت بالله يرسل فقال له ما ذاترى قال ابن صياد يا نبي

صادق وكاذب فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليكم الا فرتم قال له

النبي صلى الله عليه ربي قد حبات لك خمينا فقال ابن صياد هو الله فقال احسنا

فلن تعد وقدرك فقال عمر دعني يا رسول الله اضرب عقه فقال النبي صلى الله

ان يكن هو فان اسط عليه وان لم يكن هو فلا خير لك في قتله وقال سالهم

سمعت ابن عمر يقول ثم اطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي ابن

كعب الى الخيل التي فيها ابن صياد وهو يجعل ان يسمعه من ابن صياد شيئا قبل ان

يراه ابن صياد قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطرب في طليقة له فيهار مرة

او مرة فوات ام ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وهو يفتي بجدوم

الفعل فقالت لابن صياد يا صاوه هو اسم ابن صياد هذا احمدا فثار ابن صياد

ابن صياد ابى كعب بن صياد وهو يسمعه من ابن صياد شيئا قبل ان يراه

ابن صياد قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطرب في طليقة له فيهار مرة

او مرة فوات ام ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وهو يفتي بجدوم

الفعل فقالت لابن صياد يا صاوه هو اسم ابن صياد هذا احمدا فثار ابن صياد

ابن صياد ابى كعب بن صياد وهو يسمعه من ابن صياد شيئا قبل ان يراه

ابن صياد قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطرب في طليقة له فيهار مرة

۱۵) عن ابن صياد
مدین میں ایک بڑی
ڈاک تھا یہاں اس
قبضہ کو لے کر
صرف اس تندہ سے
کہ وہ اسے بالغ بڑا
تلاش کر رہا تھا
قبضہ تھا اس
وقت حضرت مسلم
نے اس پر اسکا پیش
کیا یہ تو ابن صیاد
کیسے پر اسلام پیش
کیا جا سکتا ہے
جیتے سمجھ سکتے
ایسوں کے رسول
ہیں یعنی اہل عرب
کے نبی ہیں ہونے
نے ان کے رسول نہیں
مانا، مگر بالآخر وہ
مسلمان ہوا
عمر ابن صیاد کا
قبضہ مشکلات
تھا خواہ اسے اس
پر مفصل بحث اپنے
موقف پر لے گی، یہ
معلوم ہے کہ وہ
کائناتوں یا جنوں کی
طرح کو بائیں کرتا
اور کچھ غیبی باتیں
دکھائی کرتا تھا اس
نے نبی مسلم سے اس
سے دریافت کیا۔
اس نے فرمایا
کہ کچھ وہ کہتا ہے
کبھی کبھی چٹا کبھی
چھوٹا ہے یہ معلوم
ہوتا ہے۔ کہ وہ کوئی
کبھی کہہ کر دھوکا
دیکھتا تھا کہ بوجھ

دوسرے کے دل میں ہوں وہ معلوم کر لیتا ہوں۔ تو شاید اس کا جھوٹ ظاہر کرنے کے لئے آپ نے اس سے دریافت کیا۔ مگر اس حدیث میں بہت کچھ
ظاہر ہو رہی ہے۔ پتہ اس سے اشارہ و مجال کی طرف لیا گیا ہے اس حدیث سے بعض صحابہ کا خیال معلوم ہوتا ہے کہ ابن صیاد وہاں تھا۔ حالانکہ اس کی بشارت
پر کھٹ کر کھٹا ہوا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسی احادیث کو حقیقت پر محمول نہ کرتے تھے، خود نبی مسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کے ماتھے پر کھٹ
نہیں اس کے ساتھ گدھا ہے، اس میں فدائی طاقتیں ہیں۔

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكَتَهُ بَيْنَ ۱۶۷) عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ غُلَامًا يَهُودِيًّا

تو نبی صلعم نے فرمایا اگر وہ ایسے رہنے دیتی تو ظاہر کرتا کہ دنیا اس سے روایت ہے ایک یہودی لڑکا

يَحْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَرِضَ فَأَقَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ

نبی صلعم کی خدمت کیا کرتا تھا وہ بیمار ہوا تو نبی صلعم اس کی بیماری پر کسی کے لئے شریف لائے

فَقَعْدَ عِنْدَ أَبِيهِ فَقَالَ لَهُ أَسْلَمَ فَنظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ أَطْعَمَ أَبِي الْقَاسِمَ

اور اس کے سر کے پاس بیٹھے آپ نے فرمایا اسکاں جو بارہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا اور وہ اس کے پاس حاضر آج اب ابراہیم کا

فَأَسْلَمَ فَبَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَكُمْ مِنَ

تو اس پر وہ سستلان ہوا پس نبی صلعم باہر نکلے اور یہ فرماتے تھے اس خدا کا شکر ہے جس نے اسے آگ سے بچا لیا۔

النَّارِ ۱۷۱) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كُنْتُ نَاوِيًّا مِنْ الْمُسْتَضْعَفِينَ أَكَا مِنْ الْوَالِدَانِ

ابن عباس سے روایت ہے میں اور میری ماں کمزوروں میں سے تھے میں بچوں میں سے تھا

وَأُمِّي مِنَ التَّسَاءُرِ ۱۸۱) عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بَصَلَّى عَلَى كُلِّ مَوْلٍ مِمَّنْ تَوَفَّى وَإِنْ كَانَ

اور میری ماں عورتوں میں سے تھی ابن شہاب سے روایت ہے ہر ایک بچے جو مر جائے اگرچہ

لَيْفِيَةٍ مِنْ أَجْلِ نَفْسِهِ وَوَلَدًا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ يَدْعُو أَبَوَاهُ الْإِسْلَامِ وَأَبُوهُ

حرام کا ہو اس کا جنازہ پڑھا جائیگا وہ یہ ہے کہ وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوا اسکاں یا اپنے ذوال اسلام کے دعویداروں یا اپنے

خَاصَّةً وَإِنْ كَانَتْ آتَاهُ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَهْلَ صَارَ خَاصَّةً عَلَيْهِ وَإِلَّا بَصَلَّى

باپ ہو اگرچہ اس کی ماں اسلام پر نہ ہو جب پیدا ہوتے وقت رٹنے کی آواز نہ آئے تو اس کا جنازہ پڑھا جائیگا

عَلَى مَنْ يَسْتَهْلُ مِنْ أَجْلِ نَفْسِهِ سَقَطَ فَإِنْ أَبَاهُ رُكْرُكَ كَانَ يَحْدُثُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

اگرچہ اسے آواز نہ آئی اسکا جنازہ نہیں پڑھا جائیگا اس نے کہ وہ ناقص ہے اور یہ بیان کرتے تھے کہ نبی صلعم نے فرمایا

عَلَيْكُمْ مَا مِنْ مَوْلٍ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ نَصْرَانِيَةٍ أَوْ مَجْسَانِيَةٍ كَمَا

ہر ایک بچے کی ولادت فطرت پر ہوتی ہے پھر اس کے ماں باپ اسے یہود یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں جب تک

تَنْتَجِرُ الْبَهِيمَةَ بِجَهْمَةٍ جَمَاعَةٍ هَلْ يَحْسَبُونَ فِيهَا مِنْ حِدَاءٍ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ فِطْرَةَ اللَّهِ

پھر یا اسے پورے پیدا ہوتے ہیں کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو پھر ابو ہریرہ پڑھتے خدا کی فطرت

الَّتِي فِطَّرَ النَّاسَ عَلَيْهَا الْآيَةُ (۱۸۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَرِّرًا) بَابُ إِذَا قَالَ الشُّرْكَ

جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا عطا دیکھو حدیث نمبر ۱۸۵ باب جب مشرک مرتے

عِنْدَ الْمَوْتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (۱۹) عَنْ مُسَيْبِ بْنِ خُرَيْبٍ أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَ أَبَا طَلْحَةَ الْوَفَاةُ

وقت لا اناہ الا اللہ کہے مسیب سے روایت ہے جب ابوطالب کی وفات کا وقت آیا

جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَهُ عِنْدَ ابْنِ جَهْلٍ بِنِ هِشَامٍ عَبْدًا لِلنَّبِيِّ ابْنِ أُمِّهِ بْنِ الْخَبَرَةِ

تو رسول اللہ صلعم آئے پھر شریف لائے اور آئے پھر ابوالزہل بن ہشام اور عبد اللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ کو پایا

اور چار بڑوں کی پیدائش کی مثال کے دینے میں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہودیت اور نصرانیت بمقابلہ اسلام کے ایک ناقص حالت ہے وہ

عقل اس میں نمبر ۱۸۱ کے پچھلے حصے میں جو ابو ہریرہ نے حدیث مرفوعہ بیان کی ہے اسے یہاں دہرایا ہے اور فطر الناس علیہا کے بعدیت

کے اور الفاظ زیادہ کہے ہیں لائیں بل خلق الله ذلك الدين القيم اس آیت سے یہ استدلال بھی کیا گیا ہے کہ جب ہر ایک بچے کی فطرت اسلامی ہے

اور اسی پر خدا نے ہر ایک کو پیدا کیا ہے اور خدا کی خلق کی تبدیلی نہیں ہوتی تو کفر و شرک سے انسان کی اسلامی فطرت مٹتی نہیں بلکہ وہ باقی رہتی ہے اور کفر

اور شرک اور اعمال بد سے اس پر گناہوں کی تاریکی کا پردہ پڑھاتا ہے اور اس کا علاج دوزخ میں مرتد ہونا ہے جب کفر و شرک کا میل آتا جاتا ہے

اصلی فطرت صاف ہو کر انجام کار حجت میں داخل ہوتی ہے یہ استدلال بہت ہی محمول ہے

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَبِيِّ طَالِبٍ أَيْ عَمِّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہا ابوطالب نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھو

أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ يَا أَبَا طَالِبٍ أَرَأَيْتَ

میں خدا کے پاس تمہارے لئے اس کی گواہی دوں گا کہ تو ابو جہل اور عبد اللہ بن ابی امیہ نے کہا ہے ابوطالب کیا

عَنْ قَلْبِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْزُّهُمَا عَلَيْهِ وَيَعُوذُ بِتِلْكَ

عبدالطیب کے دین سے پھر جاؤ گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کلمہ اپنے پیش کرتے تھے اور وہ دونوں ہی بات دہرتے تھے

الْمَقَالَةَ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ أَخْرَمَا كَمَا هُمْ بِهِ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَإِنِّي أَنْقُولُ

یہاں تک کہ ابوطالب نے آخری بات جو اسے کہی یہ سنی کہ میں عبدالمطلب کے دین پر ہوں اولاد اللہ اللہ کہنے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَاللَّهِ لَأَسْتَعْفِفَنَّ لَكَ مَا مَنَّهُ

سے انکار کیا سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں تیرے لئے مغفرت مانگتا ہوں گا جب تک مجھے اس

عَنْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ الْآيَةَ بَابُ الْجَرِيدِ عَلَى الْقَبْرِ وَأَوْصَى

سے روکا نہ جلتے تو اللہ نے اس کے متعلق آیت ماکان للنبی الایۃ (التوبہ) باب قبر جرید کی نشانیاں (گناہ) اور پروردگاری

بُرِيدَةَ الْأَسْلَمِيِّ أَنْ يُجْعَلَ فِي قَبْرِهِ جَرِيدٌ إِنَّ رَأَى ابْنَ عُمَرَ فَشَطَّطًا عَلَى قَبْرِ

نے وصیت کی کہ اس کی قبر پر دو شاخیں لگانا جائیں اور ابن عمر نے عبد الرحمن (ابن ابوجبر) کی

عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ أَنْزَعَهُ يَا غُلَامُ فَاثْمًا يَظِلُّهُ عَمَلُهُ وَقَالَ خَارِجَةُ بِنْتُ تَرِيدٍ

قبر پر تھم دیکھا تو کہنے لگائے تیرے اے آدوسے اس کا عمل اس پر سایہ کرے گا۔ اور خارجہ بنت زید نے کہا

رَأَيْتُنِي وَمَنْ شَيْئَانِ فِي زَمَنِ عُمَانَ وَإِنَّ أَشَدَّ نَاوِثَةً الَّذِي يَثْبُغُ عَلَى قَبْرِ

ہم حضرت عثمان کے زمانے میں جو ان سے اور میں نے دیکھا کہ ہم میں سے بڑا کوئی نہ والا وہ تھا جو عثمان بن مظعون کی قبر

عُمَانَ بْنِ ظَعُونٍ حَتَّى يُجَاوِزَهُ وَقَالَ عُمَانُ بْنُ حَكِيمٍ أَخَذَ بِيَدِ خَارِجَةَ فَجَلَسَتْ

سے کو ذکر پڑھ رہی تھی اور عثمان بن حکیم نے کہا خارجہ بنت زید نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک قبر پر بٹھایا

عَلَى قَبْرِ أَخْبَرَنِي عَنْ عَمِّهِ بُرَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ تَمَّا كَرَهُ ذَلِكَ مِنْ أَحَادِيثِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

اور مجھے اپنے چچا بڑے بن ثابت سے خبر دی کہ یہاں اس کے لئے منع ہے جو اسپر پیدیا پانہ کرے

نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُجْلِسُ عَلَى الْقَبْرِ (م ۵۸۸) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (م ۱۷۶)

اور نافع نے کہا عبد اللہ بن عمر قبروں پر بیٹھ جایا کرتے تھے

اور نافع نے کہا عبد اللہ بن عمر قبروں پر بیٹھ جایا کرتے تھے

اور نافع نے کہا عبد اللہ بن عمر قبروں پر بیٹھ جایا کرتے تھے

اور نافع نے کہا عبد اللہ بن عمر قبروں پر بیٹھ جایا کرتے تھے

طہ تفران کریم میں ہے نفلہ بیک یتفقہم ایما نهم لما لا و اباسنا یعنی جب عذاب آجائے تو ایمان فائدہ نہیں دیتا۔ تو اس کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ عذاب جو پہلے اعمال کا نتیجہ ہے پھر اس وقت تک نہیں سکتا آخرت میں اللہ تعالیٰ کا محاسبہ ایسے لوگوں کیا ہوگا اسے دی جاتا ہے آخرت مسلم کا ابوطالب کو موت کے وقت لا الہ الا اللہ پیش کرنا اور یہ کہنا کہ اس وقت بھی لا الہ الا اللہ کہہ دو تو میں خدا کے حضور تمہارا سلام کی لای وہ لگاتا ہے کہ اس کے پختے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے پس اگر افرات وقت کلمہ توحید کا اقرار کرے تو وہ

۱۷۶

دیکھو حدیث نمبر ۱۷۶ م

کبھی مسلمان ہے دوسرے عالم میں اس سے کیا معاملہ ہوگا۔ یہ ہم نہیں جانتے۔ کیونکہ اس کو یہ موقع نہیں ملا کہ اپنی زندگی میں کوئی اصلاح کرے اور سب مسلمانوں سے جہن خدا کے ہاں یکساں معاملہ نہیں بلکہ لینے اپنے اعمال پر ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت مغفرت اور رحمت کا انمازہ کون کر سکتا ہے ظاہر طور پر کلمہ پڑھنے والے پر مسلمان کا ہی حکم ہوگا جب تک کہ وہ جووش میں ایسا کرے کہ موت کے کتابی قریب ہو۔ ابوطالب کی وفات اور اس آیت کے نزول میں بارہ سال سے کم فز نہیں اور اس آیت میں لفظ ہیں من بعد ما تبین لھما النہما اصحابہ پیغمبرین مشرک کہنے استغفار کرتے سے اس وقت روکا جائے جب یہ نکل جائے کہ وہ دوزخ والے ہیں اور اس کے ساتھ ہی دوسری آیت میں استغفار ابراہیم کا ذکر کے ساتھ بتایا گیا تھا تبین لہ انہ عند اللہ تنبرا امتہ یعنی جب حضرت ابراہیم پر واضح ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے اور حق کو نسبت دنا ہو کر ناجاہتا ہے تو اس سے نیز اس ظاہر کی۔ پس یہ آیت ماکان للنبی (التوبہ۔ ۱۱۳) صرف ایسے مشرکین کے لئے ہے جو عداوت حق میں حد سے گزر جائیں معمولی کافران میں شامل نہیں ہوتے۔ اور ابوطالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے حفاظت میں ایسی ثابت قدمی دکھائی تھی۔ وہ اس آیت کے اندر کس طرح آسکتے ہیں۔ وہ اس کا کس کس کی بھی رائے ہے کہ سری ڈالیں کہ قبر پر رکھنے سے میت کو کوئی فائدہ نہیں۔ امام بخاری کی بھی یہی رائے معلوم ہوتی ہے ابن عمر کا یہ فرمانا نما یظللہ عمالہ یہ بھی اسباب کی دلیل ہے کہ میت کو اس کا عملی فائدہ دیتا ہے۔ سری ڈالیاں نہیں۔ نیز دیکھو قرٹ حدیث نمبر ۱۷۶، پر یہ عکس میت کو اس سے نفع نقصان نہیں، مگر جنازہ کے جو آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں ان سے یہی قیاس ہوتا ہے کہ قبر پر بیٹھنا آداب کے خلاف ہے۔ اس کی ابتدا یوں ہوتی ہے موالی نبی صلعم قبورین یعنی بالی فقال انہما لیدعزبان بالحقہ نمبر ۱۷۶، اکی طرح ہے۔

علیٰ حب کوئی شخص دنیا سے جلت کرنا ہے اور دوسرے علم میں جانا ہے تو اس کا حکم دیکھنے والوں میں سے ایک وقت اور ان کا پیدا ہونا ہے اور لذات دنیا کا انہماک کم ہونا ہے ایسے وقت میں بیضاویت کرا اور عا خرت کے سفر کی تیاری کی طرف توجہ دلانا زیادہ مؤثر ہوتا ہے امام بخاری نے تہجد الیٰہ میں قبر اور قبر سے نکلنے کے وقت جو الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں انکی تفسیر کی ہے اور سورہ کہ ان آیت میں جن جن من الاحیاء سورہ انفطار کی آیت واذالقبور لعثرت اور سورہ یٰسین کی آیت من الاحیاء الیٰہی ورحم منسلون کہ انکا کیا ہے جس سے اسباب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تینوں آیتوں کا مطلب ایک ہے اور اس مراد شرف ہے۔ اور ان آیتوں میں ذکر کرنے سے منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ غفاس وقت یعنی قبر پر عالم آخرت کی طرف لوگوں کی توجہ دلانے کے لئے خدا کا پیکرنا اس کا علم ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ علم ہے کہ ایک شخص شقی ہے یا سعید دوزخ میں جائیگا یا جنت میں نہ مگر اس کے سوال کی بنیاد بات پر ہے کہ اس لئے علم الہی کو سعادت اور شقاوت یا دخول جنت اور دوزخ کا سد باب جلت سمجھا اور سعادت اور شقاوت کو اعمال پر مبنی نہیں سمجھا نچو کریم نے اس کا اظہار اس طرح کیا کہ سعادت اور شقاوت کی بنیاد اعمال پر ہے نہ علم الہی پر اس لئے فرمایا کہ سعیدوں کو کمال سعادت کی اور شقیوں کو کمال شقاوت کی توفیق ملتی ہے یعنی جو خدا کے علم سے سعید یا شقی ہوتا ہے وہ اپنے اعمال اقتدای کی وجہ سے سعید یا شقی ہوتا ہے پس سعادت اور شقاوت انسان کا علم اور اس کے وجود اور اعمال پر مبنی ہے۔ لیکن ان کے وجود کی جلت نہیں۔ بلکہ ان کے وجود کی جلت انسان کے اپنے اعمال ہیں جیسے اعمال ہوں گے ایسا ہی ان کا نتیجہ سعادت یا شقاوت ہوگا۔ یہی معنی سورہ ایل کی آیت فاما من اعطی و اتقى و اما من فضل و اسلخنی و کذب بالحسنیٰ فنسیسہ للعصیٰ ہے کہ ہے۔ یعنی میری یا سعادت کو نیک اعمال کا نتیجہ اور عسریٰ یا شقاوت کو اعمال بد کا نتیجہ قرار دینا نہ علم الہی کو کہ نظام عالم میں موجودات کا جو بسط نظر آتا ہے اس کا علم ہی ظہور اور وجود سے پہلے خدا کو ہے۔ لیکن ہر ایک موجود کا وجود اپنی اپنی جلت کی رو سے ہے۔ علم الہی ان کے وجود کی جلت نہیں ورنہ علم الہی تو قدیم ہے تو معلول بھی اس کے ساتھ ہی ہونا چاہئے ہ

بَابُ مَوْعِظَةِ الْحَدِيثِ عِنْدَ الْقَبْرِ وَقَعُودِ اصْحَابِهِ حَوْلَهُ يَحْرَجُونَ مِنَ الْاَجْزَاءِ
بَابُ قَبْرِ الْعَالَمِ كَالْبَيْتِ كَمَا اور اس کے ساتھیوں کا آگے اور گرد بیٹھا اور اس سے بچنے (یعنی)
الْقُبُورِ يُعْزَرُ اَنْ يُزَيَّرَ كَبَعْدَ رُحُوْصِيْ جَعَلَتْ اَسْفَلَهُ اَخْلَافَهُ الْاَيْفَاخِلُ الْاِسْرَافُ
قبروں سے بعثت (یعنی) بھاری جا میں بعثت حرمی (یعنی) میں نے اسکا پیلہ دیر کر دی۔ ایفاس جلدی کرنا
وَقَرَأَ الرَّعْشُ لِيْ نَصَبٌ تُوْفِضُونَ اِلَيْ شَيْءٍ مِّنْ صُوبٍ لِّسْتَيْقُونَ اِلَيْهِ النَّصَبُ
اور رعش نے یہ نصاب کی طرف دوڑتے ہیں (یعنی) ایک مقرر نشان کی طرف ایک دوسرے سے بقت کرتے ہیں
وَاجِدٌ وَالنَّصَبُ مَقْصِدٌ لِّيَوْمٍ اَخْرُجُ مِنْ الْقُبُورِ يَنْسِلُونَ يَحْرَجُونَ (۲۰) عَنْ
نصب مخرج اور نصب مصدر (المعارج ۲۰) نکلنے کا دن (یعنی) قبروں سے منسلون نکلنے کے لئے
عَلِيٌّ قَالَ كُنَّا فِيْ جَنَازَةٍ فِيْ بَقِيْعِ الْعَرْقِدِ اَنَا وَابْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حضرت علی سے روایت ہے کہ ہم بقیع العرقد میں ایک جنازے کے ساتھ تھے۔ تو بنی مسلم ہمارے پاس تشریف لائے
فَقَعَدَا وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِحْضَةٌ فَكُنَسَ جَعَلْ يَنْكُتُ بِخَصْرَتِهِ ثُمَّ قَالَ
اور بیٹھ گئے اور ہم آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے اور آپ کے پاس ایک چھری تھی۔ تو سر ہکا اپنی چھری سے زمین رکھنے
مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ وَّمَا مِنْ نَفْسٍ مِّنْ قَوْسَةٍ اِلَّا كَتَبَ مَكَانَهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَ
کچھ فرمایا۔ تم میں سے کوئی نہیں ہے یا کوئی جان نہیں مگر جنت اور دوزخ سے اس کا ٹھکانا
النَّارِ اِلَّا قَدْ كَتَبَتْ شَقِيْقَةً اَوْ سَعِيْدَةً فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَفَلَا تَكْفُلُ
لکھا ہوا ہے اور یہ بھی کہ سعید (نیک بخت) یا شقی (بد بخت) ہے مگر تو ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اپنی جان
عَلَى كِتَابَتَا وَنَدَعَ الْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيْرُ
ہوئی نعمت پر ضرور نہ لڑی اور عمل چھوڑ دیں ہم میں سے جو سعید ہوگا وہ ضرور سعیدوں کے
اِلَى عَمَلِ اَهْلِ السَّعَادَةِ وَاَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيْرُ
عمل کی طرف بھجتا رہے گا اور جو شقی ہوگا وہ ضرور بد بختوں کے عمل کی طرف
اِلَى عَمَلِ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ قَالَ اَمَّا اَهْلُ السَّعَادَةِ فَيَلْبَسُوْنَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَ
بھجتا رہے گا فرمایا جو سعید ہیں انہیں سعیدوں کے عمل کی توفیق ملتی ہے اور
اَمَّا اَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيَلْبَسُوْنَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأَ فَاَمَّا مَنْ اَعْطِيَ وَاتَّقَى الْاٰيَةَ
جو شقی ہیں انہیں بد بختوں کے عمل کی توفیق ملتی ہے۔ پھر فرمایا من اعطى واتقى الآية کی آیت پر عمل سے

اسباب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تینوں آیتوں کا مطلب ایک ہے اور اس مراد شرف ہے۔ اور ان آیتوں میں ذکر کرنے سے منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ غفاس وقت یعنی قبر پر عالم آخرت کی طرف لوگوں کی توجہ دلانے کے لئے خدا کا پیکرنا اس کا علم ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ علم ہے کہ ایک شخص شقی ہے یا سعید دوزخ میں جائیگا یا جنت میں نہ مگر اس کے سوال کی بنیاد بات پر ہے کہ اس لئے علم الہی کو سعادت اور شقاوت یا دخول جنت اور دوزخ کا سد باب جلت سمجھا اور سعادت اور شقاوت کو اعمال پر مبنی نہیں سمجھا نچو کریم نے اس کا اظہار اس طرح کیا کہ سعادت اور شقاوت کی بنیاد اعمال پر ہے نہ علم الہی پر اس لئے فرمایا کہ سعیدوں کو کمال سعادت کی اور شقیوں کو کمال شقاوت کی توفیق ملتی ہے یعنی جو خدا کے علم سے سعید یا شقی ہوتا ہے وہ اپنے اعمال اقتدای کی وجہ سے سعید یا شقی ہوتا ہے پس سعادت اور شقاوت انسان کا علم اور اس کے وجود اور اعمال پر مبنی ہے۔ لیکن ان کے وجود کی جلت نہیں۔ بلکہ ان کے وجود کی جلت انسان کے اپنے اعمال ہیں جیسے اعمال ہوں گے ایسا ہی ان کا نتیجہ سعادت یا شقاوت ہوگا۔ یہی معنی سورہ ایل کی آیت فاما من اعطى و اتقى و اما من فضل و اسلخنی و کذب بالحسنیٰ فنسیسہ للعصیٰ ہے کہ ہے۔ یعنی میری یا سعادت کو نیک اعمال کا نتیجہ اور عسریٰ یا شقاوت کو اعمال بد کا نتیجہ قرار دینا نہ علم الہی کو کہ نظام عالم میں موجودات کا جو بسط نظر آتا ہے اس کا علم ہی ظہور اور وجود سے پہلے خدا کو ہے۔ لیکن ہر ایک موجود کا وجود اپنی اپنی جلت کی رو سے ہے۔ علم الہی ان کے وجود کی جلت نہیں ورنہ علم الہی تو قدیم ہے تو معلول بھی اس کے ساتھ ہی ہونا چاہئے ہ

(۸۲) بَابُ مَا جَاءَ فِي قَاتِلِ النَّفْسِ (۲۱) عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّمَّاحِ وَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِعِدَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَذِبًا مَتَّعِلًا فَهُوَ كَمَا قَالَ مَنْ قَتَلَ

نَفْسَهُ مُحَمَّدٌ يَدِّعُ دَبَّهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ (۲۲) عَنْ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا جَنْدُبٌ

رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ بِعِدَّةٍ

غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَذِبًا مَتَّعِلًا فَهُوَ كَمَا قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُحَمَّدٌ يَدِّعُ دَبَّهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ بَرُّ جِرَاحٍ قَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ اللَّهُ يَدِّرُنِي عَبْدِي

بِنَفْسِهِ حَرَمَتْ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ (۲۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَخْتَقُ نَفْسَهُ يَخْتَقُهَا فِي النَّارِ وَالَّذِي يَطْعُهَا يَطْعُهَا فِي

النَّارِ (۲۴) بَابُ مَا يَكْفُرُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنْفِقِينَ وَالْإِسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ

رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۲۵) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بِنٍ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَسَمَّ يَصَلِّي عَلَيْهِ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَبَّتْ أَلْيَدِي فَقَالَ يَا رَسُولَ

اللَّهِ أَصَلِّ عَلَى ابْنِ أَبِي قَحْفَةَ قَالَ قَدْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَكْرَمَ النَّاسِ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَخْرَعْتَنِي يَا عُمَرُ فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ إِنِّي

خَيْرٌ مِنْكَ فَاخْتَرْتُ لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي أَنْزَلْتُ عَلَى السَّبْعِينَ يُغْفَرُ لِكُلِّ ذَنْبٍ عَلَيْهَا قَالَ

فَصَلِّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ

فَصَلِّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ

فَصَلِّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ

فَصَلِّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ

فَصَلِّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ

فَصَلِّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ

فَصَلِّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ

فَصَلِّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ

فَصَلِّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ

عنه قاتل النفس
مروا عن النبي قاتل
نفسه يبايعه بين
خودك من غير الا
عمر بن الخطاب
كوشاں رکتا ہے یعنی
عبر کا قاتل اور اپنا
قاتل خود کشی کرنے والے
کا جنازہ ہمارے لئے
کی کوئی حدیث نہیں
دراں بخاری کوئی
اسی حدیث لائے
ہیں ان خود کشی
کرنے والے پر سخت
عقوبت ہے اور اسکا
اسم نے صحابہ
حدیث بیان کی ہے
کہ ایک خود کشی کرنے والا
کا جنازہ آنحضرت
صلعم نے نہیں
پڑھا اور انسانی کی
روایت میں ہے کہ
صحابہ نے اس کا جنازہ
پڑھا پس ہم جواز
ثابت نہیں۔
عنه مسئلہ یوں کہے
کہ اگر میں نے فلاں
کا کیا تو میں بخاری
ہوں اور وہ کا کیا ہو
تو میں خود اپنے بخاری
مرنے کو قبول کیا یہ
حدیث کتاب لایا ان
میں بھی آئے گی،
عنه اسلام نے
ان تمام نعمتوں کی
قدر رکھنا ہے جو خدا
نے انسان کو دی ہیں
اور ان کو نبیائے کرامت
کفران نعمت قرار دیا
ان نعمتوں میں زندگی سب سے بڑی نعمت ہے جس شخص نے ان میں سے ایک کو ترک کر دیا تو اسے اللہ تعالیٰ سے جدا کر دیا اور اسے جہنم کا رہنے والا بنا دیا۔
کتابت نہیں کر سکتا اور اپنے آپ کو اس سے چھٹکارا حاصل کر لے جو نامردی اور بزدلی کی دلیل ہے اور بزدلی اور اسلام ایک جگہ نہیں ہو سکتے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی
برکت میں اور خود کشی کرنے والے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو لایسٹس من روح اللہ لا القوم الکافرین۔ اس لئے خود کشی کو اتنا برا گناہ قرار دیا کہ اسلام کی تمام
سزاؤں میں یہی جزی اعز وفاقا کا اصول ہے۔ جیسا گناہ ہے، ویسی ہی سزا ہے۔

الذَّيْتَانِ مِنْ بَرَاءَةِ وَلَا تَصِلْ عَلَى أَحَدٍ قَبْرَهُنَّ مَاتَ ابْنُ أَبِي قَتَابَةَ وَهُمَا فَاسْتَقُونَ

کے دو حکم آئے (۲۲) ان میں سے کسی پر جو مر جائے نماز پر گزرتا ہے وہ اس کے قریب

وَلَا تَقْدُمُ عَلَى قَبْرِهِ إِنْ كُنَّ أُمَّهُ كَفَرًا بِاللهِ وَسَرَّوْهُ وَمَاتُوا وَهُمَا فَاسْتَقُونَ قَالَ فَجَبَّتْ

اور اس کی قبر پر گھڑا نہ ہو انہوں نے خدا اور رسول کا انکار کیا اور شوق کی حالت میں مرے کہا تو اس دن

بَعْدَ مَنْ جَمَعَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَعْدِنِ وَاللهُ وَسَرَّوْهُ

رسول اللہ صلعم پر اپنی دلیری سے میں نے تعجب کیا اور اللہ اور اس کا رسول خوب

أَعْلَمُ بِمَا بَابُ تَنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَيِّتِ (۲۳) عَنْ ابْنِ مَالِكٍ

جانتے ہیں بے باب میت کی نیکیاں بیان کرنا اس بن مالک سے روایت ہے

يَقُولُ مَرُّوا بِجَنَازَةِ فَاثْنُوا عَلَيْهِمْ خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کہا وہ ایک جنازے پر سے گزرے تو اس کی تعریف کی تو نبی صلعم نے فرمایا

وَجَبَّتْ ثُمَّ مَرُّوا بِأَخْرَجِي فَأَثْنُوا عَلَيْهِمْ شَرًّا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

واجب ہو گئی پھر دوسرے پر سے گزرے تو اس کی مذمت کی تو نبی صلعم نے فرمایا

وَجَبَّتْ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَا وَجَبَتْ قَالَ هَذَا أَنْتُمْ عَلَيْهِمْ خَيْرًا فَوَجَبَتْ

واجب ہو گئی تو عمر بن خطاب عرض کیا کیا چیز واجب ہو گئی فرمایا اس کی تم نے تعریف کی تو اس کیلئے جنت واجب

لَهُ الْجَنَّةُ وَهَذَا أَشْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ أَنْتُمْ شَهَدَاءُ اللهِ فِي

ہو گئی اور اس کی تم نے مذمت کی تو اس کے لئے آگ واجب ہو گئی تم زمین میں خدا کے گواہ ہو گئے

الْأَرْضِ (۲۴) عَنْ رِبِيِّ الْأَسْوَدِ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدَّرْتُهَا

ابو الاسود سے روایت ہے کیا میں مدینے آیا اور وہاں

مَرَضٌ فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَمَرَّتْ كَلِمَةٌ جَنَازَةٌ فَأَشْنَى عَلَى صَاحِبِهَا

بیاری ہو گیا اور میں نے عمر بن خطاب کے پاس بیٹھا تو ان پر سے ایک جنازہ گذرا تو اس میت کی تعریف کی گئی

خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرَّ بِأَخْرَجِي فَأَشْنَى عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ

تو حضرت عمر نے فرمایا واجب ہو گئی پھر دوسرا گذرا تو اس میت کی تعریف کی گئی تو حضرت عمر نے فرمایا واجب

وَجَبَتْ ثُمَّ مَرَّ بِالثَّالِثَةِ فَأَشْنَى عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا فَقَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ

ہو گئی پھر تیسرا گذرا تو اس میت کی بڑائی کی گئی تو فرمایا واجب ہو گئی ابو الاسود نے کہا

فَقُلْتُ وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ

تو میں نے عرض کیا اے امیر المؤمنین کیا چیز واجب ہو گئی فرمایا میں نے کہا کہ جو نبی صلعم نے کہا تھا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا مَسْلُومٌ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ مَخْرَجًا دَخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ فَقُلْنَا وَ

جس مسلمان کے لئے چار آدمی نیکی کی گواہی دیں اللہ اسے جنت میں سے جائے گا ہم نے

ثَلَاثَةٌ قَالَ وَثَلَاثَةٌ وَقُلْنَا وَأَنْتَانِ قَالَ وَأَنْتَانِ ثُمَّ لَمْ تَسْأَلْهُ عَنِ الْوَأَحَدِ

سزمن کیا اور تین فرمایا اور تین گئی ہم نے عرض کیا اور دو فرمایا دو گئی پھر ہم نے آپ سے ایک کے متعلق نہیں پوچھا

عنا دیکھو ۲۳
پر نوٹ یہاں وہ تفصیلات ہیں جو ۲۸ میں نہیں ملے میت کے حقا اور خوبیاں بیان کرنا لوگوں کی اس کے ساتھ محبت پیدا ہونے کا باعث ہے جس سے اس کے لئے دعا کرنے کی توفیق ملتی ہے جو رحمت الہی کے جذب کا باعث بن جاتی ہے زمین کی ایسی زمین سے صبر شہید کی آئی ہے جو لوگوں اس سے وہ اپنے آپ کے برادر و دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے یہاں جنت اور دوزخ تریاں اعمال سے ملتی ہے یہاں ایک کی تعریف اور دوسرے کی مذمت پر اپنے فریاد کو اس کے لئے آگ واجب ہو گئی تو مطلب یہ تھا کہ جب نیک اور راست باز لوگ ایک شخص کی تعریف کرتے ہیں تو معلوم ہوا ان کے اعمال اچھے تھے اور ایسے نیک لوگ کسی کی مذمت یوں ہی کرتے تھے جب تک کہ اس کی بڑائی ہیستہ ہو یا بڑھی ہوئی نہ ہو یہی صحابہ کو آپ نے شہید اور

فرمایا۔ اس کے مطابق قرآن کریم میں ہے لکنوا مشہداً علی الناس اسی سے صحابہ کی نیکی اور راستبازی پر تین شہادت ملتی ہیں اور یہ شخص آپ کی نعت قدسی سے تھا کہ ایسے نیک اور راستباز لوگوں کی عظیم الشان جماعت دنیا میں پیدا ہوئی ہوگی کسی گزرے ہوئے انسان پر پھیلوں کا تیار کرنا قرآن کریم میں جن مقام مدرس میں مذکور ہے وہ کرسات علیہا فی الاخرین جن قدر نیکی کسی شخص کی ہوئی ہے اسی قدر زیادہ اس کو یاد کرنے والے ہی ہوتے ہیں

۲۷۴ باب ماجاء في عذاب القبر وقول الله ولو تزي اذ الظالمون في نعمرات

باب جو قبر کے عذاب کے بارے میں آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قول کا شن تو دیکھئے تب تمام موت کی آفتوں میں

الموت الملكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم محزون عذاب الهون

ہوں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کھتے ہیں۔ اپنی جانوں کو نکالوا آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائیگا (الانعام: ۹۴)

قال ابو عبد الله الهون هو الهوان والهون الرفق وقوله سنعذ لهم مرتين

ابو عبد اللہ کہتے ہیں ہون ذلت ہے اور ہوان نرمی ہے اور اللہ تعالیٰ کا قول تم انہیں دو مرتبہ عذاب دینگے

ثم يردون الى عذاب عظيم وقوله وحاق بالفرعون سوء العذاب النار

پھر اسے عذاب کی طرف لوٹائے گا (التوبہ: ۱۰۱) اور اللہ تعالیٰ کا قول آل فرعون کو اسے عذاب کی گھبراہٹ دے گی

يعرضون عليها غدا واقبيبا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشدا

صبح اور شام اس کے سامنے لائے جاتے ہیں۔ اور جس دن قیامت ہوگی (سبا: ۲۵) فرعون کو سخت عذاب

العذاب (۲۶) عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

میں نے کہا (۲۶) البراء بن عازب سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا

اذا اُقعد المؤمن في قبره اتي ثم شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فذلك

جب مومن کو اپنے قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں پھر وہ گواہی دیتا ہے کہ معبود صرف اللہ ہی ہے اور محمد اللہ کے

قوله يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفي رواية

رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس قول (کا مطلب) ہے اللہ مومنوں کو مشروط بات کے ساتھ پختہ رکھتا ہے دنیا کی زندگی

وذا وثبت الله الذين امنوا نزلت في عذاب القبر (۲۶) عن ابن عمر قال

اور آخرت میں (وہی) اور ایک آیت میں ہے اور یہاں یثبت اللہ الذین امنوا عذاب قبر کے متعلق آئی ہے علیہ ابن عمر سے روایت ہے

اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على اهل القليب فقال وجدتم قلوبكم كما وعدكم ربكم

نبی صلعم نے انہیں (جو بدر کے گڑھے میں ڈالے گئے تھے جہاں کا اور فرمایا تمہارا رب نے

حقا فقيل له تدعوا امواتا قال ما انتم باسمع منهم ولكن لا يجيبون

جن بات کا وہ تم سے کیا سنتے تھے وہ مرنے والے تھے اور تمہیں جواب نہیں دیتے لیکن وہ جواب نہیں دیتے تھے

آئی ہیں یہ تمہارے

ہے کہ موت کے بعد بھی ایک رنگ جو جزا و سزا کا شروع ہوجاتا ہے قرآن کریم میں اس حالت کا نام برزخ رکھا ہے۔ تو قبر سے مراد وہی برزخ ہے۔ خواہ انسان مٹی

کی قبر میں دفن ہوا ہو یا جلایا گیا ہو یا سے جانور کھا گئے ہوں۔ روح اصل چیز ہے۔ اور اسے اپنے اعمال کے مطابق ایک دنیا جسم دیا جاتا ہے اور اسی کے لئے ثواب

یا عذاب ہے۔ نوح الباری میں ہے کہ عذاب روح کو ہوتا ہے یا جسم کو۔ اس میں اختلاف ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ خالی جسم تو ہر حال میں ہی داخل نہیں ہوتا۔ اس لئے عذاب

قبر کا تعلق بھی اس خالی جسم سے نہیں ورنہ جولا شیں محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ ان کے متعلق کیا کہا جائے گا۔ جیسے خود فرعون کی لاش حالانکہ قرآن کریم میں فرماتا ہے انہیں حشر

علیلہا ہیں عذاب قبر سے مراد وہی حالت برزخ میں اعمال بدل کرنا کوئی رنگ ہے۔ اس آیت کا تفسیر نبی کریم صلعم نے خود ہی فرمادی کہ تو ان ثابت سے مراد توحید رسالت کی مشاوشی

اور آخرت میں اس پر قائم رکھنے کا مطلب ہے کہ قبر میں فرشتوں کو توحید اور رسالت کا صحیح جواب دینا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مومن کو قبر میں عذاب

نہیں دیا جاتا بلکہ اللہ تعالیٰ اسے اطمینان دیتا ہے۔ قبر میں بٹھایا جاتا ہے اسی عالم برزخ کی کوئی کیفیت ہے جیسا کہ پیچھے بھی گذر چکا ہے۔ مگر ان کے

سننے سے یہ مراد نہیں کہ وہ ان جہان کا نور سے سنتے ہیں۔ بلکہ مطلب ہے کہ ان پر وہ کیفیت وارد ہوگی ہے جو سننے والے پر ہوتی ہے۔ مگر ان جہان

کا نور سے سنتے تو اس زبان سے جو اب بھی وہ سنتے یہی تشریح حضرت عائشہ نے آنحضرت صلعم کی طرف اٹھی حدیث میں منسوب کی ہے کیونکہ

وہ سماع مرنے کا صاف انکار کرتی تھیں۔ اور قرآن کریم کی اس آیت کو پیش کرتی تھیں انکے لاشعاع الموت وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلعم نے یوں فرمایا تھا کہ اب

وہ جانتے ہیں کہ جو کہ میں نے انہیں کہا تھا وہ درست نکلا۔ گویا میں ان کا سننا تھا۔ یہ منشاء نہیں تھا کہ اب وہ سن رہے ہیں۔ اور اگر یہاں یہ مراد لیا جائے کہ

موجودہ بات کہ انہوں نے سن لیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی بات انہیں پہنچا دی۔ اس سے بھی عام طور پر مرنے والوں کو سننا ثابت نہیں ہوا۔ اصل یہ جانا

حدیث مذکورہ میں
گذر چکا کہ عذاب
قبر صرف کافر یا
منافق کو ہوتا ہے
یعنی یہ اعمال بد کی
سزا ہے اور جہاں
عذاب قبر کے لئے لفظ
شہادت جبرائیل
لائے ہیں ان میں ذکر
ہے کہ موت کے بعد
بدکار کے لئے عذاب
ہے ان میں سے پہلی
آیت میں موت کے
وقت کا عذاب بھی
مراد ہو سکتا ہے اور
دوسری میں جو موت
توہیدی آیت ہے وہ
دن کے عذاب مراد
ہے اس دنیا میں
یہ دو دفعہ عذاب
الذی تیسری میں یہ
صراحت سے ذکر
ہے کہ قیامت سے
پہلے بھی آل فرعون
لئے عذاب تو اس
سے اور حادثہ سے
جو گذر چکا ہے یا
آئی ہیں یہ ثابت

۲۷۴

۱۔ اس کے الفاظ ہیں ان بعدیہ دخلت علیہا تکلم عنذ القبر فقالت لها اما ذک اللہ من عناب القبر فضالت عائشۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن مذاب القبر فقال نعم مذاب القبر قالت عائشۃ فلما بیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلی صلیق الأعراب من عناب القبر زاد عنذ مذاب القبرج۔ اس معنی کا کچھ حصہ علماء کے شروع میں گذر چکا ہے۔ ۵۰۲ نمبر کے کتب و روایت کے مگر نمبر ۵۰۲ میں یہ مضمون نہیں۔ عذ آخرت یا تاج اعمال پر ان کا پورا یقین تھا۔ اس کے تحقیق تالیف ان پر غالب تھی۔ روایت تاجی اعلیٰ کا اس کے بجایا ان کی دلیل ہے

(۲۶۶ ب) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُمْ لَيُعْلَمُونَ حَضْرَت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا تھا کہ اس وقت وہ جانتے

الان ان ما كنت اقول انهم حق وقد قال الله انك لا تسمع الموتى (۵۵۹) ہیں کہ جو میں ان سے کہا کرتا تھا صحیح ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ زمردوں کو نہیں سنا سکتا

عَنْ عَائِشَةَ (متكرر ۳۰۱) (۲۷۷) عَنْ اَسْمَاءِ بِنْتِ ابِي بَكْرٍ تَقُولُ قَامَ رَسُولُ اللهِ دیکھو حدیث ۴۱۱۔ اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء فلما خطبه سناته برسه كمرسه برسه اتر کے اس فتنے کا ذکر کیا ہے جس انسان مذاب پاپے جب صلعم

ذكر ذلك ضحك المسلمون ضجة (مكرر ۱۰) (۵۶۰) عَنْ اُسِّ بْنِ مَارِكٍ (متكرر ۱۰) آپ نے اس کا ذکر کیا کہ مسلمان زور سے رونے لگے

(۵۷) بَابُ التَّعْوِذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ (۲۸) عَنْ ابْنِ اَيُّوبَ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ بَاب عذاب قبر سے پناہ مانگنا ابو ایوب سے روایت ہے نبی

صلى الله عليه وسلم قَدْ وَجِدْتُ الشَّمْسَ قَسِيحَ صَوْتًا فَقَالَ يَهُودُ تُعَذِّبُ فِي آفتاب کے مزوب ہونے کے بعد باہر نکل کر ایک آواز سنی فرماتا یہود کو ان کی قبروں میں مذاب صلعم

قُبُورِهَا (۲۹) عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ بِنِ الْعَاصِ اِنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ بول رہے تھے خالد بن سعید بن العاص کی بیٹی سے روایت ہے کہ اس نے نبی

صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ (۵۶۱) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قبر کے مذاب سے پناہ مانگتے ہوئے سنا صلعم کہ

(متكرر ۲) (۵۰۲) بَابُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْغَيْبَةِ وَالْبَوْلِ (مكرر ۵۶۲) دیکھو حدیث نمبر ۵۰۲ غیبت اور پیشاب کی وجہ سے قبر کا مذاب

ابن عباس (متكرر ۱۷) (۹۰) بَابُ اَيُّوبَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ مَقْعِدُهُ بِالْقَدَاةِ وَالشَّيْءِ دیکھو حدیث نمبر ۱۷۹ بَاب مردے کو صبح اور شام اس کا ٹھکانا دکھانا دیکھا جاتا ہے۔

(۳۳) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ رحمت میں آتی ہے اور نیک اعمال کے نتائج کا کچھ حصہ اس عالم برزخ میں مل جاتا ہے اور اس کا پورا ظہور تباہت میں ہوگا۔ یہ آواز ہے شفیق طور پر نبی یعنی ان

عبد الله بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلعم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی

عالم اس میں نہ ہوگا۔ کا مضمون خفیف نقلی اختلاف کے ساتھ دہرایا ہے۔ جس میں میرٹ سے سوال جواب کا ذکر ہے۔ اذبتہ اس میں مومن کے ذکر میں قبر اہما جمیعاً کے بعد یہ لفظ زیادہ ہیں قال قتادہ و ذکرنا ان یقسم لله فی قبره یعنی قتادہ نے کہا کہ ہم سے یہ بیان کیا گیا کہ اس کے یعنی مومن کے لئے اس کی قبر میں فریضی گروی جانے کے اور کا فر یا منافق کے ذکر میں یہ لفظ زیادہ ہیں فیقال له ما كنت تقول فی هذا الرجل قبرک فریضی اور کشادگی سے یہ سنی کی قبر اور نہیں اس کی کشادگی مشابہ کے خلاف ہے۔ اور شاہد کے خلاف کوئی معنی مراد نہیں ہو سکتے۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ عالم برزخ میں سے خوشی کا منتظر دکھائی دیتا ہے اور اسے ایک قسم کا آرام راحت میں آتی ہے۔ اور نیک اعمال کے نتائج کا کچھ حصہ اس عالم برزخ میں مل جاتا ہے اور اس کا پورا ظہور تباہت میں ہوگا۔ یہ آواز ہے شفیق طور پر نبی یعنی ان جو اس سے پہلے اہل اللہ کو دیتے جاتے ہیں۔ دوسرے اس آواز کو دیتے تھے۔ جیسے وحی کی صورت میں۔ اور اسی ۲۲۳ لڑ میں صاف مذکور کیا لایحییون یعنی مردے بل نہیں سکتے۔ پس ان کی یہ صحیح و پکار میں عالم برزخ میں ہے اس میں تمہو کا ذکر صاف طور پر نہیں اور بعض نے کہا اس سے مراد ملائکہ کی آواز کو سنتا ہے۔ ۵۰۲ میں نمبر ۵۰۲ کا پہلا حصہ جو دعا و تعویذ سے متعلق رکھتا ہے۔ اختصار اور نقلی تغیر کے ساتھ دوسرا لایا گیا ہے۔ تلاکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو النکم الی اعزذکم من عذاب القبر من عذاب الناس ومن فتنة الھیار والحیات ومن فتنة المسیم الدجال ۷۱ اس کی ابتدا یوں ہے مل النبی صلعم علی بن مومن فقال انھا لیحدن بان۔ اس کے بعد ۱۷۹ و ۵۰۲ کا مضمون خفیف نقلی اختلاف کے ساتھ دوسرا لایا گیا ہے۔

اِذَا مَاتَ عَرَضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ اِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُنَزَّلُ

مر جائے تو صبح اور شام اس کا ٹھکانا اس کے سامنے لایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتیوں میں سے ہو

اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَيُنَزَّلُ هَذَا مَقْعَدَهُ وَحَتَّى

اہل جنت میں اور اگر وہ دونوں میں سے ہو تو اہل نار میں پھر کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانا ہے یہاں تک

يَبْعَثُكَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (۹۱) بَابُ كَلَامِ الْمَيِّتِ عَلَى الْجَنَازَةِ (م ۵۶۳) عَنْ

کہ اللہ تعالیٰ تجھے قیامت کے دن آٹھائے باب میت کا جنازہ پر لوٹنا

ابنِ سَعْدٍ فِي حَدِيثِي (متكره ۷۰) بَابُ مَا قِيلَ فِي اَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ

دیکھو حدیث نمبر ۷۰، باب جو مسلمانوں کی (نابالغ) اولاد کے متعلق کہا گیا ہے

ابُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَاتَلَ ثَلَاثَةَ مِنْ اَوْلَادٍ لَمْ يَبْغُوا

ابو ہریرہ نے نبی صلعم سے روایت کرتے ہوئے کہا ہے جس کے تین بچے مرتلے جو ہر موت کو نہ پینے تھے

الْحَنَثُ كَانَ لَهُ سِجَابًا مِنَ النَّارِ اَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ (م ۵۶۴) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

تو وہ اس کے لئے دوزخ سے روک ہو گئے یا وہ جنت میں جا گیا

(متكره ۶۷) عَنْ اَبِي بَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ لَمَّا تَوَفَّيْتُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ رَسُولُ

دیکھو حدیث نمبر ۶۷، ابو براء بن عازب سے روایت ہے کہا جب ابراہیم نے وفات پائی تو

الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ لَهُ مَرْضِعَاتًا فِي الْجَنَّةِ

رسول اللہ صلعم نے فرمایا جنت میں اس کے لئے دودھ پلانڈرائی ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ بے انتہا رحم و اے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے

(۹۳) بَابُ مَا قِيلَ فِي اَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ (م ۵۶۵) عَنْ اَبِي عَبَّاسٍ قَالَ سَأَلْتُ

باب جو مشرکوں کی (نابالغ) اولاد کے متعلق کہا گیا ہے ابن عباس سے روایت ہے کہا

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللهُ اَدْخَلْتُمْ اَعْلَمُ

مشرکوں کی اولاد کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا جس نے انہیں جب پہلا کیا تو خوب جانتا تھا

عَمَّا كَانُوا عَامِلِينَ (م ۵۶۵) عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ (متكره ۳۳) (م ۵۶۶) عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ (متكره ۷۱)

کہ وہ کیا کرنے والے ہیں

دیکھو حدیث نمبر ۳۳، دیکھو حدیث نمبر ۷۱

ہل ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح اور شام اس کا ٹھکانا دکھانا یہی اس کیلئے تو اب و عذاب ہو جو عام آفرین میں ہوتا ہے اور صبح شام سے مراد ہر وقت میں ہر من ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ وہ ٹھکانا علاوہ عالم برزخ کے تو اب و عذاب کے ہو۔ اس میں ہے، اس کا مضمون نہایت خفیف تشریحی کے ساتھ دہرایا گیا اور وہیں جنازہ پر مسکے کلام کی تفسیر ہو چکی ہے۔ اس عیب کا یہاں کے نوٹ میں گذر چکا اسلامی اصول کے مطابق ہر ایک بچہ اسلامی حضرت کے گروا ہے پس جب وہ معصوم کی حالت میں رہتا ہے تو اس کی کوئی اسلام پہنچا اور وہ اہل جنت میں سے ہے اور جنت میں باقی کی شفاعت ہو کرتا ہے۔ خود اہل جنت میں سے ہی ہوگا۔ عا انسان نیا سے رحمت ہو ہی ترقی کر کے ایک اور عالم میں قدم رکھتا ہے۔ اور اس ترقی کی کوئی انتہا نہیں حضرت ابراہیم کی وفات حالت رضاعت میں دودھ پینے کے وقت ہوئی تھی۔ اسی مناسبت سے آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ اسکی جسمانی ترقی کا سلسلہ تو وفات سے لگ گیا لیکن روحانی ترقی کا سلسلہ بند نہیں ہوا۔ اور جنت میں اس کی ترقی کا سامان موجود ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جو بچہ جن میں وفات پا جاتا ہے۔ ان کی ترقی کا سامان اللہ تعالیٰ نے اس عالم میں رکھا ہے۔ وہ مشرکوں کی اولاد سے مراد اوائی نابالغ اولاد ہے۔ جیسے پچھلے باب میں اولاد المسلمین سے مسلمانوں کی نابالغ اولاد مراد ہے جو کچھ ان کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اس کے متعلق یہاں کل تین حدیثیں لائے ہیں۔ پہلی حدیث کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عقول کو مانتا ہے۔ دوسری کا مضمون یہ ہے کہ تمام بچے مسلمانوں کے ہیں یا مشرکوں کے یہودیوں یا عیسائی حضرت اسلامی پیدا ہوتے ہیں تیسری ایک ہی حدیث ہے جس میں نبی صلعم کا روایا بیان فرماتے ہیں اس میں ایک خبر ہے کہ آپ نے حضرت ابراہیم کو ایک دستک پاس دیکھا اور ان کے ارد گرد لوگوں کے بعض مسلمان اور غیر مسلمانوں کے چھوٹے بچے تھے۔ یہ آخری دونوں حدیثیں صراحت سے بتاتی ہیں کہ نابالغ بچے جات پائیں گے اور بہشت میں جائیں گے۔ اس سے حدیث اول کا مطلب ان کے خلاف نہیں لیا جاسکتا۔ علا اس حدیث کے میں میں بہت سے اقوال ہیں مگر عیب کہ میں نے پورے نوٹ میں ذکر کیا ہے اس کے کوئی معنی قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے دو حدیثوں کی صراحت کے خلاف کر دیں۔ اگر اس کے یہ معنی لئے جائیں کہ اللہ کو یہ علم تھا کہ وہ بچے ہو کر یہ کام کریں گے اور اس کے مطابق وہ انہیں جزا یا سزا دے گا۔ تو یہ مسلمانوں کے نابالغ اولاد کے متعلق ہی درست بنا جائے۔ کیونکہ مسلمان ہی جنت میں دوزخ میں اپنے اعمال کے مطابق جائیں گے۔ اس لئے یہ نہیں ہو سکتا کہ بعض مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے ایک شخص جنت کا مستحق ہو جائے اگرچہ وہ لوگ اپنے اعمال کے مطابق جنت یا دوزخ میں جائیں گے۔ آخر مسلمانوں کی نابالغ اولاد پر وہی بات صادق آئے گی جو مشرکوں کی نابالغ اولاد پر صادق آتی ہے۔ مگر اس سے پہلے باب میں گذر چکا ہے کہ مسلمانوں کے نابالغ بچے ماں باپ کیلئے شفاعت یعنی دوزخ سے نجات پانے کا موجب ہونگے اس لئے وہ ذوالا زما ہوتے ہوئے مالا نہ اگر وہ بڑے ہوتے تو ان میں باقی پڑھنا

(۱۹۳) بَابُ (۳۳) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا قَالُوا

رَأَى أَحَدٌ قَضَاهَا فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ فَسَأَلْنَا يَوْمًا فَقَالَ هَلْ رَأَى مِنْكُمْ أَحَدٌ

رُؤْيَا قَالُوا لَا قَالَ لَيْكِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخَذَا بِيَدِي فَأَخْرَجَانِي

إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ فَأَذْرَجُلٌ جَالِسٌ فَرَجُلٌ قَامٌ بِبَيْدِهِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا

عَنْ مُوسَى كَلْبُوبٍ مِنْ حَدِيدٍ يَدْخُلُ فِي شِدْقِهِ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ لَمْ يَفْعَلْ شَيْدٌ قَدِ

الْأَخْرَجْتَنِي مِنْ شِدْقِي وَأَبْرَأْتَنِي مِنْ شِدْقِي وَأَبْرَأْتَنِي مِنْ شِدْقِي وَأَبْرَأْتَنِي مِنْ شِدْقِي

أَنْطَلِقُ فَأَنْطَلِقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى قَفَاهُ وَرَجُلٌ قَامٌ عَلَى

رَأَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَأَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَأَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَأَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا

رَأَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَأَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَأَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَأَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا

رَأَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَأَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَأَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَأَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا

تقریر حاشیہ صفحہ ۳۱۸
سے جو جنت برے
عمل کرنے لگے مرنے
اور روزخ میں جاتے
علاوہ ان میں سے جسے کہ
چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا
ہے کہ ایک شخص نے
بٹسے ہو کر یہ کام کیا تھا
اس لئے اس کے مطابق
لئے سزا بھی دیتا ہے
اصول قرآنی کے تحت
میں کیونکہ اصول قرآنی
کی رو سے جزا و سزا
اعمال پر ہے نہ کہ
علم پر کوئی جزا و سزا
مستحب نہیں ہوتی
پس اس کی توبہ کرنے
لئے جائز ہے جو
فتح الباری میں ہے
پس کہ اللہ تعالیٰ کو علم
تھا کہ وہ کوئی عمل
نہیں کریں گے (یعنی
کفر و شرک کا کوئی
کام نہ کریں گے کیونکہ

حالت نابالغی میں فوت ہو جائیں گے اس لئے سزا بھی ان کو نہیں دی جا سکتی اور ان کے ساتھ صلوات نعت کبریٰ ہوگا اور نعت اسلامی ہوتی ہے جو جبرائیل علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے سنی ہے اور ان کو پہلی نعت میں ہے اور جنت میں ہی
پہنچے اور وہ ان پہلی نعت کی طاعت ترقیات کر لیں اور یہ ان کا انعاما ملین میں یہاں یہ اشارہ ہے کہ ان نعتوں کو کلمہ تھا کہ وہ عادت نابالغی میں فوت ہو جائیں اور پھر بھی عادت کا مطلب وہی ہوگا
جوا بھی بیان ہوا اور جو ایک حدیث میں ہے کہ اپنے فرمایا تھا کہ مشرکوں کے بچے وہ دن میں ہیں اسے غایت جبر کی غیرت کیا گیا ہے (فتح الباری) یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ یہ حدیث
ابن عباس سے ہے نہیں فتح الباری میں ہے کہ احمد نے ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ میں مشرکوں کی اولاد کے متعلق کہا کرتا تھا کہ وہ انہی میں سے ہیں یعنی وہ جنت میں ہیں نہ کہ
کہ یہ صحابہ ہی کو ہے کسی سے یہ حدیث کسی تو میں اس قول سے کہ گئی اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کا معنی بھی یہی تھا اور وہ ابن عباس سے یہی صحابہ کے مشرکوں کے تابع
بچے وہ جنت میں ہیں نہ کہ جبرائیل علیہ السلام سے ہے کہ وہ مشرکوں کے اولاد کے متعلق کہا کرتا تھا کہ وہ انہی میں سے ہیں یعنی وہ جنت میں ہیں نہ کہ
کے بچے کی پیدائش کا ذکر ہے کہ وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اس کے باپ اسے یہودی یا عیسائی یا فریسی بنا سکتے ہیں فطرت پر پیدا ہونے سے کیا مراد ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما
کہنے لگے ان کو کہ آیت فطرتنا اللہ القدر لنا من علیہا الارواح۔ اس پر کہا کہ تم نے جہاں سلام کو فطرت قرار دیا ہے اور فتح الباری میں ابن سیرین کا قول نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس سلف کے
نزدیک یہی سلام ہے اور اہل علم کا اس قول پر اجماع ہے کہ اس میں ہی فطرت ہے مراد اسلام ہے اور اس کی تائید میں عیاض کی حدیث نقل کی ہے جس میں ہی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے
ارشاد کو بیان فرماتے ہیں انی خلقت عبادے مختلفا کلام یعنی میں نے اپنے سب دن کو اس میں یہودی عیسائی مشرک یا کاتب شامل ہیں، حدیث میں راست روی کی حالت پر
پیدا کیا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ فطرۃ کل مولود یولد علی فطرۃ فطرتہ یا علی فطرۃ اسلام یا علی فطرۃ نصرانی یا علی فطرۃ مجوسی یا علی فطرۃ یھودی یا علی فطرۃ منکر
ی ہے کہ یہ لکھا ہے کہ باقی یہودیت نصرانیت مجوسیت وغیرہ کا ذکر ہے اور اس میں عیسائی عقیدہ کی کبر انسانی کا ذکر ہے اور جنتی پیدا ہوتا ہے خصوصیت سے کہ وہ یہودی تھا
اور بالمقابل زیادہ ہے کہ وہ اسلام یعنی حالت فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور جنتی ہوتا ہے صحیح مسلم میں جو اس حدیث کی روایات آتی ہیں وہ جہاں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ
فطرت سے مراد اسلام ہی ہے کیونکہ ایک روایت میں لفظ میں صامن مولود یولد لاد و علی فطرۃ اللہ اور ایک میں ہیں اذ علی ہذا ہذہ الفطرۃ یعنی کوئی انسان کا پیدا ہونا نہیں ہوتا کہ وہ اس
قت میں اسلام پر نہ پڑے اور بخاری نے کتاب التفسیر میں جزم کیا ہے لکھا ہے العلقۃ (الاسلام یعنی فطرت پر پیدا ہونے سے مراد اسلام ہی پیدا ہونا ہے +
(حاشیہ صفحہ ۳۱۸) حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فطرت یعنی فطرت اللہ کے ساتھ اور کسی قدر زیادہ تفصیل کے ساتھ کتاب التفسیر کے آخر پر آئی ہے اس میں ہی کویم صلعم کو مختلف قسم کے گناہوں کی حالت
اور نیکوں اور چھوٹے بچوں کا مقام خواب میں دکھایا گیا ہے یہ صرف ایک لفظ ہے کہ یہی کا انجام کیسا ہے اور نیکوں کا معصوم بچوں کا مقام کیسا ہے جس قدر سزاؤں کا یہاں
ذکر ہے نظماً و نثر میں عام برزخ سے ہے کیونکہ ان میں سے بعض میں یہ آتا ہے کہ قیامت کے دن تک یہی سزاؤں کی گنجینہ ہی انکو نظر پر عمل کرنا شکل ہے کہ جنت کی کوئی ذمہ
کیسا ہے + علم حدیث کے آخر میں آتا ہے کہ وہ مرد و عورت اور نیک و فاجر کی صورت میں دکھائے گئے اس سے ثابت ہوا کہ خواب
میں جو چیزیں صورت میں نظر آتی ہیں ضروری نہیں کہ وہ چیزیں واقعہ میں اسی صورت میں ہوں + پھر اس لئے دو لفظ اختیار کیے ہیں یعنی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے

إِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ فَلَا يَرْجِعْ لِي هَذَا حَتَّى يَلْتَمِسَ رَأْسَهُ وَعَادَ رَأْسَهُ كَمَا هُوَ فَعَادَ إِلَيْهِ

طرف ہوتا ہے کہ اسے آئے اور اچھو لٹ کر نہیں آتا کہ اس کا سر ٹھکانا ہے اور اس کا سر جیسا پہلے تھا ویسی ہو جاتا ہے لیکن وہ

قَضَى بِهَا قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ الْفَطْلُ فَأَنْطَلَقْنَا إِلَى تَقْدِيمِ شَيْءٍ لِلنَّوْمِ أَعْلَاهُ ضَيْقٌ وَ

اس طرف لٹ کر آتا ہے اور اسے لٹا کر نہیں لے کر لے کر آئے جیسے تو تم توڑ دینے ایک گڑھے پر لیجئے جو اوپر سے تنگ تھا اور

أَسْفَلُهُ وَاسِعٌ تَتَوَقَّعُ نَارًا فَإِذَا اقْتَرَبَ انْتَفَعُوا حَتَّى كَادُوا يَحْرَقُونَ فَإِذَا أَحْمَلَتْ

نیچے سے کشادہ اس کے نیچے آگ جھونک رہی تھی تیرے اوپر کوئی نارہ کے قریب آتی اور جو لوگ اس میں تھے وہ ہانک اور ہاتھ دھرتے کہ نکلنے کے قریب جاتے

رَجَعُوا فِيهَا وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عَرَاتٌ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَ الْفَطْلُ فَأَنْطَلَقْنَا حَتَّى

اور واپس بھی ہو جاتی تو وہ بھی اتر کر اندر چلے جاتے اور اس میں سے مرد اور لڑکیاں، عورتیں تھیں تو میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے کچھ لے لے کے چلے پھر تم چلے

أَتَيْنَا عَلَى أَنْفِ مَنْزِلٍ مِنْ كَيْفِ بْنِ عَمْرٍاءَ قَالَ لَمْ يَمُوتْ وَوَعَلَى وَسَطِ النَّهْرِ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارِمٍ وَ

یہاں تک کہ اس کے مندری پر پہنچے اس میں ایک شخص کھڑا ہے اور مندی کے ایک اچھے مقام پر یزید بن ہارم اور

وَهَبُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ وَعَلَى شَطِّ النَّهْرِ جُلٌّ بَيْنَ يَدَيْهِ جِمَارَةٌ فَأَقْبَلَ

دوباب بن جریب نے جریب بن قانم سے اس روایت کی اور نہر کے کنارے پر ایک اور شخص ہے جس کے سامنے پتھر ہے یہی

الرَّجُلَ الَّذِي فِي النَّهْرِ فَإِذَا ارْتَادَ انْتَحَرَ رَمَاهُ الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فَيْدٍ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ

جو شخص نہر کے اندر ہے آگے آتا ہے جب نکلے لگتا ہے تو دوسرا شخص اس کے مندری پر پتھر مارتا ہے اور اسے وہ پتھر اڑتا ہے جہاں

فَجَعَلَ كُلُّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَحِي فِي فَيْدٍ يَخْرُجُ فَيَدْرَجُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَ الْفَطْلُ

وہ تھا جب بھی وہ اچھو آتا ہے کہ نکلے اس کے مندری پر ایک پتھر مارتا ہے سو وہ لٹ کر زمین پر پڑتا ہے جہاں وہ تھا میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے کہنے لگے

فَأَنْطَلَقْنَا حَتَّى آتَيْنَا إِلَى رُفْضَةٍ خَضْرَاءَ فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ وَفِي أَصْلِهَا شَيْخٌ وَ

آگے چلے تو ہم پہنچے یہاں تک کہ ہم ایک سردار پہنچے میں پہنچے اس میں ایک بڑا درخت اور اس کی جڑ میں ایک بوڑھا اور

صَبِيَّانَ وَإِذَا اجْلُ قَرِيبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ يُوقِدُهَا فَصَعِدَانِي فِي

کئی بچے ہیں اور ایک اور شخص درخت سے قریب تھا اس کے سامنے آگ ہے اسے سلگتا رہتا ہے یہی وہ بچے درخت پر

الشَّجَرَةِ فَإِذَا خَلَانِي دَارُ الْمَرْفُطِ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ مِنْهَا فِيهَا رِجَالٌ شَبَابٌ وَشَبَابٌ

پڑھا کر لے گئے اور ایک ایسے مکان میں مجھے لے گئے کہ میں نے کبھی اس سے نہیں دیکھا اور وہاں پہلے اور جہاں

وَنِسَاءٌ وَصَبِيَّانَ ثُمَّ أَخْرَجَانِي مِنْهَا فَصَعِدَانِي الشَّجَرَةَ فَإِذَا خَلَانِي دَارُ أَحْسَنُ

مرد اور دو تین اور کچھ بچے تھے اس سے نکلا اور مجھے درخت پر اور اوپر لے گئے اور مجھے ایک اور مکان میں لے گئے جو پہلے سے جہاں

أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ فِيهَا شَبَابٌ وَشَبَابٌ قُلْتُ طَوْفَمَا فِي اللَّيْلَةِ فَأَخْبَرَانِي عَمَّا

نوع صورت اور عورتوں میں بوڑھے اور جوان تھے میں نے کہا تم نے رات بھر ہیرا لیا تو کچھ میں دیکھا جسے اس کا راز تھا وہ انہوں

رَأَيْتُ قَالَا نَعَمْ أَمَا الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ وَكَذَلِكَ أَبٌ يُحَدِّثُ بِاللَّيْلِ بِفَعْلٍ عِنْدَ

نے کہا اچھا وہ جو بچے دیکھا تھا جس کا سر پھیلایا تھا وہ چھوٹا آدمی ہے چھوٹی باتیں کرتا تھا اور یہ باتیں اس سے نقل کی جاتیں

حَتَّى يَبْلُغَ الْأَفَاقَ فَيَصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَدُّ رَأْسَهُ فَرَجُلٌ عَلِمَ

یہاں تک کہ جہاں طرف چھیل جاتیں تو قیامت کے دن تک اسے ہی سزا دی جائے گی اور وہ جو اچھے دیکھا تھا کہ اس کا سر پھوٹا جا رہا ہے تو ایسا

اللَّهُ الْقُرْآنَ فَنَامَ عِنْدُهَا اللَّيْلُ لَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِأَلْتَمَارٍ يَفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِي

شخص تھا کہ قرآن لے کر آتا تھا گمراہ رات کو اس کو سوزھتا ہے اور وہ اس پر عمل نہ کرتا تھا تو قیامت کے دن تک اسے ہی سزا دی جائے گی اور وہ جو اچھے

رَأَيْتَهُ فِي التَّقِيَّةِ فِيهِمُ الزُّنَاةُ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهْرِ اِكْلُوا الزُّبُورَ وَالشَّيْخُ الَّذِي فِي

توڑ میں دیکھے وہ زنا کار تھے اور وہ جو اچھے نہیں دیکھا سو وہ خوار ہیں اور جو بوڑھا درخت کی جڑ

مراد فرس نماز کا ادا کرتا ہے اور نوٹ ۲۹

أَصِلَ الشَّجَرَةَ إِبْرَاهِيمَ وَالصَّبِيَّانِ حَوْلَهُ فَأَوْلَادُ النَّاسِ الَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مَالِكٌ

میں تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گرد بچے لوگوں کے (نا بالغ بچے) ہیں اور وہ جو آگ سلاگا رہا تھا وہ مالک

خَارِنَ النَّارِ وَالَّذِي أَوْلَى الَّتِي فَخَلَتْ دَارَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَأَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ

دوزخ کا دارو ہے اور پہلا مکان میں ہیں آپ کے تھے وہ عام مومنوں کا گھر ہے اور یہ (دوسرا) مکان یہ شہیدوں

الشَّهِدَاءِ وَأَنَا جِبْرِئِيلُ وَهَذَا مِيكَائِيلُ فَأَرْفَعُ رَأْسَكَ فَرَفَعَتْ رَأْسِي فَأِدْفُوَنِي

کا گھر ہے علی اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں اپنا سر اٹھائیے میں نے اپنا سر اٹھایا تو ابد کی طرح

مِثْلُ السَّمَكِ فَإِذَا ذَلِكَ مَازِلَكَ فَقُلْتُ عَائِي أَدْخُلْ مَنزِلِي قَالَ إِنَّهُ بَيِّنُكَ مَرُومٌ

ایسی چیز سے اور سخی انہوں نے کہا یہ آپ کے مقام سے ہیں نے کہا مجھے چھوڑ دو کہ اپنے مقام میں جاؤں گے کہ آپ کی عمر بڑھاتی ہے

لَمْ تَسْتَكْمِلْ فَأَوْاسْتَكْمَلْتَ آتَيْتَ مَازِلَكَ (۹۲) بَابُ مَوْتِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ (۵۳۷)

آپ نے اسے انجام پر نہیں کیا اگر تو مارا جے ہوتے تو اپنے مقام میں پہنچے ہوتے ہاں یہ موت کی موت ہے

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَخَلَّتْ عَلَيَّ ابْنِي بَكْرٌ فَقَالَ فِي كَمْ كَفَنْتُمْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہا میں حضرت ابوبکر کے پاس (ان کی مرض الموت میں) حاضر ہوئی تو فرماتے تھے نبی صلعم کو تم نے کتنے قبروں میں دفن کیا

قَالَتْ فِي ثَلَاثَةِ آتَوَابٍ بِيضٍ تَحْوِلِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَبْرٌ وَلَا عِمَامَةٌ وَقَالَ لَهَا فِي

تھا کہا میں دوسرے سفید قبروں میں تھان میں تھیں تھی اور نہ عمامہ پھر ان سے کہا

أَيُّ يَوْمٍ تَوَفَّي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ قَالَ فَأَيُّ يَوْمٍ

رسول اللہ صلعم نے کس دن وفات پائی تھی کہا پیر کے دن فرمایا تو یہ کو سدا دن ہے

هَذَا أَقَالَتْ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ قَالَ رَجُوفًا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ فَظَنَرْتُ إِلَى تَوْبِعٍ عَلَيْكَ كَانَ

کہا پیر کا دن تو اب اس سے بیکر رات تک مجھے موت کی امید ہے اور ایک پیرے کی طرف دیکھا جس میں

يَمْرُضُ فِيهِ بِرَدْعٍ مِّنْ رَّعْمَانَ فَقَالَ غَسَلُوَنِي هَذَا أَوْ زَيْدًا وَعَلَيْكَ تَوْبَانِ

ان کی بیماری اور کھانسی تھی اس میں زعفران کا داغ تھا فرمایا میرا پیرا دعو کا اور اس کے ساتھ دو پیرے اور سے لینا

فَكَفَنُونِي فِيهَا قُلْتُ إِنَّ هَذَا خَاقٌ قَالَ إِنَّ خَاقِي أَحَقُّ بِأَجْدِيدِ مَرَاتِمَتِ أُمَّهُ الْوَهْلَةُ

مان میں مجھے کتا دو میں نے عرض کیا یہ تو پرانے فرمایا زندہ مردے کی نسبت ہے بڑے کا زیادہ عقدا ہے یہ تو خون اور پیر

فَلَمْ يَتَوَفَّ حَتَّى أَمْسَرَ مِنْ لَيْلَةِ الثَّلَاثَةِ وَدَفِنَ بَلَدِ الْبَصْرَةِ (۹۵) بَابُ مَوْتِ الْفَجَاءَةِ بَعَثَهُ

کیلئے ہے اور انہوں نے وفات نہیں پائی یہاں تک کہ منگل کی رات آگئی نکلا اور صبح ہو ہیے پہلے دفن کر دینے کے باب ناگہانی موت ہے

کی نا بالغ اولاد اور

بدرج اولیٰ نبوتوں اور عیسائیوں کی نا بالغ اولاد حضرت ابراہیم کی یاد ہے یعنی جنت میں ہیں اسلام کی اس وسیع معلم کے مقابل پر عیسائیت کی تعظیم ہے جس کی رو سے غیر عیسائی لوٹھے ہوں یا بچے

بڑے ہوں یا پھر شے رسد و دفع میں جائیں گے خود عیسائیوں کے وہ بچے جو پتھر لینے سے پہلے فوت ہو چکے ہیں وہ بھی ہمیشہ کیلئے لعنتی ہیں اور دوزخ میں جائیں گے بلکہ ایک عیسائی بزرگ

نے لکھا ہے کہ وہ دوزخ کی سطح پر جیتے چھریں گے نیز اس حدیث معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلعم کو دوزخ اور بہشت کا نظارہ علاوہ حجاج کے بھی تھی وہ خود لکھا یا کجا بنی حضرت سیدنا

میں بھی گزر چکا کہ آپ کو نماز میں حالت کشف میں جنت و نارود لکھنے کے پس جب متعدد مرتبہ آپ کو رویا کشف میں ایسے نظارے دکھائے گئے تو حجاج کا بھی ایک رویا کشف ہوا یا کجا بنی تین تیس ہے یا حضرت باب میں حضرت ابوبکر کی تو اس کا ذکر ہے کہ ان کی موت بھی آمدن ہو بعد رسول اللہ صلعم فوت ہوئے اور وہ میر کا دن تھا وہ علامت حضرت ابراہیم کی وفا

جاؤں لاشیٰ سلسلہ صحیح میں ہوئی جاوی کے ساتھ دن اتنی تھے بڑھ بعض عمارت میں ناگہانی موت کا ذکر ایسے پیرے میں ہے کہ گویا اپنے اُسے پورا سمجھا جتنا بچہ اور او د میں ہے موت الحکماء

اخلاق آسٹ یعنی ناگہانی موت غضب کی پڑ ہے یا غضب دامن کی پڑ ہے اور احمد کی روایت میں ہے ان الذی صلعم فرجدا اور ما صل فاصحہ قال انک موت الفجاءة یعنی نبی صلعم ایک

سجک ہوئی اور پیر کے پاس سے گذرے تو بعد ہی سے گذرے اور فرمایا کہ میں ناگہانی موت کو ناپا کھنڈ کر ہوں اس دوسری حدیث کا مطلب زو صاف ہے دیوانہ گرنے والی معلوم

ہوئی تھی تو اپنے ذرا ناگہان میں اسے ناپا کھنڈ کرنا ہوں کہ یہ ناچانک گھاسے تو اس کے پیچھے دب جاؤں اس میں موت خاص طرز پر آئے باز آنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا اور پہلی حدیث کو

یا زید تھو کر تھوڑے گا کہ وہ گھنکار کے لئے غضب کی گرفت ہے کیونکہ اسے تو یہ یا رجوع کا موقع نہ ملا اور اسکی تاکید ابن ابی شیبہ کی روایت سے ہوتی ہے جو حضرت عائشہ

کی طرف منسوب اور یعنی اور فتح الباری میں مذکور ہے موت الفجاءة راحة المؤمن و اسف علی الفاجر اور اسے بخاری کی حدیث کے مقابلہ پر روکنا ٹھیک اور فی الحقیقت موت کا

کیلیا دوسرے رنگ ہیں آگ کے اختیار میں نہیں کہ اسے اچھا یا برا کہا جائے اور حدیث باب میں صاف ذکر ہے کہ آپ نے ناگہانی موت کا آنا کھنڈ کر اسے برا نہیں کہا

اور

اور

اور

اور

اور

اور

اور

اور

علیٰ استغفر من
جہاں یہ حدیث مذکور ہے
ہے اس کی جگہ یوں
الفاظ میں و اما
اولاد الناس حوله
فکل بطور مات
علیٰ الفجر قال
فذا بعض المسلمین
یا رسول اللہ و اولاد
المشرفین فقال ہر
اللہ صلی اللہ علیہ
و سلم و اولاد
المشرفین یعنی وہ
بچے جو ان حضرت
ابراہیم کے اور
گردنے وہ کام بچے
ہیں جن کی موت نفرت
پہنچتی ہے یعنی جو
موت سے پہلے فوت
ہو جائے کہ دوسرے
فطری مذہب پر ہوتے
اسلام سے فوت ہوتے
ہیں اور بعض مسلمانوں
نے کہا یا رسول اللہ
مشرکوں کا اولاد بھی
راہی میں داخل ہے
فرمایا مشرکوں کی اولاد
بھی انہوں میں داخل ہے
یہ الفاظ صراحت سے
بتاتے ہیں کہ مشرکوں
کی نا بالغ اولاد اور

۴۳۵) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمَّيْ أَمَيْتَلْتُ نَفْسَهَا

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلعم سے عرض کیا کہ میری ماں بیکار ہو گئی

وَإِظَاهَا لَوْ كَلَّمْتُ تَصَدَّقَتْ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ أَنْ تَصَدَّقَتْ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ ۖ (باب ۱۹)

اور میرا خیال ہے کہ اگر اے بولنے کا مقصد ہے تو خیرات کرنی تو اگر میں اس کی طرف سے خیرات کروں تو کیا اسے ثواب ملے گا فرمایا ہاں۔ باب

مَا جَاءَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنُ يَكْرِؤُ وَعُمَرُ فَأَقْبَرَتْ الرَّحْلُ أَقْبَرَهُ

جو نبی صلعم اور ابوبکر اور عمر کی قبروں کا بارہ میں آیا ہے فاتحہ پڑھا (۲۱۰) سے قبر میں داخل کیا (موت کہتے ہیں) اقبور کا مطلب ہے قبر میں

إِذَا جَعَلْتَ لَهُ قَبْرًا وَقَبْرُهُ دَفِنَتْهُ لَقَائًا لِكُنُونِ فِيهَا أَحْيَاءٌ وَبَدَنُ فِيهَا أَمْوَاتٌ

نے ایک نے قبر بنا لی اور قبر بننے میں اسے دفن کر دیا اور کہا (مراسلت) ۲۵۰ یعنی زندہ لوگوں میں سے ہیں اور مرنے والے اسی میں دفن کیے جائیں گے

۴۳۶) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَعَدَّ سُرْفِي

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے اپنی بیواری کی حالت میں

فَرَضَهُ أَيُّنَ أُنَا الْيَوْمَ أَيْنَ أُنَا عَدَا الْاِسْتِبْطَاءِ لِيَوْمِ عَائِشَةَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ قَبْضِهِ

تنگی محسوس کرتے (اور فرماتے) آج ہیں کہاں ہوں گے میں کہاں ہوں گا حضرت عائشہ کے دن میں رہتے تھے حسب میرا دن آپ تو جانتے

اللَّهُ بَيْنَ سَحْرَى وَنَحْرَى وَدَفِنَ فِي بَيْتِي (مر ۵۶) عَنْ عَائِشَةَ (متکرر ۳۰)

آپ کو وفات ملی اس حال میں کہ آپ میرے پہلو اور سینے کے درمیان تھے اور آپ میرے گھر میں دفن ہوئے دیکھو حدیث بکرہ ۲۰

۴۳۷) عَنْ سُفْيَانَ الثَّمَارِيِّ أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْتَمًا

سفیان ثمری صحیح دال سے روایت ہے کہ اس نے نبی صلعم کی قبر کو اونٹ کے کرناں کی طرح دیکھا

عَنْ عَمْرٍو لَمَّا سَقَطَ عَلَيْهِمْ أَحْكَاطُ فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ

عروہ سے روایت ہے جب ولید بن عبدالملک کے زمانے میں حضرت عائشہ کے حجرے کی دیوار گری

أَخَذُوا نِي بِنَائِهِ فَبَدَّتْ لَهُمْ قَدَمٌ فَفَرَعُوا وَظَنُّوا أَنَّهُ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اور اسے بنانے لگے تھے تو انہیں ایک قدم نظر آیا سو وہ گھبرائے اور خیال کیا کہ یہ نبی صلعم اللہ علیہ وسلم

وَسَلَّمَ فَمَا وَجَدُوا أَحَدًا يُبْعَثُهُمْ ذَلِكِ حَتَّى قَالَ لَهُمْ عَمْرٍو لَا وَاللَّهِ مَا هِيَ قَدَمُ النَّبِيِّ

کا قدم ہے اور کسی کو نہ پایا کہ اسے پیمانے یہاں تک کہ عروہ نے ان سے کہا خدا کی قسم یہ نبی صلعم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هِيَ إِلَّا قَدَمٌ عَمْرٍو وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

کا قدم ہرگز نہیں یہ حضرت عمر کا ہی قدم ہے بلا اور ہشام اپنے باپ سے وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں

۴۳۵ اس سے معلوم ہوا کہ مرنے والے کی طرف سے خیرات کی جائے تو اس کا ثواب اسے پہنچتا ہے اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جب وہ فعل اس نے خود نہیں کیا تو اس کا ثواب اس کے لئے نہیں پہنچ سکتا ہے سو حدیث میں یہ ذکر ہے کہ انسان نے کیا تھا کہ میری ماں اگر بولنے کا موقع ملتا تو وہ خود خیرات کرتی یہاں اس کی نیت تھی لیکن اسے موقع نہیں ملا اور ایسے ہی نیت ہر مومن کی نیت ہوتی ہے کہ وہ خدا کی راہ میں خرچ کرے البتہ ایسے امور میں کوئی کام قائم نہیں بنایا جا سکتا جس حد تک رسالے فرمایا ہے اسی حد تک ان باتوں کو عمل دیکھا جائے گا

دوسرے گھر میں جانے میں تنگی محسوس کرتے تھے اور باپ عرض النبی دفن تھا میں حضرت عائشہ کی روایت ہی ہے کہ جب حضرت صلعم کی بیماری سخت ہو گئی تو آپ نے اپنی بیویوں سے اجازت مانگی کہ آپ کی بیماری داری میرے گھر میں کی جائے تو انہوں نے اجازت دیدی۔ بعد ان سعد نے روایت بیان کی ہے کہ حضرت فاطمہ نے آپ کی اولاد سے یہ کہا تھا کہ آپ کو ایک گھر سے دوسرے گھر جانے میں تنگی محسوس ہوتی ہے اور حضرت عائشہ کی تیمارداری آپ کو زیادہ پسند تھی اس لئے بھی کہ آپ کو ان کے ساتھ سب بیویوں سے زیادہ محبت تھی اور اس لئے بھی کہ حضرت عائشہ کا تقویٰ الدین آپ سب سے بڑا کرنا تھے ۱۰۱ حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت صلعم کی قبر حضرت عائشہ کے حجرے میں ہے۔ ۱۰۲ الفاظ حدیث میں ہیں تال رسول اللہ صلعم فی منہ الذی لعلہ منہ لعلن اللہ الیہن والنصارى یخذون اقدرا انبیا ثم مساجد لولا ذلک ائمز قبرہ غیر انہ حبیبی (وختی ان یقتل مسجدا لہ الفاظ قرآنی ہیں جو مردم ۵۰۰ میں آتے ہیں پھر نوٹ ۵۰۰ پر اس معلوم ہوا کہ آپ کی قبر کچھ دور تھو با کہ راستے بند ہو گیا ہو سکا اس میں تفرکی صورت بتائی گئی ہے کہ وہ اونٹ کے کورناں کی شکل کی تھی نہ وہ ولید بن عبدالملک کی بادشاہت زمانہ میں عمر بن عبدالعزیز مدینے کے حاکم تھے ولید نے انہیں حکم دیا کہ انہاں لوگوں میں سے جسے چاہے وہاں مسجد کی توسیع کرو نہ نہ قدم سے اور کھٹے تک ٹانگ بڑے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی قبریں حضرت صلعم کی قبر کے پہلو میں تھیں اس طرح بڑے کمرزنت ابوبکر کا سر حضرت عمر کا سر حضرت صلعم کے پاؤں کے قریب ہے اور حضرت عمر کا سر حضرت صلعم کے پاؤں کے قریب ہے اور نبی صلعم کے قدم ہوتے ہیں حضرت عمر کا قدم چھو نہ لیا تھا اس لئے قبر بناتے وقت ان کے پاؤں دیوار کے نیچے رکھے گئے اور اسی لئے دیوار کے گرنے سے ظاہر ہوئے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز خود اس موقع پر حجاز تھے جب قبروں پر عمارت بنا دی گئی تو انہوں نے حجرے کی عمارت کو اونڈ سے گر دیا گیا اس وقت یہ تینوں قبریں نظر آئیں اور ایک دیوار کی بنیاد کے نیچے سے ریت نکل کر حضرت عمر کے قدم نظر آئے حضرت عمر بن عبدالعزیز پائس لٹا کر اسے کا سقدار فرمایا کہ روئے تھے بخاری کا سر جبرئیل کے لالے نے منشا غالباً اسی قدم بنا تھا کہ حضرت ابوبکر و عمر کی قبریں حضرت صلعم کی بقا ہی میں ذ

عاشق حضرت عائشہ
نے اس پر معاملہ میں کمال
درجہ کی نفسی کھائی
صدا ہی سے مراد
بچی کو صلح کی دوسری
بیویاں ہیں، گو حضرت
عائشہ نے فرمایا کہ میں
لینے نہیں کرتی کہ ان
پر مجھے یوں ترجیح دی
جائے کہ میں رسول
کے پہلو میں دفن ہوں
اور وہ سب دوسری
جگہ دفن ہوں یہی جگہ
آؤں بہ اہل سے ہے
یعنی اس ذریعہ سے اپنی
شتر خرید کر لایا اپنے
ساتھ کی دوسری بیویوں
پر وقت لینے نہیں
کرتی کہ شتر بے نفی
ہے کہ اپنی سونوں پر
ایک ظاہری ذریعہ سے
ترجیح دینے جانے کہ
پسند نہ کیا، ظاہر طور
پر ان کے ہاں وہ ہیں
لیکن ذاتی تفضیل کی
وجہ سے سب سبقت
دیکھیں، جن سے یہ ہے
فیصلہ حضرت عائشہ
نے اس وقت کر لیا
جو نبی حضرت عمر
اپنی قبر کے لئے وہاں

أَتَى أَقْصَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّيْزِ بْنِ دَفْنِي مَعَهُمْ وَأَدْفِنِي مَعَ صَوَاحِبِي بِالْبَيْعِ
کہ انہوں نے علی عبداللہ بن زبیر کو وصیت کی کہ مجھے ان کے ساتھ دفن کرنا اور اپنی رفیقوں کے پاس بیعت میں دفن کرنا

لَا أُرَى بِهٖ أَبَدًا رَسْمًا عَنْ عُمَرُو بْنِ مَيْمُونٍ بِالْأَوْدِيِّ قَالَ رَأَيْتُ عَدْرَةَ بْنِ الْخَطَّابِ
اس ذریعہ سے میں اپنی معرفت نہیں چاہتی ما عمر بن مایمون اودوی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر کو دیکھا

قَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَذْهَبَ إِلَى أَمْرِ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ فَقُلْ لِيَمْرَأَةٍ كَخَطَّابِ
کہا اے عبداللہ بن عمر ام المؤمنین عائشہ کے پاس جاؤ کہہ دو کہ میں نے حضرت عمر کو دیکھا

عَلَيْكَ السَّلَامُ ثُمَّ سَأَلَهَا أَنْ أَدْفِنَ مَعَهُ صَاحِبِي قَالَتْ كُنْتُ أُرِيدُكَ لِنَفْسِي فَلَا وَتَرْتَهُ
آپ کو سلام کہتا ہے پھر ان سے درخواست کر کہ میں اپنے دوڑوں سا رفیقوں کے ساتھ دفن کیا جاؤں کہ میں اس (کہا) کہ اپنے لئے چاہتی تھی

الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي فَلَمَّا أَقْبَلَ قَالَ لَهُ مَا لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
مگر اپنے نفس پر لاکر مقدم کرتی ہوں جب وہ واپس آیا تو اسے کہا کیا جواب لائے جو عرض کیا اے امیر المؤمنین آپ کیلئے اجازت دیدی ہے

قَالَ مَا كَانَ شَيْءٌ أَهَمَّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ الْمَضِجِ فَاذْأَقِضْتُ فَأَسْمُوْنِي ثُمَّ سَلِمُوا ثُمَّ
فرمایا اس خواہ گاہ سے بڑھ کر مجھے کسی چیز کا خیال نہ تھا جب میں سر جاؤں تو جنازہ اٹھا کر لے جاؤ پھر سلام عرض کرنا پھر

قُلْ يَسْتَأْذِنُ لَكُمْ مِنْ الْخَطَّابِ فَإِنْ أَدْنَتْ لِي قَادِفُونِي وَالْأَفْرَدُونِي إِلَى مَقَابِرِ
کہنا کہ عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے تو اگر وہ سر سے لئے اجازت تو مجھے وہاں دفن کر دیا تو مجھے مسلمانوں کے

الْمُسْلِمِينَ إِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَحَى بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ هَؤُلَاءِ الثَّقَلَيْنِ تُوْفِي رَسُولُ
قبرستان میں لے جانا اس میں اس حکومت کا ان چند آدمیوں سے بڑھ کر کسی کو خدا نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ صلعم نے وفات پائی

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنَّا رَاضٍ فَمَنْ اسْتَحْلَفُوا بَعْدَهُ فَمَا خَلِيفَةٌ فَاسْمَعُوا
اور آپ ان سے راضی تھے، سو میرے بعد جسے علیف بنا یا تو وہی علیف ہے پس اس

لَهُ وَأَطِيعُوا أَقْسَمَةَ عُمَانَ وَعَلِيًّا وَطَلْحَةَ وَالزَّيْدَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدَ بْنَ
کی بات کہ سنو اور پیروی کرو اور عثمان اور علی اور طلحہ اور زبیر اور عبدالرحمن بن عوف اور سعد بن

إِنِّي وَقَاصِرٌ وَكَمْ عَلَيْكَ شَأْبٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ ابْشُرِيَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
اپنی وقاص کا نام لیا اور انصار میں سے ایک جوان آپ کے پاس پہنچا اور کہا

يَسُرُّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ لَكَ مِنَ الْقَدَمِ فِي الْإِسْلَامِ مَا قَدَّمْتَ ثُمَّ اسْتَحْلَفْتَ
اللہ تعالیٰ کی بشارت سے خوش ہو جائے اسلام میں جو آپ کا وہ ہے وہ آپ ہاتھ میں پھرا آپ علیف بنا لے گئے

مگر باقی جیسا کہ اگلی حدیث میں ذکر آئے ہے اور عبداللہ بن زبیر سے یہ وصیت جس کا ذکر اس حدیث میں ہے۔ اس وقت اس سے ہی پیشتر کی بروصیت کے لفظ سے ثبوت نہیں
ہوتا کہ بستر مرگ پر ہی یوں فرمایا جو کہ اس وقت تو وہاں جگہ ہی نہ رہی تھی ایک ہی قبر کی جگہ تھی سو حضرت عمر وہاں دفن ہو چکے تھے۔ اے حدیث ایک ہی حدیث کا جگہ ہے
جسے نام بخاری مناتب عثمان میں لائے ہیں یہاں اس پر یہ ہتھیار تو ذکر دی ہے۔ جو عنوان واجب تعلق رکھتا ہے یعنی حضرت عمر کی قبر کا حضرت صلعم اور حضرت ابوبکر کی
قبروں کیساتھ جو نابہاں تھیں۔ تفصیل سے یہ بیان ہے کہ جب حضرت عمر زخمی ہوئے اور موت کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے حضرت عائشہ سے یہ اجازت چاہی کہ ان کو حضرت
عائشہ کے حجرہ میں رسول اللہ صلعم اور حضرت ابوبکر کے پہلو میں دفن کیا جائے، جب حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ حضرت عائشہ کی خدمت میں یہ درخواست لے کر
حاضر ہوا تو انہوں نے کہا کہ وہ جگہ میں نے اپنے لئے رکھی ہوئی تھی، مگر میں حضرت عمر کو اپنے نفس پر ترجیح دیتی ہوں اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حجرہ میں ایک ہی اور قبر
کا جگہ تھی اور حضرت عائشہ کا ابتدا یہ خیال تھا کہ ان کی قبر لینے خانہ زاد والد کے ساتھ ہو، مگر حضرت عمر کے مقام اور منزلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور دوسرے اس خیال
سے جس کا ذکر حدیث سابق میں ہوا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کی سونوں پر اس وجہ سے انہیں ترجیح دی جائے وہ علیف انہوں نے حضرت عمر کو دیدی حضرت عمر کی احتیاط
جی حال اور پھر بچی گرفتار کیا کہ میری وفات کے بعد پھر دوبارہ حضرت عائشہ سے اجازت لے کر مجھے وہاں دفن کرنا کیونکر وہ جانتے تھے کہ حضرت عائشہ کو بھی کس قدر یہ امر محبوب ہو
گا کہ خانہ زاد والد کے پہلو میں ان کی قبر ہو، اور طرف تقویٰ اور سبقت کا خیال ہے، سابق عثمان میں یہاں یہ روایت دوبارہ آئی ہے۔ وہاں یہ لفظ بھی ہے کہ حضرت عائشہ سے یہ کہنا کہ عمر
اجازت مانگتے ہیں یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین اجازت مانگتے ہیں کیونکہ یہ حکم ہوتا ہے حضرت عمر سے خطاب علیف کیلئے ہے، آدمیوں کے جو مشورہ ہمیشہ میں سے ہے، نام لے کر وہ جسے شرف
رکھے سے اپنے میں سے پسند کریں علیف بنا لیں۔ اس میں انہوں نے لئے عامہ کا بھی لحاظ کیا کہ اس وقت یہی چھ آدمی سب سے زیادہ کمزور تھے جانتے تھے

قَدَلَتْ لَمْ الشَّهَادَةَ بَعْدَ هَذَا كَلِمَةً فَقَالَ لَبَّتَنِي يَا ابْنَ آخِي وَذَلِكَ كَمَا قَالَ عَلِيٌّ

تو اپنے انصاف کیا پھر ان سب کے علاوہ شہادت ہے فرمایا اے مجھے کاش یہ (خلافت) میرے لئے برا ہو

وَأَلِيٌّ أَوْ حِيٍّ أَخِيْفَةَ مَنْ بَعْدِي بِالْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ خَيْرًا أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ

سر پر ہی ہونے پر مجھ پر (دربال) ہونے سے زیادہ نامدنی چیز میں ہیں اپنے بعد انہوں نے صلہ کو ہا ہجرت اور اولین کیساتھ جھلائی کر لیگی وصیت کرتا ہوں کہ

حَقْلَهُمْ وَأَنْ يُحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتُهُمْ وَأَوْصِيَهُم بِالْأَنْصَارِ خَيْرًا مِنَ الَّذِينَ تَبَوْا الدَّارَ

انہی جن پہ چلائے اور انکی عزت کی حفاظت کرے اور اسے انصار کے ساتھ جھلائی کرنے کی وصیت کرتا ہوں جنہوں نے مدینہ میں مگر لی اور

وَالْإِيمَانَ أَنْ يَقْبَلَ مِنْ مَحْسِنِهِمْ وَيَعْفَى عَنْ مَسِيئَتِهِمْ وَأَوْصِيَهُم بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ

ایمان پر مضبوط رہے کہ ان میں سے نیک کی قدر کی جائے اور انہیں سے ضرور دار سے در گذر کر جائے اور اسے خدا اور اس کے رسول کے ہمد

رَسُولِهِ أَنْ يُؤْتِيَ لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَأَنْ يُقَاتِلَ مِنْ رَأْيِهِمْ وَأَنْ لَا يَكْفُوا فَوْقَ طَائِفِهِمْ

کی حفاظت کی وصیت کرتا ہوں کہ ان کا عہد پورا کرے اور انکی حفاظت کیلئے لڑائی لڑائے اور اگر انکی طاقت سے بڑھ کر کچھ نہ ڈالا جائے اور

(۹۷) بَابُ مَا يَنْهَى مِنْ سَبِّ الْأَمْوَاتِ (۴۰) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ

مسئلہ باب کہاں تک مردوں کو برا کہنے سے روکا گیا ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہا نبی

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ فُضِّلُوا إِلَى مَا قَدَّمُوا (۹) بَابُ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو برا نہ کہو انہوں نے جو کچھ ان کے چھوٹا ہوا ہے یا کیا مسئلہ

ذِكْرِ شَرِّ الْأَمْوَاتِ (۴۱) عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ قَالَ أَبُو لَيْبٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَنَادَى بِحَيْثُ لَا يَنْوَلُ مَرْدًا كَذَلِكَ عَمَّا ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ

کہا ابو لیب نے نبی صلعم سے کہا

تَبَاكَ سَائِرَ الْيَوْمِ فَانزَلَتْ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ

تیرے لئے ہمیشہ ہلاکت ہو تو یہ (آیت) اتری ابو لیب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ ہلاک ہو گیا

اس کی ذمہ داری کو پورا ادا کر کے ہوں تو ایسا نہ ہو کہ اس کی گرفت میں آجائیں اس لئے فرمایا کہ اگر حکومت کی ذمہ داری کی اہلیگی میں کو تا ہوں کا معاضد ان حضرت سے ہو جائے

تو یہ ہے کسی دنیا کے انسان میں یہ ذمہ داری کا احساس پیدا نہیں ہو سکتا مسئلہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے اَوَلَمْ تَرَ الَّذِينَ تَقَبَّلُوا مِنْكُمْ بِحَسْبِ مَعْلُومٍ وَأُولَئِكَ هُمُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

الحقہ و مسئلہ ذمہ اللہ ذمہ رسول میں بعض شراہیں نے امت مسلمہ کو کیا ہے اور بعض نے اہل ذمہ کو نبی غیر مسلم جو اسلامی حکومت طاقت تھے مگر جہاں یہ حدیث

مناقبہ عثمان بن عفیف سے آئی ہے اس سے اس بات کا قطعی فیصلہ ہوتا ہے کہ اس سے مراد اہل ذمہ ہیں یعنی غیر مسلم رعایا کیونکہ وہاں ہا ہجرت کے متعلق پھر انصار کے متعلق

اوصیہ کے الفاظ سے وصیت لاگو نہیں فرمایا اور وصیہ باہل الامہ صراحتاً انہوں کے بعد آئے اور وصیہ بلا حرج اور پھر ایک اور گروہ ہے اور وصیہ ذمہ اللہ و

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نے اس قدر باجوریت کو اس قدر ذمہ داری اور وصیت کا کام سمجھا تھا کہ باوجود اس کے کہ اتنی بڑی وسیع سلطنت اسلامی کی ان کے ہاں میں تھی اور عدل انصاف میں جس کی کو باوجود تمام گناہوں کے ایک بڑی بیت المال سے نہیں لی اور پورے ملک کے پورے بیٹے اور سارے خدا کا شکر ہے اور زمین کے گوشہ گوشہ پر آرام کرتے رہے اور ایک معمولی مزدور کی طرح کام کرتے رہے پھر بھی حکومت کی ذمہ داری کو اتنا بڑا سمجھا کہ اس میں ان سے سب سے زیادہ اور ان کو نبی تصور ہو گیا اور

۱۰۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام پر پڑھو اور

بار بار دم

کرتے والے کے نام سے

۲۴- کتاب الزکوٰۃ

۲۴ - کتاب زکوٰۃ کے بیان میں

(۱) **بَابٌ وَجُوبُ الزُّكُوٰةِ وَقَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاَقِمُوا الصَّلٰوةَ وَاَتُوا الزُّكُوٰةَ وَقَالَ**

باب زکوٰۃ کی فرضیت اور اللہ تعالیٰ کا فرمان اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور

ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ يَا مَعْرَا

ابن عباس سے کہا مجھ سے ابرو سفیان نے بیان کیا اور نبی صلعم کی حدیث کا ذکر کیا تو کہا میں

بِالصَّلٰوةِ وَالزُّكُوٰةِ وَالصَّلٰوةِ وَالْعَقَابِ (۴۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نماز اور زکوٰۃ اور صلہ رحمی اور پاکدامنی کا صلہ دیتے ہیں عطا ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَاذَ الرَّالِیْمِنِ فَقَالَ دُعُوهُمْ اِلٰی شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَنِّی

نے معاذ کو مین کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ انہیں دعوت دو کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں اور

رَسُولٌ لِّلّٰهِ فَاِنْ هُمْ اطَاعُوا الَّذِکَ فَاَعْلَمْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَیْکُمْ حَسَنَ صَلٰوةٍ

کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اگر وہ ایسا مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں ان پر پانچ نمازیں

فِی کُلِّ یَوْمٍ وَّیَلِیةٍ فَاِنْ هُمْ اطَاعُوا الَّذِکَ فَاَعْلَمْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَیْکُمْ صَدَقَةً فِیْ اَمْوَالِکُمْ

فرض کی ہیں اور اگر وہ یہ بھی مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ نے ان کے مال میں ان پر خیرات کو فرض کیا ہے جو ان

تُؤْتُوْنَهُمْ مِنْ غَیْبِ اَمْوَالِهِمْ وَتَرَدُّوْنَهَا فِیْ فُقَرٰۤاهُمْ (۴۳) عَنْ ابْنِ اَبُوْبَانَ جَدًا قَالَ النَّبِیُّ صَلَّى اللهُ

کے مالوں سے ان کا مال لینے اور ان کے غائب مال کو واپس بھیجیے ابویوب سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ

عَلِیْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَنِيْ بِعِلْمِیْ تَلْخِیْلِ الْجَنَّةِ قَالَ لِمَالَهَ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَبَّ

و صلعم سے عرض کیا مجھے ایسا کام بتادیجئے کہ مجھے جنت میں لے جائے (اس نے) کہا ایسے کیا بڑا نبی صلعم نے فرمایا حاجت ہے اور

مَالَهَ تُعْبَدُ اللّٰهُ لَاسْتِشْرَکَ بِهٖ شَیْئًا وَتَقْدِیْمِ الصَّلٰوةِ وَتَوْقِیِ الزُّكُوٰةِ وَتَقْوِیِ الرَّحِمِ

کی توثوق۔ اللہ کی عبادت کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور صلہ رحمی کو

۱۔ زکوٰۃ تین ماں کا
۲۔ ایک مہینہ مقرر ہے اور
۳۔ مساکین کی مدد کیے
۴۔ دنیا اسکا کا وہ سزا
۵۔ کن سے اور قرآن کریم
۶۔ میں بھی عموماً صلوة تکی
۷۔ بعد ہی زکوٰۃ کا ذکر ہے
۸۔ اجماعاً الصلوة واولا
۹۔ الزکوٰۃ زکوٰۃ کا ہے
۱۰۔ مشرق سے جس کے
۱۱۔ معنی میں کبھی میں منو
۱۲۔ کا اتنا نفس کا برفنا
۱۳۔ اور مال کا ایک مہینہ
۱۴۔ حصہ خیراتی پرورش
۱۵۔ کیے دئے تو زکوٰۃ
۱۶۔ اسی لئے کہا گیا ہے
۱۷۔ کہ جتنا اس سے
۱۸۔ مال ترقی کرتا ہے اگر
۱۹۔ خور کیا جائے تو صلوم
۲۰۔ ہوگا مال کی ترقی ایک
۲۱۔ شخص کی ذات سے
۲۲۔ والیست نہیں بلکہ ساری
۲۳۔ قوم کے اکتساب سے
۲۴۔ والیست جس سے لئے
۲۵۔ ایک شخص کا اپنے مال
۲۶۔ کے ایک حصہ کو خیراً
۲۷۔ پر خرچ کرنا کہ ان کو
۲۸۔ اس قابل بنانا ہے
۲۹۔ کہ وہ جہنم کے
۳۰۔ قابل ہوں اور اس
۳۱۔ طرح قوم کا مال
۳۲۔ بڑھ کر اس کے

افراد کے مالی ترقی کا موجب ہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ اسکی جو عام طور پر زکوٰۃ مسلمان دیتے ہیں وہ محض چند منقبت خوردے ہوتے ہیں جو بیکار بیچے کر کھاتے ہیں اور اس لئے زکوٰۃ کی اصل غرض ہی پوری نہیں ہوتی۔ پس زکوٰۃ مال کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ اور یہی دنیا میں اس کا ثواب ہے کہ آخر کار خود زکوٰۃ دینے والا بھی قوم کی مالی ترقی سے فائدہ اٹھاتا ہے اور آخرت میں اس کا ثواب یہ ہے کہ مال انسان کی سب سے زیادہ محبوب چیز ہے۔ اور وہ اس کی خاطر ہیبت سے ناجائز کام کرتا ہے۔ لوجب وہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ اپنے مال کا ایک معین حصہ خدا کے لئے الٹ کر دے۔ تو ایک طرف اس کے دل سے مال کی محبت کم ہوتی رہے گی اور مال کی محبت کم ہونے سے اللہ تعالیٰ کی محبت جو سب نیکیوں کی بڑ ہے ترقی کرتی ہے اور دوسری طرف جب خدا کے علم کے ماتحت اپنا مال دینے کی عادت ہو جائے گی تو اسی خدا کے حکم کے ماتحت دوسروں کے مال کا حقد لینے سے بھی ڈرے گا۔ کیوں زکوٰۃ انسان کیئے آخرت میں ثواب کا موجب ہے نہ اس کتاب زکوٰۃ کی ابتدا اور بعد میں قرآن شریف سے کی ہے کیوں کہ رسول خدا کا حکم کی اسی پر ہے اور حدیث میں تفصیلات ہیں ابن عباس کی حدیث جس کا ایک ٹکڑا جس میں زکوٰۃ کا ذکر ہے یہاں لائے ہیں پھر یہی لوگ روکے گئے ہیں مگر وہاں زکوٰۃ کا لفظ نہیں بلکہ ایوں ہے واما بالصلوة والصدقة والغنائ والصلوة اور اس روایت میں صلوة اور زکوٰۃ اور صلوات عطف کا ذکر ہے نہ صلوات دوسری صورتوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسالت منوالی جانشین پھر نماز کے لئے کہا جائے پھر زکوٰۃ کیئے پس اصل طریق تبلیغ ہے زکوٰۃ کی جو ترقی یہاں پہلی فقرہ میں کی ہے وہی زکوٰۃ کی غرض کہ بتاتی ہے مالداروں سے لینا اور محتاجوں کو دینا۔ تاکہ دونوں پہلو پر مبنی ہو ترقی کے قوم کی توت کا موجب بین ہو

(۲۴۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي نَحْيُ عَلَى

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نبی صلعم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے ایسا

عَلَى إِذَا عَمَلْتُمْ دَخَلْتُمْ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتَقِيمُ الصَّلَاةَ

کام بتلاشے کہ اُسے کہ جنت میں چلا جاؤں فرمایا اللہ کی عبادت کو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر اور فرض نماز کو قائم رکھ

الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ

اور مقررہ زکوٰۃ دبا کر اور رمضان کے روزے رکھ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں

لَا أُرِيدُ عَلَى هَذَا أَفَلَا وَنِي قَالَ لِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ

یہی جان ہے اسپر نہ بھڑاؤنگا جب وہ پھر کر چلا گیا تو نبی صلعم نے فرمایا جو اہل جنت میں سے

مَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ (متکلمہ ۴۷) (۲۴۵)

کسی شخص کو دیکھ کر خوش ہونے لے وہ اسے دیکھ لے مل دیکھو حدیث نمبر ۴۷

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تَوَدَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَكَفَرُ مِنْ كَفَرٍ

ابو ہریرہ سے روایت ہے جب رسول اللہ صلعم نے وفات پائی اور حضرت ابو بکر (علیہ السلام) نے کفر اور عرب میں

مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ كَيْفَ تَقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سے جنہیں انکار کرنا تھا منکر ہوئے تو حضرت عمر نے کہا آپ کس طرح لوگوں سے لڑنا چاہتے ہیں حالانکہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا ہے کہ مجھے

أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنْ مَالِهِ وَنَفْسِهِ الْإِحْقَاقَ

لوگوں سے لڑنے کا اس وقت تک حکم دیا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے سو جو اس کا اقرار کرے گا اور یہ کہ جگہ سے بچا گیا ہے

وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ لَا قَاتِلِينَ مِنْ فِرْقٍ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقٌّ

اس کے پاس یہ کہ فی حق ہوا اس کا حساب اللہ ہی کا تو ابو بکر نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس سے نزدیک ہوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا کہ یہ زکوٰۃ مال حق

الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا أَكَاؤُا يُؤَدُّ وَنَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتَهُمْ

ہے اللہ اللہ کی قسم اگر وہ مجھ سے روکے گا تو میں لڑوں گا اور رسول اللہ صلعم کو دبا کرتے تھے تو میں نے اسے نہ

عَلَيْهِمْ مَا قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي بِكَرْفَرْتَهُ لِحَقِّهَا

دینے پر لڑوں گا حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم بات یہی ہے کہ اللہ نے حضرت ابو بکر کے سینے کو کھول دیا تھا سو میں سمجھ گیا کہ یہی حق ہے اسے اس باب

الْبَيْعَةِ عَلَى آيَاتِ الزَّكَاةِ فَإِنَّ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ فَأَحْوَأَكُمْ فِي الدِّينِ

زکوٰۃ دینے پر بیعت کرنا اگر وہ توبہ کریں اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں

علاؤ زید علی
ذالک میں لا انقص
بھی آجاتا ہے کیونکہ
ایک طرف کا ذکر کر کے
دو طرف طرفیں مراد
لینا عام ہے اور مسلم
میں اسی روایت
میں فلا انقص
بڑھایا بھی ہے اور
نہ اس سے گھٹا دیکھا
آپ نے فرمایا کہ یہ اہل
جنت میں سے ہے
اس کا شوق اور اس
کا عزم کہ وہ ان کو اللہ
تعالیٰ کے احکام
سمجھ کر عمل میں لائے گا
گویا اس کے اہل
جنت میں سے ہونے
کے نشان تھے۔ راجح
یہ کہ اس میں بہت
سے دیگر احکام کا ذکر
نہیں تو ظاہر ہے
کہ جو شخص یہ شوق
اور عزم اپنے اندر
رکھتا ہو تو بھی
اللہ تعالیٰ کا پاس
کے رسول کا حکم پہنچے
گا وہ اس کی تعمیل کرے
انکار نہیں کرے گا
گویا بتایا ہے کہ جنت
کا تعلق انسان کے

دل کی حالت سے ہے جو ملک لیریکر اللہ تعالیٰ کے حضور آتا ہے وہ جنت سے محروم نہیں کیا جا سکتا ہے یہاں الفاظ مختصر میں قدس محمد عبد القیس علی البیتہ
صلعم فقال لایارسول الله ان هذا الحی من رعیة حالت بیننا و بینک کفار مضر ولسنا نخلص الیک الا فی الشہر الحرام فہذا الشیخ ناخذنا عنک وندعو الیک
من ووادنا قال اھم کہ باورج وانھا کہ عن اربع الاعیان باللہ وشہادۃ ان لا الہ الا اللہ وعقد بیدکھذا واقام الصلوة وایتاء الزکوٰۃ وان توذوا
بفحس ما عنتم واخلکم عن الدماء والحنتم والفتور والمذنت اور ایک روایت میں باللہ اور شہادۃ کے درمیان واؤ نہیں ہے نیز ہرم میں صیام
رمضان کا بھی ذکر ہے جہاں نہیں ۱۲۷۵ میں بھی ذکر ہوا کہ اگر نہیں ہے اس روایت میں جو حدیث میں فریغ کا حصہ ہے وہ پینے ۲۳ اور ۹۰ ہر ہر چکا اور
دو دن ہر اس پر فصل بحث گذر چکی ہے دیکھو نوٹ (۲) صفحہ ۷۵ نوٹ ۴ صفحہ ۱۱۲ جہاں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ حدیث کا مشاہدہ صرف اس قدر ہے کہ جن لوگوں سے جنگ
اس حکم قرآنی کے ماتحت ونامتالی سبیل اللہ الذین یقاتلونکھ شروع ہو چکی ہے یہاں ان سے جنگ بند کرنے کا فریضہ کہ اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو پھر ان سے جنگ نہ
کی جائیگی۔ دہا حضرت ابو بکر کا مانعین زکوٰۃ سے جنگ کرنا تو یہ اس نے تھا کہ یہ وہ حقیقت سرکاری مالہ کی ادائیگی کے خلاف حربہ تھی کیونکہ زکوٰۃ اسلامی حکومت
کا سٹاروں سے خرچ تھا جس طرح جزیرہ مسلموں سے خرچ تھا۔ تو اگر قوم کی قوم یا قبیلہ کا تہذیب سرکاری مالہ دینے سے انکار کرے تو سوائے جنگ کے کوئی
چارہ نہیں البتہ حضرت ابو بکر کے لفظوں میں جو الفاظ ہیں کہ شخص نماز اور زکوٰۃ میں تقاضا کرے گا میں اس سے ضرور لڑوں گا جن سے یہ خیال کر لیا گیا ہے کہ نماز نہ
پڑھنے والوں سے بھی جنگ کرنے کا حکم ہے اس کی کوئی شہادت نہ شریعت سے ملتی ہے نہ تاریخ اسلام سے کہ رسول اللہ صلعم نے بھی ایسا حکم دیا۔ ابو بکر یا
ایسا کیا جو یا ظاہر میں سے ہی کسی نے ایسا کیا ہو۔ ان الفاظ کا مطلب صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو نماز کے قائل ہیں یعنی مسلمان
ہیں مگر زکوٰۃ کے حکم کو نہیں مانتے اور حکومت کا مالہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ ان سے لڑائی کو دلگیا۔ تفسیر صفحہ ۲۴

۵۶۹ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَمَتَكَ (۳۵) بَابُ إِثْرِ مَا نَبَحَ الزُّكُوتَ وَقَوْلِ

دیکھو حدیث نمبر ۵۶۹ بَابُ زَكَاةِ زُرِّيْعِي وَالْمَا كَانَهُ اَوْرَثَهُ

اللَّهُ تَعَالَى الَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُفْقِرُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَىٰ قَوْلِهِ

تعالیٰ کا فرمان اور جو لوگ سونا چاندی چھپاتے ہیں اور اسے خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے

تَعَالَى قَدْ وَقَوْمًا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (۳۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

اس قول تک آپ نے صحیح کرنے کا مزہ چکھو اس روایت سے کہا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْتِي الْأَيْدِي عَلَىٰ صُلْحِهَا عَلَىٰ خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا لَطَاءً

اور نہ ہوشے تازے ہونے کی حالت میں اپنے مالک پر آئیں گے جب اس نے انھیں سے ان کا حق (زکوٰۃ) نہ دیا ہو اسے

بِأَخْفَافِهَا وَتَأْتِي الْغَنَمَ عَلَىٰ صُلْحِهَا عَلَىٰ خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا لَطَاءً

اپنے پاؤں سے روندیں گے اور بکریاں مولیٰ تازی ہونے کی حالت میں اپنے مالک پر آئیں گی جب انھیں سے ان کا حق نہ دیا ہو اسے اپنے گھروں

بِأَخْلَافِهَا وَمَنْ طَعَنَ بِقُرْبِهَا قَالَ وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ يُحْلَبَ عَلَىٰ الرَّءِيقِ قَالَ وَلَا يَأْتِي أَحَدَكُمْ

سے ماہرین کی اور سنیوں سے ماہرین کی آیتے فرمایا اور ان کے حقوق میں سے بانی پران کا دوہنا (بھج) ہے اور نہ بانی تم میں سے کوئی

يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يُحْمَلُهَا عَلَىٰ رَقَبَتِهِ لَهَا يَعْزَّاقُ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ

نہیں کہ قیامت کے دن اپنی گردن پر بکری کو اٹھائے ہوئے لائے وہ بول رہی ہو پھر کہے اسے محمد (پجالو) میں کہو لگا میں تیرے لئے

لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَغْتَ وَلَا يَأْتِي بِبِعَيْرٍ حِمْلُهُ عَلَىٰ رَقَبَتِهِ لَهَا يَعْزَّاقُ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ

کچھ نہیں کر سکتا میں نے بات پہنچا دی تھی بلا اور اونٹ کو اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے لائے وہ بول رہا ہو پھر کہے اسے محمد

فَأَقُولُ لَا أَمْرُكَ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَغْتُ (۳۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

(پجالو) میں کہو لگا میں تیرے لئے کچھ نہیں کر سکتا میں نے بات پہنچا دی تھی ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَا لَا فَلَهِ يَوْمَ زَكَاةٌ كَوَيْتُ عَمَلُ لَهُ مَا لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَجَاعًا

صلعم نے فرمایا جیسے اللہ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ دوسے توفیقیت کے دن اس کا مال اس کی جگہ ایک

أَفْرَعُ لَهُ زَيْبَتَانِ يَطُوقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَأْخُذُ بِالرِّمْلِ مَتْنِهِ يَعْنِي شَيْدُ قِيَامِهِ يَقُولُ

کچھ سانپ کی شکل بنا دیا جائیگا جسکی آنکھوں پر دو کالے نشان ہونگے وہ قیامت کے دن اس کے گلے کا پار بنا یا جائیگا پھر وہ اسکی دونوں

أَنَا مَالِكَ أَلَا كُنْتُ مِمَّنْ تَلَاؤُا لَا يَحْسَبِينَ الَّذِينَ يَسْبَحُونَ إِلَيْهِمَا أَلَيْسَ اللَّهُ مِنْ

ہاچھیں پھر کہہ لیں گی تیرا مال ہوں میں تیرا زمانہ بول پھر یہ آیت ہے اَلَيْسَ اللَّهُ مِنْ أَلَيْسَ اللَّهُ مِنْ أَلَيْسَ اللَّهُ مِنْ

بقیہ ص ۳۲۵

اور یہی بات تھی جو اس وقت پیش آئی تھی اور تفریق کا مطلب بھی یہی سنا ہے کہ ایک چیز کو مانع اور دوسری کا انکار کرے یہ سورہ توبہ کی آیت ۱۱ ہے اور اس میں انہی لوگوں کا ذکر ہے جو کافروں سے جنگ کر رہے تھے تو فرمایا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائیں پھر جنگ چھوڑ دو کہ آیت تمہارے صحابی ہو گئے اور انکی پہلی شراعتوں کو مٹا

گردو حاشیہ صفحہ ۳۲۵

یہ اس کے الفاظ نمبر ۵۶۹ کے ہیں آنحضرت نے فرمایا ہے اور ان میں زکوٰۃ اور کفر کی بیعت لی یہ سورہ توبہ کی آیت ۲۵ ہے اور اس میں ذکر ہے کہ لوگ مال کو جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے یعنی اس میں حق زکوٰۃ اور انہیں کرتے توفیقیت کے دن اسی مال سے ان کی پیشانیاں وغیرہ واقعی جائیں گی امام بخاری کا اس آیت کو یہاں لانے سے یہ منشاء ہے کہ حدیث میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کی سزا کا ذکر کسی جگہ نہیں ہے جیسے آیت میں اس میں کچھ تشریح نہیں کہ ہر بدی کی سزا اس بدی کے مطابق ہوتی ہے اور اس سے کچھ مشابہت دیکھتے ہیں کہ سزا جو ایک روحانی امر ہے اس لئے محض تشابہ کو ظاہر کرنے کے لئے اس کا ذکر انہی الفاظ میں کر دیا جائے جن الفاظ میں بدی کو ظاہر کیا جاتا ہے اور کوئی شخص خدا کی سزا سے اس طرح بچ سکتا ہے کہ سونے چاندی کی جگہ نوٹ جمع کرے یا نوٹ بھج دے اور اپنا حساب بنک میں رکھے اصل عرض یہ ظاہر کرنا ہے کہ جس مال کو اپنی نفسانی خواہشات اور وہ جاہلیت کے لئے جمع کرنا تھا وہی اس کی ذلت اور تکلیف کا موجب ہوگا۔ اجماعی آگے حدیث مذکورہ میں ذکر ہے کہ وہ مال سانپ کی شکل بن کر اس کے گلے کا طوق ہو جائے گا جیسا کہ قرآن شریف میں بھی سید طوق آتا ہے پس اصل غرض سزا ہے اور اس سزا کی کیفیت کو جو آخرت میں ہوگی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اسی طرح حدیث میں سزا کا ذکر ہے جلتے الفاظ میں ہے قیامت کے دن زانوئوں کا حشر ہو گا نہ بکریوں کا یہ اللہ تعالیٰ کی مشائخہت ہے نہ بعض حدیث میں آتا ہے ان فی المال حقا سموی الزکوٰۃ یعنی مال میں زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی حقوق ہیں بانی کے پاس دینے میں شاید یہ عرض ہو کہ وہاں مسافر آرام کرتے ہیں انہیں فائدہ پہنچے آگے کتاب میں تیسری کی انسانی تکلیف کو دور کرنے کا خیال کس قدر غالب تھا جو لوگ اعمال کو چھوڑ کر صرف شفاہت کے چھوڑ کر رہتے ہیں وہ غور کریں

۲۴) بَابُ مَا آذَى زَكْوَتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهَا

بَابُ جِسْمِ مَالٍ لِي زَكْوَتُهُ وَهِيَ جَانِبٌ وَكَثْرَتُهُ بِيْنَ عِلْمٍ كَرِهَتْهُ سَبِيٌّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَا

دُونَ تَمَسُّلٍ وَأَبِي صَدَقَةَ (۲۴۸) عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ سَمِعْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَ

عُمَرَ فَقَالَ أَعْرَبِيٌّ أَخْبَرَنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ

قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ مَنْ كَنَزَهَا فَمِنْ لِيُؤَدَّ زَكْوَتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ إِنَّهَا كَانَتْ هَذَا أَقْبَلَنْ تَنْزَلُ الزَّكْوَةَ

فَلَمَّا أَنْزَلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ طَهْرًا لِلْأَمْوَالِ (۲۴۹) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ يَقُولُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِي مَا دُونَ تَمَسُّلٍ أَبِي صَدَقَةَ وَلَا فِي مَا دُونَ تَمَسُّسٍ وَلَا فِي صَدَقَةٍ وَلَا لَيْسَ

فِي مَا دُونَ تَمَسُّسٍ أَوْ سَبِقِ صَدَقَةَ (۲۵۰) عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ مَرَرْتُ بِالرَّبِيعَةِ

فَإِذَا أَنَا بِأَبِي ذَرٍّ فَقُلْتُ لَهُ مَا أَنْزَلَكَ مِنْ ذَلِكَ هَذَا قَالَ كُنْتُ بِالشَّامِ فَأَخْتَلَفْتُ أَنَا

وَمَعَاوِيَةَ فِي الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَأَلَيْتُ فَيَقُولُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

قَالَ مَعَاوِيَةُ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ فَقُلْتُ نَزَلَتْ فِيْنَا وَفِيْنَا فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ

فِي ذَلِكَ فَكُتِبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكُتِبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ أَعِدَّ مِلَّةَ مَدِينَةِ فَقَدِمْتُهَا

فَكَثُرَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى كَانَهُمْ لَمْ يَرَوْنِي قَبْلَ ذَلِكَ فَكَرِهْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ قَالَ لِي

أَنْ شَدَدْتُ تَحْيِيَّتَ فَوَيْلٌ قَدْ أَكَلَتِ الْبُزْءُ الَّذِي أَنْزَلَ لِي هَذَا الْمَنْزِلَ وَلَوْ أَمَرُوا

كُنَّا جَانِبِي فِي شَكَابِتِ كَرْتِ بَرِيٍّ حَضَرْتُمْ عُمَرَ بْنَ الْوَلِيدِ كَمَا كُنَّا حَضَرْتُمْ عُمَرَ بْنَ الْوَلِيدِ كَمَا كُنَّا حَضَرْتُمْ

كُنَّا جَانِبِي فِي شَكَابِتِ كَرْتِ بَرِيٍّ حَضَرْتُمْ عُمَرَ بْنَ الْوَلِيدِ كَمَا كُنَّا حَضَرْتُمْ عُمَرَ بْنَ الْوَلِيدِ كَمَا كُنَّا حَضَرْتُمْ

كُنَّا جَانِبِي فِي شَكَابِتِ كَرْتِ بَرِيٍّ حَضَرْتُمْ عُمَرَ بْنَ الْوَلِيدِ كَمَا كُنَّا حَضَرْتُمْ عُمَرَ بْنَ الْوَلِيدِ كَمَا كُنَّا حَضَرْتُمْ

كُنَّا جَانِبِي فِي شَكَابِتِ كَرْتِ بَرِيٍّ حَضَرْتُمْ عُمَرَ بْنَ الْوَلِيدِ كَمَا كُنَّا حَضَرْتُمْ عُمَرَ بْنَ الْوَلِيدِ كَمَا كُنَّا حَضَرْتُمْ

كُنَّا جَانِبِي فِي شَكَابِتِ كَرْتِ بَرِيٍّ حَضَرْتُمْ عُمَرَ بْنَ الْوَلِيدِ كَمَا كُنَّا حَضَرْتُمْ عُمَرَ بْنَ الْوَلِيدِ كَمَا كُنَّا حَضَرْتُمْ

كُنَّا جَانِبِي فِي شَكَابِتِ كَرْتِ بَرِيٍّ حَضَرْتُمْ عُمَرَ بْنَ الْوَلِيدِ كَمَا كُنَّا حَضَرْتُمْ عُمَرَ بْنَ الْوَلِيدِ كَمَا كُنَّا حَضَرْتُمْ

كُنَّا جَانِبِي فِي شَكَابِتِ كَرْتِ بَرِيٍّ حَضَرْتُمْ عُمَرَ بْنَ الْوَلِيدِ كَمَا كُنَّا حَضَرْتُمْ عُمَرَ بْنَ الْوَلِيدِ كَمَا كُنَّا حَضَرْتُمْ

كُنَّا جَانِبِي فِي شَكَابِتِ كَرْتِ بَرِيٍّ حَضَرْتُمْ عُمَرَ بْنَ الْوَلِيدِ كَمَا كُنَّا حَضَرْتُمْ عُمَرَ بْنَ الْوَلِيدِ كَمَا كُنَّا حَضَرْتُمْ

۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰

اس میں سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ مگر اس بات سے انکار نہیں ہو سکتا کہ سورہ توبہ کا نزل ۱۰۰ ہجری کا ہے۔ اور زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم اس سے بہت پہلے آچکا تھا۔ یہ ممکن ہے کہ ہجرم کی تفصیلات جو زکوٰۃ کے متعلق ہیں وہ بعد میں دی گئی ہوں مگر اس کو زکوٰۃ کی فرضیت نہیں کہا جائے گا۔ اور یہ بحث الٰہ ہے (۱۰۱) اور باقی اہنیہ کی بیج ہے۔ اوتیہ جاہلین ورمم کو کہتے ہیں۔ پانچ اوتیہ دو سو ورمم ہے اور یہ سارے باون تو لے جوتا ہے۔ اوسق۔ وشتق کی بیج ہے ومن ساتھ صلح ہے۔ گندم کا صلح قریباً سارے تین میرا کہتا ہے۔ تو پانچ وشتق سوا چھ بیس من ہوتا ہے۔ یہ صلح عراق کا حساب ہے جو آٹھ رطل کا ہے عجازی صلح پانچ رطل اور رطل کی تہائی کا ہوتا ہے۔ محمد بن کے نزدیک نبی کریم صلح کا صلح پانچ رطل اور شلٹھ رطل کا تھا اس حساب سے پانچ وشتق تقریباً اٹھارہ من سارے پینتیس میرمور کا جس کے پاس اس سے کم مال ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہا۔ مگر یہ مذہب مدینہ سے تین منزل کے فاصلہ پر ایک گاؤں ہے۔ وہاں اہل اہلیہ ایک درویش مناش صحابی تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ مال کا اپنے پاس بیج رکھنا ہر حال گناہ ہے جو کچھ اٹے اٹے تھوڑے کر دینا چاہئے اور اس بارے میں ان کا صاحب صحابہ سے اختلاف تھا۔ علی حضرت معاویہ شام میں اس وقت حضرت عثمان کی طرف سے حاکم تھے ہ

عَلَى حَبِشِيَا سَمِعَتْ وَأَطَعَتْ رَاهٍ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشَّيْبَانِ أَنَّ الرَّحْمَنَ ابْنَ

ترجمی میں سنوں کا اور اطاعت کرونگا علی ابو العلاء بن شیبہ سے روایت ہے کہ اس حدیث

فَيْسَ حَدَّثَهُمْ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى مَلَأٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَجَاءَ رَجُلٌ خَشِنَ الشَّعْرَ وَالثِّيَابَ

بن فیس نے انہیں سنایا کہ میں قریش کی ایک جماعت میں بیٹھا تھا تو ایک شخص آیا جسے بال بخت اور کپڑے

وَالهَيْئَةَ حَتَّى قَامَ عَلَيْهِمْ فَسَأَمَ ثُمَّ قَالَ بَشِيرُ الْكَانِزِينَ بِرَضِيْنٍ يُعْمَى عَلَيْهِ فِي

موتے اور شکل بھی سادی یہی تھا کہ انکے پاس گھرے ہو کر سدا کیا پھر کہنے لگا جو لوگ مال جمع کرتے ہیں انہیں خبر دینے کہ ایک پتھر ہو گا جسے

فَارَاهُمْ ثُمَّ يُوَضُّعُ عَلَيْهِ حِلْمَةٌ تَدْفِي أَحَدَهُمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نَقْضِ كَتِفِهِ وَيُوَضُّعُ

جو ہم کی آگ میں گرم کیا جائیگا پھر اسے ان میں سے ایک کی چھاتی کی بہنی پر رکھا جائے گا یہاں تک کہ اس کے کندھے کے اوپر وال بڑی

عَلَى نَقْضِ كَتِفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حِلْمَةٍ تَدْفِيهِ بِأَنْزَلُ ثُمَّ وَلِي فَجَلَسَ إِلَى سَارِيَّةَ

سے پار ہو جائیگا اور اس کے کندھے کے اوپر وال بڑی پر رکھا جائیگا یہاں تک کہ اس کی چھاتی کی بہنی سے پار ہو جائیگا وہ دوسرے آدھرا

وَتَبِعَتْهُ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ أَنَا لَا أَدْرِي مَنْ هُوَ فَقُلْتُ لَهُ لَا أَرَى الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَرِهُوا

آدھرے اور دوسرے کا پھر وہ ایک سنوں کے پاس جا بیٹھا اور میں اسکے پیچھے چلا اور اسکے پاس بیٹھ گیا اور میں جانتا نہیں تھا کہ وہ کون ہے میں نے

الَّذِي قُلْتُ قَالَ أَنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا قَالَ لِي خَلِيلِي قَالَ قُلْتُ وَمَنْ خَلِيلُكَ

اسے کہا میں جانتا ہوں کہ جو ہم نے کہا اس گروہ نے اسے مایوس کیا کیونکہ کچھ نہیں جانتے تھے میرے دوست زمانا اس نے کہا میں نے کہا

تَعْنِي قَالَ لَيْسَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ لَيْسَ أَحَدًا قَالَ فَتَطَرْتُ إِلَى الشَّمْسِ

تو میرے دوست کو نواہرے کہا نہیں صلعم (فرمایا) اے ابو ذر کیا تو اُحد کو دیکھتا ہے کہا تو میں سورج کی طرف دیکھنے لگا

فَأَبْقَى مِنْ النَّهَارِ وَكَانَ الرَّحْمَنُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرْسِنِي فِي حَاجَتِهِ

کہ دن کتنا باقی ہے اور میں سمجھتا تھا کہ رسول اللہ صلعم اپنے کسی کام کے لئے مجھے بھیجا جانتے ہیں

لَهُ قُلْتُ لَعَمْرُكَ قَالَ مَا أَجْعَلُكَ لِي مِثْلَ حَدِيثِهَا إِنَّهُ قَالَ إِنَّ نَائِلَةَ دَنَا بِرِوَاكِ

میں نے عرض کیا ہاں فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ میرے پاس اُحد رہاں کے پاس ہوتا ہے اور کہیں قومیں روایت میں اشرافوں کے سب توں کہ

هُوَ أَرَادَ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا أَيَّامَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَأْتِيهِمْ دُنْيَا وَلَا اسْتَفْتِيَهُمْ

اور انکا دعا اور یہ کہ کچھ بھی نہیں جانتے صرف دنیا جمع کرتے ہیں اور اللہ کی قسم میں اسے دنیا کا سوال کرنے کا اور نہ ان سے

عَنْ زَيْنِ حَتَّى اتَّقَى اللَّهُ (۵) بَابُ انْفَاقِ الْمَالِ فِي حَقِّهِ (۵۰) عَنْ ابْنِ

دین کے بارے میں کچھ بوجھوں کا یہاں تک کہ اللہ سے ملوں باب مال کا خرچ کرنا جہاں اس کا حق ہے

مَسْعُودٍ (مكرر) (۶) بَابُ الرِّيَاءِ فِي الصَّدَقَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

دیکھو حدیث نمبر ۶۶ باب خیرات میں دکھاوا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو جو ایمان

أَمَنُوا لَا يَبْطُلُ صَدَقَتُكُمْ بَأْمِنٍ وَلَا أَدَى كَالَّذِي يَنْفِقُ مَا لَهُ رِغَاءَ النَّاسِ وَلَا

لائے ہوئے خیرات کو احسان جتا کہ اور دکھ دے کہ یہ لوگ نہ کرو اس شخص کی طرح جو ایمان مال لوگوں کے دکھانے کے لئے خرچ کرتا

يَوْمَ مِنْ بِلَالٍ فِي الْيَوْمِ الْآخِرِ إِلَى قَوْلِهِ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

ہے اور اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہیں لانا اللہ تعالیٰ کے اس قول تک اور اللہ کا فرقہ کم مایاب نہیں کرتا ابن عباس کہتے ہیں

صَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَقَالَ عِكْرِمَةُ وَأَبِي مَطْرٍ شَدِيدًا وَالظَّلُّ لَتَدْرُكُ بَابُ

صلد (کے معنی ہیں) اس پر کچھ نہیں اور عکریمہ کہتے ہیں وابل زور کی بارش ہے اور ظل اوس ہے باب

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَلَا يَقْبَلُ الْأَمْرَ كَسْبًا طَبَقَتْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى قَوْلٌ مَعْرُوفٌ

اللہ خیرات کے مال کا صدقہ قبول نہیں کرتا اور صرف حلال مال کا صدقہ قبول کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھی بات

ط اجہاد کے بارے میں صحابہ میں اس قدر آزادی تھی کہ ایک لوزہ ایک طرف تھے اور سب صحابہ ایک طرف مگر کسی نے اس وجہ سے لوزہ کو انہیں کیا آج اکثریت کو اجتماع قرار دیا اس سے اختلاف کرنا تو ہے گوہر تم کا وہ عید سنایا جاتا ہے مگر یہاں جہانگاہ کے نام ہے ایک ایک صحابی سب دوسرے صحابہ کی مخالفت کر رہے اور کوئی اسے وعید نہیں سناتا ہاں چونکہ ان کی بحث سے فتنہ پھیلتا تھا حضرت عثمان نے ان سے ڈر کر یہ کہ علیہ کی میں ترویج ہی میں تو اچھا ہے انہوں نے جو شی اس کر سبوں کیا حضرت الزور کی غلطی یہ تھی کہ وہ خیال کرتے تھے کہ یہ مسلمان کو کسی باندہ متناہر کرنا چاہئے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایک بڑے بڑے صحابی تھے۔ سارا مال خدا کی راہ میں خرچ کرنا اعلیٰ درجہ کی بات ہے بلکہ مال کا جمع کرنا یہاں تک کہ وہی جائے نہ وہ نہیں

وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا إِذَىٰ اللَّهُ غَيْرُ خَيْرٍ مِّنْهَا (۸) بَابُ الصَّدَقَةِ مِمَّنْ كَسَبَ

اور درگزر کرنا ایسے صدقہ سے بہتر ہے جس کے ساتھ دکھ دینا ہو اور اللہ بے تباہی و تلام ہے بَابِ حِلَالِ كَالِي سے صدقہ

طَيِّبٍ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ لَيَحْقُقَنَّ اللَّهُ الرَّبِّيَّ وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كَلَّافِي أَتِيهِ

دینا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ سواد کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور اللہ کسی ناشکر سے نہیں بھگتا اور اللہ نہیں کرنا

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ

جو ایمان لاتے اور اچھے کام کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے لئے ان کے رب کے

زَكْوٰمٍ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (۵۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ

پاس اجر ہے نہ انہیں کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدَلٍ مَّرَّةٍ مِّنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ لَّا يَقْبَلُ اللَّهُ

وہ وسلم نے فرمایا جس نے حلال کمال سے ایک گھبر کے برابر صدقہ دیا اور اللہ صرف حلال کو قبول کرتا ہے

إِلَّا الطَّيِّبَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِمِثْلِهَا ثُمَّ يَرْثُهَا الصَّالِحِينَ مَا يَرْتَبِي أَحَدَكُمْ فَاوَدَّ

تو اللہ اسے واپس باقیہ سے قبول کرے اور پھر اسے اس کے مال کیلئے اس طرح دے گا جس طرح میں سے ایک گھبر

حَتَّىٰ تَكُونَ مِثْلَ حَمَلٍ (۹) بَابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ لَيْلَتِهِ (۵۴) عَنْ خَارِثَةَ بِنْتِ يُوَيْسَ قَالَ

پاکر بڑھاتا ہے یہاں تک کہ ہر گھبر کے برابر ہو جائے بَابِ صَدَقَةٍ دِينَارِ بَيْشَرَ اس سے کہ روک دیا جائے خاریثہ بنت یویس سے روایت ہے کہ

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يُمَشِي

میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے صدقہ دو کیونکہ ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا کہ ایک

الرَّجُلُ يَصَدَّقُ قِيمَهُ فَلَا يَحْجِدُ مِّنْ قِبَلِهَا يَقُولُ الرَّجُلُ لَوِ احْتَدَيْتُمْ بِهَا لَأَمْسَ تَقْبَلُهَا

مخمس ایسا صدقہ لئے پھر تیار ہو گیا اور کسی کو نہ پائیگا جو اسے قبول کرے کیونکہ اگر کل اسے لاتے تو البتہ میں اسے لے لیتا اور آج تو مجھے

فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَتِي فِيهَا (۵۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

وَسَلَّمَ لَأَتَقَوْمُ السَّاعَةِ حَتَّىٰ يَكْفُرُ بِكُمْ وَالْمَالُ فِي فَيْضِ حُلِيِّ هَمَزَاتِ الْمَالِ مِنَ الْقَبْلِ

موجود گھڑی نہیں آئیگی جب تک کہ تم میں مال کی کثرت نہ ہو جائے اور وہ بہتا دیکھو یہاں تک مال والا اس فکر میں رہے گا کہ کون

صَدَقْتَهُ وَحَتَّىٰ يَعْرِضَهُ فَيَقُولُ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لَا أَرَبَ لِي إِلَّا هُوَ (۵۶) عَنْ عَبْدِ

اس کا صدقہ قبول کرے گا اور یہاں تک کہ وہ اسے (دوں) کے سامنے نہیں رکھتا تو جیسے سامنے میں کر بگاڑ کر لیا جائے اور وہ نہیں عدلی بن

ابنِ حَارِثٍ يَقُولُ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا

حارث سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا تو آپ کے پاس دو شخص آئے ان میں

يَسْتَكْوِي الْعِيْلَةَ وَالْآخَرَ يَشْكُو قَطْعَ السَّبِيلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہے ایک ہمتا ہی کی شکایت کرنا تھا اور دوسرا راستے کی بندگئی کی شکایت کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

أَمَا قَطْعَ السَّبِيلِ فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكَ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّىٰ تُخْرِجَ الْعَارِيَّ إِلَىٰ مَدَنٍ يُقَارِ

راستے کی بندگئی کے متعلق تو یہ بات ہے کہ گھبر صرف گھڑی مدت گھبر کی کہ مگر سے قافلہ بغیر ہر وقت کے ٹھیک

خَوْفٍ وَأَمَّا الْعِيْلَةُ فَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّىٰ يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَةٍ فَلَا يَحْجِدُ

اور محتاج کے متعلق یہ ہے کہ موجود گھڑی نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم میں سے ایک شخص ایسا صدقہ لئے پھرے گا تو کسی کو نہیں

مَنْ يَلْبَسُهَا مِنْهُ ثُمَّ لَيَقْفَنَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَ

پائیگا کہ وہ اس سے لے لے پھر تم سے ایک اللہ کے سامنے گھڑے گا اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہو گا

۱۵۶

۱۵۷

۱۵۸

۱۵۹

۱۔ جیسا کہ حدیث
۲۰۵ سے ظاہر ہے
پیشگوئی اس وقت
کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
رسولت تک کا زمانہ
تھا اور پھر حضرت
محمد کے زمانے میں
اور اس کے بعد
بادشاہت اور
سلطنت کی وجہ
سے مال اس کثرت
سے آیا جو عرب کے
دہم و گمان میں گھبراہٹ
تھا۔ پھر وہ مال چند
افراد تک محدود نہ
تھا بلکہ ساری قوم
اس سے متمتع ہوئی
پیشگوئی کا منشا ہی
یہی ہے کہ مسلمانوں
میں نہ صرف کثرت
سے مال آئی بلکہ
ادنی طبقہ کے لوگ
بھی اس سے فائدہ
اٹھائیں گے

لَا تَرْجَمَنَّ فَيُرْجَمَ لَهُ ثُمَّ كَيْفُؤُنْ لَهُ أَمْ أَوْتِكَ مَا لَا فَيَقُولُ بَلَى فَمَنْ كَيْفُؤُنْ

نہ اس کا کوئی ترجمان ہوگا پھر اسے فرمائے گا کیا میں نے تجھے مال نہیں با تقاضا عرض کر لیا ہے جو فرمایا گیا ہے یا نہیں

أَمْ أُرْسِلَ إِلَيْكَ رَسُولًا فَيَقُولُ بَلَى فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرِي إِلَّا النَّارَ ثُمَّ

میں نے رسول نہیں بھیجا تھا عرض کر لیا ہاں تو اپنے دائیں دیکھنے کا تو صرف آگ ہی نظر آئے گی پھر

يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَرِي إِلَّا النَّارَ فَلْيَتَّقِينَ أَحَدُكُمْ لِلنَّارِ وَكَوَسِيقُ مَمْرُوقَانِ

اپنے بائیں دیکھے گا تو صرف آگ ہی نظر آئے گی تو تم میں سے ہر ایک آگ سے بچ کر بچو گھر کے ایک کھڑے کے ذریعے سے ہی بڑ

لَمْ يَجِدْ فِيكُمْ بِرَّةً طَيِّبَةً (۵۷) عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اگر یہ بھی نہ ملے تو اچھی بات کہہ کر ہی سہی ابو موسیٰ ہی صلعم سے روایت کرتے ہیں

قَالَ لَيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ مَآءٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ

لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ آسمان اس میں سونے کا صدقہ گئے پھر لیا

ثُمَّ لَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْتِيهَا مِنْهُ وَيُرِي الرَّجُلَ الْوَاحِدَ يُتْبِعُهُ أَرْبَعُونَ أَمْرًا

اور کسی کو نہ پائے گا کہ اسے اس سے ملے اور اکیلا مرد نظر آئے گا جس کے پیچھے چالیس عورتیں ہوں گی جو اس کی پناہ

يَلْدَن بِه مِنْ قَلَّةِ الرَّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ رَأَى أَبُوبُ النَّارِ وَكَوَسِيقُ ثَمَرُوقَانِ

لیس گی مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت کی وجہ سے علی باب آگ سے جو اگرچہ گھومے گئے کھڑے سے ہو

الْقَلِيلِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَمِثْلُ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَ

اور گھومے گئے سے صدقہ سے اور جو لوگ اللہ کی رضا کو چاہتے ہوئے اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لئے اپنے

تَتَّبِعُونَ مَا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَيْفُؤُنْ جَنَّتْ بِرُكُوعٍ إِلَى قَوْلِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ (۵۸) عَنْ

مالوں کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک باغ کی طرح ہے جو لمبھی پر ہے اللہ کے قول من کل الثمرات تک ہا

أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا نَزَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ كَمَا نَحْمِلُ فَمَاءَ رَجُلٍ فَتَصَدَّقُ

ابو مسعود سے روایت ہے کہا حسب حدیث کی آیت آئی تو اس وقت ہم رہے آخانیہ کی مزدوری کیا کرتے تھے

بِشَيْءٍ كَثِيرٍ فَقَالَ أَمْرًا سَمِيًّا وَقَصَدَ رَجُلٌ قَصْدًا وَتَبَصَّحَ فَقَالَ وَإِنَّ اللَّهَ لَكُنْفِي عَنْ صَاعِ

تو ایک شخص آیا اور بیت سال صدقہ کیا (تومانانہ) کہنے لگے یہ ربا کا ہے اور ایسے شخص نے کہا کہ یہ صاع کا قندہ دیا تو کہنے لگا اللہ صاع کا

هَذَا أَنْزَلَتْ وَالَّذِينَ يَكْفُرُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا

فشانج نہیں تو یہ (آیت) آئی اور جو مومنوں میں سے اہل طوعہ کرتے ہیں جو دل کو مل کر صدقہ دیتے ہیں اور وہ جو

يَجِدُونَ وَالْأَجْهَدُ لَهُمُ الْآيَةُ (۵۹) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ

سوائے اپنی مشقت کے کہہ مقدار نہیں دیکھتے آخر آیت تک ابو مسعود انصاری سے روایت ہے

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَ نَا بِالصَّدَقَةِ أَنْطَاقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ فَيَحْمِلُ

کہ حسب رسول اللہ صلعم ہمیں صدقہ کا حکم دیتے تو ہم میں سے ایک شخص بازار جاتا اور بوجھ

فِي صَيْبِ الْمَدَى وَإِنَّ لِبَعْضِهِمُ الْيَوْمَ مِائَةَ أَلْفٍ (۶۰) عَنْ عَبْدِ بَرِّ بْنِ خَلِجٍ

آخانا تو اسے ایک مد مل جاتا اور ان میں سے بعض کے پاس آج ایک لاکھ ہے

رَمَتِكُمْ (۵۶) الْإِسْتِثْنَاءُ قَالَتْ دَخَلْتُ امْرَأَةً مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَمَالُ قَلَمُ

دیکھو حدیث نمبر ۵۶ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہا ایک عورت آئی اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں تھیں

ثُمَّ جَدُّ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ ثَمَرَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا أَيُّهَا فَتَمَّتْهَا بَابِي ابْنَتَيْهَا وَكُلُّمَا كُلُّ

اس نے سوال کیا ہے یاں ایک گھومے گا سو گھر دینا ہے حضرت نے وہ لہجہ دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دی اور

عطا یہاں کسی کو بھی ہا کہتے کہ میں صدقہ قرار دیا ہے اور یوں صدقہ کے مفہوم کو وسیع کیا ہے اور آگ ہی آگ دیکھنا مال کے بھل کی وجہ سے ہے آخرت میں تو جو جانا ہوگی سو ہوگی یہاں دنیا میں اس قدم کو جو عمل سے کام لینی ہے اپنے چاروں طرف حسرت اور ناکامی کی آگ کے سولے ہو گئے نظر نہیں آتا آج مسلمانوں کی حالت کو دیکھ لو کہ خدا کی راہ میں قربانی نہ کرنے کی کیا سزا ہے کثرت سے یہ ہیں ہر طرف سے دکھ کھاتے ہیں اور چاروں طرف حسرت اور ناکامی نظر آتی ہے

علیٰ خور زکوٰۃ کثرت عواما لڑائیوں میں ہو جاتی ہے جب مرد علیہ جانے ہیں تو اس عورت کی کثرت کی پیشگوئی میں یہ اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو دشمنان پیش آئیں گی اور ان کی کثرت میں ان کی فتح کی بشارت ہے

۲۶۵ و ۲۶۶ آیت علیٰ دیکھو سورہ توبہ

۶۰۹ آیت عہد ارضیٰ پاؤں کے قریب بنائے قدرت دین کے شوق کا حال تھا کہ صدقہ کا حکم ملتا اور یہ صفات نیاہ تو فرمائیاں لیکھیں تھے تو ان لوگوں کو جو جانتے تھے

اس میں عاری نہیں ہے

۵۶، ۵۷ کا اثری لڑائی ان الفاظ میں ہے انتموا النار لو سئیت تمتم

مِنْهَا تَمَّتْ قَامَةٌ فَخَرَجَتْ وَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَأَخْبَرَتْهُ

خود اس سے دکھا دیا پھر اسی اور چلی گئی اور ہمارے پاس ہی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے آپ کو خبر دی

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْدِيهِ مِنْ هَذِهِ الْبَيِّنَاتِ شَيْءٌ كُنْتُ لَهُ سَيِّدًا مِمَّنْ

تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ان بیئینوں کی وجہ سے کسی حدیث میں مبتلا ہو جائے وہ اس کے لئے

النَّارِ ۱۱) بَابُ فَضْلِ صَدَقَةِ الشَّيْخِ الصَّيِّمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَانْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِمَّنْ

آگ ہو کہ ہونگی مگر بآب مال کی خواہش ہوئے ہونگے نذر سنت کے صدقہ دینے کی تعلیمت کی جو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اور ہونے سے تمہیں

قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِلَىٰ آخِرِهَا وَقَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا

دیجئے اس میں سے تمہیں سے ہونے پہلے کہ تمہیں سے کسی پر موت آجائے اس وقت تک کہ تمہیں سے تمہیں سے تمہیں سے

مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمَ لَا بَعْثَ فِيهِ إِلَّا خَلْدًا وَالشَّقَاعَةُ الْآيَةُ ۱۲) بَابُ

دیجئے اس میں سے تمہیں سے ہونے پہلے کہ تمہیں سے کسی پر موت آجائے اس وقت تک کہ تمہیں سے تمہیں سے

إِيْهُؤُمُ رَقَابَهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي الصَّدَقَةَ أَتَعْلَمُ

سے روایت ہے کہا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ! اس صدقہ سے کیا جزا دے سکتے

أَجْرًا قَالَ أَنْ تَصَّدَّقَ وَأَنْتَ صَيِّمٌ وَتَجِدُ مَعْسَى الْفَقْرَ وَأَنْتَ أَعْلَى الْأَهْلِ حَتَّىٰ ذَابَتْ

فرمایا یہ کہ تو صدقہ دے اس حالت میں کہ تو تندرست ہے مال کی خواہش رکھتا ہے غنا میں ہے تو تھکتا ہے اور بدبو لگتی ہے اور چھوٹا ڈانٹا ہے

أَحْقُوْمُهُ قُلْتُ لِفُلَانٍ كَذَا وَفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ فِلَانٍ رَأَى بَابَ (۱۶۲)

یہاں تک جان سکتے ہیں کہ کیا نیکوئی لگے اور اس کا اجر اور اس کا اجر اور اس کا اجر

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بَعْضَ رُؤَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض بیویوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا

مکہ مجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ... بادشاہ وقت میں صلوات ... روحانی میں ہوتی ہیں ... اور میں نے اس کے ... سوائے کو نہیں اور نبی ... بتایا کہ صدقہ اگر انسان ... بھرا رکھتا ہے تو ... اسی قدر کہ جسے اس ... حدیث سے یہ معلوم ... ہوا کہ بیئینوں کی تربیت ... اور پرورش کا کس قدر ... بلند مرتبہ ہے کہ اگر ... انکی پرورش میں انسان ... کی مصیبت میں لگے ... تو جزی سے اٹھانے ... کیونکہ انکی نظر تکلیف ... اٹھانا اور ج سے چھوڑ ... کا سامان ہے حضرت ... کی کس قدر عزت مولیٰ ... صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اس ... کی ہمیں جنت میں ... ہاں زور ہے نبی رسول ... کی خدمت کے منتفق ... تو فرمایا الجنت تحت ... اقتلام انا جنت ... زوجہ سے حسن سلوک کے ... متعلق فرمایا نبی کہ ... شیخ مولانا علاء الدین ... کی تربیت کے لئے ... مصیبت اٹھانے کی ... سے چھوڑ دے گا سامان کیا

۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

بقیہ ص ۳۳۱
 ہاتھ کی لمبائی سے صدقہ
 تھا اور زینب ہاتھ
 سے کام کر لیتی تھی
 تھیں اور وہ دعا
 کا کام کرتی تھیں اور
 اللہ کی راہ میں شہادت
 کرتی تھیں اس لئے
 حدیث کے ترجمہ میں
 وفات زینب کے وقت
 کے عزیزوں کو ان کی طرف
 پھیرا گیا ہے حضرت
 زینب کا انتقال ۳۸
 میں ہوا اور اس حدیث
 سے یہ بھی معلوم ہوتا
 ہے کہ ازواج مطہرات
 نے بھی یہ حکم منعم کے
 سامنے بھی اپنے ہاتھ
 نہ پھیرے اور اپنے
 منہ نہیں کیا اس
 حدیث کو یہاں متذکر
 غلی بیان کرنے کیلئے
 لایا گیا ہے
 حاشیہ صفحہ ۳۳۱
 علامہ شہرہ دینا
 پر شہدہ طور پر صدقہ
 کے دونوں باب باقیہ
 کو امام بخاری نے یہ نظر
 کیا ہے کہ اسلام کی
 تعلیم کو کبھی کامل
 تعلیم بننے اس میں
 صرف یہی تعلیم نہیں کہ
 پر شہدہ طور پر صدقہ
 دو لکھ بیس ہے کہ
 حکم مکتلہ صدقہ بھی
 دو کوئی قومی کام علامہ
 سبیل کے تفسیر نہیں
 چنانچہ وہ جہاں محتاجوں
 کو دینا ہوتا ہے پر شہدہ
 طور پر دینا چاہئے
 جیسا کہ قرآن شریف
 کی آیات میں اس مطلب

صَدَقَةَ الْعَلَانِيَةِ وَقَوْلِهِ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
 علامہ صدقہ دینا اور اللہ تعالیٰ کا قول جو لوگ اپنے مالوں کو رات اور دن اور چھپ کر اور کھلم کھلا خرچ کرتے ہیں

فَأَهُمَّ أَرْحَمُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (۱۳) بَابُ صَدَقَةِ السِّرِّ
 ان کے رب کے پاس ان کے لئے اجر ہے اور انہیں کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے باب پر شہدہ طور سے صدقہ دینا

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا
 ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے اور ایک شخص ہے کہ صدقہ دے اور اسے چھپا کر دے

حَتَّى لَا تَعْلَمَ فَمَا لَهُ مَا تَفِيقُ مِثْلَهُ وَقَوْلُهُ إِنْ تَبَدَّلَ الصَّدَقَاتُ فَبِعَمَارِهِ وَإِنْ
 یہاں تک کہ جو اس کا دیا گیا ہوا خرچ کرنا ہے اس کا باپا ان سے نہیں جانتا اور اللہ تعالیٰ کا قول اگر تم کھلم کھلا صدقہ دو تو لکھا جائے اور اگر

تَخْفَوَهَا وَوَلَوْ تَوَّاهَا الْفُقَرَاءُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ
 لے چھپا کر دو اور غنا جو لوگوں کو دے تو وہ تمہارے لئے بہت بہتر ہے اور تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دینا اور جو تمہارے لئے برائیوں سے

خَيْرٌ (۱۴) بَابُ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنِيِّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ (۱۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
 خیر دار ہے باب جب لا علمی سے مالدار کو صدقہ دے ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لَأَتَصَدَّقَ قَدْ بَصَدَّقْتُمْ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے کہا میں ضرور صدقہ دوں گا سو اپنا صدقہ لے کر نکلا تو

فَوَضَعَهَا فِي بَيْدِ سَاقِي فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تَصَدَّقْتَ عَلَيَّ سَارِقًا فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ أَحْمَدُ
 اچھے چور کے ہاتھ میں دیدیا تو لوگ باہیں کرنے لگے کہ چور کو صدقہ دیا گیا ہے سو اس نے کہا اے اللہ سب تمہاری ہی تعریف ہے

لَأَتَصَدَّقَ قَدْ بَصَدَّقْتُمْ فَوَضَعَهَا فِي بَيْدِ سَاقِي فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ
 میں (اور) صدقہ دوں گا پھر وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا تو اسے کسی زانیہ کے ہاتھ میں دیدیا تو لوگ باہیں کرنے لگے

تَصَدَّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ أَحْمَدُ عَلَى زَانِيَةٍ لَأَتَصَدَّقَ قَدْ بَصَدَّقْتُمْ
 آج رات کو ناشہ کو صدقہ دیا گیا سو اس نے کہا اے اللہ زانیہ کو صدقہ دینا ہی تعریف ہے میں زاویہ میں صدقہ دوں گا

فَوَضَعَهَا فِي بَيْدِ سَاقِي فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تَصَدَّقْتَ عَلَيَّ غَنِيًّا فَقَالَ
 پھر اپنا صدقہ لے کر نکلا اور اسے کسی مالدار کے ہاتھ میں دیدیا تو لوگ باہیں کرنے لگے کہ مالدار کو صدقہ دیا گیا سو اس نے کہا

اللَّهُمَّ لَكَ أَحْمَدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ فَأَتَى قَبِيلَهُ أَهْلًا صَدَقْتَهُمْ
 لے اللہ جو دار زانیہ اور مالدار کو صدقہ دینے پر تعریف ہے پھر اس کے پاس آیا اور اسے کہا گیا

عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّ أَنْ يَسْتَوْعِفَ عَنْ سَرَقَاتِهِمَا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّ أَنْ يَسْتَوْعِفَ
 کہ چور کو تیرا صدقہ دینا ہو سکتا ہے کہ (اس سے) وہ چوری سے ڈر جائے اور زانیہ شاید وہ بدکاری سے بچے

عَنْ زَيْدِهَا وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّ أَنْ يَتَّبِعَ فَيَنْفِقَ مَا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (۱۵) بَابُ
 اور مالدار شاید اس کو عبرت ہو اور اس سے جو اللہ نے اُسے دیا ہے خرچ کرنے لگے علی باب

إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى بَيْتِهِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ (۱۴) عَنْ مَعْنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ
 جب لا علمی سے اپنے بیت کو صدقہ دے معن بن زید سے روایت ہے کہ میں نے اور میرے باپ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَبِي وَجَدَّيْ فَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَكْحَمَنِي وَخَاصَمَتُ إِلَيْهِ
 اور میرے دادا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور آپ میری منگی کر لی اور میرے نکاح پر چاہا اور میں آپ کے پاس ایک مقدمہ لایا اور

کو داغ کیا ہے امام بخاری نے بھی قرآن شریف کے متن میں جو علانیہ صدقہ کا پیسہ ذکر کرتا ہے اور پر شہدہ صدقات کا بعد میں جو چھپا کر دیا کو دئے جاتے ہیں علانیہ صدقہ
 کو مقدم کیا ہے علی اس کو تسلیم ہی ہے کہ اگر با لا علمی سے اس کا صدقہ غیر منہ پر چلا گیا وہ غراب سے مفروم نہیں رہتا

۳۳۲

كَانَ ابْنُ زَيْدٍ أَخْرَجَ وَنَابِرٌ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَحَدَّثَتْ
میرے آپ نے زید سے صدقہ کرنے کے لیے کچھ اترتیاں نکالیں اور انہیں مسجد میں ایک شخص کے پاس رکھیں کیا

فَأَخَذَهَا قَاتِلِيكُمَا فَقَالَ اللَّهُ مَا أَرَاكَ أَرَدْتَ مَخَاصِمَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
اور وہ لے گیا اور انہیں اس (زید یا نابر) کے پاس لایا تو وہ کہنے لگا اللہ کی قسم میرا منشا تو کچھ کر لینے کا نہ تھا میں تم اس جھگڑے کو رسول اللہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا زَيْدُ وَاللَّهِ مَا أَخَذْتُ يَا مَعْزَنُ (۱۶)
صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے تو آپ نے زید سے فرمایا اے زید جو تو نے ارادہ کیا وہ تیرے لئے ہے اور میں نے جو نواہی لیا وہ تیرے لئے ہے

بَابُ الصَّدَقَةِ بِالْيَمِينِ (م- ۵۷۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر- ۲۲۸) (م- ۵۷۳)
باب دینے والے سے صدقہ دینا دیبھو حدیث نمبر ۲۲۸ م

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ (متكرر- ۵۷۲) (۱۷) بَابُ مَنْ أَمَرَ خَادِمَهُ بِالصَّدَقَةِ
دیبھو حدیث نمبر ۵۷۲ م باب جو اپنے خادم کو صدقہ دینے کا حکم دے

وَلَمْ يُنَاوِلْ بِنَفْسِهِ وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ
اور اپنے ہاتھ سے نہ دے اور ابو موسیٰ نے نبی صلعم سے روایت کیا ہے وہ (یعنی خادم) گویا دو

أَخَذَ الصَّدَقَاتِينَ (۱۷) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
صدقہ دینے والوں میں سے ایک شخص نے حضرت عائشہ سے روایت سے کہا نبی صلعم نے فرمایا جب

انْفَقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرٌ بِمَا أَنْفَقَتْ
خورت اپنے گھر کے کھانے میں سے بیکھیر نقصان کے بغیر خرچ کرے تو اسے خرچ کرنے کا اجر ملے گا

وَلَزَوْجِهَا أَجْرٌ بِمَا كَسَبَ وَالْخَازِنُ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضِهِمْ
اور اس کے شوہر کو اس کے کمانے کا اجر ملے گا اور دارو رکھنے والے کو بھی ایسی کی مثل ہے ایک دوسرے سے کچھ نہیں لے گا

(۱۸) بَابُ لِاصَّدَقَةِ إِلَّا عَنِ ظَهْرِ غَنِيِّ وَمَنْ صَدَّقَ وَهُوَ مُتَّاجِرٌ وَأَوْ أَهْلُهُ مُحْتَاجٌ
باب صدقہ دہی ہے جو غنا سے ہوتے ہوئے دیا جائے اور جو غنی صدقہ دے اور وہ یا اس کے بال بچے محتاج ہوں

أَوْ عَلِيٍّ دِينَ قَالَ لَيْسَ أَحَقُّ أَنْ يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْعَتِيقُ وَالْمُهَيْبَةُ وَهُوَ
یا اس پر قرض نہ ہو تو قرضہ ادا کرنا صدقہ اور غلام کے آزاد کرنے اور بہر پر مقدم ہے اور وہ

رَادَّ عَلَيْهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْفِقَ مَوَالِ النَّاسِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَخَذَ
اس پر واپس کر دیا جائے گا اس کا یہ حق نہیں کہ لوگوں کا مال برباد کرے اور نبی صلعم نے فرمایا ہے جو لوگوں

أَمْوَالِ النَّاسِ يُرِيدُ إِثْلَافَهَا أَثْلَفَهَا اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِالصَّبْرِ فَيُؤْتَى
کا مال لے کر لے کر تباہ کرنا چاہے تو اللہ اسے لٹاکر دے گا ہاں جب صبر کیلئے مشہور ہو تو اگرچہ وہ تنگی کی حالت میں ہو

علا رسول اللہ صلعم نے باپ کے بیٹے کو صدقہ دینا مانگا رکھا ملک مانفیت یعنی تیرا ارادہ تیرے کو دینے کا تھا اس طرح قبول کیا اور اسے واپس نہیں کر لیا۔ نظامت کے معلوم ہوتے ہیں کہ یہ بڑا کامیابی کا پورا پورا ثبوت ہے۔ شادی میں جو کچھ ملتی ہے مگر جو خود غنی نہ تھا اس لئے محض بنیاد ہونے کی وجہ سے اسے غیر ملکی قرار نہیں دیا گیا آیا یہ صدقہ زکوٰۃ ملتی یا عام خیرات نہ اس حدیث میں ماوردی اس سے پہلے میں تھا طور پر ذکر ہے لیکن زکوٰۃ کے متعلق کوئی اور مستقل انتظام یہی تھا کہ وہ سب بیت المال میں جمع ہو کر خرچ ہو، اس لئے اگر کوئی شخص زکوٰۃ لینے کا مستحق ہو تو وہ اس وجہ سے خرچ نہیں کیا جائے گا۔ کلاس کا باب غنی ہے، ساری عمر کیلئے باپ کے اولاد کے نان و نفقہ کا ذمہ

دارقطنی سے دیا جاسکتا ہے نہایت خفیف تغیر لفظی سے ۲۲۵ کا مضمون دوسرا ہے جس میں سات آدمیوں کے اللہ تعالیٰ کے سایہ میں ہونے کا ذکر ہے، عنوان باب کے متعلق صدقہ دینے والے کا ذکر ہے، رجل تصدق بصدقة فاحفا حتى لا تقام شماله ماتتفق مینمہ و فلا یجید من یصلیہا کا حیدر بہاں نہیں ہے باقی الفاظ قریباً وہی ہیں۔ حدیث میں صدقہ یا ہمیں کا جو عنوان باب ہے، کوئی ذکر نہیں ہے، مگر گویا ایک صدقہ دینے والا آتا ہے جس کے حکم سے اور جس کے مال سے صدقہ دیا گیا۔ دوسرا خادم جس نے اس حکم کی تعمیل میں صدقہ دیا بہترینے خادم ہوتے ہیں جو آقا کے لئے صدقات دینے میں روک، کا موجب ہو جاتے ہیں جو وقت زن و شوہر کا تعلق نظر ہر سے ناوند مال کھاتا ہے اور پھر اس کے خرچ کو خورت پر چھوڑ دیتا ہے، اسی لئے فرمایا کہ جب تک خورت اس مال کو دیران کرنے والی نہ ہو (غیر مفسد) تو اسے اختیار ہے کہ کچھ اس میں سے خیرات بھی کر دے۔ خازن یا دارو غنہ کو بھی اسی کی مثل رکھا ہے، مگر وہ بحیثیت امین محض ہونے کے اور ملازم ہونے کے بغیر علم یا اجازت کے نہیں دے سکتا جیسا عنوان باب میں ہے۔

(۷۷) عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَخْبَرَنِي الْمُسْلِمُ الْأَمِينُ الَّذِي يَبْقَدُ

ابو موسیٰ بنی مسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا مسلم امین دار و دین جو حکم کی تعمیل کرتے

وَرَبُّمَا قَالَ يُعْطَى مَا أَعْرَبَهُ كَامِلًا مُوَدَّرًا طَيِّبًا بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أَعْرَبَهُ

اور کبھی فرمایا جو کچھ اسے حکم دیا جائے پورا پورا دے اس کا نفس اس سے خوش ہووے اور ایسے دینے جس کیلئے حکم دیا گیا ہے وہ دوسرے

لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ (۲۶) بَابُ أَجْرِ الْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ أَوْ

دینے والوں میں سے ایک ہے بَاب عورت کا اجر جب اپنے شوہر کے گھر سے نقصان کے بغیر صدقہ

أَطْعَمَتْ مِنْ بَيْتِ رَفِيعٍ غَيْرِ مُفْسِدَةٍ (م- ۵۸۱) عَنْ عَائِشَةَ رَمَتَكَ

دے یا کھانا کھلائے دیکھو حدیث

(۷۵) (م- ۵۸۲) عَنْ عَائِشَةَ رَمَتَكَ (۷۵) (۲۷) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ

نمبر ۷۵ دیکھو حدیث نمبر ۷۵ بَاب اللہ تعالیٰ کا فرمانا

عَزَّ وَجَلَّ قَامًا مَنْ أَعْطَى وَالَّذِي وَصَلًا وَيَا حَسْبُكَ فَسَيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ

جو دیتا ہے اور خوشی اختیار کرتا ہے اور اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے تو تم ایسے آسانی کی طرف چلائیے

بِخَلٍّ وَاسْتَعْنَىٰ أُولَئِكَ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا مَالًا خَلْفًا ۗ ۗ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ

اور جو کھل کر لے اور سہل کرے ان کو آخرت تک دے اللہ ان کے خرچ کرنے کو بہ دے ابورہیرہ سے روایت ہے

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ تَوْعَمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادَ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانَ يَنْزِلَانِ

کوئی دن نہیں چڑھا جس میں بندے انھیں گھر دھرتے اترتے ہیں

فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُسِيئًا تَلْفًا

ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہ دے اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ خبیث کیل کا مال تباہ کر دے

(۲۸) بَابُ مَثَلِ الْمُتَصَدِّقِ وَالْبَخِيلِ (۷۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ

بَاب صدقہ دینے والے اور بخیل کی مثال ابورہیرہ سے روایت ہے کہا نبی

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ (وَفِي رَأْفَاتِهِ) أَنَّهُ سَمِعَ

مسلم نے فرمایا بخیل اور صدقہ دینے والے کی مثال (اور اللہ کی روایت میں ہے) کہ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ الْجَلْبِينِ عَلَيْهِمَا جَبْتَانِ

اس نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال ایسے دو گھوڑوں کی طرح ہے

مِنْ حَدِيدٍ مَنْ نَدِيَهَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يَنْفِقُ إِلَّا سَبْعَتِ أَوْ قَرَّتْ عَلَى جِلْدِهِ

جن پر لوہے کے دو کتے ان کی چھانٹوں سے منبلیوں تک ہوں تو خرچ کرنے والا جب کبھی خرچ کرتا ہے تو وہ کرنا اس پر ہنسی مانتا ہے

حَتَّىٰ يَخْفَى بَنَانُهُ وَيَتَفَقَّأُ أَثَرَهُ وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلَا يُرِيدُ أَنْ يَنْفِقَ شَيْئًا إِلَّا كَرِهَتْ كُلُّ حَافِقَةٍ

یا اللہ ہر جانا ہے بھانٹک کر اس کی آنکھوں کو دھانسی لیتا ہے اور اس کے سونوں کا نشان چھانٹتا ہے اور بخیل جب کبھی خرچ کرنا چاہتا ہے تو ہنسی مانتا ہے اور ہنسی مانتا ہے

مَكَانَهَا هُوَ يُوَسِّعُهَا فَلَا تَسْمَعُ (۲۹) بَابُ صَدَقَةِ الْكُسْبِ وَالْجَارِقَةِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا

مجھوت کر دیا جاتا ہے وہ اسے کشادہ کر دیتا ہے اور اسے نہیں ہنرتا یا سب مزدقہ اور تجارت کی کار سے سب دینا اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے اے

الَّذِينَ آمَنُوا الْفُقَرَاءَ مِنْ طَيْبَاتِ كَسْبَتِكُمْ وَمَا آخَرُ جِنَاكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَالْقَوْلُ غَنَىٰ مَعْدُ

گو جو ایمان لائے ہو اچھی چیزوں سے خرچ کر جو تم کو کھاتے ہو اور اس سے جو تم نے تمہارے لئے زمین سے نکالا ہے اللہ تعالیٰ کے قول غنی غنی تمہارے

۵۸۱-۵۸۲ اور ۵۸۲ میں رسول نقل اختلاف کے ساتھ ۷۵ کا مضمون دوسرا کیا گیا ہے ۷۵-۷۶ آیت ۷۵-۷۶ بیان سے ۷۶ واضح کیا گیا ہے کہ خرچ کرنے والا جب خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کا دل اس کیلئے کھل جاتا ہے کرتے کی وسعت گویا اس کے دل کی وسعت انگلیوں تک پہنچنے میں لاشہ اس کے دینے کی طرف ہو سکتا ہے اور پاؤں کے نشان ملنے میں اس خطاؤں کو نشانہ کی طرف نہیں کے ساتھ عقلمند اور سچا ہوا اس کے دل کی تسکین کا ظاہر کرتا ہے ۷۶ حدیث اس باب میں کوئی نہیں صرف آیت سے استلال کیا ہے چاہدے طبیبات تکسیر کی تفسیر سے نقل کی گئی ہے اور جانتا ہے کہ میں اس کی تفسیر حضرت علی سے ۷۶ یہ وہی ہے ۷۶ امام غزالی نے عنوان باب ضروری اور تجارت کی حالت رکھا ہے بیان سے ضروری میں زمین کی ذرا کے کام کی طرف اشارہ ہوا کہ سب میں تجارت کی طرف مگر نقد کسب زیادہ وسیع ہے مگر افضل ترین طریق کسب تجارت ہی ہے

۳۳) بَابٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ (۳۳) عَنْ أَبِي

باب ہر ایک مسلمان پر صدقہ دینا واجب ہے جسے نہ پائے وہ نیک کام کرے۔

مُوسَىٰ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَنْ لَمْ

یَجِدْ فَقَالَ يُعْمَلُ بِبَيْدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ وَقَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يُعْمَلُ بِالْحِجَةِ

فَمَا يَأْتِيهِ بَعْدُ مِنْ رِزْقٍ أَوْ يَصِلَ إِلَىٰ قَدَمَيْهِ فَيُحَمِّدُ اللَّهَ وَهُوَ فِي حَقِّهِ أَكْبَرُ وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَجِدْ فَهُوَ فِي حَقِّهِ أَكْبَرُ وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَجِدْ فَهُوَ فِي حَقِّهِ أَكْبَرُ

لَمَّا هُوَ قَالَ وَقَالَ فَيُعْمَلُ بِالْمَعْرُوفِ لِيَمْسِكَ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ

صَدَقَةٌ (۳۴) بَابٌ قَدْ رُكِّعَتْ مِنَ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ مَنْ أَعْطَىٰ شَاةً

صَدَقَ بِهِ عَلَىٰ بَابٍ زَكَاةً أَوْ صَدَقَةً كَسْفًا دَرِيًّا جَاءَ سَائِلًا أَوْ جَوَّارِيًّا بَكَرِيًّا عَلَىٰ

(۳۴) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ أَنَّهَا قَالَتْ بُعِثْتُ إِلَىٰ نَسِيبَةٍ الْأَنْصَارِيَّةِ بِشَاةٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَىٰ

عَائِشَةَ مِنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَكَ شَيْءٌ فَقَالَتْ لَا إِلَّا مَا أَرْسَلْتَنِي بِهِ

نَسِيبَةٌ مِنْ ذَلِكَ الشَّاةِ فَقَالَ هَا فَقَدْ بَلَّغْتُ حَقَّهَا (۳۵) بَابُ زَكَاةِ الْوَرَقِ (۵۸۳)

عن ابی سعید بن اخیدری (متکرر ۵۰) باب العرض فی الزکوٰۃ وقال طائوس

قال معاذ لاهل الیمین التوئی بعرض ثیاب یخص فی البس فی الصدقة مکان الشعیب

والذرة اھون علیکم وخیر صنایع التبی صلے اللہ علیہ وسلم بالمدینة قال النبی صلے اللہ علیہ وسلم

اللہ علیہ وسلم واما خالد فقد احتبس درعہ واعتدہ فسبیل اللہ قال النبی صلے اللہ علیہ وسلم

علیہ وسلم تصدقن لو من خلیتکم فلم یستن صدقة العرض من غیر ما جعلت المرحة

صدقہ دو اگر وہ تمہارے زیوروں میں سے ہو تو سامان کا صدقہ دوسری چیزوں سے الگ نہیں کیا اور عورتیں

نفت کی رو سے عرض اور ہل کو مثال ہیں مین زکوٰۃ کے لفظ کا استعمال عرض میں زیادہ ہے اور صدقہ کا استعمال عجم کے ساتھ ہوتا ہے۔ باب کا

منشا یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مال میں سے یا صدقہ سے تحقیق کو کس قدر دیا جائے۔ مثلاً نسبیہ انصار پر ام عطیہ اور بعد ازاں علیہ السلام کی روایت میں ہے کہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی صدقہ میں سے ایک بکری ام عطیہ کو بھیجی اور اسی میں سے ام عطیہ نے حضرت عائشہ کے پاس تحفہ کے طور پر کچھ حصہ بھیجا۔ نبی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر زکوٰۃ کا مال ہائزہ تھا لیکن زکوٰۃ کا مال جب تحقیق کو پہنچ جائے اور وہ اس میں سے ہدیہ کے طور پر دوسروں کو دیں تو یہ

حدمت ہے اس وقت وہ مال زکوٰۃ کا حکم نہیں رکھتا۔ اس میں یہ بھی بنایا کہ صدقہ لینے والے کی تحقیر نہ کی جائے بلکہ صدقہ کے مال کا ہر حصہ اسی

طرح قبول کیا جائے جس طرح دوسرے مال کا۔ اس امر کے متعلق کہ کس قدر صدقہ دیا جائے کوئی خاص قانون یہاں بیان نہیں کیا گیا۔ مطلب

صرف یہ ہے کہ اس پر کوئی حد بتائی نہیں کیونکہ ایک بڑی بکری بھی صدقہ میں دیدی گئی۔ عکابیلے دو جموں کو آگے پیچھے کر کے دینا

عہ یہاں صدقہ ہر مسلمان پر لایا گیا ہے اور دوسری طرف اس کے مخفی کو دیکھ لیا ہے تاہم شخص اس ایشیا پر عمل ہو سکے پہلی صورت تو یہ بتانی کہ انسان کچھ وقت اپنے معمولی خزانے سے یا کوئی تحفہ سے کام کرے خود آپ کی سبھی چیزیں دیا جائے گا کام کر کے صدقہ کوئی نہیں جو یہ دیکھ سکے کہ کسی حاجت مند کی مدد ہی کرے چھٹا کوئی بگاڑے اس حصول ملازمت میں دیکھ کر کسی تکلیف میں ہے اس کی دفع تکلیف میں دیا ہے اور

۱۸۲

۱۸۳

۱۸۴

۱۸۵

ثُمَّ خَرَضَهَا وَسَخَّاهَا وَلَمْ يَخْصُصْ لَهَا وَكَانَ الْفِضَّةُ مِنَ الْعَرُوضِ (۷۵) عَنْ أَنَسٍ

ابو انیس اور بیان کرتے ہیں اور آپ نے (زکوٰۃ کے لئے) سامان میں سے سونے اور چاندی کو مخصوص نہیں کیا۔ اسی سے روایت ہے

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ وَيَتَّقِيَ النَّاسَ وَيَتَّقِيَ نَفْسَهُ وَيَتَّقِيَ مَوْلَاهُ وَيَتَّقِيَ عِيَالَهُ وَيَتَّقِيَ جَارَهُ وَيَتَّقِيَ جَلِيسَهُ وَيَتَّقِيَ مَوْلَاهُ وَيَتَّقِيَ نَفْسَهُ وَيَتَّقِيَ مَوْلَاهُ وَيَتَّقِيَ عِيَالَهُ وَيَتَّقِيَ جَارَهُ وَيَتَّقِيَ جَلِيسَهُ

کہ حضرت ابو بکر نے ان کیلئے وہ زکوٰۃ کا حکم لکھا یا حکم اللہ نے اپنے رسول کو دیا تھا جسکی زکوٰۃ ایک برس کی اور تیسری ہوا اور وہ اس کے پاس نہ ہو

وَعِنْدَكَ بِلَيْتُ الْيَتَامَىٰ وَأَتَمَّ الْقَبْلَ مِنْهُ وَيُعْطِيَهُ لِمَصْدَقِ عَشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ سِتَاتَيْنِ

اور اس کے پاس دو برس کی ہو تو اس سے ہی لے لی جائیگی اور زکوٰۃ وصول کرنے والا اسے تیس درہم یا دو سو برسوں کا دیکھا جائے

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ بِلَيْتُ الْيَتَامَىٰ وَدَحْرًا وَعِنْدَكَ الْيَتَامَىٰ فَإِنَّهُ يَقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ

اور اگر اس کے پاس ایک برس کی اور تیسری نہ ہو اور اسکے پاس دو برس کا اور نہ ہو تو اس سے یہی لے لیا جائیگا اور اس کے ساتھ

مَعَ شَيْءٍ (۵۸۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر ۸۵) بَابُ مَا يَجْمَعُ بَيْنَ مَمْتَرِقٍ

کچھ نہیں دیا جائیگا دیکھو حدیث نمبر ۵۸۲۔ باب جو جلال کو اکٹھا نہ کیا جائے

وَالْفَرَقِ بَيْنَ جَمْعِهِ وَيُؤَدُّكَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُهُ

اور اگلے کو ایک اکٹھا کیا جائے اور سالم سے روایت ابن عمر نے بھی صلعم سے اسی طرح روایت کی جاتی ہے

(۷۶) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ وَيَتَّقِيَ النَّاسَ وَيَتَّقِيَ نَفْسَهُ وَيَتَّقِيَ مَوْلَاهُ وَيَتَّقِيَ عِيَالَهُ وَيَتَّقِيَ جَارَهُ وَيَتَّقِيَ جَلِيسَهُ

اس سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر نے انکی لئے وہ زکوٰۃ کا حکم لکھا یا جو رسول اللہ صلعم نے مقرر کی تھی اور یہ کہ زکوٰۃ کے ذمے

بَيْنَ مَمْتَرِقٍ وَالْفَرَقِ بَيْنَ جَمْعِهِ وَخَشْيَةِ الصَّدَقَةِ (۳۵) بَابُ مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ

سے جدا کرنا اور اکٹھا نہ کیا جائے اور اگلے کو ایک اکٹھا نہ کیا جائے

فَأَمَّا آيَاتُ رَجَعَانَ بَيْنَهُمَا أَلِ السُّورَةِ وَقَالَ طَاوُسٌ قَطَاعًا إِذْ عَلِمَ الْخَلِيطَانِ

تو وہ آپس میں زکوٰۃ اپنے اپنے حصے کے برابر بجز ایسے اور طائوس اور عطاء بنے ہیں جب شریک اپنے اپنے مال کو پہناتے ہوں تو

مَوَالِكُمْ أَفَلَا يَجْمَعُ مَا كَسَبُوا وَقَالَ سَفِيَانُ لِأَجِبْ حَتَّىٰ يَمْلِكُوا هَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً وَهَذَا

ان کا مال اکٹھا نہ کیا جائے اور سفیان کہتے ہیں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی جب تک اس کی پوری جائیس لیکر یا انہوں نے ہوں اور اسکی

أَرْبَعُونَ شَاةً (۷۷) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ وَيَتَّقِيَ النَّاسَ وَيَتَّقِيَ نَفْسَهُ وَيَتَّقِيَ مَوْلَاهُ وَيَتَّقِيَ عِيَالَهُ وَيَتَّقِيَ جَارَهُ وَيَتَّقِيَ جَلِيسَهُ

جائیس میں ہوں اس سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر نے انکی لئے وہ زکوٰۃ کا حکم لکھا یا جو رسول اللہ صلعم نے مقرر کی تھی اور یہ کہ

مِنْ خَلِيطَيْنِ فَأَمَّا آيَاتُ رَجَعَانَ بَيْنَهُمَا أَلِ السُّورَةِ (۳۶) بَابُ زَكَاةِ الْأَبْنَاءِ وَالْأَوْلَادِ

جو دو شریکوں کا مال ہو تو وہ آپس میں زکوٰۃ اپنے اپنے حصے کے برابر بجز ایسے

أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۷۸) عَنْ ابْنِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ

ابو ہریرہ نے جو صلعم سے روایت کیا ابو سعید الخدری نے کہا کہ ایک عجمانی نے رسول اللہ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَحْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنْ شَأْنَهُ شَدِيدٌ يَهْمُ لَكَ مِنْ أَيْلِ الْبَحْرَةِ

صلعم سے ہجرت کرنے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا اور ہوس کی نشان تو بہت بڑھی ہے کیا تیرے پاس اونٹ ہیں اور تو ان کی

صَدَقَتُهَا قَالَ لَعَمْرُكَ قَالَ فَأَعْمَلُ مِنْ رَأْيِ الْبَحْرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتْرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا

زکوٰۃ دیتا ہے عرض کیا مال خریدا تو مسندوں کے اس پار کا رو یا اور

علا غرض یہ ثابت

کرتا ہے کہ جو زکوٰۃ

پس آنی ہو اس کی

ہی نسبت کا وری

سے لینا بھی جائز ہے

اور اس حدیث سے

ثابت ہے۔

علا اس کی ابتداء

یوں ہوتی ہے کہ

علا رسول اللہ

قبیل الخطیبة فرمایا کہ

اللہ لیسہم اس کے

بعد ۸۵ کا حضور

ہے اور اگر میں اتنی

سے بعد کا جس میں

اس کے عوض ہے

فانما اولاد الی

اذنہ حلقہ یعنی

الوہب نے بتایا کہ

کان اور گلے کا زیور

دیا

اسے اپنے شخص کا اپنا

مال اگر ہوا تب تک

پہننا ہو یعنی نصاب

سے کم ہو تو اس پر

زکوٰۃ نہیں چاہیے

اس کا مال اور وہ

کسی کے ساتھ شریک

ہو یا نہ ہو وہ شخصوں

کا مال اگر ملا کہ نصاب

پہننا ہے تو اس میں سے

کسی پر زکوٰۃ نہیں اس

پنا پر امام ابو حنیفہ

نے اس حدیث کی

تشریح کی ہے

جائیس کا حکم ہے تاکہ انہیں نصاب تک نہ کرے زکوٰۃ میں لے لے کیونکہ مجموعہ سے لھتا نہیں جرایا جائیگا۔ بلا یجمع بین مختلف کے معنی ہیں اور اگر ایک شخص کی ایک سو بیس بریاں ہوں تو تحصیل لڑا سے جائیس یا بیس بنا کر تین بریاں وصول نہ کرے بلکہ جائیس سے ایک سو بیس تک میں سے ایک ہی بری کرے زکوٰۃ یعنی بیس جمع کے معنی ہیں۔ ہا بجا کے ایک معنی شہر بھی ہو مطلب ہے کہ جہاں میں بھی ہو احکام الہی کی تعمیل کرنے والے۔ مذکورہ سے باہر ہے عن ابن عباس قال کلوا من حلالہن جنس کرنا ہے وقت کا ذکر ہے جب اسلام پھیل کر ہجرت کی ضرورت نہ رہی تھی اور یہ بھی سمجھا یا کہ ہجرت کرنے کی وجہ کہ تو کو معلوم نہیں کیا کیا تکلیفیں اٹھانی پڑیں۔

(۳۷) بَابٌ مِّنْ بَلَعَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ قَدِّدَتْ مَخَاضٌ لَيْسَتْ عِنْدَهُ كَرَاهٍ عَنِ النَّسِ

باب جس کی زکوٰۃ برس بھر کی اور نہ ہو اور وہ اس کے پاس نہ ہو اس سے روایت

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَاتِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَلَعَتْ حَقًّا

ہے کہ حضرت ابو بکر نے ان کے لئے زکوٰۃ کا حکم لکھا جس کا حکم خدا نے اپنے رسول سے کر دیا تھا یہ وہی ہے جس کے پاس

مِنَ الرِّبْلِ صَدَقَةٌ أَلْجَدَعُ لَيْسَتْ عِنْدَهُ جَدَعَةٌ وَعِنْدَهُ حَقَّةٌ فَإِنَّهَا تَقْبَلُ مِنْهُ حَقَّةٌ

اور انہوں کی زکوٰۃ چار برس والی تک پہنچ جائے اور وہ اس کے پاس ہو اور اس کے پاس تین برس والی ہو تو اس سے تین برس والی لے لی

وَيُجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَ تَالَهُ أَوْ عَشْرَيْنِ دِرْهَمًا وَمِنْ بَلَعَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ

جا بھی اور اس کے ساتھ اگر اس کے لئے بیس سو دو سو دو سو یا تین کی یا بیس درم اور جس کے پاس زکوٰۃ تین برس والی تک

الْحَقَّةُ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحَقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَدَعَةُ فَإِنَّهَا تَقْبَلُ مِنْهُ الْجَدَعَةُ وَيُعْطَى الْمَصْدُقُ

پہنچ جائے اور اس کے پاس تین برس والی نہ ہو اور اس کے پاس چار برس والی ہو تو اس سے چار برس والی لے لی یا چالی اور زکوٰۃ وصول

عَشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَعَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ الْحَقَّةُ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْإِبْدَتْ لَبُونِ

کر جو الا سے بیس درم یا دو بکریاں دیگا اور جس کے پاس زکوٰۃ تین برس والی تک پہنچ جائے اور وہ اس کے پاس نہ ہو مگر دو برس والی ہو

فَاتَّهَا تَقْبَلُ مِنْهُ بَدَتْ لَبُونِ يُعْطَى شَاتَيْنِ أَوْ عَشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَعَتْ صَدَقَةٌ

تو اس سے دو برس والی لے لی یا چالی اور وہ زکوٰۃ وصول کرے تو اس کے دو بکریاں یا بیس درم دیگا اور اس کی زکوٰۃ دو برس والی تک

بَدَتْ لَبُونِ عِنْدَهُ حَقَّةٌ فَإِنَّهَا تَقْبَلُ مِنْهُ الْحَقَّةُ وَيُعْطَى الْمَصْدُقُ عَشْرِينَ دِرْهَمًا

پہنچ جائے اور اس کے پاس تین برس والی ہو تو وہ اس سے لے لی یا چالی اور زکوٰۃ وصول کرے تو اس سے بیس درم یا

أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَعَتْ صَدَقَةٌ بَدَتْ لَبُونِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ كَبَدَتْ

دو بکریاں دیگا اور جس کی زکوٰۃ دو برس والی تک پہنچ جائے اور اس کے پاس وہ نہیں اور اس کے پاس ایک برس

مَخَاضٌ فَإِنَّهَا تَقْبَلُ مِنْهُ بَدَتْ مَخَاضٌ وَيُعْطَى مَعَهَا عَشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ (۳۸)

والی ہو تو اس سے ایک برس والی لے لی یا چالی اور وہ اس کے ساتھ بیس درم یا دو بکریاں دے گا

بَابُ زَكَاةِ الْغَنَمِ ۸۷ عَنِ النَّسِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ

باب بکریوں کی زکوٰۃ اس سے روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکر نے اسے حکم کیا کہ جس کی طرف بھیجا تو اسے یہ لکھا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

علا نحو سلطان کو اپنے حقوق کی حفاظت کی تعلیم دی ہے علا باج سے لے کر جو بیس بکریاں یا ایک بکری ہے جو بیس برس کی ہے جو ثابت ہوئے اور غیر جس کی اینٹ لکھی ہیں درست ہے

۲۷۹

۲۷۰

کتاب الزکوٰۃ

طَرُوقًا الْجَمَلِ فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسِينَ سَبْعِينَ فِيهَا جَذَعَةٌ فَإِذَا

جو بھتی کے لائق ہو جب اس گھوڑے کو چھتر تک میں چار برس والی ہے اور جب

بَلَغَتْ عِشْرِينَ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فِيهَا يَسْتَأْبُونَ فَإِذَا بَلَغَتْ أَحَدًا وَتِسْعِينَ إِلَى

چھتر ہو جائیں تو نوے تک میں دو دو برس کی دو اونٹنیاں ہیں اور جب ان کو نوے ہو جائیں تو ایک سو بیس

عِشْرِينَ مِائَةً فِيهَا حَقَّتَانِ طَرُوقًا الْجَمَلِ فَإِذَا أَرَادَتْ عَلَى عَشْرِينَ وَهَلِئَتْ فَهِيَ

تک میں بیس برس کی دو ہیں جو بھتی کے لائق ہوں اور جب ایک سو بیس سے زائد ہو جائیں

كُلُّ أَرْبَعِينَ بَيْتٌ لِبُؤْنٍ فِي كُلِّ مَسِينٍ حِقَّةٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِّنْ

تو چالیس میں دو برس والی ہے اور ہر چالیس میں بیس برس والی اور جس کے پاس صرف چار اونٹ ہوں

الْأَيْلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِّنْ الْإَيْلِ وَفِيهَا

تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہاں اگر ان کا مالک چاہے (تو دیدے) اور جب پانچ اونٹ ہو جائیں تو ان میں

شَاةٌ وَفِي صَدَقَةِ الْعَنَمِ سَائِمَةٌ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عَشْرِينَ مِائَةً شَاةٌ فَإِذَا

ایک بکری ہے اور بکریاں جب نوے والی ہوں تو جب چالیس ہو جائیں تو ایک سو بیس تک میں ایک بکری ہے اور جب

زَادَتْ عَلَى عَشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ

ایک سو بیس سے زیادہ ہو جائیں تو دو سو تک میں دو بکریاں ہیں اور جب دوسو سے زیادہ ہو جائیں تو تین سو تک میں

مِائَةٍ فِيهَا ثَلَاثُ شِيَاةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَهِيَ كُلُّ هَلِئَةٍ شَاةٌ فَإِذَا كَانَتْ

تین بکریاں ہیں اور جب تین سو سے زیادہ ہو جائیں تو ہر سیکڑے میں ایک بکری ہے اور جب کسی کی

سَائِمَةُ الرَّجُلِ فَاقِصَمَةٌ مِّنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ

پھر نے والی چالیس سے ایک بھی کم بکری ہو تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہاں اگر ان کا مالک چاہے

رَبُّهَا وَفِي الرِّقِّ رُبْعُ الشَّرْقَانِ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَهَلِئَتْ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ

(تو دیدے) اور چاندی میں چالیسواں چھتر ہے لیکن اگر صرف ایک سو نوے (درم) ہوں تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہاں اگر ان کا

يَشَاءَ رَبُّهَا (۳۹) بَابُ لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هِرْمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا

مالک چاہے (تو دیدے) باب زکوٰۃ میں پورا سوا اور عیب دار نہ لیا جائے اور نہ نر سوائے اس کے جو

مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ (۴۰) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كَتَبَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ أَلْتِي أَمْوَالَهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ

زکوٰۃ دینے والا چاہے اس سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر نے اسے زکوٰۃ کا وہ فیض لکھ کر دیا جس کا حکم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَخْرُجُ فِي الصَّدَقَةِ هِرْمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا مَا شَاءَ

اللہ نے اپنے رسول کو دیا تھا اور زکوٰۃ میں لٹھا اور عیب دار نہ لیا جائے اور نہ نر سوائے اس کے جو زکوٰۃ دینے والا چاہے

الْمُصَدِّقُ (۴۱) بَابُ لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ (۴۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَتَكَرَرَةٌ

باب بکری کا بڑا زکوٰۃ میں لینا دیکھو حدیث نمبر ۴۱۹۷

و(۴۳) بَابُ لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ (۴۴) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كَتَبَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ

باب زکوٰۃ میں لوگوں کا قیمتی مال نہ لیا جائے دیکھو حدیث نمبر ۴۳۲۳

عَمْرُو بْنُ مَرْثَدَةَ قَالَ لَمَّا بَعَثَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجَادًا عَلَى الْبَيْتِ قَالَ لَمَّا تَقَدَّمَ عَلَيَّ

جو ماہہ ہو: ۴۳ کر روایت میں شروع اور آخر میں کچھ لیا دتی ہے لفاظیوں میں: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث مجاداً على البيت قال لما تقدمت علي

فوقهم اهل كتاب فلتكن اهل ما ندم عليهم ابيه حياذ الله فاذا عرفوا الله فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم حسن صلوات في يومهم وليلتهم فاذا اخلوه

فاخبرهم ان الله تعالى قد فرض عليهم زكوة تزخذ من اموالهم تزخذ على فقرائهم فاذا اطاعوا بها اخذ منهم تزوق كرام اموال الناس

انہری فقرہ کے معنی ہیں کہ لوگوں کے قیمتی مالوں سے جو سبھی میں میں کر ان کا اچھا مال زکوٰۃ میں دینا:

عائیں اس نر کو

کتے میں چل کے

پڑھانے کے لئے

دکھا جاتا ہے فقط

مصدق کو اکثر

نے صادق کی تصدیق

کے ساتھ روایت

کیا ہے اور اس کا

اہل تصدیق ہے

یعنی صدقہ دینے والا

الماشاء المصدق

کا استثناء صرف

تیس کیساتھ تعلق

دکھتا ہے یعنی اگر

مالک مرضی سے نہ

ہے تو عامل نے

ور نہ لئے اس کی

قیمت بھی عوامی

ہوتی ہے اور مالک

اسے ضرورت کے

لئے لکھتے ہیں:

اس میں ہے

کا وہ مقدر جو اللہ

لومعنی جہاں

سے شروع ہوتا ہے اور

گیا ہے اور اس میں

یہاں ہدایت کی

بعد بانفعال کا لفظ

سے یعنی اللہ تعالیٰ

نے حضرت ابو بکر

کے سینے کو چنگ

کے لئے کھول دیا

لومعنی جہاں

کا تو ابو بکر نے

رسول اللہ صلعم

سے پرانہ لایا

ہے کہ بکری کا بچہ

زکوٰۃ میں لیا جائے

اور تھا عناق

بکری کے چارہ

کے بچے کو کہا جاتا ہے

فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ (م- ۵۸۸) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ (متكرر- ۲۳۰) (۲۷۵)

باب لَيْسَ عَلَى الْمَسْلُومِ فِي قَرْصِهِ صَدَقَةٌ (م- ۸۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَبْدُهُ صَدَقَةٌ (م- ۵۸۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر- ۸۴) (۲۷۶) بَابُ لَيْسَ عَلَى الْمَسْلُومِ

عَلَى الْمُنِيرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ إِنَّهُ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِمَّنْ يُعَدِّي مَا لَيْتُمْ عَلَيْكُمْ مِنْ هَرَقٍ

الدُّنْيَا وَزَيْتِهَا فَقَالَ دَجَلُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ أَوْ بَاتِي خَيْرٌ مِنَ النَّارِ فَصَلَّتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَلَيْهِ قَالَ فَسَمِعْتُهُ الرَّحْمَاءُ وَقَالَ ابْنُ السَّائِلِ وَكَانَ حَمْدًا فَقَالَ إِنَّ لَنَا فِي الْحَيَاةِ

صَاحِبِ الْمَسْلُومِ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنَ الْمَسْكِينِ وَالْيَتِيمِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَكَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَلَيْكُمْ وَأَنْ مَنِ اخْتَلَفَ فِي حَقِّهِ لَمْ يَكُنْ يَأْكُلْ وَلَا يَشْبَعُ وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

استقبلت عين الشمس فسلطت وبالت رتعت فإن هذا المال خضرة حلوة فينعم

صاحب المسالم ما تحط منه المسكين واليتيم وابن السبيل وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم

عليكم وأن من يخالف في حق غيره لم ياكل ولا يشبع ويكون شهيداً عليه يوم القيامة

استقبلت عين الشمس فسلطت وبالت رتعت فإن هذا المال خضرة حلوة فينعم

صاحب المسالم ما تحط منه المسكين واليتيم وابن السبيل وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم

عليكم وأن من يخالف في حق غيره لم ياكل ولا يشبع ويكون شهيداً عليه يوم القيامة

استقبلت عين الشمس فسلطت وبالت رتعت فإن هذا المال خضرة حلوة فينعم

صاحب المسالم ما تحط منه المسكين واليتيم وابن السبيل وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم

عليكم وأن من يخالف في حق غيره لم ياكل ولا يشبع ويكون شهيداً عليه يوم القيامة

عاش من بين هؤلاء...
فصلت الرزق...
الحاظر من جدك...
بم ۲۳۰...
هو البتة ان المصلي...
او حضر على النساء...
كرويان يلفظ...
فانتم انتم انتم...
فوعظ الناس و...
مهم بالصدق...
فقال يا ايها الناس...
تصدقوا احدكم...
كعبه حقه ۲۳۰...
كوبان جهوريا...
بولاس كويكاشي...
ذول كاواضير عيايا...
هو انتم انتم...
فلماصلة الى منزله...
جلست نذير امرأة...
بين مسعود...
عليه قبل يارسل...
الله هذه زيب...
فقال اي الزيان...
فقبل المرأة ابن...
مسعود قال نعم...
انذروا لها فاذن...
لها فالت يا باني...
انك انرا ابوم...
بالصدق كان عند...
سولي فاردت...
ان الصدق به...
نزع ابن مسعود...
انذروا لانه احق...
من تصدق به...
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك ولداك احق من تصدق به عليهم اس حدیث سے ثابت ہے کہ عورت اپنا مال صدقہ اپنے شوهر پر بھیج کر سکتی ہے لیکن بظاہر بزرگوار نہ تھی عام صدقہ تھا لیکن امام بخاری نے صدقہ کا لفظ عام لکھا ہے جو فرق فعل دونوں کو شامل ہے اس لئے یہ عام کو لاء ہے جو کو سوائے اسکے کہ لفظ عام طور پر بیت المال میں بھی معنی میں ہے ان اس ایک فقرہ بعض وقت اپنے طور پر لکھا کہ سبکی اجازت دی جاتی تھی یہاں زینب کی اولاد کو بھی صدقہ کا زیادہ خدا بتایا ہے۔ علامہ ہے کہ کھوسے سے ہاں مراد وہی کھوسا ہے جو کسی نے اپنی سواری کے لئے رکھا جو تجارت کے کھوسوں پر لکڑہ کا خیال اور کبھی سے ہو سکتا ہے۔ علامہ کہ عیادت میں نقلی اختلاف ہے موموں میں کھفرق نہیں۔ علامہ اسل اس سوال پر لکھا کہ مال کا اتنا تو ایسا ہے اور سبکی کے نہیں اور عثمان کے فضل کا وارث ہونا ہی تو کیا نہیں ہو سکتی ہے اور میں فرمایا کہ سبکی سے تو سبکی پیدا نہیں ہوتی نہیں ایک ہی فوت کا بڑا استعمال ہوا ہی بن جاتا ہے اور چارپائے کی مثال بیان کر کے بتایا کہ جو چارپایہ کھاتا ہی چلا جاتا ہے تو ہری گھاس ہی اسکی ہلاکت کو موجب مکتبی ہے لیکن جو کھاتا بھی ہے اور اس کا کھایا یا نکل بھی جاتا ہے تو اس کیلئے گھاس نقصانہ نہیں۔ اسی طرح مال مسلمان کا اچھا فرق ہے جب تک کہ وہ اس میں سے کچھ نہ نکالے اور سبکی نہیں کو دیتا رہتا ہے اور جو اس کے حق کے بغیر سے ہی مال تو اس کے پاس آئے اور وہ اس کا حق ادا نہ کرے وہی سختی یہاں درست معلوم ہوتے ہیں اور عام طور پر یوں معنے کے لئے ہر کہہ دو کوا کمال باحق ہے جو سبکیں شیعہ کو دینا ہے۔ تو اس کیلئے یہ ہلاکت کا موجب ہوتا ہے۔

کمال باحق ہے جو سبکیں شیعہ کو دینا ہے۔ تو اس کیلئے یہ ہلاکت کا موجب ہوتا ہے۔

(۲۸) بَابُ الزَّكْوَةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالْإِنْتِخَامِ فِي الْحَجْرِ وَالْأَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب شوہر اور ایسے بیٹوں کو جسکی زکوٰۃ دینے والا مردن کرنا یا شوہر زکوٰۃ دینا ابو سعید نے نبی صلعم سے بیان کیا

وَسَمَّكُمْ عَنْ عَن زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ كُنْتُ وَالْمَسْجِدَ قَالَتْ لَيْتُنِي صِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ

زینب بنت عبد اللہ کی بیوی سے روایت ہی کہا میں مسجد میں تھی تو رسول صلعم کو دیکھا فرماتے

وَسَمَّكُمْ فَقَالَ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ وَكَانَتْ لَيْتُنِي تَتَفَقَّحُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ أَيْتَامًا فِي حَجْرِهَا

تھے کہ صدقہ دو اگرچہ تمہارے زیوروں میں سے ہو اور زینب بنت عبد اللہ اور بیٹوں پر جسکی وہ مردن کرتی تھیں حج کی گاہ کی تھیں

فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ سَلْ سَلْ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ مِزِي عَنِّي أَمْ أَتَفَقَّحُ عَلَيْكَ وَكَلَى

تو اس نے عبد اللہ سے کہا کہ رسول اللہ صلعم سے پوچھو کہ کیا میرے لئے مردن ہوگا کہ میں آپ پر اور ان بیٹوں پر جسکی میں مردن کرتی ہوں

أَيْتَامًا فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ سَلِي أَسْأَلُ اللَّهَ عَنِّي وَسَمَّكُمْ وَأَنْطَلَقْتُ إِلَى

صدقہ میں سے حج کر دوں تو اس نے کہا تم خود رسول اللہ صلعم سے پوچھ لو تو میں رسول اللہ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَتْ أُمَّرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتَهَا

اور دروازہ پر ایک انصاری عورت کو پایا اس کی عرض اور میری عرض ایک ہی صلعم کے پاس گئی

مِثْلُ حَاجَتِي فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٍ فَقُلْنَا سَلِ لَنَا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ مِزِي عَنِّي أَمْ

تو بال ہم پر سے گذرے ہم نے ان سے کہا نبی صلعم سے پوچھو کہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے

أَتَصَدَّقُ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامِي فِي حَجْرِي فَقُلْنَا لَا تُحْدِثِي بِنَا فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ

شوہر کو اور بیٹوں کو جن کی پرورش کرتی ہوں صدقہ دوں اور ہم نے ان سے کہا ہاں نام زینب اور اس کے بچوں سے پوچھا

مَنْ كَمَا قَالَ زَيْنَبُ فَقَالَتِ الزَّيْنَبُ قَالَ مَرْأَةٌ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ

ہے نے فرمایا وہ دو دنوں کوں ہیں اس کے کا زینب سے فرمایا کون ہی زینب کہا عبد اللہ کی بیوی

أَجْرًا لِقَرَابَةٍ وَأَجْرًا لَصَدَقَتِهِ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا

قرابت کا اجر اور صدقہ کا اجر صلعم سے روایت ہی کہا میں نے عرض کیا یا

رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ أَجْرَانِ أَنْ أَتَفَقَّحُ عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَمْ أَنَا هُمْ بَنِي فَقَالَ أَتَفَقَّحُ عَلَيْهِمْ فَلَا

رسول اللہ کیا مجھے وہ اب ملے گا اگر میں ابو سلمہ کی اولاد پر حج کروں وہ میرے بیٹے ہیں تو فرمایا ان پر حج کیا کرو جو ان پر حج کر سکی

أَجْرًا مَّا أَتَفَقَّحْتُ عَلَيْهِمْ (۲۹) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي

اس کا حج اجر ملے گا صلعم سے روایت ہی کہا میں نے عرض کیا یا

علا یہ حدیث صحیح
۸۸۸ حدیث صحیح بخاری
ہے جہاں حدیث
کی روایت کے
آخر میں اس حدیث کی
مگر یہاں تفصیلات
زیادہ ہیں اور یہ
اختلاف بھی ہے
مثلاً اول میں رسول
اور اس کی اولاد
صدقہ حج کرنا رسول
ہے اور وہاں یہ بھی
ہے کہ زینب سے خود
حاضر ہو کر فقیر سے
سوال کیا گیا کہ یہاں
سوال اپنے شوہر اور
اور کچھ بیٹوں پر حج
کرنے کا ہے اور سوال
کرنے والے اس لئے
جاتے ہیں تو یہاں
اختلاف کی توجہ تو
یہ ہو سکتی ہے کہ زینب
اپنے شوہر اور بیٹوں کی
پہلی بیوی سے وصال
پر حج کر گئی تھیں اور
بیٹوں پر بھی اور یہ
تیمم ہمسارہ کہا گیا ہے
اسکے بھائی اور اس
کی اولاد بھی حج کرے
اختلاف کی سوائے
اسکے کوئی توجہ نہیں
ہو سکتی کہ وہ اس
کے بیوی نے اس کا
واقعہ بیان کیا ہے
نہیں سمجھایا ہے یا
نہیں بیان دونوں
حدیثوں میں ثابت
ہے کہ زکوٰۃ کا حج
ضرورت ہونے کا عند
ایچہ بیٹوں نے
خاندانی اولاد پر حج
کرنا بھی جائز ہے اور
یہ پہلے کرنا ہے

۲۸
۲۹

اور ابو اس سے منقول ہے
خالد نے بیٹی زینب سے کہا کہ وہ میں وقف کر دی ہیں
۴۲ کی اولاد پر حج کرنا اور زینب کی حالت سے حج کرنا زکوٰۃ کا حج کرنا ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان عورتیں خدا پروردگار
حمت کی مالک تھیں کہ مال کھاتی اور مردوں کی پرورش کرتی تھیں جیسا کہ ابو سلمہ کے نکاح میں تھیں یہ وہ بیوی تھی جو صلعم کے نکاح میں تھی۔ ابو
سلمہ سے جو امی اولاد تھی ان پر حج کر کے کے حلق انہوں نے دریافت کیا کہ میں صدقہ یا زکوٰۃ کے لئے لاکھ کر دیا رحمت سے اس میں نہیں

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

حَمَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنِ الصَّدَاقَةِ لِلْحَجَّ (۸۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ	کہ ہمیں نبی صلعم نے زکوٰۃ کے اونٹوں پر سوار کیا ملا ابو ہریرہ سے روایت ہے
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ قَبِيلِ مَنَعِ بْنِ جَمِيلٍ وَخَالِدِ بْنِ	کہ رسول اللہ صلعم نے زکوٰۃ کی وصولی کا حکم دیا تو کسی نے کہا ابن جمیل اور خالد بن ولید
الْوَيْلِيِّ عِيَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْفَعُ ابْنَ	اور عیاس بن عبدالمطلب انہیں دینے تو نبی صلعم نے فرمایا ابن جمیل کو یہ بات
جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَعْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّا خَالِدٌ فَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ	ناگوار ہے کہ وہ محتاج تھا تو اللہ اور رسول نے اسے مالدار کر دیا اور خالد پر تو تم ظلم کرتے ہو
خَالِدًا قَدْ أَحْتَسِبُ دَرَاعَةَ وَعَتَدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعِيَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ	اس نے اپنی زریں اور اپنے ہتھیار خدا کی راہ میں وقف کر دیئے ہیں اور عیاس بن عبدالمطلب تو
فَعَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عِلَّتِهِ صَدَقَةً وَمِنْهَا مَعَهَا دَهْرًا يَا بَنِي	رسول اللہ صلعم کے بچاؤں وہ ان پر صدقہ لازم ہے اور اسکے ساتھ انتہائی اور (یعنی) ملا باب
الْإِسْتِعْفَافِ عَنِ الْمَسْئَلَةِ (۸۹) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ أَنَّ أَسَاْمَةَ بْنَ الْأَنْصَارِ	مانگنے سے بچنا ابوسید خدری سے روایت ہے کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ
سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى نَفِدَ عِنْدَهُ	صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تو آپ نے انہیں دیا انہوں نے پھر آپ سے مانگا تو آپ نے انہیں دیا یہاں تک کہ جو
فَقَالَ مَا يَكُونُ عِنْدَ مَنْ خَيْرٌ فَلَنْ أُدْخِرَكُمْ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ	آپ کے پاس تھا تو ہم کو کیا تو فرمایا جو مال ہے اس کو ہوگا وہ ہم سے اٹھائیں گے اور جو رسول سے) بچا جائے گا اللہ اسے پھیلے گا
يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ	اور جو محتاج ہو گیا اللہ اسے غنی کر دینگا اور جو صبر اختیار کر لیا اور اسے صبر جہاد دینگا اور جس سے بہتر اور خراج مال کسی کو نہیں ملا
مَنْ الصَّبْرُ (۹۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر) (۹۰) (۹۱) عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّازِ عَنِ النَّبِيِّ	ذکیکو حدیث نمبر ۹۰ ملا زبیر بن عوام نبی صلعم سے روایت
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حِمْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحِزْمَةٍ حَطَبٍ عَلَى	کرتے ہیں فرمایا اگر تم میں سے ایک شخص اپنی کسی لیکر اپنی پیٹھ پر لکڑی کا ٹھکانا لائے
ظَهْرِهِ فَيَبِيعُهَا فَيَكْفَى اللَّهُ جَهْلَهُ وَجَهْلَةَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ	اور اللہ اس سے اس کی آبرو بچائے تو اس کیلئے بڑے سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے وہ اسے ہوا زدن سے

خریج کرنا اس کا بہترین مصرف ہے۔ جتنا بھی زکوٰۃ کا دہرہ صرف ہو سکتا ہے جب وہ فقرا اور مساکین کی ذیل میں شامل ہوں۔ آیت میں ان کا نام اس لئے نہیں لیا کہ بعض شیخ صاحب جاندہ بھی ہوتے ہیں۔ حج کے لئے ایسا وسیلہ کی ذیل میں خرچہ آجاتا ہے۔ مسلمانوں کی خیرات سے وہ بھی ہو گیا۔ ان میں سے کمال ہے کہ اس وقت وہ غلٹ مسلمانوں میں سے نہ تھے۔ مسلمانوں کا ہر حال و سامان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ مسلمان سے نہ لگتا یا جہاد کے سلسلے کی روایت میں ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا کہ وہ چھپرے سے نبی میں ادا کر لنگھنے کے سوال سے بچنے کی کسی لطیف تعلیم دی ہے اس سے اس کی حدیث میں اس سے بھی بہتر فرمایا کہ ان میں سے ہے کہ آج مسلمانوں میں عیبک مانگنے والوں کی کوئی انتہا نہیں اور بہت لوگوں اسے پیشہ بنایا ہوگا ہے۔ ۹۰-۹۱ کے الفاظوں میں اللہ کی نفسی پیدا لان یا خدا احد کہ جملہ قیمت طلب علی ظہرہ خیر لہ من ان یاتی رجلا فیسئالہ اعطاه او منعہ کے ایک طرف یہ دریا دی ہے کہ کسی سے اس کے لئے انکار نہیں کیا اور جو کچھ پاس ہو جائے دیا۔ اگر دوسری طرف آپ صلعم میں اور تعلیم آپ کی ہی ہے کہ لوگ مانگنے سے نہیں فرمایا کہ سوال کرنے سے لڑکی یا لڑکا بیٹھ کر یا لٹکانا اور اسے باز آویں لے جا کر فروخت کرنا بہتر ہے۔ ہر حدیث کی قدر و عزت بھی سمجھائی۔ بلکہ فرمایا کہ اس طرح محنت کرنے سے اس کی آبرو کو اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ کہ سوال کرنے والے کی آبرو باتی نہیں رہتی۔ گو با ادا سے اپنے محنت بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت کا کام ہے۔ اور سوال کسی رنگ میں بھی ہو ایک ذلت کی بات ہے۔

۹۱۷ عن حکیم بن جزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني

۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰

ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا لِلْأَلْحَفِ

حُولَةِ فَمَنْ أَخَذَهُ فَهُوَ نَفْسُ بَرِّكَ لَهُ فَيَأْتِيهِ مِنْ أَخْذِهِ بِأَشْرَافِ نَفْسِكَ

بِيَارِكْ لَهُ فَيَرْجُو كَأَنَّ يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ أَيْدِي الْعَالِمِينَ خَيْرٌ مِنَ أَيْدِي السُّفْهَى قَالَ

حَكِيمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الَّذِي يُعْطَاكَ بِالْحَقِّ لَا أُرْزَعُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى

أُفَارِقَ النَّبِيَّمَا كَانَ أَبُو بَكْرٍ مَوْلَى نَبِيِّكَ إِذْ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَعْيُنِ فَيَأْتِي أَنَّ عَمْرُوًا

لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَا لِي أَلْعَنُ قَوْمًا مَثَلُ السُّلَيْمِيِّينَ كَيْلَهُمْ

أَنْ يَ أَعْرَضُ عَنْكَ حَقُّكَ مِنْ هَذَا الْفِقْرِ فَيَأْتِي أَنْ يَأْخُذَهُ فَاهْتَمِرُوا أَحَدًا مِنَ النَّاسِ

بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُؤْتِيَ رَأْسَهُ مِنْ أَعْيُنِهِمْ خَيْرٌ

مَسْئَلَةٌ وَلَا أَشْرَافِ نَفْسٍ فِي أَمْوَالِهِمْ مِنَ الشُّبُلِ الْخُرُوفِيِّينَ عِبْدَ اللَّهِ

ابْنُ حَمْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ

أَعْطَى مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِمَّنْ قَالَ خَدُّهُ أَيْدِي مَنْ هَذَا الْمَلِكِ وَإِنَّ تَعْيِيرَ مَسْرُوقِ

وَلَا سَأَلَ خَدًّا وَمَا آفَاقًا مَبْعُودًا لَفَسَاكَ (۵۲) بَابُ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَلُّفًا

۹۳۷ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ

عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی ہمیشہ لوگوں سے

يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ عَرَقٌ قَالَتْ لِمَ الشَّمْسُ كَانَتْ تَرْتَدُّ

انگھارتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن آجنگا اس کے سر پر پڑے اور ہر جہی گوشت نہ ہوگا اور اور فرمایا کہ سوچ قیامت کے دن

يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الْأَذْرِ فِيمَا هُمْ كَذَلِكَ اسْتَغَاوُوا بِأَدَمِ ثُمَّ

یہاں تک قریب ہوگا کہ پسینہ کا وزن تک پہنچ جائے گا جب لوگ اس حالت میں ہونگے تو آدم سے فریاد کریں گے پھر موسیٰ

مُوسَىٰ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَأَى فِي رَأْيِهِ فَيَشْفَعُ لِقَبْضِ بَيْنِ الْخَلْقِ فَيُشْفَى حَقُّ

سے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے (اور ایک روایت میں زیادہ ہے) تو آپ سفارش کریں گے لوگوں کے درمیان صلہ ہونے کو آپ

يَأْخُذُ بِحَلْقَةِ الْبَابِ فَيَوْمِئِذٍ يَبْعَثُ اللَّهُ مَقَامًا مُحَمَّدًا وَمَقَامًا لِعَبْدِهِ أَهْلَ الْجَنَّةِ كُلِّ

چلیں گے یہاں تک کہ رحمت کے دروازے کا حلقہ تمام لوگوں کو کھول دے اور ان کے پاس سے ان کے لیے جہنم کے

بَابٌ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى لَيْسَتُ لِلنَّاسِ الْخَافَا وَكَو الْغَنَى وَقَوْلَ لَيْسَ لِلَّهِ الْغَنَى

باب اللہ تعالیٰ کا فرمان وہ لوگ نہ لپٹ سکیں (البقرہ - ۲۷۳) اور اللہ کی راہ کیا جائے آدمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا

وَسَلَّمَ وَلَا يَجِدُ خَيْرًا يَغْنِيهِ لِفَقْرِهِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ

اور مال نہیں پاتا کہ اسے بے پروا کرے (تورات) ان میں سے جو اللہ کی راہ میں روکے گئے ہیں ان میں سے جو نہیں سکتے

فِي الْأَرْضِ حَسْبُكُمْ الْجَاهِلُ غَنِيَاءُ مِنَ التَّعَقُّبِ فِي قَوْلِهِ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَالِمٌ (م - ۵۹)

سوال سے پہلے کی رو سے ناواقف انہیں مالدار سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا نشانہ ہے جو اب جانا ہے (البقرہ - ۲۸۳)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر - ۹۵، ۹۶) عَنْ قَتَادَةَ كَاتِبِ الْغُبَرَةِ بْنِ شَعْبَةَ قَالَ

دیکھو حدیث نمبر ۹۵، ۹۶ وغیرہ بن شعبہ کے کاتب قاتدہ سے روایت ہے کہ

كُتِبَ مَعَاوِيَةَ إِلَى الْعَبْرَةَ بْنِ شَعْبَةَ أَنَّ كُتِبَ إِلَى كَيْسِيِّ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

معاویہ بن شعبہ کے کاتب نے لکھا کہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتِبَ إِلَيْهِ سَمِعْتُ سَمْعَةَ سَمِعَتْ سَمْعَةَ يَقُولُ أَنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ كِتَابًا

مجھے لکھا تو انہوں نے ان کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ نے تم کو کفر سے منع کیا

قِيلَ وَقَالَ وَأَصَاعَةُ الْمَالِ كَثْرَةُ السُّؤَالِ (م - ۵۹) عَنْ سَعْدِ بْنِ عَدِيٍّ (متكرر - ۲۵)

ہے فضیل بن ابی اسد نے کہا کہ یہاں سوال کو تباہ کرنا اور زیادہ مانگنا

کے لئے زندگی وقف کر کے ہوں باطل علم جو علم دین کے حصول کیلئے زندگی وقف کر کے ہوں جسے اصحاب تصدقہ کو کفار کے ظلم کی وجہ سے اس کے گمانے سے کاوا

دیکھ سکتے ہوں (۳۰) یوں ہی کام کے قابل ہوں جیسے زخمی وغیرہ۔ گمان کا بھی یہ نشان ہے لایسٹوں الناس الحاقا اب بعض لوگوں نے پیشہ لیا ہے کہ وہ عمار کے ہوتے

مجھے ہیں باطل علم کی شاعت اسلام کا نام لیکر یہ بیان عجب مانگنے والوں میں ہیں جو لوگوں میں صدائیں مگاتے پھرتے ہیں۔ اس کے لفظ میں ایسے مسکین اللہ تعالیٰ

الاکلا والاکھلان ولكن المسکین الذی لیس ارضی وستیق ولا یسئل الناس الخفاقا۔ عکاس بن قنابہ اور ابو عبداد قنونی کی قدر کی طرف توجہ دینی ہے کہ

کہ فضول باتوں میں وقت ضائع نہ کرو اور بے جا خرچ سے اپنا مال خرچ نہ کرو اور مانگنے سے اپنی قوتوں کو ضائع نہ کرو۔ کثرت سوال کے ذریعے غیر ضروری اور بے فائدہ باتوں

عکاس بن جبایا کہ سوال کرنا کسی قدر ذلت کا کام ہے پھر یہ لوگوں ہی لوگوں اور فریب جو گوشت نہ ہونا انہی کے اظہار کیلئے ہے فی الواقعہ میں انسان کی یہ حالت ذلت سے ہوجاتی ہے قیامت میں یہ سب کیفیات روحانی ایک نمایاں شکل اختیار کریں گی اور سب لوگ اس کو دیکھیں گے جنوں باب کا متفق اسی حصہ سے ہے۔ علم پر حدیث کتاب اور تاریخ فضیل سے آئے گی اور وہیں اس پر بحث ہوگی۔ علم پر حدیث کا ذکر ہے جس میں مسکین کی تعریف کی ہے۔ علم اصل مصلحت نہیں فرار دیا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچے گئے ہوں اور زمین میں جیل پھر کر دوسری یا تجارت نہ کر سکتے ہوں۔ یہ قسم کے لوگ اس پر ذیل میں آتے ہیں اور عمار بن حوشبہ سے ہیں

دیکھو حدیث ۲۵

(۹۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ لِمُسْكِينٍ الَّذِي

اور ہر برسے روایات ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جو لوگوں

يَطْوُونَ عَلَى النَّاسِ تَرْدَةَ الْقَمِيَّةِ وَالْقَمِيَّانِ وَالزَّمْرَةَ وَالزَّمْرَانَ لَكِنَّ لِمُسْكِينٍ الَّذِي

(کے دروازوں پر پھرتا رہتا ہے ایک ٹھکانہ اور دوٹھے اور ایک جو زیادہ دھوریں سے پھرتی ہیں بلکہ سلین وہ ہے جس

لَا يَجِدُ غَنَى بِعَيْنِهِ وَلَا يَقِطْنَ بِهِ فَيَنْصَدُّ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ (۹۶-۹۷)

کے پاس اتنا مال نہیں کہ بے پروائی اور نہ کوئی اس کا حال جانتا ہے کہ اسے صدقے اور نہ آجھ کر لوگوں سے مانگتا ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر - ۹۰) (۵۲) بَابُ مَحْرُصٍ لِلْمُتْرَرِ (۹۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ السَّاعِدِ

دیکھو حدیث نمبر ۷۹۰۔ باب مجھڑوں کا ٹھکانہ گانا۔ ابو حریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت

قَالَ عَزَّ وَنَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوكَ فَلَمَّا جَاءَ وَادِي الْقُرَى

ہے کہ تم نبی صلعم کے ساتھ جنگ تبوک میں شامل ہوئے وہاں سے وادی القری میں پہنچے

إِذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيثِهِ لَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَحَابَةَ لَهُ خَرُصُوا

تو ایک عورت کو اپنے بارے میں دیکھا نبی صلعم نے اپنے صحابہ سے فرمایا انمازہ لگاؤ

وَرُحْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَةٌ أَوْ سِتٌّ فَقَالَ لَهَا أَحْصِي مَا

اور رسول اللہ صلعم نے دس روغن کا انمازہ لگایا اور اسے فرمایا جو اس میں سے نکلے اسے

يَخْرُجُ مِنْهَا قَلِمًا أَمْ تَنَا تَبُوكَ قَالَ أَمَا أَنْتَ سَتَبِي الْبَيْلَةَ رِيحًا شَدِيدَةً وَلَا يَهْوِيَنَّ

باد لگنا اور جب تم تبوک پہنچے تو اب نے فرمایا آج زور کی ہوا چلے گی اور کوئی

أَحَدٌ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بَعِيرٌ فَلْيَقْدِمْهُ فَعَقَلْنَا هَا وَهَبْنَا هَاهُنَا شَدِيدَةً فِقَامِمْ

انکے نہیں اور جس کے پاس اونٹ ہو تو اسے باندھے لے لو تبوک کو باندھا اور زور کی ہوا چلی اور ایک شخص نے

فَأَقْتَدَيْتُمْ بِحَيْبِ طَبِيٍّ وَأَهْدَى مَالِكٌ أَقْدَمَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقْدَةً بِبَيْضَاءَ

تو اسے آنکھ میں نے اسی کے دو ہمارے دل میں لے جایا اسکا اور مالک کے ہاتھ سے نبی صلعم کے لئے سفید گدھا کا ٹھکانہ چھوٹا

وَكِسَاءُ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ فَلَمَّا آتَى وَادِي الْقُرَى قَالَ لِلنَّبِيِّ كَيْفَ جَاءَتْ

اور آپ کو ایک چادر دی اور آپ نے اس کیلئے اس کے ملک کی حکومت الہدیٰ میں آیا جب آپ لوٹ کر وادی القری میں پہنچے تو اس

حَدِيثِكَ قَالَتْ عَشْرَةٌ أَوْ سِتٌّ حَرُصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ

عورت فرمائی میرے بارے میں کتنی سہاوا اور نکل کر اس وقت نبی صلعم علیہ وسلم کا انمازہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنَاجِيلِ الْمَدِينَةِ فَمِنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْجَلَ أَوْ يَسْجُلَ

نے فرمایا میں مدینہ جلدی جانا چاہتا ہوں تو تم میں سے جو میرا ساتھ چلے جانا چاہتا ہے تو چلے اور وہ

فَلَمَّا قَالَ ابْنُ بَكْرٍ كَيْفَ مَعْنَاهُ أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ هَذِهِ طَائِفَةٌ فَلَمَّا سَأَلَنِي

تو جب ابن بکرا نے ایک لحظہ کہا اس کا مطلب تبوک مدینہ نظر آیا آپ نے فرمایا یہ طاہر ہے اور جب اٹھا دیکھا

أَحَدًا قَالَ هَذَا جَبَلٌ بِحَيْبِنَا وَبِحَيْبِهِ الْأَحْبَارُ كَمَا يَكْرَهُونَ وَلَا تُصَارِقُوا لَيْلَةَ قَالَ

تو فرمایا یہ پہاڑ نہیں چاہتا ہے اور ہم سے چاہتے ہیں بلکہ ان میں تم کو انصاف کے بہترین گھر بتاؤں انہوں نے عرض کیا ہاں فرمایا

دُونَ حَيْبِي النَّبِيَّ إِثْرَهُ وَدُونَ حَيْبِي عَمِلَ الْأَشْهُلُ ثُمَّ دُونَ حَيْبِي سَاعِدَةَ أَوْ دُونَ حَيْبِي الْحَارِثِ

بنو بجرا کے گھر پھر نبی عمید الا شہل کے گھر پھر نبی ساعدہ یا نبی الحارث

۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

برقیا اسلئے انکے علاقے کے سمندر کی آمدنی اور انکی ساری حکومت انکے لئے لکھی دیکھ لو کہ یہ صحرا میں سمندر کا ذکر بھی ملتا ہے اور پھر شکر بھی کہتے ہیں
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

ابن الخزرج في كل دور الأضواء يعني خيرا قال أبو عبد الله كل يستار علي حياط
 ابن الخزرج کے حکم اور اضاہ کے سب لوگوں ہی بکھال ہو گا۔ اویہ لاشہ کہنے میں من بلع کے گرد دوار ہوا سے حدیث تھنے
 فموجود لکھ و ما لم یکن علیہ حیاط لایقال احد یقظة (۵۵) باب الغش وقبایم سقی
 ہیں اور جرم کے گرد دوار ہوا سے حدیث نہیں تھنے۔ باب جو زمین بارش یا ندی سے
 من ماء السماء والمو الحاری قلم رب عبد العزيز في العسل نبی (۵۶) عن
 سیراب ہوتی ہے اس میں دسواں حصہ ہے اور عمر بن عبد العزیز نے غش کی زکوٰۃ نہیں لی
 عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقطت السماء والعيون وكان علي
 عبد اللہ بن عمر نے نبی کریم سے روایت کی ہے تو آیا اس زمین کو بارش یا غشوں کا پانی سیراب کرنا ہو یا عیونوں کے پانی
 العشر وما سقى بالنضح نصف العشر قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول لأنه لم
 سے سیراب نہ کیا جائے اس میں سواں حصہ (زکوٰۃ) ہو اور جو کہ جس کے پانی سے سیراب ہوا اس میں سواں حصہ ہے اور جو کہ جس کے پانی سے سیراب
 يوقت في الأول نبي حديث ابن عمر فيما سقطت السماء العشر وبين في هذا و
 تفسیر ہے کہ پہلی میں نبی کریم نے روایت کی ہے ابن عمر کہ جس زمین کو بارش یا غشوں کا پانی سے سیراب کرنا ہو یا عیونوں کے پانی سے سیراب کرنا ہو
 وقت والزكاة مقبولة والقسم لفضي على البهائم إذا مرأه أهل التبت كما
 ذکر اور بیان ہے اور زیادت قبول کی جاتی ہے اور وہ اعلیٰ عمل کا فیصلہ کرتا ہے جب سے چھوڑ دی روایت کریں جیسا کہ
 روى الفضل بن يحيى عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله
 فضل بن یحییٰ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم نے
 بلال قد صلى فأخذ يقول بلال وتترك قول الفضل (۵۷) باب أيش فيما
 کہا بلال نبی کریم سے روایت کیا گیا اور فضل کا قول چھوڑ دیا گیا۔ باب
 دُونَ مَسِيءَةٍ وَمِنْ مَسِيءَةٍ (۵۸) من زكاة (۵۹) (۵۶) (۵۷) (۵۸)
 باقی دو سونے سے کم زمین زکوٰۃ نہیں
 باب أحب الصدقة التي نزلت بها النحل هل ينزف الصبي ثم الصدقة
 بابا درختوں سے گھونٹا کائے جسے وقت ان کی زکوٰۃ لینا اور کیا ہے اگر اجازت دی جا سکتی ہے کہ صدقہ کی گھونٹ کر کر لیا جائے گا
 (۶۸) من أن ذكره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي بالتمر عند حماره
 ابو جریح سے روایت ہے کہ رسول اللہ کریم نے اس سے
 النخل حتى هذا لله ثم وجهه من سقي بغير عسكة كذا في العمل الحسن
 نہیں وہ اپنی گھوڑی اور پیڑھی گھوڑیوں میں سے لانا ممانا کہ آپ پاس گھوڑوں کا ٹھیکہ رکھا جاتا تو حسن اور حسین
 والحسين يكعبان بلبلك التمر فأخذ احداهما فذرده فجعل في فيه ثم سقى رسول الله
 ان گھوڑوں سے قبول بھی تھے ان میں سے ایک نے اس گھوڑی پر لواتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی
 صلى الله عليه وسلم فأخرج من فيه فقال ما هذا فقال الحسن انما يكون الصدقة
 اس سے اس کے منہ سے نکال لیا اور مال رکھنے والے میں سے ایک نے اس کی زکوٰۃ نہیں لکھائی ۵

طی کر لیا وہ زمین اسلام کی نصرت کرنے والے تھے۔ ہلا سنی جس زمین پر مال کو پانی کے لئے کسی نعمت نہیں کرنا چاہی اس میں دسواں حصہ ہے اور جہاں محمد مال کو نعمت کرنی چاہئے وہاں سواں حصہ ہے کہ کیا مال کی نعمت کا موازنہ عماردا گیا۔ نے قال یقظة سے لیکر حرکت یہ عبارت ابو ذر کی روایت میں آیا ہے اور وہ ہر سونے کی روایت میں آگے باب کی حدیث م ۵۵۳ کے بعد ہے جو ۵۵۴ میں گذر چکا ہے نشان میں کہتے ہیں کہ یہاں ابن عمر کی حدیث کے بعد اس عبارت کا لکھنا کا تامل کی غلطی ہے اور یہ صحیح ہے اور اس کی جگہ ۵۵۳ کے بعد ہے۔ اس عبارت کے لئے کی ضرورت نہیں ہے ہونی کہ غنیمت کے نزدیک جس غلے سے زکوٰۃ یعنی نثر لیا جاتا ہے اس کا نصف یا کسی مقدار نہیں بلکہ غلے کی پیداوار جس قدر بھی ہو تو پوری ہے باہت اس میں غش ہے اور باقی دن کی شرط نہیں جیسا کہ تفسیر ہے نام بخاری حدیث کی عبارت میں خیال کی ضرورت نہیں اور کہہ ہیں کہ اس طرحی حدیث میں کو نصیب ذکر نہ ہو کر صحیح اور بری جگہ یعنی ۵۵۴ میں اضاہ ذکر کرنا ہے اور جو پہلے لکھا گیا تھا اس وقت کے ساتھ لکھا گیا ہے اور الیہ ص ۵۷۴ جگہ جو لکھا گیا تھا اس کے لئے اور اس کے لئے ہے جانزہ رکھا تھا اس لئے آپ نے اس قدر اضاہ لکھی کہ ایسے دسواں حصہ زمین میں نثر لے کر اجازت نہ دی تاکہ ان کو زمین نہیں ہو جائے کہ زکوٰۃ کا مال کے لئے خدمت نہیں۔ ویسے بچے کے زکوٰۃ کے مال کو اٹھا کرنے میں کوئی حرج نہیں ۵

۵۸۵ باب من باع ثماره أو حقله أو أرضه أو مزراعده وقد جيب فيه العشر أو

الصدقة أو أدى الزکوٰۃ من غيره أو باع ثماره أو لم يجبه فيه الصدقة وقول النبي

صلى الله عليه وسلم لا تبعوا الثمرة حتى يبدؤا وصلاتها فله يحظر البيع بعد الصلاة

عنه لحدكم يخص من وجبت عليه الزکوٰۃ من الثمن ۵۹۹ عن ابن عمر يقول سمعنا النبي

صلى الله عليه وسلم عن نبي الله محمد بن عبد الله وكان إذا سئل عن صلاحها قال

حتى تذهب عاهتها ۵۹۵ عن حماد بن منكر ۵۹۹ م ۵۹۶ عن أنس بن

مالك (متكرر ۵۹۹) باب هل يشتري صدقته ولا بأس أن يشتري صدقته

عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حى الصدقة خاصة عن الشري ولم

ينها غيره ۸۰۰ عن عبد الله بن عمر أن الخطاب الصدقة في

سبيل الله فوجدته يباع فأراد أن يشتريه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه

فقال لا تعد في صدقتك فذالك كان ابن عمر لا يترك أن يشتاع شيئا تصدق

به إلا جعله صدقة ثم ۵۹۶ عن حماد بن منكر ۸۰۰ م ۷۱۰ باب ما يدكر الصدقة للنبي

صلى الله عليه وسلم والحمد لله ۵۹۷ عن ابن عمر (متكرر ۵۹۸) باب ما تصدق به على

مولي أو واهب النبي صلى الله عليه وسلم قال وجبت الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم

من باع ثماره أو حقله أو أرضه أو مزراعده وقد جيب فيه العشر أو الصدقة أو أدى الزکوٰۃ من غيره أو باع ثماره أو لم يجبه فيه الصدقة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبعوا الثمرة حتى يبدؤا وصلاتها فله يحظر البيع بعد الصلاة

اس حدیث سے امام بخاری نے یہ استدلال کیا ہے کہ جب بیوے کی اہلیت کا وقت گذر جائے تو اس کی فروخت جائز ہے خواہ زکوٰۃ اس میں ادا ہوئی ہو یا نہ ہو مگر جب بیوے نے شرط نکاح کی کہ زکوٰۃ ادا ہوگی تو آخری الفاظ کا ان کا حاصل نہیں ہے۔
۵۸۵ ہے۔ باقی الفاظ صلاحاً تک درج ہیں۔ اس کے لفظ یہ ہیں یعنی ہم یہ شمار حق ترقی میں خاصاً حق ترقی یعنی جب تک کہ وہ مال تک نہ پہنچے یعنی اس میں سرسری نہ جائے۔ مگر بخاری نے یہاں اس کو کہا ہے کہ جسے زکوٰۃ کا مال یا جسے اس سے خریدنے کی ضرورت ہو وہ بیوہ ہو سکتا ہے۔
۵۸۶ ہے۔ اس کے لفظ یہ ہیں یعنی ہم یہ شمار حق ترقی میں خاصاً حق ترقی یعنی جب تک کہ وہ مال تک نہ پہنچے یعنی اس میں سرسری نہ جائے۔ مگر بخاری نے یہاں اس کو کہا ہے کہ جسے زکوٰۃ کا مال یا جسے اس سے خریدنے کی ضرورت ہو وہ بیوہ ہو سکتا ہے۔
۵۸۷ ہے۔ اس کے لفظ یہ ہیں یعنی ہم یہ شمار حق ترقی میں خاصاً حق ترقی یعنی جب تک کہ وہ مال تک نہ پہنچے یعنی اس میں سرسری نہ جائے۔ مگر بخاری نے یہاں اس کو کہا ہے کہ جسے زکوٰۃ کا مال یا جسے اس سے خریدنے کی ضرورت ہو وہ بیوہ ہو سکتا ہے۔

قیمت میں اور مال کی قیمت تک پہنچتا ہے اور اس طرح سالانہ زکوٰۃ کا مال بھی ہے یعنی وہ مال ہے جو فروخت کر کے اس سے خریدنے کی ضرورت ہو اور اس طرح سالانہ زکوٰۃ کا مال بھی ہے یعنی وہ مال ہے جو فروخت کر کے اس سے خریدنے کی ضرورت ہو۔
۵۸۸ ہے۔ اس کے لفظ یہ ہیں یعنی ہم یہ شمار حق ترقی میں خاصاً حق ترقی یعنی جب تک کہ وہ مال تک نہ پہنچے یعنی اس میں سرسری نہ جائے۔ مگر بخاری نے یہاں اس کو کہا ہے کہ جسے زکوٰۃ کا مال یا جسے اس سے خریدنے کی ضرورت ہو وہ بیوہ ہو سکتا ہے۔
۵۸۹ ہے۔ اس کے لفظ یہ ہیں یعنی ہم یہ شمار حق ترقی میں خاصاً حق ترقی یعنی جب تک کہ وہ مال تک نہ پہنچے یعنی اس میں سرسری نہ جائے۔ مگر بخاری نے یہاں اس کو کہا ہے کہ جسے زکوٰۃ کا مال یا جسے اس سے خریدنے کی ضرورت ہو وہ بیوہ ہو سکتا ہے۔
۵۹۰ ہے۔ اس کے لفظ یہ ہیں یعنی ہم یہ شمار حق ترقی میں خاصاً حق ترقی یعنی جب تک کہ وہ مال تک نہ پہنچے یعنی اس میں سرسری نہ جائے۔ مگر بخاری نے یہاں اس کو کہا ہے کہ جسے زکوٰۃ کا مال یا جسے اس سے خریدنے کی ضرورت ہو وہ بیوہ ہو سکتا ہے۔

شَاةٌ مَّيْتَةٌ أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَاتِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَا

أَنْتُمْ مَجْدٌ مَجْدٌ مَا قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ تَبَاهَرُوا مَا كَانُوا مَعَهَا ۵۹۸ عَنْ عَائِشَةَ

رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (۳۱۹) (۶۲) بَابُ إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ مَرَّةً ۵۹۹ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ

رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (۳۱۹) (۶۲) بَابُ إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ مَرَّةً ۵۹۹ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ

رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (۳۱۹) (۶۲) بَابُ إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ مَرَّةً ۵۹۹ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ

رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (۳۱۹) (۶۲) بَابُ إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ مَرَّةً ۵۹۹ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ

رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (۳۱۹) (۶۲) بَابُ إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ مَرَّةً ۵۹۹ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ

رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (۳۱۹) (۶۲) بَابُ إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ مَرَّةً ۵۹۹ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ

رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (۳۱۹) (۶۲) بَابُ إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ مَرَّةً ۵۹۹ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ

رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (۳۱۹) (۶۲) بَابُ إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ مَرَّةً ۵۹۹ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ

رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (۳۱۹) (۶۲) بَابُ إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ مَرَّةً ۵۹۹ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ

رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (۳۱۹) (۶۲) بَابُ إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ مَرَّةً ۵۹۹ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ

اس سے معلوم ہوا کہ
حرمیت کا حکم ہے ہرگز
مستحق ہے اسے ایک
مورد ہے جو مستحق
کا کھانا ادا نہ کرے
سوا م کیلئے ان کی
کھانہ ہونی چاہیے
دوسری طرح فائدہ
اٹھانا حرام نہیں ہے
حدیث مجرم ۹۸۲ پر
آئی ہے دیکھو اس پر
ملا کے الفاظ ہیں
عن عائشة انھا اراد
ان تصدق بربیعہ للفقير
طراد موالہ ان
يشترطوا ان لا ياكلوا
عائشة للنبي صلى الله
عليه وسلم فقال لها
النبي صلى الله عليه
وسلم انما اولاد
من اعنتي قالوا
النبي صلى الله عليه
وسلم بل نزلت هذا
ما نزل على من يربو
فقال هو لها صدق
ولما هدته بريرة
فقر عائشة ان اذكره
ونذرتني ان اذكره
كفى عجباً اني اذكره
فان من يربو له كما
مال فقيل ان كان
واسر كما يربو له كما

شاید صحیح یا جا سکتا ہے ہرگز کے مستحق نہیں ہے تو بل حال کے عنوان سے اگلے باب میں ثابت کیا ہے نیز دیکھو تو یہ بھی ہے اس کے لفظ میں دخل اللہ
حلی عائشہ فقالت هل عندكم شيء فقالوا لا الا شيء بعنت به الينا نسئله من الشاة التي بعنت لها من الصلوة فقال لها هل بلغت محلها من
۵۹۸ کا آخری حصہ دہرا گیا ہے انی لیم تصدق بہ علی بریرہ فقالت ہو علیہا صدقہ وہو انا حدیث ہے کہ میں نے ضروری نہیں ایک شہری لڑکے اسی شہر کے مال
دی جائے بلکہ مسلمانوں کی بہتری پر ہے صرف کیا جاوے جو ان میں سے ہوں اس کا تہا یہی ہے کہ قال رسول اللہ صلعم لعاد بن جبلی بن بعثتہ ان
انک منافی فوما اهل الكتاب نادوا جنتهم فادعهم اني ان شئتم ان اكلوا المأكلا ان محمد رسول الله اس کے بعد صلعم کا حضور اذنی العظی انصرفت
ساتھ دہرا کر آخر میں لفظ صحائے ہیں: فان هم اطاعوا الله بذلك فایاک ذکر انما الموضع الحق دعوا المظلم فانك ليس من شئ من الله حجاز اس کو لڑکے کے حقوق
پر تو خدا نے اغنیاکم ترو علی فقرکم عنوان باک نکل اس کے بعد دیکھو جیلانوف کہ اس فقرہ میں حضرت عطاء کا فقرہ ظلم سے ہے کہ نصیحت کی ہے کہ وہ لڑکے
چاہے علم پر مہاجر نہیں کہ ظلم پر کسی اور بیسی و بیسی کی حالت میں صرف غلری سے پرنا انصاف چاہتا ہے اور جو نکاح کی دعا اور دل سے غلطی سے اس نے وہ قرابت نامی کو
قوراجذب کرتی ہے اور ظالم سلطنت غالی مظالم کا بدلہ لیتا ہے کہ یہ قرابت سورو قور کی صلوة الامام کے بعد وہا کا لفظ صحابہ انکار اشارہ ہو کہ صل علیہم صلوة سے
دعا ہے جہاز نہیں اور صلوة الامام کے لفظ میں اشارہ بھی کہ لڑکے لہنا بادشاہ اور حکومت حق اور خدا میں امور انہم صدیق بادشاہ ہی کہ ہم کا قائم مقام ہونے میں ان
عمر کی طرقت میں کہ ایک شخص لڑکے میں عمداً و غرضی تو ان شخص کے اس لینے دعا کی اللہ باریک دید فی اہلہ بادشاہ کے ہمارے کو لڑکے کو انوش بوجا ہوا اس کی بہت سے
بڑھایا گیا جو بہت سے لڑکوں کا لہنا لہنا ہوا ہے ان میں سے فون ہر اول عراق کے لڑکے میں ان میں سے ایک شخص نے کہا میں اس لفظ میں شامل ہیں امام
بخاری سے کہنے لگانے میں ہوں کہ میرے عزیز ہوتی ہیں میں ان میں شامل نہیں کرتے بعض ائمہ نے کہا ہے میرے نزدیک امام بخاری کی اسے کو ترجیح ہے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ نَبِيِّ إِسْرَائِيلَ زَيْدًا

کہنے میں کہ بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی نے بنی اسرائیل کے ایک دوسرے شخص سے دعا مانگی کہ اسے

الْفِدْيَةَ تَارِقًا فَصَبَأَ الْيَهُودَ فِي النَّهْرِ فَامْتَدَّ بِرِجْلَيْهِمَا فَخَذَ خَشَبَةً فَفَرَّهَا فَأَخَذَ فِيهَا

ایک ہزار اشرفیاں (نصیب) سے تو اس نے وہ اسے دیلیں پھر عرض کیے وہاں سے نہ گریا اور نہ رونا اور نہ اسے دعا مانگی کہ اسے

الْفِدْيَةَ تَارِقًا فَصَبَأَ الْيَهُودَ فِي النَّهْرِ فَامْتَدَّ بِرِجْلَيْهِمَا فَخَذَ خَشَبَةً فَخَذَهَا

لیکے کہ یہ اور اشرفیاں اس میں پھریں اور اسے نہ دیں پھر کہا جس نے اسے فرزند یا تھا وہ نکلا اور کڑی دیکھی تو اسے اپنے گھروں

لِأَهْلِ بَحْتَبَا فذَكَرَ الْحَدِيثَ فَاتَمَّتْ سَهْرًا وَجَدَ لِمَا لَكَ (۶۶) بَابُ فِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ وَ

کے لئے اپنے گھر کے لئے لیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پیرا لڑنا مل گیا پاپا باب رکاز میں پانچواں حصہ ہے

قَالَ يَا لَيْلَى ابْنُ أَدْرِيسَ الرِّكَازُ فَنَ الْجَاهِلِيَّةِ فِي قَلِيلٍ وَكثيراً الْخُمْسُ وَليسَ الْغَدِيدُ رِكَازًا

اور امام مالک اور ابن ادریس کہتے ہیں رکاز جاہلیت کا نواہ ہے وہ تقریباً ہی جاہلیت سے پہلے ہی رکاز نہیں ہے اور

قَدْ قَالَ لَيْسَ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْغَدِيدُ جِبَارٌ فِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ وَالْخُدَّاءُ مِنْ عِبَادِ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غدید نہیں ہے رکاز جاہلیت کا نواہ ہے اور عمر بن عبد العزیز

الغَيْرِ مِنَ الْمَغَارِينَ هُوَ كُلُّ مَا تَمَّيَّنَ خُمْسًا وَقَالَ الْحَسَنُ مَا كَانَ مِنْ رِكَازٍ فِي الْأَرْضِ أَحَبَّ

نے کہا کہ ہر دوسرے پانچ حصہ میں سے ایک حصہ ہے اور حسن کہتے ہیں جو رکاز دار کو سب میں جو

فِيهِ الْخُمْسُ وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ اسَلَّمَ فَبَيْعَةُ الزَّكَاةِ وَإِنْ وَجَدَتْ لِقِطَّةٍ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ

اس میں پانچواں حصہ ہے اور وسیع کی زمین میں جو تو اس میں زکوٰۃ ہے اور اگر زمین دشمن کی زمین میں پائی جاتی ہے تو

فَعِزُّهَا فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَدُوِّ فِيهَا الْخُمْسُ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ الْمَعْدِنُ رِكَازٌ

وہ جس کی پیمانی کرنا اور دشمن کا ہو تو اس میں پانچواں حصہ ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کان بھی جاہلیت کے

مِثْلُ دَرَقِينَ الْجَاهِلِيَّةِ لَقَدْ يُقَالُ أَرَزْنَا الْمَعْدِنَ إِذَا أَمْرَجْنَا مِنْهُ شَيْءٌ قِيلَ لَهُ فَقَدْ

معدن کو زکوٰۃ کی طرح رکاز ہے اس لئے کہ وہ کان کا ہے اور اگر کان میں سے کسی شے کو نکالا جائے تو وہ بھی

يُقَالُ لِمَنْ وَهَبَ لَهُ الشَّيْءُ أَوْ بَخَّرَ رِجْلَيْهِمَا أَوْ لَمْرَمَرَةً أَرَزْنَا ثُمَّ نَاقَضُوا وَقَالَ

کہ جیسے شخص کو کوئی چیز ہبہ کی جائے یا وہ ہبت لقمہ کمانے یا اس کا بیوہ ہبت لقمہ تو اسے بھی اڑکتا کہا جاتا ہے پھر اپنے قول کے خلاف

لَا يَأْسُرُنَّ يَكْتُمُهُ وَلَا يُؤَدِّي الْخُمْسَ (۴۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

کہا کہ اسے چھپانا اور پانچواں حصہ مانگنا نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَمْعُ مَاءٌ جِبَارٌ وَالْيَهُودُ جِبَارٌ فِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

فرمایا جو نواہ معاف ہے کسواں معاف ہے کان معاف ہے اور رکاز میں پانچواں حصہ ہے

بَابُ تَقْوِيلِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَحَسَبَةُ الْمُصَدِّقِينَ مَعَ الْأَمَاوِيَّةِ

باب اللہ تعالیٰ کا فرمان اور عاملوں کو زکوٰۃ سے دیا جاوے گا (التوبہ ۶۱) اور زکوٰۃ وصول کرنا اور امام کو حساب دینا

اس فقرے سے پہلے
تزوید کوئی کسے عارض
کے نکلنے کے لئے ہر ایک
کا خیال غالباً ہوگا
کہ اس شخص نے سمجھا
کی جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے قصہ میں کہتا ہے
اس سے مال نکلا اور
طرح ہوئی جو عذر و وجہ
سے نکلے جو ہر شخص
سے اس پر قبضہ کر
سکتا ہے
معدن کا ذکر انشراح
ابن ادریس سے پہلے لکھا
وہ معدن اور قبضہ
دونوں کو شامل کرتے
ہیں لیس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دونوں کو شامل کیجیے
امام بخاری کی روایت میں
کہ یہ معلوم ہے کہ کان
معدن سے لیا جائے تو
نہیں ہے لیس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی تصریح میں ہے
دینار اور کان بھی لکھا
اور قبضہ کا مذہب ہے
ایک ہی حصہ میں ہے
معدن سے لیا گیا
انسان سے لیا گیا
کہ لڑنے والے کو
شاہین سے لیا گیا
ابو ہریرہ سے لیا گیا
نواہ اور حصہ نہیں
کہ رکاز کا حصہ ہے
جب کا حصہ لیا گیا
جو نواہ سے لیا گیا
نواہ کے عوض میں
وہ حصہ لیا گیا
کہ نواہ سے لیا گیا

۲۴ بابوں کو ابو ہریرہ نے یا کسی اور آدمی نے اکٹھا کر دیا ہے۔

اس سے منکر ہوا
 کہ شیخوں میں سے
 کسی کو تو روئے
 کا نظام کیا گیا ہے
 اس حساب لینے کا
 نظام صحیح ضروری
 ہے۔
 علیٰ مکر روایت میں
 قدرے اختصار اور
 اتقان نظر ہے۔
 ابن اثنا میں عربیہ
 اجزؤ المدینۃ
 فرخصہم رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم ان یا قوا انزل
 الصلواتہ فیکثیرا
 من لیلانہا وایوالہا
 فقلوا الراعی و
 استغفر الذنوب
 لہا رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم
 فان ہم فظفروا
 ہا وجاہہم ووسر
 اعلیٰہم وقرکھم
 بالحقۃ یعفون
 الحجارة۔ حدیث
 میں ہرگز ذکر ہے
 کہ صدقہ کے دنوں
 کا دودھ پینے کی
 اجازت ہی ایسی ہے
 سواری کیلئے استعمال
 کی اجازت تھیں
 کہنی ہے۔
 سلطان مہاراجہ
 بیچ لال سنگھ
 کا ہوا اور محافظ
 ہے۔ اس کے وقت
 ستان میں کھڑے ہوئے
 نشان لگا کر زکوٰۃ
 میں ان کے اشارے
 کیلئے بعض نے صوبہ
 کا اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ نشان لفظ زکوٰۃ یا صدقہ اس کا عام طور پر کاروں کو داغ دینے کی نشانی ہے۔ مگر استشارہ فقیر کے باقی امت صدقہ نظر کی فرضیت کی قائل ہے۔
 شہادت سے واجب کہتے ہیں صدقہ نظر کی فرضیت بھی احادیث فقیر سے ہے۔ وہی کہ روایت کے الفاظ میں: ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکوٰۃ الفطر صاعاً من تمر
 و صاعاً من شعیر علی کل حر و عبد ذکرا و انثی من المسلمین۔ اس کے لفظ میں لکھا نظر ہے۔ لفظ صاعاً من شہداء کے الفاظ میں لکھا
 یعنی فرض زکوٰۃ الفطر صاعاً من طعام و صاعاً من شعیر و صاعاً من تمر و صاعاً من اقط و صاعاً من خبیب طعام سے مراد کوئی فلفلہ اور
 اقلکیر ہے اور خبیب کنہش۔

(۸۰) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا

قَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى صَدَقَاتٍ نَبِيٍّ سَلِيمٍ زَكَاةً كَمَا تَحْتَسِبُ أَوْ نَابَا لَوْ كُنَّ مِنْ النَّبِيِّ كُنْتُمْ تَجْرِبُوهُ وَإِلَّا نَابَا لَوْ كُنَّ مِنْ النَّبِيِّ كُنْتُمْ تَجْرِبُوهُ وَإِلَّا نَابَا لَوْ كُنَّ مِنْ النَّبِيِّ كُنْتُمْ تَجْرِبُوهُ

بَابُ ۶۷۹ (مكرر - ۱۸۶) اسْتَعْمَالَ بِلِ الصَّدَقَةِ وَالْبَايَةَ الْأَيْمَانَ السَّبِيلِ (م- ۶۰۲) عَنْ أَنَسِ (مكرر - ۱۸۶)

بَابُ ۶۷۹ (مكرر - ۱۸۶) اسْتَعْمَالَ بِلِ الصَّدَقَةِ وَالْبَايَةَ الْأَيْمَانَ السَّبِيلِ (م- ۶۰۲) عَنْ أَنَسِ (مكرر - ۱۸۶)

عَدَاوَتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيَمِيكَهُ

فَوَافِيَتُهُ فِي يَدِ الْوَيْسَمِ يَسِيمِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ

بَابُ ۶۸۰ (مكرر - ۱۸۶) اسْتَعْمَالَ بِلِ الصَّدَقَةِ وَالْبَايَةَ الْأَيْمَانَ السَّبِيلِ (م- ۶۰۲) عَنْ أَنَسِ (مكرر - ۱۸۶)

بَابُ ۶۸۰ (مكرر - ۱۸۶) اسْتَعْمَالَ بِلِ الصَّدَقَةِ وَالْبَايَةَ الْأَيْمَانَ السَّبِيلِ (م- ۶۰۲) عَنْ أَنَسِ (مكرر - ۱۸۶)

بَابُ ۶۸۰ (مكرر - ۱۸۶) اسْتَعْمَالَ بِلِ الصَّدَقَةِ وَالْبَايَةَ الْأَيْمَانَ السَّبِيلِ (م- ۶۰۲) عَنْ أَنَسِ (مكرر - ۱۸۶)

بَابُ ۶۸۰ (مكرر - ۱۸۶) اسْتَعْمَالَ بِلِ الصَّدَقَةِ وَالْبَايَةَ الْأَيْمَانَ السَّبِيلِ (م- ۶۰۲) عَنْ أَنَسِ (مكرر - ۱۸۶)

بَابُ ۶۸۰ (مكرر - ۱۸۶) اسْتَعْمَالَ بِلِ الصَّدَقَةِ وَالْبَايَةَ الْأَيْمَانَ السَّبِيلِ (م- ۶۰۲) عَنْ أَنَسِ (مكرر - ۱۸۶)

بَابُ ۶۸۰ (مكرر - ۱۸۶) اسْتَعْمَالَ بِلِ الصَّدَقَةِ وَالْبَايَةَ الْأَيْمَانَ السَّبِيلِ (م- ۶۰۲) عَنْ أَنَسِ (مكرر - ۱۸۶)

بَابُ ۶۸۰ (مكرر - ۱۸۶) اسْتَعْمَالَ بِلِ الصَّدَقَةِ وَالْبَايَةَ الْأَيْمَانَ السَّبِيلِ (م- ۶۰۲) عَنْ أَنَسِ (مكرر - ۱۸۶)

بَابُ ۶۸۰ (مكرر - ۱۸۶) اسْتَعْمَالَ بِلِ الصَّدَقَةِ وَالْبَايَةَ الْأَيْمَانَ السَّبِيلِ (م- ۶۰۲) عَنْ أَنَسِ (مكرر - ۱۸۶)

بَابُ ۶۸۰ (مكرر - ۱۸۶) اسْتَعْمَالَ بِلِ الصَّدَقَةِ وَالْبَايَةَ الْأَيْمَانَ السَّبِيلِ (م- ۶۰۲) عَنْ أَنَسِ (مكرر - ۱۸۶)

بَابُ ۶۸۰ (مكرر - ۱۸۶) اسْتَعْمَالَ بِلِ الصَّدَقَةِ وَالْبَايَةَ الْأَيْمَانَ السَّبِيلِ (م- ۶۰۲) عَنْ أَنَسِ (مكرر - ۱۸۶)

بَابُ ۶۸۰ (مكرر - ۱۸۶) اسْتَعْمَالَ بِلِ الصَّدَقَةِ وَالْبَايَةَ الْأَيْمَانَ السَّبِيلِ (م- ۶۰۲) عَنْ أَنَسِ (مكرر - ۱۸۶)

بَابُ ۶۸۰ (مكرر - ۱۸۶) اسْتَعْمَالَ بِلِ الصَّدَقَةِ وَالْبَايَةَ الْأَيْمَانَ السَّبِيلِ (م- ۶۰۲) عَنْ أَنَسِ (مكرر - ۱۸۶)

۷۰۵- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمْرٍ مَتَكَرَهُ - (۸۰/۷۰) بَابُ صَاعٍ مِنْ زَبَدٍ

دیکھو حدیث نمبر ۸۱۰-۸۱۱ بَابُ صَاعٍ مِنْ زَبَدٍ

۸۰۷- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَمَّا فَطِرَ مَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ اہم یہ (صدقہ نظر) نبی کریم صلعم کے زمانہ میں

صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبَدٍ فَلَمَّا

ایک صاع یا ایک صاع اور جو کہ ایک صاع اور شمشیر کا ایک صاع دیا کرتے تھے پھر جب

جَاءَ مُعَاوِيَةُ جَاءَتْ التَّمْرَةُ قَالَ زَيْدٌ الْمُرِّيُّ لَيْسَ فِيهَا إِلَّا زَبَدٌ

حضرت معاویہ آئے اور کھجور کی آمدنی ہوئی تو کہنے لگے کہ میں سمجھتا ہوں اس کا ایک صاع ایک صاع ہے اور نہ اس کا ایک صاع ایک صاع ہے

قَبْلَ الْعِيدِ - (۸۰/۹) عَنْ ابْنِ حَمْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكْوَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ

سے پہلے صدقہ دینا ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلعم نے حکم دیا کہ صدقہ فطری کو ان لوگوں کے ہاں

خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ - (۸۰/۶) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مَتَكَرَهُ - (۸۰/۸)

کے لئے نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے دیکھو حدیث نمبر ۸۰۷-۸۰۸

۷۱۰- بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْمَمْلُوكِ لِلتَّجَارَةِ

باب صدقہ نظر کا آزاد اور غلام پر واجب ہونا اور زہری نے تجارت کے غلام کو بھی اس کے متعلق کہا ہے

بُذِيَ فِي التَّجَارَةِ وَنَسِيَ فِي الْفِطْرِ - (۸۱/۱) عَنْ ابْنِ حَمْرٍ قَالَ فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کراہت کی زکوٰۃ بھی دینا چاہئے اور اسی طرح سے صدقہ فطری بھی دینا چاہئے ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلعم نے

صَدَقَةَ الْفِطْرِ أَوْ قَالَ رَمَضَانَ عَلَى الْبُرِّ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

صدقہ نظر یا (صدقہ رمضان) مرد اور عورت آزاد اور غلام پر فرض کیا ایک صاع کھجور کا دینا

أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِبَعْضٍ صَاعٍ مِنْ زَبَدٍ فَمَنْ كَانَ مِنْ تَمْرٍ لَيْسَ فِيهَا إِلَّا زَبَدٌ

ایک صاع جو کہ تو لوگوں نے اس کے ساتھ کھجور کا ایک صاع بدل کر دیا پس ابن عمر جو روایت دیا کرتے تھے جب

أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ الْمُرَّةِ فَاطَعُوا فَعِيدًا وَقَالَ ابْنُ حَمْرٍ يَطْعُ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى

مدینہ والوں کو کھجور رکھ لینے لگی تو جو کہ ایک صاع دیتے تھے اور ابن عمر جو کہنے اور بڑے کی طرف سے دیا کرتے تھے یہاں

إِنْ كَانَ لِيَطْعُ عَنْ بَنِي دَوْكَانَ ابْنِ حَمْرٍ فَطَعُهَا الَّذِينَ لَقُوا حَمْرًا وَكَانُوا يَطْعُونَ قَبْلَ

تک کہ کہیں بیٹوں کی طرف سے دیا کرتے تھے اور ابن عمر انہیں دیا کرتے تھے جو اسے قبول کرتے اور جو نظر سے ان کے پاس

الْفِطْرِ بِحَمْرٍ أَوْ يَوْمِيْنَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بَنِي تَيْمِيٍّ نَافِعٌ قَالَ كَانُوا يَطْعُونَ الْفِطْرَ لَا

یا دو دن پہلے لوگ دیا کرتے تھے ابو عبد اللہ کہتے ہیں بنی تميمی نافع کے بیٹے کا اٹھا کر نے کیلئے دیا کرتے تھے بغیر ان کے

لِلْفَقْرِ - (۸۱/۲) بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَقَالَ أَبُو حَمْرٍ وَوَرَى هَمْرٌ عَلَى كِي

لے نہیں دے باب صدقہ نظر جو کہے اور بڑے پر واجب ہوتا اور حضرت عمر اور حضرت علی اور

۱۰۱- علی بیان الفاظ ہیں کہ
 ۱۰۲- قال ابن عباس صلعم
 ۱۰۳- بؤذاة الفطر صاعا
 ۱۰۴- من تاجر او صاعا من
 ۱۰۵- شعيرة قال ابن عباس
 ۱۰۶- جعل الناس عدلها
 ۱۰۷- مدفن من حنطة
 ۱۰۸- يعني ان في ذابك
 ۱۰۹- صاع كخبر او كخبر
 ۱۱۰- ذابك من يروى وكذا
 ۱۱۱- في انك غنم وود
 ۱۱۲- كرم من كرم
 ۱۱۳- كرمه او كرمه
 ۱۱۴- من كرمه كرمه
 ۱۱۵- في انك كرمه
 ۱۱۶- في انك كرمه
 ۱۱۷- في انك كرمه
 ۱۱۸- في انك كرمه
 ۱۱۹- في انك كرمه
 ۱۲۰- في انك كرمه

جسے امام صدقہ نظر کے اٹھا کر نے کیلئے مقرر کرتے دیتے اور اپنے طور سے صحابوں کو نہیں دیتے تھے۔ موطا میں نافع سے روایت ہے کہ ابن عباس نے

فقہ ص ۳۵۲
 حضرت ابن عمر سے
 ظراس کے پاس بھیجے
 جس کے پاس صحیح بخاری
 بخاری کتابوں کا ترجمہ
 باب اذان داخل اجلا
 فتوح لوکل میں ہے
 وکلتی رسول اللہ
 صلح مخطوۃ کا
 رمضان۔ اس سے
 معلوم ہوا کہ نبی کریم کے
 زمانہ میں اور بعد میں
 بھی صدقہ ظن کی وصولی
 کا انتظام نہ کیے گئے تھے
 ایک نظام کے تحت
 تھا اور اسی نظام کے
 ماتحت وہ مختاروں
 میں تقسیم ہوا تھا اس
 نظام کے آج دوبارہ
 قائم کرنی ضرورت ہے

علاوہ ارمینون
 بھی حکومت یا نظام
 سے اسی طرح فائدہ
 اٹھانے میں جس طرح
 وہ ہے اس لئے
 حکومت یا نظام کے
 قائم کیے گئے ہیں
 اخراجات کی ضرورت
 ہے اس میں بھی اس
 سے لینا چاہیے
 اس کے لفظ میں
 خرفن رسول اللہ
 صلح مخطوۃ القطر
 صلح مخطوۃ قطر
 صلح مخطوۃ قطر
 من عمل الصغیر
 والکیب والحق المملوک
 حدیث میں
 نبی اسلام علیہ السلام
 کی حدیث میں تفسیر
 کے لئے جو صحیح ہے
 ہے جو کوفہ کے بعد

ابن عمر وجابر وعائشہ وطاہر وس عطاء و ابوسید بن ان یزیدی مال لیتهم وقال
 ابن عمر اور جابر اور عائشہ اور طاہر وس عطاء اور ابوسید بن ان یزیدی کے مال سے زکوٰۃ دینا چاہئے

الزہری یزیدی مال الجنون (م- ۶۰۷) عن ابن عمر متکرر (۸۱۰)
 اور زہری کہتے ہیں جنون کے مال سے زکوٰۃ لیجائے علی دیکھو حدیث نمبر ۸۱۰ علی

بسم اللہ الرحمن الرحیم
 اللہ ہے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے

کتاب المناسک

اعمال حج کی کتاب

باب وجوب الحج وفضلہ قول اللہ تعالیٰ علی الناس حج البیت من استطاع
 باب حج کی فرضیت علی اور اس کی فضیلت اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد اور اس کیلئے اس کو حج کرنا اور لوگوں کو اس پر بھیجا ہوا ہے

الیہ سبیلہ ومن لقرآن اللہ غنی عن العالمین (۸۱۱) عن عبد اللہ بن عباس قال
 لہ کی طاقت رکھتے ہیں اور جو کفر کرے تو اللہ جہانوں سے بے نیاز ہے (آل عمران ۹۶) عبد اللہ بن عباس سے روایت ہے

کان افضل ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحجاءت امرأة من حشم فحجعت
 کہ افضل رسول اللہ صلعم کے ہونے سے تو قبیلہ حشم کی ایک عورت آئی تو افضل اس

الفضل یظن الیہا ونظر الیہ وجعل الکی صلی اللہ علیہ وسلم یصرف وجهه لفضل
 کی طرف دیکھنے لگے اور اس کی طرف دیکھنے لگی اور نبی صلعم فضل کا منہ (بار بار)

الی الشیق الآخر فقالت یا رسول اللہ ان فریضۃ اللہ علی عبادہ فی الحج
 دوسری طرف بھرتے تھے عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کے بندوں پر جو حج کا فرض ہے اس نے

ادرت فی شیق الید الی الیثت علی الراجلہ افا حج عنہ قال نعم وذلك فی حجة
 میرے باپ کو ایسی حالت میں پایا ہے کہ وہ ہت پر ہوا ہے سواری پر قائم نہیں سکا اور کیا میں اس کو اس وقت حج کرے تو وہ حج کا فرض ہے

او ذاع (۸۱۲) باب قول اللہ تعالیٰ لولا ان رکعوا لکل صامر ثلثین من کل فترہ
 حج وادع میں تھا باب اللہ تعالیٰ کا ارشاد دور دراز راستوں سے لوگ تیرے پاس بیٹھ لیں اور وہ بی سواریوں پر تھیں گے

عینی لیشہد انما فرح لهم بحجنا اطرف الواسعة (۸۱۳) عن ابن عمر قال
 تاکر اپنے فائدے کے کاموں میں حاضر ہو جائیں اور ان کے چہرے کا شاد رہنے میں ابن عمر سے روایت ہے کہا

رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرکب را حلتہ یذی حلیفہ تمھل
 میں نے رسول اللہ صلعم کو دیکھا اپنی اونٹنی پر ذوالحلیفہ میں سواری ہونے سے پہلے یہی

حین تستوی قائمہ (م- ۶۰۸) عن جابر متکرر (۸۱۴) باب ما یحیی علی الرجل
 کھڑی ہو کر تو ڈھیر لگ کر رہے دیکھو حدیث نمبر ۸۱۴ باب پالان بگھوڑوں کو کھانے کرنا

ہے اسی ترتیب میں کتاب میں حج زکوٰۃ کے بعد جو فریضہ مناسک کی حج ہو اور اس کے بعد عبادت باطن عبادت میں اور عمل
 حج کی مشورہ دینا کہ تفسیر لفظ لکھا اور حج اسلام سے پہلے بھی تھا لیکن مناسک حج مساک کے ساتھ بتوں کیلئے اور کھانے کے لئے اور کچھ زمانہ میں بھی مشرکوں میں سے تھا کہ
 رکھی تھیں اسلام نے حج قائم رکھا اور مشرک کی سواری باؤں سے اسے پاؤں صاف کر دیا۔ علی حج میں بیارت کے قصد کو کہا جاتا اور وہ بی ضرورت میں بیت اللہ کی زیارت کے
 قصد سے مخصوص ہے۔ امام بخاری نے حج کی فرضیت کی اصل پر کیا تفریق ہے اور علی الناس سے اس کی فرضیت کا استدلال کیا ہے وہ عیب سے ماوراء من حج کی فرضیت کو ظاہر کرتا ہے
 ہے نیز تفسیر اللہ اور ذاع کا ہو کر اس کی مطلب میں حج کی فرضیت سے حج کی فرضیت کا منشا ہے اور تفسیر اللہ اور ذاع کا حج کا تفسیر اس پر ہے اور وہ بہت دور ہے اور علی مطلب کے ہو کر
 سے ہو سکے حج کے لئے آنا ہے سواری کر کے میں بھیجا رہا نہیں۔ ذوالحلیفہ میں سواریوں کے ذمہ میں ظاہر کیا کہ وہ بہت دور سے سفر کر کے آئے ہیں۔ جسے یہاں لفظ یہاں اذلال
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی حلیفہ حین استوت بلہ راحلتہ :-

مَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَثَرِيحٌ أَشْأَتْ حَتَّىٰ أَهْلُ فَكَةٍ مِنْ مَكَّةَ (۸) بَابُ

عمل احرام و حرم کے
میں متغیر و کفایت اور

حِمْيَاةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَلَا يَهْلُو قَبْلَ ذِي الْحَلْفَةِ (م- ۶۱۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

احرام او قربوں سے
اپنے ایک اور مکان میں جن
سے شریعت صحیح میں

مدینہ والوں کی حقیقت وہ ذوالحلیفہ سے پہلے احرام نہ باندھیں

(متکرم- ۱۱۴) بَابُ أَهْلِ الشَّامِ (م- ۶۱۳) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکرم-)

داخل ہونے کے لئے روکا
ہے اور اس کے لئے
معمولی لباس ناکر کہ

دیکھو حدیث نمبر ۱۱۴ بَابُ أَهْلِ الشَّامِ دالوں کے احرام کی جگہ

خاص لباس پہننا چاہنا

(۸۱۶) بَابُ أَهْلِ بَيْحَدٍ (م- ۶۱۴) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (متکرم- ۱۱۴) (۱۱)

پہننا کا اور عورتیں
اور ۱۷ میں بھی گن کر

۸۱۶ بَابُ أَهْلِ بَيْحَدٍ دالوں کے احرام کی جگہ

یوگا ہو نہ درستان کے
لوگ جب پہن از میں

بَابُ أَهْلِ بَيْحَدٍ (م- ۶۱۵) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکرم- ۸۱۶)

لباس پہننے کے ساتھ

دیکھو حدیث نمبر ۸۱۶ بَابُ

اسے احرام باندھتے
ہیں ۱۷

ذَاتِ عَرَفَةَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ (م- ۸۱۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا فَتَحْنَا هَذَا الْمِصْرَانَ

۱۱۷ مہضون کا تقاضا

عزیزوں کے لئے ذات عرف احرام کی جگہ ہے

عَدَاةَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکرم- ۸۱۶)

کے ساتھ دو بیابان

بَابُ أَهْلِ بَيْحَدٍ (م- ۶۱۶) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکرم- ۸۱۶)

ی شروع سے بیق سوال

بَابُ أَهْلِ بَيْحَدٍ (م- ۶۱۶) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکرم- ۸۱۶)

۱۷ میں جو وہ اسباب

دیکھو حدیث نمبر ۸۱۶ بَابُ

نہیں یہاں ان میں

بَابُ أَهْلِ بَيْحَدٍ (م- ۶۱۶) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکرم- ۸۱۶)

بڑھو سے اکثر

بَابُ أَهْلِ بَيْحَدٍ (م- ۶۱۶) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکرم- ۸۱۶)

کے کی عبارت کی جگہ

بَابُ أَهْلِ بَيْحَدٍ (م- ۶۱۶) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکرم- ۸۱۶)

یہاں یہ لفظ ظاہر و

بَابُ أَهْلِ بَيْحَدٍ (م- ۶۱۶) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکرم- ۸۱۶)

مبتغی ان رسول اللہ

بَابُ أَهْلِ بَيْحَدٍ (م- ۶۱۶) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکرم- ۸۱۶)

صلحہ قال دیہل

بَابُ أَهْلِ بَيْحَدٍ (م- ۶۱۶) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکرم- ۸۱۶)

اصلی المیمن من بیہام

بَابُ أَهْلِ بَيْحَدٍ (م- ۶۱۶) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکرم- ۸۱۶)

یعنی یہ فقرہ کہ میں نے

بَابُ أَهْلِ بَيْحَدٍ (م- ۶۱۶) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکرم- ۸۱۶)

بیہام سے احرام باندھیں

بَابُ أَهْلِ بَيْحَدٍ (م- ۶۱۶) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکرم- ۸۱۶)

میں نے خود حضرت

بَابُ أَهْلِ بَيْحَدٍ (م- ۶۱۶) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکرم- ۸۱۶)

سے نہیں سنا اور وہ

بَابُ أَهْلِ بَيْحَدٍ (م- ۶۱۶) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکرم- ۸۱۶)

اخری جہلیں میں حنیف اشیا کی جگہ کی ہوا ہے اور اس میں ایسے گھر سے احرام باندھ سے...
شام دالوں کے احرام کی جگہ...
اور کہ فریہ و ذوق عراق کے...
مقام پر نہیں گزرتا تو یہ مقام...
کہ جائے کی منزلوں کا ذکر ہے...
لفظ یہ ہیں: ان رسول اللہ صلعم کان...
اذا رجع صلی بنی الحلیفۃ...
کہہ جائے اور عرض کی راہ سے

مَنْ رَأَى قَعَالَ صَلَّ فِي هَذَا الْوَادِي الْبَارِكِ وَقَالَ عُمَرَةُ فِي حَجَّةِ (۱۹) عَنْ

آیا اور اس کے بعد وہی نماز پڑھے اور کعبہ کے چاروں طرف میں شامل ہو گیا علی
عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ أَرَى وَهُوَ فِي مَعْرَسٍ بِوَادِي
عبداللہ ابن عمر سے ہی مسلم سے روایت کی کہ آپ نے خواب میں دیکھا اور آپ ذوالحلیفہ

الْحَلِيفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي قِيلَ لَهُ إِنَّكَ بَطِيخَاءُ مُبَارَكَةٍ وَقَدْ آخَرْنَا سَالِمٌ
میں نے اس کے شبہ میں اس کے چہرے میں آئے ہوئے تھے آپ سے کہا گیا کہ آپ بکرت کے لئے میدان میں ہیں اور سالیہ نے ہمیں بھی

يَتَوَخَّى الْمُنَاخَ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَتَوَخَّى بِحَجْرَةٍ مَعْرَسٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
(دو ہیں) حجیر ابراہیم اس مقام کو تلاش کرتے تھے جہاں عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے چھوٹے چھوٹے مقامات پر نزل کرتے اور ان کو تلاش کرتے تھے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَتَمَّلُ مِنَ الْمُشْعِمِ الَّذِي بَطْنِ الْوَادِي بَيْنَهُمْ وَيَبِينُ الطَّرِيقَ
اور وہ اس مسجد سے جو وادی کے شبہ میں ہے صحیح ہے ان راتوں کے (اول) اور راتوں کے

وَسَطُ مِنْ ذَلِكَ رَمَاهُ بَابُ غَسِيلِ الْخَلْقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنَ التِّيَابِ (۸۲۰)
کے ٹھیک وسط میں باب کپڑوں سے خوشبو کا تینوں مرتبہ دھونا

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى أَنَّ يَعْلَى قَالَ لِعُمَرَ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ
صفوان بن یعلیٰ سے روایت کی یعلیٰ نے حضرت عمر سے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آتی تو

يُوحَى إِلَيْهِ قَالَ فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ مِنْ بَعْضِ الْأَمْثَالِ
بجھ دکھاؤ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آتی تو وہ اپنے گھر سے باہر نکلتے اور وہ خوشبو لگاتے

جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بَعْرَةَ وَهُوَ مُتَضَرِّعٌ
انے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ عمر سے اس پر اہرام باندھے اور وہ متضرع ہو

يَطْلُبُ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً جَاءَهُ الْوَحْيُ فَأَشَارَ إِلَى يَعْلَى
سے پھر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھڑی خاموش رہے پھر آپ پر وحی آئی تو حضرت عمر نے یعلیٰ کی طرف اشارہ

فَجَاءَ يَعْلَى وَعَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوْبٌ فَلَا طَالَ بِهِ فَأَدْخَلَ مَرَسَةً فَأَذَا
کہا یعلیٰ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تپا تھا وہ آپ کو آڑھیا گیا تھا یعلیٰ نے اپنا سر اندر کر دیا تو

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْرًا لَوْجُهُ هُوَ يَغِيظُ لَمْ يَسْرِ عَنْهُ فَقَالَ ابْنُ الدُّنْيِ
دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے حرام سے ہے یہ ہیں پھر یہ حالت جاتی رہی اور فرمایا جس نے عمر سے کہ

سَأَلَ عَنِ الْعَمْرَةَ فَأَبَى بِرَجُلٍ فَقَالَ اغْسِلِ الطَّرِيقَ الَّذِي بَيْنَكَ تِلْكَ تَرَاتِبًا نَزَعَ عَنَّا
پاسے میں پوچھا تھا کہاں ہے وہ بلایا گیا فرمایا جو خوشبو لگتی ہے اس کو تینوں بار دھو ڈالو اور حجیر اتار دو اور

الْجَبَّةَ وَأَصْنَعْ فِي مَرَاتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي مَرَاتِكَ فَقُلْتَ لِعَطَاءٍ أَرَادَ التَّقَامُ حِينَ
جس طرح اپنے جبین کرتے ہو اسی طرح اپنے عمر سے میں بھی کرو میں نے عطاء سے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج سے

أَمْرًا أَنْ يَغْسِلَ فَكُلَّتْ مَرَاتٍ فَقَالَ لِعُمَرَ (۸۱۸) بَابُ الطَّيِّبِ عَبْدِ الْأَحْرَمِ وَمَا لَيْسَ
جہاں سے حکم دیا کہ تین بار دھو ڈال کہاں باب ایہ احرام باندھنے کے وقت خوشبو لگانا

إِذَا أَرَادَ أَنْ يَحْرِمَ وَيَتَرَجَّلَ وَيَلْبَسُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَيْسَ بِمُحْرِمٍ الرَّجُلَانِ وَيُنْظَرُ
ہو یا احرام باندھنے کا ارادہ کرے تو ایسا ہی ہے جو حکم دیا کہ اگر وہ احرام باندھنے کے وقت خوشبو لگائے اور نہ لگائے اور نہ لگائے

فِي الْمُرَاةِ وَيَتَنَاوَى مَا يَأْكُلُ الرَّبِيَّةَ وَالسَّمْنَ فَقَالَ عَطَاءٌ لَيْسَ بِمُحْرِمٍ
جو کھائے اور کھانے کی چیزوں میں سے کھائے اور کھانے کی چیزوں میں سے کھائے اور کھانے کی چیزوں میں سے کھائے

وادی حنین میں پڑھے
چار میل کے فاصلے پر
بلوغت کے قریب ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
کلی کریموں کی بات
پھر نے تاکہ سب
لوگ جو جانا چاہتے
ساتھ آئیں۔ یہ
خواب کا واقعہ ہے
جیسا کہ حدیث میں
ظاہر ہے
علاء حمران کہہ
طائف کے وہاں
کہ کے قریب ہے
یہاں ہی کہیں رسول اللہ
علیہ وسلم نے مال
نقبت تقسیم کیا اور
یہاں سناپ نے
عمرہ بھی کیا ابواب
العمرہ باب کم عمرہ
النبی صلی اللہ
علیہ وسلم کے وقت
جو کیفیت آپ پر
ظاہر ہوئی تھی اس
کے لئے دیکھو
نوٹ ملے وہاں اس
حدیث سے معلوم ہو
کہ وحی کی وقت
بھی آپ پر وحی
ہوئی تھی
علاء حمران سے
ہوئے خوشبو لگانا
تقسیم کرنا تو لگانا
درست ہے غسل اور
دھونے کے بعد اگر اس کا
اتر جاتی ہے تو بھی
کوئی چیز نہیں لیکن
احرام کی حالت میں
ان چیزوں کا استعمال
نہ کیا جائے

بنا جائے گا احرام
کی حالت میں اپنی
خادموں یا مردوں
کیسے کریں گے
مذکورہ دست نہیں
ان کے نزدیک جائز
اور بیاہ جائے گا ایک
ہی حکم ہے حضرت
عائشہ نے اس سے
ضرورت کے لئے ہاتھ
بچھا ہے
اس کی بیٹیوں
ہوتی ہے کافی ہیں
عمرید بن باریت
خدا کو تہ لا براہیم
فقال ما تضمنت غیرہ
حدیثی کا اسود
عن عائشہ قالت
اس کے بعد اس کے
الفاظ میں سے نہ کہ
ہے کہ تو بتو بول گئی
کہ بعد ہی کہ یہ حکم
یا کچھ ہیں اس کی بیک
دہائی دی تھی اور
آپ احرام میں ہوتے
نظاس کے الفاظ
میں کنت طیب
رسول اللہ صلعم
لا ادرانہ حدیث
وہ کہ قبل ان یطوف
بالیبت یعنی بی بیعت
صلعم کو احرام ہاتھ

وَطَافَ ابْنُ مَرْوَةَ وَهُوَ حُرٌّ وَقَدْ حَرَّمَ عَلَى بَطْنِهِ ثُبُوقًا لَمْ تَرَ عَائِشَةُ بِالتَّبَانِ بَأَمَّا
اور ابن عمر نے ایسی حالت میں طواف کیا کہ اپنے بیٹے کو کپڑے سے باندھا تھا اور حضرت عائشہ جاگتیں کھینچ رہی تھیں
قال ابو عبد الله تعني للذين يدخلون هودجها (م- ۶۱۹) عن سعيد بن جبیر
ابو عبد اللہ (بخاری) کہتے ہیں انکا نشان کیا تھا ہودج ہونگا ہودج اور نہ ہوتے تھے

متكر- (۲۱۱) (م- ۶۲۰) عن عائشة (متكر- ۲۰۹) (۱۹) باب من اهل مكبدا
دیکھو حدیث نمبر ۲۱۱ ع
دیکھو حدیث نمبر ۲۰۹ ع باب جو باؤں کو جا کر احرام باندھے

(۸۲۱) عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اهل مكبدا
عبد اللہ (بن عمر) سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلعم کو سنا
باؤں کو جمانے ہوئے لیک کہتے تھے

باب لا اهل عند مسجد ذي الحليفة (۸۲۲) عن عبد الله بن عمر عن اهل رسول الله
باب ذوالحلیفہ کی مسجد کے پاس لیک کہنا
عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے

صلى الله عليه وسلم قال من عبد الله
کبھی احرام نہیں باندھا کہ مسجد کے پاس سے ہی یعنی مسجد ذوالحلیفہ کی مسجد کے پاس سے ملا باب

لا يلبس المحرم من الثياب (م- ۶۲۱) عن عبد الله بن عمر (متكر- ۱۱۵) باب
محرم کن کن سے کپڑے نہ پہننے
دیکھو حدیث نمبر ۱۱۵ باب

الركوب الا تداخ في الحج (۸۲۳) عن ابن عباس ان اسامة كان حيا فالتقى
حج میں سوار ہونا اور دوسرے کے پیچھے سوار ہونا ابن عباس سے روایت ہے کہ عرفات سے مزدلفہ تک نبی صلعم کے

الله عليه وسلم من عرفته الى المزدلفة ثم ادرى الفضل من المزدلفة الى هنا قال
پھر مزدلفہ سے تھی تک اہل کو پیچھے سوار کیا

فكلاهما قال لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يلبس حتى رمي جمره العقبه (۲۳۳) باب
دو دنوں نے کہا کہ
جمرہ عقبہ کے مارنے تک لیک کہتے رہے باب نمبر

يلبس المحرم من الثياب الا رديه والارز وليست عائشة الثياب المعصرة وهي حرمه
کپڑوں اور جاروں اور تہ بندوں میں سے کن کن سیاہی سے اور حضرت عائشہ نے کسم میں لے کر پھرتے ہوئے اور احرام باندھے جو تھیں

وقالت لا تلثموا ولا يرفعوا ولا يلبسوا ثوبا يورس كذا تخفان قال جابر
اور زانی تھیں کہ عورت ہونے چھپانے نہ تھیں اور مردوں کا اور نہ زعفران والا کپڑا پہننے اور جاہر کہتے ہیں

سے بید بھی ہو شوگان بھی اور جب احرام کھولتے تو اس سے پیشتر یعنی آخری طواف یا طواف زیارت سے پیشتر بھی باندھا آپ کے احرام لیک
پکارتے سے اور علاء ۲۷۸ میں آتا ہے کہ یہاں پر ہودج اور حلیفہ سے آئے ہے یہی کہ احرام باندھا علاء ۱۱۵ و ۲۰۸ میں ہے کہ جب ذوالحلیفہ میں سوار ہو تو ہوجھ گئے
تو احرام باندھا اس حدیث میں ہے کہ ذوالحلیفہ کی مسجد میں احرام باندھا ہودج اور ہودج ہاکم کی ابن عباس کی روایت سے اس کی تفسیر یوں ہوتی ہے کہ
جب ذوالحلیفہ کی مسجد میں نماز سے فارغ ہوئے تو وہیں بیٹھے ایسے احرام باندھا اور لیکتے کچھ پھر سوار ہو کر اسی طرح بیکار بچھرتے ہیں تو اسی طرح
بیکار اس نے جس مقام پر ایک کالیک باغ سنا اسی کے مطابق روایت کی اور احرام کی لیک آپ نے مسجد میں کھائے فارغ ہوئے تھے یعنی پھلے پکاری
تھے اس میں اس کا ضمیر نفی امتثال کے ساتھ دہر لایا گیا ہے۔ برس (دینی) کے بعد یہاں جمع کے لفظ میں ذوالیبتنس اور انکشاف یہاں زیادہ
ہے یعنی محرم ہونے نہ پہننے غیر میں امام بخاری کا بیان زیادہ ہے قال ابو عبد الله بفضل الحوم راسه ولا يتوكل ولا يحك جسده ويطلق الفقل
من راسه وجسده في الاذن۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ محرم سیاہی اور کپڑا نہ پہننے سیر کچھ کر نہ دھانے کھنوں نہ ڈھانے نہ شو تھو لگا ہوا کپڑا نہ پہننے لیک
اس پر اتفاق ہے کہ شو شو ہائے کپڑے کے علاوہ ماتی کپڑے عورتوں کے لئے منع نہیں اور شو شو کھن کے لئے سارا بدن دکھاننا ضروری ہے اور امام بخاری
نے اس پر فرمایا ہے کہ محرم کبھی نہ کہے اور نہ اپنا جسم کھولے اور عورتوں کو مرد عدیلوں سے نکال کر نہیں رکھتا۔ کھولنے سے منع کرنا اہل علم میں بلکہ اس خیال سے
منع کیا معلوم ہوتا ہے جو پیش ہر نہ جائیں کہ وہاں جنیوم کیلئے اھسا کا سین سکھا گیا ہے۔ علی جیس عورت منہ پر نقاب ڈالے حالانکہ وہ مونی لباس تنم کے ڈھانکتے
کے لئے بر خلاف مردوں کے ہوتی ہے۔ جو صرف دو جاہر وہاں میں لبوس ہوتے ہیں اس سے یہ قطع ہو رہی نہ ثابت ہے کہ عورت کا ہر وہاں دکھاننا قرآن شریف کا حکم نہیں
در نہ جیس اس کو کھلا رکھنے میں اس حکم قرآنی کی صریح مخالفت لازم آتی ہے

(۲۷) بَابُ التَّحْمِيَةِ وَالْتَسْبِيهِ وَالتَّكْبِيرِ قَبْلَ الْاَهْلَالِ عِنْدَ الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ

باب سواری پر سوار ہونے وقت اِحرام باندھنے سے پہلے الحمد للہ سبحان اللہ اللہ اکبر کہنا

(۲۷) عَنْ اَسْبَقِ بْنِ اَسْبَقٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحِينَ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ الظَّهْرُ

اس سے روایت ہے کہ اہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ نے ظہر مدینہ میں

ارْبَعًا وَالْعَصْرَ بِيَدِي الْحُلَيْفَةِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ

چار رکعت اور عصر دو رکعت میں دو رکعت تھی پھر رات والی تھی یہاں تک کہ صبح ہوئی پھر سوار ہوئے جب اونٹنی

بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ حَمْدًا لِلَّهِ وَسُبْحًا وَكَبْرًا لِعَهْلِ النَّاسِ وَمَجْحًا وَعَمْرًا وَأَهْلًا النَّاسِ وَمَجْمًا

بیڈا پر سوچی تو آپ نے الحمد للہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہا پھر حج اور عمرہ کا اِحرام باندھا اور لوگوں نے سبحان دونوں کا

فَمَا قَدَّمْنَا أَمْرَ النَّاسِ فَعَلُوا حَتَّى كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ أَهْلُوا الْحَجَّ قَالَ وَحَرَ

احرام باندھا جب ہم (مکہ) پہنچے آپ نے لوگوں کو حکم دیا انہوں نے احرام کھول کر اِحرام کھول دیا اور لوگوں نے حج کا اِحرام باندھا

الَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَا نَيْتِ بَيْدَاءَ قِيَامًا وَذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے آیتوں کو پڑھا کہ اپنے اپنے گھر سے بخیر کیا

بِالْمَدِينَةِ كَبَشْرَيْنِ أَهْلِكَيْنِ (۲۸) بَابُ مَنْ أَهَلَ حَيْثُ اسْتَوَتْ بِهِ مَرَّحِلَتَهُ

مدینہ میں دو جنگل کے بیٹے کے نام ہیں باب جو اس وقت حرام باندھے کہ اپنی سواری پر پہنچ گیا بیٹھ جائے

(۲۸) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مُتَكَرِّرًا) (۲۹) بَابُ الْاَهْلَالِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

دیکھو حدیث نمبر ۸۷۷۷ باب قبلہ رخ ہونے کا اِحرام باندھنا

(۲۹) عَنْ زَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى الْعِدَّةَ بِيَدِي الْحُلَيْفَةِ أَهَرَّ رَأْسَهُ حَتَّى اسْتَوَتْ

نافع سے روایت ہے کہ جب ابن عمر دو رکعتیں پڑھ کر نماز پڑھ لیتے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتا

ثُمَّ رَكِبَ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَإِنَّمَا يَلْبَسُ حَتَّى يَجْعَلَ اِحْرَامَهُ ثُمَّ يَسُكُّ

جہاں پھر سوار ہوجائے جب تک کہ سیدھی کھڑی ہو جاتی تو کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہوجاتا پھر اِحرام پہنچنے تک لیبیک کہتے پھر چھوڑ دیتے

حَتَّى إِذَا اجَاءَ دَا طَوْمِي بَاتَ يَمْ حَتَّى أَصْبَحَ فَإِذَا صَلَّى الْعِدَّةَ اغْتَسَلَ وَعَمَّ أَنْ

جب ذی طوی پہنچتے قورات وہیں پہنچتے یہاں تک کہ صبح ہوجاتی جب صبح کی نماز پڑھ لینے غسل کر لیتے اور کہتے کہ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ (۳۰) عَنْ زَافِعٍ (مُتَكَرِّرًا) (۳۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے دیکھو حدیث نمبر ۸۷۷۷

(۳۰) بَابُ التَّلْبِيَةِ إِذَا اسْتَوَى الْوَادِي (۳۱) عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ لَنَا عِنْدَ ابْنِ

باب نائے میں اترتے وقت لیبیک کہنا مجاہد سے روایت ہے کہ اہم ابن

عَبَّاسٍ قَدْ ذَكَرُوا أَنَّ جَالَ أَنَّهُ قَالَ مَتَّبِعْتُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَأَنَّهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عِيَّانٍ

عباس کے پاس تھے تو لوگوں نے مجال کا ذکر کیا کہ حضرت نے فرمایا کہ اسکو دو ذوقوں کے گھونٹنے کے درمیان کا فرمایا اس نے کہا تو میں

أَسْمَعُهُ وَلَكِنَّهُ قَالَ أَمَا مَوْسَى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَا اسْتَوَى الْوَادِي بَلِيغِي (۳۲) بَابُ

عباس نے کہا میں نے تو یہ نہیں سنا لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ اگر یاکہ میں موسیٰ کو دیکھتا ہوں تو میں اسے نائے میں تو لیبیک کہتا ہوں باب

حج سے نہیں ہے یہ مدینہ میں قرآن کا ذکر ہے جب کہ اس کے لفظ یہ ہوا اللہ العلیٰ علی اللہ عینہ وسلم حین استوت بہ مرحلتہ قائمہ ۵۵ اس کے لفظ یہیں کان

ابن عمر اذا السواد المشوي ان مكة اذا هون بلهون ليس لهوا احد عليه ثوبان في مسجدي الحليفة فحصل ثم ركبا فاذا استوت به مرحلته قائمته امره وقال هكذا

روایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعل : ۵۷ کا فی کافظ بتانا ہو کر آئے حضرت موسیٰ کو کشف یا دریا میں شامی صورت میں لیکھا حال میں اس وقت دخل کی صورت او

غلبہ کے ساتھ نہیں تھا بلکہ تھوڑا سا منہ سے نکلنے کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی تو اس کے متعلق یہ فرمایا کہ اسکی دونوں گھونٹوں کے درمیان کا فرمایا

لیکھا ہوا ہے یہ بھی کشف کا علم ہے اور کشفات میں اکثر استعارہ کی صورت دکھائی جاتی ہے

طی اس سخاوت
کے فقر و قوت
عمر سے اور ۱۲۲۸
کے فقر و معتاد
بعضوں کا جمیعاً
سے یہ معلوم ہوتا ہے
گڑھی کو وصلے نے
جے اور نہ ہو کہ کھانا
تھا اور شروع سے ہی
دو روز کا احرام باندھا
تھا ۱۲۲۸ میں ہے
دھو کھول بائیں
کا مطلب ہے کہ کہنے
ہم اور حج کا احرام
ساتھ باندھا تو یہ
اور صفا اور وحہ کے
طوائف کے کہ اپنے
حج کے احرام قائم ہو
اور وہ صابہ کی طرح
پھر کسی میں حج کا
احرام دوبارہ نہیں
باندھا
خطی نہیں لوگوں کا
ذکر ہے جن کے پاس
قرآنی نہیں تھی اور
عمرہ کے حالت
احرام سے نکل گئے
تھے یوم الترویہ ذی
الحجہ کی آٹھویں تاریخ
ہو تو یہ سیراب
کرتے تو گنتے ہیں اس
دی حاجی اپنی سواری
کے اونٹوں کو پانی
پلاتے ہیں
۵۵
کا متنیہ ہے المودہ
ہے جو سفید سیلابی
طابو ہو اور وہیں
کفری کرنا کفر حق

كَيْفَ تَهْلِكُ إِلَىٰ الْبُغْيِ وَالنَّفْسَاءِ أَهْلُ نِكَاحِهِ وَأَهْلُ بَيْتِهِ وَأَهْلُ نِكَاحِهِ وَأَهْلُ بَيْتِهِ وَأَهْلُ نِكَاحِهِ وَأَهْلُ بَيْتِهِ

وَأَسْتَهْلِكُ أَمْطَرَ نَسْرَجٍ مِنَ السَّحَابِ مَا أَهْلُ الْغَيْبِ وَاللَّهِ بِهِ هُوَ مِنْ أَسْتَهْلِكُ الْبُغْيِ
مفہوم میں ہیں اور سہل المطر میں نہ بادل سے نکلا اور اہل غیب اللہ ہی ہیں ہلال آواز کا بلند کرنا استعمال ایسی ہی ہے جسے باری تعالیٰ پکارتا ہے

(۱۸۰۸) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (۸۳) بَابُ مَنْ أَهَلَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَيَكُونُ حَدِيثُ الْبُغْيِ ۸۳۱ باب جس نے نبی صلعم کے زمانے میں

وَسَلَّمَ كَأَهْلِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۸۲۹) عَنْ

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا أَنْ رَفِعَ عَلَىٰ أَحْرَامِهِ ذَكَرَ قَوْلَ سِرِّاقٍ وَرَدَّ كَيْفَ بَيْنَ

ہو کر سے روایت ہے کہ جابر بن عبد اللہ نے صلعم سے حضرت علی کو حکم دیا کہ اے احرام پر قائم رہیں اور سیراق کے قول کا ذکر کیا اور فرمایا کرتے

بِكُرْعَانَ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَهْلِي يَا أَهْلِي يَا أَهْلِي يَا

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدِي حُرَامًا كَمَا أَنْتَ (۸۲۹) عَنْ أَبِي

مَالِكٍ (متكرر) ۸۲۵-۸۳۰ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لِعَبْنِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى

قَوْمِي بِالْيَمَنِ فَجِئْتُ وَهُوَ بِالْبَطِينِ وَقَالَ يَا أَهْلِي يَا أَهْلِي يَا أَهْلِي يَا أَهْلِي يَا أَهْلِي يَا أَهْلِي

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ مَرَّكَ مِنْ هَدْيٍ قُلْتَ لَا فَامْرَأَتِي أَنَّ طَوْفَ بَيْتِكَ كَطَوْفِ بَيْتِ

وَبِالضَّفَا وَالْمُرْوَةِ فَاحْلَلْتُ فَأَنْتَ أَمْرًا مَرْوِي مُشْطَبِيَةً وَأَوْحَلْتُ أَمْرِي

فَقَدَّمَ عَمْرٌو فَقَالَ إِنَّ تَأْخُذَ بَيْتِكَ اللَّهُ فَإِنَّ يَأْمُرُ بِالْقَامِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى تَمَّ وَأَجْرُ الْعَبْدِ

لِلَّهِ إِنْ تَأْخُذَ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمْ يَجِبْ حَتَّىٰ تَحْرُمَ الْهَدْيُ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا بَيْتَ إِلَّا لِلَّهِ وَلَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا شَرِيكَ لَهُ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا بَيْتَ إِلَّا لِلَّهِ وَلَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا شَرِيكَ لَهُ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا بَيْتَ إِلَّا لِلَّهِ وَلَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا شَرِيكَ لَهُ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا بَيْتَ إِلَّا لِلَّهِ وَلَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا شَرِيكَ لَهُ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا بَيْتَ إِلَّا لِلَّهِ وَلَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا شَرِيكَ لَهُ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا بَيْتَ إِلَّا لِلَّهِ وَلَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا شَرِيكَ لَهُ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا بَيْتَ إِلَّا لِلَّهِ وَلَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا شَرِيكَ لَهُ

اس کے الفاظ ہیں خیر جماعہ النبی صلعم فی حجة الوداع قائلنا بعمر ثمر قال النبی صلعم من كان معك هدى فلهل بالجموع المرفوع فلهل حتى يصل منها جميعا فقد فكت ذاتها فاضم الملق بالبيت لا بين الصفا والمروة نشكرت لك اني صلعم فقال الغضى اسماك امشطى اهل بالجموع المرفوع فقلت فاما قضيتا المجر اهل النبی صلعم مع عبد الرحمن بن ابي بكر التميمي فاحصرت فقال الهذلي مكان عملك قالت نظاف الذين كانوا اهلوا بالعرف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم جلا فطافوا طوافا آخر بعد ان رجعوا من منى فان الذين جعلوا الحج فافطافوا طوافا واحدا

۳۶۲) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى أَشْهُرٌ مُتَعَلِّمَاتٌ مِمَّنْ قَرَضَ فِيهَا الْحَجَّ فَلَا رَفْعَ

باب اشہر متعلقات حج کے معلوم ہوتے ہیں علم پس جو کوئی ان اشہر حج لازم کرے تو حج میں نہ کوئی مرد و

وَلَا فَسْوَقَ وَلَا جِرَالًا فِي الْحَجِّ سِوَاؤُنَا نِكَاحُ الْهَلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ النَّاسِ الْحَجَّ وَقَالَ

عورت کے تعلقات کے متعلق ہائے وادورہ کالی کولج ہوا وادورہ جگرہ ہوا (الیزہ-۱۹۷۰) حج سے بلاوں کے متعلق پوچھنے میں کہہ دیوں کہ ہا

ابن حجر اشہر اشہر شوال و ذوالقعدة و عشره من ذي الحجة فقال ابن عباس من السنة

اور ان عشر گنتے ہیں حج کے جسے شوال ذیقعدہ و ذی الحجہ کے دس دن ہیں اور ان چاس گنتے ہیں سنت یہ ہے کہ

ان لا يحج بالحج الا في اشهر الحج وكره عثمان ان يحج من حراسان او كومان (۸۳)

حج کا طومر حج کے مہینوں میں ہی کیا جائے اور حضرت عثمان مکروہ سمجھتے ہیں کہ حراسان یا کومان سے احرام باندھے جا

عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشهر الحج واليا لي الحج

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلعم کے ساتھ حج کے مہینوں اور راتوں اور حج کے موسم میں

وحرم الحج فان لنا بسرف قالت فخر جبرالي اصحابه فقال من لم يكن منكم معه

نعلی ہم سرف میں آئے کہ آپ اپنے اصحاب کے پاس نشتر بیٹھے تو فرمایا تم میں سے جس کے ساتھ قربانی نہ ہو

هدى فاحب ان يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه الهدى فلا قالت

اور پند کرے کہ اسے عمرہ کرنے کو کرے سنا اور جس کے ساتھ قربانی ہو تو نہیں کیا تو

فلاخذ بها والتارك لها من اصحابه قالت فاما رسول الله صلى الله عليه

آپ کے صحابہ میں سے کسی نے اس پر عمل کیا اور کسی نے نہیں کیا کیا رسول اللہ صلعم

وسلم ورجال من اصحابه فكانوا اهل قنوة وكان معهم الهدى فلم يقبلوا على

اور آپ کے صحابہ میں سے چند آدمی طاقت والے تھے اور ان کے ساتھ قربانی تھی وہ عمرہ نہ کر سکتے تھے

العمرة قالت فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم انا ابني فقال ما يبكيك

کہا تو رسول اللہ صلعم میرے پاس نشتر لائے اور میں رو رہی تھی قربانی کیوں جی تمہارے

يا هنتاه قلت سمعت قولك لاصحابك فبعت العمرة قال وما شانك قلت لا

روانے کا کیا باعث ہو میں نے عرض کیا آپ جو اپنے اصحاب کو فرمایا میں نے سنا کہ میں عمرہ میں کر سکتی تو فرمایا تمہیں کیا ہوا میں نے عرض کیا میں

اصلة قال فلا يصورك انما انت امرأة ممن بنات ادم كتب الله عليك ما

نماز نہیں پڑھ سکتی فرمایا کوئی ہرج نہیں تم آدم کی بیٹیوں میں سے ایک عورت ہو اللہ نے تمہارے لئے وہی مقرر کیا ہے جو

كتب عليك فكبرني في حجرة فقصي الله ان يرد فكها قالت فخرجنا في حجة حتى

ان کے لئے مقرر کیا ہے اپنے حج کے (احرام) میں ابو ابیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عمرہ مقبیل کرنے کا تو ہم اپنے حج میں گئے ہر تانک

قد انا مني فظهرت ثم خرجت من مني فافضت باليدت قالت ثم خرجت

کریم سائز نے تو میں پاک ہوئی جو عورتوں منا سے علی قربیت اللہ کا طوان کیا ہے کہا پھر میں آپ کے ساتھ

معنى في القران الاخر حتى نزل المحصب ونزلنا معه فدا عبد الرحمن بن ابى بكر

آخری روایت میں حکایا ہمارا تک کہ آپ محصب بن امیہ سے ۶۷ حج میں آپ کے ساتھ آئے تو آپ نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو تاکر

عائشہ سے معلوم ہوا کہ عمرہ کے لئے کوئی خاص وقت نہیں ہے اور نماز نماز کی طرح ہے جس کے لئے خاص وقت اور نظام کی ضرورت نہیں اور حج فرض نماز کی طرح ہے۔ اس طرح نماز کے لئے سفر وقت ہے اور حج کے لئے بھی ہے تو حج کے مہینوں یا ایقات احرام تک پہنچنے سے پہلے احرام باندھنا خلاف سنت اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا ہے اگر یہ دور ہوگا کہ جیسا درجس مقام سے جائیں نماز باندھیں تو پھر نہ حج اور مسافران سفر کرنا ہے ناگزیر ٹھہرنے کے لئے صرف نہ کہ سے دن میل کے فاصلہ پر ایک جگہ کام ہے انب آدمی فاطمہ کے نام سے مشہور ہے۔ حج کے احرام کے قطع کرنے اور عمرہ کے احرام کھولنے کا حکم نبی کریم نے دو مرتبہ دیا تھا ایک مرتبہ ہجرت میں جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے لیکن مشرکین اسے ان کے اعتراض پر چھوڑ دیا جیسا کہ فاطمہ نے انھیں چھوڑ دیا جیسا کہ معلوم ہوتا ہے اس لئے بعض نے حج کو فرض کیا اور بعض نے نہیں پھر دوسری مرتبہ کہ ہجرت ان اوقات کے اندھا کہ ۸۳ میں ہے جبکہ ہجرت تھا اس وقت صحابہ نے اسے بھی چھوڑ دیا کیوں نبی کریم کے چھوڑنے کے بعد احرام حج کو دیا جیسا کہ ۸۴ میں ہے۔ یہ طوان کبیر کی طرف تشریح ہے اس لیے اس طوان کا وقت نہیں ہے اس لئے حضرت عائشہ خود کہہ سکیں کہ عمرہ میں طوان ہجرت ہی باقی افعال حج کے سبب سے ہجرت کا وقت نہیں ہے اور باقی مناسک حج اور عمرہ کے احرام میں طوان کا وقت نہیں ہے اس لیے اسے طوان کا وقت نہیں سمجھا کہ ۸۵ میں ہے۔

۱۷۹-۱۸۰

فَقَالَ اُخْرِجْ بِأَخِيكَ مِنْ اَعْرَابِمْ فَلَمَّ هَلْ بِعَمْرَةَ لَمَّا فَرَغَتْ اَنْتَبِهَا هَمَّتْ اِيَّانِي اَنْظُرُ كَمَا
فرمایا ابھی میں کو تم میں سے باہر سے جا اور وہ عمرو کا احرام باندھنے اور عورتے فارغ ہو کر وہاں دوڑاں آجاؤ میں تمہارے آنے

حَتَّى تَأْتِيَا نِي قَالَتْ فَخَرَجْنَا حَتَّى اِذَا فَرَغَتْ وَفَرَّغَتْ مِنَ الطَّوَافِ تَرَجَّجْتُمْ بِي فَقَالَ
تک تمہاری انتظار کرونگا تاکہ تم نکلے یہاں تک کہ جب میں (طواف) فارغ ہوئی اور وہ (عمرہ) لگائیں ابھی فارغ ہوئے تو میں نے کہا تمہیں پاس عمری

هَلْ فَرَعْتُمْ قُلْتُمْ لَعَنَ فَاذِنَ بِالرَّحِيلِ فِي اَصْحَابِهِمْ فَاذْخَلُ النَّاسَ فَمَرَّتُ بِمَلَالِي
کے وقت حاضر ہو گئی فرمایا فارغ ہو تو میں نے عرض کیا ہاں تو آپ نے صحابہ میں کوئی کا اعلان کیا اور لوگوں نے کوئی کیا سو آپ نے میرے پاس کھانے کے محل

الْمَدِينَةِ قَالَ ابُو عَبْدِ اللَّهِ يَضِيرُ مِنْ ضَارِكِضِيرٍ ضَيْرًا وَيُقَالُ ضَارِكُضَيْرًا وَيُضَوَّرُ وَضَيْرٌ
پڑے ابو عبد اللہ نے فرمایا کہتے ہیں یضير و ضير اور ضير و ضير سے ہے اور کہتے ہیں ضارک و ضير و ضير اور ضير و ضير

يَضُرُّ ضَارِكًا (۳۵) بَابُ التَّمَتُّعِ وَالْاِقْرَانِ الْاَفْرَادِ بِالْحَجِّ وَشَرِّحَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ
ضَرًا
باب تمتع اور قرآن اور حج مفرد کا اور حج کے پاس قرآن نہ ہو اس کا احرام حج

هَدَى (۸۳۲) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَرَى الْاَكْبَادَ
قرآن نام ل حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ ہی صلعم کے ساتھ نکلے اور ہوا خیمال صرف

اِنَّهُ اَجْرٌ حَقٌّ لِمَنْ اَقْدَمَ مِنْهَا كَطَوَافِ الْبَيْتِ فَاَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ
حج کا ہی تھا۔ جب ہم (مکہ) پہنچے تو بیت اہل طواف کیا ہی صلعم نے انہیں جو قربانی ساتھ نہیں

سَاقِ الْهَدْيِ اَنْ يَحِلَّ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقِ الْهَدْيِ وَنِسَاءُ اُولَئِكَ لَمْ يَسْقُنَّ فَاخْلَعْنَ
نے گئے تھے صلعم دیا کہ احرام کھولیں تو جو قربانی نہیں لے گئے تھے احرام سے نکل گئے اور آپ کی بیویاں نہیں لے گئی تھیں تو انہوں نے

قَالَتْ عَائِشَةُ فَخَضْتُ فَلَمْ اَطْفِ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةَ الْاَحْصِيَةِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
ہجی احرام کھولا حضرت عائشہ فرماتی ہیں تو مجھے حقیقی لگا اور بیعت کا طواف نہ کر کے جب حسب کی رات تھی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ

يَرْجِعُ النَّاسُ بِعَمْرَةَ وَحَجَّةٍ وَارْجِعْ اَنْذِجْحَةَ قَالَ وَمَا طَفْتُ كَمَا لِي قَدْ مَنَّا مَكَّةَ قُلْتُ
وہ عمرہ اور حج (دونوں) کر کے واپس ہو گئے اور میں حج کر کے نہیں و گئی ہے فرمایا جن لوگوں میں مکہ آئے تھے تم نے طواف نہیں کیا تھا

لَا قَالَ فَاذْهَبِي مَعَ اَخِيكَ اِلَى التَّعِيمِ فَاهْلِي بِعَمْرَةَ ثُمَّ مَوْلَاكَ كَذَا وَاَوْلَادُكَ قَالَتْ
میں نے عرض کیا نہیں فرمایا اپنے بھائی کے ساتھ تميم تک جا اور عمرہ کا احرام باندھ لو اور تمہارے ملے کا مقام نکال دیکھ ہے اور صفیہ کہنے

صَفِيَّةَ مَا اَرَانِي اِلَّا مَا سَأَلْتُكَ فَقَالَ عَقْرَى خَلْقِي اَوْ مَا طَفْتُ يَوْمَ التَّمَتُّعِ قَالَتْ قُلْتُ لِي
کہیں میں نے کو نہیں دیکھے والی جمال کی بیویوں آپ نے فرمایا ہے حسب کی بات پر یہ کیا تم نے فرمائی کہ دن طواف نہیں کیا تھا کیا میں نے عرض

قَالَ لَبَّاسُ اَفْرِي قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَقِنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُصَدِّعٌ مَرَّةً وَانَا
کہا ہاں فرمایا ہلو کوئی بیعت نہیں حضرت عائشہ نے فرمائی ہیں مجھے ہی صلعم نے آپ کو سے اور پھر چھنے والے تھے اور میں اس پر

مَنْهَبَةٌ عَلَيْهِمْ اَوْ اَنَا مُصَدِّعَةٌ وَهُوَ مُنْهَبٌ مِنْهَا (۸۳۳) عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ
اترنے والی تھی یا میں نے چھنے والی تھی اور یہ اس پر اترا ہوا ہے

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَّةً الْوُدَاعِ فَمِنْ اَهْلِ بَعْرَةَ وَمِنْ اَهْلِ بَعْرَةَ
صلعم کے ساتھ حجج الوداع کے سال نکلے میں سے کسی نے عمرہ کا

عَقْرَى خَلْقِي وَيُقَالُ اَيْضًا لِلْمَرْءِ اِذَا كَانَتْ مَرْزِيَةً مَشْتَوَةً يَعْنِي اَسْرًا كَرَجْعِهِ فِي اَسْرِهِ وَالْاَهْلُ عَقْرَى خَلْقِي كَمَا جَاءَ فِي
بیت ہو۔ ظاہر ہے کہ یہاں حضرت صفیہ کو کوئی تصویر تھا انہوں نے روکنے کا ذکر اس لئے کیا کہ انہیں ہی حقیقی لگا۔ جیسے حضرت عائشہ کو اس سے پہلے لگا تھا اس لئے

دہ آخری طواف نہ کر سکتی تھیں۔ تو آپ نے اس امر کو تعبیر کا اظہار ان الفاظ میں کیا حضرت صفیہ نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جس پر ان کو ایسے الفاظ میں خطاب کیا
جا سکتا۔ بعض شارحین نے غلطی سے ان الفاظ میں صفیہ کو خطاب سمجھا ہے۔

طہریک ہی عمرہ اور حج احرام سے کرنا تمتع اور ایک ہی احرام سے دونوں کا کرنا قرآن ہے صرف حج کا احرام باندھ کر حج کرنا افراد ہے تمتع میں سے بیعت کا عمرہ کا احرام باندھا جاتا ہے اور اگر شریف یا مکہ میں ہے اور صحافا مردہ کا طواف ریسے عمرہ کہتے ہیں کہ کے احرام کھولنا یا جاتا ہے اور حالت احرام کی سرچھنوعات جائز ہو جاتی ہیں پھر یوم الترویج یعنی چھ روز تک شریف سے حج کا احرام باندھ کر حج کیا جاتا ہے۔

۲۴۱

۲۴۲

وَعُمْرَةَ وَهَذَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ وَأَهْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فَأَمَّا مِنْ أَهْلِ

اور عمرے کا اور کسی نے حج کا احرام باندھا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا تھا۔ جنہوں نے

بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمْ يَجِئُوا أَحْتَىٰ كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ (۸۳۲) عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ ابْنَ الْحَكَمِ

حج کا یا حج اور عمرے کا اٹھا احرام باندھا تھا انہوں نے صرف نحران کے دن احرام کھولا۔ مروان بن مسلم سے روایت ہے

قَالَ شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَابْنَ جَعْفَرٍ وَابْنَ مُحَمَّدٍ وَابْنَ عَلِيٍّ

کہا میں حضرت عثمان اور حضرت علی کے پاس موجود تھا اور عثمان سے سو گئے تھے اور یہ لوگ ان دونوں کو اٹھا کیا جانے سے حضرت علی

أَهْلُ بَيْتِهِمَا لَيْتِيكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ قَالَ مَا لَنْتَ لِأَدْعُمَسَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نے یہ کہا تو دونوں کا احرام باندھا ایک بعمرہ دھجھا اور دوسرا میں کسی کے کہنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں

لِقَوْلِ حَدِيثِهِ (۸۳۵) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانُوا يُرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ

چھوڑ سکتا ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ لوگ حج کے چھ ماہوں میں عمرہ کو نہ کر سکیں تو سب بڑے کاموں سے

أَجْرُ النَّحْرِ فِي الْأَرْضِ يَجْعَلُونَ الْحَرَمَ صَفْرًا وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ الذَّبْرُ وَحَفَا الْأَثَرُ

بڑھ کر پڑھتے تھے اور حرم کو صفر سمجھ لیتے اور کہتے جسے زاوٹ کی کھجور بھی بڑھ جائے اور (زکوٰۃ)

وَأَسَلْتُ صَفْرَ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ مِنْ عَمْرٍ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُ كَيْبِئِي

نشان مل جائیں اور سفر کر جائے تو عمرہ کو بھولیں گے اور جو جا کر پڑتا ہے اسے ہی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب چڑھتی تھی حج کو

رَابِعَةٌ هَذَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ بِالْحَجِّ فَأَمْرُهُمْ أَنْ يَجْعَلُوا هَاجِرَةً قَتَادَةَ عَنْهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ

حج کا احرام باندھنے سے ہستہ کرنا اور نحران پہنچنے کو احرام باندھنا کہ حج کو عمرہ کر دینا تو یہ بات خلیفہ کی طرف مہلک ہوئی اور کہنے لگے یا رسول اللہ

اللَّهُ أَيُّ الْجِلِّ قَالَ جَلَّ كَلِمَةٌ (۸۳۰) عَنْ أَبِي صُوفْيَانَ (مُتَكَرِّرًا ۸۳۰) (۸۳۶)

کیا حال ہوگا کہ زبان سب چیزیں حال ہوگی دیکھو حدیث نمبر ۸۳۰ ۵

عَنْ حَفْصَةَ زَوْجَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ

حضرت حفصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے روایت ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ لوگوں کو کیا ہوا

الثَّاسِ حَلُّوْا الْعُمْرَةَ وَكَمْ تَحْتَلُّ أَنْتَ مِنْ عَمْرِكَ قَالَ إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ

اک عمرہ کر کے وہ احرام سے گلے لگے اور آپ اپنے عمرہ کے بعد احرام سے نہیں گلے فرماتے ہیں نے اپنے سر کے بال چھانے تھے اور یہی فرماتے

هَذَا فِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّىٰ أَحْكُرَ (۸۳۰) عَنْ أَبِي جَرْرَةَ قَالَ تَمَتَّعْتُ فَتَهَانِي نَأْسُ كَمَا لَنْتَ

کے گلے میں ڈرنا تو میں احرام میں کھول لگا بھی فرماتے لوگوں کو عمرہ سے روایت ہے کہ میں نے تم سے کیا تو کھولوں نے مجھے روکا میں نے

ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہنے کو کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کہتا ہے نیک حج ہے اور قبول عمرہ ہے

فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي فِيهِمْ عِنْدِي

تو میں نے ابن عباس کو خبر دی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حج بھی فرمایا میرے پاس تمام کر اور

اس کی روایت
۸۲۶ میں ہے کہ
حضرت مسلم نے حج
اور عمرے دونوں کا
احرام باندھا تھا۔
۸۲۷ سے ہی ہی مسلم
ہوئے تھے حضرت
عائشہ کی روایات
حج میں روایوں سے
حضرت اب ہریرہ نے
ہے امام ابی بکر
پس ایسے عمل چھوڑنا
علی حدیث مرویہ
عن عائشہ اور ابو
عمرہ کہتے ہیں کہ احرام
عہدا حضرت بنہ
لہذا ترجیح اس کی
روایت کو ہے کہ اب
کتاب میں ہے
۸۲۷ میں ہی استعمال
ہوئے تو ہو سکتے
کہ یہاں ملا حضرت
قرآن سے صحیح ثابت
گواہی انہی جمع پہلے
الفاظ عن المتفق
تفسیر ہے اور حضرت
علی سے گفتگو ہی ایسی
کے مشفق تھی حضرت
علی ابلیس کھجور
عمرہ کہتا ہی قرآن
کا احرام باندھا اور
اسے نبی کریم کی سنت
پھر انہی اس بات
کی دلیل ہے کہ حضرت
عثمان قرآن روکتے
تھے یا کہن ہے
سنت سے ترجیح
اور حضرت عثمان دونوں

سے روکتے ہوں۔ یہاں زیادہ تفصیل نہیں کریں گے تھے انہوں کو اس مسئلہ میں علی کی بھی کوئی اور صلوت تھی۔ ۸۳۰ عہدہ کے عظیم نشان خصوصیت تھی کہ کسی کی شخصیت
اور عقیدہ انہیں حق سے نہیں روک سکتی تھی۔ ۸۳۰ واسطے صفر میں صفر سے حج مزادیتے تھے۔ چونکہ یہ عہدہ ہی حج میں عہدہ کے متواتر تین ماہ کی وجہ سے عرب کے لوگ
اقل وفادت اور اگر زنی چیز سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتے تھے اس لئے عہدہ کو صفر بنا کر سال میں تینوں میں شمار لیتے تھے انہی کو زیادہ فی الکفر (التورہ ۲) میں اس بات
شارح ہے۔ یہ روایت بہت مختصر ہے فقط یہاں انہی سے علی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو نیک خواب میں کہنے کو کہا ہے کہ حج ہے اور قبول عمرہ ہے۔

۸۳۸ عن ابی شہاب قال قدمت مكة فمناقلة بعمة فدخلنا قبل التروية بثلاثة

ایں شہاب سے روایت ہے کہ میں نے حج کا احرام باندھا اور میرے ساتھ ایک عورت تھی جسے بعمة کہتے ہیں اور ہم ترویہ سے تین روز پہلے پہنچے

ایام فقال لی أناس من أهل مكة تصیر الان حجتك ميلة فدخلت على

تو وہاں مکہ میں سے کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اب تیرا حج مکہ کی ہو جائیگا تو میں

عطاء استفتیہ فقال حدثنی جابر بن عبد الله انه جمع مع النبي صلى الله عليه وسلم

عطا کے پاس گیا تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھ سے جابر بن عبد اللہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا جب

يوم ساق البدن معه فداهوا بالبحر مشردا فقال لهم اجلوا من احرامكم بطوا

تریاہی کے چلنا اور آپ ساتھ لے کر نکلے اور لوگوں نے کہیں حج کا احرام باندھا تھا تو آپ نے انہیں فرمایا اپنے احرام سے بیت اللہ اور

البيت بين الصفا والمروة وقصر واتقوا واحدا لا حتى اذا كان يوم التروية

صفا اور مکہ کے درمیان طواف کر کے چلنا اور یہاں تک کہ تم پہنچو تو احرام کے احرام سے

فاجلوا بالبحر اجعلوا اني قد تم بها منعة فقالوا كيف جعلها منعة وقد سئلنا

تو حج کا احرام باندھا اور میں نے بیت اللہ سے پہنچے اسے منہ کر کے اور انہوں نے کہا اسے کس طرح عمرہ بنا لیں ہم نے تو حج کا احرام کیا ہے

البحر فقال فعلوا اما امرتكم فقلوا لا اني سقت هذا لفضلت مثل الذي امرتكم ولكن

تو فرمایا میں نے تمہیں حکم دیا کہ عمرہ کرو اور میں نے قرآنی ساتھ لیا ہوا ہونا اور جو میں نے تمہیں بیان کیا ہے اسے ہی کرتا تمہیں سے ہے

لا يجعل كمنى حرام حتى يبلغ الهدى حمله فقالوا لا (۲۳۱) عن سعید بن المسيب

حالت احرام سے چلنا جائز نہیں یہاں تک کہ قرآنی اپنے مقام کو پہنچے تو انہوں نے تعمیل کی علی

متكرر (۸۳۲) باب من لبى بالبحر وسماه (۲۳۲) عن جابر بن عبد الله

دیکھو حدیث ۸۳۲ باب جو شخص حج کے لئے لیبک کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے تعمیل کی علی

متكرر (۸۳۸) باب المنيح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (۸۳۹) عن عمران

دیکھو حدیث ۸۳۸ باب نبی صلعم کے زمانہ میں منیع اور عمران بن

ابن حصين قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن قال رجل

حصین سے روایت ہے کہ نبی صلعم کے زمانہ میں ہم نے منیع کیا اور قرآن اترنے سے پہلے

يرأيه ماشاء (۲۳۸) باب قول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد

اپنی رائے سے جو چاہا کہ اس کا باب اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ اس کے لئے ہے جن کے اپنے مسجد حرام میں موجود نہ ہوں

الحرام (۸۴۰) عن ابن عباس قال سئل عن منعة الحج فقال أهل المهاجرون

المہجر (۱۹۶) ابن عباس سے روایت ہے کہ ان سے حج کے منیع کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا ہاجرین

والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع واهلنا فاقدمنا مكة

اور انصار اور نبی کریم صلعم کی بیویوں نے حجۃ الوداع میں احرام باندھا اور ہم نے احرام باندھا جب ہم مکہ میں پہنچے تو

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آهلا لكم بالحج مرة الامم قلنا الحمد

یہ حج کے احرام کو عمرہ کر دو سوائے اس کے جس نے قرآنی کو پکارنا ہونا

طفقتا بالبيت بين الصفا والمروة واتينا السماء وليسنا الثياب وقال من قد

ہم نے بیت اللہ اور صفا اور مکہ کے درمیان طواف کیا اور عمرہ توڑنے کے پاس لے اور کہہ رہے ہیں اور فرمایا جس نے قرآنی پکار

الهدى فانه لا يدخل له حتى يبلغ الهدى حمله ثم امرنا وعشيت التروية ان نحل بالحج

یہنا یا تو وہ احرام رکھوے جب تک قرآنی اپنے مقام تک نہ پہنچے پھر انہوں کی شام کو میں حکم دیا کہ حج کا احرام باندھیں

عنا اصل بات یہ ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حج کا مقام صرف پرکاش اختیار کیا تھا کہ جو چاہے عیسائے کو ممکن ہے وہ حج بھی کر سکتے ہیں لیکن حج کو یہ شرط تھی کہ قرآنی پکارنا ہو اور اگر یہ شرط ہی بات ہے جب آپ نے اسے واضح کر دیا تو انہوں نے تعمیل بھی کر دی علی کر رہے ہیں کے الفاظ ہیں اختلاف علی اختلاف دھما بصفیان فی المتفق فقال علی تو یہاں ان کے متعلق من امر فقلہ رسول اللہ صلعم فقال حتمان كحجتي حذرك قال فلما راى رسول الله صلعم قد صام رسول الله صلعم و نحن نفعل البديت بالحج فامرنا رسول الله صلعم فجعلناها عمرة

ملا کر دوایتیں
 ۸۲۶ کا استقبال
 لفظ تاتا مگر
 صحتیں ہے اس
 کے بعد کہ منبر
 فقط اختلاف ساتھ
 دیکھا گیا ہے
 لا کر روایت کے
 الفاظ ہیں باب الی
 صلوات اللہ علیہ وسلم
 بنی طوی خلیصہ
 تو وہ خل مکتہ و کلمات
 ابن عمر یقعدہ
 مگر یہاں الفاظ ہیں
 کافی من اللہ صلعم
 بدخل مکتہ من الثنیۃ
 علیا ویخرج من
 الثنیۃ السفلیۃ
 یعنی اینہیں وقتا
 کے نکلیں محفوظ
 ہیں ان کا بیساع
 نہ مکتہ سے نہ آپ
 کے دوایا
 مکتہ کہاں ہے وہاں
 النبی صلعم لیساع
 جاؤ الی مکتہ خلیصہ
 من اعلاھا وخرج
 من اسفلھا
 ۶۲۵- ان
 نبی صلعم دخل
 حام تقویوں کلام
 وخرج من کل
 اعلا مکتہ اور کلمہ
 کلمہ روایت میں ہے
 دخل حام تقویوں
 کلام من اعلا مکتہ
 ۸۲۶- من
 اعلی مکتہ کے الفاظ
 ہیں اور ثنیوں میں
 ساتھ عروہ کا ذکر

فَاذْفَرَعْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ وَجُنْمًا فَطَقْنَا بِالْبَيْتِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْجَمْنَا وَعَلَيْنَا

جب ہم حج کے کاموں سے فارغ ہوئے تو بیت ایشاک اور سفارہ کے درمیان طواف کیا اور ہمارا حج پورا ہوا اور ہم

الْهَدْيِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ

پہرے زبان لازم ہوئی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جیسے قرآنی میں آئے کر دے اور جسے نہ ملے تو حج میں دن

أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَىٰ أَصْصَارِكُمْ الشَّاهِدُ الْحَجْرِيُّ فَمَجْمُوعًا سَلَكِينَ فِي

کے روز ہیں اور سات جب آپ اپنے شہر میں گویا ہو جاؤ قرآنی میں ایک بکری کافی ہے تو لوگوں نے دو عبادوں

عَامٍ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ أَتْرَكَ فِي كِتَابِهِ مِنَّمَا نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حج اور عمرہ کو ایک سال میں لکھا لیا اللہ نے اسے اپنی کتاب میں اس راہ سے کہ نبی صلعم نے جاری کر دیا

وَأَيَّاحَهُ لِلثَّمَانِيَةِ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ ذَلِكُ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي

اور مکتہ والوں کے سوائے اور لوگوں کے لئے جائز کر دیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس کے لئے ہے جس کے گھر والے

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَشْرَفِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ سَوَالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ

مسجد حرام میں رہتے ہوں اور حج کے چھتے میں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے سوال ذیقعدہ ذوالحجہ ہیں تو

فَمَنْ تَمَتَّعَ فِي هَذِهِ الْأَشْهُرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ أَوْ صَوْمٌ وَالرَّفَثُ الْجَمَاعِعِ وَالْفَسُوقُ

جس نے ان مہینوں میں تمتع کیا تو اس پر قرآنی باروزہ ہے اور رفث ہم سب سے ہے اور فسوق

الْمُعَاصِي فِي الْجِدَالِ وَالرَّيِّ أَمْرًا (۳۵) بَابُ الْإِحْتِسَالِ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ (م- ۶۳۳)

گناہ اور جدال جھگڑانا ہے باب مکتہ میں داخل ہونے وقت غسل کرنا

عَنْ تَائِفِ (م- ۸۲۷) (۲۰) بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ هَامًّا وَكَلِيمًا (م- ۶۳۴)

دیکھو حدیث نمبر ۸۲۷ م ۲۰ باب مکتہ کو کلمہ میں داخل ہونا

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (م- ۸۸۱) (۲۲) بَابُ مَنْ أَيْنَ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ (م- ۸۲۱) عَنِ ابْنِ عُمَرَ

دیکھو حدیث نمبر ۸۸۱ م ۲۲ باب مکتہ سے کس راہ سے نکلے ابن عمر سے روایت

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَلِيمٍ مِنَ الثَّمِينِ الْعُلْيَا الَّتِي

ہے کہ رسول اللہ صلعم مکتہ کلیلان طرف سے یعنی کلیلان کھائی سے جو

بِالْبَحْلَاءِ وَخَرَجَ مِنَ الثَّمِينِ السُّفْلَى (م- ۶۳۶) عَنْ عَائِشَةَ (م- ۸۲۱) (م- ۶۳۷)

بھائی میں سے داخل ہونے اور کھانے سے نکلے دیکھو حدیث نمبر ۸۲۱ م ۷

عَنْ عَائِشَةَ (م- ۸۲۱) (۶۳۸) عَنْ عَائِشَةَ (م- ۸۲۱) (م- ۶۳۹)

دیکھو حدیث نمبر ۸۲۱ م ۷ دیکھو حدیث نمبر ۸۲۱ م -

عَنْ عُرْوَةَ (م- ۸۲۱) (۶۴۰) عَنْ عُرْوَةَ (م- ۸۲۱) (م- ۸۲۱)

دیکھو حدیث نمبر ۸۲۱ م ۸ دیکھو حدیث نمبر ۸۲۱ م

حج جو حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں۔ م- ۶۳۸ میں ہے وہاں عروہ نے داخل علی کلمتہ ماہ من کلامہ و کلمہ ماہ من کلمتہ ماہ کا معنی

قرعہ الی منزلہ اور م- ۶۳۹ میں ہے وہاں عروہ نے کلمہ ماہ من کلمتہ ماہ الی منزلہ اور م- ۶۴۰ کے الفاظ ۶۳۹ کا رخ ہیں اور ان میں ہے

کہ کلامہ کہ کلمہ ماہ من کلمتہ ماہ ہے جو قرون سے پہلے ہمارے دور کی ٹی بھائی ہے جو اب اللہ سے منقل ہے لیکن م- ۶۳۸ میں ہے مخرج من کلمتہ ماہ الی مکتہ بخاری

تین روایتوں کے خلاف ہے جو کلامہ کو اعلیٰ قرار دیتی ہیں :-

۲۳) **بَابُ فَضْلِ مَكَّةَ وَبَنِيهَا وَقَوْلُهُمْ لَدَجَعَلْنَا الْمَيْتَ مَثَابَةَ لَنَا وَسِرَّ أَمْنَا**

باب مکہ کی فضیلت اور اس کے مکہ کا ماننا اور اللہ تعالیٰ فرمایا اور جب تم نے بیت اللہ کو لوگوں کے ٹوٹ لوٹ کر

وَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا وَمِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مَعْصَلٍ وَتَعْبُدُوا كَمَا آتَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ يَطَّهَّرَا

آئے کی جگہ اور اس کا مقام بنایا اور مقام ابراہیم کو قبلہ بناؤ اور تم نے ابراہیم اور اسمعیل کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف

بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا

کرنے والوں اور رہنے والوں اور رکن اور سجدہ کرنے والوں کیلئے پاک کر دو اور جب ابراہیم نے دعا کی تو یہ رب اس شہر کو

بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ الْيَوْمَ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ

امن بنا دینا اور اس کے رہنے والوں کی جزاؤں میں سے انہیں اور یہ تم آخر پر ایمان رکھتے ہو انہوں میں سے رزق سے فرمایا اور جو ان

كَفَرُوا صَبَّهٖ فَمَا مَثَبَهُ قَلِيلًا ثُمَّ اصْطَرَّهٗ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَيَكْسُ الْمَصِيرِ وَإِذْ يَرْفَعُ

میں سے انکار کرے اسے بھی ٹھوڑے وقت کیلئے سامانہ دیکھا پھر اسے ان کے مذاب بظاہر نے جاؤ لگا اور وہ بڑی جگہ ہے اور جب

إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ إِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا اتَّخَذْنَا آلَتَنَا الْكُفُورَ الْمَثَلِ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ

ابراہیم اور اسمعیل بیت اللہ کی بنیادیں رکھتے تھے اسے ہمارے رب ہم سے قبل نما تو سننے والا

الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ مِنْ رَبِّنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ وَإِنَّا لَمَنَّا سَلْمَنَا

جاننے والا ہے اور ہمارے رب سے ایمان فرما کر ہمارا دین بنا اور ہماری اولاد میں سے اپنی فرمانبرداری رکھتے ہمارے لئے جگہ کے

وَتَبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۲۴) **عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ**

آداب سکھا اور ہم نے یہ صحیح فرمایا اور جابر بن عبد اللہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ایک قوم کا نام رکھا ہے وہ ہے (مکہ - ۱۲۵ - ۱۲۸)

رَبِّهِمْ لَعَلَّ اللَّهُ يَرْحَمَ الْكَوْبَ ۲۵) **عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ**

دیکھو حدیث نمبر ۲۴۱۲ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا أَلَمْ تَرِي أَنَّ قَوْمَكَ حَيٌّ بَيْنَ الْكُفَّةِ أَتَقصرُوا عَنْ

رسول اللہ صلعم نے ان سے فرمایا کیا تجھے علم نہیں کہ جب تیری قوم (قومیں) نے کعبہ بنایا تو ابراہیم کی بنیادوں میں

قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَرُدُّهَا عَلَيَّ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ

سے کچھ بچھوڑ دیا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ سے ابراہیم کی بنیادوں پر دو بارہ نہیں بناتے بلکہ فرمایا اگر

لَوْ أَحَدُنَا ن قَوْمِكَ بِالْكَفْرِ لَفَعَلْتُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ

تیری قوم تم سے بھی تم ہی رہتی ہو تو بنا دیتا عبد اللہ بن عمر نے کہا اگر حضرت عائشہ نے یہ رسول اللہ

هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ

صلعم اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان

اسْتَدْلَمَ الرُّكْنَيْنِ الَّذِينَ يَلِيَانِ مَجْرَئِئًا إِنَّ الْبَيْتَ لَمْ يَتِمَّ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ

دونوں رکنوں کا جو مناجا صلعم سے بنے ہوئے ہیں اس لئے چھوڑا کہ بیت اللہ کی تکمیل ابراہیم کی بنیادوں پر نہیں ہوتی بلکہ

علا کہ کی فضیلت
برایم بخاری نے قرآن
تیم کی ان آیات
سے استدلال کیا
جن میں حضرت ابراہیم
کے اس شہر کے لئے
دعاؤں کا ذکر ہے
اور اس کے مقام کے
راج اور مقام میں
کا ذکر بھی ہے
بات ہے کہ ان دونوں
اور اس کے کو وہ بنیادیں
مائل تھے تو ان کے
ادبی شہر کو نہیں
یعنی ایک کوئی شہر
اس قدر صحیح عقائد
نہیں رہتا ہے
جیسے کہ یہ دونوں
ذہن میں کسی شہر کو وہ
۲۳) ان میں حاصل نہیں ہو
مکہ کو ہے یہ ان تک
کس کی حدوں سے
اللہ تعالیٰ ہی نہیں
ہوتی اور ان کے جائزہ
اور اس کی گمان تک
محقق نہیں
۲۴) مکہ کی روایت کے
لفظ میں لما بنیت
الکعبۃ وہب النبی
صلعم جہا من قبل
الحجۃ فقال العبا
النبی صلعم جعل
اذا رجعوا فبنی
تحت الارض من تحت
عناہ ان السماء
فقال انی لازای
فتدبر حلیہ یعنی

جب کعبہ بننے لگا تو نبی صلعم اور حضرت جاس راک کے پاس تھوڑے تھوڑے تھے تو حضرت جاس نے فرمایا کہ میں نے یہ کعبہ میں ایک آدمی کو دیکھا
انہوں میں سے ایک نے کہا کہ میں نے اس کو دیکھا ہے اور میں نے اس کو دیکھا ہے
بنانے میں توروں کی طرح کام کیا ہے اور نبی نے فرمایا کہ اسے توروں کی طرح کام کیا ہے اور نبی نے فرمایا کہ اسے توروں کی طرح کام کیا ہے اور نبی نے فرمایا کہ اسے توروں کی طرح کام کیا ہے
بیت اذی رقم ابراہیم اللہ تعالیٰ سے اس کا نام کیا گیا ہے اور اس کا نام کیا گیا ہے
چار رکن میں چھوڑ دے اور بنیادیں نہیں بنائیں اور نبی نے فرمایا کہ اسے توروں کی طرح کام کیا ہے اور نبی نے فرمایا کہ اسے توروں کی طرح کام کیا ہے اور نبی نے فرمایا کہ اسے توروں کی طرح کام کیا ہے
فرماتے ہیں کہ یہی وہ صلعم ہے اس وقت کو کہ وہ رکنوں کو چھوڑ دے اور نبی نے فرمایا کہ اسے توروں کی طرح کام کیا ہے اور نبی نے فرمایا کہ اسے توروں کی طرح کام کیا ہے
میں اس کو شامل کر لیا جاتا ہے اسی کے متعلق اس کی حدیث میں سوال ہے

۸۲۳) عن عائشة قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل أهدى البيت
 حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلیم سے حکیم کے عقین دریافت کیا کہ کیا وہ بیت اللہ میں سے ہے
 هو قال نعم قلت فما لهم لم يذخروا في البيت قال إن قومك قصرت بهم الذففة
 فرمایا میں نے عرض کیا تو پھر کیوں انہوں نے اسے بیت اللہ میں شامل نہ کیا فرمایا تیری قوم کے پاس خرچ کافی نہ تھا
 قلت فما شأن بابهم فبقنا قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمتصوا
 میں نے عرض کیا تو اس کا دروازہ کیوں نہ کھولا فرمایا تیری قوم نے اس کے پاس لے لیا کہ جسے چاہیں اندر جانے دیں اور جسے
 من شاءوا واولوا ان قومك حديث عهدهم بالجاهلية فآخاف ان يشكروا فلو لم يكن
 چاہیں روک دیں اور اگر تیری قوم کا زمانہ جاہلیت نہ آیا نہ گذرا ہوتا اور میں جانتا ہوں ان کے دل پابند نہ کیے
 ادخل الجدر في البيت ان الصبق بابا بالارض (۸۲۲-۵) عن عائشة ومكرر
 کہ میں حکیم کو بیت اللہ میں شامل کروں اور اس کا دروازہ زمین سے ملا دوں (تو اسے سارو دیتا) دیکھو عارضت
 ۸۲۲-۸۲۳) عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا
 نمبر ۸۲۲ ط حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلیم نے ان سے فرمایا اسے
 عائشة لو ان قومك حديث عهد بجاهلية لآمرت بالبيت هدم فادخلت
 عائشہ اگر تیری قوم کا زمانہ جاہلیت کے قریب نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کے متعلق حکم دینا چاہ کر دیا جاتا اور میں اس
 فيه كما آخره منا وان وقتنا بالارض جعلت له بابين بابا من فوا ذكرا عربيا فبلغت
 میں وہ حصہ جس سے باہر وہ گیلہ ہے شامل کر دیا اور اس کی گڑھی کو زمین کے برابر کر دینا اور اس میں دو دروازے بنا دیتا ایک شرعی
 به اساسا براهيم فذاك الذي حمل بين الربيع على هدايه قال يزيها وشهدت
 دو سر شرعی کو اسے ابرہہ کی بنیاد بنا کر چھایا یہ بات بھی اس نے اپنی زبیر کو اس کے گڑھی کے عقین سے ہی یہ بتلائی کہ میں نے
 ابن الربيع حين هدمه وبناه وادخل فيه من الحج وقيل رايته اساس ابراهيم
 ابن زبیر کو دیکھا جب اسے گڑھی بنایا گیا اور اس میں حکیم کو داخل کر دیا اور میں نے ابرہہ کی بنیادوں کو دیکھا
 حجارة كما سئمت اريال فان حيرة فقلت اذ ان موضعها قال اركه الان فدخلت
 اڑھوں کے گولوں کی طرح پھرتے جو یہ کہتے ہیں میں نے ابرہہ سے کہا بنیاد کی جگہ کہاں ہے کہا وہی جگہ تھا انہوں میں اس کے
 معه الحج فاشكر اني امكان فقال ههنا قال حيرة فقلت ان موضعها قال اركه الان فدخلت
 ساتھ حکیم میں داخل ہوا تو ایک جگہ پر اٹھ کھڑا اور کہا ہاں جو یہ کہتے ہیں میں نے حکیم کا زمانہ کہا مجھے اٹھنے پاس کے قریب
 او نحوها ۲۲) باب فضل الحرم وقولها لما أمرت ان أهدت هذه البلدة
 جگہ تمہارا پاس حرم کی فضیلت منط اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی مکرر آیا ہے کہ اس ہجر کے رب کی عبادت کرو
 التي حرمها وله كل شئ وأهدت ان أن من المسلمين وقوله أو لم يكن لهم
 جس نے اسے حرم بنا دیا اور ہر جگہ کی عبادت بھی مکرر فرمائی ہے اور اس کا ارشاد کیا
 حرما أمنا حيلة اليد تمت كل شئ رزقا من لدنا وإن كان لهم لا يؤمنون
 ہم نے انہیں اس حرم میں بجز زمین کی ساری چیزوں سے محروم کر دیے ہیں اور ہر جگہ پر اللہ کی عبادت بھی مکرر فرمائی ہے اور اس کا ارشاد کیا
 عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فني مكة إن هذا البلد
 ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلیم نے فتح مکہ کے دن فرمایا کہ اس ہجر کو

۸۲۳) عن عائشة قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل أهدى البيت
 حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلیم سے حکیم کے عقین دریافت کیا کہ کیا وہ بیت اللہ میں سے ہے
 هو قال نعم قلت فما لهم لم يذخروا في البيت قال إن قومك قصرت بهم الذففة
 فرمایا میں نے عرض کیا تو پھر کیوں انہوں نے اسے بیت اللہ میں شامل نہ کیا فرمایا تیری قوم کے پاس خرچ کافی نہ تھا
 قلت فما شأن بابهم فبقنا قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمتصوا
 میں نے عرض کیا تو اس کا دروازہ کیوں نہ کھولا فرمایا تیری قوم نے اس کے پاس لے لیا کہ جسے چاہیں اندر جانے دیں اور جسے
 من شاءوا واولوا ان قومك حديث عهدهم بالجاهلية فآخاف ان يشكروا فلو لم يكن
 چاہیں روک دیں اور اگر تیری قوم کا زمانہ جاہلیت نہ آیا نہ گذرا ہوتا اور میں جانتا ہوں ان کے دل پابند نہ کیے
 ادخل الجدر في البيت ان الصبق بابا بالارض (۸۲۲-۵) عن عائشة ومكرر
 کہ میں حکیم کو بیت اللہ میں شامل کروں اور اس کا دروازہ زمین سے ملا دوں (تو اسے سارو دیتا) دیکھو عارضت
 ۸۲۲-۸۲۳) عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا
 نمبر ۸۲۲ ط حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلیم نے ان سے فرمایا اسے
 عائشة لو ان قومك حديث عهد بجاهلية لآمرت بالبيت هدم فادخلت
 عائشہ اگر تیری قوم کا زمانہ جاہلیت کے قریب نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کے متعلق حکم دینا چاہ کر دیا جاتا اور میں اس
 فيه كما آخره منا وان وقتنا بالارض جعلت له بابين بابا من فوا ذكرا عربيا فبلغت
 میں وہ حصہ جس سے باہر وہ گیلہ ہے شامل کر دیا اور اس کی گڑھی کو زمین کے برابر کر دینا اور اس میں دو دروازے بنا دیتا ایک شرعی
 به اساسا براهيم فذاك الذي حمل بين الربيع على هدايه قال يزيها وشهدت
 دو سر شرعی کو اسے ابرہہ کی بنیاد بنا کر چھایا یہ بات بھی اس نے اپنی زبیر کو اس کے گڑھی کے عقین سے ہی یہ بتلائی کہ میں نے
 ابن الربيع حين هدمه وبناه وادخل فيه من الحج وقيل رايته اساس ابراهيم
 ابن زبیر کو دیکھا جب اسے گڑھی بنایا گیا اور اس میں حکیم کو داخل کر دیا اور میں نے ابرہہ کی بنیادوں کو دیکھا
 حجارة كما سئمت اريال فان حيرة فقلت اذ ان موضعها قال اركه الان فدخلت
 اڑھوں کے گولوں کی طرح پھرتے جو یہ کہتے ہیں میں نے ابرہہ سے کہا بنیاد کی جگہ کہاں ہے کہا وہی جگہ تھا انہوں میں اس کے
 معه الحج فاشكر اني امكان فقال ههنا قال حيرة فقلت ان موضعها قال اركه الان فدخلت
 ساتھ حکیم میں داخل ہوا تو ایک جگہ پر اٹھ کھڑا اور کہا ہاں جو یہ کہتے ہیں میں نے حکیم کا زمانہ کہا مجھے اٹھنے پاس کے قریب
 او نحوها ۲۲) باب فضل الحرم وقولها لما أمرت ان أهدت هذه البلدة
 جگہ تمہارا پاس حرم کی فضیلت منط اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی مکرر آیا ہے کہ اس ہجر کے رب کی عبادت کرو
 التي حرمها وله كل شئ وأهدت ان أن من المسلمين وقوله أو لم يكن لهم
 جس نے اسے حرم بنا دیا اور ہر جگہ کی عبادت بھی مکرر فرمائی ہے اور اس کا ارشاد کیا
 حرما أمنا حيلة اليد تمت كل شئ رزقا من لدنا وإن كان لهم لا يؤمنون
 ہم نے انہیں اس حرم میں بجز زمین کی ساری چیزوں سے محروم کر دیے ہیں اور ہر جگہ پر اللہ کی عبادت بھی مکرر فرمائی ہے اور اس کا ارشاد کیا
 عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فني مكة إن هذا البلد
 ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلیم نے فتح مکہ کے دن فرمایا کہ اس ہجر کو

الْكُفْبَةِ فَقَالَ لَقَدْ جَلَسَ هَذَا الْجَلِيسُ عَمْرٌ فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَدْعُو فِيهَا صَفْرًا
 كَيْفَ تَمِدُّ عِلْمَكَ أَسْأَلُكَ عَمْرٌ كَانَ اسْتَرْجَعَهُ مَوْلَانِي وَدَوَّابِي مِنْ بَنِي لَهْمَانَ كَمَنْ رَأَى عَمْرًا وَنَجَّى
 وَلَا أَيْضًا أَلَا قَسَمْتُهُ قُلْتُ إِنَّ صَاحِبِيكَ لَمْ يَكُنْ عَمْرًا قَالُوا هُمَا الْمُرَانُ ائْتَدَى
 ائْتَدَى مِنْ عَمْرٍ وَجَاءَ مِنْ بَنِي لَهْمَانَ وَدَوَّابِي وَنَجَّى مَوْلَانِي وَدَوَّابِي مِنْ بَنِي لَهْمَانَ كَمَنْ رَأَى عَمْرًا وَنَجَّى
 بِهَا (۲۹) بَابُ هَذِهِ الْكُفْبَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 تَبِيخُ عَمْرٍ أَكْبَرُ بَابِ كَيْفَ كَانُوا مِنْ عَمْرٍ وَأَمْرُهُمْ فِيهِ لَمَّا تَبَيَّنَ لِي فِيهِمْ لَمَّا تَبَيَّنَ لِي فِيهِمْ لَمَّا تَبَيَّنَ لِي فِيهِمْ
 يُغْرُؤُ جَيْشِي مِنَ الْكُفْبَةِ فَيَسْتَفْزِعُهُمْ (۸۵) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 كَيْفَ يَرَى نَسْرًا يَهْوَى كَيْفَ كَانُوا مِنْ عَمْرٍ وَأَمْرُهُمْ فِيهِ لَمَّا تَبَيَّنَ لِي فِيهِمْ لَمَّا تَبَيَّنَ لِي فِيهِمْ لَمَّا تَبَيَّنَ لِي فِيهِمْ
 قَالَ كَاتِبِي يَا أُمُّو أَفْتِي لَقَدْ جَاءَ عَمْرٌ بِأَجْرٍ (۶۲۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر - ۸۲۷)
 قَوْلًا يَرَى كَيْفَ كَانُوا مِنْ عَمْرٍ وَأَمْرُهُمْ فِيهِ لَمَّا تَبَيَّنَ لِي فِيهِمْ لَمَّا تَبَيَّنَ لِي فِيهِمْ لَمَّا تَبَيَّنَ لِي فِيهِمْ
 (۵۰) بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الْحَجْرِ الْأَمْوَدِ (۶۷۵) عَنْ عُمَرَ (متكرر - ۸۵۵) (۵)
 بَابُ جَوْجَرُ سَوْدٍ كَيْفَ فِيهِ مِنْ بَابِ كَيْفَ كَانُوا مِنْ عَمْرٍ وَأَمْرُهُمْ فِيهِ لَمَّا تَبَيَّنَ لِي فِيهِمْ
 بَابُ غُلَاةٍ الْهَيْبَةِ يَيْبَلُونَ أَيْ قَلِي حِيَابِ الْهَيْبَةِ شَاءَ (۶۲۶) عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَمَنْكَرُ
 بَابُ فَادٍ كَيْفَ كَانُوا مِنْ عَمْرٍ وَأَمْرُهُمْ فِيهِ لَمَّا تَبَيَّنَ لِي فِيهِمْ لَمَّا تَبَيَّنَ لِي فِيهِمْ لَمَّا تَبَيَّنَ لِي فِيهِمْ
 (۲۸۶) (۵۲) بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكُفْبَةِ (۶۲۷) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر - ۳۲۴)
 نَبِي ۲۸۶ بَابُ كَيْفَ فِيهِ مِنْ بَابِ كَيْفَ كَانُوا مِنْ عَمْرٍ وَأَمْرُهُمْ فِيهِ لَمَّا تَبَيَّنَ لِي فِيهِمْ
 (۵۳) بَابُ مَنْ لَمْ يَدْخُلِ الْكُفْبَةَ وَكَانَ مِنْ مَرْجِعِهِ كَثِيرًا وَلَا يَدْخُلُ (۸۵۲)
 جَوْجَرُ سَوْدٍ كَيْفَ فِيهِ مِنْ بَابِ كَيْفَ كَانُوا مِنْ عَمْرٍ وَأَمْرُهُمْ فِيهِ لَمَّا تَبَيَّنَ لِي فِيهِمْ
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ قَالَ عُمَرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ
 صَلَّيْنَا حَقًّا مَقَامًا رُغْمًا مِنْ مَعَهُ مَكْنُؤًا كَمَا مَرَّ النَّاسُ فَقَالَ لَكَ دَخِلْ أَدْخِلْ رَسُولُ
 اَللَّهِ كَيْفَ فِيهِ مِنْ بَابِ كَيْفَ كَانُوا مِنْ عَمْرٍ وَأَمْرُهُمْ فِيهِ لَمَّا تَبَيَّنَ لِي فِيهِمْ
 حَقًّا مَقَامًا رُغْمًا مِنْ مَعَهُ مَكْنُؤًا كَمَا مَرَّ النَّاسُ فَقَالَ لَكَ دَخِلْ أَدْخِلْ رَسُولُ
 اَللَّهِ كَيْفَ فِيهِ مِنْ بَابِ كَيْفَ كَانُوا مِنْ عَمْرٍ وَأَمْرُهُمْ فِيهِ لَمَّا تَبَيَّنَ لِي فِيهِمْ

طی شہادتوں میں ہر طرف
 کے بیٹے میں جو کہ
 کے درمیان تھے اور
 اس کا جانی ان کے
 پاس کہ اگر بی بی
 کا ہوا اور اس کی
 میں کچھ نصیب ہے
 ہوا دل گنتے ہو
 شخص نے تو کوس
 سے رہتا تو کوشہ
 کلمہ صحیح اور میت
 کا حشر میں اس کو
 اہل شہادت کی ہوا
 ہوا تھا میں رو بہ
 اہل میں دیکھا تو انہوں
 نے کہا یہ رو بہ کوشہ
 کے ہوتے ہیں کہ ان میں
 سے کوشہ رہتا ہے
 پاس قاتل اس کے
 ہوا میں نے حضرت
 جو کہ قول بیان کیا
 جو کہ ذکر کیا ہے
 اس سے کوشہ نے بھی
 بات تھی کہ اگر کوشہ
 کے خزانہ کوشہ کرنا
 درست کوشہ ہے
 کہ اس طرح لوگ خاک کوشہ
 میں رو بہ ہے ہوا
 کرتے تھے اس کے
 ہے۔ اس کا ایک طرف کوشہ
 کی حفاظت اور اس کے
 کی کثرت ہو جائے اور قیامت کا قریب ہوا تو اس بالذات کوشہ جو
 تضحی کا مضمون ولو کا انی راہیت الذی علی اللہ علیہ وسلم یقبلہ
 یا قاتل کوشہ کی روایات اس سے محفوظ رکھا کہ عرب آپ کے احکام ماننے سے انکار کرتے
 بوسنہ رہا ہوتا تو اس سے بوسنہ کی نہ دیتا۔ حج سوسو کے بارے میں بعض روایات میں آیا ہے کہ وہ جنت کے یا قوت میں سے ہے جن کا فرقہ نے
 مشایخ ہے اور بعض میں آیا ہے کہ حج سوسو جنت سے انکار کیا ہے اور وہ سے زیادہ سفید تھا اور بی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اس میں
 کی اور بھی بہت سی روایات ہیں جو روایت اور دریا سے زیادہ روشن اور صاف ہے۔ امام بخاری نے اس کے متعلق صرف حضرت عمر سے
 ہی قول کو روایت کیا ہے جو حدیث صحیح ہے اور صحیح اس حدیث سے وہ ایک صحیح
 ہے جو نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تضحی صرف یاد گا رہ کر تہ کہ کے طور پر سے بوسنہ دیا جاتا ہے اسلام بت پرستی مٹانے کے لیے آیا ہے اسے قائم
 کرنے کے لیے نہیں آیا۔ علامہ کوشہ روایت میں ۱۳۶ کا مضمون نقلی اختلاف سے آیا ہے لیکن فاضل علوی علیہم السلام کے لفظ جس سے عنوان
 باب ہے ۳۶ میں نہیں۔ اور یہاں بھی اور ۱۳۵ و ۱۳۶ میں بھی دروازہ بند کرنے کا ذکر ہے۔ بیت اللہ کی ہر ایک جانب میں کا تہ ہوا
 کا ذکر ۶۲۷ میں ہے لیکن اس کے اور ۶۲۶ کے ذی اللہ عمر میں اور یہ قول بھی انہی کا ہے۔
 ۵۰ تصنیف تصیری لفظی سے ۳۲۴ کا مضمون دہرایا گیا ہے۔

(۶۸) بَابُ طَافِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى لِلسَّبْعَةِ كَعْتَبِينَ قَالَ أَوْفَرُكَ

باب نبی صائم نے طواف کیا اور ساتھیوں کے بعد دو رکعتیں پڑھیں اور تافیح کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ طواف کیا اور ساتھیوں کے بعد دو رکعتیں پڑھتے اور اسمعیل بن امیر کہتے ہیں میں نے زہری سے کہا کہ عطاء کہتے

ابن عمر رسالت پڑھیں کے بعد دو رکعتیں پڑھتے اور اسمعیل بن امیر کہتے ہیں میں نے زہری سے کہا کہ عطاء کہتے

يَقُولُ نَجْرُوهُ الْمَكْتُوبَةَ مِنْ رُكْعَتِي الطَّوْفِ فَقَالَ السَّنَّةُ أَفْضَلُ لَمْ يُطِفِ النَّبِيُّ

ہیں کرنا ہے فرض نماز طواف کی دو رکعتوں سے کفایت کرتی ہے تو کما سنت رکعتیں پڑھیں اور تافیح کہتے ہیں

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَا أَفْضَلُ مِنْ رُكْعَتَيْنِ (۶۹) عَنْ عُمَرَ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ

علیہ وسلم نے جب کبھی ساتھیوں کے ساتھ لگاتے تو دو رکعتیں پڑھیں عمر سے روایت ہے کہ ہم نے ابن عمر

عُمَرَ يَقْعُ الرَّجُلُ عَلَى أَهْرَاقِهِ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يُطِيفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ قَدِيمٌ

سے پوچھا کہ اگر وہ نماز میں ایسا ہی ہو سکتا ہے پھر اس سے کہ ہمارے وہ کے درمیان طواف کرنے کا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالنَّبِيِّ سَبْعًا خَلْفَ الْمَقَامِ كَعْتَبِينَ

نبی صائم نے اور میت اشرف کا ساتھیوں کا ساتھیوں کے ساتھ طواف کیا اور تافیح کہتے ہیں

طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قَالَ

پڑھیں اور ہمارے وہ کے درمیان طواف کیا اور تافیح کہتے ہیں

سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَا يَفْرُقُ أَحَدٌ نَحْنُ حَتَّى يُطِيفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

ہم نے جابر بن عبد اللہ سے پوچھا تو کہا ایسا ہی ہے کہ اس نے کہا ہے یہاں تک کہ ہمارے وہ کے درمیان طواف کرنے کا

(۶۹) بَابُ مَنْ لَمْ يُقِرِّبِ الْكَعْبَةَ وَلَا يُطِيفُ عَنِ خُرُوجِ الْعِرْقَةِ وَيُتْرَكُ بَعْدَ الطَّوْفِ

باب جو طواف ادا کرے اور کعبہ کے قریب نہ جائے اور عرقہ کے عطفات نہ کرے اور لوٹ جائے

الْأَوَّلُ (۷۰) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر - ۸۶۵) بَابُ مَنْ صَلَّى مِنْ رُكْعَتِي

دیکھو حدیث ۸۶۵ باب جو طواف کی دو رکعتیں

الطَّوْفِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ (۷۱) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

مسجد سے باہر پڑھے اور حضرت عمر نے حج سے باہر پڑھیں

(متكرر - ۳۲۶) بَابُ مَنْ صَلَّى مِنْ رُكْعَتِي الطَّوْفِ خَلْفَ الْمَقَامِ (۷۲) عَنْ ابْنِ

دیکھو حدیث ۳۲۶ باب جو طواف کی دو رکعتیں تمام رکعتیں پڑھے

عُمَرَ (متكرر - ۸۶۵) بَابُ لَطْوَانِ بَدَنِ الْعَصْرِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي زَكِيَّةً

دیکھو حدیث ۸۵۶ باب صبح اور عصر کے بعد طواف کرنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے دو رکعتیں پڑھا

الطَّوْفِ مَا لَمْ يَطْلُبِ التَّمَسُّقَ وَطَافَ عُمَرُ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَرَكِبَ حَتَّى صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بِيَدِ

کرتے تھے جب تک صبح نہ کرے اور حضرت عمر نے صبح کے بعد طواف کیا پھر سوار ہوئے یہاں تک کہ دو رکعتیں پڑھ لیں

طَوِي (۸۶۶) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا طَافَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَصَلَّى ثُمَّ قَعَدَتْ إِلَى

پڑھیں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے ہم کو نماز کے بعد طواف کیا پھر وہ عطاء کے پاس جا بیٹھے

الْمَدِينَةِ حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْرًا يُصَلُّونَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ قَعَدْتُ إِذْ كَانَتِ السَّاعَةُ النَّبِيَّ

جب سورج چڑھنے لگا تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے حضرت عائشہ نے فرمایا بیٹھے ہے جب وہ وقت آیا جس میں

تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ فَأَمْرًا يُصَلُّونَ (۷۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (متكرر - ۳۸۴) بَابُ

نہا کرے وہ ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے لئے

دیکھو حدیث ۳۸۴

ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ طواف کیا اور ساتھیوں کے بعد دو رکعتیں پڑھتے اور اسمعیل بن امیر کہتے ہیں میں نے زہری سے کہا کہ عطاء کہتے

ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ طواف کیا اور ساتھیوں کے بعد دو رکعتیں پڑھتے اور اسمعیل بن امیر کہتے ہیں میں نے زہری سے کہا کہ عطاء کہتے

مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ حَجَّ عُمَانُ فَرَأَيْتُهُ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ

بھی ایسا ہی کیا پھر حضرت عثمان نے حج کیا تو میں نے دیکھا کہ پہلا کام جو انہوں نے کیا بیت اللہ کا طواف تھا پھر وہ عمرہ نہ پڑھا
عمرہ نہ پڑھا معاویہ و عبد اللہ بن عمر نے حج کیا تو مجھ سے کہتے تھے کہ انہوں نے پہلے ہی بیت اللہ کا طواف کیا تو پہلا کام

أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةَ ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَ

جس سے انہوں نے اپنے ان کے بیت اللہ کا طواف کیا پھر وہ عمرہ نہ پڑھا پھر میں نے ہجرت کے لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے پہلے ہی بیت اللہ کا طواف کیا تو پہلا کام
الانصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عُمْرَةَ ثُمَّ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ

انصار کو دیکھا وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے پھر وہ عمرہ نہ پڑھا پھر ان سب کے آخر میں میں نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا کہ ابن عمر نے
ثُمَّ لَمْ يَقْضِهَا عُمْرَةَ وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ فَلَا يَسْتَأْنِفُونَ وَلَا أَحَدٌ مِنْهُمْ مَضَى

پھر انہوں نے حج کو تو عمرہ نہیں پڑھا اور یہ ابن عمر کے پاس موجود ہیں مگر ان سے نہیں پوچھا اور زمان میں سے جو لوگ یہ کہتے ہیں
مَا كَانُوا يَبْدَأُونَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَضَعُوا أَقْدَامَهُمْ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَا

دے تو تھا وہ جب اپنے قدم زمین میں رکھتے تھے بیت اللہ کے طواف سے پہلے کسی چیز سے ابتدا کرتے پھر وہ حرام نہ رکھتے
يَحْتَلُونَ وَقَدْ رَأَيْتُ أَشْيَئًا وَخَالَتِي حِينَ تَقْدِمُ مَانَ لَأَبْتَدَأَنَّ بِشَيْءٍ أَوْلَى مِنَ الْبَيْتِ

اور میں نے اپنی ماں (اسما) اور ہار (عائشہ) کو دیکھا جب وہ آئیں تو طواف بیت اللہ سے پہلے کسی چیز سے ابتدا کرتے تھے
تَطْوُفًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَقَدْ أَخْبَرْتَنِي بِمَنْ أَحْبَبْتَنِي وَأَحْبَبْتَهَا وَالزَّيْبُرُ

پھر وہ حرام سے نہ نکلتے اور یہی ماں نے مجھ کو فرمایا کہ انہوں نے اور انکی بہن (عائشہ) اور زبیر اور قتاد
وَقَالَنَّ وَقَالَنَّ وَبِعُمْرَةٍ فَلَمَّا مَسَّحُوا إِلَيْكَ كُنْ جَلُودًا بِأَبِي وَجُوبًا الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ

قتاد نے عمر کا حرام ہاتھ جھینا انہوں نے حج کو جو حرام سے نکل گئے باب مفاد و مردہ (طواف کا واجب ہونا
وَجُعِلَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ (۸۷) عَنْ عَمْرَةَ سَأَلَتْ أَسْتَيْتُهُ فَقُلْتُ لَهَا أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ

اور وہ اللہ تعالیٰ کی شے میں سے ہے ۸۷ عن عمروہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا اور کہا بتائے اللہ تعالیٰ کا
تَعَالَى إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ عَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ

زمان صفا اور مردہ اللہ کے نشانات میں سے ہے تو جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان کا طواف
أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا قَوْلَ اللَّهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ لَيْسَ مَا

گنہے (البقرہ ۱۵۸) پس اللہ کی شے میں سے ہیں گناہ نہیں کہ وہ صفا و مردہ کا طواف نہ کرے انہوں نے فرمایا
قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْحَقُّ إِنَّ هَذِهِ لَوُكَاةٌ لِمَا أَقْرَبْتُمْ عَلَيْكُمْ كَانَتْ الْجُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوفَ

بجائے تو نے اچھا نہیں کیا اس آیت کے معنی گروہ ہونے جو تو کہتے ہو کہ وہ اس طرح ہوتی اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان کا طواف نہ
يُحْمَلُ وَلَا لِكُلِّهَا أُتْرَلَتْ فِي الْأَنْصَارِ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسَمُّوا يَهْلُونَ مِنْ أَهْلِ الطَّاعِنَةِ الَّتِي كَانُوا

کرت یہ انصار کے بارہ میں آتی ہے وہ اسلام لانے سے پہلے منات بت کیے ان حرام ہاتھ تھے
يَعْبُدُونَ وَهِيَ عِنْدَ الْمُشَلِّلِ فَكَانَ مِنْ أَهْلِ كَيْسَانَ يَطُوفُ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا سَأَلُوا

پوچھا کرتے تھے (اور وہ مشل (نخل) کو جو ان میں سے) حرام ہاتھ تھا صفادہ کا طواف گناہ سمجھنا تھا حج اسلام لانے تو
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَلْنَا كَيْسَانَ يَطُوفُ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارہ میں پوچھا عرض کیا یا رسول اللہ حج صفادہ کا طواف کرنا تو اسے سمجھنے تھے
بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ أَنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ الْآيَةَ قَالَتْ

پس اللہ نے آنا کہ صفا اور مردہ اللہ کے نشانات میں سے ہیں حضرت عائشہ

ط
شعائر و شعيرة کا
جمع ہے جس کے معنی
ہیں وہ چیز جو اللہ تعالیٰ
کی اطاعت کے لئے
نشان بنائی گئی ہو
اسلئے اعمال حج کو
شعائر اللہ کہا جاتا
ہے

عاشرتے
 فرمایا کہ طواف کا
 کرنا گناہ نہیں تا اوت
 ہوں ہونی یا بیٹے فلا
 جناح علیہ السلام کی طواف
 بھلا اور پھر اس کے
 نزل کو دیکھ یہ بیان
 فرمائی کہ انصاریان
 بت کے لئے احرام
 باندھتے تھے پھر
 پختہ دیکھ ایک قول
 یہ لکھا تھا اور صفا
 اور مردہ پر دو اور
 بت اس وقت اور لاکر
 تھے جن کی پوا انصا
 نہ کرتے تھے اس لئے
 انصاریوں نے فرمایا
 کرتے تھے آہستہ
 آہستہ صفا اور
 مردہ پر جتانے کو وہ
 ہم اس لئے
 اللہ تعالیٰ نے یہ
 بیت تبارک اس
 میں برائی کوئی نہیں
 ارکان حج میں سے
 یہ پہلے ہی تھا صرف
 انصاریوں نے طواف کو
 کرنا مقصود تھا اور
 جیسا کہ ذکر ہے
 حطوف بیت اللہ
 کا حکم اس وقت بعض
 لوگوں نے اس
 خیال سے کہ اللہ
 تعالیٰ نے صفا اور
 مردہ کے طواف کا
 ذکر نہیں کیا سہی
 وہیں صفا اور مردہ
 کو چھو دیا تھا تو
 یہ آیت اسی اصلاح

عَاشِرَةً وَقَدْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوْفَ بَيْنَهُمَا قَالَيْسَ كَأَحْيَانٍ يَتَرَكُ
 سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طواف کی سنت قائم کی اور کسی کو اختیار نہیں کہ ان کے

الطَّوْفَ بَيْنَهُمَا ثَمَّ أَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرٍ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ قَا كُنْتُ سَمِعْتُهُ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ میں نے ابو بکر بن عبد الرحمن کو سنا کہ وہ فرمادیے کہ انہوں نے کہا یہ تو علمی بات ہے میں نے اسے نہیں سنا تھا

وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُونَ أَنَّ النَّاسَ لَا مَنْ ذَكَرَتْ عَاشِرَةً
 اور میں نے تو سنی علم والے آدمیوں سے سنا یہاں کہتے تھے کہ لوگ سولے ان کے من کا ذکر حضرت عائشہ نے کیا

عَمَّنْ كَانَ يَكْمُلُ لِمَنَاءَ كَانُوا يَطُوفُونَ كَلِمَةً بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ الطَّوْفَ
 منات کے لئے احرام باندھتے تھے مگر صفا اور مردہ کا طواف کیا کرتے تھے تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بینا اللہ کے

بِالْبَيْتِ كَمَا يَذْكُرُ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فِي الْقُرْآنِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَطُوفُ
 طواف کا ذکر کیا اور صفا اور مردہ کا ذکر قرآن میں نہیں کیا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صفا اور مردہ کا طواف

بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ الطَّوْفَ بِالْبَيْتِ فَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا
 کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے طواف کا حکم تو اتارا ہے اور صفا کا ذکر نہیں کیا

فَهَلْ عَلَيْنَا مِنْ حَجٍّ أَنْ نَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الصَّفَا
 تو کیا ہم پر کوئی گناہ ہے کہ صفا اور مردہ کا طواف کریں تو اللہ تعالیٰ نے اتارا کہ صفا

وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ الْأَيَّةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَأَسْمِعُوا هَذِهِ الْأَيَّةَ نَزَلَتْ فِي
 اور مردہ اللہ تعالیٰ کے نشانات میں سے ہیں ابو بکر کہتے ہیں سننا ہوں کہ یہ آیت نزلنے کے بارے میں اترا ہے

الْفَرِيقَيْنِ كَلِمَةً فِي الذِّمَنِ كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَكُونُوا فِي الْبَيْتِ بِالصَّفَا
 وہ جو اہل بیت ہیں صفا اور مردہ کا طواف کرتے تھے

الْمَرْوَةِ وَالذِّمَنِ يَطُوفُونَ ثُمَّ حَرَّجُوا أَنَّ الطَّوْفَ لَهَا فِي الْإِسْلَامِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ
 اور وہ جو ہجر پر تھے طواف کرنے کے لئے پھر اسلام میں ان کا طواف نہ سمجھتے تھے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ

اللَّهُ أَمْرًا بِالْبَيْتِ وَأَحْيَانًا يَذْكُرُ الصَّفَا حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا ذَكَرَ الطَّوْفَ
 نے بیت اللہ کے طواف کا حکم دیا اور صفا کا ذکر نہیں کیا یہاں تک کہ اس کے ذکر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے طواف کے

بِالْبَيْتِ (۹) بَابُ تَأْخِيرِ فِي الشَّعَائِرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَقَالَ ابْنُ عَسَمٍ الشَّعْرُ
 بعد کیا اسے صفا اور مردہ کے درمیان ڈالنے کے بارے میں آیا ہے اور ابن عسما کہتے ہیں کہ وہ اترا

دَارِئِي عِبَادَةَ ابْنِ رِزْقَانَ بَنِي إِدْحَانَ مَوْلَى ابْنِ عَسَمٍ (متكرر) (۸۶۱)
 بنی مزاد کے تھے بنی ادحان میں سے وہ اپنے صاحب سے ما

(۸-۶۶۸) عَمْرُو بْنُ زَيْنَارٍ مَتَكْرَرًا (۸۶۵-۸۶۶) عَمْرُو بْنُ زَيْنَارٍ مَتَكْرَرًا (متكرر) (۸۶۵)
 بھیرو عدیث نمبر ۸۶۵ ع

بھیرو عدیث نمبر ۸۶۵ ع

کے لئے نازل ہوئی مگر حضرت عائشہ کی تفسیر کو ترجیح ہے : ان دو مقامات برابر دو منہ کے ہیں جن سے دوڑنے کے لئے معلوم ہوا جاتی ہے : اس کے الفاظ
 ہر ۱۶۵۴ میں ہے : قرآن میں یہ الفاظ لائے ہیں : فقلت لما فرأيت أن عبد الله عشي إذا بلغ الركوب الجماعي قال لا آفة إن يزاحم على الركوب فإنه كان لا
 حتى يستلمه ۸۵۹ کے تیرم میں ہے : ان الفاظ میں سے : کان ابن عسما عشي بين الركوبين قال ان كان عشي بينك وبينه لا يستلما منه ۸۵۹ خفيف تغير نسلي
 سے ۱۶۵۴ کو دوہرایا ہے پھر اس کا اسے الفاظ سے ہوتی ہے سالہا میں عمر بن حنظلان بالبیت فی حمرہ واہ لطف بید اللہ صفا والمروۃ ایاتی امر اللہ
 فقال قدم النبي الخیر یس من صفا والمروۃ کے بعد صفا کی طرف تشریح ہے یعنی صفا اور مردہ کا طواف کی سات مرتبہ تھا : وہ اس میں ہی تشریح
 حدیث کا ہے جو ۶۵۹ میں ہے یعنی اول باب کا سوال نہیں الفاظ میں ہر ۴۵۹ سے ملتے جلتے ہیں

(۶۷۶) عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ (مكرر - ۸۷۸) (۸۵) بَابُ التَّلْبِيَةِ وَالتَّلْبِيَةِ إِذَا

دیکھو حدیث نمبر ۸۷۸۔ باب صحیح حدیث سے عرفات کو جانے وقت

عَلَمَ مِنْ هُنَى إِلَى عَرَفَاتِهِ - ۶۷۷ عَنْ أَبِي رَزِينَةَ (مكرر - ۸۷۶) بَابُ التَّلْبِيَةِ وَالْحَجَّاءِ يَوْمَ

دیکھو حدیث نمبر ۸۷۶۔ باب حج کے دن تلبیہ کی دعا اور اس کے

عَرَفَاتِهِ - ۸۷۸ عَنْ سَالِمٍ قَالَ كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى الْحَجَّاجِ أَنْ لَا يَخْلُقَ الْفَارِسَ فِي الْحَجِّ فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ

سالم سے نہایت ہے کہ عبد الملک نے حکام کو لکھا کہ اعمال حج میں ابن عمر کی مخالفت نہ کریں

وَأَنَّ مَعَهُ يَوْمَ عَرَفَاتِهِ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ الْحَجَّاجِ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ

جس وقت سورج ڈھل گیا تو ابن عمر نے اور میں ان کے ساتھ تھا اور حج کے گھیرے پہلو سے آواز دی تو وہ باہر آئے اور ان پر

وَلَحْفَةٌ مَعْصُفَةٌ فَقَالَ مَالِكُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ الرَّوْحَانُ كُنْتُ تَرِيدُ السَّنَةَ

کسی تک کی ہادر تھی کہ اب ابو عبد الرحمن کیا بات ہے ابن عمر نے کہا کہ سنت کی پیروی چاہتے ہو

قَالَ هَذِهِ السَّاعَةَ قَالَ لَيْسَ لَكُمْ وَقَالَ لَيْسَ لَكُمْ وَقَالَ لَيْسَ لَكُمْ وَقَالَ لَيْسَ لَكُمْ

تو میں نے کہا اس وقت کہا ان کو کہ تم لوگ اس وقت سے نہیں آنا اور ان کو کہ تم لوگ اس وقت سے نہیں آنا

حَجَّاجٍ فَجَاءَهُ فَمَا بَيْنِي بَيْنَ ابْنِي فَقُلْتُ إِنَّ كُنْتُ تَرِيدُ السَّنَةَ فَأَقْصِرْ الْخُطْبَةَ وَتَجَمَّلْ

یہاں تک کہ حج کا بیجا ہو اور میرے باپ کے درمیان چلے گا تو میں نے کہا کہ آپ سنت (تلبیہ) کی آواز دیا ہے میں تو خطبہ مختصر چاہتا ہوں اور

الْوَقُوفُ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَلَمَّا سَأَى ذَلِكَ عَابَهُ اللَّهُ قَالَ صَدَقَ (۸۷) بَابُ

وقوف عرفات میں جلدی کیوں تو وہ عبد اللہ کی طرف دیکھنے لگا جب عبد اللہ نے تلبیہ پڑھی تو کہا صحیح کہتا ہے

الْوَقُوفُ عَلَى الدَّابَّةِ يَعْرِفَتَهُ - ۸۷۸ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بَدَتْ لِحَارِثَانَ نَامَةً اخْتَلَفُوا

عرفات پر دو فرق سواری ہو کر گونا گونا گوں فصلی حدیث کی روایت ہے کہ عرفات کے دن لوگوں نے

جَنَدَهَا يَوْمَ عَرَفَاتِهِ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ

نبی کریم صلعم کے روزہ سے آئے ہیں اس کے پاس اختلاف کیا تو بعض نے کہا آپ روزہ سے ہیں اور بعض نے کہا

بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدْرِ لَبَنٍ هَدَوٍ وَوَقِفَتْ عَلَى بَعْضِهِ قَتْرَبِيرًا (۸۸) بَابُ

روزہ سے نہیں ہیں تو میں نے آپ کے پاس دو حصہ کا پالہ بھیجا اور آپ نے کھانا کھایا اور کھانے کے بعد آپ نے پی لیا

أَجْمَعَ بَيْنَ الصَّوْمَيْنِ يَعْرِفَتَهُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا قَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مَعَ

عرفات میں دو نمازوں کو اٹھا کرنا اور ابن عمر کو جب امام کے ساتھ نماز نہ ملتی تو وہی دعویٰ کو اٹھا

الْأَمَامِ يَوْمَ بَيْنَهُمَا - ۶۷۸ عَنْ سَالِمٍ (مكرر - ۸۷۷) بَابُ قَصْرِ الْخُطْبَةِ

بعض نے کہنے سے کہنے دیکھو حدیث نمبر ۸۷۷۔ باب عرفات میں مختصر

يَعْرِفَتَهُ - ۶۷۹ عَنْ سَالِمٍ (مكرر - ۸۷۷) (۹۰) بَابُ التَّلْبِيَةِ وَالْحَجَّاءِ إِلَى الْمَوْقِفِ

دیکھو حدیث نمبر ۸۷۷۔ باب عرفات پر تلبیہ کرنے کے لئے جلدی جانا

لفظ میں شہادہ
خمس یا یوم عرفات
فی صوم النبی صلعم
صلعم غیر اذنی النبی
من صوم یوم عرفات
الصلعم سے عرفات کے
دن کا روزہ نہیں
رکھا۔
محل یہاں تضرع
کے بعد ہی ہذا لفظ
کا لفظ لایا ہے جس
سے سنو اب یہ
روایت میں ہے کہ
یہی لفظ کی جگہ
بہر وقت اٹھنے کے
لفظ میں طلب یہ
ہے کہ کوئی تلبیہ
کے بعد نماز کی نہ کرے
نہ ۸۲۳ میں گذر چکا
ہے کہ مختصر صلعم
کی جگہ تک لیکر
کہنے سے تضرع اور
۶۸۰ میں یہی
آتا ہے
محل حرم کے باہر
عرفات کے پاس تک
جگہ پر نام کو پڑھنے
سے نبی کریم صلعم نے
بہادرتہ اور یوں آواز
کی روایت میں ہے
منا سے کہ اس مقام
میں روزہ لگایا تھا اور
سوچ دھلتے ہی
انصوری اور شہری ہوا
ہو کہ عرفات کو پہلے
اس کے بعد اس کی
یہ میں مقام کے
عنوان باب سے

۶۷۸

۶۷۹

(۹۱) بَابُ الْوُتُوْفِ بِعَرَفَاتٍ (۹۱) عَنْ جَبْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ أَصَلْتُ بَعْدَ اللَّيْلِ

بَابُ عَرَفَاتٍ مِمَّنْ هَمَّرْنَا جَبْرِ بْنِ مُطْعِمٍ سَمِعَ رِوَايَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى فِي عَرَفَاتٍ

فَدَاهَبَتْ أَطْلُكُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَذَرَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقْفًا يَعْرِفُهُ فَقُلْتُ

لَوْ بِيْنَ أَسْفَلَ عَرَفَةَ كَيْفَ دَانَ تَلَاخُزْ كَرْتِي مَا بِيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوَعَرَفَاتٍ مِمَّنْ هَمَّرْنَا

هَذَا أَوْ اللَّهُ مِنْ أَحْمَسٍ فَمَا شَانُ هَمَّرْنَا ۸۸ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ عَرُوَّةُ كَانَ

أَبِي هُرَيْرَةَ يَوْمَ عَرَفَاتٍ مِمَّنْ هَمَّرْنَا هَمَّرْنَا

النَّاسُ لِيُؤْفِقُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَرَفَةَ الْاَحْمَسِ وَالْحَمْسُ فَمَا شَانُ هَمَّرْنَا هَمَّرْنَا هَمَّرْنَا هَمَّرْنَا هَمَّرْنَا هَمَّرْنَا

الْمَرْءُ الْاَلْمَرْءُ الشَّيْبَابُ يُطَوَّفُ فِيهَا مِنْ لَمْ يُعْطِ الْحَمْسَ طَافَ بِاللَّيْلِ حَمْرِيَانَا

وَكَانَ لِيُبَيِّضَ جَمَاعَةَ النَّاسِ مِنْ عَرَفَاتٍ وَاللَّيْلِ أَحْمَسٍ مِنْ جَمْعٍ قَالَ وَابْحَارَ لِي

أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ هَلْدَةَ الْاَلَيْةَ تَزَلَّتْ فِي الْحَمْسِ ثُمَّ أَقْبَضُوا مِنْ

حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ قَالَ كَأَنِّي لَأَيْفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ قَدْ فَعَلُوا إِلَى عَرَفَاتٍ (۹۲)

بَابُ السَّيْرِ إِذَا دَفَعَهُ مِنْ عَرَفَةَ (۸۸) عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهَا قَالَ سَمِعْتُ أَسَامَةَ وَأَنَا

جَالِسٌ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَفَعَهُ مِنْ عَرَفَاتٍ

قَالَ كَانَ يُسِيرُ الْعَمَقَ فَإِذَا وَجَدَ فُجُوهَ نَصٍّ قَالَ هِشَامٌ وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَمَقِ

فُجُوهٌ مَقْسُوعَةٌ وَأَجْمِيحٌ فُجُوهٌ وَأَفْجَاءٌ وَكَذَلِكَ رُكُوعَةٌ وَرُكُوعَةٌ مَنَاصِلٌ لَيْسَ جَابِنٌ

فَرَارٍ (۹۳) بَابُ التَّزْوِيلِ بَيْنَ عَرَفَةَ وَمَنْعَةٍ (۸۸) عَنْ أَسَامَةَ بْنِ مَرْيَدٍ

رَمْتِكُمْ (۱۲۰) (۸۸۲) عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَجْمَعُ

بَيْنَ الْعَرَبِ وَالْعَشَائِرِ بِجَمْعٍ غَيْرَ أَنَّهُ يَمُرُّ بِالشَّعْبِ الَّذِي أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَنْ نَافِعٍ سَمِعْتُ رِوَايَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى فِي عَرَفَاتٍ

فَدَاهَبَتْ أَطْلُكُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَذَرَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقْفًا يَعْرِفُهُ فَقُلْتُ

لَوْ بِيْنَ أَسْفَلَ عَرَفَةَ كَيْفَ دَانَ تَلَاخُزْ كَرْتِي مَا بِيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوَعَرَفَاتٍ

هَذَا أَوْ اللَّهُ مِنْ أَحْمَسٍ فَمَا شَانُ هَمَّرْنَا هَمَّرْنَا هَمَّرْنَا هَمَّرْنَا هَمَّرْنَا هَمَّرْنَا هَمَّرْنَا هَمَّرْنَا هَمَّرْنَا

النَّاسُ لِيُؤْفِقُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَرَفَةَ الْاَحْمَسِ وَالْحَمْسُ فَمَا شَانُ هَمَّرْنَا هَمَّرْنَا هَمَّرْنَا هَمَّرْنَا هَمَّرْنَا

الْمَرْءُ الْاَلْمَرْءُ الشَّيْبَابُ يُطَوَّفُ فِيهَا مِنْ لَمْ يُعْطِ الْحَمْسَ طَافَ بِاللَّيْلِ حَمْرِيَانَا

وَكَانَ لِيُبَيِّضَ جَمَاعَةَ النَّاسِ مِنْ عَرَفَاتٍ وَاللَّيْلِ أَحْمَسٍ مِنْ جَمْعٍ قَالَ وَابْحَارَ لِي

أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ هَلْدَةَ الْاَلَيْةَ تَزَلَّتْ فِي الْحَمْسِ ثُمَّ أَقْبَضُوا مِنْ

عراق میں جس کی جمع بیاد و حاشیہ کی معنی خاصیت ہیں قریش اور کذا اور حدیث میں کلمتوں کے لئے اس کے کوفہ یا عین میں لفظ ذکر کرتے تھے اور عرفات میں جس جگہ حاجی کھڑے ہوتے ہیں یہاں سے چلتے تھے کیونکہ وہ جگہ تھی یہاں سے کوفہ سے پہلے کا یہ جگہ حج پر بھی اس لئے لائے تھے یہاں الفاظ انضلت بیاہواصل تواریخ میں معلوم ہوتا ہے کہ کعبہ کے حادوں میں اضلال کے معنی کشیدہ یا گمراہ مانا جاتا ہے لہذا حج پر اس کی کوشش میں چکر لگائی جاتی تھی عرفات میں عروہ تھا۔ لکھنے کے لئے اور بعد عروہ سے لے کر عرفات تک اور عرفات میں عرب اور عشا کہ آگیا تھا یہ لفظ تھا تو عربی کا ہے جہاں نماز کے لئے تھا۔ اس وقت سے اس وقت تک یعنی خوب تر چلنے کے اور خاص فضل العین یعنی خلاصی یا زوال نام بخاری میں ہے۔ ایک معنی اللہ تک کہ کہ یہ جگہ یا عرفات اور مناصر کا لفظ اللہ ہے۔ ملا ہے یہاں بیت حضرت اسی کی اور انبی صلعم چون شافعی من عرفة قال الشعب نقضى حاجته فوضا فقلت يا رسول الله اتصلى قال اتصلى اما لك يا ابن اخنوخ فضا حاجت كليله فما مسك كليله نبي

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَدْخُلُ فِيهِ فَفَضْرٌ وَتَوَضُّؤًا وَلَا يَصِلُ حَتَّى يَصِلَ بِمَجْمَعِهِ (۶۸۱ - ۶۸۲)

ابن عباس سے روایت ہے کہ جب نماز میں وضو کرے اور پھر وضو کرے تو اس میں جائے اور فضائے حاجت سے ۱۲۰ یا ۱۴۰ ہونے چاہئے۔

عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَمَتَكَ (۸۲۳ و ۸۲۴) بَابُ عَرَاتٍ سَأَلَتْهُ وَفَتْحُهَا كَرِيمٌ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّكِينَةِ عِنْدَ الْأَقَامَةِ وَأَشَارَتْ بِالسُّوْطِ بِالسُّوْطِ (۸۸۳) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ دَفَعَهُمُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ فَصَمِعَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ زَجْرًا شَدِيدًا أَوْضَرِيًا وَصَوْرًا لِلْأَيْلِ فَأَشَارَ

بِسُوْطِهِ إِلَيْهِمْ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِضَاعِ

أَيْضَعُوا أَمْرًا عَوًّا وَلَا تَكْمَلُوا الْفَخْلَ بَيْنَكُمْ وَتَجْرُنَ إِخْوَالَهُمْ بَيْنَهُمْ (۹۵) بَابُ

أَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْمَرْدِ لِقَاءَهُ (۶۸۲) عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَمَتَكَ (۸۲۳) بَابُ

بَابُ مَنْ صَمِعَ بَيْتَهُمَا وَوَلَدَهُ تَطَوُّعًا (۸۸۳) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَمَعَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُشْرِكِ وَالْمُسْلِمِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَلَمْ

يَسْبِقْ بَيْنَهُمَا وَلَا خَلْفَ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (۶۸۲) عَنْ أَبِي أَيُّوبٍ رَمَتَكَ (۸۸۲)

بَابُ مَنْ جَاءَهُ مِنَ الْأَقَامَةِ لِقَاءَهُ (۸۸۳) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَمَعَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُشْرِكِ وَالْمُسْلِمِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَلَمْ

يَسْبِقْ بَيْنَهُمَا وَلَا خَلْفَ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (۶۸۲) عَنْ أَبِي أَيُّوبٍ رَمَتَكَ (۸۸۲)

بَابُ مَنْ جَاءَهُ مِنَ الْأَقَامَةِ لِقَاءَهُ (۸۸۳) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَمَعَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُشْرِكِ وَالْمُسْلِمِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَلَمْ

يَسْبِقْ بَيْنَهُمَا وَلَا خَلْفَ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (۶۸۲) عَنْ أَبِي أَيُّوبٍ رَمَتَكَ (۸۸۲)

بَابُ مَنْ جَاءَهُ مِنَ الْأَقَامَةِ لِقَاءَهُ (۸۸۳) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَمَعَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُشْرِكِ وَالْمُسْلِمِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَلَمْ

يَسْبِقْ بَيْنَهُمَا وَلَا خَلْفَ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (۶۸۲) عَنْ أَبِي أَيُّوبٍ رَمَتَكَ (۸۸۲)

بَابُ مَنْ جَاءَهُ مِنَ الْأَقَامَةِ لِقَاءَهُ (۸۸۳) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَمَعَ

ابن عباس سے روایت ہے کہ جب نماز میں وضو کرے اور پھر وضو کرے تو اس میں جائے اور فضائے حاجت سے ۱۲۰ یا ۱۴۰ ہونے چاہئے۔

ابن عباس سے روایت ہے کہ جب نماز میں وضو کرے اور پھر وضو کرے تو اس میں جائے اور فضائے حاجت سے ۱۲۰ یا ۱۴۰ ہونے چاہئے۔

ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكَعَتَيْنِ فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا

پھر دو رکعت عشاء پڑھی جب صبح طلوع ہوئی تو کہی نبی صلعم صرف

علا بعض شبلاط بعض صواب سے خاص ہیں یا لوگوں کو سمجھنے میں غلطی لگتی ہے

يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ الْأَهْدَى الصَّلَاةَ فِي هَذَا الْمَكَانِ مِنْ هَذَا الْيَوْمِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ

اسی نماز کو اسی مکان میں اس دن اس وقت پڑھتے عبداللہ نے کہا

صل مزدلفہ جانا

فَمَا صَلَّوْا تَانِ مَحْوَرَانِ عَنْ وَقْفِهِمَا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ بَعْدَ مَا يَأْتِي النَّاسُ الْمَزْدَلِفَةَ

یہ دو نمازیں ہیں کہ اپنے وقت سے پہلانی کشیں مغرب کی نماز بعد اس کے کہ لوگ مزدلفہ کو پہنچیں

کمال رات پہننا امام کے ساتھ ٹھہرنا خاصک حج میں سے

وَالْمَغْرُبَيْنِ يَذْرَعُ الْفَجْرُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ (۹۸) بَاب

اور حج کی نماز جب صبح نمودار ہو جائے گا میں نے نبی صلعم کو ایسا کرتے دیکھا ہے

پہن سزور جیسے بچے عورتیں بوڑھے بیمار اور بڑھ کر رات

مَنْ قَدَّمَ ضَعْفَةَ أَهْلِهِ لِيَلِيْلٍ فَيَقْفُوْنَ بِالْمَزْدَلِفَةِ وَيَدْعُوْنَ وَيَقْدِمُ إِذَا خَابَ الْقَمَرُ

جو اپنے اہل میں سے کمزوروں کو آگے (دستا) میں بھیجیں اور مزدلفہ میں بھیجیں اور دعا کریں اور کہتے ہیں جب چاند غروب جائے

و تڑوٹ کر کے صبح

(۸۸۶) عَنْ ابْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ مَعْرَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا

ابن قتیبہ سے روایت ہے کہ سالم نے کہا اور عبداللہ بن عمر

ایک نفر میں اور کچھ رات متاوان ہو جائیں تو ان کے لئے اجازت ہے

يَقْدِمُ ضَعْفَةَ أَهْلِهِ فَيَقْفُوْنَ عِنْدَ الشَّعْرِ الْحَرَامِ بِالْمَزْدَلِفَةِ لِيَلِيْلٍ فَيَدْعُوْنَ

میں سے کمزوروں کو آگے بھیج کر تھے وہ مزدلفہ میں مشر حرام کے پاس رات کو ٹھہرتے اور جب مکان کو چلی جاتا

کمزوروں کو ہی کریم کا اجازت دینا اور حضرت ابوہریرہ کا حضرت سے مزدلفہ سے لڑنے

اللَّهُ مَا بَدَأَهُمْ تَحْمِيحُونَ قَبْلَ أَنْ يَكْفِيَ الْإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْعُوَ فَيَدْعُوهُمْ مَنْ

اللہ کا ذکر کرتے پھر امام کے ٹھہرنے اور لوگوں سے پہلے لوٹ جاتے ان میں سے بعض

رعاز ہونے کی اجازت مانگتا ہوتا ہے کہ حضرت اور اجازت صرف

يَقْدِمُ هِيَ لِيَصَلَاةَ الْعَجْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدِمُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا قَامُوا أَوْ أَحْمَرَةٌ وَكَانَ

منا کو صبح کی نماز کے وقت پہنچ جاتے اور بعض اس کے بعد پہنچ جاتے جب پہنچ جاتے تو کنکریاں مارتے اور

منذ صلوات کے لئے پہنچے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تکلیف ہوتی ہے

ابن عمر رضي الله عنهما يقول ان رخص في اولك رسول الله صلى الله عليه وسلم

ابن عمر کا کہنے تھے کہ رسول اللہ صلعم نے ان کے پاس میں اجازت دی ہے

علا ہما صرف اس قدر لفظ میں یعنی رسول اللہ صلوات اللہ

(۹۸۲-۹۸۳) عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ سَأَلَ ابْنَ جُرَيْجٍ (۸۸۷) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

ابن جریج سے روایت ہے کہ ابن عباس سے روایت ہے

علا ہما صرف اس قدر لفظ میں یعنی رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم من بعد بلوغ

يَقُولُ أَلَا مَنْ قَدَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمَزْدَلِفَةِ فِي ضَعْفَةِ أَهْلِهِ

کہا کہ میں ان میں سے تھا جنہیں نبی صلعم نے مزدلفہ کی رات اپنے گھروں کے کمزوروں میں سے (دستا) کو آگے بھیجا

علا ہما صرف اس قدر لفظ میں یعنی رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم من بعد بلوغ

(۸۸۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَوْسَى أَسْمَاءُ عَمْرَةَ ابْنِ مَرْثَدَةَ كَتَبَتْ لِي أَنَّهَا تَرَى لَيْلَةَ حَجْرِ عِنْدَ الْمَزْدَلِفَةِ

عبداللہ بن مویس نے اسما کے غلام نے اسما سے روایت کی کہ وہ مزدلفہ کی رات مزدلفہ میں اتھری

و ستانکا فیصلوا المصعب بنی ریحوا جسر العقبه قبل ان یصلیہم دفعة الناس

فَقَامَتْ تُصَلِّي فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ يَا بَيْتِي هَلْ خَابَ الْقَمَرُ كَلْتَ لَا فَصَلَّتْ

اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگی کچھ دیر نماز پڑھتی رہی پھر کہا بیٹا کہا چاند غروب کیا میں نے کہا نہیں پھر تھوڑی دیر

علا ہما صرف اس قدر لفظ میں یعنی رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم من بعد بلوغ

سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ هَلْ خَابَ الْقَمَرُ كَلْتَ نَعَمْ قَالَتْ فَارْتَحِلُوا فَارْتَحِلْنَا وَمَضَيْنَا

نماز پڑھتی رہی پھر کہا کیا چاند غروب کیا میں نے کہا ہاں تو زلیخا چل پڑی تو ہم چل پڑے اور چلتے رہے

حَتَّى رَمَيْتَا جَبْرَةَ ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصُّبْحَ فِي مَازِلِهَا فَقَلَّتْ لَهَا يَاهُتَاةَ

یہاں تک کہ انہوں نے لنگریاں اس پھر لوٹ گئیں اور صبح کی نماز اپنے گھروں میں پڑھی میں نے عرض کیا بی بی ہم نے تو

مَا أُرَاكَ إِلَّا قَدْ غَلَسْنَا قَالَتْ يَا بَيْتِي إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِنَ لِلطَّعْنِ

تاریکی میں کہہ رہا ہوں تم نے لگیں بیٹا رسول اللہ صلعم نے عورتوں کو اجازت دی ہے

علا ہما صرف اس قدر لفظ میں یعنی رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم من بعد بلوغ

۶۸۵- عن عائشة (متكرر- ۸۸۹) (۸۸۹) عن عائشة ذكارت نزلنا المردلة

دیکھو حدیث ۸۸۹۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم مزدلفہ میں تھے

فاستاذت النبي صلى الله عليه وسلم سوكة ان تدفع قبل خطبة الناس وكانت

تو حضرت سودہ نے نبی صلعم سے اجازت مانگی کہ لوگوں کے ہجوم سے پہلے پہلے ارادہ ہو جائیں اور ان کی

افراة بطيئة كما اذن لها قد فعلت قبل خطبة الناس واقتنا حتى اصبتنا نحن ثم

رفتار دہی تھی تو آپ نے انہیں اجازت دی تو وہ لوگوں کے ہجوم سے پہلے پہلے ارادہ شروع طوع ہوئے تک تھیں رہے

وقصايد فبعهم فلان الكون استاذت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استاذت

پھر ہم آپ کی روانگی کے ساتھ روانہ ہو گئے اگر میں رکھی رسول اللہ صلعم سے اجازت لیتی تھی تو آپ سودہ نے اجازت

سودة احب الي من غيرها (۹۹) باب من يصل الي جبريل (م- ۶۸۵)

کی صحیح تو یہ مجھے خوشی کی چیزوں سے زیادہ پسند تھا باب جو صحیح کی نماز مزدلفہ میں پڑھے

عن عبد الله (متكرر- ۸۸۵) (۶۸۶) عن عبد الرحمن بن زيد (متكرر- ۸۸۵)

دیکھو حدیث ۸۸۵۔ ۲۔ دیکھو حدیث ۸۸۵

(۱۰) باب من يذوق من جمع (۸۹۱) عن عمرو بن ميمون يقول شهدت عمر

باب مزدلفہ ہے کب روانہ ہو عمرو بن میمون سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر

رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ثم وقف فقال ان الشركين كانوا لا يقضون

تھا انہوں نے صبح کی نماز مزدلفہ میں پڑھی پھر پھر سے رہے اور فرمایا کہ شریکین آفتاب کے طلوع

حتى تطلع الشمس ويقولون اشركوا ثم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم

ہوئے تک تو تھے اور کہتے کہ غیر جہک جا ملے نبی صلعم نے ان کی مخالفت کی اور

اذا مضى قبل ان تطلع الشمس (۱۰۱) باب التلبية والتكبير عداة النحر حتى روي

آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے لوٹ گئے باب لیلہ اور اللہ اکبر کہنا قربانی کے دن کی پہلی تک جب تکریاں

الحجرة والارتكاف في السراير (م- ۶۸۷) عن ابن عباس (متكرر- ۸۲۳)

ما سے اور چلتے چلتے اپنے پیچھے کسی کو سوار کرنا دیکھو حدیث ۸۲۳۔ ۵۔

(م- ۶۸۸) عن ابن عباس (متكرر- ۸۲۳) (۱۰۲) باب فمن تمتع بالحجرة الى الحجرة

دیکھو حدیث ۸۲۳۔ ۶۔ باب جو کوئی عمرہ کوچ کے ساتھ ملا کر فائزہ لے

فما استعير من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلثة ايام في الحج ومبعدة اذ ارجمتم

تو جو قرمانی میسر ہو کرے اور جو نہ پائے تو تین دن کا روزہ مقام حج میں ہو اور سات دن جب تم گھر کی طرف جاؤ

۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

طبرستان ۸۳۵ کا
 پہلا حصہ زیادتی کے ساتھ لکھا گیا ہے۔
 یہاں حدیث میں شریع ہوتی ہے۔
 مسالمت ابو عیسیٰ عن المتفقہ الفاری
 بجا ہوا سالہ عن ابیہما فقال فیہما
 جزویاً و غیر قاضیاً
 او شریعی دہ
 حال و کالج ناسخ
 گوہر ہوا قیمت
 اس کے بعد مضمون
 اسی فی تفسیر لفظی سے
 ایسا ہوا و جملہ
 حصہ شریعی لہ
 اقدم ابو عیسیٰ
 حضرت ابو عیسیٰ نے
 ہی سے مراد ادا
 یا کما سے یا کسی کی
 قرآنی ہی کی تشریح
 فی دم سے مراد ہر
 اور ہر ایک کے میں
 سات آدمی شریک
 ہو سکتے ہیں۔
 عہد لکھ گیا
 سے استمال کیا ہے
 اس نفع الطوائف
 جاری ہوا اور ان میں
 سواری ہوئی ہر
 عطا نظر ہوئی سواریوں
 صورت پر ہے لیکن
 ہر نام اللہ اور ہر
 سواریوں کا منع نہیں
 معلوم ہوتا ہے جس
 اسے متبرک خیال
 کر کے اس پر بارہ
 ہونا تھا سوال کی
 حالت میں ہی ہو
 انہوں نے انہوں نے
 پلے سے لکھا گیا تھا
 لکھ کر مزید ہلکے
 ہر نام اللہ اور انہوں نے
 ہر نام اللہ اور انہوں نے
 لکھا گیا تھا ہے۔

ثَابِتٌ قَسْرَةَ كَامِلَةً ذَلِكَ مِنْ كَيْفِ كُنْ أَهْلَهُ خَاضِرِي السَّيِّدِ الْحَرَامِيِّ (۷۸۹-۸) عَنْ

تیسرے دس میں ہے ان کے لئے ہے میں نے کہہ دیا ہے صحیح میں ہے بولیں (۱۹۷۰)

بِئْسَ جَمْرَةٌ رَمَتْكَ لَمْ يَكُنْ رُكْبًا لِلْبَدَنِ لِقَوْلِهِ وَكَيْفَ كُنْ جَمْرًا هَالِكَةً

وہی حدیث نمبر ۸۳۵ کتاب التماسک کے لہذا اولیٰ و ثانیہ اور تیسری حدیث سے فرمایا ہے اور فرمایا کہ

مَنْ شَعَرَ بِاللَّهِ كَمَنْ شَعَرَ بِهَا خَيْرٌ ذَكَرُوا اَللَّهَ كَلِمَةً اَصْرَافًا وَ اِذَا وَجِدْتَ جَنُودَهَا

ہم نے ہمارے لئے اللہ کے لشکاروں سے ظہر لایا ہے۔ بے شک ہر نام اللہ کا نام ان پر یاد کرنا اور اللہ سے دعا کرنا

فَكُلُوا مِنْهَا وَاَطِعُوا الْقَائِمَ وَالْمَعْرُومَةَ لَكَ كَمَنْ شَعَرَ بِهَا كَمَنْ شَعَرَ بِهَا لِقَوْلِهِ

ہاں، جو کچھ چاہو اسے کھاؤ اور جو کچھ روکنا ہے روکو اور جو کچھ اللہ سے دعا کرو اور اللہ سے دعا کرو

اَللَّهُ كَمَنْ شَعَرَ بِهَا وَاَطِعُوا الْقَائِمَ وَالْمَعْرُومَةَ لَكَ كَمَنْ شَعَرَ بِهَا كَمَنْ شَعَرَ بِهَا لِقَوْلِهِ

اللہ کی طرح ہر نام اللہ کا نام ان پر یاد کرنا اور اللہ سے دعا کرنا اور اللہ سے دعا کرنا

عَنْ اَمَامِنَا لَمْ يَكُنْ رُكْبًا لِلْبَدَنِ لِقَوْلِهِ وَ اِذَا وَجِدْتَ جَنُودَهَا

تاکہ اس پر اللہ کی طرف سے ہر نام اللہ کا نام ان پر یاد کرنا اور اللہ سے دعا کرنا اور اللہ سے دعا کرنا

وَالْمَعْرُومَةَ لَكَ كَمَنْ شَعَرَ بِهَا وَاَطِعُوا الْقَائِمَ وَالْمَعْرُومَةَ لَكَ كَمَنْ شَعَرَ بِهَا

اور حضور سے جو فرمایا ہے کہ جو اللہ سے دعا کرے اور اللہ سے دعا کرے اور اللہ سے دعا کرے

اَسْتَقْسَمُ بِهَا وَاَطِعُوا الْقَائِمَ وَالْمَعْرُومَةَ لَكَ كَمَنْ شَعَرَ بِهَا وَاَطِعُوا الْقَائِمَ

جو صورت ہمارے کی طرف سے ہر نام اللہ کا نام ان پر یاد کرنا اور اللہ سے دعا کرنا اور اللہ سے دعا کرنا

وَالْمَعْرُومَةَ لَكَ كَمَنْ شَعَرَ بِهَا وَاَطِعُوا الْقَائِمَ وَالْمَعْرُومَةَ لَكَ كَمَنْ شَعَرَ بِهَا

کہہ کر اور اسی سے جو حدیث صحیح میں لکھی ہے اور اسی سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ حَمَلٍ لَيْسَ بِكَ ذَكَرْتُمْ اَللَّهَ فَقَالَ اَللَّهَ فَقَالَ اَللَّهَ فَقَالَ اَللَّهَ

ابو عیسیٰ نے کہا کہ جو اللہ سے دعا کرے اور اللہ سے دعا کرے اور اللہ سے دعا کرے اور اللہ سے دعا کرے

اَللَّهَ فَقَالَ اَللَّهَ فَقَالَ اَللَّهَ فَقَالَ اَللَّهَ فَقَالَ اَللَّهَ فَقَالَ اَللَّهَ فَقَالَ اَللَّهَ

اس پر ہوا اور جو اس نے عرض کیا ہے قرآنی کا ہر نام اللہ کا نام ان پر یاد کرنا اور اللہ سے دعا کرنا اور اللہ سے دعا کرنا

عَنْ اَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ اَللَّهَ فَقَالَ اَللَّهَ فَقَالَ اَللَّهَ فَقَالَ اَللَّهَ

۲۸۸ صحیح بخاری، بیستویں پارہ

ما کر دیات نفع
 ہے لفظ میں نکت
 قلائد بدن النبی
 صلعم میں ایسی شے
 تعلق و اشعار و
 اہل ہا فخر علیہ
 شے کان اجل له
 اشعار الطرم کے نہ
 ہونے کے باوجود
 ہوا ایسی سے عنوان
 ہے
 ہے مکہ روایت میں
 سموی اختلاف نقلی
 ہو کر میں حتی آخر
 کی جائے حتی اصل
 میں ہے
 ہے نقلی اختلاف
 سے اس قدر صحت
 دو بار یا ۸۹۲
 میں گذر چکا قالت
 کان رسول اللہ صلعم
 پہنچا من المدینة
 فانتقل قلائد ہذا
 لہذا یجوز شیعنا
 مما یجوز بالحدیث
 ہدی میں اونٹ
 اور گائے دونوں
 داخل ہیں
 ہے کہ یہی فریضہ
 ۶۹۲ کا ذکر ہے
 کہ جو زیادہ بھی ہے
 قالت نقلت قلائد
 ہدی النبی صلعم
 لہذا شعر ہوا قلہا
 اقلہ تمام بیوت
 بحالی الویت
 بالمدینة فخرجوا
 شے کان اجل له
 شعر و اشعار کا
 ہوا صاحب کی غلطی
 کا مصلح کرنا انکے
 تیر علی کی اہلیت
 کو حضرت اہل کفنی
 فریضہ میں ہے
 علی بن ابی ہاشم

وَأَنَّ مَنَ أَحْسَبَ بِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِرَيْدِي أُخْلِفَتْ قَلْدَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدْيُ

کے ساتھ تھے یہاں تک کہ جب ذوالحلیفہ ۶۹۲ میں نبی صلعم نے اپنی قربانی کو نفلادہ پہنچایا

فَأَشْعَرُوا أَحْرَمَ بِالْعَمْرَةِ (م-۶۹۲) عَنْ عَائِشَةَ رَمَتْكَ (۱۰۶) بَاب

اور نشان لگایا اور عمرہ کا احرام باندھا دیکھو حدیث نمبر ۸۹۲ م۔ باب

قِيلَ لِقَلْدَةِ الْبَيْدَانِ الْبَقَرِ (م-۶۹۳) عَنْ حَفْصَةَ رَمَتْكَ (۸۳۶) (م-۶۹۲)

قربانی کے اونٹ یا گائے کیلئے بارشنا دیکھو حدیث ۸۳۶ م۔

عَنْ عَائِشَةَ رَمَتْكَ (۸۹۲) (۱۰۸) بَابُ إِشْعَارِ الْبَيْدَانِ وَقَالَ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ

دیکھو حدیث ۸۹۲ م۔ باب قربانی کے جانوروں پر نشان لگانا اور عمرہ کے مسوومہ سے روایت کی ہے

قَالَتْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدْيِ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ بِالْعَمْرَةِ (م-۶۹۴)

کہ نبی صلعم نے قربانی کے جانوروں کو مار پھینچا اور ان پر نشان لگایا اور عمرہ کا احرام باندھا

عَنْ عَائِشَةَ رَمَتْكَ (۸۹۲) (۱۰۹) بَابُ مَنَ قَلْدَةُ الْبَيْدَانِ (م-۸۹۳)

دیکھو حدیث ۸۹۲ م۔ باب جو اپنے اونٹ سے مار پھینچے

عُمَرَةُ بَدَتْ عِبْرَةَ الرَّحْمَنِ أَنْ زِيَادَ بْنِ أَبِي سَفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

عمرہ بنت عبد الرحمن سے روایت ہے کہ زیاد بن ابی سفیان نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو لکھا

أَنْ عَمِدَ اللَّهُ لِيَنْحَبِّئَ لِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَنْ أَهْدَا هَدْيًا أَحْرَمَ عَلَيْهِ فَيُحْرَمُ عَلَى

کہ عبد الرحمن بن عباس فرماتے ہیں کہ قربانی کو بیت اللہ روانہ کرنے میں اگر وہ (بسیب) احرام ہو

أَحْرَمَ حَتَّى يُحْرَمَ هَدْيُهُ قَالَتْ عُمَرَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ

ماری ہیں جو احرام بصرام ہو رہی ہیں یہاں تک کہ اس کی قربانی کا جانور ذبح ہو جائے عمرہ کے اونٹ اور عمرہ کے جانوروں میں سے

عَبَّاسٍ مَنِ كَاتَمْتُ قَلْدَةَ هَدْيِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي ثُمَّ قَلْدَهَا

فرماتے ہیں میں نے اپنے اونٹ سے نبی صلعم کی قربانی کے اونٹ سے لے لیا

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي ثُمَّ لَيْسَتْ بِمَاءِ أَبِي قَاهِمٍ يُحْرَمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

صلعم نے انہیں اپنے اونٹ سے لیا ہے اور انہیں میرے والد کے ساتھ رکھی ہے اور رسول اللہ صلعم پر

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ مِنْ أَهْلِ اللَّهِ حَتَّى يُحْرَمَ الْهَدْيُ (۱۱) بَابُ تَقْلِيدِ الْعَتَمِ

کو نہ لے کر جو اپنے حال کو کسی اور نے نہ لے سکتا ہے قربانی کے جانور کو لے کر دیکھو حدیث نمبر ۸۹۲ م۔ باب بیرون کو مار پھینچنا

(م-۶۹۵) عَنْ عَائِشَةَ رَمَتْكَ (۸۹۲) (۵) (۶۹۸) عَنْ عَائِشَةَ رَمَتْكَ (۸۹۲)

دیکھو حدیث ۸۹۲ م۔ دیکھو حدیث نمبر ۸۹۲ م۔

(م-۶۹۹) عَنْ عَائِشَةَ رَمَتْكَ (۸۹۲) (۷) (۷۰۰) عَنْ عَائِشَةَ رَمَتْكَ (۸۹۲)

دیکھو حدیث ۸۹۲ م۔ دیکھو حدیث نمبر ۸۹۲ م۔

(۱۱) بَابُ الْقَلْدِ مِنَ الْعَيْنِ (م-۷۰۱) عَنْ عَائِشَةَ رَمَتْكَ (۸۹۲) (۱۱۳) بَابُ

باب اون کے بارے میں دیکھو حدیث نمبر ۸۹۲ م۔ باب

تَقْلِيدِ الْعَجَلِ (م-۷۰۲) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (م-۷۰۲) (۱۱۳) (۸۹۲) بَابُ الْجَلَالِ الْبَيْدَانِ

دیکھو حدیث نمبر ۸۹۲ م۔ باب قربانی کے اونٹوں کے بھول جانا

جوئی کا بار پھینچنا

یہ وہ مضمون اور ہے کہ قلت اہل النبی صلعم پر غنا اگر دونوں حدیثوں میں لکھوں کہ ان کو مار پھینچنا نہ کا صاف ذکر ہے۔ یہ کہاں لفظ میں نکتہ نقلت اہل النبی صلعم نقلت انہم رقیم فی اہل حلالہ ای میں ۶۹۹ میں ہے۔ اس کے لفظ میں نقلت اہل النبی صلعم یعنی القلائد قبل ان یحرم (۸۹۲) (۲۹۱)

۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا صَوَّافَتْ قِيَامًا رَمَاهُ - ۷۰۷ - عَنْ أَنَسٍ (مُتَكَرِّرًا ۸۲۶)

اور ابن عباس نے کہا سو صوفائے صوفیہ نے بھی اسے متکرر کیا ہے۔

۷۰۸ - عَنْ أَنَسٍ (مُتَكَرِّرًا ۸۲۶) ۱۲۰) بَابُ الْأَيْظِطِ الْجَزْأِ مِنْ الْأَهْدَى

بَابُ الْأَيْظِطِ الْجَزْأِ مِنْ الْأَهْدَى

۷۰۹ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَمَّتْ عَلَى الْبَدَنِ فَأَمَرَنِي بِتَسْمِيَةِ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظْمِي فَقَسَمْتُ حَلَاكِيًا وَجَلَوًا

دَوْنِي رَوَيْتُهُ (أَسْمَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَعْقَابَهُ عَلَى الْبَدَنِ

وَأَلَا أُعْطِيَ عَلَيْهِ مَا شِئْتُ فِي حِجْرِي نَبِيًّا ۱۲) بَابُ يَتَصَدَّقُ بِجَلْوٍ الْهَدْيِ

بَابُ يَتَصَدَّقُ بِجَلْوٍ الْهَدْيِ

۷۰۹ - عَنْ شَيْبَةَ (مُتَكَرِّرًا ۸۹۸)

۷۱۰ - عَنْ عَلِيٍّ (مُتَكَرِّرًا ۸۹۸) ۱۲۳) بَابُ يَتَصَدَّقُ بِجَلْوٍ الْهَدْيِ

بَابُ يَتَصَدَّقُ بِجَلْوٍ الْهَدْيِ

بَابُ وَإِذَا نَبِيٌّ أَنْ لَا يَرَى مِنْ مَكَانِ الْبَدَنِ أَنْ لَا تَشْرُكَ فِي شَيْئًا وَطَرَفِيَّةً

لِلنَّبِيِّ وَالْقُرْبَانِ وَالرَّحْمَةِ وَالْحَيَاةِ وَالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ

كُلِّي كُلِّ ضَأْمٍ فَإِنَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَسْتَقِيمٌ فَلَمَّا وَقَعَ لَهُمْ يُذَكِّرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي

أَكْوَابِهِمْ وَمَا عَلَى مَارِزِهِمْ مِنْ بَهْمَةِ الْأَنْعَامِ فَكَلِمَاتُهَا وَأَطْمِئِنُوا الْبَاسِ

الْقَبْرِ ثُمَّ كَيْفَ تَصَوَّرْتُمْ وَأَيُّهَا نَذْرُهُمْ وَيَطْوُونَ الْبَيْتَ الْعَبِيدَ ذَلِكَ

وَمَنْ يَعْطَمُ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ عِنْدَ رَبِّهِ ۱۲۴) بَابُ مَا يَأْكُلُ مِنَ الْبَدَنِ

بَابُ مَا يَأْكُلُ مِنَ الْبَدَنِ

وَمَا يَتَصَدَّقُ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِي كَافِعٌ عَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَأَ

يُؤْكَلُ مِنْ جَزْأِ الشَّيْبَةِ وَالنَّذْرِ وَيُؤْكَلُ مِنْ سَائِرِ ذَلِكَ وَقَالَ عَطَاءُ يَأْكُلُ

وَيُطْعِمُ مِنَ التَّبَعَةِ (۸۹۹) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ لَمَّا لَا

يَأْكُلُ مِنْ جَزْأِ الشَّيْبَةِ وَالنَّذْرِ وَيُؤْكَلُ مِنْ سَائِرِ ذَلِكَ وَقَالَ عَطَاءُ يَأْكُلُ

وَيُطْعِمُ مِنَ التَّبَعَةِ (۸۹۹) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ لَمَّا لَا

تَأْكُلُ مِنْ حُكْمٍ بَدَنًا فَوْقَ ثَلَاثٍ مِمَّنِي فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ

كريم بقی قربانی کے گوشت میں سے منہ کے تین دن کے بعد نکھانے سے کہی گئی صلعم نے ہمیں اجازت دی

كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا قَالَتْ لِعَطَاءٍ أَقَالَ حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ لَا

کھاؤ اور زاد و راہ لیاؤ اور ہم نے کھا یا اور زاد و راہ بنایا میں (ابن عمر) نے عطاء سے کہا کہ یہ بھی جہاد ہے، کہا تھا ہاتھ تک کہ میرے پیچھے کیا نہیں ہے

رَم - ۱۱۰ عَنْ عَائِشَةَ رَمَتْكَ - ۸۳۲ (۱۲۵) بَابُ الدَّبْحِ قَبْلَ الْحَتِّ (رَم - ۱۲۰)

دیکھو حدیث ۸۳۲ باب سر مڑوانے سے پہلے قربانی کرنا

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَمَتْكَ - ۵ (رَم - ۱۱۳) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَمَتْكَ - ۵ (رَم - ۱۰۵)

دیکھو حدیث ۵ دیکھو حدیث ۵

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَمَتْكَ - ۵ (رَم - ۱۱۳) عَنْ أَبِي مَوْصَلَى رَمَتْكَ - ۵ (رَم - ۸۳۰)

دیکھو حدیث ۵ دیکھو حدیث ۸۳۰

بَابُ مَنْ لَبَسَ رَأْسَهُ عِنْدَ الْأَحْرَامِ وَحَتَّى (رَم - ۱۱۶) حُرْفُ فَصَّةٍ رَمَتْكَ - ۵

باب جراحام باندھنے کے وقت اپنے سر (کے بالوں) کو حالے اور احرام کھولنے وقت سے مڑوانے دیکھو حدیث

۸۳۶ (۱۲۶) بَابُ الْحَتِّ وَالْقَصْرِ عِنْدَ الْأَحْلَالِ (رَم - ۱۰۷) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَمَتْكَ - ۵ (رَم - ۹۰۱)

باب احرام کھولنے وقت سے مڑوانا یا بال (بال) کترانا دیکھو حدیث ۹۰۱

رَم - ۱۱۸ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَمَتْكَ - ۵ (رَم - ۹۰۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

دیکھو حدیث ۹۰۰ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہا

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِمُحْتَلِّينَ قَالُوا أَوْلِيَهُ الْقَصْرَيْنِ قَالَ اللَّهُمَّ

رسول اللہ صلعم نے فرمایا اے اللہ سر مڑوانے والوں کی مغفرت فرما اور ان کے کہ ان بال کترانے والوں کی فرمایا

اغْفِرْ لِمُحْتَلِّينَ قَالُوا أَوْلِيَهُ الْقَصْرَيْنِ قَالَتْ لَهَا ثَلَاثًا قَالَ وَبَلَّهَ تَصْفِيرِينَ (رَم - ۹۰۱) عَنْ

اے اللہ سر مڑوانے والوں کی مغفرت فرما اور ان کے کہ ان بال کترانے والوں کی فرمایا اور ان کے کہ ان بال کترانے والوں کی فرمایا

عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلَّقَهُ مِمَّنْ أَحْرَمَ وَقَصَرَ بَعْضُهُمْ

عبداللہ نے حرم سے روایت ہی کہا ہی صلعم اور آپ کے صحابہ میں سے ایک گروہ نے سر مڑوا یا ایسوں میں سے بعض نے بال کترانے

(رَم - ۹۰۲) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشْفُوقًا

معاویہ بن عمیر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلعم کے بال

و بعض روایات میں

آتا ہے کہ یہ صلعم نے

قربانی کے گوشت سے

تین دن سے زیادہ

کھانا نہیں فرمایا ہے

اس آیت و روایات کی

تفسیر یہ ہوتی ہے کہ صلعم

کے گوشت کو کھانے سے یا

خود لوگوں کے اپنے

عمل کے لئے غلظت

کی پیداوار سے بچنا

نے اس کو صاف کرنا ہے

اس میں تقریباً

۷۰ کے الفاظ ہیں

البتہ یہاں نیز الصفا

طہرہ کے لفظ

میں ہیں جس کے

حضرت عائشہ رضی

بہا علیہا

یوم النحر یوم البقرۃ

فقلت ما هذا فقيل

ذبح النبی صلعم

عن ابن عباس

عنوان ہے

مسئلان میںوں کر

حدیثوں میں

کرواقتات الفاظ

سے اور کسی شیئی کے

ساتھ دہرایا ہے

۷۲ کے الفاظ ہیں

سئل النبی صلعم

عن حلق قبل ان

یذبح و نحوہ لاقول

لا حرج لاجرح - م - ۱۳۰ کے ہیں

قال رجل للنبی صلعم زرت قبل ان اذی قال لاجرح قال حلفت قبل ان اذی

قال لاجرح - م - ۱۴۰ کے ہیں

سئل النبی صلعم فقال رمیت بعد ما مسیت فقال لاجرح قال حلفت قبل ان اذی

قال لاجرح - م - ۱۴۰ کے ہیں

سئل النبی صلعم فقال رمیت بعد ما مسیت فقال لاجرح قال حلفت قبل ان اذی

قال لاجرح - م - ۱۴۰ کے ہیں

سئل النبی صلعم فقال رمیت بعد ما مسیت فقال لاجرح قال حلفت قبل ان اذی

قال لاجرح - م - ۱۴۰ کے ہیں

سئل النبی صلعم فقال رمیت بعد ما مسیت فقال لاجرح قال حلفت قبل ان اذی

قال لاجرح - م - ۱۴۰ کے ہیں

عادی حضرت بظنی
انقلاب سے دو ہزار
۶۰۹ء میں ہوا
۶ اور تندرستیوں
اللہ (عبدالرحمن
جن میں ۱۳۴۴
مسعودی ذراہ عربی
الحجۃ الکبریٰ بسم
حصیات الخوف
علا علی صورت کلام
ذیلیاتھا یوں کتا
تھا وہ سعادت میں
میں ذکر ہے اولیوم
عقلی نے عقل کے
کہنے پر ابن سعود کی
روایت میں پیش کی کہ
ان ناموں کا احوال
کرتے تھے
علاج و کفریوں کے
ارتجاع کی فکر کرتے
ہیں یہاں پر کتیاں
ہاتھ پر لگائی ہی
ان کے فوج میں
جنہ عقبہ کہ کفر
منای عمر عدوی
بہر و انصار نے
سورج کی بیعت کی
صلعم کی بیعت کی تھی
جن کا امر حضرت عقبہ
ملا ابن عمر کی بیعت
۱۱ باب میں ۱۲۵
اور کئی بیعتیں
۱۲ پہلے دن حجرہ
عقبہ کو سب سے پہلے
کنکریاں لاری ماتی
۱۳ اور بعد میں سب
سے پیچھے
۱۴ بیان حدیث کا
مضمون ان عمر کا فعل
ہے اور اخیر بیعت
۱۵ بیان عمر کہتے ہیں۔

(۱۳۷) بَابُ مَنْ أَرَىٰ حِمْرَةَ الْعُقَيْبَةِ فَجَعَلَ لَيْبَتَ عَنِ بَسَارِهِ رَمَ - عَنْ عُمَرَ عَمِيدًا

باب جو حجرہ عقبہ کو کنکریاں ہانڈے وقت بیت اللہ کر اپنی بائیں طرف رکھے

الرَّمْحُ مِنْ بَنِي زَيْدٍ (متکرر۔ ۹۰۶) (۱۳۸) بَابُ يُكَلِّمُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ

دیکھو حدیث ۹۰۶ باب ہر ایک کنکری یا پتھر اللہ کے اسے ابن عمر نے

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۹۰۷) عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ

ابن صلعم سے روایت کیا ہے

الْحَجَّاجُ يَقُولُ عَلَىٰ الْبَيْتِ الشُّوْرَةَ الَّتِي يَدُورُ فِيهَا الْبَقَرَةُ وَالشُّوْرَةَ الَّتِي يَدُورُ فِيهَا الْعَرَبَانُ وَ

میں نے حجج سے سنا منبر پر کہ کرتے تھے وہ سورت میں ہیں بقرو کا ذکر ہے اور وہ سورت میں ہیں آل عربی کا ذکر ہے اور

الشُّوْرَةَ الَّتِي يَدُورُ فِيهَا النِّسَاءُ قَالَ قَدْ كَرِهْتُ ذِكْرَ لَيْبَةٍ لَأَبِي رَاهِمَةَ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ

وہ سورت میں ہیں عورتوں کا ذکر ایسا نہیں ہے اس کا ذکر ایسا نہیں ہے کیا

ابن زيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين روى حِمْرَةَ الْعُقَيْبَةِ فَأَسْتَبْطَنَ

کہ وہ ابن مسعود کے ساتھ تھا

الْوَادِي حَتَّىٰ إِذَا حَادَىٰ بِالشُّجْرَةِ اعْتَرَضَهَا فَرَمَىٰ بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يَكُ يَرْمَعُ

شیب میں گئے جب درخت کے پہلے پہنچے

كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ قَالَ مِنْ هُنَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ قَامَ الَّذِي أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

کہتے تھے پھر کہا اس ذات کی قسم اس کے سوا کسی اور معبود نہیں ہے اس پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۱۳۹) بَابُ مَنْ رَأَى حِمْرَةَ الْعُقَيْبَةِ وَلَمْ يَقِفْ قَالَ ابْنُ

بقروہ انہری صلعم اللہ علیہ وسلم

عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۱۴۰) بَابُ إِذَا رَأَى الْحَجَرَ تَلَكَّنَ

اسے ابن عمر نے ہی صلعم سے روایت کیا ہے

يَقُومُ وَيَسْهَلُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ (۱۴۱) (۱۴۲) عَنْ سَالِمٍ (متکرر۔ ۹۰۷) (۱۴۱)

تڑپ کر زمین پر، قبلہ رخ کھڑا ہوا

بَابُ رَفْعِ الْبَيْتَيْنِ حَيْثُ حِمْرَةُ الدُّنْيَا وَالْوَسْطَىٰ (۱۴۲) عَنْ سَالِمٍ (متکرر۔ ۹۰۷)

باب پہلے اور دوسرے حجرہ کے پاس ہاتھ اٹھانا

(۱۴۲) بَابُ النَّعَاءِ عِنْدَ الْحَجْرَتَيْنِ (۹۰۷) عَنِ الرَّهْمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

باب دونوں حجروں کے پاس دعا کرنا

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْحَجْرَةَ الَّتِي تَلَىٰ مَسْجِدَهُ مِنْ بَنِي زَيْدٍ يَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ

جب اس حجرہ کو مارتے جو منائی مسجد کے پاس ہے

يَكَلِّمُ كُلَّ طَرَفٍ بِحَصَاةٍ ثُمَّ تَقْدِمُ أَمَامَهَا فَوْقَ مُسْتَقْبَلِ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ

ہر ایک کنکری کے ساتھ اللہ کہتے تھے پھر اس کے آگے اٹھ جاتے اور قبلہ رخ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہوتے

۱۶ کہا ساریت النبی صلعم یفعلہ لفظیہ ہیں: اللہ زامن عمر کان ہرمی الحجرة الدنيا بسبع حصيات یکر علی اثر کل حصاة یتقدم حتی یسہل فیتقدم مستقبل القبلة فینقوم طویلاً ویعود برقع ید ید یہ ثم ہرمی الوسطی فویاخذ ذات الشمال فیسہل ویقوم مستقبل القبلة فینقوم طویلاً ویعود برقع ید ید ثم ہرمی حجرات العقبة من بطن الوادی لایقف عند ہاتھ بصرف استقبال ہذا دلالت النبی صلعم یفعلہ اور کئی میں ہی کر صلعم عمل کا بیان ہے اور عربوں نے دکان میں ہرمی فعلاً کہتے ہیں ہاتھ اٹھانے کے لیے ہے

۱۷ بیان حدیث کا مضمون ان عمر کا فعل ہے اور اخیر بیعت کا بیان عمر کہتے ہیں۔

يَذُكُو وَكَانَ يُطِيلُ الْوُكُوفَ ثُمَّ رَأَى الْجُمُرَةَ الثَّانِيَةَ فَبَرِمَ بِهَا سَبْعَ حَصِيَّاتٍ

دھا کرتے اور دیر تک کھڑے رہتے پھر دوسرے پہرہ کے پاس آتے تو اسے بھی سات ننگریاں لیتے ہر ایک ننگری
یکبار کھٹا کر اسی بچھاؤ کے لئے چھڑا کرتا تھا اذات السارہ ماکی الی الوادی فیقف مستقیلاً
کے ساتھ اٹھ کر کہتے پھر تارے کے قریب سے بائیں طرف اتر جاتے اور قبلہ رخ

الْقَلْبَةَ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُوهُمُ يَا أَيُّهَا الْجُمُرَةُ الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ وَبَرِمَ بِهَا سَبْعَ حَصِيَّاتٍ

اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہوتے دعا مانگتے پھر اس پہرہ کے لئے چھڑا کرتے اور اسے سات ننگریاں لیتے ہر ایک ننگری
یکبار عیندہ کل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها قال الزهري سمعت سألوا ابن
اشرا کہتے پھر لوٹ جاتے اور اس کے پاس نہ پھرتے نہ ہری کہتے ہیں میں نے سامع بن علی سے

عَبْدُ اللَّهِ يُحَدِّثُ وَمِثْلُ هَذَا عَنْ أَبِيهِ عَمْرٍو النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ابْنُ عَمْرٍو

کو سنا ہے اسی طرح اپنے باپ سے وہ نبی صلعم سے روایت کرتے تھے صل (اور ابن عمر رضی) اسی
يُفْعَلُ (۲۳۳) بَابُ الطَّيْلِ يُجَدِّدُ فِي الْجِمَارِ وَأُحْتَقِقُ قَبْلَ الْإِقَاضَةِ (م- ۷۳۳)

طرح کرتے تھے باب ننگریاں بارنے اور مرنڈانے کے بعد اور طوافِ قاضیہ سے پہلے عرفہ و دو گنا
عَنْ عَائِشَةَ (مكرر- ۲۰۹) (۱۲۲) بَابُ طَوَافِ الْوُدَاعِ (م- ۳۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

دیکھو حدیث ۲۰۹ باب رخصت ہونے کا طواف کرنا
مكرر (۲۳۳) (۹۰۸) عَنْ كَسْرِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

دیکھو حدیث ۲۳۳ (۹۰۸) ابن کسری سے روایت ہے کہ نبی صلعم نے
وَسَلَّمَ صَدَى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ثُمَّ رَفَعَهُ رَفْعَةً بِالْحَضْبِ فَمِنْ ذَلِكَ يَلِي

پھر اور عصر اور مغرب اور عشاء ہر حصیہ میں کھڑے ہوتے صل (پھر بیت اللہ کو سوار ہو
الْبَيْتِ وَطَافَ بِهِ (۱۲۵) بَابُ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْءَةَ بَعْدَ مَا أَقَاضَتْ (م- ۷۲)

کرتے اور اس کا طواف کیا باب جب عورت کو طوافِ افاضہ کے بعد حیض آجائے
- (۳۵) عَنْ عَائِشَةَ (مكرر- ۲۲۲) (۹۰۸) عَنْ عَمْرِو بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ سَأَلُوا

دیکھو حدیث ۲۲۲ (۹۰۸) عکرمہ سے روایت ہے کہ مدینے والوں نے
ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ امْرِئِ الْقَوْمِ لَمْ حَاضَتْ لَمْ حَاضَتْ قَالَ لَهُمْ تَفَرَّقُوا وَالْأَخَذُ

ابن عباس سے ایک عورت کے بارہ میں پوچھا جو طواف کر کے پھر سے حیض ہلے کہا وہ جاسکتی ہے انہوں نے کہا زید کی
بِقَوْلِكَ وَتَدْعُ قَوْلَ رَبِّكَ قَالَ إِذَا قَدِمْتُمُ الْمَدِينَةَ فَسَلُّوا قَوْلَ اللَّهِ هَسَاؤُا فَكَانَ فِيمَنْ
بات پھوڑ کر آپ کی بات نہیں مان سکتے تھا صاحب تم مدینے پہنچو تو دریافت کرو کہ یہ کون ہے تو انہوں نے دریافت کیا میں سے انہوں نے
سَأَلُوا الْمَسْلُومَ فَقَدْ كَرِهْتُ حَدِيثَ صَفِيَّةَ (م- ۷۳۷) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مكرر- ۲۳۳)

روایت کیا ان مہم سلیم بھی نہیں تو انہوں نے حضرت صفیہ کی حدیث بیان کی صل
دیکھو حدیث ۲۳۳ (۷۳۷) بَابُ الْبَيْتِ

صل نہ ہری پوچھتا ہوں
ہیں نبی کریم صلعم کو
دیکھا نہیں اس لئے
وہ نبی کریم صلعم کے
عمل کی حکایت نہیں
ہیں کر سکتے اس لئے
آخر میں تصریح کر دی
کہ لہری کی یہ حدیث
بوسطہ سامع بن علی کے
باپ ابن عمر سے ہے
صل (اس کے لفظ
۲۰ سے لےتے ہیں
آخری فقرہ زائد ہے
طبیعی نے سنا لیا
صلعم پیدا ہوا تھے
حین احرم دخلہ
حین احل قبل
ان یطوفت بجمبت
یاد عاصی یا عسول
کو کھول کر پھوڑو گئے
کی کیفیت بتائی ہے
طوافِ افاضہ سے پہلے
پوشو گانا جائز ہے
صل (ہاں لفظ یہی
احرامنا من یحرم
آخر حدیث ہم بائیت
کلا انہ خفف عن
الغناض منی لوگون
کو حکم دیا گیا کہ انکا
آخری کام بیت اللہ
کا طواف پور کرنا ہے
کو رخصت ہے
مسلم میں یہ روایت
ان الفاظ سے ہے
لا یغفرن احد فی
یكون بائیت
بالبیت

صلعم نے یہ صورت کا واقعہ ہے محبت ایک کھلا میدان بگڑا اور ننگ کے درمیان ہے اور یہ جہ ہے جس کے معنی نگر ہے میں اس میدان کا دو سر نام بطح بھی آیا ہے جو دو صوبوں کا صلعم کو
ایک اون کے بعد مدینہ کو واپس نہ ہونے کے صل (ہاں لفظ پھر مختلف ہیں ان صفیہ زید بن ابی سلمہ کا حضرت زید کو اذات لیس رسول اللہ صلعم نے کہا علی صلعم فقال انہ
ہی قالوا انہا قاضت قال فکلا اذا صل (ابن المنذر کہتے ہیں زید بن ثابت اور ابن عمر بھی حضرت عمر کی صل (اس بات کے قائل تھے کہ جس عورت کو طواف
وواع سے پہلے حیض آئے تو طواف کے بعد طوافِ وداع کر کے وہ جاسکتی ہے لیکن ابن عمر اور زید سے ثابت ہے کہ انہوں نے یہ قول پھوڑ دیا اور صرف حضرت
عمرہ گئے گو یا حضرت عمر کا مذہب باقی رہا ہے صحابہ سے الگ جہاں صلعم کی مخالفت پر تہی رنگا ہے صل (اس پر پور کریں صل (لفظ قریباً ۲۳۳ میں قال رضی
لغناض ان تنسقا اذا قاضت (صل ۲۳۳ میں سے حضرت) قال حدث ابن عمر یقول انہما تنسقا ثم یقول بعد ان النبی صلعم یحرم
اس سے صلعم ہوا کہ حضرت ابن عمر نے اپنے پہلے قول سے رجوع کر لیا تھا صل

ما مضروب و انہوں
 بالکل ۸۳۲ کا کہیں
 کہیں نظر کا خلافت
 ہے
 ملوادی یا انہوں
 جو کاشہ میں ملو جانتے
 اہل یا ملو کہتے ہیں
 یہاں وہ میدان پر
 ہے جو مکہ و مناک کے
 درمیان ہے بلکہ باب
 میں اسے نصب کیا ہے
 مکہ میں نظر ۸۶۶
 کے یہاں سوائے اس
 کے کہ ان صلی الظہر
 والعصر روح اللہ
 میں العصر کا لفظ
 چھوڑا جائے
 ظہر میں الظہر میں
 انما کان (محبوب)
 منزل یزید لہ النبی
 صلعم ایک کوئی اسعہ
 لغویہ یعنی بالظہر
 یعنی صلی الظہر میں
 اس وقت تک کہ وہ
 ایک مقام تھا اور اس
 کو یہاں کہتے تھے
 ہونے میں ہوتی تھی
 یعنی اس میں اتنا
 شمارک ج سے
 کہ نہیں
 ہے یہ حدیث یہاں ہے
 کہ خلافت اور روایت
 کے ساتھ کرتی ہے
 نقل بخاری محصوبہ
 رسول اللہ صلعم
 و عمر بن عمر بن
 تافع ابن عمر
 رضی اللہ عنہما کا
 یصل علی ابی العصب
 الظہر والعصر
 احسبہ قال العرب
 قال خالد الاشجعی
 فی الصفا و صحیح
 جمعہ و مذکور ہے

(م-۳۸) عَنْ عَائِشَةَ (متکرر-۸۳۲) (۱۲۶) بَابُ مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّهْرِ بِالْبَطْحِ

دیکھو حدیث ۸۳۲ ع باب جو کوئی کہ دن عصر کی نماز ظہر (محبوب) سے

(م-۳۹) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ (متکرر-۸۷۶) (م-۷۰) عَنْ ابْنِ مَرْزُوقٍ

دیکھو حدیث ۸۷۶ ع باب محصوبہ میں (م-۷۰) ع

(متکرر-۹۰۸) (۱۲۷) بَابُ الْمُحْصَبِ (م-۷۱) عَنْ عَائِشَةَ (متکرر-۹۰۹)

دیکھو حدیث ۹۰۸ ع باب محصوبہ میں (م-۷۱) ع

(۹۰۹) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَيْسَ التَّحْصِبُ بِشَيْءٍ إِنَّمَا هُوَ مَرْزُوقٌ

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے محصوبہ میں (م-۷۱) ع

كَذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۱۲۸) بَابُ النَّزُولِ بِبَيْتِ طُوى قَبْلَ أَنْ

یہاں رسول اللہ صلعم آئے۔ باب مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ذی طوی میں اترنا

يَدْخُلُ مَدِينَةَ وَالنَّزُولُ بِالْبَطْحِ أَلَّتِي بِبَيْتِ الْحَكْفَةِ إِذَا رَجَعْتَ مِنْ قَدِيدَةَ (۹۱) عَنْ تَافِعِ

اور جب مکہ سے لوٹے اس تک کہ بے سہان میں اترنا جو ذوا الحلیفہ میں ہے تافع سے

أَنَّ ابْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ مَدِينَةَ بَيْتِ طُوى بَيْنَ الثَّيْتَيْنِ ثُمَّ يَدْخُلُ مَدِينَةَ

روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان رات گزارنے پھر اس قیلے سے (مکہ میں) داخل ہوتے

الَّتِي بَاعَ عَلَى مَكَّةَ وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ حَاجًّا أَوْ مَعْتَمِرًا حَمِيخَةَ نَاقَتَهُ الْأَعْمَدَ بَابِ

جو مکہ کے بلائی باب ہے اور جب حج یا عمرہ کے لئے مکہ آئے تو اپنی اونٹنی کو سہارے کے دروازہ پر ہی

الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَدْخُلُ فِيهَا إِلَى الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ فَيُبْدِئُ بِهِ ثُمَّ يَطُوفُ سَبْعًا ثَلَاثًا سَعْيًا وَ

بٹھانے پھر (مسجد میں) جاتے تو رکن اسود کے پاس آکر اس سے شروع کرتے پھر سہان پھر لگاتے دو دو گئے ہونے اور

أَرْبَعًا شَيْئًا ثُمَّ يَبْصُرُ فِي صَيْتِ الْمَسْجِدِ ثَلَاثِينَ ثُمَّ يَنْطَلِقُ قَبْلَ أَنْ رُجِعَ إِلَى الْمَزَلِ فَيَطُوفُ

یہاں تک کہ پھر فارغ ہوتے اور دو رکعتیں پڑھتے پھر مکہ کو لوٹنے سے پہلے صفا اور وہ کے درمیان طوان

بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَكَانَ إِذَا صَدَرَ عَنْ الْحِجَّةِ أَوْ الْعُمْرَةِ أَوْ أَخْرَجَ بِالْبَطْحِ أَلَّتِي بِبَيْتِ

کرتے اور جب حج یا عمرہ سے واپس ہوتے تو اونٹنی کو اس تک کہ بے میدان میں بٹھانے

الْحَكْفَةِ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبْدِئُ بِهَا (م-۷۲) عَنْ تَافِعِ (متکرر-)

جو ذوا الحلیفہ میں ہے نبی صلعم (م-۷۲) ع

(۹۰۸) (۱۲۹) بَابُ مَنْ نَزَلَ بِبَيْتِ طُوى إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ (م-۷۳) عَنْ

۹۰۸ ع باب جو مکہ سے لوٹے وقت ذی طوی میں اترے

تَافِعِ (متکرر-۸۲) (۱۵۰) بَابُ التَّجَارَةِ أَيَّامَ الْمَوْسِمِ وَالْبَيْعِ فِي أَسْوَاقِ

دیکھو حدیث ۸۲۷ ع باب حج کے دنوں میں تجارت کرنا اور جاہلیت کے بازاروں میں خرید و فروخت

الْجَاهِلِيَّةِ (۹۱) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ ذُو الْحِجَاظِ وَعُكَاظُ مَجْرَ النَّاسِ

کرتا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ذوا الحجاز اور عکاظ جاہلیت کے زمانہ میں تجارت

فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامَ كَانَتْ لَهُمْ لِرَهْوَ ذَلِكَ حَتَّى نَزَلَتْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ

کی منگیاں تھیں جب اسلام آیا تو انہوں نے ایک طرح سے لاپتہ کیا یہاں تک کہ یہ آیت اتری لیس علیکم الخ

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَبِلَ بَاتِ بَيْتِ طُوى حَتَّى إِذَا اصْبَحَ دَخَلَ وَإِذَا انْفَرَّ رِيْدِي طُوى فَبَاتِ

لِهَا حَتَّى يَبِيعَ وَكَانَ يَدْخُلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ تَحْتَ الْبَابِ فِي بَيْتِ طُوى مَكَّةَ كَرِيمٍ أَيْ مَقَامِ

۹۱۶ عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضى الله عنهما يجيران يقول قال رسول

الله صلى الله عليه وسلم لا امرأة من آل أنصاري سألها ابن عباس فاستبكت

اسمها امتعاك ان محجين معا قالت كان لنا ضم فر كبة ابو فلان

وايتة لزوجها وابنها وترك كاضعا لضمه عليه قال فاذا كان رمضان

اعتمرى فيه فان عمرة في رمضان حجة او نحو مما قال (۵) باب

العبرة ليلة المحبسة وعثرها (م- ۵۰) عن عائشة مكرر (۸۳) باب

عمره الغنيمة (م- ۵۱) عن عبد الرحمن بن ابي بكر (متكر- ۸۳۱) (م-)

۵۲) عن جابر بن عبد الله (متكر- ۸۴۵) باب الاعمى بعد الحج

يقبره (م- ۵۳) عن عائشة (متكر- ۸۳۱) (۸) باب اجر العترة على قدر

النصب (م- ۵۴) عن عائشة (متكر- ۸۳۲) (۹) باب اعمار اطراف طواف

العترة حرم هل يحزونها من طواف الوداع (م- ۵۵) عن عائشة (متكر- ۸۳۱)

علمہ ۴۹۸ میں ہی
حدیث بروایت عطاء
عبدالبن عباس آتی
ہے اور اس میں حدیث
کا نام نہیں ملتا بلکہ
اس کے الفاظ
قریباً قریباً ۷۷
کے ہیں لہذا اس
کو قال اشعل سے
دیگر اثر نہیں کا مقررہ
ہوا نہیں ہے۔
عقربہ روایت
صلعم اور خود
ان میں بنا بی کیں
ان میں صرف عائشہ
وہیں معلوم ہے
ملا بہت غیبت
اخلاف لفظی سے
۸۵ اور وہ روایت ہے
اور آخر میں صلعم
ان میں صرف عائشہ
میں حضرت ابی بنی
صلعم و وہ ابی عقبہ
وہیں سے کہا
الکرم ہذا خاصہ
یا رسول اللہ قال
لا یلای للابید ۸۲۹
میں سراق کے نکل

مطار سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس سے سنا
انہوں نے ہمیں خبر دی کہ

ابو فلان نام بھول گیا اس سے فرمایا تجھے ہمارے ساتھ بیٹھے کہنا۔ اس سے عرض کیا ہوا ایک بلالی لائے گا اونٹن تمہارا پر فلاں کا باپ
ابو اس کا بیٹا سواری ہو کر بیٹھے گئے تھے اپنی اس کا شوہر اور بیٹا اور ایک اونٹ اور بانی قریش کا چھوٹا بیٹا اس میں پانی لائے تھے اور بیٹھے تھے ان کے آگے

تو اس میں عمرہ کہ چونکہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے یا جیسا فرمایا

عمرہ کی رات میں اور اس کے سوائے عمرہ کرنا

تقسیم سے عمرہ کرنا

دیکھو حدیث ۸۳۱ ج ۱ باب

دیکھو حدیث ۸۲۱ ج ۱ باب

دیکھو حدیث ۸۴۵ ج ۱ باب

دیکھو حدیث ۸۳۱ ج ۱ باب

دیکھو حدیث ۸۳۲ ج ۱ باب

دیکھو حدیث ۸۳۱ ج ۱ باب

دیکھو حدیث ۸۳۱ ج ۱ باب

کی طرف اشارہ ہے دیکھو اس پر نوٹ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر حج کے بعد کسی ماذواج میں عمرہ کیا جائے تو قرآنی لازم نہیں ہوتی قرآنی صرت تبع میں ہے اور تبع
میں شروع سے پہلے ہوتا ہے اور عمرہ کر کے اس کو طواف اور حج کے بعد عمرہ کرنا حرام ہے اور عمرہ کے بعد عمرہ کرنا حرام ہے اور عمرہ کے بعد عمرہ کرنا حرام ہے اور عمرہ کے بعد عمرہ کرنا حرام ہے
من احب ان یعمل حجۃ فلیصل لہا ان نہیں اور ناہلات بصیرۃ مکان عمرتی کے یہ بیان ہے بلکہ ہے نفعی اللہ سبحانہ و عمرتھا اور اس کے بعد ہے ولو کن فی سحا
من ذلک ہدی و لا صلۃ لہ و لا صوم و ہاں اسے مشام میں عمرہ کا مقولہ بتایا ہے۔ بیان یہ ہے کہ عمرہ کے بعد ہے عمرہ کی کوئی خصوصیت
نہیں ہر ایک عمل کا اجر ان کا ایسا ہے جو اس کی خاطر اٹھائی جائیں۔ ہر عمرہ کی روایت میں ملا ۸۳۱ کا ایک حصہ اختصار کے ساتھ آیا ہے یا رسول اللہ صلۃ اللہ علیہ
مستحب ان یصلح الیہ فقیل لہا انتظری فاذا اطرفت فاشربی لے التعمیم فاہلی ثمراتینا مکان کنا ولکنہا علی قدر نقبتک او نصبتک لے عمری
الفاظ میں لیکن تو اب تو اسی قدر دیکھا کہ حج قدر عمرہ کرے یا حج قدر تکلیف اٹھائے ۸۳۲ میں نہیں ہیں۔ اسی سے عثمان ہے۔ ۵۱۰ عسی اللہ ان یرزقنا
کرہ روایت کے الفاظ ۸۳۲ سے ملتے جلتے ہیں۔ اصل مضمون ایسا ہے۔ اس کے بعد یہاں ہے قالت فقلت حتی نفرنا من منی فاذلنا الحصص فلیعابدوا
فقال اخیر باحتک الحج فلتہل بصیرۃ ثمر ارفنا من طوافکما انتظر کما ہمما فاتینا فی حوت اللیل فقال فرقتا قلت نعم ثمری یاو حیل فی
اصحابہ فارتحل الناس ومن طواف بالبدیت قبل صلوة الصبح ثم خرج من منی الی المذینۃ۔ روایات میں کچھ اختلاف ہے کہ حضرت عائشہ عمرہ سے خارج
ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں ہیں۔ ۸۳۲ میں ہے کہ حضرت عائشہ عمرہ سے ایسے کہیں اور آپ طواف ذی فرما کر گئے تھے کہ حضرت عائشہ نے
ہاں ہو کر اسی آپ صاحب میں ہی تھے کہ حضرت عائشہ وہیں تک گئیں اب سوال یہ ہے کہ عثمان یا باقر سے کہہ کر آیا حضرت عائشہ نے عمرہ کے بعد طواف ذی فرمایا ہیں اس
روایت میں کہاں یہ لفظ لے ہیں فارتحل الناس من طواف بالبدیت ان جھکتے ہیں کہ میں نے پر شہم طواف بالبدیت یعنی حضرت عائشہ کے پاس آئیے کہہ دینی صلعم نے
طواف ذی فرمایا حضرت عائشہ سے ساتھ ہی آپ کوئی ہونگا ہر حال احادیث میں راحت سے کچھ مذکور نہیں ہے۔

ثَلَاثٌ كَثِيرَاتٌ ثُمَّ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَيَاةُ

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ يَوْمَ بُرَاءَتِكُمْ وَمَا كُنْتُمْ بِأَعْيُنِنَا قَبْلَ ذَلِكَ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ مَدِينَةَ لَدَفْنَا بِحِجَابِ الْمُحَرَّمِ رَجُلَيْكَ إِلَى الْحَاكِمِ فَكَفَرَا

صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَبَصُرَ عَبْدُهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابُ وَحَدَّثَنَا (۱۳) بَاب

اسْتَقْبَالَ السَّاجِدِينَ وَالثَّلَاثُ عَلَى النَّبِيِّ (۱۹) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ لَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ اسْتَقْبَلَتْهُ

أَعْيُنُهُمْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَحَمَلُوا وَاحِدًا ابْنَ يَدِيهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ (۱۲) بَاب

الْقُدُومُ بِالْقَدَائِمِ (۱۱) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (۱۱) بَاب

الدَّخُولُ بِالْعَشِيرَةِ (۲۰) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا يَطْرُقُ أَهْلَهُ كَانَ لِيَدْخُلَ الْأَعْدَاءُ أَوْ عَشِيئَةً (۱۶) بَاب

يَطْرُقُ أَهْلَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِينَةَ (۲۱) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلًا (۱۷) بَابُ مَنْ أَسْرَعَتْ كَأَقْتِهِ إِذَا بَلَغَ الْمَدِينَةَ

(۲۲) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا

قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ قَبَضَ رِدَائِيهِ الْمَدِينَةَ أَوْ ضَعَفَ أَقْتَهُ وَإِنْ كَانَتْ دَائِمَةً حَزَنًا

رَوَيْتُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ حَزَنًا مِنْ حَزَنٍ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَتُوا الْبَيْتَ مِنْ

أَبْوَابِهَا (۲۳) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَزَكَّاتُ

هَذِهِ الْأَرْضِ فَيُنَاكَاتُ الْأَنْصَارُ إِذَا حَجَّوْا فَجَاءُوا وَالْمَدِينَةَ خَلُوهَا مِنْ قَبْلِ أَبْوَابِ

بَيْوتِهِمْ وَلكِنْ مَنْ ظَهَرَ هَاهُنَا فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ قَبْلِ بَابِهِ

دَاخِلٌ هُوَ

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَتُوا الْبَيْتَ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَتُوا الْبَيْتَ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَتُوا الْبَيْتَ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ

عنه جہاں کی استقبال
کی جہاں کی اولاد کے
اور ان سے ہے ان
چند باتوں میں سے
ج سے پہلی کی طرف
کا ہے
میں صرف ایک
چھوٹا سا کمرہ
میں ان رسول اللہ
صلعم کان اذا خرج
الی مکة یصلی فی
مسجد النبوۃ وان
دعہ صلی بلدی
العیقہ مطہر اور
دیات حتی یصلی
وہا لیلۃ واولاد
وہا ات گذار کر
صحیح مدینہ وازن
اور جہاں کی کوئی
میں پہنچنے
میں جہاں کی
بانی اس لئے نہیں
انسان تکلیف
بلکہ وہی احکام
جو لوگوں کی
مذہب اور کھڑے
رات کو آئے
اس لئے وہ
فائل کو
رہنے کی تکلیف
اور وہ کمرہ وقت
اسا تھا کہ سفر کرنا
انتہائی بات میں
اور جہاں کے
میں ان سے
کی باتوں کی
ہے جسے
میں بھی نظام
کو دل کو
میں شام کے
نک نماز میں
بلکہ سفر کے
پر مدینہ کا
بیک

۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹

كَاتِبَةٌ عَيْرِ يَذُوكُ فَانْتَرِكَ وَلَيْسَ الْبُرْيَانُ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ

تو اس پر علامت ہوئی تو رہا آیت تری یہ لکھا جس کے گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آؤ بلکہ یہی ہے

الْبُرْمَانُ كُفْيَ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أُوْبَائِهَا (۱۹) بَابُ السَّفَرِ قُطْعَةً مِّنْ

جو کوئی آفتیاد کرے اور گھروں میں نکلے دوہاروں کی طرف سے آؤ باب سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے

الْعَذَابِ (۲۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی صلعم نے فرمایا

كَالِ لَسْفٍ قُطْعَةً مِّنَ الْعَذَابِ يَمْتَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ فَإِذَا قَضَى

سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے تم میں سے ایک کو کھانے پینے سونے سے روک دیتا ہے جب اپنا کام

تَحَمُّلُهُ فَيُجْعَلُ إِلَىٰ أَهْلِهِ (۲۰) بَابُ الْمَسَافِرِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ وَجَعَلَ لِي أَهْلِي

پورا کرے تو گھر کو جلدی لوٹ آئے باب مسافر کا حکم جب اسے چلنے کی جگہ دیکھ لے تو اسے گھر میں لے جاتا ہے

(۲۰-۲۱) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (مُتَكَرِّرًا) (۲۰-۲۱)

دیکھو حدیث ۲۰-۲۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے اسم مبارک کے نام سے

(۲۶) أَبْوَابُ الْحَصْرِ وَجَزَاءُ الصَّيْدِ وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ فَإِنْ أَحْصَرَ تَمَّ قَمًا

باب جو بیت اللہ سے روکا جائے اور شکار کا بدلہ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان اگر تم روک دینے ہمارے تو تم

امْتَبَسَّرَ مِنَ الْهَدْيِ لَا تَحْمِلُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ فُجْلَهُ وَقَالَ عَطَاءُ

قرآن میں جو روک دو اور اپنا سر نہ منداؤ یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پہنچ جائے البقرہ ۱۹۹ اور عطاء نے

الْحَصْرَ كَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَيْثُ كَانَ بَابُ إِذَا أَحْصَرَ الْعَقْمَرُ (۲۳) عَمْرٌو تَأْفِيفٌ مُتَكَرِّرٌ

ہاں ہر ایک چیز جو روکے وہ احصاء ہے باب جب عمرہ کا حرم باندھے والا روکا جائے دیکھو حدیث

(۸۶۰-۸۶۱) عَنْ كَافِعٍ (مُتَكَرِّرًا) (۸۶۰-۸۶۱) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

۸۶۰ دیکھو حدیث ۸۶۰ ابن عباس سے روایت ہے

فَلَا أَحْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ حَقَّقَ رَأْسَهُ وَجَاهَهُ سَاعَةً وَشَكَرَ هَدْيَهُ

تو آپ نے اپنا سر نہ لیا اور ہڈی بیویوں کے پاس گئے اور ابن عباس نے کہا

حَتَّىٰ أَهْمَ عَمَامًا قَالُوا لَا (۲۲) بَابُ الْإِحْصَارِ فِي الْبُرْمَانِ (۲۲) عَنْ سَالِمِ بْنِ كَانَ ابْنِ

کیا یہاں تک کہ اگلے سال عمرہ کیا باب حج سے روکا جاتا ہے

سَالِمٌ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (۲۲) عَنْ سَالِمِ بْنِ كَانَ ابْنِ

سالم نے اسے ابو ہریرہ سے سنا ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (۲۲) عَنْ سَالِمِ بْنِ كَانَ ابْنِ

ابو ہریرہ سے روایت ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (۲۲) عَنْ سَالِمِ بْنِ كَانَ ابْنِ

ابو ہریرہ سے روایت ہے

ما اقصا کے سوا
دوسرے کوکوں
میں بھی ایسا واقع تھا
اور حج یا سفر میں ہی
کے وقت ایسا کرتے
کے گھروں سے نکلے
ہوں یہ تو یہاں تھے
جو اسلام نے دور
کئے
بلکہ ان میں سے صاحب
اور شکلات کے اسے
عذاب کا ٹکڑا کہا ہے
مگر سفر سے روکا نہیں
یہ کہا ہے کہ کسی فرض
کے لئے سفر ہونا
چاہئے غیر فرضی ہو
جائے تو گھر کو واپس
آجائے
اسے گھر روایت میں
۱۹۹ کا صرف وہ
حصہ یا اختلاف تھا
وہ ہر ایک چیز میں
ابن عمر کی اپنی بیوی
کی بیاری کی اطلاع
پانے کا ذکر کرنا
۱۹۹ مسلم ۱۹۹ عبد اللہ
بن عمر نے بطریق
قبیلہ عن صفینہ
بنت ابی عبیدہ
۱۹۹ حج و عمرہ کے ایام
حضور کا بدھن
۱۹۹ اتفاق قول فصل
المحصر العقدة جميع
بہنہما قال انی رايت

عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ لَيْسَ حَسْبُكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
کتنے تھے کیا حقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں

أَنْ جُيَسَّرَ أَحَدٌ لَمْ يَخْرُجْ عَنِ الْحِطِّافِ بِالْبَيْتِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
اگر میں سے کوئی شخص سے روکا گیا تو بیت اظہر اور صفا و مرہ کا حلو کرے پھر ہر ایک کا دم (حج) میں بیٹھ جائے

حَتَّى يَخْرُجَ مَا قَابِلًا قَيْهْدًا أَوْ يَصُومَ أَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا (۳) بَابُ الْحَرْبِ قَبْلَ الْحَقْنِ
اس کیلئے جائز ہے پھر دوسرے سال حج کرے اور قربانی نہ کرے یا اگر قربانی کرے تو ذرہ رکھے صلا۔ باب روکا جانے پر سر ملانے

فِي الْخَصْرِ ۱۹۲۶ عَنْ السُّورِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سے پہلے قربانی کرنا مسور سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

حَرَّمَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِقَ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ (۶۶) عَنْ قَافِعٍ (مُتَكَرِّرٌ - ۸۷۰)
سر ملانے سے پہلے قربانی کرنا اور اپنے اصحاب کو بھی اس کا حکم دیا۔ دیکھو حدیث ۸۷۰

(۳) بَابُ مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَيَّ الْحَصْرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَلَمَّا
باب جو کہنے میں کہ جو شخص روکا جائے اس پر جہاد نہیں بلکہ ابن عباس سے روایت ہے کہ

الْبَدَلُ عَلَى مَنْ تَقَضَّى حَجَّهُ بِاللَّدَاوِمَةِ وَأَمَّا مَنْ حَجَّ عَنْهُ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحِلُّ
بدلہ اس پر ہے جو حلقہ اللہ سے پہلے حج کرے اور جسے غلظت نے روکا یا اس کے سوا اور ربات نے تو وہ

وَلَا يَجُزُّ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ وَهُوَ مُحْصَرٌ حَرَّمَ أَنْ كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْعَثَ
اِحرام کھول لے اور قضاء کرے اور اگر اس کے پاس قربانی ہے اور وہ روکا جاتا ہو تو اسے بھی نہیں سکتا تو اسے ذبح کرے۔

وَأِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ لَوْ حَلَّ حَتَّى يَذُمَّ الْهَدْيَ يَحِلُّ وَقَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ
اگر اس سے بھی سکتا ہے تو احرام نہ کھولے۔ ہاں تک کہ قربانی اپنے مقام پر پہنچے اور امام مالک وغیرہ کہتے ہیں

يُحْرَمُ هَدْيُهُ وَيُحْتَلِقُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ وَلَا تَضَاءُ عَلَيْهِ لَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اپنی قربانی ذبح کرے اور جہاں ہو سر ملانے اور اس پر جہاد نہیں ہے اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

وَأَصْحَابُهُ بِالْحَدْيِ بَيْتِهِ حَرَّمَ وَأَحْلَقُوا وَحَلَّوْا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ الْبَطْوَانِ قَبْلَ أَنْ
اور آپ کے اصحاب نے حدیبیہ میں حج کیا اور سر ملایا اور وہ ہر ربات میں احرام سے نکل گئے اس سے پہلے کہ بطوان کریں اور اس سے

يَصِلُ الْهَدْيُ إِلَى الْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَحَدًا أَنْ
پہلے کہ قربانی بیت اللہ میں پہنچے۔ پھر اس کا کوئی ذکر نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو حکم دیا کہ

يَقْضِيَ سَنِيَّتَهُ أَوْ لَا يَعُودُ وَالْهَدْيُ وَالْحَدْيُ بَيْتَهُ حَرَّمَ (۶۷) عَنْ تَافِعٍ
کچھ بھی قضاء کرے نہ یہ کہ اسے پھر کریں اور حدیبیہ حج سے باہر ہے

(مُتَكَرِّرٌ - ۸۷۰) (۵) بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرْضًا أَوْ بِمَرَضٍ
دیکھو حدیث ۸۷۰ باب اللہ تعالیٰ کا فرمان اور جو بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو

رَأْسِهِ فَيُدْبِرُهُ فَرِحَ بِهِ وَأَوْصَلَ قَبْلَ أَنْ يَذُمَّهُ فَذَا الْقَوْمُ فَذَلِكَ أَيُّهَا
تو اس کا قدیم ہے روزے یا حدیث یا قربانی سے (البقرہ ۱۹۰) اور اسے اختیار دیا گیا ہے اور روزے میں دن بھی

بعض روایتیں ہیں
قہر کی چیز تھے کہ
احرام اس صورت میں
کھولا جا سکتا ہے کہ
بازر سے وقت شرط
کرے کہ روکا جائے
کی صورت میں احرام
کھول دینا اس صورت
میں رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی سنت
میں کوئی شک نہیں
اس کی تردید کی
حدیبیہ میں آپ شرط
کر کے نہ کر سکتے تھے اور
ضیاع کی حدیث بھی
اشتراکی ایک اتفاق
ہر جس کے برابر
کا ہے نہیں
اس پر حدیث ایک
بسی حدیث کا کتاب
الشرط میں لے گی
ایک کو طہر ہے
صلح حدیبیہ کی تفصیل
ذکر ہے
اسٹا کر روایت
بہت مقرر کرتی ہے
غیر صلح حدیبیہ
صلح حدیبیہ میں
خیال کفار قریش
دفع البیت کھنجر
رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی راسخ
میں بیٹھنے سے
روکا جانے کی وجہ
سے رضہ دیا نہیں
کہ اگلے سال پھر
حج کرے استطاعت
ہو تو حدیبیہ میں
اور غرض نہیں
اس لئے اس کی تفصیل کوئی

نہیں اور کہنے کا عمر جو عمر القضاء کلاما ہے تو اس فیصلہ کے لئے جو حدیبیہ میں ہوا تھا اگر کسی سال کا کوئی زیارت کر سکتے ہیں چنانچہ کوئی لوگ
جو لڑنے میں گئے تھے کہ عمر کو نہیں گنڈے وقت کر رہا ہے اور عادل حدیبیہ کے لفظ تک ۶۲ کے لفظ میں اس کے بعد ہے ثمان عبد اللہ بن
عمر طرفی امرہ فقال ما امره الا واحدا فالتفت الى اصحابها فقال ما امرهم الا واحدا شهدوا ان ذلك اوجبت الحج مع العمرة ثم طاف
بهما طوافا واحدا وادى ان ذلك معهما عتده واحدا

مسکونہ اور مختصر ہے انہ دو رسول
 اللہ صلعم) قال
 صلعم رکب بن
 جرحی اذاک هرک
 قال نعم یا رسول
 اللہ فقال رسول
 اللہ صلعم احق
 اساک و صم ثلاثة
 ایما را وطعم ستة
 مساکن و اساک
 بشاة یین جرحی
 کی وجہ سے مرقانے
 کا حکم دیا تو تین
 دن و رے یا چھ
 مسکنوں کا کھانا یا چھ
 ایک بکری قربانی دینے
 کو کہا گیا قرآن کریم
 کے الفاظ صیاد و صم
 صید و اساک
 کی تفسیر کر دی ہے
 مرقان و سولہ صل
 چارہ صراع یا چھ صل
 دو ایک ثلث ہیں
 فرق میں صراع ہوا
 ہر چھ مسکنوں کے
 لئے دو صا او صراع
 فی مسکنین تھا
 صلعم رکب و اساک
 الفاظ میں ۹۲۴
 سے کچھ فرق ہے
 جلست عبد اللہ
 بن معقل ان کتاب
 ابن حجر و رضائلنا

(۷۶۸) عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ (متکرر - ۹۲۷) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْصِدَ قَتْلَ

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْصِدَ قَتْلَ
 دیکھو حدیث ۹۲۷
 کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم
 سے روایت ہے کہ اس آیت میں
 قتل اور صید کا

وَهُیَ اطْعَامُ سِتَّةٍ مَسَاكِينَ (۹۲۷) عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ وَقَفَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ

عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ وَقَفَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ
 کہ جب میں نے عرض کیا کہ میں نے فرمایا یا فرمایا (صید اور صم) کہا یہ آیت میرے پاس ہے
 فنن کان الخ
 وممکم مرقیضا اوقیہ اذی من رأسہ انا اخرجھا فقال اللہ صلعم اللہ علیہ

وَمَمِّكُمْ مَرْقِيضًا اَوْ قِيَهْ اَذَى مِنْ رَأْسِهِ اِنَا اَخْرَجَهَا فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 کہ اس کے لئے کھانا نکلیں جو الخ
 جو ہمارا ہے
 با اس کے لئے کھانا نکلیں جو الخ

وَسَلَّمَ حُمُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ اَوْ وَصِدًا بِفُرْقٍ بَيْنَ سِتَّةٍ اَوْ اسَاكٍ (۹۲۷) بَابُ

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَاَحْلِقْ رِاسَكَ اَوْ قَاتِلْ حُرَّتَكَ اَوْ قَاتِلْ حُرَّتَكَ اَوْ قَاتِلْ حُرَّتَكَ
 تین دن روزے رکھ یا ایک فرقہ یا چھ مسکنوں کو صدمہ دے یا جو تین روزہ قربانی کر
 باب
 الاطعام فی القیدیة نصف صاع (۷۶۹) عن عبد اللہ بن معقل (متکرر)

فِي الْقَدِيَّةِ نَصْفُ صَاعٍ (۷۶۹) عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ (متکرر)
 فدہ میں نصف صاع خوراں دینا
 دیکھو حدیث

(۹۱۲) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَاَحْلِقْ رِاسَكَ (متکرر - ۹۲۷) عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَاَحْلِقْ رِاسَكَ (متکرر - ۹۲۷)
 باب اللہ تعالیٰ کا فرمان اور جرحی کہ جو کھانا اور دو صم کا
 باب اللہ تعالیٰ کا فرمان اور جرحی کہ جو کھانا اور دو صم کا (۱۹۷ - ۱۹۸)

اِنَّيْ هُوَ مَرْقِيضًا اَوْ قِيَهْ اَذَى مِنْ رَأْسِهِ اِنَا اَخْرَجَهَا فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اِنَّيْ هُوَ مَرْقِيضًا اَوْ قِيَهْ اَذَى مِنْ رَأْسِهِ اِنَا اَخْرَجَهَا فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 کہ اس کے لئے کھانا نکلیں جو الخ
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اس آیت میں قتل اور صید کا

وَهُیَ اطْعَامُ سِتَّةٍ مَسَاكِينَ (۹۲۷) عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ وَقَفَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ

وَهُیَ اطْعَامُ سِتَّةٍ مَسَاكِينَ (۹۲۷) عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ وَقَفَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ
 کہ جب میں نے عرض کیا کہ میں نے فرمایا یا فرمایا (صید اور صم) کہا یہ آیت میرے پاس ہے
 فنن کان الخ

وَمَمِّكُمْ مَرْقِيضًا اَوْ قِيَهْ اَذَى مِنْ رَأْسِهِ اِنَا اَخْرَجَهَا فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَمَمِّكُمْ مَرْقِيضًا اَوْ قِيَهْ اَذَى مِنْ رَأْسِهِ اِنَا اَخْرَجَهَا فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 کہ اس کے لئے کھانا نکلیں جو الخ
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اس آیت میں قتل اور صید کا

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَاَحْلِقْ رِاسَكَ (متکرر - ۹۲۷) عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَاَحْلِقْ رِاسَكَ (متکرر - ۹۲۷) عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ
 باب اللہ تعالیٰ کا فرمان اور جرحی کہ جو کھانا اور دو صم کا

مَسَاكِينٍ اَوْ عَدَلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبِالْاَمْرِ عَقَابُ اللَّهِ عَمَّا سَلَفَ مِنْ عَادِ

یا ایک ہزار روزے ٹکرائے کہ اس کا اجر ہے جو ہر سال اسے ادا سے نزا

فَيَلْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ اَجَلَ لَكُمْ صِيْدًا لِمَنْ حَرَّمَ لَكُمْ فَطَعَامًا مِمَّا حَالَ كُمْ

وگا اور اگر غالب ہزار روزے واہ ہے تمہارے لئے دریا کا پکارا اور اس کا کھانا حلال کرو یا تمہارے ہنڈے اور سازوں کے فائدے

وَالسِّيَارَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صِيْدَ الْبَرِّ مَا هُمُ حُرِّمًا وَاَنْتَوُا لِلَّهِ الَّذِي الْيَوْمَ تُحْشَرُونَ

لے اور تمہاری کشتیاں تک ملت اس میں ہر قسم کے کھانے اور پینے کی چیزیں حرام ہیں اور اس کا کھنا حلال ہے اور اس کے ذمہ کرنے میں کوئی برکت نہیں

(۲) بَابٌ اِذَا صَادَ الْحِلَالُ فَاهْلُ الْعَمْرِ مَا كَلَهُ وَلَمْ يَرِثْ اَنْ يَتَبَسَّطِ الشَّرِّ بِالذِّبْرِ

باب صحیح شکار سے اور حرم کو کھنے سے اس کے لئے اور ایسا ہاں اور اس میں شکار کے ذمہ کرنے میں کوئی برکت نہیں

بِاسَا وَّهُوَ غَيْرُ الصَّيْدِ حَوْا لِاِبْلِ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالْجَاغِ وَالْحَيْلِ يُقَالَ عَدَلٌ

کھنے سے اور اس کے لئے اور ایسا ہاں اور اس میں شکار کے ذمہ کرنے میں کوئی برکت نہیں

(۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ (۹۲۸) (۳) بَابٌ اِذَا رَأَى

دیکھو حدیث ۹۲۸ باب جب احرام والے شکار

الْحَيُّ مَوْنٌ صَيْدًا اَفْضَى كَوْا فَطُنَ الْحِلَالُ (۹۲۸) عَنْ ابْنِ قَتَادَةَ قَالَ اُنْطَلَقْنَا

دیکھ کر ہمیں تو یہی اور صحیح حرم سمجھا جانے اور قتادہ سے روایت ہے کہ ہم

مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحَدِيثِ فَأَحْرَمَ اصْحَابُهُ وَلَمْ يَحْرَمُوا نِسَاءً

جہی صلعم کے ساتھ حدیبیہ کے سال پہلے آپ کے صحابہ نے احرام باندھا اور عورتوں نے نہ باندھا انہیں

يَعْلَمُونَ بَيِّنَةً فَتَوَجَّهْنَا فِي حَرَمِ اصْحَابِي بِحِمَارٍ وَحِشٍّ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ

شہری کر مقام حجاز میں تھیں ہم نے ان کی طرف رخ کیا ملا تو یہ ساتھیوں نے کوزہ بکھا وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے۔ میں

يُصَوِّكُ اِلَى بَعْضٍ فَنَظَرْتُ فَرَأَيْتُهُ فَمَلْتُ عَلَيْهِ الْفَرَسَ فَطَعَنَتْهُ فَانْتَهَتْ

دیکھ بولنے لگا تو میں نے اسے دیکھ لیا تو میں نے اس کے پیچھے گھوڑا دوڑایا اور اسے بوجھا مار کر پھینکیا

فَاسْتَعَدَّوْهُمْ فَأَبَوْا اَنْ يُعِينُوْنِي فَاكْتَنَاهُمْ ثُمَّ لَحِقْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ

میں نے ان سے مدد مانگی انہوں نے میری مدد کرنے سے انکار کر دیا میں نے اس میں سے کہا یا پھر میں رسول اللہ صلعم سے جا ملا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَشِيئَتَانِ اَنْ تَقَطَّعَ اَرْفَعُ فَرَسِي شِمَاوًا وَاَسْبِرْ عَلَيْهِ

اور ہم نے کہنے لگے کہہیں پیچھے نہ رہا میں میں بھی گھوڑے کو دوڑانا اور بھی آہستہ چلا تا تھا

شِمَاوًا وَاَقْبَحْتُمْ رَحْلًا مِنْ نَبِيِّ غِفَارٍ فِي جَوْثِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ اَيْنَ تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ

اور میں نبی غفار کے ایک شخص سے کوئی آدمی رات کے وقت ملا میں نے پوچھا رسول اللہ صلعم کو کہاں

۱. عدل حالت احرام میں
۲. عقی کا شکار مارنا
۳. ممنوعات احرام میں
۴. سے ہے ایک خاص
۵. لے کر حج میں ایسا
۶. ہے جس میں انسان
۷. اپنی خواہشات کو
۸. متخلل کرانے اور
۹. انہیں محرم بنانے
۱۰. کی کوشش کرتا ہے
۱۱. اور سب بوجھ کر
۱۲. نماز میں کھانے پینے
۱۳. کی ہے تو شکار کے
۱۴. وقت سے پہلے
۱۵. پر لانا مقصود ہے
۱۶. اور دوسرے لئے کہ
۱۷. مختلف اطراف حرام سے
۱۸. لوگ بحق مدقق
۱۹. آتے ہیں ان کے
۲۰. ہلک ہوئے کا خوف
۲۱. ہے تبیر العیہ کی
۲۲. کو قائم رکھنا ہے۔
۲۳. صید سے مراد جنگلی
۲۴. جانوروں ہے جس کا
۲۵. گوشت کھانا سنت
۲۶. ہو موذی جانور ہیں
۲۷. کا قتل حالت احرام
۲۸. میں درست مان کے
۲۹. قتل کی کوئی ہمت نہیں
۳۰. نہ خطا اور نسیان پر
۳۱. نزا ہے صید کی کو
۳۲. عیب کا تحمل کا شکار
۳۳. ہو جیتے کیا ہے ہونے
۳۴. وہ فائدہ کبیر ہے
۳۵. مقام میں حرام قطع
۳۶. نہیں۔

ملا لاقتلوا الصيد میں شکار دارنے سے ممانعت نہ شکار کھانے سے روکا ہے نیز شکار کے ذمہ سے روکا ہے اس لئے محرم غیر حرم کا شکار کیا ہو کھا سکتا ہے اور
حرم غیر شکار کو ذبح کر سکتا ہے لیکن غیر حرم کو شکار کرنے میں مدد نہیں ہے سکتا ہے۔ اگر روایت کی ابتدا میں ہوتی ہے۔ انطلق ابنی عبد اللہ عام الحدیبیة
فا حرم اصحابہ ولم یحرم وصدات النبی صلعم ان حدوا وینقضہ فیندنا انما مع اصحابہ تضجوا بعضہم اى بعض اس کے بعد نظر ت
سے ایتر تک مرف نظر فرق ہے محرموں ایک ہے البتہ یہاں نا انطلق النبی صلعم تک کی روایت ابنی قتادہ کے پیچھے عباد اللہ کے الفاظ میں ہے اور اسی کی روایت
چھ ماہ ۹۲۸ میں سارا قصہ اور قتادہ کی روایت ہے یہاں کی روایت کی صورت اگرچہ مسل کی ہے لیکن عیب رائے کی یہ روایت قطعاً اپنے باب سے ہے
پیساکر اور وہ تمہل میں تصریح ہے۔ مگر آپ نے ایک جماعت کو کمن کر کے کہانے کنارے جانے کا حکم دیا کیونکہ آپ کو چونکا تھا کہ دشمن کی ایک جماعت
وادی بقیع میں موجود ہے۔

لَا يَجِلُّ لِقَاتُ مَلَائِكَةِ رَبِّكَ إِذْ رَأَوْنَهُمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ بِهَا الْمَلَأَئِكَةُ مُسَوِّمَاتٍ ۚ لَئِيْلُ الْقَائِلِينَ ۗ

مکہ میں جنگ کرنا جائز نہیں اور ابو لہزم نے نبی صلعم سے روایت کی ہے

لَيْسَ فِيهَا مَاءٌ (۷۸) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متنکر۔ ۹۷) (۱۱) بَابُ الْحَجَامَةِ

کہ اس میں خون نہ رہائے م (دیکھو حدیث ۹۷) باب احرام وانے کا

لِلْعَرْمِ وَوَكُوَيْ بْنِ كُرَيْبَةَ وَهُوَ مُحْرَمٌ وَتَبَدَّ اَوْ مَاءٌ لَمْ يَكُنْ فِيهِ طَيْبٌ (۷۸۲)

بچھنی لگوانا اور میں عمر نے اپنے بیٹے کو داغ و زیادہ روہ (وینا) حالت احرام میں تھا اور محرم اس صافی کو استعمال کر سکتا ہے بین و غیرہ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متنکر۔ ۹۳۳) (۹۳۳) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متنکر۔ ۹۳۳) قَالَ

دیکھو حدیث ۹۳۳ ابن عبیدہ سے روایت ہے کہا

احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرَمٌ يَحْتَجِمُ كُلُّ نَبِيٍّ فِي وَسْطِ لَيْسَ فِيهَا مَاءٌ

نبی صلعم نے (مقام) حجی میں اپنے سر کے وسط میں بچھنی لگوانی باب

تُرْوِجُ الْحُمْرَ (۹۳۴) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متنکر۔ ۹۳۴) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَوْنَ

حرم کا عقد نکاح کرنا ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلعم نے حضرت پیغمبر سے

مِيمُونَةٌ وَهُوَ مُحْرَمٌ (۱۳) بَابُ مَا يَأْتِي مِنَ الطَّيِّبِ لِلْحَرَمِ وَالْحَرَمَةُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ

مالت احرام میں نکاح کیا م (باب احرام وانے مرد اور عورت کیلئے خوشبو کی ممانعت اور حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں

عَمَّا لَا تَلْبَسُ الْحَرَمَةَ ثَوْبًا بَوْرُسًا مِنْ عَفْرَانَ (۸۳) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (متنکر۔ ۱۱۵)

کہ احرام والی عورت درس اور عفران کا رنگا ہوا کپڑا نہ پہنے دیکھو حدیث ۱۱۵

جنگ کے بعد ہوا
پر حدیث لائے ہیں اس
کا مطلب یہ ہے کہ
وہ لوگ جو رسول اللہ
صلعم کو اپنا لادی جانتے
ہیں وہ اس میں جنگ
نہ کریں بلکہ وہی نہ لگا
ہے کہ اگر شریکین کو کہہ
غالب ہو جائیں تو غیر
مسلمانوں کیلئے ان کے
ساتھ نہ لگا کر جنگ
کرنا اور ان کا قتل کرنا
جائز ہے دوسرے
حصہ عنوان میں ابو لہزم
کی روایت کا ذکر ہے
جو صفحہ ۹۷ پر درج ہے
۷۸۹ م پر لکھی
ہے اس بات کو نظر
لا لیں کہ اس میں چونکہ
باللہ والیوں کا لفظ
لیسے لکھا گیا ہے

اس میں خون کرنا جائز نہیں مگر اگر اسے حدود اس مرتبے سے بچھڑا کر اس کے بغیر اسٹھ جائے ہے نبی کریم صلعم نے خود فرج کر کے دو ماہین تھل کے قتل کی اجازت دی
جب وہ ۱۰ ستاروں کو کھڑے ہوئے تھا دیکھو حدیث ۹۳۶ مکر روایت یوں ہے قال النبی صلعم یوم الفتح مکہ کا چھوٹا ملک تھا اور مکہ اور مدینہ و اذا استفتحتم
فانفروا فان هذا بلد حرم الله یوم خلق السموات والارض وحرلہ بحرمۃ اللہ ان یوم القیمۃ وانہ لم یعمل النقال فیہ کاحل قبلہ ولم یعمل الخ لکاساعۃ
من لہار فحور امرہ یحرمہ اللہ تعالیٰ ان یوم القیمۃ ولا یصلہ شوک ولا یفر صیدہ ولا یلصق لفظہ الا من عرفہا ولا یختلہ خلا ما قال النبی صلعم یا
رسول اللہ الا الاذخر فانہ لقیہم لیسو تم قال قال الاذخر ہے روایت دانہ محل النقال فیہ لحد داخل سے لیکر جس سے نوان اس کا تعلق ہے یہ حد
میں ہے ۷۵۵ م فقرہ نقل کا حدیثی میں ہے: لیسو صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر حالت احرام میں ان کو رکنا ممانعت ہے مگر روایت میں جو محل و وسط اس سے
کا حکم نہیں ہے مگر اس میں ہے کہ اس میں بچھنی لگوانی کی اجازت ہے تو اس حدیث کو ترک کرنا ہو گا اور اس کی یہ تاویل کرنی ہوگی کہ نکاح یہاں آپ نے نفوی میں
تھا۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ احرام والے کیلئے نکاح ناجائز ہے تو اس حدیث کو ترک کرنا ہو گا اور اس کی یہ تاویل کرنی ہوگی کہ نکاح یہاں آپ نے نفوی میں
استعمال کیا ہے یعنی مرد اور عورت کا تعلق ۷۵۵ م میں بھی یہ روایت گذر چکی ہے۔ یہاں اس کی ابتدا یوں ہوئی ہے قال رجل یارسول اللہ عطا
ناحرانان علیہن النیاب فی الاحرام اس کے بعد ۱۱۵ م مضمون الفاظ اور ترقیب کے اختلاف کے ساتھ مذکور کیا گیا ہے اور یہاں انہوں نے بڑا بڑے ولا
تنتقب المرأۃ المحرمۃ ولا تلبس القفازین یعنی احرام والی عورت نقاب نہ پہنے اور نہ دستا نہ پہنے۔ یہ زائد مذکورہ بعض روایات میں نبی کریم صلعم کے فرج
ہے اور بعض میں اس حکم کا نقل ہے جس طرح مالا تفاق عورت اپنے ہاتھ کھلے رکھ سکتی ہے اور شریعت نے یہ اجازت کا ملاحظہ منہا میں سکودی ہے مگر کسی ضرورت کیلئے
دستا نہ پہننا منع نہیں۔ اسی طرح شریعت نے عورت کو منہ کھلا رکھنے کی بھی اجازت اسی آیت میں دی ہے مگر کسی ضرورت کیلئے سے نقاب پہننے سے
روکا نہیں۔ البتہ حالت احرام میں دستا نہ اور نقاب نہ پہننے سے روکے یوں شریعت نے منہا تک وہ کا سوال پوچھنا تھا تو اور منہ کو ایک ہی حکم میں
رکھا ہے اور وہی کو کھلا رکھنے کی اجازت دی ہے۔ ان وقت ضرورت نہ دستا نہ پہن سکتی ہے اور نقاب بھی لیکن حالت احرام میں ان دونوں باتوں سے روکا
ہاں حدیث سے یہ استدلال کرنا کہ بغیر احرام کے عورت کیلئے نقاب پہننا ضروری ہے۔ ایسا ہی ہے جیسے یہ کہا جائے کہ بغیر احرام کے دستا نہ پہننا ضروری ہے اور اگر
یہ کہا جائے کہ اگر عورت عام طور پر نقاب پہنتی ہو تو احرام کی حالت میں نہیں نقاب پہننے سے کیوں روکا جاتا ایسا ہے جیسا یہ کہا جائے کہ اگر عورت عام طور پر
دستا نہ پہنتی ہو تو اس میں دستا نہ پہننے سے کیوں روکا جاتا یہ حکم صاف جاتا ہے کہ قرآن شریف نے عورت کو چہرہ چھپانے کا حکم نہیں کیا نہ لاکھ چھپا
کا حکم دیا ہے کیونکہ اگر قرآن میں یہ حکم ہوتا تو نبی صلعم اس کے خلاف یہ حکم نہ دے سکتے تھے کہ جیسے موقتہ یہاں مردوں اور عورتوں کا اجتماع ہوتا ہے عورتوں میں
چھپا لیں نہ لاکھ چھپائیں۔ قرآن شریف نے عورت کو لاکھ اور منہ کھلا رکھنے کی اجازت دی ہے لیکن اگر وہ ضرورت محسوس کرے تو اسے دستا نہ پہننے یا نقاب پہننے
سے منع نہیں کیا۔ البتہ حج میں ایسا کرنے سے منع کیا ہے اس کی دو روایتیں اسکے کچھ معلوم نہیں ہوتی کہ جس چیز سے ایک عورت دوسری پر فرج کر سکتی ہے اسے روک کر منہ
مسواوی رکھا ہے چند امیر عورتوں نے دستا نہ اور نقاب کا استعمال کر سکتی ہیں مگر ان کی خود فریاد سوسوں سے ایک ہوگی تو اس امتیاز کو منہ کیلئے یہ حکم جاری ہوگا

۸۴- عن ابن عباس (متکرر) (۶۸۱) (۱۴) بَابُ الْإِعْتِسَالِ لِلْحُرِّ وَقَالَ ابْنُ

دیکھو حدیث ۶۸۱ ط باب محرم کا غسل کرنا اور ابن عباس رضی

عَبَّاسٍ نَحَى اللَّهُ عَمَّا يَدْخُلُ الْحُرُّ مِنَ الْحَمَامِ وَلَمْ يَرَأِ ابْنُ عُمَرَ وَعَاسِئَةُ بِالْحَاكِمِ بَأْسًا

ذماتے ہیں محرم حمام میں اہل ہو سکتا ہے اور ابن عمر اور حضرت عائشہ (مدین) نے اس کو صحیح نہیں سمجھا۔

۹۳۵) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَالْمُسَوِّبِينَ فَحَرَمَتْهُمُ اخْتِطَافًا

عبداللہ بن حنبل سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس اور مسویب بن عمیرہ میں در مقام انوار

بِالْأَبْوَاءِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ يُغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَقَالَ الْمُسَوِّبُ لَا يُغْسِلُ

میں اختیاف ہوا عبداللہ بن عباس نے فرمایا محرم اپنا سر دھو سکتا ہے اور مسویب نے فرمایا محرم اپنا

الْحُرُّ مَرَأَسًا فَأَسْلَمَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ فَوَجَدْتُهُ

سر نہین دھو سکتا تو مجھے عبداللہ بن عباس نے لے کر آیا ابویوب انصاری کے پاس جہاں میں نے انہیں

يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقُرْبَيْنِ وَهُوَ لِيَسْتَرْبِتُ وَيُفْسَلَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذَا أَفَقَدْتُمَا عَبْدُ

دو کھڑوں کے درمیان نہاتے ہوئے پایا اور وہ کپڑے سے پردہ کئے ہوئے تھے میں نے ان پر سلام کیا تو فرماتے لگے یہ کون ہیں

اللَّهُ بَيْنَ حَتِّينِ أَسْلَمَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ سَأَلْتُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

عزیز کیا عبداللہ بن حنبل مجھے عبداللہ بن عباس نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ سے پوچھوں کہ رسول اللہ صلیم حالت احرام میں

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَضَعُ أَبُو أَيُّوبُ يَدَهُ عَلَى التَّوْبِ فَقَطَّطَاهُ

اپنا سر کھردھرتے تھے تو ابویوب نے اپنا ہاتھ سر کے کپڑے پر رکھا اور اسے نکال

حَتَّى يَدَّأِيَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصِيبُ عَلَيْهِ رَصِيدٌ فَصَبَّ عَلَيْهِ رَأْسَهُ ثُمَّ

یہاں تک کہ مجھ ان کا سر نظر آیا پھر ایک آدمی کو چھان پر دیا تو اس کا دال اس نے ان کے سر پر پانی ڈالا پھر

رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِيهَا وَأَذْبَرُ وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر بلایا ان کو سامنے لائے اور پیچھے لگے اور کہا اس طرح میں نے رسول اللہ صلیم کو

يَقْتُلُ (۱۵) بَابُ لَيْسَ الْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدِ التَّعْلِينَ (م- ۸۴) ل

کرتے ہوئے دیکھا باب محرم کا موزے پہننا جب اسے جو تیاں نہ ملیں

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکرر) (۱۱۵) (م- ۸۵) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (متکرر) (۱۱۵)

دیکھو حدیث ۱۱۵ ط دیکھو حدیث ۱۱۵ ط

(۱۶) بَابُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْأَنْزَالَ فَيَلْبَسُ السَّرَّاءَ وَيَل (م- ۸۶) عَنْ ابْنِ

باب جب تہ بند نہ پائے تو پاجامہ پہننے اور عکر مرہ کہتے ہیں جب

عَبَّاسٍ (متکرر) (۱۱۵) (۱۶) بَابُ لَيْسَ السَّلَاحُ لِلْحُرِّ وَقَالَ عِكْرِمَةُ إِذَا

دیکھو حدیث ۱۱۵ ط باب محرم کا ہتھیار باندھنا اور عکر مرہ کہتے ہیں جب

خَشِيَ الْعَدُوَّ وَلَيْسَ السَّلَاحُ وَافْتَدَى وَلَمْ يَتَابِعْ عَلَيْهِ فِي الْفِدْيَةِ

دشمن کا خوف ہو تو ہتھیار باندھنے اور فدیہ دیدے اور فدیہ میں ان سے کسی نے اتفاق نہیں کیا

من لم يجد التعلين فليلبس الخشن من لم يجد اذا فليلبس السراويل المحرمة ط مكرروايت من تخفيف لفظي تغيره كما تقدم ۱۱۵ ان مضمون دوم را يكليسيه

۵ مكرروايت مضمون ۸۵ م كاهي المحرم كالمفترهاهال نهين ۵ م مسم من بروايت جابره نهى رسول الله صلعم ان يجعل السلاح بلكه در ۱۱۵ م مكرروايت

عمرے حاج سے کہا ادخلت السلاح في المحرم ولم يكن السلاح يدخل في المحرم - غالباً امام بخاری نے ان روایات کو مان من بچھل کیا پھر اسلحہ مکرر کا قول نقل کیا مگر میں

دشمن سے خوف کی شرط سے ساتھ ہتھیار باندھنا اور جواز عفو القصاص میں بھی کرم اور صحابہ کا ہتھیار کو نام میں رکھ کر اپنی شرط سے معلوم ہوتا ہے مگر ہتھیار

توضیح اور اس کے وقت ہوا تھا لیکن مشرکین کے معاہدہ اور صلح کا کوئی اعتبار نہ تھا ۵

بقیہ صفحہ ۴۱۰
کئی صورت نقاب یا
دستکے نہ ہونے نقاب
دو نور طرح پر پختہ
کہ حج الباری میں ہے
الذی یسند تحت ال
اصحیح المباحر بیضی
وہناک کے نیچے باندھا
ملا تھا جس سے ہونٹ
اور ٹھوڑی چھپ جائے
یا کھسوکے نیچے اور
عرب میں نقاب لادھے
بچنے کے لئے لٹھے پہنا
جانا تھا اور غالباً ہند
مذہب کے نشان کے
طور پر بھی ۵

مرا کور روایت کے
لفظ میں در قصت
بوجہ محرم ناقہ
نقلہ فانی پر رسول
اللہ صلعم فقال
اغسواہ وکفونہ
ولا تقطروا واسلہ
ولا تقربوا علیہا
سے عنوان ہے ناقہ

یعنی بھل
یا غسل بنا ضرورت
جانت کی وجہ سے ہو
تو تنظیم تیرہ کیلئے
جو پر حال درست ہے
یعنی میں ہے کہ ابن
عباس محرم تھے تمام
محض من جام من خل
پوشے اور فرمایا اللہ
نہادی میل جیل کی
ضرورت نہیں ۵
مرا کور روایت صحیح
آئی ہے - سمعت النبی
صلعم یخطب برفقا

(۲۲) بَابُ الْحَجِّ وَالنُّذُورِ عَنِ النَّبِيِّ وَالرَّجُلِ الْمُحْجِّ عَنِ الْمَرْأَةِ (۹۳) عَنْ ابْنِ

باب بیعت کی طرف سے حج اور نذرانہ اور مرد کا عہد کی طرف سے حج کرنا

عَبَّاسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جَمْعِيَّةٍ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

سے روایت ہے کہ جمعیتہ کی ایک عورت نبی صلیم کے پاس آئی

وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أُمَّي تَذَرْتَنِي أَنْ يَحْجَّ فَلَمْ يَحْجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحْجُّ عَنْهَا قَالَ لَنْ

عزیز کیا کہ میری ماں نے نذرانی تھی کہ حج کرے گی میں تک کہ مرے گی کیا میں اس کی طرف سے حج کروں تو کیا

حُجَّتِي عَنْهَا أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمَّكِ مِنْ أُمَّكِ قَاضِيَةً يَا قُصْوَالَةَ اللَّهُ فَاللَّهُ أَحَقُّ

اں اس کی طرف سے حج کروا کر میری ماں پر فرض ہوتا کیا تو ادا کرتی ایسا کہ قصوہ اور اللہ (حق) کا زیادہ حقدار

بِالْوَفَاءِ (۲۳) بَابُ الْحَجِّ عَنِ لَيْسَةَ طَيْبَةَ الثَّبُوتِ عَلَى الرَّاحِلَةِ (۹۲) عَنْ

باب اس کی طرف سے حج کرنا جو سواری پر نہ چلے سکا جو

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مُتَكَرَّرٌ ۸۱۱) بَابُ الْحَجِّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ (۹۳) عَنْ

دیکھو حدیث ۸۱۱ باب عورت کا مرد کی طرف سے حج کرنا

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ (مُتَكَرَّرٌ ۸۱۱) بَابُ الْحَجِّ الصَّبِيَّانِ (۹۴) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

دیکھو حدیث ۸۱۱ باب بچوں کا حج کرنا

(مُتَكَرَّرٌ ۸۸۷) (۹۵) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مُتَكَرَّرٌ ۶۹) عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ

دیکھو حدیث ۸۸۷ دیکھو حدیث ۶۹ سائب بن یزید سے روایت ہے

قَالَ حَجَّ بِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ (۹۳۸) عَنْ

کہا مجھے رسول اللہ صلیم کے ساتھ حج کرایا گیا اور میری عمر سات سال کی تھی

الْجَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ لِلسَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ

جعفر بن عبدالرحمن سے روایت ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کو سنا وہ سائب بن یزید سے کہہ رہے تھے

وَكَانَ قَدْ حَجَّ بِهٖ فِي ثِقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۲۶) بَابُ الْحَجِّ الْمَرْأَةِ

اور اس سائب کو نبی صلیم کے سامان کے ساتھ حج کرایا گیا تھا

عَنْ إِبرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَدَانَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

ابراہیم بن عبدالرحمن سے روایت ہے حضرت عمر نے اپنے آخری حج میں جو انہوں نے کیا نبی صلیم کی بیویوں کو

عنا بابت فی العبادت کا سطر مختلف ہے ہے دوم کی عبادت میں مالی اور بدنی حج میں مالی اور بدنی دونوں جہازوں میں اور عبادت مالی میں طہارت اور نہ قرآن کریم درست قرآن کریم میں صحت کرنے کا حکم ہے اور وصیت میں وصیت کرنا لاکسی کو اپنے مرنے کے بعد نام بنانا ہے کس کے مال کا ایک حصہ اس کے مرنے کے بعد اس کے منشا کے مطابق خرچ کرے۔ اور انسان زندگی میں بھی صدقات خیرات کا اور دوسرے کے سپرد کر دیتا ہے اگر کوئی شخص بیت کے منشا کے مطابق اس کا مال بیویوں کی وصیت کے بھی خرچ کرے تو یہ بیویوں کی خیاس ہے جس نذر فیہ نذر بھی میت یا مہذوری

طرف اس کا مال عبادت حج میں خرچ کرنا وصیت سے ہو یا بغیر وصیت کے جبکہ اس کے منشا کے مطابق ہو نہ صرف درست بلکہ لوٹی ہے اور قرآن میں تو فرمایا ہے حج کرنے والے نے مہذوری یا میت کا مال اس کے منشا کے مطابق خرچ کیا اور اسے میت یا مہذوری کے مال کی بدولت مناسک حج ادا کرنے کا موقع ملا ابن عمر اور میت کے نزدیک نیابت فی الحج صحیح نہیں اور امام مالک صرف وصیت کی صورت میں جائز سمجھتے ہیں بخوان باب میں ہے مرد کا عورت کی طرف سے حج کرنا اگر عورت میں عورت کی طرف سے حج کرنے کا ذکر ہے۔ یا یہ ہو ہے اور یا شاید یہ خیال کیا ہو کہ جب عورت عورت کی طرف سے حج کر سکتی ہے تو مرد بھی عورت کی طرف سے حج کر سکتا ہے۔

ملا یہاں فضل کا ذکر بھی ہو دیا ہے حجارت امراۃ من خضعوا لہ حجۃ الوداع قالت یا رسول اللہ ان فریضۃ اللہ علی عبادہ فی الحج اذ رکعت الی شیانہ لایستطیع ان یشقوی علی الراحۃ فہل یقضی عندہ ان احج عندہ قال نعم۔ علی علی عبادہ فی الحج کے لفظ نہیں باقی ۱۱۱ کے الفاظ ہیں۔ ملا یہاں لفظ یہ ہیں یعنی اوقد منی الذی صلعم فی الثقل من حجہ لیل یعنی آپ نے حج کو سامان کے ساتھ مرد لفظ سے رات کو بھیج دیا تھا۔ ابن عباس اس وقت تاہا حج تھے۔ ۷۷ مکرر روایت کے لفظ یہ ہیں اقبلت (ابن عباس)۔ خدا نا حضرت الماحم (سید علی تان لی ورسول اللہ صلعم قال لہ یصلی نبی حتی سرت بین یدای بعض الصفا الاول شعر نزلت عنہا فرقت فصفت مع الناس وادرسول اللہ صلعم اور ایک روایت میں ہمیں کے بعد فی حجۃ الوداع کا لفظ لاکہ ہے۔

ملا یہاں یہ ذکر نہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کیا کہہ رہے تھے دو مہری روایت میں ہے کہ لاکہ متعلق ذکر تھا بچوں کو سامان کے ساتھ کر دیا جاتا تھا تکلیف نہ ہو۔

عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف
 حضرت صلعم کی بیوی
 ازواج مطہرات کے
 عرم نہ تھے یہیں سلام
 ہوا کہ غیر عرم کے ہی
 سود حج کر سکتی ہے
 مالا کہ بیچ بچوان
 کا بطور نفل بخانا
 حضرت عائشہ کی
 بیرواہر تفسیل سے
 ہے ظنت یا رسول اللہ
 الا تفرقا و فطما
 متکفر فقال انی
 الجناحا و اجملہ الحج
 حج مبرور فخالق
 عائشہ فلا احد
 الحج بعدا ذمعت
 هذا من رسول الله
 صلعم اس سے علوم
 ہو کر حضرت عائشہ
 رسول اللہ صلعم کے
 بدو ہی ہمیشہ حج کوفی
 وہیں حج ہمیشہ عرم
 کے ساتھ ہونے کا
 ذکر نہیں
 صلعم ہاں ہے کہ عورت
 حج عرم رشتہ دار کے
 سفر کرے اور عورت
 کے پاس غرض جائے
 سوائے اس کے اس
 کے پاس کوئی عرم
 بھی ہو اور اوپر
 حدیث میں مذکور

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُخْرَجَتْ جَمَاهَا فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُمَانُ ابْنَ عَفَانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ

رحم کی اجازت دی اور عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف کو ان کے ساتھ کر دیا

(م- ۷۹۷) عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَرِّرًا) ۸۱۳ (۹۳۹) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ضَوَى اللَّهِ عَنْهَا

دیکھو حدیث ۸۱۳ ابن عباس رض سے روایت ہے

قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي حَرَمٍ وَلَا يَدْخُلُ

عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا مَعَهَا حَرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْرُجَ فِي

جَيْشٍ كَذَا أَوْ لَدَى أَمْرٍ كَذَا تَرِيدُ أَنْ تَجْرَ فَقَالَ أُخْرَجَتْ مَعَهَا رَم ۷۹۸ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

اور میری بیوی حج کو مانا جاتی ہے فرمایا اس کے ساتھ جاؤ

(مُتَكَرِّرًا) ۹۱۶ (م- ۷۹۹) عَنْ قُرَيْشَةَ (مُتَكَرِّرًا) ۷۵۷ (۲۷۱) بَابُ مَنْ تَدَارَكَ

دیکھو حدیث ۹۱۶ دیکھو حدیث ۷۵۷ باب جو کہے کہ پہل کر

السَّبِيَةَ إِلَى الْكَبِيرَةِ ۹۲۰ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہائے کی منت مانے اس سے روایت ہے کہ نبی صلعم نے

رَأَى سَبِيحًا يَهَادِي بَيْنَ ابْنَيْهِ قَالَ مَا بَالُ هَذَا الْوَأَدَّانِ تَشِي شَيْءٌ قَالَ إِنَّ اللَّهَ

عَيْنُ كَعْدِيْبٍ هَذَا الْفَسِيْقَةُ لَعْنَةُ امْرَأَةٍ أَنْ تَرْتَكِبَ ۹۲۱ عَنِ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ

قَالَ تَدَارَكَتْ أَحْبَبِي أَنْ تَشُوِي إِلَى الْبَيْتِ اللَّهُ وَأَمْرٌ تَشُوِي أَنْ اسْتَفْتَيْتُهَا لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُهَا فَقَالَ عَلَيْكَ السَّلَامُ وَاللَّعْنَةُ عَلَى الْكَاذِبِ ۲۰۹ فَضَائِلُ

المَدِينَةِ ۲۱۰ بَابُ حَرَمِ الْمَدِينَةِ ۹۲۲ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْقَبِي سَبَّحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَن كَذَّابٌ لَا يَقْطَعُ شَجْرَهَا

فَضَائِلُ الْمَدِينَةِ ۲۱۰ بَابُ حَرَمِ الْمَدِينَةِ ۹۲۲ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَضَائِلُ الْمَدِينَةِ ۲۱۰ بَابُ حَرَمِ الْمَدِينَةِ ۹۲۲ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَضَائِلُ الْمَدِينَةِ ۲۱۰ بَابُ حَرَمِ الْمَدِينَةِ ۹۲۲ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَضَائِلُ الْمَدِينَةِ ۲۱۰ بَابُ حَرَمِ الْمَدِينَةِ ۹۲۲ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَضَائِلُ الْمَدِينَةِ ۲۱۰ بَابُ حَرَمِ الْمَدِينَةِ ۹۲۲ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَضَائِلُ الْمَدِينَةِ ۲۱۰ بَابُ حَرَمِ الْمَدِينَةِ ۹۲۲ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَضَائِلُ الْمَدِينَةِ ۲۱۰ بَابُ حَرَمِ الْمَدِينَةِ ۹۲۲ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَضَائِلُ الْمَدِينَةِ ۲۱۰ بَابُ حَرَمِ الْمَدِينَةِ ۹۲۲ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

چکہ حضرت عمر رضی ازواج مطہرات کو اجازت دی اور عمر بنان کے ساتھ غیر حرموں کو کیا اور حضرت عمر کسی نے فرمایا میں نے انہا کو زمین میں سے کسی نے انکار کیا۔ اس سے صلعم ہوا کہ غیر عرم کے بھی سفر ہو سکتا ہے اور اتنا لیا سفر میں اصل بات اسی قدر ہے کہ اگر عورت مامون ہے تو وہ اپنی بیوی کو سفر کر سکتی ہے اور یہ سفر کی حیثیت پہ بھی انحصار ہے۔ اسی لئے کسی حدیث میں ایک سن (۷۵۷) میں دو دن (۷۹۹) کی میں تین دن (۲۲۲) سفر کا ذکر ہے کہ اس قدر لیا سفر غیر عرم کے لئے کیا جائے تو تھوڑا سفر بھی ہو سکتا ہے اور اسی طرح اس بیوی اتفاق ہے کہ عورت دوسری عورتوں کے ساتھ سفر کر سکتی ہے ان تمام باتوں سے ظاہر ہے کہ اگر عورت مامون ہے تو وہ سفر کر سکتی ہے ورنہ عرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ مگر کہ روایت کے لفظ یہ ہیں اما جمع النبی صلعم من حجته قال لا تمسنا اولا نصار ویتما منعوك من الحج قالت ابو فلان تعنی زوجہا كان لله ناصحان حج علی احدہما و الاخر یسقی ایضا لنا قال فان حمرہ فی رمضان تقضی حجہ و اوجیعتی - مگر روایت کی ابتدا یوں ہوتی ہے قال سمعت ابا سعید و قد خزا مع النبی صلعم ثنتی حشرۃ خزرة قال اربع سمعتہن من رسول اللہ صلعم و قال یجدنہن عن النبی صلعم اس کے بعد ۷۵۷ کا مضمون الفاظ اور ترتیب اختلافات کے ساتھ دوم لیا گیا ہے اس میں ذکر ہے کہ عورت دو دن کا سفر غیر عرم کے ساتھ ہونے کے نہ کرے۔ مگر گویا ایسی کالیف خفا میں اپنے آپ کو ڈالنا عبادت میں داخل نہیں عبادت کا مفہوم پہلے لوگوں پر لیا جاتا تھا کہ انسان جس قدر زیادہ خشقت اٹھائے اسی قدر زیادہ عبادت ہے اس مفہوم کو آپ نے دور کیا۔

وَلَا يُحَدَّثُ فِيهَا حَدِيثٌ مِنْ أَحَادِيثِ مَنْ أَحَدَّثَ حَدَّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ

اور اس میں بدعت پیدا نہ کی جائے جو کوئی بدعت پیدا کرے اس پر اللہ اور فرشتوں اور لوگوں کی سب کی لعنت ہے۔ (۸۰۰) عن انس بن مالک (متکثر - ۳۰۰) (۹۲۳) عن أبي هريرة رضي الله

عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم ما بين لابتي المدينة عسلي

لساني قال وأبي النبي صلى الله عليه وسلم نبي حارثة فقال أراكم يا بني

حارثة قد حرم حرم من الحرم ثم التفت فقال بل أنتم وفيه ۹۲۳ عن علي

رضي الله عنه قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الضميمة عن النبي

صلى الله عليه وسلم المدينة حرم قباين حائر لاني كذا من أحدث فيها

أو أوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه

صرفت ولا عدل وقال ذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلما فعليه

لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن

تولى قوماً غير آذين مواليد فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين

لا يقبل منه صرف ولا عدل (۲) باب فضل المدينة وأهلها تنفي الناس

نہ اس سے سفارش قبول کی جائیگی اور نہ فدیہ ہے۔ باب مدینے کی فضیلت اور وہ سے لوگوں کو نکالنا ہے

علا اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ مدینہ کے دو دروازے ہیں جن کا دروازہ کے درمیان کی گزرتی ہے۔ ایک یہاں اللہ کی رحمت ہے اور دوسرا اللہ کی عتاب ہے۔ مدینہ میں جو کوئی بدعت پیدا کرے اس پر اللہ اور فرشتوں اور لوگوں کی سب کی لعنت ہے۔ (۸۰۰) عن انس بن مالک (متکثر - ۳۰۰) (۹۲۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم ما بين لابتي المدينة عسلي لساني قال وأبي النبي صلى الله عليه وسلم نبي حارثة فقال أراكم يا بني حارثة قد حرم حرم من الحرم ثم التفت فقال بل أنتم وفيه ۹۲۳ عن علي رضي الله عنه قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الضميمة عن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم قباين حائر لاني كذا من أحدث فيها أو أوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل وقال ذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن تولى قوماً غير آذين مواليد فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل (۲) باب فضل المدينة وأهلها تنفي الناس

جائز اور نہ انہیں کاٹنا جائے سوائے اس کے جس کے اونٹوں کو چلایا جائے۔ ان تمام روایات سے عبادت معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے وطنی اور مدینہ کے لوگوں کی زمین کو محفوظ قرار دیا تھا اور طحاوی کا قول ہے کہ اس قول سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مدینہ کی زمینت کم نہ ہو اور چلنے کا ہے کہ حدیث انس میں یہ دلیل ہے کہ صرف اس طرح پر درختوں کے کاٹنے سے روکا گیا ہے جس کا نتیجہ نکالنا ہو اور جہاں اصلاح عرض ہو مثلاً اگر کسی جنگ کو صاف کر کے فضاں باغ لگایا جائے تو بیخ میں اور اگلی حدیث میں اس بات پر دلیل بھی ہے۔ علامہ کریم الدین نے بہت مختصر ہے۔ قدام النبی صلعم المدینۃ وایمروا بمسجد فقال یا بنی الخیار قاموا فقالوا لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ خاھر بقیمہ من اشراکین فبئس ثمن وہا الخرب فسوتت وہا الخلل فقطع فصفوا الخلل قبلہ المسجد اس سے ثابت ہوا کہ اصلاح کے لئے یہ ہے اس کے درخت وغیرہ نہ کاٹے۔ عام طور پر اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ ابتدا ہے ہجرت کا واقعہ ہے اور اس کے بعد مدینہ کی صورت قرار دی گئی۔ مسئلہ بتائیں لایۃ کا تئیر ہے اور لایۃ سیاہ پتھروں کی زمین کو کہتے ہیں۔ علامہ حضرت علی کے صحیفہ کا ذکر ہے ۵ میں بھی لکھا ہے۔ فضاں میں لوگوں کا ذکر ہے ویت۔ قیدی کا آزاد کرنا اور حبلی کا فر کے عوس مسلمان کا نہ مارا جانا یہاں بھی تین باتوں کا ذکر ہے۔ بدعت مسلمانوں کے ہونے کا اور لانا اور وہ علامہ دوسرے کو مانگ بنا۔ صرف اور عدل کے معنی میں اس قول میں بیضاوی نے صرف کے معنی شفاعت اور عدل کے معنی فدیہ پر حرم کیا ہے۔ فتح الباری بھی یہی معنی یہاں موزوں ہیں اور بعض نے صرف کے معنی توبہ کے ہیں اور عدل کے فدیہ پر لایۃ کا قبول کیا جاتا ہے۔ معنی اس طرح فرض و فعل کا قبول نہ کیا جاتا ہے۔ معنی ہے کہ ایسے لوگوں پر لعنت ہے جو لعنت کے معنی دوسری باتوں میں ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جنابت بھی وہ دھرنے جاتے ہیں اور فرشتوں سے بھی جو نیکی کے محرک ہیں اور اپنے لوگوں سے بھی۔ حائر کے متعلق دیکھو نوٹ ۹۲۳ پر

۹۵۲ عن ابی سعید بن الخدری رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ

وہو محترمہ علیہ ان یدخل نقاب المدینۃ بعض السباخ التي بالمدينة فيخرج

اور اس پر ندامت ہے کہ مدینے کے دروازے میں داخل ہو جائے کسی شوریہ میں جو مدینے میں ہے تاکہ اس کے پاس

الیہ یومئذ رجل هو خیر الناس ومن خیر الناس فيقول اشهد انك

ایک دن ایک شخص جو لوگوں میں سے زیادہ نیک ہو گا جائیگا اور کہے گا میں اس بات کا شاہد ہوں کہ تو

الذی قال الذی حدثنا عنک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثہ فیقول

وہ دعویٰ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اپنی حدیث سنائی تو دعویٰ کے

لا یفتلہ ثم یحیدہ فیقول حین یحیدہ واللہ ما كنت قط أشد بصیرة منی

تھیں تو اسے تنگی کے پھر زورہ کر دیا وہ کہے گا جب اسے زورہ کر دیا اللہ کی قسم اس وقت جی بھرت مجھے بھی معلوم نہیں ہوئی تھی

الیوم فیقول الذی قال فلا یسلط علیہ وہ اباب المدینۃ تنفی الخبث

دعویٰ کے گا میں اسے مار ڈالوں گا لیکن اس پر قابو نہ پاسکے گا باب مدینہ ناپاک کو نکال دیتا ہے

۹۵۳ عن جابر رضی اللہ عنہ جاء ابنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم

جابر سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا

فباوعہ علی الاسلام فجاء من الغد محمومًا فقال اقلنی فابی ثلث مرار فقال

اور اسلام پر آپ کی بیعت کی دوسرے دن آیا بخند چڑھا ہوا تھا کہنے لگا میری بیعت چاہیں کرو میں دفعہ کرا اپنے انکار کا

المدینۃ کا لکیر یعنی ختم ہوا وہ سے طہارۃ ۹۵۴ عن زید بن ثابت رضی اللہ

اور فرمایا مدینہ کی تاریخ ہے جو میل پہلے کو تار تھی چاروں طرف سے تھی ہے اس زید بن ثابت سے روایت ہے

عنه یقول لما خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی احد رجعت ناس من اصحابہ

کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کو نکالنے کے ساتھ لوگوں میں سے لوگوں میں ہوئے

فقال فرقہ فقتلہم وقال فرقہ لانتہامہم فانزلت فما لکم فی المنافقین

تو ایک گروہ نے کہا ہم انہیں قتل کرینگے اور دوسرے گروہ نے کہا ہم انہیں قتل نہیں کرینگے تو یہ آیت اتاری تم کو کیا ہوا کہ منافقوں کے

فنتین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہما تنفی الرجال کما تنفی

الحادیث رجال بہ
منہ کثرت کہہ لے تھی
اسے کی
اس پر حدیث کتاب
اس حکام یاں میں عالم
نہیں استقلال اللیض میں
میں اس کے ساتھ آتی
ہے حال ہے اتفاق
یعنی میری بیعت میں
کرد و ظاہر الفاظ
حدیث کے مطابق
اس کی بیعت اسلام پر
تھی کہ کسی اور امر پر اور
بیعت کا واس کرنا
صاف اسلام کو چھوڑنا
یعنی ارتداد تھا اور یہ
اس زمانہ کے خلاف
ایک بدست شہادت
ہے کہ اسلام میں
اس سے گروہ کل گیا
یعنی مٹنے سے چلا گیا
اور اسے قتل نہیں کیا گیا
اسے بیعت ہجرت قرار
دینا الفاظ حدیث
علی الاسلام کے
ظلام ہے
اس کو ابیث ترقی کا
بیشاوقہ کہ انہیں قتل
نہیں کیا جا سکتا کسی
انے خدا شہین کی اولی
اسے ساتھیوں کو قتل
ڈال گیا اور اس کے خلاف
حضرت صلعم کے ہیں وہ
ناتے ہیں کہ یہاں لوگ
آخر خود عمل جانوں کے
اور یہاں ہوا کہ آخر کار
مدینہ ضابطوں سے
ہاگ ہو گیا
نقل ماں برکت مراد
اسلام کی ترقی ہو اور
دو گنی کے لفظ میں
اشارہ صلعم ہوتا ہے کہ
کہہ رہا اسلام کو صرف
اور وہاں قوت حاصل تھی
مدینہ میں اس نے وہاں تھا
کیساتھ سماں کو کہتے تھے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ تَعْرِى الْمَدِينَةَ (م-۸۰۶) عَنْ أَنَسٍ (متكرر) (۲۲۶)

(۱۲) بَاب (م-۸۰۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر) ۹۵۷۶ ۶۵۷۷ عَنْ عَائِشَةَ
دیکھو حدیث ۶۵۶ ۷

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَعَاكَ

ابو بكر و بلال وكان أبو بكر إذا أخذته أخذته يقول
ابو بكر رسول الله صلعم کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف لائے تو

كل فرى مصعب في أهله والأوت أدنى من شراكه وطلبه

وكان بلال إذا فلع حننه الحلى يرفعه عقيدته يقول
اور جب حضرت بلال کا بخار اتر جاتا تو اپنی آواز کو بلند کرتے (اور) کہتے

الآليت شعري هل أبين ليلة يواد وحوالي أذخر وجيليل

وהל أرقن يوما قيا كجنته وهل يبداون لي شامة وكتفيل
اور کیا میں کسی دن مجھ کے ہاتھ پر ماٹوں گا اور کیا مجھے شامہ اور طفیل نظر آئیں گے

قال اللهم العن شيبه بن ربيعة وعثمة بن ربيعة وأميمة بن خلف

كما أسع خفا قيل بن ربيعة كوايتي رحمت سے دور کر دے اور عثمة بن ربيعة اور امیمة بن خلف کو بھی

كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض كواؤد لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

اللهم حبيب اليعاب المدینة كینامة أو أشد اللهم بارك لنا في صاعنا وری
اے اللہ تجاے (دلوں میں) مائیں محبوب بنا جس پر نام لگے وہ محبوب رکھئے ہیں بلکہ اس سے بھی بھوکے اے اللہ ہائے صاع میں برکت دے اور

مدنا وصحح لنا وفضل لنا ما ألقى الحقة قالت وقد مننا المدینة وصلى أبوها

أرض الله قالت وكان بطحان بجري بجالا عيني ماء أجتارة ۵۵ عن عمار

رضی اللہ عنہ قال اللهم ارقني شهادة في سنينك واجعل موتي في
انہی زمین میں سب سے زیادہ دیا تو ہی کہا اور بطحان کا نام آذرہ مبارک رہا تھا یعنی ہدمرہ بانی سے ۵۵ حضرت عمار سے

بكد رسواك صلى الله عليه وسلم

تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمیر میں ہوں

دو پہاڑ ہیں اول دن درود سے ہے ۵۵ تاکہ ایک ہوا شکل اور صحت کشی اللہ تم کو اور عید کی آہ میں اور لوہے کی اور صفائی کا انتظام ہو کہ تمہارا شرف و رعیت میں جا جریں

کو مدینے کی آہ ہو انامو فی آہی اور یہ ہوتوں کو تیار ہونا ایوں کہ میں ان کے مزاج مدینے کی آہ ہو اسے بالوں سے ہونے کے اور کچھ عسافی کی وجہ سے ہماری کم ہونے کی جھجھکہ

مقام ہے جہاں سے ایسا صلح حرام ہونے لگے ہے۔ کہ اللہ سے کہ تمہارا اسلام نے محمد کو اپنی جگہ پر لیا ہے کی جہاں سے لے کر مجھ سے کہوں کہ تمہاری انگوٹھی تو میری ساری

ہستیاں ہیں بشرطوں کی ہوں۔ دعا کہ تمہارا شرف و رعیت میں ہونا کہ میں ہونا کہ اللہ ہمارے ہاں ہے کہ ہمیں اللہ کا فضل ہے کہ ہونا کہ ہمارے ہاں ہے کہ ہونا کہ ہمارے ہاں ہے

لا یہ بتائے کہ لے لے ہے کہ میں دریا جریں اور مسرت و محبوب ہوں کہ تمہارا

خطاب و کتب و روایات کے
نظر میں اولاد بنو
سلمہ ان سے ہوا
ان کی قربانیاں
تو یہ رسول اللہ
صلعم ان تعری
المدینة قال ابوبی
سلمہ الا تحنون
آذکد فاقامها
یعنی نبی صلعم جاتے
تھے کہ مسجد کے قریب
آئیں مگر اس طرح
مدینہ میں موجود نہ جاتا
اور یہ ہے مدینہ کا قریب
مخوف ہونا تا اس قدر
کیا آپ صرف مدینہ
صلعم ہی نہ تھے بلکہ
اسود کی کیا باریک
باندیک ہوں سے بھی
خائف تھے
۱۵۶
خطاب و کتب و روایات
کے الفاظ میں پہرائی
کئی جگہوں میں ہے
کہ اب نے اپنے گھر
اور بیٹے کے درمیان کو
جنت کے نام پڑھیں
سے ایک نذر کو دیا
دیکھو روایت اور صفحہ
۲۶۹
خطاب و کتب و روایات
کا حوالہ ہے کہ جہاں
۵۵ اور عرب اسے
ٹپتے وقت اس کا
کرتے ہیں اور مردان
سے دلوں میں ہر
۵۵ اور اگر لوہے کی
کو کہے تو قسم کے گناہ
میں اور مجھ کو کہ
چوں میں پرانے تمام
سیرت شاندار طفیل
کے ہوتے ہیں بلکہ

وَالَّذِي لَقِيَ بِيَدِهِ مَخْلُوفٌ فَمِمَّنْ الصَّالِحِينَ أَطِيبَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى الْمَرْءُ إِذَا لَمَسَ

یادِ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ہری جان ہے کہ روزہ دار کے منہ کی خوشبو انہ کے نزدیک خوشبو سے زیادہ ہے

يَذُوكَ طَعَامَهُ وَسِرَابَهُ وَسَمُوْتَهُ مِمَّنْ أَجَلُ الصِّيَامِ لِي وَأَنَا أَجْرِي بِهِ الْحَسَنَةَ

جو (روزہ فرماتا ہے) وہ اپنا کھانا پینا خوشبو اور ہری (رہے) کے چھوڑتا ہے روزہ فرماتے ہوئے اس کا بارود نکال دے گی کا

بِعَشْرَةِ امْتِنَالِهَا رَسْمٌ يَأْتِي الصُّوْمَ كَقَارِئَةٍ ۹۰-۹۱ عَنْ حُدَيْفَةَ (متحدک ۱۳۵۲)

بدر اس کا دس کتاب ہے باب روزہ کفارہ ہے

(۹۲) بَابُ الرِّيَازِ لِلصَّائِمِينَ ۹۲-۹۳ مَنْ سَمِعَ رِجْوَى اللَّهِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى

باب روزہ داروں کے ریاضوں کی خصوصیت

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرِّيَازُ يُدْخِلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ

آپ نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریاز کہتے ہیں اس سے قیامت کے دن روزہ دار داخل

يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ ابْنُ الصَّمْتِ لَمَنْ يَصِفُوهُمُونَ لَا

ہوں گے ان کے سوا اور کوئی اس سے داخل نہ ہوگا کہا جاگا روزہ داروں کو ابنا تو وہ کہتے ہیں ان کے اس سے

يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ وَأَذَا خَلَوْا أَخْلَقُوا فَمِمَّنْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ ۹۴-۹۵

ان کے سوا اور کوئی داخل نہ ہوگا جب ۲۵۵۰ اصل ہو جائیگا تو اسے نہ کر دیا جائیگا اور کوئی داخل نہ ہوگا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ

ابو ہریرہ رضے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں

زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُودِي مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَأْتِيهِمُ اللَّهُ هُنَا خَيْرٌ مِمَّنْ كَانَ

جو دو زوجہ کرے گا جنت کے دروازوں سے پکارا جائیگا ان کے اللہ کے ہند سے یہ (دروازے) اٹھا ہے جو

مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دَعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَمْعِ أَدْعَى مِنْ

نمازیوں میں سے ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائیگا اور جو جماعتوں میں سے ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائیگا

يَأْتِي الْجَمْعِ أَدْعَى وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دَعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الرِّزْقِ مَنْ كَانَ مِنْ

جو جمع کرے گا اور جو روزہ داروں میں سے ہوگا اسے باب الریاض سے بلایا جائیگا اور جو جمعہ فرماتے والوں میں

أَهْلِ الصَّدَقَةِ دَعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا بَنِي آدَمَ

سے ہوگا اسے صدقہ کے دروازے سے بلایا جائیگا حضرت ابو بکر رضے عرض کیا یہ کہاں باب آپ نے فرمایا ہوں

وَأَجِبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْ كَرَمِي مِنْ ذَلِكَ إِلَّا أَبْوَابَ مِنْ خُرُودِهِ فَهَلْ يَدْعَى

یا رسول اللہ کنی ضرورت تو میں نے کبھی کوئی دروازوں سے بلایا جائیگا آیا کوئی ہے

أَحَدٌ مِمَّنْ تَذُوكَ الْأَبْوَابِ وَهِيَ قَالَ نَعَمْ وَأَنْ مَوْلَانِ لَكُونُوا مِمَّنْ يَذُوكَ بَابَ هَلْ

جو ان سے روزوں سے بلایا جائے گا فرمایا ان اور میں امید رکھتا ہوں کہ تم ان میں سے ہو گے باب کیا

يُقَالُ رَمَضَانَ أَوْ شَهْرَ رَمَضَانَ وَمَنْ رَأَى كَلْبًا وَأَسْرَعًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

رمضان کہتا ہے یا رمضان کا مہینہ اور جو کھتا ہے کہ ہر طرح درست ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

رَأَى كَلْبًا يَأْتِيهِ بَابُ الْجَنَّةِ كَمَا يَأْتِيهِ بَابُ الْجَنَّةِ كَمَا يَأْتِيهِ بَابُ الْجَنَّةِ كَمَا يَأْتِيهِ

دراہت و تازی جاتا ہے وہاں ریاض باب جنت کو روزہ دار کیلئے سویا اس کی شدت کو برداشت کرتا ہے فاما کہتا ہے انہوں نے سلطان ہے کہ عمل کی جڑ اس سے سخت

رکھتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے جیسا اس پر پشت کرتا ہے اور روزہ پھر جیسا ہی جس سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے اس کو کہ کے طور پر جھڑکے گا میں تو زمانہ کی اللہ کی

دی جاتی ہے اس حدیث سے ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے کہ روزوں سے نہیں بچے روزہ کے درمیان اعمال انسان کی ذہن سے اور درمیانوں سے حاصل

ہو گئے اس سے بھی جنت کی اصل حقیقت کو دیکھی جاتی ہے انکی حدیث بھی اس حقیقت کو واضح کرتی ہے جو اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک نماز کے عمل انسان کے

لئے بہت کلاہک دروازہ کھول دیتا ہے گوئی کسی نماز کی انسان کہے اس کے لئے نہایت کلاہک دروازہ کھول دیتا ہے اور یہی حدیث ابو بکر رضے سے ہے

۳۱۴

۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰

اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا وَقِيَّةً وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَضِيَ اللَّهُ رِضَانًا حَسِبَ أَنَّهَا تَرَى اللَّهَ لَمْ يَرَ أَحَدًا مِمَّنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا رَأَى اللَّهَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْدُوهُمُ عَلَى نَبَاتِهِمْ (م- ۸۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر - ۳۲ و ۳۵)

وہ ایک ایسی نبیوں پر لکھا جائے گا جس کے علی دیکھو حدیث ۳۲ و ۳۵ م

(۷) بَابُ أَجْوَدَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُونِهِ فِي مَرْمِضَانِ

بَابُ مَنِ اسْتَمِعَ نَبِيَّهُمْ فِي مَرْمِضَانِ رِضَانًا مِنْ سَائِرِ النَّاسِ فِي مَرْمِضَانِ

(م- ۸۱) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر - ۶) بَابُ مَنْ لَمْ يَدْعُ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلِ

دیکھو حدیث ۶ م بَابُ مَنْ جُورِ فَذَهَبَ فِي مَجْهُوسَةٍ لَوْ أَنَّ آدَمَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَمَلُ كَرِيهًا حَرَكًا نَدْرَسُ الْوَرُودُ مِنْ رِوَايَاتٍ فِي كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(م- ۸۱۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر - ۱۰) بَابُ الصُّومِ لِمَنْ خَافَ عَلَى

نَفْسِهِ مِنَ الْغُرُوبَةِ (۶۶) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَيْنَمَا أَنَا أَكْتُبُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۸) بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْتُمْ أَلْهَلُّ فَصُومُوا وَإِذَا كُنْتُمْ مُمْكًا

بَابُ جِي صَلَمَ يَرَاهُ مَنْ حَمِيَ بَانَكَرُ وَبِجَاهِ تَوَرُّدَهُ وَرَكَعُهُ أَوْ جِبِ اسْتَدْرِكُ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بعض اور اعمال کی نسبت بھی ایسے ہی الفاظ آتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ ان امور پر عمل نماز روزہ کو فرض رقم کے طور پر ادا کرتے ہیں وہ ان سے فائدہ نہیں لے سکتے بلکہ مہلک فائدہ دیتی ہے۔ جو ان کی عمر و فائیت کو کم کر کے پورا کرنے کی کوشش کریں ان کے لئے روزہ سے ایسی نعمتی ترقی کا موجب ہو سکتی ہے۔ گناہوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ حدیث نمبر ۳۲ و ۳۵ کا مجموعہ ہے۔ یہاں پر اللہ کے فیضان کے حصول کا ارادہ ہے۔ اور دوسرا حصہ رمضان کے متعلق ۳۵ کا احادہ ہے۔ پہلے گناہوں کے نشا جانے پر دیکھو نوٹ

۱۹ صفر ۱۰۰۰ء کی روایت کے اختلاف نظر سے آئی ہے۔ کان النبی صمہم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جابر میل وکان جابر میل علیہ السلام یا قاتاہ فی کل لیلۃ فی رمضان حین ینساکہ یمرض علیہ النبی صمہم القرآن فاذا القیہ جابر میل السلام کان اجود بانحیثین الی صمہم فی کل لیلۃ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی صمہم کے پاس کوئی تحریری نسخہ قرآن شریف کا نہ تھا جس سے آپ حفظ کرتے ہوئے اس کا مقابلہ کرتے ہوں۔ بلکہ ایسا مقابلہ جبریل سے آپ کرتے تھے اور دوسرے لوگوں کے پاس قرآن تحریری نسخے ہوتے تھے اور پھر ان میں اور آپ کے صحابہ جبریل میں ایک صحت کی ایک زبردستی کی تھی۔ یعنی ان کے پاس سے معلوم ہوا کہ جبریل کا قرآن شریف کو لاتا تھا آپ کا جبریل سے ملنا۔ کہنا ایک حقیقت تھی۔ مگر مطلب یہ کہ اگر روزہ رکھ کر پھر شریف سے نہیں کیا تو اس کا روزہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اس لئے ہر ماہ کو قرآن شریف ہے اور وہ تیرہ الفاظ بھی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له الا الصيام فان لم يوافها اجزی به والصيام حنته واذا كان يوم صوم احدكم فلا یفرق ولا یصلح فان سابه احد او قاتله فلیقل فی امره وصاله والذی یفرض صمہم یبکی علی الفوف فما اصوام اطہر علیہ اللہ من غیرہ انما الصائم یفترح ان یفترح اذا افطر فرح واذا افطی ربه فرح بصومه اخری نقره ۹۰ ۹۱ میں بھی روزہ دار کیلئے دو خوشیاں ہیں جن سے دولت حاصل کرنا ہے۔ جبرئیلہ کو لانا ہے۔ خوش ہونا ہے اور جیسا کہ وہ رکھنے کی فرحت اس لحاظ سے ہے کہ اس وقت جھوک کا وہ ہے کسی خواہش کھانے کی پیدا ہوتی ہے اور کھانے کی تحقیق لذت ہی بھی خواہش سے ہوتی ہے۔ دجا وخصمی کرنا ہے جس کی عقل نفسا شہوت ہے اور وہی یہاں مراد ہے۔

فَأَضْرَبُوا وَقَالَ صِدْقٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ أَبِي الْقَيْسِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ رَأَى نِسَاءً يَأْكُرْنَ وَأُورِضْنَ فِي يَوْمِ الشَّكِّ كَمَا كَانَ يَوْمَ رَكِبَ اسْنُ بَدْرَةَ فَمَضَى مَعَهُنَّ يَوْمَ ذَلِكَ	ما میں دیکھتا نظر کے اور وہی صحاب سے تھا تاریخ کا ہو تو شخص جنگ کی مالت میں نہ لے سکے ما کبر روایت کے لفظ یہ تھا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ صحت فقال لا تصوموا حتی تروا الهلال ولا تقطروا حتی تروا فان صوم علیکم فان تاروا لہ ما کبر روایت کے لفظ یہ ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ صحت قال الشهر وہ صحت سن لہ وہ صحت قری سن لہ انہ کہ روایت ہے خلاصہ صوم تروہ فان علیکم فان صوموا اللہ صلی یعنی اگر تیس دن کے عید میں آتے جانا نظر نہیں آیا تو شعبان کے چھ دن پورے کر کے لے دن روزہ رکھے قری ہینہ میں زیادہ دن کا نہیں ہوتا
وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْرَهَ عَلَيَّ مِنْ يَوْمِ الشَّكِّ	دیکھو حدیث ۹۶۲
عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْرَهَ عَلَيَّ مِنْ يَوْمِ الشَّكِّ	دیکھو حدیث ۹۶۲
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ هَكَذَا أَوْ هَكَذَا وَأَخْلَسَ الْأَهْمَاءُ فِي الثَّلَاثَةِ (۸۱۶) عَنْ أَبِي	دیکھو حدیث ۹۶۲
عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْرَهَ عَلَيَّ مِنْ يَوْمِ الشَّكِّ	دیکھو حدیث ۹۶۲
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ هَكَذَا أَوْ هَكَذَا وَأَخْلَسَ الْأَهْمَاءُ فِي الثَّلَاثَةِ (۸۱۶) عَنْ أَبِي	دیکھو حدیث ۹۶۲
عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْرَهَ عَلَيَّ مِنْ يَوْمِ الشَّكِّ	دیکھو حدیث ۹۶۲
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ هَكَذَا أَوْ هَكَذَا وَأَخْلَسَ الْأَهْمَاءُ فِي الثَّلَاثَةِ (۸۱۶) عَنْ أَبِي	دیکھو حدیث ۹۶۲
عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْرَهَ عَلَيَّ مِنْ يَوْمِ الشَّكِّ	دیکھو حدیث ۹۶۲
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ هَكَذَا أَوْ هَكَذَا وَأَخْلَسَ الْأَهْمَاءُ فِي الثَّلَاثَةِ (۸۱۶) عَنْ أَبِي	دیکھو حدیث ۹۶۲
عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْرَهَ عَلَيَّ مِنْ يَوْمِ الشَّكِّ	دیکھو حدیث ۹۶۲
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ هَكَذَا أَوْ هَكَذَا وَأَخْلَسَ الْأَهْمَاءُ فِي الثَّلَاثَةِ (۸۱۶) عَنْ أَبِي	دیکھو حدیث ۹۶۲
عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْرَهَ عَلَيَّ مِنْ يَوْمِ الشَّكِّ	دیکھو حدیث ۹۶۲
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ هَكَذَا أَوْ هَكَذَا وَأَخْلَسَ الْأَهْمَاءُ فِي الثَّلَاثَةِ (۸۱۶) عَنْ أَبِي	دیکھو حدیث ۹۶۲
عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْرَهَ عَلَيَّ مِنْ يَوْمِ الشَّكِّ	دیکھو حدیث ۹۶۲
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ هَكَذَا أَوْ هَكَذَا وَأَخْلَسَ الْأَهْمَاءُ فِي الثَّلَاثَةِ (۸۱۶) عَنْ أَبِي	دیکھو حدیث ۹۶۲
عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْرَهَ عَلَيَّ مِنْ يَوْمِ الشَّكِّ	دیکھو حدیث ۹۶۲
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ هَكَذَا أَوْ هَكَذَا وَأَخْلَسَ الْأَهْمَاءُ فِي الثَّلَاثَةِ (۸۱۶) عَنْ أَبِي	دیکھو حدیث ۹۶۲
عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْرَهَ عَلَيَّ مِنْ يَوْمِ الشَّكِّ	دیکھو حدیث ۹۶۲
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ هَكَذَا أَوْ هَكَذَا وَأَخْلَسَ الْأَهْمَاءُ فِي الثَّلَاثَةِ (۸۱۶) عَنْ أَبِي	دیکھو حدیث ۹۶۲

ما میں دیکھتا نظر
کے اور وہی صحاب
سے تھا تاریخ کا
ہو تو شخص جنگ کی
مالت میں نہ لے سکے
ما کبر روایت کے
لفظ یہ تھا ان رسول
اللہ صلی اللہ علیہ
وہ صحت فقال
لا تصوموا حتی
تروا الهلال ولا
تقطروا حتی تروا
فان صوم علیکم
فان تاروا لہ
ما کبر روایت کے
لفظ یہ ہے ان رسول
اللہ صلی اللہ علیہ
وہ صحت قال الشهر
وہ صحت سن لہ
وہ صحت قری سن لہ
انہ کہ روایت ہے
خلاصہ صوم
تروہ فان علیکم
فان صوموا اللہ صلی
یعنی اگر تیس دن
کے عید میں آتے
جانا نظر نہیں آیا
تو شعبان کے چھ
دن پورے کر کے لے
دن روزہ رکھے قری
ہینہ میں زیادہ
دن کا نہیں ہوتا

عوام کے لئے اور خصوصاً ان حالات میں ہی طریق تطہیر اور صوم اور عبادت میں فاقدروالہ کے الفاظ بھی آئے ہیں جنی حساب سے اندازہ لگا لو آج اس میں زیادہ سہولت ہے اور ساتھ ملک میں ایک ہی دن ابتدائے روزہ اور ایک ہی دن عید منگتی ہے، بلکہ دونوں دنوں کی دس انگلیوں سے ہی قری اشارہ کر کے تیسری بار انگوٹھا دبا کر یہ سمجھا یا کہ قری حینہ بھی آتیس دن کا بھی ہوتا ہے، یہ مکرر روایت کے لفظ یہ ہے، صوم والوینہ انظر اور وقتہ فان عم علیکم فاذا صوموا حد شعبان ثلثین، یہ مکرر روایت کے لفظ یہ ہے، انی رسول اللہ صلعم من صماہ وکانت انفتحت رجلا قاقارہ شریہ ستعا وعشرین لیلۃ، ثم نزل فقال یا رسول اللہ الیت شهر اقبال ان الشهر یکون ستعا وعشرین، ہی حدیث کتاب اطلاق میں اللہین بدوں من نساہم کی تصریح میں آتی ہے اس میں ہے کہ آپ کے یاؤں میں صوم کی بھی اور آپ ایک بالافاضہ میں ہے، یہ حدیث میں لاہور نے حدیث شہور اجدل کا یہ فقہان کے سنے یوں کہے ہیں کہ اگر یہ ذوالحجہ اور رمضان کے دن آتیس دن میں تو اب میں نہیں ذوالحجہ اور رمضان کے ساتھ بلکہ ہیں ان بخاری نے یوں سنے کہے ہیں کہ دونوں آتیس کے میں ہوتے اگر ایک آتیس کہے تو دوسرا ضرور تیس کا چھوگا لیکن احکام حج کا تعلق ذوالحجہ کے ساتھ ہینہ سے نہیں اور تیس نام تہام تہامی کے معنے کے خلاف بھی ہے بھی دونوں تیس کے ہوتے ہیں اس کے ایک سنے یوں بھی ہو سکتے ہیں کہ اگرچہ اندر دیکھنے کی ہم سے رمضان یا ذوالحجہ کی تاریخ فی الواقع دوسری تھی اور وہ مکانی کو کشش کے بعد بھی صحیح تاریخ معلوم نہ ہو سکی تو پھر بھی تو اب رمضان اور احکام ذوالحجہ کے صحیح ہوتے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔

(۹۷۰) عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ان قال انا كذا

ابن عمر نے ہی معتم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا ہم

أهية لا تكتب ولا تحسب الشهر هكذا وهكذا أي مرة تسعة وعشرين و

ان پندرہ قوم ہیں نہ لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں جیسا جیسا بھی ہوتا ہے اور ایسا جیسا یعنی کبھی

مرة ثلثين (۱۲) باب لا يتقل من رمضان بصوم يوم ولا يومين

تیس کا عمل باب رمضان سے پہلے ایک دن یا دو دن روزہ نہ رکھے

(۹۷۱) عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا

ابو عمر نے ہی اللہ عزوجل سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

يتقدم من أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجلاً كان

تم کوئی رمضان سے ایک دن یا دو دن پہلے روزہ نہ رکھے لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہو جو روزہ رکھتا

يصوم صومه فليصم ذلك اليوم (۱) باب قول الله جل ذكركم أجل لكم

رہتا ہے اور وہ اس کے روزہ کا دن ہی تو وہ اس دن روزہ رکھے باب اللہ تعالیٰ کا قول تمہارے لئے روزوں

ثبلة الصيام الرزق إلى سائركم مهن ليا من لكم وأنتم ليا من أهن عليم الله

کی بات میں اپنی عورتوں کی طرف رغبت کرنا حاصل کیا گیا ہے وہ تمہارے لئے لیا س ہیں اور تم ان کیلئے لیا س ہو اللہ جانتا ہے

أنكم كنتم تحتلون أنفسكم فتأرب عليكم وعفا عنكم قال أن ياشروهن و

کہ تم ہی مالوں کو نقصان پہنچاتا ہے تمہارے لئے تم پر تمہارے لئے عفو کر دیا گیا ہے اور ان سے جاہلو

ابتغوا ما كتب الله لكم رب (۲) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان أصحاب

جو اللہ نے تمہارے لئے مقرر کیا ہے (الذوق ۱۵) بلوغ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے

عليه وسلم إذا كان الرجل صائماً فحضره الإفطار فقام قبل أن يفطر لم

جب کوئی شخص روزہ دار ہو جاتا اور افطار کا وقت آتا ہے وہ افطار کرنے سے پہلے سو جاتا تو

يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان

سہاروی رات اور صلا دن نہ کھا تا یہاں تک کہ شام ہو جائے اور قیس بن صرمة انصاری

صائماً فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لهما عندك طعام قالت لا ولكن

تھا جب افطار کا وقت آیا تو نبی ہی کو پاس آکر اس سے کہا کیا تمہارے پاس کچھ کھانا ہے اس نے کہا نہیں لیکن

أطلق فأطلب لك وكان يوماً يعمل فقلبت حينا فجمعت له امرأته فلما رآته

بیگانی ہوں تمہارے لئے تلاش کرتی ہوں اور وہ دن کو کام کرتا تھا تو اس کی بیوی اسکے پاس آئی جب اسے دیکھا

قالت خيبة لك فلما اتصفت النهار عشي عليه فذكر لك للنبي صلى الله

کہا نے ہمت جب دن آدھا ہوا تو وہ بیویوں ہوا اس کا وہی صلح سے کیا گیا

عليه وسلم فتركت هذه الآية أجل لكم ثبلة الصيام الرزق إلى سائركم

تو یہ آیت انہی صل تمہارے لئے روزہ کی بات میں عورتوں کی طرف رغبت کرنا حاصل کیا گیا ہے

۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

ابتدا معلوم کر لیں تو یہ خلاف شریعت نہیں ہے ۲ صحابہ کا یہ عمل کہ اگر افطار سے پہلے سو جائیں تو پھر اس ات اور افطار کچھ کھاتے پیتے نہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد کے نامت نہ تھا بعض روایات میں آیا ہے کہ مسلمان یہ کرتے تھے اور اہل کتاب بھی یہ کرتے تھے۔ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے اس وقت پہنچنے کی نازل شدہ ہو مگر اس خاص شخص کو علم نہ ہو۔ نزول کا لفظ اس طرح بھی آجاتا ہے جیسا کہ شاہ ولی اللہ نے بھی لکھا ہے۔

يَحْرُمُ عَلَيْهِ قُرْبُهَا ۹۷۸ عَزَّ وَجَلَّ رَضِيَ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس کا اس سے قریب ہونا ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

يَقْتُلُ وَيُبَايِعُهُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أُمَّتَكُمْ لَا يَرِيهِ وَقَالَ قَالَ بِيْحْتُمُاسَ لَرَبِّ

پوس لینے اور مباہرت کرنے اور آپ کے لئے ہونے اور آپ کو بی بیعت کرنے سے زیادہ قریب رکھنے سے اور کہیں عبادت میں سے آپ

حَاجَةً قَالَ طَاوُسٌ وَلِيَّ الْإِنْدِ الْأَحْمَقُ لِأَحَابَتِهِ فِي السَّوَادِ (۲۴۳) بَاب

(طرہ ۱۸) کے لئے ماضی میں اور طائوس کہتے ہیں ریفی اولیٰ اور ریفیہ (نور ۱۳۱) کے لئے ہیں اس کے لئے کہ اس کے لئے ہے

الْقَبْلَةَ لِلصَّائِمِ وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَنْ نَلْقَاهُ نَظْرًا فَامْتَنَى بَيْتَهُ صَوْمَهُ (۲۴۲) عَنْ

روایت کی حالت میں پوس لینا اور جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ اگر گناہ گار کا اصرار ہو تو اس سے روٹنا اور روزہ پورا کرنے

عَائِشَةَ (مُتَكَرَّرٌ - ۹۷۸) وَ (۹۷۵) (۸۷۳) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (مُتَكَرَّرٌ - ۲۴۷) (۲۵)

دیکھو حدیث ۹۷۸ اور ۹۷۵ دیکھو حدیث ۲۴۷ اور ۲۴۷

بَابُ عَيْسَىٰ الصَّائِمِ بِنِ بَنِي عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ وَقَالَ لَقَاهُ حَلِيْبٌ وَهُوَ صَائِمٌ وَدَخَلَ

بَابِ رَوْضَةَ حَارِكَ عَسَلِ كَرْنَا اور ابن عمر نے اپنا کپڑا بھونک کر اپنے اوپر ڈالا اور ابن عباس سے

الشَّعْبِيُّ الْحَتَّامُ وَهُوَ صَائِمٌ وَقَالَ ابْنُ حَبَّاسٍ لَا يَأْسُ أَنْ يَتَطَعَمَ الْفَدْرُ

کام میں گئے اور ابن عباس سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی روزہ نہیں کرے گا تو اس کا نام ہے اور اگر روزہ کرے گا

أَوْ الشَّيْءُ وَقَالَ الْحَسَنُ لَا يَأْسُ بِالْمَقْضَىٰ وَالْقَبْرُ وَالصَّائِمُ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ

اور حسن کہتے ہیں روزہ دار کی کسے اور اپنے آپ کو ٹھنڈا کرے تو کوئی حرج نہیں اور ابن مسعود کہتے ہیں

إِذَا كَانَتْ صَوْمُهُ أَحَدَكُمْ فَلْيَصْبِرْ دَيْهَانًا فَتَرَجَّحُوا وَقَالَ أَبُو بَرٍّ أَيْبَرُ الْفَقِيمِ

جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو صبر کرنے کو چاہئے اور اگر روزہ نہ کرے تو اس سے زیادہ صبر کرنا چاہئے اور ابن مسعود کہتے ہیں

وَإِنَّا صَائِمٌ وَوَيْدَا كَرِيْمٌ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ وَهُوَ صَائِمٌ وَ

ماتا ہوں اور اس کا روزہ ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غفلت بیان کرنا چاہا ہے کہ آپ صوم کی اور آپ کا روزہ تھا اور

قَالَ ابْنُ عُمَرَ سَأَلَكَ أَقْوَمُ النَّهَارِ وَاحِرَةٌ وَلَا يَبْلَعُ مِنْ رِيْقَتِهِ وَقَالَ عَطَاءُ إِنْ

ابن عمر کہتے ہیں کہ دن کے اول اور آخر صوم کی کر سکتا ہے اور پھر صوم کرنے اور عطا کہتے ہیں کہ اگر پھر

أَمْزَرَ دَرِيْقَةً لَا أَقْوَلُ يَقْطُرُ وَقَالَ ابْنُ سَبْرَةَ ابْنُ لَبَّاسٍ بِالسَّوَالِ وَالرَّطْبِ قِيلَ لَهُ

صوم کی عقل سے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ روزہ بانار اور میں کہتے ہیں نازہ صوم کرنے میں کوئی حرج نہیں کسی نے اس

طَعْمٌ قَالَ وَالْمَاءُ مَلَّةٌ طَعْمٌ وَأَنْتَ مُتَطَهِّرٌ بِهِ وَالْمَاءُ يَبْرَأُ الشَّيْءُ وَالْحَسَنُ

سے کہ اس کا روزہ ہوتا ہے کہ پانی کا بھی خالص ہوتا ہے اور کہیں سے کا کہتے ہیں (اس اور حسن)

وَإِبْرَاهِيمُ بِالْحَيْلِ الصَّائِمِ يَكْسِرُهُ (۲۴۲) عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَرَّرٌ - ۹۷۷) (۲۴۶) بَابُ الصَّائِمِ

اور ابراہیم روزہ دار کے لئے ہر روز کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے

إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ كَأْسِيًّا وَقَالَ عَطَاءُ إِنْ اسْتَأْذَنَ فَدَخَلَ الْمَاءُ فِي حَقِّهِ لَا يَأْسُ

بھول کر پانی کے اور عطا کہتے ہیں اگر نازک میں پانی لیا اور پانی اس کے حق میں لیا تو اگر

إِنْ لَمْ يَمْلِكْ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ دَخَلَ حَلَقُ الدُّبَابِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَالَ الْحَسَنُ

بے اختیار سے ہو تو کوئی حرج نہیں اور حسن کہتے ہیں اگر کسی اس کے حق میں پانی جائے تو اس پر کچھ نہیں اور حسن

عطا کہتے ہیں کہ روزہ دار کے
نظر میں ان کا
رسول اللہ صلعم
لہجہ بعض نماز
یہ صوم اور شہ
فہمکت
عطا کہتے ہیں
زیادت کے ساتھ
دو ہر ان کی ہے
فانحیلتہ کے بعد
یہاں یہ نازک ہے
وکانہی رسول
اللہ صلعم بغیر
من اکل واحد
کان یقبلها و
صائم ہی سے
عز ان صوم میں
کبھی زیادت ہے
عطا کہتے ہیں
۹۷۷ میں حضرت
حدیث روضہ کا
صومہ دوہر یا کیا
ہے کان النبی
صلی اللہ علیہ وسلم
یہاں کہہ دیجئے
رمضانہ نظر
حلم ریقتل
ویصوم عنان
کا تناس سے
ہے آپ نے
حالت روزہ میں
شکل کیا
عطا کہتے ہیں
نظر میں نہ تانا
ابراہیم بن عبد
الرحمن و ابی
فانہبت معنی
دخلنا علی عائشہ
قالت اشہد علی
رسول اللہ صلعم
ان کان یصوم جنباً
من غیر احتلام ثم
یصوم ثم دخلنا
علیہ وسلم فقالت
مثل ذلك

وَجَاهِدُوا جَاهِدُوا نَاسِيًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (۹۸۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لَبِثَ قَائِلٌ وَشَرِبَ فَلَيْتَهُ صَوْمُهُ وَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ (۲)

بَابُ فَرِيَا جِبِ بَحُولِ عِلَّةٍ وَرُكُوعِي فِي إِتْبَانِ رُزْءِ بَرْدِ كَرِي عِنْدَ نَسِيٍّ أَوْ كَلَا يَأْوِرُ يَلَا

بَابُ سَوَائِطِ الرُّطْبِ وَالرَّيْسِ لِلصَّائِمِ يُدْرِكُ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ هُوَ صَائِمٌ مِمَّا أَحْبَبَ وَأَوْحَدًا وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنِ اشْتُقُّ عَلَيَّ أُمَّتِي لَمْ تَرَوْهُمْ بِالسَّوَابِ عِنْدَ

كُلِّ فُضُوءٍ وَوَدُوعٍ كُنُوءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ

يُحْضِرُ الصَّائِمِينَ مِنْ غَيْرِهِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَطَبَةٌ لِفَمِّ

مُحَمَّدٍ لَلرُّبِّ قَالَ عَطَاءٌ وَقَتَادَةُ يُبْتَلَعُ رِقَّةً (۸۲۷) عَنْ عُمَرَ بْنِ (مُتَكَرِّرًا ۱۳۵)

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَشِيقْ بِمِخْرَجِ الْمَاءِ

وَلَمْ يَكُنْ يَلْبَسُ الصَّلَامُ وَعَلِيٌّ وَقَالَ أَحْمَسُ لَبِثَ بِأَسْرِ السَّعُودِ لِلصَّائِمِينَ لَمْ يَصِلْ

إِلَى حَاقِبِهِ وَلَا حِجْلٍ وَقَالَ عَطَاءٌ إِنْ تَضَمَّ مَضْرَجًا فَرَعَمَانِي فِيهِ مِنَ الْمَاءِ لَا

يَصِيرُ رَأْسِي لَمْ يَزِدْ رِقَّةً وَقَالَ النَّبِيُّ فِي فَمِّهِ رِقَّةً عِنْدَ الْعِيَالِ فَإِنْ اشْرَدَ رَدَّ

رَبِّي الْعِيَالِ قَالَ إِذَا لَفِطُّ لَكِنَّ يَدَايَ عِنْدَهُ فَإِنْ اسْتَمْتَرَ فَدَخَلَ لَسَانُ حَلَقَةٍ

لَا يَأْسُ لَأَنَّهُ لَمْ يَمَلِكْ (۲۹) بَابُ إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ فَلَيْتَ لَكَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

رَفَعَهُ مَنْ أَفْطَرَ أَوْ مَا شِئْتَ أَمْرًا مِنْ عِدَدِ رَمَضَانَ لَمْ يَقُومِ صِيَامُهُ

لِللَّهِ فَإِنْ صَامَهُ وَيَهُ قَالَ قَبْلَ مَسْجُودٍ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَابُ إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ فَلَيْتَ لَكَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

رَفَعَهُ مَنْ أَفْطَرَ أَوْ مَا شِئْتَ أَمْرًا مِنْ عِدَدِ رَمَضَانَ لَمْ يَقُومِ صِيَامُهُ

بَابُ إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ فَلَيْتَ لَكَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

رَفَعَهُ مَنْ أَفْطَرَ أَوْ مَا شِئْتَ أَمْرًا مِنْ عِدَدِ رَمَضَانَ لَمْ يَقُومِ صِيَامُهُ

بَابُ إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ فَلَيْتَ لَكَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

رَفَعَهُ مَنْ أَفْطَرَ أَوْ مَا شِئْتَ أَمْرًا مِنْ عِدَدِ رَمَضَانَ لَمْ يَقُومِ صِيَامُهُ

بَابُ إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ فَلَيْتَ لَكَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

رَفَعَهُ مَنْ أَفْطَرَ أَوْ مَا شِئْتَ أَمْرًا مِنْ عِدَدِ رَمَضَانَ لَمْ يَقُومِ صِيَامُهُ

۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

نہیں اور اگر بے اعتدالی سے پانی وغیرہ اندر چلا جائے تو بھی برا نہیں ہے۔ ابو ہریرہ کی حدیث کے نسخ پر اتفاق نہیں اور یہ عرض بھی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں بہت وسعت نظر آتی ہے۔

أَرْقَمَ وَأَمْرًا سَمَاءَ اجْتَمَعُوا صِيَامًا وَقَالَ يُكْرَهُ عَنِ أَمْرٍ عَقْلَةٍ كُنَّا نَجْتَمِعُ عِنْدَ عَائِشَةَ
 ارقم اور ام سلمہ کے حلق بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے حالت روزہ میں کبھی کبھی ان کو ریکہ کے ام علقہ سے روایت کی جو کہ صحیح مسلم میں ہے اور ام سلمہ کے پاس
 فَلَاحَتْهُ ابْنُ بُرَيْدٍ عَنِ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَرَفِيعَةُ فَقَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْحَجَّاجُ
 یعنی کونائیں روزہ کرتی رہیں اور میں نے اس کے ساتھ کہانی بودہ ہرگز صحابہ سے فقہ روایت کرنے میں کوئی کاتب نہیں لکھتا اور ان کے ہونے کو روزہ
 (۹۸۱) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتِمَ وَهُوَ حَمِيمٌ وَأَخْتِمَ وَهُوَ صَدِيمٌ
 ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلعم نے چھینی کھائی اور آپ صلعم نے چھینی کھائی اور آپ روزہ سے پہلے ۱۔
 (۸۲۹) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَمَتُكَرَ (۹۸۱) عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ
 دیکھو حدیث ۹۸۱ شعیبہ سے روایت ہے کہ میں نے ثابت بنانی سے
 ثَابِتُ الْبُنَاتِيِّ يُسْأَلُ ابْنَ مَالِكٍ أَكُنْتُ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ قَالَ
 سنا اس سے پوچھتے تھے کیا آپ لوگ روزہ دار کے لئے چھینی کھانا ناپسند کرتے تھے کہا
 لَا إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ زَادَنِي فِي ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ أَبِي حَبِيبٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 نہیں ہاں صحت کمزوری کی وجہ سے ناپسند کرتے تھے اور ایک روایت میں زیادہ کیا نبی صلعم کے زیادہ میں
 (۳۳) بَابُ الصَّوْمِ فِي الشَّفْرِ وَالْإِفْطَارِ (۹۸۳) عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كُنَّا
 باب سفر میں روزہ رکھنا اور افطار کرنا ابن ابی اوفی سے روایت ہے کہ ہم
 مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ لِرَجُلٍ نَزَلَ فَاجْدُرْ حِرِّي قَالَ
 رسول اللہ صلعم کے ساتھ سفر میں تھے تو ایک شخص سے فرمایا اگر میرے لئے ستو کھول اس نے
 يَا رَسُولَ اللَّهِ الشَّمْسُ قَالَ ابْنُ مَالِكٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الشَّمْسُ قَالَ ابْنُ مَالِكٍ
 عرض کیا یا رسول اللہ شمس ابھی باہر ہے فرمایا اگر میرے لئے ستو کھول عرض کیا یا رسول اللہ شمس ابھی باہر ہے فرمایا اگر میرے لئے ستو کھول
 فَاجْدُرْ حِرِّي فَنَزَلَ فَاجْدُرْ حِرِّي فَجَدَرْتُمْ حِرِّي مِدَّاهُ هُنَا ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ
 لئے ستو کھول وہ اترا اور آپ کے لئے ستو کھولا آپ نے یہ فرمایا پھر نے آٹھ سے آدھر مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جب آٹھ تک
 أَقْبَلْ مِنْ هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ (۹۸۴) عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ حَضْرَةَ
 دیکھو کہ حضرت نور ابو موسیٰ نے روزہ رکھا اور فرما کر کہ اسے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ روزہ
 ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَنِي فِي ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ أَبِي حَبِيبٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 ابن عباس نے نبی صلعم سے عرض کیا ایک روایت میں بوجھایا ہے یا رسول اللہ میں
 أَهْرَدُ الصَّوْمَ أَصْوَمُ فِي الشَّفْرِ وَكَانَ تَثْبِيرُ الصَّيَامِ فَقَالَ إِزْنَيْتُ خَصْمَ وَإِنْ
 لگانا روزہ رکھتا ہوں تو کیا سفر میں روزہ رکھوں اور روزہ سے بہت رکھا کرتا تھا تو فرمایا اگر چاہو تو روزہ رکھو اور اگر

حدیث میں ہے کہ نبی صلعم نے روزہ رکھنے کو ان سے روزہ رکھنے سے اور تعلیقات میں ہے کہ چھینی کھانا اور لگانے والے سو فیروزہ رکھنا جاتا ہے اور ۹۸۱ میں ہے کہ روزہ رکھنے کو چھینی لگانے کو صحت سنیہ ناپسند کیا جاتا تھا کہ اس سے ضعف ہو جاتا ہے اور لگانے والا کو کھول کر چھینا ہے شبائیں استعمال سے کہا جو کہ کوئی ایڑھا خون کے اس کے اندر چلے جاتے ہیں انھوں نے یہ بات صحیح ہے کہ کسی چیز سے کھلنے سے ہونے نہیں ہوتا اور جانے سے ہوتا ہے اسی لئے ہے کہ روزہ رکھنے میں کھانا کھانے سے روکتا ہے اس کے بارے میں فرماتا ہے صحیح ہی معلوم ہوتا ہے اس سے صحیح روزہ نہیں رکھتا اور ایک حدیث میں فرماتا ہے کہ کھانا نہ اخلطی صلعم نے نے کی پھر روزہ کھول دیا تو اس میں یہ نہیں تھے کی وجہ سے روزہ کھولا لیکن وہ روزہ

لینے کا ضروری ہے یا کمزوری یا بیماری کی وجہ سے کھولا ہو۔ علماء میں سے صحابہ صحیحہ اختتام صلعم خصوصاً ام۔ علم اور حدیث معلوم ہوا کہ حضرت صلعم اور ابو موسیٰ نے روزہ سے کھلے اور اس کے بعد حدیث میں رسول اللہ صلعم نے سفر میں روزہ رکھنے کے متعلق زمانہ ماضی سے قصص میں شدت فاضل چاہو روزہ رکھو یا چھو نہ رکھو۔ اسکے بعد حدیث میں سب روایتیں ۹۸۴ کے ساتھ ہیں کہ میں نے کھلے روزہ رکھنے سے روزہ ہوجاتا ہے یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلعم نے بھی سفر میں روزہ رکھا اور کفر کی حدیث میں منہ لہرے بطور مجاز تھے صرف ۹۸۴ میں یہ فرمایا میں نے اللہ الصیامی فی السفر میں روزہ رکھا کوئی نبی کا کلام نہیں کہیں کہ سفر میں روزہ رکھنے سے کھال پورا تھا۔ لوگوں نے اس پر یہ کہا کہ ہوا اور آتے اس کے خیال کی تردید کی کہ وہ سفر میں روزہ رکھنے کو بھی نبی کا کلام سمجھ کر اس حالت کو بوجھاتا دوسری حالت یہ ہے کہ سفر میں چھینی لگے اور افطار بھی کریتے تھے یہ صحیح مسلک ہے اور یہ خیال کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہی پر اس لئے اس شخصیت فائدہ آٹھ لگانا نبی پر اس لئے یہ شخصیت صرف ابن امام کے متعلق ہے بعد میں اتنے دنوں کے لئے کہ ضروری ہیں نماز میں بھی سفر میں تھری شخصیت کہ جو کہ اس میں بعد میں اس کی پورا نہیں کیا جاتا اس لئے شخصیت فائدہ لگانا ضروری ہے کہ جو کہ سفر کے روزوں کے بعد میں کھانا ضروری ہے اس لئے رضائی میں نہ رکھنا صرف مسافر کو تکلیف پہنچانے کیلئے ہے کہ سفر تکلیف نہیں تو وہ اس شخص کو وضو اور یہی پورا کر سکتا ہے یہ اللہ کے اللیسر میں ان تباہی کا اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے اور جب میں اس کی حدیث سے روزہ رکھنے میں ہرگز نہیں روزہ ہوجاتا ہے

ماہنامہ ساقی پارہ کے لیے
 ختمہ شخصیت معلوم نہ
 دس ہزار جہاڑیں کے
 لینے سے رمضان میں
 روزانہ شکر اور کبیرہ
 پینے کی جگہ شریف
 سے خوش کن کی حالت
 یہ ہے آپ روزانہ کفے
 سہ ایس غریب شخص
 صلہ لکھنا دار کفے
 اور میں نے تمہاری
 کی صورت میں ہے
 کہ جب آپ کو
 تو آپ کو ہم نہ کہ
 لوگوں پر روزہ رکھنا
 دشوار ہے قات نے
 دو دھکا ایک لاشنگوا
 کہ لوگوں کے سامنے
 بیان کر کے بہت
 میں ہے کہ پھر کر کے
 وقت تھا اور خیر کا
 وہ اینٹ میں ہے کہ
 اس کے بعد بھی نہیں
 نے روزہ رکھا تو آپ
 نے فرمایا روگ
 نافرمان ہیں :-
 اعلیٰ ابو برد شدت
 گئی کتاب کا روزہ
 رکھنا چاہا کہ صحابہ نے
 سوائے ان روزہ کے
 روزہ نہیں رکھا تھا
 جتنا ہے کہ اس نے
 میں کس قدر دوست
 ہے اور شخص نبی
 زیادہ طاقت کی ذمہ
 سے جو شرف رکھتا
 ہے اس کے ساتھ
 ہے کہ وہ غریب روزہ رکھے :-
 حضرت صلہ علیہ وسلم نے اس کے
 اس خیال کو دور کیا کہ سخت تکلیف
 کی تعلیم ہے اور جو بھرے مسائل میں
 الی مکہ فصحاء حتی بلغ عسفان ثم دعایما
 قدام رسول اللہ صلعم راضی صام
 پر یہاں عسفان کا ذکر ہے اور ۹۸۵
 میں کبیرہ کا یہ معاملات ایک
 دوسرے کے قریب قریب ہیں :-

سُدَّتْ قَافِطِرَ (۳۴) بَابُ ذَا صَالِحًا مَا قَرَنَ مَضَانَ ثُمَّ سَأَفَرَ ۸۸

یا ہونے لگا کہ وہ... باب حبیب رمضان میں سے کچھ دن روزہ رکھ کر پھر سفر میں نکلے

عَبَّاسِ بْنِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَّحَ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى رَمَضَانَ
 ہے کہ رسول اللہ صلعم رمضان میں مکہ کو روانہ ہوئے اور روزے رکھتے رہے

بَلَعَ الْكَلْبُ يَدَ اَقْفَرٍ قَافِطِرِ النَّاسِ قَالَ اَبُو عُبَيْدٍ لِلَّهِ الْكَلْبُ يَدُ مَاءٍ يَبْرُ عُسْفَانَ
 جب کلب پینے تو اظفار کی دو ٹوکوں نے مائی اظفار کا ابو عبید اللہ کہتے ہیں کہ یہ عسفان اور تقدیر کے صاف پانی ہے

وَقَدِيْدِي (۹۸۶) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِمَّنْ رَوَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
 ابو الدرداء سے روایت ہے کہ ہم نے نبی صلعم کے ساتھ

بَعْضُ سَفَّارَةٍ فِي يَوْمٍ حَارٍّ حَتَّى يَضْمَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ كُلَّهَا كَمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ
 ایسی سخت گرمی کے دن میں تھے کہ اسان لپٹا آٹھ لڑکی کی سخت گرمی سے اس کے ہاتھ لپٹا

وَمَا قِيْنَا صَاكِرًا وَلَا مَكَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِيْنَ رَمَضَانَ (۳۴) بَابُ
 اور ہم میں سے روزہ دار صرف نبی صلعم اور ان روزوں کے بارے میں

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ظَلَّ عَلِيًّا وَاشْتَدَّ أَحْمَرُ لَيْسَ مِنْ آلِ الصُّوْمِ بِرَبِي
 نبی صلعم کا ارشاد اس شخص کو جس پر سایہ کیا گیا تھا اور نبی صلعم نے سفیدی دیکھی تھی اس کا نام

السَّقْفَرُ (۹۸۶) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم

فِي سَفَرٍ فَرَأَى نَزْجًا وَأَوْجِدَ جِلْدًا فَظَلَّ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا صَائِمٌ فَقَالَ
 کسی سفر میں تھے تو آپ نے بچھو کو دکھا اور ان کے کچھ جن میں سایہ کیا گیا تھا پر انہوں نے کہا روزہ دار ہے فرمایا سفر میں

لَيْسَ مِنْ آلِ الصُّوْمِ فِي السَّقْفَرِ (۳۶) يَا أَبَتِ أَمْ يَحْتَابُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 روزہ رکھنا بڑی نیکی کا کام نہیں ہے باب سفر میں روزہ رکھنے اور نہ رکھنے پر نبی صلعم کے اصحاب

بَعْضُهُمْ يَعْضَى فِي الصُّوْمِ وَرَافِطِرَ (۹۸۷) عَنْ ابْنِ زَيْدٍ قَالَ كُنَّا سَائِفِرَ مَعَهُ النَّبِيُّ
 ایک دوسرے پر عیب ڈر گئے تھے ابن زید کا کہ ہے کہ ہم نبی صلعم کے ساتھ سفر

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِالنَّبِيِّ عَنِ الْقُطْرِ وَالْمَقِطْرِ عَنِ الْقَمَاوِ (۳۸)
 کہ کرتے تھے تو نہ روزہ دار روزہ رکھنے والے پر عیب نہ نہ روزہ رکھنے والا روزہ دار عیب لگانا سزا

بَابُ مَنْ أَقْفَرٌ فِي السَّقْفَرِ لِرَأَى النَّاسِ (۳۰-۸۳) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مُتَكَرِرًا)
 باب جو سفر میں روزہ افطار کرے تاکہ لوگ اسے دیکھ لیں دیکھو حدیث

(۹۸۵) (۳۹) بَابُ وَعَلَى النَّبِيِّ لَطِيْفُوْدَةَ فَدَابَّةٌ قَالَ ابْنُ عَمْرٍو
 اور ان کا یہ جیسا کرتے ہیں سخت ہاتھ میں لکھتا ہوں کہ ابو عمرو (۱۸۳) ابن عمر اور

۹۸۵ ہ

۸۸

۸۵

۸۳

۸۲

۸۱

۸۰

۷۹

۷۸

۷۷

كَانَ يَكُونُ عَلَى الصَّوْمِ مِنْ رَمَضَانَ قَمَا اسْتَطَاعَ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ قَالَ

بخاری رمضان کے روزے ہوتے تھے میں انہیں قضا نہ کر سکتا مگر شعبان میں

بِحُجِّي الشَّغْلُ مِنَ النَّبِيِّ أَوْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۴۱) بَابُ كَيْفَ يُضَى تَتْرُكُ

یعنی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شغول ہونے کی وجہ سے عدا بَابُ جِئْتُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ امْرَأَتِ ابْنِ عَبَّاسٍ

الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ إِنَّ السَّنَّ وَجُوهَ الْحَقِّ لَتَأْتِي كَثِيرًا عَلَى خِلَافِ

نازیجھوڑے اور ابو الزناد کہتے ہیں کہ شریعت اور حق باتیں بہت تر تیرے کے خلاف ہوتی ہیں

الرَّايِ فِي مَا يَجِدُ الْمُسْلِمُونَ بَدَأَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَى ابْنُ عَبَّاسٍ تَقْضِي الصِّيَامَ وَ

نیکو مسلمانوں کو ان کی بددعاؤں کی خبر پائی ہے اسی قبیل سے ہے کہ جیسا کہ انہی روزے کی قضا کرے اور

أَوْ تَقْضِي الصَّلَاةَ (۴۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر) (۲۳۰) بَابُ مَنْ

نازیجھوڑے قضا نہ کرے دیکھو حدیث ۲۳۰ باب جو

مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ وَقَالَ أَحْمَدُ إِنَّتُمْ أَهْلُ عَشْرِ ثَلَاثُونَ رَجُلًا يَوْمًا وَاحِدًا جَانِثًا

موتے اور ان پر روزے ہوں اور من کہتے ہیں اگر اس کی طرف سے عید کی کسی دن روزہ رکھ لیں تو جان کر ہے عدا

(۲۹۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ

سفرت عاشقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد عدا اور اس پر روزے ہوں اس کا وہی

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَهُ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ

ایک طرف کیڑے رکھنے میں اب عباس سے روزہ نہ رکھا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ مَاتَ عَلَيْهِ صَوْمٌ شَهْرًا أَفَأَقْضِيهِمْ قَالَ لَعَنَهُمُ قَالَ فَلَئِنْ لَمْ يَلِكِ

یا رسول اللہ! میں اب عباس اور اس پر ایک مہینے کے روزے ہیں کیا میں انہیں روزوں کا

أَحْتَجُّ أَنْ يَقْضِيَ أَوْ فِي مَرَاتٍ قَالَتْ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ مَاتَ

حق زیادہ ہے اور اب عباس کی مہینے کے روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری بیٹی مر گئی ہے

رَوَى مَرَاتٍ قَالَتْ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ مَاتَ عَلَيْهِ صَوْمٌ ثَلَاثًا

اور اب عباس کی بیٹی نے کہا کہ میری بیٹی مر گئی ہے اور اس پر روزہ کا روزہ ہے

رَوَى مَرَاتٍ قَالَتْ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ مَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَاتَ

اور اب عباس کی بیٹی نے کہا کہ میری بیٹی مر گئی ہے اور اس پر روزہ دن کے روزے

عَشْرًا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ صِيَامٌ

بایسار روزہ دن کے روزہ کو گناہ گار ہے جو اس پر روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر غائب ہو گئی تو

عدا اس سے معلوم ہوا کہ قضا میں دیر کرنا درست ہے بلکہ ۹۰ میں سے اگر حضرت صلعم ثوبان میں بہت روزے رکھتے تھے غالباً اسی وجہ سے حضرت عائشہ بھی شعبان تک تاجہ کرتی تھیں انہوں نے خود کو دو مہینوں میں قضا کیا ہے اور یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شغول ہونے کی وجہ سے ایسا کرتی تھیں اور حضرت صلعم ثوبان باری ازواج مطہرات کے گروں میں بیٹھتے تھے یہ حدیث کو روایت میں ۲۳۰ ایک مفسر نے ذکر کیا ہے البتہ ایضا حضرت عائشہ نے تمہیں قضا ان نقصان دینے والے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس پر روزے ہوں تو نیکو مسلمانوں کی طرف سے بڑا گناہ ہے اس کا وہی طرف ہو روزہ قضا رکھنا ہے۔ اول حدیث اور شافعیہ

کی ایک جماعت کا بھی یہی مذہب ہے اور اب اس کی دفعوں کا ظاہر یہ معلوم ہو گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا مذہب اور امام شافعی کا قول جدید یہ ہے کہ کوئی دو مہینے کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتا اصول یہ ہے کہ عبادت بدین میں نیابت صحیح نہیں عبادت کا مقصد اصلاح نفس اور روحانی ترقی ہے اور دوسرے کے فعل سے کوئی اصلاح نہیں ہوتی یہ شیخ غازی پھر غازیہ ہے اس کی طرف سے روزہ رکھنے کا کوئی بھی قائل نہیں حالانکہ صلعم ثوبان میں وہ اور شت دو قول پر ایمان ہیں پھر مالک میں یہاں کسی کے نزدیک نہیں۔ اس بنا پر میں اس وقت کی طرف سے روزہ رکھنے کا ذکر ہے ان کی طرف سے ان کی کوئی ہے کہ اس کی طرف سے ہر ایک روزہ کا ذکر ہے۔ اس پر امام ابو حنیفہ اور مالک کا مذہب صحیح ہی رہی ہے اور وہی حدیث میں ہے کہ عدا اس حدیث میں راویوں کے ہاں اس میں ایسا اختلاف کیا ہے۔ اس میں اس سے سوال کرنے والی عورت بھی یہاں کوئی راویہ ہے کے علاوہ اور راویہ میں ہیں عورت کا ذکر ہے۔ اور پہلی راویہ میں ہے کہ اس میں مرد کا ذکر نہیں ہے۔ ان احادیث میں ہے ان احادیث میں پھر بعض میں ہے وعلیہا صوم شہر بعض میں ہے وعلیہا صوم روزہ اور بعض میں ہے وعلیہا صوم شہر بعض میں ہے۔ اس میں بعض نے اس حدیث کو مضطرب ٹھہرا کر اس وقت ان احادیث کو فرمایا ہے۔

قرص الشمس رم-۸۳۲ عن ابن الخطاب مکرر-۹۸۳ (م-۸۲۳) عن عبد الله	روزہ کھول دیا	دیکھو حدیث ۹۸۳ ط
ابن ابي أوفى مکرر-۹۸۳ (۲۲۲) باب يظفر بما تيسر عليه بالماء وغيره		دیکھو حدیث ۹۸۳ ط
رم-۸۳۲ عن عبد الله بن ابي أوفى مکرر-۹۸۳ (۲۵) باب تعجيل الإفطار		دیکھو حدیث ۹۸۳ ط
رم-۹۹۴ عن سئل بن سعلات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير		سئل بن سعلات سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک لوگ افطار میں جلدی نہ کریں
رم-۸۳۵ عن ابن ابي أوفى مکرر-۹۸۳ (۲۶۷) باب إذا أفطر	فائدہ میں نہیں لے گا	دیکھو حدیث ۹۸۳ ط
رم-۹۹۵ عن أنس بن مالك بن ابي بكر قال أفطرنا على	افطار کیا پھر سورج ظاہر ہوا	حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ انہی نے افطار کیا اور سورج ظاہر ہوا
عمر بن الخطاب قال أفطرنا على الفطر	ایک ہر دو دن میں روزہ کھول دیا	پھر سورج ظاہر ہوا
رم-۸۳۶ عن أنس بن مالك قال أفطرنا على الفطر	کما قضا سے چارہ دنوں اور پھر نے کہا میں نے ہشام سے سنا کہ مجھے علم نہیں کہ انہی نے افطار کیا یا نہیں	ہشام سے کہ انہی نے انہیں قضا کا حکم دیا
رم-۸۳۶ عن أنس بن مالك قال أفطرنا على الفطر	روزہ رکھنا اور صرف عمر نے ایک منزل سے رمضان میں کہا تھا کہ انہوں نے ہر ماہ سے پھر اسے مارا ہے	
رم-۹۶۷ عن أنس بن مالك قال أفطرنا على الفطر		دیکھو حدیث ۹۶۷ ط

علا کر روایت کے
نظریں اذ اقبل
الليل من ههنا
وادبر النهار من
ههنا وغزبت
اشمق فذا افطر
الصائم
علا کر روایت کے
نظریں کننا مع
رسول الله صلعم
فی سفر وهو صائم
فلما غرقت الشمس
قال لبعض القوم
يا فلان قم فاجدنا
لنا فقال يا رسول
الله لو اسیت
قال انزل فاجدنا
لنا فقال يا رسول
الله فلو اسیت
قال انزل فاجدنا
لنا فقال ان عليك
نهارا قال انزل
فاجدنا لنا فنزل
فجدنا لهم فترى
النبی صلعم ثم
قال اذا سرتهم

اللیل قد اقبل من ههنا فذا افطر الصائم ۱۰ علا کر روایت کے لفظ رم-۸۳۶ کے الفاظ سے ملے جنت میں مگر قال انزل فاجدنا لنا قال يا رسول الله فلو اسیت کافر وہ دو دن نہیں ایک ہی دفعہ ہے اور شرب النبی صلعم میں اس اور انہیں نہ لگے رہے اور انہی نے صبح سے قبل مشرق کو گیا ہونا اپنے کے اشارہ کی تہیابن ہے ۱۰ ہنگ فائدہ میں رہنا ایک تو اس لحاظ سے ہے کہ بے فائدہ تکلیف سے بچے رہیں گے کیونکہ غروب آفتاب کے بعد روزہ نہ کھانا اپنے آپ کو بوجہ تکلیف میں ڈرانا ہے و در اس لحاظ سے کہ وہ اثر اور تقریب سے بچے رہیں گے ۱۰ علا کر روایت فقہ آئی ہے کہ سنت میں ابن اوفی مع النبی صلعم فی سفر صائم حتی امسى قال لرجل انزل فاجدنا حتی تمسى قال انزل فاجدنا لی اذا سرتهم اللیل بعد اقبل من ههنا فذا افطر الصائم ۱۰ علا اسما نے یہ نہیں کہا کہ پھر انہیں قضا رکھنے کا حکم ہوا ۱۰ بلکہ ان کا بیان واقعہ صاف بتانا ہے کہ وہ روزہ ہی کھایا کہ اگر نہ کھا جاتا تو قضا کا حکم ہوتا ۱۰ ہشام راوی سے جب پوچھا گیا کہ کیا پھر قضا کا حکم ہوا تو اس نے اپنی ہاسے دی کہ قضا سے چارہ نہیں لیکن امر واقع کے طور پر یہ بھی کہ مجھے علم نہیں کہ قضا کیا یا نہیں ۱۰ اکثر کا مذہب یہی ہے کہ کسی صورت میں قضا لازم ہوگی مگر جب بخول کرکھا لینے سے یا سبب سے قضا لازم نہیں ہوتی ۱۰ ہشام میں غلطی سے کہ سورج کو روکا ہوا تھا لیکن غلطی سے بھی قضا لازم نہیں ہوتی چاہیے ۱۰ ۱۰ ایک کا مشہور مذہب یہ ہے کہ نابالغوں کا روزہ صحیح نہیں امام بخاری نے صحت عمرہ کا قول نقل کیا ہے کہ ہمارے بچے بھی روزہ داریں اور وہ سزا قول نقل کیا ہے کہ ما شورہ کے دن کا روزہ بھی بچوں سے رکھواتے تھے ما انکروا فعلی تھا ۱۰ اگر عادت ڈالنے کے لئے بچوں سے کچھ روزے جب زیادہ تکلیف نہ ہو تو رکھوانے جائز نہیں مگر شریعت نابالغوں کو تکلیف میں نظر آتی ہے ۱۰ علا کہ روایت کچھ زیادت کے ساتھ آئی ہے اور سل النبی صلعم غلظة عاشوراء الی قری الا انصار من اصبحه مغطوا فلیتم فقتة یومہ ومن اصبحها صائما فلیتم فقتة یومہ بعد ونصوہ صبیبا ننا ونجعل لهم الفیحة من العین واذا ابلی احدہم علی الطعاف اعطینا ہ ذاک حتی یکون عند الافطار قالت فکفنا سے تبرکے کے بعد بھی اس کے بعد خود بھی ما شورہ کے کا روزہ رکھتے اور اپنے بچوں سے بھی رکھواتے اور انہوں نے کھولنے نہایت اور حیل میں سے ایک کھانے کیلئے رہنا تو قضا سے وہ کھانا وہ دیتے یہاں تک کہ انظار کا وقت آجاتا یہاں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کو تم کماں کا حکم نہیں تھا کہ بچوں سے روزہ رکھوایا جائے اور جب انہیں ٹھوکا موس ہوتی ہے اور وہ انہیں تو انہیں کھولنے دیتے ہاتھ میں ہوں گا کھڑت کے تیم وکم حمل سے یہ بچہ ہے کہ بچوں سے اس طرح روزہ رکھواتے ہیں کہ تھے ایک بخور روایت یہی ہے کہ شیخو اور بچوں کی ماں کو حکم دیتے کہ انہیں روزہ کھولنے نہ لگے وہ وہ دہائیں گویا اپنے بچوں سے بھی روزہ رکھواتے جو شیخو خوار ہیں ۱۰

تَقَالِي تَمْرًا أَوْ صِيَامًا إِلَى اللَّيْلِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ رَحْمَةِ لَهُمْ وَإِنْقَاءِ

صحیح نہیں کیونکہ لفظ تقالیٰ زمانے سے پہلے ان کے ہاں نہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا جو ان کے رسم کی دہرے اور تار کے ملاقات

عَلَيْهِمْ وَمَا يَكْرَهُ مِنَ التَّمَتُّقِ (م- ۸۳۷) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (متکثر- ۹۷۴) (م- ۸۳۸) عَنْ

حال ہے اور جو بد میں نہ تھی کو ناپسند کیا گیا ہے۔ دیکھو حدیث ۹۷۴ م

عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (متکثر- ۹۷۴) (م- ۸۳۹) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (متکثر- ۹۷۴) (م- ۸۴۰)

دیکھو حدیث ۹۷۴ م دیکھو حدیث ۹۷۴ م

عَنْ أَسْتَرَ (متکثر- ۹۷۴) (م- ۸۴۱) بَابُ التَّكْبِيلِ مِنَ الْأَنْزَالِ وَأَوْصَالِ رِوَاةِ أُكْسٍ

دیکھو حدیث ۹۷۴ م باب اس گھس کو تینہ کرنا جو بہت وصال کرے اسے اس نے نبی صلعم سے

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (م- ۸۴۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکثر- ۹۷۴) (م- ۸۴۲) عَنْ أَبِي

روایت کیا ہے دیکھو حدیث ۹۷۴ م

هُرَيْرَةَ (متکثر- ۹۷۴) (م- ۸۴۲) بَابُ أَوْصَالِ إِلَى الشَّحْرِ (م- ۸۴۳) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (متکثر- ۹۷۴)

دیکھو حدیث ۹۷۴ م باب شہری تک وصال کرنا دیکھو حدیث

(م- ۸۴۲) بَابُ مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَنْ يَفْطُرَ فِي الطَّوْبِ وَلَا يَرِعَ عَلَيْهِ قَضَاءُ إِذَا

- ۹۷۴ م باب جو اپنے بھائی کو قسم سے کہ میں روزہ کھول نہں اور اس پر قضاء لازم نہیں سمجھتا جب روزہ کھولتا) اس

كَانَ أَوْفَقَ لَهُ (م- ۸۴۳) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ أَخَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَ

کیلئے مناسب ہے ابو جعفر سے روایت ہے کہ نبی صلعم نے سلمان اور ابو القدر دار کے

أَبِي اللَّهِ زَيْدًا فِي رَأْسِ سَلْمَانَ أَبَا اللَّهِ زَيْدًا فِي رَأْسِ سَلْمَانَ فَقَالَ لَهَا مَا شَأْنُكِ

درمیان خودت قائم کی سلمان ابو القدر دار کی ملاقات کو آئے تو ام القدر کو بے زینت دیکھا کما گئے کیا بچا

قَالَتْ أَخَوْتُكَ أَبُو اللَّهِ زَيْدًا فِي رَأْسِ سَلْمَانَ فَقَالَ لَهَا مَا شَأْنُكِ

اس نے کہا میرے بھائی ابو القدر دار کو دنیا کی ضرورت نہیں ہے انتہی میں ابو القدر دار آئے سلمان کیلئے کھانا تیار کیا اور

فَقَالَ كُلْ قَالَ فَإِنِّي صَائِمٌ قَالَ مَا أَتَاكِ أَحَى تَأْكُلُ قَالَ فَكُلْ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ

کھا کھائے کہا میرا روزہ ہے اس نے کہا میں تو نہیں کھاتا جب تک تم دکھاؤ کہ تو وہ بھی کھانے لگے جب رات ہوئی تو

ذَهَبًا أَبُو اللَّهِ زَيْدًا فِي رَأْسِ سَلْمَانَ فَقَالَ لَهَا مَا شَأْنُكِ فَقَالَ لَهَا مَا شَأْنُكِ

ابو القدر دار آگئے لگے تو سلمان نے کہا سو جاؤ وہ سو گئے پھر آگئے لگے تو سلمان نے کہا سو جاؤ وہ سو گئے جب رات آخر ہوئی

علاوہ صلح کہتے

ابن ساری رات

یا رات کے کسی حصہ

میں ارادہ ان چیزوں

سے احتراز کرنا جن

سے روزہ جاتا رہتا

ہے یہ بات تم ہے

کہ وہ صواب تشدد

فی العبادت ہے

اور یہ بھی مسلم ہے

کہ نبی کریم نے صحابہ

کو اس کی اجازت

نہیں دی اور قرآن

کریم کے حکم کے بھی

فتاویٰ سے کیونکہ

قرآن نے روزہ کے

تمام کولت تک

رکھا ہے جو بعض

اصول سے معلوم

ہوتا ہے کہ ایسے

خود وصال کیا ہے

اور صحابہ کو بھی ایسی

کتاب وصال کرنے

کی اجازت دی ہے

شاید ثقیانی اور

ہوئی جہاں کسی شخص

میں برداشت کا مادہ

زیادہ ہو

مگر روایت

کے لفظ میں: لا

تواصلوا قانوا ناک

فواصل قال است

کا حکم منکرانے اطعم ولسقہ اتانی ابیت اطعم واستقی ہے اس کے مکرر روایت کے لفظ میں: بھی رسول اللہ صلعم عن الوصال قانوا انک تواصل قال انی لست مثلكم انی اطعم واستقی ہے مگر مکرر روایت کے لفظ میں: لا تواصلوا فایکم اذا امرد ان تواصل فلیواصل حتی الصبح قانوا فانک تواصل یا رسول اللہ قال انی لست کھیتکم انی ابیت لی مطعم یطعمنی وساق یسقین ہے مکرر روایت کے لفظ میں: بھی رسول اللہ صلعم عن الوصال رحمۃ لکم فقال انک تواصل قال انی لست کھیتکم انی یطعمنی ربی ویسقین ہے مگر مکرر روایت کے لفظ میں: بھی رسول اللہ صلعم عن الوصال رحمۃ لکم فقال انک تواصل یا رسول اللہ قال وایکے مثلی اتی ابیت یطعمنی ربی ویسقین فلذبا ابوا ان ینتھوا عن الوصال واصل ہم یوما تم یوما تم مراد الہلال فقال لو نأخر لزد تک کاللتکلم ہم ہیں ابوا ان ینتھوا وذلما ابوا سے آخر تک زیادتی سے یعنی جب انہوں نے وصال کرنے سے رکنا نہ مانا تو آپ نے انکے ساتھ ایک دن بغیر افطار کے روزہ رکھا پھر دس دن ایسی طرح کیا پھر سال رعیدہ نظر کیا۔ تو فرمایا اگر کھانا اور پیچھے نکھاتا تو میں بھی اور کھانا اور گویا ان کے لئے بطور رمز تھا جب انہوں نے کھانے سے انکار کیا تب ہر کے ماہ عمادہ کو دیکھتے ہوئے اس بات کا ناخوش ہے کہ رسول اللہ صلعم نے روزوں کے طانے سے روکا ہو اور صحابہ نے قبول کم سے انکار کیا ہے اس کے لفظ میں: قال وایکے وواصل موتین قبیل انک تواصل قال انی ابیت یطعمنی ربی ویسقین قال کفوا من العمل ما یطیقون ہے اس کے لفظ میں: ۸۲۹ سے لفظ میں ہے: ۹۷۴ حضرت صلعم نے ہجرت کے بعد مدینہ میں ہاجرین اور انصار کے درمیان خودت قائم کی تھی کہ سلمان سے بھی اس کے بعد اس کے لئے ابوت بھی ان کے آئے ہے یہی قائم ہوئی ہوگی

قَالَ سَلْمَانَ فِيمَ لَأَنْ فَصَلِبًا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَوَلَيْفَسَاكَ عَلَيْكَ
 قَوْلُ سَلْمَانَ كَمَا بَلَغَ مِنْ رُؤْيَى فِي مَا رَوَى فِي (البخاري) سے سلمان کے کما ہے رب کا تجھ کو حق ہے اور تیری جان کا تجھ پر
 حَقًّا وَلَا تَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَأَبَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ
 حق چھادو جب تک کہ تم لوگوں کا تجھ کو حق ہے پس ہر ایک حق دار کو اپنا حق دو اور اللہ دار نبی صلعم کے پاس آئے اور یہ فقہم آپ سے

ذَلِكَ لَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ سَلْمَانُ (۵۲) بِأَبِ صَوْمِ شُعْبَانَ
 بیان کا نبی صلعم نے فرمایا سلمان نے سچ کہا ہے باب شعبان میں روزے رکھنا

(۹۹۷) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى يَقُولَ لَا
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم روزہ رکھتے

يَقْطُرُ وَيَقْطُرُ حَتَّى يَقُولَ لَا يَصُومُ فَمَا رَأَيْتَ سَوْأَ مَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِسْتَكْمَلَ
 کو پٹنے اور روزہ چھوڑ دیتے یہاں تک کہ تم کہتے روزہ نہیں رکھیں گے اور میں نے رسول اللہ صلعم کو

صِيَامَ شَهْرِ الْأَرْبَعِ وَالْعِشْرِينَ مِنَ الْأَرْبَعِ وَالْعِشْرِينَ فِي شَعْبَانَ (۹۹۸) عَنْ عَائِشَةَ
 مہینے کے روزے ہوتے رکھتے ہوں سوائے رمضان کے اور میں نے آپ کو نہیں دیکھا کہ شعبان زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے ہیں حضرت عائشہ

قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرَ الْأَرْبَعِ وَالْعِشْرِينَ فِي شَعْبَانَ قَالَتْ كَانَ يَصُومُ
 سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے آپ سارے شعبان

شَعْبَانَ كُلَّهُ وَكَانَ يَقُولُ خَذُوا مِنَ الْعَمَلِ بِالطَّيِّبَاتِ فَإِنَّ لِلَّهِ لَا يَمَلُ حَتَّى تَمَلُّوا
 کے روزے رکھتے نہ اور فرمایا کرتے تھے کہ عمل انا کرو چھٹی تم طاقت رکھتے ہو کو کرنا نہ نہیں مٹانا تم ہی ٹھک جاتے ہو

وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا دُوِّمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قُلْتُمْ وَكَانَ إِذَا صَلَّى
 اور نبی صلعم کو سب سے زیادہ محبوب نماز تھی جو ہمیشہ پڑھی جاسے اگر یہ تھوڑی ہو اور جب بھی آپ کوئی نفل

صَلَاةٌ دَاوَمَ عَلَيْهَا (۵۳) بِأَبِ مَا يَدُكُمْ مِنْ صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 نماز سے جو ہمیشہ پڑھی جاتا رہے باب نبی صلعم کے روزے رکھنے اور نہ رکھنے کا ذکر

وَإِذَا طَرَفَ (۵۴) عَنْ زَيْنِ عَبَّاسٍ (مَتَّكِرٌ ۹۹۷) عَنْ ۸۲۵) عَنْ أَنَسٍ (مَتَّكِرٌ
 دیکھو حدیث ۹۹۷ دیکھو حدیث

(۶۲۷) (۵۴) عَنْ أَنَسٍ (مَتَّكِرٌ ۹۹۷) بِأَبِ حَقِّ الضَّيْفِ فِي الصَّوْمِ
 دیکھو حدیث ۶۲۷ باب روزے میں جہان کا حق

(۸۲۷) (۵۵) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (مَتَّكِرٌ ۹۹۸) بِأَبِ حَقِّ الْجِسْمِ فِي الصَّوْمِ
 دیکھو حدیث ۹۹۸ باب روزے میں جسم کا حق

عَلِ اعْتِدَالِ كِي
 اعلیٰ درجہ کی تعلیم ہے
 اللہ تعالیٰ کی عبادت
 بھی اسی حد تک
 مناسب ہے کہ اپنے
 متعلقین کے حقوق
 اور کرتا رہے۔
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

ہیں ما صامہ النبی صلعم شہرا کاسلا فظ غیر، مضمان ویصوم حتی یقول القائل لا والله لا یفطر ویفطر حتی یقول القائل لا والله لا
 یصوم یعنی نبی صلعم اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوائے رمضان کے کسی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھے اور آپ روزے رکھتے یہاں تک کہ کہنے والا کہتا آپ روزہ
 چھوڑیں گے نہیں اور روزہ چھوڑتے یہاں تک کہ کہنے والا کہتا کہ آپ روزہ رکھیں گے نہیں۔ یہاں روایت الفاظ کے اختلاف اور زیادت کے ساتھ
 دوہرائی گئی ہے۔ سالت انسار عن صیامہ النبی صلعم فقال ما کنتم احبب ان اراه من الشهر صائما الا امرایته ولا مفرط الا امرایته
 ولا من اللیل فائتھا الا امرایته ولا نائمتھا الا امرایته ولا صمست بخیر ولا صمست خیر ولا صمست من کف رسول اللہ صلعم ولا شھدت
 ولا عمیة اھلب امرایته من رسول اللہ صلعم۔ ولا صمست سے ۷ فرقہ زیادت ہے اور میں نے سمورا روایت کی کہ نبی اکھبر علی اللہ علیہ وسلم
 کہ تھیل سے زیادہ نرم نہیں پایا اور شک اور غم کی خوشبو بھی نہیں سونگھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے اچھی ہو۔
 علیہا روایت تقریر سے۔ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر الحمد یثرب حدیث لگے باب میں آتی ہے یعنی ان لزودک علیک
 حقاوان لزوجک علیک حقا فظلت وھا صوم داود قال نصف الدھر

۱۸۲۸- ۱۸۲۹- ۱۸۵۰- ۱۸۵۱-

مسیر روایت بھی
کچھ اختلاف سے
آئی ہے قال فی
رسول اللہ صلعم
یا عبد اللہ الم
اعبدالک تصوم
النهار و تقوم لیل
فقلت بل یا رسول
اللہ قال فلا تغفل
صمہ و افطر و تم نعم
قال یسعدک حیاک
حقوا ان لعونک
علیک حقا وان
لزوجک علیک
حقا وان لزودک
علیک حقا وان
لمسک ان تصوم
کل شہر ثلاثہ یا م
فان لک کل حسنة
عشر امتا لھا فان
ذلک صیام اللہ
کل فشدات فشدت
علی قلت یا رسول اللہ
اللہ انی اجد قرة
قال نعم صیام
نبی اللہ داؤد
علیہ السلام و
لا تزدد علی قلت
وما کان صیام
نبی اللہ داؤد
علیہ السلام قال

۱۸۲۸- ۱۸۲۹- ۱۸۵۰- ۱۸۵۱- باب صوم الدهر

فَاِذَا أَصَبْتُمْ صَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ يَوْمٌ لَّيْطُرُ رَمَدِ - ۸۵۴ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَادٍ

جب تم نے دن روزہ رکھا تو اس کو لازم ہے کہ کھول دے

رمتکر - ۱۰۱ (۱۰۱) عَزَّ وَجَلَّ رَوَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَصُومُونَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ» (۱۰۰۲)

دیکھو حدیث ۱۰۱-۱۰۰۱ حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا

قرآن میں ہے جس سے جمعہ کے دن کوئی روزہ نہ رکھے کہ جب تک اسے آگے یا پیچھے ایک دن (رکھے) مگر

عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ

جویریہ بنت حارث سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن اس کے پاس تشریف لائے

وَهُي صَائِمَةٌ فَقَالَ أَصُمْتَ امْسِ قَالَتْ لَا قَالَ تَرْيَدِينَ أَنْ تَصُومِيْنَ خَدَا

اور اس کا روزہ تھا اور فرمایا تم نے کل روزہ رکھا تھا کہا نہیں فرمایا کل روزہ رکھنا چاہتی ہو

قَالَتْ لَا قَالَ فَأَطِرِي رَوَى عَنْ أَبِي خَالِدٍ قَالَ فَافْطَرْتُ (۶۷) بَابُ هَلْ

کہا نہیں فرمایا تو روزہ کھول دو اور ایک روایت میں ہے کہ آتی ہے حکم یا تو اس نے روزہ کھول دیا یا اب کیا دونوں

يَخْصُ شَيْئًا مِنْ الْأَيَّامِ مَرَسًا عَمْرٌ خَالِقَةَ قَالَتْ لِعَائِشَةَ وَهَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

میں سے روزہ کیلئے کچھ خاص کر سکتا ہے علقمہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے کہا کیا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْصُ مِنْ الْأَيَّامِ شَيْئًا قَالَتْ لَا كَانَ عَمَلُهُ دَيْمَةً وَأَيُّكُمْ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں سے کچھ خاص کرتے تھے کہا نہیں آپ بولام کرتے ہمیشہ کرتے رہتے اور تم میں

يُطْبِقُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطْبِقُ (۶۵) بَابُ عَرَفَةَ

سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے اس کی طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے ۳ باب عرفہ کے دن کا روزہ

عَرَفَةَ رَمَدِ - ۸۵۵ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ رَمَتَكَ - ۸۵۶ عَنْ مَيْمُونَةَ رَمَتَكَ

دیکھو حدیث ۸۵۵-۸۵۶ دیکھو حدیث ۸۵۷

(۶۶) (۸۵۸) بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ ۱۰۰۴ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ هُوَ ابْنُ أَنَسٍ قَالَ

حدیث ۸۵۸-۶۶ باب عید الفطر کے دن کا روزہ رکھنا ابو عبیدہ ان زہر کے غلام سے روایت ہے کہ

شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ كُرَيْبٍ فَخَرَّبْتُ فَقَالَ هَذَا يَوْمٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

میں نے عید الفطر کے دن حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ جوڑ دیا تھا انہوں نے فرمایا یہ دو دن ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْفِطْرِ كَمَا هُمْ صَائِمَةٌ وَالْيَوْمُ الْآخِرُ يَوْمٌ كَأَنَّ قَلْبَهُ لَمْ يَمُوتْ

ان میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے ایک ہمارا روزہ کہنے کا دن ہے اور دوسرا وہ دن ہے جس میں تم اپنی قربانیوں سے کھاتے ہو

القبیر صفحہ ۴۳۸

یہ ہے یعنی جو روزہ

روضان تو سارا فرض

ہے تو رمضان کبیر

میں روزے نہ رکھنے کا

سوال ہے معنی ہے

صحیح ہے کہ خدا

الشہر سے مرا شہان

ہے جیسا کہ ان کا

میں نے اور علم کی کتاب

میں بھی ہے لیکن

اس سے ہم ماہ کے

افریقہ میں روزہ رکھنے

کا احتساب ثابت

نہیں ہونا چاہیے کہ

عشرین ظاہر ہوتا ہے

عاشورہ صفر میں نماز

کے روزے روایت

کے لفظ یہ ہیں۔

مسائل جابر ابن

الذہبی صلی اللہ علیہ وسلم

صوم یوم الجمعہ

قال لغم روفی

سزا ایٹھ مان بیخرا

یصوم یعنی ایک

روایت میں ہے کہ

جاہل سے کہا کہ

کے دن روزہ سے

منع تو کیا ہے لیکن

تنہا جمعہ کے روزے

علا تخصیص صلعم

دیسے جو کسی دن کو

روزے کے لئے خاص کرنا پسند کرتے تھے۔ دیکھو حدیث ۱۰۰۴ اگر جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے بالخصوص اس لئے روزہ کا وہ اجتماع کا دن ہوتا ہے لوگ باہم ملتے جلتے ہیں اور کھیل کر رکھتے پینے کا موقع ہوتا ہے جس سے باہمی محبت کا انویاد ہوتا ہے اسی وجہ پر عید کے دن کے روزے سے بھی منع کیا جیسا کہ آگاہ ملاحظہ مدیون میں ہفتہ کے خاص خاص دنوں میں روزہ رکھنے کی فضیلت آتی ہے جیسے پیر ایمات - امام بخاری نے انہیں قبول نہیں کیا۔ اور کعبہ کو چھ مسلمانوں کے خاص اجتماع کا بھی دن ہے آپ نے خاص کرنے سے روکا بھی ہے۔ چنے کے بعض ایام کا البتہ بخاری کی احادیث میں بھی ذکر ہے۔ جیسے جمعوں اور جمعوں پندرہ صیوم ہر جمعہ کے روزہ نہیں رکھے لیکن عید الفطر کے دن ان افضل دنوں میں روزہ رکھنے کی روایت ہے کہ ایک یا دو روزہ کا بھی تو آپ نے وہ ہی لیا جس سے معلوم ہو کہ عرفہ کے دن آپ نے روزہ نہیں رکھا لیکن عید الفطر میں عرفہ کے روزے کو اپنی مرضی سے ہی ہے کہ اس سے ایک سال لگے اور ایک سال لگے کے گناہ معاف ہو جائے ہیں امام بخاری نے انکی ترمذی حدیث کو لاکر کہا ہے کہ روایت کے لفظ یہ ہیں ان الناس شکوا فی صیام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفۃ فارسلت الیہ بجداب وطلبہ یوم عرفۃ روادہ کے بتوائے ہیں اور ہم کو یا پھر دونوں کو کہتے ہیں وہ ہوا ان فی الوقت من وقت من وقت ان سب من سبہ کہ دو روزہ کا یا ایک روزہ کا امر افضل نہیں اس روایت میں ہے کہ جمعہ اور جمعوں اور دنوں میں بھی بخاری دونوں نے اتفاق کر کے بھجوا رکھا ہے اور ان کے دن میں جمعہ اور جمعوں اور جمعوں کو لگے اس لیے جمعہ سے بہت پرستی ہے اس لئے وہ دن عید الفطر میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے

علیہ روایت بخاری
 ہے کان یوم عاشورہ
 قتلہ اللہ پروردگار
 یسعیان کے خیال
 میں جو فکر فرمایا
 حضرت موسیٰ کو اس
 دن نجات ملی تھی
 اس لئے اس دن
 وہ خوشی مناتے
 تھے اور شکر نعمت
 کے طور پر روزہ
 رکھا کرتے تھے۔
 قال النبی صلعم
 فضومرہ اشکوہ
 منہ کبر روایت
 کے لفظ پر نہیں
 النبی صلعم وجلا
 من اسلم راسم
 قبیلہ کا نام ہے ان
 افن فی الناس
 ان من کا ماحل
 فلیصم بقیتہ یومہ
 ومن کم یکن اکل
 فلیصم فاق یومہ
 یوم عاشورہ
 منہ قیام رمضان
 سے مراد ہے اور رات
 کی نماز ہے جو طرح
 ۱۰ رمضان کے دن
 روزہ سے خاص نہیں
 اس طرح رمضان کی
 راتیں بھی تہجد کے خاص
 اہتمام سے مناسبت
 ۸۶۶ھ میں
 قریب اسی الفاظ میں
 دوہرایا گیا ہے البتہ
 ۸۶۶ھ کے مآثر میں
 یہ زیادہ ہے۔ قال
 ابن شہاب صحفی
 رسول اللہ صلعم
 واکثر علی العتم
 کان الاصل یومہ
 فی خلافۃ ابی بکر

(۱۰۰۸) عن ابن عباس قال قال قدام النبي صلى الله عليه وسلم المدينته قرأتها اليوم اكلوا

يوم عاشوراء فقال فاهذا قالوا هذا يوم صاخر هذا يوم حى الله بنى اسرائيل

من عدا واهم فصامه موسى قال فانا احق بموسى منكم فصامه وامر بصيامه

(م- ۸۶۶) عن ابى موسى (متكرر- ۱۰۰۸) (۱۰۰۹) عن ابن عباس قال ما امر آيت

النبي صلى الله عليه وسلم بخروج صيام يوم ففعله على قومه الا هذا اليوم يوم عاشوراء

وهذا الشهر يعني شهر رمضان (م- ۸۶۵) عن سلمة بن الاكوع (متكرر- ۹۷۶)

کتاب صلوٰۃ التراويح

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(۱) باب فضل من قرا رمضان (م- ۷۶۶) عن ابى هريرة (متكرر- ۳۲)

(م- ۸۶۶) عن ابى هريرة (متكرر- ۳۲) (۱۰۱۰) عن عبد الرحمن بن عبد

القاري انه قال خرجت من شهر رمضان في كتاب ليكة في رمضان الى المسجد

فكاد الناس وراعه من ان يصلي الرجل لنفسه وقصير الرجل يصلي بصلواته

الرهط فقال امراني اري لو سمعت هؤلاء على قارئ فاحيد لكان امثالكم

عزم فجمعهم على ابى بن كعب ثم خرجت مع ابنة اشرف الناس صلوته وصالته

قال يوم قال عمر بن عبد العزيز هذه والتي يتنامون عنها افضل من التي

وصدق الامم خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته ورضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته ورضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته

عَاشِرَةٌ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ شَدَّ حَبْلَ عَصَاكَ
 عاشتر سے روایت ہے کہ جب (آخری) عشرہ آجاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں حبوط باندھ لیتے۔
أَحْيَا لَيْلَهُ وَأَقْفَطَ أَهْلَهُ
 رات کو بولنے کے اور اپنے گھر والوں کو بچکانے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 بار بار دم کرنے والے کے نام سے

كِتَابُ الْاِعْتِكَافِ

اعتکاف کی کتاب
بَابُ الْاِعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْاَوَّلِ وَالْاِخْرَى وَالْاِعْتِكَافِ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا فِي الْقَوْلِ
 باب (رمضان) کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرنا اور سب صحابہ میں اعتکاف کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ

تَعَالَى وَلَا تَنَاهَوْهُ هُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا
 فرماتا ہے امدان سے میل عمل نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو یہ اللہ کی حد ہے یا وہیں تو اسے پاس نہ جاؤ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (م۔ ۸۷۷) **عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر- ۱۰۱۲)**
 اسی طرح اللہ تعالیٰ آپس میں لوگوں کو پھیلے بیان کرتا ہے تاکہ وہ سمجھیں (یعنی نہیں) (البقرہ۔ ۱۸۷) دیکھو حدیث ۱۰۱۲۔

م- ۸۷۸ عَنْ عَائِشَةَ (متكرر- ۱۰۱۲) م- ۸۷۹ عَنْ اَبِي سَعِيدٍ (متكرر- ۱۲۹۵)
 دیکھو حدیث ۱۰۱۲۔ ۳ دیکھو حدیث ۱۲۹۵۔

بَابُ الْحَاظِضِ تَرْجِيْلُ الْمُعْتَكِفِ م- ۸۸۰ عَنْ عَائِشَةَ (متكرر- ۱۰۱۲)
 باب حاشیہ اعتکاف کرنے والے کو گھسی کر سکتی ہے۔ دیکھو حدیث ۱۰۱۲۔ ۵

بَابُ الْمُعْتَكِفِ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ اِلَّا بِحَاجَةٍ م- ۱۰۱۳ عَنْ عَائِشَةَ
 باب اعتکاف گھر میں صرف اپنی ضرورت کے لئے جاسکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

رَوَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

وَسَلَّمَ لِيَدْخُلَ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنْ جَلَسَ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ
 اپنا سر میرے سر سے میں داخل کرتے اور آپ مسجد میں ہوتے تھے تو میں آپ کو گھسی کرتی تھی اور گھر میں ہونے پر آپ ضرورت کے

اِلَّا بِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا م- ۱۰۱۴) بَابُ حَسْلِ الْمُعْتَكِفِ م- ۸۸۱)
 نہ آئے جب اعتکاف میں ہوتے۔ باب اعتکاف کا نانا

عَنْ عَائِشَةَ (متكرر- ۲۲۸) م- ۱۰۱۵) عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ
 دیکھو حدیث ۲۲۸۔ باب ایک رات کیلئے اعتکاف کرنا ابن عمر سے روایت

أَنْ عَمَّرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ
 ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے جاہلیت میں منّت مانی تھی کہ

اعتکاف لکھتے
 سے ہے جس کے
 پر غم ہونا
 اصطلاح
 میں اعتکاف
 سے ہیں نہ کہ
 سے ایک ہزار
 میں بیجا
 پرتم کی عبادت
 نوے سال
 میں ان کی عبادت
 کو ایک طرح سے ترک
 دنیا سے
 آخری عشرہ
 رکنا جاتا ہے
 نماز میں
 کان رسول اللہ صلی
 بعتکاف
 الہذا ومن
 ۱۰۱۲ م- ۸۷۷
 میں ان کی عبادت
 کے لئے
 ۱۰۱۲ م- ۸۷۸
 کہ زیادہ ہے
 ۱۰۱۲ م- ۸۷۸
 ان کے بعد
 ان کے روایت کی
 انہوں نے
 رسول اللہ صلی
 کان بعتکاف
 الہذا کان
 وعمر بن
 التي بعتکاف
 من اعتکاف
 من اعتکاف
 انہوں نے
 سے ۱۰۱۵ م- ۸۷۷
 سے کہ یہاں
 بات کی نذر
 کہ یہ بارش
 رمضان کی

رات تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے جاہلیت میں منّت مانی تھی کہ
 حصہ ہے۔ کان التی بعتکاف میں باخبر فی وانا حاضر فی کان یحیی والی راسہ من المسجد هو مستکف فاعلموا فاعلموا

اعتکاف یعنی
 کے آخری عشرہ کا
 اعتکاف نہیں بلکہ
 حضرت عمر نے حالت
 کفر میں نماز پڑھی تھی
 اس سے امام بخاری
 نے اعتکاف کے
 عام نے اہل لال
 کیا یعنی علاوہ
 رمضان کے کسی
 قدر در کیلئے کوئی
 جاسے اعتکاف
 کر سکتا ہے۔
 اس روایت سے
 معلوم ہوتا ہے کہ
 عورتوں میں اعتکاف
 کر سکتی ہیں عذرا
 باب کا نقل ایسی
 سے ہے کہ نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ عورتوں کو اعتکاف
 کرنا ہرگز نہیں
 ہے۔
 یہاں پر کلمہ اعتکاف
 سے مراد یہاں سے
 انکار بیادت میں
 ایک اور مرے کی
 نقل ہے جو یہاں کہ
 اس وقت سے خیال گذر
 سکتا تھا اور یہ
 یعنی یہ ہرگز اعتکاف
 عورتوں سے جدا
 ہوا کرتا ہے۔
 اعتکاف ان نبی
 صلعم اراد ان
 اعتکاف خلف الصلعم
 اور مکان الذی
 اراد ان یتکف
 اذا اخیطت خباء
 حالائے و خباء
 شفصتہ و خبازیب
 اعتکاف اللہ لکن ان
 یمن ثم انصرف

اعتکف لیلۃ فی المسجد امر قال فاوف بנדرك (۶) **باب اعتکاف**
 ایک رات مسجد تمام میں اعتکاف کرونگا آپ نے فرمایا اپنی سنت پوری کرو علیٰ باب عمود کا اعتکاف
الشیخ (۱۰۶) عن عائشة قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف
 کرنا حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلعم رمضان کے
فی العشر الاواخر من رمضان فکانت تضرب لہ خباء فیصد الصبر ثم یدخلہ
 آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے میں آپ اپنے جسم کو گادتی تھی اور آپ صبح کی نماز پڑھ کر اس میں پہلے جاتے
فامتأذنت حفصۃ عائشۃ وان تضرب خباء فاذنت لها فضربت خباء
 حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ سے اجازت چاہی کہ وہ بھی ایک جگہ لگیں انہوں نے اجازت دی اس انہوں نے خیر لگایا
فلما اراد ان ینبأ ابنہ بحسب ضربت خباء اخر فلما اصبح النبی صلی اللہ علیہ
 جب ضربت بنت محسن نے انہوں کو دیکھا تو انہوں نے اورد خیر لگایا جب صبح ہوئی تو نبی صلعم نے
وسلم راى الخبیة فقال ما هذا فاسخبر فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی
 جیسوں کو دیکھ کر فرمایا یہ کیسے ہے آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ تم اس سے
تروون حین فترك الاعتکاف ذلک الشهر ثم اعتکف عشر من لیل
 نیکی کا خیال رکھتی ہو اور آپ نے اس چیز کا اعتکاف چھوڑ دیا پھر سوال کے اس روز میں اعتکاف کیا
(۷) باب الخبیة فی المسجد ۸۸۲ عن عائشة (۱۰۶) (۸)
 باب مسجد میں خیر لگانا دیکھو حدیث ۱۰۶ ۳
باب هل یخرج المعتکف نحو الحج الی باب المسجد ۱۰۶ عن صفیة زوج
 باب کیا اعتکاف والا یعنی مرد و بیات کے لئے مسجد کے دروازے تک جا سکتا ہے صفیہ نبی صلعم کی بیوی
النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزودا و اعتکف
 سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم کے پاس آپ سے ملنے کے لئے آئیں۔ جب آپ بیٹھتے
فی المسجد العشر الاواخر من رمضان فحدثت عننا ساعة ثم قامت تتقلب
 رمضان کے آخری دس روزوں میں اعتکاف میں تھے تو انہوں نے آپ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے پوچھا کہ لوٹ
فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم معہا یقلبها حتی اذا بلغت باب المسجد عند
 ہمیں تو نبی صلعم بھی ان کے ساتھ لگے تاکہ انہیں واپس بھیجا دیں جب وہ مسجد کے دروازہ تک
باب امر سلمة امر رجلا من الانصار فسلمنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 باب ام سلمہ کے پاس پہنچیں تو انصاروں سے دو شخص گذرے اور رسول اللہ صلعم پر سلام کیا
وسلم فقال لهما النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رسدکم انما اھی صفیة
 تو نبی صلعم نے انہیں فرمایا صفیہ
بنت حنی فقالا سبحان اللہ یا رسول اللہ واکبر علیہما فقال النبی صلی اللہ
 بنت حنی ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ سبحان اللہ اور ان پر گراں گذرا میں نبی صلعم نے فرمایا
علیہ وسلم ان الشیطان ینبأ من اللسان ینبأ من اللسان ینبأ من اللسان
 شیطان انسان کے پاس اس طرح پہنچ جاتا ہے (جیسے اس کا خون اور مجھے خوف ہوا
 اور مجھے خوف ہوا

ظہیرتک حتی اعتکف عشر من شوال یہ صحیح لگاتا تو یہاں کے لئے تھا کہ علاوہ ۳۵ میں گذرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں فرمایا

أَنَّ يَقْدِفَ فِي قُلُوبِكُمْ شَيْئًا ۚ **بَابُ الْأَعْتِكَافِ وَخُرُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ**

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ **صَبِيحَةَ عَشْرِينَ (م- ۸۸۳) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (م- ۲۹۵) (۱۹) بَابُ**

الاعتكاف المستوفضة (م- ۸۲۲) عَنْ عَائِشَةَ (م- متكرر- ۲۳۲ و ۶۹۹)

(۱۱) بَابُ زِيَارَةِ الْأَزْوَاقِ فِي اعْتِكَافِهِ (م- ۸۱۵) عَنْ أَبِي بَكْرٍ (م- متكرر- ۱۰۱۴) بَابُ هَلْ يَذَرُّ الْعَتِكَافُ عَنْ نَفْسِهِ (م- ۸۸۴) عَنْ أَبِي بَكْرٍ (م- متكرر- ۱۰۱۴)

الحسين (م- متكرر- ۱۰۱۶) بَابُ مَنْ مَرَّ بِمَنْ اعْتِكَافَ عِنْدَ الصُّبْحِ (م- ۸۸۷)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (م- متكرر- ۲۹۵) (۱۲) بَابُ الْأَعْتِكَافِ فِي شَوَّالٍ (م- ۸۸۸)

عَنْ عَائِشَةَ (م- متكرر- ۱۰۱۶) (۱۵) بَابُ مَنْ لَزِمَ رُؤُوسَ قَوْمٍ فِي اعْتِكَافِهِ

(م- ۸۸۹) عَنْ عُمَرَ (م- متكرر- ۱۰۱۵) (۱۶) بَابُ إِذَا نَدَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ تَعَتَّفَ

ثُمَّ أَسْلَمَ (م- ۸۹۰) عَنْ عُمَرَ (م- متكرر- ۱۰۱۵) (۱۷) بَابُ الْأَعْتِكَافِ فِي

الْعَشْرِ الْأَوَسَطِ مِنْ مَضَانَ (۱۰۱۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عالمین میں طرح
انسان کا خون کے
اندھرتا ہے اس کی
شیطان کے باؤں
یا اس کی تڑپا کی
اس کے اندھرتا ہو
پہرے کر کے اس میں
بیان فقر و مصیبت
دوسروں کو ایک تعلق
ہی ہے اور وقت کے
موقعہ سے اس قدر
بچنا چاہئے حالانکہ
آپ کی بے لوثی کی
سے بر وقت تھے
پھر بھی اپنے غم و غم
فقر کی آغوش سے
بڑھ کر اپنے غم و غم
بند ہو
عظا میں ہو
کوشش تیر لفظی سے
دوسرا ہے
عظا کے لفظی
اعتکاف میں رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
انفجرت علی خاصۃ
تکالیفی الحرق و
الاصغرۃ فربما
وضعت الطست
تحتها وھی تصلح
لکلمی قدر الفاظ
کا تیرے کا لفظی

في المسجد عند أزواجهم فقال لعقبة بنت حبي لا تفعل حتى انصرف معك كما ينبغي وأرأسامة خنزير النبي صلعم معها فقيدت ليلته من الأضواء فظنوا
إلى النبي صلعم فها جازا وقال لعقبة النبي صلعم قائلها انما عافية بنت حبي قال لا سبحان الله يا رسول الله قال ان الشيطان يجري من لانسك نجري الذي
خشيت ان يلقي في انفسكم شياك فله كبر روايت صححه ان عافية راضت النبي صلعم هو معتكف ذلما رجعت مشي معها فابصره رسول الله صلى الله عليه وسلم
فلما ابصره دعاه فقال فتالي هو صفيق فان الشيطان نجري من ادمي عي اللم قلت لسفير الله ليا اهل هو الاليل تاخرى الفاظ اصل حديث
يعني يرات ما وقت نظايير غير محكي كما اخبر صلعم كبر كعنه كرفه وپيش آئي كرفري يوي ہے ۷۷ ۷۷ صبح کے وقت نکلنے کے جواز کو حدیث ثابت کیا ہے اسلئے کہ عام خیال ہے
کہ غروب آفتاب بعد کلنا پائے ۷۷ ۷۷ وصوت کو ثابت کیا ہے ۷۷ ۷۷ مکرر روایت میں کچھ اور کچھ روایت ہے اعتکاف میں رسول اللہ صلعم معتکف اور وسط قلما کان صبیح
عشرین قلنا ما عانا فانا ناولا لہ صلعم قال من كان اعتكف فجمع لى معتكفه فاقى رايوت هذه الليلة من رايوتى سيدى ۷۷ ۷۷ وطین فلما رجعت الى معتكفم
دعاهت السماء فاعطى نافر الذي يعنى بالحقى لقتا حاجت السماء من ذلك اليوم وكان المسجد ريشا فلقد ابيت على نفة اربيلة انزلها العار الطين ۷۷ ۷۷ كبر
طرايت تفصيل ہے کان رسول اللہ صلعم معتكف كل رمضان واصل اوله ان دخل مكة ان الذي معتكف فیه قال فاستاذنہ عائشة ان تعتكف قال نعم لھا
فيقبة شمعت بها حفصة فطرايت فمة وصمت زینب بها فطرقه اخرى فلما انصرف رسول اللہ صلعم من الاليل ابصر ربي فباقي ال ما هلكا فخبو
خبوهن فقال ما ما صابون على هذا اللم انزعوهن انزعوهن كوا كوا كوا فلا امرها ان تنزل من غير انيس لھا انيس لھا فخرجت فلم يعتكفم ثم وضعت حتى اعتكف في
آخر الضم من شوال ۷۷ ۷۷ صبيح اختلاف سلمی سے ہفتہ کو دو روزہ پاس ہے اور آخر میں رجا پاس ہے فاعتكف ليلة چونکہ ایک رات اعتكاف تھا تو اس میں وہ روزہ توڑ سکتا
تھا اس لئے استلال کیلئے کہ ریشہ روزہ کے بھی اعتكاف کر سکتا ہے مگر روزہ سے بعد کرنا ہے اور روزہ کا بعد ہر حال پر اور کو لازم ہے۔ روزہ کو ابعد اللہ اذا
عاهدتم ... اسلام عہد کی یا ہندی کا حکم کرنا ہے جاہلیت کا عہد کیوں نہ ہو۔ ۷۷ ۷۷ الاضيف اختلاف لفظی سے دو روزہ پاس ہے

علا فی آخر عشرہ کے ساتھ درمیان عشرہ کو جمع کیا + پڑھنا تفصیلات قدرے زیادہ ہیں ۹ از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر از بیعتہ العشر الاواخر من رمضان فاستاذنہ عائشہ فاذن فها و ساطتہ مضمینہ عائشہ تسانن فانفتحت فلما دارت انک یطیب ایفہ یحیی عورت لایا یفتی رہا ت شکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان افاضلہ نعم ان بناؤہ فیہ کلایہ فقال ما هذا قالوا بناؤ عائشہ و حفصہ وزینبہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البرون هذا ما انا معتک فرجع فلما اظفر اعتکف عشرہ کون شول بر اعکات میں غلظتوں کے بعد بھی اس کا ادوہ فرج کرنا جائز ہے۔

۹
۱۰
۱۱
۱۲

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ مَضْنَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ الْعَامَ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ

ہر مضان میں دس دن اعکاف کرتے جس سال میں آپ کا وصال ہوا

فِيهِ اعْتَكَفَ عَشْرِينَ يَوْمًا (۱۸) بَابُ مَنْ ارَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ ثُمَّ بَدَأَ لَهُ الشَّيْخُ

اس میں بیس دن اعکاف کیا علی باقی جو اعکاف کرنا چاہے پھر اسے خیال ہوا کہ چھوڑ دے

رَمَى - ۸۹۱ عَنْ عَائِشَةَ رَمَتْكَ (۱۰۶-۱۰۷) بَابُ الْمُعْتَكِفِ يُدْخِلُ رَأْسَهُ

دیکھو حدیث ۱۰۶-۱۰۷ علی باقی معکف اپنا سر دھونے کے لئے غم میں داخل

الْبَيْتِ لِلْعَسَلِ (رَمَى - ۸۹۲) عَنْ عَائِشَةَ رَمَتْكَ (۱۰۳-۱۰۴)

کر سکتا ہے دیکھو حدیث ۱۰۳-۱۰۴

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے کرتے والے کے نام سے بار بار رسم

کتاب البیوع (۳۳)

خرید و فروخت کی کتاب

وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا حَلَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وَقَوْلُهُ الْإِن تَكُونُ بِيَعَارَةً

اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا اور اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا اور (بقرہ - ۲۷۵) اور اس کا فرمانا کہ بیع اگر نقد

حَاضِرَةٌ تَدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ رَأَبَابُ مَا جَاءَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَأَذْ قَضِيَّتِ

سوں ہو جسے تم اپنے میں بیعت ہو (البقرہ - ۲۸۲) باب جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس جب نماز ختم ہو

الصَّلَاةَ فَإِنَّشَرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغَوْا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا أَنَّ اللَّهَ كَثِيرُ الْعِلْمِ

جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا ذکر بہت کرو تاکہ تم کا میاں

تَفْخَحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَنَا

ہو جاؤ اور جب تجارت یا کھیل دیکھتے ہیں اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور تم سے کھڑا چھوڑ دیتے ہیں کہ جسے جو اللہ

اللَّهُ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِو و مِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَقَوْلُهُ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ

کے پاس ہے وہ کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے (البقرہ - ۱۱۰) اور اس کا فرمانا اپنے

بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (۱۰۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

نالوں کا پس میں ناپنے کے ساتھ دکھاؤ سوائے اس کے کہ تماری باہمی رضامندی سے تجارت ہو (النساء - ۲۹) ابو ہریرہ سے روایت

قَالَ إِنَّكُمْ تَقُولُونَ إِنَّ أَبَاهُ هُرَيْرَةَ بَلَّغْتُمْ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ

ہے کہ تم کہتے ہو کہ ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت حدیثیں بیان کرتا ہے اور

تَقُولُونَ مَا بَالُ لِمُحَرَّبِينَ وَالْأَنْصَارِ لَا يُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کہتے ہو کہ تمہارے محارب اور انصار کو کیا ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح حدیثیں بیان نہیں کرتے جس طرح

حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِنَّ أَسْوَدَ بْنَ مَرْثَدٍ كَانَ يَشْفِقُ بِالْأَسْوَادِ وَكَانَتْ أَسْوَدُ

ابو ہریرہ بیان کرتا ہے حالانکہ میرے ۷۶ چچا بھیوں کو بازاروں میں خرید و فروخت شوق لگتی اور میں فریبٹ بھر کر

سے خرید و فروخت کیامان اور اس کے ارکان - نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ کا ذکر کر کے دینی معاملات کو رکھتے اور ان میں سب سے بڑھکر اہمیت تجارت کو دیتی ہے اور قرآن کریم کی آیات سے شریعت کیا کہ تجارت کے ذریعہ سے مال کھانا جائز ہے

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِلءِ بَطْنٍ فَأَمُّهُ إِذَا جَاءَهَا وَأَوْ أَحْقَظُ أَسْمَاءُ وَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَشْغَلُ أَحْوَتِي مِنَ الْأَنْصَارِ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ وَكَانَتْ أُمَّرَأَةٌ مَسْكِينَةً قَرَّ مَسْكِينِ الصُّفَّةِ

عَنِ جَدِّ بْنِ يَسْوَجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحْتُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ

لَكُمْ بَيْعَاتُ أَحَدٍ ثَوْبٌ حَتَّى آخِضَ مَقَالَتِي هَذَا ثُمَّ يَجْمَعُ إِلَيْهِ ثَوْبَةٌ الْإِوْعَى مَا

أَقُولُ قَبَسْتُ نَبْرًا عَلَى خَدِّي إِذَا قَضَى رُؤُوسَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ جَمَعَتَهَا

إِلَى صَدْرِي فَمَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ مِنْ شَيْءٍ

بِئْسَ مَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ نَبْرًا عَلَى خَدِّي إِذَا قَضَى رُؤُوسَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ جَمَعَتَهَا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ إِنَّي أَكْثَرُ

لَكَ عَلَيْهَا إِذَا أَحَلَّتْ تَزْوِجَهَا قَالَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَا حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ

هَلْ مِنْ سَوْقٍ فَيْدٍ يَخْرُجُ قَالَ سَوْقٌ قَيْنُقَارٌ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ

فَأَنِّي بِأَقْطَرٍ وَسَمِّنُ قَالَ ثُمَّ تَابَعُ الْعُدُوَّ وَفَمَا أَلَيْشَ أَنْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ

عَلَيْهِ أَتْرُصَفِرَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ

وَمَنْ قَالَ أُمَّرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ كَمْ سَقَّتْ قَالَ زَيْنَةَ كَوَاةَ مِنْ ذَهَبٍ أَتَوَاةَ

مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَادُكُمْ يَشَاءُ (۸۹۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

رَمْتَكُمْ (۱۰۲۰) (۸۹۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مَنْكَرُ ۹۱۱) (۲) بَابُ الْحَالِ الْبَيْنِ

دِيكَو حَدِيثُ ۱۰۲۰ ۵ دِيكَو حَدِيثُ ۹۱۱ ۵ بَابُ حَالِ صَافٍ ۵

یہ روایت صحیح بخاری میں ہے اور اس میں تجارت کی اجازت ہے جو اس کے اخیر میں ہے کہ وہ اس کا لفظ اس عباس کی قرأت سے صحابہ کے

جو قرآن سے زاد لفظ میں ہوا کسی قسم پر بی ہے جو بطور فقیر کسی آیت کی تلاوت کیساتھ پڑھ لیتے ہیں یہ بعد میں غلطی سے قرآن کریم کی قرأت سمجھا گیا

عاس حدیث کا
کہ جس سے عا
۱۰۲۰ میں لفظ
دیکھو حدیث ۱۰
ط و دیکھو اس کے
ہیں کرنے کی عرض
یہ ہے کہ صحابہ کی
عظم جنہوں کی روایا
میں اور تجارت میں
لگ رہے تھے
عاس اس وقت میں
مدینہ پہنچ کر ایک ایک
جہاں جہاں ایک ایک
انصاری کے رہنے
اور وہ یہ کہہ کر
انہوں کو کہہ کر
علا ایک طرف بٹاری
کا ہوا تو انھوں نے
کا اپنے دینی صحابی کی
آدمی دولت سمجھنے
کو تیار نہیں ہو کر
طرف خود داری اور
حنت کا مظاہرہ کرنا
ہے کہ دو سر سے کی
دولت بڑھنے کی
کرنے کو کار بھیا اور
بازار کا رت دریافت
کیا تاکہ وہاں جا کر
اور تجارت کر کے
کچھ کمائیں
علا اشفاق کا
ساتھ اس مضمونی کو
دوہ لای کر گیا
ذکر نہیں کریں کہ
میں سے جس نے
کو اسے چھوڑ دیا
بلکہ لفظ نہیں کے
ساتھ صرف ہے و
ازوجہ انھوں
بھی کر دیا لگا اور
جو نہیں ہو مارنے
فی اصحاء و ملائکہ
علی السوق
سے ہیں جو

۱ ما کریمو ایست
 ۲ ہے اور ساق میں
 ۳ بھی فرق ہے لعل
 ۴ بیچ انحراف میں
 ۵ وینہما امور
 ۶ صفتہ فتن
 ۷ ترک ماشد علیہ
 ۸ من اکتم کان لہما
 ۹ استتبان ان ترک
 ۱۰ من اجتر علی ما
 ۱۱ یشک فیہ لاکلام
 ۱۲ ویشک ان یرفع
 ۱۳ یا استنبان المعاصی
 ۱۴ حتی لایک من یرفع
 ۱۵ حول المعصی یوشک
 ۱۶ ان یواقفہ اصل
 ۱۷ مضمون پر دیکھو
 ۱۸ پر لاث یہاں یہ
 ۱۹ حدیث اس عرض
 ۲۰ سے لائی گئی ہے کہ
 ۲۱ غریب و فرحت اور
 ۲۲ تجارتی معاملات
 ۲۳ میں ایسے مال سے
 ۲۴ بچنا چاہیے جس کے
 ۲۵ حرام ہونے میں شبہ
 ۲۶ ہو اور جہاں تک
 ۲۷ ہو سکے معاملات
 ۲۸ میں صفائی رکھنی
 ۲۹ چاہئے بھڑک نہایت
 ۳۰ فریب دھوکہ کرنے
 ۳۱ سے اجتر کرنا
 ۳۲ چاہئے
 ۳۳ ملکر روایت

وَأَكْرَمُهُنَّ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ (م- ۸۹۵) عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ (متک- ۱۲۷)
 اور حرام صاف ہے اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ کام ہیں دیکھو حدیث ۷۷۷ ط
 (۱۳) بَابُ تَفْسِيرِ الْمَشْتَبِهَاتِ قَالَ حَسَّانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ قَامَرَايْتُ شَيْئًا أَهْوَنَ
 باب مشتبهات کی تفسیر اور حسان بن ابی سنان نے کہا میں نے بہت کچھ گاری سے آسان کوئی چیز نہیں دیکھی اسے
 مِنَ الْوَرَعِ دَعَا يَرْبِيكَ إِلَى مَا لَا يَرْبِيكَ (م- ۷۹۶) عَنْ عَفِيَةَ بْنِ الْكَلْبِ (متک- ۷۹)
 جھوٹے جو کچھ شہ میں ڈالتا ہے اسے لے لے جو کچھ شہ میں نہیں ڈالتا دیکھو حدیث ۷۷۹ ط
 (۱۴) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ عَهْدَ الْأَخِيهِ سَعْدِ بْنِ
 حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن ابی وقاص نے اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص کو وصیت کی تھی
 أَبِي وَقَاصٍ أَنَّ ابْنَ وَليدَةَ رَمَعَهُ صَبِيًّا فَأَقْبَضُهَا قَالَتْ فَأَيُّهَا كَانَ قَامَرًا الْقَوْمِ أَخَذَهُ
 کہ زعمہ کی لونڈی کا بیٹا مجھ سے ہے اسے قبضہ میں کر لینا کہا جب حج (کم) کا سال آیا
 سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ ابْنُ أَخِي قَدَّعَهْدَ إِلَى فِيهِ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ رَمَعَةَ فَقَالَ
 لڑا سے سعد بن ابی وقاص نے لے لیا اور کہا میرے بھائی کا بیٹا ہے اس نے مجھ سے بائیں میں وصیت کی ہے میرا زعمہ کھڑا ہوا
 أَخِي وَأَبْنُ وَليدَةَ أَبِي وَليدَةَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَا وَقَالَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 میرا بھائی ہے اور میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے اسی کے حرم سے پیدا ہوا ہے میں دونوں ہی صلح کے پاس آئے
 فَقَالَ سَعْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي كَانَ قَدَّعَهْدَ إِلَى فِيهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ رَمَعَةَ
 تو سعد نے کہا یا رسول اللہ میرے بھائی کا بیٹا ہے اس کے بائیں میں وصیت کی تھی اور عبد بن زعمہ نے کہا
 أَخِي وَأَبْنُ وَليدَةَ أَبِي وَليدَةَ عَلَى فِرَاشِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 میرا بھائی ہے اور میرے والد کی لونڈی کا بیٹا ہے اس کے حرم سے پیدا ہوا ہے رسول اللہ صلح نے فرمایا
 هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ رَمَعَةَ تَمَّ قَالَ لَيْتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفَرِاشِ
 اے عبد بن زعمہ یہ تمہارا ہے پھر نبی صلح نے فرمایا بیٹا صاحب حرم کا ہے
 وَلِبِغَايِرِ الْخَبْرَتِ قَالَ سُودَةُ بِنْتُ مَعْتَةَ تَزَوَّجَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 اور زانیہ حرم ہو گا پھر حضرت سودہ بن زعمہ نبی صلح کی بیوی سے آنحضرت نے فرمایا کہ
 أَخْتِي وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ نَبِيًّا فَمَا رَأَاهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهُ (۱۰۲۲) عَنْ
 اس سے پردہ کریں کیونکہ آپ نے دیکھا کہ وہ علقہ سے نور میں ملتا ہے مگر تو اس نے حضرت سودہ کو ترم دم نہیں دیکھا
 عَدِيَّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَعْرَاضِ فَقَالَ
 عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلح سے پے پھل تیر کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا

فقہر عن امرأة
 سودا انجسادت فرختت انھا اضعفتھما فذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما عرضتہ وتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کیف وقد قیل وقد
 کان تحتہ اہنۃ ابی اھایا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت سے صاف شہادت ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عاملہ کے تصفیہ کے لئے ایک عورت کی شہادت کافی ہو سکتی ہے اور زیادہ
 گواہ رکھنے کا حکم بظن احتیاط ہے یہ مطلب نہیں کہ اگر اس سے کم شہادت ہو تو ایک امر کا تصفیہ ہی نہیں ہو سکتا۔ ۱۰۲۲ سعد بن ابی وقاص نے عشرہ مبشرہ میں سے
 ہیں اور ان کے بھائی عقیبہ کے اسلام لانے کے باوجود اختلاف ہے بعض نے اسے صحابہ میں سے لگایا ہے اور چھوڑ کر نزدیک اس کا اسلام لانا ثابت نہیں
 جاگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے ہاتھ سے زخمی ہوئے تھے۔ اسلام میں نسب کا ثبوت عقد صحیح بیونی ہے شاید سعد بن ابی وقاص کو علم نہ ہو گا کہ
 انسان کی اولاد وہ شمار ہوتی ہے جو نکاح صحیح کی بیوی کے وطن سے ہو جس لئے کہ بعض متاخر علماء ہابنہ تھا جیسا کہ اس سے پردہ کرنے کے حکم سے معلوم ہوتا
 ہے حضرت سودہ بھی زعمہ کی بیٹی تھیں۔ مگر باوجود اس شہادت کے آپ نے پردہ کا حکم دیا کہ اس کی شکل عقیبہ سے ملتی تھی یا شاید کوئی اور وہ ہونے لگے کہ
 اس کا چہل چلن اچھا نہ ہو۔ مگر قانوناً اسے زعمہ کا بیٹا ہی قرار دیا۔

اِذَا اَصَابَ بِحَدِّهِ فِى كُلِّ وَاِذَا اَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا يَأْكُلُ قَالَ وَقَدْ قُتِلَ يَا
جَب دھار سے لگے تو کھاؤ اور جب بھڑکی سے لگے تو کھاؤ

سَأَلَ اللهُ اَنْ يَرْسِلَ كَلْبِيَّ وَاسْمِي فَاَجِدَمَعَهُ عَلَى الصَّيْدِ كَمَا اَخْرَجْتَنِي مِنْ اَرْضِي
یارسول اللہ! کہ تم مجھ کو اپنا کلب بنا لو اور میرا نام بھی لگا دو تاکہ میں نے شکار کیا تو اسے

اَدْرِي اَيُّهُمَا اَخَذَ قَالَ لَا تَاْكُلُ اِنَّمَا سَمَّيْتَهُ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَسْمَعْ عَلَى الْاٰخِرِ
یارسول اللہ! میں جاننا کہ ان میں سے (کدام) اس نے مارا تو فرمایا تم نے اسے مارا تو فرمایا ہے اور دوسرے پر نہیں لیا

(۱۰۲۳) اَبَابُ مَا يَتَّبَعُهُ مِنَ الشَّبَهَاتِ (۱۰۲۳) عَنْ اَسْمِ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى
باب مشتبہ کاموں سے بچنا اس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَمْلُوءَةٍ مَسْقُوطَةٍ فَقَالَ لَوْلَا اَنْ تَكُوْنُ صَدَقَةً لَأَكَلْتَهَا وَفِي
علیہ وسلم ایک بھری ہوئی کھجور کے باس سے گولے تو فرمایا اگر یہ صدقہ میں سے نہ ہوتی تو میں اسے کھا لیتا اور ایک

رَايَةٌ قَالَ اَجِدُ مَثْرَةً سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي (۵) اَبَابُ مَنْ لَمْ يَرِ الْوَسْوَوسَ وَ
روایت میں ہے کہ فرمایا کہ میں نے بھجور سے بھری ہوئی کھجور پانا ہوں اسے با سبسا جو دوسوں وغیرہ کو

تَحْوَاهُ مِنَ الْمَشَبَهَاتِ (۸۹۷) عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِي دَاوُدَ (۱۱۸)
مشبہات میں سے نہیں سمجھنا دیکھو حدیث ۱۱۸

(۱۰۲۴) عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ قَوْمًا قَالُوْا لِيَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّا قَوْمًا يَا لِحُمَةِ نَدْرِي
حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ بعض لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! تو کوئی ناکہ ہے یا اس کو کشت لگتی ہے ہم نہیں جانتے کہ

اَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ اَمْ لَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا اللهُ عَلَيْهِ
آپ انھوں نے اس پر اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

وَكُلُوْهُ (۶) اَبَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى وَاِذَا رَاوُا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا رَابَعًا فَانصُرُوْا لَهَا
کھاؤ اسے باب اللہ تعالیٰ کا فرمان اور جب تجارت یا کھیل یا بھولنے میں لو اس کی طرف بھاگتے ہیں (انھوں سے)

(۸۹۸) عَنْ جَابِرٍ مَتَكَرَّرًا (۵۵۱) اَبَابُ مَنْ لَمْ يَمَيِّزْ بَيْنَ كَسْبِ الْمَالِ
دیکھو حدیث ۵۵۱ باب جو بھولا نہیں کرتا کہ مال سے مال کمان ہے

(۱۰۲۵) عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا بَنِي اِسْرَائِيْلَ
ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں

اَلرَّحْمَةُ اَخَذَتْ مِنْهَا مِنْ اَحْجَالٍ مِّنْ اَحْجَالِ الْبَحْرِ (۸) اَبَابُ التِّجَارَةِ وَالرَّوْقِ وَالرَّجَالِ
کہ جو وہ مال لیتا ہے وہ حلال ہے یا حرام باب حاکم میں تجارت کرتا اور اللہ تعالیٰ کا قول

لَا تَلْمِزْهُمْ تِجَارَةً وَلَا بَيْعًا عَنْ ذِكْرِ اللهِ قَالَ قَتَادَةُ كَانَ الْقَوْمُ يَتَّبِعُوْنَ رَسُوْلَهُمْ
ایسے لوگ نہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل کہتے ہیں اور قنادہ کہتے ہیں وہ لوگ اپنے پیغمبر سے اور اللہ سے

وَلَكِنَّهُمْ اِذَا نَالُوْا مِنْ حَقِّ مَنْ حَقَّقَ اللهُ لَهُمْ تِجَارَةً وَلَا بَيْعًا عَنْ ذِكْرِ اللهِ حَتَّى يَكُوْنُوْا
کہتے تھے لیکن جب ان کے سامنے خدا کے حق آتا ہے تو ان میں تجارت اور خرید و فروخت سے غافل کہتا تھا ان تک کہ وہ

اِلَى اللهِ (۱۰۲۶) اَبَابُ اَنْ يَلْمِزَ الْاِنْسَانَ اَلَّذِي لَمْ يَلْمِزْ اَوْ يَلْمِزْ اَلَّذِي لَمْ يَلْمِزْ
حق خدا کو اور کہتے ابو المنہال سے روایت ہے کہ کس مہر کی تجارت کرتا تھا تو میں نے زید بن اوس سے پوچھا تو کہا

(۵۵۵) کہ یہی صورت یہ تصریح زیادہ ہے کہ قنادہ شام سے آیا تھا۔ دیکھو نمبر ۱۰۲۶ اور وہ کہتا ہے قنادہ کی وجہ سے بعض لوگوں کو مسجد میں لے کر دیبولی
ہوا اور اس واقعہ نے یہ رنگ اختیار کر لیا نیز دیکھو نوٹ نمبر ۸۹۹

علاوہ تک کرا
مؤاہذا اور علم ہے
والعلماء (۱۰۲۶) جس طرح
میں پہلے فرمودہ ہے
کہ اگر مار سکتا ہے
تو صرف صدقہ سے
اس لئے اس سے
مع فرمایا
علاوہ تک کرا
کا مال اس لئے کھانے
تھے تو ان کو پھینک دیا
ابو ہریرہ کی حدیث میں
شہید کیا گیا ہے کہ یہ
ذکر میں سے ہے
میں کھری ہوئی چیز
ہے جس کی مالیت اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے
المصلوۃ شمشیتا
ایقظم المصلوۃ
لاختی اہم صحتا
ادبیدا اور
ایک حدیث روایت میں
ہے کہ لا وضو الاغتسال
وجہات المروج
او صحت الصوت
طلب یتکرر شربہا
ہونے کی کوئی
دعوات ہوتی ہیں
مجلس جمع سے پاک
میں حضرت انور کی
ایک حدیث میں ہے
کہ یہ لوگ تو اس لئے
قرآن کو کلمہ کا نام ہے
کہ جس پر اللہ کا نام
نہ لیا گیا ہو تو اسے
کھاؤ لیکن جو کلمہ
لوگ مسلمان تھے تو
ظاہر ہے کہ وہ خدا
کا نام سے کہتے کرتے
ہوں گے
۵ الفاظ تریح
۵۵۵

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَى فِي رِوَايَةٍ سَأَلْتُ الْبَيْتَةَ بِنْتُ قَارِبِ بْنِ زَيْدِ بْنِ

رسول اللہ صلعم نے فرمایا اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے براء بن مالک اور زید بن

أَرْقَمَ عَمْرٍو الضَّرْفُ فَقَالَ لَكُنَّا نَجْرُجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ارقم سے بیع صرف کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا ہم نبی صلعم کے زمانہ میں تجارت کرتے تھے

فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّرْفِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدِي أَيْدِي فَلَا بَأْسَ

تو ہم نے رسول اللہ صلعم سے بیع صرف کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا اگر ہاتھوں کا تقاضا ہو تو کوئی حرج نہیں اور

إِنْ كَانَ كَسَاءً فَلَا يَصْلُحُ لَكُمْ بَابُ الضَّرْفِ فِي الْحِجَارَةِ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فَاَنْتُمْ رَاقِي

اگر عیادی ہو تو ٹھیک نہیں ہے بلکہ بآب تجارت کے لئے نکلنا اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا زمین میں پھیل

الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (۱۰۲) عَنْ عَبْدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ

باب اور اللہ کا فضل تلاش کرو عابد بن عمر سے روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعری

اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمْ يُؤْذَنَ لَهُ وَكَأَنَّهُ كَانَ مَشْغُولًا فَرَجَعَ أَبُو

نے حضرت عمر کے پاس جانے کی اجازت مانگی تو انہیں اجازت نہ ملی اور شاید وہ مشغول تھے تو ابو موسیٰ

مُوسَى فَرَزَعَهُ عُمَرُ فَقَالَ أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ ذَكْوَانَ الْقَيْلِيِّ قَدْ

پہنچے اور حضرت عمر فرما دیا کہ میں نے عبد اللہ بن قیس کی آواز نہیں سنی تھی اسے اجازت دو کسی نے کہا وہ لوٹ کر

فَدَعَاهُ فَقَالَ لَكُنَّا نُوَفِّرُ بِذَلِكَ فَقَالَ تَلَيْتَنِي عَلَى ذَلِكَ بِالْبَيْتَةِ فَأَنْطَلِقَ إِلَى

چلے گئے تو انہیں بلایا ابو موسیٰ نے کہا ہمیں یہی حکم تھا تو حضرت عمر نے فرمایا میرا اس کی ضمانت پیش کرو تو وہ انصار کی

بِحِجَارَةٍ لَمْ يَصَارُ فَمَا لَهُمْ قَالُوا لَا شَهَادَةَ لَكَ عَلَى هَذَا إِلَّا أَصْعَرْنَا أَبُو سَعِيدٍ

جگہس میں گئے اور ان سے پوچھا انہوں نے کہا ہم میں سب بھولنا ابو سعید مدنی ہمارے لئے اس کی گواہی دے گا

وَالْحَدْرِيُّ فَذَهَبَ بِأَبِي سَعِيدٍ الْحَدْرِيِّ فَقَالَ عُمَرُ حَفِيٌّ عَلَيَّ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ

تو حضرت عمر نے فرمایا مجھ سے رسول اللہ صلعم کا حکم و شیعہ رہا تو وہ ابو سعید مدنی کو ساتھ لے گئے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاهِجُ الضَّرْفُ بِالْأَسْوَاقِ يَعْنِي الضَّرْفُ فِي الْحِجَارَةِ وَالْبَابُ

بھی بازاروں میں خرید و فروخت کے متعلق رکھا یعنی سوداگری کہنے کا بہتر نکلنے کے باب

الْبَيْعَةِ فِي الْحِجَارَةِ وَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا بِحِجَارَةٍ وَمَا تَلَا

دری میں تجارت کرتا اور مطر نے کہا اس کا کوئی حرج نہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں عن کے ساتھ کیا ہے پھر پڑھا

وَتَرَى الْفَلَكَ مَوَازِينَ وَيَتَمَتَّعُونَ مِنْ فَضْلِ الْفَلَكَ الشُّقْنُ الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ

و تری الفلک الم وازینوں کو دیکھتا ہے اسے بھارتی بھی جانتے ہیں اور تاکم اس کے فضل سے طلب کردہ (محل ۱۱۶) و فلک شقن ان موزن اور بیع

مَسَاوٍ وَقَالَ مُجَاهِدٌ حَمَّزُ الشُّقْنِ الرَّيْحُ وَالْحَمَّزُ الرَّيْحُ مِنَ الشُّقْنِ إِلَّا الْفَلَكَ الْعِظَامُ

ہیں برابر ہے اور بجا ہے کہ نہیں کشتا ہوا کہ بھارتی ہیں اور جو کو صرف بڑی شقیان بھلا سکتی ہیں

۱۰۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ

ابو ہریرہ سے رسول اللہ صلعم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے

علا حضرت سونا چاندی یا روپیہ پوروں کے باہم تبادلہ کی تجارت کا نام ہے اور اول بیعت بآب کی طرح ہے صلعم بآب صلعم کے بعد کے بآبیں ابو المنہال کی روایت ہے کہ اس میں ہے کہ ابو المنہال کہتے ہیں یا ہر شریعت لی دارہم فی السوق نسیئة فقلت سبحان الله ایصلح هذا فقال سبحان الله والله لقد بعثتہا فی السوق فصاعده احدنا من البیوع من عازب یعنی ابو المنہال کے شریک نے بازار میں عیاد اور یہ فروخت کیا تو بیعہ اشتری کر کے عیاد اور روپیہ کی خرید و فروخت ٹھیک نہیں اس نے جواب دیا کہ بازار میں تو کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا تو میں نے اس بارہ میں براء بن عازب سے پوچھا براء بن مالک اور زید بن ارقم نے بھی اس کے عدم ہوا اور کا فتویٰ دیا کہ عیاد اور روپیہ کی خرید و فروخت درست نہیں ہے

کا اتفاق صرف حضرت عمر کے اس قول سے ہے یعنی یہ کہ وہ بازاروں میں خرید و فروخت کرتے تھے۔ مگر قرآن کریم میں سود سے فائدہ اٹھانے اور اس میں جواز کی تجارت کیلئے بہت سی باتیں ہیں مگر کہ الفلک التجویح الجواہر اور ابراہیم (۳۶) ومعنی ان کے التجویح الفلک فیہ باہرہ و التمتنا عن فضلہ (المجانہ ۱۴) و هو اللک صخر الجھولنا صخراتہ صخراتہ ما و تقطع حوامتہ احملیتہ الملسو ما و تری الفلک صوا خوفیۃ یتبتعون من فضلہ لک لک تجھو (الفضل ۱۳) عنوان میں تری میں کا لکڑہ ہے ساری چیزوں کو خریدنے انسان کے فائدہ کیلئے پیدا کیا ہے لیکن انسان غیر الہی کو شش کے ان سے نفع نہیں اٹھا سکتا۔

بني اسرائيل خير مني في البحر فقط حاجته وساق الحديث (۱۱) باب واذا ارادوا

تجارة او لقوا ان يقضوا اليها وقوله جل ذكره رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع

عن ذكر الله وقال قتادة كان القوم يجرون ولكنهم كانوا اذا انا بهم حق من

حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه الى الله

عن جابر مكرر (۵۵) (۱۲) باب قول الله تعالى الفقوا من

طيبات ما اسبغتم... عن عائشة مكرر (۶۵) (۱۰۲۸) عن ابي هريرة

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفقت المرأة امر كسبها وجها عن غير

امرها فله نصف اجره (۱۳) باب من احب البسط في التزقي (۱۰۲۹) عن ابن

ابن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سرنا السرنا

لذكره في اول كتابه في قوله فليصل حاكم (۱۴) باب تيسر النبي صلى الله عليه وسلم

بكره ما كان في عمره في يومه وشهره وداره من سلوك كره... باسناد صحيح

بكره ما كان في عمره في يومه وشهره وداره من سلوك كره... باسناد صحيح

بكره ما كان في عمره في يومه وشهره وداره من سلوك كره... باسناد صحيح

عبارت مفصل کتاب البیع ۳۲
بہلے باب میں ہے
اور کچھ تفصیلاً
۲۵۳ میں بھی لکھا
ہے
اس عنوان کی آیت
اور قتادہ کا قول
باب تجارتی البتر
میں لکھ چکے ہیں وہاں
صرف تجارت کرنے
کا عنوان تھا اور
یہاں لائے کا مقصد
یہ ہے کہ تجارت میں
خدا سے غافل نہ ہونا
معلوم ہے
اس عنوان کی آیت
لفظی سے روایت
کر دی گئی ہے
یہ ہے کہ تجارتی البتر
کے آجانے سے غفلت
صلح کے ساتھ صرف
بارہ آدمی نمازیں
رہ گئے اس پر
نوٹ ۲۸ صفحہ ۲۸
پر لکھ چکے ہیں جو

یوں وہاں لکھا گیا ہے اس کی تائید خود امام بخاری کے اسی عنوان باب سے ہوتی ہے کیوں کہ عنوان باب میں آیت اذا ارادوا تجارۃ کے ساتھ ہی دوسری آیت
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله امام بخاری لائے ہیں جس میں صحابی کی تعریف موجود ہے کہ انہیں تجارت اور خرید و فروخت ذکر اللہ
سے غافل نہیں کرتی اور ایک قول قتادہ کا لائے ہیں کہ وہ لوگ تجارت کو کرتے تھے لیکن جیسا اللہ کا حق سامنے آجاتا تو تجارت اور خرید و فروخت
انہیں اس حق کے ادا کرنے سے غافل نہ کرتی تھی اور یہی شہادت تاریخ کی ہے۔ قرآن کریم کی آیت اور قتادہ کے قول کو لانے سے امام بخاری کا اپنا
مشاور معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث انہوں نے روایت کی اصول سے صحیح کر دی ہے مگر روایت کے اصول سے یہ صحیح نہیں کہ صرف بارہ آدمی ہی میں لکھے ہوئے
اور اس کے خلاف تلاہم تجارت سورہ نوئی کی آیت اور قتادہ کا قول موجود ہیں آیت اذا ارادوا تجارة جیسا کہ حدیث ۲۵۵ پر بحث میں گذر چکا ہے فقہین کے
متعلق ہے۔ مگر ایک ہی اور توجیہ ہو سکتی ہے کہ جو تجارتی البتر کے آجانے کے لوگوں کو دیر ہو گئی ہو اور اول وقت پر بہت لوگ بیٹھے ہوں جیسا کہ حدیث ۲۵۹
نوٹ بیچ اور الفاظ و معنی اس توجیہ کے خلاف نہیں اس لئے کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس وقت میں تھا اور کچھ لوگ بھی رسول اللہ صلعم
کے ساتھ مسجد میں تھے۔ اسلاف فقہاء میں طیبات ما کسبتہم لکھو اب حدیث التجارۃ ۴۲ کے اور بھی لکھے ہیں وہاں بظاہر طیبات ما کسبتہم
تجارت کا مل مراد لیا ہے۔ جو مجاہد کی تفسیر ہے اسی کو یہاں لکھنا جس کی طرف توجہ دلائی ہے جب تک انسان کیا نہ لگائے اور اللہ کا حق نہیں سمجھتی کہ انسان
کس کا لفظ صحیح ہے مزدوری اور ملازمت وغیرہ میں اس میں لگاتے ہیں مگر کسب تجارت ہی ہے۔ یہ لکھ کر روایت کی لفظ ۴۵ کے ہیں تو اس کے
کہ نہ وجہ کے بعد اجروہ کا لفظ یہاں نہیں۔ علیٰ معنی خرچ کرنے کا لفظ ہے جو یہی کہ اور نصف ظن کو جو مطلب ہی ہے کہ وہ لکھ کر ایسا جرم تھا ہے۔ بعض انسان
کی بیعتی کی ابتدا رشتہ داروں سے ہوں لوگ سے ہی ہوتی ہے اور پہلے صحیح ہی ہوتے ہیں یہیں سے انسان کے فلاح میں مستعد پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ
تعالیٰ کی ساری مخلوق کو نفع پہنچانے کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ قرآن کریم بھی اس لفظ سے بھرا ہوا ہے۔

لا بأس ببيع بغير علم
ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
شترى طفا مامن
یہودی الی اجل
درھنہ درعامن
حدید
عند ابی سعید
قال غررہم
مسلم کے پاس گھر
من ایک صاع غنم
بالتیوں کو کھج نہ
رہنا اور آپ اپنے
گرووں کے گزرا
کے لئے زور نہیں رکھ
کر ایک یہودی سے
غرض لیسا اس زمانہ
کی بات ہے جب
آپ کے پاس نہ
یہویوں میں جیسا
کہ حدیث میں ہے
موجود ہے اور یہ
شتر بخاری اور
اس کے بعد کا زمانہ
ہے جب آپ بلقناہ
عرب تھے جب
آپ کے پاس زور
دور سے نہ تھی
بڑی بڑی زمینیں
آتی تھیں جب
آپ کے پاس تھا

بِالتَّيْبَةِ (م- ۹۰۱) عَنْ عَائِشَةَ (متكرر- ۱۰۳۰) (۱۰۳۰) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

دیکھو حدیث ۱۰۳۰ م شرح سے روایت ہے کہ وہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شَعْبٍ قُرَاهَالَةَ سَمِيحَةٍ وَقَدَّرَ هُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا
جی سلم کے پاس جو روٹی اور مایا جی نے کئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زور

لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَهُ لَوْدِي وَأَخَذَ مِنْهُ شَعْبٌ مِنَ الْأَهْلِ وَقَدْ سَمِعَتْهُ يَقُولُ مَا أَمْسَى
مدینہ میں ایک یہودی کے پاس زمین رکھی اور اس سے اپنے گھروں کے کچھ جوڑے اور اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرماتے کہ

عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعٌ بَزْرٍ وَوَلَا صَاعٌ حَبِيبٍ وَإِنْ عِنْدَهُ لَتَسْمَعُ
جی سلم کے گھروں کے پاس گھوں یا غنم کا ایک صاع شام تک نہیں رہا اور آپ کے پاس زور نہیں

نِسْوَةٌ (۱۵) بَابُ كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بَيْدَةً (۱۰۳۱) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا
تھیں م باب آدمی کا کمانی کرنا اور اپنے ہاتھ سے کام کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب

اسْتَحْلَفَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ قَالَ لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنْ جِرْفَتِي لَوْ تَكُنْ تَحْزَنُ عَنْ مَوْتِي
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری قوم جانتی ہے کہ میرا پیٹھیرے گھروں کے معاش سے عاجز نہیں اور آپ میں

أَهْلِي وَسَعِدْتُ بِأَهْلِ الْمَسْأَلِينَ فَمَسَاكِلُ آلِ أَبِي بَكْرٍ هَذَا الْمَالُ مِثْرَةٌ لِلْمَسْكِينِ بَرِيضَةٍ
مسکینوں کا کام میں نہیں ہو گیا ہوں اور لو کہ گھر میں اس میں سے کھا جائے گا وہ ان مسکینوں کا فائدہ ہے کہ ان کو ہر ماہ دیکھا جا

(م- ۹۰۲) عَنْ عَائِشَةَ (متكرر- ۵۳۵) (۱۰۳۲) عَنْ لُقْمَانَ بْنِ رِطَابٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
دیکھو حدیث ۵۳۵ م مقدم رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ
سے روایت کرتا ہے آپ نے فرمایا کوئی شخص اس سے بہتر کھا تا نہیں کھا تا جو اپنے ہاتھ کی مشقت سے کھائے

بِيَدِهِ وَإِنْ تَعَى اللَّهُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِهِ (م- ۱۹۰۲) عَنْ أَبِي
اور داؤد نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی مشقت سے کھا کرتے تھے

هَرِيرَةً (متكرر- ۱۰۳۲) (۱۰۳۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر- ۹۰) (۱۶) بَابُ السَّهْوَةِ
دیکھو حدیث ۱۰۳۲ م دیکھو حدیث ۹۰ م باب السہوتہ

بَابُ السَّهْوَةِ

تجارت کی وجہ سے مالدار تھے اگر آپ کا اشارہ بھی ہوتا تو یہ لوگ اپنے مال دولت آپ کی خدمت میں لاوا کرتے مگر اس قدر دنیا سے بے غوری ہے کہ قبضہ تھا
کے ساتھ تعلق ہے کہ اس حالت میں بھی اپنے گھر میں ہی بی بی غربت کی حالت کو قائم رکھا۔ بادشاہ ہو کر یہ جو نہ دکھانا اعلیٰ سے اعلیٰ زہد کا مقام ہے دنیا سے کنارہ کش ہوجانا
والے کے زہد کو اس سے کوئی نسبت ہی نہیں اور وہ وہاں گھر میں ہوتے ہوئے یہ حالت بتاتی ہے کہ آپ نے ان بیویوں سے اپنے منظر نفس کیلئے شادی نہیں کی بلکہ کئی بیوی
کے کھانڈے یا اور جوہر کی ۔ اس میں حدیث کی روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوشیاری کے تو صحیح تجارت کے پیشہ دیکر بازار کو روانہ ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا
جب آپ مسلمانوں کے حاکم ہو گئے ہیں تو تجارت کس طرح کر سکتے ہیں فرمایا: اپنے عیال کو کہاں سے کھلاؤں گا تو انھوں نے آپ کے لئے ولیفہ مقرر کر دیا یہاں جو بات
حضرت ابو بکر کی طرف منسوب ہے وہ اس کے بعد کی معلوم ہوتی ہے۔ بخت و نفع اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منی یعنی لوگوں کے ہیں بلکہ ایک مسلمانوں کو مال تجارت کے عرفان
رہ گیا لیکن اگر ان کو یہ فرصت ہوتی تو وہ اپنی تجارت کو ہی لیں جاری نہ کھتے لیکن ان کے لئے اس کا مطلب ہے۔ نظریہ فی اصولہم یعنی ان کے امور کے متعلق کسی ایک کے ہاتھ نہ لگا کر
روایت پر کسی بیسی ہے کہ ان صاحبکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللعالمین رحمت اللعالمین ہوا اختلاف ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے
محنت اور دوسری اور قسم کی مشقت کو کس قدر یا عزت سمجھا ہے۔ جو لوگ دوسرے کی خدمت میں لیا کر گزارتے تھے ان کو بھلا یا ایسا اور کبھی ستر نہیں آتا اپنے
ہاتھ سے کمائے ہیں انسان میں خودداری پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ گھر میں کہہ سکتا ہے لیکن جو شخص دوسرے کی خدمت میں ہے اس میں کبھی کوئی خوبی پیدا نہیں ہو سکتی
پیر اور ملا سہی لئے اخلاقاً اگر گئے ہیں اور اس قابل نہیں کہ وہ ان کو فی ذاتی کریں۔ مگر یہ روایت میں ہے کہ ان کو دوسرے کے لئے لفاظیاں اور ان کو دیکھنا
کمان نہ لاکھا کہ عمل پیدا ہے۔ مگر یہ روایت کے لفظ اور جی لان بختہ احد کم حیرتہ علی ظہرہ خیرین ان مال احد اذ فی عطیہ او عند اس کے بعد روایت
اور میں العلوم نے ۹۰ کا شروع کا صرف انشا ظہرہ لا ہے میں لان یا اخذا احد کجبلہ

وَالْتِمَاحَةَ فِي الشَّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَمَنْ كَلَبَ حَقًّا فَلْيُطْلَبْ فِي عَقَابٍ (۱۰۳۲) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ذَرِيحٍ وَخَتِمْ يَمْزِيهِمْ فِي شَرِّ مَا كُنُوا يَفْعَلُونَ

ابن عبد اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رحمہ اللہ رجلا سحبا اذا باع

وإذا اشتري إذا اقتضى (۱۰۳۱) باب من انظر مؤسرا قال ابن عباس

قال قال للبيهي صلى الله عليه وسلم تلقى الملكة من رجل فن كان قبلكم قالوا

انك من الخبيثين قال كنت امرؤ فتباني ان ينظروا ويخاوموا عرا مؤسرا قال

فتبوا وراعتهم وفي رواية كنت ابيع على مؤسرا وانظر المعسر وفي رواية انظر

المؤسرا وانجاؤك عن المعسر وفي رواية فاقبل من المؤسرا وانجاؤك عن المعسر (۱۰۳۰)

من انظر معسرا (۱۰۲۹) عن ابن عمر (۱۰۲۸) باب ما ذاب بين البيعان

واعيبتا وتصحاويدا عن ابي عبد الله قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم

هذا ما اشترى محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من ابي عبد الله بن خنيس

المسلم لمساك لاداء ولا خيطة ولا خايلة وقال قتادة العائلة الزنا والسرة

ولا باق وقيل لا يترهيم ان يعرض الثغاسين لبيبي ابري حراسان وسجستان

فيقول جاء امس من حراسان جاء اليوم من سجستان فكرهه كراهية

شديدة وقال عقب بن عامر لا يحل لامرئ ان يبيع سلعة يعلم ان

بها داء الا اخبره (۱۰۳۰) عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم

الله حكيم وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا فان

كرد وخرید و فروخت کر خوانوں کو جب تک الگ ہو جائیں اختیار ہی یا فرمایا یہاں تک کہ الگ ہو جائیں یہ اگر

ہو تو اسے فروخت نہ کیا جائے سوائے اس کے کہ وہ عیب خریدار پر ظاہر کر دیا جائے اور یا جب معاملہ میں اس قدر صفائی پیدا ہو جائے تو اسنادوں کے باہمی اتفاق سے بیعت ہو جائے اور یا جب

کوکا ایک جنت بنا سکتے ہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ من مملک کابل کس قدر اعلیٰ اور نیک جنتی ہے اور ان تمام اہل بیت کے بیعتان یاد دہیں بیچنے والا اور (باقی پر ص ۲۵۶)

عنوان پر روایت
تدریجی روایت
مرفوع حدیث ہے
جس کا مطلب یہ
ہے کہ اگر بیعت
طرح کی جائے کہ
کی دل شکنی یا
نہ ہو اور سخت
کاھی سے اجتناب
بلکہ اپنا حق مانگنے
وقت ہی دوسروں
پر اپنا اختلافی اثر
ڈالنے اور تکلفی
پوشا ملنے سے بیعت
کرنے سے
مسائل اور کج
دینی یا اسے سہولت
دینا یا بیعت قلب
کیا جاتا ہے اور
بیعت کج و کج
دینے کا تو حکم ہے
نظر الیہ صبر
ذہبی معاملات میں
اعلیٰ درجہ کے اختلاف
کی تعلیم محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے
دی ہے
مسئلہ روایت
کے لفظ اور بیعت
تاج ایدین القاسم
فاذا اذی معسرا
قال لعنتا انجاؤنا
بناہ الہ اللہ ان
یتجاو وعتنا اوت
اللہ عنہ یمان
موسر یعنی مالدار کا
ذکر نہیں بلکہ معسر
یا تلک مست کا
ذکر ہے
مسئلہ دنیا کے کاروبار
میں کس قدر اختلافی
تعلیم ہے اگر کسی
بیعت میں عیب کا علی

وَكَاتِبَهُ وَقَوْلُهُ تَعَالَى الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِي

اور اس کا لفظ والا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوئے مگر اس طرح جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے

يَكْبُطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحْلَلَتِ اللَّهُ الْبَيْعَ

شیطان نے پھوڑ کر بکھا دیا ہو یہ اس لئے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خرید و فروخت بھی خریدی کی طرح ہے حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور

وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَكَ مِنْهُمْ فَخُذْ مِنْهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ مُؤْتَادًا وَابْتَاعْ لَمْ يَكُن مَأْخُذًا وَلَا يَكْفُرُ بِكَ اللَّهُ فَمَا لِي أَخَذَ

موت کو عام کیا ہو سو جس کی اس نے دیکھی ہے اس سے لے کر اس کے لئے جو گذشتہ کا معاملہ تھا اور اس کا معاملہ اللہ کے پروردگار سے اور جو پھر

عَادًا قَوْلُكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (۹۰۸) عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَرِّرًا) (۳۲۲)

یہ لے کر اس میں وہی آگ و اسے اس میں وہی آگ دیکھو حدیث (۲۷۸) (۳۲۲)

عَنْ سَمُرَةَ بِنْتِ جُنْدَبٍ (مُتَكَرِّرًا) (۴۳۲) (۲۵) بَابُ مَوْكِلِ الرِّبَا وَقَوْلُهُ تَعَالَى

باب سود کھانے والے کا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ

فرمائے کہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقویٰ کرو اور جو سود سے باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو جب تم مومن ہو پھر اگر تم نے

تَفَعَّلُوا فَاذْهَبُوا وَتَسْمِعُونَ لِلَّهِ فِي سُلُوكِكُمْ وَأَنَّ كُفْرَكُمْ كَرِهَ اللَّهُ لِقَوْمٍ أُولَئِكَ لَظَالِمُونَ

ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رخصت ہو جائو اور اگر تم کو توہمہ لگے تمہارے اصل مال میں نہ تم نقصان پہنچاؤ

وَلَا تَظْلَمُونَ وَإِن كَانَ دُونَهُ مَسْرُوفٌ فَلِمَا لَمْ يَسْرُفْ وَإِن تَصَدَّقْتُمْ فَخَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ

اور نہ تمہیں نقصان پہنچا جائے اور اگر سفر میں خرچہ کرو تو اس میں تمہاری دولت نہیں ہوتا اور اگر تم نے خرچہ نہ کیا تو تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ

جانا اور اس دن سے ایسا کیا جو تمہیں میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر تمہیں کما حقہ سے کما یا ہے پورا کر دیا جائے گا

وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذِهِ آخِرُ آيَةِ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اور انہیں نقصان نہیں پہنچا یا جائیگا (البقرہ - ۲۸۸ تا ۲۸۱) ابن عباس کہتے ہیں یہ آیت ہے جو نبی صلعم پر اتاری ہے

وَسَلَّمَ رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

عون بن ابی جعفر سے روایت ہے کہ میں نے اپنے باپ کو دیکھا کہ ایک جام غلام کو خریدتا تو میں نے اسے

فَقَالَ نَحْيُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الثَّغْرِ لَمَّا سَأَلَ عَنْ الرِّبَا

یہ چھوڑو تو کا نبی صلعم نے

مازہ باب کی نظر
میں میں نہایت
قرآنی میں کتابت کا
دیگر کا ذکر ہے
صرف سود حرام کا
ذکر ہے
یہاں روایت
مقرر ہے حدیث
انزال البقرہ قرآن
النبی صلعم علیہم
والصالحین
التي اتقوا في الخمر
۳۲۲ میں فی الربوا
کی تصریح ہے
یہاں جواب کا
صرف وہ نظر بیان
کہا ہے جو میں سود
خوار کا ذکر ہے
رأيت اللیلۃ رجلین
ایٹیا فی فاجر جانی
الی امر من قبل
فاظلمتا حتى اذینتا
علی بن عمر سے
آگے تو خوار کی کتاب
کا تقریباً نہیں الفاظ
میں ذکر ہے اللہ
یہاں ہی صلعم کے
فقلت ما هذا
ساتھی جواب ہے
کہ فقال الذی
ما رایت فی التہراکل
الربوا
مکہ یعنی آیت ۲۸۱
والقوام ما ترون
کلیہ سے انزال

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

وَمِنْهَا الصَّدَقَةُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كَلَّ كَفَّارَاتِهِمْ ۚ (بخاری ۲۵۸) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ

ابو سعید کہ جھاننا ہے اور اس میں ناکھ کھڑے اور پتوں میں کڑا (بقیہ ۲۵۷) اور یہی وہ روایت ہے جو کہ میں نے سوائے

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِحَلْفٍ مُنْقَلَعَةٍ لَسْتُ لَعْنَةً مُحَقَّاتَةً لِلْبَرَكَةِ (۲۵۷)

صلعم کو سنتا دیا یا قسم کھانے سے مان رک جاتا ہے (بخاری ۲۵۷) کہ میں نے سوائے

بَاب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحَلْفِ فِي التَّبَعِ (۲۵۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّ

باب خرید و فروخت میں قسم کھانا یا پسند امر ہے عبادہ بن ابی اوفی سے روایت ہے کہ ایک

رَجُلًا قَامَ سَاعَةً وَهُوَ فِي الشُّوقِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ رَهْمًا أَمْ لَمْ يُعْطِ لِيُوقِعْ

شخص نے اپنا سامان بازار میں رکھا اور غمزدگی قسم کھانی کہ مجھے اتنی قیمت ملتی ہے جو اسے ملتی رہی تاکہ کسی

فِيهَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَأَزَلَّتْ إِيَّانَ الَّذِينَ يَشَارُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ أَيْمَانُهُمْ مِمَّا

مسلمان آدمی کو کھڑے تو اسے اتنی ان لوگوں کے عہدوں کے عہدوں میں سے جو اسے ملتی رہی قیمت لینے سے ان لوگوں

قَالُوا (۲۵۸) بَاب مَا قِيلَ فِي الصَّوَابِ وَقَالَ طَاوُسٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَقِيتُ

باب جو سزا کے متعلق کہا گیا ہے اور طاووس نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحِبُّ خَلْعَهَا وَقَالَ لِكَيْسَ سَلَاةُ الْأَذْرَقِ لِقَبْرِهِمْ وَيُؤْتَمُّ إِلَّا الْأَذْرَقِ

صلعم نے فرمایا کہ کھانے کی لباس نہ کاف جہاد حضرت عباس سے خود کیا سونے انفر کے کو وہاں کے لوگوں کو کہوں کہ ان کی پوزوں کے انفر کے

(۲۵۹) عَنْ مَسْعُودَةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا قَالَتْ لَقِيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ

سین میں علی سے روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے کہا میرے عصمت کے صفحے میں سے میرا ایک اور ٹھکانا

مِنْ لَقَائِهِمْ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَانِي شَارِقًا مِنَ الْخَمْسِ فَلَمَّا ارْتَدْتُ

اور ایک اور ٹھکانا مجھ کو نبی صلعم نے جس سے دیا تھا جب میں نے حضرت زلمہ

أَنْ أَبْتَدِي بِهَا طَرَفَ عَيْنِي بِالسَّلَامِ مَبْدُئِ سَوْءِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْدَتْ حَلَا

سیدھا اس نام رسول اللہ کی صاحبزادی کو گھر لانا چاہتا تھا تو میں نے نبی قیصاص کے

صَوَابًا مِنْ بَنِي قَيْنِقَاءَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِيَ فَتَأْتِي بِأَذْرَقِ الْأُيُوعِ مِنَ الْبَنِي عَابِدِ بْنِ

ایک سارے اقربا کو وہ میرے ساتھ چلے تاکہ تم انفر میں جا رہا تھا کہ اسے سناؤں کے ساتھ حج دوں

وَأَسْتَعِينُ بِرَبِّي وَإِلَيْهِ رُجُوعِي (۲۵۹) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر - ۹۷)

اور نبی شادی کے وقت میں اس سے ملنے کوں علی دیکھو حدیث ۹۷

سکتے کہ حضرت صلعم کی نماز مبارک سے بعد یہ لفظ نکلتا تھا کہ اس لفظ کو ابی عمیر نے بھی قبول نہیں کیا اور جب اس پر ذمہ لگائی جائے تو کیوں

یہی قید نہ لگائی جائے کہ ایسا قصور نہ جائے والا جو پرستش کے لئے قصوریں بنا کرے کہ وہ شرک کھیلانے میں معاون ہوتا ہے اسی طرح تکلیب یا حق قصوریں بنانا

جو سکتا ہے کیونکہ یہ بجائے خود ایک محبوب نسل ہے (نوٹ صحنہ بندا) اور خود کے رویہ کا بے برکت ہونا ایک تو یہ ہے کہ وہ اکثر بے ضرورت جھگوں

کے ذریعہ سے نسل انسانی اور ملک کی تباہی پر مجبور ہوتا ہے دو سارے کہ جن آدمی مالدار ہو کر فی اکثر نفس اور زار ہوجاتا ہے میں دیکھا ہے ابی مہدی سے

حدیث کے ہیں ان الربواہان کثوفان عاقبتہ نصیبہ لای قریب تبصر یہ کہ سو ذرا تمونا لوگوں کی نظروں میں جو بے میں ہوتا صدقات اور نیکو کامی کامی غرامی

جبرگیری پر مجبور ہو کر قوم کے لئے نہایت مفید نیکو پیدا کرتا ہے (متل بیزین فروخت کرنے والوں کی اشراعات ہے کہ شمس کھا کر کایک کو بیگانہ لاتے ہیں

اس سے نیکو - اس وقت تو سامان یک با ایک کمر جب لوگوں کو تیرنگ ہا بیٹکا تو کایا کم ہوجائے گی اور بجز کئی پیدا ہوگی (متل جوئی قصور سال کی قیمت

بقیہ صفحہ ۲۵۷

اس کے فروخت کے

کا سے حق مال ہے

ہو سکا کہ بعض احادیث

میں آتا ہے نبی صلعم نے

کسی وقت کتوں کے

ماتے کا حکم دیا تھا

اور اس کی وہ امر انکی

ایذا رسانی ہوئی اسی

موقعہ کے ضمن میں شاید

یہ حکم جو اسی طرح

کوئی نیکو دانتے کا حکم

ہے جس کی عرض فرماتا

اس قدر معلوم ہوتی

ہے کہ زانیہ عورتوں میں

ایسے کام کر کے اور

یہی زینت کا اظہار

کر کے زنا کی طرف

بلاتی تھیں اور قصور

بنانے والے سے

بھی اگر یہ ایک تصویر

بنانے سے وہ مراد آیا

جائے تو درخت کو

یا دریا پر چھوڑی

تصویر اسی حکم میں

آئے تھی حالانکہ جو ان

چیزوں کی تصویروں

کی اس سے چھپنے کیا

ب

ب

ب

ب

ابن ابی بکرؓ ۱۰۳۰ (۱۰۳۰) باب شراک الدقائب

وَالْحَبْرُ وَإِذَا اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ مَمْلُوكًا وَهُوَ عَلَيْهِ يَهْلُ بِيَوْمٍ ذِي الْقَعْدِ قَبْضًا قَبْلَ أَنْ يَنْتَهَلَ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اشْتَرَى مَرْءٌ مِمَّنْ يَهْلُ بِيَوْمٍ ذِي الْقَعْدِ قَبْضًا قَبْلَ أَنْ يَنْتَهَلَ

۱۰۳۱ (۱۰۳۱) جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ

فَأَبْطَأَ ابْنِي حَمَلِي وَأَعْيَا فَأَلَى عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ جَابِرُ فَقُلْتُ لِمَ قَالَ مَا

شَأْنُكَ قُلْتُ أَبْطَأَ حَمَلِي وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ فَزَلَّ جَنَدٌ مِنْ جُنْدِ النَّبِيِّ فَقَالَ أَرَأَيْتَ كَيْفَ قُلْنَا

سَرَأَيْتُمَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَوْنَهُمَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بَكَرًا مُشَبَّهًا

فَلْتُ بَلْ نَبِيًّا قَالَ أَلَا لَجَارِيَتِي تَأْكُلُ مِنْهَا وَتَأْكُلُ مِنْ عَجَلِكَ قُلْتُ إِنْ لِي أَخْوَابٌ فَأَجِيبْتِ أَنْ

أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً بِمَنْ تَشَاءِينَ وَتَقْوَمُ عَلَيْهِنَّ قَالَ أَلَا إِنَّكَ قَادِمٌ وَإِذَا أَقْبَمْتِ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ نَعَمْ فَاشْتَرَى مِمَّنْ يَهْلُ بِيَوْمٍ ذِي الْقَعْدِ قَبْضًا قَبْلَ أَنْ يَنْتَهَلَ

عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ قَالَ لَأَنْ قَدِمْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ قَدِمْتِ وَأَدْخَلْتِ فَصَلَّ

میں لایا ہے کہ جس طرح تجارت ایک ستر پیشہ سے چینی غرضیات کو خریدنے میں بھی کوئی ذلت نہیں ہوسکتی بہت لوگوں نے سمجھا ہے اس کے الفاظ تقریباً ۹۰۱ میں من حدیث یہاں نہیں ہے من حدیث جابر کا قبضہ صرف اس سے ہو سکتا ہے کہ بائع کی طرف سے خریدی ہوئی چیز قبضہ کرنے میں کوئی روکا اور عند زہد یا خریدار کا اس میں کوئی تصرف گونا گویا ضروری ہے بظاہر امام بخاری کا مشابہ معلوم ہوتا ہے کہ شتر کی محافظہ کرنا خریدی ہوئی چیز قبضہ کرنے کے لئے ضروری نہیں ہے اور جابر کی حدیث میں اس کی موید ہے صحیح کے اوٹش پر ان میں سوار تھے ہر شخص صلح نے اسے خرید کر بغیر اپنے کسی تصرفت ابن عمر کو یہ کہ دیا اور جابر

ابن کا اونٹ خریدادہ اس پر سوار تھے اور وہ یہ پہنچ کر ہی کہہ کر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسے حاضر کر دیا آپ نے یہ کہہ کر اپنے تصرف کے اونٹ اسے نہ کہ دیا پس معلوم ہوا کہ یہ کہنے سے پہلے یہ کامل ہو گئی تھی اس کی مزید تفصیل ۱۰۳۱ میں آئے گی یہ غزوہ ذات الرقاع تھا کہ کس کے میں عقل اور سمجھوں بعض شراہ میں نے کہا ہے کہ یہاں بیٹے کی طلب کو عقل کہا ہے یہ بلا وجہ سے منہ بنا نا ہے ایک طرف ہنسی میں دوسری طرف نئی شادی۔ تندوں کے ساتھ چمکے ہوئے ہیں نصیحتوں کی ہے کہ عقل مندی سے کام لیتا نا کہ گھر میں فساد نہ ہو یا خواجہات کو کم کرنے کی طرف اشارہ ہے اور ان کے زیادہ خواجہات کی دہر سے ہی آپ نے ان کو اونٹ بھیج دیا اور خریدتے ہی سے دی ۱۰۳۱

(۴۹) بَاب مَا ذُكِرَ فِي الْأَسْوَاقِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لَمَّا قَدِمْنَا

باب جو بازاروں کے بارے میں ذکر کیا ہے اور عمار بن یونس نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے

الْمَدِينَةَ قَالَتْ هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهَا تِجَارَةٌ قَالَ سُوْقٌ قَيْنَاهُ عَوْفٌ قَالَ

دوہم نے کہا کیا کوئی بازار ہے جس میں تجارت ہو اسکا قبضہ کا بازار ہے اور اس نے کہا ہوا

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى السُّوقِ وَقَالَ عُمَرُ الْهَلْبَانِيُّ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ (۱۰۵۲) عَنْ

عمار بن یونس نے کہا مجھے بازار بتاؤ اور حضرت عمر نے فرمایا میں بازاروں میں خرید و فروخت کا معاملہ لکھا حضرت

عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْرُؤُا جَيْشُ الْكُفَّةِ فَإِذَا

حاشیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لشکر کعبہ پر چڑھائی کرے گا جب

كَانُوا ابْتِدَاءً مِنْ الْأَرْضِ يُخَسَّفُ بِأَوْلِيهِمْ وَأَخْرِهِمْ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

پہلے ان زمین پر پہنچیں گے تو اول سے لیکر آخر تک ہتھیار نہیں لگے گا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

كَيْفَ يُخَسَّفُ بِأَوْلِيهِمْ وَأَخْرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ قَالُوا خَسَفَ بِأَوْلِيهِمْ

دوسرے بائیں گے مگر ان میں بازار کے لوگ بھی ہوں گے اور وہ بھی جو ان میں سے نہیں ہیں تو ان سے لیکر آخر تک

وَأَخْرِهِمْ ثُمَّ يَبْعَثُونَ عَلَى نِيَابَتِهِمْ (۱۰۵۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر - ۳۳۳)

سب سے پہلے بائیں گے پھر بائیں بیچوں کے کو حق رکھنے والے بائیں گے دیکھو حدیث ۳۳۳

(۱۰۵۵) عَنْ أَبِي كَسْبٍ قَالَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّوقِ

ابن کعب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تھے

فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا الْقَيْسِ وَاللَّهِ لَيَبِيحُ لِي فِي سِلْعِي سِتْرٌ فَقَالَ الرَّجُلُ عَوْتُ

تو ایک شخص نے کہا اے ابوالقاسم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا میں نے اس

هَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا سَلْمَى وَلَا تَكُنِّي أَبَتِي (۱۰۵۴) عَنْ

دوہم سے کہا کہ وا زدی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو اور میری کنیت نہ رکھو

أَبِي رَمْتِكْر (۱۰۵۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيُّ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

دیکھو حدیث ۱۰۵۵ ابو ہریرہ دوہم سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی وقت دن

وَسَلَّمَ فِي طَائِفَةِ الْهَلْبَانِيِّينَ وَلَا أَكَلِمَةٍ حَتَّىٰ آتَى السُّوقَ فَبَقِيَ جُلُوسًا بِسَفْحِ بَيْتِ

میں لگا ہوا ہے مجھ سے سات لوگوں نے اپنے ہاتھ لیاں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازار میں آئے اور حضرت

طَائِفَةٌ فَقَالَ لَكُمْ أَنْتُمْ لَكُمْ خَيْرٌ مِنْ شَيْءٍ أَظَنَنْتُمْ أَنَّهَا لَيْسَ بِسِعْيِ أَبِي أَوْ تَعْسَلُ مَا

طائفہ کے گھر کے من میں بیٹھے اور فرمایا کیا یہاں سے حضرت فاطمہ نے تم کو خریدنے کے لئے تمہارا مال لیا ہے تمہارے

فَجَاءَ يُسْتَلَدُ حَتَّىٰ عَانَقَهُ وَقَبَّلَهُ وَقَالَ اللَّهُمَّ أَحِبِّبْهُ وَأَحِبِّ مَنْ يَحِبُّهُ (۱۰۵۶)

تو آپ جاسے تھلا رہی تھی مجھ کو دوڑتا ہوا آیا اور کہتا ہے مجھے لگا اور اسے پورے پورے فرمایا اور انہوں نے اسے محبت سے گھیر لیا اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَأْذِنُونَ الطَّعَامَ مِنَ الزُّكَّانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ابن عمر سے روایت ہے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دوسروں سے کھانے سے غلامی نہ کرتے تھے

وَمَنْ قَبِعَتْ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبْدِعُوا حَيْثُ افْتَدَوْا حَتَّىٰ يَقُولُوا حَيْثُ

اور حضرت عمار بن یونس نے کہا کہ اس کی وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے غلامی نہ کرتے تھے اور وہ کھانے سے غلامی نہ کرتے تھے

يُبَاعُ الطَّعَامُ قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جہاں غذا بکائی جائے وہاں سے ان کے خریدنے سے انہوں نے منع فرمایا ہے

طائفہ میں بازار
ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے لئے نہیں آئے
ان کا مقصد صرف
تجارت ہے
علا کر روایت کا
مضمون چھوڑے
قرن سے ۳۳۳
یہ روایت کا اصل
کے بعد براہ راست
لائے ہیں ان الفاظ
اور حتیٰ بعد صل
المسجد اذ داخل
المسجد کان فی
صلوة ما کانت
تخمس میل میں
جہاں ہے احد کہ
فی صلوة ما کانت
الصلوة تخمس
اور اللہ اعلم لہ
کے بجائے یہاں
اللہ صل علیہ
اس حدیث کا ابتداء
میں صلوة فی سورۃ
کا ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بازار میں آئے اور
سب سے پہلے حضور
بات ہے کہ حضرت
میں کہنا شروع
کا ذکر ہے جس میں
کا ہے
علا حضرت صلعم
کے ساتھ ہوئے
اور لوگ کہتا ہے کہ
کنیت لکھا کرتے
تھے نسبتاً کو دور
کرتے تھے آپ نے
فرمایا کہ میری کنیت
نہ رکھیں حضرت
کو دور رکھیں لے
ایک فقہی روایت میں
علا معمولی اختلاف
سے جو ہر ایک کے
ابتداء میں ہوئی ہے
فعلان لا یختم

أَنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ إِذَا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ رَوَاهُ بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّنْبِيءِ فِي

کتاب البیوع کرم کر کے بیجا جائے یہاں تک کہ اسے قبضہ نہ آئے بلکہ بابت بازار میں شکر کرنے کی کراہیت

الشُّوْقِ (۵۸۰) عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ لَقِيْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ

عطاء بن یسار سے روایت ہے کہ میں عبد اللہ بن عمرو بن عاص سے

قُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّوْبَةِ قَالَ أَجَلٌ

میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت سے جو تورات میں ہے حدود اس نے کہا یہاں

وَاللَّهُ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوْبَةِ بِمَعْضُوفٍ فِي الْقُرْآنِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ

اللہ کی قسم تورات میں آپ کی تعریف ان ایصال مغفرت سے ہوئی ہے اور قرآن میں ہے اے نبی ہم نے تجھے پیشرو بنا کر بھیجا ہے

شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَمَنْ يُؤْمِرُ بِالْإِسْلَامِ فَقَدْ هَدَىٰ رَسُوْلِي مِمَّا يَكْفُرُ النَّاسُ بِأَشْيَاءِ

اور جو خبری چیزیں والا اور نذیر اور موعظ اور ان کے پیروں کا موعظ اور تیسرا نذیر اور میرا رسول ہے میں نے تیرا نام متوکل رکھا

يَقُولُونَ لَا غِلْظَ وَلَا مَغْلَبَةَ أَتَىٰ الْأَسْوَاقَ وَلَا يُدْفِعُ رِجْلَهُ بِالْحَيْثُورِ وَلَا يَكْفُرُ

وہ سخت گواہ اور سخت دل نہیں اور نہ ہلاکوں میں خود نماز اور نہ ہے اور اس کی بیادعت ہل سے نہیں کرتا بلکہ زور اور ہوش سے

وَيَعْفِرُ وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّىٰ يَقْبِضَ بِهِ إِلَهًا أَوْ جَاءَ بِيَانٍ يَقُولُونَ إِلَّا إِلَهًا إِلَّا اللَّهُ وَ

کام لیتا ہے اور اسے آپ کو نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ آپ کے ذریعے سے جیسے وہین کو سب بھگا کر اسے اس طرح کو وہ لا الہ الا اللہ کے قائل

يَقْتَرِبُ مِنْهَا عَيْنًا مَّمِيًّا وَإِذَا نَاصَبًا وَقُلُوبًا مَلْفًا عَلَفَ كُلَّ شَيْءٍ فِي غَلَا وَسَيْدًا عَظْفًا

ہو جائے اور اس کے ذریعے اندھے کو بھی نہیں اور اسے کان کو نہیں اور وہین کے گلوں پر جسے میں نے کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی اسے

وَكُفْرًا عَظْفًا وَرَجُلًا عَظْفًا إِذَا مَرَّ بِكَ إِذَا مَرَّ بِكَ إِذَا مَرَّ بِكَ إِذَا مَرَّ بِكَ إِذَا مَرَّ بِكَ

جو غلاف میں ہو تو غلاف ماری اور کمان ماری اور جل اٹل وہ ہر جگہ فتنہ نہ ہوا ہو۔ باب ماہ قول کہ وہین کے دل اور ہوش کے

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَإِذَا كَانُوا مِنْكَ يَمْسُقُونَ أُولَئِكَ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

اور یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ فرمادے کہ وہ اور وہی بھڑھن (انتہی) اور جب یہ سنا پ یا قول کہ یہ میں نے کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی اسے

كَقَوْلِهِمْ لِيَوْمَئِذٍ عَمَلُكُمْ كَمِثْلِ الدُّمَىٰ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّا أَوْ أَحْسَىٰ تَسْتَوْفُوا

کے طرح ہے جیسے بھڑھن کے لیے بھڑھن کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں کہ تو نے تم پر یاد رکھی ہے لو

فَيَنْ كَرَمًا عَمَّنْ أَرَىٰ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَرَمًا إِذْ بَدَأَتْ فَكُلٌ إِذَا تَمَعَتْ فَالْعَلَّ

اور حضرت عثمان سے روایت کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جو توبہ کر دو اور جب تم خریدو تو یہاں کہ

(۹۲۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (مُتَكَرَّرًا) (۱۰۵۷) (۵۹) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

دیکھو حدیث ۱۰۵۷ جابر سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمرو بن عاص نے

أَنْ حَرَّمَ عَلَيْنَا دِينًا فَاسْتَعْنَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا عَرَّ مَاءَهُ أَنْ يَضَعُوا

وفات پائی اور ان پر ضرورتاً تو میں نے ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے کہہ سنا ہوا ہے اور وہ ان کے کہنے سے

مِنْ دِينِهِ فَطَلَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَقْعُوا فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

میں سے کہہ مان کر دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خواہش ظاہر کی اور ان نے انکار کیا تو مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْهَبَ صَيْفٌ تَمْرًا أَحْمَقًا الْعَجُوزَ عَلَىٰ حِدَّةٍ وَعَدُوًّا لِي عَلَىٰ حِدَّةٍ ثُمَّ

علا علیہ وسلم میں فکر فروخت کرنے کا حکم دیا تاکہ اس سے ہرگز بڑھے نہ تاجر میں ایک دوسرے سے خرید کر اسے جنگا کرتے ہیں جیسے جیسے میں لاکر فروخت کر سکی شرط اس سے لگائی کہ سب بازی شروع نہ ہو جائے۔ عطاء بن یسار کا بیان ہے کہ آپ کی صفت یہ ہے کہ آپ بازاروں میں چلتے ہیں تو جاہلوں کی طرح شور و غل نہیں کرتے بلکہ متانت سے چلتے ہیں لہذا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عظیم الشان کام کیا۔ اس اختلاف فقہی سے ۱۰۵۷ کا بیچارہ اور ہر ایسا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حال من ایتام طعاما مالا یلعبہ حتی یستوفیہ۔

۱۰۵۷

تَشْتَرِيهِ مِنِّي فَأَشْتَرَاهُ لِعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِكَذَا أَوْلَاكَ أَقْدَ فَعَدَّ الْبَيْعُ ۖ بَابُ

الْبَيْعِ وَمَنْ قَالَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ الْبَيْعُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى التَّاحِشُ كُلُّ رِبَا خَائِفٌ

وَهُوَ خِدَاعٌ يَأْتِلُ لَا يَجِلُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخِدْيَةُ فِي التَّامِرِ وَمَنْ

عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرٌ فَاقْهَمُوهُ (م- ۹۳۳) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مكرر - ۱۰۶۵)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (م- ۹۳۳) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مكرر - ۱۰۶۵)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (م- ۹۳۳) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مكرر - ۱۰۶۵)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (م- ۹۳۳) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مكرر - ۱۰۶۵)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (م- ۹۳۳) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مكرر - ۱۰۶۵)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (م- ۹۳۳) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مكرر - ۱۰۶۵)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (م- ۹۳۳) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مكرر - ۱۰۶۵)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (م- ۹۳۳) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مكرر - ۱۰۶۵)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (م- ۹۳۳) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مكرر - ۱۰۶۵)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (م- ۹۳۳) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مكرر - ۱۰۶۵)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (م- ۹۳۳) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مكرر - ۱۰۶۵)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (م- ۹۳۳) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مكرر - ۱۰۶۵)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (م- ۹۳۳) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مكرر - ۱۰۶۵)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (م- ۹۳۳) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مكرر - ۱۰۶۵)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (م- ۹۳۳) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مكرر - ۱۰۶۵)

عاشق کبیر کی
بہا قیمت کرتا ہے
تاکہ اسے مروج کیا
جائے یا یہ کہ اس کی
قیمت بڑھانے والا
اس کا اڑھ اسے
خود خریدنے کا نہیں
ادب غرض یہ ہے کہ
دو ہزار اس میں نہیں
جائے
عاشق اس حد
لفظ میں خود نبی
صلعم عن النبی
صلعم عن النبی
کی ایک تفسیر اس
حدیث میں ہے جو
ابن عمر کی تفسیر ہے
کہ وہ جاہلیت کی
بیع تھی ایک شخص
بجز در اوٹن کا وہ
دو ہزار خریدتا
جاتا ہے خریدتا
اور ہونے قیمت کی
بیمان ہوتی کہ
اور غرضی ہے اور اسکی
بی بی بی ہو کر
عاشق سے یہ واقعہ
نہی ہو تو وہ قیمت
ادا ہی نہ ہوگی
اور ایک تفسیر ہے
کہ حبیل الحبلیہ خود
بھی جائے نبی نبی
کے بی بی جو عمل
ہے اس کا بی بی
تو وہ دیا جائیگا یہ معلوم کی بیع ہے جس کا موجود ہو نامشکوک ہے اور پہلی تفسیر میں موجود کی بیع ہے لیکن اس قیمت کی مبیعا کا تا یقین نہیں دونوں بیع میں
امام بخاری نے دھوکے کی بیع کا قیاس اسی سے کیا ہے۔ علیہا من منابذہ اور ملامتہ کی ممانعت اور ان کی تفسیر کا ذکر ہے جو عن النابیة وھی طرح
الرجل ثوبہ بالبحیر الی الرجل قبل ان یقلد ینظر الیہ شیء من الملامتہ و الملامتہ طس الثوب ینظر الیہ یعنی بیع منابذہ وہ بیعت کے بنا ہے کہ
یک شخص اپنا کپڑا خریدنے کی طرف پھینک دے اور وہ بیع مکمل ہو جائے بیعت اس کے خریدار سے اٹانے پٹانے یا اس کی طرف دیکھے اور بیع ملامتہ پھینک دینا ہے
ہے کہ خریدار بیعت کرنے کے کپڑے کو ہاتھ لگائے تو وہ بیع مکمل بھی جائے دونوں صورتوں میں خریدار کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا خرید رہا ہے تو وہ سوچا بازی ہے یا
ہونے کی طرح اتفاق کی بات کہ بی بی بی یا بھی احمد کی روایت میں منابذہ اور ملامتہ کی تفسیر میں مذکور ہے اذ التلبثت هذا الثوب فقد بیعت
واذا من هذا الثوب حبیب البیع۔ یہ کہ روایت کے لفظ یہ ہیں ہی من لیستین ان یجتبی الرجل فی الثوب الواحد ثم یفدہ علی
منکبہ وعن بیعتین اللباس والنابذہ۔ یہاں صرف یہ لفظ ہیں: یعنی عن الملامتہ والنابذہ۔ یہاں صرف انما بیعتہ ہے
انہا لنبی صلعم عن لیستین وعن بیعتین الملامتہ والنابذہ۔

تو وہ دیا جائیگا یہ معلوم کی بیع ہے جس کا موجود ہو نامشکوک ہے اور پہلی تفسیر میں موجود کی بیع ہے لیکن اس قیمت کی مبیعا کا تا یقین نہیں دونوں بیع میں
امام بخاری نے دھوکے کی بیع کا قیاس اسی سے کیا ہے۔ علیہا من منابذہ اور ملامتہ کی ممانعت اور ان کی تفسیر کا ذکر ہے جو عن النابیة وھی طرح
الرجل ثوبہ بالبحیر الی الرجل قبل ان یقلد ینظر الیہ شیء من الملامتہ و الملامتہ طس الثوب ینظر الیہ یعنی بیع منابذہ وہ بیعت کے بنا ہے کہ
یک شخص اپنا کپڑا خریدنے کی طرف پھینک دے اور وہ بیع مکمل ہو جائے بیعت اس کے خریدار سے اٹانے پٹانے یا اس کی طرف دیکھے اور بیع ملامتہ پھینک دینا ہے
ہے کہ خریدار بیعت کرنے کے کپڑے کو ہاتھ لگائے تو وہ بیع مکمل بھی جائے دونوں صورتوں میں خریدار کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا خرید رہا ہے تو وہ سوچا بازی ہے یا
ہونے کی طرح اتفاق کی بات کہ بی بی بی یا بھی احمد کی روایت میں منابذہ اور ملامتہ کی تفسیر میں مذکور ہے اذ التلبثت هذا الثوب فقد بیعت
واذا من هذا الثوب حبیب البیع۔ یہ کہ روایت کے لفظ یہ ہیں ہی من لیستین ان یجتبی الرجل فی الثوب الواحد ثم یفدہ علی
منکبہ وعن بیعتین اللباس والنابذہ۔ یہاں صرف یہ لفظ ہیں: یعنی عن الملامتہ والنابذہ۔ یہاں صرف انما بیعتہ ہے
انہا لنبی صلعم عن لیستین وعن بیعتین الملامتہ والنابذہ۔

بَابُ الْبَيْعِ

يَقُولُونَ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخِصَ بَيْعَ الْعَرَبِيَا فَقَالَ وَمَا يَدْرِي اَهْلًا

کہتے ہیں کہ نبی صلعم نے عربیوں کو کم قیمت پر بیع کر دیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اہل عرب کو کہاں سے

مَلَكَةٌ قُلْتُ اَلَمْ يَرَوْوَنَّهُ عَنْ جَابِرٍ فَسَكَتَ قَالَ سُفْيَانُ اِنَّمَا ارَدْتُ اَنْ جَابِرُ اَمْرًا

معلوم ہو کہ میں نے کہا وہ اسے جابر سے روایت کرتے ہیں تو خاموش ہو گیا سفیان نے کہا جابر اصطلاح تھا کہ جابر اہل مدینہ میں سے

اَهْلًا اَلْبَدِيَّةَ قِيلَ لِسُفْيَانٍ وَلَيْسَ فِيهِ نَحْوِي عَنْ بَيْعِ الْقُرْحِيِّ يَبْدُ وَصَلَاحَةٌ قَالَ لَا

یہاں سفیان سے کہا گیا کہ اس میں یہ نہیں کہہو کہ مجھے سے منع فرما یہاں تک کہ اس کی شکل ظاہر ہو جائے کہ انہیں

(۸۴) بَابُ تَفْسِيرِ الْعَرَبِيَا وَقَالَ مَلِكُ الْعَرَبِيَّةُ اَنْ يَغْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ لِحَقَّةٍ

بَابُ عَرَبِيَا كِتَابُ التَّفْسِيرِ اور ایک کہتے ہیں کہ عربیہ یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو کھمراہی میں

ثُمَّ يَتَأَذَى بِدُخُولِهِ عَلَيْهِ فَرُخِصَ لَهُ اَنْ اَيْتَرَ نَهْضًا مِنْ مَرٍّ وَقَالَ ابْنُ اَدْرِيسَ

پھر اسے تکلیف ہوتی ہے کہ وہ بار بار کھمراہی کے لئے اسے یا اس لئے اسے اجازت دیدی گئی کہ اسے اس سے عدت سے اور ان میں سے

الْعَرَبِيَّةُ لَمْ يَكُنْ اِلَّا بِاَلِكَيْلِ مِنَ التَّمْرِ يَدُ اَيْدِي لَمْ يَكُنْ اِلَّا بِاَلِكَيْلِ مِنَ التَّمْرِ يَدُ اَيْدِي لَمْ يَكُنْ اِلَّا بِاَلِكَيْلِ مِنَ التَّمْرِ

کہا کہ عربیہ اس کے نہیں ہوتا کہ خشک کھمراہی کو کسی وقت ہی ہائے عجزانہ سے وہ چاہے کہ نہیں اور اس کی تائید

قَوْلُ سَهْلِ بْنِ اَبِي حَنَمَةَ يَا لَأَوْسَقِ الْمَوْسِقَةِ وَقَالَ ابْنُ اسْحَقَ فِي حَدِيثِهِمْ

سہل بن ابی حنمہ کے قول سے ہوتی ہے کہ عجزانہ ضرور وقتوں سے (ہی ہائے) اور ابن اسحاق نے اپنی حدیث میں ناخ سے

ثَابِتُ عَرَبِيَا بِنِ عَمْرِو بْنِ كَانَتْ الْعَرَبِيَا اَنْ يَغْرِيَ الرَّجُلُ فِي مَالِهِ التَّخْلَةَ وَالتَّخْلَتَيْنِ وَ

روایت ابن عمر کا کہ عربیہ یہ تھا کہ کوئی شخص اپنے مال میں سے بجز ایک یا دو درختوں سے دیتا اور

قَالَ زَيْدُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ الْعَرَبِيَا تَحَلُّ كَانَتْ تَوْهَبُ الْمَسَاكِينَ فَلَا

زید بن ارون نے سفیان بن حسین سے روایت کی ہے کہ عربیہ کھمراہی کے وہ درخت تھے جو مسکینوں کو ہبہ کرنے جلتے تھے اور ان

يَسْتَطِيعُونَ اَنْ يَدْتَنُظَرُوا وَلِبَهَارٍ رَخِصَ لَهُمْ اَنْ يَبْيَعُوا هَابِئًا شَاكُوًا مِنَ التَّمْرِ

سے نہیں ہو سکتا کہ اس کا ہتھکڑا کریں تو انہیں اجازت دیدی گئی کہ اسے اپنی کھمراہی کے ساتھ جہاں سے چاہیں

(۸۵) بَابُ بَيْعِ التَّمَارِ قَبْلَ

دیکھو حدیث ۱۰۷۷ باب بیعہوں کا بیعہ پہلے اس سے

اَنْ يَبْدُ وَصَلَاحَةٌ ۱۰۷۷ اَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ

کہ ان کی شکل ظاہر ہوئے زید بن ثابت سے روایت ہے کہ لوگ رسول اللہ صلعم کے زمانہ میں (اور رسول اللہ

اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْيَعُونَ التَّمَارَ وَادْخَلَ النَّاسُ حَضْرَتًا يَتَأَذَى مِنْهَا قَالَ

پر عمل کیا کرتے تھے جب لوگ کاٹنے لگتے تھے اور ان سے انصاف اور وقت آجاتا

اَلْبَيْتُ لِلَّهِ اَصَابَةُ لِمَنْ اَصَابَهُ مِنْ اَصَابَةٍ مَرَّضَةٍ اَصَابَةُ فَسَامٌ عَاهَا كُ

ملاحظہ فرمائیے کہ
رضی فی العربیہ
ان تبارہ مخصوصہا
کیلا قال مرتبہ
ابن عبیدہ واصلیہ
غفلت معلومہ
انہا ففتتہا
عکسہ کہ صلاحت
یہ ہے کہ اس حالت
پہلے سے ہے کہ اس
سے فائدہ اٹھایا جا
سکے۔ یہ حالت
انہیں کچھ مہوہ سے
فائدہ اٹھایا جا سکتا
ہے۔ وہی اس کی
صلاحت ہوگی۔
علا اس سے صلاحت
معلوم ہوتا ہے
کہ نبی صلعم بہت
سے دن چھوٹے
چھوٹے امور میں ان
سے جھگڑنے سے بچتا
ہوئے تھے۔ وہی
طور پر کوئی مشورہ
دے دیتے تھے
اور انہیں کوئی
مستقل قانون بنانے
کا آپ کا مشورہ
نہ تھا۔

الأصغر من الأحمر (م- ۹۶۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَبْرِ (متكرر- ۷۹۹) (م- ۹۶۹)

اور زرد مرغ سے متاثر نہ ہوتا دیکھو حدیث ۷۹۹ ص ۷

عَنْ أَنَسٍ (متكرر- ۷۹۹) (م- ۹۷۰) عَنْ جَابِرٍ (متكرر- ۷۹۹) (م- ۸۶۷) بَاب

دیکھو حدیث ۷۹۹ ص ۷ باب دیکھو حدیث ۷۹۹ ص ۷

بَيْعِ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدَأَ بِصَلَاةِهَا (م- ۹۷۱) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متكرر- ۷۹۹)

پھر بیعت اس سے پہلے کر اس کی بیعت کا ظاہر ہو دیکھو حدیث ۷۹۹ ص ۷

(م- ۸۶۷) بَابُ إِذَا بَاعَ الثَّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدَأَ بِصَلَاةِهَا لَمْ أَصَابَتْهَا فَهِيَ مِمَّا يَكُونُ مِنَ الْبَيْعِ

باب جب بیعتوں کو ان کی بیعت کے ظاہر ہونے سے پہلے بیعت اور پھر اسے آفت یعنی تو وہ بیعت ہونے کے ذمے ہے

(م- ۹۷۲) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متكرر- ۷۹۹) (م- ۸۸۸) بَابُ شَرَاءِ الطَّعَامِ لِلْيَدِيَّةِ

دیکھو حدیث ۷۹۹ ص ۷ باب اناج اور دھار خریدنا

أَجَلَ (م- ۹۷۳) عَنْ عَائِشَةَ (متكرر- ۱۰۳۰) (م- ۸۸۹) بَابُ إِذَا أَرَادَ بَيْعَ كَثِيرٍ

دیکھو حدیث ۱۰۳۰ ص ۷ باب جب کسی کو اس سے بہتر کچھ

بِمَنْ حَبِيبَةٍ (م- ۱۰۷۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کے ہونے چاہتا ہے ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے

اسْتَمْعَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَمَا كَثُرَ عَلَيْهِمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ایک شخص کو خیر کا تعین لادھو گیا تو وہ آپ کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلعم نے فرمایا

أَكَلْتُمْ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَلَاكَ أَخَذْتُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا

کیا خیر کی بکھو رہی ہیں میں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلعم اس کے ایک صاع کو اس صاع کے

بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا

بدلتے ہیں اور دو صاع کو تین کے بدلے تو رسول اللہ صلعم نے فرمایا

تَفْعَلُ بِي الْجَمْعَ بِالدَّارِهِمِ ثُمَّ ابْتِغَى بِالدَّارِهِمِ جَنْبِيًّا (م- ۹۷۴) بَابُ مَنْ

کو دافس کچھ رو پی کے بدلے بیچ دو پھر رو پی سے عرض کچھ خرید لے گا باب جو

بَاعَ عَقْلًا قَدْ أُبْرِتْ أَوْ أَرْضًا فَمِنْ رُوعَةٍ أَوْ بِأَجَائِرٍ (م- ۹۷۵) عَنِ ابْنِ

کچھ کا عقل لکھا ہوا رحمت یا کا سخت کی ہوتی زمین بیچے یا اجارہ پر دے گا ابن عمر سے

عُمَرَ أَنَّ ابْنَ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ أُبْرِتُ لَمْ يَدْ كِرَ الشَّرُّ قَالَ لَمْ يَدْ كِرَ الشَّرُّ قَالَ لَمْ يَدْ كِرَ الشَّرُّ قَالَ لَمْ يَدْ كِرَ الشَّرُّ

روایت ہے کہ جو کچھ لکھا ہوا رحمت بیچا جائے اور سخت میں بیچ لے گا اور نہ لکھا ہوا تو بیچ لے گا اور نہ لکھا ہوا تو بیچ لے گا

علافاظ ہیں: ان رسول اللہ صلعم حتی بیعتی بغير الثمار حتى بيعتي بصلاحها حتى الباقية المبتاعه على اس كلفني ان رسول الله صلعم حتى ان تباع... ثمرة الفحل حتى تزهر قال ابو عبد الله يعني حتى تجمر على اس كلفني ان رسول الله صلعم حتى تباع ثمرة الفحل حتى تشقق فقل ما تشقق قال بخاري وتصفاه و يوكل منها على بيوت صلاحها ك بعد ان حتى من الفحل حتى يزهر قيل ما يزهر قال يصفاه و يوكل نظيره حتى حتى بيع الثمار حتى حتى فقل ما تشقق حتى تشقق فقال اذا منع الله العترة بهم ياخذ احدكم مال اخيه اس زياده ك بعد ان شاب كاي قول مذکور ہے

۷۹۹
۸۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۱۰۷۹
۸۸۸
۸۸۹
۱۰۳۰
۸۸۹
۹۷۴
۹۷۵

صریح ذکر کے باقی کا تفسیر دیا ہے

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ غُلًّا قَدْ أُبْرَتْ قَتَمَ هَالِكًا كَمَا قَالَ الْأَنْبِيَاءُ

۹۱) بَابُ بَيْعِ الرَّبْعِ بِالْطَّعَامِ كَيْلًا (هـ- ۹۷) عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَتَكَرَّرَ (۱۰۷) خريد بزرگ گانه باب بکری فضل کا با کبر فیکر کے عوینا

۹۲) بَابُ بَيْعِ النَّقْلِ بِأَصْلِهِ (هـ- ۹۷) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (تَكَرَّرَ - ۱۰۸) باب بکری کے دست کو با صلہ کرنا

۹۳) بَابُ بَيْعِ الْخِصْمَةِ (هـ- ۱۰۸) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ قَالَ نَهَى

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَاكِلَةِ وَالْمَخَاضَةِ وَالْمَلَامَةِ وَ... باب حاکمہ کی بیع

۹۴) بَابُ بَيْعِ الْأَرْضِ بِطَعَامٍ (هـ- ۹۷) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (تَكَرَّرَ - ۹۹) ۹۵) بَابُ

بَيْعِ الْجَحَارِ وَأَكْلِهِ (هـ- ۹۷) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (تَكَرَّرَ - ۵۵) ۵۵) بَابُ

مَنْ أَخْبَرَنِي أَنَّ الْأَمْضَرَ عَلَى مَا يَتَعَلَّقُونَ بَيْنَهُمْ فِي الْبُيُوعِ وَالْأَجَارَةِ وَ... باب بکری کے کلام اور بکری کے

بَابُ بَيْعِ الْبُيُوعِ وَالْمَخَاضَةِ وَالْمَلَامَةِ وَ... باب بکری کے کلام اور بکری کے

بَابُ بَيْعِ الْبُيُوعِ وَالْمَخَاضَةِ وَالْمَلَامَةِ وَ... باب بکری کے کلام اور بکری کے

بَابُ بَيْعِ الْبُيُوعِ وَالْمَخَاضَةِ وَالْمَلَامَةِ وَ... باب بکری کے کلام اور بکری کے

بَابُ بَيْعِ الْبُيُوعِ وَالْمَخَاضَةِ وَالْمَلَامَةِ وَ... باب بکری کے کلام اور بکری کے

بَابُ بَيْعِ الْبُيُوعِ وَالْمَخَاضَةِ وَالْمَلَامَةِ وَ... باب بکری کے کلام اور بکری کے

سکر روات میں
کی تھی ہے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ
ان بیکر کے کلام
ان کا نکلنا بیع
کیا ان کا کلام کرنا
ان ہی کے بیوی
کیا اور ان کا زور
ان ہی کے کلام
طعمہ کی حد
کلام اس میں کلام
فضل کے کلام کو کلام
کے عوین بکری سے
بیع کیا ہے
کلام کے مضمون
یا عقدا انکلیت
وہ یہاں بیع
اصلہا پہل سے
مراد خود دست ہیں
کلام خاصہ کی خصوصاً
سے ہے کہ کلام
سب سے مراد ناک کی
کلام سے ہے بیع
کی حد میں ہے
اس میں ہی بیع
ہے کہ کلام
کلام کی حد کا
شکار ہوتا ہے
کلام پہل سے
حدت اس میں حدت
موضوع کے مضمون
دہر یا گیا ہے
کلام میں کلام
ہے کہ کلام
الشی صلی اللہ علیہ
یا کلام اور کلام

کلام ہے فقہ فقال من الشجر شجرة كان الرجل المؤمن فانه اذا انا احد ثم قال هي الفخلة - حدت میں کلام کی
بیع کا ذکر نہیں لیکن یہ ذکر ہے کہ کلام کے قابل چیز ہے اس لئے اس کا جو حدت کی حدت ہے عدا لوگوں کا کلام درواج دستور و عادات ان
کے لین و دین کے معاملات میں حکم کا حکم رکھتے ہیں اور ان کے استقامات اور تنازعات کا فیصلہ ان کے رسم و رواج کے موافق ہوگا بشرطیکہ اس سے
اللہ تعالیٰ کے حلال اور حلال اور حلال اور اس کے عروج و ان کی مخالفت نہ ہوگی اور قواعد فقہیہ اسلام کی گدیں لازم نہ آتی ہو بہت سے امور ہوتے
ہیں ان کی بنا و عرف و دستور پر ہوتی ہے اور قانونی رسم و رواج کے غلط فیصلہ کر دیتا ہے اسلئے فقہاء کے لئے لوگوں کے
رسم و رواج کا علم ایسے ضروری ہے - کلام میں شامی فرماتے ہیں باج قواعد میں ہر فقہ کی بنا ہے لوگوں کے عوین یعنی دستور کی طرف رجوع
کرنا ان میں سے ایک ہے کہ کسی شریعت کے کسی حدت کو حدت مقررہ عوین سے لیا گیا ہے شریعت نے کوئی موٹی باتیں بنا دی ہیں جاتی سب امور
کا فیصلہ لوگوں کے اپنے اپنے رسم و رواج پر لیا گیا ہے

فَرَكِبَهُ ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ الْخَمْرَاءُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَدَأَ بِهَا وَمَا كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّهَا لَأَرْكَبُهَا
 (تو وہ سواری جو شروع ہو کر وہاں آئی اور وہاں آگے اور کہا گھولا ڈکھا اور میں نے سواری سے پہلے ہی اس سے کوئی نہیں سیکھا تھا)

الرَّبِيعُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (م- ۹۷۹) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متکرم- ۱۰۲۹)
 (آنس سے یا اس نصف رویم میں یا علی)

(۱۰۸۲) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ هَذَا أَمْعَاوِيَةُ كَرَسُوهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ چند معاویہ کی ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا)

إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ جَعَلَ قَهْلًا عَلَى خَمْرٍ أَنْ أَخَذَ مِنْ مَالِ بَيْتِنَا قَالَ
 (کہ ابو سعید نے خیل آدمی ہے کیا کوئی ستم ہے کہ میں نے مال سے شہید ہو کر اسے لیا کر لوں خواہ تم

خَلِيٌّ أَنْتَ وَبَنُوكَ مَا يَكْفِيكَ بِالْمَعْرُوفِ (۱۰۸۳) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
 (اور تم سے پیشتر اس قدر سے سیکھیں ہیں پورا ستم کے مطابق نہیں کافی ہو صرف عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے)

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِرْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ أَنْزَلَتْ
 (وہ جس کا دنیا کی مال نہ ہو تو وہ بھلا ہے اور جو غلام ہو تو ستم کے مطابق خیر لیا کرے اور ستم سے بچنے کے لیے سزا دی)

فِي وَالِي يَدِيهِمُ الَّذِي يُقِيمُ عَلَيْهِ فَيُصَلِّي فِي مَالِ الْإِنِّ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ مِنْهُ
 (یہ کہ جس کی ہمت ہو وہ ولی جو اس کی ہمت ہو کر اس کے مال کی اصلاح کرتا ہے اگر وہ ستم ہو تو ستم کے مطابق خیر لیا کرے اور ستم سے بچنے کے لیے سزا دی)

بِالْمَعْرُوفِ (۹) بَابُ بَيْعِ الثَّرَايِكِ مِنْ شَرِيكِهِ (۱۰۸۴) عَنْ جَابِرِ بْنِ
 (بَابُ بَيْعِ الثَّرَايِكِ مِنْ شَرِيكِهِ (۱۰۸۴) عَنْ جَابِرِ بْنِ (بَابُ بَيْعِ الثَّرَايِكِ مِنْ شَرِيكِهِ (۱۰۸۴) عَنْ جَابِرِ بْنِ

جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَوْ لَيْسَ قَادِمًا
 (کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شے پر ایسے مال کی خرید و فروخت کو ایک شریک جو شہید نہ ہو اور جیسا

وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَوَصِيْفَاتِ الطَّرِيقِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا) (۹) بَابُ بَيْعِ الْأَرْضِ
 (حدیں مقرر ہو جائیں اور راستے اور راستے کے ایک ایک پونجا میں نہ ہر شے میں ہے بَابُ (۹) بَابُ بَيْعِ الْأَرْضِ (۹) بَابُ بَيْعِ الْأَرْضِ

الدُّورِ وَالْعَرُوضِ مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسَمٍ (م- ۹۸۵) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
 (مکانات اور سہاب کا (شہد) مشترک بیچنا جو قسم نہ ہو اور

(متکرم- ۱۰۸۵) بَابُ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا غَيْرَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَرَضِي
 (دیگر حدیث ۱۰۸۵ بَابُ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا غَيْرَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَرَضِي (متکرم- ۱۰۸۵) بَابُ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا غَيْرَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَرَضِي

(۱۰۸۵) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَرَجَ نَارُكَ
 (ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے اپنے مال کا لفظ یہاں

يَمْسُونَ فَأَصَابَهُمُ الْمَطَرُ فَلَا خَلْوَاتِي غَارِي جَبَلٍ فَأَمَطَتْ عَلَيْهِمُ صَخْرَةٌ
 (ہے تو ان پر بارش برسنے لگی وہ پہاڑ کی غار میں تھے تو ایک پہاڑ کی غار کے منہ پر صخرہ

قَالَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ادْعُوا اللَّهَ بِأَفْضَلِ عَمَلٍ عَمِلْتُمُوهُ فَقَالَ أَحَدُهُمْ
 (فرمایا تو انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ اللہ سے دعا کرو کہ تم سے دعا کرو تو ان میں سے ایک نے کہا

اللَّهُمَّ إِنِّي كَانَتْ لِي ابْتِغَاءُ شَيْخَانِ كَيْتَرَانِ فَكَلَّمْتُ أَحْرَجَ فَأَرْغَى ثُمَّ أَسْرَى فَخَالَفَ
 (اے اللہ میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے اور میں باہر چرانے کے لئے نکلتا تھا پھر وہاں سے) (۱۰۸۶)

فَأَجَى بِأَجْلَابٍ فَأَتَى بِأَبِيهِ أَوْ تَى فَتَشْرَبَانِ ثُمَّ اسْتَقْبَلِي الصَّبِيَةَ وَأَهْلِي وَأَهْرَأَتِي
 (تو اسے ماں باپ کے پاس آ گیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گیا اور انہوں نے کہا)

(۱۰۸۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 (ابن ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے اپنے مال کا لفظ یہاں

عَلَى قَرِيْبَتِي فَأَقِظِي لَهَا
 (میں حدیث ہے کہ وہاں آیا ہے کہ

علاحدیث کا ایک
 دم ہوتا ہے جس
 بھری نے دوسری
 مرتبہ عبد اللہ بن
 مرداس کے پاس
 نصف رویم یعنی ایک
 دن زیادہ بیچ دیا
 اس لفظ فقرہ
 میں اس سے ہے کہ
 ہفت روزہ معلوم
 ابوطیبہ کی کتابت
 کی اجرت ہر ماہ
 فرمایا اور اسے
 اجرت کی اجرت
 مقرر نہیں کی اس
 سبب اس معاملہ
 ہے کہ اجرت کی
 اجرت دستور کے
 مطابق دی ہے
 اس لفظ سے
 یہ استدلال کیا ہے
 کہ ایک شریک
 کے ساتھ فروخت
 کر سکتا ہے یہاں
 صرف اس لفظ
 کا ذکر ہے جو
 شرکت کی وجہ سے
 ہونے والا وہ شرکت
 ذات بیع میں ہو
 یا حقوق بیع میں
 بیوس اور جو
 کے حق شے کا ذکر
 دوسری جگہ ہے
 مال کا لفظ یہاں
 صرف جائیداد
 غیر منقولہ کے لئے
 استعمال ہوا ہے
 جیسا کہ مدلول اور
 کہتوں کے الفاظ
 لانے سے پایا
 جاتا ہے
 علی قریبتی لفظ
 میں حدیث ہے کہ
 وہاں آیا ہے

فَاخْتَبَسْتُ لَيْلَهُ فَبُحْتُ فَإِذَا هُمَا كَالْهَيَّانِ قَالَ فَكْرَهُتُ أَنْ أَوْظَّكُمَا وَالصَّبِيَةَ

ایک رات میں دیر کے آیا تو وہ دونوں سو گئے کہا اور میں نے انھیں سجا کر انہیں بچاؤں اور مجھے میری ماں

يَتَضَاغُونَ عِنْدَ رَجُلٍ كَأَمْ يَنْزِلُ ذَلِكَ كَأَنِّي وَدَأَيْهَمَا حَتَّى طَلَعَتِ الْفَجْرُ اللَّهُمَّ

کے پاس دو رہے تھے میرا اور ان دونوں کو ایسی حال بنا یہاں تک کہ صبح کا طلوع ہوا اسے اللہ

إِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ إِنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرِجْ عَنَّا فَرْجَةَ نَرَى مِنْهَا

اگر تیرے علم میں ہے کہ میں نے یہ تیری رضا مندی کی خاطر کیا تو اس پر رحم فرما کہ وہاں سے ہم آسمان کو دیکھ سکیں

السَّمَاءِ قَالَ فَفَرِّجْ عَنْهُمْ وَقَالَ الْآخِرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ إِنِّي كُنْتُ أَحِبُّ

فرمایا تو ہمتی ان سے بھلا دیا گیا اور دوسرے نے کہا اے اللہ! اگر تیرے علم میں ہے کہ میں نے

أَمْرًا كَأَنَّ بَنَاتٍ عَنِّي كَأَشَدِّ مَا أَحِبُّ الرَّجُلُ لِلنِّسَاءِ فَقَالَتْ لَا تَمُنَّ ذَلِكَ

ایک عورت کے ساتھ مجھے محبت تھی بڑی محبت محبت جو مرد کو عورت سے ہو سکتی ہے تو اس عورت کو تو ان کا مطلب یہ ہے نہ

مِنْهَا حَتَّى تُطَيَّبَهَا مَاءَ نَدَى دِيْنَارٍ فَسَمِعْتُ فِيهَا حَتَّى مَعْتَمَرًا فَلَمَّا أَفْعَلْتُ ذَلِكَ بَيْنَ

پاس کے یہاں تک کہ مجھے سو اتر فرمایا تھی تو میں نے یہ کہ جس شخص نے بیع کی بات کی کہ میں نے وہ بیع فرمایا جس کے پاس یہاں تک

رَجُلِيهَا قَالَتْ يَا لَللَّهِ وَاللَّهِ لَا لَفْضَ إِلَّا مَا لَوْ حَقَّقْتُمْ وَكُنْتُمْ تَهْتَابُونَ كُنْتُ

دونوں باؤں میں بیچ رہی تھی تو اس نے کہا اللہ کا تعویذ کہ اور نہ کو ناجائز طور سے تلاوت تو میں کھڑ ہو کر اور اسے بچھو دیا تو اگر تیرے علم

تَعْلَمُ إِنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرِجْ عَنَّا فَرْجَةَ قَالَ فَفَرِّجْ عَنْهُمْ

میں میں نے یہ رضا مندی کی خاطر کیا تو فرمایا تو ان سے دو تھانی ترک کر گیا

لِلثَّلَاثِينَ وَقَالَ الْآخِرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَحَدًا يَسْرِقُ

اور تیسرے نے کہا اے اللہ! تو ہانتا ہے کہ میں نے ایک مزدور تین صاع جو اوپر لگایا تھا

مَنْ ذُرِّيَّةٍ قَاعِطِيَّةٍ وَأَبِي ذَاكَ أَنْ يَأْخُذَ فَعَمَلْتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَقْرَى فَرَزَعْتَهُ

اور میں نے وہ اسے دیا یا اور اس نے اس کے اپنے سے انکار کیا تو میں نے وہ بیع صاع کا ادا کر کے اس سے زراعت کی

حَتَّى شَارَيْتُ مِنْهُ بَقْرًا وَسَرَّعِيهَا ثُمَّ جَاءَتْ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ اعْطِنِي حَتَّى

یہاں تک کہ اس سے میں نے گائے اور ان کا بے داغ دیا پھر وہ مزدور آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے بندے میرا حق مجھے دیدے

فَقُلْتُ اطْلُبْنِي إِلَى يَدِكَ الْبَقْرَ فَرَّعِيهَا فَأَتَمَّكَ فَقَالَ اسْتَهْرَيْتُنِي قَالَ

تو میں نے کہا میں تجھ سے ہنسی نہیں کرتا بلکہ وہ ہے ہی تیرا اے اللہ! اگر تیرے علم میں ہے کہ میں نے یہ تیری رضا مندی کی خاطر کیا تو

ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرِجْ عَنَّا فَكُتِفَ عَنْهُمْ (۹۹) بَابُ الشَّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ

عنوان باب کا
تعلق ایسی اشعری
یا قبر سے ہے کہ
دوسرے کے مال سے
زراعت اور تجارت
کی حالت کو اس نے
اسے نہ کہا تھا

۹۹

یا ہے بیع یا خفہ

تو ہی صائم نے فرمایا

قَالَ لَا بَيْعَ بَعْدَ فَتْرَتِي مِنْهُ شَأْنٌ ر ۱۰۰ بَابُ شِرَاءِ الْمَوْلَى مِنَ الْغَرَبِيِّ

اس نے کہا میں بلکہ بیچ ہے تو اس سے ایک بکرہ خرید لی جاے بَابُ شِرَاءِ الْمَوْلَى مِنَ الْغَرَبِيِّ اور اس کا

وَهَيْبَتِهِ وَعَقْبَتِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسُلَيْمَانَ كَاتِبٌ وَكَانَ حُرًّا

مہرہ کرنا اور اس کا آزاد کرنا اور نبی مسلم نے مسلمان سے فرمایا اپنے ایک صحابہ سے کہ کتابت کر لے۔ علامتہ اول

فَطَلَمُوهُ وَبَاعُوهُ وَسَبَى نِكَاحًا وَصَهَبَ وَيَلَالُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَاللَّهُ فَضَّلَ

بیل زادھے کا زور نے ان پر ظلم کیا اور انہیں بیچا اور نیکار صہیب بلال غلام بنائے تھے اور ان کا نیکار فرمائے اور اللہ نے

بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي التَّرْتِيقِ فَمَا لِلَّذِينَ فَضَّلُوا مِنْ رَبِّهِمْ عَلَى مَمْلُوكَاتٍ

تم میں سے بعض کو بعض پر ترتیق میں فضیلت دی تو وہ نہیں فضیلت دی تمہاری ہے وہ یہ تارتیق اپنے مملوکوں کو چھیننے والے

أَيُّهَا اللَّهُمَّ فِيهِ سَوَاءٌ أَفِينَةَ اللَّهُ يَجْعَلُكَ ۱۰۸۰ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

جنہیں کہ وہ اس میں برابر ہیں تو زیادہ خدا کی نعمت کا انکار کرتے ہیں علامتہ اول اور ہر وہ ہے جو ہر وہ ہے کہ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْرَجَ الرَّبُّ إِدْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَارَةَ فَدَخَلَ

نبی مسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سمیت اجرت کی انہیں ایک

بِهَا أَقْرَبَةٌ وَفِيهَا مَلَائِكَةٌ مِنَ الْمَوْلَى أَوْ جِبَارٌ مِنْ الْجِبَابِ وَفِيهَا تَحَلُّلُ إِبْرَاهِيمَ

جنتی میں ہے جس میں بادشاہوں میں سے کوئی بادشاہ تھا یا ظالموں میں سے ایک ظالم اور اسے کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام

بِأَمْرٍ آتَتْهُ مِنْ أَحْسَنِ الْمَاءِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ مَنْ هَذَا الَّذِي

ہائے ہیں جو حسین ترین خوردگوں میں سے ہے اس نے حضرت ابراہیم کے پاس کہا ابراہیم علیہ السلام نے سارہ سے

مَعَكَ قَالَ أَحْسَنُ ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَيْهَا فَقَالَ لَا تَكْذِبِي خَدِيثِي فَإِنِّي أَخَذْتُ مِنْ أَمْرِكَ

کہا میرا پاس ہے میرا سارہ کے پاس واپس آئے اور کہا کہ میری بات کو نہ جھٹلاؤ میں نے اس سے کہا ہے کہ تو

أَحْسَنِي وَاللَّهِ إِنَّ عَلِيَّ الْأَرَضِينَ وَمُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ وَقَامَ

میرا میں ہے اللہ کی قسم محمد بن ہشیر اور تیرے سوائے کوئی نہیں ہے میرا سارہ کو اس نے سارہ کے پاس بھیجا اور سارہ نے

إِلَيْهَا أَقَامَتْ تَوْضِيحًا وَتَضَرُّعًا فَقَالَتْ اللَّهُمَّ إِن كُنْتُ أَمْنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ

طرف تھا وہ کھڑی ہو کر حضور کے مبارک سے تھیں اور میرے قلب میں جو میرا وزیر ہے سولہ پیمانہ لائی ہیں

وَأَحْصَيْتُ فَرَجِي الْأَعْلَى فَرَجِي فَلَا تَسْلُطْ عَلَيَّ الْكَافِرُ وَفَطَمَةُ

اور نبی صفت کو حضور مبارک اور سولے پر مشورہ کے اور اس کو نبی ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کو اپنے ہاتھ سے لگا دیا کہ اپنے

قَالَ الْأَعْرَبِيُّ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَمَّا قَالَ قَالَتْ اللَّهُمَّ

ارجح نے کہا اور سمرقند میں کہنے ہیں کہ ابو ہریرہ نے کہا کہ حضرت سارہ علیہا السلام

إِنِّي نَيْمٌ يَقَالُ هِيَ قَمَلَتُهُ فَأَرْسَلَ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا فَأَقَامَتْ تَوْضِيحًا وَتَضَرُّعًا

کہ وہ سولہ روزوں میں نے اس سے کہنے کے لئے کہ میرا اور ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کو اپنے ہاتھ سے لگا دیا کہ اپنے

اللَّهُمَّ إِن كُنْتُ أَمْنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَيْتُ فَرَجِي الْأَعْلَى فَرَجِي فَلَا

میں نے کسی چیز میں جو میرا وزیر ہے سولہ پیمانہ لائی ہیں اور اس کو نبی ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کو اپنے ہاتھ سے لگا دیا کہ اپنے

تَسْلُطْ عَلَيَّ هَذَا الْكَافِرُ فَحَفِظَ حَتَّى رَكَضَ بِرَجُلِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ أَبُو

کہ وہ میرا وزیر ہے تو وہ میرا وزیر ہے سولہ پیمانہ لائی ہیں اور اس کو نبی ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کو اپنے ہاتھ سے لگا دیا کہ اپنے

سَلَامَةُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَتْ اللَّهُمَّ إِنِّي نَيْمٌ يَقَالُ هِيَ قَمَلَتُهُ فَأَرْسَلَ

ابو ہریرہ نے کہا اور سارہ نے کہا اے اللہ! میرا وزیر ہے تو وہ میرا وزیر ہے سولہ پیمانہ لائی ہیں اور اس کو نبی ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کو اپنے ہاتھ سے لگا دیا کہ اپنے

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ابن ہریرہ نے کہا
اور اس کا آزاد کرنا اور نبی مسلم نے
مسلمان سے فرمایا اپنے ایک صحابہ سے کہ کتابت کر لے۔ علامتہ اول
بیل زادھے کا زور نے ان پر ظلم کیا اور انہیں بیچا اور نیکار صہیب بلال غلام بنائے تھے اور ان کا نیکار فرمائے اور اللہ نے
تم میں سے بعض کو بعض پر ترتیق میں فضیلت دی تو وہ نہیں فضیلت دی تمہاری ہے وہ یہ تارتیق اپنے مملوکوں کو چھیننے والے
جنہیں کہ وہ اس میں برابر ہیں تو زیادہ خدا کی نعمت کا انکار کرتے ہیں علامتہ اول اور ہر وہ ہے جو ہر وہ ہے کہ
نبی مسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سمیت اجرت کی انہیں ایک
جنتی میں ہے جس میں بادشاہوں میں سے کوئی بادشاہ تھا یا ظالموں میں سے ایک ظالم اور اسے کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام
ہائے ہیں جو حسین ترین خوردگوں میں سے ہے اس نے حضرت ابراہیم کے پاس کہا ابراہیم علیہ السلام نے سارہ سے
کہا میرا پاس ہے میرا سارہ کے پاس واپس آئے اور کہا کہ میری بات کو نہ جھٹلاؤ میں نے اس سے کہا ہے کہ تو
میرا میں ہے اللہ کی قسم محمد بن ہشیر اور تیرے سوائے کوئی نہیں ہے میرا سارہ کو اس نے سارہ کے پاس بھیجا اور سارہ نے
طرف تھا وہ کھڑی ہو کر حضور کے مبارک سے تھیں اور میرے قلب میں جو میرا وزیر ہے سولہ پیمانہ لائی ہیں
اور نبی صفت کو حضور مبارک اور سولے پر مشورہ کے اور اس کو نبی ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کو اپنے ہاتھ سے لگا دیا کہ اپنے
ارجح نے کہا اور سمرقند میں کہنے ہیں کہ ابو ہریرہ نے کہا کہ حضرت سارہ علیہا السلام
کہ وہ سولہ روزوں میں نے اس سے کہنے کے لئے کہ میرا اور ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کو اپنے ہاتھ سے لگا دیا کہ اپنے
میں نے کسی چیز میں جو میرا وزیر ہے سولہ پیمانہ لائی ہیں اور اس کو نبی ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کو اپنے ہاتھ سے لگا دیا کہ اپنے
کہ وہ میرا وزیر ہے تو وہ میرا وزیر ہے سولہ پیمانہ لائی ہیں اور اس کو نبی ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کو اپنے ہاتھ سے لگا دیا کہ اپنے

فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّلَاثَةِ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَيَّ إِلَّا الشَّيْطَانَ فَارْجِعُوا هِيَ إِلَيَّ

دوسری یا تیسری مرتبہ چھوڑ دیا گیا اور اس نے کہا خدا کی قسم تو کوں نے میرے پاس شیطان کو بھیجا ہے اسے براہیم کے پاس

إِبْرَاهِيمَ وَأَعْطَوْهَا أَجْرَ فَرَجَعَتْ إِلَيَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَتْ أَشَعَرْتَ

سے جاؤ اور اسے لا جو دے دو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس آئیں اور کہنے لگیں کہ کیا آپ کو علم

أَنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْكُفْرَ وَأَخَذَ مِنْ وَلَدَةِهَا (م- ۹۸۱) عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَرِّرًا - ۱۰۲۱)

ہے کہ خدا نے کافر کو زویل کر دیا اور فرشتہ کے لئے ایک بڑی دیدی علی دیکھو حدیث ۱۰۲۱ ع

(۱۰۸۷) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لَصْهَبِيبٍ

ابراہیم بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے صہیب سے

بَلَّغَ اللَّهُ وَلَا تَدْعُ إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيكَ فَقَالَ صْهَبِيبٌ مَا يَسُرُّنِي أَنْ لِي كَذَا وَكَذَا

کہا اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور باپ کے سوا اپنے آپ کو دوسرے کی طرف منسوب نہ کرو صہیب نے کہا میں پسند نہیں کرتا کہ مجھے احکامات کے

وَأَنِّي قُلْتُ ذَلِكَ وَلَكِنِّي سُرِقْتُ وَأَنَا صَبِيٌّ (م- ۹۸۰) عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَلٍ

کھنے سے اتنا اتنا مال لے لے مگر میں بچہ ہی تھا اس وقت کہ میں بچہ تھا ع

(مُتَكَرِّرًا - ۷۹۹) (۱۰۱۰) بِأَبِ جُلُودٍ وَالْمَيْتَةَ قَبْلَ أَنْ تُدْبِغَ (م- ۹۸۳)

دیکھو حدیث ۷۹۹ ع باب مردار کا چمڑہ پہلے اس سے کہ رنگا جائے

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ (مُتَكَرِّرًا - ۸۰۱) (۱۰۲) بِأَبِ قَتْلِ الْخِنْزِيرِ وَقَالَ

دیکھو حدیث ۸۰۱ ع باب خنزیر کا قتل کرنا اور

جَاءَ رَحْمَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَةَ الْخِنْزِيرِ (۱۰۸۸) عَنْ أَبِي

جابر بن عمر نے کہا نبی صلعم نے سورہ کا بیچنا حرام کر دیا علی ابو ہریرہ سے

علیہ ایک قصہ کی حدیث ہے اور ظاہر ہے کہ جب احکام کی احادیث میں اس قدر اختلاف لفظی ہے جو مکرر روایات سے ظاہر ہے اور جس سے معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی عادت و احکام میں بھی سوائے صلعم کے الفاظ کا ایسی کو محفوظ رکھنے کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا تو ایک ایسی قصہ کی حدیث میں یہ دعویٰ صحیح نہیں کہ اس کا ہر ایک لفظ صلعم کے مترادف نہ ہو محشر میں بھی قصوں کی عادت میں زیادہ تنقید نہیں کی گئی بخاری کے اس حدیث کو کہاں لانے کی غرض

تو صرف اس قدر ہے کہ ایک کا فظ ظالم یا لوشاہ نے حضرت ابراہیم کو ایک دیدہ دی تو انہوں نے اسے قبول کر لیا۔ اب دیدہ تو بڑی بھی ہو سکتی ہے اور محض بڑی بھی۔ اور اگر تو بڑی بھی نہیں تو خدا جانے اس ظالم بادشاہ نے کس کو کپڑا لگا کر دیا ہو۔ یہ موقع اس بحث کا نہیں لہذا ایک سوال اس حدیث سے پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کو بی بی بن کر اس قصہ میں یہ بات کیا؟ میں نہیں جانتی کہ اگر وہ سارہ کو اپنی بیوی کہہ دیتے تو تو کوں سا سلوک وہ ظالم بادشاہ ان سے کرتا؟ قصہ کے مطابق ان کی عفت پر حملہ کرنے کا ارادہ تو اس صورت میں بھی اس نے کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اپنی بی بی کہا اور توجیہ یہ کی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے اسے اپنی بی بی اس لئے کہا تھا کہ وہ ظالم بادشاہ دوسروں کی عورتوں کی حرمت پر یاد دیا کرتا تھا۔ مگر باوجود ہن بنانے کے بھی اس نے ارادہ میں فرق نہیں آیا۔ ظاہر ہے کہ یہ حدیث ہی صحیح نہیں اور یا حضرت ابو ہریرہ کو رسول اللہ صلعم کے الفاظ کو محفوظ رکھنے میں غلطی کی ہے کہ چونکہ یہ قصہ بے ربط ہے اور پھر اس سے ایک نئی ہی طرف جس کو قرآن شریف نے صمد بن قزاد سے بھجوت منسوب کرنا پڑتا ہے اور اس کی یہ توجیہ کہ حضرت ابراہیم کی مرد دینی بی بی بھی کوئی ابھی توجیہ نہیں ہے۔ مکرر روایت مختصر ہے۔ یہاں ابتدا یوں ہے: اختصم سعد بن ابی وقاص و عبد بن زحمة فی غلام فقال سعد - فقال سعد سے آخر تک ایک ہی مضمون ہے۔ الفاظ: فرق ہے اس حدیث میں بھی لفظ کا مکانہ نصرت لینے غلام، لونا بڑی حد تک تسلیم کیا گیا ہے۔ صہیب اپنا نسب یوں بیان کرتے تھے: صہیب بن سنان بن مالک بن عبد عمرو بن عقیل ان کی والدہ بنی تیمم میں سے تھی چونکہ وہ چھوٹی عمر میں قیدی ہو کر رومیوں میں رہتے تھے اس لئے ان کی زبان بھی تھی لیکن تھے عرب موصل کے رہنے والے اور اپنا نسب انہیں یاد تھا زبان بھی ہونے کی وجہ سے عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عمر کی طرح ان پر اعتراض کیا کہ تم بھی ہو کر اپنے تئیں عرب بتاتے ہو۔ صہیب نے جواب میں کہا اگر بہت مال دولت بھی مجھے ملے تو میں اپنا نسب نہیں بدلوں گا میں ہوں عرب لیکن بچپن میں رومی مجھے قید کر کے لے گئے تھے اور وہاں کیری پرورش ہوئی اس لئے زبان رومی ہو گئی صہیب ایک کافر کے غلام تھے اور اس کافر کی ملک کو صحیح تسلیم کیا گیا ہے۔ لفظ نظر قریب وہی ہیں۔ مضمون یہ ہے کہ حکیم بن حزام جاہلیت میں غلام آزاد کرتے تھے اسی سے عنوان ہے۔ مکرر روایت مختصر ہے: ان النبی صلعم ہریشاۃ مینتہ فقال هلا استمتعتم باہا ما قالوا انہا مینتہ قال اما حرمہا اکلہا۔ ابن شہاب ہری کا مذہب ہے کہ مردار کا چمڑہ اگر حیرانگاہی نہ ہو اس سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ فائدہ اٹھانے میں اس کی خرید و فروخت بھی شامل ہے۔ امام بخاری نے بھی اس کی تائید کی ہے اور ظاہر حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر حضرت صلعم نے فرمایا اما حرمہا اکلہا صرف مردار کا کھانا حرام ہے۔ چونکہ مردار اور خنزیر کی صورت کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے (صفر ۳۸)

هَرِيرَةٌ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَيْفَ شِئْتُمْ
روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا اس خوات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے

أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْثِمَ حَلْمًا مَقْسُطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْحَزِيرَةَ
خزیم ہے کہ تم میں ابن مرثیم کے علم حل ہو کہ وہ صلیب کو توڑ دے اور سوز کو قتل کرے

وَيَضَعُ الْحَزِيرَةَ وَيَقْبِضُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ (۱۰۸۳) بَابُ لَا يَدُ ابْنِ
ان سے جو سوخت کر دیکے اور مال کو بیانی طریق پر لے کر لے اور کوئی اسے قبول نہ کرے۔ باب مردار کی چوری نہ

شَعْمُ الْكَيْتَةِ وَلَا يَبَاعُ وَذَكَرَ جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
کالی جانے اور نہ جو اس سے نکلے اسے بیچا جائے۔ ما سے ماہر لفظ بھی صا سے روایت کی ہے

(۱۰۸۴) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ بَلَغَ عُمَرَانُ فَلَا نَابَاعَ خَمْرًا فَقَالَ قَاتِلْنَا اللَّهُ فَلَا نَا
انہما اس سے روایت ہے حضرت عمر کو عمر لی کہ فلاں شخص نے شراب خرچت کی ہے تو کہا ان اس کو تباہ کرے

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاتِلُوا الْيَهُودَ حَرَمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ
کمالے علم نہیں کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ خدا یہودیوں کو تباہ کرے ان بیچہ جینی حرام کی گئی

فَجَمَلُهَا فَبَاعُوا هَارِمًا (۸۴) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ (مُتَكَرِّرًا) (۱۰۸۹) بَابُ بَيْعِ
تو اسے گلارہ بیچ کر لے گیا دیکھو حدیث ۱۰۸۹ باب ان

النَّصَاوِرِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا رُوحٌ وَمَا يَكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ (۱۰۹۰) عَنْ سَعِيدِ بْنِ
نصویروں کا بیچنا جو ذی روح کی نہ ہوں اور وہ حضور پر ایمان میں سے ناپسند کی گئی ہے سعید بن ابی اسحق سے

فقہ صفحہ ۲۸۲
ایک ساتھ ہے اور
مختلف صلعم نے قتل
کر دیا اور صرف کھانا
حرام ہے وختیہ کا
بھی صرف کھانا حرام
ہونا چاہیے اور اس
کے مال کھال خریدنے
سے اور کام لے جا
سکتے ہیں
۱۰۸۳
۱۰۸۴
۱۰۸۹
۱۰۹۰
۱۰۹۰

ہے جب اس کا گوشت کھانا حرام کر دیا اور اس گوشت کو اطلاق کے لئے زیادتی قرار دیا ہے تو جو شخص اس کی تجارت کرے وہ گویا اس کے کھانے میں لوگوں
کو مدد دیتا ہے اور یہ کوئی اچھا فعل نہیں باقی را سوزا کا قتل کرنا اگر وہ کسی کی ملکیت نہ ہو درست ہے بلکہ بعض اوقات جب زراعت کو ان سے نقصان پہنچنے کا
اندیشہ ہو ضروری ہے اگر کسی کی ملکیت ہو تو اس کا مار دینا ایسا ہی ناجائز ہے جیسا کہ کسی کے جانوروں کا کیونکہ وہ ان کے مال ہیں (نوٹ صفحہ ۲۸۲) اس
حدیث پر افضل بحث ابن جابر پر آئی لیکن ایک امر کا یہاں واضح کر دینا ضروری ہے جس کا تعلق سخوان باب سے ہے۔ سخوان باب سے خنزیر کا قتل کرنا جیسا کہ پچھلے نوٹ میں
 واضح کیا گیا ہے یہ صرف اسی صورت میں جائز ہو سکتا ہے جب وہ کسی کی ملکیت ہو کیونکہ پچھلے بابوں میں کفار کی ملکیت کو تسلیم کیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ اس
اصل پر حضرت عیسیٰ ان خنزیروں کو قتل نہیں کر سکتے جو لوگوں کی ملکیت میں اب رہ گئے جنگلی سوز پر کسی کی ملکیت نہیں تو ان کی تعداد یا قتل یا نانو سوزوں کے
 اس قدر قلیل ہے جیسے جنگلی کبریوں کی تعداد یا قتل یا نانو کبریوں کے حضرت عیسیٰ کے چند جنگلی سوزوں کے قتل کرنے سے حاصل کیا جاتا اور اگر بالفرض لوگوں کے
 سوزوں کو بھی مار دیا تو اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ خنزیر کی حرمت یہود میں بھی تھی۔ مگر بنی اسرائیل کے کسی نبی کے متعلق یہ نہیں پایا جاتا کہ وہ کبھی سوزوں کو مارنا یا پھل
 جو۔ پھر خنزیر کی حرمت ربے بڑھ کر مسلمانوں میں ہوئی۔ مگر نبی کریم صلعم نے کسی صحابی نہ کسی ولی یا محدث یا مسلمان بزرگ یا مسلمان بادشاہ کا یہ شغل بڑھا کہ وہ
 سوزوں کو مارنا یا پھرے تو حضرت عیسیٰ کون سوزوں کو مارنا پھرے پھرے میں ظاہر ہے تو ہرگز مراد نہیں۔ امام بخاری کا قاعدہ ہے کہ وہ حدیث کے ایک مجموعی سے لفظ سے
 بھی استدلال کر لیتے ہیں یہ ابن مرثیم کے نزول کی حدیث میں قتل خنزیر کا لفظ آجائے سے انھوں نے سخوان باب قائم کر دیا ہے کہ قتل خنزیر میں ہرچ نہیں مگر اس مسئلہ
 سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ امام بخاری کے نزدیک حضرت عیسیٰ ظاہری معنی میں سوزوں کو مارنے پھرنے کے مفصل بحث اپنے ہر وقت پر آگے آتی ہے کہ اس سے
 مشا کیا ہے۔ سئل جابر کہ یہ حدیث ۱۰۹۰ پر آتی ہے۔ حدیث ۱۰۸۳ اور ۱۰۸۴ میں گدھیا آتا ہے اور کھانا مردار کا صرف کھانا حرام ہے اور یہی قرآن کریم کا اشار
 ہے۔ پس مردار کی چوری پچھلا کر اس سے کھانے کے علاوہ اور کام لینا ممنوع نہیں بلکہ درست ہے اور اس غرض کے لئے اس کا بیچنا بھی ممنوع نہیں اس طرح اس
 کی کھال دباغت سے بیچنا یا بیچنا درست ہے۔ پھر کہ چربی عام طور پر کھائی جاتی ہے اور پچھلا کر اسے کسی کی ملکیت استعمال کیا جاتا ہے اس لئے صلعم نے یہ ذکر کیا کہ یہی
 الفاظ انعاما کھانا ہنات کی وضاحت کرتے ہیں کہ آپ کی ممانعت کھانے تک محدود تھی زیادہ غرض کیلئے۔ سئل اس ماننے پر چربی کے اور صرف یا بالکل نہ تھے یا ممانعت
 محدود تھے یا کچھ کھانے کے علاوہ اسے ممانعت کاموں میں لایا جاسکتا ہے حرمت کھانے تک محدود ہو یا فی غرض کیلئے اس کی تجارت ممنوع قرار نہیں دی جاسکتی ہے۔ حدیث ۱۰۸۹
 صرف حدیث مرفوعہ کا مضمون تقریباً انہی لفظوں میں لایا گیا ہے البتہ یہاں بیچا ہوا کے بعد کلاوا الثمانون لانا ہے۔

۱۰۸۳
۱۰۸۴
۱۰۸۹
۱۰۹۰
۱۰۹۰

تَوَطَّأَ أَوْ بَعَثَ أَوْ عَقَّتْ فَلَيْسَتْ بِأَرْحَمَ مِنْهَا بِحَضْمَةٍ وَلَا سِتْبَلُ الْعَدْرُ أَوْ قَالَ

ہم بستری بونی تھی یا بچی جانے یا آزاد کی جانے تو اس کے ہم کا استبراد ایک شخص سے کیا جائے اور کنواری کے استبراد بیعت و عتق

عَطَا لَهَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ جَارِئَتِهِ الْحَامِلُ مَا دُونَ الْقَرْحِ وَقَالَ اللَّهُ

نہیں اور عطا کرتے ہیں کوئی حرج نہیں کہ حاملہ کو بڑی سے ہم بستری کے علاوہ فائدہ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ فرماتا

تَعَالَى الْأَعْلَى أَنْزَلَ إِلَهُكُمْ أَنْبِيَاءَ مِنْكُمْ ۚ مِنْكُمْ رَجُلٌ مِمَّنْ كَرِهَ

ہے مکران کی بیویوں سے یا ان سے جن کے انکے جاننے یا نہ جاننے مالک ہونے پر

۲۶۷ (۱۱۲) بَابُ بَيْعِ الْكَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ ۱۰۹۳ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

۲۶۷ باب مزار اور بتوں کا بیچنا ماہر بن عبد اللہ سے روایت ہے

أَنَّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَامُ الْقَتْمِ هُوَ مَمْلُوكٌ أَنْ اللَّهُ وَسَطُهُ

کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو

حَرَمٌ بَيْعُ الْخَدَمِ وَالْكَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شَحْمُومٌ

دکول نے مزار اور مزار اور بتوں کا بیچنا حرام کر دیا کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ مزار کی بیچنی

الْكَيْتَةِ وَأَنَّهَا يُظَلُّ بِهَا الشُّفْعَانُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِرُ بِهَا النَّاسُ وَقَالَ

کے متعلق فرمایا ہے کہ عسکری کے بیٹوں پرست نہیں اور اسے کھانوں پر لگاتے ہیں اور لوگ اس سے روشنی کرتے ہیں فرمایا

لَا هُوَ حَرَامٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتِلُ اللَّهِ أَلَيْسَ الْيَهُودَ

نہیں وہ حرام ہے پھر آپ نے اس وقت فرمایا

أَنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شَحْمُومَ هِيَ أَهْمُوهُ وَتَمْرٌ بِأَعْوَدَ فَأَكَلُوا مَمْنَهُ ۱۰۹۳ بَابُ مِمَّنْ الْكَلْبِ

اللہ تعالیٰ نے جب ان پر ہم پر حرام کر دی تو اسے کھلا کر کھاتے تھے اور اس کی قیمت کھانے کے باب سے کی قیمت

کتاب میں جانے نہیں کہ بت فرماتی ہیں سے استلال کیا گیا ہے ہم بستری اور اس کے سوائے دوسرے چیزوں میں جو زوجین کے باہر ہوتے ہیں کوئی فرق نہیں کرتی وہاں

تو صرف یہ لفظ ہیں والذین ہم لغزوہم ما نفلون الا اظلموا اذوا بملکتهم اما ملکتهم انما نفلتہم وخصس فی خروج کی مخالفت کرنے ہیں سوائے بی بیوں یا کنواریوں کے تو اس پر بت وہ کل بائیں آجاتی ہیں جو زوجین کے باہر ہوتے ہیں ہوا اس کے علاوہ مگر سوائے زوجین کے جانے نہیں پس حاملہ

کو بڑی سے جب نکاح نہیں کیا جا سکتا تو اس کے اور اس کے مالک کے درمیان وہ کل امور ناجائز نہیں جو زوجین کے درمیان جائز نہیں اس شرط سے کہ ستیر اور بڑی ہے یہی معلوم ہوتا ہے کہ کو بڑی کی عدت کم رکھی گئی ہے جس طرح اور امور میں بھی اس سے زوجہ کے برابر سلوک نہیں کھایا گیا لیکن نکاح ضروری تھا کیونکہ کل کا ہونا صرف نکاح کے لئے مانع ہے۔ علاوہ ازیں قرآن شریف میں صاف طور پر حکم ہے وانکحوا الا یا ای منکم والصلحاء من عباد اللہ انکم انکحوا

غلاموں اور لونڈیوں کے نکاح کر دو اور النساء ۲۵ میں لونڈیوں کے نکاح کے احکام میں جو وہ ہیں پس قرآن کریم کی ان تصریحات کے ہوتے ہوئے کسی صحابی یا تابعی کی رائے جو اس کے مخالفت ہو قبول نہیں کی جا سکتی اور حدیث باب میں تھا کوئی ذکر نہیں کرتی کہ ہم صلح نے کوئی بی بی اجازت دی بلکہ نکاح ذکر ہے کہ حضرت صفیہ جو آپ نے نکاح کیا تو اس وقت تک نہیں کیا جب تک کہ یہ معلوم نہیں ہو گیا کہ وہ حاملہ نہیں ہے۔ حدیث مکرر روایت ہوئی ہے کہ ان مضمون میں تھا نہ بھی بوقت نام النبی صلح خیر فلما ختم اللہ علیہ الحصن ذکر لہ مجال صفیہ بنتہ حبشیہ بن خطبہ قد قتل زوجہا وکانت عرسا فانما صطفا ہا رسول اللہ صلح لنفسہ

یہا حتی بلغنا صدرا ورحا وحللت فبئنی بہا اسی سے عنوان ہے کہ جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے پاک ہوئیں تو انھوں نے ان سے نکاح کر لی۔ تم صنم جیسا ہے نظم میں ہے تو فرمایا رسول اللہ صلح اذن من حلال ذکاتک داجیہ رسول اللہ صلح علی صفیہ تم خیر حلالی المتذلل انرا وین سوال اللہ صلح لکھوی لہا وراہہ بعبادۃ ثم مجلس عند عبیرہ فی صنم رکتہ فتضع صفیہ وسطہا علی رکتہ حتی تنکب علی رسول اللہ صلح کے جواب لہا ورحا میں نہیں بیچ کی طرف ہے جس کے متعلق سوال تھا جیسا کہ امام شافعی اور بعض علماء کا قول ہے اور رسول اللہ صلح کے لفظ الفاظ اذوا حرم اکلہ جو کلمہ اور ۹۸۳ میں گذر چکے ہیں اور لوگ قول کو غلط سمجھتے ہیں جو حرام ہر آدمی کے کشتوں وغیرہ کے لئے استعمال کو حرام قرار دیتے ہیں ظاہر ہے کہ اصل انبیاء علیہم السلام میں بی بیوں اور اسی حد تک ہے جس چیز کو جس حد تک شریفیت نے حرام قرار دیا یا باگوربت وغیرہ کو حرام قرار دیا جائے کہ ان کی اور کسی چیز سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا نیز کھانے کے لئے یہ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا اور اگر بعبادۃ ہے جس کے کی خامت مانی رہی ہے تو کھانے سے جو بی بی کی خامت مانی رہی ہیں سوائے کھانے کے (باقی بہ صفحہ ۲۸۵)

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱۰۹۴) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ عَن

ابو مسعود انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتب کی قیمت

عَنِ الْكَلْبِ وَمُهْرُ الْبَغِيِّ وَالْحِوَانُ الْكَاهِنِ رَمَى ۹۹۰ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ أَبِي مَحْبُوبٍ مَرْتَدًا ۱۰۳۹

اور بدکار کی اہمیت اور کافروں کی اہمیت سے ترخ فرمایا ہے۔ دیکھو حدیث ۱۰۳۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے اسماء رحیم والے بار بار رجم کرنے والے کے نام سے

۳- کتاب السلام

کتاب السلام

۱) بَابُ السَّلَامِ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ رَمَى ۹۹۱ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مَتَكْرَمًا - ۱۰۹۵)

باب ما مقرر کر کے معلوم کرنا دیکھو حدیث ۲۹۵

۲) بَابُ السَّلَامِ فِي وَزْنِ مَعْلُومٍ رَمَى ۱۰۹۵ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِيمٌ

باب قول مقرر کر کے معلوم کرنا ابن عباس سے روایت ہے کہ

الَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَا وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ وَهُمْ يُسَالِفُونَ بِالْأَثَرِ السَّنَدَيْنِ وَالْثَلَاثِ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے اور لوگ محوریوں اور مہینوں کی مبادی پر سلام کیا کرتے تھے

فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلِ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجْلِ مَعْلُومٍ

و فرمایا جو کسی چیز میں سلام کرتا ہے تو مہینوں میں اور مہینوں میں مہینوں میں مبادی تک کہ

رَوَى رَوَايَةً فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجْلِ مَعْلُومٍ رَمَى ۹۹۲

اور ایک روایت میں ہے کہ مہینوں میں مہینوں میں مہینوں میں مبادی تک رجم کرے

بقیہ صفحہ ۲۸۷

دو مرتبہ ہنگام میں

اس جہاں جہاں کو لانا تو ہر حال میں نہیں لیکن

سوال یہ ہے کہ پھر اس کی تجارت سے کیوں دکان اور بیعہ اس کی تجارت کے اس کا استعمال کیجئے ہو سکتا ہے تو اگر اس حدیث کو صحیح قرار دیا جائے اور اس سے کتب لیا جائے تو اس کا مطلب سوائے اس کے کچھ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس لئے فرمایا کہ ایسا نہ ہو تو گاہے گاہے اسے استعمال میں لائے نہیں صرف جب ایک چیز کا ایک مصرف جائز ہے تو

اس غرض کے لئے اس کا خریدنا اور بیچنا بھی جائز ہونا چاہیے۔ (نوٹ: صفحہ ۲۸۶)۔ ۴- میں ہے احادیث کثیرہ الطبیعیات کا علم تم میں الجوارح مکمل میں تعلم ہونے کا علم کہ اللہ فکروا عما امسکن علیکم اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں کتا رکھنے ایسے تعلیم ہے اس سے شکار کرنے اور اس کے مالے ہونے شکار کو کھانے کو جائز قرار دیا ہے۔ اور احادیث میں بھی شکاری کتا اور گھوڑا اور مویشیوں کی حفاظت کیلئے کتے کے رکھنے کی اجازت دی ہے۔ اور اصول یہ ہے کہ جس چیز سے نفع اٹھایا جاتا ہو اور اس سے اخلاق خبیلات اور جرم پر اثر نہ پڑتا ہو اس کی بیع درست ہے جیسے مردار کی کھال اور راج تو اور بھی بہت کام ان سے لئے جاتے ہیں خصوصاً برف میں وہ بڑے بڑے نمز کے کام انجام دیتے ہیں اور سینکڑوں ڈیر قیمت پر فروخت ہوتے ہیں اس لئے امام ابوحنیفہ کے نزدیک صرف خودی کائے والے کتے کی قیمت درست نہیں۔ ایسے کتے کو فروخت کرنے کی بجائے مار دینا چاہئے۔ امام مالک نے کتے کی قیمت کو مکادم اخلاق سے بعید سمجھا اس لئے اسے نہی خلاف اولیٰ کے معنی میں لیا ہے نیز دیکھو ۱۰۳۹۔ ۵- کابن: وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو ان کی خدمت تانے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ انہ ان کے لئے کیا ہونے والا ہے۔ ۶- عاب: یہاں ۱۰۳۹ کا مضمون تقریباً اتنی لفظوں میں دوہرایا ہے البتہ یہاں ایک نسخہ مراد شتوری صحابہ کے بعد زیادہ ہے خانہ مجاہدہ فکسورت اور زہیات میں یہاں کسب کا معنی تو بڑی کی بدکاری کی گمانی کا ذکر زیادہ ہے۔ ۷- عاب: بعض وقت اندک بھی وغیرہ کے لئے پیشگی قیمت دے دی جاتی ہے یا اس لئے کہ ملتا نہیں یا اس لئے کہ پیشگی قیمت دینے سے مال کچھ مستانے گا۔ اس خرید و فروخت کو بیع مسلم کہتے ہیں۔ اور اسے چند شرائط کے ساتھ جائز رکھا گیا ہے مشتری وقت و مال دیا کہ کے دینا ہوس کی مبادی مقرر کرنا چاہئے نئے کا اندازہ ایک مہینہ یا پ تول کے ساتھ مقرر کرنا چاہئے پیشگی قیمت ادا کرنے سے عموماً مال کچھ مستانے ہے لیکن ممکن ہے اس وقت تک وہ مقرر کردہ نرخ سے مستانے ہو جائے اس لئے اس میں بخاندہ کی بجائے کسی نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے اس لئے بیرونی معاملہ نہیں البتہ اگر غیر معمولی طور سے نرخ مستانے مقرر کر دیا گیا ہو کہ اس نرخ پر بھی ال ملتا ہی نہیں جیسا کہ یہاں کہتے بیع مسلم میں بشرط نہیں کہ بائع کے پاس وقت بیع مال موجود ہو بلکہ بشرط ہے کہ وقت پر مال ہتیا کرے گا۔ ۸- عاب: کہ روایت میں ۱۰۹۵ کا مضمون بالئے دوہرایا گیا ہے۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مكرر - ۱۰۹۵) (م - ۹۹۳) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ

دیکھو حدیث ۱۰۹۵ اول

(مكرر - ۱۰۹۶) (م - ۹۹۶) بِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ

بنا اب ایچہ شخص سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سال کے

مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ بَعَثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَادٍ قَبْلَ

محمد بن ابی جعفر ابن ابی جعفر سے روایت ہے کہ مجھے

عبداللہ بن شداد

بُرُودَةَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ قَالَ سَلِمَةُ هَلْ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

نے عبداللہ بن ابی اوفی کے پاس بھیجا دو دن کے کان سے پوچھ کر کیا

ابی مسلم کے اصحاب

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّفُونَ فِي الْخَيْطَةِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں

کہوں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو عبداللہ نے کہا

كُنَّا نَسْلِفُ نَيْطَةَ أَهْلِ الشَّامِ فِي الْخَيْطَةِ وَالسُّعْرِ وَالزَّيْتِ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ إِلَى

ہم شام کے لوگوں کو نیتہ اور سویر اور زیت کے کیل میں

أَجَلَ مَعْلُومٍ فَلَمَّا إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلُهُ عَبْدًا قَالَ مَا أَكُنَّا نَأْتِيهِمْ عَنْ ذَلِكَ

تھیں مگر جا کرتے تھے میرے عرصے میں ان کے ساتھ جن کے پاس اصل ابی جعفر تھا ان سے اس کے عقول پہنچا نہیں کرتے تھے

لَمْ يَكُنَّا فِي عَهْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَسَائَةَ فَقَالَ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى

پہرا انوں نے مجھے عبدالرحمن بن ابی نسی کے پاس بھیجا ان سے ان سے پوچھا کہ

ابی مسلم کے اصحاب

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّفُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا نَسَائَةُ أَلَهُمْ حَرْبٌ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے ان کے پاس

أَمَّا أَبُو فَرْدٍ قَالَ فِي الْخَيْطَةِ وَالسُّعْرِ وَالزَّيْتِ (۱۰۹۷) عَنْ أَبِي

فردی کے زمانہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے ان کے پاس

أَبِي بَرٍّ الْقَلْبِيُّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَامِ فِي النَّخْلِ قَالَ تَتَى النَّبِيَّ

ابن عباس سے روایت ہے کہ ان میں نے ابن عباس سے

دعوت پہنچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُؤْتَى قَالَ الرَّجُلُ

صلی اللہ علیہ وسلم کے عرصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اور یہاں تک کہ وہ نخل کے پالے ایک شخص نے کہا

وَأَيُّ شَيْءٍ يُؤْتَى قَالَ الرَّجُلُ أَلِي جَانِبِهِمْ حَتَّى يُعْزَرَ (۱۰۹۸) بِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ

کہیں ہیں جوڑوں کے پالے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑوں کے پالے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مكرر - ۱۰۹۷) (م - ۹۹۵) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ

دیکھو حدیث ۱۰۹۷ اول

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مكرر - ۱۰۹۷) (م - ۹۹۵) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

ابی اوفی نے پوچھا کہ
فقال انما كنا نسلف
على عهد رسول
الله صلى الله عليه
وسلم وان يكون غير
في الخيطه والتعير
والزيت والتمر
وسالت ابن ابي
وقال اصل ذلك
بندط يا نبط يا
التماط عرب في
ايك قوم حتى يوفوا
اور دعویوں میں
ہی گئی تھی جس سے
ان کے نسب کا
انہیلا باقی رہا
اور زبان بھی خاص
علی نبی صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کے تھے
ہیں۔ یہ کہ شکار
انہوں میں سے تھے
انہوں کے نسلانی کی روایت رکھتے تھے وہ شکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے تھے
یا خاص بارگ کا نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ اتنا کہ شکار مال جو تہہ جو بائ کے ذمہ ہوتا ہے اس کے گھوڑوں کی بیع مسلم ہا کہ ہے۔ کھانے کے قابل ہونے سے
پہلے صرف بیعت ہوتی کہ گھوڑے کی بیع سے پہلے وہ مسلم ہیں۔ یہاں لفظ یہ ہیں: سالت ابن عباس عن المسلمین النخل فقال فقال
بیع النخل حتی یصلم وعن بیع اور فی نسأ۔ بنا جزو سالت ابن عباس عن المسلمین النخل فقال فقال النبی صلی اللہ علیہ
وسلم عن بیع النخل حتی یؤکل منہ ویا کل منہ وحتی یؤذن۔ کے نہایت تخفیف اختلاف نقلی سے ۹۹۴ کو دوہرایا
ہے۔ اور آخر میں لکھا ہے وما جردن النخل رجل عنده حتی یعزر۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مكرر - ۱۰۹۷) (م - ۹۹۵) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ

(۶) بَابُ الْكَفِيلِ فِي الشَّيْءِ (۹۹۶) عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَرَّرٌ - ۱۰۳۰) (۶)

باب بیع مسلمین خاصوں کے بارے میں

(۷) بَابُ الرَّهْنِ فِي الشَّيْءِ (۹۹۷) عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَرَّرٌ - ۱۰۳۰) (۷) بَابُ الشَّيْءِ

باب شے میں گروی رکھنا

إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ كَيْدَهُ قَالَ بِنُ عَيَّادُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْأَسْوَدُ وَالْحَسَنُ قَالَ ابْنُ مَرْزُوقٍ

مقرر تک مسلم کرنا

أَنَّ أَسْرَءَ الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسَعْدٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مَا لَمْ يَكُ ذَاكَ فِي تَرْغِ

کئے ہیں غلام میں گامخ میں بیان کی گئی ہے اور اس سے مراد ہے کہ اگر کسی خاص کو گروی میں رکھیں تو اس کی

بَابُ مَبْدَأِ صَلَاحِهِ (۹۹۸) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مُتَكَرَّرٌ - ۱۰۴۵) (۸) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

ظاہر نہ ہونی ہو

(مُتَكَرَّرٌ - ۱۰۹۶) (۸) بَابُ الشَّلَامِ إِلَى أَنْ تَلْقَى النَّاقَةَ (۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (مُتَكَرَّرٌ - ۱۰۶۷)

باب بیعتی مسلموں میں بیعت اور گروہوں میں بیعت کرنا اور کسی چیز سے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اگر بے انتہا رحم والے

کتاب الشفعة ۳۶

(۱۰) بَابُ الشَّفْعَةِ فِي مَالٍ يُقْسَمُ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَلَا شَفْعَةَ

باب بیعت تقسیم شدہ میں سے شفعہ

(۱۰۰۱) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (مُتَكَرَّرٌ - ۱۰۸۴) (۱۱) بَابُ عَرْضِ الشَّفْعَةِ

دیکھو حدیث ۱۰۸۴ باب شفعہ والی چیز کو

عَلَى صَاحِبِهَا وَقَبِلَ الْبَيْتُ وَقَالَ الْكَلْبُ إِذَا أَدَانَ لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَلَا شَفْعَةَ لَهُ وَ

اس کے حقدار پر بیعت سے پہلے پیش کرنا اور حکم میں کہ جس نے فروخت کی اجازت فروخت کرنے سے پہلے دیدی تو اس کا شفعہ نہیں

قَالَ الشَّعْبِيُّ مَنْ بَعَثَ شَفْعَتَهُ وَهُوَ مَاهِدٌ لَا يَغْتَرُّهَا فَلَا شَفْعَةَ لَهُ

اور شعبی کہتے ہیں کہ شفعہ کی چیز کو بے گروہی اور گروہوں میں سے

(۱۰۹۸) عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي شَرِبَةَ قَالَ وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَجَاءَ

سورین غزوہ تبوک اور ان کے ساتھ تھے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا سَعْدُ ابْتَغِ بَيْتِي فِي تَدَارِكِ فَقَالَ سَعْدٌ وَاللَّهِ

میں نے سعاد سے دو گھر خریدا اور ان کے محل میں میں انہیں خریدیں سعاد نے کہا واللہ

مَا ابْتَاعَهُمَا فَقَالَ السُّورِيُّ اللَّهُ لَتَبْتَاعَهُمَا فَقَالَ سَعْدٌ وَاللَّهِ لَا أَرِيدُكَ عَلَى

میں نہیں خریدتا انہیں چاہتا سعاد نے کہا واللہ اب انہیں خریدیں گے تو سعاد نے کہا واللہ

۱۰۳۰ سے پہلے مسلم میں قیمت
بیعتی اور گروہوں میں سے
ہے جو کتنا ہے کہ
کے بارے میں گروہوں میں سے
ہو جائے اور وہ بیعت
یعنی قیمت بھی اس میں
مل کے لئے بیعتی
باقی بیعت کے
بدلے ضمانت کے
کتاب ہے جو طرح
تھی کہ یہ صلح ہے جب
یہودی سے اور ما
المنج خریدی تو زورہ
۱۰۳۰ سے پہلے
علا کر روایت
یہ کہ کرنا عند
اسو اہم الرهن فی
الاسلم فی حق من
۱۰۹۰ کا ہے
علا کر روایت کا
مضمون ۱۰۱۱ کا ہے
علا بیعتی صلح
خاص کیفیت کے
متعلق نہیں ہو سکتی
کلاس کی بیعت ہوا
دی جانے کی جب
یک کہ فصل یک تم
جائے
۱۰۹۵ کے لئے
ہے۔ یہاں ایک
روایت میں وہی
معلوم ہے کہ
ورایک میں نہیں
ملاحظہ فرمائیں
کی کئی بیعتی ہے
ابورودہ و عبد اللہ
بن شداد علی
عبد الرحمن بن ابی
وعبد اللہ بن ابی
اونی بن اللہ بن
السلف فقال انما
نصبت لغنا
رسول اللہ صلح
۱۰۳۰ سے پہلے
۱۰۹۵ کے لئے
۱۰۹۵ کے لئے

ارْبَعَةَ اَلْفٍ مِّنْ ثَمَرَةٍ اَوْ مَقْطَعَةٍ قَالَ اَبُو رَافِعٍ لَقَدْ اَعْطَيْتُ بِهَا خَمْسَةَ مِائَةٍ

چار ہزار (درم) قسط وار سے زیادہ نہیں تھی سننا ابو رافع نے کہا مجھے ان کے بدلے پانچ سو دیار ملے ہیں

دِيَارًا فَاُولَٰئِكَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اَلْحَادِثُ بِسِقْبِهِ مَا اَعْطَيْتَهُ مَا

اگر میں نبی صلعم کو نہ سنتا کہ فرماتے کہ ہمسایہ اپنے قریب کی وجہ سے زیادہ مقدار دے تو میری وجہ سے

بِارْبَعَةِ اَلْفٍ اَنَا اَعْطَيْتُهَا خَمْسَةَ مِائَةٍ دِيَارًا فَاَعْطَاهَا اِيَّاهُ (۳) بَابُ اَلْحَادِثِ اَلْحَادِثُ

چار ہزار ہر نہ دینا جبکہ مجھے ایک ہلکے پانچ سو دیار ملے ہیں تو ابو رافع نے وہ دو تین سو کو دے دیئے باب کوئی ہمسائت زیادہ قریب ہو

رَوَاهُ (۱۰۹۹) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ لَنْ يَجْرِيَنَّ عَلَيَّ اَلْاِثْمُ اَلْاَيْدِي اَلْاَقْرَبُ بِهَا مِنْكَ يَا

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری دو ہاتھوں میں تو ان میں سے کسی ہاتھ سے جو کچھ میری طرف سے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ بار بار کہنے والے کے نام سے

۳۷- بَابُ فِي الْاِجَارَاتِ

باب (معاملات) اجارہ

(۱) بَابُ اسْتِئْجَارِ الرَّجُلِ لِرَجُلٍ لَصَدَقَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى اِنْ خِفْتُمْ مِنْ اِسْتِجْرَافِ الْفُقَرَاءِ الْاَقْرَبُ

باب نیک آدمی کو نیک رکھنا اور اشد قافی کا قول بہترین ذکر جو رکھنا ہے طاقو را در اجارہ (المقصود ۲۲۷) اور لا تذاخر علی

اَلْفُقَرَاءِ الْاَقْرَبُ وَمَنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْ مِنْ اَرَادَةَ (م- ۱۰۰۲) عَنْ اَبِي مُوسَى (متكدر- ۷۷۰)

اور جس نے اسے عامل رکھا تو نہیں کیا جو اس کی خواہش کرتا ہے

(۱۰۰) عَنْ اَبِي مُوسَى قَالَ اَقْبَلْتُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِيَ رَجُلَانِ مِنْ

ابو موسی سے روایت ہے کہ میں نبی صلعم کے پاس حاضر ہوا اور میرے ساتھ دو مسکین (مسکین) تھے

الْمَشْكُرَيْنِ فَقُلْتُ مَا عَلِمْتُ اَهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ فَقَالَ لَنْ اَوْلا سْتَعْمِلَ عَلَيَّ

دو آدمی تھے میں نے عرض کیا مجھے علم نہ تھا کہ یہ دونوں کس کام کی خواہش رکھتے ہیں فرمایا ہم اپنے کام پر ایسے شخص کو مقرر نہیں

عَلِمْنَا مَنْ اَرَادَهُ (۲) بَابُ رَحْمَى الْعَقْمِ عَلَيَّ قَرَارِيضَ (۱۰۱) عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ

کہنے جو اس کی خواہش رکھتا ہو باب کوئی شرط پر بکریاں چرانا ابو ہریرہ سے روایت ہے

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا اِلَّا رَحِمَى الْعَقْمِ فَقَالَ اصْحَابُهُ

روایت کرتے ہیں فرمایا اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس نے بکریاں چرائیں آپ کے صحابہ نے عرض کیا

بعض کے نزدیک صرف بیوقوفوں میں ہے جیسے زمین اور مکان نازا وقت الحد و دوصرفت الطرق اسی کی تائید کرتا ہے۔ علم روایت تہدید کے متعلق ہے۔ استدلال یہ کیا ہے کہ شفعہ میں ہی قریب دروازہ وہاں ہمسایہ زیادہ حق دار ہوگا۔ علم عنوان باب میں نہیں بلکہ کا ذکر ہے (۱) نیک آدمی کو نیک رکھنا۔ اس کی تائید آیت قرآنی سے کی جس میں حضرت شعیب کے ان کی برائی نے درخواست کی تھی کہ حضرت موسیٰ کو نیک رکھیں۔ کیونکہ وہ طاقو بھی ہے اور امین یعنی نیک بھی ہے۔ مسلمان سلطنتوں کو جو نقصان پہنچا ہے وہ امین محمد سے داروں کے نہ ہونے سے پہنچا ہے (۲) خزانچی امین جو اس کی تائید ۱۰۰۲ سے کی ہے۔ (۳) جو شخص کسی کام کے لئے خود در خواست ہے جس سے اس کا لالچ معلوم ہوتا ہو اسے اس کام پر نہ لگایا جائے اس کی تائید مستلک سے کی ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہاں حکام اور عاملین کو نیکوں اور مزدوروں کی ذمہ داری رکھنا ہے اور اس طرح حکام کی اصل پوزیشن کو واضح کیا ہے۔ کہ وہ نیک یا مزدور ہیں۔ کس قدر بلند خیال جمہوریت کا ہے۔

علم ہاں المسلمو کا ملامتو فرما فیہ ذمہ الی الذی امر لہ بہ نہیں باقی مضمون تقریباً انہی لفظوں سے دوہرایا گیا ہے۔ ہاں واقعات نہایت مختصر ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی گفتگو سے بالشرہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فرست سے معلوم کر لیا کہ یہ لوگ محض لالچ سے آئے ہیں۔ اور ان کی عرض قدرت نہیں۔ اگر خلوص نیت سے کسی کام کے کرنے کی خواہش ہو تو یہ کوئی بُری بات نہیں حضرت یوسف نے بادشاہ کو کھانا اچھا بنی علی خزانہ الارض کسی کام کے لئے درخواست کرنا گناہ نہیں سالا انحصار نیت پر ہے۔

علم اس سے معلوم ہوا کہ پڑوس کی وجہ سے بھی حق شفعہ دیا جاتا ہے جیسے شراک کی وجہ سے ہونا ہے اثبات حق شفعہ کی دو وجہ ہیں بیع یا حقوق بیع کی تقسیم کے بعد اگر جو اور پڑوس کو حق شفعہ بھی قائم رہتا ہے۔ ۱۰۸۵ میں جو یہ ہے کہ تقسیم کے بعد حق شفعہ نہیں اس سے مراد یہ ہے کہ شراک کی وجہ سے حق شفعہ پھر باقی نہیں رہتا پھر لکھے باب میں یہ ثابت کیا ہے کہ پڑوس میں سے کسی کا دروازہ زیادہ قریب ہو پیلے حق اس کا ہے حق شفعہ کا پھلا حقدار وہ ہے جو ذات بیع میں شراک ہو پھر وہ جو حقوق بیع میں شراک ہو پھر شراک بعض کے نزدیک حق شفعہ منظور اور غیر منظور جائداد دونوں میں ہے اور

بعض کے نزدیک صرف بیوقوفوں میں ہے جیسے زمین اور مکان نازا وقت الحد و دوصرفت الطرق اسی کی تائید کرتا ہے۔ علم روایت تہدید کے متعلق ہے۔ استدلال یہ کیا ہے کہ شفعہ میں ہی قریب دروازہ وہاں ہمسایہ زیادہ حق دار ہوگا۔ علم عنوان باب میں نہیں بلکہ کا ذکر ہے (۱) نیک آدمی کو نیک رکھنا۔ اس کی تائید آیت قرآنی سے کی جس میں حضرت شعیب کے ان کی برائی نے درخواست کی تھی کہ حضرت موسیٰ کو نیک رکھیں۔ کیونکہ وہ طاقو بھی ہے اور امین یعنی نیک بھی ہے۔ مسلمان سلطنتوں کو جو نقصان پہنچا ہے وہ امین محمد سے داروں کے نہ ہونے سے پہنچا ہے (۲) خزانچی امین جو اس کی تائید ۱۰۰۲ سے کی ہے۔ (۳) جو شخص کسی کام کے لئے خود در خواست ہے جس سے اس کا لالچ معلوم ہوتا ہو اسے اس کام پر نہ لگایا جائے اس کی تائید مستلک سے کی ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہاں حکام اور عاملین کو نیکوں اور مزدوروں کی ذمہ داری رکھنا ہے اور اس طرح حکام کی اصل پوزیشن کو واضح کیا ہے۔ کہ وہ نیک یا مزدور ہیں۔ کس قدر بلند خیال جمہوریت کا ہے۔

وَأَنْتَ وَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارٍ لِيَطْلُ أَهْلُ مَكَّةَ رَسْمًا بِأَبِ مَتِيحٍ

قراب نے فرمایا ان میں گروہوں کی نظر میں چند فی اطر پر ہر ایک کرنا تھا علی باب ضرورت کے

الْمَشْرِكِينَ عِنْدَ الظَّرْوَةِ أَوْ إِذَا لَمْ يُوْجَدْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ وَعَامِلُ النَّبِيِّ صَلَّى

وقت ضرورتوں کو توڑ کر رکھنا یا جب مسلمان نہ لے اور نبی صلعم کے اور نبی صلعم

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودٌ خَيْرٌ مِنَ الْإِسْرَائِيلِيِّينَ وَالنَّجْرِيُّونَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

یہود کے یہود سے (یعنی باہمی کام لیا گیا حضرت عائشہ سے روایت ہے اور نبی صلعم

وَسَامٌ وَأَبُو بَكْرٍ جَلَاءُ مَنْ بَنَى الدَّلِيلَ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَبْدِ بْنِ هَادِيًا

اور حضرت ابو بکر نے بنی ہاشم میں سے ایک آدمی کو مزدور رکھا جو نبی عبد بن عبدی کے خاندان سے تھا وہ

خَيْرٌ مِنَ الْغَزْوَةِ الْمَاهِرِيَّةِ قَدْ غَمَسَ بَيْنَ حَلْفِ فِي آلِ الْعَاصِ ابْنِ

رستہ بننے میں ماہر تھا غزوت رستہ دکھانے میں مہارت رکھنے والے کو کہتے ہیں اس نے ماہر کو ہر عاص بن واصل کے خاندان

وَأَبْنِ وَهُوَ عَلَى دِينِ كَقَارِ قَرِيْشٍ قَامَنَا هَذَا فَعَالِيَةُ رَأِحَتِيْهَا وَعَدَاةُ

سے عہد کیا تھا اور وہ کفار قریش کے دین پر تھا دونوں نے اس کا بھروسہ کیا اور اپنی دونوں سواریوں کے پیر کو قبول کرنا شروع کر دیا

عَارُؤُورٍ بَعْدَ ثَلَاثِ كِيَالٍ فَأَتَاهُمَا بِرَأِحَتِيْهَا صَبِيحَةَ كِيَالٍ ثَلَاثِ فَارْحًا لَوْ وَأَنْطَلَقَ

یہاں آئینہ کے بعد غزوت رستہ پہنچا تو اس نے دونوں سواریوں پر رات کی سوچ کر لاکر ان کے پاس سے مزدوریں لیں دونوں روانہ ہوئے

مَعَهُمَا حَامِرٌ مِنْ نَهْمِيْرَةَ وَالذَّلِيْلُ الدَّيْلِيُّ فَأَخَذَ بِهِمْ وَهُوَ طَرِيقُ السَّاحِلِ (۱۲)

اور ان کے ساتھ حامر بن نهمیرہ بھی چلا اور راستہ بتانے والا رہا تھا تو وہ انہیں (مسند رکھ کر) کہا کہ تم نے کیا سنا ہے

بَابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَحْمَرًا لِيَعْمَلَ لَهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ بَعْدَ

باب جب کسی مزدور کو دکھا کر اس کے لئے تین دن یا ایک ماہ یا ایک سال کے بعد کوئی کام

سَنَةٍ جَازَ وَهَمَّا عَلَى شَرْطِهَا الَّذِي اشْتَرَطَاهُ إِذَا جَاءَ الْأَجَلَ (م- ۱۰۰۳)

کرنے کو تو درست ہے اور جو شرط دوڑوں سے پھیرائی ہو وہ اس کے پابند نہیں ہے جب (کام کا) وقت آئے گا

عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَرَّرًا ۱۱۰۱) (۱۱۰۵) بَابُ الْأَجْرِ فِي الْعَزْوِ (۱۱۰۲) عَنْ يَحْيَى بْنِ

دیکھو روایت ۱۱۰۱ باب لڑائی میں مزدور سے جانا یا علی بن اسحاق سے

أُمِّيَّةٌ رَضِيَ قَالَ عَزْوَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْعَسْرِ قَكَانَ مِنْ

روایت ہے کہ میں نبی صلعم کے ساتھ جیش العسیر (جنگ بونوک) میں شریک ہوا تھا اور میرے جارا

۱۱۰۱

۱۱۰۲

۱۱۰۳

۱۱۰۴

۱۱۰۵

۱۱۰۶

۱۱۰۷

۱۱۰۸

۱۱۰۹

۱۱۱۰

۱۱۱۱

علی بنی ہاشم امت کے حق میں ایسا ہی ہوتا ہے جیسے چودا یا بکریوں کے حق میں کہ وہ ان کی حفاظت کرنا اور ان کی ترقی اور بھلائی کا سامان حاصل کرنا ہے۔ نبی کریم صلعم نے ان کے لئے ان کی میں اجرت پر بکریوں پر ایسی قادیانہ جو کہ قسم کے کام تھی کہ دوہ کا دوہنا بکریوں کے اور جوئی کی مرمت بازا سے سودا داران کو کرایہ اٹھانا سب کام اپنے ہاتھ سے کر کے دکھائے، اجرت پر کوئی کام کرنا انسان کے لئے باعثِ ذلت نہیں باعثِ عزت ہے۔

جس کے سپرد حکومت کا یا کوئی اور ذمہ داری کا کام کیا جائے اور جہاں یہ معلوم ہو کہ غیر قوم کے لوگ امانت کے اہل نہیں ہوں ان کو مسلمان حکومت میں ہجرتی کے کاموں پر رکھنا سمجھنا غلط ہے۔ جہاں کا تمنا یہ ہے کہ مسلمانوں کی تباہی کے رنگ میں مسلمانوں کو بھرا جائے۔ علیؑ پر ایک نبی حدیث کا فقر ہے جو باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتی ہے۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ جب باہم عہد کرتے تو اسے مضبوط کرنے کے لئے اپنے ہاتھ خون یا خوشبو یا کسی ایسی چیز میں ڈال دیتے تھے کہ اس سے ان کے ہاتھ نشان پڑھ جاتا۔ تمام غمیں یا حلف فی آل عاصی الخ میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ علیؑ یہاں مختصراً ہے۔ استاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و جلالہ بنی الدیل ہادی یا سحریتا و هو علیؑ دین کفار قریش فد فعا الیہ راحلتیہما و عدایہ غار ثور بعد ثلث لیا ل بر ا حلتیہما صبیحہ ثلاث پہلے سے مفکر کیا کہ تین دن بعد وہ فلاں کام کرے گا تو اسی طرح ایک ماہ یا ایک سال کی بھی پھیرائی جاسکتی ہے۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ فَأَهْدُرْتَنِيَّتَهُ وَقَالَ أَفَيْدُكُمْ أَصْبَعَةً فِي فَمِكَ تَقْضُمُهَا

آپ نے اسے دانت کا پلہ نہیں دلوایا اور فرمایا کہ وہ اپنی انگلی تیرے منہ میں پھری لپٹنے دیتا کہ تو اسے چبانا

قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ لِمَا يَقْضُمُ الْفَحْلُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ

ہانا کہا میں خیال کرتا ہوں کہ اس کا جسم صحت اور نفع چاہتا ہے ابن جریج کہتے ہیں کہ مجھ سے عبد اللہ ابن

أَبِي مُؤَيْبَةَ عَنْ جَدِّهِ بِمِثْلِ هَذِهِ الصَّفِيَّةِ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَأَنْذَرَ

ابن مؤیب نے اپنے دادا سے ایسا ہی واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص نے دوسرے کا ہاتھ کاٹا اس کا دانت نکال دیا

تَنِيَّتَهُ فَأَهْدُرَهَا أَبُو مُؤَيْبَةَ (۱۰۸) بَابُ مَنْ اسْتَأْجَرَ أَحْيَاءَ فَبَيَّنَ لَهُ الْأَجَلَ

تو حضرت ابو مؤیب نے اس کا پلہ نہیں دلوایا باب جو مزدور رکھنے اور اس سے عیب یاد بیان کر دے

وَلَمْ يَمِيزْ بَيْنَ الْعَمَلِ لِقَوْلِهِ لَبِيْ اُرَيْدَانُ اَلْحِكْمُ اِحْدَى بَنَاتِيْ هَاتَيْنِ اِلَى عَوْلِهِ

اور کام نہ بتائے جیسے اصرہ ثقیانی فرماتے ہیں چاہتا ہوں کہ میری بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تجھ سے کر دوں

عَلَى مَا نَقُولُ وَكَيْلُ نَكْرٍ الْعَصْرُ (۱۰۹) بَابُ مَا جَاءَ فِيهِ مِنَ التَّعْزِيَةِ بِأَجْرِكَ اللَّهُ

علی ما نقول وکیل نکر العصر باب اسے باجر فلا ناز یعنی اسے اجرت دینا چاہو اسی سے تعزیرت کے وقت کہتے ہیں اجرک اللہ یعنی اللہ

(۱۰۸) بَابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَحْيَاءَ عَلَى أَنْ يُقِيمَهُ حَاطًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ جَارَ

باب جب کوئی کسی کو اس کام کے لئے مقرر کرے کہ وہ کوئی چیز دیکھ کر کھڑے ہو جائے تو دست ہے

(۱۰۹) عَنْ أَبِي بِنِ كَيْبٍ (مُسْكِرٌ - ۱۰۸) بَابُ الْأَجَارَةِ إِلَى نِصْفِ

دیکھو حدیث ۱۰۸ باب اسے جو دھون لکھنے مزدور رکھنا

الْقَهَارِ (۱۰۵) عَنْ ابْنِ حَمْرٍ (مُسْكِرٌ - ۱۰۶) بَابُ الْأَجَارَةِ إِلَى صَلَوةِ

دیکھو حدیث ۱۰۵ باب عصر کی نماز تک مزدور رکھنا

الْعَصْرِ (۱۰۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمْرٍ (مُسْكِرٌ - ۱۰۷) بَابُ اَلَّذِي مَنَعَ

دیکھو حدیث ۱۰۶ باب اس شخص کو لگانا جو

أَجْرًا لِأَجِيرٍ (۱۰۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُسْكِرٌ - ۱۰۹) بَابُ الْأَجَارَةِ

مزدور کی مزدوری نہ دے باب عصر تک کے

مِنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ (۱۰۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُسْكِرٌ - ۱۰۷) بَابُ

رات تک مزدور رکھنا

علی بن ابی ہاشم
ابن مؤیب سے کہہ نہیں
کہ کس کام کے لئے
حضرت ابو مؤیب کو توکر
رکھا گیا تھا کہ قرآن
سے معلوم ہوتا ہے
کہ یہ کام کو بیان فرماتے
ہیں اس لئے کہ تھا
قرآن کریم قصہ کی
تمام تفصیلات کو
نہیں دیتا اس لئے
مجلس ایک امر کے
اس میں مذکور ہے جو
سے کوئی استلال
نہیں ہو سکتا
عنا ابن جریج
مخانی صحیح ابن جریج
دینا مہینے مراد نہیں
بلکہ مہینے ہی کہہ
آٹھ سال میرے
اجیر یا دو کر
مجلس یعنی اگر صرف
کام یا اجرت مقرر
کی جائے اور نہیں
بلائی کی شرط رکھائی
جائے کہ اتنی مدت
میرے کام پورا ہو
قریب بھی درست
مجلس ہاں ۱۰۷
لا صرف ایک گھر

ہے فانطلقا فوجا جدا جدا را بویان بیعتہن قال سعید بن مسعود قال سمعت ابا قال فسمی سعید
فاستقام قال لو شئت لاتخذت علیہ جملہ قال سعید اجرا تا کلہ وہ مطالبہ ہے کہ تم کوئی حدیث ہی نہیں کہوں جس میں کاہر یا کتا وقت جوہ
مجلس ہاں الفاظ یہ ہیں؛ مثلاً کہ مثل عمل الکتبا میں کہ ان رجول استأجر اجراء فقال من عمل فی من غدا فانی نصف النهار علی قیوط فعلت ایہوش
شوقال من یعمل فی من نصف النهار فی صلوة الفاء علی قیوط فعلت ایہوش فقال من یعمل فی من نصف النهار فی ان تغیل الشمس علی
قیوطین فانتم هم ففوضت الیہود والنصارى فقالوا ما لنا اکثر عملنا واسل عطا قال هل نقصتکم من حکمہ قالوا لا قال خذ لکم
فضل او تہ من انشاء یہ حدیث ۱۰۷ کے علاوہ ۱۰۸ میں اگر بھی ہو تو ان کے الفاظ میں فرق ہے ان ذکر ہے کہ پہلے تو کوئی اجیر
کو ایک کام دیا گیا اور ۱۰۸ میں بھی ہے کہ انہیں رات نام کر لینے کا کیا تھا اور یہی ذکر آگے ۱۰۹ میں ہے کہ وہ دیکھو حدیث ۱۰۷ میں ہے کہ وہ اور عیسائی عصر کے
وقت تک کام کرے وہ گھر میں ہے کہ پہلے ہی اسے دوپہر تک کام کرنے کے لئے اور عیسائیوں کو دوپہر سے پھر تک کام کرنے کے لئے لگایا گیا تھا
ہے کہ برادری کی غلطی ہے اور اجازت قصص میں ہے یوں سے صحیح الفاظ صحیح ہیں کہ کے کو جو وقت ۱۰۷ میں ہے کہ اس کا مضمون یہ غلطی تیسرے ۱۰۵
کے کہ الفاظ میں اس میں نہیں ہیں بلکہ ذکر ہے کہ اس میں یعمل فی من نصف النهار فی صلوة العصر علی قیوط اور ذکر نصاری کے بدشام قال
من یعمل فی من العصر فی ان تغیب الشمس علی قیوطین وہ اس روایت کا پہلا حصہ ۱۰۸ سے لے کر پہلے حصہ میں کمی بیشی ہے اور باقی
روایات سے بھی اختلاف اور کمی بیشی ہے فقط یہ میں مثل المسلمین والیہود والنصارى کی مثل رسول استأجر فوجا یعملون ان عملت ان ۱۰۷

۱۰۷

۱۰۱۲

(۱۰۱۲-۱۰۱۳) عَنْ جَبَابٍ (متکثر ۱۰۳۳-۱۰۱۶) بَابُ مَا يُعْطَى فِي الرَّقِيقَةِ عَلَى

دیکھو حدیث ۱۰۳۳۔ باب جو قبائل عرب پر صبرہ فاتحہ لادم

أَحْيَاءِ الْعَرَبِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ ابْنُ جَبَابٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کہنے کے عزم میں دیا جائے اور ابن عباس ۳ نبی صلیم سے روایت کرتے ہیں

أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِمْ أَجْرَ الْكِتَابِ لِلَّهِ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ لَا يَشْرَطُ الْمُعْلِمُ أَنْ يُعْطَى

کہ سب چیزوں سے جو اجر کرتے ہیں کہ ان اشرفی کتاب ہے اور یہی کہتے ہیں معلم (مورث) کی شرط نہ تھی

شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ وَقَالَ الْحَكَمُ لَمَّا سَمِعَ أَحَدَ أَكْرَةَ أَجْرَ الْعِلْمِ وَأَعْطَى الْحَسَنَ رِزْقًا

اگر اس کو دیا جائے تو اسے قبول کرنے اور حکم کہتے ہیں کہ کسی سے نہیں سنا جس نے علم کی اجرت کو ناپید کیا اور اس نے دس درہم دیے

عَشْرَةَ وَكَتَبَ بَرَاءُ بْنُ سَيْرِينَ بِأَجْرِ الْقَسَامِ بِأَسَا وَقَالَ كَانَ يُقَالُ السُّعُوتُ لِرَشْوَةِ

اور ابن سیرین نے قسم کرنے والے کی اجرت میں کوئی حرج نہیں سمجھا اور کہا سعت فیصلہ میں رشوت لینے کو کہتے ہیں

فِي الْحِكْمِ وَكَانُوا يُعْطَوْنَ عَلَى الْخُرُصِ (۱۰۳۳) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ انْطَلَقَ كُفْرًا

اور لوگوں کو نوازنا کہنے کی اجرت دی جاتی تھی ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ قَسَمَ قَوْمًا قَرُوهَا حَتَّى كَرُوا

کے صحابہ میں سے چند لوگ کسی سفر میں جو انہوں نے کیا ہے یہاں تک کہ عرب کے

عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَا قَوْمُهُمْ وَأَبْرَأَ أَنْ يُضَيَّنُوهُمْ فَلَمَّا سَعِدُ

قبیلوں میں سے کسی قبیلے کے پاس آئے انہوں نے قبیلے والوں سے جوابی چاہی انہوں نے ان کی چھاتی سے لگا کر انہیں اتفاق سے اس

ذَلِكَ أَحْيَى فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَنْتُمْ

قبیلے کے سردار کو بھرا یا سب نے لگا کر انہوں میں سے ہر ایک علاج کی کوشش کی کہ اسے کسی چیز نے فارغ نہ دیا تو ان میں سے کسی نے کہا

لَهُوَ كَرِهَ الرَّهْطُ الَّذِينَ نَزَلُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا

ان لوگوں کے پاس جو یہاں آئے ہیں تو شاید ان میں سے کسی کے پاس کچھ علاج ہو تو وہ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے۔

يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَ دَالِدٍ وَسَعِينَةَ لَيْتُمْ لَوْ أَنْتُمْ لَوْ أَنَّ أَحَدًا

نے لوگوں کے سردار کو بھرا لے گا ہے اور ہم نے اس کے لئے ہر ایک علاج کی کوشش کی ہے اسے فارغ نہیں ہوا کیا تم میں سے کسی کے

مِنْكُمْ مِمَّنْ شَيْءٌ فَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَسْمَ وَاللَّهِ لَاقِي لَأَرْقِي وَإِلَّا لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ

یاس کوئی علاج ہے ان میں سے کسی نے کہا ہاں مگر اس قسم میں دم کر سکتا ہوں مگر نہ کسی نے اسے چھاتی چھاتی نہیں دیا

فَلَمْ تُصَيِّفُوا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جَلَدًا فَصَدَّحُواهُمْ عَلَى قِطْعٍ مِنْ

بخاری چھاتی نہ کی اس لئے میں تمہارے لئے دم نہیں کر سکتا تھا کہ تم ہمارے لئے ضرور دم دے دو اور تمہارا ان سے چند تھکان دینے کا حکم تھی

الْعَمِّ وَأَنْطَلَقَ يَنْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ مَا شَطَطَ

کیا تو وہ کیا اور اس پر دم کرنے لگا اور انھوں نے اللہ رب العالمین پڑھنے لگا اور وہ ایسا جو کیا گیا تو اس کے

مِنْ عَقَالٍ فَأَنْطَلَقَ بِمَشِيٍّ مَمْلُوءَةٍ فَلَمَّا وَقَفُواهُمْ جُعِلَتْ لَهُمُ الدُّنَى صَالِحًا وَمِنْ

جس شخص سے لھلھائی دیا گیا اور وہ چلنے لگا اور اسے کوئی نہ دیکھ سکا کہ ان لوگوں نے اسے چھاتی چھاتی نہیں دیا

عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَقْبِسُوا فَقَالَ الَّذِي رَفِيَ لَأَفْعَلُوا وَحَتَّى نَأَى النَّبِيُّ صَلَّى

تھوڑی چھاتی چھاتی سے چھٹی لے اسے باز نہ دیا اور اس نے وہی کہا اس لئے کہ انہوں نے اسے چھاتی چھاتی نہیں دیا اور اس نے اسے چھاتی چھاتی نہیں دیا

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَرِهَ الَّذِي كَانَ وَنَظَرُ مَا يَأْمُرُ أَقْبَسُوا عَلَى

ہو جائیں اور جو معاملہ ہوا آپ سے اس کا ذکر میں اور دیکھیں آپ میں کیا حکم دیتے ہیں چنانچہ وہ

۱۰۱۲

۱۰۱۳

۱۰۱۴

۱۰۱۵

۱۰۱۶

۱۰۱۷

۱۰۱۸

۱۰۱۹

۱۰۲۰

علیہا ابتدائی
مظاہر میں کنت
رجلا قننا فعلت
للعاصم بن مائل
فاجتمع فی صندہ
فانکبہ اتقناضہ
یعنی میں لوگ کلام
کو ناکھا اور میں نے
عاصم بن مائل کا
بچھو ہوا تو میری
زور دہی اس پر
پڑھ گئی۔ اس کے
بعد کا مضمون بظاہر
الفاظ ایک ہے یہ
مگر کا واقعہ ہے۔
اس پر ایم نامی نے
مضمون با سب میں
دراثر عرب لکھا
ہے جس سے معلوم
ہوتا ہے کہ درحقیقت
کا مفہوم اس کے لیا
گیا ہے یعنی جہاں
مسلمانوں کو من نہ
پڑ۔ خواہ وہ ان
جنگ ہو یا نہ ہو۔
تو معلوم ہوا کہ
شکر کی نزوح کا
انہی میں حرج
ہیں۔

مَسْئَلٌ لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَرِهَ وَالِدٌ وَقَالَ وَمَا يَدْرِيكَ أَنَّهُ رَقِيَّةٌ ثُمَّ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آپ نے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا میں نے اس علم کو اس زمانہ سے دیکھا ہے کہ اس نے

قَالَ قَدْ أَصَبْتُمْ أَقْبِمُوا وَأَضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا فَصَحَّحَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فرمایا تم نے اچھا کہا بانٹ لو اور میرے لئے بھی اپنے ساتھ حصہ رکھاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۱۱ بَابُ ضَرِيَّةِ الْعَبْدِ تَعَاهُدُ صَرَائِبَ الْأَمْوَالِ (م- ۱۰۱۳)

بہ نظام پر یہ میرے عیسوں میں سے ہے اور ان لوگوں کے جو میرے عیسوں کی قسم لگے ہو کہ تم

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متكرر- ۱۰۲۹) (م- ۱۰۱۲) بَابُ خَرَجِ الْحَجَّامِ

دیکھو حدیث ۱۰۲۹ م۔ باب : کچھ نیکو لگائے جانے کی اجرت

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر- ۱۰۲۹) (م- ۱۰۱۵) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر- ۱۰۲۹)

دیکھو حدیث ۱۰۲۹ م۔ دیکھو حدیث ۱۰۲۹ م۔

(م- ۱۰۱۶) عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متكرر- ۱۰۲۹) (م- ۱۰۱۷) بَابُ مَنْ كَلَّمَ مَوْلَى الْعَبْدِ أَنْ يَخْتَفِيَ

دیکھو حدیث ۱۰۲۹ م۔ باب : عظام کے مالکوں سے گفتگو کر کے اس کا لہیر

عَنْهُ مَنْ خَرَجَهُ (م- ۱۰۱۷) عَنِ ابْنِ مَالِكٍ (متكرر- ۱۰۲۹) (م- ۱۰۲۰) بَابُ

عیسوں کو کر دین باب : دیکھو حدیث ۱۰۲۹ م۔ باب

كَسْبُ الْبَيْعِيِّ وَالْأَمْوَالِ وَكَرَاهِيَةُ إِجْرَائِهِمْ أَجْرَ الشَّامِخَةِ وَالْعَتِيَّةِ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى

فاحشہ کی کمانی اور مرد کار اور لوٹوں کی اقسام اور انہیں بوجھ کرنے والی اور کمانی کی اجرت کو ناپسند کرنے میں اور اللہ تعالیٰ کا قول

وَلَا تَكْرَهُوا قَتْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا كَفَرُوا قَاتِلُوهُمْ وَأَنْ لِيُكَلِّمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مَا كَفَرُوا لَعَلَّ يَذَرُونَهُمْ

پہن لوٹوں کو یہ ناپسند نہ کرے کہ وہ کافر ہیں اور انہیں بوجھ کر دے اور انہیں بوجھ کر دے اور انہیں بوجھ کر دے اور انہیں بوجھ کر دے

وَمَنْ يَكْفُرْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَزِيزٌ تَحْفِيزٌ قَتْلًا لَكُمْ لِمَا كُفَرْتُمْ

اور جو انہیں بوجھ کر دے اور انہیں بوجھ کر دے

(م- ۱۰۱۸) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر- ۱۰۲۹) (م- ۱۰۲۱) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر- ۱۰۲۹) قَالَ

میں نے تمہاری لوٹ لیاں - دیکھو حدیث ۱۰۲۹ م۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ

عنوان باب
جیسا کہ کلام ہے
حدیث کے واقعات
سے قائم کیا گیا ہے
اور یہاں عرض فرماتے
اس قدر ہے کہ
دم کرنا بھی ایک
نہت ۱۰۲۹ م۔
اور جس طرح کوئی
مطلوع کر کے
پاؤں سے لگتا
ہے وہ کہنے والا
ہے
لے سکتا ہے
کہ دم کرنے سے
کچھ یا سانس کے
کاٹے ہوئے کو فائدہ
ہو یا بعض حالات
میں ہو جاتا ہے
سورہ فاتحہ ایک
دعا ہے اور دعا کا
انہیں حالات
میں توری بھی ہو
جانا ہے بلکہ بعض
لوگ تو یہ ڈال کر
بھی خاص اوقات
کے باعث خاص قسم
کی بیماریوں کے اچھا

کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مگر ایسے اوقات کو جو خاص حالات میں پیش آئیں اور مضبوط ہونے وقت جسے کو عام کرنا بھی درست نہیں کہ لاپرواہی لوگ اس کو ایک پیشہ
بنائیں۔ اور لوگوں کو علاج سے روکیں۔ اس صورت میں جو کچھ بڑا اداہی قدر تھا کہ وہ لوگ ہر قسم کے علاج جو ان کو میسر آسکتے تھے کہ بیکے تھے اس میں صحابی نے دعا
سے کام لیا اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا کی کہ سورہ فاتحہ بہترین دعا ہے اور اس میں انسان اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتا ہے۔ اس کی دعا سے اس شخص کو فائدہ ہو گیا
اور اس کے عوض میں جیسا کہ علاج کے عوض میں جو کچھ ایک چیز کا ہے لینا صحیح قرار دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے لئے اس میں حصہ لگانا محض بطور ایک شفقت کے
ان کو خوش کرنے کے لئے تھا۔ دوسری طرف آپ کا اس پرنا صاف بنانا ہے کہ آپ اس قسم کی باتوں کو عام نہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ ضعیفہ اس مقدار کا نام ہے جو مالک
اپنے مقام یا زندگی پر قہر کرے کہ وہ جو چاہیں کام کریں مالک کو صرف ایک مقرر رقم روزانہ دے دیں اسے خرچ اور نفع بھی کہتے ہیں۔ لوٹوں کے جویش میں
غیر کریم کے دو منے ہو سکتے ہیں۔ (۱) جاہلیت میں لوگ اپنی لوٹوں سے بدکاری کا پیشہ کرتے تھے وہ اس پیشہ کی کمانی اپنے مالکوں کو دیا کرتی تھیں اس سے قرآن کریم
نے روک دیا وہ لکھو تھا قنیاتکم علی البغیان اودن تحصنوا والنور۔ ۲۳۳ م نے خیال رکھنا چاہئے کہ یہ وہ کمان ہے کہ اگر لاتی ہیں۔ یہ لوٹوں کے جویش کا خیال
رکھنا چاہئے کہ وہ زیادہ تر عیسوں میں کی وجہ سے وہ بدکاری پر مجبور ہو جاتے ہیں یعنی ان پر جو میر خراج ٹھوسا لگا کر اور حدیث باب کے ساتھ ہی ہے زیادہ موزوں ہیں۔
یہ کم کر روایت میں بصاح کے بعد یہ لفظ میں اوصاف عین من طعام وکلمہ صوابہ خفف عن غلغلتا واضر بیبتہ یعنی اس کی جو میر عیسوں میں کی گئی تھی جو خفف
کا گھس سے معلوم ہوا کہ جو میر حیثیت کے موافق ہونا چاہئے اور اس میں زیادتی ہے تو امام کم کر سکتا ہے۔ یہ کم کر روایت کے لفظ ۹۱۵ م کے ہیں البتہ لوگ
حواما لم یعطہ کا گزرا ہوا نہیں ہے۔ اس کے لفظ بھی ۹۱۵ م کے ہیں البتہ لوگ ان حراما انہ کی جگہ یہاں ہے ولو علم کہ اھیہ لم یعطہ۔ یہاں یہ
لفظیں کان النبی صلعم یحتملہم لیکن یظلم احدًا اجرة۔ یہ کم کر روایت کے لفظ ہیں: دعا النبی صلعم خلا ما یحتملہ احدًا اجرة۔ اصل بصاح
اوصاعین اوصدا اوصدا میں وکلمہ فیہ خفف من ضریبتہ۔

الاسئلة عن ابي ران عمره بعد مصداق او فم رجل على جارية امرأته فاخذ حمزة من الرجل
کے ہیں حضرت عمر نے مجھے ڈالنے کا حکم دیا کہ جو کسی کو اپنی جڑی کی لڑائی سے زنانہ کی حمزہ نے اس شخص سے

كثيرا حتى قده على عمر وكان عمر قد جلداه مائة جلدة فنصته ثم وعدته بالجهالة وقال
بڑھ کر دیا یہاں تک کہ حضرت عمر کے پاس آئے اور حضرت عمر نے اس کو گولے گولے کیے تو انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ جس حالت

جرير و الأشعث لعبد الله بن مسعود بن المزين بن اسلم بن كليلهم
کی وجہ سے منع فرمایا اور جو یہ اور اشعث نے عبد اللہ بن مسعود سے فرمایا کہ ہاں ہاں اس سے تو بڑھ کر اور ان کا سامن بیلو انہوں کو

هشاً لهم وقال حتماً واذ أتكفل بنفس فمات فلما شئ عليه وقال الحكم
اور ان کے لئے حکم دیا کہ ان کے سامن ہوئے حکم اور جاری ہے جس جب کسی کو اس کا سامن ہو جائے اور وہ مرنے سے نہیں بچے تو انہوں نے

يضمن ۱۱۰۹ عن ابي هريرة ر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه
کہتے ہیں وہ یہاں کہ سامن ہو جائے ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ذکر رجلا من بني اسرائيل ساں بعض بني اسرائيل ان يسلفه الف دينار
بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کو کہہ کر کہ اس نے بنی اسرائیل میں سے کسی اور سے اس شخص سے ہزار اشرفیاں قرض بائیں

فقال تبني بالشهادة اشهدهم فقال كفى بالله شهيدا قال فائتني بالكفيل قال
تو اس نے کہا گواہوں کو گواہوں کو گواہوں کو اس نے کہا اللہ کا کافی گواہ ہے کہ تو فرما میں لاؤ گے

كفى بالله كفيلا قال صدقت فدفعها اليه الى اجل مسئتي فخرجني البعير فقف
اللہ کا کافی سامن ہے لہذا کہتے ہو تو اس نے ایک سو فیصد تک سے (اشرفیاں) لے لیں اور پھر اسے سزا دیا کہ اس کا سامن لے لو

حاجته ثم التمس مركباً يركبها يقدم عليه للاجل الذي اجله فلم يجد
پورا کیا پھر کسی کو سواری کی تلاش کی کہ اس کو سوار ہو کر صاحب قرض کے پاس اس وقت پہنچے کہ اس نے قرض کیا تھا اور اسے کشتی

مركباً فاخذ خشبة فنقرها فادخل فيها الف دينار وصحفت منه الى صاحبه
ندی تو ایک کڑی بیکار سے کہ آیا اللہ میں ہزار اشرفیاں بھرنے اور ایک چھوٹی سی بیٹن سے لے کر آٹھواں کھڑن

ثم رجع موضعها ثم اتى بها الى البعير فقال اللهم انك تعلم اني كنت تسلفت
تو وہ لو کہ آیا میرا اس کا سزا بند کرنا پھر اسے بیکار سزا دیا اور کہنے لگا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے تم سے ہزار اشرفیاں

فلانا الف دينار نسألك كفيلاً فقالت كفى بالله كفيلاً فرضى بك وسألتني
قرض کی میں نہیں اس نے مجھ سے ضمان مانگا تو میں نے کہا اللہ کا کافی ضمانت ہے تو وہ میرے نام سے راضی ہو گیا اور مجھ سے

شهيذاً فقلت كفى بالله شهيداً فرضى بك وانى جهداً ان اجد مركباً بعث اليه اذن
شہیدانہ اقلے کہ کفی باللہ شہیدانہ اور وہ میری جہدات ان اجد مرکباً بعث الیہ اذن گواہ مانگا تو میں نے کہا اللہ کا کافی گواہ ہے

لذلك اذن وارن استودعنا اقرض بهاني البحر حتى ولجت فيه ثم انصرفت نحو في ذلك ليقتبس من الماء
لہذا اذن وارن استودعنا اقرض بهاني البحر حتى ولجت فيه ثم انصرفت نحو في ذلك ليقتبس من الماء اسے پانی اور میں گھنٹن کو سزا دیا کہ پھر میں نے پھر انہوں اور اشرفیوں کو بھرنے سے لڑنے اور وہ میری جہدات ان اجد مرکباً بعث الیہ اذن

يخرج الى بلدنا فخرج الرجل الذي كان سلفاً ينظر لعل مركباً قد جاء بماله فاذا ان خشية
خوہو ہوا ہوا اپنے شکر کو دیکھتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا تھا وہ سزا دیا کہ پھر میں نے پھر انہوں اور اشرفیوں کو بھرنے سے لڑنے اور وہ میری جہدات ان اجد مرکباً بعث الیہ اذن

اس کی سزا اور میں نہیں سمجھی حمزہ نے اس شخص سے ضمان لیا کہ حضرت عمر سے تصدیق کر کے اسے چھوڑوں گا حضرت عمر نے کوئی نہ لگائی تصدیق کیا اس روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے
کہ حضرت عمر نے کوئی نہ لگائی تصدیق کیے تھے یہاں سے وعدہ کیا تھا لیکن اگر ضمانت کا عند چہ کے ساتھ ہو سکے تو وہ کوئی نہ لگائی تصدیق کر کے لے
کیوں درست نہیں حالت یہ وہ تصدق اور ہوا اور تصدق میں کہ شخص ضمانت لے لے لیں میں یہ مہترین بن کا یہاں وہ جو سیر کے سامنے اور حکومت اسلام کے باغی تھے وہ تصدق
اگر مجرم بھگا چلا یہاں لے تو اس کی موت میں ضمانت کو نہیں لے سکتا اس کی ضمانت میں اگر تصدق سے اس میں ذمہ تو ضمانت سے مطالبہ کر کے وصول کیا جائے گا حکام اس

بقیہ صفحہ ۴۹
میں ایسے
وہاں کی حضرت
۱۱۰۹ سال تو اس کے
لیں یہاں بھی قرض
اور حکم حالت
نہایت ذلیل ہو جاتی
ہے۔ میں کے پاس
بائیاں ہیں یہی ملتی
گردنہ دکھ کر قرض
لیتے ہلکتے ہیں یہاں
کے کہ سامی ساری
ہاذا میں بیکاری
ہیں اور پھر یہی قرض
نہیں اترتا اور یہ
قرض کے اوقات
صرف منقول قرض
کے لئے یا باہر شاہی
جانے کے لئے ہے
جاتے ہیں
لوٹتے ہیں
کہا ہادی ناس
اور قدر نفس میں
یوں روایت کیا ہے
کہ حضرت عمر نے حمزہ
کو زکوٰۃ کا کہیں
بنا کر بھیجا تو انہیں
معلوم ہوا کہ ایک
شخص نے اپنی بیوی
کی نوہی سے کہا
کی جس سے ایک
رو کا چھوٹا ہوا
نے اس شخص سے
کہ میں تجھے سزا
کروں تو وہاں کے
جو تو نے لگا کر
معاف حضرت عمر
سامنے لایا یا تھا
انہوں نے اسے
کوڑے لگائے اور

الَّتِي فِيهَا الْمَالُ فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهَا حَطْبًا فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّغِيرَةَ ثُمَّ

قَدِمَ الَّذِي كَانَ أَرْقَهُ فَأَنَّى بِالْأَلْفِ دِينَارٍ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا زِلْتُ جَاهِدًا

فِي طَلَبِ مَرْكَبٍ لَا تَبِيحُ بِمَالِكَ فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي أَتَيْتُ فِيهِ قَالَ

هَلْ لَنْتُ بَعَثْتُ إِلَى بَشِيٍّ قَالَ أَخْبِرْكَ أَنِّي لَأُوجِدُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي جِئْتُ فِيهِ

قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ آذَى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتُ فِي خَشْمَةٍ فَأَنْصَرَفْتُ بِالْأَلْفِ

لِلدَّيْنَارِ رَأْسًا (۳) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ

فَأَقْوَمُكُمْ نَصِيحَتِهِمْ (۱۱۱) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جَعَلْنَا مَوَالِيَّ قَالَ رَفِئَةُ

وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ قَالَ كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَمُرُّونَ

بِالْمُهَاجِرِ الْأَنْصَارِيِّ دُونَ ذَوِي رَجْمِهِ بِالْأَخْوَةِ الَّتِي أَخْرَجَتْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ

وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ وَبِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ نَسَخَتْ شَرَّ قَالَ وَالَّذِينَ

عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ إِلَّا النَّصْرَ وَالزَّفَادَةَ وَالنَّصِيحَةَ وَقَدْ ذَهَبَ لِمِثْرٍ وَنُوصِيَ لَهُ

عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْهُ وَأَوْدَاعًا عَمَّتْ أَوْ تَمْرًا خَرَجَ بَاتِي رِيًّا

۱۔ ایک مال
۲۔ معلوم ہوتی ہے۔
۳۔ کھانے کے لئے
۴۔ کوفہ کے میں میں
۵۔ جو گروہ یا تہذیبی
۶۔ پابندی عہد سے
۷۔ کام میں جانے تو مش
۸۔ تعالیٰ ایسے اسباب
۹۔ پیدا کر دیتے کہ
۱۰۔ قرضہ دینے والا ہو
۱۱۔ لئے نہ تا وہ نوبت
۱۲۔ اٹھتے ہر اس
۱۳۔ شخص کی پابندی
۱۴۔ حد تک اور جو کچھ
۱۵۔ صورت اسی نفاذ
۱۶۔ اس نے ایک ہزار
۱۷۔ اشرافیہ اہمیت
۱۸۔ سے گویا ہند میں
۱۹۔ بھیج کر دی گرائے
۲۰۔ تہذیب نے اس کی
۲۱۔ نیک نیتی کو جو ہے
۲۲۔ اس نفاذ ہونے
۲۳۔ سے بچنا
۲۴۔ محض اس سوان کا
۲۵۔ تحقیق کتاب لکھا
۲۶۔ سے ہے کہ نفاذ
۲۷۔ میں بھی ایک شخص
۲۸۔ اپنی خوشی سے ایک
۲۹۔ کام اپنے ذمہ لے
۳۰۔ کر لیتا ہے جس کے

کے لئے کا وہ ذمہ اور ہوجاتا ہے اور عقد مولات میں بھی انسان بعض باتیں اپنی خوشی سے لینے پر لازم لیتا ہے جن کا وہ پابند ہوتا ہے۔ مگر سورہ ۵۸ آیت ۳۳۔
پوری ہو ہے۔ وکل جعلنا موالی عمارت الاولاد والاقریب والذین عقدت ایمانکم فاقوم نصحہم ان اللہ کان علی کل شیء شہید۔ بظاہر ان جاس کی
تفسیر جو یہاں مروی ہے یہ معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے موالی سے رشتہ و اقربیت والے وارث مراد لئے ہیں اور الذین عقدت ایمانکم سے عقد وفات والے یعنی وہ مسلمان
جن کے درمیان فی کریم معلوم ہے انہوں نے انہوں کو اس قول کا منشاء یہ معلوم ہوتا ہے کہ الذین عقدت ایمانکم فاقوم نصحہم کے تحت مراد موالی انصار اور ایک کچھ
کے وارث ہوتے تھے لیکن جب وکل جعلنا موالی اتری تو اس نے الذین عقدت ایمانکم کا حکم میراث کے متعلق منسوخ کر دیا۔ اور ایک دوسرے کی عداوت فتنہ
کرنی باقی رہی۔ لیکن یہ سب نہیں آتا کہ ایسے کے پلے حصے نے آخری حصہ کو منسوخ کر دیا اور پہلا حصہ بعد میں کس طرح اترتا۔ فقہ میں کی اصطلاح میں نسخ و نسیخ اور عام
منسوخ سے بعض پہلو اور لینے کو بھی کہتے ہیں جس جو سکتا ہے کہ نسخ سے مراد جو کہ جو کہ وکل جعلنا موالی کی رتبے ترک کے حق و وارثت قرابت والے رشتہ دار
ہیں اس لئے والذین عقدت ایمانکم فاقوم نصحہم میں نصیحت میراث کا حصہ مراد نہیں لگا۔ اور باہمی امداد اور سلوک مراد ہے۔ اور مہاجر اور انصاری کا ایک دوسرے
سے میراث لینے ان کے سابق دستور کی رو سے تھا بعض نے عقد ایمان سے۔ میں عقد نکاح مراد لیا ہے۔ کیونکہ خداوند نے یہ بھی ایک دوسرے کے وارث
ہونے میں سلوک الاولاد اور اقربوں میں وہ شان نہیں۔ اس لئے فرمایا کہ عقد نکاح وہ اول کو بھی ان کا حصہ دیا کر دے۔ بعض نے عقد ایمان سے مراد عقد مولات مراد
لیا ہے جو باہمیت میں راجح تھا۔ میراث کا حصہ ہے۔ وہ ایک دوسرے کا وارث بھی لیا کرتے تھے اور اسے داد و الواہام بعضہم اولیٰ بعضہم لی کتاب اللہ سے منسوخ نہیں
شمرتے بلکہ اولاد الاصلہ کو مقدم رکھتے ہیں۔ اگر وہ نہیں تو عقد مولات واسلہ ایک دوسرے کی میراث ملے سکتے ہیں۔

وَهُمَا يَدَيَا بِيَانِ الدِّينِ وَلَدَيْمِزْ عَلَيْنَا يَوْمَ الأَبْيَاتِنَا فِيهِ رُسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

كَرِهْتُمْ خِشْيَتُكُمَا اور ہم پر کوئی دن نہیں گذرے گا کہ اس میں نبی صلعم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفِي التَّهَارِكُ بَكْرَةٌ وَعَشِيَّةٌ فَلَمَّا ابْتَدَى السُّلْمُونَ خُرُجَ ابُو بَكْرٍ مَهْدِجًا

ہاتھ پیمان دن کی دونوں طرف سے اور شام شریف لایا کرتے تھے جب مسلمانوں کو اذیت دی جائے گی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی

قَبْلِ الحَبَشَةِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرَكُ البَعَادِ لِقِيَهُ ابْنُ الدَّعْنَةِ وَهُوَ سَيِّدُ القَارَةِ

دلت بھرت کرتے ہوئے نکلے علی یہاں تک کہ جب بکرم بغداد پہنچے تو ان سے ابن دغنے کی ملاقات ہوئی اور وہ قبیلہ قارہ کا سردار تھا

فَقَالَ ابْنُ ثُرَيْدٍ يَا أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ ابُو بَكْرٍ أَخْرِجْنِي قَوْمِي فَإِنَّا أُرِيدُ أَنْ أَسِيرَ فِي

سود گئے گا لے لو کہ کہاں کا اور وہ ہے تو حضرت ابو بکر نے کہا میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ زمین میں ہر

الأَرْضِ فَأَعْبَدَ رَبِّي قَالَ ابْنُ الدَّعْنَةِ إِنَّ مِثْلَكَ لَا يُخْرَجُ وَلَا يُخْرَجُ فَإِنَّكَ تَكْسِبُ

اور اپنے رب کی عبادت کرو ابن دغنے نے کہا آپ جیسے آدمی کو نہیں نکلتا ہے اور نہ ہی لایا جا سکتا ہے کیونکہ

المَعْدُومِ وَيَصِلُ الرِّحْمُ وَيَحْمِلُ الكُلَّ وَيَقْرَى الضَّيْفَ وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ

پاس مجھ سے نہ ہو آپ اسے لگا کر دیتے ہیں اور صلہ بھی کرتے ہیں اور وہ تو ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور عہد نوازی کرتے ہیں اور عادات میں

وَأَنَّكَ جَارٌ فَأُجِيعُ فَأَعْبَدَ رَبَّكَ بِمِثْلِكَ فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الأَرْضَ فَارْتَحِلْ ابْنُ الدَّعْنَةِ فَرَجَعَ مَعَهُ

حق کی مدد کرتے ہیں علی اور آپ کو ایسا ہی بنا لیا ہوں آپ ایسا ہیں اور اپنے رب کی عبادت اپنے ملک میں کریں ابن دغنے نے اسے لے کر

أَبَى بَكْرٍ فَطَافَ فِي أَشْرَافِ كَفَّارِ قُرَيْشٍ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لَا يُخْرَجُ مِثْلَهُ

ابو بکر کے ساتھ نہ آیا کفار قریش کے سرداروں سے جا کر ملا اور کہا ابو بکر جیسے آدمی کو نہیں نکلتا ہے اور نہ ایسے آدمی کو

وَلَا يُخْرَجُ أَخْرَجُوا رَجُلًا يُكْسِبُ المَعْدُومَ وَيَصِلُ الرِّحْمَ وَيَحْمِلُ الكُلَّ وَ

نکلا جا سکتا ہے تو ایسے ایک شخص نکالو جو جس کے پاس کچھ نہ ہو اسے لگا کر دے اور صلہ بھی کرے اور اس تو ان کا بوجھ

يَقْرَى الضَّيْفَ وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَأَنْفَذَتْ قُرَيْشٌ جِوَارَ ابْنِ الدَّعْنَةِ

اٹھاتے اور عہد نوازی کرتا ہے اور عادات میں حق کی مدد کرتے تو قریش نے ابن دغنے کی پناہ منظر

وَأَمَّنُوا أَبَا بَكْرٍ وَقَالُوا لا بِنِ ابْنِ الدَّعْنَةِ هُوَ أَبَا بَكْرٍ فَلْيَعْمَدْ رَبُّكَ فِي دَارِهِ فَلْيَصِلْ

اور حضرت ابو بکر کو امن دیا اور ابن دغنے سے کہنے لگے کہ ابو بکر کے گرو

وَلْيَقْرَأْ مَا شَاءَ وَلَا يُؤْذِ بِنَائِكَ وَلَا يَسْتَعْرَبُ بِهِ فَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَلْعَنَ ابْنَاءُ نَاوِيسَ عَنَّا

اور جو چاہیں پڑھیں اور ہمیں اس سے تکلیف نہ دے اور اسے نہ لگائے نہ پڑھیں کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ ہلکے بچے اور ہماری ہوتیں نشتین پڑیں

علاحدیث سے حضرت عائشہ کی عمر کے سوال پر کچھ روٹنی پڑتی ہے حضرت عائشہ تو انی ہیں کہ انہوں نے جب سے ہوش نہ تھا اپنے ماں باپ کو دن اسلام پر آیا اور نبی صلعم ان کے پاس صبح اور شام تشریف لایا کرتے تھے بیعت مسلمانوں کو تکلیف دے جانے کی تو حضرت ابو بکر نے حبش کی طرف ہجرت کی اور آخرین دفعہ کے حوالے پر وہیں آگئے رسالہ کی تکلیف اور حبش کی ہجرت کا اٹھانے کا عہد تھا تب سے کہ بخت سے ہانچو گیا بیٹھے سال باؤگڑ سے کیونکہ یہی ہجرت حبش کا زمانہ ہے ساتویں سال کے بعد کسی مسلمان نے حبش کو ہجرت نہیں کی اور وہی اس ہجرت کا ارادہ کیا اور علما ابتدائی مسلمانوں کے الفاظ یہی تھے پرمعادق آتے ہیں۔

کیونکہ یوں تو ہر سال تک برابر تکلیف رہی مگر اب اس سے جوئی اور امتحانی تکلیفوں کا بھی یہی زمانہ تھا جب مولے ہجرت کے پانچ کا زمانہ تھا اس وقت حضرت عائشہ نے ہوش نہ بھالی ہوئی تھی اس لئے اس وقت ان کی عمر پانچ چھ سال سے کم نہیں ہو سکتی اور ان کی بیعت حبش کے پہلے سال سے چھبھی کی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ یہی مولیٰ اللہ صاحب اس حدیث پر ملاحظہ فرمائیے وہی وذلک ان عدلھا بعد البعث بسلمتین یعنی حضرت عائشہ کی یہ ہوش کا زمانہ تھا اس لئے کہ ان کی ولادت حبش کے دو سال بعد ہوئی اس کے بعد انہوں نے دو مرتبہ اقوال بھی نقل کئے ہیں اور یہی لکھا ہے کہ اجماع اس پر ہے کہ وہ ہجرت کے وقت آٹھ سال کی تھیں لیکن اگر ہجرت دینے کے وقت ان کی عمر پانچ سال ہو تو ہجرت حبش کا زمانہ ان کا ہوش کا زمانہ نہیں ہو سکتا۔ اور زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بیعت حبش کے وقت دو سال بعد ہے۔ اس حساب سے ہجرت کے وقت ان کی عمر پانچ سال اور رخصت نہ کے وقت تیرہ سال سے کم نہ ہوگی۔ اور قرآن قیاس یہ ہے کہ اس سے زیادہ ہی خطا اس حدیث میں ابن دغنے نے حضرت ابو بکر کو یہ صفات بیان کی ہیں جو حضرت فدوی نے نبی کریم صلعم کی حدیث میں بیان کیا ہیں۔ اس تشابہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر کے اعمال نبی کریم صلعم کے اعمال کا آئینہ تھے اور آپ کی عملی زندگی کا گویا نقش حضرت ابو بکر میں تھا اور یہ تو عملی اس وقت ہی کا جو تھا جو ان کو خدا کی طرف سے دی گئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے صدیق کا لقب پایا۔ اسی لئے وہ سب صحابہ سے براہ کسرتن خلافت بھی تھے۔ علی غنم نے پڑھیں یعنی مسلمان نہ ہو جائیں۔ آج اس سے براہ کسرتنک دلی مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں حالت کی وجہ سے سرایت کر گئی ہے۔ کہ وہ اپنے ساتھ آئے تھے اس لئے اختلاف کو برداشت نہیں کر سکتے۔

قَالَ ذَلِكَ ابْنُ الذَّنْبَةِ لَا بِي بِيكَ فَطَفِقَ ابُو بَكْرٍ يُعْبِدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ وَلَا يَسْتَعْلِنُ

ابن ابوغنیس نے یہ بات حضرت ابوبکر سے کہی اور حضرت ابوبکر اپنے اپنے رب کی عبادت کرنے لگے اور نہ نماز نہ قرآن

بِالصَّلَاةِ وَلَا الْقِرَاءَةِ فِي عَهْدِ دَارِهِ ثُمَّ بَدَّلَ ابُو بَكْرٍ نَابِتَهُ مَسْجِدًا لِيَفْنَاءَ دَارِهِ رِزْقًا

اپنے گھر کے علاوہ اور گھر میں غلام نہ پڑھتے پھر حضرت ابوبکر کو خیال آیا تو انہوں نے اپنے گھر سے میں مسجد بنائی اور باہر

فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَتَقَصِّفُ عَلَيْهِ نِسَاءَ الْمُشْرِكِينَ وَابْنَاءَهُمْ لِيَعْمُرُوا

نکلے وہیں نماز پڑھنے لگے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے تو مشرکوں کی عورتوں اور بچوں کا ان پر جھوم ہو جاتا وہ بدستور

وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَكَانَ ابُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَوًّا لَا يَمْلِكُ دَمْعُهُ جِئِنَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَتَأْوِمُّ

اور حضرت ابوبکر کی طرف دیکھا کرتے تھے اور حضرت ابوبکر بٹے رولے دل کے غم سے جب قرآن پڑھتے تھے تو اپنے آنسوؤں کو دھونے لگتے

ذَلِكَ أَشْرَافُ تَرْتِيبٍ مِنَ الْأَشْرَافِ لَكِنَّ فَا رَسُلُوا إِلَى ابْنِ الذَّنْبَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ

تھے تو اس بات سے مشرکین تریش کے سرداروں کو بکر میں ڈالا انہوں نے ابن ذنبتہ کو بلا لیا وہ ان کے پاس آیا

فَقَالُوا لَهُ إِنَّا لَنَأْمُرُكَ أَنْ تَعْبُدَ رَبَّكَ فِي دَارِهِ وَإِنَّهُ جَاوِزُ ذَلِكَ

اور وہ اس سے کہنے لگے کہ ہم نے ابوبکر کو اس شرط پر بلا دیا ہے کہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں مگر انہوں نے اس شرط سے تمنا نہ کی

فَابْنَتْنِي مَسْجِدًا لِيَفْنَاءَ دَارِهِ وَأَعْلَنَ الصَّلَاةَ وَالْقِرَاءَةَ وَقَدْ خَشِيَ أَنْ يُفْتَنَ

اور اپنے گھر سے میں مسجد بنائی اور غلام نہ پڑھا اور قرآن پڑھنے لگے اور ہم کو کہتے کہ ہمارے

أَبْنَاءَ نَارِ نِسَاءٍ نَأْفَاتِهِ فَإِنْ أَحْبَبَ أَنْ يُقْتَصِرَ عَلَيَّ أَنْ يُعْبِدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَفَعَلَ

بچے اور عورتیں اپنے میں نہ پڑیں ان کے پاس جاؤ اگر وہ بدستور کریں کہ صرف اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں تو کریں

دِرَانُ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ لَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ فَسَلَّهُ أَنْ يُرَدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتُكَ فَأَنَا كَرِهْنَا أَنْ نَخْفَرَكَ

اور اگر وہ سوائے اس کے راضی نہ ہوں کہ ہر سب کو ہم غلام بنا کر دیں گے تو ان سے مطالبہ کرو کہ تمہارا عہد امن نہیں واپس کریں کیونکہ ہم نے تمہیں

وَلَسْنَا مُقِرِّينَ لَابُو بَكْرٍ الْأَسْتِعْلَانِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَإِنِّي ابْنُ الذَّنْبَةِ أَبَا بَكْرٍ

کہ تمہارے عہد کو توڑوں اور ہم ابوبکر کو غلام بنا کر کام کرنے دینگے کہ تیرا نہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں ابی اس وقت حضرت ابوبکر کے پاس آئے

فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ الَّذِي عَقَدْتَ لَكَ عَلَيْهِ فَمَا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَيَّ ذَلِكَ وَمَا أَنْ

اور کہا آپ اس شرط کو جانتے ہیں میں ہر سب نے آپ کیلئے امان کا عہد کیا تھا میں تو اس پر تمہیں باہر عہد لگے واپس کریں

تُرَدُّ لِي ذِمَّتِي فَإِنِّي لَا أَحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ إِلَى أَحْفَرْتَنِي رَجُلٌ عَقَدْتَ

کیونکہ میں سے پسند نہیں کرتا کہ عرب اس بات کو سناں کہ میں شخص کے لئے ہوں نے ان کا عہد کیا تھا وہ توڑ دیا گیا

لَهُ قَالَ ابُو بَكْرٍ إِنِّي أَرَدْتُ إِلَيْكَ جَوَارِكَ وَأَرْضِي بِحُجْرٍ أَرَادَ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

تو حضرت ابو بکر نے کہا میں تمہارا عہد نہیں واپس کرتا ہوں اور میرا شکر کیا ہے جو تو اور نبی ہوں اور رسول اللہ صلعم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَيْمَنِي مَكَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَرَيْتَ دَارَ هَجْرٍ تَكْرُمُ رَأْيَ

انہوں نے کہا میں نے

سَمِعْتَهُ ذَاتَ نَحْلٍ بَيْنَ لَابَتَيْنِ هُمَا الْحِزْبَانِ فَهَاجَرُ مِنْ هَجْرٍ قَبْلَ الْمَدِينَةِ جِئِنَ ذَكَرْتُ ذَلِكَ

تو مجھ کو وہی زبان میں سنا تھا خود کے بیان کی جی ہے جو لوگ ہجرت کرنا چاہتے تھے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجِعَ إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجِرًا إِلَى أَرْضِ الْحِشْيَةِ وَ

رسول اللہ صلعم نے اس کا ذکر کیا اور بعض وہ لوگ بھی جنہوں نے ہجرت کی تھی مدینہ کی طرف لے گئے اور حضرت

فَخَجَرَ ابُو بَكْرٍ مَعَهُمَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ رَسْلُكَ فَإِنِّي أَرْحَمُكَ

لو کہتے ہیں ہجرت کی تیری کی تو رسول اللہ صلعم نے ان سے فرمایا نظروں سے لگتا ہے میں نے

يُؤذَنُ لِي قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَلْ تَرَجَّوْا ذَلِكَ يَا بَنِي أُمَّتٍ قَالَ نَعَمْ فَمَسَّ أَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى

علم برتر اللہ سے اور حضرت ابو بکر نے کہا کیا آپ کو اس کی اہمیت سے میرا باپ یا آپ میرے باپ سے بڑھ کر ہونا ہوتا ہے یا ان کو حضرت ابو بکر نے اپنے قبیلے

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِصِحْبِهِ وَعَلَفَ رَاجِلَيْنِ كَانَا عَدَدَ رُزْقِ الشَّامِ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا یعنی بے روزگار رہا اور وہی دو آدمیوں کو جو ان کے پاس تھیں چار مہینے تک بیکار رہے

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ هَذَا بَابُ الَّذِينَ رَمَوْا عَنَ ابْنِ هُرَيْرَةَ رِضَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

چھ مہینے رہے باب فریضہ کا ذکر ہے ابوی ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتِي بِالرَّجُلِ لِمَتَوَفَى عَلَيْهِ الدِّينَ نَيْسَالٌ هَلْ تَرَكَ لِدِينِهِ

وفات یافتہ شخص کی جائیداد لایا جاتا تو آپ پر بھیجے ہیں اس لئے کہ تم نے اپنے دین کے لئے مال خرچ کیا

فَضْلًا فَإِنْ حَدَّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدِينِهِ وَقَدْ صَدَّقَ وَلَا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلَاتًا

بے تر اگر آپ سے کہا جائے کہ اس نے اپنے فرض کے لئے میرا تمہارا ہے تو جائز ہے بلکہ دین سے مسلمانوں کو حکم دینے کے لئے

عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَحَّ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفَتْوحَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْعُسْهِمِ

سابقہ کا جائیداد پر پھر میں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتحات دی تو فرمایا میں مؤمنوں کا ان کی اپنی مالوں سے زیادہ شرف خواہ ہوں

فَمَنْ تَوَفَّى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دِينًا عَلَى قَضَائِهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلَوْ رَثْتَهُ

پس جو کوئی مؤمنوں سے وفات پا جائے اور فرض چھوڑے تو اسے اولیٰ اور مال چھوڑے وہ اس کے وارثوں کو دیں گے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں

ب۔ کتاب الوکالة

وکالت کی کتاب

رَابِعُ بَابُ وَكَاةِ الشَّرِيكِ الشَّرِيكَ فِي الْقِسْمَةِ وَعَلَيْهَا وَقَدْ اشْرَكَ النَّبِيُّ

باب ایک شریک کا تقسیم و فرج میں اسے شریک کی وکالت کن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا فِي هَذِهِ لَمْ تَمُوتْهُ قِسْمَتِهَا رَمَدَ ۱۰۲۲ عَنْ عَلِيٍّ وَشَرِيكَ

قریبی میں شریک کر لیا تھا پھر حضرت علی کو اس کے تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا

- ۱۰۹۸ (۱۱۵) عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَا غَنَمًا

۱۰۹۸ عقبن عامر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بکریاں دیں

يُقَسِّمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ فَبُعِيَ عَتُوْدٌ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صُحْبًا أَنْتَ

کرائیے آپ کے صحابہ میں تقسیم کر دے تو ایک سال بھرا بکری کا بچہ لگا اس نے اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو فرمایا تم اسکی قرابتی کرو گے

ملکیت سے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مدینہ کی طرف ہجرت کی مگر ان میں سے کسی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رفاقت کے لئے نصیب نہیں دیا پھر ان کا حکم نہیں دیا پھر حضرت ابو بکر کی اس شرط کا امتثال ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو حضرت ابو بکر کی قدر امتداد تھا۔ بعض صحابہوں پر ذیہاب ہے اس کی حدیث بعض میں باسٹھ تفسیر میں ان کے وارثین بنالئے اس حدیث کو باب من تکلم عن صیبتہ میں لایا ہے جو بہت مفید ہے لفظ صیبتی قرآن مجید میں جس کے دارالکتاب نے وہ کوئی جائیداد نہ چھوڑے تو وہی ادا کرے گا اور بیت المال سے اور کیا جاتا ہے لیکن اس کے بالفاظ اگر کوئی مالدار وفات پائے تو اس کا مال اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگا وہ بیت المال میں نہیں جائے گا۔ اسلامی باوقاف

یہاں مفہوم تھا کہ ان کی بی بی عاتقہ سے بواحد جو بی بی عاتقہ سے ہوا ہے وہی جان سے غیر حرامی نہیں کہ مرآت باس جب بیت المال میں وہ بی بی عاتقہ سے ہوا ہے تو وہی عاتقہ سے ہوا ہے اور دوسرے کا مال کہا جائے کہ وہ سے کوئی گرفت نہ ہو۔ بادشاہوں میں شفقت رعایا سے ہوتی وہاں تک رست ہے۔ لیکن لوگوں کا مال کہ آپ اٹھتے ہیں وہ دنیا کے لئے غلاب ہیں۔ مگر جس شخص کو لوگوں کا مال ہونے کا حق ہو اور اس میں نیابت صحیح ہو اس کام کو دوسرے کے سپرد کرنے کا نام کات ہے۔ اور نیابت کے طور پر جو کام کرے وہ وکیل ہے۔ ۱۰۹۸ کا آخری حصہ فعلی اختلاف کے ساتھ دہرایا گیا ہے۔ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تصدق بجمالی اللہ ان اللہ یخوف دیکھا دھا۔ مگر یہاں تو غنیمت کا تیس جو صحابہ میں تقسیم ہو گیا۔ و نلوۃ فی تیس جو فرمایا قرابتی کے لئے تقسیم ہوئی۔ فر عقبہ امی میں سے ہے۔ عتوٰد بکری کے تھانا بچہ کہتے ہیں جو ایک سال کا ہو۔

(۲) بَابُ إِذَا دَوَّكَلَ الْمُسْلِمُ حُرْبِيَّ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ فِي دَارِ الْأَسْلَامِ حَازَ

باب جب مسلمان حربی کو دارحرب یا داراسلام میں دیکھ کر مارے تو درست ہے
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ كَاتَبْتُ أُمِّيَةَ بِنْتُ خَلْفِ بْنِ كَلْبَانَ بْنِ حُظَيْفٍ

عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ میں نے امیہ بنت خلف سے معاہدہ کیا کہ وہ میرے مال
فِي صَاعِيْقِي بِعَمَلَةٍ وَأَحْفَظُنِي صَاعِيْقِيهِ بِالْمَدِيْنَةِ فَلَمَّا ذَكَرْتُ الرَّحْمَنَ قَالَ

سچائی جو کہ میں سے مخالفت کرے اور میں اس کے مال سچائی کو جو دہنے میں برطرف کر دوں گا جب میں نے عبد الرحمن سے وقت الرحمن
لَا أَعْرِفُ الرَّحْمَنَ كَاتِبِي بِاسْمِكَ الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِهَا هَلِيْمَةٌ فَكَاتَبْتُهُ عَبْدُ عَمْرِو بْنُ عُمَرَ فَلَمَّا

کا ذکر کیا تو اس نے کہا میں رحمن کو نہیں جانتا علم میرے ساتھ ہے اس نام کے ساتھ معاہدہ کرو جو بہت میں تھا تو میں نے اس سے عبد عمرو
كَانَ فِي يَوْمِ كُرَيْدٍ رَخِرَتْ إِلَى جَيْلٍ لِأَحْرَزَةَ حِينَ نَامَ النَّاسُ فَأَبْصُرُكَ بِلَدَانِ

نکے نام سے) معاہدہ کیا جب جنگ ہو جائے تو میں جب لوگ روئے تھے ایک ہائی طرف نکلا کر اسکی جان بچاؤں تو طالع نے دیکھ لیا
خَرَجْتُ حَتَّى وَقَعْتُ عَلَى مَجْلِسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أُمِّيَةُ بِنْتُ خَلْفِ بْنِ حَنْظَلَةَ

اور وہ ننگے ہاتھ ایک انصاری کے پاس آئی تھی اور کہا یہ ابن حنفلہ سے اور وہ کھانچ گیا تو میں
إِنَّ بَيْتَ أُمِّيَةَ تَخْرُجُ مَعَهُ فَرُبُّهُ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْأَثَرِ نَاخِشِيَةٌ أَنْ

میں کھانچ گیا تو میں ان کے ساتھ انصاری کا ایک گروہ چلا گیا تھا جب میں ڈرا کہ وہ
يُحَقِّقُوا خَلْفَتْ لَهُمْ ابْنَةُ الْأَشْعَلِمْ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ أَبُو أَحْقٍ يَتَّبِعُونَا وَكَانَ رَجُلًا

ہم کو پیچھا کرے تو میں نے ان کے لئے امیر کا لاکا بیچھ چھڑا اس سے مشغول ہو جائیں انہوں نے سے قتل کر دیا ہر وہ ہمارے پیچھے آئے بغیر
ثَقِيلًا فَلَمَّا أَدْرَكُوهُ نَاقَلْتُ لَهُ الْبُرْكَ فَبُرِكَ عَلَيَّ لِقَسِي لَا مَنَعَهُ

زور سے اور اس پر حمل آئی تھا بیچھ ہم کو کھانچے تو میں نے اس سے کہا بیچھ چھڑا وہ بیچھ گیا تو میں نے اپنے نہیں اس پر گرا یا کہ اسے بچاؤں
فَقَتَلُوهُ بِالْثِيَابِ مِنْ تَحْتِي حَتَّى كَتَلُوهُ وَأَصَابَ أَحَدَهُمْ رَجُلِي بِسَيْفِهِ وَكَانَ

انہوں نے میرے پیچھے سے اس میں گواہوں کو نہیں ہاں تک کہ قتل کر دیا اور ان میں سے ایک کی نواہ میرے ڈانٹ کر گئی
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ يُرْمِيْنَا ذَلِكَ الْأَثَرِ فِي ظَهْرِ قَدَمِهِ (۳) بَابُ الْوَكَايَةِ

عبد الرحمن بن عوف ہمیں وہ نشان اپنے پاؤں کی پشت پر دکھایا کرتے تھے۔ باب عراقی اور مالکی

فِي الصُّرُوفِ الْمَيْزَانِ وَقَدْ دَوَّكَلَ عَمْرُو بْنُ عَمْرٍو فِي الصُّرُوفِ (۴) عَنِ

قول میں دلیل بیانا اور عمرو ابن عمر نے عراقی میں دلیل بیانا ہے

أَبِي سَعِيدٍ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَرِّرًا ۱۰، ۶، ۹) بَابُ إِذَا أَبْصَرَ الزَّاحِمِيَّ أَوْ الْوَكِيلَ

دیکھ کر حدیث ۱۰، ۶، ۹ باب جب چھوڑا یا وکیل

شَاةٌ مَمُوتٌ أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ ذُبَّ وَأَصْلُهُ مَا يَخَانُ عَلَيْهِ الْفَسَادُ (۱۱) عَنِ

کری کو دیکھے کہ وہ مرنے لگی ہے یا کسی چیز کو دیکھے کہ وہ بگڑنے سے توڑنے کا کھنڈ اور جس چیز کے بگڑنے سے بڑے ٹھکانے کھپ سے
أَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ عَدَاةٌ تَرَعِي بِسَلْعٍ فَابْصُرَتْ جَارِيَةً لَنَا بِشَاةٍ مِنْ شَعْمِنَا مَوْتًا

روایت ہے کہ ان کی بکریاں حیلن جوسلج (بھلا) پر چر گئی تھیں تو ہماری ایک اونٹ نے وہ بکری دیکھی کہ وہ مرنے لگی ہے
فَلَسَرَتْ حَجْرًا فَنَزَّ بِحَتْمَا يَهْ فَقَالَ لَهُمْ لَا تَأْكُلُوا حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

تو اس نے ایک پتھر توڑا اور اسے اس کے ساتھ دھج کر دیا تو کوئی کڑوں سے لگا لگاؤ نہیں پراں تک کہ میں رسول اللہ صلی علیہ وسلم سے

عمر کفار کو دھج
کے لفظ سے خاتم نبین
تھا صلح حدیبیہ میں
بسم اللہ الرحمن
الرحیم لکھنے سے
اسی بنا پر لکھا گیا تھا
عمر حسب لغت سے
ظاہر ہے حضرت عثمان
بن عوف کو امیر بن خلف
کے ساتھ معاہدہ جنگ
پر سے بیچھ کہتے۔
یعنی اس وقت کا جب
ابھی مسلمانوں میں اڈ
تھا جس جنگ شروع
نہ ہوئی تھی۔ یا ابن
کو لڑنے کے سے اس خلا
سے کہ اس وقت مسلمانوں
کے لئے کہیں اس پر
تھا جس چیز کی طرف
کا وعدہ نہ لگائے
کیا اس کے لئے ہاں
لفظ عاصیہ ہے اور
صفت سے ہے جس کے
میں مان ہونا یا جھکا
ہیں۔ اور صاف یہ ہر وہ
چیز ہے جس کی طرف
انسان مان ہوا تو اس
کا اطلاق ہوا اور ان
دونوں پر ہے جنگ
کے فی الواقع شروع
ہو جانے سے پہلے کیا
معاہدہ جاری تھا اگر
حضرت عبد الرحمن
جنگ بدر میں ہو گیا
اسی معاہدہ کی وجہ
سے امیر کو ہمانے
کی کوشش کی۔
علاوہ جنگ شروع
ہو جانے کے بعد
معاہدہ مؤخر نہ تھا۔
اور یہ وہی ہے کہ حضرت
جہاں نے انصاری
ایک جاہل کو ساتھ

میں کو ہمانے تمام کرو یا کہ اس معاہدہ میں، نوٹ، دشمنی کے بدلانے کو صرف یا بیع صرف لکھتے ہیں، محلہ لفظی فرق سے مختلف الامامین و دیگر ایسا ہے البتہ یہاں انہوں نے زیادہ ہے
وخالق فی المیزان معش فلک یعنی وزن کی چیزوں کا پیمانہ جس سے چلانے کی صورت میں سب ذی الوزن ہونا ضروری ہے دیکھو حدیث ۱۰، ۶، ۹ پر نوٹ۔

وَسَمِعَ أَوْرَسِيلَ ابْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَسْأَلُهُ وَأَنَّه سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

عَلِيٍّ سَمِعَ عَنْ ذَلِكَ أَوْرَسِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَيَجْعَلُنِي فِيهَا أُمَّةً وَ

أَنَّهُ دَجَّتْ تَابِعَهُ عَبْدٌ دَعُوهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (۱۵) بَابُ وَكَالَةَ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ

جَابِرَةَ وَتَبِعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَالْأَثَرُ مَا نَبَهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُ أَنْ تَبْتَزِي عَنِ أَهْلِهِ

لِلصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ (۱۰۲۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَوَدَّرًا) (۱۱۸۸) بَابُ الْوَكَّالَةِ

بَنِي قُضَاءِ الَّذِينَ (۱۱۸۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يُقَاضَاهُ وَأَعْلَطَ فَمَنْ أَصْحَابُ بَنِي قُضَاءِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْوُهُ فَإِن

لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالَةٌ قَالَ أَعْطُوهُ سِتًّا مِثْلَ سِتْنِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ مِثْلُ

مِنْ سِتْنِهِ فَقَالَ أَعْطُوهُ فَإِن مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُ لَهُ قُضَاءً (۱۱۸۹) بَابُ إِذَا وَهَبَ

شَيْئًا لَوَكِيلٍ وَشَفِيعٍ قَوْمًا لَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ ذَهَبُ أَرَنْ حِينَ

سَأَلُوهُ الْغَائِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصِيْبِي لَكُمْ (۱۱۸۹) عَنِ ابْنِ

شَهَابٍ قَالَ زَعِمَ عُرْوَةُ أَنَّ هُرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالسُّورِيَّ مَعْرُومِيْنَ مَعْرُومَةَ أَخْبَرَكَ أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ جِيْنَ حَاءَ وَفَدَّ هُوَ زَيْنَ مَسِيْلِيْنَ فَنَسَا لَوْهَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى

أَمْوَالِهِمْ وَسَبِيْهِمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ

أَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوا أَحَدِيْ لَطَائِفَتَيْنِ رَأَمَا السَّبِيْ وَرَأَمَا الْمَالِ وَقَدْ كُنْتُ

أَسْتَأْنِيتُكُمْ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَظِرُهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ

الحکم ہی ایک شخص
ابنی ہو جاتی میں
جی اپنا وکیل کرنا
سے اور غیر ضروری
میں ہی یہ جملہ آداب
سے نام اور استفادہ
نہیں میں یہاں پر
سزا عذر یا
فرقی نہیں ہونا
موت ہو کر گئے ہو
میں انہا کا
میں کی چیز سے
الذی صدق
من ابو اسید
یہاں کا تھا
اے صغیرہ
سنتہ تم پہنچا وہ
الاستاذ توفیق
اے صغیرہ فقالت
ادبیتی اور
بت تان اللہ
از خیرہ احسن
نصاوی ہی مہتمم
خود ہونے سے
کو تفریق اور
سے وہیں بنا یا اور
ابھی تک باب کا
ہے
میں صغیرہ کے
کیا اعلیٰ نقطہ ہے
وہ مشورہ تقاضا کرنے
سزا کہہ سکتی کرنا ہے
لیکن بادشاہ کی
تو ہی پر اعلیٰ درجہ کا
ضابطہ اور فتنے
میں مقدار کو گنت
کا حق ہے اسے
تکلیف پہنچی ہوگی
اور پھر اور اس کے
تو فتنوں کے فتنے
سے پھر اور اس کے
تو فتنوں کے فتنے
سے پھر اور اس کے

۱۱۸۸
۱۱۸۹
۱۱۹۰
۱۱۹۱
۱۱۹۲
۱۱۹۳
۱۱۹۴
۱۱۹۵
۱۱۹۶
۱۱۹۷
۱۱۹۸
۱۱۹۹
۱۲۰۰
۱۲۰۱
۱۲۰۲
۱۲۰۳
۱۲۰۴
۱۲۰۵
۱۲۰۶
۱۲۰۷
۱۲۰۸
۱۲۰۹
۱۲۱۰
۱۲۱۱
۱۲۱۲
۱۲۱۳
۱۲۱۴
۱۲۱۵
۱۲۱۶
۱۲۱۷
۱۲۱۸
۱۲۱۹
۱۲۲۰
۱۲۲۱
۱۲۲۲
۱۲۲۳
۱۲۲۴
۱۲۲۵
۱۲۲۶
۱۲۲۷
۱۲۲۸
۱۲۲۹
۱۲۳۰
۱۲۳۱
۱۲۳۲
۱۲۳۳
۱۲۳۴
۱۲۳۵
۱۲۳۶
۱۲۳۷
۱۲۳۸
۱۲۳۹
۱۲۴۰
۱۲۴۱
۱۲۴۲
۱۲۴۳
۱۲۴۴
۱۲۴۵
۱۲۴۶
۱۲۴۷
۱۲۴۸
۱۲۴۹
۱۲۵۰
۱۲۵۱
۱۲۵۲
۱۲۵۳
۱۲۵۴
۱۲۵۵
۱۲۵۶
۱۲۵۷
۱۲۵۸
۱۲۵۹
۱۲۶۰
۱۲۶۱
۱۲۶۲
۱۲۶۳
۱۲۶۴
۱۲۶۵
۱۲۶۶
۱۲۶۷
۱۲۶۸
۱۲۶۹
۱۲۷۰
۱۲۷۱
۱۲۷۲
۱۲۷۳
۱۲۷۴
۱۲۷۵
۱۲۷۶
۱۲۷۷
۱۲۷۸
۱۲۷۹
۱۲۸۰
۱۲۸۱
۱۲۸۲
۱۲۸۳
۱۲۸۴
۱۲۸۵
۱۲۸۶
۱۲۸۷
۱۲۸۸
۱۲۸۹
۱۲۹۰
۱۲۹۱
۱۲۹۲
۱۲۹۳
۱۲۹۴
۱۲۹۵
۱۲۹۶
۱۲۹۷
۱۲۹۸
۱۲۹۹
۱۳۰۰
۱۳۰۱
۱۳۰۲
۱۳۰۳
۱۳۰۴
۱۳۰۵
۱۳۰۶
۱۳۰۷
۱۳۰۸
۱۳۰۹
۱۳۱۰
۱۳۱۱
۱۳۱۲
۱۳۱۳
۱۳۱۴
۱۳۱۵
۱۳۱۶
۱۳۱۷
۱۳۱۸
۱۳۱۹
۱۳۲۰
۱۳۲۱
۱۳۲۲
۱۳۲۳
۱۳۲۴
۱۳۲۵
۱۳۲۶
۱۳۲۷
۱۳۲۸
۱۳۲۹
۱۳۳۰
۱۳۳۱
۱۳۳۲
۱۳۳۳
۱۳۳۴
۱۳۳۵
۱۳۳۶
۱۳۳۷
۱۳۳۸
۱۳۳۹
۱۳۴۰
۱۳۴۱
۱۳۴۲
۱۳۴۳
۱۳۴۴
۱۳۴۵
۱۳۴۶
۱۳۴۷
۱۳۴۸
۱۳۴۹
۱۳۵۰
۱۳۵۱
۱۳۵۲
۱۳۵۳
۱۳۵۴
۱۳۵۵
۱۳۵۶
۱۳۵۷
۱۳۵۸
۱۳۵۹
۱۳۶۰
۱۳۶۱
۱۳۶۲
۱۳۶۳
۱۳۶۴
۱۳۶۵
۱۳۶۶
۱۳۶۷
۱۳۶۸
۱۳۶۹
۱۳۷۰
۱۳۷۱
۱۳۷۲
۱۳۷۳
۱۳۷۴
۱۳۷۵
۱۳۷۶
۱۳۷۷
۱۳۷۸
۱۳۷۹
۱۳۸۰
۱۳۸۱
۱۳۸۲
۱۳۸۳
۱۳۸۴
۱۳۸۵
۱۳۸۶
۱۳۸۷
۱۳۸۸
۱۳۸۹
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
۱۳۹۵
۱۳۹۶
۱۳۹۷
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰

۱۱۸۸
۱۱۸۹
۱۱۹۰
۱۱۹۱
۱۱۹۲
۱۱۹۳
۱۱۹۴
۱۱۹۵
۱۱۹۶
۱۱۹۷
۱۱۹۸
۱۱۹۹
۱۲۰۰
۱۲۰۱
۱۲۰۲
۱۲۰۳
۱۲۰۴
۱۲۰۵
۱۲۰۶
۱۲۰۷
۱۲۰۸
۱۲۰۹
۱۲۱۰
۱۲۱۱
۱۲۱۲
۱۲۱۳
۱۲۱۴
۱۲۱۵
۱۲۱۶
۱۲۱۷
۱۲۱۸
۱۲۱۹
۱۲۲۰
۱۲۲۱
۱۲۲۲
۱۲۲۳
۱۲۲۴
۱۲۲۵
۱۲۲۶
۱۲۲۷
۱۲۲۸
۱۲۲۹
۱۲۳۰
۱۲۳۱
۱۲۳۲
۱۲۳۳
۱۲۳۴
۱۲۳۵
۱۲۳۶
۱۲۳۷
۱۲۳۸
۱۲۳۹
۱۲۴۰
۱۲۴۱
۱۲۴۲
۱۲۴۳
۱۲۴۴
۱۲۴۵
۱۲۴۶
۱۲۴۷
۱۲۴۸
۱۲۴۹
۱۲۵۰
۱۲۵۱
۱۲۵۲
۱۲۵۳
۱۲۵۴
۱۲۵۵
۱۲۵۶
۱۲۵۷
۱۲۵۸
۱۲۵۹
۱۲۶۰
۱۲۶۱
۱۲۶۲
۱۲۶۳
۱۲۶۴
۱۲۶۵
۱۲۶۶
۱۲۶۷
۱۲۶۸
۱۲۶۹
۱۲۷۰
۱۲۷۱
۱۲۷۲
۱۲۷۳
۱۲۷۴
۱۲۷۵
۱۲۷۶
۱۲۷۷
۱۲۷۸
۱۲۷۹
۱۲۸۰
۱۲۸۱
۱۲۸۲
۱۲۸۳
۱۲۸۴
۱۲۸۵
۱۲۸۶
۱۲۸۷
۱۲۸۸
۱۲۸۹
۱۲۹۰
۱۲۹۱
۱۲۹۲
۱۲۹۳
۱۲۹۴
۱۲۹۵
۱۲۹۶
۱۲۹۷
۱۲۹۸
۱۲۹۹
۱۳۰۰
۱۳۰۱
۱۳۰۲
۱۳۰۳
۱۳۰۴
۱۳۰۵
۱۳۰۶
۱۳۰۷
۱۳۰۸
۱۳۰۹
۱۳۱۰
۱۳۱۱
۱۳۱۲
۱۳۱۳
۱۳۱۴
۱۳۱۵
۱۳۱۶
۱۳۱۷
۱۳۱۸
۱۳۱۹
۱۳۲۰
۱۳۲۱
۱۳۲۲
۱۳۲۳
۱۳۲۴
۱۳۲۵
۱۳۲۶
۱۳۲۷
۱۳۲۸
۱۳۲۹
۱۳۳۰
۱۳۳۱
۱۳۳۲
۱۳۳۳
۱۳۳۴
۱۳۳۵
۱۳۳۶
۱۳۳۷
۱۳۳۸
۱۳۳۹
۱۳۴۰
۱۳۴۱
۱۳۴۲
۱۳۴۳
۱۳۴۴
۱۳۴۵
۱۳۴۶
۱۳۴۷
۱۳۴۸
۱۳۴۹
۱۳۵۰
۱۳۵۱
۱۳۵۲
۱۳۵۳
۱۳۵۴
۱۳۵۵
۱۳۵۶
۱۳۵۷
۱۳۵۸
۱۳۵۹
۱۳۶۰
۱۳۶۱
۱۳۶۲
۱۳۶۳
۱۳۶۴
۱۳۶۵
۱۳۶۶
۱۳۶۷
۱۳۶۸
۱۳۶۹
۱۳۷۰
۱۳۷۱
۱۳۷۲
۱۳۷۳
۱۳۷۴
۱۳۷۵
۱۳۷۶
۱۳۷۷
۱۳۷۸
۱۳۷۹
۱۳۸۰
۱۳۸۱
۱۳۸۲
۱۳۸۳
۱۳۸۴
۱۳۸۵
۱۳۸۶
۱۳۸۷
۱۳۸۸
۱۳۸۹
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
۱۳۹۵
۱۳۹۶
۱۳۹۷
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰

۱۱۸۸
۱۱۸۹
۱۱۹۰
۱۱۹۱
۱۱۹۲
۱۱۹۳
۱۱۹۴
۱۱۹۵
۱۱۹۶
۱۱۹۷
۱۱۹۸
۱۱۹۹
۱۲۰۰
۱۲۰۱
۱۲۰۲
۱۲۰۳
۱۲۰۴
۱۲۰۵
۱۲۰۶
۱۲۰۷
۱۲۰۸
۱۲۰۹
۱۲۱۰
۱۲۱۱
۱۲۱۲
۱۲۱۳
۱۲۱۴
۱۲۱۵
۱۲۱۶
۱۲۱۷
۱۲۱۸
۱۲۱۹
۱۲۲۰
۱۲۲۱
۱۲۲۲
۱۲۲۳
۱۲۲۴
۱۲۲۵
۱۲۲۶
۱۲۲۷
۱۲۲۸
۱۲۲۹
۱۲۳۰
۱۲۳۱
۱۲۳۲
۱۲۳۳
۱۲۳۴
۱۲۳۵
۱۲۳۶
۱۲۳۷
۱۲۳۸
۱۲۳۹
۱۲۴۰
۱۲۴۱
۱۲۴۲
۱۲۴۳
۱۲۴۴
۱۲۴۵
۱۲۴۶
۱۲۴۷
۱۲۴۸
۱۲۴۹
۱۲۵۰
۱۲۵۱
۱۲۵۲
۱۲۵۳
۱۲۵۴
۱۲۵۵
۱۲۵۶
۱۲۵۷
۱۲۵۸
۱۲۵۹
۱۲۶۰
۱۲۶۱
۱۲۶۲
۱۲۶۳
۱۲۶۴
۱۲۶۵
۱۲۶۶
۱۲۶۷
۱۲۶۸
۱۲۶۹
۱۲۷۰
۱۲۷۱
۱۲۷۲
۱۲۷۳
۱۲۷۴
۱۲۷۵
۱۲۷۶
۱۲۷۷
۱۲۷۸
۱۲۷۹
۱۲۸۰
۱۲۸۱
۱۲۸۲
۱۲۸۳
۱۲۸۴
۱۲۸۵
۱۲۸۶
۱۲۸۷
۱۲۸۸
۱۲۸۹
۱۲۹۰
۱۲۹۱
۱۲۹۲
۱۲۹۳
۱۲۹۴
۱۲۹۵
۱۲۹۶
۱۲۹۷
۱۲۹۸
۱۲۹۹
۱۳۰۰
۱۳۰۱
۱۳۰۲
۱۳۰۳
۱۳۰۴
۱۳۰۵
۱۳۰۶
۱۳۰۷
۱۳۰۸
۱۳۰۹
۱۳۱۰
۱۳۱۱
۱۳۱۲
۱۳۱۳
۱۳۱۴
۱۳۱۵
۱۳۱۶
۱۳۱۷
۱۳۱۸
۱۳۱۹
۱۳۲۰
۱۳۲۱
۱۳۲۲
۱۳۲۳
۱۳۲۴
۱۳۲۵
۱۳۲۶
۱۳۲۷
۱۳۲۸
۱۳۲۹
۱۳۳۰
۱۳۳۱
۱۳۳۲
۱۳۳۳
۱۳۳۴
۱۳۳۵
۱۳۳۶
۱۳۳۷
۱۳۳۸
۱۳۳۹
۱۳۴۰
۱۳۴۱
۱۳۴۲
۱۳۴۳
۱۳۴۴
۱۳۴۵
۱۳۴۶
۱۳۴۷
۱۳۴۸
۱۳۴۹
۱۳۵۰
۱۳۵۱
۱۳۵۲
۱۳۵۳
۱۳۵۴
۱۳۵۵
۱۳۵۶
۱۳۵۷
۱۳۵۸
۱۳۵۹
۱۳۶۰
۱۳۶۱
۱۳۶۲
۱۳۶۳
۱۳۶۴
۱۳۶۵
۱۳۶۶
۱۳۶۷
۱۳۶۸
۱۳۶۹
۱۳۷۰
۱۳۷۱
۱۳۷۲
۱۳۷۳
۱۳۷۴
۱۳۷۵
۱۳۷۶
۱۳۷۷
۱۳۷۸
۱۳۷۹
۱۳۸۰
۱۳۸۱
۱۳۸۲
۱۳۸۳
۱۳۸۴
۱۳۸۵
۱۳۸۶
۱۳۸۷
۱۳۸۸
۱۳۸۹
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
۱۳۹۵
۱۳۹۶
۱۳۹۷
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰

قَدْ وَهَيْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ رَجُلٌ زَوْجِيهَا قَالَ قَدْ زَوَّجْنَا كَمَا بَسَمًا

اسے تیس آپ ہی سے کر دیا تو ایک شخص نے کہا اس کا نکاح مجھ سے کر لینے فرمایا میں نے اس کا نکاح خود سے کر دیا

مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ (۱۰) بَابُ إِذَا دَوَّكُلَّ رَجُلًا فَتَرَكَ الْوَكِيلَ شَيْئًا فَاجَازَهُ

اس قرآن کی وجہ سے جو حفظ سے ہوا بَابُ جب کسی شخص کو وکیل بننے کیل کوئی بات چھوڑ دے اور وکیل خود

الْمُوَكَّلُ لَهُوَ جَائِزٌ إِنْ أَنْزَلَ إِلَى أَجْلِ مَسْتَهْيٍ جَازَرَهُ ۱۱۲ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

اس کی اجازت دے تو درست ہے اور اگر وکیل ایک مقررہ چیز کو ذلت کسی کو ذلت سے روک دے تو

قَالَ وَكَتَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَاتَّقَى أَنْ يُجْعَلَ

ہے کہ مجھے رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم نے

يُخْتَارُ مِنَ الظَّاهِرِ فَأَخَذْتُ وَذُقْتُ وَاللَّهِ لَا رَفْعَ لَكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

آیا اور بس یہ میرا ناسخ لینے کا ہے اسے پڑا اور کہا کہ تم میں سے مجھے رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم نے

وَسَمَّ قَالَ إِنِّي مُخْتَارٌ وَعَلَى عِيَالٍ وَبِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ قَالَ فَخَلَيْتُ عَنْهُ فَاصْبِرْ

اس نے کہا میں مختار ہوں اور میں عیال دار ہوں اور مجھے سخت ضرورت ہے کہا تو میں نے اسے چھوڑ دیا

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ قَالَ قُلْتُ

تو میں نے فرمایا اسے ابو ہریرہ تیرے دلت کے قیدی نے کیا کیا

بِأَرْسُولِ اللَّهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا فَرَحِمْتَهُ فَخَلَيْتُ سَيِّدَهُ قَالَ أَمَارَةٌ

یا رسول اللہ میں نے سخت ضرورت اور عیال داری کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا تو فرمایا ہوشیار رہو

فَلَا كَذِبُكَ وَسَيَعُودُ نَعْرَتُكَ أَنْتَ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس نے تجھ سے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا تو میں نے جان بیا کر وہ پھر آئے گا کیونکہ رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

رَأَيْتَ سَيَعُودُ فَرُصِدَتَهُ فُجَاءَ يَخْتَوِي مِنَ الظَّاهِرِ فَأَخَذْتَهُ فَقُلْتُ لَا رَفْعَ لَكَ إِلَى

کر وہ پھر آئے گا میں اس کی تاک میں رہا وہ آیا اور بس پھر بگڑنا لینے کا میں نے اسے پکڑا اور کہا تجھے ضرور

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَبِيٍّ فَإِنِّي مُخْتَارٌ وَعَلَى عِيَالٍ لَا أَعُوذُ نَحْمَتَهُ

رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جاؤں گا اس نے کہا مجھے چھوڑنے میں محتار ہوں عیال دار ہوں میں پھر نہیں آؤں گے اور

فَخَلَيْتُ سَيِّدَهُ فَاصْبِرْ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا

عورت کی اجازت
دعا میں نفسی
آباد عورت بھی
جس کا سر اٹھائے
میں بھی نہیں
نہایت سے
کرم کے لئے
کا اختیار آپ کر کے
یہ اسی سے
بیت زواج کا
مذکورہ من القرآن
تہ جہنم کے بارے
ی ہے کہ اسے
یہ عیال دار ہے
بے تکلیف
یہ حدیث مفصل آئی
ہے اس سے ملو
ہوئے ہے کہ قرآن کی
تیسرا ہے
دیگر تیسرا یہ کہ اس
شخص کے پاس سے
اس کے تہ بند کے
اور کچھ نہ تھا

فَأَقْرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ حَتَّى تَخْتِمَ آيَةَ فَاِنَّكَ لَنْ

تو آیت الکرسی پڑھ لو اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم یہاں تک کہ آیت کو ختم کرے تجھ پر خدا کی

يُرْزَلْ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَفْرُبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تَصْبِحَ نَفْسُكَ سَابِلَةً

ظن سے تمہاراں سے گا اور شیطان تیرے پاس نہ آئے گا یہاں تک کہ صبح ہو جس وقت کہ تیرے پاس سے

فَأَصْبَحْتَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَعَلَ أَسَدِيكَ الْبَارِحَةَ

دیا جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تیرے قیدی نے رات کیا کیا

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعِمَ أَنَّهُ يَعْلَمُنِي كَمَا بَاتَ لِي بِمَعْنَى اللَّهِ بِهَا فَخَلَيْتَ سَابِلَةً

میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے کہا کہ مجھے چنڈی سے ہے بسھاؤں گا کہ اس نے مجھ سے قلم دے گا تو میں نے سے

قَالَ مَا هِيَ قُلْتُ قَالَ لِي إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَأَقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوْفَاهَا

جو جوڑ دیا فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ اپنے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی شروع سے پڑھو

حَتَّى تَخْتِمَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَقَالَ لِي لَنْ يُرْزَلَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ

یہاں تک کہ ختم کر دو اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم اور مجھے کہا کہ خدا کی طرف سے تجھے پر ایک محافظ فرما دے گا

وَلَا يَقْرُبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تَصْبِحَ وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَيَّ الْخَيْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

اور شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا یہاں تک کہ صبح ہو جائے اور وہ صحابہ اچھی بات کی بڑی آرزو رکھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَّقَكَ وَهُوَ كَذِبٌ تَعْلَمُ مِنْ تَخَاطُبِ مَنْ دَنَّتْ

اس نے تجھ سے سچ بولا کہ وہ ہے بڑا جھوٹا جانتے ہوئے بلوہ پروردگار میں رات سے تم کو

بَيِّنَاتٌ يَا أَبَاهُ بَرِيَّةٌ قَالَ لَا قَالَ ذَلِكَ شَيْطَانٌ (۱۱۲) بَابُ إِذَا أَبَا عُرْوَةَ الْوَكِيلِ شَيْخًا

سے بات چیت کرتے ہو عرض کیا میں نے فرمایا وہ شیطان سے بولا باب جب وہ کیں ایسی بیچ کرے

فَأَسَدٌ أَنْبِئُهُ مُرْدُودٌ (۱۱۳) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ بِلَالٌ إِلَى

جو فاسد ہو تو اس کی بیچ داپس ہوئی ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ بلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمِيمٍ بَرِّيَّةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ هَذَا

عبد تميم سے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا یہ کہاں سے

قَالَ بِلَالٌ كَانَ عِنْدَنَا تَمِيمٌ رَدِيًّا فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعِينَ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

بلال نے عرض کیا تیرے پاس تميم رہتا تھا میں نے ان کے دو صاع ایک صاع کے بدلے بیچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا دیا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْهَةٌ عَيْنٌ يَا عُرْوَةَ الْوَكِيلِ

اور وہ ابو ہریرہ سے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اے عروہ عین کی آواز ہے

وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فِيهِ التَّمْرَ بِبَيْعِ آخِرَتِهِ (۱۱۴) بَابُ

یہاں تک کہ تم خریدنا چاہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیچ کر لو کہتا ہے باب

الْوَكِيلِ فِي لَوْقَتِهِ وَنَفَقَتِهِ وَأَنْ يُطْعِمَ صَدْرَ رِقَالِهِ وَيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ (۱۱۵)

وقف کے مال میں وکیل بننا اور اس کو کھانا اور خیر بھی جانے طور سے کھانے

عَنْ عُمَرَ وَقَالَ فِي صَدَقَةِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا كَلْبُ لَوْ كُنْتُ

عمر سے روایت ہے اس نے حضرت عمر کے وقت زامہ سے کہا کہ تو نے کھانے اور پینے اور کھانے کے

مجلس شیطان قرآن
کرے میں ساری کتب کے
مطابق بخاری میں
ہی میں اور اس دنیا
میں سے بھی بخاری
شیطان ناسخ کے اور
کھانے پینے کے
کھانے میں اور نہ
بیتوں کی چوری کر
کے انہیں اٹھانے
جائے جس کو کہتا
شیطانوں سے
اور قرآن شریف
میں شیطان کا لفظ
انسان پر بولا گیا
ہے۔ اور اٹھانے والی
شیطان نہیں چوری
کرتے والا اور جھوٹ
کہتے والا ہے ایک
شیطان ہی ہے۔
اور وہ آیت الکرسی
کے فوائد بتانے
ہو سکتے ہیں کہ اس
نے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم سے
ہو یا کسی سے نہ
ہو اس نے متفق
ہو کہ جو توٹ کر
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵

۱۱۲ کتاب الشروط
کے آخریں آتے ہیں
اکھترتے ہو کہ جو
کہ نہیں سے ایک
اچھا ہے کہ جو
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵

ہوتے ہیں جن کی خدمت میں شیطان آتا اور قرآنی آیت کی صفت ہے۔

غیر متقبل مالا فکان ابن عمر یسئ صدقة عمر یهدی للناس من اهل مکة کان یزل

باب ۱۳۱۹ الوکوف فی الحدیث (۳۳) الامام زید بن خالد الی ہریرة

عن النبی سنی اللہ صلیہ وسلم قال واغدیا انیس الی مراة هذا ابن اعترفت

باب ۱۳۲۰ عن عقبہ بن ابی عرار قال سئل عن انیس الی مراة هذا ابن اعترفت

باب ۱۳۲۱ عن عقبہ بن ابی عرار قال سئل عن انیس الی مراة هذا ابن اعترفت

باب ۱۳۲۲ عن عقبہ بن ابی عرار قال سئل عن انیس الی مراة هذا ابن اعترفت

باب ۱۳۲۳ عن عقبہ بن ابی عرار قال سئل عن انیس الی مراة هذا ابن اعترفت

باب ۱۳۲۴ عن عقبہ بن ابی عرار قال سئل عن انیس الی مراة هذا ابن اعترفت

باب ۱۳۲۵ عن عقبہ بن ابی عرار قال سئل عن انیس الی مراة هذا ابن اعترفت

باب ۱۳۲۶ عن عقبہ بن ابی عرار قال سئل عن انیس الی مراة هذا ابن اعترفت

باب ۱۳۲۷ عن عقبہ بن ابی عرار قال سئل عن انیس الی مراة هذا ابن اعترفت

باب ۱۳۲۸ عن عقبہ بن ابی عرار قال سئل عن انیس الی مراة هذا ابن اعترفت

باب ۱۳۲۹ عن عقبہ بن ابی عرار قال سئل عن انیس الی مراة هذا ابن اعترفت

باب ۱۳۳۰ عن عقبہ بن ابی عرار قال سئل عن انیس الی مراة هذا ابن اعترفت

باب ۱۳۳۱ عن عقبہ بن ابی عرار قال سئل عن انیس الی مراة هذا ابن اعترفت

باب ۱۳۳۲ عن عقبہ بن ابی عرار قال سئل عن انیس الی مراة هذا ابن اعترفت

باب ۱۳۳۳ عن عقبہ بن ابی عرار قال سئل عن انیس الی مراة هذا ابن اعترفت

باب ۱۳۳۴ عن عقبہ بن ابی عرار قال سئل عن انیس الی مراة هذا ابن اعترفت

باب ۱۳۳۵ عن عقبہ بن ابی عرار قال سئل عن انیس الی مراة هذا ابن اعترفت

باب ۱۳۳۶ عن عقبہ بن ابی عرار قال سئل عن انیس الی مراة هذا ابن اعترفت

باب ۱۳۳۷ عن عقبہ بن ابی عرار قال سئل عن انیس الی مراة هذا ابن اعترفت

باب ۱۳۳۸ عن عقبہ بن ابی عرار قال سئل عن انیس الی مراة هذا ابن اعترفت

ملاحظہ فرمائیں کہ اس کتاب میں مختلف روایات اور احادیث جمع کی گئی ہیں۔ اس میں صحیح اور صحیحین کی روایات بھی شامل ہیں۔ اس کتاب کے مختلف بابوں میں مختلف احادیث جمع کی گئی ہیں۔ اس میں صحیح اور صحیحین کی روایات بھی شامل ہیں۔ اس کتاب کے مختلف بابوں میں مختلف احادیث جمع کی گئی ہیں۔ اس میں صحیح اور صحیحین کی روایات بھی شامل ہیں۔

اس کتاب کے مختلف بابوں میں مختلف احادیث جمع کی گئی ہیں۔ اس میں صحیح اور صحیحین کی روایات بھی شامل ہیں۔ اس کتاب کے مختلف بابوں میں مختلف احادیث جمع کی گئی ہیں۔ اس میں صحیح اور صحیحین کی روایات بھی شامل ہیں۔

عند ما حثت كاسطبل
 تو غار حثت کی طرف
 تو جہر لانا ہی معلوم
 ہوتا ہے کہ جو لوگ
 عزت کھینچی باڑی کے
 پیٹے کو اختیار کر لیتے
 ہیں اور اس سے
 اوپر اٹھنا نہیں جانتے
 وہ ذلیل ہوجاتے ہیں
 یہ ایک امر واقعہ ہے
 اور اس کی وجہ یہ
 معلوم ہوتی ہے کہ
 وہ زمین کی زراعت
 کو اپنے گذارہ کیلئے
 کافی سمجھ کر نہیں
 ترنگ کرتے اور اسے
 قدم پر دھانے کی
 کوشش نہیں کرتے
 نہ گھر کو چھوڑ کر باہر
 نکلنے اور نہ زمین
 چلنے پھرنے کی طرف
 ان کو رغبت ہوتی ہو
 کہ صنعت لوگوں سے
 میں اور ان کے حالات
 کا مطالعہ کرتے اپنے
 علم کو بڑھاویں
 اسی لئے تعلیم میں بھی
 نتیجہ رہ جاتے ہیں
 صلوات میں ہی ان کا
 حصہ کم ہوجاتا ہے۔
 بلکہ خود حکام کے مفاد
 کا ساتھ ملنے میں جاتے
 ہیں۔

بِأَلَّةِ الزَّرْعِ أَوْ بِجَاوِزَةِ الْحَدِّ الَّذِي أُمِرَ بِهِ (۱۱۲۶) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ

کرنے سے جس کو علم ہے اور باہر بھی گیا ہے

ابو امامہ بنی نضیر سے روایت ہے

قَالَ وَرَأَى سِكَّةً وَكَيْفَ مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس نے ہر دو کھیتی کا کون سا کون سا دیکھا

میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے

يَقُولُ لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ الذَّلِيلُ (۱۱۲۷) بَابُ اتِّبَاءِ الْكَلْبِ

جس قوم کے گھر میں آتا ہے اس میں ذات ہی لاتا ہے

باب کھیت کی حفاظت کیلئے

لِلْحَرْثِ (۱۱۲۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ر) تَكَرَّرَ (۱۱۲۷) (۱۱۲۶) عَنْ سَفْيَانَ

تکرار کیا دیکھو حدیث ۱۱۲۷

سفیان بن ابی زہیر

بَيْتِ أَبِي زُهَيْرٍ رَجُلٍ مِنْ أُرُوشُوعَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سے جو اروشوعہ سے ایک شخص ہے روایت ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا

میں سے تھا ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَلِمَاتٌ لَا يَفْقَهُنَّ زَعَاظُهَا نَقْصُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ

فرماتے تھے جس نے یہ بات سنی اور جہاں اس کی کھیتی کی حفاظت کے کام آتا ہو وہ جاراؤں کے قہر روز اس سے عمل سے کہے جاتا ہے

قَدْرًا طَقَلَتْ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِي وَرَبِّ

گھٹ جائے گا میں نے کہا کیا تم نے خود یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے

کہا ہاں اس صحابہ کے

هَذَا السَّيِّدِ (۱۱۲۹) بَابُ اسْتِعْجَالِ الْبَقْرِ لِلْحَرْثِ (۱۱۲۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ

رب کی قسم باب گائے بیل سے کھیت کیلئے کام لینا

ابو ہریرہ بنی سلمہ سے روایت کیلئے

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ زَاكٍ عَلَى بَقْرَةٍ اتَّفَقَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ لِمَ

فرمایا ایک شخص ایک بیل پر سوار تھا

بیل نے اس کی طرف دیکھ کر کہا

أَخْلَقَ لِهَذَا أَخْلَقْتُ الْحَرْثَ قَالَ آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَخَذَ الرَّبُّ

میں اس کام کے لئے پیدا نہیں ہوا میں تمہاری کے لئے پیدا ہوا ہوں آپ نے فرمایا مجھے اس پر یقین ہے اور ابو بکر اور عمر کو بھی

اور ایک

شَاؤَ فَتَبِعَهَا الرَّاعِي فَقَالَ الْبَدْبُ مِنْ لَهَا يَوْمَ السَّبْعِ يَوْمَ لَا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي

بیشک ایک بیل تو چرواہا اس کے پیچھے تھا تو بیل نے کہا تمہاروں کے دن اس کا کون نگہبان ہوگا جس دن اس کا چرواہا مجھے سو گئی

نہ ہوگا آپ نے فرمایا میں اس پر یقین رکھتا ہوں اور ابو بکر و عمر بھی

ابو سلمہ کہتے ہیں اور وہ دونوں اس دن نبی میں نہ تھے

..... پس مطلب یہ ہے کہ زراعت اور زمین کو ترقی دینا اور ایک نہایت اچھا کام ہے مگر اپنے آپ کو اس پر محدود کر لینا چاہئے اور اس میں اس قدر صرف نہ ہونا چاہئے۔
 کہ اپنی ترقی کے راستوں کو خود محدود کر لیں۔ مثلاً یہاں نظر یہ ہے کہ من اسک کلما فائدہ بنقص کل یوم میں عملتہ فقہ لاط الا کلب حرث ادا ماشیہ۔ اور ایک روایت میں ہے
 الا کلب غنم ادرح ادرح اور ایک میں ہے کلب صیدا اوما شیہ یعنی جو شخص کتا لکھتا ہے سولے اسکے کھیت یا ریوڑ کی حفاظت کیلئے جو یا ریوڑ یا کھیت یا شکار کے
 لئے جو یا شکار یا ریوڑ کے لئے ہو۔ اس کے عمل سے ایک خیرہ روز کم ہوتا رہتا ہے۔ شکار کے لئے کا ذکر تو قرآن شریف میں بھی ہے اور حفاظت کھیت کی ہر یا ریوڑ کی
 یا مکان کی سب ایک حکم میں ہیں۔ اور یہ ضرورت ہے حالانکہ شکار میں ایک شوق ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی غرض کے لئے نہ کرنا منع نہیں۔ بلا ضرورت یا غرض کے
 رکھنے سے روکا ہے۔ یا شادیاں میں اشارہ ہو کہ جب انسان کسی غرض کے لئے کتا نہیں رکھتا تو پھر اس کی حفاظت وغیرہ میں نہیں کرتا اور اس سے فائدہ کی جائے نقصان کا احتمال
 زیادہ ہوتا ہے اگر کتا وارہ کئے نہ صرف باعث کھیت ہوتے ہیں اور نقصان پہنچتے ہیں بلکہ زیادہ ہرگز انسانوں کو کبھی طرح ہلاک بھی کرتے ہیں۔ یہاں غرض صرف یہ ہو کہ زراعت
 کی خاطر ہی کتا رکھا جا سکتا ہے۔ مگر لغت میں جو کسی چیز کی حالت کسی بات پر دلالت کرے تو اسے ہی تفسیر کیا جاتا ہے۔ جیسے امثالاً المعوض قال تظنی۔ قالت لا
 العینان قال بیدہ وغیرہ کا استعمال عام ہے جس میں اصل کتا بھی حال ہے اور ہی طرح کے کتے کا ذکر آتا ہے اور پھر السبع سے مراد وہ زندگی دن و شب انسان
 اپنے چمکوں میں اپنی طرف متوجہ ہوجائیں کہ زندگی کی حفاظت کر لیا کوئی نہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر و عمر کو ساتھ نشان کرنا ان کے کمال اتباع کی وجہ سے تھا۔

مکہ صارت
 شطرنج
 کی کوئی خصوصیت
 نہیں کوئی بقیہ
 ہو تو درست ہے
 حدیث
 میں ہے کہ شطرنج کا لفظ
 سے ہے اس لیے شطرنج کا
 لفظ لائے ہی گئے
 بعد صحابہ اوتارہ ہیں
 کے ذوال وصال کیا
 ہے کہ وہ خصوصاً
 اہل مدینہ معاملہ فرماتے
 رستے تھے اور اس
 کا حدیث
 ہے وہی نہیں اور حدیث
 حدیث
 مزاد است و ساقان
 کے معانی کا ذکر ہے
 اور وہ انجمن ہے
 معاملہ ہے جو حضرت
 عمر کے زمانہ تک قائم
 رہا پس اس معاملہ فرماتے
 بہ نسبت کو باہل
 اور ان کو شہر کا حساب
 ہا ہم اور بیضاوی امام
 زکریا کا مذہب ہے یا
 روایات کہ حضرت
 عمر اور دیگر کے
 ساتھ خاص کر انھیں
 کہ انہاں شامی کا مذہب
 ہے وہ صحیح ہے
 حضرت عمر کا مذہب
 ہے کہ مزدور کے
 عمل سے جو بیاد
 ہو اس کی مزدوری
 اس میں سے مفقود
 کے دینا درست نہیں
 دلیل یہ دی جاتی ہے
 کہ مزدور کی ہرت
 معلوم اور زمین ہوتی
 چاہئے اور اس
 صورت میں ہرت

وَحَجْرَةٌ وَقَالَ قَيْسُ بْنُ مَسْمُودٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلٌ بَيْتِ هَجْرَةٍ

ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ مدینہ میں ہجرت کی کوئی گھر نہیں ہے

إِلَّا بَيْتُ رَعُونَ عَلَى الثَّلْثِ وَالزَّرِيعِ وَذَارِعِ عَلَى زَمْعِدِ بْنِ مَالِكٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ

جو تری اور جنتی رہتا ہے کہتے ہیں اور حضرت علی اور ابن مالک اور عبد اللہ بن مسعود اور ابن عمر بن عبد العزیز اور قاسم اور عروہ اور ابو بکر کا مکان اور عمر کا مکان اور علی کا مکان

أَبْنِ سَيْرِينَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ لَاسُوْدٍ لَمُنْتُ شَارِكُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَزِيدٍ

اور ابن سیرین بھی کہتے ہیں اور عبد الرحمن بن لاسود کہتے ہیں میں عبد الرحمن بن بزید سے کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ

فِي الزَّرْعِ وَعَامِلٌ عَمْرُ النَّاسِ عَلَى إِخْوَةٍ عَمْرٍو بِالْبَدْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَالَهُ الشُّطْرُ وَالْأَخْدَانُ

اور حضرت عمر نے لوگوں سے اس شرط پر معاملہ کیا کہ اگر عروج اپنا دیں تو وہ اہل شہر ہیں اور اگر نہ

يَأْبُدُ رِقْلَهُمْ كَذَلِكَ أَوْ قَالَ أَحْسَنُ لَا يَأْسُ أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ لِأَحَدِهِمَا فَيُنْفِقَانِ

کاشف کا روئے ہوا نہیں آتا ہے کہ اور سن لیتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں زمین ایک کی ہو اور دونوں اس پر اخرج کریں

جَمِيعًا فَمَا حَرَجَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَرَأَى ذَارِقَ الزَّهْرِيِّ وَقَالَ أَحْسَنُ لَا يَأْسُ أَنْ يَجْتَنِي

اور عبد اور دونوں ہفت میں اور زہری بھی سے درست سمجھتے ہیں اور سن کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں کہ کیسا اس ادعا

الْقَطْنَ عَلَى التَّصْفِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَأَبْنُ سَيْرِينَ وَعَطَاءُ وَالْحَكْمُ وَالزَّهْرِيُّ

حدیث صحیح کہ جتنی جائے اور ابن سیرین اور ابن عطاء اور حکم اور زہری

وَقَتَادَةُ لَا يَأْسُ أَنْ يُعْطَى الثُّوبُ بِالثَّلْثِ أَوْ الزَّرِيعِ وَحُجْرٌ وَقَالَ مَعْمَرٌ لَا يَأْسُ

اور قتادہ کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں کہ اگر تہائی یا چوتھائی وغیرہ بیعت کی جائے اور اگر کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں

أَنْ تَكُونَ أَلْمَاشِيَةً عَلَى الثَّلْثِ وَالزَّرِيعِ إِلَى أَجْلِ مَسْمُودٍ (۱۱۳۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

کہ جو جائے کو تہائی چوتھائی پر کسی قسم میں یہ دیکھ کے کہ وہ دیکھے

أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلٌ خَيْرٌ بِشَطْرٍ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ

عمر رضی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اپنے یہودی نہیں سے اس کا عمل ہر انجمن کی پیداوار سے آدھے حصہ

أَوْ زَرَعٍ كَيْفَ كَانَ يُعْطَى زَوْجَهُ نَهْئًا وَسُقِ لِمَا نُونٌ وَسُقِ تَمْرٌ وَعَشْرُونَ وَسُقِ شَوْبَرٌ

پہر ہزار ایک کوئی بیویوں کو سو روپیہ دیا کرتے تھے اس وقت کعبہ اور بیس روپیہ چور

فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْرَ خَيْرِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَفْطَحَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ

حضرت عمر نے خیر کی زمین کو قسم کر دیا تو بی بیوں کو اختیار دیا کہ ان کے لئے پانی اور زمین کا حصہ ہر گروں

وَالْأَرْضُ وَيُعْطَى لَهُنَّ مِمَّنْ مِّنْ أَرْضٍ مِّنْهُنَّ مِنْ أَخْتَارِ الْوَسْقِ وَ

یا جو انہیں پہلے تھا انہیں اس میں اور انہیں کے لئے زمین کو پسند کیا اور کسی کے وسق کو اللہ

كَانَتْ عَارِشَةُ أَخْتَارَتِ الْأَرْضَ (۱۹) بَابُ إِذَا لَمْ يَشْرُطِ السَّبِينُ فِي الْمَزَارِعِ

حضرت عائشہ نے زمین کو پسند کیا باب جب عقد ہجرت میں سالوں کی تعداد کی شرط نہ لگائے

(۱۰۲۹) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مَتَكُورٌ ۳۲) (۱۰) بَابُ (۱۱۳۳) عَنْ سَفِينٍ قَالَ عَمْرُو

دیکھو حدیث ۱۱۳۳ باب سفین سے روایت ہے عمر رضی عنہ کے

بِحَوْلِ بَيْتِ بَنِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَدَةَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ

بجھول ہے نام بخاری نے ان احوال کو لکھ کر اسے اس خیال کی تردید کی ہے جب ہجرت میں ایک عقد پیداوار کا دیا جا سکتا ہے تو اور مزدوری میں ہی دیا جا سکتا ہے

أَسْ كَيْفَ لَمْ يَنْزِلْ سَامِعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَطْرٍ يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرَعٍ - اس میں یہ کہ نہیں کہتے سال کے لئے یہ معاملہ کیا

قُلْتُ لَطَائِفٌ لَوْ تَرَكْتُ الْخَيْبَرَ فَاتَّزَمْتُ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَى

علا اس حدیث سے ثانی کی یا زین کو کاشت جو زمین کی نکتہ نہیں ملتی بلکہ اس میں یہ خارش ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس زمین اس کی اپنی ضرورت سے زیادہ ہے تو وہ لے لے جائی گو منف کاشت کے لئے ہو۔

عَنْهُ قَالَ أَيْ عَمْرٍو رَأَيْتَ أُعْطِيَهُمْ وَأَعْزَبَهُمْ وَإِنْ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي يَعْنِي بِنِ عِبَّاسِ بْنِ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَبْدَعْ عَنْهُ وَلَكِنْ قَالَ أَنْ يَمْنَحَ أَحَدًا كَمَا أَخَاهُ خَيْرٌ

لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا (۱۱) بَابُ الْمَزَارَعَةِ مَعَ الْيَهُودِ (۱۰۵)

۱۰۳۰ عَنْ أَبِي عَمْرٍو مَتَكَرَّرًا (۱۱۳۲) (۱۲) بَابُ مَا يَكْرَهُ مِنَ الشَّرْطِ وَطَنِ الْمَزَارَعَةِ

(۱۰۳۱) عَنْ زُرَّاجٍ (۱۱۳۱) (۱۳) بَابُ إِذَا زُرَّ عَمَّالٌ قَوْمًا يَغْبِرُ

إِذْ يَزِيمُ وَكَانَ فِي ذَلِكَ صَلَاحٌ لَهُمْ (۱۰۳۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (مَتَكَرَّرًا ۱۰۸۵)

(۱۱۴) بَابُ أَوْقَاتِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرْضِ الْخُرَاجِ وَمَزَارَعَتِهِمْ

وَمَعَامِلَتِهِمْ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لَا بِبَعْدِهِ

وَلَكِنْ يَنْفَقْ شِمْرَةً فَتَصَدَّقْ بِهِ (۱۱۳۴) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِمُرَّةَ

وَلَا أُخْرِجُ الْمُسْلِمِينَ مَا فَتَحَتْ تَرْتِيبًا إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ (۱۱۵) بَابُ مِنْ أَحْيَاءِ أَرْضِ مَا زُرَّ أَيْ ذَلِكَ عَمَّنْ فِي أَرْضِ

الْخُرَابِ بِالْكَوْفَةِ مَوَاقِفًا وَقَالَ عُمَرُ مِنْ أَحْيَاءِ أَرْضِ مَيْتَةٍ فَهِيَ لَهُ وَيُرَدَّى

۱۱۳۲ کا ایک کلمہ بتغیر الفاظ دہرا گیا ہے۔ ان رسول اللہ صلعم اعطی خیر الیہ ود علی ان یجموعوا و یرزعوہ و انہم شطرو منہم منا کلمہ لفظ منہم میں کما اکثر انہن المدینہ متعلقاً و کان احدنا یکرہ ان یرزہ فیقول ہذا القطعة فی وہذا لانا ک فرمایا الخرج ذہ و لہ الخرج ہم ذہناہم الذی علیہم علیہ تم کما ولی اگر ان مال تجارت یا زراعت میں لگنے تو نفع نقصان دون

۱۱۳۲ کا ایک کلمہ بتغیر الفاظ دہرا گیا ہے۔ ان رسول اللہ صلعم اعطی خیر الیہ ود علی ان یجموعوا و یرزعوہ و انہم شطرو منہم منا کلمہ لفظ منہم میں کما اکثر انہن المدینہ متعلقاً و کان احدنا یکرہ ان یرزہ فیقول ہذا القطعة فی وہذا لانا ک فرمایا الخرج ذہ و لہ الخرج ہم ذہناہم الذی علیہم علیہ تم کما ولی اگر ان مال تجارت یا زراعت میں لگنے تو نفع نقصان دون

۱۱۳۲ کا ایک کلمہ بتغیر الفاظ دہرا گیا ہے۔ ان رسول اللہ صلعم اعطی خیر الیہ ود علی ان یجموعوا و یرزعوہ و انہم شطرو منہم منا کلمہ لفظ منہم میں کما اکثر انہن المدینہ متعلقاً و کان احدنا یکرہ ان یرزہ فیقول ہذا القطعة فی وہذا لانا ک فرمایا الخرج ذہ و لہ الخرج ہم ذہناہم الذی علیہم علیہ تم کما ولی اگر ان مال تجارت یا زراعت میں لگنے تو نفع نقصان دون

کا کہ خیریم ہے کہ چونکہ مال کو بڑھانے کا حکم ہے اور خیریم فواست نہیں بڑھا سکتا اور کسی مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کام میں لگانا درست نہیں یعنی جو یا نقصان مقرر یا نہاں لے گا وہ اس پر دولت پہنچے بھی اختلاف لفظی سے مراد ۱۰۰۰ پیکر گذر چکی ہے یہاں بھی کچھ کی بھیجی کے ساتھ آئی ہے جس کا ترجمہ زمین پر نہیں پڑتا وہ ۹۰ باب میں ہیں امور کا ذکر ہے اور ہجرت کے اوقات اس کا تعلق حوزان کی حلقہ حدیث ہے جس کا کچھ ذکر ہے اور یہاں بھی اس پر نوٹ ہے اور فیصل کما بالشرطوں اس کے دن و تفریح زمین۔ اس کا تعلق حدیث باب ہے (۱۰۳) صحابہ کا اپنی حکومت، تو ام کے ساتھ مولد زراعت کرنا۔ اس کا تعلق حدیث باب سے ہے کہ حضرت عمر رضوہ زمین کو رعایا کے ہونے کے ان سے خارج وصول کرتے تھے اور خراج گویا مقدمہ طرقت کا حصہ ہے اور باقی پیداوار رعایا کی حق تھی اور یہی خراجی زمین تھی وہ مکی بنی کریم صلعم نے خیر کو بیخ کر کے اس کی زمینوں کی نصبت پیداوار کا ہر دو سے لینے کا ٹیکہ کر لیا تھا اور یہی پیداوار مسلمانوں میں تقسیم کر دی تھی حضرت عمر نے جب شرم تو نفع کیا تو یہ سوال ان کے سامنے لایا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ آئینہ جو لوگ ہوں گے اگر ساری زمینیں انہیں تقسیم کر دی گئیں تو انہیں تکلیف ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نام یا بازشاہ کو یہ اختیار ہے کہ وہ جسے تو سرکاری زمینوں کو تقسیم کر دے اور جسے تو انہیں وقف کر دے یہی مذہب امام ابوحنیفہ کا ہے +

(۱۱۳۷) عَنْ ظَهْرِ لِقْدَمِهَا نَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرِ كَان يَبْنِي أَرْفَا
 تہذیب النبیؐ کی روایتیں سے کہ ہیں۔ سوال شصت و نواں۔ آپ اپنے کام سے روکا جس میں ہمارا نام تھا
 قُلْتُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ حَقٌّ قَالَ دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 میں رافع نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَصْنَعُونَ بِمَا قُلْنَا قُلْتُ نُوَاجِرُهَا عَلَى التَّرْبِيعِ وَعَلَى الْأَوْسُقِ
 فرمایا تم اپنے گھمبیروں کو کیا کرتے ہو میں نے عرض کیا: ناپوں کی پیداوار (تربیع) اجرت برہمنوں کو دیتے ہیں
 مِنَ الثَّمْرِ وَالشَّعِيرِ قَالَ لَا تَقْعَلُوا أَرْزَعُوهَا أَوْ أَرْزَعُوهَا أَوْ امْسِكُوا قَالَ أَرْزَعُ
 اور پھول اور جو کہ خرد سق دیتے ہیں آپ نے فرمایا ایسا مت کرو خود کو شت کرو یا پوں کی رہنے دوانے سے کہا
 قُلْتُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 میں نے سنا تھا اور ان میں سے ایک
 وَالتَّبْصِيفِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ
 کاشت کیا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 لَيْسَ بِهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ رَوَى رُوَيْفِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 سے بڑھتے دیکھو اور اگر پانچ ڈگر سے تو اپنی زمین خالی پڑی رہنے سے اور ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْسِكْ أَخَاهُ فَإِنَّ لِي فِي مَسْكِ
 جس کی زمین ہو وہ جو اس میں کاشت کرے یا مفت اپنے بھائی کو دے دے اگر ایسا نہیں کرنا تو اپنی زمین
 أَرْضَهُ (۱۰۳۵) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر) (۱۱۳۳) (۱۱۳۸) عَنْ نَافِعِ ابْنِ
 کو نالی پر اپنے لئے ہے
 عُمَرُ بْنُ كَان يَكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُمَانُ
 عمر اپنے گھمبیروں کو بی بیعت
 وَصَدْرًا مِنَ أَمَارَةٍ مَعُوذَةٍ ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ زُرَّاعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
 اور وہ اہل حکومت معاویہ کے زمانہ میں بی بیعت دیا کرتے تھے پھر ان کو رافع بن خدیج کی حدیث میں بھی
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ أَنَّ زُرَّاعَ بْنَ عَبَّاسٍ قَدْ هَبَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى زُرَّاعٍ فَنَهَبَتْ مَعَهُ نَسَاءَهُ
 گھمبیروں کو بی بیعت پر دینے سے مانعت کی تب تو ابن عمر رافع کے پاس گئے میں بھی انکے ساتھ گیا ابن عمر نے رافع سے پوچھا

۱۱۳۷
 ۱۱۳۸
 ۱۱۳۹
 ۱۱۴۰
 ۱۱۴۱
 ۱۱۴۲
 ۱۱۴۳
 ۱۱۴۴
 ۱۱۴۵
 ۱۱۴۶
 ۱۱۴۷
 ۱۱۴۸
 ۱۱۴۹
 ۱۱۵۰
 ۱۱۵۱
 ۱۱۵۲
 ۱۱۵۳
 ۱۱۵۴
 ۱۱۵۵
 ۱۱۵۶
 ۱۱۵۷
 ۱۱۵۸
 ۱۱۵۹
 ۱۱۶۰
 ۱۱۶۱
 ۱۱۶۲
 ۱۱۶۳
 ۱۱۶۴
 ۱۱۶۵
 ۱۱۶۶
 ۱۱۶۷
 ۱۱۶۸
 ۱۱۶۹
 ۱۱۷۰
 ۱۱۷۱
 ۱۱۷۲
 ۱۱۷۳
 ۱۱۷۴
 ۱۱۷۵
 ۱۱۷۶
 ۱۱۷۷
 ۱۱۷۸
 ۱۱۷۹
 ۱۱۸۰
 ۱۱۸۱
 ۱۱۸۲
 ۱۱۸۳
 ۱۱۸۴
 ۱۱۸۵
 ۱۱۸۶
 ۱۱۸۷
 ۱۱۸۸
 ۱۱۸۹
 ۱۱۹۰
 ۱۱۹۱
 ۱۱۹۲
 ۱۱۹۳
 ۱۱۹۴
 ۱۱۹۵
 ۱۱۹۶
 ۱۱۹۷
 ۱۱۹۸
 ۱۱۹۹
 ۱۲۰۰
 ۱۲۰۱
 ۱۲۰۲
 ۱۲۰۳
 ۱۲۰۴
 ۱۲۰۵
 ۱۲۰۶
 ۱۲۰۷
 ۱۲۰۸
 ۱۲۰۹
 ۱۲۱۰
 ۱۲۱۱
 ۱۲۱۲
 ۱۲۱۳
 ۱۲۱۴
 ۱۲۱۵
 ۱۲۱۶
 ۱۲۱۷
 ۱۲۱۸
 ۱۲۱۹
 ۱۲۲۰
 ۱۲۲۱
 ۱۲۲۲
 ۱۲۲۳
 ۱۲۲۴
 ۱۲۲۵
 ۱۲۲۶
 ۱۲۲۷
 ۱۲۲۸
 ۱۲۲۹
 ۱۲۳۰
 ۱۲۳۱
 ۱۲۳۲
 ۱۲۳۳
 ۱۲۳۴
 ۱۲۳۵
 ۱۲۳۶
 ۱۲۳۷
 ۱۲۳۸
 ۱۲۳۹
 ۱۲۴۰
 ۱۲۴۱
 ۱۲۴۲
 ۱۲۴۳
 ۱۲۴۴
 ۱۲۴۵
 ۱۲۴۶
 ۱۲۴۷
 ۱۲۴۸
 ۱۲۴۹
 ۱۲۵۰
 ۱۲۵۱
 ۱۲۵۲
 ۱۲۵۳
 ۱۲۵۴
 ۱۲۵۵
 ۱۲۵۶
 ۱۲۵۷
 ۱۲۵۸
 ۱۲۵۹
 ۱۲۶۰
 ۱۲۶۱
 ۱۲۶۲
 ۱۲۶۳
 ۱۲۶۴
 ۱۲۶۵
 ۱۲۶۶
 ۱۲۶۷
 ۱۲۶۸
 ۱۲۶۹
 ۱۲۷۰
 ۱۲۷۱
 ۱۲۷۲
 ۱۲۷۳
 ۱۲۷۴
 ۱۲۷۵
 ۱۲۷۶
 ۱۲۷۷
 ۱۲۷۸
 ۱۲۷۹
 ۱۲۸۰
 ۱۲۸۱
 ۱۲۸۲
 ۱۲۸۳
 ۱۲۸۴
 ۱۲۸۵
 ۱۲۸۶
 ۱۲۸۷
 ۱۲۸۸
 ۱۲۸۹
 ۱۲۹۰
 ۱۲۹۱
 ۱۲۹۲
 ۱۲۹۳
 ۱۲۹۴
 ۱۲۹۵
 ۱۲۹۶
 ۱۲۹۷
 ۱۲۹۸
 ۱۲۹۹
 ۱۳۰۰
 ۱۳۰۱
 ۱۳۰۲
 ۱۳۰۳
 ۱۳۰۴
 ۱۳۰۵
 ۱۳۰۶
 ۱۳۰۷
 ۱۳۰۸
 ۱۳۰۹
 ۱۳۱۰
 ۱۳۱۱
 ۱۳۱۲
 ۱۳۱۳
 ۱۳۱۴
 ۱۳۱۵
 ۱۳۱۶
 ۱۳۱۷
 ۱۳۱۸
 ۱۳۱۹
 ۱۳۲۰
 ۱۳۲۱
 ۱۳۲۲
 ۱۳۲۳
 ۱۳۲۴
 ۱۳۲۵
 ۱۳۲۶
 ۱۳۲۷
 ۱۳۲۸
 ۱۳۲۹
 ۱۳۳۰
 ۱۳۳۱
 ۱۳۳۲
 ۱۳۳۳
 ۱۳۳۴
 ۱۳۳۵
 ۱۳۳۶
 ۱۳۳۷
 ۱۳۳۸
 ۱۳۳۹
 ۱۳۴۰
 ۱۳۴۱
 ۱۳۴۲
 ۱۳۴۳
 ۱۳۴۴
 ۱۳۴۵
 ۱۳۴۶
 ۱۳۴۷
 ۱۳۴۸
 ۱۳۴۹
 ۱۳۵۰
 ۱۳۵۱
 ۱۳۵۲
 ۱۳۵۳
 ۱۳۵۴
 ۱۳۵۵
 ۱۳۵۶
 ۱۳۵۷
 ۱۳۵۸
 ۱۳۵۹
 ۱۳۶۰
 ۱۳۶۱
 ۱۳۶۲
 ۱۳۶۳
 ۱۳۶۴
 ۱۳۶۵
 ۱۳۶۶
 ۱۳۶۷
 ۱۳۶۸
 ۱۳۶۹
 ۱۳۷۰
 ۱۳۷۱
 ۱۳۷۲
 ۱۳۷۳
 ۱۳۷۴
 ۱۳۷۵
 ۱۳۷۶
 ۱۳۷۷
 ۱۳۷۸
 ۱۳۷۹
 ۱۳۸۰
 ۱۳۸۱
 ۱۳۸۲
 ۱۳۸۳
 ۱۳۸۴
 ۱۳۸۵
 ۱۳۸۶
 ۱۳۸۷
 ۱۳۸۸
 ۱۳۸۹
 ۱۳۹۰
 ۱۳۹۱
 ۱۳۹۲
 ۱۳۹۳
 ۱۳۹۴
 ۱۳۹۵
 ۱۳۹۶
 ۱۳۹۷
 ۱۳۹۸
 ۱۳۹۹
 ۱۴۰۰

کہ اس طرح پر بی بیعت کرتے تھے کہ ایک خاص حصہ کی پیداوار ایک ایک کا تو اس سے بعض وقت مزاد کو اور بعض وقت ایک کو نقصان پہنچتا تھا اس قسم کے سولہ سے بھی کہیں
 صلح منع کرتے تھے۔ یہاں یہ ذکر ہے کہ ناپوں کی پیداوار ایک اپنے لئے مخصوص کر لیتا تھا۔ اور وہی اچھی پیداوار ہوتی تھی تو اس سے روکا اور جو فرمایا کہ کاشت کر دیا تو اس
 سے معلوم ہوا کہ وہ اس سے اجرت پر کاشت کرنا منع نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین ہو تو اس سے کاشت کر لیتے تھے۔ اگلے یہ روایت اپنے ظاہر الفاظ میں ذمہ ان احادیث کے
 خلاف ہے جس میں زمین کو آجکے کرنے کی نصیحت بیان کی گئی ہے بلکہ دوسری ہدیج احادیث کے بھی خلاف ہے جس میں بی بیعت پر زمین کاشت کر لے کی اجازت ہے اور نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کے خلاف ہے کہ آپ فیہ کی زمین کو دوزخ سے کاشت کر لیا اس لئے یا تو اس حدیث کے سمجھنے میں راویوں کو غلطی لگی ہے اور یا یہ کسی خاص موقع پر فرمودے کے طور پر نبی صلی اللہ
 فرمایا ہوگا۔ عماری کی روایت میں ہے کہ وہ اس طرح مزارعت کا معاملہ کرتے تھے جس سے اجرت میں جھگڑے پیدا ہوتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا نصف ہاں تاکہ نسلہ تکروا
 المزارع۔ اگر تہذیب ہی حالت ہے تو زمینوں کو بی بیعت پر مت دیا کرو تو یہ زوج کے طور پر تھا ان معاملات میں جھگڑے پیدا کریں بلکہ معاملہ صفائی سے کریں۔ اور یا بعض فرمودے
 کے لئے کہیں ہے سفارش کے طور پر فرمایا ہوگا کہ انہیں زمینیں جو تہذیب ضرورت سے زیادہ ہوں مفت دیا کرو۔ چنانچہ ۱۳۰۳ میں یہ لفظ ہے۔ کلمات لفظی حال صنا
 فضول ارضین۔ ۱۳۳ میں ابن عمر نے اس بات کو صحت کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر زمین اجارہ پر دینے سے منع نہیں کیا۔
 بلکہ ایسے اجارہ سے منع کیا جس میں ایک اچھی جگہ اپنے لئے مخصوص کر لیتے تھے اور مزاد کو نقصان پہنچتا تھا۔ اگلے یہاں لفظ ہے جس ان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا۔
 قال ان یغوا احدکم اخاه خیلہ من ان یاخذ شیئاً معلوماً۔ دیلمونوٹ ۳۳۳ پر

علا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے عہد کی جہی کو عام کیا ہے ان کو غلشی سمیت جیسا کہ ابن عمر نے کہا ان کا ان زمین ہوں گی پر انہیں اپنے لئے مخصوص کر لینے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے روکا تھا۔

علا اس حدیث سے ضروری احتیاط تھی اور ایسا ممکن ہو اس وقت تک کا ذکر ہو جب ۱۱۳۹ھ کے مطابق انہیں رافع کی روایت پہنچی اور انہوں نے اس کی تصدیق کی اور بالآخر اس کو جہی معلوم کرنے میں حضرت انہوں کی پیداوار اپنے لئے مخصوص کرنے سے روکا تھا۔

علا اس حدیث سے ایک خاص مباحہ کے لئے زمین کو نقدی کے عوض کا اشت کے لئے دوسرے کے سپرد کرنا کہ وہ اس میں اپنے لئے کافی کرے اجارہ کھاتا جو یہ علاقہ جاہلستہ

علا اس حدیث سے کچھ زیادت سے آئی ہے۔ حدیثی عتیمی انہم کا تو انکرون الارض علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعامیت علی الاربعاء اوسطی یتثنیہ صا الارض ذہبی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذہب اور احمد یہاں زائد ہے فقالت لرافع تکلیف ہی بالذینار والد درہم فقال رافع لیس بھا یا باس بالذینار والد درہم۔ وقال اللیث وكان الذی نھی عن ذلك ما انظر فیہ ذوا الفہم بالحلل والحرار لم یجوزوا فیہ من المظاہرۃ یعنی میں نے رافع سے کہا کہ دینار اور درہم کے عوض زمین کرایہ پر دینا کیسا ہے تو رافع نے کہا کہ دینار اور درہم کے عوض دینے میں کوئی حرج نہیں اور لیس کہتے ہیں مزارعت کی نہ تم میں کی ممانعت ہے ایسی ہے کہ اگر حلال ورام کے کہنے والے اس پر غور کریں تو وہ اسے جائز نہیں کہہ سکیں گے کیونکہ اس میں نقصان کا اندیشہ ہے۔ یعنی ہر سے روکا تھا وہ اس بنا پر روکا تھا کہ مزارع کے لئے وہ ایک قسم کا دھوکا تھا کہ تاکہ جہی زمین کی پیداوار اپنے لئے لے لے لیتا اور ناقص مزارع کو جاتی د

فَقَالَ نَحْنُ لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رِئَاءِ الْمَزَارِعِ فَقَالَ بِنُ عَمْرٍو قَدْ عَلِمْتُ

تو اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ تم جانتے ہو

أَنَا لَنَا نَكْرَمِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى الْأَرْبَعَاءِ

کہ ہم اپنے گھیرنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جہی پر دیتے تھے اس کے عوض جو زمینیں ہوں

وَبَشَى مِنَ التَّبِينِ (۱۱۳۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كُنْتُ أَعْمُرُ فِي عَهْدِ رَسُولِ

اور قبوٹے سے جہت پر ملا عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ مجھے عہد سے کوئی صنعت کے زمانہ میں

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْأَرْضَ تَكْرَمِي لَمْ تَخْشَى عَبْدَ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ

زمین جہی ہوتی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف نہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَوْ لَيْكُنْ يَعْلَمُهُ فَتَرَكَ لِأَرْضِ

اس کے متعلق کوئی نیا حکم دیا ہو جس کا انہیں علم نہ ہو جس عبد اللہ بن عمر نے کہا انہوں نے جہی کو دیکھا

(۱۱۹) بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنْ أَمْثَلَ مَا

باب سونے چاندی کے عوض زمین کو اجارہ پر دینا اور ابن عباس کہتے ہیں کہ زمین کو اجارہ پر دینا

أَنْتُمْ صَالِحُونَ أَنْ تَسْتَأْجِرُوا الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ (۱۱۴۰)

کرنا چاہو یہ کہ سفید زمین ایک سال سے دوسرے سال تک کے لئے اجرت دینا

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ (مُتَكَرِّرًا) (۱۱۳۷) بَابُ (۱۱۴۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

رفیع بن خدیج سے روایت ہے (متکرر) باب (۱۱۴۰) ابو ہریرہ سے روایت ہے

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوْمًا يَحْدِثُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ

کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کو ایک شخص کاؤں کا رہنے والا دیکھا تھا

أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَمَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي التَّرْوِيعِ فَقَالَ لَهُ أَلَسْتَ

کہ جنت والوں میں سے ایک شخص نے اپنے رب سے کہتے ہیں کہ جنت کی اجازت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا

فِيمَا شِئْتَ قَالَ بَلَى وَلَكِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ أُزْرَعَ قَالَ فَبَدْرُ الْبَادِيَةِ

کیا تو جو کچھ چاہتا ہے وہ تیرے پاس نہیں عرض کیا ہاں مگر میں کہتے ہیں کہ تم کو تو دھوکا دے گا اور اس کو جان اور مضبوط ہونا

نَابَتُهُ وَأَسْتَوَاؤُهُ وَاسْتِعْصَادُهُ فَكَانَ امْتِالِ الْجِبَالِ فَيَقُولُ اللَّهُ دُونَكَ

اور کہتے ہیں کہ لاہن ہو جاتا آنکھ کی جھلک سے جہی جلدی ہوگا اور وہ پہاڑوں کی طرح ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے گا

يَا ابْنَ آدَمَ فَإِنَّهُ لَا يَشْبَعُكَ شَيْءٌ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ وَاللَّهِ لَا يَجِدُهُ إِلَّا قَرَشِيًّا أَوْ

اے ابن آدم! یہ ہے کہ تو تیرے کسی سے نہیں بھرتا تو وہ بیان نے کہا خدا کی قسم یہ شخص یا قرشی ہوگا یا

أَنْصَارٌ فَإِنَّمَا أَصْحَابُ زُرْعٍ ذَا مَا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زُرْعٍ فَضُحِكَ النَّبِيُّ

انصاری کیونکہ وہی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور ہم تو کہتے ہیں کہ وہ ہیں نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم

علا اس حدیث سے کچھ زیادت سے آئی ہے۔ حدیثی عتیمی انہم کا تو انکرون الارض علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعامیت علی الاربعاء اوسطی یتثنیہ صا الارض ذہبی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذہب اور احمد یہاں زائد ہے فقالت لرافع تکلیف ہی بالذینار والد درہم فقال رافع لیس بھا یا باس بالذینار والد درہم۔ وقال اللیث وكان الذی نھی عن ذلك ما انظر فیہ ذوا الفہم بالحلل والحرار لم یجوزوا فیہ من المظاہرۃ یعنی میں نے رافع سے کہا کہ دینار اور درہم کے عوض زمین کرایہ پر دینا کیسا ہے تو رافع نے کہا کہ دینار اور درہم کے عوض دینے میں کوئی حرج نہیں اور لیس کہتے ہیں مزارعت کی نہ تم میں کی ممانعت ہے ایسی ہے کہ اگر حلال ورام کے کہنے والے اس پر غور کریں تو وہ اسے جائز نہیں کہہ سکیں گے کیونکہ اس میں نقصان کا اندیشہ ہے۔ یعنی ہر سے روکا تھا وہ اس بنا پر روکا تھا کہ مزارع کے لئے وہ ایک قسم کا دھوکا تھا کہ تاکہ جہی زمین کی پیداوار اپنے لئے لے لے لیتا اور ناقص مزارع کو جاتی د

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۲۱) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغَرَسِ (۵-۱۰۳۸) عَنْ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

ابن سَعْدٍ (متكرر) ۵۵۳ (۵-۱۰۳۹) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ (متكرر) ۱۰۱۹

۲۲- كِتَابُ الْمَسَاقَاةِ

کتاب درختوں کو پانی پر دینا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(۱) بَابُ فِي الشَّرْبِ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا أَفَلَا يَوْمِنُونَ وَقَوْلَهُ جَلْ ذِكْرًا أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ

مِنَ الْمَزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَا أَجْعَابًا لِلْمَشْكُرِينَ الْأَجْعَابُ

الْمَرْوُ الْمَزْنُ الشَّجَرَةُ الْبَابُ فِي الشَّرْبِ مِنْ زَايٍ صَدَقَةَ الْمَاءِ وَهَيْبَتُهُ وَ

وَصَيْبَتُهُ جَائِزَةٌ مَقْسُومَةٌ أَوْ غَيْرُ مَقْسُومَةٍ وَقَالَ عُمَانُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَشْرِي بِأَرْبَعَةِ دِينَارٍ لِكُلِّ دِينَارٍ مِنْهَا

فَأَشْرَاهَا عُمَانُ (۱۱۴) عَنْ سُهَيْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ابْنُ الْبَيْهَقِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

طَرَحَ بَوَائِجَ عُمَانُ فِي خَرَجِهَا

سُهَيْلُ بْنُ سَعْدٍ رَوَيْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عنه عن جنت
سورة
اختر
اعين
سنة
رأت
وما
بشر
حقیقت
سے
یہ
کو
کی
پورا
وہاں
کا
ہوئی
نہیں
آیات
ہو
کی
دوست
شہتے
تسمی
کسی
کہتے
جائے
کرتے
علا

اختلاف ترقیب الفاظ اور کچھ اختلاف مضمون کے ساتھ آئی ہے۔ لہذا نعرہ جو مجمعہ کانت لنا عجزاً ماخذاً من اصول سلق لنا کذا الغرسہ فی اربنا ما فجعہنا
فی قدر لہا فجعول فیہ حبات من شعیر ولا اعلم الا انہ قال لیس فیہ شحم ولا دواک فاذا اصلبت الجمعة ذناہا فقرتہہ الینا کما نعرہ ہومہ الجمعہ
من اجل و نکتہ و ما کانت تخذی وی ولا فعیل الا بعد الجمعة۔ اس میں یہ ذکر ہے کہ یہ فقہر نمازیوں میں لگا کر سنے تھے اور پھر جو سنے کے دن ایک کبوتر لیا کرتے تھے
کرتی تو پھر وہاں جا کر کھاتے اور نوٹس ہوتے تھے ہر کچھ اختلاف الفاظ اور تخفیف اختلافات ترقیب کے ساتھ مقلد کا مضمون زہرا ایسے۔ آخر میں بیار بزار ہے
واللہ لولا ایتان فی کتاب اللہ ما حد تکلم شیئاً ابداً۔ ان الذین یتیمون ما انزلنا من البینات انی قولہ الاحیم۔ یہ حصہ مطلقاً میں گذریجے عنوان کا حدیث ہے اس
جگہ سے تعلق ہے۔ وان اخوی من الا نصدرا کان یشغلہم عملی اہوا الہم او عمل الموالم سے مراد کسیتی اور باغات کا کام ہے۔ مقلد جو مولد زمین تین کھیتی میں مزاد
کھاتا ہے پھل وار درختوں کے متعلق ہوا تو اسے مساقات کہتے ہیں یعنی پھل وار درختوں پر محنت کے بدلے میں ان کی پیداوار کا ایک حصہ دے دینا۔ کچھ ایک حدیث میں
آتا ہے اناس شواکع علی ثلثی فی الماء والمکلاء والنار۔ اس سے بعض نے یہ استدلال کیا ہے کہ پانی کسی کی ملک نہیں ہوتا۔ اس عنوان سے ہم پھر یہی نے اس کی ترمیم کی جو
اور ثابت کی ہے کہ..... پانی میں بھی مائتہ تعرف اسی طرح ہو سکتا ہے جس طرح اور نول میں مقلد حضرت عثمان کے بزرگروہ نے حضرت کے واقعہ میں بھی اس طرف اشارہ ہے
کیونکہ آپ نے یہ چاہا کہ کوئی شخص اسے خرید کر لے وقف کر دے یعنی اپنا مال نہ بن کر لے۔ اس کے ڈول کے دوسرے سداوں کے ڈولوں کی طرح جو لے سے ہی مراد ہے۔

يَقْدَحُ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غَلَامٌ أَصْغَرَ الْقَوْمِ وَالْأَشْيَاطُ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ

يَا غَلَامُ أَتَاذَنِي أَنْ أُعْطِيَهُ الْأَشْيَاطُ قَالَ مَا كُنْتُ لِأَوْثَرِ شَيْءٍ مِنْكَ أَحَدٌ

يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَعْطَاهُ رَأْيَا ۱۱۴۳ ۱۱۴۳ عَنِ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ جَلَبَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً دَاجِنٌ زَهْيٌ فِي دَارِ ابْنِ مَالِكٍ وَشَيْبٌ لِبَنِيهَا بِمَاءِ

مَنْ الْبَيْرِ الَّتِي فِي دَارِ ابْنِ مَالِكٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَ

مِنْهُ حَتَّى إِذَا نَزَعَ الْقَدَحَ مِنْ يَدِهِ وَعَلَى يَسَارِهِ ابْنُ بَكْرٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ

فَقَالَ عَمْرُو خَاتِمْ أَنْ يُعْطِيَهُ الْأَعْرَابِيُّ أَعْطَا أَبَا بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدَكَ

فَأَعْطَاهُ الْأَعْرَابِيُّ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ لَا يَمِينُ فَالْيَمِينِ ۱۱۴۳ يَا بَنِي

قَالَ ابْنُ صَاحِبِ الْمَاءِ أَحْسَنُ بِالْمَاءِ حَتَّى يَرَوِي لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَا يَمِينُ فَفَضَلَ الْمَاءَ ۱۱۴۳ عَنِ ابْنِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ لَا يَمِينُ فَفَضَلَ الْمَاءَ لِمَنْعِهِ بِهِ الْكَلَامَ ۱۱۴۳ عَنِ ابْنِ هُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّمًا ۱۱۴۳)

قَالَ ابْنُ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ لَا يَمِينُ فَفَضَلَ الْمَاءَ لِمَنْعِهِ بِهِ الْكَلَامَ ۱۱۴۳ عَنِ ابْنِ هُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّمًا ۱۱۴۳)

قَالَ ابْنُ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ لَا يَمِينُ فَفَضَلَ الْمَاءَ لِمَنْعِهِ بِهِ الْكَلَامَ ۱۱۴۳ عَنِ ابْنِ هُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّمًا ۱۱۴۳)

قَالَ ابْنُ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ لَا يَمِينُ فَفَضَلَ الْمَاءَ لِمَنْعِهِ بِهِ الْكَلَامَ ۱۱۴۳ عَنِ ابْنِ هُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّمًا ۱۱۴۳)

قَالَ ابْنُ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ لَا يَمِينُ فَفَضَلَ الْمَاءَ لِمَنْعِهِ بِهِ الْكَلَامَ ۱۱۴۳ عَنِ ابْنِ هُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّمًا ۱۱۴۳)

قَالَ ابْنُ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ لَا يَمِينُ فَفَضَلَ الْمَاءَ لِمَنْعِهِ بِهِ الْكَلَامَ ۱۱۴۳ عَنِ ابْنِ هُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّمًا ۱۱۴۳)

قَالَ ابْنُ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ لَا يَمِينُ فَفَضَلَ الْمَاءَ لِمَنْعِهِ بِهِ الْكَلَامَ ۱۱۴۳ عَنِ ابْنِ هُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّمًا ۱۱۴۳)

عنه انما بخاری نے اس سے یہ مستدل کیا ہے کہ درین طرف سے پانی کو پانی کے حق ہو گیا کہ مستیوں میں پانی کے حقوق یا کنوئیں کو ملے یا اس کے عدوان سے جو پانی کے حقوق پیدا ہوتے ہیں ان کو رعیت کو دینا ہے۔ بخاری بھی یہ حقیقت ہمیں میں مساوات کا ذکر کرنے کا ایک اصول تھا اور اس طرح کسی کو شکایت نہیں ہو سکتی کہ دوسرے کو اس پر کیوں مقدم کیا گیا ہے۔ بخاری سے روکنے کا نتیجہ ہمیں اس سے روکنے جوئے کی یوں تشریح کی گئی ہے کہ جب جاویدوں کو پانی پینے کو نہ ملے جو وہ پانی میں لوگ مویشی بھی نہ لائیں گے۔ نہ ان پانی سے روکنے کو روکیں اور منع کیا گیا ہے تو ہمیں نے اسے نہیں ہٹا بھی کہا ہے یعنی سفارش کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں اور جس کے نزدیک اس سے مراد ہے کہ جاویدوں کو پانی پلانے سے نہ روکا جائے کیسے کہ پانی میں ان میں سے کسی ایک کو قرب بھیوا ہے تمام ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص کنواں چلاتا ہو تو کوئی دوسرا اپنے مویشی کو وہاں سے پانی پلانے تو روک نہ چاہئے کیسے کہ پانی پر شخص کو اپنے خرچ سے میاں نہ چاہئے۔ اور ایک شخص جس کے پاس پانی ہو دوسرے کو دے سکتا ہے۔ بخاری لا تمتنعوا افضل الماء لمتنعوا به فضل الکلام ۱۱۴۳ میں ایک شخص نے اپنی زمین میں کنواں کھودا اور اس میں کوئی گڑ گڑھی یا بلاک نہیں تو کنوئیں والے پر اس کا تادان نہیں ملتا۔ ترتیب میان میں فرق ہے۔ لفظ ہی میں دیکھو نوٹ کنندہ پر یہ ہے کہ میں جھوٹی قسم سے اگر کوئی عدالت سے ڈگری سے نہ ہوا تو اس کے فیصلے کے باوجود بھی وہ مال اس کیلئے حرام ہے۔

مطلوبہ نہیں اخذ فرماتا
صلعم کی پیروی کے
بیٹے تھے عرب میں
خوبھی آزادی ہوئی
تھی اور اسلام
نے بھی آزادی کے لیے
کا سبق دیا تھا مگر
بعض نئے لوگ
آداب سے پرے
داغ دھبہ لگاتے
آنحضرت صلعم کا
فیصلہ بالکل نفاذ
کے مطابق تھا انصاری
نے اپنے صاحب
فیصلہ دیکھ کر کچھ
سے کہہ دیا کہ
کوئی منافی ہوگا
کہ آپ رعایت کرتے
ہیں مگر یہ عدالت
حکام دنیائی تھی
کہ تحقیق عدالت میں
سزا دی جاتی ہے
پے فیصلہ کو وضع
کر کے بیان کر دیا۔
ان میں کوئی نہیں
کا حق ہے کہ میں
کی سزا دیوں تک

الماء حتى يرجع إلى الجذر فقال الربير والله إنني لأحسب هذه الآية تنزلت

بہاں تک کہ مٹا دیوں کسی بھی جگہ سے۔ زبیر نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ یہ آیت اس بارہ میں نازل ہوئی تھی۔

في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم (۴) باب

فلادونك الخیر سے رب کی قسم وہ جو نہیں ہیں کہ میں تم کو جھگڑوں میں جوڑے اور یہی ہے تم کو حکم بنائیں (النساء ۶۵) باب

شرب الأعلی قبل الأسفل (۵-۱۰۴۲) عن عمروة (متكرر- ۱۱۴۶)

اور پلے کا پانی دینے کا حق نیچے والے سے پہلے ہے۔ دیکھو حدیث ۱۱۴۶

باب (۸) باب شرب الأعلی الی التکعین (۵-۱۰۴۳) عن عمروة (متكرر- ۱۱۴۶)

باب اور پلے والا پانی نے سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم سے پہلے ہے۔ دیکھو حدیث ۱۱۴۶

باب (۹) باب فضل سقی الماء (۵-۱۰۴۴) عن ابی ہریرۃ (متكرر- ۱۱۴۶)

باب پانی پلانے کی فضیلت دیکھو حدیث ۱۱۴۶

باب (۱۰) باب (۲۶۱) عن أسماء (متكرر- ۲۶۱) (۵-۱۰۴۶) عن عبد اللہ بن عمر (متكرر)

دیکھو حدیث ۲۶۱ زبیرہ حق دار ہے

باب (۲۶۱) عن سهل بن سعد (متكرر- ۱۱۴۱) (۱۱۴۶) عن ابی ہریرۃ رض

دیکھو حدیث ۱۱۴۱ ابویہ رہتی تسلیو سے روایت

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِي نَفْسِي بَيْنَ يَدَيْهِ إِذَا ذُوِّنَ عَنْ حَوْضِي مَا تَدَد

کہ اپنے ذمے اس ذات کا قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اپنے حوض سے (پھر دوں گا) کہ

الغزيرة من الابل عن الحوض (۱۱۴۷) عن ابن عباس قال النبي صلى الله

دو گنا جس طرح اونٹنی اونٹ حوض سے شاد ہے جتنا میں ہوں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا

ذوینے سے گرا کہ کعبیت پر سے حیرت سے بھرتے۔ ہمسایہ میں روایت اختصار سے آئی ہے۔ خاصم انزیر جہا من الاضا فقال النبي صلعم يا زبیر اسق ثم
ادس فقال الا نصارى انه ابن عمك فقال عليه السلام اسق يا زبیر ثم يبلغ الماء الجدار ثم اسق زبیر پھر اپنے آپ کو روک لے، اس کے بعد اس
روایت کے الفاظ ہیں، اس کے الفاظ سے قریب قریب لیکن چھ زیادہ ہیں پہلے اسق یا زبیر کے بعد ہے نامہ بالعدوت جس میں یہ صاف کر دیا کہ دستہ
کے مطابق یہ فیصلہ تھا اور الی الجوز کے بعد ہے واستوعب خلفا حقہ یعنی زبیر کا حق اسے پورا دیا اور آخر میں زیادہ ہے۔ قال ابن شہاب فقد رآہ الا نصاری وانا
قول النبي صلعم اسق ثم اعبس حتى يرجع الی الجذر قال ذلك الی التکعین یعنی لوگوں نے یہ اذکار کہا کہ انہوں نے پانی کعبیت میں سے پھیرا سکا ہے۔ اس سے
عمان باب ہے ہمسایہ میں روایت زیادہ تفصیل سے ہے ان رسول اللہ صلعم قال بنا رجل بعثنی فاشد علی العطش فنزل بئر الشدب منها فخرج
فاذا هو بکلب یفھض یا کلل التری من العطش فقال لقد بلغ هذا الذي بلغنی فحملوا حفرة فمساك بقیه تصدقی فسقى الکلب فشکر الله له فخر له ابو
اس قدر زیادہ ہے قالوا یا رسول الله وان لنا فی البھا ثم اجرا قال فی کلین ربطتہ اجر یعنی لوگوں نے پے پھا کر کیا جو روں کی خدمت میں بھی ثواب ہے فرمایا پھر
تائیسے جو کلے (یعنی جاندار) میں ثواب ہے۔ اس حدیث میں بے زبان مخلوق پر رحم کرنے پر جنت کی بشارت دی ہے، آخرت ان مخلوقات پر شفقت کرنے سے اور بھی بڑھ کر
تعمت شت گئی، ہمسایہ میں روایت میں ہمسایہ کا ایک حصہ دوبرا گیا ہے ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلوة الكسوف فقال دنت مني النار حتى قلت ای رب
وانا منهم فاذا امرت بحسب انزل قال محمد شہا ہرقہ قال سائن لھذا قالوا احببتھا حتی ماتت جو عام ہمسایہ کی روایت میں ہمسایہ کا آخری حصہ زورہ تفصیل سے دوبرا
لیا ہے۔ عن ابی ہریرۃ فی ہرقہ حیسبتھا حتی ماتت جو عام ہمسایہ حیسبتھا حتی ماتت جو عام ہمسایہ کی روایت میں ہمسایہ کا آخری حصہ زورہ تفصیل سے دوبرا
لا امت اولیئھا فاکت من خشا من الارض۔ جس طرح خدا کی زبان مخلوق پر رحم کرنے پر جنت کی بشارت ہے اس طرح انہیں ستانہ و ان بظلمتے پناہ اور غضب
تھی کہ وہ بڑھ جائے اس کا مقدمہ ہے مگر ان کا ہر تہہ ہے، ہمسایہ ضعیف اختلاف لفظ سے عرت کو دوبرا ہے، مگر ہمسایہ کی وہی لکھی ہے جو بظاہر منہج کلمات میں مگر نفاذی
کرتے ہیں، مگر خود اپنے آپ کو نہیں مانتے ہیں۔ یعنی اونٹ کو حوض سے بٹا دینا گویا اپنے دوست تہا روایا۔ اور یوں حوض دلنے کا پانچ مقدمہ ہے کہ رسول صلعم کا حوض تو

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ اسْمَعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمًا وَقَالَ خُوَلْدَةَ تَغْرُبُ مِنَ الْمَاءِ لَكَانَتْ

کہ ستر اسمعیل کی ماں پر رحم ہے اور وہ زمرہ کو کھلا دے اور اس میں پانی کو چلو بہرے سر نہ بیٹھیں تو وہ

عَيْنًا مَرِيئًا وَأَقْبَلَ جُزْءَهُمْ فَقَالُوا أَتَأْذِنِينَ أَنْ تَنْزِلَ عِنْدَكَ نَعْمَ وَلَا حَاجَ لَكَ

ایک بناری چشمہ برپا اور پریم (قبیلہ) آیا تو انہوں نے کہا کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ ہم آپ کے پاس آتے رہیں کیا ہاں مگر پانی میں شامل

فِي الْمَاءِ قَالُوا نَعَمْ (م - ۱۰۲۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکثر - ۱۱۲۵) (۱۱) بَابُ

کوئی حق نہ ہو گا انہوں نے کہا ہاں

لَا حَاجَ لَكَ إِلَّا لِلَّهِ دَلَّ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۱۱۲۸) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الصَّعْبِ

کوئی حق نہ ہو گا صرف اللہ اور اس کے رسول صلوات اللہ علیہ سے ہے

ابن جَدَامَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حَاجَ إِلَّا لِلَّهِ دَلَّ رَسُولَهُ

ابن جدامہ نے کہا کہ رسول اللہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا

وَقَالَ بَلَّغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيَ التَّقِيْعُ وَأَنَّ عُمَرَ جَمِيَ الشَّرَفُ وَ

اور یہ بخاری، سنت نبوی میں جو بھی ہے کہ کسی سے ہے

الزُّبْدَةُ (۱۱۳) بَابُ شَرَابِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي أَبَى أَنْ يَشْرَبَ مِنْ الْأَنْهَارِ (۱۱۲۹) عَنْ

زبدہ کو کھنڈو کا ٹکڑا باب کو گوارا دینے والوں کے

أَبَى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ لِوَجِلٍ أَجْرٌ وَ

ابو ہریرہ سے روایت سنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا

لِرَجُلٍ يَسْرُوعُ عَلَى رَجُلٍ وَرَفَاتَا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٍ زَيْطُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

ایک کسے بھاؤ اور ایک کسے تیل وہ وہ شخص ہے جو انیس لاکھ روپیہ باندھ لے

فَأَطَالَ بَهَائِي عُرْجًا أَوْ رَوْضَةً فَمَا أَصَابَتْ فِي ضَيْلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أَوْ

اگر اس کی بھائی چرگا یا چرگہ میں بھی اسیے تو وہ اپنی رسی کی لہلی میں جہاں تک اس چرگہ

الزُّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ وَوَلَوْ أَنَّهُ انْقَطَعَ طَيْلُهَا فَاسْتَنْتَ شَرَفًا وَشَرَفِيْنَ

بلخ میں چرس وہ اس کی ٹیکیاں ہوں گی اور اگر ان کی رسی ٹوٹ جائے

كَانَتْ أَثَارُهَا وَأَزْوَانُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ

نوان کے قدم اور ان کی نیند اس کے ٹیکیاں ہوں گی اور اگر وہ کسی ندی میں گزری اور اس سے پانی نہ پیں

يَزِدْ أَنْ يَسْقَى كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ فَهِيَ لَكَ أَجْرٌ وَرَجُلٌ زَيْطُهُ تَعْنِي

اس کا نام ہے کہ اگر وہ باندھے گا تو اس کی ٹیکیاں ہوں گی اور ایک شخص ہے کہ اس نے ان گھوڑوں کو مالدار بننے اور اپنی بڑھاپے

وَتَوْفَقًا شَمَّ لَمْ يَنْسِ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظَهْرُهَا فِي لَدُنْكَ سِرًّا وَرَجُلٌ

کے ساتھ باندھ رکھا جہاں سے سنت کا حق ان کی گردنوں اور ان کے پیٹوں میں نہ چلا

زَيْطُهَا فَشَرُّ رِيَاءٍ زِيَاءٌ زِيَاءٌ لَا هَيْلَ إِلَّا مَرَفِيْ عَلَى ذَلِكَ وَرَدُّ سَيْئِلِ رَسُولِ

تھیں ہے کہ اس نے گھوڑوں کو بڑائی دیکھنے اور اہل اسلام کو نقصان پہنچانے کے لئے باندھ رکھا تو اس سے پانی نہ لیا اور رسول اللہ صلوات اللہ علیہ سے

مستحق الہدی میں ہے کہ عرب میں بھی کیا اصل یہ ہے کہ ان کوئی سردار کسی سردار سے مدد کرتا تو کسی اونچی جگہ رکھ کر کرتا جہاں تک اس کی آواز نہ پہنچے وہاں تک کسی کو بھیجی

چرانے نہ دیتا اور اسے اپنے لئے محفوظ کر لیتا۔ لاجہلی اللہ ورسولہ کے سے ہیں کہ رسول اللہ صلوات اللہ علیہ سے یہ مقام کو کھنڈو کر سکتے ہیں یعنی بیت المال کے لئے کوئی چیز کا جو کھانا

کی جاسکتی ہے۔ اور جن حرفت باندھنے کو ہے

عجلت یہ حدیث کتاب
الاشیاء باب الخن
اللہ ابراہیم خلیل
میں مفصل آتی ہے
وہاں سے جب شرح
کا یہی ظاہر ہوا ہے
جو کہ اس خیانت
کہ میں پانی پر فرقت
نہ ہو جائے، اور یہ
گزشتہ باب کا پانی
اس میں جمع ہو گیا
اسی کی صورت میں
تہ حضرت باجئے
پانی پر اپنا حق رکھا
اسی سے عنوان باب
ہے
عجلت یہ روایت کچھ
اختلاف سے متکرر
آتی ہے، جن النبی
سہم شد لئلا نکلا
یکلمہم اللہ یوم
القیامت ولا یظن
الیہم رجل حدیث
علی سجدہ نقلاً علی
بہا اکثر مما علی
وہر کا وہ رسول
حدیث علی یسین
کا وہ بعد اللعص
لیقطع بہا مال جہ
مسئلہ اس کی تکرر
وہاں سے روایت ہوا
انعاما امم ورجل
منہ فضل ماع
فیقول اللہ اللہ
اصدک فضل کما
منعت فضل مام
تصل یداک ...
بجودت سے نہ سہانی
کیونکہ پانی انسان کے
ہاتھوں سے نہیں بنانا

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَحْمَرَ فَقَالَ مَا أَنْزَلَ عَنِّي فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْأَيَّةُ

گوہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کوئی چیز اس آیت سے نہیں سنی اس آیت جامع بیت

الْجَامِعَةُ الْفَأَذَةُ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

کے ذرہ جہر عمل کرے گا اسے دیکھے گا اور جو کوئی ذرہ میں ان کے کلمے دیکھے گا

شَرًّا يَرَهُ (م- ۱۰۴۹) عَنِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ (م- ۸۱) (۱۳۰) بَابُ بَيْعِ أَحْصَبِ

عند الزوال ۱۰۴۹ دیکھو حدیث ۸۱ باب بایع احصب

وَالْكَلْبُ (م- ۱۰۵۰) عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ (م- ۴۹۰) (۹۰) عَنِ زَيْنِ

دیکھو حدیث ۴۹۰ باب بایع زین

هَرِيرَةَ (م- ۴۹۰) (۹۰) عَنِ عَلِيِّ (م- ۱۰۴۲) (۴۲) بَابُ انْقِطَاعِ

دیکھو حدیث ۴۹۰ باب انقطاع

بَابِ بَيْعِ الْبَحْرَيْنِ (م- ۱۱۵۰) عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (م- ۱۱۵۰) (۱۱۵۰) عَنِ أَنَسِ بْنِ

انہوں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ حَتَّى تَقْطَعَ لِأَخْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ بِشَلِّ لَنْزِي تَقْطَعُ لَنَا

تو انصار نے فرمایا کہ ہمیں ان سے بیعت میں لے کر آؤ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہاں ان کو بیعت میں لے کر آؤ

قَالَ سَتَرُونَ بَعْدِي أَثَرَةَ فَاصِدٍ وَرَاحَتِي تَلْقُونِي (۱۵) بَابُ كِتَابَةِ الْقُصَابِ

فرمایا میں نے فرمایا تم میرے بعد دیکھو گے کہ وہ دن کو تم پر فرج دے دی تو تم سے کام لینا یا تم کو تھکے ہوئے

وَمَنْ أَنَسَ عَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْصَارَ لِيَقْطِعَ هَمَّ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ

اور اس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بحرین میں جاگیریں عطا کریں تو تم سے لگا

اللَّهُ إِنْ فَعَلْتُ فَاتَّبِعُوا لِأَخْوَانِنَا مِنْ قَدَشٍ مِثْلَهَا فَانْزِلْ ذَلِكَ حَيْدَ النَّبِيِّ

اے اللہ کے رسول اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ہمارے بھائی قریش کے لئے بھی ایسی عطا کریں کہ ان سے دیکھیں کہ تم نے کیا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَنْزِي سَتَرُونَ بَعْدِي أَثَرَةَ فَاصِدٍ وَرَاحَتِي تَلْقُونِي

تو آپ نے فرمایا میرے بعد دیکھو گے کہ وہ دن کو تم پر فرج دے دی تو تم سے کام لینا یا تم کو تھکے ہوئے

لَمْ يَسْخَرِ مِنَ اللَّهِ فِي دَعَائِهِمْ وَلَا ظَهَرَ مَا سَخَرَهُ مِنْهُمْ لَوْلَا رَسُوهُمْ لَمْ يَسْخَرُوا مِنْ اللَّهِ فِي دَعَائِهِمْ وَلَا ظَهَرَ مَا سَخَرَهُ مِنْهُمْ

دوہرایا گیا ہے۔ عرفہ اسنتہ کے بعد تم نے استغما ہوا لفظ میں نہیں اور اس کے بعد یہاں ہے۔ فان جاء صاحبنا والانشاءك بها او فغضب - وجہ تک یہاں نہیں۔

عزراں کا تعلق تو ان سے ہے کہ ان کو عذر جا کر کہیں پائی بی بی ایسا ہے وہ عیسیٰ فریڈلک زین یا جنگل سے جب لکھی گھا س ہٹ کے تو وہ اس کی ملک ہو جاتی ہے۔ اور

اسے خود کو رکھا ہو لگنا تقریباً کہ ہے اس تعلق تغیر سے کہ وہ ان کا حضور دوہرایا گیا ہے۔ عیسیٰ فریڈلک زین میں اس روایت کا صرف ایک حصہ تھا یہاں پوری روایت

ہے۔ اور تعلق تغیر میں ہے سن علی انزل ان احببت فشاو فاعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مخرجهم يوم بدر قال داعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشرفنا

عند (اس حدیث میں) گھوڑوں کو رکھنے کو تین طرح پرمان کیوں ہے اعلیٰ وہ ہیں جو انہاں کے لئے خوب تر ہے درجہ میں اور وہ وہ بھی جو ہر وقت ہا کے لئے ہر کار کے جائیں تو یہ وہ جاد فی سبیل اللہ کے لئے دفع میں۔ اس گھوڑوں کی ہر ایک حرکت اور سکون یا اس کے ایک کے ایک اہاں میں شمار ہوتی ہے۔ دوسرے میں ہیں جو اسے تو اسے کام یا تجارت کے لئے جاتے ہیں ان کے حقوق پورے طور سے ادا کئے جاتے ہیں پہلے سے کم دہر نہیں۔ تیسرے وہ جو کھانے سے شکر بھائی اور ان کے لئے رکھے جاتے ہیں ان میں عیون کا تعلق اس جگہ سے ہے۔ دوا انہا حدیث بعد فقہوت عند زین

۵۲۳

لقبہ ص ۲۲۵
 ہر ایک میں کچھ
 نہ کچھ سرکاری نہیں
 ہوتی ہیں یا بخر ہوتی
 ہیں جسے بطور بخر
 آباؤ کر کے کے سطح
 دیا جا سکتا ہے کچھ
 انصار کو ان فرماؤں
 آج کے عوض جو انہوں
 ان اہل جان ترکان
 کرتے ہیں کسی تصویر
 زمینوں کے کچھ
 جاگیریں عطا کرنے
 کا ارادہ کیا مگر انہوں
 اسے مست نہیں کیا
 یہاں تک کہ نہایت
 کو بھی وہی جاگری
 عطا ہوئی۔ اسے نئی
 کریم معلوم کیسے
 کہ جیسا اگلی بیعت
 میں ذکر ہے جس
 کی کیا وجہ تھی یہ ذکر
 نہیں۔ شاید یہ وجہ
 ہو کہ ہاجرین ترش
 تھے اور آب حیات
 تھے۔ ایک کے بعد
 ان لوگوں کے سپر
 حکومت ہوں اور
 اگر وہ اپنی جاگری
 کے انحصار میں
 تھے تو حکومت ان
 سے نہ ہوتے گی
 رہے پھر ان کے

۱۶۱) باب حَبَابِ الْأَيْلِ عَلَى الْمَاءِ (مترکرو - ۱۰۵۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مترکرو - ۴۶۴)

باب آب زمین کو پانی پر دروسا دیکھو حدیث ۱۰۵۳ و ۴۶۴

۱۶۲) باب الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ ثَمَرٌ أَوْ شِرْكٌ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي مَخِيلٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ تَوَدَّفَ مَوْتَهَا لِبَنَاتِهِ فِي الْمَرْوَةِ الشَّقِي حَتَّى يَرْتِعَ

باب جس شخص کا رستہ یا پانی کا حصہ بنا دے جس سے پلوں کے پتوں پر پست ہو جی صلیبت انیلا

وَكذلك رَبُّ الْعَرَبِيَّةِ (مترکرو - ۱۰۵۴) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (مترکرو - ۱۰۸۰) (مترکرو - ۱۰۵۵) عَنْ

ذکر کو اور اس کے ذریعہ میں جسے میرات کے طور پر رخصت کا جعل یا گیا دیکھو حدیث ۱۰۸۰ و ۱۰۵۵

زَيْنِ بْنِ ثَابِتٍ (مترکرو - ۱۰۶۶) (مترکرو - ۱۰۵۶) عَنْ جَابِرٍ (مترکرو - ۱۰۶۵) (مترکرو - ۱۰۵۷)

دیکھو حدیث ۱۰۶۶ و ۱۰۵۶ دیکھو حدیث ۱۰۶۵ و ۱۰۵۷

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مترکرو - ۱۰۶۷) (مترکرو - ۱۰۵۸) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَسَهْلِ

دیکھو حدیث ۱۰۶۷ و ۱۰۵۸

أَبْنِ أَبِي حَتْمَةَ (مترکرو - ۱۰۶۸)

دیکھو حدیث ۱۰۶۸

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۳۳ - کتاب الاستسقاء آداب المذنبين وأجره والقيس

کتاب فرض لینا و فرضوں کا ادراک اور معرفت سے روکا اور نادر قرار دیا جان رہا اور اب اسے

۱) باب من اشترى بالدين وليس عنده شئ فاشترى بالدين أو ليس بخصم

باب جو شخص اور ماہر سے اور اس کے پاس اس کی قیمت نہ ہو اس وقت موجود نہ ہو

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (مترکرو - ۱۰۶۵) (مترکرو - ۱۰۶۰) عَنْ عَائِشَةَ (مترکرو - ۱۰۳۰)

دیکھو حدیث ۱۰۶۵ و ۱۰۶۰ دیکھو حدیث ۱۰۳۰

۲) باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إerlandها (مترکرو - ۱۰۶۱)

باب جو شخص لوگوں سے مال لے (اور) اس کے ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو یا اس کے برابری

کی آپ نے نکاح میں جو وقت بھی وہ انظرین اس میں سے نبی کریم وسلم کا یا ارشاد کر میرے بعد اوروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی۔ اس میں شاکرہ، اشارہ ہو اور اختلاف عد میں نہ رہنے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو اہل بدینہ پر مقدم کیا جائے گا تو اس پر میرے کرنے کا حکم یہاں رہا شاید یہ غیر ہوا) علیا میں ۲۵۴ کا ایک کلمہ دوہرا کیا جس سے حق کا ہون ان تحب علی الماء عرض ہی کہ سا فر و مکن کو جو وہاں ہو کچھ مل جائے، مٹل میں اس قدر زیادہ ہے ومن ابتاع عبد او لصال شماله للذي بانه، کلان یتار المبتاع مٹل اس کے نطفہ ۹۶ سے بنتے ہیں۔ رخصت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یتار العربیا بخر صھا تمنا مٹل مکر روایت میں زیادہ ہے نہی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن انخاب و دنا حاکلة وعن انزابیة وعن بیع العرحنی یبدو و صلاھا وان کا تا مالا بالی یاد والذکر اکال العربیا مٹل ہی بیع العربیة بعد بخر بنامن العربیة مٹل اس کے انفاذ میں نہی عن المزایة بیع الثر بالعتر الا صحاب العربیا فانہ اذن لھم مٹل حجرت کے لئے رکھی ہیں۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو کہ عقلی کی وجہ سے اپنے اہل میں نصرت اور معاملات سے روکا جائے اور قلیس یہ ہے کہ انسان ناداری کی وجہ سے فرض ادا کرنے سے عاجز ہو جائے مٹل مٹل کا ایک کلمہ دوہرا لیا ہے غزوات مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کیف تمنا بعراب انبیحنیہ قلت نعم فبعتہ ایام فلما قدم المدینة غزوات انہ بالبعیر فاعطانی شئہ یعنی اس میں نے آنحضرت صلعم کے پاس کسی قیمت نہ تھی مدینہ اگر کسی قیمت دی اسی سے غنون ہے مٹل اس کے نطفہ ۱۰۳ کے ہیں۔ آنحضرت صلعم نے اناج پر روزے سے قرض لیا تھا

هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد اداءها

أدى لله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتفقه الله رسا باب اداء الدين و

قال الله تعالى ان الله يامركم ان تؤذوا الاهنت الى اهلها واذ نعمتم بين

الناس فحسبا للعدل ان الله يعطكم بركته ان الله كان سميعا بصيرا ۱۱۵

رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما ابصر يعني اخذ قال

ما احب الله يقول في ذهاب ائمتك عذرا ينه دينا ز فو ق ثلث الا دين ا ا ر ص د ه

لدين ثم قال ان الاكثر من هم الا قلوب الا من قال باسما ل هكذا و هكذا

واشار ابو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله وقيل ما هم وقال

مكانك وتقدم غير بعيد فسمعت صوتا فاردت ان اتيه ثم ذكرت قولة مكانك

سمعت قال وهل سمعت قلت نعم قال اتاني جبريل عليه السلام فقال من

قالت من اميتك لا يتبرك يا الله شيئا دخل الجنة قلت ان فعل كذا وكذا قال

احمد زمر ۱۰۶۱ عن ابي هريرة مترك ۱۱۵۲ باب استقراض الابل

ابو هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد اداءها

أدى لله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتفقه الله رسا باب اداء الدين و

قال الله تعالى ان الله يامركم ان تؤذوا الاهنت الى اهلها واذ نعمتم بين

الناس فحسبا للعدل ان الله يعطكم بركته ان الله كان سميعا بصيرا ۱۱۵

رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما ابصر يعني اخذ قال

ما احب الله يقول في ذهاب ائمتك عذرا ينه دينا ز فو ق ثلث الا دين ا ا ر ص د ه

لدين ثم قال ان الاكثر من هم الا قلوب الا من قال باسما ل هكذا و هكذا

واشار ابو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله وقيل ما هم وقال

مكانك وتقدم غير بعيد فسمعت صوتا فاردت ان اتيه ثم ذكرت قولة مكانك

سمعت قال وهل سمعت قلت نعم قال اتاني جبريل عليه السلام فقال من

قالت من اميتك لا يتبرك يا الله شيئا دخل الجنة قلت ان فعل كذا وكذا قال

کتاب الاستقراض
ابو هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد اداءها
أدى لله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتفقه الله رسا باب اداء الدين و
قال الله تعالى ان الله يامركم ان تؤذوا الاهنت الى اهلها واذ نعمتم بين
الناس فحسبا للعدل ان الله يعطكم بركته ان الله كان سميعا بصيرا ۱۱۵
رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما ابصر يعني اخذ قال
ما احب الله يقول في ذهاب ائمتك عذرا ينه دينا ز فو ق ثلث الا دين ا ا ر ص د ه
لدين ثم قال ان الاكثر من هم الا قلوب الا من قال باسما ل هكذا و هكذا
واشار ابو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله وقيل ما هم وقال
مكانك وتقدم غير بعيد فسمعت صوتا فاردت ان اتيه ثم ذكرت قولة مكانك
سمعت قال وهل سمعت قلت نعم قال اتاني جبريل عليه السلام فقال من
قالت من اميتك لا يتبرك يا الله شيئا دخل الجنة قلت ان فعل كذا وكذا قال

وعندى منه نقى الاشئح ادمدا لعدين

علا بیان میں اتالی کے
 حصہ علا کا نہیں
 ہے۔ آخری حصہ میں
 الفاظ میں ہے۔ ما
 من مومن اکو
 انا اول بقیۃ انشا
 والاخرۃ۔ اس کے
 بعد یہ حدیث قرآن
 ان شتم النبی صلی
 بالمرئین من انفسہم
 فایضا مومن مات و
 ترک ما لا یقلیۃ
 عسبۃ من کانا
 ومن ترک ایتا او
 ضیاعا فنیاتہ
 تا ما ملکا۔ بیان
 دہیں در قرصہ کے
 ساتھ ضیاع بھی
 ہے یعنی ضائع ہونے
 والی چیز مردانہ چھاپ
 ہیں جس میں طرز
 کوئی شخص نہ ہن
 چھوڑے اور اس کا
 ادا کرنے والا کوئی
 نہیں تو اس کی ادھی
 حکومت کے قے ہے
 اسی طرح سے جب
 چھوڑے جن کا کوئی
 خبر نہ ہو تو ان کی
 قبر کی صورت کے
 ذمے سے اسلامی
 حکومت کے اس
 مفہوم کو سمجھنا
 کوئی قوم نہیں رہتی
 علا حضرت عثمان غنی
 مطال الغنی ظلم
 علی بنی شخص ہوا
 متضاد انہیں کا ظلم
 اس کے بیان میں ہے
 غرض ان میں سے کئی
 جگہ ہاں لکھا گیا ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر-۱۱۱۴) (۱۲) بَابُ مَطْلِ الْعَنِيِّ ظَلْمٌ (۱۰۷۱)

دیکھو حدیث ۱۱۱۴ باب مالدار کا مال غریب میں ادا کرنا ظلمت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر-۱۱۰۶) (۱۳) بَابُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٌ وَيَذْكَرُ

دیکھو حدیث ۱۱۰۶ باب حق دار کو لینے کا حق ہے اور حق سلطنت

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوَأَجِدُ يَجْلُ عَقْرِبَتَهُ وَعَرْضُهُ قَالَ سَفِينٌ عَرَضُهُ

یقول مطلتني وعقربته احبس (۱۰۷۲) عن أبي هريرة (متكرر-۱۱۱۸)

(۱۴) بَابُ إِذَا وَجِدَ مَالَهُ عِنْدَ مَغْلِبٍ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيعَةِ فَيُؤَاحِقُ بِهِ وَ

قَالَ الْحَسَنُ إِذَا الْفَلْسُ تَبَيَّنَ مِنْ بَيْعِهِ عَقْبَةُ وَلَا بَيْعُهُ وَلَا تَبَيَّنَ وَأَوْعَى قَالَ سَعِيدُ بْنُ

الْمُسَيْبِ قَضَى عَمَّنْ مِنْ أَقْضَى مِنْ حَقِّهِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَسَ فَمَوْلَاهُ وَمَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ

بِعَيْنِهِ فَلْيُؤَاحِقْ بِهِ (۱۱۵۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَوْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَ مَالًا لِيُعِينَهُ عِنْدَ رَجُلٍ

أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْسَ نَهْوُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ (۱۱۵۵) بَابُ مَنْ أَخْرَجَ الْغَرِيمَ إِلَى الْغَدَا

أَوْ حُرَّةً وَلَمْ يَدْرِكْ مَعْلًا وَقَالَ جَابِرُ بْنُ شَيْبَةَ الْغَرَمَاءُ فِي حَقِّهِمْ فِي دِينِ أَبِي

فَسَأَلَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْبِلُوا أَمْشِرًا لِيُطَيَّ فَا بِرَأْفَةٍ يُعْطِيهِمُ الْحَرَاظُ

وَلَمْ يَكْسِرُوا لَهُمْ قَالَ سَاغِدٌ وَعَلَيْكَ عَدَاؤُكَ أَعْلَى حِينَ أَصْبَحَ فِدَا عَالِي شَمْرَهَا

بِالْبِرَّةِ فَقَضَيْتَهُمْ (۱۱۶) بَابُ مَنْ بَاغَى مَالَ الْمَغْلِبِ أَوْ الْمَوْرِمِ فَقَسَمَهُ بَيْنَ

الْغَرَمَاءِ أَوْ عَطَا حَتَّى يَنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ (۱۰۷۳) عَنْ جَابِرٍ (متكرر-۱۰۶۶)

دیکھو حدیث ۱۰۶۶

کی سزا قید کرنا ہے اس سے معلوم ہوا کہ مغلی کا قید کرنا جائز نہیں لگا کہ ملک میں روایت لصاحب الحق۔ ہاں لکھا ہے۔ افعال تقریباً ہی میں ہاں حدیث
 کے مطابق ہے جو گئے آئی ہے۔ بعض کے نزدیک ایسا شخص دوسرے قرض خواہوں کی طرح اور ان کے برابر ہے۔ ہاں خفیف اختلاف لفظی سے حدیث کو رد کیا ہے۔ یعنی اپنے رقم
 قرض خواہوں میں تقسیم کر دی۔ یہاں اسی کو دیکھ کر مذکور نہیں لیکن یہ قیاس درست ہے کہ اگر قرض خواہوں سے بڑھ رہے تو پھر باقی رقم اسی کو دی جائے گی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عن الزيادة

اشرف ابن ماجہ رحمہ اللہ

پر بار بار

کونوں کے نام سے

(۱) بَابُ مَا يَدْرُسُ فِي الْأَشْغَاظِ وَالْأَخْصُومَةِ بَيْنَ الْمَسْلُومِ وَالْيَهُودِ

باب جو کفر کرتے اور سنان اور یودی کے جھگڑے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے

۱۵۵۱ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ رَجُلًا قَرَأَ آيَةَ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میں نے ایک شخص کو سنان کہ ایک آیت اس میں پڑھی کہ میں نے رسول اللہ

عليه وسلم خلافا فآخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم

مسلم سے اس کے خلاف سنا تھا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا

فَقَالَ كَلَّا كَمَا مَحْسِنٌ قَالَ شُعْبَةُ أَضْطَبُّ قَالَ لَأَخْتَلِفُوا إِنْ هُنَّ كَانَتْ بَيْنَكُمْ

تو آپ نے فرمایا دونوں چمے ہیں شُعْبَةُ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ فرمایا اختلاف مت کرو کیونکہ جو تم سے پہلے تھے انہوں نے

اختلفوا فهل لَكُمْ (۱۵۵۱) عَنْ ابْنِ شَرِيَّةٍ رَضِيَ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ رَجُلٌ

اختلاف کیا تو تمہارے پاس ہے اور یہ روایت ہے کہ دو آدمیوں نے آپس میں اختلاف کیا تو میں نے

قَبْلَ الْمَسْلُومِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ قَالَ الْمَسْلُومُ الَّذِي صَطَفَ مُحَمَّدًا عَمَلِي

ایک شخص پہلے تو میں نے سنا تھا اور دوسرا یہودیوں سے مسلمان نے کہا اس ذات کی قسم جس نے حضرت محمد کو سنا ہے جہاں پر

الْعَلَمِينَ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ وَالَّذِي صَطَفَ مُوسَى عَلَى الْعَلَمِينَ فَرَفَعَ الْمَسْلُومُ يَدَهُ

نصیحت دی اور یہودی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے حضرت موسیٰ کو سنا ہے جہاں پر نصیحت دی تو اس پر سنان نے کہا

عَمَدًا ذَلِكَ فَلَصَّ وَجْهَهُ الْيَهُودِيُّ ذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اٹھا یہودی کے منہ پر پتھر مارا تو یہودی ہی معلوم کے پاس گیا

فَأَخْبَرَنِي أَنَّ كَانُ مِنْ أَمْرِكُمْ وَأَمْرُ الْمَسْلُومِ فَدَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْلُومَ فَسَأَلَهُ

اور انہوں نے کہا اس کی خبر دی جو اس کا اور سنان کو جویا اور اس سے اس بارہویں آیت

عَنْ ذِيكَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَخْبِرُونِي عَلَى مُوسَى

کہ تو اس نے عرض کر لیا تو میں نے فرمایا

فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ بِجَمَلِ الْقِيمَةِ نَاصِعِينَ مَعَهُمْ فَاكُونُ قَلْبِي مِنْ تَقِيَّةِ زَادِ الْمُؤْمِنِينَ

لوگ تھامت کے دن ہوش بوج میں گئے ہیں ابھی ان کے ساتھ ہوش ہو جاؤں گا اور اس سے پہلے ہوش نہ آئی تو موسیٰ عرض کا کہ

بِإِطْشِ بِنَائِلِ الْعَرَبِ شَرِيكَ أَدْرِي إِنْ كَانَ نَيْمٌ صَبِيحًا فَاذْهَبِي أَوْ كَانَتْ مِنْ أَسْتَيْبِي لِلَّهِ

پکڑنے دو سے ہوں گے میں نہیں جانتا کہ موسیٰ بن سے ہیں جو ہوش نہ آئے اور وہ مجھ سے پہلے ہوش میں گئے ہیں ان سے ہنگامہ لگائے

بَابُ ابْنِ الْمَسْلُومِينَ فِي حَدِيثِ قَرِيْبٍ أَخْبَرَنَا فِي الْأَخْبَارِ أَنَّ ابْنَ كَثِيرٍ وَابْنَ الْأَنْبَاءِ وَأَبْنَ يُونُسَ

اول سوال نصیحت سے یہاں فرمایا کہ موسیٰ پر نصیحت نہ دو اور اس کی کئی روایات میں جو ہیں ان کے آتی ہے یہ لفظ ہیں لاکثیر و ابی ان انباء اور اب یونس

متروکہ جلا قرآن کریم میں آتے ہیں ان کے وہی انبیا یعنی نبیوں کو ایک دوسرے پر نصیحت نہ دو اور ابی ہما سے لاکثیر یعنی ابی یونس ابی یونس

سوائے اس کے کچھ نہیں ہو سکتا کہ اس موقع پر ایک جھگڑا پیدا ہوا تو آپ کا منشا یہ تھا کہ میں نے شریعت پر ایک کی دوسرے پر نصیحت کو ذکر کیا ہے بسا اکتساب ایک کتا ہو

سیرانی بڑا ہے دوسرے کے سیرانی بڑا ہے ہاں حقائق اور واقعات کے رنگ میں ایک کی دوسرے پر نصیحت کا بیان اس حدیث کے منافی نہیں مثلاً اگر یوں میں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے ہوش بوج میں گئے تھے ہاں سب نبی ایک ایک قیوم کی ہوتی ہوتی ہو گئے تو اسے آپ کی دوسرے انبیا پر نصیحت ثابت

ہوتی ہے تو اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا یا یوں میں کہ جو کامیابی اور نصرت نبی معلوم کوئی وہ اور کسی نبی کو نہیں ملی اور اس سے آپ کی دوسرے انبیا پر نصیحت معلوم

ہوتی ہے تو میری ایک امر واقع ہے جس کو انکار ایک دشمن بھی نہیں کر سکتا میں یوں دعویٰ کرتے پھر تا کر ہاں نبی بڑا ہے حدیث کے خلاف ہے لیکن کسی بانی برص ۵۲۹

کے اشخاص سے ہیں اخصاص الغریم من موضع الی مخرج کو میں قریب دار کو یک جگہ سے دوسری جگہ سے سزا نہ ہونان کا مطلب ہے کہ قرض دینا جب دوسرا نہ یا پھر ظاہر کرتا ہوتا ہے جب اسے حکم دیا کہ اس کے پاس حاضر کر لیا گیا کہ اسے تاکہ حکومت کے ذریعہ اس سے باز نہیں رہے جملہ عربان باہر کے متعلق صرف اس بات سے ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ اس میں معنی ہے کہ اسے متعلق ہوتا ہے باب منزل القرآن علی سبوت احوت کے نیچے آئے گی جہاں حضرت عمر اور شام کے اختلاف کا ذکر ہے جملہ عربان باہر کے متعلق اس حدیث کے صرف ایک فقرہ سے ہے کہ یہ معلوم ہے اس سنان کو بولا یا مشہور حدیث کا اصل نقل ہے کتاب الانبیا سے ہے اور باب وفات موسیٰ میں اور پھر

۱۰۷۹- عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (متكرر- ۱۱۵۶) (۱۱۵۷) عَنْ اَنْسِ بْنِ رِفَاةٍ

يَهُودِيًّا رَضِيَ عَنْهُ اسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجْرَيْنِ قِيلَ مِنْ فِعْلِ هَذَا اِيَّاكَ اَنْ لَانَ حَتَّى

سَبِي الْيَهُودِيَّ فَاَوَمَّتْ بِرَأْسِهَا فَاَخَذَ الْيَهُودِيُّ فَاَعْتَرَفَ فَاَمْرًا بِمَا لَبِثَ صَلَّى لِلَّهِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ اسَ بَيْنَ حَجْرَيْنِ (۲) بَابُ مِنْ رَدِّ امْرِ السُّفِيَّةِ وَالضَّعِيفِ

العقل ان لم يكن حجر عليه الامام ويدا عن جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه

وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه وقال مالك اذا كان رجل على رجل

مائل وله عبد لا شيء له غيره فاعتقه لم يجز عتقه (۳) بَابُ وَمِنْ بَاعِ

عَلَى الضَّعِيفِ وَنَحْوِهِ فَدَمَهُ تَمَدُّهُ إِلَيْهِ وَأَمْرُهُ بِالْإِصْلَاحِ وَالْقِيَامُ بِشَرَاةِ فَرَانَ

أَسَدٌ بَعْدَ مَنَعِهِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ إِضَاعَةِ الْمَالِ قَالَ

لِلَّذِي يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ إِذَا بَاعْتَ فَقُلْ لَخَلَاةٌ وَلَمْ يَأْخُذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهُ

خَرِيدَ فَرَدَّتْ فِيهِ دَهْرًا كَمَا تَقَعُ اسَ مِنْهُ فَرَأَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ امْرَأَتَهُ تَبَايَعَتْ

۱۰۸۰- عَنْ ابْنِ عُمَرَ (متكرر- ۱۱۵۳) (۱۰۸۱) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (متكرر- ۱۱۵۴)

دیکھو حدیث ۱۱۵۳

دیکھو حدیث ۱۱۵۴

بقیہ ص ۵۲۸
۱۱۵۸
امروا تہ کو بیان کر کے
اس سے آنحضرت
صلی علیہ وسلم کی غنیمت کا
بہت دلالت کرنا خلاف
حدیث نہیں اور مطابقت
قرآن ہے۔ دوسرا
سوال قیامت سے
تعلق رکھتا ہے۔ مگر
روایت ۱۰۷۹
سے فان النساء
یصنعون یومر
القیمة فاکون اول
من تنتشق عنہ
الارض یعنی میں
پیدا انسان ہوں گا
جو زمین پھٹ کر باہر
نکلے گا اور باپ پرورش
میں سے ہے فاکون
اول من البعث
میں پیدا انسان ہوں گا
جو اٹھایا جائے گا۔
اور نفع صورت پرورش
ہونا صرف ان لوگوں
کے لئے ہے جو اس
وقت زندہ موجود
ہوں اس لئے حدیث
کے الفاظ محفوظ
نہیں تھے اور حضرت
کا مونی سے متعلق

۱۰۷۹ میں سے فلاوری اکان فیمن صنع امر حسب بصیقة الاولی یعنی میں نہیں جانتا کہ مونی ان میں سے جو بیوش ہوئے یا جو بیوے (یعنی طورم) پرورش ہوئے تھے وہ ان کو کافی ہوگا۔ حضرت موی نے جب طور پر بارش تعالیٰ کو دیکھنے کی درخواست کی تو وہاں سے کہ اللہ تعالیٰ نے جب پھا پر عربی فرمایا تو موی بیوش ہو کر گرتے تو فرمایا کہ میں ان کی بیوشی شایقیا مت کے دن ان کو دوبارہ بیوش ہونے سے بچائے۔ ہا عرش کی جانب کا پڑا تو اس کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ عرش کوئی گدی کی بیوشی چیز نہیں (نوٹ صفحہ ۵۲۸) مگر روایت کے لفظ ۱۱۵۳ سے کچھ مختلف ہیں بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس جائع بیوشی فقال یا ابا القاسم ضرب وجهی رجل من اصحابك فقال من قال رجل من الايضار قال ادعوه فقال اضرمته قال سمعته بالسوق جلفه والذی اصطفی موسی علی البشر ہو سکتا ہے کہ یہودی کا مقصد اس سے نبی کریم اور دین اسلام کی توہین اور تحقیر و موعظوں فی الدین اور نبی کریم کی تحقیر کی غلط فہمی تھی قلت ای خبیث علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناخذنا فی غنیمتہ ضربت وجهی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقر دینا ولا یسبنا لاننا من سفوف یومر القیمة فاکون اول من تنتشق عنہ الارض فاذا اناب موسی اخذنا لکمة من توالم العرش فلا ادوی اکان فیمن صنع امر حسب بصیقة الاولی مگر غالباً جابر کی حدیث سے لانا کی طرف اشارہ ہے کہ ایک محتاج شخص نے جس کے متعلق بعض اور روایات میں آتا ہے کہ قرض دار بھی تھا اور اس کے پاس اور مال نہ تھا اپنے ایک غلام کو لانا کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے تو نبی صلواتی اس تقررت کو منظور نہیں کرنا اس کے غلام کو فروخت کر دیا اور اس کی قیمت بعض روایات کی بنا پر ترقی ہوا ہوں کو دی وہ مگر یعنی محض اس وجہ سے کہ وہ خرید و نہر دخت میں دھوکا کھا جاتا ہے اسے اپنے مال میں تصرف سے نہیں روکا۔ لیکن جو سفیہ پیدا و مال کو ضائع کرتا ہو اسے تصرف سے روکنے کا حکم ہے۔ مگر غنیمت تغیر لفظی سے دوہرا ہوا ہے۔ یہ بیان لفظی ہیں ان رجلا اعتق عبد الله ليس له مال غيره فوجه النبي صلى الله عليه وسلم فابتاع منه لخميين النجاشية

(۴) بَابُ كَلَامِ الْمُخْصَوْمِ بَعْضُهُمْ نِي بَعْضٍ (۱۰۸۳-۱۰۸۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (مكرر)

باب فریقین مقدمہ کا ایک دوسرے کی نسبت کچھ اعتراض کرنا

(۱۱۴۳-۱۰۸۳) عَنْ كَعْبِ بْنِ مَرْكَدَةَ (۱۱۵۸) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (۱۱۴۳) دیکھو حدیث ۳۲۰ عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ میں نے

ہشام بن جبکہ بن حزام یقرأ سورة الفرقان علی غیرہما أقر وہا وکان رسول

ہشام بن جبکہ بن حزام کو سنا کہ سورت فرقان کو جس طرح میں پڑھتا تھا وہ اس کے سوا دوسری طرح پڑھتا تھا اور مجھے رسول اللہ

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أقر انہما وکدت أن أعجل علیہ ثم أمهلته حتی نصرہ

مصلح نے ہی پڑھا یا تھا اور قریب تھا کہ میں اس پر جلدی کر بیٹھوں پھر میں نے اسے ہمت دی میں تک کہ

ثم لبیتہ برداً لہ فحمت بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت انی سمعت هذا

تو مجھے برا تو میں نے اس کے گلے میں اسکا ہاتھ ڈالا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا تو میں نے عرض کیا کہ میں نے اس کو سنا کہ

یقرأ علی غیرہما أقر انہما فقال لی أرسلہ ثم قال لہ أقرأ فقرأ قال ہلکذا

قرآن کو جس طرح آپ نے مجھے پڑھا یا اس کے سوا دوسری طرح پڑھتا ہے تو مجھے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو پھر اس سے فرمایا پڑھ تو اس نے

أنزلت ثم قال لی أقرأ فقرأت فقال ہلکذا أنزلت إن القرآن أنزل علی سبعۃ

پڑھا آپ نے فرمایا اسی طرح اتنی ہی پھر مجھ سے فرمایا پڑھ تو میں پڑھا فرمایا اسی طرح اتنی ہی قرآن سات طرح اترا ہے

أحرف فأقرہ ما تیسر (۵) بَابُ إِخْرَاجِ أَهْلِ الْمُعَاصِي وَأَخْصَوْمٍ مِنْ

تو اسے جس طرح تم کو آسان ہو پڑھ لو باب علم کے کہا مجرموں اور معصیوں کو کرنے والوں کو گھروں سے نکال

السیور بعد المعرفة وقد أخرج عمر أخت ابی بکر حین ناحت (۱۰۸۴)

دینا اور حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کے گھر کو جب اس نے گھر کیا نکال دیا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مكرر- ۱۷۱۹) (۶) بَابُ دَعْوَى الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ

دیکھو حدیث ۴۱۹ باب وصی کا میت کی طرف سے دعویٰ کرنا

(۱۰۸۵-۱۰۸۴) عَنْ عَائِشَةَ (مكرر- ۱۰۲۱) (۷) بَابُ التَّوَقُّعِ مِنْ مَنِّ مَعْرُوفَةٍ

دیکھو حدیث ۱۰۲۱ باب اس شخص کو بائدہا جس کی شرارت کا ٹھوس

وَقَيْدًا بِنِ عِبَّاسٍ عَلِيمَةً عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ وَالْفَرَائِضِ (۱۰۱۶)

اور ابن عباس نے حکم دیا کہ قید کر دیا اور سن اور سن اور سن کیجئے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مكرر- ۳۲۲) (۸) بَابُ الزُّبْطِ وَالْحَبْرِ وَالْحَرَمِ وَالشُّرَى

دیکھو حدیث ۳۲۲ باب حرم میں بانڈھا اور تیبہ کرنا اور

علا سنی طرف سے مقبول
کا ایک دوسرے پر
اس کا اعتراض
کن جن کو دوسرے
فرق کیا بیان کو کرنا
ہو جائے دست
علا روایت کی نہیں
اختلاف نقلی سے
دو ہوا گیا ہے۔
البتہ بیان ہے کہ
جو عقدا اشدت او
ایک یہودی کے
درمیان تھا دفع
الباری میں چکر
اشعث اور اس
کا چچا زاد بھائی
میں کے تھے او
اشعث کا بھائی
یہودی ہو گیا تھا
علا یہی حدیث
فضائل القرآن باب
انزل القرآن علی
سبعت احرف میں
پہنچتی ہے اس کے
مضمون پر کلمات
طرح کرنے سے
کیا مراد ہے میں
بگشت ہو گیا بیان
اس کو صرف اس
غرض سے لایا گیا ہے
کہ حضرت عمر اور
ہشام کے درمیان
اس کے متعلق کلام
ہوئی اور وہ گویا

دفعہ میں مقدمہ کی نسبت کہتے تھے۔ مگر یہ نکاح صرف عارضی طور پر تنبیہ کے لئے معلوم ہوتا ہے حدیث میں سے یہ استدلال کیا گیا ہے گھروں سے نکلنے کا حکم نہیں بلکہ یہ ذکر ہے کہ اپنے فریاد میں نے ماہہ کیا کہ جو لوگ ناز و محبت میں نہیں آتے ان کے گھروں کو جلا دوں یہ بھی محض تنبیہ کے طور پر تھا۔ آپ نے فی الواقع منافقوں میں سے گھروں کو نہیں جلا دیا انہیں گھروں سے باہر نکالا ہے مگر روایت اختصار کے ساتھ آئی ہے۔ ہمت ان امر بالصلوۃ منتقامہ شد اخالف اسے منافق قوم کا یہ تھا ان الصلوۃ فاحرق علیہم علا سنی کی طرف سے وصی کا دعویٰ کرنا اور اس کے حق یا استحقاق کا مطالبہ کرنا بالاجماع درست ہے۔ مگر ابتدائی حصہ فتاویٰ الی الشیخ مصلح تک یہاں نہیں اس کے بعد کہ مضمون میں اختصار اور اختلاف نقلی سے آپ نے سورت دعویٰ کے فقہ بیان میں یہ بیان رسول اللہ اوصافی اخی اذا مدت ان انظر ان امة ذمۃ فاقضہ فانما ابی ای سے عنوان ہے۔ ہمت کا یہ ابن عباس کے عزم تھے ابن عباس انہیں تعلیم دین کیلئے پوجہ کرتے تھے قید کرنا ہونے سے تھا ان کو آزادانہ باہر آنے پانچے رونے لگے تو اس استدلال کیا ہے کہ جب تک کہ مکیہ روکن دوت ہو تو شرارت سے بچنے اور خوفناک سے بچنے کے لئے تیسرا اور یہی ضروری ہے ہمت مگر روایت میں اختصار ہے شمار کے متعلق یہاں ہے سید اہل الیامہ۔ فخرج الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لافا تو فرمایا کہ میں۔ اس کے بعد

میں سے مقال ما عندک یا تمام مقال عندی یا محمد صیر ذکا الحدیث قال طلقتوا اہلکم بتمامہ کو جس کے ستون کے ساتھ بانڈھا دیا گیا تھا

ذَاهِعٌ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثٌ دَارُ التَّيْحِيِّ بِمَكَّةَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ عَلَى أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْوَضِيِّ

فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ عُمَرُ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعًا نَوَافِلًا وَسَجْنُ ابْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ
کتاب القطة میں ایک صحیح حدیث ہے کہ حضرت عمر سے مروی ہے کہ اگر حضرت عمر نے بیعت نہ کی تو بیعت لازم ہوگی اور اگر حضرت عمر نے منظور نہ کیا تو صفوان کو چار بار سودم لینگا اور ابن زبیر کے مکر سے روگوں کو قید کیا جائے

(۵-۱۰۸۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر-۳۳۲)

دیکھو حدیث ۳۳۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَابُ الْبَيْعِ وَالْمُرَافَعَةِ

(۹) بَابُ الْمُرَافَعَةِ (۵-۱۰۸۸) عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (متكرر-۳۳۰)

بَابُ قَرْضِ دَارِ كَابِجِي وَنَجْرَانَ

(۱۰) بَابُ التَّقَاضِي (۵-۱۰۸۹) عَنْ خَبَّابٍ (متكرر-۱۰۴۳)

بَابُ قَرْضِ كَابِجِي وَنَجْرَانَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَابُ الْبَيْعِ وَالْمُرَافَعَةِ

۵- کتاب فی القطة

بَابُ رَأْيِ رَجُلٍ فِي بَيْعٍ

(۱۱) بَابُ رَأْيِ رَجُلٍ فِي بَيْعٍ (۱۱-۱۰۸۹) عَنْ

سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ لَقِيتُ ابْنَ كَعْبٍ فَقَالَ أَخَذْتُ صَوْرَةَ وَاللَّهِ دِينِي

فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَمْرُؤُهَا حَوْلًا فَعَرَفْتُمَا حَوْلَهَا فَلَمْ

أَجِدْ مِنْ لَيْعُومِهَا شَيْئًا أَتَيْتُهُ فَقَالَ عَمْرُؤُهَا حَوْلًا فَعَرَفْتُمَا فَلَمْ أَجِدْ لَكُمْ

بِهَا شَيْئًا فَاسْتَمْتَعْتُ فَتَقَبَّلْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ أَدْرِي ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلًا وَاحِدًا

کتاب القطة میں ایک صحیح حدیث ہے کہ حضرت عمر نے بیعت نہ کی تو بیعت لازم ہوگی اور اگر حضرت عمر نے منظور نہ کیا تو صفوان کو چار بار سودم لینگا اور ابن زبیر کے مکر سے روگوں کو قید کیا جائے

کتاب القطة میں ایک صحیح حدیث ہے کہ حضرت عمر نے بیعت نہ کی تو بیعت لازم ہوگی اور اگر حضرت عمر نے منظور نہ کیا تو صفوان کو چار بار سودم لینگا اور ابن زبیر کے مکر سے روگوں کو قید کیا جائے

کتاب القطة میں ایک صحیح حدیث ہے کہ حضرت عمر نے بیعت نہ کی تو بیعت لازم ہوگی اور اگر حضرت عمر نے منظور نہ کیا تو صفوان کو چار بار سودم لینگا اور ابن زبیر کے مکر سے روگوں کو قید کیا جائے

۸۱ (۲) باب ضاۃ الابل (۱۰۹-۱) عن زید بن خالد الجمہنی (متکرم- ۸۱) دیکھو حدیث ۸۱

۸۱ (۳) باب ضاۃ الغنم (۱۰۹-۱) عن زید بن خالد (متکرم- ۸۱) (۳) باب اذ المویذ دیکھو حدیث ۸۱

۸۱ (۵) باب اذ اوجد خشبة فی البحر اوسطا او نحوہ (۱۰۹-۳) عن صحیح الحدیث

۸۱ (۷) باب اذ اوجد ثمرة فی الطريق (۱۰۹-۴) عن ابی ہریرہ (متکرم- ۱۱۰۹) (۷) باب اذ اوجد ثمرة فی الطريق (۱۰۹-۴) دیکھو حدیث ۱۱۰۹

۸۱ (۸) باب اذ اوجد ثمرة فی البحر اوسطا او نحوہ (۱۰۹-۵) عن ابی ہریرہ (متکرم- ۱۱۰۹) (۸) باب اذ اوجد ثمرة فی البحر اوسطا او نحوہ (۱۰۹-۵) دیکھو حدیث ۱۱۰۹

۸۱ (۹) باب اذ اوجد ثمرة فی الطريق (۱۰۹-۶) عن ابی ہریرہ (متکرم- ۱۱۰۹) (۹) باب اذ اوجد ثمرة فی الطريق (۱۰۹-۶) دیکھو حدیث ۱۱۰۹

۸۱ (۱۰) باب اذ اوجد ثمرة فی البحر اوسطا او نحوہ (۱۰۹-۷) عن ابی ہریرہ (متکرم- ۱۱۰۹) (۱۰) باب اذ اوجد ثمرة فی البحر اوسطا او نحوہ (۱۰۹-۷) دیکھو حدیث ۱۱۰۹

۸۱ (۲) باب ضاۃ الابل (۱۰۹-۱) عن زید بن خالد الجمہنی (متکرم- ۸۱)

۸۱ (۳) باب ضاۃ الغنم (۱۰۹-۱) عن زید بن خالد (متکرم- ۸۱) (۳) باب اذ المویذ

۸۱ (۵) باب اذ اوجد خشبة فی البحر اوسطا او نحوہ (۱۰۹-۳) عن صحیح الحدیث

۸۱ (۷) باب اذ اوجد ثمرة فی الطريق (۱۰۹-۴) عن ابی ہریرہ (متکرم- ۱۱۰۹) (۷) باب اذ اوجد ثمرة فی الطريق (۱۰۹-۴)

۸۱ (۸) باب اذ اوجد ثمرة فی البحر اوسطا او نحوہ (۱۰۹-۵) عن ابی ہریرہ (متکرم- ۱۱۰۹) (۸) باب اذ اوجد ثمرة فی البحر اوسطا او نحوہ (۱۰۹-۵)

۸۱ (۹) باب اذ اوجد ثمرة فی الطريق (۱۰۹-۶) عن ابی ہریرہ (متکرم- ۱۱۰۹) (۹) باب اذ اوجد ثمرة فی الطريق (۱۰۹-۶)

۸۱ (۱۰) باب اذ اوجد ثمرة فی البحر اوسطا او نحوہ (۱۰۹-۷) عن ابی ہریرہ (متکرم- ۱۱۰۹) (۱۰) باب اذ اوجد ثمرة فی البحر اوسطا او نحوہ (۱۰۹-۷)

کیف تریہ فی ضاۃ الغنم، اس کے بعد کے الفاظ ملتے ملتے ہیں۔ مگر ضاۃ الغنم کے معنی بھی بڑے بڑے تیرے ہیں وہی تعریف ایضا یعنی سنو ہی تیرے تیرے کرتا ہے۔ اور یہ بالکل درست ہے کہ شافعی نے ہرگز نہ لکھی ہے، مگر گھر گھر سے روایت قرار دیا ہے کیونکہ یہ باب آتا ہے کہ ایک سال کے بعد بھی وہ ایک سال کے بعد اور لکھی گئی ہے۔ تقریباً انہی الفاظ میں روایت کو دوہرایا ہے۔ یہ بیان روایت مختصر ہے، انہ ذکر راجحاً من بی اسوئیل وساق الحدیث فخر حج بظہر لعل مرکباً تاجاً بعالہ فاذا اھویا خشبة فاخذھا لھلھ حطاً فلما اشدھا وجد السائل والصحيفة گویا ای چیز استعمال میں لائی جاسکتی ہے جب بظہر معلوم ہوتا ہو کہ کسی خاص شخص کی ملک نہیں ہے۔ علاوہ تنظیم میں۔ مورالنبی صلعم ہنرة فی الطريق قال ولا فی اخذت ان تكون من الصدق لاکتھا وفي مدایجہ انی لا نقب الی اھلی تاجد التورۃ ساقط علی انفرادی، فانھا لا یکنھا شدہ اشدھن ان تكون صدقة قال فیھا۔ گویا کوئی اور یہ بھی لکھی کہ جو ناگیا تکتت ہوتی بات سے اور جس کو کوئی تلاش کر نیکی پر بھی نہیں کرتا اسے اگر استعمال میں فوراً آئے تو کوئی مخرج نہیں اور ایسی صورت میں کسی اعلان کی ضرورت نہیں۔ مگر مسلم میں چون رسول اللہ صلعم عن لفظۃ الحاجب بنی صلعم نے حاجبوں کی گری ہوئی چیزیں سنا لیں مگر اس باب کی دونوں حدیثوں سے ثابت ہے کہ اسے اٹھا کر شافعی لکھ کر آیا ہے کہ حدیث کا مطلب بھی ہی ایسا ہوگا۔ جھوٹا مطلب بھی ہی ہے کہ مکالمہ لفظہ اٹھ لیا جائے گا۔ گناہانہ لاسے استعمال میں نسیل سنا اس کی نشان دہی کر لے گا۔ لفظ القطنیہ الالمشند کے جو حدیث اولیٰ میں ہے اور لفظ ساقطہ الا لالمشند کے جو حدیث ثانی میں ہے۔ یہ دونوں ہیں کہ لفظ حرم کی تعریف ضرور کرنی چاہئے۔ اور ایک نئے کی صورت میں ان دونوں حدیثوں سے اٹھائیے کیلئے اس سے استعمال میں نہ لیا جائے۔ ۵۵۳ ۵۵۴ کو بلا جملہ جو کراہی ہے۔ کراہی ہونے سے۔ ولا ینقض صیدھا۔ لاکل القطنیہ الا لالمشند ولا یجسی خلتھا فقال عباس یارسول اللہ الا الاذخر فقال الا الاذخر۔ ۵۵۴ ۵۵۵ کو روایت کی ہے۔ ہوں ہے۔ نعمانیۃ اللہ علی رسولہ صلعم مکہ قادیان من محمد اللہ رافعی۔ علیہ السلام ان اللہ حصی لک بعدک مضمون کی یہی ہے۔

ان توتى مشركته فماتت تحت طاعة وانما تخزن لهم صرعة
 کہ اس کے گورام تیرا اس کا خون نہ توڑ دیا جائے اور اس کا غلہ نکال نہ جائے۔ ان کے ہاں نوروں کے

مواشيهم اصحابهم فلا يجلبن احدنا شيئا احب اليهم الا بذنهم (۹) باب
 مومن ان کے گھاؤں کے خریدنے میں پس کوئی شخص کسی کے خون کے گورے سے کسی اجازت کے بغیر دودھ نہ پئے حملہ باب

اذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردّها عليها لانها ودية عنده (۱۰) -
 جب اٹھائی ہوئی چیز کا مالک سال کے بعد آجائے تو اسے اس کو واپس دینے سے کہو اس کے پاس وادعت سے

(۱۰۹۷) عن زيد بن خاَلِدٍ (متكرر - (۸۱) (۱۰) باب هل يأخذ اللقطة ولا
 دیکھو حدیث ۸۱ حملہ باب کیا تیری ہوئی چیز کو اٹھائے اور اسے پڑھا

يدعها تضيع حتى لا يأخذها ممن استحق (۱۰۹۸) - (۹) عن سويد بن غفلة
 نہ رہنے سے کہ صاحب ہونے والا کہ اسے با شخص نہ اٹھے جو صاحب کا حق وارث میں

(متكرر - (۱۱۵۹) (۱۱) باب من عرف اللقطة وله يدُ معها إلى السلطان
 دیکھو حدیث ۱۱۵۹ حملہ باب جو اٹھائی ہوئی چیز کا اعلان کرنے اور اسے حکام کے سپرد کرے

(۱۰۹۹) - (۱۰) عن زيد بن خاَلِدٍ (متكرر - (۸۱) (۱۲) باب (۱۰) ال عن
 دیکھو حدیث ۸۱ حملہ باب

ابى بكر رضي الله عنه قال نطقت فاذانا انا ابراهيم بن تيسوق غنمة فقلت لمن انت قال ابراهيم
 حضرت ابوبکر سے روایت ہے کہ میں چلا تو اتفاق سے بکریوں کا چرواہا مجھے سوا کہی بکریوں کو با کتب رہا تھا تو میں نے کہا تو کس کا چرواہا ہے اس

من قريش فما آه تعرفته فقلت هل في غنمك من لبن فقال نعم فقلت هل انت حالب
 نے کہا قریش سے ہے ایک شخص کا اس نے کہا تم نے کہا میں نے کہا تیری بکریوں میں کھدو دودھ ہے اس نے کہا ہاں میں

لى قال نعم وامرته فاعتقل شاة من غنمك ثم امرته ان يتعوض صرعها من
 کہ تو میرے دودھے کا اس نے کہا ہاں میں نے اس سے کہا دودھ ہوتا ہے تو اس نے کہا ہاں میں بکری بکری بکری بکری بکری بکری بکری بکری بکری بکری

الغبار ثم امرته ان يتعوض لقيه فقال هل اضر ب احد لقيه يا اخري
 سے صحت کرے پھر نے اس سے کہا کہ اس نے دوزن ہا تھا تھا تو اس نے ایسا ہی کہا ایک ہا تھا دوسرے پر مارا

فحلب لكتبة من لبن وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم اداة
 اور ایک پالہ دودھ کا دوا

اور میں نے رسول اللہ صلعم کے لئے شکرہ رکھا پڑھا تھا

بقية ص ۵۳۳
 صورت الغافلة فرق
 ہے اللہ کے فضل
 شیخہا کی جا میں
 فلا متفرد صيداها
 اور ال ادائها
 ساعی هذا حرم
 میں نہیں اور آخر
 پزیرا ہے قدمت
 (ولید) للاذواجی
 ما قوله الفجر الیا
 رسول الله قال
 هذه اللقطة التي
 سمعها من رسول
 الله صلعم
 (نوٹ صفحہ ۵۳۴)
 علی ابوداؤد کا حدیث
 جس میں یہ ہے کہ تم
 ذوق آواز سے کہ
 اگر مالک نہ لے تو
 جانور کا دودھ وہ
 سکے صورت مسافر
 کیے حالت اضطرار
 پر حمل ہو سکتی ہے
 عطا رہا کہ مضمون
 صورت نقل اختلاف
 کے ساتھ دوسرا لیا
 کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ
 وتر علی الفجر ذلک رہا
 کے لفظ میں ہیں
 عثمان با یک استلال
 ان الفاطمہ نے کیا کیا
 ہے کہ ایک سال شناخت

کرنے کے بعد ہے تم استنفق بھانان جاندیھا ڈاواہا الی یعنی لمی خرچ کرو لیکن اگر اس کا لیتے تو اسے وہ چیز دیدو۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں اس کی
 قیمت ادا کرنی ہوگی۔ ممکن ہے کہ حدیث ضلالة المسلم حرق النار مسلمان کی گمشدہ چیز اگر آپ میں جلائے کا سامان ہے۔ صورت ان حالات کے لئے ہے جہاں ایک شخص
 گم شدہ چیز کو بری نیت سے اٹھا ہے تاکہ اس کا مالک بن جائے اور اس کا اعلان نہیں کرتا۔ اس کی شناخت کراتا ہے۔ ممکنہ ابتدائی ذیل کا واقعہ رہا ہے۔
 عن سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة قال كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان في غزاة فوجدت سوطا فقال لي الفقه
 قلت لا ولكن ان وجدت صاحبه والا استمعت به فدمار جعنا جعنا فمررت بالعدية فسالته ابني بن كعب فقال وجدت صرعة من
 کے بعد ۱۱۵۹ کا مضمون ہے جو ضعیف اختلاف لفظی سے دوسرا لیا گیا ہے۔ مگر میں عرض خواہاں تھا کہ اس میں حضرت ہے اور میری بارے کے آخر ہے۔
 ثم اتيته المرابعة به فحلب صرعها من لبن وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم اداة
 کے ہاں میں نے اس سے کہا دودھ ہوتا ہے تو اس نے ایسا ہی کہا ایک ہا تھا دوسرے پر مارا
 ذر نہیں۔ مگر اس کا انحصار حالات پر ہے۔ اصل عرض بہر حال اصل مالک کو چیز کا پہنچان ہونا چاہیے۔ اگر خود پہنچا سکتا ہے تو خود پہنچا دے اگر خود اس قسم
 تکلیف کرنا نہیں چاہتا تو حکم کے سپرد کرے۔ مگر یہاں حدیث لانے کی غرض اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے یعنی چر دہے کی اجازت سے جو مالک کی اجازت
 کے قائم مقدم تھی دودھ لیا گیا۔ مفصل حدیث علامات النبوة میں کے لے

عَلَىٰ خِرْقَةٍ فَصَبَّيْتُ عَلَىٰ لَدَيْنِ حَتَّىٰ بَرَدَ اسْفَلَكَ وَأَنْتَ تَبِيْتُ إِلَىٰ النَّبِيِّ صَلَّى

اس کے منہ پر لپیٹا تھا مگر اس سے دودھ بہا اور ہاتھ ڈالایاں تک کہ وہ نہ تھکے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ گھسے۔

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَتَرَبَّحْتُ حَتَّىٰ رَضِيْتُ

پاس پہنچا اور میں نے پیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضایت فرمائی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ تمہاری بات سچ ہو۔

۴۶- كِتَابُ فِي مَظَالِمِ الْغَضَبِ

کتاب الغضب اور غضب میں عتاب

وَقَوْلَ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ عَابِدًا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخَّرُهُمْ

اور اللہ تعالیٰ کا قول اور اشرکوں کو اس سے بہتر نہیں سمجھو۔ اور اللہ تعالیٰ کو اللہ کے عبادت کرنے والے نہیں سمجھو۔

لِيَوْمٍ يَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ۚ لِمَنْ رُجِيَ رُجِيَ فِي الشَّعْبِ وَالْمُتَّعِ

وہ دن ہے جس میں آنکھیں کھلیں گی اور لوگوں کو اس کا حال معلوم ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لئے عبادت کرنے والوں کو اور اللہ تعالیٰ کی عتاب کے لئے اشرکوں کو۔

وَإِذَا قَالُوا فَجَاهِدْهُمْ قُلُوبُهُمْ لَنْ تَنْظُرُوهُمْ وَلَا يَنْتَظِرُوكُمْ إِلَّا تَذَكُّرُوكُمْ

اور جب وہ کہیں گے کہ تمہیں لڑنا چاہیے تو تمہیں نظر نہیں آئے گا اور تمہیں انتظار نہیں کیا جائے گا۔

صَلُّوا لَهُمْ وَأَقْبِلْ لَهُمْ هُوَ أَقْبَلُ لَكُمْ وَأَذْرِبْ لِيَوْمٍ يَوْمَ يَأْتِيكُمُ

اللہ تعالیٰ کی اور ان کے دل غالی ہوں گے اور ان سے نفرت ہوگی اور ان سے نفرت ہوگی۔

الْعَذَابَ يُنْقَلُونَ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا آخِرُ نَارِ الْآخِرَةِ تَوَيْبَاتُ يَوْمٍ دَعَاكَ

اور عذاب سے لے گا جو ظالموں کو لیں گے۔ ہمارے رب ہمیں تو توبہ کی تہ کی تہ سے ہم تیری دعوت کو قبول کرینگے۔

وَتَشِيعُ الْإِيسُرُ ۚ لَوْ تَكُونُونَ أَقْسَمًا مِنْ قَبْلِ مَا لَكُم مِّن رُّؤُوسٍ وَسُلْطَمٌ فِي

اور رسولوں کی خبر ہو گی اور تم لوگوں کو اسی قسم کے قسم سے اور تم لوگوں کو اسی قسم کے قسم سے اور تم لوگوں کو اسی قسم کے قسم سے۔

مَسَارِكِنَ الَّذِينَ ضَمُوا الْقِسْمَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُم كَيْفَ نَعَلْنَا بِهِمْ وَحَضَرْنَا لَكُمُ

جگہوں میں آباد ہوئے جنہوں نے ان کی ہمت کو توڑ دیا اور تم لوگوں کو اسی قسم کے قسم سے اور تم لوگوں کو اسی قسم کے قسم سے۔

الْأَمْثَالَ وَقَدَّمُوا وَافْتَرَاهُمْ وَجَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَارْتَكَبُوا فِي رُؤُوسِهِمْ مِّنْهُمُ الْبِغَالُ

تھکے لئے مثالیں بیان کریں اور انہوں نے ان کی ہمت کو توڑ دیا اور تم لوگوں کو اسی قسم کے قسم سے اور تم لوگوں کو اسی قسم کے قسم سے۔

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ لِيُخَفِّفَ عَذْرَاسِي إِلَّا اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۚ وَأَنَّ ابْنَ تَصَالُحِ الظَّالِمِ

میں نہیں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے عیبداروں کو سزا سے بچا دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی عتاب سے بچا دے گا۔

(۱۶۱) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اخْتَلَفَ

ابو سعید خدری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب لوگوں میں اختلاف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جہاد کے لئے لوگوں کو بھیجے گا اور ان لوگوں کو جو ایک کے ساتھ ہیں اور ان لوگوں کو جو ایک کے ساتھ ہیں۔

عبدالغنیہ کے لئے
کریلپاٹی کو سات
رکھنے کے لئے رکھا
تھا دودھ کے لئے
میں بھی حضرت ابوبکر
نے نکالتے پستی
کا اٹھا رکھا اور من
اور باقی صفات لڑاکو
دودھ دوتے دیا
یہ رسول اللہ صلی اللہ
نکالت پستی کا
ہی تیمم تھا
کے لئے بلکہ تحقیق
لینا ہے اور غضب
زبردستی سے بلا
استحقاق لینا
عنوان باب کا
تعلق اس حصے سے
ہے اگر کسی نے
اس دنیا میں دوسرے
پر ظلم کیا ہے تو
اس کا بدلہ لیں گے
قصص اس میں
قتل ہے یہ کفار
کو قتل کیا جائے
ہر قسم کے ظلم میں
قصص ہے کہ
جو کچھ کسی کا حق
لیا ہے وہ واپس
دے دیا اور کوئی
اور اگر سے گرفتاریا
میں جس سے ملو
اعمال کا بدلہ اسی
طرح ہو سکتا ہے
جس طرح دوسرے
اعمال کا بدلہ ہوگا
یعنی ظالم کو اس
ظلم کا بدلہ ہے کہ
جو اس نے اپنے
بھائی پر کیا ہے
اور نہ کہہ کو اس
کا اجر ملے گا جو
اس نے تکلیف
اشافی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ تمہاری بات سچ ہو۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِ أَحَدِهِمْ مَسْكِنَةً فِي الْجَنَّةِ أَدْلُ مِنْزِلَةٍ كَانَ فِي الدُّنْيَا

کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سے ہر ایک ایسی جنت کی جائے سکونت کو اپنے اس منزلے کے مکان کی نسبت بھیجا گیا

(۲) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى الْاَلْعَنَةُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَنِ صَفْوَانَ بْنِ

عُجْرٍ زَالِمًا زِي قَالَ بَيْنَمَا اَنَا امْتَشِي مَعَ ابْنِ عُمَرَ بْنِ الْخُدَيْرِ اِذْ عُرِضَ جَلٌّ فَقَالَ

مُحَمَّدُ زَانِيٌ سَعَى رَايَتُ فِي كَسِيٍّ وَقَدْ مَاتَ ابْنُ عُمَرَ سَاعِدًا اِنْ كَانَ يَدْرِي كَيْفَ سَعَى جَارًا تَحَاكَرَ بِيْكَ نَحْنُ سَاعِدًا سَعَى اَيَا اَوْرَاكَمَا

لیفت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى فقال سمعت رسول الله صلى

الله عليه وسلم يقول ان الله يبدى المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول اعرف

ذنبك انما اعرف ذنبك لما اتفقوا لعم امي بحتي ذاقوا ذنوبه راى نفسه انه هلك

قال سترتها عليك في الدنيا وانا اعفوها ناك اليوم فيعطى كتاب حسنة و

اما الكافرون والمنافقون فيقول لا شهادة لهم الا

لجنة الله على الظالمين (۳) بَابُ لَا يُظَلِمُ الْمُسْلِمَ الْمُسْلِمَ وَلَا يَسْلَمُ (۱۱۶۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم اذا ظلم لا يسلمه و

من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج

الله عنه كربة من كربات يوم القيمة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيمة

(۴) بَابُ اَعْنِ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُومًا (۱۱۰۰) عَنْ اَنَسٍ زَمْتَكِر (۱۱۶۴)

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصْرَا اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ

مَظْلُومًا

اَنْسُ مِنْ رَايَتُ فِي كَسِيٍّ وَقَدْ مَاتَ ابْنُ عُمَرَ سَاعِدًا اِنْ كَانَ يَدْرِي كَيْفَ سَعَى جَارًا تَحَاكَرَ بِيْكَ نَحْنُ سَاعِدًا سَعَى اَيَا اَوْرَاكَمَا

علا کشف کے
یعنی جانب یا ناچ
رطوبت ابن ابی
مذکور میں۔ مگر
علیہ کشف کے
دیکھے۔ میں۔ یہ
دیکھ لیں جو
بلطف بینی سے
ڈھانکے گا
اور کہا گیا ہے کہ
اس پر رحم کرنے کا
اور مرنے کو
اور پھر لکھا ہے کہ
یہ مثال ہے اس
امر کے اٹھانے
لے کر قیامت کے
دن اسے اپنی جنت
کے ساتھ میں لے
لے گا۔ عثمان باب
کا تعلق آخری لفظ
سے ال لعت
اللہ علی الظالمین
عکس ان ہدایات
میں قوی قوت کا
راز ہے۔ اسلامی
اخوت کے میان
پانچ حقیقہ بتائے
ہیں۔ اول اس پر
ظلم نہ کرے یعنی
اس کا کوئی حق نہ
چھینے۔ دوم۔ اگر
کوئی دوسرا اس پر
ظلم کر رہا ہو تو اس
بابت کو ظالم کے ہاتھ
سے چھڑوانے یعنی
دوسرے کو اس پر
ظلم نہ کرنے سے
سوم۔ اس کوئی

کام ہو تو وہ کرے۔ چہاں کہ مسلمان پر مصیبت ہو تو اسے دور کر کے بیچم اپنے بھائی میں کوئی عیب یا کمزوری دیکھے تو اس کی پردہ پوشی کو اسے فوس کران میں ملاحظہ
کے اٹھ تاج ہو رہا ہے مسلمان مسلمان پر ظلم کرے تو اس کو اس کے بیچے سے چھڑوانے کی کوئی کوشش نہیں کرتا بلکہ دوسروں کے ظلم کا آل
کار رہتا ہے۔ آج اگر کسی ہندو یا عیسائی کو مسلمان پر ظلم کرنے کی ضرورت ہو تو وہ اسکے مسلمان بھائی کو ہی اس کا آلکار دینا ہے۔ اپنے بھائی کا کام کرنا یہ سب بڑی
بات تھی اور یہ جو مراسم مسلمانوں میں سے مفقود ہو جا رہا ہے۔ اپنی اغراض کے لئے ہر شخص ہر دکھ اٹھانے کو تیار ہے مگر اپنے مسلمان بھائی کیلئے لیکھ شکا
ہذا نامی ایک پہاڑ نظر آتا ہے۔ ایک بھائی پر مصیبت ہو دو دوسرا اس کے پاس اپنی عیش میں مصروف ہے اور پردہ انگ نہیں کرنا عیب پوشی کی جگہ ایک دوسرے پر ملاحظہ
دروازہ کھلا ہو اور دن رات ایک دوسرے کی بگڑی اچھلنے میں مصروف ہیں۔ مسلمانیاں صرف بہانہ فرہ و انصوا اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُومًا اسکی شرح خود پوری حدیث میں موجود ہے

ما صرف ایک حصہ
 دیا ہے امیرنا النبی
 صلعم بسید و
 ننھا ناعن سبعہ
 فذکر عمادۃ
 المریض وانما هو
 الخنا فترت شہیتہ
 العاقلین والصلاح
 وفضل المظلوم
 واجابة الدعای
 وابراہیم المقسم
 خطا خفیف اختلاف
 لغتہ سے دوہرا
 ہے
 محض صاحب قہر پاتے
 تو معاف کرتے ہی
 ہے منوں میں دشمن
 کو معاف کرنا ہو جب
 ظالم زبردست ہوا
 مظلوم غلبوت ہی
 حالت میں جو تو اس کا
 یہ کتا کہیں نے معاف
 کر دیا ہے معنی ہے
 رسول اللہ صلعم نے
 بھی دشمنوں پر غاصب
 پارا نہیں معاف کیا
 صراحتی ہی کرتے تھے
 علی اسلام میں مٹنا
 اور عقو دونوں کی
 تقدیر ہے اور ہر ایک
 موقع اور محل کے
 مناسب ایک نیک
 فعل ہے۔ یہ سچے
 باب میں مظلوم ہونے
 کی صورت میں بدلہ
 لینے کو مبین ظالم کی
 سزا کو خدا سے اجر
 اور ثواب پانے کا
 موجب قرار دیا ہے
 لیکن اگر عفو سے
 اصلاح ہو سکتی ہے

مَطْلُومًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نَصْرُكَ مَطْلُومًا وَكَيْفَ نَصْرُكَ طَائِلًا قَالَ

مَطْلُومًا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مظلوم ہونے کی حالت میں تو ہم اس کی مدد کریں گے یا نہ ہو سکتی حالت میں کس طرح مدد کریں تو فرمایا
 تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ (۵) بَابُ نَصْرِ الْمَظْلُومِ (۵-۱۱۰۱) عَنِ الْبُرَاءِ بْنِ عَارِبٍ

اس نے آگے پکڑ کر ظلم سے روک دے بَابُ نَصْرِ الْمَظْلُومِ کی مدد کرنا
 (متکرر۔ ۶۷۰) (۵-۱۱۰۲) عَنِ ابْنِ مُوسَى (متکرر۔ ۳۳۵) (۶) بَابُ نَصْرِ الْمَظْلُومِ

دیکھو حدیث ۶۷۰۷ دیکھو حدیث ۳۳۵۷ بَابُ نَصْرِ الْمَظْلُومِ
 مِنَ الظَّالِمِ لِقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ لَا يَجِبُ لِلَّهِ الْجِهْرُ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنِ الظُّلْمُ

بدل لینا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے عوام کے خلاف پھیلنے کو کسی سے نہیں مقرر کیا کہ ظلم کی بدولت

كَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ قَالَ ابْرَاهِيمَ كَانُوا

اللہ سنینے والا جس نے والا ہے (اللہ۔ ۱۱۳) اور وہ لوگ جو جب ان پر زیادتی ہو تو وہ بدلے لینے میں (النبی۔ ۲۹) انہیں کہتے

يَكْرَهُونَ أَنْ يُسْتَدْرَكَ لَهُمْ إِذَا قُدِرُوا وَعَفْوًا (۷) بَابُ عَفْوِ الْمَظْلُومِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى

میں (صاحب) اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ انہیں پس لینا اور جب اچھے رویہ دینا کہتے تھے باب مظلوم کا ظالم کو معاف کرنا علی الاعلان کرنا ہے

إِنْ تَبَدَّدْ أَحْيَرَ أَوْ تَخَفُوهُ أَوْ تَعْفُوهُ أَعْنِ سَوْءَ فَنَانَ اللَّهُ كَانَ عَفْوًا قَدِيرًا وَجَرَءًا

اگر تم نبی کی کتاب کو پھیر کر پانتے پھرتے ہو تو اسے کروا کر باغی معاف کرو تو اسے من و کرے والا قدرت والا ہے (الف۔ ۲۹)

سِيئَةً سَيئَةً مِثْلَهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَّا نَصَرَ

اور برائی کا بدلہ اس کی مثل برابر سے پس جو معاف کرے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ پر ہے وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا اور جو اپنے

بَعْدَ ظُلْمِهِمْ وَأُولَئِكَ أَعْلَمُهُمْ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ

مظلوم ہونے کے بعد بدلے تو ان پر کوئی گناہ نہیں گناہ ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں

فِي الْأَرْضِ بَغْيًا فَحَنَّا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَمَّا صَبَرَ وَعَفْرًا إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَجْمٍ

ناحق زیادتی کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہوگا اور جو صبر کرے اور معاف کرے تو یہ بن بخت کاموں میں

الْأُمُورِ دَرْتَرَى الظَّالِمِينَ بئَا آوَالِ الْعَذَابِ يَقُولُونَ هَلْ لِي مِنَ اللَّهِ مِنْ سَبِيلٍ (۸) بَابُ

سے ہے اور تو ظالموں کو پھیرنے کا جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا وہاں جانے کی کوئی سزا ہے (الشورہ۔ ۲۲) ۲۹ باب

الظُّلْمِ ظَلَمَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (۹) عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

ظلم قیامت کے دن انہر سے ہوں گے عبد اللہ بن عمر نبی صلعم سے روایت کرتے ہیں

عَلَيْهِمْ سَائِرٌ قَالَ نَظَّهُ ظَلَمَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (۹) بَابُ لَاتِقَاؤِ وَاحِدٍ مِنْ عَفْوِ الْمَظْلُومِ

کہ فرمایا ظلم قیامت کے دن انہر سے ہوں گے باب مظلوم کی بدوعا سے بچنا ذکرنا اور ڈرنا

(۵-۱۱۰۳) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکرر۔ ۷۴۳) (۱۰) بَابُ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ

دیکھو حدیث ۷۴۳۷ باب جس نے کسی شخص پر ظلم کیا ہو

عِنْدَ الرَّجُلِ لِجَلِيهَا إِلَى هَلْ يَمِينُ مَظْلَمَتُهُ (۱۱) عَنِ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ

اور اس سے معاف کرا تا چاہے تو کیا اس ظلم کو مٹو۔ بیان کرے ابو ہریرہ سے روایت ہے کہا

تو اس کی سفارش کی ہے ۷۔ یہ بیان ظلم کا لفظ وسیع معنی میں استعمال ہوا معلوم ہوتا ہے ہر ایک پر کا ظلم ہے کیونکہ لغت میں ظلم کے معنی وضعہ الیٰ فی غلبہ علیٰ ہی
 گو یا ہر قوت کا غلط استعمال ظلم سے ہی قیامت کے دن غلٹ لیا نہ میرا میں جائیگا۔ اور قوت کا صحیح استعمال ایک نورین جائیگا تو ہی المؤمنین و المؤمنات یعنی نور ہمیں لائیگا
 علیہ تکلمہ ۷۰ کا آخری مجرہ ہے ان اللہ صلعم ہمش عاذا لئالیٰ لئالیٰ تعالٰ اتق دعوة المظلوم فانه لیس یسئنا وین اللہ عجاب ہ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَحَدٍ مِنْ عَرَضَةِ أَوْشَى
كِرْسُولِ ابْنِ صُلَيْمٍ نَزَلِيَا
جس نے کسی پر ظلم کیا ہو اس کی عورت کی ہونے کو اور ظلم ہو

فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ
تو اس سے آج ہی معاف کر لے اس سے بچ کر اس کے پاس اور ناری ہوگا اور نہ دھرم
اگر اس کو کوئی نیک عمل ہوگا

أَخَذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخَذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ
اس سے اس کے ظلم کے برابر لیا جائے گا اور اگر اس کی نیکیاں نہ ہوں تو ظلم کی برائیوں سے اس پر ڈالی جائیں گی

فَحَمِلَ عَلَيْهِ (۱۱) بَابُ إِذَا حَلَلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ فَلَا رَجوعَ فِيهِ (۱۱۶) عَنْ عَائِشَةَ
باب جب کسی کا ظلم معاف کرے تو پھر اس میں برتراء نہیں ہے
حضرت عائشہ سے

وَأَنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْضِهَا شَوْزًا أَوْ أَعْرًا أَضًا قَالَتْ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَكَ
روایت ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی بدسلوکی یا بے رغبتی سے ڈرتی ہو اور التماس (۱۱۸) کہ کسی مرد کے پاس

الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِمَسْتَلْتِرٍ مِنْهَا يَرِيدُ أَنْ يَفَارِقَهَا تَقُولُ اجْعَلْكَ مِنْ شَأْنِي فِي جِلِّ نَزَلَتْ
ایک عورت ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ میل جلی میں گھنا چاہتا اور چاہتا ہے کہ اس آگ بھٹکے تو وہ عورت کہہ کر کہہ لے جس سے آزاد

هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ (۱۲) بَابُ إِذَا دَانَ لَهُ وَأَحَلَّهُ وَلَمْ يَمْلِكْ كَهَرَمٍ (۱۱۰) عَنْ
کرتی ہوں یہ آیت اس میں ازلی ہوگی باب جب کسی کو اجابت دیا یا معاف کرے اور یہ بیان کرے کہ جس حد تک اجازت یا معافی دے گی ہے

سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (مَتَكْرَرٌ) (۱۱۳) بَابُ إِذَا مَنَ ظَلَمَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ (۱۰۵)
دیکھو حدیث ۱۱۳۱ باب اس شخص کا گناہ جو کسی کی اپنی زمین سے لے لے

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ (مَتَكْرَرٌ) (۱۱۶۸) (۱۱۶۸) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنَا مِ
دیکھو حدیث ۱۱۶۸ باب اس سے روایت ہے کہ میں اور چند لوگوں میں جھگڑا تھا

خَصُومَةٌ فَذَكَرْتُ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الْأَرْضَ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
تو حضرت عائشہ سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا اے ابوسلمہ زمین سے دور رہی رہو کیونکہ نبی صلعم نے فرمایا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ظَلَمَ قِبَدًا مِنْ الْأَرْضِ طَوَّعَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ (۱۱۶۹) عَنْ
جو باشت برابر زمین ظلم سے بیگا تو اسے سات زمینوں کا طوق بنایا جائے گا

ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بَغَيْرِ حَقِّهِ خَسَفَ
ابن عمرو سے روایت ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا جو کوئی کسی کی کچھ زمین ناحق لے گا تو وہ اس کے عوض تباہی کے دن

حدیث صحیحہ
بائے متعلق کوئی
تصریح نہیں ہے
اس کے الفاظ کا
فلیتحللہ عندہ
یہ استدلال کیا جا
کہ اس کو بیان کرنے
کے بغیر معافی نہیں
ہو سکتی۔ لیکن جب
ظلم دونوں کے ظلم
میں ہو تو ظلم کا
اعزازت نہ دیا جی
معافی میں ہی صل ہے
ظالم کی جتنی ظلم کے
برابر لے لیا جائیگی
کیونکہ ہر برائی بیک
کے لئے کو بھلا کار
دیجاتے تو نہیں
کا بلکہ خود ظلم ہو گیا
اور ظلموں کی سببی
سے لیا جاتی ہے۔
کیونکہ ظلم پھیل کر
میں ہو سکتا ہے
ظلم کا حق
ظلم پر صبر سہل
کے لئے اس سے
بتصریح نہیں ہو سکتی
معاذ اللہ یعنی جب کسی
کا تصور معاف
کر دے تو بوجہ روایات

یہ حق اسے نہیں کہ اس ظلم کو بیان کرنا پھرے یا ظلم کا تعلق مال سے تھا اور معاف کر دیا تو پھر اس کے بعد اسے کوئی حق نہیں رہتا کہ رجوع کرے جسے میں معاف نہیں کرتا ہرگز
میں یہ ذکر ہے کہ ایسی صورت میں صلح کر لینے میں کوئی ہرج نہیں یا صلح کی رغبت دلائی ہے حضرت عائشہ نے اس کا یہ مطلب لیا ہے کہ عورت خداوند کو کہدے کہ وہ اسے حقوق
زوجیت معاف کرتی ہے تو یہ درست ہے حدیث میں معافی کے بعد رجوع کا ذکر نہیں مگر ظاہر ہے کہ معافی بھی ایک عہد ہے جس کی پابندی ضروری ہے وہ ملک خلیفہ نقلی اختیار
ہے۔ حدیث میں ذکر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے راکے سے پوچھا کیا وہ اجازت دیتا ہے کہ آپ پیالہ بائیں طرف دالے بوڑھوں کو دے دیں تو اس نے
اجازت نہ دی۔ بنظاہر عثمان باب سے اس کا کچھ تعلق نہیں۔ سوائے اس کے کہ اگر وہ اجازت دے دیتا تو ایسی صورت پیدا ہو جاتی جس کا ذکر عثمان باب
میں ہے شاید اپنے زمانہ کی ضرورت کے مطابق امام بخاری نے بعض ایسے باب باندھے ہیں جن کی آج جہاں عزت و نظر نہیں آتی وہ لفظ میں ظلم
من الارض شیئا طوعہ من سبع ارضین ہر گز نہیں لے لیا جائے کہ ذکر ہے۔ اگلے حدیث میں ہے کہ وہ سات زمینوں تک لے چکے
جائے گا۔ یہ سب مثال کے رنگ میں ذکر ہے اور زمین کے جھگڑوں سے بچانا اصل غرض ہے۔ جو لوگ زمین کے جھگڑوں میں پڑتے ہیں وہ بسا اوقات زمین کی
قیمت سے سات گنا خرچ کر کے بھی آخوذیل ہوتے ہیں۔

<p>بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ (۱۴) بَابٌ إِذَا أَدَانَ إِنْشَانٌ لِأَخْرَاشِيًّا جَارِدًا (۱۱)</p>	<p>سات زمینوں تک دھنسا دیا جائے گا</p>
<p>عَنْ جَبَلَةَ لَنَا بِأَلْمَدِينَةِ فِي بَعْضِ هِلِ الْعِرَاقِ نَاصِبًا سَنَةً فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا</p>	<p>جبلہ سے روایت ہے کہ ہم عراق کے کچھ لوگوں کے ذریعے سے اس کے ہر ہفتہ بڑا تو این الزبیر ہمیں کچھ کھلا کر لے لیتے تھے</p>
<p>الْمَرْفُوكَانَ ابْنُ عَمْرٍو يَمُرُّ بِمَا فَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ</p>	<p>تو ابن عمر ہم پرست لگتے اور کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے</p>
<p>الْأُقْرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكَ أَخَاهُ (۵- ۱۱۰۶) عَنْ أَبِي مُسْعُودٍ وَمَتَّكَ</p>	<p>سولے اس کے کہ ایک شخص اپنے بھائی سے اجازت لے لے گا</p>
<p>(۱۰۳۸) (۱۵) بَابٌ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ الَّذِي أَخْصَمَ رَأْيَ عَائِشَةَ رَضِيَ</p>	<p>باب اللہ تعالیٰ کا قول اور وہ گفت جھکا کر اسے راہ بقوم (۲۰۲۰) حضرت عائشہ رضی</p>
<p>عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ أَبْغَضُ رِجَالٍ لِي اللَّهُ الْإِلْدَادُ الْخَصِمُ (۱۶)</p>	<p>نبی صلعم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا زیادہ ناپسند شخص اللہ کے نزدیک وہ جو سخت جھگڑا لوگوں سے ہے</p>
<p>بَابٌ إِتْمَنُ مَنْ خَاصَمَهُ فِي بَاطِلٍ هُوَ يُعْلِمُهُ (۱۷) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى</p>	<p>باب اس شخص کا کہ جو ناحق جان کر جھگڑائے نبی صلعم کی بیوی ام سلمہ</p>
<p>اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَخْتَبِئُونَ</p>	<p>نبی صلعم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے اپنے حشر سے کہ وہ لوگ اپنے بھائیوں سے</p>
<p>فَخَرَجَ رَأْيُهُمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِيَنِي الْخَصِمُ فَعَلَّ بَعْضُهُمْ أَنْ يَكُونُوا</p>	<p>تو آپ نے اپنے بائیں ہاتھ سے ان سے کہا اور فرمایا میں انسان ہوں اور میرے پاس ہمدردی آتی ہے میں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ سے ایک دوسرے</p>
<p>أَبْلَغُ مِنْ بَعْضٍ فَاحْسِبْ أَنَّهُ صَدَقَ وَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ مِنْ</p>	<p>سے زیادہ نصیب و مبلغ ہو اور میں سمجھ لوں کہ وہ سچا ہے اس نے فیصلہ اس کے حق میں دیا ہے جس شخص کیلئے میں کسی مسلمان کا حق</p>
<p>مَسْئَلٍ فَلِنَاهِي قَطْعُهُمْ نَازِلًا فَنَالُوا خُدَّهَا أَوْ فُلَيْتُ كَهَارًا (۱۸) بَابٌ إِذَا خَاصَمَ</p>	<p>دو آدمی تو وہ آگ کا ایک گڑھ ہے چاہے تو لگے لیے اور چاہے اسے چھوڑے</p>
<p>فَخَرَجَ رَأْيُهُمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِيَنِي الْخَصِمُ فَعَلَّ بَعْضُهُمْ أَنْ يَكُونُوا</p>	<p>تو آپ نے اپنے بائیں ہاتھ سے ان سے کہا اور فرمایا میں انسان ہوں اور میرے پاس ہمدردی آتی ہے میں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ سے ایک دوسرے</p>
<p>أَبْلَغُ مِنْ بَعْضٍ فَاحْسِبْ أَنَّهُ صَدَقَ وَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ مِنْ</p>	<p>سے زیادہ نصیب و مبلغ ہو اور میں سمجھ لوں کہ وہ سچا ہے اس نے فیصلہ اس کے حق میں دیا ہے جس شخص کیلئے میں کسی مسلمان کا حق</p>
<p>مَسْئَلٍ فَلِنَاهِي قَطْعُهُمْ نَازِلًا فَنَالُوا خُدَّهَا أَوْ فُلَيْتُ كَهَارًا (۱۸) بَابٌ إِذَا خَاصَمَ</p>	<p>دو آدمی تو وہ آگ کا ایک گڑھ ہے چاہے تو لگے لیے اور چاہے اسے چھوڑے</p>
<p>فَخَرَجَ رَأْيُهُمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِيَنِي الْخَصِمُ فَعَلَّ بَعْضُهُمْ أَنْ يَكُونُوا</p>	<p>تو آپ نے اپنے بائیں ہاتھ سے ان سے کہا اور فرمایا میں انسان ہوں اور میرے پاس ہمدردی آتی ہے میں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ سے ایک دوسرے</p>
<p>أَبْلَغُ مِنْ بَعْضٍ فَاحْسِبْ أَنَّهُ صَدَقَ وَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ مِنْ</p>	<p>سے زیادہ نصیب و مبلغ ہو اور میں سمجھ لوں کہ وہ سچا ہے اس نے فیصلہ اس کے حق میں دیا ہے جس شخص کیلئے میں کسی مسلمان کا حق</p>
<p>مَسْئَلٍ فَلِنَاهِي قَطْعُهُمْ نَازِلًا فَنَالُوا خُدَّهَا أَوْ فُلَيْتُ كَهَارًا (۱۸) بَابٌ إِذَا خَاصَمَ</p>	<p>دو آدمی تو وہ آگ کا ایک گڑھ ہے چاہے تو لگے لیے اور چاہے اسے چھوڑے</p>
<p>فَخَرَجَ رَأْيُهُمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِيَنِي الْخَصِمُ فَعَلَّ بَعْضُهُمْ أَنْ يَكُونُوا</p>	<p>تو آپ نے اپنے بائیں ہاتھ سے ان سے کہا اور فرمایا میں انسان ہوں اور میرے پاس ہمدردی آتی ہے میں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ سے ایک دوسرے</p>
<p>أَبْلَغُ مِنْ بَعْضٍ فَاحْسِبْ أَنَّهُ صَدَقَ وَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ مِنْ</p>	<p>سے زیادہ نصیب و مبلغ ہو اور میں سمجھ لوں کہ وہ سچا ہے اس نے فیصلہ اس کے حق میں دیا ہے جس شخص کیلئے میں کسی مسلمان کا حق</p>

علاوہ آداب طحا
میں سے ہر دو کھٹے
کھا ہے ہوں تو یہ
ہست برامحرم ہوتا
ہے کہ ایک شخص بناؤ
حرم دکھائے
علاوہ عملی اخلاقیات
لفظی سے حدیث
تو دوسرے یہ ایک
دعوت پر بنی صلعم
کے ساتھ ایک شخص
زاہد آیا تھا تو آپ
نے میزبان سے
فرمایا کہ اگر چاہو تو
اس کو اجازت دو
چاہو نہ دو تو اس
نے اجازت دی۔
یہ بی بی کسی کا حق
کسی طرح تسلیم نہیں
کرتا اور بی بی بات
پر اٹھا چلا جاتا ہے
تو وہ وہ خلاف
واجبات ہو
جائے۔ اللہ وہ ہے
جس کی گردن کی
و دنیا میں کسی
ہوئی میں زمین وہ
جس کا جانا نہیں
اور جس چیز کو وہ
کریں گے اس سے
بھرتا نہیں۔
ہم نے کتنا ہی عجیب
ہستی سے فیصلہ کرنے
والا ہوا اس کا فیصلہ
خلاف ہو سکتا ہے۔
ظہیرین مقدمہ کو
سمجھا جائے کہ اگر
وہ دوسرے کا
حق کھائے تو
محض حاکم کے فیصلہ

سے آخر تک مقبول سے نہیں سچ سکتا ہے کہ روایت میں واذا وعد اختلف زیادہ ہے۔ عنوان باب حدیث کا ایک ٹکڑا ہے اسے بھی مثنوی کن نشانی قرار دیا ہے۔
علاوہ اس کے اخلاقیات لفظی سے دوسرا یہ ہے۔ بی بی ازین پر شہیدہ طور پر لے لینے کا نفل اس میں نہیں۔ ہندو یوسفیان کی بیوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اجازت دی کہ اپنے غاوند کے مال سے اپنی رعایا کو کھلانے کے لئے دستور کے مطابق لے لے اس سے استدلال کیا ہے کہ اگر ظالم کا مال مظلوم کے ہاتھ میں
آ گیا ہو تو وہ اپنے حق کے برابر اس میں سے لے لے گا۔ اور اگر مقدم عدالت میں جائے تو اسے حق بجانب قرار دیا جائے گا۔

فَقَالَ لَنَأَنَّ تَزَلَّتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمْرُكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا إِنْ لَدَيْكُمْ فَعَلُوا الْخَيْرَ

اب نے فرمایا اگر تم کسی قوم کے پاس آؤ اور تمہارے لئے اس قدر کام ہو کہ وہ تمہارے لئے کچھ کرے تو قبول کرو
مِنْهُمْ حَقُّ الضَّيْفِ (۱۹) بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّقَايَةِ وَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اور اگر انہوں نے نہیں کیا تو ان سے تمہارا حق قبول کرنا باب جو عورتوں کے بارہ میں آیا ہے اور نبی صلعم

وَأَصْحَابُهُ فِي سُقَيْفَةَ بِنِي سَاعِدَةَ (۳) الْوَعْنُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ حِينَ تَوَلَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ

اور آپ صحابہ بئی ساعدہ کے مندر سے میں بیٹھے گا حضرت عمر سے روایت ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْأَنْصَارَ اجْتَمَعُوا فِي سُقَيْفَةَ بِنِي سَاعِدَةَ فَقُلْتُ لَا بِي بَكَرٍ

صلعم کو وفات دی تو انصاری ساعدہ کے مندر سے میں جمع ہوئے تو میں نے ابوبکر سے کہا ہمارا
انطبق بناجئناهم في سقيفة بني ساعدة (۲) بَابُ لَا يَمْنَعُ جَارُ جَارِكَ أَنْ

ساقہ چلے تو ہم ان کے پاس بنی ساعدہ کے مندر سے میں آئے باب پر اسی آیت پر اسی کو نہ رکھے کہ
يَعْرِزُ خَشْيَةً فِي جِدَارِهَا (۴) الْحَنْ إِي هَرِيرَةَ رَأَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْنَعُ جَارُ جَارِكَ أَنْ يَعْرِزَ خَشْيَةً فِي جِدَارِهَا ثُمَّ يَقُولُ يُوْهَرِيْرَةَ مَالِي

وہ اپنی کڑھیاں اسی دیوار میں لگائے ابوسہیرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا
وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْنَعُ جَارُ جَارِكَ أَنْ يَعْرِزَ خَشْيَةً فِي جِدَارِهَا ثُمَّ يَقُولُ يُوْهَرِيْرَةَ مَالِي

كُونِي بِرُؤْيَى ابْنَةِ بَرْدِ بْنِ كَثْرَةَ كَرِهَتْ أَنْ يَأْتِيَ بِرُؤْيَى ابْنَةَ بَرْدِ بْنِ كَثْرَةَ كَرِهَتْ أَنْ يَأْتِيَ بِرُؤْيَى ابْنَةَ بَرْدِ بْنِ كَثْرَةَ

أَرَأَيْتُمْ كَرِهَتْ أَنْ يَأْتِيَ بِرُؤْيَى ابْنَةَ بَرْدِ بْنِ كَثْرَةَ كَرِهَتْ أَنْ يَأْتِيَ بِرُؤْيَى ابْنَةَ بَرْدِ بْنِ كَثْرَةَ

كَرِهَتْ أَنْ يَأْتِيَ بِرُؤْيَى ابْنَةَ بَرْدِ بْنِ كَثْرَةَ كَرِهَتْ أَنْ يَأْتِيَ بِرُؤْيَى ابْنَةَ بَرْدِ بْنِ كَثْرَةَ

كَرِهَتْ أَنْ يَأْتِيَ بِرُؤْيَى ابْنَةَ بَرْدِ بْنِ كَثْرَةَ كَرِهَتْ أَنْ يَأْتِيَ بِرُؤْيَى ابْنَةَ بَرْدِ بْنِ كَثْرَةَ

كَرِهَتْ أَنْ يَأْتِيَ بِرُؤْيَى ابْنَةَ بَرْدِ بْنِ كَثْرَةَ كَرِهَتْ أَنْ يَأْتِيَ بِرُؤْيَى ابْنَةَ بَرْدِ بْنِ كَثْرَةَ

كَرِهَتْ أَنْ يَأْتِيَ بِرُؤْيَى ابْنَةَ بَرْدِ بْنِ كَثْرَةَ كَرِهَتْ أَنْ يَأْتِيَ بِرُؤْيَى ابْنَةَ بَرْدِ بْنِ كَثْرَةَ

كَرِهَتْ أَنْ يَأْتِيَ بِرُؤْيَى ابْنَةَ بَرْدِ بْنِ كَثْرَةَ كَرِهَتْ أَنْ يَأْتِيَ بِرُؤْيَى ابْنَةَ بَرْدِ بْنِ كَثْرَةَ

كَرِهَتْ أَنْ يَأْتِيَ بِرُؤْيَى ابْنَةَ بَرْدِ بْنِ كَثْرَةَ كَرِهَتْ أَنْ يَأْتِيَ بِرُؤْيَى ابْنَةَ بَرْدِ بْنِ كَثْرَةَ

كَرِهَتْ أَنْ يَأْتِيَ بِرُؤْيَى ابْنَةَ بَرْدِ بْنِ كَثْرَةَ كَرِهَتْ أَنْ يَأْتِيَ بِرُؤْيَى ابْنَةَ بَرْدِ بْنِ كَثْرَةَ

كَرِهَتْ أَنْ يَأْتِيَ بِرُؤْيَى ابْنَةَ بَرْدِ بْنِ كَثْرَةَ كَرِهَتْ أَنْ يَأْتِيَ بِرُؤْيَى ابْنَةَ بَرْدِ بْنِ كَثْرَةَ

علاء امام ابو صفیہ
شافعی مالک ابو حنیفہ
کے نزدیک اس
حدیث کا معنی
اس صورت سے
خاص ہے۔ جب
مہمانوں کے پاس
زاورہ نہ ہو۔ اور
کھانے کے بظرف
اور مجبور ہوں۔
مجلس سقیفہ میں
کی طرح چھٹی ہوئی تھی
کو کہتے ہیں۔ وہ
بلک کے بل کر بیٹھے
کی مجلس ہوتی تھی۔
مجلس میں یہ بات ترک
بامبارستہ نہ ہوگی
جہاں نہیں فرمایا
کہ ساقہ کو یہ حق مال
ہے کہ وہ حملے
کی دیوار میں اپنی
لڑائی لگائے یعنی
اس کو استعمال کرے
بلکہ یہ فرمایا کہ اگر وہ
لگایا جائے ہے لگائے
کی اجازت مانگے
تو اسے دوسرے
نہیں بھی صرف
عام محدودی کے
رنگ کی نصیحت
ہے بہر حال بغیر
اجازت دوسرے
کی چیز کو لے کر استعمال
نہیں کر سکتے۔ اور
ہمدردی کا تقاضا
یہ ہے کہ اگر ایسے
حالات میں کوئی
اجازت طلب کرے
تو اسے دینی جائے
مگر یہ ایک صحابی

کا ایک دفعی فعل تھا اس سے عام طور پر کوئی مسئلہ نہیں لیا جاسکتا اور نہ کوئی ایسی ضرورت معلوم ہوتی ہے۔ رہتے ہیں اگر کسی چیز کے پھینکنے سے چلنے والوں کو تکلیف پہنچتی
ہو تو اس کا دور کرنا یا ماطنہ لادنی عن الضریق، بیان شرف میں سے ایک شاعر نے یہ واقعہ رسول اللہ صلعم کی قوت قدسی کی زبردست دلیل ہے کہ جب آپ
نے شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا تو لوگوں نے شراب کو دہشت کی گھنٹیوں میں بھادیا اور کسی گھر میں شراب چھوڑ دیا۔ برتن بھی باقی نہ رہے جن میں شراب پی یا پانی باقی تھی
آج شراب سے روکنے کے لئے کسی حکومت کی تفریق عاقبت بھی کامیاب نہیں ہوتی۔

فَيَقْصِفُ عَلَيْهِ نِسَاءَ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤَهُمْ لِيَجْبُونَ مِنْهُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

توان کے پاس مشرکوں کی عورتیں اور بچے اکٹھے ہو جاتے اور عجب سے سنتے اور نبی صلعم

وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ مَلَكَ ۱۱۷۶ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

اس وقت کہ مشرفین میں سے ملا اور سعید خدری اور نبی صلعم سے روایت کرتے ہیں

وَالْمَجْلُوسُ عَلَى الطَّرِيقِ فَقَالُوا مَا لَنَا بِدِينِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ لَسْنَا نَعُدُّهُ فِيهَا وَقَالَ

کہ اپنے فرمایا راستوں پر بیٹھنے سے بچتے رہو انہوں نے عرض کیا اس سے ہمیں ہمارے بیٹے کی جگہیں ہیں

إِذَا ذُكِرَ الْأَيْتُمُ إِلَّا الْمَحَالِسُ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ قَالَ غَضُّ الْبَصْرِ وَكَفُّ الْأَذَى رَدُّ السَّلَامِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ

رستے کا حق کیلئے فرمایا نگاہ مچھو رکھنا اور تکلیف کی چیز کو دور کرنا اور سلام کا جواب دینا اور نیکی کا امر اور بدیہت کو

وَالنَّبِيُّ مُحَمَّدٌ ۱۱۷۷ بَابُ الْأَبْرِ عَلَى الطَّرِيقِ إِذَا لَمْ يَتَأَذَّرْ بِهَا ۱۱۰۹

اور نبی محمد سے روکنے کا باب رسول پر رندوں کا ہونا جسٹان سے تکلیف نہ پہنچتی ہو

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَمَتْكَ رَمِيًّا ۱۱۷۸ بَابُ إِمَاطَةِ الْأَذَى وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ تکلیف وہ چیز کو رستے سے ہٹا دے یہ (جی) صدقہ ہے

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ ۱۱۷۹ بَابُ

نبی صلعم سے روایت کرتے ہیں کہ تکلیف وہ چیز کو رستے سے ہٹا دے یہ (جی) صدقہ ہے

الْعَزْفَةِ وَالْعَلِيَّةِ الْمَشْرِفَةِ وَغَيْرِ الْمَشْرِفَةِ فِي السُّطُوحِ وَغَيْرِهَا رَمَى ۱۱۸۰

بلند اور نیچا بالافانہ چھوڑ دینا وغیرہ پر

أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَمَتْكَ رَمِيًّا ۱۱۸۱ ۱۱۷۵ ۱۱۷۶ ۱۱۷۷ ۱۱۷۸ ۱۱۷۹ ۱۱۸۰

اسامہ بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ رستے سے ہٹا دے یہ (جی) صدقہ ہے

حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عَمْرُؤَهُ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ مِنَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

میری کہ حضرت عمر سے نبی صلعم کی بیویوں میں سے ان دو عورتوں کے متعلق یہ پوچھوں

وَسَلَّمَ التَّيْبَانِ قَالَ اللَّهُ لَهَا إِنَّ تَوَّابًا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَنَعْتَ لَوْ بَدَلْتَهُمَا بِمِثْلِ مَا جَعَلْتَهُمَا

کہ اللہ نے ان کو فرمایا کہ اگر تم دونوں اللہ کی طرف رجوع کرو تو تمہارے دل میں ہر ایک میں ایک عورت ہے

فَعَدَلٌ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالْأَدَاةِ فَتَبَرَّزْتُ حَتَّى جَاءَتْ فَسَلَّمْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْأَدَاةِ

پہلی میں نے حضرت عمر کے ساتھ حج کیا وہ ایک جگہ سے سے ملا میں لگے ساتھ کھینچ کر لیا انہوں نے حاجت پوری کی جب میں نے توہین لگے دونوں ہاتھوں

فَتَوَضَّأْتُ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْمَرْأَتَيْنِ مِنَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

پر رکھ کر وہ سے پانی دلا اور انہوں نے وضو کیا میں نے عرض کیا اسے امیر المؤمنین نبی صلعم کی بیویوں میں سے وہ کون سی دو عورتیں ہیں

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَانِ قَالَ لَهَا إِنَّ تَوَّابًا إِلَى اللَّهِ فَقَالَ دَا عَجَبِي لَكَ يَا ابْنَ

جس کو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم دونوں اللہ کی طرف رجوع کرو انہوں نے فرمایا ابن عباس سے تم مجھ سے

عَبَّاسٍ عَائِشَةَ وَحَقِصَةَ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عَمْرُؤَ الْحَدِيثِ يَسُوقُهُ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ

عائشہ اور حقصہ میں اور حضرت عمر کے احادیث سے بیان کرنے کے فرمایا میں اور

رستے کے اندر ہو جگہ جہاں چلنے والے اس سے قائلہ اٹھا سکیں اور پھر اس کی ستر پر بیٹھتا ہوا بھی ضروری ہے تاکہ راہ گزروں کو خطرہ نہ ہو یہ علم علیہ وسلم نے انبیاء کے

میری لفظ ہیں اس میں تو کہے کہ حضرت صلعم مرتبہ کے ایک جگہ مکان پر بیٹھے گا اور سفر کے مکان اس وقت بھی ہوتے تھے اور ان سے دوکانیں

۱۱۱۳

۱۱۱۴

۱۱۱۵

۱۱۱۶

۱۱۱۷

۱۱۱۸

۱۱۱۹

۱۱۲۰

۱۱۲۱

۱۱۲۲

۱۱۲۳

۱۱۲۴

۱۱۲۵

۱۱۲۶

۱۱۲۷

۱۱۲۸

۱۱۲۹

۱۱۳۰

۱۱۳۱

۱۱۳۲

۱۱۳۳

۱۱۳۴

۱۱۳۵

وَجَارَتِي مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَيْتِي أُمِّيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ وَكُنَّا

انصار سے میرا ایک ہمسایہ بنی اس میں زید کے گاؤں میں جو عوالی مدینہ میں سے تھا رہتے تھے اور ہم

تَتَنَابَوُا النَّزُولَ عَلَيَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا فَإِذَا

باری باری مجی صلعم کے پاس آتا کرتے تھے ایک دن وہ آتا تھا اور ایک دن میں جب میں

أَنْزَلْتُ جِئْتُهُ مِنْ خَيْرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْأَمْرِ وَعُغَيْرِهِ وَإِذَا أَنْزَلَ فَعَلْ

آتا تو اس کو اس دن کی خبر پہنچا دیتا وہی ہوا یا غیر وہی اور جب وہ آتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتا

مِثْلَهُ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ تَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الْأَنْصَارِ إِذَا هُمْ قَوْمٌ

میں اور ہم قریش لوگ غورنوں پر غالب ہوتے تھے جب ہم انصار کے پاس آئے تو وہ ایک ایسی قوم تھی

تُعَلِّمُهُمْ نِسَاءٌ وَهُمْ فَطَفِقَ نِسَاءُ نَايَأْخِذُنَ مِنْ أَوْدِ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ فَصَحَّتْ

جن پر ان کی عورتیں غالب نہیں تو ہماری عورتوں کا طریقہ اختیار کرنے لگیں مثلا میں نے اپنی بیوی

عَلَى مَرَاتِي فَرَأَيْتِي فَأَنْكَرْتُ أَنْ تَرَأِجِعَنِي فَقَالَتْ وَلِمَ تَنْكُرِينَ أَرَأَيْتِكِ

پر آواز کیا تو اس نے مجھے جواب دیا میں نے برا بھلا کہا وہ مجھے جواب دے اس نے کہا تم کیوں برا بھلا کہتی ہو کہ میں نہیں جواب

قَوْلَهُ إِنَّ أَرْوَاحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيرَاجِعُنَّهُ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنْهُمْ لَيَهْجُرُكَ الْيَوْمَ

دوں انہر کی قسم نبی صلعم کی ہر مویں بھی آپ کو جواب دیتی ہیں اور ان میں سے کوئی تو سارا سارا دن رات تک آئے

حَتَّى لَلَّيْلِ فَأَنْزَعَنِي فَقُلْتُ خَابَتْ مِنْ فِعْلٍ مِّنْهُمْ بِعَظِيمٍ ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَى نِيَابِي

خفا ہوئی ہر مجھ سے بہت سوچ بچا اور میرے کہا ان میں سے جس نے یہ کہا کہ وہ تو ایک بڑی بات کی وجہ سے بلا کہ ہوئی ہو چکی ہے

فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ أَيْ حَفْصَةُ أَنْفَاضِ أَحَدِ الْكُرْسِيِّ رَسُولَ اللَّهِ

اپنے کورسے پہنچے اور حفصہ کے پاس گیا میں نے کہا حفصہ میں سے کوئی رسول اللہ صلعم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ فَقَالَتْ نَعَمْ فَقُلْتُ خَابَتْ وَخَيْرٌ

سے سارا سارا دن رات تک خفا رہتی ہے اس نے کہا میں نے کہا وہ تو توتھا ہوئی اور گھٹنے میں پڑ گئی

أَفْتَأَمْنُ أَنْ يَغْضِبَ اللَّهُ غَضِبَ سُورِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَهْلِكِينَ لَا تَسْتَكْثِرِينَ

کیا تم کو تو خوف نہیں کہ اللہ اپنے رسول کی ناراضگی کی وجہ سے ناراض ہو جائے گا اور تم جلاک ہو جاؤ گی

عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَرَأِجِعِي فِي نَبِيِّ وَلَا تَهْجُرِيهِ وَأَسْأَلُ بِنِي مَا

رسول اللہ صلعم سے بہت ڈرنا لگا کرو اور کسی بات میں انہیں جواب دیا کرنا اور نہ ان سے ناراض ہوا اور جو چاہو

بَدِ الْأَيْدِ لَا يَغْرَبُكَ أَنْ كَانَتْ جَارَتِكَ هِيَ أَوْ ضَامَتِكَ وَأَحَبُّ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ

مجھ سے ہانگو اور یہ بات نہیں دھوکے میں نہوے کہ تمہاری بھولی تم سے زیادہ خوبصورت ہے اور رسول اللہ صلعم کو اس سے زیادہ محبت

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرِيدُ عَائِشَةَ وَكُنَّا مَحْدَثًا أَنْ غَسَّانُ تَتَعَلَّ النَّعَالَ لِعَزْوِهَا فَانزَلَ

ہے مثلا مراد حضرت عائشہ تھی اور دن الام میں ہم یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ غسانی ہم سے لڑنے کیلئے دھوکوں کی بغل بندھی

صَارَ حِمِّي يَوْمَ تَوْبَتِهِمْ فَرَجَعَ عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا وَقَالَ أَنَا بِيْمُ هُوَ

کر رہے ہیں مگر میرا ساتھی اپنی باری کے دن کیا اور شام کو لوٹ آیا اور میرا دروازہ زور سے کھٹکھٹایا اور کہا وہ دھرم سوتے ہیں

فَفَرَعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ وَقَالَ حَدَّثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ قُلْتُ مَا هُوَ أَجَاءَتْ غَسَّانُ

میں گھبرا یا اور اس کے پاس جا ہرگا اس نے کہا بڑا بھاری واقعہ ہو گیا میں نے پوچھا وہ کیا ہے کیا غسانی آئے

علا شروع حدیث سے بیان کیا کہ معصوم اور ان کے معصوم کا کچھ حصہ میں گزرا چکا ہے۔ نماز سونہرے حجر کی تفسیر میں اس کی اللہ سے پہلے حضرت عریک طرف سے الفاظ منسوب ہیں واللہ ان کا کافی الجاہلیہ ما بعد اللہ امر اللہ حق انزل اللہ فیہن ما انزلت علی جابیت میں بہت کی کوئی کیفیت نہ تھی۔ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر میں اپنے اسکا شہد فرماتے یہی حدیث معلوم ہوتے کہ مدینہ میں عورتوں کو زیادہ آزادی ہوگی۔ شاید یہ عورتوں کی مذہب کا احترام کیونکہ عرب سے وہ بہر حال زیادہ غلط تھے مگر اصل تیس عورت کی حالت میں اسلام نے یہ کیا کہ اس کو ہر پہلو پر جنت دی گئی۔ بلا حضرت عمر نے حضرت حفصہ کو نصیب خاص ملو سے اس کے لئے حدیث عائشہ سے اس کی رضاع دیا اور اس کی نیت کے مطابق اس کی عورتوں اور عورتوں اس تحریک کی ضرورت نہیں۔

علا غسانی ایک قبیلہ ہے جو شام کی طرف رہتا تھا۔ ان کے تعلقات سلطنت روم کے ساتھ تھے۔ اور عرب کو ہمیشہ حملے کا خطرہ ہوتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ غزوہ تبوک کے بعد کا ہے۔

قَالَ لَا بَلْ أَعْظَمُ مِنْهُ وَأَطْوَلُ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ قَالَ قَدْ

کہا نہیں اس سے بھی بڑا اور لمبا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا

خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَيْرَتُ كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ هَذَا زَوْجِي أَنْ يَكُونَ نَجْمَتِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي

حفصہ تباہ ہوئی اور خیر سے میں پڑ گئی میں سمجھتا تھا کہ یہ عشق رب ہونی والا ہے میں نے اپنے کپڑے پہن لئے

فَصَلَّيْتُ صَلَاةَ الْغَيْرِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ مَشْرُوبَةً لَهَا فَأَعَزَّلَ

اور صبح کی نماز نبی صلعم کے ساتھ جا کر پڑھی آپ اپنے بالوں سے کئے ملا اور اس میں ملنے

فِيهَا فَدَخَلَتْ عَلَيَّ حَفْصَةُ فَذَا هِيَ تَبِي تَبِي قُلْتُ مَا يَبِيئُكَ أَوْلَمْ أَكُنْ حَدْرَتِكَ

مجھ سے تھک کے پاس گیا وہ دوڑا ہی تھی میں نے پوچھا کیوں ہوئی تو کہا میں نے تمہیں ڈرا یا نہیں تھا

أَطَّلَقَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَا أَدْرِي هُوَ ذَا إِنْ الشَّرْبَةِ

کیا رسول اللہ صلعم نے تم کو طلاق دیدی ہے اس نے کہا مجھے علم نہیں آپ زناں بالا خانہ میں ہیں

فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ الْمُنْبَرُ فَإِذَا أَحْوَالُهُ رَهْطًا يَتَلَبَّسُ بَعْضُهُمْ فِجْلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلًا

میں باہر آیا اور منبر کے پاس گیا دیکھا کہ اس کے گرد لوگ ہیں بعض رو رہے ہیں میں تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھا

ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الْمَشْرَبَةَ الَّتِي هِيَ فِيهَا فَكَلَّمْتُ لِعَلَّامٍ لَهُ أَسْوَدُ

پھر مجھ پر رنج غالب ہوا اور اس بالا خانہ کے پاس آیا جس میں آہستہ میں نے ایک سیاہ فام لڑکے سے جو آپ کو رکھتا

أَسْتَأْذِنُ لِعَمْرٍ فَدَخَلَ فُكِّرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ خَرَجْتُ فَقَالَ لَو تَك

کہا کر عمر کے لئے اجازت مانگ دو گی اور نبی صلعم سے عرض کیا پھر باہر آیا اور کہا کہ میں نے ایک

لَهُ فَصُمْتُ فَأَنْصَرْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمُنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِي

ذکر آنحضرت صلعم سے کر آیا آپ خاموش ہو گئے ہیں وہاں آیا اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا جو منبر کے پاس تھے پھر رنج مجھ پر غالب آیا

مَا أَجِدُ فَجِئْتُ فَذَكَرْتُ مِثْلَهُ فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمُنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِي

اور میں بالا خانہ کی طرف آیا اس نے پہلے کی طرح ذکر کیا وہی آپ خاموش تھے ہیں اور میں ان لوگوں کے ساتھ آ بیٹھا جو منبر کے پاس تھے

مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الْغَلَامَ فَقُلْتُ أَسْتَأْذِنُ لِعَمْرٍ فَذَكَرْتُ مِثْلَهُ فَلَمَّا وُلِّيتُ

پھر مجھ پر رنج غالب آیا اور لڑکے کے پاس آیا اور عمر کے لئے اجازت مانگ تو اس نے پہلے کی طرح ذکر کیا جس میں پھر ہر

مَنْصَرِفًا فَإِذَا الْغَلَامُ يَدْعُونِي قَالَ أَوْنُ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

واپس ہونے لگا تو اٹھنے لگے مجھے بکارا کہا رسول اللہ صلعم نے آپ کیلئے اجازت دیدی ہے

فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالٍ حَصِيدٍ لَيْسَ بِلَيْدِهِ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ

میں آپ کے پاس گیا آپ نبی ہوئی ٹھالی پر لیٹے ہوئے تھے آپ کے اور چٹائی کے درمیان کوئی پتھر نہیں تھا اور چٹائی کے

قَدْ أَتَرْتُ رِمَالٍ مَجْنِيَةً مَتَكُ عَلَى رِجَالِهِ مِنْ أَدِيمِ حَشْوَاهُ لَيْفٌ فَسَلَّمْتُ

زناں آپ کے پاس گئے آپ ایک چمڑے کے ٹکڑے پر جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی ٹیک لگائے ہوئے تھے ۳۳ میں نے آپ کو

عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمَةٌ طَلَّقْتَ نِسَاءَكَ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَيَّ فَقَالَ لَا تَقُلِي وَ

سلام کیا پھر میں نے کھڑے کھڑے عرض کیا کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دیدی ہے آپ نے اپنی ہم عمری طوت اٹھا کر زنا میں ہمیں بہن نے

أَنَا قَائِمَةٌ أَسْتَأْذِنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَو رَأَيْتَنِي وَلَمَّا مَعْتَرَفْتَنِي تَخَلَّبُ النِّسَاءُ

عرض کیا اور میں کھڑا ہوا اجازت ہی چاہتا تھا رسول اللہ صلعم نے ہم کو پیش ہو کر عورتوں پر غالب تھے

فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى قَوْمٍ تَخَلَّبَهُمْ نِسَاءُهُمْ فَذَكَرْنَا فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

پھر جب ہم ایسے لوگوں کے پاس آئے جن کی عورتیں ان پر غالب ہیں پھر وہ سارا ذکر کیا تو نبی صلعم سہلے

ملا عزوان کا اتلن
صوت بالا خانہ کے
لفظ سے ہے
۳۳ جب کوئی شخص
اسے گھر میں ہو تو زنا
کریم کی تعلیم کے مطابق
اس سے اجازت
حاصل کے بغیر اس کے
پاس جانا منع ہے
کھڑے یا رکھنا چاہئے
کہ پرسنہ بخبری کا
واقعہ ہے جب آپ
سائے ملک عرب کے
بادشاہ ہو چکے تھے
اور اس کے ٹھوٹے
دن بعد ہی جنگ
توک کے لئے تیس
ہزار آدمی کو ساتھ لیکر
نکلے مسلمانوں پر یہ
فراخی کا زمانہ تھا۔
اور اسی وجہ سے
آنحضرت صلعم کی
ازواج نے زیادہ
خروج کا مطالبہ بھی کیا
تھا مگر وہ بڑا بادشاہ
کے آپ اسی فقہانہ
حالت میں رہنے لگے
جس میں بکری و تنہائی
کو وقت گزارا گیا۔
اور بادشاہت نے
آپ کے حالات میں ایک
ذمہ برابر فرما دیا
کہ تھا کیا ایسے انسان
کے متعلق یہ ہم بھی
ہو سکتا ہے کہ وہ خوش
نفس کی پسر دی
کرنا تھا۔

ثُمَّ قُلْتُ لَوْ رَأَيْتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَا يَعْرُفُكَ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكَ

پھر میں نے عرض کیا دیکھو میں حفصہ کے پاس گیا اور کہا اس سے تم کو دیکھو کہ تمہاری بھینجی تم سے زیادہ

هِيَ أَوْضَأُ مِنْكَ أَحَبُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرِيدُ عَائِشَةَ فَتَبَسْتُمْ أُخْرَى

تو میں نے عرض کیا اس سے زیادہ محبت ہے اور حضرت عائشہ بھی آپ پر مسکائے

فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتَهُ نَبَسَهُ ثُمَّ رَفَعَتْ بَصْرِي فِي بَيْتِهِ فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُّ

جب میں نے آپ کو مسکاتے دیکھا تو میں بھینجی اور اپنی نظر آپ کے گھر میں دوڑائی میں نے کوئی چیز نہ دیکھی جو نگاہ کو روک سکے

الْبَصْرَ غَيْرَ أَهْبَةِ ثَلَاثَةَ ثَلَاثَةَ قُلْتُ ادْعُ اللَّهَ فَلْيُوسِّعْ عَلَيَّ أُمَّتِكَ فَإِنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ

سوائے تین کچھ لوگوں کے میں نے عرض کیا اللہ سے دعا کیجئے کہ آپ کی امت بزرگمندی کرے کیونکہ فارس اور روم بزرگمندی

وَسِعَ عَلَيْهِمْ وَأَعْطُوا الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ وَكَانَ مَثَلًا فَقَالَ أَوْ نِي شَكَرْتُ

کی گئی ہے اور ان کو دنیا دی گئی ہے حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے آپ تکبر لگائے ہوئے تھے ذیلاً خطاب کے بیٹے کی

يَا أَيْنَ الْخُطَابِ ذَلِكَ قَوْمٌ مَجَلَّتْ لَهُمْ طَبِيبًا مَهْمٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ

کہا میں نے کچھ شک ہے یہ تو ایسی قوم ہے کہ ان کی اچھی چیزیں ان کو دنیاوی زندگی میں انہیں چھوڑ دی دی گئی ہیں کہ انہیں نے عرض کیا

اللَّهُ اسْتَغْفِرُنِي فَأَخْتَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حِينَ أُنشِئَتْ

یا رسول اللہ میرے لئے مغفرت مانگے سو نبی صلعم نے اس بات کی وجہ سے علیحدگی اختیار کی جب اسے

حَفْصَةَ إِلَى عَائِشَةَ وَكَانَ قَدْ قَالَ مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدِ تَعْلِيْقِهِنَّ

حفصہ نے عائشہ سے بیان کر دیا اور آپ نے جو بوجھت راج کے جو آپ کو ان پر تھا ذرا مٹا لیا ان کے پاس ایک ماہ تک نہیں آسکتا

حِينَ عَائِشَةُ اللَّهُ فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ دَخَلَ عَلَيَّ عَائِشَةُ فَبَدَأَتْ بِهَا فَقَالَتْ

جب آشرہ نے آپ پر عتاب فرمایا کھلا جب امتیں دن کہنے تو آپ عائشہ کے پاس گئے شروع انہیں سے کیا تو عائشہ نے

لَهُ عَائِشَةُ تَرَاكَ أَقْسَمْتُ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنَّا أَصْبَحْنَا تِسْعَةَ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً

آپ نے عرض کیا کہ آپ نے قسم کھالی تھی کہ ہمارے پاس ایک ماہ تک نہیں آئیں گے اور ہم پر انہیں راتیں گزری ہیں

أَعَدُّهَا عَدًّا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّهُرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ وَكَانَ ذَلِكَ الشُّهُرَ

میں انہیں گنتی رہی ہیں نبی صلعم نے فرمایا مہینہ انہیں کا مہینہ ہوتا ہے اور یہ مہینہ انہیں کا

تِسْعَةَ وَعِشْرُونَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَنْزَلَتْ آيَةَ التَّخْيِيرِ فَبَدَأَتْ بِأَبِي أَدْلٍ امْرَأَةٍ فَقَالَ

حضرت عائشہ فرماتی ہیں تو تخیر کی آیت اتری اور وہ توہماتوں میں سے ہے پھر آپ نے مجھ سے شروع کیا اور فرمایا

عَلَّامٌ كَيْلٌ لِي

میں نے کہا

عَلَّامٌ كَيْلٌ لِي

عاشق حضرت صلعم نے جو حضرت عمر سے فرمایا کہ کیا تمہیں شک ہے تو مطلب یہ تھا کہ کیا اس بات میں شک ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کا سامان خدا کی نیکوں کوئی وقت نہیں لکھتا ہے خدا کی عبادت سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ یاد کیا اس میں شک ہے کہ اطمینان قلب جو اصل غرض ہے۔ وہ عبادت سے ہی ملتا ہے دولت سے نہیں ملتا حضرت عمر نے خورباڑا بہت کی حالت میں جب زرد جو اہر آپ نے اپنے ہاتھوں سے لٹائے تھے اسی سے وہ زندگی بسر کی جس کی نظیر نہیں ملتی۔

کیوں حرام کرتے ہو اور آگے ازواج کا ہی ذکر ہے اور کسی موقع پر ازواج کے ذکر میں عتاب نہیں اور احمد کی روایت میں بھی اسی واقعہ کے ذکر میں مذکور ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سورہ تحریم کی پہلی آیت میں مای و اھو ایلا کا ذکر ہے۔ اور حضرت ماریہہ بقیہ کا تعلق یا شہد کا قصد اس کا نشان نزول صحیح نہیں ہے۔ مگر تخیر کی آیت ایک تو سورہ احوال کی آیت ۱۵ ہے جس میں فرمایا تمہاری من تشاء منھن و تھووی الیک من تشاء یعنی ازواج میں سے جسے آپ چاہیں الگ کر دیں اور جسے چاہیں اپنے نکاح میں رکھیں گویا آپ کو طلاق کا اختیار دیا گیا اور دوسری سورہ احوال کی آیت ۲۰ وغیرہ میں جن میں ازواج کو یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہ اگر مال دنیا چاہیں تو مال دیکھیں طلاق دیگر انہیں رخصت کر دیا جائے گا اور غربت کی حالت میں بسر کرنا چاہیں تو یہی کر سکتے گھبریں۔ اس کے نزول کا ذکر میں حدیث کے مخیر ہے گویا ایک طرف ازواج کو اختیار دیا گیا کہ جو نبی صلعم کے گھر میں رہنا چاہتا ہے وہ دنیا کے مال دولت سے محروم ہوگا اور دوسری طرف نبی صلعم کو بھی اختیار دیا گیا کہ آپ جس نبی کی چاہیں الگ کر دیں۔ مگر جس طرح سب ازواج نے دنیا کے مال پر نبی کے گھر کو ترجیح دی۔ اسی طرح نبی صلعم نے بھی اپنے اختیار کو نہیں برتا۔ اور ازواج مطہرات کے اس عمل نے ثابت کر دیا کہ ان میں وہ سب فرمایاں جو وہ ہیں جن کا ذکر سورہ تحریم کی آیت ۱۵ میں ہے جس جو انہوں نے دنیا کے مال پر لٹا ماری اور نبی کے گھر کی غربت کو دنیا کے مال و دولت پر ترجیح دی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسا دنیا کی آلائشوں سے پاک رکھا تھا۔

إِنِّي ذَاكَ لَكِ أَمْرًا لَعَلَّكَ أَنْ لَا تَجْعَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبِيكَ قَالَتْ قَدْ عَلِمْتُ
 کہیں تم سے ایک بات کا ذکر نہیں تو کوئی چیز کی بات نہیں اگر تم جلدی نہ کرو اور اپنے ماں باپ سے مشورے ہو حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ جانتے
 ات ابوی لہ یکنونایا امرائی بفرأقک ثم قال ان الله قال یا ایھا النبی قل
 تھے کہ میرے ماں باپ آپ سے جدا ہونے کا مشورہ مجھے کبھی نہیں دیں گے پھر فرمایا کہ تیرا ماں باپ سے مشورہ کر لو کہ وہ خدا کے
 لا زواجک الی قوله عظیمًا قلت انی هذا استأمر ابوی فانی ارید الله ورسوله
 قول عظیمًا تک لا اذراب ۲۸ و ۲۹ میں نے عرض کیا کیا میں اس بارے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی میں خدا اور اسے
 والذ اراخرة ثم خیر نساءه فقلن مثل ما قالت عائشة (۱۱۱۱) عن انس
 رسول اور وار آخرت کو چاہتی ہوں پھر آپ نے اپنی بیویوں کو اختیار دیا انہوں نے یہی کی جو حضرت عائشہ نے کہا تھا
 (متکرر۔ ۱۱۱۱) (۲۶) باب من عخل بغيره علی البلاط او باب المسجد
 دیہود ص ۱۱۱۱ باب جو اپنا اوطیل مسجد کے دروازے کے پتھروں پر یا مسجد کے دروازے پر یا نہر سے
 (۱۱۱۲) عن جابر (متکرر۔ ۱۰۴۵) (۲۷) باب الوتوف والبول عند
 دیہود ص ۱۱۱۲ باب کسی قوم کے گھونٹے کے پاس کھڑا ہونا اور
 سباطة قوم (۱۱۱۳) عن حذیفة (متکرر۔ ۱۱۸۲) (۲۸) باب من اخذ
 مشابہ کرنا دیہود ص ۱۱۱۳ باب جو درخت کی
 الغصن وما يؤخذ من الناس فی الظلمین فرمی یہ (۱۱۱۴) عن ابی هريرة
 شاخ اور اس چیز کو جو رستے میں لوگوں کو تکلیف دیتی ہو اٹھا کر سے پھینک دے
 (متکرر۔ ۱۱۲۵) (۲۹) باب اذا اختلفوا فی الظلمین المیتاء وهي الترحبة
 دیہود ص ۱۱۲۵ باب جب شارع عام میں لوگ اختلاف کریں اور میتا اور کھلی جگہ سے جو رستے میں ہو
 تكون بین الظلمین ثم یرید اهلها البنیان فترك منها للظلمین سبعة
 اور وہاں کے سینے والے عمارت بنانا چاہیں اور اس میں سے رستہ کے لئے سات ہاتھ چھوڑ
 اذریع (۱۱۲۸) عن ابی هريرة رضی قال قضی للنبی صلی الله علیه وسلم اذا
 وہاں سے ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رستہ کے متعلق
 تشاروا فی الظلمین بسبعة اذریع (۳۰) باب انهمی بغير اذن صاحبه وقال
 جب لوگوں اس میں اختلاف کیا سات ہاتھ کا فیصلہ کرنا چاہیے باب انک کی اجازت کے بغیر دوسرے کی چیز لینا منع ہے اور حضرت
 عبادة بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم الا لا نعلم (۱۱۲۹) عن عبد الله
 عبادہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ ہم دوسروں کا مال نہیں لوں گے
 ابن يزيد الا نصارى قال نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التهمي والمثلة
 بن یزید انصاری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمی اور مثلة سے منع فرمایا ہے

علا ماں مرث
 ایک ہی امر کا ذکر ہے
 اور روایت نہایت
 مختصر ہے۔ الی
 رسول اللہ صلی
 من ساتھ شہرا
 وکانت انفلتت
 قد وہ فیس نے
 علیہ تہمہ عمر
 فقال اطلقت
 نسائك قال لا
 والکئی الیت منهن
 شہرا انفلتت سما
 وعشرون ثم نزل
 دخل علی سائبة
 علا مکر روایت
 مختصر ہے دخل
 الی علیہ السلام
 قد دخلت علیہ
 عقلت الجبل
 ناحية البلاط
 فقلت هذا جملک
 فخرج فجعل يطبع
 بالجمیل قال ان
 والجبل لک بلاط
 ان پتھروں کو کمانا
 ہے۔ جو مسجد کے
 دروازے پر پھانسی
 جاتے ہیں
 علا میں موانع
 لفظ میں۔ لفظ انی
 الی صلی اللہ علیہ وسلم
 قوم نبی قال لہم
 مکرر روایت
 صرف دفعہ ایک تک
 ہے۔ اور ارفاء
 تقریباً وہی ہے
 شوک کے بعد علی

الظلمین کا لفظ ماں نہیں اور عنوان اس سے ہے کہ مہ میناء مفعال کے وزن پر بیان ہے اور ہم زائے ہے اور اس کے معنی اعظم الظلمین ہیں یعنی وہ رستہ
 جس پر لوگوں کی آمد رفت زیادہ ہو اور ظلمین راسعہ۔ رعد رستم اور ظلمین عامر راد رستم یہی ایک معنی کے لئے ہیں۔ مہ مہ کوئی خاص جگہ کا ہے۔ رستے کے بارے
 میں اختلاف ہو کہ کتنا رستہ چھوڑ کر عمارت بنائی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سات ہاتھ یا دس فٹ کا فیصلہ کیا۔ وہاں ابتدا اور رستہ اسی قدر ہو گا۔ اس لئے آپ نے یہی فیصلہ کیا اس سے
 یہ نتیجہ نہیں نکل کر سات ہاتھ سے زیادہ رستہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا انحصار ضروریات پر ہے۔ مہ مہ تہمی۔ تہمی سے ہے جس کے معنی میں دوسرے کا مال لوٹ لینا یعنی اسکی اجازت
 کے بغیر اسے تہمے لینا اور ظلمی نے منوان باب میں تہمی کے ساتھ بغیر اذن صاحبہ کا لفظ لگایا ہے حالانکہ تہمی کہتے ہی کہیں جو مالک کے اذن کے بغیر ہوشیارانہ کید کے
 طور پر لیا گیا یہ مطلب ہو کہ کسی چیز کا مالک خود اپنی چیز کے متعلق اجازت دے دے تو پھر اس کا سے لینا جائز ہے۔ جو لوٹ کے تہمے ہے فی الحقیقت لوٹ تہمی۔ باقی برص ۱۱۲۵

۱۱۸۰ عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لَتَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزِينِي الزَّائِنَةُ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زانیہ جو وقت نہ کرے

حِينَ يَزِينِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرِبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا

وہ مومن نہیں ہوتا اور جو شراب پیتا ہے جو وقت شرب مینا ہے وہ مومن نہیں ہوتا اور جو چوری کرتا ہے

يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهَبُ نَهْبَهُ يَرْفَعُ النَّاسَ إِلَيْهِ فِيهَا

جس وقت چوری کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا اور جو مال چھینتا ہے جس وقت لوٹتا ہے وہ اس کی طرف

أَبْصَارُهُمْ حِينَ يَنْتَهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ (۳۱) بَابُ كَسْرِ الصَّلْبِ قِتْلُ الْخَزِيرِ

آنکھیں اٹھا کر دیکھتے ہیں وہ مومن نہیں ہوتا باب سبب کا توڑنا اور غصہ کرنے کا فن کرنا

(۱۱۵-۱۱۶) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ (مُتَكَرِّرًا) (۱۰۸-۱۰۹) بَابُ هَلْ كَسَرَ الدِّانُ

دیکھو حدیث ۱۰۸-۱۰۹ باب کیا وہ حکم میں شرب ہو

الَّتِي فِيهَا الْخَمْرُ أَوْ تَخْرُقُ الزَّائِقُ فَإِنْ كَسَرْتُمْ أَوْ صَلَبْتُمْ أَوْ طَبَخْتُمْ أَوْ مَلَأْتُمْ

توڑ ڈالے جائیں اور پھینک دیا جائے یا کسی گرت یا صلیب یا دھول کو توڑا یا کسی چیز

يَنْتَفِعُ بِحَشْبِهِ وَأَنْتِي شَرِيحِي طَبَخْتُمْ كَسَرْتُمْ لِقَضِيهِ بِشَيْءٍ (۱۱۰) ۱۱۸۰

کو جس کی مدد سے کام نہیں آتی اور شرح کے پاس ایک دھول کے پاس میں جوڑ دیا جائے تاکہ نہ تو میں ہی ہوں اور نہ پھینک دیا جائے

سَلَّمَ بَيْنَ الْأَكُوعِ عَرَفَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَأَى نَأَى نَأَى نَأَى

سردار کو جس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ وہ

قَالَ عَلِيٌّ مَا تَقْدِرُ هَذِهِ النَّبْرَانِ قَالُوا عَلِيٌّ حَمْرًا الْأَنْبِيَّةُ قَالَ كَسَرْتُمْ هَذَا وَهَذَا

تو فرمایا: ابھی اس کام کے لئے جلال ہی ہے تو اس کے لئے کہ اگر چھوڑ دوں گے تو اس کے لئے فرمایا ہاں توڑو اور گولت

قَالَ أَلَا نَهْرٌ يَقْفَاهَا وَغَيْبُهَا قَالَ اغْبِسُوا (۱۱۱) ۱۱۸۱ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ

پھینک دیا انہوں نے عرض کیا کیا ہر گز گشت پھینک کر نہیں دیکھتا ہوں تو فرمایا ہاں

قَالَ دَخَلَ لَتَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَكَةٌ وَحَوْلَ لَكَبَةٍ ثَلَاثًا ثَلَاثَةً وَسِتُونَ

کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل ہوئے اور کہتے کہ گزرتی ہو سوسائے بیت تھے

نَصْبًا جَعَلَ يَطْعُمَهَا بَعْدَ ذِي يَدِهِ دَجَعَلَ يَقُولُ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ

تو آپ انہیں ایک کڑی سے جو آپ کے ہاتھ میں تھی مارنے لگے اور پڑھنے لگے حق آیا اور باطل

بقیہ صفحہ ۵۲۵
مثلاً کسی نے چینی سے
پھینک دیا ہے جو سے
سکھنے سے ہے۔
بکھریا پھینک دیا
یا نعل والے بعض
وقت نعل کا کھنک
پھر اجازت دیدیے
پس کہ اس میں جو چیز
رہ گئی وہ جو چاہے
دھاتے تو سب اچھے
رٹ نہیں۔ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو
سنع فرمایا جس کو عرب
میں اس وقت عام
رویج تھا کہ دوسرے
کا مال لوٹ لیا جائے اور
اس کا نام غنیمت کہتے
جس شخص نے ملک
میں یہ اصلاح کی کہ
ان کا ہوشنا جائز ہے
بلکہ اس پر لوگوں سے
بیت لیا کہ وہ لوٹ
یا نہیں کرے کہ کھنک
تعمیر ہے کہ اس
پر یہ الزام لگایا جاتا
ہے کہ انہوں نے
لوٹ لیا اور لایا دیکر
آدمی جمع کرنے کے لئے
یاد سے کہ میدان
جنگ میں جہاں دشمن
سے ہاتھ آئے وہ
غنیمت ہے اور اس

کا لینا آج بھی تمام مذاہب و اقوام میں ایک میدان جنگ سے علاوہ ہر عام لوگوں کا مال لینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ رسول یا باہوی یا نکل محفوظ ہوگی۔ یہ ایک تعلیم
انسان اصلاح تھی جو ملک و عرب میں آپ نے اور جنگ کے مال غنیمت کو ہر میدان جنگ تک خاص کر رسول یا باہوی کا ایک پیچے کا نقصان کہنا جان نہیں رکھا۔ اسی
طرح آپ نے منڈ سے منع کیا اور منڈ یہ تھا کہ میدان جنگ میں لاشوں کے ہنک کان وغیرہ کاٹ دیتے تھے۔ اس حدیث جنگ میں جب مسلمانوں کی لاشوں کا منڈ
کیا گیا تو آپ کو اس قدر رنج تھا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم قصاص کے طور پر ان کی لاشوں کے ساتھ ہی سلوک کریں گے مگر ہر اس سے روک دیا۔ کیونکہ یہ
اگر آپ کی تعلیم کے خلاف تھا۔ اور جو تعلیم آپ دیتے تھے اس پر یہی عامل آپ خود ہوتے تھے۔ (نوٹ صفحہ ۱۱۱) اس حدیث میں یہ بھی ملاحظہ کیا کہ کتاب پر ایمان کی
فقہی کی سزا پر چوری پر۔ لوٹ پر شرب پینے پر اور یہ ہر وقت وقتی حالت ہے اس وقت انسان ایسا اذہما ہوتا ہے کہ ایمان کی روشنی فی الواقع اس کے اندر نہیں رہتی ورنہ
ایسے نعل کا ارتکاب کیوں کہے مگر اذہ اسلام سے خارج اس وقت بھی نہیں ہوتا۔ سلب ایمان یا ایمان کی نقیہ دل کی حالت سے تعلق رکھتی ہے۔ اور اسلام کا تھی ظاہر ہے
جب تک مز سے اللہ نہ کرے وہ اذہ اسلام نہیں نکلتا اس سے یہی معلوم ہوگا۔ کہ آپ کو لوٹ سے زنا اور ہر ہی کی طرح ہی نفرت تھی۔ عطا ابتدا ایمان ہوئی ہے
کا تقوم المسلمین حق یذیل فیکہر ابن ہر مع ماس کے بعد لفظ ایک میں۔ اس پر کتب حدیث کے لوٹ میں گنہ گنہ کی عطا۔ یا کوئی خاص صورت ہوگی اور کسی خلاف شرعی نعل سے
روک دیا ہوگا جس کے متعلق شرعی نے تاوان نہیں لایا اور ان کا فیصلہ کوئی حجت بھی نہیں۔ عطا اس سے معلوم ہوگا کہ جس برتن میں کوئی ناپاک چیز ہو تو اسے صاف کر کے استعمال میں لایا

ہو جا سکتا ہے۔ اگر باک اس کو توڑ دیا تو سب گنہ گنہ ہوا تو اس کا اختیار ہے

الآیة (۵) - ۱۱۱۶ عَنْ عَائِشَةَ (متکرر - ۱۰۵) **بَابُ مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ**

روانی (۸۱) ۱۷۷ دیکھو حدیث ۱۰۵۰ باب جو اپنے مال کی حفاظت کیلئے لڑے

۱۱۸۳ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَذُو الْقُرْبَىٰ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ

عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے

قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَرُّ النَّاسِ **بَابُ إِذَا السَّرِقُ قَضَعَهُ أَوْ شِئًا غَيْرَهُ (۱۱۸۴)**

مال کی حفاظت کرنا جو مال کا جائز ہے تو وہ شہید ہے باب جب کسی اور کا پیالہ یا کوئی اور چیز توڑے

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يْعْتَدُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَأَرْسَلَتْ أَحَدًا

انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی عورت کے پاس سے توہمات المومنین

أَهْلَابَ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمِهِ بِقِصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا فَكَسَرَتْ

سے ایک نے خادم کے ہاتھ ایک پیالہ جس میں کھانا تھا بیچھا تو اس نے اپنا ہاتھ مارا اور پیالہ کو توڑ

الْقِصْعَةَ فَضَمَّهَا وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ وَقَالَ كَلُوا وَحَسْبُ لِرَسُولٍ وَالْقِصْعَةُ

والا آنحضرت نے پیالہ اٹھا کر اسے جوڑا اور اس میں کھانا ڈال لیا اور فرمایا کھاؤ اور پیو یہ ہے جو کھانے کو پیمانے سمیت روکے رکھا

حَتَّىٰ فَرَعُوا فَدَمَهُ الْقِصْعَةُ الصَّحِيحَةَ وَحَسْبُ لِمَكْسُورَةٍ (۱۱۸۵) **بَابُ إِذَا**

سنان تک کہ فرج ہوئے پھر سالم پیالہ سے دیا اور توڑا ہمارا گھریا ہے باب جب

هَدَمَ خَائِطًا فَلْيَبْنِ مِثْلَهُ (۵) - ۱۱۱۷ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرر - ۱۶۶)

روایات توڑنے والے تو میں ہی بنا دے دیکھو حدیث ۱۶۶

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع کروا کر بار بار

۴۷ - کتاب فی الشراکة

شرک کی کتاب

رَأَى بَابَ الشَّرَاكَةِ فِي الطَّعَامِ وَالنَّهْدِ وَالْعُرُوضِ وَكَيْفَ قَسَمَةُ مَا يَكُونُ

باب کھانے اور خیر خیر اور اسباب میں حرکت کرنا اور پیمانہ اور وزن کی چیزوں کو کس طرح

فاحضرت منہ غرضیں رو دیکھے یا لکھے انکا نشان فی البیت مجلس علیہما دیکھو صفت پر فصل نوٹ۔ فتح الباری میں ہے والدی یظہر انہ نزعی تم بعد ذلك قطعتم یعنی ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا اور پھر حضرت عائشہ نے فورا سے کام کروا کر لگوئے کیا اور پھر اس سے دو کھینے بنائے اس سے پھر عیادت نہیں ہوگا کہ بقرہ ولکن کفر سے یا چیز کو کہیں دیکھے تو اسے پھاڑ دے یا توڑ دے ۷۷ مال کی حفاظت کو کس قدر بندہ زبردست ہے جب اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جا تا ہے وہ ہے تو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جا تا ہے جو اولیٰ خدات ہے ۷۷ ابن حزم نے بھی اس روایت کی ہے کہ مجھنے والی حضرت زینب بنت جحش میں اور تو ہونوالی حضرت عائشہ تھیں لیکن معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ نے تصدائیں توڑا یہاں حضرت اس قدر ہے فقہوت پیدا ہوا جو کہتا ہے کہ ان کا ہاتھ پالے سے لگ گیا ہو۔ اگر کسی نے حج کی وجہ سے بھی اپنا کیا ہو تو سہمی بشریت کا تقاضا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل درجہ کے سے توڑنے والی بی بی بھی اپنے غصے کا اظہار نہیں فرمایا ۷۷ کمرہ روایت کے الفاظ میں فرق ہے کہ وہ وحل فی بنی اسرائیل فقال لجریدہ صلی فیما تمناہ ذہب عتہ قال ان یجیبہ فقال اجیبنا واصلی ثم اتتہ فقالت انہم لا یتصدقون قریہ الموصات وكان جریدہ فی صورہ فقالت امرأۃ لا فتنن جریدہ فقہوت لہ کما کلمتہ فی ناسک وراعیاً کما کلمتہ من نفسہا ظہرت غلاما فقالت ہوں جو میری طاقت ہے وکسے اس صورتہ فانزلوہ وسبقوہ فتواضی ثم اتی اغلامہ فقال من ابوک یا غلام قال المرءی قالوا نبقی صہ معتك من ذہب قال لا الا من یخین۔ ۷۷ میں جو حج کی کو شہری کو گوارا دینے کا ذکر نہیں نہ ہی اس کے دوبارہ بنایا ہے اور اس سے عورتوں باب کا تعلق ہے یعنی تو کس نے کہا کہ سونے سے ساری کو کوئی بنا ہی تو اس نے کہا کہ نہیں ہلی سے بنا دو جیسا ہے بی بی ہونی تھی گویا جس قدر کسی کا نقصان کیا ہے اسی کو پھر کرنے کا حق ہے زیادہ نہیں ۷

يُوزَنُ بِمِيزَانٍ مُّجَازِفَةٍ أَوْ قَبْضَةٍ قَبْضَةُ الْمَالِ لِلْمُسْلِمِينَ فِي التَّهْدِيَةِ بَأْسَانٍ يَأْكُلُ

تعمیر کیا جائے انمازہ کے ساتھ یا تمغی بھی کر کے کیونکہ مسلمان سفر خرچ میں کوئی خرچ نہیں سمجھتے کیونکہ وہ کھائے

هَذَا الْبَعْضُ وَهَذَا الْبَعْضُ وَكَذَلِكَ مِجَازِفَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْقِرَانُ فِي التَّمْرِ

اور اسی طرح سونے اور چاندی اور اندازے سے (تعمیر کرنا) اور محمدیوں کو وہ دو دلا کر کھانا دیا اور کچھ یہ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا

جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

قَبْلَ التَّاجِلِ فَأَمَرَ عَلَيْهِمْ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَهُمْ ثَلَاثُمِائَةٍ وَأَنَا فِيهِمْ

ساجل کی طرف ایک لشکر بھیجا اور ابو عبیدہ کو ان کا امیر مقرر کیا اور وہ تین سو تھے اور میں بھی ان میں تھا

فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَعْضِلِ ظَرْبِ بْنِ الزَّادِ فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ ذَلِكَ

ہم نکلے میان تک کہ جب ہم نے کچھ رستہ کاٹ لیا تو ترشہ ختم ہونے لگا ابو عبیدہ نے رشتہ کے گوشوں کے متعلق حکم دیا

الْجَبِشِ جَمِيعًا ذَلِكَ كَلِمَةٌ مَزْرُودِيٌّ تَمْرٌ فَكَانَ يُقَوِّمُنَا كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلًا قَلِيلًا

تو وہ سب اکٹھے کئے گئے پس مجھ کے دو تھیلے ہوئے دن ہمیں ہر روز تھوڑا تھوڑا دیا کرتے تھے

حَتَّى فَنِي فَلَمَّا يَكُنْ يَصِيبُنَا إِلَّا تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ فَعَلْتُ وَمَا تَعْنِي تَمْرَةٌ فَقَالَ

میں تک کہ شہم ہوا میرے کو ایک ایک کھجور ملا کر فیقی میں نے کہا ایک کھجور سے کیا بنتا ہوگا انہوں نے کہا

لَقَدْ وَجَدْنَا نَفَقَهَا حِينَ فَنَيْتُ قَالَ ثُمَّ انْتَهَيْتُنَا إِلَى الْبَحْرِ فَأَذْأَحَتْ وَمِثْلُ

ہمیں اس کی قدر اس وقت معلوم ہوئی کہ جب وہ بھی نہ رہی کہا پھر ہم سمندر تک پہنچے تو ایک کھجور چوہاڑ کی طرح صحی

الظَّرْبِ فَأَكَلَ مِنْهُ ذَلِكَ الْجَبِشُ ثَمَانِي عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ أَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ

دیکھی اس لشکر نے اس میں سے اٹھارہ دن تک کھایا پھر ابو عبیدہ نے اس کی دو سیلیوں

يَضْلَعِينَ مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَاتُهُ أَمْرٌ بِرَأْسِهَا فَرَجَلَتْ ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُمَا فَلَمَّا

کے متعلق حکم دیا تو وہ ڈھکی کی گئیں پھر ادھکی کی سواری کے متعلق حکم دیا تو اس پر بالان ڈال دیں سواری ان کے پیچھے سے گذرا اور ان تک نہیں

تَصِبُهُمَا ۱۱۸۶) عَنْ سَلْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَفَّتْ أَزْوَادُ الْقَوْمِ وَأَمْلَقُوا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى

پہنچا سلمہ سے روایت ہے کہ لوگوں کے قوشے تھوڑے رہ گئے اور وہ محتاج ہو گئے تو وہ ادھکیوں کے ذبح کرنے لگے

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِي حُورٍ إِلَيْهِمْ فَأَذِنَ لَهُمْ فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ مَا بَقَاءُكُمْ

(اجازت) کیلئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آنحضرت نے انہیں اجازت دیدی پھر حضرت عمر نے ان سے انہوں نے ان سے یہ بات کی تو حضرت عمر

بَعْدَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادِ فِي النَّاسِ يَا تَوْنُ

زعمہ ہونے کا کیا سامان ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں منادی کرو کہ لوگوں کو بقیہ لے لے نہیں

بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ فَيَسِطُرُنَا لَكَ نَطْعٌ وَجَعَلُوهُ عَلَى النَّطْعِ فَقَامَ رَسُولُ

اس کے لئے جوڑے کا ایک دسترخوان بچھا دیا اور وہ اپنے قوشے (دسترخوان پر ڈالنے کے لئے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو

عجلہ امام بخاری نے ان چند پاروں میں ثابت کیا ہے کہ کس طرح صحیح ہے آپس میں اختلاف کرتے اور باوجود سنت عقلی کی ممانعت کے ایک دوسرے سے ملکر اور عمدگی کرتے تھے۔ اور میں ان کی طرف کی بنیاد کا پہلا پتھر تھا طعام کھانے اور اناج دونوں کو کتے ہیں اور نیکویت وہ تو شہر یا قیمت جو رونقائے سفر اپنے سفر کی خواہش اپنے کھانے کے سفارشی پانچویں ہو سکتا تھا کہ اس کی چیزوں کا اشتراک وسعت نفسی پر معنی ہے۔ اس لئے اس کی تقسیم میں تنگ دلی سے کام نہیں لیا جاتا اس کی تقسیم میں باپ بول کی ضرورت ہے۔ البتہ جو بیخود تھوڑا ہو تو اور رفقاً رکھا جائے تو پھر وہ سے اس لئے ہر حال میں دو کھجور ملا کر کھانے سے ممانعت کی گئی ہے۔ عروض سے نقدی کے سوا اور چیزیں مراد ہیں اس میں اناج بھی شامل ہے۔ اصول اشتراک کی صورت کر لینے کی وجہ سے

۱۱۸۵

۱۱۸۶

مسلمان آج کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے اور تجارت کے بڑے بڑے کام بغیر اشتراک کے ہو نہیں سکتے۔ بلکہ قرآن باب کا تعلق اسی حصہ سے ہے کہ سفر خرچ اکٹھا کر لیا گیا۔ پھر سب کو اندازے سے تھوڑا تھوڑا ملے گا۔

حکایت اللہ تعالیٰ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی عادت
پر انجلیبی طور پر
اس میں بکت دی ہے
حکایت علیہ السلام کمال
آحاد اور جمع کے
انہما کے لئے ہے
جاتے ہیں یہ تہجد
آخر کے لوگ ہیں
میں زیادہ ہمدردی
کرتے تھے۔ منقول
کے وقت سب
اپنا بقیہ علیہ السلام
کرتے پھر برائے تقسیم
کرتے اس طرح سب
کی حالت یکساں
ہو جاتی ہے اور
یہ نہ ہوتا کہ بعض تو
سے فکری سے کھائے
کو ضائع کرتے ہیں
اور بعض برقیات
گذرتے ہیں۔ اسی
بشارت کی شرح کی وجہ
سے آپ نے فرمایا
ہم مٹی وانا ہم
مٹی اس سے تھکت
میں شکر و شکریت
کیا ہے کیونکہ زکوٰۃ
تجارتی مال پر ہی
ہے۔
علاوہ قریباً ہر روز
کے الفاظ میں پہلا
ہے۔ اس میں بھی
مال میں دو شکر کیوں
ہوئے گا کہ جب
شکر ہو کر یہ نعمت
کامل مشرف تھا
جو ابھی تقسیم ہوا
تھا اس لئے انحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم
تقسیم کے بعد تک
نصرت جانتے تھے۔

حَتَّىٰ تَرَوْهُمُ قَدْ قَامُوا فَذَكَرُوا لِلَّهِ فِئْتًا مِّنْهُنَّ وَمَا يَدْرَأُونَ بِهِ ۚ

اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میں کو ابھی دیکھا ہوں کہ یہ لوگ اللہ کی عبادت میں
اللہ و انبی رسول اللہ (۱۱۸۷) عن رافع بن خدیج قال قال النبي

مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فكلوا من جزور افتقستم عشاء فقسّم فناكل

لحمًا لذيبي قبل أن تعرب الشمس (۱۱۸۸) عن أبي موسى قال قال النبي

صلى الله عليه وسلم إن الأشعرين إذا أرموا أو ذل لغزوا وقل طعامهم

بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء

واحد بالسوية فهم فرقي وانا منهم (۱۱۸۹) ما كان من خيلتين فانهما

يتراجعا بينهما بالسوية في الصدقة (۱۱۹۰) عن عبد الله (متكر - ۷۷)

(۱۱۹۱) باب تسمة الغنم (۱۱۹۲) عن رافع بن خديج قال لثامع النبي صلى

الله عليه وسلم يدي لحيفة فاصاب الناس جوع فاصابوا ابيلا وعتما قال

وكان النبي صلى الله عليه وسلم في احراب القوم فحجوا اوزذبحوا وانبصوا

القدر وانا من النبي صلى الله عليه وسلم بالقدر فانا كنت ثم قسم هذا

عشرة من الغنم بحد مني فبعتها بعير فطلبوه فاعياهم وكان

في القوم خيل ثيبيرة فاهوى رجل منهم بسهم فحسه الله ثم قال ان الهذبة

البياتح اوبان كما وابد الوخش فما عليك مني فاصنعوا به هكذا فقال جدتي

نصرت جانور میں رکھا۔ ہاتھ یوں کو ایک کرب گوشت اٹھا کیا گیا اور از سر نو تقسیم کیا گیا، بلاشبہ اگر یہ جانور ہاتھ نہ لے لے لوہو وحشی جانوروں کی طرح بھاگتا تو ان کا حکم
ذبح بھی وحشی جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے جس طرح وحشی اور فکائی جانوروں کا ذبح کرنا فردی نہیں بلکہ پیر جو اریزہ بنڈن سے انہیں مار کہیں سے تو ان نکل جلتے تو وہ
ذبح کا حکم رکھتا ہے وامت اور انہیں سے درندے اٹتے ہیں اس لئے اس طرح ذبح کرنے سے منع فرمایا۔ ناخون کو شیشوں کی پھیراں کلبہ شاہدہ بھی وہ ہنول کی طرح انجول
سے جانور کو مارنے ہوں گے۔ امام ابو صفیر نے اس ناخون سے جو ہاتھ سے ہوا ہو گیا ہو جانور کا ذبح کن جانور بھلا ہے اور یہی حق ہے اس لئے کہ وہ چھری اکام رکھتا ہے،

إِنِّي نَرَجُوا وَتَخَافُ الْعَدَا وَغَدَا لَيْسَتْ مَدَى أَنْ تَذُجِرَ بِالْقَصْبِ قَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ

وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكَلِمَةٌ لَيْسَ السِّنُّ وَالظَّفَرُ وَسَاحِدُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ

فَذُظْمٌ وَأَمَّا الظَّفَرُ فَمَدَى الْحَبْشَةِ (۴) بَابُ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشَّرِكِ وَحَقِّقِي

يَسْتَأْذِنُ أَصْحَابَهُ (۵) عَنِ ابْنِ مَرْزُوقٍ (متكرر - ۱۱۰۰) (۵) عَنِ حَبِيبَةَ (متكرر - ۱۱۰۶) (۵)

بَابُ تَقْوِيمِ الْأَشْيَاءِ بَيْنَ الشَّرِكِ وَعَبْدِ اللَّهِ (۶) عَنِ ابْنِ مَرْزُوقٍ (متكرر - ۱۱۰۹)

فَمَلِكُهُ فَعَلِيهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ تَوَمَّ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلِ

لَهُ اسْتَسْبَحَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ (۷) بَابُ هَلْ يُفْرَعُ فِي النِّسْبَةِ وَالْأَسْتِهَامِ

فِيهِ (۱۱۹۹) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ

الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَالِيَةِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ

بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا

رَادُوا اسْتَقْوَامَ مِنَ الْمَاءِ مَرَدًا عَلَى مَنْ قَوْمُهُمْ وَقَالُوا لَوْ آخَرْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرَقًا

وَلَمْ نُوَدِّمْ مَنْ قَوْمَنَا فَنَدَّ كَوْنَهُمْ وَمَا رَادُوا أَهْلَهُمْ أَجْمَعًا وَإِنْ أَخَذُوا

عَلَى يَدَيْهِمْ لَجُودًا وَجِبْرًا أَجْمَعًا (۸) بَابُ شَرِكَةِ الْبَيْتِ وَأَهْلِ الْبَيْتِ (۱۱۹۲)

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ حَفِظْتُمُ إِلَى

عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ رَوَيْتُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ حَفِظْتُمُ إِلَى

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ حَفِظْتُمُ إِلَى

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ حَفِظْتُمُ إِلَى

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ حَفِظْتُمُ إِلَى

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ حَفِظْتُمُ إِلَى

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ حَفِظْتُمُ إِلَى

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ حَفِظْتُمُ إِلَى

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ حَفِظْتُمُ إِلَى

علا کر روایت میں
مرفوع ابن عمر کہتے
مرفوع کا معنیوں بلکہ
دہر ایلیا ہے
علا میں لفظ
کے میں مگر بالمدینہ
کے بعدنی بعض
اہل العرق کا لفظ
نہیں اور میرنا
فیقول کے بعد
تقریراً زیادہ سے
کے الفاظ سے
لئے جلتے ہیں فاعطی
شرک کی خصوصیت
دعوت علیہ کے لفظ
میں نہیں من اعتق
شخصاً لمن عبد
اوشوکا ادکا لخصیبا
وکان اسما بفتح فہ
بقیۃ العدل لکن
سارے غلام کی قیمت
نہو عتق والا
فقد عتق منه ما
عتق - الفاظ والا
سے آخر تک وہاں الی
نے تک ظاہر کیا ہے
کہ یہ حدیث کے لفظ
ہیں یا مانع کے ۱۱۹۹
میں یہ شک نہیں گیا
مشتوں غلام کا ایک
حصہ آزاد کر کے
سے سارا غلام اس
صورت میں آزاد
ہو جائے گا جب
اس حصہ کے آزاد
کر لینے کے پاس
سارے غلام کی
قیمت کے برابر مال
ہو اس صورت میں
وہ باقی مال کو قیمت

۱۱۹۸
۱۱۹۹
۱۲۰۰
۱۲۰۱
۱۲۰۲
۱۲۰۳
۱۲۰۴
۱۲۰۵
۱۲۰۶
۱۲۰۷
۱۲۰۸
۱۲۰۹
۱۲۱۰
۱۲۱۱
۱۲۱۲
۱۲۱۳
۱۲۱۴
۱۲۱۵
۱۲۱۶
۱۲۱۷
۱۲۱۸
۱۲۱۹
۱۲۲۰
۱۲۲۱
۱۲۲۲
۱۲۲۳
۱۲۲۴
۱۲۲۵
۱۲۲۶
۱۲۲۷
۱۲۲۸
۱۲۲۹
۱۲۳۰
۱۲۳۱
۱۲۳۲
۱۲۳۳
۱۲۳۴
۱۲۳۵
۱۲۳۶
۱۲۳۷
۱۲۳۸
۱۲۳۹
۱۲۴۰
۱۲۴۱
۱۲۴۲
۱۲۴۳
۱۲۴۴
۱۲۴۵
۱۲۴۶
۱۲۴۷
۱۲۴۸
۱۲۴۹
۱۲۵۰
۱۲۵۱
۱۲۵۲
۱۲۵۳
۱۲۵۴
۱۲۵۵
۱۲۵۶
۱۲۵۷
۱۲۵۸
۱۲۵۹
۱۲۶۰
۱۲۶۱
۱۲۶۲
۱۲۶۳
۱۲۶۴
۱۲۶۵
۱۲۶۶
۱۲۶۷
۱۲۶۸
۱۲۶۹
۱۲۷۰
۱۲۷۱
۱۲۷۲
۱۲۷۳
۱۲۷۴
۱۲۷۵
۱۲۷۶
۱۲۷۷
۱۲۷۸
۱۲۷۹
۱۲۸۰
۱۲۸۱
۱۲۸۲
۱۲۸۳
۱۲۸۴
۱۲۸۵
۱۲۸۶
۱۲۸۷
۱۲۸۸
۱۲۸۹
۱۲۹۰
۱۲۹۱
۱۲۹۲
۱۲۹۳
۱۲۹۴
۱۲۹۵
۱۲۹۶
۱۲۹۷
۱۲۹۸
۱۲۹۹
۱۳۰۰

اور اسے گناہوں کو باقی مانگے مثل سابق غلام سے کام لیتے رہینگے یہ گویا ہمارے ۱۲۱۱ کے مفہوم کو صاف کر دیتا ہے ایک حصہ آزاد کر لینا ہے بل لازم ہے کہ باقی حصوں کی قیمت دیکر اسے
آزاد کر لے لیکن اگر اس کے پاس اس کے لئے مال کافی نہ ہو تو اس کا حصہ آزاد رہے گا باقی مال اپنے اپنے حصہ کے مطابق اس سے کام لیں گے، معنی ان کا حقیقی ہی حصہ
سے ہے یعنی آپ کے کشتی کے بندھیے قرعہ تقسیم کا ذکر فرمایا ہے حالانکہ اس سے کہ دوسرے سے چھاپی ہوئی ہے قرعہ تقسیم میں قرعہ والا جاسکتا ہے اور حصہ کے بلکہ ہے، مگر اس رقم کا کئی حصہ
یا کئی فرمایا گیا کہ جس میں ساری رقم کی تباہی ہوگئی نظر اس حصہ یا فرقہ کا نہ ہو چھاپی ہو دوسرے حصہ رقم کا فرض ہے کہ اسے ایسا کام سے روک دیں

وَرَبَاةٌ فَقَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْبَيْتِيَّةُ تَكُونُ فِي حَجْرٍ وَلَهَا تَشَارِكَةٌ فِي مَالِهِ

در باب تک (النساء - ۳) تو انہوں نے فرمایا اے بھانجے وہ بیٹی لڑکی ہے کہ اسے وہی کی پردوش میں ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اس

فِي حِجْبِهِ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلَهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بغيرِ أَنْ يَقْسَطَ فِي صَدَقَاتِهَا

کے مال میں شریک ہوتی ہے اسے اس کا مال اور اس کا حسن پسند ہوتا ہے تو اس کا ولی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے بغير اس کے اس کے کسر

فِي عَصَمَتِهَا مِثْلَ مَا يَعْطِيهَا غَيْرَهُ فَمَنْ هُوَ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْهَا أَنْ يَقْسَطُوا لَهَا وَيَبْتَغُوا

میں انصاف سے کام لے اور اسے اتنا دے جتنا دوسرا دے گا میں وارثوں کو ان سے نکاح کرنے سے روک دیا گیا سوائے اس کے کہ ان کے ساتھ انصاف

يَهْتَمُّ أَعْلَى سِتْرَتِهِنَّ مِنَ الصَّدَقَاتِ وَأَمْرُو أَنْ يَتَّخِذُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ

کریں اور ان کے دستور کے مطابق جو زیادہ سے زیادہ تمہارے نہیں ہیں اور انہیں ٹھکر دیا گیا کہ ان کے سوائے جو عورتیں انہیں پسند ہوں ان سے

سِوَاهُنَّ ۚ قَالَ عَرُودٌ قَالَتْ عَائِشَةُ ثَمَرَاتُ النَّاسِ اسْتَفْتُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

نکاح کریں عروہ نے کہا میں حضرت عائشہ کے فریاد پھر لوگوں نے اس آیت کے بعد رسول اللہ صلعم

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ إِلَى قَوْلِهِ تَرَعِبُونَ

سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان سے استفتو کرنا فی النساء (النساء - ۱۱۶) دترغبون ان

أَنْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ذِكْرًا لِلَّهِ أَنَّهُ يَتْلُو عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ آيَةَ الْأُولَى لِيَقَالَ

تنبیہ کریں کہ اور اللہ نے جو فرمایا ہے کہ یہ کتاب میں پڑھا جاتا ہے وہ وہی پہلی آیت ہے جس میں فرمایا

وَهَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْسَطُوا فِي لَيْثِي فَأَتَّخِذُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ

وہ ان خفتہ (النساء - ۳) اگر تم کو ڈر ہو کہ تمہاری لیس میں انصاف نہ کر سکو تو جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح

عَائِشَةُ وَقَوْلَ اللَّهِ فِي آيَةِ الْأُخْرَى تَرَعِبُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ذِكْرًا لِلَّهِ

کہ حضرت عائشہ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ کا قول دوسری آیت میں دترغبون الخ اور تم پسند نہیں کرتے کہ ان سے نکاح کر دینی تمہیں سے ایک کو اپنی

أَحَدَكُمْ لِيَتِمَّتْ بِهِ الْبَيْتِيَّةُ تَكُونُ فِي حَجْرٍ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ الْأَجْمَالِ فَهَذَا

اس میں لڑکی سے جو اس کی پردوش میں رہتی ہے بنتی ہوتی ہے۔ جب اس کا مال اور حسن کم ہو پس انہیں

أَنْ يَتَّخِذُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ بَيْتِي النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ

ان میں لڑکیوں کے نکاح سے روک دیا گیا جن کا مال اور حسن ان کو پسند تھا سوائے اس کے کہ ان سے انصاف کر دین اس وجہ سے کہ لایا وچ

رَغِبْتُمْ عَنْهُمْ (۸) بَابُ الشَّرَكَةِ فِي الْأَرْضَيْنِ وَغَيْرِهَا (۱۱۲۲) عَنْ جَابِرٍ

کہ ان سے بھی بے رغبتی کریں بَابُ زَيْنِ وَغَيْرِهِ فِي شَرِكِ بَوْنًا

کتاب فی ان آیات کی وہ توجیہ ہے جو حضرت عائشہ نے بیان کی ہے تفسیر میں اس کی کوئی توجیہ نہیں دی گئی میں نے بیان القرآن میں اس پر فصل بحث کی ہے

کتاب طحا میں شفعہ کا ذکر ہے اس میں یہ لفظ میں الشفعة فی کل مال انقسم اس سے معلوم ہوا اس میں شریک ہوتی ہے اور چونکہ شفعہ جائد و غیر مستفوع ہے اس لئے معلوم ہوا کہ یہاں جائداد بغير مشقور کا بھی ذکر ہے

کتاب بیان نظر - ۹۰ کے ہیں بعض فقہاء نے غیر ضروری اجتہاد اور کریمے لوگوں پر معاملات میں بہت تنگی ڈالی جو شرک اگر دو شخص شریک ہو جائیں ایک کے پاس روپیہ ہو دوسرے کے پاس اشرفیاں

تو بعض نے اسے جائز کہا ہے مگر حدیث میں اس کی ممانعت کوئی نہیں اس لئے امام بخاری نے اس پر سختی کی اور درست نہیں سمجھا

۱۰۲۶ کے علاوہ ۹۶۰ میں بھی لکھ چکی ہے یہاں متصل آئی ہے۔ سات

ابن المنہال عن النور بن عبد فقال اشترت انا وشريك في شيئا يابلا ميديا وشيئا من ثياب البراء من عاذب فاشاناه فقال فعلت انا وشيخي زيدان ارقم وسالنا النبي صلعم عن ذلك فقال ما كان يدان بدين فخذوه وما كان نسيمة فخذوه فمضمون حدیث کی تشریح کتاب البیوع میں ہو چکی ہے

(۱۱۳۵) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (متكرر - ۱۱۳۲) بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَمِ وَالْعَدْلُ فِيهَا

دیکھو حدیث ۱۱۳۲ بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَمِ اور اس میں انصاف کی

(۱۱۳۶) عَنْ عُقَيْبِ بْنِ عَامِرٍ (متكرر - ۱۱۱۵) بَابُ الشَّرِكَةِ فِي الصَّاعَةِ وَغَيْرِهَا

دیکھو حدیث ۱۱۱۵ بَابُ الشَّرِكَةِ فِي الصَّاعَةِ وَغَيْرِهَا

وَيَذْكَرُ أَنَّ رَجُلًا سَارَ مَشِيًا فَخَمَزَهُ أَحْرَفُ رَايَ عُمَرَ أَنَّ لَهُ شِرْكَهٗ (۱۱۹۳) عَنْ

عبد اللہ بن ہشام سے روایت ہے اور انور نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے بارے میں کہا ہے

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِشَامٍ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَتْ بِهِ أُمَةٌ

عبد اللہ بن ہشام کے پاس سے گئی تھی اور اس نے غرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے بارے میں

فَقَالَ هُوَ صَغِيرٌ فَسَمُوهُ رَأْسَهُ وَوَعَالَهٖ وَعَنْ زُهَيْرَةَ بْنِ مَعْبُدٍ أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ بِهِ

فرمایا وہ چھوٹا ہے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کی دعا کی اور زہیرہ بن معبد سے کہ اس نے کہا کہ وہ ایک عداوت سے

جَدَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِشَامٍ إِلَى الشُّوْقِ فَيْشْتَرِي لِطَعَامِهِ فَيَلْقَاهُ ابْنُ عَمْرٍو ابْنِ

ابن ہشام بازار کی طرف جھانکتے ہیں اور ابن عمرو بن زہیرہ سے ملے

الزَّيْبِيُّ يَفِيقُو لَهُ أَشْرَكَنَا فَمِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ دَعَاكَ

تو ان سے کہتے ہیں ہمیں بھی شریک بنا دے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے برکت کی دعا مانگی ہے

بِالْبُرْكََةِ فَيْشْرِكُكُمْ فَرَبِئْنَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ

اور ان کو شریک کر دیتے ہیں پھر پورا اونٹ نفع دیتا اور اسے گھر بھیج دیتے

(۱۱۳۷) بَابُ الشَّرِكَةِ فِي التَّرْتِيقِ (۱۱۲۷) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (متكرر - ۱۱۹۹) (۱۱۲۸)

باب غلام میں شریک کرنا دیکھو حدیث ۱۱۹۹

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (متكرر - ۱۱۹۹) بَابُ الشَّرِكَةِ فِي الْمَدِينِ إِذَا شَرِكَتُ الرَّجُلِ

دیکھو حدیث ۱۱۹۹ بَابُ الشَّرِكَةِ فِي الْمَدِينِ إِذَا شَرِكَتُ الرَّجُلِ

الرَّجُلِ فِي هَدْيِهِ يَبْعَثُ مَا هَدَى (۱۱۲۹) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر - ۱۱۶۱) بَابُ مَنْ

کوئی قربانی میں لے کر آئے ہوئے کسی کو شریک کرے

عَدْلُ عَشْرِ أَقْمِنِ الْعَمْرِ خُزْرٍ فِي الْقِسْمِ (۱۱۳۰) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ (متكرر - ۱۱۸۹)

دیکھو حدیث ۱۱۸۹ عَدْلُ عَشْرِ أَقْمِنِ الْعَمْرِ خُزْرٍ فِي الْقِسْمِ (متكرر - ۱۱۸۹)

تقسیم میں دس بکریوں کو ایک اونٹ کیساتھ برابر کرے

کتاب فی الشریکۃ

بَابُ الشَّرِكَةِ فِي الصَّاعَةِ وَغَيْرِهَا

دیکھو حدیث ۱۱۱۵

سے کہ مختلف ہے قدم نبی صلعم صحیح اور اب سے ذی الحجۃ مہلین بالجہ لا یخلط لہم شیئ فتمسا قد منا امرنا فاجعلنا ما عمرة وان فحل انی شامنا ففشت فی ذلک القالی قال عطاء قال جابر بن ویروح احد مالکی منی و ذکرہ یقطر منیا فقال جابر بکھ قبیلۃ ذلک النبی صلعم تقام خطیبنا انقال بلغنی ان اقواما یقولون کذا ولکن اذاللہ لانا ابورا ففی اللہ منهم ولو انی استقیمت من امری ما استم برت ما اھدیت ولولا ان صمی اللہ لا حملت تقام سروانہ بن مالک بن جحوف فقال یا رسول اللہ ہی لنا اولاد یقال لا بل لا بل قال وجاء علی بن ابی طالب فقال اھدھما یقول لیبک بما اھل بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال الا خسر لربک بحجة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فامر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتیم علی اھرامہ و اشوک فی ذلہ دے تک یہ مسودات قیمت کے گمانے ہے اور افادت قیمت کے تمہیں دس بکریوں اور ایک اونٹ کا مناسب بھی ہے کہ ہے کہ کہ روایت کی ابتدا میں ہے کہنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذی المحلیفة من تھامت فاصدنا غنما وابل فنجعل لقوم فانظر اھا القدر فجاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فامر یھا ان کففت ہ اس کے بعد کا منبر میں ایک ہے صرف تھورانی غنلی فرق ہے

کتاب الرهن

رهن کی کتاب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اشتریت آتھار جم ونے بار بار جم
کتاب الرهن

باب فی الرهن فی الحضر

باب حضر میں رکھنا

وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَيُحْضِرُونَ مَقْبوضَةً (۱۱۳۱)
اور اللہ تعالیٰ کا قول اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ ملے تو تمہارے قبضہ میں رکھے اور رکھ لو البقرہ - ۲۸۳

عَنْ أَنَسٍ (متكرر - ۱۰۳۰) بَابٌ مِنْ رُهْنٍ دَرَعَةٌ (۱۱۳۲) عَنْ
دیکھو حدیث ۱۰۳۰ کا باب جو اپنی ذرہ گرد کے

عَنْ أَنَسٍ (متكرر - ۱۰۳۰) بَابٌ مِنْ رُهْنٍ السَّلَاحِ (۱۱۹۴) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ
دیکھو حدیث ۱۰۳۰ کا باب ہتھیار کو رکھنا جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے

اللَّهُ رَضِيَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رُهْنِ الْأَشْرَفِ وَالْأَذَى
کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعب بن اشرف کا ذمہ کون رکھا کیونکہ وہ

اللَّهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمِعْتُ بِن مَسْرُومَةَ أُنَا فَاثَاءَةَ فَقَالَ أَرْدَنَانِ
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا تھا تو میں نے عرض کیا میں سو وہ کعب کے پاس گئے اور کہا کہ چاہتے ہیں کہ تم

تَسْلِفْنَا وَسُقَا أَوْ سَقِينِ فَقَالَ رَهْنُونِي نِسَاءَ كَهْ قَالُوا كَيْفَ نَرَهْنُكَ نِسَاءَ نَا وَأَنْتَ
میں ایک یا دو سو قرض دو تو اس نے کہا اپنی عورتیں میرے پاس رہن رکھو انہوں نے کہا اپنی عورتیں کس طرح تمہارے پاس رہن

أَجْمَلِ الْعَرَبِ قَالَ فَارَهْنُونِي أَبْنَاءَ كَهْ قَالُوا كَيْفَ نَرَهْنُ أَبْنَاءَ نَا فَنَيْسَبُ أَحَدَهُمْ
رکھیں اور تم عرب میں سب سے زیادہ خوبتر ہو کہ تو اپنے بیٹے میرے پاس رہن رکھو انہوں نے کہا کس طرح ہم اپنے بیٹے رہن رکھیں ان میں سے کبھی کبھی

فِي قَالَ رَهْنُ يَعْزِقُ أَوْ سَقِينِ هَذَا عَادَ عَلَيْنَا وَلَكِنَّا نَرَهْنُكَ الْأُمَّةَ
دی چلے گی تو کہا جئے گا ایک یا دو سو میں گرد کیا گیا تھا یہ جاننے کے شرم کی بات ہے البتہ ہم تمہارے پاس ہتھیار رہن رکھتے ہیں

قَالَ سَفِيَانٌ يَعْنِي السَّلَاحَ فَوَعْدَةٌ أَنْ تَأْتِيَهُ فَفَسَلُوا لَهُ أَتَوَّأَ الْبَيْتِ
سفیان کہتے ہیں لاشعرا سے مراد ہتھیار ہے تو اس کے وعدہ کیا کہ پھر اس کے پاس آئے سو انہوں نے اسے قتل کر دیا پھر

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ (۴) بَابُ الرُّهْنِ مَرْكُوبٌ وَتَحْلُوبٌ
صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضر ہوئے اور آپ کو خبر دی کہ باب رکھنی جانور پر سوار کی جاسکتی ہے اور اس کو دوہ

وَقَالَ مَخِيْرَةٌ عَنْ رَبْرِهِيمَ تَرَكِبُ الضَّالَّةَ بِقَدْرِ عِلْفِهَا وَتَحْلُبُ
مخیرہ نے کہا کہ سوار ہونے کے لئے رکھنے والے جانور پر رکھنے کے لئے اس کے بارے میں سوار کی ہوگی اور اسے گھاس کھلا دینے کے برابر

کتاب الرهن
اس کے عنوان اپنا پتہ
مال خرخواہے پاس
رکھنے کے لئے
رکھنا۔ رهن گرد
رکھنے والا جو اور وہ
جس کے پاس مال رکھا
رکھا جاتا ہے اور اس
مال پر وہ رهن
ہے سفر کی حالت
میں گرد کا ذکر ہے
قرآن کریم میں ہے
اور بالافتح جانور
مگر سفر کا ذکر ہے
نہیں بلکہ ایک حالت
کا ہے۔ اور
صلی اللہ علیہ وسلم
حالت حضر میں
ذرہ گرد کی اس لئے
رهن باقی ہے جو حالت
میں رہت ہے
جانور اور منقولہ ہوا
قرآن میں

کتاب الرهن
اس کے عنوان اپنا پتہ
مال خرخواہے پاس
رکھنے کے لئے
رکھنا۔ رهن گرد
رکھنے والا جو اور وہ
جس کے پاس مال رکھا
رکھا جاتا ہے اور اس
مال پر وہ رهن
ہے سفر کی حالت
میں گرد کا ذکر ہے
قرآن کریم میں ہے
اور بالافتح جانور
مگر سفر کا ذکر ہے
نہیں بلکہ ایک حالت
کا ہے۔ اور
صلی اللہ علیہ وسلم
حالت حضر میں
ذرہ گرد کی اس لئے
رهن باقی ہے جو حالت
میں رہت ہے
جانور اور منقولہ ہوا
قرآن میں

الحضریٰ باب قبل کعب میں آئی ہے اور اس کا وہ نام ہی جاتا ہے کہ کعب قبل شہن کے ساتھ جنگ سے تعلق رکھتا ہے میان اس حدیث کو لانے کی غرض صرف تمہارا کہ بہن
کعب کے لقب ہے۔ اس کے قتل کی وجہ جو یہ تھی بلکہ یہاں اور اور ترمذی میں ہے جو حضرت خلیفہ کفار قریش۔ یعنی قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کیلئے اٹھاتا تھا۔ بلکہ ابن
عابد کی روایت میں ہے ان کعب بن الاشرف تھا جو علی مشرک قریش تھا انھیں عند استار الکعبۃ علی قتال المسلمین اور تمام شامین نے کعب سے کعب عبد کو تو کر
انھوں نے علی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ مل گیا اس لئے اس سے وہی سلوک کرنا چاہئے تھا جو دشمنوں سے ہوتا تھا

يَقْدِرُ عَلَيْهَا أَوْ الزَّهْنُ مِثْلَهُ (م- ۱۱۳۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر- ۱۱۹۵)

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جانور یا عورت کو دودھ پلانے سے روک دے تو اسے دودھ پلانے والی جانور یا عورت کی جگہ پر لے جائے اور وہ دودھ پلائے گا۔

(۱۱۹۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّهْنُ يَرْكَبُ يَرْكَبُ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جانور یا عورت کو دودھ پلانے سے روک دے تو اسے دودھ پلانے والی جانور یا عورت کی جگہ پر لے جائے اور وہ دودھ پلائے گا۔

يَشْرِبُ الثَّفَقَةَ (۵) بَابُ الزَّهْنِ عِنْدَ الْيَهُودِ وَغَيْرِهِمْ (م- ۱۱۳۴) عَنْ عَائِشَةَ

دودھ پلانے والی جانور یا عورت کو دودھ پلانے سے روک دے تو اسے دودھ پلانے والی جانور یا عورت کی جگہ پر لے جائے اور وہ دودھ پلائے گا۔

(متكرر- ۱۰۳۰) (۶) بَابُ إِذَا اخْتَلَفَ الزَّاهِنُ وَالْمَرْثَمُنُ وَهُوَ كَالْبَيْتَةِ عَلَى

دو چیزیں ہیں: ایک ہے کہ اگر کوئی جانور یا عورت کو دودھ پلانے سے روک دے تو اسے دودھ پلانے والی جانور یا عورت کی جگہ پر لے جائے اور وہ دودھ پلائے گا۔

الْمُدْعَى وَالْيَمِينِ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ (۱۱۹۶) عَنْ ابْنِ أَبِي مَلِيكَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ

ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ اگر کوئی جانور یا عورت کو دودھ پلانے سے روک دے تو اسے دودھ پلانے والی جانور یا عورت کی جگہ پر لے جائے اور وہ دودھ پلائے گا۔

عَبَّاسٍ فَوَضَعْتُ لِي أَنْ الشَّيْخُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ

کو دیکھا تو انہوں نے مجھے بتا کر تمہاری تعلیم کی ہے کہ اگر کوئی جانور یا عورت کو دودھ پلانے سے روک دے تو اسے دودھ پلانے والی جانور یا عورت کی جگہ پر لے جائے اور وہ دودھ پلائے گا۔

(م- ۱۱۳۵) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (متكرر- ۱۱۲۴)

دیکھو حدیث ۱۱۲۴

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بعض اوقات ہمیں ایسا ہی کہتا ہے کہ زیادہ دودھ پلانے والی جانور یا عورت کو دودھ پلانے سے روک دے تو اسے دودھ پلانے والی جانور یا عورت کی جگہ پر لے جائے اور وہ دودھ پلائے گا۔

۴۹- کتابُ الْعِتْقِ

(بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعِتْقِ وَفَضْلُهُ وَقَوْلُهُ تَعَالَى تَاكَ رَقَبَةً أَوْ اطْعَامَ فِي يَوْمٍ)

باب غلام آزاد کرنے اور اس کی فضیلت کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ آزاد کرنا یا جوگ کے دن تراپتا

سواری اور دودھ کو جائز قرار دیتی ہے۔ خواہ فریج کم ہو اور فریج زیادہ ہو۔ یا فریج زیادہ ہو اور فریج کم ہو۔ عتق یہ حدیث ہے کہ عتق ایک مضبوط اصول قائم کرتی ہے۔

علا قرآن کریم میں
است العقیدہ کیا گیا
ہے یعنی غلام کا آزاد
کرنا اور تیس سالوں کی
پرورش اور چھٹی سال
پر چھٹا ہی اسلام
نے غلام کو آزادی
کا تہہ بھی رسد کھولا
تھا اور طرح طرح کے
پیرایوں میں اس کی
تفصیلات کی طرف
توجہ دینی تھی۔
کیونکہ اس وقت تک
دوسرے زمانوں میں
اس لئے تہہ ہی آزادی
کی پیدا ہوئی
تھا۔ غلام کو نفل سے
انعام بھی ہوا کرتا
ہے۔ حدیث سنائی۔
اس حدیث کی تفصیلات
کے بعض نسخے
آزاد کرنا اور قرآن
کو تہہ سے پہلے
بھی آسکتے ہیں۔
بعض نسخے میں علی رضی
اللہ عنہ کی تہہ
کی تہہ ہے۔ جس
تفصیلات کی اس قدر
تفصیلات نہیں کی
گردن کو آزاد کرنا
دوسرے کی ہر کوئی
باب ہنر کا کام
دے۔ یہ بھی ایک
گردن کو آزاد کرنا
کیونکہ جو شخص اپنی
سوزی کمانے سے
تو آزاد ہو گیا
ایک نسخے کی حالت
میں بھی ہے جو

ذو مغربہ یتیمہ ذامقربہ (۱۱۹) عن ابی ہریرۃ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ولیس یتیم کو کھانا کھانا (۱۱۹) مل

ایما رجل اعنت امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضواً ممن النار
جو شخص کسی مسلمان کو آزاد کرے تو اللہ اس کے ہر عضو کے بدلے اس کا ایک عضو آگ سے آزاد کرے گا

قال سعید بن مرجانۃ فانطلقت الی علی بن حسین فعبد علی بن حسین الی
سعید بن مرجانہ تھے ہیں میں علی بن حسین کے پاس گیا تو علی بن حسین نے ایک غلام کا ارادہ کیا

عبد لہ قد اعطاه بہ عبد اللہ بن جعفر عشرۃ الاف ودرہم اوالف وینار
جس کے عوض عبد اللہ بن جعفر اسے دس ہزار درہم ایک ہزار نارا وینا دیا تھے

ذاعتقہ (۱۲) باب ائی الترقاب افضل (۱۱۹) عن ابی ذر بنہ قال سالت النبی
ذاعتقہ باب ایسا غلام آزاد کرنا افضل ہے

صلی اللہ علیہ وسلم ائی العمل افضل قال ایمان باللہ وجماد فی سبیلہ قلت
سچے جماد کو نفل بہتر ہے فرمایا اللہ ایمان اور اس کی راہ میں جماد کرنا

وائی الترقاب افضل قال اغلاھا ثمناً و اغلاھا عند اھلہا قلت فان لکم
کیا کسی گردن کو آزاد کرنا افضل ہے فرمایا جس کی قیمت زیادہ ہو اور اسے مالوں کو زیادہ پسند ہو میں نے عرض کیا اگر ذکر سکون

افعل قال تعین صانعاً و تصنع لآخرق قال فان لکم العمل قال تدع الناس
فرمایا کسی کارگری کرنا اور کام بنانا ہے میں نے عرض کیا اگر بڑے بڑے مالوں کو فرمایا تو لوگوں کو تکلیف نہ

من العتق فی المصدقة تصدق بها علی نفسک (۱۳) باب ما یستحب
شوق ہے یعنی ایک صدقہ سے جو تو اپنے اوپر کرنا ہے

من العتقۃ فی لکسوت و الایات (۱۳۶) عن اسماء متکرم (۵۸۹) (۱۳۶)
نفلان کے وقت غلام آزاد کرنا مستحب ہے

عن اسماء متکرم (۵۸۹) (۱۳۶) باب جب ایک غلام کو خود آجیوں میں شریک بنانا کرے یا ایک

الشیء کا (۱۳۸) عن عبد اللہ بن مسعود (۱۱۹) عن عبد اللہ بن مسعود (۱۱۹)
رہی کو کوئی شریک نہ کرے

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعنت شریکاً فی عتق ذکاب کان لہ قال ینبغ من العتق ویر العتق
مصر نے فرمایا جس نے اپنا حصہ جو غلام میں ہوا آزاد کر دیا اور اس کا ایشام مال ہو کہ غلام کی قیمت کے برابر ہو تو غلام کو

قیمۃ عدل فاعطى شریکاً حصصہم وعتق علیہ ویر الا فذل عتق منه ما عتق
قیمت انصاف کے ساتھ لگا دی جائے اور وہ اپنے شریکوں کو لیکر حصہ مار کر قیمت دے دے گا اور وہ اسکی طرف آزاد ہو جائے گا اور اس سے اتنا

لوگ تو اپنی ہر حالت میں نیکان کے پاس سراپہ نہیں کر دہ اپنی معاش پیدا کر سکیں تو ان کو سراپہ دینا یا جو ہنر نہیں جانتے تو ان کو وہ ہنر سکھا دینا یا بھی وہ حقیقت غلامی

سے آزادی دینے کے برابر ہے اور ذکوہ کے معنی میں جو غلاموں کے آزاد کرنا ذکر ہے اور نفل غلامی اس رنگ میں نہیں ہے نہیں تو اسکی جگہ یہ روپیہ مالوں کو کام کے

قابل نہیں ہر دوسرے ہنروں کو ہنر سکھانے پر یعنی انکی تعلیم پر صرف کرنا صحیح صرف ذکوہ ہے۔ ذکوہ کے معنی میں بلکہ وجہ تنگی کی نہیں ہے۔ مٹاس کے نفل اور

ہیں کہ ذمہ غلامی بالخصوص بالعناقتہ مثلاً جب ایک لونڈی کئی شریکوں میں شریک ہو سکتی ہے تو ان لوگوں کے نزدیک جو محض ملکیت کو لوٹتی سے وہی کے لئے

وجہ جائزہ قرار دیتے ہیں کیا تو ہی ہو گا کہ اس طرح اس سے کام لینے کا حق ہے وہی کا حق بھی ہو گا اور وہ لا دوسرے کی ہو گی یا وہ بھی شریک ہو گی۔ مٹاس کے

لفظ میں من اعنت عبد اللہ بن اشہم فان کان موسیٰ او قیم علیہ شریعتی +

لوگ تو اپنی ہر حالت میں نیکان کے پاس سراپہ نہیں کر دہ اپنی معاش پیدا کر سکیں تو ان کو سراپہ دینا یا جو ہنر نہیں جانتے تو ان کو وہ ہنر سکھا دینا یا بھی وہ حقیقت غلامی

سے آزادی دینے کے برابر ہے اور ذکوہ کے معنی میں جو غلاموں کے آزاد کرنا ذکر ہے اور نفل غلامی اس رنگ میں نہیں ہے نہیں تو اسکی جگہ یہ روپیہ مالوں کو کام کے

قابل نہیں ہر دوسرے ہنروں کو ہنر سکھانے پر یعنی انکی تعلیم پر صرف کرنا صحیح صرف ذکوہ ہے۔ ذکوہ کے معنی میں بلکہ وجہ تنگی کی نہیں ہے۔ مٹاس کے نفل اور

بہا میں اختیار کیا گیا
 لہذا قبل اچھڑنے
 و مدخل غلام و مہر
 بطلب الاسلام
 فضل احد ہما
 صاحبہ بعد ازاں
 قال اما انی اشہد
 انہ اللہ نامی آخری
 دو لفظوں سے
 عنوان باب ہے
 عا بعد لہا وہ
 لڑائی ہے جس کی
 لہنے مانگے اولاد
 ہو تدا الامۃ
 رہنے کے الفاظ
 حدیث سے لے کر
 ہیں اور اس کی تفسیر
 کے لئے دیکھو نوٹ
 ص ۲۴۰ پر
 ایک توجیہ یوں بھی
 کی گئی ہے کہ ام ولد
 کو مالک کی وفات
 کے بعد آزاد کرنا صحیح
 نہیں ہے اس طرح
 بیٹا مالک کا نہیں
 جائے گا
 صحیح بخاری روایت
 میں ۱۱۲۱ کا مضمون
 باختلاف الفاظ
 و درہا لیا ہے یہاں

(م- ۱۱۴۵) عَنْ قَيْسٍ مَتَكْرَرٍ (۱۲۰۱) (۸) بَابُ امْرِ الْوَلَدِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ النَّبِيِّ
 دیکھو حدیث ۱۲۰۱ باب ام ولد کا بیان ابو بکر سے روایت
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تَلِدَ الْأُمَّةُ رَبِّهَا (م- ۱۱۴۶)
 کہ سات کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ لڑکی اپنے رب کو جنم دے
 عَنْ عَائِشَةَ (مَتَكْرَرٍ- ۱۰۲۱) (۹) بَابُ بَيْعِ الْمَدَائِرِ (م- ۱۱۴۷) عَنْ جَابِرِ
 دیکھو حدیث ۱۰۲۱ باب بیع المدائیر کے بارے میں
 ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ (مَتَكْرَرٍ- ۱۰۶۶) (۱۰) بَابُ بَيْعِ الْوَلَدِ وَهَيْبَتِهِ (۱۲۰۲) عَنْ ابْنِ
 دیکھو حدیث ۱۰۶۶ باب ولاد کی بیع اور اس کا ہیب کرنا
 عُمَرُ بْنُ يَقْتُوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَدِ وَعَنْ هَيْبَتِهِ
 کہ رسول اللہ سے بیع اور اس کے ہیب کرنے سے منع فرمایا
 (م- ۱۱۴۸) عَنْ عَائِشَةَ (مَتَكْرَرٍ- ۳۱۹) (۱۱) بَابُ إِذَا أَسْرَأَ أَخُو الرَّجُلِ أَوْ عَمَتُهُ
 دیکھو حدیث ۳۱۹ باب جب کسی کا بھائی یا بہن کا بھائی یا بہن
 هَلْ يَفَادِي إِذَا كَانَ مُشْرِكًا وَقَالَ أَنَسُ قَالَ لِعَبَّاسٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 چلے اور وہ مشرک ہو تو کیا اس کا فدیہ دیا جائے اور اس لئے کہ حضرت عباس نے نبی سے فرمایا
 فَادَيْتَ لِنَفْسِي وَفَادَيْتَ عَقِيلًا وَكَانَ عَلَيْهِ نَصِيبٌ فِي تِلْكَ الْغَنِيمَةِ السَّبْقِ
 میں نے اپنا فدیہ دیا اور عقیل کا فدیہ بھی دیا اور حضرت علی کا اس غنیمت میں حصہ تھا
 أَصَابَ مِنْ أُخِيهِ عَقِيلٌ فَبَعَا عِيَابِيسَ (۱۲۰۳) عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ
 ان کے بھائی عقیل اور ان کے بھائی حضرت عباس سے علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انصاری سے چند آدمیوں
 اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا ائْذَنْ فَلَنَتْرُكُ كَلَابِئِنَ
 نے رسول اللہ سے اجازت طلب کی انہوں نے عرض کیا کہ آپ اجازت دیں کہ ہم اپنے بھائی
 اخْتَبَأَ عِيَابِيسَ فَنَدَّاءُ قَالَ لَا تَدْعُونَ مِنْهُ وَرَهْمًا (۱۲۰۴) بَابُ عِتْقِ الْمُشْرِكِ
 عباس کا فدیہ چھوڑ دیں فرمایا اس میں سے ایک درم بھی نہ چھوڑو گے باب مشرک کا آزاد کرنا

کے الفاظ کا مآخذ مسلم و صحیح بخاری و صحیح بخاری و صحیح بخاری و صحیح بخاری کے
 الفاظ میں نہیں لگے یہاں یہ لفظ میں اعتق رجب منا عبد اللہ عن برداء عن النبی صلعم بہ فباعہ قال جابر مات الغلام مامل و لہ اذکر وہ غلام جب
 فرت برتاس کا حق خلافت رولا مالک کو بیعت ہے چونکہ یہ ایک برہمن ہا ہے کہ وہ مال چھوڑے گا یا نہیں اس لئے اس کا ہیب بیع بھی درست نہیں ہے علیہا
 روایت کوچہ کی جتنی سے علی ہے عن عائشہ قالت اشترت بوریق فاشترط اہلہا و لا مہانہ کرت ذلک للنبی صلعم فقال اعتقہا لانہ الی و لمن اعطی
 اللہ فاعتقہا فاندھا النبی صلعم فبخرھا من زوجھا فقال لہ اعطانی کذا و کذا اما ثبت عندی فاختارت نفسها اعطی صلعم نے برہمن کو جب وہ
 آزاد ہو جائے اختیار دیا کہ چاہے اپنے شوہر کے پاس رہے چاہے اس سے جدا ہو جائے کتاب النکاح باب الحرة تحت العبد میں اس کی بحث آئے گی۔ عنوان
 باب کا تعلق الولد من اعطى اللہ سے ہے بین لا حصر من آزاد کرنے والے کا حق ہے۔ ایک سنن اربعہ میں ایک روایت ہے من مملک ذرہم محرم فہو
 یعنی جب کوئی محرم قرابت والے کا مالک ہو جائے تو وہ آزاد ہوتا ہے۔ امام بخاری اس کی تردید کرتے ہیں اس بنا پر کہ جنگ بدر میں عباس اور عقیل فدیہ ہوئے اور وہ
 رسول اللہ صلعم اور حضرت علی کے محرم قرابت والے تھے مگر جنگ کے قیدی فوراً غلام نہیں ہو جاتے اور دوسرے وہ ساری قوم کے مملوک ہوتے ہیں ذاک فرمایا
 دوسرے فروگے اور آج اس سلسلہ کی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں۔ جنگ کے قیدیوں کا فدیہ بھی تاوان جنگ کے طور پر ہوتا ہے ذمیت کے طور پر نہ حضرت مہا
 کے والا عبد الملک کی ان بی بی خارجی میں سے تھیں اس قرابت سے انہوں نے حضرت عباس سے فدیہ لینے کی خواہش ظاہر کی۔ اور رسول اللہ صلعم کی قرابت کو ہر حالت قلب ظاہر
 کیا گیا اس طرح دوسرے قیدی بھی خارجیوں کی قرابت والے تھے۔ آنحضرت صلعم نے اس بنا پر کسی کو آزاد نہیں کیا دیکھو جنگ کے قیدی ہزاروں کی تعداد میں بھی آزاد کرنا

(۵- ۱۱۴۹) عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزْرَامٍ (متکرم - ۴۹) (۱۱۳) **بَابُ مَنْ مَلَكَ**
 دیکھو حدیث ۷۹۹ ص ۷۷ باب جو کسی عرب غلام
 مِنَ الْعَرَبِ رَقِيقًا فَوَهَبَهُ بَاعَ وَجَامِعَهُ وَفَدَى وَسَبَى النَّبِيَّةَ وَقَوْلَهُ تَعَالَى
 كَايَاں جو ملے پھر بیچ کر دے یا زکوٰۃ کرے
 ضَرِبَ اللَّهُ مَغْلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا
 کا قول اس ایک غلام کی مثال بیان کرتا ہے جو عہد مرہم کے اختیار میں ہے کسی چیز کی مالک نہیں رکھتا اور ایک وہ ہے جسے اسے اپنے
 فَلَوْ يَفِيْقُ مِنْهُ بِرَأْسِ جِهْرٍ أَهْلٌ يَسْتَوُونَ الْحَمْدَ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
 ہاں سے رزق دیا ہے سو وہ اس سے بھرا کر اور ظاہر فرما کر تا ہے کیا یہ بعدوں برابر میں سب لوگوں اشکبہ ہو چکا نہیں اگر نہیں چاہتے (مترجم)

(۵- ۱۱۵۰) عَنْ مَرْوَانَ (متکرم - ۱۱۹) (۱۲۰) **عَنْ ابْنِ عُرْوَةَ قَالَ لَبِثْتُ إِلَى**
 دیکھو حدیث ۱۱۹ ص ۷۷ ابن عروہ سے روایت ہے کہ میں نے نافع کو کھانا
 نَافِعٍ فَكُتِبَ إِلَيَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُونَ
 تو انہوں نے مجھے (جو اب میں بیٹھا کرتی تھی) علم نے بنی المصطلق پر حملہ کیا اور وہ غفلت میں تھے
 وَأَنَّا هُمْ تَسْقَى عَلَى الْمَاءِ فُقِتِلَ مَقَاتِلُهُمْ وَسَبَى ذُرَارِيُّهُمْ وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ
 اور ان کے جانور پانی پر تھے انہیں پانی پلایا جا رہا تھا تو ان کے لڑائیوں کو قتل کر دیا اور ان کے بچوں کو قید کیا اور اسی دن
 جَوَيْرِيَّةٌ حَدَّثَنِي بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ (۲۰) **عَنْ**
 جویریہ بنی شیبہ سے روایت ہے کہ میں نے عبد اللہ بن عمر سے یہ حدیث بیان کی اور وہ اس لشکر میں تھے
 ابْنِ سَعِيدٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ
 ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ہم بنی مصطلق کی جنگ میں رسول اللہ صلعم کے ساتھ تھے

علا کر روایہ کے شرح میں یہ زائد ہے ان حکیم بن حزام اعتق فی انعامیہ مائتہ رقیقہ وحمل علی ما تہم بہ علیہ اسلام حمل علی مائتہ بعباد واعتق مائتہ رقیقہ قال فسالت رسول اللہ صلعم فقال اس کے بعد ۷۹۹ ص ۷۷ صحیح البخاری ج ۱۱ ص ۱۱۵۰ معا کے بعد میں اس کی تفسیر میں ہے۔ اہم زبھا نے الباحلیہ من صدقہ ارضتہ رقیقہ وصلحہ رحم نفل فیہا من اجرک لفظ بیان نہیں اور صلح کے بعد یہاں تک زائد ہے اس سے صلعم جو اکثر کر

آذا کرنے کا بھی قراب ہے۔ اسلام کی فیات انہوں تک محدود نہیں وہ مظلوما ذی سفیان ثوری ابو ثور سعید بن السیب کا مذہب ہے کرب قید ہو کر ملک یا غلام نہیں ہو سکتے، ام بخاری نے اس عنوان سے ثابت کیا ہے کہ عرب اور ہم میں ملک ہونے نہ ہونے میں کوئی فرق نہیں اگرچہ ملک ہو سکتے ہیں عرب میں ہو سکتے ہیں اور قرآن شریف کی آیت سے یہ ثابت کیا ہے کہ اس میں عرب اور ہم کا فرق نہیں اصل بات یہ ہے کہ عرب اور ہم دونوں کا ملک ہونا ایک ہی ضرورت کے تحت تمام میں جنگ میں قید ہونے کی وجہ سے جو جس طرح بھی لوگ جنگ میں قید ہو سکتے تھے عرب میں ہو سکتے تھے مگر قیدیوں کے متعلق قرآن شریف آخر آخیز حکم ہی تھا کہ انہیں یا قید یا قتل یا کھانا کھانے کے طور پر آزاد کر دیا جائے۔ ہاں جب تک قیدی نہ آزاد ہو اس وقت تک یہ اختیار تھا کہ انہیں ملک بنا کر رکھا جائے۔ حواہن باب کا مطلب سی قد ہے کہ جنگ میں یہ سب ضرورتیں پیش آتی ہیں لہذا یہ ہے ہم محبت ہونا انہی شرائط کے تحت ہے جو قرآن شریف کی سورہ النساء آیت ۷۷ میں لکھی ہے، اس کے بعد روایت کے لفظ تقریباً کے ہیں البتہ جاؤ وہ خدا ہوا ان کے بعد یہاں مسلمان کا لفظ نہیں لیا اور اسباب الحدیث الی کے اوپر یہ بیان نامناسب تھی من ترون اعداء غیر بیان فہذا الذی یفعل عن سببی ہوا ان وقال انس قال عفا عن اللبیب صلعم فادیت نفسی وفادیت عقلی۔ اس حدیث سے یہ ثابت کیا ہے کہ جو ان عرب تھے اور انہیں ملک بنا دیا گیا گو بعد میں بطور احسان سب کو آزاد کر دیا گیا ان کی تعداد چھ ہزار تھی، لیکن ابن اسحق اور ابن سعد نے روایت کی ہے کہ بنی المصطلق نے حضرت صلعم اور صلعم سے لڑنے کیلئے نکل کر کھینچا اور انکا سرواٹ بنی ان من ارضنا انھم صلعم کو جب خبر پہنچی تو آپ ان سے لڑنے کیلئے اور یہ سب سے روانہ ہوئے اور یہ سب کو چھ ہزار ہند کی اس لڑائی میں بنو المصطلق کو شکست ہوئی۔ یہاں ہے کہ بنی صلعم نے ان پر حملہ کیا اور وہ غفلت میں تھے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بے گناہ تھے کیونکہ عیا کر ان ابن اسحق اور ابن سعد نے کھلے وہ آنحضرت صلعم سے لڑنے کیلئے تیار کیے تھے اور ابن سعد نے یہ بھی لکھا ہے کہ انکے سرواٹے نے مسلمانوں کے حالات کی خبر لائے کیلئے جاؤں بھی بیجا تھا جسے مسلمانوں نے پکڑ کر قتل کر دیا اور اسکی ضرورت کو پہنچی جس سے وہ اور اس کی فوج پریشان ہوئی۔ بلکہ یہ مطلب ہے کہ ان کا غمناک نہیں تھا کہ اس وقت ہم پر حملہ ہوگا۔ اور اچانک مسلمانوں کی فوج نے انہیں گھیر لیا۔ جویریہ احادیث المؤمنین میں سے ایک تھیں۔ وہ بنی المصطلق کے سردار وراثت بن ابی مزار کی بیٹی تھیں اور قیدیوں میں بیعت بن تیس کے حصہ میں آئیں۔ ثابت نمان سے حدیث کا تنبیح آنحضرت صلعم نمان کے صاحب ہونے کی رقم انکے ہاں سے آڈو کر کاس سے نکل گیا اس وقت نمان کی وجہ سے سب لوگوں نے آنحضرت صلعم کے لئے کہی کہ وہ بنی المصطلق کے ساتھ ہی رہے اور انہیں حضرت جویریہ نے ۶۵ سال کی عمر میں ۱۱۵۰ ہجری میں وفات پائی اور انکے

ہاں تک کہ کتب لاجر لائل ہو گئے تھے بلکہ صلعم سے جنگ کرنا ہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ قور عمارت سردار قوم کو دے ہے اور اسوں نے یہی خبری چھوڑ دے۔

جلسہ اس حدیث کا
آخری حصہ ملاحظہ
میں گزر چکا ہے۔
حدیث کا عنوان
باب سے صرف
اسی قدر تعلق ہے
کہ عرب کے قیدی
پر لے گئے۔ البتہ
اس میں یہ بھی ذکر
ہے کہ انہیں لے گئے
ہیں کہ ہمیں عورتوں
کی سخت خواہش
ہوئی۔ یہ یاد رکھنا
چاہئے کہ جب ایک
راوی صحیحہ جمع
ہستمال کرتا ہے
تو اس سے لازماً
مراد سب مسلمان ہیں
ہوتے۔ اور سعید
شامی ان کے ساتھ
لکھتے اور ہر گز
نے نبی صلعم سے
پوچھا اور غلب
یہی ہے کہ سعید
ہی روایت کرنے
والے تھے۔ اس
حدیث سے یہ مرکز
ثابت نہیں ہوتا
کہ نبی مصطلق کی
قیدی عورتوں سے
مسلمانوں نے ان
کے خلاف منشاء
مہبتی کی نہ کیا
مہبتی کا ذکر ہے۔

فَأَصْبَحْنَا سَيِّئًا مِّنْ سَبِي الْعَرَبِ فَأَشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ فَأَشْدَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُرْبَةُ وَ
 حور عرب کے قیدیوں میں سے چند قیدی ہمارے ہاتھ آئے اور میں عورتوں کی خواہش ہوئی اور ہمارے لئے عورتوں سے ایک رشتہ
 أَحْبَبْنَا الْعُرْلَ فَمَا لَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا
 سنت مثل ہو گیا اور ہم نے ہا ہا کر عول کریں تو ہم نے رسول اللہ صلعم سے پوچھا
 تَفْعَلُوا مَا مِنْكُمْ كَسْبَةٌ كَأَنَّهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَأَنَّهَا (۱۲۰۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 کرد کوئی جان نہیں جو قیامت کے دن تک پیدا ہو نیوال ہے مگر وہ پیدا ہو کر ہے کی بلکہ
 قَالَ مَا زِلْتُ أَحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ مِّنذُ ثَلَاثِ سَمْعَةٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 ہے کیا میں اس وقت سے بنی تمیمہ پر ابرحمت رکھتا ہوں جب سے میں نے تین بائیں
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِيهِمْ سَمِعَةٌ يَقُولُ هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَالِ قَالَ وَجَاءَتْ
 جو آپ ان کے بارے میں فرماتے ہیں نے آپ کو سنا اور آیا وہ رنوبہیم امیری امت میں سے وہاں کے مقابل میں مضبوط تر
 هَدَاتَا لَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ صِدْقَاتُ تَوْمَنَا وَ
 دو تم ہیں کہا اور ان کی ذکوۃ آئی تو رسول اللہ صلعم نے فرمایا
 كَانَتْ سَبِيَّةً مِنْهُمْ بَعْدَ اثْنَيْتَيْ عَشْرَةَ فَقَالَ أَعْتَقِيهَا فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ اسْمَعِيلَ
 ان میں سے ایک عورت حضرت عائشہ کے پاس قیدی تھی تو آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دو کیونکہ وہ حضرت اسمعیل کی اولاد میں سے ہے بلکہ
 (۱۲۰۶) بَابُ فَضْلِ مَنْ أَدَّبَ جَارِيَتَهُ وَعَلَّمَهَا رَهْ- (۱۱۵۲) عَنْ أَبِي مُوسَى
 باب اسکی فضیلت جو اپنی لونڈی کو ادب سکھائے اور اسے تعلیم دے
 (متکرر- ۸۴) (۱۵۲) بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبِيدُ إِخْوَانُكُمْ
 دیکھو حدیث ۸۴ باب نبی صلعم کا زبان غلام تمہارے بھائی ہیں
 فَاطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَقُولِهِ تَعَالَى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
 تو ان کو اس میں سے کھلاؤ جو تم کھاتے ہو اور اللہ تعالیٰ کا اور اللہ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو
 وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِحْسَانًا زُيِّنَ لَكُمْ قُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْبَحَارُؤَىٰ الْقُرْبَىٰ
 اور ماں و باپ کے ساتھ احسان کرو اور قریبیوں کے ساتھ بھی اور یتیموں اور مسکینوں اور قریبیوں پر دوسی
 دَا الْجَارِ الْجَنَّبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 اور دور کے پڑوسی اور پاس والے ساتھی اور مسافر اور ان کے ساتھ بھی جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہوتے

جو خود
نورہ قائم کیا وہ ہمیشہ ہی رہا ہے نہ آپ کسی جنگ کی قیدی عورت کو جب تک اس سے نکاح نہیں کیا اس سے تعلق نہ ناشونی نہیں کیا مسلمان ہی کر سکتے تھے جو نبی کریم صلعم کی
 و تفسیر ان کریم کی ہدایات اور نبی صلعم کے عمل کے پیروتے بلکہ اس میں اس قدر متشدد تھے کہ جو کچھ نبی کریم صلعم کریں خواہ وہ معاملہ کسی شرعی امر سے تعلق رکھتا ہو
 نہ اس میں آپ کی بیرونی ضروری خیال کرنے تھے حتیٰ کہ بعد آپ شہید ہوئے اور آپ کی کھانسی کھانسی بول ہی تھی لیکن حرکات دستار مکہ کی ضروری خیال کرتے تھے۔ لیکن نہ
 تھا کہ ایسے ام غنائل میں جس کا تعلق شریعت کے ایک اہم قانون سے ہو وہ نبی صلعم کے عمل کی پروا نہ کریں۔ اور آپ نے کسی جنگ کی قید شدہ عورت سے بغیر نکاح کے
 تعلق نہ ناشونی قائم نہیں کیا بلکہ جو تمیم عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا یہاں ان کے متعلق تین باتوں میں سے ایک ہے اشدا امیق علی الدجال سلم میں ہے اشدا لئلا
 قتالاً فی الملاحم۔ ظاہر ہے کہ غنم ایک ہی ہے۔ پس وہاں سے مراد یہاں مسلمانوں سے جنگ کرنے والے دشمن ہی ہیں۔ اور فی الحقیقت وہاں کا لفظ علم ہی
 خواہ قال سے مسلمانوں کو تباہ کرتا ہے اور لوہ و موسیٰ نماذی سے یہاں حدیث کو اس غرض سے بیان کیا گیا ہے کہ ان میں کی ایک عورت قیدی ہو کر حضرت عائشہ
 کے پاس آئی تھی۔ تو آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اسے آزاد کرو و بعض روایات میں ہے کہ حضرت عائشہ نے نبی اسمعیل کے ایک غلام کو آزاد کرنے کی منافی تھی تو
 آپ نے یہ فرمایا وہ عورت انہیں عورت آخری حصہ اختلاف الفاظ سے دوہرا ہے۔ من کانت لرجاریة فاعلمنا فانحن الیہا حتیٰ انفقہا و تزوجہا کان لہ اجران۔

عند کیمو عنان باب
 ہ نوٹ
 علامہ محمد علی صاحب
 لفظی سے ۱۹۹ کو
 دوہرایا ہے اس میں
 غلام پر عبید کا لفظ
 بولا گیا ہے
 ۳۲۲ ۵۳۲
 حصہ میں نہیں لکھا
 مرفوع کا حصہ ہے جو
 کلکھم راعی سے شروع
 ہوتا ہے مگر یہاں قد
 اختصار پر اور بعض
 راوی کی خبر و العبید
 ہے اسی سے عنان
 باب کا تعلق ہے
 ۹۴۱ سے ہے
 بیلا حصہ ان رسول
 اللہ صلعم سنا عن
 اکامہ اذا ذنت و
 خصص مال نہیں
 آقا اور توکل
 ایک کھائی گئی نہیں
 دنیا کی کوئی تہذیب
 نہیں رکھی۔ یہ کمال
 محمد رسول اللہ صلعم کی
 تعلیم میں ہے ابھی
 باوجود مسلمانوں کے
 اخلاق فاضلہ سے
 بہت کچھ گر جانے کے
 چھوٹے اور بڑے نو
 سادات آقا اور
 لوگوں کے دست خوان
 پر بیٹھ کر کھانا کھا لیتے
 ہیں۔ فقہ زینت نے
 سے رشتہ سے کہ
 کچھ لوگ کہتے چھوڑ
 دیا ہے۔ کردہ بھی اسکو کہتے۔

(۱۲۰۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَقْبَلُ حَدِيثٌ
 ابوبہرہ رضی عنہ سے روایت کرتے ہیں
 اطعمم ربك وضئ ربك استق ربك وليقل سيدي مولاي ولا يقل
 کہ اپنے رب کو کھانا کھا اپنے رب کو پانی پلا اور کہا کہ میرا سرور میرا آقا
 احدكم عبدي امرئ وليقل فتاى وغلادى (م- ۱۱۵۹) عن
 میں نہ کہے میرے بندے یا غلام (عبید میری لونڈی راہم بلکہ کہے میرے چھوٹے میری بھوکری (فتاخاۃ) میرے بچے (غلام) اور
 ابن عمر متکرم (۱۱۹۹) (م- ۱۱۶۰) عن عبید اللہ متکرم (۵۳۲) (م-
 دیکھو حدیث ۱۱۹۹
 دیکھو حدیث ۵۳۲
 (۱۱۶۱) عن ابی ہریرۃ وزید بن خالد متکرم (۱۱۶۹) (۱۱۸) باب مبسب اذا أتاه خادمه
 دیکھو حدیث ۱۱۶۹ باب مبسب کسی کے پاس اس کا خادم
 يطعامه (۱۲۰۶) عن ابی ہریرۃ رضی عنہ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَلَى
 اپنا کھانا لائے ابوبہرہ رضی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ تم میں سے کسی کے
 احدكم خادمه يطعامه فان لم يجلسه معه فليناد له لقمه او لقمتين
 پاس اس کا خادم اس کا کھانا لائے تو اگر اسے اپنے ساتھ نہ بٹھائے تو اسے ایک یا دو لقمے دے
 او اكله او اكلتين فانته ولي علاجه (۱۱۹) باب غلام اپنے آقا کے مال کا محافظ ہے
 کہ اس نے اس کے تیار کرنے کی تکلیف اٹھانی ہے
 ونسب النبي صلى الله عليه وسلم المال الى سيدي (م- ۱۱۶۲) عن عبید اللہ
 اور نبی صلعم نے مال کی نسبت آقا کی طرف کی
 ابن عمر متکرم (۵۳۲) (۲۰) باب اذا ضرب العبد فليجنب الوجه (۱۲۰۸)
 دیکھو حدیث ۵۳۲ باب جب غلام کو مارے تو منہ کو ہٹا کر مارے
 عن ابی ہریرۃ رضی عنہ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فليجنب الوجه
 ابوبہرہ رضی عنہ سے روایت کرتے ہیں فرمایا جب تم میں سے کوئی لڑائی لڑے تو منہ دہرائے سے بچے
 بسم الله الرحمن الرحيم
 اشر ہے اشرار والے بار بار جم

کتاب المکاتب

مکاتب کی کتاب ۹

دیکھئے۔ کردہ بھی اسکو کہتے۔ مگر اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ غلام چونکہ خود مولوک ہے اس لئے وہ خود کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا بلکہ اس کی کوئی ساری کی ساری
 اپنے آقا کی ہوتی ہے۔ لیکن یہ مسئلہ اختلافی ہے اور بعض کے نزدیک غلام مالک ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر کا یہی یہی منہب ہے۔ سکتا ہے کہ اسے اور اپنا بدل اپنے آقا کو دیکر آزاد
 ہو جائے اور بعض صحابہ اپنے صاحب بزرگ غلاموں پر بوجہ کچھ ٹیکس مقرر کرتے تھے۔ باقی ایسی کوئی کا مالک خود غلام ہوتا تھا۔ ان دونوں باتوں سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ
 غلام بھی مالک ہو سکتا ہے۔ باب کا مقصد صرف غلام کو یا نوکروں کو اپنے آقا کے مال کی حفاظت کی طرف توجہ دلانا ہے۔ ۵۳۲ کا مرث مرفوع کا حصہ آؤتھا کہ ابی ذر غفیری سے
 میں مدد پر لیا گیا ہے۔ علامہ بخاری نے ابوبہرہ رضی عنہ سے روایت کیا کہ ابی ذر غفیری نے ابی ذر غفیری سے روایت کیا کہ ابی ذر غفیری نے ابی ذر غفیری سے روایت کیا کہ
 میں مدد پر لیا گیا ہے۔ در بیان جو ابی ذر غفیری نے ابی ذر غفیری سے روایت کیا کہ ابی ذر غفیری نے ابی ذر غفیری سے روایت کیا کہ ابی ذر غفیری نے ابی ذر غفیری سے روایت کیا کہ

اور لے گا دوسرے سے ماہو آجائے تو پھر بیٹے کی طرح غلام ہو جائے گا

رَبِّهَا بِرَأْسِهِمْ قَدَتْ مَوْلَاهُ رَأْبَابُ الْمَكَاتِبِ وَجُوهُهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ تَجْمَعُ وَقَوْلُهُ

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْكُتُبَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ نَكَاحَتْهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ

خَيْرًا وَإِنْ هُمْ مِنْ مَثَلِ اللَّهِ الَّذِي أَنْتُمْ دُونَكُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَوْ اجِبْ عَلَى رَأْدِ الْعِلْمِ لَهُ مَا لَا أَنْ كَاتِبَهُ قَالَ مَا أَرَاهُ إِلَّا أَوْ اجِبْ أَوْ قَالَ عُمَرُو

ابْنُ دِينَارٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ تَأْتِرُهُ عَنْ أَحَدٍ قَالَ لَا لَأَنَّ أَخْبَرَنِي أَنَّ قُوسَى بْنَ

أَنَسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَدْرِينَ سَأَلَ أُنْسًا الْمَكَاتِبِيَّةَ وَكَانَ كَثِيرَ الْعَالِ فَأَلِي قَالَ نَطَلَقَ

إِلَى عُمَرَةَ فَقَالَ كَاتِبَةٌ فَأَلِي فَضْرَبَهُ بِالذَّرْوَةِ وَيَسْتَوُاعِمُرُ نَكَاحَتْهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ

فِيهِمْ خَيْرًا فَكَاتِبَةٌ (م - ۱۱۶۳) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (متكرر - ۳۱۹)

(۲) بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمَكَاتِبِ وَمِنْ أَشْرَاطِ شُرُطِ الْبَيْتِ فِي كِتَابِ

اللَّهِ فِيهِ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (م - ۱۱۶۴) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (متكرر - ۳۱۹)

اس میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں

کتاب میں حدیث کی نہیں اور بعض روایات میں یہ ہے کہ اس میں اس کا یہ موقوف نہیں ہوا ہے۔ کتاب المصنفین باب قدرت العبد کے نیچے حدیث آتی ہے۔ کتاب المصنفین باب قدرت العبد کے نیچے حدیث آتی ہے۔ کتاب المصنفین باب قدرت العبد کے نیچے حدیث آتی ہے۔

یا ذکر وغیر کے وہ صحیح طور پر اس سے اس کے معنی ہونگے ہیں۔ بدل کتاب میں یہ ضروری نہیں کہ ہر سال ایک قسط دی جائے بلکہ جس طرح غلام آزاد کرنا چاہے اور اس کا ہر سال ایک قسط دی جائے بلکہ جس طرح غلام آزاد کرنا چاہے اور اس کا ہر سال ایک قسط دی جائے۔

۱۱۶۵-۱۱۶۶ عن عائشة (متکرر- ۳۱۹) باب استعانة المكاتيب بسؤال الناس
 ۱۱۶۶-۱۱۶۷ عن عائشة (متکرر- ۳۱۹) باب بيع امكتاب اذا رضى قالت
 عائشة هو عبدنا ما بقي عليه شيء وقال زيد بن ثابت ما بقي عليهم درهم و
 قال ابن عمر هو عبدنا ان عاش وان مات وان جنى ما بقي عليه شيء (م- ۱۱۶۷)
 عن عمرة (متکرر- ۳۱۹) باب اذا قال المكاتب اشترني واشتريني فاشتراه
 لذلک (م- ۱۱۶۸) عن ايمن (متکرر- ۳۱۹)
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 اشرفے ایتارم دایے بار بار روم کرنیلے کے نام سے

۱۱۶۵-۱۱۶۶	عن عائشة (متکرر- ۳۱۹)	باب استعانة المكاتيب بسؤال الناس
۱۱۶۶-۱۱۶۷	عن عائشة (متکرر- ۳۱۹)	باب بيع امكتاب اذا رضى قالت
۱۱۶۷-۱۱۶۸	عن عائشة (متکرر- ۳۱۹)	باب استعانة المكاتيب بسؤال الناس
۱۱۶۸-۱۱۶۹	عن ايمن (متکرر- ۳۱۹)	باب استعانة المكاتيب بسؤال الناس
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ		
اشرفے ایتارم دایے بار بار روم کرنیلے کے نام سے		
۱۱- کتاب الہبۃ		
باب ۱۱ الہبۃ وفضلها والفریض علیہا (۱۲۰۹) عن ابی ہریرۃ		
باب ۱۱	الہبۃ	اور اسکی فضیلت اور اسکی رغبت دلانا
باب ۱۲	الفریض	اور اسکی فضیلت اور اسکی رغبت دلانا

۱۱۶۳ کی حج اس پر تفصیلات بہت زیادہ ہیں مگر ۱۱۶۳ کی پانچ سال میں پانچ دفعہ کی خبر بیان فرمائی ہے اور یہی ہے کہ اگر نکاح اتنی کا تبت اہلی علی قسم اوائنی کل عاھدہ و قیۃ نا عینینی رمیری مدد کرے۔ اسی نقطہ سے عمران باب کا تعلق ہے۔ حضرت عائشہ کا جواب یہاں یوں ہے۔ ان أحب اهلك ان اعدها لهم عداۃ واحدة و اعتقك ذنبت ریحنی ساری رقم یکشت ادا کردوں) ویکون فلا و لی۔ اور حضرت عائشہ کے رسول اللہ صلیم کے پاس ذکر کرنے کی بجائے ہے ضمیر بذلک رسول اللہ صلیم نسالی۔ آپ کے خطبہ کے الفاظ میں ہی تفصیل زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا اور ما بعد کا ذکر ہے فقہی باطلی کے بعد ہے وان کان ممانۃ شرط فقضانا لله احق و شرط الله اذ فن ما بال رجال منکم یقول احدہم اعتق یا فلان ولی لولا انما الویامن اعترق۔ مگر غلام کو کتاب اس وقت تک لکھا جائے گا جب تک وہ تحریر آزادی لینے کے بعد رقم معاہدہ پوری ادا کر کے آزادی حاصل نہ کرے۔ تاکہ اگر اس اشاء میں اپنے حقوق کو اس کے مستحق فروخت کرنا چاہے تو صرف اس کی رضا مندی سے ایسا کر سکتا ہے۔ ۱۱۶۳ کی روایت میں ۳۱۹ کا ہی مضمون دہرا لیا گیا ہے۔ صرف الفاظ کا اختلاف ہے اور مزید چڑھا کر غلبے کا ذکر کیا گیا ہے مگر روایت کے شروع میں یہ حصہ زائد ہے قال (ابو ایمن) دخلت علی عائشۃ فقلت کنت لعقبۃ بن ابی لہب و دعوات و درختی بنوہ و انہم باعونی من ابن ابی ہریرۃ فاعتقنی ابن ابی ہریرۃ فاشترط بنو عقبۃ الولادہ یعنی ابو ایمن کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس گیا اور کہا میں تمہیں ابن ابی لہب کا غلام تھا وہ مر گیا اور اس کے بیٹے اس کے وارث ہوئے۔ انہوں نے مجھے ابن ابی ہریرہ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ ابن ابی ہریرہ نے مجھے آزاد کر دیا اور عقبہ کے بیٹوں نے حق وراثت کی شرط لگائی۔ اس کے بعد ۳۱۹ مضمون باقیات الفاظ دہرا لیا گیا ہے۔ تک میرے عام معنی کی رو سے اسے بھی کہتے ہیں کہ کسی پر قرض یا دین ہو اور اسے معاف کر دیا جائے۔ اور صلہ تک کو بھی کہتے ہیں۔ جس میں مقصد اسکی رضا اور ثواب آخرت ہو۔ اور یہی وہی ہے جس سے اس شخص کا اعزاز مقصود ہوتا ہے جسے وہ دیا جائے۔ اور یہاں ہی عام معنی مراد ہیں۔ کیونکہ کتاب الہبۃ میں امام بخاری ہدایا کو بھی لائے ہیں۔ یہ کے ایک معنی خاص ہیں۔ یعنی تملیلک بلا عوض یا بغیر کسی قسم کے معاوضہ کے کسی کو کسی چیز کا مالک بنانا

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا نِسَاءَ السُّلَمَاتِ لَا تَخْفِرْنَ جَادَةَ تَحَارَتْهَا

یعنی امی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا اے سلیمان عورتوں کو اپنی بڑوس نکالنے کو اپنی چیزا حیرت کے بری کا

وَلَكِنَّ قَرِيْبَيْنِ شَاؤِ (۱۲۱۰) عَنْ عَائِشَةَ رَدَّ اَثْمًا قَالَتْ لِعُرْوَةَ ابْنِ اَخْتِي اِنْ لَنَا لَنْظَرٌ

کہری کیوں نہ ہوتا حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انوں نے عروہ سے فرمایا میرے بھائی تم ایک چاند بھیجئے

إِلَى الْهَلَالِ ثُمَّ الْهَلَالُ ثَلَاثَةُ اَهْلَةٍ فِي شَهْرَيْنِ وَمَا اَوْقَدْتُ فِي اَيَّامِ رَسُولِ

پروردگارا چاند تین چاند دو بھیجنے میں ۱۲۱۰ اور نبی صلعم کے گردوں میں آگ نہ جلتی تھی

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارٌ فَنَقَلْتُ بِاخَالَةِ مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ قَالَتِ الْاَسْوَدَانِ

میں نے عرب میں کیا فاکر کسی چیز پر تمہاری گزرتی فرمایا دو سیاہ چمڑے

الْتَمْرُ وَالْمَاءُ اِلَّا اَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِلْدَانٌ مِنْ

کھجور اور پانی البتہ رسول اللہ صلعم کے چند انصاری ہمارے

الْاَنْصَارِ كَانَتْ لَهُمْ مَنَابِقٌ وَكَانُوا يَمْتَحِنُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تھے ان کی ہاتھ دہن والے بکریاں تھیں وہ رسول اللہ صلعم کی کپڑے اپنے دوہے میں سے بھیجا کرتے تھے

مِنْ الْبَارِيْهِمْ فَيَسْقِيْنَارِسَابِ الْبَابِ الْقَلِيْلِ مِنَ الْهَبَةِ (۱۲۱۱) عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ

۱۲۱۱ تھوڑا پھر پکڑتے تھے باب تھوڑی چیز کا بہر کرنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ دُعِيْتُ إِلَى ذِرَاعِ اَوْ ذِرَاعِ اِجْرٍ لَأَجَبْتُ

صلعم سے روایت کرتے ہیں فرمایا اگر زکری کی دست پانے لیجئے مجھے دعوت دی جائے تو میں ضرور قبول کروں گا

ذِرَاعٌ اَوْ اَوْ ذِرَاعٌ اَوْ ذِرَاعٌ اَوْ ذِرَاعٌ اَوْ ذِرَاعٌ اَوْ ذِرَاعٌ اَوْ ذِرَاعٌ اَوْ ذِرَاعٌ

دور اگر دست پانے کا ہاتھ لگایا جائے تو میں ضرور قبول کروں گا باب جو اپنے ساتھیوں سے کوئی چیز بہہ کہے

شَيْئًا وَقَالَ اَبُو سَعِيْدٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصْرِبُوا اِلَى مَعَكُمْ سَهْمًا

۱۲۱۲ ہر ایک سے اپنا حصہ لے لے لو فرمایا نبی صلعم نے فرمایا میرے لئے اپنے ساتھ حصہ ڈالو

(۱۱۶۹) عَنْ سَهْلِ (متكرر - ۲۴۳) (۱۱۶۰) عَنْ اَبِي قَتَادَةَ (متكرر - ۹۲۸)

دیکھو حدیث ۲۴۳ دیکھو حدیث ۹۲۸

یہاں پر اس حدیث میں ہے کہ ایک عورت نے کہا کہ مجھے اپنے ساتھیوں سے کوئی چیز بھیجنے سے منع ہے۔ اور میں اس حدیث کی عادت میں ہوں ہوتی ہے۔ بکری کے کھانا ذکر کر کے یہ معلوم ہوا کہ جس کی چیز بھیجے وہ اس کی تقدیر سے کوئی چیز نہیں نکالے گا۔ اور اس حدیث میں ہے کہ اس کو باغیض ہوا۔ فرمایا اس لئے کہ عورتوں کے حلقوں سے کچھ لے کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ لے کر آئے۔ اس میں دو بیٹے گذر کر تیسرا بیٹا خرچ ہو جائے۔ وہ عالم ہو گیا۔ اس صلعم میں ہے

فی کلھم ایسا وہم حرم فرجاد وجأت العضای فی ذلک فقال صلعم نسالتہ عن ذلک فقال معکوم نہ شی فقالت نعم فنارلتہ العضد فاکلھا حتی نقذھا وحرم

(۴) بَابُ مَنِ اسْتَسْقَى وَقَالَ سَهْلٌ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْقِنِي

باب جو پانی پینے کے لئے مانگے اور اس لئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سے فرمایا مجھ پانی پلا دو

(۵) بَابُ قَبُولِ هِدْيَةِ الصَّيْدِ وَقَبُولِ النَّبِيِّ

دیکھو حدیث ۱۱۳۲ باب شکار کا تحفہ قبول کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَبِي تَمَادَةَ عَصَدُ الصَّيْدِ (۱۲۱۲) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ

ابو تمادہ سے شکار کا تحفہ قبول فرمایا اس سے روایت ہے کہ کہنے

أَرْنِيَا بِمِرِّ الظُّهْرَانِ فَسَعَى لِقَوْمٍ فَلَعَبُوا فَأَادَرَّتْهَا فَأَخَذَتْهَا فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ

میرا نظر ان پر پڑا میں ایک خرگوش کو بھگا یا لوگ دوڑے مگر تک گئے پھر اس کو بھگا اور اسے کھلایا اور اسے ابولہک کے پاس لے گیا

فَلَجَّعَهَا وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُورُ كَيْفَ أَوْ فَعَزَّهَا قَالَ فَخَذَهَا

انہوں نے اسے ذبح کیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اس کا کھنڈ بھجوا دیا یا میں بھجوا لیں گے کما لیں گے

لَا شَكَّ فِيهِ فَبَيْعَهُ قُلْتُ وَأَكْلُ مِنْهُ قَالَ وَأَكْلُ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ قِيلِهِ (۶)

اس میں کوئی شک نہیں آپ نے اسے قبول فرمایا میں نے پوچھا اور کیا اس میں سے کھلا بھی لے لیں گے آپ نے کہا اسے قبول فرمایا تھا

بَابُ قَبُولِ الْهَدْيَةِ (۷) عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ (مُتَكَوِّرًا) ۱۹۲۹

باب تحفہ قبول کرنا دیکھو حدیث ۱۹۲۹

(۸) بَابُ قَبُولِ الْهَدْيَةِ (۸) عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَوِّرًا) ۱۲۱۵

باب تحفہ قبول کرنا دیکھو حدیث ۱۲۱۵

ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَهَدْتُ أُمَّ حَفِيدَةَ خَالَهٖ بِنِ عَنَابِ بْنِ عَنَابٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ابن عباس سے روایت ہے کہ ام حفیدہ ابن عباس کی خالہ تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس

وَسَلَّمَ أَتَطَاوَسْنَا وَأَضْمْنَا فَأَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَقْطَاوِ وَالشَّمْنِ

پہنچے ہم اور گوہ کا تحفہ بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینا اور ہمیں سے کھایا

وَتَرَكَ الصَّبَّ يَقْدِرًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ كُلُّ عَلِيٍّ مَا أَدَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور گوہ کو ناپسند کر کے وہ مجھ سے چھین لیا ابن عباس کہتے ہیں گوہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر رکھا گیا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أَكَلَ عَلِيٌّ عَلَى مَا أَدَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور اگر حرام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر رکھا جاتا

(۱۲۱۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُرِيَ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب رکھیں

بَطْعًا سَأَلَ عَنْهُ أَهْدِيَهُ أَمْ صَدَقَةٌ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ لَا صَدَقَةَ

کھانا لایا جاتا تو آپ اس کے متعلق دریافت فرماتے تھے یا صدقہ اگر کہا جاتا کہ صدقہ تو اسے صواب سے فرماتے

كَلَاؤًا لَمْ يَأْكُلْ وَلَا يَأْكُلُ وَإِنْ قِيلَ هِدْيَةٌ خَضِيَ بِبَيْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَ مَعَهُمْ

کھاؤ اور خورد نہ کھاتے اور اگر کہا جاتا کہ تحفہ ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ہاتھ بٹھا کر ان کے ساتھ کھاتے

علا میں پانی پلا دو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
۱۲۱۲ میں داخل نہیں ہوا
۱۲۱۲ میں کھانے کی روایت
کے شروع کا حصہ
یوں ہے۔ انا نارا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فی ما رانا هذا
فاستسقى فلبينا
لما شاة لنا شاة
شبهه من حاد
يدنا هذا راخ
کونیں کچھ پانی
اس میں پلا دیا
فاعطيتنا ابو بکر
عن سياره ساني
مفزون افق تينير
لفقني سے
۱۲۱۲ کا ہے۔ البند
ابو بکر عن سياره
کے بعد پانی پلا
ہے۔ دھر تھا
اور وہ ان
بیطعام اكران
میاں نہیں اور فر
میرا لہر ہے کمال اس
نہی سے شخصی
۱۲۱۲ ثلاث مرات بين
انہں کئے ہیں رکھیں
میں پھونک رہے کا جو
تو جو رہا ہوا اس
کو پلے دینا چاہئے
۱۲۱۲ عطا من الظهران
ایک قسم یا سستی کا
نام ہے جو کہ سے
کی والا ام سلمہ کے شہر تھے
سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ اگر آپ کیسے ہی شکار کیا گیا ہے
۱۲۱۲ عطا من الظهران
۱۲۱۲ ایک قسم یا سستی کا

نام ہے جو کہ سے
کی والا ام سلمہ کے شہر تھے
سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ اگر آپ کیسے ہی شکار کیا گیا ہے
۱۲۱۲ عطا من الظهران
۱۲۱۲ ایک قسم یا سستی کا

۱۲۱۲ عطا من الظهران
۱۲۱۲ ایک قسم یا سستی کا

(۱۱۷۴-۱۱۷۵) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متكرر- ۶۰۰-۶۰۱) (م- ۱۱۷۵) عَنْ عَائِشَةَ (متكرر-)

دیکھو حدیث نمبر ۶۰۰

(۱۱۷۶) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ (متكرر- ۷۷۴) (۸) بَابُ مَنْ أَهْدَى إِلَى صَاحِبِهِ

دیکھو حدیث نمبر ۷۷۴ باب جو اپنے دوست کو گم ہونے سے

وَمَحْرُومِي بَعْضُ نِسَائِهِ دُونَ بَعْضٍ (م- ۱۱۷۷) عَنْ عَائِشَةَ (متكرر- ۱۲۱۵)

اور اس کی بعض بیویوں کو چھوڑ کر بعض کا خیال رکھنے

دیکھو حدیث نمبر ۱۲۱۵

(۱۲۱۵) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْ حَزْبِيْنَ فَحُزِبْ فِيهِ

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں

کو گروہ نہیں دو گروہ نہیں ایک گروہ میں

عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَصَفِيَّةَ وَسُودَةَ وَالْحَزْبُ الْأَخْرَأُ مَسْلُومَةٌ وَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عائشہ اور حفصہ اور صفیہ اور سودہ تھیں اور دوسرے گروہ میں ام سلمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیویاں تھیں

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ قَدْ عَلِمُوا أَحَبَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور مسلمان حضرت عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا علم رکھتے تھے

عَائِشَةَ فَإِذَا كَانَتْ عِنْدَ أَحَدِهِمْ هَدِيَّةً يَرِيدُ أَنْ يُهْدِيَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جب ان میں سے کسی کے پاس کوئی تحفہ ہوتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجنا چاہتا ہے

وَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ بَعَثْ صَاحِبُ

تو اس میں دیکر کہ تمہارا مال کب تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

الْهَدِيَّةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ فَكَلِمَةُ حَزْبٍ أَوْ مَسْلُومَةٍ فَقُلْنَ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس

لَهَا كَلِمَتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكَلِمُ النَّاسَ فَيَقُولُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ

ہات چیت کی اور ان میں سے کسی کے پاس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو کہ لوگوں سے گفتگو کے فرماؤ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفہ بھیجتا ہے

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً فَلْيَهْدِ إِلَيْهِ حَيْثُ كَانَ مِنْ بِيوتِ نِسَائِهِ فَكَلِمَتُهُ

تو آپ اپنی بیویوں کے گروہ میں جہاں کہیں بھی ہوں آپ کے پاس بھیج دوں گا کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتا ہے

أَوْ مَسْلُومَةٍ بِمَا قُلْنَ فَلَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئًا فَسَأَلَتْهَا فَقَالَتْ مَا قَالَ لِي شَيْئًا فَقُلْنَ لَهَا

کہ تمہارا ام سلمہ نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے کہ میں نے ان میں سے کوئی کلمہ بھیجنا نہیں چاہا تھا

فَكَلِمَتِهِ قَالَتْ فَكَلِمَتُهُ حِينَ دَارَ إِلَيْنَا أَيْضًا فَلَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئًا فَسَأَلَتْهَا فَقَالَتْ

ان سے کہ پھر حضرت سے عرض کرو عائشہ فرماتی ہیں جب آپ ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے پھر آپ سے عرض کیا پھر آپ نے انہیں کلمہ بھیجنا

مَا قَالَ لِي شَيْئًا فَقُلْنَ لَهَا كَلِمَتِي حَتَّى يَكَلِّمَكَ فَذَارَ إِلَيْهَا كَلِمَتُهُ فَقَالَ لَهَا لَا

ذو دیا انہوں نے ام سلمہ سے پوچھا انہوں نے کہا مجھے کلمہ بھیجنا نہیں چاہا تھا

تُوذِيْنِي فِي عَائِشَةَ فَإِنَّ الْوَسْطَى لَمْ يَأْتِنِي وَأَنْفِي تُوْبِ أَمْرَأَةٍ إِلَّا عَائِشَةَ قَالَتْ

آپ ام سلمہ کے جہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ سے عرض کیا پھر ان سے عرض کیا کہ میں نے انہیں کلمہ بھیجنا نہیں چاہا تھا

اگر وہ بھی وہ مردوں کو بھی حاصل نہ تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت حدیث بیگناہ زیادہ ہے لیکن فقہاء کے معاملہ میں حضرت عائشہ کا مرتبہ ان سے بہت بلند ہے

اس میں یہ ذکر ہے کہ جو گشت بطور صدقہ بریکو بھیجا گیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لیا۔

اس کے الفاظ قرینا دیے ہیں جو ۵۹۸ م کے ہیں۔ آخر اس پر تفسیر ہے و خیرت لینی اسے اختیار کیا گیا کہ بیسے کا جو مقام ہے یا اس سے بڑا ہو جائے، قال عبد الرحمن

زوجہا حرا و عبد قال شعبۃ بنہ سال عبد الرحمن عن زوجہا قال لا ادري اسخا و عبد اس کے الفاظ ۵۹۹ م کے ہیں صحیح اس کے کہ نسبتہ کی جگہ ام عطیہ کا کاغذ ہے ام عطیہ کا نام نسبتہ تھا

اس کا ذکر روایت بت تخریج کان الناس یخرون بھذا یا ہم یومی و قالت ام سلمہ ان صلحی اجتمعن فذکرت لناعوض عنہا اس کی تشریح

اگر وہ بھی وہ مردوں کو بھی حاصل نہ تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت حدیث بیگناہ زیادہ ہے لیکن فقہاء کے معاملہ میں حضرت عائشہ کا مرتبہ ان سے بہت بلند ہے

م تھا اور بڑے صاحب کو ان کی شاگردی کا فخر حاصل تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ سے خاص محبت کی وجہی ان کے اندر دنی جو برے (باقی برص ۵۶۵)

قَالَتْ اَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مِنْ اِنْدَاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَخَرَّ رَثْمُنْ دُعُوْنًا فَاَطْمَءَتْ بِكَ سَلْمًا

عائشہ کہتی ہیں تو ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو گھسیٹنے سے خدا کی بات روجھ کر لی ہوں پھر انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے

اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْسَلَنُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُوْلُ اِنَّ

صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو گھسیٹا اور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ کہہ دو کہ میں نے

نَسَاؤُكَ يَنْشُدُّكَ اللّٰهُ الْعَدْلُ فِي بَيْتِ اَبِي بَكْرٍ فَكَلِمَتُهُ قَالَتْ يَا بَيْتَهُ الْاَلْحَمِيْنِ

آپ کی بیویوں آپ کو اللہ کا واسطہ دیکر ابو بکر کی بیٹی کے بارے میں انصاف چاہتی ہیں حضرت فاطمہ نے عرض کیا تو آپ نے فرمایا بیٹی کی تو وہ ہند

مَا اَجِبْتُ وَاَلْتُ بَلِي فَرَجَعْتُ اِلَيْهِنَّ فَاخْبَرْتُهُنَّ فَقُلْنَ اَرِزِجِي اِلَيْهِنَّ فَاَبَتْ اَنْ تَرَجِعِي

نہیں کرتی ہوں جو میں ہنسنے کہتا ہوں عرض کیا ہاں تو لوگ کہ ان کے پاس آئیں اور انہیں اطلاع دی انہوں نے کہا ہر جاؤ تو انہیں گھر جانے کا کہا

فَارْسَلَنُ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ نَائِمَةً فَاَعْلَظْتُ وَقَالَتْ اِنَّ نِسَاءُكَ يَنْشُدُّنَكَ

پھر انہوں نے زینب بنت جحش کو بھیجا وہ آپ کے پاس حاضر ہوئیں اور باتیں سننے لگیں کہ آپ کو اللہ کی بات کا واسطہ دے کر

اللّٰهُ الْعَدْلُ فِي بَيْتِ اَبِي بَكْرٍ فَاَبَتْ اَبِي بَكْرٍ فَرَفَعَتْ صَوْتَهَا حَتّٰى تَتَاوَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ

ابن ابی قحافہ کی بیٹی کے بارے میں انصاف چاہتی ہیں اور اپنی آواز کو بلند کیا یہاں تک کہ حضرت عائشہ کے متعلق سخت لفظ

دَهِيَ قَاعِدَةٌ فَسَبَّتْهَا حَتّٰى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَنْظُرُهَا وَالْقَائِمَةُ

کے اندر نہ تھی ہوتی تھیں انہیں برا بھلا کہا جاتا تھا کہ رسول اللہ صلعم حضرت عائشہ کی طرف دیکھنے لگے

هَلْ تَكَلَّمْتُمْ قَالَتْ فَكَلِمَتٌ عَائِشَةَ رَضِيَ تَرَدَّدَتْ عَلٰى زَيْنَبَ حَتّٰى اَسْأَلْتُمَهَا قَالَتْ فَظَنَّمُ النَّبِيَّ

کہ کیا وہ بھی بولتی ہیں کیا حضرت عائشہ نے بات مڑھنے کی اور زینب کو جواب دینے لگیں یہاں تک کہ انہیں حاضرین کو مارا کہ تو نبی صلعم نے حضرت

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى عَائِشَةَ وَقَالَ اِنَّهَا بِنْتُ اَبِي بَكْرٍ رُوْفِي رَوَايَةٌ كَانَتْ

عائشہ کی طرف دیکھا اور فرمایا یہ ابو بکر کی بیٹی ہیں صلعم اور ایک روایت میں ہے کہ لوگ اپنے

النَّاسُ يَتَخَرَّرُوْنَ بِهَذَا اَيَّاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ رَضِيَ رُوْفِي رَوَايَةٌ اَقَالَتْ عَائِشَةَ لَنْتُ

تخلفوں کے بارے میں حضرت عائشہ کے دن کا خیال رکھتے تھے اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا

هَذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَاذَنْتُ فَاَطْمَءَتْ رَوَايَةٌ مَا لَا يَرُدُّ

میں نبی صلعم کے پاس تھی جب حضرت فاطمہ نے اجازت چاہی باب جو مختصر ہے

مِنَ الْهَدْيَةِ (۱۲۱۶) عَنْ عَزْرَةَ بِنْتِ ثَابِتِ بْنِ اَلْاَنْصَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي ثَعْلَبَةُ

ذکرنا چاہئے عزہ بنت ثابت انصاری سے روایت ہے کہ مجھ سے ثابرت بن عبد اللہ نے بیان

ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَفَنَا وَابْنِي طَيْبًا قَالَ كَانَ اَنْسُ رَضِيَ لَّا يَرُدُّ الْعَلِيْبُ

کی کہ میں ثابرت کے پاس گیا انہوں نے مجھے خوشبودی کہنے لگے کہ انہیں خوشبو کو واپس نہ کرتے تھے

حقوق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھے آپ ان میں سے ہر ایک کو پورا پورا پہچانتے تھے۔ اور اس بارے میں کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دیتے تھے۔ یہی بات

کہ لوگ اس دن تحفے زیادہ بھیجتے تھے انہوں نے حضرت عائشہ کے گھر میں ہونے تو یہ لوگوں کا اپنا ذاتی کام تھا جس وقت وہ چاہتے ہدایا بھیجتے۔ اس کے متعلق

انہیں پورا اختیار تھا۔ زینب بنت جحش کا یہ کہ ان شاء اللہ یبقی اللہ العادل بی اور بے ہمتی سے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان کرنا کہ تمہارا

فلاں وقت بھیجا کرو فلاں وقت نہ بھیجا کرو میں سوال کا رنگ اپنے اندر رکھتا تھا۔ اور یہ یعنی سوال کرنا آپ کے اخلاق فاضلہ کے خلاف تھا۔ علاوہ انہی لوگوں

کا حضرت عائشہ کے گھر میں تحائف بھیجنا اس وجہ سے تھا کہ لوگوں کے دلوں میں حضرت عائشہ کی عظمت اور مجسمہ علی اور نعمت فی العین کی وجہ سے خاص عظمت

تھی اور وہ ان تحائف میں حضرت عائشہ کو بھی گویا شامل کرتے تھے۔ صلعم ان الفاظ میں حضرت عائشہ کی عظمت اور ہر ماہ قبولیت کی طرف جو انہیں صحابہ میں

حاصل تھی اشارہ ہے۔ یعنی جس طرح ہر مردوں میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو چن لیا۔ اسی طرح عورتوں میں سے حضرت عائشہ کو چن لیا اور اس بات کا

معلق ازواج میں عدل سے کچھ نہ تھا۔ اور حضرت ام سلمہ یا دیگر ازواج کا مطالبہ ایک گھلطھی پر مبنی تھا۔

رقیہ ص ۵۶۵
جن کو آپ کی منیہ
فراموشی نے دیکھا
تھا۔ رہا یہ کہ حضرت
عائشہ کے حالات
میں آپ پر بھی اتنی
تھی تو یہ آپ کے
دین سے انقطاع کا
کی دلیل ہے۔ کیونکہ
وہی کی حالت اس
دین سے انقطاع
کی حالت ہے۔ اور
جو بیوی آپ کو بے
سے زیادہ محبوب
تھی اس کے ساتھ
ہوتے ہوئے بھی
آپ کا دل تعلقات
دین سے بالاتر نہ تھا
تھا۔ اور ان کے
حالات میں خصوصیت
سے وہی کے آنے
میں ہی اشارہ ظہم
ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے اپنے دین کی
خدمت کے لئے
انہیں ایسے بلند
مقام پر پہنچایا تھا
جہاں دوسری کوئی
بیوی نہیں پہنچی
(ص ۵۶۵) نڈا
صلعم بیویوں کے جو

قَالَ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرِدُ الطَّيِّبَ (۱۰) بَاب

کما اور اس کے تھے کہ نبی صلعم خوشبو کرنا نہیں کرتے تھے یا بَاب

مَنْ رَأَى الْهَبَةَ الْغَائِبَةَ جَائِزَةً (م- ۸- ۱۱۷۷) عَنِ السُّوَيْدِيِّ (متکرر- ۱۱۱۹)

جو اس پر ہوا کہ اگر نادرست کہتا ہے جو موجود ہو دیکھو حدیث ۱۱۱۹

بَابُ الْمَكَافَأَةِ فِي الْهَبَةِ (۱۱۷۷) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

بَاب مخفی کا بدلنا حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَبَةَ وَيَنْتَبِئُ عَلَيْهَا (۱۱۷۸) بَابُ الْهَبَةِ لِلْوَالِدِ وَإِذَا

مخدول کرنا کہتے تھے اور اس عرض بھی دیا کرتے تھے یا بَاب اولاد کو بہر کرنا اور جب

أَعْطَى بَعْضُ زُرَّاءِ شَيْبَانَ حَقًّا يُعَدُّ بَيْنَهُمْ وَيُعْطَى الْأَخْرَبِينَ مِثْلَهُ وَلَا يَشْتَرِي الْهَبَةَ

اولاد میں سے بعض کو کچھ دینے تو وہ ہاں نہیں یاں تک کہ ان کے درمیان عداوت کرے اور اردوں کو بھی اتنا ہی ہے اور ایسے (بہر کرنا)

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْدَاءُ الْأَبْنَاءِ أَوْلَادُهُمْ فِي الْعَطِيَّةِ وَهَلْ لِلْوَالِدِ أَنْ يَشْتَرِيَ

گواہی نہ ہونا چاہئے اور نبی صلعم نے فرمایا اپنی اولاد کو کچھ دینے وقت مساوات رکھو اور کھلا دل سے دینے میں جوچ رکھنا

فِي عَطِيَّتِهِ وَمَا يَأْكُلُ مِنْ مَالٍ وَلَيْسَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَتَعَدَّى وَاشْتَرَى النَّبِيُّ صَلَّى

اور نبی اولاد کو مال خوردہ و خورد کے مطابق کھا سکتا ہے اور زیادتی نہ کرے اور نبی صلعم نے

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَعْطَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ اصْنَعْ مِثْلَهُمَا (م- ۸- ۱۱۷۹)

حضرت عمر سے اونٹ خرید کر پھر اسے ابن عمر کو دیا اور فرمایا جو چاہو اس کے ساتھ کرو

عَنِ الثَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ (متکرر- ۱۱۸۰) بَابُ الْأَشْهَادِ فِي الْهَبَةِ

دیکھو حدیث ۱۱۸۰ بَاب بہر کرنا گواہ کرنا

عَنِ الثَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يَقُولُ أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

ثعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ میرے باپ نے مجھے کچھ دیا تو عمرو بنت رواحہ نے انہیں کہا کہ

لَا أَرْضَى حَتَّى تَشْهَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

نے کہ میں پسند نہیں کرتی بیان تک کہ رسول اللہ صلعم کو گواہ بناؤ وہ رسول اللہ صلعم کے پاس حاضر ہوتے

وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرْتَنِي أَنْ أَشْهَدَ

اور عرض کیا کہ میں نے اپنے بیٹے کو عمرو بنت رواحہ سے کچھ دیا تو رسول اللہ صلعم نے مجھے کہا کہ تم آپ کو گواہ بناؤ

یلا آنحضرت میں شہد
عید و رسم کسی پر دیکھو
سہی واپس نہ کرتے
لیکن خوشبو سے
آپ کو غصہ محبت
تھی
مطلبیاں روایت
تخصیر ہے ان نبی
صلی اللہ علیہ وسلم
حین جائد و ذی
موازن قاصدے
انس یا فاشی علی
اللہ بعاہواہلہ
شرفال اما بعد
فان اغواکم جائفنا
تائبین دانی رأیت
ان ارد الیہم سببہم
فمن احب مملکہ
ان یطیب ذلک
لفی فعل من احب
ان یکن علی حطہ
حق نعلیہ ایامہ
من اول ما یفعل
اللہ علینا فقال
الناس طیبینا لک
اس حدیث سے عام
بخاری نے یہ سٹائل
کیا ہے کہ ایک چیز

فیہ موجود ہو تو اس کا بہر جائز ہے۔ شاہین کا خیال ہے کہ قیدی ابھی تقسیم نہ ہونے سے اس لئے وہ غیر موجود چیز کے حکم میں تھے کہ لوگوں نے انہیں خوشی سے دیکھا
اصل حدیث میں ہے وقد کان رسول اللہ صلعم بضع عشرۃ یلیذہ حین قفل من رطائف یعنی دس سے زائد دن ان کا اشتہار کیا تھا اور اس کی مکرر
روایت م ۱۱۵۰ میں اس قدر زیادہ ہے اما المال و اما السبی وقد کنت استأثرت بهم یعنی یا مال سے لیا قیدی اور میں نے ان رقبہوں کے ہاتھ میں دیر لگائی
تھی اس سے قیاس کیا گیا ہے کہ قیدی ابھی تقسیم نہ ہونے سے اس لئے گواہ بہر کرنے والوں کے قبضے میں نہ تھے۔ ملاحظہ فرمائیے جہاں سے آپ کو بہر آئے وہاں آپ بھی
کچھ بھیج دیا کرتے تھے۔ جیسے درود ستوں میں باہم تعلق ہوتا ہے۔ پیر جو نذرانہ کو بہر دینے والوں کے کر مریدوں کو لہتے ہیں اور خود صرف یہ کہنا جانتے ہیں کہ ہم تمہارے
لئے دے رہے ہیں وہ محمد رسول اللہ صلعم کی سنت سے کوسوں دور ہیں۔ مگر اس عنوان میں چار مسئلوں کو جمع کیا ہے (۱) ماں باپ کا اپنی اولاد کو بہر کرنا
(۲) اور اولاد سے سوک میں مساوات رکھنا (۳) اولاد کو جو چیز بہر کی جائے اسے واپس لینا (۴) اور کیا والدین اولاد کے مال میں سے کھا سکتے ہیں۔ یہ ہیں
روایت مختصر ہے۔ ان ابابہ الی بہ الی رسول اللہ صلعم علیہ وسلم فقال انی نخلت ابنی ہذا علاما فقال اکل مملکک نخلت مملکک قال لا قال فاوجہہ۔ ماں باپ
کے مال میں اولاد کا حق ہے۔ ایک کچھ بہر کرنا اور دوسرے کو اس حصہ سے محروم کرنا ہے۔ اس نا انصافی سے اولاد کے دل میں ماں باپ کے لئے بھائے محبت کے نفرت
پیدا ہوگی۔ اس حدیث سے اولاد کو بہر کرنے کا جواز ثابت ہوا۔ اور یہ بھی کہ ایسے بہر میں اولاد میں مساوات رکھی جائے اور یہ بھی کہ نا انصافی کی صورت میں بہر واپس
ہو سکتا ہے۔ یہ باب کے پہلے تین عنوان ہیں۔

يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أُعْطِيَتْ سَأْتِرُ دَلِكِ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْبُدُوا
 بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فَرُجِعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ رَمَاهُ **بَابُ هِبَةِ الرَّجُلِ لِأَمْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةِ**
 لِرِزْوَجِهَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ جَائِزَةٌ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يُرْجَعَانِ وَأَسْتَأْذِنُ
 النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ أَنْ يَمْرُضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِنَّ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْبِهِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ قَالَ
 لَا فَرَأَيْتَهُ هَيْبِي لِي بَعْضُ صَدَاقِكِ أَوْ كَلَّةٌ لَمْ يَمْلِكْ إِلَّا لَيْسَ إِحْتَى طَلَقَهَا
 فَرُجِعَتْ فِيهِ قَالَ يَرُدُّ الْبَيْتَ إِنْ كَانَ خَلِيهَا وَإِنْ كَانَتْ أَعْطَتْهُ عَنْ طَيْبِ نَفْسٍ
 نَفْسًا رَمَاهُ **عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَرِّرًا - ۱۶۱) (۱۲۱۹) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ**
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِي ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْبِهِ
(۱۵) بَابُ هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِعَزِيزِ زَوْجِهَا وَعِثْقِهَا إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَلَهَا جَائِزَةٌ إِذَا
لَمْ تَكُنْ سَفِيهَةً فَإِذَا كَانَتْ سَفِيهَةً لَمْ يُجْزَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تَوَاتُوا السُّفَهَاءَ
أَمْوَالَكُمْ (۱۲۱۹) أَحْسَنُ أَسْمَاءُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي قَالَ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيْكَ
الرِّبَا بِرِيفَانِ صَدَقْتِي قَالَ تَصَدَّقِي وَلَا تَوَعِي فَيُوعِي عَلَيْكَ رَمَاهُ **عَنْ أَسْمَاءَ (مُتَكَرِّرًا -**
۱۲۲۰) (۱۲۲۰) عَنِ كُرَيْبِ بْنِ مَرْثَدَةَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا كَانَ يَوْمَهَا الَّذِي
يُدْرِي عَلَيْهَا فِيهِ قَالَتْ أَشَعَرْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلَيْدِي قَالَ أَوْ فَعَلْتِ

علا اس حدیث سے
 یہ معلوم ہوتا ہے کہ بشر
 کی انھوں اور دوسری
 بیوی سے کسی تو رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے
 پسند نہ فرمایا کہ اس طرح
 اولاد میں تقرب کی
 جائے اگر شہداء ایک
 لڑکے یا لڑکی کو والد
 نے تعلیم دلائی ہے تو
 اس صورت میں بوسہ
 کی تعلیم دینے کے لیے
 اسے دیکھنا چاہئے
 لیکن اگر اولاد میں
 سے کوئی حصہ محتاج
 ہو اور دوسرا حصہ
 غنی ہو تو محتاج کی
 امداد کرنے میں بیخ
 نہیں وہ نانا غنائی
 نہ ہوگی
 علا مکرر روایت مختصر
 جو الفاظ تقریبی ہی
 ہیں اور دو کانت
 عائشہ رضی اللہ عنہا سے
 آخر تک کا مضمون
 بیان نہیں اور عربوں
 کا تعلق اس حدیث
 ہے۔ استاد زنادی نے
 ان بیرونی میں بیانی
 خانہ لہ
 میں بعض لوگوں نے
 عورت کے سپرد
 بعض شرط لگانے میں
 امام بخاری احادیث
 کی بنیاد پر کسی تریہ
 کرنے میں قرآن شریف
 میں بھی مساوات جو
 والمصدقین و
 المتصدقات للرجال

م نصیب تھا لکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے معلوم ہوا کہ عورت کو خواہ خاندان سے ہی مال دیا ہو مگر جب وہ ویسے تو اس پر اس کا تصرف نام ہے جہاں چاہے
 فرما کر ہے، مگر شرط میں الفل زیادہ ہے اور تک لیسکا کی جگہ تومی لیس ہے

۱۱۸۶ سے ۱۱۸۷
اختیار و رضیت
مغلی فرق سے
مدینہ کو روایا
ہجرت سے بیان
اور اس کی خبروں کا
ذکر نہیں ہوا جو
دیئے گئے تھے۔
اس حدیث میں تو
کہ حضرت حاجے
آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا وہ
کو اگر وہ نیکو کام
تو میں نے اتنا
دور کیا، آنحضرت
کی وفات کے بعد
حضرت ابو بکر نے
دور کیا، ایک کھڑکی
کا نال حضرت ابو بکر
کے ایام خلافت
میں آیا، وہ اسی سے
متران ہے۔ کہ
اگر کوئی شخص سے
وعدہ کرے اور
مراجے تو اس کا
واوہ سنت ورا
کرے اور ہر کھڑکی
میں ہر پیراں کی ہوتی
تھا کتاب الیوم
میں ہے کہ یا وہ
حضرت عمر کا تھا
اور ان کے بیٹے
ابن عمر اس پر سوار
تھے۔ آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم سے

(۱۱۸۶-۵) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (۱۱۱۲) ر (۱۱۹) بَابُ كَيْفَ يَقْبَضُ الْعِدُّ وَالْمَتَاعُ

۱۱۱۲ دیکھو حدیث ۱۱۱۲ باب غلام اور سامان پر قبضہ کی طرح جو
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَمَّا كُنْتُ عَلَى بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ هَذَا هُوَ لَكَ يَا عِدُّ
اور ابن عمر کہتے ہیں میں ایک شخص اور اس پر اس کا حق ہے اسے خریدا یا

اللَّهُ (۱۱۲۲) ر (۱۲۲) بَابُ السُّورِينَ فَخَرَّمَهُ رَدَّ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
سورہ نور سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں لکھی

وَلَمْ يُعْطِ مُحَمَّدًا مِنْهَا شَيْئًا فَقَالَ مُحَمَّدٌ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
اور محمد کو ان میں سے کچھ نہ دیا تو محمد نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے پہلے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْطَلَقْتُ مَعَهُ فَقَالَ ادْخُلْ فَاذْعُبْ لِي قَالَ فَاذْعُبْ لِي لَكَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ
تو میں ان کے ساتھ نکلا تو انہوں نے کہا نہ دیا اور آپ کو میرے لئے لکھا ہے کہ میں نے آپ کو کچھ لئے لکھا اور آپ پر شریعت لکھی

عَلَيْهِ نِيَاءً مِمَّا فَتَقَالَ خِيَانًا هَذَا الْكَ قَالَ فَظَنَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَضِيَ مُحَمَّدٌ مِنْهُ (۲۰) بَابُ
اور آپ بیان میں سے ایک قاضی کو آپ نے فرمایا ہے کہ اسے لئے یہ محمد کو بھی کہا تو انہوں نے اس کی طرف دیکھا اور کہ محمد کو بھی لکھا

أَذَاهُ هِيَ نَقَبَتْهَا الْأَخْرُ وَنَقَبْتُ لَهَا بَابُ (۱۱۸۶) ر (۱۱۸۶) بَابُ
جب کوئی بیچے اس کی اور دوسرے نے اس پر قبضہ کر لیا اور دوسرے نے اسے نہیں کہا تو اسے قبضہ کر لیا

(۱۱۸۷-۹) بَابُ إِذَا هَبَّ دِيْنًا عَلَى رَجُلٍ قَالَ شَعْبَةُ بْنُ الْحَكَمِ هُوَ جَائِرٌ وَوَهَبُ
۱۱۸۷ باب جب قرض کو کسی شخص پر ہر ہر کہے اور شعبہ نے حکم سے روایت کی ہے کہ ہر دین سے اور وہ بیان

أَحْسَنُ ابْنِ عُمَرَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ رَجُلٌ بَيْنَهُ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ
میں علیہما السلام نے اپنا قرض کسی شخص کو ہر ہر کہے اور ابن عمر نے فرمایا اور ابن عمر نے فرمایا

لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ فَلْيُعْطِهِ أَوْ لِيُعْطِهِ مِنْهُ فَقَالَ جَابِرٌ قَتَلَ ابْنَ عَدِيٍّ وَدِينٌ فَسَأَلَ
تو اسے دین سے اس سے سوائے بارے نہ میرے والدین کے لئے انسان ہر دین سے تو میں مسلم

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْمَاءٌ أَنْ يَقْبَلُوا التَّمْرَ حَالِطِي وَيَجْلُوْا إِلَى رَهْ-
ان کے قرضوں میں سے ہر ہر کہے اور وہ ہر سے ہر ہر کہے اور ابن عمر نے فرمایا اور ابن عمر نے فرمایا

(۱۱۸۸) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (۱۰۵۹) ر (۱۰۵۹) بَابُ هِبَةِ الْوَاحِدِ لِلْجَمْعِ
۱۱۸۸ دیکھو حدیث ۱۰۵۹ باب ایک شخص کا کسی آدمیوں کو ہر ہر کہنا

وَقَالَ أَسْمَاءُ ابْنُ عَدِيٍّ وَابْنُ أَبِي عَتِيْبٍ وَرَدَّتْ عَنْ أُخْتِي عَائِشَةَ
اور اسما نے کہا کہ ابن عمر نے فرمایا اور ابن عمر نے فرمایا اور ابن عمر نے فرمایا اور ابن عمر نے فرمایا

عمر سے خرید یا لہذا ابن عمر ہی اس پر سوار رہے مگر اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے گیا اس پر ہے۔ تو اسے ابن عمر کو ہر ہر کہنا یا وہ لکھا تو اس نے

سے وہ ہر لیا گیا ہے یعنی فقرے میں نہیں ہیں بشرط میں بیٹا ابن جلاس عبدالنبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اور انہیں نعمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

حتی بدت انیا ہجرت نہیں۔ اور عابین لاینبھا کے اول میں والذی بدشک بالحق میان زائد ہے۔ جس شخص کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیر سے بھرا ہوا

لکھا اور اس نے لیا اور اس کا ذکر نہیں کہ اس نے قبالت کہا۔ اور اسی سے عنوان ہے۔ جب انسان اپنی حالت سے قبولیت ہدیہ کا اتنا لکھے تو اس سے کہنے

کی ضرورت نہیں۔ مگر اس کا مفروضہ کہ وہ ہر ہر دینا بالاتفاق درست سمجھا گیا ہے۔ دوسرے کو ہر ہر کہنے میں اختلاف ہے۔ عنوان ہر ہر کہنے میں ہر ہر کہنے میں

ایسی قید نہیں اس کے خلاف دلیل یہ ہے کہ قبضہ نہیں ہوتا مگر قرض ایک حق ہے۔ اور حقوق کا قبضہ اپنے ہی رنگ میں ہو گا۔ اس لئے یہ کوئی دلیل نہیں۔

۱۱۸۸-۹ کہ اگر کسی شخص نے اپنا قرض دوسرے کو فرمایا ہے تو جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ہر کہنے کا حق ہے۔ اور ابن عمر نے فرمایا اور ابن عمر نے فرمایا اور ابن عمر نے فرمایا اور ابن عمر نے فرمایا

اسم وهو جالس يا عمر فقال لا يكونننا علمنا انك رسول الله وانك لرسول الله

بِالْقَابِ وَفَدَا عَطَانِي بِه مَعَارِبَهُ مَائَةَ أَلْفٍ لَهَوُ الْكُمَامِ - (۱۱۸۹) عَنْ سَهْلِ بْنِ

صخر معاویہ اس کے بدلے مجھ کو ایک لاکھ درم دیتے تھے وہ تم دونوں کا بڑا عمل

سَعْدٍ (متکرر - ۱۰۴۱) (۲۳) بَابُ الْعِيَةِ الْمَقْبُوضَةِ وَغَيْرِ الْمَقْبُوضَةِ وَالْمَقْسُومَةِ

دیکھو حدیث ۱۰۴۱ باب قبضہ شدہ اور غیر قبضہ شدہ کا مسئلہ اور تقسیم شدہ

وَغَيْرِ الْمَقْسُومَةِ وَقَدْ وَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ لَهَوَازِنَ مَا عَمُرُوا

اور غیر تقسیم شدہ کا مسئلہ اور نبی کریم اور ان کے صحابہ نے ہوازن کو جو ان سے قیمت لیا

وَمِنْهُمْ وَهُوَ غَيْرُ مَقْسُومٍ (م - ۱۱۹۰) عَنْ جَابِرٍ (متکرر - ۳۰۸) (م - ۱۱۹۱) عَنْ

ان میں سے وہ بھی جو تقسیم نہیں ہوا (م - ۱۱۹۰) جابر (متکرر - ۳۰۸) (م - ۱۱۹۱) عن

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (متکرر - ۱۰۴۵) (م - ۱۱۹۲) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (متکرر - ۱۱۴۱)

جابر بن عبد اللہ (متکرر - ۱۰۴۵) (م - ۱۱۹۲) عن سہل بن سعد (متکرر - ۱۱۴۱)

(م - ۱۱۹۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرر - ۱۱۱۸) (۲۴) بَابُ إِذَا وَهَبَ جَمَاعَةٌ لِقَوْمٍ

(م - ۱۱۹۳) عن ابی ہریرہ (متکرر - ۱۱۱۸) (۲۴) باب اگر ایک جماعت کسی قوم کو ہبہ کرے

(م - ۱۱۹۴) عَنْ مُرْوَانَ بْنِ الْحَكِيمِ (متکرر - ۱۱۱۹) (۲۵) بَابُ مَنْ أَمْرِي

(م - ۱۱۹۴) عن مروان بن الحکم (متکرر - ۱۱۱۹) (۲۵) باب جو میرے لئے

لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جِلْسَاؤُهُ فَهِيَ أَحَقُّ وَبَيْنَ كُرْعِنِ ابْنِ عَتَّارٍ أَنَّ جِلْسَاؤَهُ

اور اس کے پاس اور لوگ بھی بیٹھے ہوں تو وہ زیادہ حق دار ہے اور ابن عباس سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ

شُرَكَاءُؤُهُ لَمْ يَصُحُّ (م - ۱۱۹۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرر - ۱۱۱۸) (م - ۱۱۹۶)

بھیٹنے والے وہی شریک ہیں اور صحیح نہیں (م - ۱۱۹۵) عن ابی ہریرہ (متکرر - ۱۱۱۸) (م - ۱۱۹۶)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (متکرر - ۱۰۵۲) (۲۶) بَابُ إِذَا وَهَبَ جَمَاعَةٌ لِقَوْمٍ فَهِيَ جَائِزَةٌ

دیکھو حدیث ۱۰۵۲ باب اگر ایک جماعت کسی قوم کو ہبہ کرے اور ہبہ ہر سارا ہر جائز ہے

(م - ۱۱۹۷) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (متکرر - ۱۰۵۲) (۲۷) بَابُ هَدِيَّةٍ مَا يَكْرَهُ لِبَنَاتِهَا

(م - ۱۱۹۷) عن ابن عمر (متکرر - ۱۰۵۲) (۲۷) باب اگر ایک ہبہ جو

علا حضرت کے نزدیک جو چیز قابل تقسیم ہو تو اس کا ہبہ کرنا درست نہیں اگر وقت قبضہ تک غیر تقسیم شدہ ہو اگر قابل تقسیم نہ ہو جیسے ہر ایک کتاب وغیرہ یا قابل تقسیم ہو اور وقت قبضہ میں تقسیم ہو چکی ہو تو بہت درست و اگر ہبہ کرنے کے وقت تقسیم نہ ہو گیا ہو یا عملی اقلیت لفظی سے حدیث کو رد کیا ہے۔ غرض ان باب سے چنداں تعلق نہ ہو نہیں ہر نام لیا گیا اس کے کہ حضرت مسلم نے اس کے کو کتاب کا اگر تم اجازت نہ دینا اور وہ بیت سے کتاب کا اگر تم حکایت مال ہو

جلی ہو گئے ہبہ میں نہ آئی ہو تو امام بخاری اس کے ہبہ کو بھی جائز سمجھتے ہیں اور یہ درست معلوم ہوتا ہے مابقی میں چیزیں نہ لکھتے مگر یہ حدیث صحیح ہے اور ہبہ اس کا ہبہ ہے صحیح ہے۔ مگر حضرت عتیم بن النبی سلمہ فی السجہ نفعنا فی وزادنی وشرادہ زاید الگ الگ کر کے نہیں دیا۔ مگر بیان رعایت بیت اشعلہ سے آئی ہے حدیث من النبی سلمہ بعد انی سفر فلما اتینا المدینۃ قال انت السجہ نصف وکعبین فوزن قال شعبة اراہ فوزن فی ما ینبغی فمنا زال منها شیء منی اضربھا احل لنا و جملنا لہ یعنی اس رقم سے جو آنحضرت سلمہ نے مجھے دی تھی میرے پاس رہا کرتا تھا یہاں تک کہ خرہ کے دن اس شام سے روٹے آئے گئے۔ مگر روٹنے کے میدان کا نام ہے۔ سئلانہ ہرگز کسی چیز کے ٹکڑے نہ دینے پر حکم کیا تھا۔ میدان من میں لڑائی ہوتی ہے اور میدان کا نام اس میں لڑائی کی طرف اٹھانے ہے۔ علامہ کے الفاظ معلوم سے زیادہ ملے ہیں۔ مگر رسول اللہ کے شرک کے الفاظ ان رجل انی النبی سلمہ یتقاضا فانی لفظ کی جائے ہے کان لرجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اس کے جو کیفیت تقسیم لفظی سے حدیث کو رد ہوا ہے۔ آپ نے زیادہ قیمت کا اوٹ فرض میں دیا یا یہ گواہی پر قسم کا ہبہ تھا۔ مگر اس کے الفاظ م۔ م۔ اس کے میں حضرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مال اس کا ہبہ ہر سارا ہبہ ہے۔ مگر کھانے پینے کی چیزوں میں عمر آدمی اس شخص کا مال کو شریک کر لیا ہے۔ ابن عباس کا یہی مطلب ہو گا ورنہ ہبہ ہو جائے وہی اس کا مقدار ہو گا۔ مگر یہ روایت منقرضہ اندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذنا منہ ما ینبغی فمنا زال فقال ان صاحبنا لہ ما ینبغی فمنا زال فقال افضل من سنہ وقال افضلکم احسنکم قضاء۔ استدلال یہ ہے کہ اگر لوگ ہبہ یا اس سے اس زیادتی میں شریک نہیں ہوتے۔ علامہ نے یہ روایت منقرضہ اندہ ابن عباس کا مال اس کا ہبہ ہر سارا ہبہ ہے۔ مگر کھانے پینے کی چیزوں میں عمر آدمی اس شخص کا مال کو شریک کر لیا ہے۔ مقدم النبی سلمہ احد فقال لہ النبی سلمہ بیئہ فقال عمر ہبہ تا شراہ فم قال ہولک یا عبد اللہ فاصنہ بحلفنت۔ مگر ابوی ہبہ سے کہہ النبی سلمہ فی سفر کنت علی بکر مصعب فقال النبی سلمہ احسنکما بئنا قال النبی سلمہ ہولک یا عبد اللہ۔ مگر ابی ہبہ زینا جازتے خود چنے دوسرے کو نہیں دے گا۔ مگر ابوی ہبہ سے کہہ النبی سلمہ احسنکما بئنا قال النبی سلمہ ہولک یا عبد اللہ۔ مگر ابوی ہبہ زینا جازتے خود چنے دوسرے کو نہیں دے گا۔ مگر ابوی ہبہ سے کہہ النبی سلمہ احسنکما بئنا قال النبی سلمہ ہولک یا عبد اللہ۔ مگر ابوی ہبہ زینا جازتے خود چنے دوسرے کو نہیں دے گا۔

۱۱۹۸ عن عبد اللہ بن عمر (متکرر - ۵۲۶) (۱۲۳) عن ابن عمر قال آتت
 النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت فاطمہ فلم یدخل علیہا وجاء علی فذکرت لہ ذلک فذکر
 حضرت فاطمہ کے کہ شریف لائے تو انکے پاس راہنہ شریف نہیں لائے حضرت علی کے حضرت
 للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رأیت علی باہا ستراً متوشحاً نقان ماری ولذنا
 فاطمہ سے اس سے کہ کا ذکر کیا انہوں نے اس کا ذکر بھی مسلم سے کیا اسے فرمایا میں نے ان کے درویش پر دیکھا اور پڑھ دیکھا اور فرمایا میرا اور
 فاتھا علی فذکر ذلک لہا فقالت لیا صر فی نیتہ بما شاء قال تو سئل بہ الی فلا ین اہل
 وہی کا کیا اتفاق ہے حضرت علی فاطمہ کے پاس آئے اور انہیں یہ بات بتائی حضرت فاطمہ نے کہا اس بارہ میں جو ہم جا رہے ہیں وہیں آنحضرت نے فرمایا
 بیت ہم حاجدہ ۱۲۳ عن کعبی قال اھدی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلة
 لست علیا فطروا ہوں کہ صحیح رووہ صحیح ہیں حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی صلوات اللہ علیہ
 سیرا تو فلیست ہا فرائیت الغضب فی وجہہ نشفقنا بین نسائی (۲۸) باب
 کا تحفہ بیجا میں نے اس میں با تو آپ کے ہرے پر میں نے ناراضگی دیکھی اور اسے کھوسے کہ اپنی خوار تو میں رہیں اور کیا مہما باب
 قبول الھدیۃ من ایشیرا ین وقال ابو ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاجر
 مشرکوں کا تحفہ قبول کرنا اور ابو ہریرہ جی مسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم
 ابراہیم علیہ السلام سارۃ فدخل قریۃ فیہا ملک اوجنا فقال اعطوا ہاجر
 علیہ السلام نے حضرت سارہ کو بیکہ ہجرت کی تو ایسی بستی میں گئے کہ اس میں ایک ظالم بادشاہ تھا اس نے کہا سارہ کو آجرو دینا
 و اھدی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر یھا سم وقال ابو حمید اھدی ملک
 اور نبی صلوات اللہ علیہ وسلم میں ایسی کبری کا تحفہ بھیجا جس میں زہر تھا اور ابو حمید کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے
 ایتۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بغلۃ بیضاء ولساہ بردا ولب الہجیر (۱۲۵)
 نبی صلوات اللہ علیہ وسلم میں سفید چمڑا بھیجا اور آنحضرت مسلم نے اسے ایک ہار دہی اور اس کیلئے ان کا ملک لکھ دیا ملک
 عن ابن عباس قال اھدی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حنۃ سندھوق کلان یھنی عن
 ان سے روایت ہے کہ نبی صلوات اللہ علیہ وسلم کو شہمی چمڑا تحفہ دیا گیا اور آپ شہمت منع فرماتے تھے لوگ اس کی بیخوشی
 اھدی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حنۃ سندھوق کلان یھنی عن
 سے شہمت ہونے اپنے فرمایا اس وقت کی قسم ہے کہ ہاتھ میں محمد صلوات اللہ علیہ وسلم کی جان ہے سعد بن معاذ کے رومانی جنت
 فی اجنتۃ احسن من ہذا روفی وایۃ ان الکیدار وومۃ اھدی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 میں اس سے نبی صلوات اللہ علیہ وسلم کو چھوڑتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ دو مسکے ایک پر لے نبی صلوات اللہ علیہ وسلم کو تحفہ بھیجا ہے

۱۱۹۸ عن عبد اللہ بن عمر (متکرر - ۵۲۶) (۱۲۳) عن ابن عمر قال آتت
 النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت فاطمہ فلم یدخل علیہا وجاء علی فذکرت لہ ذلک فذکر
 حضرت فاطمہ کے کہ شریف لائے تو انکے پاس راہنہ شریف نہیں لائے حضرت علی کے حضرت
 للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رأیت علی باہا ستراً متوشحاً نقان ماری ولذنا
 فاطمہ سے اس سے کہ کا ذکر کیا انہوں نے اس کا ذکر بھی مسلم سے کیا اسے فرمایا میں نے ان کے درویش پر دیکھا اور پڑھ دیکھا اور فرمایا میرا اور
 فاتھا علی فذکر ذلک لہا فقالت لیا صر فی نیتہ بما شاء قال تو سئل بہ الی فلا ین اہل
 وہی کا کیا اتفاق ہے حضرت علی فاطمہ کے پاس آئے اور انہیں یہ بات بتائی حضرت فاطمہ نے کہا اس بارہ میں جو ہم جا رہے ہیں وہیں آنحضرت نے فرمایا
 بیت ہم حاجدہ ۱۲۳ عن کعبی قال اھدی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلة
 لست علیا فطروا ہوں کہ صحیح رووہ صحیح ہیں حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی صلوات اللہ علیہ
 سیرا تو فلیست ہا فرائیت الغضب فی وجہہ نشفقنا بین نسائی (۲۸) باب
 کا تحفہ بیجا میں نے اس میں با تو آپ کے ہرے پر میں نے ناراضگی دیکھی اور اسے کھوسے کہ اپنی خوار تو میں رہیں اور کیا مہما باب
 قبول الھدیۃ من ایشیرا ین وقال ابو ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاجر
 مشرکوں کا تحفہ قبول کرنا اور ابو ہریرہ جی مسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم
 ابراہیم علیہ السلام سارۃ فدخل قریۃ فیہا ملک اوجنا فقال اعطوا ہاجر
 علیہ السلام نے حضرت سارہ کو بیکہ ہجرت کی تو ایسی بستی میں گئے کہ اس میں ایک ظالم بادشاہ تھا اس نے کہا سارہ کو آجرو دینا
 و اھدی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر یھا سم وقال ابو حمید اھدی ملک
 اور نبی صلوات اللہ علیہ وسلم میں ایسی کبری کا تحفہ بھیجا جس میں زہر تھا اور ابو حمید کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے
 ایتۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بغلۃ بیضاء ولساہ بردا ولب الہجیر (۱۲۵)
 نبی صلوات اللہ علیہ وسلم میں سفید چمڑا بھیجا اور آنحضرت مسلم نے اسے ایک ہار دہی اور اس کیلئے ان کا ملک لکھ دیا ملک
 عن ابن عباس قال اھدی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حنۃ سندھوق کلان یھنی عن
 ان سے روایت ہے کہ نبی صلوات اللہ علیہ وسلم کو شہمی چمڑا تحفہ دیا گیا اور آپ شہمت منع فرماتے تھے لوگ اس کی بیخوشی
 اھدی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حنۃ سندھوق کلان یھنی عن
 سے شہمت ہونے اپنے فرمایا اس وقت کی قسم ہے کہ ہاتھ میں محمد صلوات اللہ علیہ وسلم کی جان ہے سعد بن معاذ کے رومانی جنت
 فی اجنتۃ احسن من ہذا روفی وایۃ ان الکیدار وومۃ اھدی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 میں اس سے نبی صلوات اللہ علیہ وسلم کو چھوڑتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ دو مسکے ایک پر لے نبی صلوات اللہ علیہ وسلم کو تحفہ بھیجا ہے

گھر لے کر ایک عورت ہے اس مجاورہ نہ کہنے کی وجہ سے بعض لوگوں کو شوکر لگی ہے کہ قرآن شریف نے حضرت موسیٰ کے زمانے کے واقعات کو حضرت عیسیٰ کے زمانے کے واقعات سے غلط کر دیا ہے یہ عکس ترمذی اور ابو داؤد میں روایت عن زیدنا لہما کلین ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے مشرکوں کے تخافت کے قبول کرنے سے جو بانی ہے اس کا کوئی قابل عمل ہوگا کیونکہ مشرکوں کے ہونے کے اپنے قبول فرماتے شاید مراد ہے مشرک ہوں جو مسلمانوں سے جنگ کرتے ہوں بخوان میں جو تین متان روایات مشرک کہہ دینے کے قبول کرنے کے جو ایسی نقل کی ہیں تو ان میں سے پہلی ۱۲۵ میں اور دوسری ۱۲۳ میں ہے اور دوسری اسی باب میں آئی ہے ہر تین تئیں دیکھیں ان کی تصحیح ہے اور وہ جو کہ فریب ایک مشرک نام سے اور دو متا لحد ل کے نام سے مشہور ہے اور حد ل تین ہیں دوسری روایت نے پہلی روایت کی وضاحت کر دی کہ شہمی چمڑا کید رکائے تھے جو روایت سے سردار تھے ۱۲۵ میں جو ذکر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو شہمی چمڑا دیا یا مسلم کی روایت میں ہے کہ یہ بھی اکید ہی لائے تھے اکید رعسائی تھا دوہہ کا سر وار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی فوج خالد بن ولید کی سرکردگی میں ان کے مقابلہ کے لئے بھیجی فالاد اسے قید کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اکید نے آپ سے جزیہ پر مصالحت کی

(۱۲۲۶) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ هُرَيْرَةَ أُمَّتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَاةٍ
 انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت آنحضرت صلعم کے پاس ایک بکرہ اور

مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَتْ مِنْهَا حَتَّى غَبِرَ بِهَا فَعَقِيلُ الْأَنْقَلَبِ قَالَ لَأَفْئِزَنَّ أَعرِفَهَا فِي لَهَوَاتِ
 بکری یا بکریوں میں لائی آپ نے اس سے کچھ کھا یا دیکھا کہ لانی کئی عرض کیا یہ کیسا کتلا مارنا ہے اور فرمایا نہیں اس کتلا میں میں برابر رسول

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۱۲۲۷) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَنَا
 آنحضرت صلعم کے ہاویوں اس کے لئے کو کھاتا رہا کتلا عبدالرحمن بن ابی بکر سے روایت ہے کہ ہم نبی صلعم

مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ
 کے ساتھ ایک سو تیس آدمی تھے تو نبی صلعم نے دریافت فرمایا کیا

مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ وَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعًا مِنْ صَاعٍ وَأَوْخَرًا فَفَجَنُّ تَحْرَجَاءِ
 تم میں سے کسی کے پاس کھانے تو ایک ٹھنڈے کے پاس ایک صاع یا ایسا ہی کچھ اور حج تھا وہ دیکھا گو نہ تھا گیا پھر ایک شکر

رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ بَعِيضٌ يَسُوقُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 پہاڑوں والے لیے قد والے بکریاں بانگیا ہوا آیا تو نبی صلعم نے فرمایا

بَيْعًا مَعْطِيَةً أَوْ قَالَ أُمَّهِيَةَ قَالَ لَابِلٌ بَيْعٌ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً فَصَنَعَتْ
 بیچنے کے یا عطیہ یا بھرتے طور پر زمین نمائی کے طور پر بیچا ہوں تو آپ نے اس سے ایک بکری خریدی وہ کافی ہو گئی

وَأَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَوَادِ الْبِطْنِ أَنْ يَتَشَوَّى وَأَيُّمُ اللَّهِ مَا فِي
 اور نبی صلعم نے کلمہ کے بارے میں حکم دیا کہ رسولی جلسے اور خدا کی قسم ایک سو تیس

الْثَلَاثِينَ وَالْمِائَةَ إِلَّا تَذَجِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ جِزْرَةٌ مِنْ سَوَادِ بِطْنِهَا
 میں سے ہر ایک کیلئے اس کلمہ سے نبی صلعم نے کلام کاٹ کر دیا

إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا آيَاتَهُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خِيَالَهُ فَجَعَلَ مِنْهَا فَصْعَتَيْنِ
 اگر حاضر تھا تو اسے دہایا اور اگر غیر حاضر تھا تو اس کے لئے محفوظ رکھا اور بکری سے

فَأَكَلُوا أَجْمَعُونَ وَشَبَعًا فَفَضَلَتْ الْقِصْعَتَانِ فَحَمَلْنَا عَلَى الْبَعِيرِ (۲۹)
 دو کھاتے ہوئے اسے کھا یا اور ہم سیر ہو گئے اور دونوں کاموں میں کچھ بچا ہوا ہے اس نے اونٹ پر بھر کر لیا ہوا

بَابُ الْهُدْيَةِ لِلْمُشْرِكِينَ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَتَّخِذُ اللَّهُ مِنَ الَّذِينَ
 باب مشرکوں کو ہدایت دینا اور اللہ تعالیٰ کا قول اللہ تم کو ان سے نہیں روکتا جو دین کے باتے میں

لَمْ يَفَاتِكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ
 اور تم کو اپنے گھروں سے نکالا کہ ان کے ساتھ احسان کرو اور ان کے معاملہ میں انصاف کرو (متفقہاً)

۱۲۲۶
 باب اقامۃ
 محمد ودر لانتقا
 لحوامات اللہ میں
 حضرت عائشہ سے
 جو روایت ہے کہ
 آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے بن
 ذات کے لئے کسی
 سے بدلہ نہیں لیا یہ
 اس کا ایک نمونہ
 ہے۔ یہ بیخ فیس کے
 لیکار واقعہ ہے۔
 رسول اللہ صلعم
 نے اس سے تھوڑا
 سا کھایا اور پھر
 بٹالیا یا جو دیکھ یہ
 عورت نعل نعل
 کا اور کبا بکری
 تھی اور یہ گناہستان
 حکومت کو تیار کرنے
 کی کوشش تھی مگر
 آپ نے اسے کوئی
 سزا دی۔ لیکن
 نعل آپ کی ذات
 کے خلاف تھا۔
 دشمنوں سے محبت
 کے یہی نمونے
 قدم قدم پر آپ
 کی زندگی میں پائے
 جاتے ہیں۔ اور
 اسی ہی نمونہ میں
 آپ کو نعوذ باللہ
 ذاکر اور شہداء
 بتاتے ہیں۔ حضرت
 سید کی تعلیم میں تو

بے شک یہ الفاظ ہیں مگر کیا عملی طور پر بھی کوئی نمونہ دشمنوں سے محبت کا ان کی زندگی میں پایا جاتا ہے یا اور ہے کہ حضور ہی ہوتا ہے جب انسان کو انتقام لینے کی قدرت حاصل ہو۔ اور آپ باو شاہ وقت سے مگر پھر بھی معاف کر دیا۔ یہ صحیح ہے کہ جب ایک صحابی اس زہرے شہید ہو گیا تو قصاص کے طور پر اس عورت کو قتل کیا گیا۔ ایسے معجزات کا حضور آپ سے بہت برکتوں پر ہوتا رہتا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے تھا و اتھاوا باہم ایک دوسرے کو بدیدہ دو۔ یہ تھلے سے درمیان محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہو گا۔ پس یہ باہم تعلقات اور محبت بر طلعے کا ایک ذریعہ ہے۔ جس طرح اسلام مسلمانوں کے درمیان اخوت اور محبت کے تعلقات کو قائم کرنا چاہتا ہے اسی طرح مسلم اور غیر مسلم کے درمیان بھی چاہتا ہے۔ اور قرآن کریم نے صریحاً ان غیر مسلموں سے تعلقات محبت سے روکا ہے۔ جو مسلمانوں کے دشمن اور ان کو تباہ کرتا چاہتے ہیں۔ انما یفیکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین را المتحذرتہ اور احسان میں بدیدہ رہنا بھی شامل ہے۔

بہ خفی اختلافت
نقلی سے حدیث
کو دہرایا ہے البتہ
لہذا کہا کہ اس کا
کے بعد یہاں ہے
تقدیراً اور تفسیراً
اسے بیچ دو یا کسی
دوسرے کو پھا دو
حضرت عمر نے اپنے
مشک بخاری کو یہ
جوڑا بطور تحفہ
دیا

مختار قرآن شریف
کا حکم بھی عام ہے
والذین سئلوا
یا غیرہم صاحبہما
فی الدنیا معروفاً
اور لغتاً ۱۵۰
بالمولودین احساناً
یعنی اس کو ۱۷۳
قرآن شریف کے
احکام صدقات
کے متعلق بھی عام
ہیں۔ بھاری علیہ
حد حکم رابقہ
۲۰۲۰ میں ہے
تا وہاں کہ جہت دنیا
تیار کام نہیں
اپنی قیمت کو عام
کر دے

مستہیاں منہلو
کا موت آخری جملہ
دوسرا ایسا ہے
فی ہبتہ کا لغتاً
فی قبیلہ۔ یہاں

(۱۱۹۹) عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَتَكَرَّرًا (۵۲۴) (۱۲۲۸) عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِي بَكْرٍ قَالَتْ

دیکھو حدیث ۵۲۴۔ اسما بنت ابی بکر سے روایت سے کیا

قَدِمْتُ عَلَى اُمِّي وَهِيَ مَسْرُوكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْنَيْتُ

میری ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں میرے پاس آئی اور وہ مسرک تھی تو میں نے رسول

رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ وَهِيَ رَاغِبَةٌ اَفَاَصِلُ اُمِّي قَالَ نَعَمْ صَلَّى اُمَّتِكَ

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی تھی تو کیا میں اپنی ماں کو کہوں کہ فرمایا ہاں اپنی ماں کو کہو

(۱۲۰۰) عَنْ ابْنِ عِبَّاسٍ (۱۲۱۹) (۱۲۱۹) (۱۲۱۹) (۱۲۱۹)

عَبَّاسٍ مَتَكَرَّرًا (۸۰۰) (۱۲۱۹) (۱۲۱۹) (۱۲۱۹) (۱۲۱۹)

عَنْ عُمَرَ مَتَكَرَّرًا (۸۰۰) (۱۲۱۹) (۱۲۱۹) (۱۲۱۹) (۱۲۱۹)

اللّٰهُ بِنِ ابْنِ مَلِيكَةَ اَنَّ بِنِي صَهْبِيَّ مَوْلَى بِنِ جُدْعَانَ اَذْعَابِيَّتَيْنِ وَحَجْرَةَ

بن ابی مالک سے روایت ہے کہ صہیب کے بیٹوں ابن جدعان کے غلاموں نے دو گھروں اور ایک کمرے کا دعویٰ کیا

اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطَى ذٰلِكَ صَهْبِيًّا فَقَالَ مَرُوْا نِ مَنْ تَشْهَدُ

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا ہے تو مردان نے کہا اس بات کی شہاد

لَكُنَّا عَلٰى ذٰلِكَ قَالُوْا اَبْنِ عُمَرَ فَاذْعَابُ فَشَهِدَ اَعْطَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نے کون گواہی دیگا؟ انہوں نے کہا ان عمر زمان نے انہیں بلوایا انہوں نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

صَهْبِيًّا بِلَتَيْنِ وَحَجْرَةَ فَقَضَى مَرُوْا نِ بِشَهِادَتِهِ لَهُمْ

کر دیا اور انہوں نے ان عمر کی شہادت کی وجہ سے ان کے حق میں فیصلہ دیا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رَبِّ اَبْنِ عُمَرَ مَتَكَرَّرًا (۸۰۰) (۱۲۱۹) (۱۲۱۹) (۱۲۱۹) (۱۲۱۹)

بَابُ رِجَالِ اَبْنِ عُمَرَ مَتَكَرَّرًا (۸۰۰) (۱۲۱۹) (۱۲۱۹) (۱۲۱۹) (۱۲۱۹)

اَسْتَحْمَرُ كَتَبْتُهَا جَعَلْتُهَا عَمْرًا (۱۲۱۹) (۱۲۱۹) (۱۲۱۹) (۱۲۱۹) (۱۲۱۹)

اور اسے کھرا کر (۱۲۱۹) کے صفحہ میں اس پر آبا کر کیا ہے جائز ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہا سے میں

کے بجائے ہبتہ کا لفظ ہے۔ بلکہ یہاں شروع میں ہی فقرہ زمانہ ہے۔ لیس نامثال السوء۔ یہی مثال اور صلت سے ہم بیزار ہیں اس کے بعد علامہ کو رسول نقلی
تفاوت ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کے لفظ قرآن مجید میں ہے۔ البتہ یہاں ولا تقدانی صد تناک کے الفاظ میں اور آفریں کا لغتاً فی قبیلہ کے جانے جو
کا لفظ یہودی قبیلہ ہے۔ باب غیر متواتر کے ہے اور کتاب الحدیث کے لفظات میں سے ہے اور اس حدیث کی مناسبت کتاب الحدیث ہے۔ ہے کہ اگر کسی کے
پاس کسی کا مال جو اور وہ کہے کہ مالک نے مجھے ہمہ کردیا ہے تو اس کی تحقیق کرنا چاہیے۔ اور لغت میں ان کے بعد یہ کی تصدیق کرنا چاہیے۔ بلکہ اس سے معلوم
ہوگا کہ ایک گواہ کی گواہی پر ہی فیصلہ دیا جاسکتا ہے۔ یہ عمری اور ذمی ایک خاص رنگ کا طریقہ ہے۔ اسلام سے پہلے یہ دستور تھا کہ عرب کسی کو مکان یا زمین دینے
معت کہتے اور ان کا نام ہی میں نے عمر کیلئے تجھے دیا ہے عمری کہتے ہوتے ہیں کہ یوں کہتے اور ان کا نام ہی میں نے عمر کیلئے تجھے دیا ہے اور ان کا نام ہی میں نے عمر کیلئے
ہر کیلئے تجھے دیا ہے اور جب تو مرے تو میرے وارثوں کا ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے۔ اور یہ کہ عمرت یہ کہتے اور ان کا نام ہی میں نے عمر کیلئے تجھے دیا ہے اور ان کا نام ہی میں نے عمر کیلئے
نہو ایک ہی صحت جو اس کا نام ہی میں نے عمر کیلئے تجھے دیا ہے اور ان کا نام ہی میں نے عمر کیلئے تجھے دیا ہے اور ان کا نام ہی میں نے عمر کیلئے تجھے دیا ہے اور ان کا نام ہی میں نے عمر کیلئے

عَلِيٍّ سَمِعَ يَأْتِيهِمْ أُنْهَالًا مِّنْ ذَهَبٍ لَهُ (۱۲۰۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر - ۱۲۳۰)

یہ فیصلہ کیا کہ وہ اسی کے لئے ہے جسے میرا کرنا چاہئے

(۳۳) بَابُ مِمَّنْ اسْتَعَارَ مِنَ النَّاسِ الْفَرَسَ (۱۲۳۱) عَنْ أَنَسٍ يَقُولُ كَانَ فِرْعَوْنُ بِالْمَدِينَةِ

باب جو لوگوں سے گھوڑا عاریتاً لے

فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا مِّنْ أَبِي طَلْحَةَ يَقَالُ لَهُ مَنذُوبٌ فَرَكِبَ فَلَمَّا

خوف ہوا تو نبی صلعم نے

رَجَعَ قَالَ رَأَيْتُمَا مِنْ شَيْءٍ إِذَا تَوَجَّهَ لِبَعْضِ الْأُمَمِ بَابُ الْأَسْتِعَارَةِ لِلْعَرَبِ عِنْدَ

اپنے توڑا یا جانے کے نہیں سمجھا اور ہم نے اسے دریا لایا

الْبِنَاءِ (۱۲۳۲) عَنْ أَيْمَنَ قَالَ دَخَلَتْ عَلَيَّ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَعَلَيْهَا دُرٌّ وَقَطْرٌ شَمْسٌ

ایمن سے روایت ہے کہ میں حضرت عائشہ کے پاس گیا تو انہوں نے ایک برتن کھیلنے کا کرتا بنا

خَمْسَةَ دَرَاهِمٍ فَقَالَتْ أَرَفَعُ بَصْرَكَ إِلَى حَارِيتِي أَنْظُرَ إِلَيْهَا فَإِنَّمَا تَرَاهُ ان

ہوا تھا پانچ درہم قیمت کا تو فرمائی میں میری لوٹنی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو

تَلْبَسُهُ فِي بَيْتِ وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُنَّ دُرٌّ وَعَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اسے گھر کے اندر پہننے اور نبی صلعم کے زمانے میں انہی میں سے میرا ایک کرتا تھا

فَمَا كَأَنْتِ امْرَأَةٌ تَقِينُ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا أُرْسِلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ (۳۵) بَابُ

دیکھتے ہیں کہ کوئی عورت بھی زینت کرتی تو کسی کو میرے پاس بھیجنا سے منگوانی ملے

فَضْلِ الْمَنِيَّةِ (۱۲۳۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

علیہ کی تعظیم

قَالَ نَعَمْ الْمَنِيَّةُ اللَّيْحَةُ الصَّغِيرُ مَنِيَّةٌ وَالشَّاةُ الصَّغِيرُ تَغْدُو دِيَارًا وَتَرْوِحُ

خوب دودھ دینے والی اور منی کا عطیہ کیا اجماع علیہ ہے اور خوب دودھ دینے والی بکری کا کہ منی ایک برتن ہے اور شام کو بھی ایک

بِأَنَاءٍ (۱۲۳۴) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ مِنْ مَكَّةَ

برتن لایا

وَلَيْسَ بِأَيِّدِهِمْ يَعْنِي شَيْئًا وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ أَهْلَ الْأَرْضِ الْعُقَارِ فَقَاسَمَهُمْ

اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا

الْأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُعْطَوْهُمْ شِمَارَ أَمْوَالِهِمْ كُلِّ عَامٍ وَيَكْفُوهُمْ الْعَمَلَ وَالْمَوْتَةَ

میں قسیم کر لی کہ ان کو اپنے ہاتھوں کا میوہ ہر سال دیں گے اور کام اور محنت دہی کریں گے

بقیہ صفحہ ۵۷۶

جب تو فرماتے تو

یہ میرا ہوگا یا میرے

وارثوں کا ہوگا۔

یعنی نے اسے

بالکل باطل ٹھہرایا

اور بعض نے اسے

درست ٹھہرایا جو

مگر شرط کو لغو قرار

دیا ہے اور ظاہر

ہے کہ یہ صورت

شرط کے ساتھ ہی

درست ہے اور

جب عمل اور جسے

مرجعات تو وہ ایک

یا اس کے وارثوں

کا ہوگا۔ یعنی یہ

کرتا ہے اور اسے

اور بہت ہذا ادارہ

انہما قبلہ نبی

بلکہ ان میں اتنی

نہی ملی تھی تو یہ

سے ہے یعنی انتظار

کے اس میں گویا ہر

ایک دوسرے کی

موت کا انتظار کرتا

ہے تو قریب کا ذکر

میں نہیں بعض نے

عربی قریب دونوں کو

ایک قرار دیا ہے

حاشیہ صفحہ ۱۲۴

محل جہاں نقد

میں المعری جاننے

مطابق کسی چیز کا عاریتاً

کسی سے لینا کسی

تو مسکے عزت میں بھی معیوب نہیں۔ اور نبی صلعم نے تو اپنی ذاتی ضرورت کے لئے یہ گھوڑا نہ لیا تھا بلکہ یہ قومی ضرورت تھی۔ اور قوم کی حاجت کا سوال تھا۔ مگر نبی صلعم کی شجاعت کا ایک نمونہ ہے کہ کچھ آوازوں وغیرہ کی بنا پر مدینہ پر دشمن کے حملے کا خطرہ ہوا تو آنحضرت صلعم اکیلے گھوڑے پر سوار ہو کر یاہر نکل گئے اور اس آکر لوگوں کو اطمینان دلایا کہ کوئی خطرہ نہیں، گھوڑا اپنے دوسرے سے ستمار لیا اس کا نام منذوب زخمی وجہ سے تھا۔ خدا جب رقم کے نشان کو کہتے ہیں۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ ان بظلمت سست رفتار تھا۔ مگر نبی صلعم نے فرمایا ہم نے اسے دریا کی طرح چلنے پایا۔ طاقتور سوار کے نیچے سست رفتار جانور بھی تیز ہو جاتا ہے۔ مگر نبی صلعم نے کہا کہ دو اہنوں کے سوارانے کیلئے گھوڑا جانا تھا۔ اس سے دو لہن کی زینت کے لئے کوئی چیز عاریتاً لے لینے کا جواز اخذ کیا ہے مگر جو اس وقت رواج ہے کہ بڑے بڑے پیش قیمت زیور عاریتاً لیکر دلو لہن کو پہننے جاتے ہیں یہ سراسر تباہی کا موجب ہے۔ دو لہن کی زینت اور چیز بے فائدہ کے لئے زیور عاریتاً لینے کا جواز اس سے نہیں نکلتا۔ یہ منہجہ۔ تخلیق کے عطیہ اور ہبہ کے سنے میں ہی آتا ہے۔ اور اس معنی میں ہی کہ دودھ والی اذنی یا گائے بکری کسی کو دیدی جائے کہ وہ اس کا دودھ استعمال کر کے پھر مالک کو واپس کرے۔ یہاں ہی معنی مراد ہیں لہذا وہ اذنی ہے جو دودھ دیتی ہو اور قریب اولاد تہی ہو۔ مگر اس کے لئے دیکھو صفحہ ۱۲۴ پر نوٹ ۹

من عناق قوم مجبور
 کا درخت ہے جس کا
 پھل نور اور چمکا ہو
 اور مجبور کے درخت
 دوسرے سے مراد یہاں
 ان کا پھل دینا ہے۔
 کہو کہ آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم نے
 درخت کی تعمیر کو
 نامعلوم کیا تھا۔
 دیکھو ۱۱۶۹ اور اس
 پر نوٹ ۶
 لفظ اس کی ابتدا
 یوں ہوئی ہے کہ کانت
 لرجال منافضول
 ارضین فقالوا
 نواجرها بالثقت۔
 اس کے بعد کے الفاظ
 ایک ہیں سو دیکھو نوٹ
 ۱۱۶۹ اور ۱۱۶۹
 کی دوسری روایت
 کے الفاظ یہاں نہیں
 ملتے یہاں فقہ نے
 صد تھا قال نعم
 اور نا عمل من درواز
 الجوار کے دریاں پر
 قال فهل تغمضها
 شيئا قال نعم قال
 فقلها يوم دردها
 قال نعم
 میں تفصیل ہے۔
 ان النبي صلی اللہ علیہ
 علیہ وسلم خود چلے
 ارض تھانہ زرعاً کثیراً
 فقال من هذا
 فقالوا انك اولها فلما
 فقال اما انه لو
 مغمضها اياه كان
 خير له من ان يغمض
 عليها احمر فعملوا
 معهما ما استقاموا
 ہے ہاجر ابوہم

وَكَانَتْ اُمَّةً اَمْرًا سِرًّا وَسَلِيمًا كَانَتْ اُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بِنْتُ أَبِي طَلْحَةَ فَكَانَتْ اَعْطَتْ اُمَّ

اور اس کی ماں بنتی اس کی ماں ام سلیم عبد اللہ بن ابی موحی کی ماں بنتی اور اس کی ماں

اَنْسِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ عِنْدَ اَقَا فَاَعْطَاهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْرًا يَمِين

نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ درخت دیئے تھے تو نبی صلعم نے وہ ام امین اپنی

مَوْلَاتَهُ اُمَّ اسَامَةَ بِنْتُ زَيْدٍ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ فَاَخْبَرَنِي اَنْسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ

آزاد شدہ لڑکی ام اسامہ بن زید کی ماں کو دے دیے ابن شہاب کہتے ہیں تو مجھے انس بن مالک نے خبر دی کہ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَرَعْنَا مِنْ قِتْلِ اَهْلِ خَيْبَرَ فَاَنْصَرَفَ اِلَى الْمَدِينَةِ

نبی صلعم جب اپنی فوج کی اداوائی سے فارغ ہوئے اور مدینہ کی طرف لوٹے

رَدَّاهُمْ اَجْرَهُنَّ اِلَى اَنْصَارٍ مِنْ اَجْمَعِهِمُ الَّتِي كَانُوا اَمْتًا لَهُمْ مِنْ ثَمَارِهِمْ فَرَدَّ

تو ہمارے انصار کو ان کے وہ غلے واپس کر دیئے جو انہوں نے اپنے پھلوں میں سے ہمارے بن کو دیئے تھے

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى اُمَّهِ عِنْدَ اَقْمَا وَاعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اور نبی صلعم نے بھی اس کی ماں کو ان کے درخت واپس کر دیئے ام اور نبی صلعم نے

وَسَلَّمَ اَمْرًا يَمِينًا مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ (وَفِي رِوَايَةٍ) مَكَانَهُنَّ مِنْ خَلْصِهِ

ام امین کو اس کے بدلے اپنے باغ میں سے کچھ دیا اور ایک روایت میں جو ان کے بدلے اپنی خاص مائیں سے

(۱۲۳۵) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

عبد اللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا

وَسَلَّمَ اَرْبَعُونَ خَصْلَةً اَعْلَاهُنَّ مَبْنِيَّةٌ الْعَازِمَاتُ مِنْ عَامِلٍ يُعْمَلُ بِخَصْلَةٍ

چالیس خصلتیں ہیں ان میں سے سب سے اچھی دو دوہ والی بکری کا غلہ ہے جو کوئی بھی ان خصلتوں میں سے کسی

مِنْهَا رَجَاءٌ تَوَابُهَا وَتَصَدَّقُ مَوْجِدُهَا اِلَّا اَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ قَالَ حَتَّانُ

خصت پر اس کے توبہ کی امید سے اس کے وعدہ کو سچا جان کر عمل کریگا تو اللہ سے اسکی وہ جسے میں دل کریگا مان لے گا یہی

فَعَرَدْنَا مَا دُونَ مَبْنِيَّةِ الْعَازِمَاتِ مِنَ التَّلَامِ وَتَشْبِيهِتِ الْعَاظِمَاتِ وَرَامَا طَةَ

ہم نے بکری کے غلے کے سوا اسلام کا جو اب دینا اور چھینک کا جو اب دینا اور تکلیف دہ چیز

الْاَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ فَمَا اسْتَطَعْنَا اَنْ نَمْلِكَ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً

کو سترہ سے اٹھا دینا وغیرہ کیا تو ہم پندرہ خصلتوں تک بھی نہ پہنچ سکے

(م-۲۰۳) اَلْعَنْ جَابِرٌ (م-۱۱۳) اَلْعَنْ اَبِي سَعِيدٍ (م-۱۷۷)

دیکھو حدیث ۱۱۳۷ باب جب کہے کہ میں نے مجھے یہ لڑکی

(م-۲۰۵) اَلْعَنْ اِبْنُ عَبَّاسٍ (م-۱۱۳) اَلْعَنْ اَبِي سَعِيدٍ (م-۱۷۷)

دیکھو حدیث ۱۱۳۷ باب جب کہے کہ میں نے مجھے یہ لڑکی

هَذِهِ الْجَارِيَةُ عَلَيَّ مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ فَهِيَ جَارِيَةٌ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ هَذِهِ عَارِيَةٌ

فدمت کیلئے دیدی جیسے لوگوں کا عرس ہے تو وہ درست ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں یہ عاریت ہے

وَرَانٌ قَالَ كَسُوْنَا هَذَا الثَّوْبَ فَهِيَ هَبَةٌ (م-۲۲۶) اَلْعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ (م-۱۰۸۶)

اور اگر یہ کہا کہ میں نے یہ کپڑا مجھے پہننے کیلئے دیا تو یہ سب ہوگا

سارۃ ناعطوها اخرجت فقالت اشرفت ان الله كبت الكافر واخذهم وليد اذنى رواية واخذها ما جازعنا اعطاهما كل من اخذها معي ابي روايت من وبنى من

فدمت کیلئے ایک لڑکی دیدی اسٹاف کی کوئی خصوصیت نہیں معلی کا نشانہ دیکھنا ہوتا ہے کسی خدمت کیلئے لینے سے مدد فرمائی اس قدر ہوتا ہے کہ ملکیت نہیں ہوتی لیکن

اور کہا جاتا ہے کہ اس لئے کیلئے دیا تو وہ لازم ہے یہی ہے یہی کہ پہننے سے وہ ختم ہو جائے گا

۳۰۰ باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة وقت ال

باب جب کوئی شخص سواری کے لئے گھوڑا دہرے تو اس کا ضم عمری اور صدقہ کا ہے اور بعین

بعض الناس له أن يرجع فيها ۱۲۰۰ عن عمر (متكرر ۸۰۰)

لوگ کہتے ہیں کہ اسے حق ہے کہ اس میں رجوع کرے دیکھو حدیث ۱۰۰۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے جو باریک دہا کے نام سے

۵- کتاب لشہادات

گو ایہوں کی کتاب

۱۱) باب ما جاء في لبينة على المدعي يا أيها الذين آمنوا إذا ادّأ بينكم

باب جو اس بارہ میں آیا ہے کہ گواہ لانا مدعی کے ذمہ ہے مگر اسے کو جو ایمان لائے ہو جب تم آپس میں

يدين إلى أجل مسمى فالتبوء وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب

مقررہ وقت کیلئے قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھو اور چاہے کہ تمہارے درمیان کیلئے والا عدل کے ساتھ لکھے

كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي أذن عليه أخن وليتق

اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا اللہ نے لے سکھایا اور غمزدار نہ بنے اور چاہے کہ وہ جس پر حق ہے لکھائے اور وہ شراہنے

الله ربه ولا يجس منه شيئا فإن كان الذي عليه أحن سفيها أوضيحا

رب کو تعویذ اختیار کرے۔ ورنہ اسے کچھ کی ذمہ پور کردہ شخص جس پر حق ہے

أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل ولية بالعدل استشهدوا شهدين

یا لکھنے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی انصاف کیلئے لکھوئے اور گواہ اپنے درمیان میں سے کوئی

من رجالكم فإن لكم نارجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من

کے لئے بلا لکرو پھر اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ان کو ایہوں میں سے ہوں

الشهداء أن تفضل إحداهما فتدكر إحداهما الأخرى لا ياب الشهداء

میں کو ترجیح نہ کرو تاکہ اگر ایک بھی مل جائے تو ایک ان دونوں میں سے دوسری کو یاد دلانے اور گواہ جب

إذا ما دعوا ولا تساموا أن تتبؤه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقط

بلانے جاہیں تو انکار نہ کریں اور اس کے وقت تک اسے نہیں جہاں کا بھی نہ کرو شہواہر یا بہت یا اللہ کے نزدیک بہت انصاف کی بات

عند الله وأقوم للشهادة دأدني أن لا تترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة

ہے اور گواہ کی قیمت منظور کیلئے والی ہے اور اس سے بہت قریب ہے کہ تم میں نہ ہو لیکن اگر نقد سودا ہو

تدبروها بدينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

جس کو تم آپس میں بیچنے دیتے ہو تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اسے نہ لکھو اور جب تم خرید و فروخت کرو تو گواہ رکھو یا کرو

عنه انما ذكرا انما
ہے حدیث علی
فرس فی سبیل
انما فراتہ بیاض
نصالت رسول
اللہ صلعم فقال
لا تتزوا لا عدل
فی صدق تفتك
بمنه من تصدق
دفرس اس پر ہے
لفعلی سبیل کہ عدل
فقرو لیسے توجہ
ہو جاتا ہے نہیں
کسی زمانہ کی یادگار
ہے دیکھنے کی بات
صوت یہ ہوتی ہے
کہنے والے کا حق
کیا تھا
میں ہاں عنوان
یہ ہے کہ البینۃ
عشرت و عوی مدعی
پر ہے۔ ہاں اس
کے لئے کوئی حدیث
نہیں لائے۔ البینۃ
۱۱۹۷ میں یہ حدیث
گزر چکی ہے ان
النبی صلی اللہ
علیہ وسلم قضی
ان الیہن علی
المدعی علیہ
قسم مدعی علیہ پر
اور اس کے بعد
۱۱۳۵ میں ہے کہ
بخطرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے مدعی
سے فرمایا شہد
ادبیہ یا تم گواہ
لاؤ نہیں تو پھر وہ
قسم کھائے گا یعنی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

وَلَا يَضَارُ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَ

اور نہ بکھنے والے کو لکھ نہی یا جانے اور نہ گواہ کو اور اگر تم زیادہ کر گئے تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی اور اللہ کا تقویٰ کرو اور
يَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَقَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ
اللہ تم کو سماتا ہے اور اللہ ہر چیز کو جانتے والا ہے (البقرہ-۳۸۳) اور اللہ تعالیٰ کا قول: اسے جو جو ایمان لائے ہو انصاف کی پوری نیت

بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ لَيْسَ غَنِيًّا

کو نیک لکھنے کو ہی دینے والے جو جو معاملہ تمہاری اپنی ذات یا ماں باپ اور قریبیوں کے خلاف ہو اگر کوئی امیر ہو
أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ لَعَضُوا

یا غریب یا شہادہ دو نوں پر تمہاری نسبت زیادہ حق ہو سو تم خواہش کی بجزی ذکر و تکرار عدل کر سکو اور اگر تم بھاری بات کہو یا حق سے
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۲۳۱ بَابٌ إِذَا عَدَلَ رَجُلٌ أَحَدًا فَقَالَ لَا

عاقبت کرو تو یقیناً جو کہہ کرے ہو اللہ اس سے خبردار ہے (النساء-۱۳۵) باب جب کوئی شخص دوسرے کا قاتل یا عتبار ہونا بیان کرے اور کہے
تَعْلَمُوا الْآخِرَ أَوْ قَالَ مَا عَلِمْتُ الْآخِرَ ۲۳۲

کہہ کرے تو اسے اچھا ہی سمجھتے ہیں یا کہہ کرے تو اسے اچھا ہی سمجھتے ہیں علی
بَابُ شَهَادَةِ الْمُحْتَبَىٰ وَأَجَارُهُ عَمْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ بِالْمُحْتَبَىٰ

باب چھپ کر دیکھنے سننے والی کو اپنی اور عزمین حرث نے اسے جانور رکھا ہے کہا اور چھپ کر بد اعمال کیساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے
الْفَاجِرُ وَقَالَ لَشُعْبَىٰ وَأَبْنُ سِيرِينَ دُعَاءُ وَقِتَادَةُ السَّمْعُ شَهَادَةٌ وَقَالَ

اور شعبی اور ابن سیرین اور عطاء اور قتادہ اور قتادہ نے کہا شناساوت ہے اور سن
أَحْسَنُ يَقُولُ لَمْ يَشْهَدْ وَنِي عَلَىٰ شَيْءٍ ذَرَأْتِي سَمِعْتُ لَذَا وَكَذَلِكَ ۲۳۳

کہتے ہیں گواہ اس طرح کے انہوں نے مجھے گواہ نہیں کہا مگر میں نے ایسا سنا ہے
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (مكرر ۱۵۵) ۱۲۳۴) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا رَأَتْ فَرَأَتْ

عبداللہ بن عمر (مكرر ۱۵۵) ۱۲۳۴) عن عائشة رضي عنها رأت فرأت
حضرت عائشہ سے روایت ہے نہاہ شریعی کی بیوی

دیکھو حدیث ۱۵۵

عقار نے کتاب
شہادت میں تکرار
اور تعدیل کا ایک
باب رکھا ہے جس کا
مقصد یہ ہے کہ
ضرورت کے لئے
مختلف اعتبار
تعمیر میں سگواہ
کے متعلق روایت
کیا جائے کہ آیا یہ
گواہ قابل اعتبار
اور یا آدی ہے
یا نہیں اگر وہ اس
کو قابل اعتبار
بتائیں اس کی
گواہی قبول ہوگی
بھاری سے عزمین
سے مقصد یہ ہے
کہ اگر کسی گواہ کے
متعلق کوئی اشہابی
کہے کریں اسے
اچھا ہی جانتا ہوں
مگر اس کی گواہی
قبول کرنے کے لئے
کافی ہے یا نہیں
حدیث باب اس
کے کافی ہونے کی

موس ہے کیونکہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے متعلق اس امر سے روایت کیا تو انہوں نے کہا اھلک ولا تولوا الا خیل۔ یہ آپ کی بیوی ہیں اور بہار علم
ان کے متعلق یہی کہہ دیکھیں اور دربرہ کہتی ہوں۔ روایت علیہا امر اغمضہ میں سنن میں عیب کی کوئی بات نہیں دیکھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مصفوان بن مفضل
کی صفائی بیان کر کے کہیں یہ نفاذ کافی سمجھے ولقد ذکرنا رجلا ما علمت علیہ الا خیل تو یہ ظاہر کرنا مقصود جو کہ جب ایسے بیانات سے کیا لازم سے برت ہو سکتی
ہے تو گواہ کا قابل اعتبار نہیں رہتا ثابت ہو سکتا ہے بعض فقہاء فطری بحثوں میں زیادہ پر گئے ہیں۔ جہل منشا صرف سقد ہے کہ گواہ قابل اعتبار نہیں ہونے سے اس کی گواہی
اس معاملہ میں قبول کی جائے۔ جہل فرض گواہ کے چال میں سے نہیں بلکہ گواہی سے جو جس پر مقدم میں فیصلہ کا انحصار ہے۔ اور گواہ کے چال میں کو معلوم کر سکتی ضرورت نہیں اس لئے
موتی جو معلوم ہو جائے کہ اس کی گواہی کس حد تک قابل قبول ہے۔ جہل بھی عدالتوں میں گواہ کے چال میں کو کیا اسکے سچا یا جھوٹا ہونے کو جرح سے تحقیق کیا جاتا ہے اور فی الحقیقت جب
سک فیصلہ کر لینے کا اہمیت نہ ہو کہ گواہ کی گواہی سچی ہے یا جھوٹی۔ صحیح فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ مگر روایت بت مختصر ہے یہاں لفظ یہ ہیں۔ حین قال لها اھلک ولا
فہر ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیا واسامہ حین اشدت الوحی یتامرہما فی قران اھلک فاما اسامہ فقال اھلک ولا تعلم الا خیل اذ قالت بروتہ ان روایت
علیہا امر اغمضہ لکن ہن۔ انھا جارتہ حدیث السنن تاد عن عین اھلنا فاتی الذاجن تنا کذہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یدن ذنا من یجل
یفتن ذاکا فی اھل بیتي فواللہ ما علمت من اھل الا خیل ولقد ذکرنا رجلا ما علمت علیہ الا خیر ان علیا اگر کسی شخص کی شرارت و فساد سے خوف ہو اور کھلے
پورے اسکے حالات کا پتہ نہ لگا سکیں ہوں اور کوئی خفیہ طور سے اسکے حالات کا پتہ نہ لگا سکے جو کچھ اس خفیہ طور سے دیکھا اسکے متعلق کو اپنی تو ذرا کا خفیہ طور سے حالہ علم حاصل کرنا جرم ہے
نہ اس کی گواہی عدم ہونا قابل ہوگی نہ ہونا بلکہ ہر گز نہ ہوگی۔ اگر صرف وہ حصہ کہ آیا ہے جو قال سالما سمعت ابن عمر سے شروع ہوتا ہے نفاذ تقریر کیا ہے۔
قتادہ ابن صیاد کے پاس سے بیان کی تھا علی ابن صیاد امین ابن صیاد جو کہ با تھا اس سے کہ گیا۔ حدیث میں ابن صیاد کو ذکر ہے اور عزمین کا متعلق اس سے ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور سے ابن صیاد سے کچھ سنا جاتے تھے۔

النَّقَضُ حَيْثُ انْتَهَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَنَابَتْ

طَلَّاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّيْبِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ فَمَا مَعَهُ مِثْلُ هَدِيَّةِ التَّوْدِيقِ فَقَالَ

أَتُرِيدِينَ أَنْ يَكُونَ عَيْنِي فِي رِفَاعَةَ كَأَحْسَى تَذَرْتِنِي عَسَيْتَ وَوَيْدُوقِ عَسَيْتَ تَك

وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَاصِمٍ يَأْتِي بَابَ يَنْتَضِرَانِ يُؤَدِّنُ

لَهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَسْمَعُ لِي هَذِهِ مَا تَنْهَى بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رَبِّي بَابٌ إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ أَوْ شَاهِدَتَانِ فَقَالَ الْآخِرُونَ مَا عَلِمْنَا ذَلِكَ مِنْكَ

يَقُولُ مَنْ شَهِدَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هَذَا كَمَا أَخْبَرَ بِلَالٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَسَلَّمَ صَلَّى فِي كَعْبَةَ وَقَالَ لِفَضْلِ لَمْ يُصَلِّ فَاحْذَرْنَا بِشَهَادَةِ بِلَالٍ

كَذَلِكَ أَنَّ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنْ يَفْلَحَنَّ عَلَى فُلَانٍ أَلْفٌ دِرْهَمٌ وَشَهِدَ الْآخِرَانِ

يَأْتِي عَشْرًا بِمَنْةٍ يَقْضَى بِالزِّيَادَةِ ر - ۱۲۰ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رَمْتَكُودِ

۷۸ ۱۵۸ بَابُ الشَّهَادَةِ الْعَدْلُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ

دَمِيْنٌ تَرْضَوْنَ مِنْ الشَّهَادَةِ ر - ۱۲۳۸ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَقُولُ إِنْ

إِسْتُرِيَ بِنْتُ عَدْلٍ أَوْ بِنْتُ عَدْلٍ فِي بَيْتِي فَزَوَّجْتُهَا مِنْ أَحَدِ عَشَرَ ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ

دَمِيْنٌ تَرْضَوْنَ مِنْ الشَّهَادَةِ ر - ۱۲۳۸ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَقُولُ إِنْ

إِسْتُرِيَ بِنْتُ عَدْلٍ أَوْ بِنْتُ عَدْلٍ فِي بَيْتِي فَزَوَّجْتُهَا مِنْ أَحَدِ عَشَرَ ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَنَابَتْ طَلَّاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّيْبِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ فَمَا مَعَهُ مِثْلُ هَدِيَّةِ التَّوْدِيقِ فَقَالَ

أَتُرِيدِينَ أَنْ يَكُونَ عَيْنِي فِي رِفَاعَةَ كَأَحْسَى تَذَرْتِنِي عَسَيْتَ وَوَيْدُوقِ عَسَيْتَ تَك وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَاصِمٍ يَأْتِي بَابَ يَنْتَضِرَانِ يُؤَدِّنُ لَهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَسْمَعُ لِي هَذِهِ مَا تَنْهَى بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبِّي بَابٌ إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ أَوْ شَاهِدَتَانِ فَقَالَ الْآخِرُونَ مَا عَلِمْنَا ذَلِكَ مِنْكَ يَقُولُ مَنْ شَهِدَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هَذَا كَمَا أَخْبَرَ بِلَالٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَسَلَّمَ صَلَّى فِي كَعْبَةَ وَقَالَ لِفَضْلِ لَمْ يُصَلِّ فَاحْذَرْنَا بِشَهَادَةِ بِلَالٍ كَذَلِكَ أَنَّ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنْ يَفْلَحَنَّ عَلَى فُلَانٍ أَلْفٌ دِرْهَمٌ وَشَهِدَ الْآخِرَانِ يَأْتِي عَشْرًا بِمَنْةٍ يَقْضَى بِالزِّيَادَةِ ر - ۱۲۰ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رَمْتَكُودِ

اندر بیان طلاق و نکاح و حاکم و عیال و غیره ...

بسم الله الرحمن الرحيم ...

أَنَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَى
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ

الْوَحْيُ قَدْ انْقَطَعَ وَإِنَّمَا نَاخِذُكُمْ لِأَنَّ بِنَاظِرِكُمْ لَنَا مِنْ أَعْمَارِكُمْ فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا
دعوی منقطع ہوگئی اب ہم صرت شمارے ظاہری اعمال پر تہ سے مواخذہ کریں گے جو ظاہر میں اچھا کام کرے گا ہم

خَيْرَ أُمَّتَاهُ وَقَرْنَاهُ وَلَيْسَ الْبَيْنَانِ مِنْ سِرِّ سِرِّهِمْ شَيْءٌ اللَّهُ يُجَاسِبُهُ فِي سِرِّ سِرِّهِمْ
اس پر اعتبار کریں گے اور اسے تہ سے ہر ایک کے باطن سے ہمارا کوئی سہوکار نہیں ہے ایک باطن کے باطن سے اسی صاحب

وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سِرَّهُمْ لَنَا نَسُوا لَكُمْ نَصِدْقَهُ وَإِنْ قَالَ إِنْ سِرِّهِمْ حَسَنَةٌ
اور جو ظاہر میں برا کام کرے گا ہم اس پر اعتبار نہیں کریں گے اور اس کو سچا نہیں گے اگرچہ وہ کہے کہ اس کا باطن اچھا ہے بلکہ

بَابُ تَعْدِيلِ كِتَابِ بَيْبُوتِ (ر- ۱۲۱۱) عَنْ أُسَيْبِ (م- ۲۲۴) (۲۲۴)
باب نکلنے آدمیوں کی تبدیلی دست پر عمل دیکھو حدیث ۲۲۴

عَنْ أَبِي لَسَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
دیکھو حدیث ۴۲۵ باب نسب اور ایسے دو دھڑلانے پر جو شہرت پاچکا ہو

الْمُسْتَفِيضُ مِنَ الْمَوْتِ الْقَدِيمِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَعْتَنِي
اور کسی بھلے موت کے واقعہ پر گواہی اور نبی صلعم نے فرمایا

وَأَبَا سَلَمَةَ تَوْبِيخًا وَالتَّشْبِيهِ فِيهِ (۱۲۳۹) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اور ابو سلمہ کو توبیخ کرنے دو دھڑلایا تھا اور اس باب میں احتیاط سے کام لینا حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ افعی نے میرے پاس آنے کی

فَلَمْ يَأْذِنْ لَهَا فَقَالَ أَحْسَنْتِ مَعِي وَأَنَا عَمْرُكَ فَقُلْتُ وَكَيْفَ ذَلِكَ قَالَ أَرْضَعْتَنِي
اجازت مانگی تو میں نے نہیں اجازت نہ دی تو میں نے کہا آپ مجھ سے پرہیز کرتی ہیں مگر میں نے کہا اچھا ہوں میں نے کہا یہ سیرت کا میرے بھائی کی

أَمْرًا آخِرًا بِلَهْمٍ آخِرٍ فَقَالَتْ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
جیوئی نے میرے بھائی کے دو دھڑے سے ابورودھ پلایا ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے اس بارے میں رسول اللہ صلعم سے پوچھا

فَقَالَ صَدَقَ أَفْطَمَةُ أَنْذَرْتَنِي لَكَ (۱۲۴۰) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فرمایا افعی سچ کہتا ہے اسے اجازت دیدو ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلعم نے

عائشہ سے روایت ہے کہ
متعلق ہوگئی کہ
اشرفی کا اپنے
اویا کے ساتھ کام
کریں متعلق نہیں
دعوی نبوت چونکہ
قطعہ دعوی ہی اس
لئے کہ وہی ایک
شخص کو کافی قرار
دے تو اسے منافق
سمجھا جائے گا
لیکن آپ کے بعد
بازیر صرت ظاہر
افعال پر ہے۔
حضرت عمر کے
قول سے کہ جس
شخص کے ظاہری
افعال اچھے ہوں
ہم اس پر اعتبار
نہیں کرتے توجیب
نہا لوں گے کہ
اچھے کام کرنے
کی گواہی قابل اعتبار
ہوگی جو گواہی کا
مندانہ مقام سے
نہیں بلکہ اعمال
سے ہے
عظمت قابل اور
جو کہ کسی سے قابل
اعتبار ہونے یا

نا قابل اعتبار ہونے کتابت کولہ ہے بخاری نے کوئی تعین نہیں کی کہ کتنے آدمیوں سے تعدیل ہو سکتی ہے عمرو ایک ہی آدمی کی تعدیل اور جرح
کافی ہو سکتی ہے احادیث بابک منشا بھی ہی معلوم ہوتا ہے جس طرح گواہ کی تعدیل جائز ہے کہ اس کا قابل اعتبار ہونا معلوم ہو اس طرح دوسرے فرقوں کو اس پر جرح
کا بھی حق ہے یہ ثابت کرنے کیلئے کہ اس کی گواہی قابل اعتبار نہیں ہے اختلاف لفظی سے روایت کو دو مرالیہ ہے اس روایت میں صرت یہ ذکر ہے کہ جب ایک جہاد
جی کر صلعم کے سامنے سے گذرا اور لوگوں نے اس کی گواہی کی تقریب کی تو اپنے فرمایا اس کیلئے جنت واجب ہو گئی اور دوسرے گزرا اور لوگوں نے اسے بڑا کہا تو اپنے فرمایا
اس پر آگ واجب ہوگئی تھا کہ کوئی ذکر نہیں مگر ماں آخر صحابہ کے سوال کے جواب میں آپ فرماتے ہیں شہادۃ القوم المؤمنون شہداء اللہ فی الارض
توم کی گواہی ماننے کے قابل ہے ہومن زمین میں اللہ کے گواہ ہیں اسناد لال ہے کہ المؤمنون میں مراد صفت ہے پس ایک بھی مومن زمین جو خود قابل اعتبار ہے
کسی کے اچھا ہونے کی گواہی دینے تو کافی ہے بل غرض یہ ہے کہ قاضی کا اہلیان ہونا چاہئے تعداد پر کچھ اچھا نہیں اور اسکی ضرورت بھی ایسے گواہ کے متعلق ہے
میں کے حالات باطل ستور ہوں آج کل جو جرح میں گواہ کی حالت اور اسکی گواہی کا قابل اہلیان ہونا یا نہ ہونا معلوم کریں جانا جو تودہ درحقیقت ہی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے کہ
کہ یہ معلوم ہو جائے کہ گواہی کمال کا مقابل تھا ہے بلکہ خفیف لغوی تفسیر سے مومن ہونا یا نہ ہونا معلوم کریں جانا جو تودہ درحقیقت ہی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے کہ
مرتے جاتے تھے اس روایت میں حضرت عمر کے سامنے تین جناد کے گذرنے کا اور لوگوں کے پھٹا دہرے ڈاکر اور حضرت عمر کے وجبت کئے کا ذکر ہے اور انہیں یہ لفظ بھی
کہ چار گویہ ہیں تو ہی درست ہے تین یا دو ہی توجیب درست ہے اور راوی کہتا ہے کہ ایک کے متعلق ہم نے نہیں پوچھا۔ اسی سے مزین باب کا متعلق ہے یہ اس باب میں ان
امور کی شہادت کا ذکر ہے جکی شہادت روایت مشکل ہو یا جن کی عام شہرت کی ہر سے انہیں شہادت روایت سے متعلق کیا جاسکتا ہی اس میں امام بخاری نے تین باتوں کو لیا ہے
یعنی نسب ووضاہت اور موت قدیم احادیث اس باب میں جمہور میں وہ صرت رضاعت کے متعلق ہیں جن میں صفاہت کی عام شہرت کی شہادت کا مرتبہ دیا گیا ہے

۱۴ اور آخری روایت میں یہ ذکر ہے کہ ایسی شہرت کو اعتبار کیا ساتھ قول کرنا چاہئے۔ موت قدیم میں اعتبار ہے پچاس یا چالیس سال کی پرائی موت کو رکھا ہے و

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ حَمْزَةَ لَا تَحِلُّ لِي يَحْرِمَ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرِمُ مِنَ النَّسَبِ هِيَ بَيْتُ

حضرت حمزہ کی بیٹی کے پاس میں فرمایا کہ میرے لئے جائز نہیں دودھ کی دودھ سے وہی حرام ہے جو نسب کی دودھ سے حرام ہے وہ

أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ (۱۲۴۱) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہے حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے روایت ہے

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تھے اور انہوں نے ایک شخص کی آواز سنی

رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ

کہ حضرت حفصہ کے گھر میں یہی اجازت مانگتا ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں سمجھتی ہوں یہ

فَلَا نَأْجُرُ حَفْصَةَ مِنَ الرِّضَاعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ

فلان شخص جو حضرت حفصہ کا رضاعی بھائی ہے حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ شخص

يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ

آپ کے گھر میں جائیگی اجازت مانگتا ہے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سمجھتا ہوں یہ فلاں ہے

حَفْصَةَ مِنَ الرِّضَاعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لَجِئْتُ مِنَ الرِّضَاعَةِ

حضرت حفصہ کا رضاعی بھائی اس پر حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ اگر فلاں شخص زندہ ہوتا یعنی ان کا رضاعی بھائی تھا تو وہ میرے

دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْمَ إِنَّ الرِّضَاعَةَ تَحْرِمُ مَا يَحْرِمُ

ہاں آگیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رضاعت سے وہ (تمام) حرام ہوجاتے ہیں جو

مِنَ الْوَالِدِ (۱۲۴۲) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ولادت سے حرام ہوتے ہیں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے

وَسَلَّمَ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَالَ يَا عَائِشَةُ مَنْ هَذَا أَقُلْتُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ

اور میرے پاس ایک شخص تھا فرمایا عائشہ یہ کون ہے میں نے عرض کیا میرا رضاعی بھائی ہے

قَالَ يَا عَائِشَةُ أَنْظِرِي مَنْ إِخْوَانِكُنَّ فَإِنَّهُنَّ الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ (۱۲۴۳) بَابُ

فرمایا عائشہ خیال رکھا کرو کہ کون تمہارا بھائی ہے کہ رضاعت کا حکم بھوک سے ہے باب

شَهَادَةُ الْقَاضِي وَالسَّارِقِ وَالزَّانِي وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً

وزنا کی گواہی نہ لے اور جو راز رانی کی گواہی اور اللہ تعالیٰ کا فرمان اور انکی گواہی بھی قبول نہ کرو اور یہی

أَيُّدُ أَوْلَادِكُمْ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَجَلَدُوا مَرًّا بَأَبِكُمْ وَشَبِلَ ابْنُ

لوگ فاسق ہیں سوائے انکے جو توبہ کریں (النور ۳۴) اور حضرت عمر نے ابو بکر اور شیبہ بن سعید

مَعْبِدًا وَنَافِعًا بِقَدْرِ الْبَغِيَّةِ ثُمَّ اسْتَأْتَبَهُمْ وَقَالَ مَنْ تَابَ قَبِلْتُ شَهَادَتَهُ

اور نافع کو بغیر پرہت نکالنے کے دوسرے کو لے لیا پھر ان سے توبہ کرانی اور فرمایا جو توبہ کر گیا اس کی گواہی قبول کرنا

وَأَجَازَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَنُصْرَةَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَسَعِيدَ بْنِ جَبْرِ وَطَاوُسَ

اور اسے عبد اللہ بن عباس اور عمر بن عبد العزیز اور سعید بن جبیر اور طاووس

وَمُجَاهِدًا وَالشَّعْبِيَّ وَعِيسَى وَالزُّهْرِيَّ وَحَارِبَ بْنَ دِينَارٍ وَشَرِيحَ وَمَعَاوِيَةَ

اور مجاہد اور شعبی اور عیسیٰ اور زہری اور حارث بن دینار و شریح و معاویہ

ابن قُرَّةٍ وَقَالَ أَبُو الزُّنَادِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا بِمَا لَمْ يَنْبَأْ إِذَا رَجَعَ الْقَاضِي عَنْ قَوْلِهِ

قرنے بھی جائز رکھا ہے اور ابو الزناد نے کہا میں ہمارے یہاں یہ نہیں ہے جس کی عدالت ہے کہ گنت گناہوں کا جب اپنے قول سے جو عدالت

۱۲۴۱

حضرت حمزہ آنحضرت کے بھائی تھے اور رضاعی بھائی بھی تھے رضاعی رضاعت کے احکام ورت اس دودھ پینے پر مشرب ہوتے ہیں جو دودھ ملائے کہ زمانے کے اندر جو میں بچے کی مرضی دودھ سے کہ جو مجاہدہ جو جمع کیا بھوک سے دوسال سے کہ بچے کا گزارہ دودھ پر ہوتا ہے اس لئے ایک بھوک ملانے کی ضرورت ہے

۱۲۴۲

۱۲۴۳

۱۲۴۴

علاء بن بابین
 اور میں نے کہا کہ
 پرزانی جھوٹی شہادت
 تھا فی الواقع، جو پرزانی
 سورہ نور کی آیت ۲۴
 وہ جو اس کی تائید میں
 لائے ہیں وہ صرف ان
 کی جھوٹی شہادت کے
 دلوں کے متعلق ہے اور
 قرآن شریف میں اس پر
 اور زانی کے ذکر میں
 لفظ نہیں آتا کہ ان
 کی شہادت قبول نہ کی جائے
 احادیث اس باب میں
 دو ہیں جن میں سے
 پہلی حدیث میں ایک
 عورت کے چوکے کا کھانا
 اور اس پر شہادت کے
 جانکا ذکر ہے کہ اس
 میں بھی شہادت کے
 قبول کرنے یا نہ کرنے کا
 کوئی ذکر نہیں ہے اور دوسری
 حدیث میں زانی کی
 سرکاکہ ذکر ہے جو کھوکھلا
 اور ایک سال کی
 جلاوطنی جو اس میں
 بھی شہادت کے قبول
 کرنے یا نہ کرنے کا کوئی
 ذکر نہیں ہے زانی
 اور صاف کی شہادت
 کا کہوں ذکر ناقص
 پر مبنی ہے امام ابوحنیفہ
 نے شہادت کے قبول
 کی شہادت کو توبہ
 کے بعد بھی قابل قبول
 نہیں سمجھا امام شافعی
 نے اسکی تردید کی ہے
 قال بعض الناس میں

فَاَسْتَعْفَرَ رَبَّهُ بَلَّغْتَ شَهَادَتَهُ وَقَالَ الْعَجَبِيُّ وَتَنَادَهُ اِذَا الْكُذِبَ نَفْسَهُ
 اور اپنے رب سے مغفرت مانگنے کو اسکی گواہی قبول کرنا چاہتی ہے اور عجبی اور تنادہ نے کہاں کہاں جہاں جہاں ہونا مانگنے کو...

جُلْدًا وَقَبِلْتَ شَهَادَتَهُ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ اِذَا جُعِدَ الْعَبْدُ فَاَعْتَقَ حَاذِرًا
 کوڑے لگائے جائیں گے اور اس کی گواہی قبول کی جائے اور ثوری نے کہا جب غلام کو کوڑے لگائے جائیں پھر وہ آزاد کر دیا جائے تو اسکی گواہی...

شَهَادَتَهُ وَاِنْ اسْتَقْضَى الْمُخْدُوْدُ فِقْضًا يَأْتِيهِ حَاذِرًا وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَا
 درست ہے اور اگر صلہ کا ہوا قاضی بنایا جائے تو اس کے فیصلے درست ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ شہادت کا قبول...

فَجُوْزُ شَهَادَةِ الْقَارِوِ وَاِنْ تَابَ ثُمَّ قَالَ لَا يَجُوْزُ لَكَ بَعْدَ شَهَادَتِهِ فَاِنْ
 گواہی درست نہیں گروہ تو بیکوئے پھر سے ہی کہتے ہیں کہ گواہی بغیر دو گواہوں کے درست نہیں اور اگر...

تَزُوْجٍ بِشَهَادَةِ مُخْدُوْدٍ وَاِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ عَبْدِ بِنِ لَوْ جُوْزَ وَاِجَازَ
 دو سزا یافتہ شخصوں کی گواہی سے نکاح کیا تو درست ہے اور اگر دو گواہوں کی گواہی سے نکاح کیا تو درست نہیں اور ابھی...

شَهَادَةِ الْمُحْرَمِ وَاِلَّا فَاَلَا مِمَّا لِرُوِيَةِ هَذَا رَمَضَانَ وَكَيْفَ تَعْرَفُ
 لوگوں نے مزا یافتہ اور غلام اور نو لڑکی کی گواہی کو رمضان کے جانکے لئے جائز رکھا ہے اور زانی باب میں یہ ذکر ہے کہ اسکی توبہ...

تُوْبَتُهُ وَقَدْ نَفَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّانِي سَنَةً وَهِيَ النَّبِيُّ صَلَّى
 کیونکہ معلوم ہے اور نبی صلعم نے زانی کو ایک سال کیلئے جلاوطن کر دیا تھا اور نبی صلعم نے...

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَلِمَةِ كَتَبَ بِنِ مَالِكٍ وَصَاحِبِيهِ حَتَّى مَضَى مَمْسُومٌ كَيْلَةَ
 کاتب بن مالک اور اس کے دو صاحبوں کے بات چیت کرنے سے روکا یہاں تک کہ جیسے انہیں گورنگیہ...

(۱۲۲۲) عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ امْرَاةً سَرَقَتْ فِي عَزْرَةِ الْفَتْحِ فَالِي بِرَسُولِ
 عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ ایک عورت نے فتح مکہ کی روانی میں چوری کی وہ رسول اللہ صلعم کے...

اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ امْرُؤٌ قَطَعَتْ رِجْلَهَا قَالَتْ عَائِشَةُ حَسَنَتْ تُوْبَتُهَا
 باس لائی تھی تو اپنے حکم دیا اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر اسکی توبہ ابھی ہوئی...

وَتَزَوَّجَتْ وَكَانَتْ تَابِي بَعْدَ ذَلِكَ فَادْفَعُ حَاجَتَهَا اِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
 اور اس نے نکاح کیا وہ اس کے بعد آئی تو میں اسکی حاجت رسول اللہ صلعم کے سامنے پیش کیا کرتی تھی...

وَسَلَّمَ (۱۲۲۲) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُ اَمَرَ
 زید بن خالد رسول اللہ صلعم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس...

فِيْمَنْ زَنَى وَلَمْ يَحْصِنْ بِجُلْدٍ وَاَثَمَةٌ وَتَعْرِيبٌ عَاقِرٌ (۱۹) يَا بَنِي اِسْتَهْدِ عَلَيَّ شَهَادَةً
 شخص کے ہاتھ میں جوڑنا کہے اور عمن نہ جوڑو کوڑوں اور سال بھر کیلئے جلاوطنی کا حکم بنا لیا باب جب حکم پر گواہی دینے کیلئے گواہ بنایا...

جُوْرًا اِذَا اشْهَدَ (۱۲۱۳) عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ (مكرر ۱۲۱۸)
 جاتا ہوں گواہ نہ بنے دیکھو حدیث ۱۲۱۸

اسکی کی طرف اشارہ ہے قرآن کریم نے صرف جھوٹی شہادت کو ناجائز قرار دیا ہے جب تک کہ وہ توبہ اور اصلاح نہ کرے اور اسکی وجہ شہادت کے جو شخص بننا چاہے
 پول سکتا ہے کہ دوسرے پرزانی شہادت کے اسکی کوئی بات بھی اعتبار کے قابل نہیں ہو سکتی ہے لہذا قرآن کریم میں ہر قسم کے زانی کیلئے عفت سو کوڑوں کی حکم ہے اس سے جلا وطنی
 کا حکم نہیں جفت کا یہ مذہب ہے مگر رسول اللہ صلعم کے اس حکم سے یہ ظاہر ہے کہ سزاؤں میں کسی زیادتی یا کمی کی اکتفا کے لئے بھی ہو سکتی ہے کہ اسکی یہاں لفظ میں سائلت
 امی ابی بعض لوہبہ کی من فالہ بعد اذہ فہما فی نقلت لا ارضی حتی شہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخذ میدی وانا غلام فانی بنی صلی اللہ علیہ وسلم قتالی
 ان اہ بنت رواحہ السانی بعض لوہبہ لہذا قال اللہ دل سواہ قال لخص قال فاذا قال لا شہد فی علی جوڑا ویک روایت میں ہے لا شہد علی جوڑ
 اسی سے مؤمنان ہے چونکہ اس میں دوسری اولاد کی حق تلفی تھی اس لئے آنحضرت صلعم نے گواہ بننے سے انکار کیا اور یوں اس حق تلفی کے فصل سے انہما نفرت کیا

<p>(۱۲۴۳) عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ ذُرِّيَّةُ نَبِيِّكُمْ يَلُوكُهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوكُهُمْ قَالَ عُمَرَانُ لَا أَدْرِي أَدُّوهُمُ الْبَنِي</p>
<p>عمران بن حصین سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سچے بچے</p>
<p>ذُرِّيَّةُ نَبِيِّكُمْ يَلُوكُهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوكُهُمْ قَالَ عُمَرَانُ لَا أَدْرِي أَدُّوهُمُ الْبَنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ</p>
<p>لوگ میرے نازکے لوگ ہیں پھر وہ جوان سے قریب ہیں پھر وہ جوان سے قریب ہیں جو ان سے قریب ہیں جن کا اپنے بعد وہ نازکے ہیں</p>
<p>بَعْدَ كَرِيحٍ مَا يَخُونُونَ وَلَا يُوْمِنُونَ وَشَهِدَتْ ذُرِّيَّةُ شَهِدَتِمْ وَبَنَدَارُونَ وَلَا</p>
<p>کچھ لوگ ہوں گے جو غیبت کر رہے ہوں اور ان پر جھوٹ کر دیا جائیگا اور وہ گواہی دیں گے حالانکہ گواہی دینے کیلئے طلب نہ ہوں گے اور سنت</p>
<p>يَقُونَ وَيُظْهِرُهُمُ السَّمْنُ (م- ۱۲۱۴) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (م- ۱۲۴۳) مَتَكَرِدًا</p>
<p>میں گے اور یہی نہیں کریں گے ان میں سے جو ظاہر ہو گا</p>
<p>رَبِّ ابْنِ مَاتِيلٍ فِي شَهَادَةِ الزُّورِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ</p>
<p>باب جو جھوٹی گواہی دینے کے بارے میں کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جن کے ہنڈے وہ ہیں جو جھوٹ گواہی نہیں دیتے</p>
<p>الزُّورِ وَكَتَمَانَ الشَّهَادَةِ وَلَا تَكْفُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ</p>
<p>(القرآن ۶۰) اور گواہی کے جھپٹنے کے بارے میں (قرآنت) اور شہادت نہ چھپاؤ اور جو اسے چھپائے تو اس کا دل گنہگار ہے</p>
<p>وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ تَمُودُ الْأَسْنَتُكَ بِالشَّهَادَةِ (م- ۱۲۱۵) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ</p>
<p>اور جو تم کرتے ہو ان سے جانتا ہے (البقرہ ۲۸۵) اور التامہ ۱۳۵ میں روکا ہے کہ گواہی میں چھپا بات نہ کرو</p>
<p>(م- ۱۲۴۳) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>
<p>ابو بکرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا</p>
<p>أَلَا أَنْبِتُكُمْ بِالْكَبْرِ الْكَبِيرِ ثَلَاثًا قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنْشُرَاكَ يَا اللَّهُ وَ</p>

اس قول سے ہے
 یہ ہلا دن کا
 یہ شہادہ دن
 مراد اس سے ایسے
 لوگ ہیں جو گواہی
 کہ جھوٹے بنائیں اور
 خود ایک جن گواہی
 ادا کرنا گواہی ہی بات
 نہیں بلکہ باعدا
 یہ بڑی حرات
 یہاں تک کام ہوتا
 ہے جیسا کہ مسلم
 روایت یہ ہے
 یہ حدیث مرفوعہ ہے
 ہے الا خبر کہ
 بخیر اشہد انما
 یاتی بالشہادۃ
 قبل ان یسلھا
 کی میں تم کو بتاؤں
 گواہ نہ ہتاؤں وہ
 جو شہادت کو
 ادا کرتا ہے اس سے
 پہلے اس سے
 پوچھا جائے
 علیہا انما یاتی
 بہ خیر الناس
 قری تھا الذین
 یؤہمہم شہ الذین
 یؤہمہم شہ الذین
 اقوام شہ الذین
 احکم عینہ

عینہ شہادتہ۔ یہاں آخری ذکر ہے کہ پھر ایسے لوگ ہوں گے جن کی گواہی قسم سے پہلے تو قسم گواہی سے پہلے ہوگی مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنی قسم کی پورا ہوگی گواہی کی قسم
 کھانے کو بھی پورا کیا ہوئے گواہی دینے کو بھی۔ اور اس کے بعد بڑھا یا ہے فقال ابراہیم دکانا یضی بونا علی الشہادۃ والعہد۔ ہمارے زمانہ میں گواہی اور
 عہد پار پڑتی تھی۔ بخاری کی دوسری روایت رخصت ہے اس کے ساتھ ہے ونحن صفوان اور سلم کی روایت میں ہے کانا انہو نانا ونحن غلمان عن العہد و
 الشہادات مطلب یہ ہے کہ اس قسم کی باتوں سے کہنے آپس میں باتیں کرتے کرتے اشہد باللہ ذلی عہد اللہ رس اشکرہ حاضر جان کر یا اللہ کے عہد گواہی
 دیتا ہوں اکیس بزرگ روکتے تھے تاکہ قسم کھانے کی بدعات نہ پڑ جائے جس سے قسم کی وقعت دل سے اٹھ جائے۔ علیہا انما یاتی بالشہادۃ میں سئل النبی صلی
 اللہ علیہ وسلم عن الکبار فقال لا اشہد انک باللہ وحق قول اللہین وقتل النفس شہادۃ الزورہ علی گناہ اور دیگر کبیرا جھوٹا ہونا ان کے نتائج اور اثر کے اعتبار سے ہے
 جس گناہ اور دیگر کبیرا جھوٹ اور فریب ہے وہ کبیرہ سے جگہ اکثر ہے وہ صغیر ہے۔ کبار زور ہے گناہ کی کوئی خاص تعداد نہیں احادیث نیز قرآن کریم میں بعض خاص گناہوں
 کو کبیرا کہا گیا ہے جو کہ اس سے مراد جھوٹ نہیں ہے۔ موقع اور محل اور مہذب یا حاضرین کی حالت کے مناسبتاً کہ اگر اس وقت ضروری تھا تو فرمایا جھپٹی حدیث میں ہے
 کا ذکر تھا بیان نقل نفس کا ذکر نہیں۔ یہاں قول زور یا جھوٹ کہنے کو خاص اہتمام سے بیان فرمایا اور پھر اس کا شمار کیا گیا کہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کو معلوم ہوتا تھا کہ آپ کو اس
 سے تکلیف ہو رہی تھی اس لئے انکے دل میں خیال ہوا کہ آپ کو فریب ہو جائے تو ہرے اس پر اس قدر زور دینا اس لئے تھا کہ لوگ اس گناہی سے انکاب کر لیتے بلکہ بلا جھپٹی

جو جھوٹ بول لیتے ہیں اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ کو جھوٹ سے کس قدر نفرت تھی یہ ایک طبعی وجہ تھی جس کی وجہ سے اپنے جھوٹے کئے سے اس قدر زور دیا

کے اکثر کے نزدیک
انہ کی گواہی عزت
ان امور میں قابل
سزا سے ہے جن کو
اس نے انہ سے
جو بیسے پیدہ دیکھا ہو
اور امام ابوحنیفہ کے
نزدیک صرف ان کو
میں اس کی گواہی قابل
سماعت ہے جس کا
علم شرف اور شہاد
افراد سے اس نے
میں ہی ہوا یا نہ ہوا
نے کوئی قدر نہیں
لگائی اور اس کا انحصار
قرآن اور روایات پر
ہے کہ گواہی کسی کی
ہی ہو جس کا ایک
قابل اعتبار ہو کہ
سبقت بنائے ہو
غرضی گمانی ہے
بعض وقت سننے والا
غلط فہم سے لیتا ہے
اسے صحیح ہی ہے

وَالْكَافَّةُ وَمِثْلَيْتِهِ وَقَبُولُهُ فِي التَّأْدِيبِ غَيْرُهُ وَمَا يَعْرِفُ بِالْأَصْوَاتِ وَأَجَازُ شَهَادَتُهُ

اور دوسرے کا نفاذ کرنا اور اس کا خرید و فروخت کرنا اور اس کا اذان وغیرہ دینا قابل قبول ہے اور اس کے متعلق جو آواز سے معلوم ہوا اور اس

قَاتِمٌ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سَبْرِينَ وَالزُّهْرِيُّ وَعَطَاءٌ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ لِحُجْرٍ شَهَادَتُهُ

کی گواہی قاتم اور حسن اور ابن سبرین اور الزہری اور عطاء اور حجبی کے ہیں اور میں کہتے ہیں اس کی گواہی درست ہے

إِذَا كَانَ عَاقِلًا وَقَالَ الْحَكْمُ رَبُّنَا فَقَالَ لُزْهْرِيُّ أَرَأَيْتَ ابْنَ

اگر وہ سمجھ دار ہو اور حکم کہتے ہیں بعض باتوں میں درست ہے بلکہ اور زہری نے کہا بناؤ اگر ابن عباس

عَبَّاسٍ لَوْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ أَكْثَرَ شَرَّةً وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَبْغِ رَجُلًا إِذَا

کسی بات کی گواہی دینے کی بات سے روک دے اور ابن عباس کسی آدمی کو بھیجتے جب

غَابَتِ الشَّمْسُ أَنْظُرْ وَيَسْأَلُ عَنِ الْعَجْرَاءِ إِذْ قِيلَ لَهُ طَلِعَ صَلَّى لَكَ عَيْنٍ وَقَالَ

دوہ کہتا کہ سورج غروب ہو گیا تو انظار کرتے اور صبح کے باسے میں پوچھتے ہیں کہ طلع فجر ہو گیا تو دو دور کہتے ہیں کہ

سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَافٍ اسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ عَائِشَةُ فَعَرَفْتُ صَوْتِي قَالَتْ سُلَيْمَانُ دَخَلَ

اور سلیمان بن یسار نے کہا میں نے حضرت عائشہ کے پاس جانے کیلئے اجازت مانگی تو انہوں نے میری آواز پہچانی اور فرمایا سلیمان

فَكَرَّكَ مَمْلُوكًا مَا بَقِيَ عَلَيْكَ شَيْءٌ وَأَجَازُ شَهَادَةِ بِنْتِ جَنْدَبِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ

ہے اچھا کہ تو غلام ہے جب تک کچھ برکھ ہی باقی ہو گیا اور سرہ بن جندب نے نقاب والی عورت کی گواہی جائز رکھی ہے بلکہ

مُنْتَقِبَةٌ (۱۲۷۵) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلعم نے ایک شخص کو سنا

يَقْرَأُ فِي السُّجُودِ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا أَيْهَ اسْقَطْتَهُنَّ مِنْ سُورَةِ كَذَا وَ

سہر میں قرآن شریف پڑھا تو فرمایا اللہ اس پر رحم کرے اس نے مجھے فلاں فلاں آیتیں فلاں فلاں سورہ کی یاد دلایں جنکی طرف سے کوئی چیز یاد نہ رہی

کہ اندھے کی گواہی جائز ہے بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس کی بیانی آخر میں جاتی رہی تھی تو وہ صرف آواز را شمار کرتے تھے یہ گویا عنوان باب کے اس حصے کے متعلق ہے جس میں ہے وہاں بعد بنا لاصوات و مسلم سلیمان مکاتبت تھے یعنی اس شرط پر آذاکو ایک خاص رقم لگا کر اپنے مالک کو دیدیں اور وہ رقم اسی پوری ادا نہ ہوئی تھی تو حضرت عائشہ نے ان سے پردہ نہیں کیا کیونکہ غلام سے پردہ نہیں ہوتا مگر منتقبہ وہ عورت ہے جس کے منہ پر نقاب جو سرہ بن جندب کا ایسی عورت کی شہادت کو جائز قرار دینا بتا ہے کہ عامہات یہ تھی کہ عورتیں نقاب اوڑھ کر شہادت دیں اور ابن مندہ نے روایت کی ہے کہ ایک عورت نقاب اوڑھ کر نبی صلعم سے باتیں کر رہی تھی تو آپ نے فرمایا منکھولہ کو نہ کھلا رکھنا ایمان سے ہے (یعنی) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلعم کے نزدیک عورت کا منہ کھلا رکھنا جائز نہیں بلکہ ضروری تھا کہ منہ بند رکھ کر ہی شہادت دے اور اس کا دلائل ۱۱۱ اسقطنہن من سورۃ کذا او کذا الفاء کے معنی سمجھنے میں غلطی کی گئی ہے ان کا مفہوم یہ سمجھا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیات بھول گئے تھے عباد کے پڑھنے سے وہ یاد آگئیں یہ معنی اسلئے صحیح نہیں کہ رسول اللہ صلعم قرآن شریف کی آیات کو بھولتے تھے جس پر امرات سے یہ آیت ڈرائی گئی کہ وہ اپنے منکھولہ فلاں غلطی ہم سمجھے پڑھائیں گے اور ہمارے پڑھانے کا یہ نشان ہے کہ تو بھول گیا نہیں اور یہ امر واقعہ ہے کہ آنحضرت صلعم پر میں میں رکوع کی سور میں ہر مرتبہ نازل ہو میں اذ ذلقتہم آپ کے سامنے ایک ہی دفعان کو پڑھا اور پھر ان کا ایک لفظ تک آپ کی یادداشت سے نہیں نکلا آپ نے ان کو کھنکھایا بھی دوسرے کو یاد بھی کرایا خود نمازوں میں بھی پڑھا اور ان تینوں دفعوں میں ایک حرف کی کمی بیشی نہیں ہوئی پھر آپ ایک دفعہ میں بار بار ان کو یاد دلا رہتے تھے اور دوسرے حافظ قرآن بھی آپ کے پیچھے سننے والے نہ ہوتے تھے اور ابنت سے مسلمانوں میں یہ طرز عمل چلا آتا ہے کہ وہ قرآن کریم کے اندر ایک حرف کی کمی بیشی نہیں کرنے دیتے اور جہاں امام نے ایک لفظ بھی غلط پڑھا تو دوسرے حافظ نے اسے صحیح کر دیا لیکن رسول اللہ صلعم کے پیچھے حالانکہ میں حافظ ہوتے تھے اور آپ جہی نمازوں میں بھی لہجہ سوتی پڑھتے تھے مگر ایک ہی دفعہ یا نہیں ہرگز آپ غلطی کرتے ہوں تو دوسرے کو اس کے صحیح کرنے کی ضرورت پیش آئی ہو جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلعم بھی قرآن شریف نہیں بھولے بلکہ جہاں دو پڑھنے والے ہوں ان میں کسی ترات یا نحو کے اختلاف سے کچھ اختلاف ہوا تو ان معاملات میں تحریر کی طرف رجوع نہ کیا جاتا تھا حالانکہ قرآن کریم سارا تحریر میں لکھا ہوا موجود تھا بلکہ رسول اللہ صلعم کی یادداشت کی طرف رجوع کیا جاتا تھا جس سے معلوم ہوا کہ حفظ قرآن کا انحصار کلی اور قطعی طور پر رسول اللہ صلعم کے ہاتھ پر تھا اور یہ تمام واقعات جو فرزند کی تک رسول اللہ صلعم کو پیش آتے رہے اس ابتدائی وحی سننے کے بعد انسانی کلمات کو ثابت کرتے ہیں ان میں شک نہیں کہ ان الفاظ کے بعد امام شافعی کا الفاظ بھی ہیں لیکن یہ استثنائے غیر منقطع ہے یعنی باقی باتیں جو اس پر چاہے وہ آپ بھول جاتے ہیں یا تنگ کہ نماز کی رکعتوں میں بھی سورہا لیکر واقعات عبادت میں مذکور ہیں میں یہاں یاد دلانے سے مراد انکی طرف توجہ کا پھر ایسا ہے اگر رسول اللہ صلعم بھول گئے ہوتے پھر یہ صحیح ہے

وَلَا أَوْزَاعُ عِبَادٍ بَيْنَ عَائِشَةَ هَعْدًا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اور عبادین عبادت کرنے والوں میں بے برادری کے

فِي بَيْتِي فَسَمِعْتُ صَوْتَ عِبَادٍ يَصْلُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَصَوْتُ عِبَادٍ
تھے تو عباد کی آواز سنی جو مسجد میں آواز دے رہے تھے فرمایا عائشہ کہ یہ عباد کی آواز ہے

هَذَا أَقَلْتُ نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْ عِبَادًا رَهًا - ۱۲۱۶ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
یہ سن کر کہا ہوں فرمایا اللہ عباد پر رحم کر

رمتکر۔ ۴۰۷ (م۔ ۱۲۱۷) عَنِ السُّورِيِّنَ مُخْرَمَةً رمتکر۔ ۱۲۲۲
دیکھو حدیث ۴۰۷

بَابُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ جُلِينٌ فَرَجُلٍ
باب عورتوں کی شہادت اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں

وَأَمْرًا قَاتَانَ (م۔ ۱۲۱۸) عَنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ (ممتکر۔ ۲۳۷۰)
دیکھو حدیث ۲۳۷۰

بَابُ شَهَادَةِ الْأَمَاءِ وَالْعَبِيدِ وَقَالَ أَنَسٌ شَهَادَةُ الْعَبْدِ جَائِزَةٌ إِذَا
باب لونڈیوں اور غلاموں کی گواہی اور اس کے جس غلام کی گواہی درست ہے

كَانَ عَدْلًا وَأَجَازَةً شَرِيحَةً وَزَرَّارَةَ بِنِ أَوْفَى وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ شَهَادَةُ جَائِزَةٌ
کہ وہ قابل اعتبار رہو اور شریح اور زرارہ بن اوفیٰ نے بھی اسے جائز کہا ہے اور ابن سیرین کہتے ہیں اس کی گواہی درست ہے

أَلَا الْعَبْدَ لَسَيِّدِهِ وَأَجَازَةً الْحَسَنُ وَابْرَاهِيمُ فِي الشَّيْءِ التَّائِيءِ وَقَالَ شَرِيحٌ
مگر غلام کی لئے آقا کے لئے گواہی درست نہیں اور حسن اور ابراہیم نے اسے کہ تمہارے چیزوں کے بارے میں جائز رکھا ہے اور شریح

كَلَّمَ بَنُو عَبِيدٍ وَأَمَاءٍ (م۔ ۱۲۱۹) عَنِ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ (ممتکر۔ ۷۷۸)
کہتے ہیں تم سب غلاموں اور لونڈیوں کی اولاد ہو گے

ابی علی اباب تکلم حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صوته۔ اسی سے عنوان ہے، فخر النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوہ قیام دعوہ ہر مرد محاسنہ دعوہ

یقول خبات هذا انك خبات هذا انك بقرہ ۲۸۲۰ میں میں دین کا ذکر ہے تو فرمایا کہ اپنے مردوں میں سے دو دو گواہ بلا لیا کرو۔ دو مرد ہوں یا دو بیانا

چاہو تو ایک مرد اور دو عورتیں۔ پہلے مردوں کو اس لئے رکھا کہ عورتوں کو شہادت کیلئے عدالت میں بجانے میں مشکلات ہوتی ہیں۔ نیز عورتوں کو گواہ

دین کے معاملات سے واسطہ کر پاتا ہے اس لئے وہ پورے طور سے ایسی باتوں کو بھی طرح ضبط اور محفوظ بھی نہیں رکھ سکتیں، لیکن بعض امور میں صرف عورتوں

کی شہادت ہی کافی ہے جو کچھ عدالت کے نزدیک مردوں اور قصاص میں عورتوں کی شہادت قابل سماعت نہیں۔ اور انک شہادی کے نزدیک

نکاح، طلاق، عتق، نسب، اولاد میں بھی جائز نہیں۔ حنفیہ کے نزدیک جائز ہے۔ امام بخاری نے عورتوں کی شہادت کو کسی خاص امر سے وابستہ نہیں کیا

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک ہر ایک معاملہ میں عورتوں کی شہادت درست ہے۔ اور یہی درست بھی ہے۔ جب اللہ اور رسول نے انکی شہادت

کو کسی خاص معاملہ میں قابل سماعت قرار نہیں دیا تو قیاس سے ان کی شہادت کو کسی امر میں غیر قابل قبول قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لفظ یہی ایس شہادت

المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلی قال فذلک من نقصان عقلاھا۔ لے جو کہ نزدیک ملوک کی شہادت قابل سماعت نہیں احمد احت

ایشور کے نزدیک درست ہے اسی کو امام بخاری نے ترجیح دی ہے۔ ملوک کی شہادت کا درست نہ ہونا قرآن شریف، باہریت سے ثابت نہیں اور جسے ترضون من اللہ

میں وہ بھی ذہل ہیں اور شہادت کیلئے قابل اعتبار ہونا شریعت میں شرط نہیں۔ کیے غلام اور لونڈی کی اولاد جو ہے۔ یہ اشارہ موم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک غلام

اور آزاد برابر ہیں کیونکہ انک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی غلام اور لونڈی کا حکم رکھتے ہیں۔ لہذا یہاں لفظ یہ ہیں انہر عقبہ ترضون امر بھی جنت۔ بی احباب قال جاءوت امر

سوداء را ایک سیاہ رنگی الی لونڈی آئی۔ اس سے عنوان ہے کہ لونڈی نے شہادت دی اور قبول ہوئی۔ لہذا لفظ ذلک اللہ تعالیٰ صلی

اللہ علیہ وسلم خاص صفتی قال فنیخت ذلک کر ذلک لذلک قال ذلک وکیف وقد زعمت ان قد ایت حکمنا خطا کا عباداً

بقیہ صفحہ ۵۸۴
توجہ نمازیں اس
سورت کو پڑھتے
کم سے کم عباد ہی
فورا اصلاح کر دینا
اصطفا کے لئے
گواہیاں۔ اور
جس طرح ایک چیز
یا دوست سے
کے عمل سے توجہ
سے بھی نکل سکتی ہے
بسا اوقات بہت توجہ
تاریک آیت میں
کیا اور جوئی ہو کر کہتے
بہر مسائل میں بیرون
توجہ نہیں ہوتی یہی
مطلب بیان ہے
حاشیہ صفحہ ۷۷
تضعیف اخذت
افطی سے ہے
بعضوں میں لگتا ہے
یہاں بعضی لفظوں
علی انہی صلہ اقبیہ
فقال لی رسول
ابی الصلح بنا
علیہ خمس الخضر
منہا شیناً نقامر

تاکہ روایت نہ
 بہت مختصر ہے
 قال تزوجت امرأتی
 لجهاد امرأۃ
 فقالت انی قد
 ارضعتک ما فاقیت
 النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 فقال لکی من صدق
 قیل و عمرانک
 او فرجہ بہ حبشہ کہ
 دودھ پلانے والی کی
 شہادت قبروں کی
 جلیبیاں میرونی
 ہے سارا سوال
 اس کے قابل تھا
 ہونے کا جو سوال
 یہ بیچارہ ہے
 کہ وہ اپنی دودھ
 پلانے والی کی جہادی
 پر کہ میں نے یہاں
 بیوی دوزوں کو
 دودھ پلا ہے
 میں نے بیوی کی شہادت
 قبول کی ہے
 میں نے شہادت فرمائی کہ
 ذکر ہے اور کسی کہ
 نہیں کہہ سکتا
 متعلق ہے کہی لڑکی
 در کونے کو زانیہ
 کہ یہ سننے سے ان
 یا نہیں کیوں کہ بہت
 سی تفصیلات
 اور پیش میں چھوڑ
 دی جاتی ہیں۔
 ان کے ہمیشہ شک

(۱۴) بَابُ شَهَادَةِ الْمَرْضِعَةِ رَمَ ۱۲۲ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ (متکرر ۶۸)

باب دودھ پلانے والی کی گواہی

(۱۵) بَابُ تَعْدِيلِ لِسَاءِ بَعْضِهِنَّ بَعْضًا رَمَ ۱۲۴ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ زَوْجُ النَّبِيِّ

باب عورتوں کا عورتوں کی صفائی بیان کرنا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِئْنَا قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّأَهَا اللَّهُ مِنْهُ قَالَ الزُّهْرِيُّ

روایت ہے جب بتان لگا کر لوگوں نے ان کی نسبت کیا جو کما مٹا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بری کر دیا زہری کہتے

وَكَلَّمَهُمْ حَدِيثِي طَائِفَةً مِنْ حَدِيثِهَا وَبَعْضُهُمْ أَدْسَى مِنْ بَعْضٍ أَتَيْتُ لَهُ أَقْصَا صَا

یہی اور ان سب نے مجھ سے حضرت عائشہ کی حدیث کا ایک حصہ بیان کیا اور ان میں سے کچھ دوسروں سے زیادہ کھنڈا رکھنے والے

رَقَدًا وَعَيْتٌ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ الْحَدِيثُ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ وَبَعْضُهَا

اور اس کے بیان کرنے میں بہتر ضبط تھے اور میں نے ان میں سے ہر ایک کی وہ حدیث جو مجھ سے اس نے حضرت عائشہ سے بیان

يَصِدَّقِي بَعْضًا زَعَمُوا أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ

کی یاد دہانی اور ان میں سے ایک کی حدیث دوسرے کی تائید کرتی ہے انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا جب رسول اللہ صلعم

أَنْ يُخْرِجَ سَفَرًا أَوْ يَخْرُجَ فِي يَوْمٍ يَخْرُجُ فِيهِمْ خَرَجَ سَهْمًا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ فَأَقْرَعُ

سفر کیلئے نکلنا چاہتے تو اپنی بیویوں میں قرعہ ڈال دیتے تھے تو ان میں جس کے نام کا قرعہ نکلتا اسے اپنے ساتھ باہر بیعت

بَيْنَنَا فِي خِزَاةٍ كُنَّا نَحْمِلُهَا فَخَرَجَ سَهْمِي فَخَرَجْتُ مَعَهُ بَعْدَ مَا أَنْزَلَ الْجَحَابَ فَأَنَا أَحْمَلُ فِي

ایک جنگ میں جو آپ نے کی حملے درمیان قرعہ ڈالا قرعہ میرے نام کا نکلا میں آپ کے ساتھ نکلا اور اس کے بعد کا قرعہ کہ پودہ کا ہم

هُدُوحٌ وَأَنْزَلَ فِيهِ فَيْسُرًا حَتَّى رَأَى أَقْرَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خِزْوَيْهِ

تریکھا تھا بلکہ مجھے سورسہ ہی سواری پر لکھا ہوا تھا اور اس میں اتنا مارا جاتا ہے کہ میں ہلکا ہوں اس کو ابھی اس کو ابھی سے فارغ

بَلِّغْ وَتَقْلُ وَتَوَاتَرًا مِنَ الْعِدِّ يَنْبَغُ أَنْ يَكُونَ بِالرَّحِيلِ فَمَتَّ حِينَ أَذْوَابُ الرَّحِيلِ

ہم نے اور لوگ نے اور ہم دینے کے قریب پہنچے تو رات کو آپ نے کوئی کام نہ کیا جب انہوں نے کوچ کا اعلان کر دیا تو میں بھی گھڑی اور چلے

فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْحَيْشَ فَلَمَّا تَضَيَّتْ شِمَانِي أَتَيْتُ إِلَى الرَّحِيلِ فَلَمَسْتُ

گئی میں تک کہ میں فکر سے آگے بڑھی جب میں اپنی حاجت سے فارغ ہوئی تو میں اپنے پودے کے پاس آئی میں نے اپنے

صَدْرِي فَأَذْءَقْتَنِي مِنْ جُزْءِ أَطْفَارِقِدَا نَقَطَعَ فَرَجْتُ وَالْتَمَسْتُ عَقْدًا خُبْنِي

سینے پر آدھ پھیرا تو معلوم ہوا کہ میرا انفار کے کانے گھنٹیوں کا بار ٹوٹ کر گیا ہے۔ میں وہاں گئی اور اپنا بار ڈھونڈنے لگی اور اس کی

أَبْتِغَاؤُهَا فَأَقْبَلَ لَدَيْنِي يَرِحْلُونَ لِي فَأَخْتَمَلُوا هُوَ حَتَّى فَرَحَلْتُ عَلَى بَعْضِي الَّذِي

تلاش میں لکھنے پر لگ گئی اور وہ لوگ جو مجھے سواری پر لکھتے تھے آپ نے انہیں میرا پودہ اٹھا کر اسے میرے اس اونٹ پر رکھا جس پر میں

الطبع کہ بعض وقت دودھ پلانے والی جیسی قابل اعتبار ہو سکتی ہے کہ مزید شہادت کی ضرورت دیکھی جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض قرآن کی شہادت اس کی شہادت کے
 ساتھ مل جائے اور بعض جیسی طرح اور معاملات میں عورت شہادت دے سکتی ہے اسی طرح وہ گواہوں کی صفائی اور ثقاہت کے متعلق بھی گواہی دے سکتی ہے۔
 یہی امام ابو حنیفہ اور ابو جعفر کا مذہب بھی ہے۔ اور جو اس کے خلاف ہیں۔ حدیث باب سے جو اس کے خیال کی تردید ہوتی ہے وہ اہل اہل کلام
 سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے حضرت عائشہ کی گفت کے خلاف ایک بے بنیاد اور جھوٹی خبر ڈالی تھی۔ ان کا سرور عبداللہ بن ابی راس ہیں منافقین تھا
 تھا جس فزودہ کا بیان ذکر ہے وہ فزودہ بنی المصطلق ہے اور اس کو فزودہ فرسیع بھی کہتے ہیں یہ مشنہ جبری میں ہوا۔ شعبان میں اور بعد ما انزل اللہ الجہاب
 سے یہ بات ثابت ہوئی کہ پودے کے حکم کے نزول کا مشاہدہ نہ تھا کہ عورتیں گھروں سے نکلیں اور نہ آنحضرت اپنی بیویوں کو جنگ میں اپنے ہمراہ لیں جاتے
 اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ قرآن فی ہونگن۔ اور باب ۳۳ کے یہ مسندہ فقہاء میں کہ عورتیں اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔

كُنْتُ أَرْكَبُ وَهُمْ يُحْسِنُونَ إِلَيَّ فِيهِ وَكَانَ النَّسَاءُ إِذَا ذَاكَ خَفَاكَ لَوْ تَقَلُّنَّ وَلَكِنْ

سوار بنوا کرتے تھے اور انہوں نے مجھ کے لیے اس میں بہن اور عورتیں اس وقت بھی جو کرتی تھیں جو عورتیں تھیں اور نہ

يُغْشَيْنَ اللَّحْمَ وَاللَّحْمَ يَا كُنْ الْعَلَقَةَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمْ يَسْتَنْدِ الْفَوْهَ حِينَ رَفَعُوهُ وَقَالَ

ان پر گوشت زیادہ ہوتا تھا وہ تھوڑا سا کھانا کھا کر کرتی تھیں تو لوگوں نے جب اسے اٹھایا تو ہوس کے بوجھ سے کھانا نہیں

الهُدُوجُ فَاحْتَمَلُوهُ وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ فَبِعْتُوا الْجَمَلُ وَسَارُوا فَوَجَدْتُ

کیا اور اسے اٹھایا اور میں نے ٹھکانا اور لوگوں نے انہوں نے دانت کو اٹھایا اور میں نے دیکھے اور میرا ہار

عَقْدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ أَحْيَا فِجْمَتُ مَذْرُومٍ وَلَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ فَاهْتَمْتُ مَنزِلِي

مجھے اس وقت ملا جب سارا کھانہ ختم ہو گیا تھا جب میں ڈرہ میں آئی تو اس میں کوئی نہ تھا تو میں نے ہی اس جگہ کا قصد کیا جہاں میں اتری ہوئی تھی

الَّذِي كُنْتُ بِهِ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسَةٌ تَلْبَتِي

اور میں نے خیال کیا کہ وہ مجھے نہ پائیں گے تو میرے پاس بول کر آجائیں گے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اتنے میں میری آنکھ

عَيْنَايَ فَنِمْتُ وَكَانَ صَفْوَانَ بْنِ الْمُعْطَلِ الشَّكْبِيِّ لَمَّا ذَاكَ كَوَانِي مِنْ ذُرِّيَةِ الْحَبَشِيِّ

گنگ تھی اور میں سو گئی صفوان بن معطل سے لڑکائی کے لیے مجھے رہا کرتا تھا

فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنزِلِي قُرَايُ سَوَادَ نَسَانٍ نَائِمًا فَاتَانِي وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الْحَجَابِ

وہ صبح کو میری جگہ پر پہنچا پہلے اور ایک سو گئے ہوئے آدمی کی صورت دیکھی وہ میرے پاس آئے اور وہ مجھے حجاب سے پہلے دیکھ کر کہے

نَا سَنَقِظُكَ بِأَسْتِرْحَاعِهِ حِينَ أَنْخَرْنَا حِلَّتَهُ فَوَطِئَ بِدَهَا فَرَكَيْتُمَا فَاَنْطَلِقَ

تھیں ان کے اٹانے کے لیے اور اسے جاگ اٹھی جب انہوں نے اپنے اونٹ کی سواری کو اٹھایا اور اسے ہاتھ کو ٹھیک کیا میں اس پر سوار ہو گئی

يَقْوَدُنِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْتُنَا أَحْيَا بَعْدَ مَا نَزَلُوا مَعْرَسِينَ فِي فَحْرِ الظُّهْرِ بِرِقَّةٍ

وہ سواری بچھتے ہوئے میری پیٹھی میں ایک کھم کھم کرتی اس وقت پہنچے جب وہ دو پہروں پر آرام کے لیے اترے تھے

فَهَلَاكَ مِنْ هَلَاكَ وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الْأَفْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي بِنِ سَلُولٍ فَقَدِمْنَا

میں جو ہلاک ہر زمانہ تھا وہ ہلاک ہوا اور بتان بنائے والوں کا سووار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا ہم نے

الْمَدِينَةَ فَاسْتَكْمَيْتُ بِهَا شَهْرًا يُقِيمُونَ مِنْ قَوْمِ الْأَصْحَابِ الْأَفْكَ وَيُرِيئُونِي

پہنچے اور میں وہاں پہنچ کر ایک ماہ سوار رہی بتان والوں کی بات کو دگر مشورہ کرتے تھے اور مجھے اپنی

فِي رِحْبِي أَيْ لَا أَرَى مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ

پروردگاری کی حالت میں۔۔۔ بات تک میں ڈالنے لگی کہ میں نبی صلعم سے وہ شفقت نہ دیکھتی تھی جو ہماری کی حالت میں پہلے آپ سے

حِينَ أَمْرٌ أَنْسَأُ يَدْخُلُ فَيَسْأَلُهُ لَمْ يَقُولْ كَيْفَ تَبَيَّنَ لَكَ أَشْعَرُ شَعْرٍ مِنْ ذَلِكَ

دیکھا کرتی تھی صرف انہیں لاکر سلام کرتے پھر بولنے کہ کیسی ہو میں اس سے کہ نہیں سمجھتی تھی پہلے

کتاب میں پہلا غزوہ تھا جس میں جنہوں نے شریک ہوئے وہ اس غزوہ میں وہ لشکر کے پیچھے تھے والوں میں سے تھے کہ سطر سے کوئی چیز نہ جائے یا اس میں سے کوئی نہ تواسے اٹھائیں پہلے حجاب سے پہلے سلطان نے حضرت عائشہ کو دیکھا جو آٹھ تھانے پر تھی اس وقت مردوں کو غور کیا کہ وہ میل جول تھا صفوان بنی انصاری کے ساتھ کھڑے اندر چلے جا کر کہتے تھے بیٹا کہ اسی حدیث میں آئے آتے وہاں کان پید داخل علی اعلیٰ الامامی وہاں حضرت عائشہ نے صاف کر دیا ہے کہ بتان بنی سلول سووار اللہ بنی قوی کہوہ والند۔۔۔ کا مصداق علی بن ابی منافقوں کا سووار تھا جہاں بن ثابت نہ تھا وہ حقیقت میں تھے نے ہی یہ بات کہی ہے میں بھی پھیلوں ۱۳ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس پر لوگوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو دیکھا ہے کہ اس کو دیکھا ہے

کتاب الشہادات ۵۷

کہاں باتوں کی خبر پہنچتی تھی اور ان کی وجہ سے آپ کے دل پر صدمہ تھا وہ ملک متبرز براؤ کے میدان کو کہتے ہیں اور متبرز قضائے حاجت ہے اور بزاز بھی کہتے ہیں کہ یہ

کیف کی جمع ہے جو۔۔۔ سات روزہ حاکم دینہ والی چیز کو کہا جاتا ہے اسی سے بیت الکلام کا نام بھی ہو گیا ہے

فَرَضَهَا فَقَالَتْ نَيْسٌ مَسَّحِي فَقُلْتُ لَهَا يَسُّنٌ وَقُلْتُ اَكْتَسَبِينَ رَجُلًا شَهَدًا بَدْرًا

تو کہنے لگی سلمہ تہا ہوگی یہ ہے اس سے کہتا ہے بی بات کی ایسے قسم کو کہ وہی ہے جو ہر میں موجود تھا

قَالَتْ يَا هُنْتَاةُ الْكُذْبِ سَمِعِي مَا قَالُوا اَنَا خَبَرْتُنِي بِقَوْلِ اَهْلِ الْاَلْفِ فَازِدَدْتُ

وہ کہنے لگی اے ہوں تو میں نے جو لوگ کہتے ہیں تو اس نے مجھے بتان والوں کی بات بتائی تب میری بیماری اور

مَرَضًا اِلَى مَرَضٍ فَلَمَّا رَجَعْتُ اِلَى مَدِيْنَتِي دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وہ بھی جب میں اپنے گھر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ فَقَالَ كَيْفَ تَبْرِكُ فَقُلْتُ اُذِنُ لِي اِلَى اَبُوِي وَقَالَتْ وَاَنَا حِيْنِيذُ اُرِيْدُ

اور میں کہہ اور فرمایا تمہیں طرح جو تو میں نے عرض کیا مجھے اسے ہاں باپ کے (گھر جانے کی) اجازت دیجئے کہ اور میں امرت

اَنْ اَسْتَيْقِنَ اَخْبِرْ مِنْ قَبْلِهَا مَا قَالَتْ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْتُ

چاہتی تھی کہ ان سے یقین نہ دیتا کرتوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی چنانچہ میں اپنے

اَبُوِي فَقَالَتْ لَا فِیْ مَا يَتَّخِذُ بِهٖ النَّاسُ فَقَالَتْ يَا بِنْتِیْ هُوَ لِي وَعَلَى نَفْسِكَ الشَّانُ

والہرنگ کے ہاں آئی اور پٹیاں سے کہ لوگ یہ کیا ہیں انہوں نے کہا میں ان باتوں کی پروا نہ کر

فَوَاللهِ لَقَدْ مَا كَانَتْ اَمْرًا قَطُّ وَضِيْعَةً عِنْدَ رَجُلٍ يَحْبِبُهَا وَلَهَا ضَرْبٌ اِلَّا الْاَذْنَ

خدا کی قسم بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خوبصورت عورت کسی ایسے مرد کے پاس ہو جو اس سے محبت بھی رکھتا ہو اور اسکی سوتیلی بہنوں

عَلَيْهَا فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللهِ وَلَقَدْ يَتَّخِذُ النَّاسُ بِهَذَا قَالَتْ فَبِتُّ بَدَا لِي الْبَيْتُ

مگر میری اس پر بہت سی باتیں بنا لینی ہیں میں نے کہا سبحان اللہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ میں نے وہ رات صبح تک اس طرح گزار دی

حَتَّى اَصْبَحْتُ لَا يَرُقَالِي دَمْعٌ وَلَا اَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ثُمَّ اَصْبَحْتُ فَدَاعَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى

کہ نہ تو آنے دے اور نہ نیند آئی بلکہ آخر صبح ہوئی اور صبح دہی میں دیر ہوئی تو رسول اللہ

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ بِنِ ابْنِ طَالِبٍ وَاسْمَاةُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ اَسْتَلْبَتْ اَلْحَرِيْثِيَّةَ

صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب اور اسماء بن زید کو لایا ان سے اپنی بیوی سے علی کے متعلق مشورہ

رَبِّي فَرَارِقَ اَهْلِيْهَا فَاَمَّا اَسْمَاةُ فَاَشَارَ عَلَيْهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ فِيْ نَفْسِهِ مِنَ الْوَدُوْكِ فَقَالَ

یہ اسماء نے اس کے ملنا آپ کو مشورہ دیا جو ان کے دل میں ان دنوں واج النبی سے محبت تھی تو اسماء

اَسْمَاةُ اَهْلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَلَا تَعْلَمُ وَاللهِ الْاَخِيْرُ وَاَمَّا عَلِيُّ بْنُ اَبِي طَالِبٍ

نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیوی ہیں اور اللہ کی قسم ہمارا علم تو یہی ہے کہ وہ نیک ہیں اور علی بن ابی طالب نے کہا

فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَوْ لَضِيْقُ اللهِ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءِ سِوَا هَا لَتَبَرْتُ وَسَلَّ الْجَارِيَةَ

یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو غم نہیں رکھا اور ان کے سوا اور عورتیں بہت ہیں بلکہ ہاں لڑکی سے دریافت

تَصَدَّقْ فَكَفَّرَ عَارِضُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَبِيْرَةَ فَقَالَ يَا بَرِيْرَةُ هَلْ

فرمایا وہ آپ سے کچھ عرض کر رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو پوچھا

رَأَيْتَ فِيْهَا شَيْئًا يُّرِيْبُكَ فَقَالَتْ بِرَبِيْرَةَ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ اِنْ رَأَيْتَ مِنْهَا

ایسی بات دیکھی ہے جس سے تجھے شہو ہو بریرہ نے عرض کیا نہیں اس ذات کی قسم میں نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں نجان سے

اَمْرًا اَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ اَلْاَنْزَمُ مِنْ اَلْاَجَارِيَةِ حَدِيْثُ السَّنَنِ تَمَامٌ عَنِ الْحَيْمَنِ ثَمَانِي

کوئی بات ایسی نہیں دیکھی ہے جس سے محبت جنہوں نے ان کے کہ وہ تو عمر لڑکی ہیں آٹھ چھوڑ کر سوجاتی ہیں اور اللہ کی قسم اگر اللہ کے ہاں

الْاَجْمَعُ فَمَا كَلَمَةُ فَعَامَرُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَوْمِهِ فَاسْتَعْدَدْنَا

سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کوفے ہوئے اور عبداللہ بن ابی بنی

حضرت عائشہ کی سوتیلی بہن سے کسی نے بھی اس بہن میں حضرت عائشہ کی والدہ نے یہ خیال کرنا ہوگا یا اکثر میں مراد دوسری عورتیں ہیں حضرت علی نے میں حضرت عائشہ پر کوئی گفت خابہ نہیں کہہ سکتا یہ کہ سے کہ اگر آپ علی کے اختیارات کرنا جانتے ہیں تو اور نکاح کر سکتے ہیں

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُعْذِرُنِي

سؤل کی خدمت کی اور فرمایا کون شخص مجھے اپنے

مَنْ يُجِئ بِلُغْتِي إِذَا هِيَ فِي أَهْلِ نَوَافِلِهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِ الْأَخِيرِ أَوْ قَدْ ذَكَرُوا جَلًّا

شخص کے بارے میں مندرجہ ذیل سے مجھے اپنی بڑی کے متعلق اذیت پہنچی ہے اللہ کی قسم میرا علم نہیں ہے کہ وہ کون ہے کہ وہ مجھ کو

مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِ الْأَمْعَى فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مَعَاذٍ

اور انہوں نے ایسے شخص کا ذکر کیا ہے جن کو میں نیک سمجھتا ہوں اور وہ میرے گھر میں بھی نہ جاتا تھا سوائے اس کے کہ میرے ساتھ ہو سعد بن معاذ

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا وَاللَّهِ أُعْذِرُكَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ ضَرْبًا عَقَبَةً

کہ میں نے اسے معذرت دے دی ہے یا رسول اللہ اللہ کی قسم میں آپ کو اس کے بارے میں معذرت سمجھوں گا مگر وہ اوس کے قبیلے سے ہے جو تو ہم کو

وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنْ أَحْزَبِجِ أَمْرَتِنَا فَفَعَلْنَا فِيهِ أَمْرًا فَقَامَ سَعْدُ بْنُ

اسکی کون اور اذیت کے دیگر ہمارے خوارجی بھائیوں میں سے ہے جو آپ کو ہم اس قسم کی قسمیں دے دیں گے تو سعد بن معاذ کو

عَبَادَةَ وَهُوَ سَيِّدُ أَحْزَبِجِ وَكَانَ كَيْسَ بْنَ ذَرٍّ رَجُلًا صَالِحًا وَرَأْسُ الْأَحْمَلَةِ الْأَحْمَرَةِ

ہوئے اور وہ خوارج کے سردار تھے اور اس سے پہلے وہ لہجے آدی تھے لیکن جب بخاری نے انہیں اٹھایا

فَقَالَ كَذَبْتَ لِعَمْرٍو اللَّهِ لَا تَقْتُلُهُ وَلَا تَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ الْحَضِرَةِ

اور کہنے لگے اللہ کے بھائی قسم تو جھوٹ بولتے جو نہ تم اسے مار سکتے نہ تمہیں اس کی طاقت ہے اسیر بن حنیفہ کو کہتے ہیں

فَقَالَ كَذَبْتَ لِعَمْرٍو اللَّهِ وَاللَّهِ لَنَقْتُلَهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ لِمَا دَلَّ عَنْ الْمُنَافِقِينَ فَتَارَ

اور کہتم جھوٹ بولتے ہو اللہ کے بھائی قسم تم غیروا سے قتل کرو گے تم منافق ہو منافقوں کی طرف سے جھوٹ بولتے ہو

أَحْمَانَ الْأَوْسِ وَالْحَزْرَجِيُّ هُمُودٌ أَوْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى

پس دونوں قبیلے اوس اور خزرج کو کہتے ہیں یہاں تک کہ لڑائی کیسے تیار ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

إِنِّي لَأَنْتَ لِحَفْظِهِمْ حَتَّى سَكْتُوا أَوْ سَلَّتْ وَبَكَيْتَ يَوْمَئِذٍ لَا يَرُقُّ لِي دَمْعٌ وَلَا

تھے تو آپ اترے اور ان کو ٹھنڈا کیا یہاں تک کہ وہ خاموش ہوئے اور آپ بھی خاموش ہو رہے تھے اور اس دن ہجرت کی تیسری

أَكْتَحِلَ بِرُؤْيَى أَبِي بَكْرٍ عِنْدِي أَبَوَايَ قَدْ بَكَيتَ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا حَتَّى أَظُنُّ أَنَّ

آسوٹے تھے تھا اور نہ مجھے نیند آتی تھی صبح میرے ماں باپ میرے پاس آئے میں دورات اور ایک دن سے رو رہی تھی یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ

الْبُكَاءُ فَإِنْ كَيْدِي فَأَلْتُ قُبَيْنًا هَامًا حَالِسَانَ عِنْدِي وَأَنَا الْبُكِيُّ إِذَا اسْتَأْذَنْتِ

رونے سے میرے کچھ بیٹے جا رہے تھے حضرت عائشہ سستی ہیں وہ دونوں میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور میں رو رہی تھی کہ ایک انصاری عورت

أَمْرًا مِنْ الْأَنْصَارِ فَأَذَتْ لَهَا فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِيَ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَا إِذْ دَخَلَ

نے دیکھی، اجازت مانگی میں نے اسے اجازت دی وہ بیٹھ کر میرے ساتھ رہنے لگی ہم اسی طرح تھے

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ وَرَأَيْتُ عِنْدِي مِنْ يَوْمٍ قَبْلَ فِي مَا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھ گئے اور اس سے پہلے جس دن سے میرے متعلق لوٹان اٹھایا گیا تھا میرے

رَقِيلَ قَبْلَهَا وَقَدْ مَكَتَ شَهْرًا لَا يُوْحَى إِلَيْهِ فِي شَيْءٍ قَالَتْ فَتَشْهَدُكُمْ

پاس بیٹھے نہ تھے اور آپ بیٹھ رہے ہیں حالت میں رہے کہ آپ کی طرف میرے متعلق کوئی وحی بھی نہ آئی

قَالَ يَا عَائِشَةُ قَدْ نَأْتِيكَ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كُنْتِ بِرَأْيِهِ فَمِيزَانُكَ اللَّهُ

فرمایا اسے عائشہ تمہاری نسبت مجھے ایسی باتیں پہنچی ہیں اگر تم بڑی ہو تو جلدی اشتہار داری بہت کر دے گی

وَإِنْ كُنْتِ أَلْسَمْتِ فَاسْتَغْفِرِي لِلَّهِ وَتَوَلِّي إِلَيْهِ فَإِنَّ الْعَدْرَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذُنُوبِ

اور اگر تم نے کوئی لغزش ہی ہوئی ہے تو اسے معذرت مانگو اور توبہ کرو کہ چندہ جب ہے تو اس کا انکار کر کے

ع

سعد بن معاذ جنگ خندق میں زخمی ہو کر غزوہ نبی مصطفیٰ سے تپے شدید مر چکے تھے اس لئے ان کا نام روادی کی نقلی ہے

ع

اوس اور خزرج کی سب سے لڑائی مبنی آتی تھی وہ لڑنا اشتہار ایک لمحہ کے لئے عود کر آیا اور صلوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے ہرگز نہ

تَوَاتَبَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَعْوَى

پھر تو بے حرکت ہو اور اس کی توجہ بڑھ کر بیعت سے ملے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات ختم کر لی تو میرے آٹھ ہاتھ ملے

حَتَّى مَا أَحْسَ مِنْهُ فَطَرَاةً وَقُلْتُ لَا بِيْ أَحِبُّ عِنِّي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

یہاں تک کہ اس کا ایک ٹکڑا غلو ہو جس میں محسوس نہ کر سکتی تھی اور میں نے اپنے والد سے عرض کیا کہ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیجئے

وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَا بِيْ أَحِبُّ عِنِّي

ہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کیا جواب دوں تو میں نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ میری طرف

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا قَالَ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ

سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیجئے اس کے صحابہ جو آپ نے فرمایا ہے انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جانتی کہ رسول اللہ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثُ السِّنِّ أَفْرَأُ كَثِيرًا مِنْ

صائم سے کیا عرض کروں کہ میں اور میری نوجوان لڑکی تھی اور بہت قرآن بھی پڑھی ہوئی نہیں

الْقُرْآنِ فَقُلْتُ إِنْ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَتَكْفُرُ سَمِعْتُمْ مَا يُخَدِّثُ بِهِ النَّاسُ د

تھی میں نے عرض کیا اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ تم سن چکے ہو جو لوگ بیان کرتے ہیں اور

وَقَرَفِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَقْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنْ بَرِيَّةٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنْ بَرِيَّةٌ

تمہارے دلوں میں بات کر رہی ہے اور تم نے اسے سچ سمجھ لیا ہے اگر میں تم سے کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں

لَا تَصِدُّ قُوَّتِي بِذَلِكَ وَلَكِنْ أَحَدَرْتُ لَكُمْ يَا مَرْءُ اللَّهِ يَعْلَمُ إِنْ بَرِيَّةٌ لَتَصِدَّقَنِي

تو تم میری تصدیق اس بارے میں نہیں کرو گے اور اگر میں تمہارے سامنے ایک بات کا انکار کروں اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں

وَاللَّهُ مَا أَحَدِلُنِي وَلكُمْ مَثَلًا لَا آيَا يُوسُفَ إِذْ قَالَ فَصَبِّرْ جَمِيلًا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ

تو ظور میری بات مان لو گے اللہ کی قسم میں اپنے اور تمہارے لئے کوئی مثال نہیں پاتی سوائے یوسف کے جب کہ اللہ نے جمیل اور اللہ المستعان

عَلَى مَا تَصِفُونَ ثُمَّ تَخَوَّلْتُ عَلَى نَزَائِسِي وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُبَرِّئَنِي اللَّهُ وَلَكِنْ وَاللَّهِ

میں نے اپنے بچھرنے پر مہم پھیر لیا اور مجھے امید تھی کہ اللہ مجھے بری کرے گا مگر اللہ کی قسم

مَا ظَلَمْتُ أَنْ يَنْزِلَ فِي نِشَائِي وَخِيَاؤِكَ وَأَنَا أَحْفَرُ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يُنَكِّرَ بِالْقُرْآنِ

میرا بڑھاپہ وہاں بھی نہ تھا کہ میرے متعلق قرآن اتنے سے کہ اور میں اپنے خیال میں اس سے کہ تھی کہ میرے معاملہ میں تمہارا

فِي أَمْرِي وَلكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَبْرِئَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّوَكُّرِ

پر اچھا بیٹھا اللہ میں یہ امید کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بار سے میں کوئی خواہش کیجے

رُوِّيَا بَرِيَّةٌ عَنِ اللَّهِ تَوَالِدُ مَا رَأَى مَجْلِسَهُ وَلَا خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ لُبَيْتٍ حَتَّى

میں نے کسی سے نہ سنا ہے بری کر دیا اللہ کی قسم آپ اپنی جگہ سے نہ اٹھے اور نہ گھر والوں میں سے کوئی باہر نکلا تھا کہ آپ پردہ اتارنے لگی

أَنْزَلَ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرْحَاءِ حَتَّى إِذَا لَيْتُهَا رَمْنَهُ مِثْلَ

آپ کو پھینک دئے گا جہاں تک کہ آپ سے عیون کی طرح

أَجْمَانَ مِنَ الْعَرَقِ فِي يَوْمِ شَاتٍ فَلَمَّا سَرَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

پسینہ سر سے کی دن تیار تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالت جاتی تھی

وَهُوَ يَضْحَكُ فَكَانَ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ لِي يَا عَائِشَةُ أُحْمِدُ اللَّهَ فَقَدْ

تو آپ ہنس رہے تھے پہلی بات جو آپ نے فرمائی یہ تھی کہ مجھے فرمایا اے عائشہ اللہ کی تعریف کرو کہ اللہ

بَرَأَنَ اللَّهُ فَقَالَتْ لِي أُمِّي قَوْمِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَا

نے تمہارے بری کر دیا میری ماں نے مجھے کہا کہ میری بوجھاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ میرے عرض کیا نہیں

یہ عام نصیحت ہے اور فرشتے کے متعلق تو کبھی عام ہے یعنی خواہ کسی قسم کی لغزش ہو لی ہو بعض اوقات شاید ہر نامہ سے کرنا ان کے اندر کسی اور قسم کی کستروی جرتی ہے تو ایسے حالات میں اپنی ہر قسم کی کمزوری سے گور کر کے اللہ کی نصیحت کی تاکہ اللہ تعالیٰ کا رحم نازل ہو

میں خطاب عام ہے یعنی مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے منافقوں کی ان باتوں کو سنا سیکھا کہ ان کا چرچا کیا ہے

وَاللّٰهُ لَا اَقُوْمُ اِلَيْهِ وَلَا اَحْمَدُ اِلَّا اللّٰهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَّ الدِّيْنَ جَاؤْ اِيَّاكَ

اشرفی قسم میں آپ کیلئے کھڑی ہوں گی اور نہ اللہ کے سوا کسی کی شریعت کروں گی اللہ تعالیٰ نے آمارا جن لوگوں نے طوفان اٹھایا ہے
عَصَبَةٌ مِّنْكُمْ الْاٰيَاتُ فَلَمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ هٰذَا فِى بَرَاۤءَتِىْ قَالَ اَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَفِ

وہ تم میں سے ہی ایک گروہ ہیں مگر جب اللہ نے یہ میری برادرت کیلئے اتارا تو ابو بکر صدیق نے فرمایا
وَكَانَ يَنْفِقُ عَلَى مِسْطَاحِ بْنِ اَثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَاللّٰهُ لَا اَنْفَقُ عَلَى مِسْطَاحِ شَيْئًا

اور وہ مسطح بن قریب کی وجہ سے خرچہ کرتے تھے
اشرفی قسم میں مسطح پر کچھ بھی خرچہ نہیں کرتا
اَبَدًا اَبَدًا مَا قَالَ لِعَاثَةَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلَا يَأْتِلْ اَوْ لَوْ الْفَضْلُ مِنْكُمْ وَالشَّعْبَةُ

بعد اس کے کہ اس نے عائشہ کی نسبت یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے اتارا و لایا تیل الخ اور تم میں سے مال دیکھو وہ رزق والے قسم
اِلَى تَوَلَّيْهِ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ فَقَالَ اَبُو بَكْرٍ يٰلِىَّ وَاللّٰهُ اِنِّىْ لَا اُحِبُّ اَنْ يُّعْفِرَ اللّٰهُ لِيْ فَرَحَمَ اِلَى

کھائیں غفور رحیم تک ابو بکر نے کہا ہاں
اشرفی قسم میں تو غفور پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے مغفرت دے تو
مِسْطَاحِ الْاَنْبِيَّ كَانَ يُخْرِىْ عَلَيْهِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ

مسطح کو وہی دنیا خرچ کر دیا جو اسے دیا کرتے تھے مگر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ عَنْ اَمْرِىْ فَقَالَ يَا زَيْنَبُ مَا عَلِمْتُ مَا رَاَيْتُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ

جحش سے میرے متعلق پوچھتے تھے
فرماتے زینب تمہارا کیا خیال ہے تم نے کیا دیکھا ہے وہ عرض کرتی یا رسول اللہ
اللّٰهُ اَسْمٰى سَمِعْتِىْ وَبَصُرْتِىْ وَاللّٰهُ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِمُ الْاٰخِرَ اَتَا لَت رَهْمٰى اَلَّتِىْ كَانَتْ

میں وہی کہوں گی جو میرے کانوں سے سننا یا آنکھوں نے دیکھا
اشرفی قسم میں ان کو نیک ہی سمجھتی ہوں حضرت عائشہ کہتی ہیں حضرت
تَسَا اَمْنِيْ عَصَمَهَا اللّٰهُ بِالرَّيْعِ (۱۲) يَا لَئِىْ اِذَا زَنِىْ رَجُلٌ رَّحَلًا لَفَاةٌ وَقَالَ اَبُو

دی تھیں کہ مجھ سے برابر ہی کرتی تھیں مگر اللہ نے انہیں پرہیزگاری کو جس سے بچا یا باب جب ایک مرد دوسرے مرد کی صفائی بیان کرتے تو
جَمِيْلَةٌ وَحَدَّثَتْ مِنْهُ وَاَفْلَتَا رَاىَ عُمَرُ قَالَ عَسٰى لَعُوْرًا اَبُو سَاكَا نَدِيْهِمْ

یہ اس کے لئے کافی ہے اور ابو جہل کہتے ہیں میں نے ایک روکا پایا جو بھینک دیا گیا تھا جب حضرت عمر نے مجھے دیکھا تو فرمایا کہ ہوسکتا ہے کہ یہ
قَالَ عَرَفْتِىْ رَاَيْتَهُ رَجُلٌ صَاحِحٌ وَقَالَ كَذَا اَذْهَبَ وَعَلَيْنَا لَفَقْتُهُ ر ۱۲۴ عَنْ

خارفت کہ پرگو یا کانوں سے مجھ پر پڑ گیا میری بیہوشی والے نے کہا یہ نیک آدمی ہے ذرا یا اس پر تو بچا اور اس کی خرچ ہم پر ہے
ابو بکر
رَبِّىْ بَكْرَةَ قَالَ اَتْنِيْ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَبِكَ

اسے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوسرے شخص کی تعریف کی
فرمایا تمہارے پاس ہے
قَطَعَتْ عُنُقَ صَاحِبِكُ فَصَدَّتْ عُنُقُ صَاحِبِكُ مَرَارًا ثُمَّ قَالَ هُنَّ كَانُ مَعَكُمْ

تو نے اپنے دوست کی گردن کاٹ دی تو نے اپنے دوست کی گردن کاٹ دی کی مرتبہ فرمایا
جو کوئی اپنے بھائی کی

مگر اگر وہی حضرت
صلو کے قلب کی
آواز سوتی تو حضرت
عائشہ کی بریت
پہلے دن ہی نازل
ہو جاتی مگر ایک ماہ
نہ نہ جاتا ہے باتیں
میں سے زیادہ شہرت
پا جاتی ہیں آپ
علیہ السلام تک کے
متعلق مشورہ کرتے
ہیں تب وہی کہی
نازل ہوتی ہے مگر
آپ کا اپنا خیال
یہ ہوتا تو پہلے دن
ہی لوگوں کا منہ
نہ نہ کہتے تھے
فہم کوئی شہادت
حضرت عائشہ کے
فہم نہ تھی اور
تمام لوگوں نے
جو حضرت عائشہ
کا مذہبی حالات
سے واقف تھے
ان کی عفت پرست
دی تھی مگر پھر بھی
جب تک ہی نازل
نہیں ہوتی آپ کوئی
راے خود ہا نہیں
کی توجہ ہے کہ
عیسائی اس پر
معتزہ ہوتے ہیں
علاء اللہ کریم
نے حضرت عائشہ
کی بریت سے بد

پیشتر حضرت عیسیٰ کی والدہ کی بریت ایسی ہی ناپاک قسمت سے کر کے انہیں صدیقہ قرار دیا تھا۔ پس اگر دوسری صدیقہ کی بریت وہی اسی سے ہوئی تو اس میں کن ما
اے مستبد ہے اور کج تو یہ ہے کہ ایسی ناپاک قسمت کی بریت اور ہوگی کس طرح سکتی ہے جس کا ثبوت ہی کوئی ثبوتہ مگر اس سے حضرت ابو بکر کے قلب کی بدعت
نظر آتی ہے کہ اپنی بیٹی پرستان باندھنے والے کو بھی اس قدر نزلہ دینی سے معاف کیا کہ اس کا وظیفہ بھی جاری رکھا اور اس کی کا نزلہ ہی بتانا کہ مدنی حضرت عائشہ
دل کی آواز تھی وہ اس کا جانا ہے کہ کچھ لوگ رات بسر کرنے کے لئے فارص داخل ہونے لگے اور کہا گیا اور وہ اندر ہی دہک کر کہے وہ اب پیشتر ایسے مقدمہ
پر چولی جاتی ہے جس میں بظاہر فائدہ ہو مگر انجام میں فخرہ جو مشہد اس پر یہ ہو سکتا تھا کہ اپنے ہی بچے کو بیت المال سے وظیفہ دلانے کو لے لے جس میں حسن الخویبر
اور ما۔ غور۔ غار کی تفسیر ہے اور انہوں نے تفسیر میں ہاں اور عیبت والدہ حسن الخویبر انہوں نے تفسیر میں ہر سکتا ہو کہ یہ غلامیہ حکم ہے جس میں جلے۔ جس
جسید کی بیوی نے ان کے قابو اعتبار ہونے کی گواہی دی تو حضرت عمر کو الہیمان ہوا

علا علی وکرمہ روت
 سے معلوم ہوتا ہے
 کہ شخص تعریف میں
 ساند کر رہا تھا۔ تو
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔
 یہی اعلیٰ اطلاق کی
 تفسیر ہے بعض لوگ
 اپنی تعریف میں کہ
 اپنے آپ کو ایک اعلیٰ
 مقام پر سمجھ لیتے ہیں
 اور یوں ہلک ہو
 جاتے ہیں کیونکہ ان
 کو یہ خیال ہو جاتا ہے
 کہ وہ بڑے نیک ہیں
 اور یہ بات کا خیال
 ہے۔ اسی لئے فرمایا
 کہ تعریف کے تم
 نے اپنے بھائی کو ہلک
 کر دیا اور دوسرے
 اس طرح برخص جو
 کچھ کام کرنا ہے وہ
 چاہتا ہے کہ اس کی
 تعریف ہو۔
 علا کر روایت
 مختصر ہے صحیح النبی
 صلی اللہ علیہ وسلم
 رحلا یثین علی
 رجل ویطہرہ یعنی
 مداحہ فقال اھلکم
 الذقنتم ظہرکم
 الرحیل
 علا اہم اوصیہ
 کے نزدیک ارفکے
 کا سن بولنا اھا
 سال ہے اور بولی
 کا سترہ سال
 یاں جو بعض تو ان
 بیان کے ہیں کہ ایک

مَادِحًا أَخَاهُ لَا فِعَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فَلَا نَأْوِي اللَّهُ حَسْبِيهِ وَلَا أَرْزُقِي عَلَى اللَّهِ

تعریف ہی کرنا چاہتا ہے تو کہ میں خداوں کو (اپنا) خیال کرتا ہوں اور اس کا حساب لینے والا اللہ ہے میں اللہ کے سامنے کسی کو سبب

أَحَدًا أَحْسِبُهُ لَكَذَلِكَ أَلَا إِنَّ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ (۱۷۶) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْأَطْنَابِ

سے پاک نہیں کہ سبب میں اسے یا ایسا خیال کرتا ہوں اگر اس علم اس کے متعلق یہ ہوگا۔ باب تعریف میں مبالغہ کرنا درست نہیں

فِي الْمَدْحِ وَلْيَقُلْ مَا يَعْلَمُ (۱۷۷) عَنْ أَبِي مُوسَى (مُتَكَوِّرًا) (۱۲۴۷)

جو کچھ جانتا ہے وہ کہے دیکھو حدیث ۱۲۴۷

بَابُ بُلُوغِ الصَّبِيَّانِ وَشَهَادَتِهِمَا وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ

باب بچوں کا بالغ ہونا اور ان کی گواہی اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد اور جب تمہارے بچے جوانی کو پہنچ

مِنْكُمْ أَحْكَمُوا أُمُورَهُمْ فَلْيَسْتَأْذِنُوا وَقَالَ مُخَيَّرَةٌ أَحْتَمَلْتُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثِي عَشْرَةَ سَنَةً وَ

جائیں تو وہ اجازت لیا کریں (النور-۵۹) اور وغیرہ کہتے ہیں بلوغ کو پہنچا اور میری عمر بارہ برس کی تھی اور

بُلُوغِ النِّسَاءِ فِي الْحَيْضِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاللَّائِي يَلَسْنَ مِنَ الْحَيْضِ إِلَى تَوَلَّيْهِ

عورتوں کا حیض آنے پر بالغ ہونا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو عورتیں حیض سے ناامید ہو گئی ہیں

أَنْ يَضَعْنَ سَمْنَهُنَّ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ أَوْرَكْتُ جَارَةً لَنَا جَدَّةً بِنْتُ أَحَدِ

ان یضعن سمنھن تک (الطلاق-۴) اور حسن بن صالح کہتے ہیں میں نے اپنی ایک بڑھوس کو کہیا کہ اکیس برس کی

عَشْرِينَ سَنَةً (۱۲۴۸) عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عمر میں نانی ہو گئی تھی ۱۲۴۸ ابن عمر سے روایت ہے کہ وہ احمد کے دن رسول اللہ صلی

عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُحْزَنْهُ تَدْعُهُ رَضِي يَوْمَ أُحُدٍ

کے سامنے پیش ہوئے اور ان کی عمر چودہ برس کی تھی تو انہیں اجازت دی کہ میں عمر بن عبد العزیز کے پاس آیا

وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ فَاجَارَنِي قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ

اور ان کی عمر پندرہ برس کی تھی تو انہیں اجازت دی کہ میں عمر بن عبد العزیز کے پاس آیا

خَلِيفَةً فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا أَحَدُ بَيْنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

خليفة سے اور یہ حدیث انہیں سنائی تو فرمایا یہ چھوٹے اور بڑے کی حد ہے

وَكُتِبَ إِلَى عُمَالَةَ أَنْ يُفْرَضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ (۱۲۴۹) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

اور اپنے حاکموں کو کہنا کہ پندرہ برس کی عمر کو پہنچے تو اس کیلئے دھما ٹھہرا کر دو

مُتَكَوِّرًا (۱۲۵۰) بَابُ سُؤْلِ الْحَاكِمِ الْمَدْعِيِّ هَلْ لَكَ بَيْنَةَ قَبْلِ الْيَمِينِ

دیکھو حدیث ۱۲۵۰ باب حاکم کا تم سے پہلے مدعی سے پوچھنا کیا تمہارے گواہ ہیں

(۱۲۵۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَدَةَ (مُتَكَوِّرًا) (۱۲۵۱) بَابُ الْيَمِينِ عَلَى الْمَدْعِيِّ عَلَيْهِ

دیکھو حدیث ۱۲۵۱ باب مال اور مرد کے ہتھکڑوں میں قسم

فَخَسَّ بَارَةَ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا بَابِ عَدْوَتِ كَيْسِ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا بَابِ عَدْوَتِ كَيْسِ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا

فَخَسَّ بَارَةَ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا بَابِ عَدْوَتِ كَيْسِ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا بَابِ عَدْوَتِ كَيْسِ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا

فَخَسَّ بَارَةَ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا بَابِ عَدْوَتِ كَيْسِ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا بَابِ عَدْوَتِ كَيْسِ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا

فَخَسَّ بَارَةَ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا بَابِ عَدْوَتِ كَيْسِ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا بَابِ عَدْوَتِ كَيْسِ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا

فَخَسَّ بَارَةَ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا بَابِ عَدْوَتِ كَيْسِ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا بَابِ عَدْوَتِ كَيْسِ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا

فَخَسَّ بَارَةَ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا بَابِ عَدْوَتِ كَيْسِ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا بَابِ عَدْوَتِ كَيْسِ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا

فَخَسَّ بَارَةَ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا بَابِ عَدْوَتِ كَيْسِ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا بَابِ عَدْوَتِ كَيْسِ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا

فَخَسَّ بَارَةَ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا بَابِ عَدْوَتِ كَيْسِ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا بَابِ عَدْوَتِ كَيْسِ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا

فَخَسَّ بَارَةَ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا بَابِ عَدْوَتِ كَيْسِ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا بَابِ عَدْوَتِ كَيْسِ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا

فَخَسَّ بَارَةَ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا بَابِ عَدْوَتِ كَيْسِ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا بَابِ عَدْوَتِ كَيْسِ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا

فَخَسَّ بَارَةَ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا بَابِ عَدْوَتِ كَيْسِ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا بَابِ عَدْوَتِ كَيْسِ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا

فَخَسَّ بَارَةَ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا بَابِ عَدْوَتِ كَيْسِ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا بَابِ عَدْوَتِ كَيْسِ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا

فَخَسَّ بَارَةَ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا بَابِ عَدْوَتِ كَيْسِ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا بَابِ عَدْوَتِ كَيْسِ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا

فَخَسَّ بَارَةَ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا بَابِ عَدْوَتِ كَيْسِ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا بَابِ عَدْوَتِ كَيْسِ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا

فَخَسَّ بَارَةَ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا بَابِ عَدْوَتِ كَيْسِ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا بَابِ عَدْوَتِ كَيْسِ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا

فَخَسَّ بَارَةَ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا بَابِ عَدْوَتِ كَيْسِ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا بَابِ عَدْوَتِ كَيْسِ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا

فَخَسَّ بَارَةَ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا بَابِ عَدْوَتِ كَيْسِ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا بَابِ عَدْوَتِ كَيْسِ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا

فَخَسَّ بَارَةَ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا بَابِ عَدْوَتِ كَيْسِ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا بَابِ عَدْوَتِ كَيْسِ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا

فَخَسَّ بَارَةَ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا بَابِ عَدْوَتِ كَيْسِ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا بَابِ عَدْوَتِ كَيْسِ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا

فَخَسَّ بَارَةَ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا بَابِ عَدْوَتِ كَيْسِ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا بَابِ عَدْوَتِ كَيْسِ سَالٍ فِي عَمْرِ بْنِ جَبَانَ مَوْلَا

فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَحْدَادِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ فَقَالَ

عَنْ ابْنِ شَابَرَةَ كَتَمَنِي أَبُو الزِّنَادِ فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَيَمِينِ الْمُدْعَى فَقُلْتُ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَاسْتَشْهِدُوا شُهَدَاءَ الَّذِينَ مِنْ ذُرِّيَّتِكُمْ فَإِنْ لَا بُدَّ مِنْكُمْ أَنْ تُكَفِّرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءَ بَعْضِهِمْ

وَأَمْرًا تَأْتِي مِنْ تَرْضَاهُمْ مِنَ الشُّهُدَاءِ إِنْ أَنْ تَضِلَّ أَحَدُهُمَا فَتَدْرِكْ أَحَدًا هُمَا

الْآخَرَى قُلْتُ إِذَا كَانَ يَكْتَفِي بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ الْمُدْعَى فَمَا تَحْتَاجُ

أَنْ تَذْكُرَ أَحَدًا هُمَا الْآخَرَى مَا كَانَ يُضَعُّ بِذِكْرِ هَذِهِ الْآخَرَى (ص ۱۲۲۴)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر ۱۱۹۶) (ص ۱۲۲۵) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (متكرر ۱۱۴۴)

بَابُ إِذَا ادَّعَى أَوْ قَدِّمَتْهُ أَنْ يَلْتَمِسَ الْبَيْتَةَ وَيَنْتَقِلَ لَطَبِ الْبَيْتَةِ

بَابُ إِذَا ادَّعَى ابْنُ عَمٍّ أَوْ ابْنُ أُمِّهِ أَنْ يَلْتَمِسَ الْبَيْتَةَ وَيَنْتَقِلَ لَطَبِ الْبَيْتَةِ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هَدَّالَ بْنَ هَدَّالٍ ابْنَ أُمِّهِ قَدَّمَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْرِكُ ابْنَ عَمٍّ أَوْ ابْنَ أُمِّهِ أَنْ يَلْتَمِسَ الْبَيْتَةَ وَيَنْتَقِلَ لَطَبِ الْبَيْتَةِ

ظَهَرَ نَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدًا نَاعَى امْرَأَتَهُ رَجُلًا يَنْتَقِلُ يَلْتَمِسُ الْبَيْتَةَ

فَجَعَلَ يَقُولُ الْبَيْتَةَ وَالْأَحَدُ فِي ظَهْرِكَ فَذَكَرَ حَدِيثَ اللَّعَانِ (۲۲) بَابُ الْيَمِينِ

بَعْدَ الْعَصْرِ (ص ۱۲۲۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر ۱۱۴۵) (۲۳) بَابُ يُحْرَفُ

بمقدمات میں اس قدر تحقیق حاصل ہوتی ہے کہ شہادت میں کسی ایک بات پر مصر کرنا بطل سے قرآن کریم نے صرف یہ ہدایت فرمائی ہے کہ شہادت کے وقت دو گواہ لے کر لیں یہ نہیں فرمایا کہ کسی مقدمہ کا فیصلہ دو گواہوں کی گواہی کے بغیر نہ ہوگا۔ حضرت یونس کے ذکر میں یمن کے آگے بلائیے سے پیش ہوا ہے کہ یعنی ایک قرآن کی شہادت میں کافی سمجھی گئی۔ ملاحظہ فرمادیں کہ فقہاء نے اس فقہ سے کہ تعین اس فقہ سے ہے فقال شہادۃ الاربعة یعنی اس شخص نے اس شخص سے شہادت لی ہے فرمایا تم گواہوں کو کہنا ہے ملاحظہ فرمادیں کہ حدیث میں ہے

العذاب میں فصل آتی ہے وہاں ہے کہ ہلال کو جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گواہ لاؤ اور تمہیں کو اسے کہیں گے تو ہلال نے قسم کھائی کہ میں گواہوں اور اللہ تعالیٰ ضرور کچھ نازل فرمائے گا جس سے میری بیٹھ کو اسے کہنے سے کچھ عیب ہی نہیں لمان کی آیتیں آئیں۔ پس آنحضرت کا ہلال کو یہ فرمانا البیتۃ او حد فی ظہرک آیت لمان کے نزول سے پہلے کا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حد دو میں جب مدعی قہر نہ دے سکے تو مدعی مدعی کی بریت کہنے ہی کافی ہے اسے اسکی بریت کہنے سے نہیں دی جائیگی۔ مگر بیان فقہ میں نشئہ لایکلام اللہ درالمنظر الیہم ولا یرزیکہم ولہم ہذا اب الیم رجلاً علی فضل ماہ بطریق یمتومنہ ابن السبیل ورجل باہر رجلاً لا یمایعہ الا اللہ دنیا فان اعطاه ما یرید وی لذو الا لمریفة لذو رجل ساور رجل مسلطہ بعد العصر فخلعت ہاتھ لعدا اعطی بہ کذا او کذا فاخذہا۔ بیان سیرت نفس کے متن میں یہ ذکر ہے کہ وہ عصر کے بعد اپنے سامان کی قیمت کے لئے کچھ بیٹھ لیا تو قسم کھائی کہ اس کو یہ پھر اپنے میں چھو ہے تو دوسرا شخص (دھوکا کھا کر) بیٹھنے سے ناہم رہے کہ یہاں ہر کے وقت کوئی خصوصیت نہیں ہونے لگے کہ کھارے کے گھر کا تاجرتا جو درجہ جوئی قسم کھائی تو ہی کھائی باہر چھو

الَّذِي عَلَيْهِ حَيْثُمَا وَجِبَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ وَلَا يَصْرِفُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَىٰ غَيْرِهِ وَكُفِيَ

جہاں اس پر قسم واجب ہو تو پھر قسم کھانے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لئے مجبور نہیں کیا جائے گا اور مروان

مروان یا الیمن علی زید بن ثابت علی المنبر فقال أحلفت له مکاری فجعل زید

نے زید بن ثابت کو منبر پر قسم کھانے کا حکم دیا تو انہوں نے کہا میں اپنی جگہ پر قسم کھاؤں گا زید قسم کھانے

بجلف و ابی ان یجلف علی المنبر فجعل مروان یجلب منه وقال التبی صلی الله علیه

لگے اور منبر پر قسم کھانے سے انکار کر دیا تو مروان ان پر تجویب کرنے لگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

وسلم شاهدك أو يمينك فله شخص مكانا دون مكان (م- ۱۲۲۷) عن ابن

تیسرے گواہ ہونے چاہئیں یا اس پر قسم ہوگی اور ایک مکان کو چھوڑ کر دوسرے کو خاص نہیں کیا گیا

صعور (متكرور- ۱۱۴۴) (۲۴) باب إذا أسأرك قوه في الیمن (۱۲۲۹) عن

دیکھو حدیث ۱۱۴۴ باب جب لوگ قسم کھانے میں ایک دوسرے سے سہکت کریں ۱۲۲۹

أبی هريرة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم من الیمن فأسروا

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قوم پر قسم پیش کی وہ مدعی کرتے گئے

فأمر أن یسهم بينهم فی الیمن ایهم یجلف (۲۵) باب قول الله تعالى إن الذين

آپ نے حکم دیا کہ ان کے درمیان قسم کے بائیں ترے اور الایمن ان میں سے کون قسم کھائے باب اللہ تعالیٰ کا فرمان جو لوگ اللہ کے

یشتررون بعهد الله وأیمانهم ثمنا قليلا (م- ۱۲۲۸) عن عبد الله بن ابی

عبد کہ بدلتے اور اپنی قسموں کے ذریعے سے تم کو آسان کر لیتے ہیں (آل عمران- ۷۶)

أونی (متكرور- ۱۰۴۱) (م- ۱۲۲۹) عن عبد الله (متكرور- ۱۱۴۴) (۲۶) باب

دیکھو حدیث ۱۰۴۱ باب دیکھو حدیث ۱۱۴۴ باب

عند الیوم اور وغیرہ
میں ایک حدیث ہے
کہ حضرت صلعم
نے فرمایا کہ جو میرے
منبر کے پاس بیٹھو
قسم کھانے کو
اپنا ٹھکانا آگیاں
پانے اللہ سانی
کی روایت میں
اس پر نعمت کا ذکر
اس سے زیادتی
کیا جائے کہ دینے
دالوں کو قسم دینے
کے مشورے یا نبی
جائے یہ ہستال
صحیح نہیں ہے
کھانا کسی جگہ بھی ہو
گناہ ہے اور ایسے
پاک مقام پر بھی
جرات سخت تھا
قبلی ہے حدیث
کا مطلب صرف
اسی قدر ہے
ہلہا ہاں صرف
ایک حصہ ۱۱۴۴ کا
دوسرا یا گیا ہے
مخلفین علی الیمن
لیقطع ہما مالا
لقرن الله وهو علیہ
غضب ان
۱۲۲۹ یعنی جب کسی
لوگوں میں سے کسی
ایک پر قسم کھانا
ہو اور وہ قسم
کھائیں سہکت کرنا
یا چاہے تو
والا جائے
کلمہ فقط تقریبا

عند الیوم اور یوم فیہما وجلا من المسلمین کے نطفہ میں نہیں ہے کہ روایت میں قیام الایضت کی بجائے ہے فلقینی الا شعث اورس
کے بعد یہاں صرف اس قدر ہے فقال ما حینا نکوھما فلف الیوم قلت کما اوکنا اقل فی انزلت اور اس سے بچے یا صفوں ایک ہے وہ ملا اللہ کی قسم سے مراد صرف یہ
ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو گواہ کھاتا ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے غرض صرف یہ ہے کہ ایک بات کہتے وقت اللہ تعالیٰ کی عظمت و جبروت انسان کے سامنے
آجائے تاکہ وہ غصہ جھوٹ بولنے سے بچ جائے قسم کی بڑی سادہ شکل ثبانی ہے جو با و اذیاتی سے ہے وہ کلمہ روایت کے نطفہ میں اہل
عہد سے یکجہتی و ناکمیاں نہیں ہے اس میں بنایا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ ان ہر بات پر قسم ہی کھائے ہاں اگر قسم کھائی کسی ضروری چیز میں تو اس کے سوا کسی قسم نہیں کھائی

(۲۷) بَابٌ مِنْ أَقَامِ الْبَيْتَةَ بَعْدَ الْيَمِينِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ

بَابٌ جواز مدعی علیہ کی قسم کے بعد گواہ پیش کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

بَعْضُكُمْ أَحْسَنُ مِنْ بَعْضٍ قَالَ طَاوُسٌ وَابْرَاهِيمُ وَتَكَرَّرَ الْبَيْتَةَ الْعَادِلَاتُ أَحْسَنُ

کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی منزل کو دوسرے سے بہتر نہیں پرہیز کرے اور طائوس اور ابراہیم کہتے ہیں کہ عورت گواہ جھوٹی

مِنْ أَيْمَنِ الْفَاجِرَةِ (م- ۱۳۳) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَمَتْكَ رَمِيَتْكَ (۲۸) بَابٌ

قسم کی نسبت زیادہ قابل قبول نہیں بلکہ دیکھو حدیث ۱۱۷۲ (۱۱۷۲) مصلح باب

مَنْ أَمَرَ بِالنَّجَادِ أَوْ وَعَدَ وَقَعَلَهُ الْحَسَنُ وَذَكَرَ أَنَّهُ مَعِلٌّ إِنَّهُ كَانَ صَادِقًا أَوْ عَدِيًّا

جو وعدے کے پورا کرنے کا حکم دے اور من پھیرنے فرمایا گیا اور اللہ نے حضرت اسمعیل کا ذکر کیا کہ وہ وعدے کے پورا کرنے

وَقَضَىٰ بِنُ الْأَشْوَعِ يَا أُوْعِدُ وَذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ سَمُرَةَ وَقَالَ الْمُسَوِّرُ خُرْمَةَ

اور ابن اشوع نے وعدے پورے کر لیا حکم دیا اور اسے سمرہ سے نقل کیا اور مسور بن خرم نے کہا

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ صَهْرُ اللَّهِ قَالَ دَعَانِي فَوَفِي لِي قَالَ

میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ آپ نے بڑھاپا دانا کا ذکر کیا ذرا اس نے مجھ سے وعدہ کیا اور اسے پورا کیا بلکہ

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَرَأَيْتُ الرَّسُولَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ يُحَدِّثُ بِنُ الْأَشْوَعِ (م- ۱۳۴)

ابو عبد اللہ کہتے ہیں میں نے اصحاب بن ابی سلمہ کو دیکھا کہ ابن اشوع کی حدیث سے استدلال کرتے تھے

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ (م- ۱۳۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م- ۱۳۳)

دیکھو حدیث ۱۱۷۳ (۱۱۷۳) مصلح باب

۳۰ (۳۰) (م- ۱۳۳) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (م- ۱۱۲) (۱۲۵) عَنْ سَعِيدِ بْنِ

ابن جبیر قال سألتني يهودي من أهل الحيرة أني أأجلين قضي موسى قلت

روایت ہے کہ حیرہ کے ایک یہودی نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت موسیٰ نے وعدوں میں سے کون سی پوری کی تھی میں نے کہا

لَا أَدْرِي حَتَّىٰ أَقْدَمَ عَلَىٰ حَبْرٍ أَعْرَبٍ فَأَسْأَلُهُ فَقَدِمْتُ فَنَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ

مجھے علم نہیں جب تک کہ عرب کے عالم کے پاس جا کر اس سے متعلق پوچھ نہ لوں میں آیا اور ابن عباس سے پوچھا

فَقَالَ قَضَىٰ نَزَّهَمًا وَأَطِيبَهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ لَعَلَّ

انوں نے کہا تو وہ میری قسم ہے اور حضرت حبیب نے فرمایا کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اگر تم نے کہا ہے

(۲۹) بَابٌ لَا يُسْئَلُ أَهْلُ الشَّرْكِ عَنِ الشَّهَادَةِ وَغَيْرِهَا وَقَالَ الشَّعْبِيُّ لَا تُجُوزُ

باب مشرکوں سے گواہی وغیرہ کیلئے سوال نہ کیا جائیگا بلکہ اور شعبی کہتے ہیں مذہب باطلوں

بعض صحیح بخاری
علیہ وسلم نے اور
اس وقت مدعی کے
گواہ حاضر کر سکتے
یا گواہ کے معلوم نہ
ہونے کی وجہ سے
مدعی علیہ کی قسم سے
مدعی کا دعویٰ غلط
ہوگا اور مدعی علیہ
پر ہی قرار دیا جائیگا
اس کے بعد اگر مدعی
کو اپنے دعویٰ کی گواہی
کو ہوں گا مدعی کو
اور وہ انہیں حاضر
کر سکتے ہوں تو مدعی علیہ
کی قسم کھانے کے بعد
یہی مدعی کے گواہوں
کی گواہی قابل قبول
ہے اور اگر قاضی نے
گواہوں کی تصدیق
اور تصدیق کی وجہ
سے ان کی گواہی
قبول کر لی تو مدعی
علیہ کی قسم ناقابل
اعتبار ٹھہرے گی
اور فیصلہ مدعی کے
حق میں ہوگا اصل
غرض تو حقوق پوری کرنا
ہے اس لئے اگر بعد
میں گواہوں میں جائیں
اور وہ حق ادا کرتے
نہیں تو دیکھا جائیگا
اسلامی قانون انصاف
پر مبنی ہے اور اس

میں ایسی حد بندیوں نہیں ہیں جس سے حقوق ملت ہوں بلکہ یہاں اختصار ہے بلکہ مختصصون الی ولعل بعضکم العن مجتہد من بعض فمن قضیت له من حق اخیه
شیئاً بقوله فانما اظلم له فطعن من النار فلو یاخذها وہ معنی ہے کہ ایک شخص نے ایک وعدہ کیا اور پورا سے پورا نہیں کیا تو قاضی نے کہا پورا کرنا سکتا ہے ظاہر ہے کہ یہ
صرف ایسے حالات میں ہو سکتا ہے جہاں وہ چیز موجود ہو جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ موجودہ قانون جائداد غیر منقولہ کے سونے کے وعدہ کو پورا کرنا سکتا ہے بلکہ یہاں ایک
چھوٹا سا گناہ اصل حدیث کا ہے۔ اخبرنی ابو سفین ان ہر قیل قال لہ ساتھ ما ذابا مرکہ فرحمت انہ امرکہ باصلوۃ والصدق والنفق والحق
بالعهد واداع الامانۃ قال وھذا صفتہ ہی وہ عیاش الفاطمیین ہیں۔ لہما مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاوا با بکر مال من قبل رسولہ من بعض
فقال ابو بکر من کان الذی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اذکانت لہ قبلہ عدۃ فلیتا قال جابر فقلت وعدنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یظلمن
ھكذا وھكذا وھكذا فیسطہ یدایہ ثلاث مرات قال جابر وعدنی یدی خمساً لہ فحسماً لہ خمساً لہ لہ
دوسرے کے فداوت شہادت دینے کے بارے میں اگر مجتہدین کے مختلف اقوال ہیں۔ جو شہدے کے نزدیک کسی مذہب والے کی شہادت دوسرے کے خلاف ہوتی ہے

بقیہ صفحہ ۵۹
 مذہب والے کے
 خلاف صحیح بخاری
 کے قابل سماعت
 نہیں۔ بعض تابعین
 اور اہل کوفہ کے
 نزدیک مسانویح
 خلاف کسی کی شہادت
 قابل سماعت نہیں
 اور مذہب اہل
 کما ایک دوسرے کے
 خلاف یا مسانویح
 کے لئے شہادت
 دینا درست ہے
 علامت ابن ابی سنی
 لہذا صحیح بخاری
 کسی مذہب والے
 کی شہادت صحیح ہے
 مذہب والے کے
 خلاف قابل سماعت
 نہیں چاہے مسلمان
 بھی کیوں شہادت
 نہ دیں۔ فتح الباری
 میں ہے کہ ابن ابی
 شہید نے نافع اور
 ایک جماعت سے
 در عبد الرحمن بن
 سے سلفی جواز
 کی روایت کی ہے
 اور ابن درست ہے
 صحیح بخاری کے
 آیت قرآنی سے
 صحیح نہیں اس لئے

شہادۃ اہل اہل بعض لقولہ تعالیٰ فاغربنا بینہم العداۃ والبغضاء

کی گواہی ایک دوسرے کے خلاف درست نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور طغیان والا

وقال ابو ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تصدقوا اہل کتاب کو نہ تو سچا سمجھو اور نہ انہیں جھٹلاؤ

وقولوا امنا باللہ واما انزل الایۃ (۱۲۵۳) عن ابن عباس قال یا معشر المسلمین

اور کہو ہاشر پر ایمان لائے اور جو آتا رہتا ہے انرا یہ تک ابن عباس سے روایت ہے کہ اے مسلمانوں کے گروہ

کیف تسألون اہل الکتاب کتابکم الذی انزل علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم

تم کس طرح اہل کتاب سے پوچھنے ہو اور تمہاری وہ کتاب جو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے

أحدث الأخبار باللہ تقرؤنہا کیسب وقد حدتکم اللہ ان اہل الکتاب

وہ اللہ کی کتابوں میں سے پوچھنے آئی ہے تم پر پڑھے ہو اس میں طوطی نہیں اور اللہ نے تمہیں بتا دیا ہے کہ اہل کتاب نے اسے

بدلوا ما لکم اللہ وغیروا یا یدیہم الکتاب فقالوا ہو من عند اللہ لیشر وایہ

بدل دیو جو اللہ نے تمہیں فرمایا تھا اور سچے ہاتھوں سے کتاب کو بدل دیا گیا اور کہا کہ وہ خدا کی طرف سے ہے تمہارا کہ بدلے

ثمنا قلیلا اقلایہما کم ما جاءکم من الیوم عن مساکلتہم ولا واللہ ما را اینا منہم

تمہارا انمولے میں کیا تمہارے پاس جو علم آیا ہے تمہیں ان کے پوچھنے سے نہیں روکتا نہیں خدا کی قسم ہم نے ان میں سے کسی

رجلا قط یسألکم عن الذی انزل علیکم رہ (۳) باب القرعۃ فی مشکلاۃ قولہ

شعبہ کو کبھی نہیں دیکھا کہ اس کے متعلق پوچھنے جو تم پر اترا باب مشکلاۃ میں قرعہ وان اور اللہ

راذ یلقون اقلامہم یخلف مریدہ وقال ابن عباس فی قرعہ انجرت لا قلامہ

تعالیٰ کا ارشاد جب وہ اپنی نہیں ڈالنے لگے کہ ان میں سے مرید کا کھیل ہے اور ابن عباس نے کہا کہ انہوں نے

مع انجریۃ وعال قلمہ زکریا انجریۃ لکفنا زریا وقولہ فساہم اقرع فکان

قرعہ والا تو قسم (پانی کی) روکے ساتھ چل پڑے اور زکریا کا قلم روک کر پڑ گیا تو حضرت زکریا ان کے کھیلنے اور اللہ کا ارشاد فساہم

من المدحضین من المسلمین وقال ابو ہریرۃ عرض لنبی صلی اللہ علیہ

قرعہ الافان من المدحضین (اصف ۴۰) اور یا تمہیں پھینکے گا قرعہ انہیں کا کھد اور ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ

وسلم علی قوہ الیمین فاسر عواقا صران یسہم بیہم الیہم یخلف (۱۲۳)

ایک قوم پر قسم پڑی کہ وہ ہندی رنگ کے قرعے لگائے کہ کئے کہ میں قرعہ ڈال دیتا ہوں ان سے کوئی قسم کھائے گا

کہ وہ اوست اور بعض غریبی رنگ ہیں اور گو اس میں شک نہیں کہ بعض وقت ایک مذہب کے لوگ دوسرے مذہب کے خلاف اس قدر بغض اور تعصب سے بہ جاتے ہیں کہ جھوٹ

بھولتے اور جھوٹی کہہ دو دیا کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کی بنا پر کوئی قاعدہ کارہ بنانا درست نہیں اور اس طرح ایک ملک میں مختلف مذاہب کے پیروؤں کا مل کر رہنا

محال ہو جاتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں امام بخاری نے فرمایا ہے کہ اس بات کو ثابت نہیں کرتی کہ دینی معاملات میں یا مقدمات میں اس کتاب کی شہادت قبول نہ

کرے اور اس میں صرف ان کی تحریف کتب مقدسہ کا ذکر ہے اور ابن عباس بھی صرف اس ہی حدیث سے کہ تم قرآن شریف کے ہوتے ہوئے ضرورت نہیں سمجھتے کہ ان کی کتابوں

کہ وہ اوست اور بعض غریبی رنگ ہیں اور گو اس میں شک نہیں کہ بعض وقت ایک مذہب کے لوگ دوسرے مذہب کے خلاف اس قدر بغض اور تعصب سے بہ جاتے ہیں کہ جھوٹ بھولتے اور جھوٹی کہہ دو دیا کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کی بنا پر کوئی قاعدہ کارہ بنانا درست نہیں اور اس طرح ایک ملک میں مختلف مذاہب کے پیروؤں کا مل کر رہنا محال ہو جاتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں امام بخاری نے فرمایا ہے کہ اس بات کو ثابت نہیں کرتی کہ دینی معاملات میں یا مقدمات میں اس کتاب کی شہادت قبول نہ کرے اور اس میں صرف ان کی تحریف کتب مقدسہ کا ذکر ہے اور ابن عباس بھی صرف اس ہی حدیث سے کہ تم قرآن شریف کے ہوتے ہوئے ضرورت نہیں سمجھتے کہ ان کی کتابوں کے محتاج ہو کہ نہ فرماتے ہیں جو تمہاری طرف آتا رہتا ہے۔ تو تم سے اس کے متعلق پوچھتے نہیں تم کو ان سے پوچھتے ہو تو یہ سب ذکر مذہبی روایات کا ہے۔ نہ معاملات دنیا کا بن میں مل کر دونوں کہتے رہتے ہیں اور وہیں لگے اور اس کے فرقہ بھی ان کے فرقہ کے لوگوں کے متعلق جو شرط ہے وہ صرف ان کا قابل عقاب رہتا ہے اور اور قرآن کریم نے سورہ مائدہ ۱۰۶ میں اختلاف فرمایا ہے ذل عدل عندکوا و اخوان من غیرکم میں گواہ قابل عقاب تم میں سے ہوں میں مسلمانوں میں سے یا تمہارے غیر میں سے یعنی کسی اور مذہب کے پیروں میں تو کسی حدیث میں مذکور نہیں کہ فریضہ شہادت قابل قبول نہیں اور اگر کسی یا شاہد مجاہد کی قسم کی تصریح کے مقابل وہ قابل قبول نہیں ہے صحیح بخاری میں اس کے کتاب مقدسہ کی تحریف نفعی ثابت ہے اور اگر کسی معلوم ہوتا ہے کہ قرعہ نازی و دھورتوں میں جو کئی جو کئی چنڈا اور کبوتر کے کھال یا جاڈو اور جرات صحر کے غایان مساجد میں چھپ کر یا تو قطع نزع کیے تو عدل والا جاسکتا ہے کہ جس جگہ قرعہ کے نام لگے ہی اس کا مقدار جو وہ ایک لہر کا مقدار صرف ایک چنڈا کی یا کھلی لہجہ میں مسیح

اجتماعی طور سے مقدار میں قطع نزع کیے تو عدل والا جاسکتا ہے کہ جس جگہ نام قرعہ لگے ہی اس کا مقدار جو وہ ایک لہر کا مقدار جو وہ ایک چنڈا کی یا کھلی لہجہ میں مسیح

عَنْ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ وَتَكَرَّرَ (۱۱۹۱) (۱۲۳۶) عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ (متكرر)

۶۷۷ (۲۲۷۷) عَنْ كُنَانَةَ (متكرر) (۱۲۲۱) (۱۳۳۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر) (۴۰) ۷۷۷ (۲۲۷۷) دیکھو حدیث ۱۲۲۱ دیکھو حدیث ۴۰

۵۳- کتاب الصلوة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَأَى أَبًا مَا جَاءَ فِي إِصْلَاحِ بَيْنِ الثَّلَاثِ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى لِأَخِي فِي لَيْلِي مِنَ الْجَنَّةِ أَرَأَيْتُمْ

أَمْ يَصِدْقَةٍ أَوْ مَعْرِفَةٍ أَوْ إِصْلَاحِ بَيْنِ الثَّلَاثِ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ

فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَخَرُوجَ الْأَمْرِ إِلَى الْوَأَضْعِ لِيُصَلِّيَ بَيْنَ الثَّلَاثِ (۱۲۳۶) (۱۳۳۸)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (متكرر) (۴۳) (۱۲۵۳) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَوْ آتَيْتَ عَبْدًا مِنْ أُمَّيِّ فَإِنَّهُ لَأَنْطَقَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ حِمَارًا فَأَنْطَقَ

الْمُسْلِمُونَ بِمَشْوَنٍ مَعَهُ وَرَهَى أَرْضٌ سَبِيحَةٌ فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ أَيْدِيكَ عَنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ أَذَى فَرِحَ بِكَ فَقَالَ لِحَجْرٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ مَا أَجْرُكَ قَالَ وَاللَّهِ لَأَجْرُكَ

أَلَّا يَصِلَ إِلَيْكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصِيبَ رَجُلًا وَمِنْكَ فَغَضِبَ لِلَّهِ رَجُلٌ مِنْ شَوْمِهِ فَنَشَأَ فَغَضِبَ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْرُكَ مَا أَجْرُكَ

عَنْ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ وَتَكَرَّرَ (۱۱۹۱) (۱۲۳۶) عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ (متكرر) ...

عَنْ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ وَتَكَرَّرَ (۱۱۹۱) (۱۲۳۶) عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ (متكرر) ...

عَنْ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ وَتَكَرَّرَ (۱۱۹۱) (۱۲۳۶) عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ (متكرر) ...

عَنْ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ وَتَكَرَّرَ (۱۱۹۱) (۱۲۳۶) عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ (متكرر) ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ... ما يفعل بي ... عله ه ... صلواته ...

وله من ... ما يفعل بي ... عله ه ... صلواته ...

لِكُلِّ أَحَدٍ مِنْهُمَا أَصْحَابَةٌ فَكَانَ بَيْنَهُمَا ضَرْبٌ بِالْجُرِيدِ وَالْأَيْدِي وَالنَّعَالِ مُبْلَغًا

کھادی کی تو دونوں میں سے ہر ایک کیلئے اس کے ساتھی غنصہ میں آگے دوڑوں (رگڑوں) کے درمیان چھڑی ہاتھ جوڑوں سے ماہریت

أَيُّهَا أَنْزَلَتْ وَرَأَى كَأَنَّ فَرَاتَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اسْتَلَوْا فَاصْلَحُوا بَيْنَهُمَا (۲) بَاب

ہونے لگی ہم کو یہ بات پہنچی ہے کہ یہ آیت اتری اگر مومنوں کے درگزر لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرنا ہے

لَيْسَ الْكَاذِبُ الَّذِي يُصَلِّحُ بَيْنَ النَّاسِ (۲۵) عَنْ أَمِّ كَلثُومٍ رِبْنَتْ عَقِبَةَ

وہ جھوٹا نہیں جو لوگوں میں صلح کرتا ہے ام کلثوم بنت عقبہ سے روایت ہے

أَنْتُمْ سَمِعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصَلِّحُ بَيْنَ

کراس نے رسول اللہ صلعم کو بت فرماتے تھے وہ جھوٹا نہیں جو لوگوں میں صلح کرتا ہے

النَّاسِ يُعْطَى خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا (۳) بَابُ قَوْلِ الْأَمَامِ مَا كَانَتْ صَحَابَةٌ إِذْ هَبُوا بِنَا

اچھی بات پہنچانے یا اچھی بات کہنے کے لئے باب بادشاہ کا اپنے رفیقوں سے فرمانا ہم کو ملے چلو صلح

لِصَلِّحِهِ (۲۵۵) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أَهْلَ قُبَاءَ اسْتَتَلُوا حَتَّى تَمَّ أَمْرُ الْبِجَارَةِ

کرائیں ملے سهل بن سعد سے روایت ہے کہ قبائہ کے لوگ اپنے اڑ پڑے یہاں تک کہ ایک دوسرے پر پہنچ

فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ ذَهَبُوا بِنَا لِنُصَلِّحَ بَيْنَهُمْ (۴) بَابُ

چلائے رسول اللہ صلعم کو اس کی خبر دی گئی تو فرمایا ہمیں ملے چلو کہ ان میں صلح کرادیں

قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يُصَلِّحَ بَيْنَهُمْ أَصْلِحُوا وَاصْلِحُوا خَيْرٌ (۲۵۵) عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد کریں جو بیوی آپس میں صلح کریں اور صلح اچھی ہے (الف ۱-۱۲۸) حضرت عائشہ سے روایت

وَرَأَى امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْضِهَا تَشْوَرًا أَوْ عَرَضًا قَالَتْ هُوَ الرَّجُلُ يَنْزِي مِنَ

ہے اور اگر کوئی عورت اپنے غمزدگی کی زیادتی یا بے رغبتی سے ڈرے کما وہ ایسا شخص ہے کہ اپنی بیوی میں کچھ دیکھتا

أَمْرًا يَهُمُّ مَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَوْ غَيْرَهُ فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا فَتَقُولُ أَمْسِكْنِي وَأَقِمْ لِي مَا شِئْتَ

ہے جو اسے پسند نہ ہو بڑھا پورا یا اس کے سوا تو وہ اس سے لگ بھڑنا چاہتا ہے تو وہ کہتی ہے مجھے اپنے پاس رکھو اور جو مجھ پر میرے لئے

قَالَتْ فَلَا تَأْسَ إِذَا أَمْرًا ضَيًّا (۵) بَابُ إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى صَلِّحِ جَوْرًا وَالصَّلْحُ

مفکرکہ حضرت عائشہ کہتی ہیں تو کوئی طرح نہیں اگر وہ دونوں (اس صلح، راضی ہو جائیں ملے باب جب کسی صلح کریں کہ اس کی بنا پر صلح ہو تو وہ

مُهِرٌ وَدُّدٌ (۶) - (۱۲۴۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالٍ الْجَدِّيِّ (مُتَكَوِّرٌ - ۱۲۴۳)

باطل ہے دیکھو حدیث ۱۲۶۲

ملائے غنصہ کا گروہ
جن کو معاشرہ اشدھن
ابلی تھا گو نہ سنے سلمان
تھے لیکن اسلام سے ان
کی عداوت کئی وہ کھلی
کھلی نظر ہو چکی تھی
اس وقت بھی ان کو
اسی عداوت کا اظہار کیا
لیکن قرآن کی آیت سے
آخر پللی کی خواہش
پس کہے ہیں کہ اس سے
میں ذل ہوئی یہ صلح معلوم
نہیں ہوتا اس لئے کہ اس
میں دو مومن گروہوں کی
ذکر جو اور یہ گروہ جو
مسلمانوں میں شمار ہوتا
تھا مگر قرآن کریم اس
نام مومن نہیں رکھتا
علاوہ ازیں یہ حضرت
ان کی اپنا علم بھی نہیں
سنی سنا کی بات ہے
اور سورہ ہجرت کا نزول
بھی وقت بھری گیا ہے
جس وقت غنا و عداوت
بن ابی قحافہ نے پانچواں
اور جو اوڈی سے لگا
ہے کہ یہ واقعہ عداوت
بن ابی سے اسلام سے
پہلے کا جو یہ زیادہ
قرآن قیاس سے ملے
کہ انہا را اسلام کے
بعد وہ کھلے طور پر ایسے
لفظ رسول اللہ صلعم کو
شان میں آپ کے منہ پر نہ لکھتا تھا
کی بھی باتیں پہنچاتا ہے یعنی فساد اور جھگڑے کی باتیں جو وہ ایک دوسرے کے خلاف کر لیا وہ نہیں پہنچاتا تو اس سے جھوٹ بولنے کا جو! نہیں نکلتا۔ عین نے مہلب سے لکھی سنی
نقل کیے ہیں جوگوں نے ایک وقت بنا کر ہوا ہے جس میں جھوٹ بولنے کو جائز قرار دیتے ہیں یعنی کہتے ہیں لوگوں میں صلح کرنے وقت جھوٹ بولنا جائز ہے ایسی صلح کیا ہم دیکھی اور کب
تک ریگی جس کی بنیاد جھوٹ پر جوہر ملے گیا اپنے ماتحتوں میں صلح قائم رکھنا بادشاہ کا فرض ہے اور اگر کہیں جھگڑا ہو جائے تو اسے فکرمندی چاہئے۔ آج یورپ کی پاسی یہ ہے کہ
ماتحتوں میں فساد کرنا اپنی حکومت کو قائم رکھیں۔ اسلام کی پاسی انسانیت کیسے کسی قدر موجب رحمت ہے ہر ملکہ آیت مذکورہ حدیث کا تمہرہ ہے فلا جناح علیہا ان یصلحا
بینہما صلحا اور الصلح خیر واحضرت الفضل الشہدان تحسنا وان اللہ کان بعاقلما لادن خیرا۔ یہ سورہ نسا کی آیت ۱۲۸ ہے اس میں ہے کہ اگر عورت خلیفہ
کی زیادتی یا بے رغبتی سے ڈرتی ہو تو صلح کرنے میں کوئی طرح نہیں اور صلح اچھی ہے حضرت عائشہ صلح کی صورت ایک یہ بتاتی ہیں کہ جو بی اپنے حقوق کا مطالبہ چھوڑ دے
اور اپنے حقوق ظہر کے انصاف پر چھوڑ دے وہ کھفیف اختلاف نقلی سے ملے گا کہ وہاں بیان کیا ہے یہ واقعہ و اعراہوں کا ہے جن میں سے ایک کے
لوگ کے دوسرے کی عداوت سے نفا کیا۔ اور پھر آپس میں سو کر دیں اور ایک ٹوٹتی پر صلح کر لی تو رسول اللہ صلعم نے اس صلح کو رد کر دیا یہاں حدیث کے لئے کا مشا
ہجرت ایسی قسم ہے۔ زانی کی مزار کے سوال پر حدود میں بحث آئے گی۔

(۱۲۵۶) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ

أَحَدَثَنِي أَمْرًا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ (۷) بَابُ كَيْفَ يُكْتَبُ

هَذَا مَا صَامَ فَلَانٌ بِنُ فُلَانٍ وَفُلَانٌ بِنُ فُلَانٍ وَرَأَى لَمْ يَنْسِبْهُ إِلَى

قَبِيلَتِهِ أَوْ نَسِبَهُ (م- ۱۲۴۱) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَمَتُكَ ر- ۱۲۵۷

(۱۲۵۷) عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

ذِي الْقَعْدَةِ فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ تَحْتَى قَاصَاهُمْ

عَلَى أَنْ يَقِيمَ هَهُنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا لَا نَقْرَبُهَا فَلَوْ نَعَلْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا مَنَعْنَاكَ

لَكِنْ أَمْتٌ هُمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَا هُمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ

لِعَلِّي أَفْحَرُ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أَهْوَاكَ أَبَدًا فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

دَسَمَهُ الْكِتَابَ فَكَتَبَ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ زَيْدٌ خَلَّ مَدْرَسَةَ

رَبِّهِ فِي الْقَرَابِ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحْيَانٍ أَرَادَ أَنْ يَلْبِغَهُ وَأَنْ لَا يُعْنَمَ أَحَدًا

مِنْ أَصْحَابِهِ أَرَادَ أَنْ يَقِيمَ هَهُنَا فَلَئِمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى لِأَجْلِ أَنْوَاعِهَا فَقَالَ وَقَالَ

لِصَاحِبِكَ أَخْرَجْنَاكَ مَضَى لِأَجْلِ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبِعَتْهُمُ ابْنَةُ

حَمْزَةَ يَا عَمْرُؤُ تَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِبِهَا وَقَالَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ دُونَكَ

ابْنَةُ عَمْرٍ حَمَلَتْهَا فَأَخْتَصَمَ بِهَا عَمْرُؤُ وَزَيْدٌ وَجَعَفَرٌ فَقَالَ عَلِيٌّ أَنَا أَحْسَنُ بِهَا

عَمْرُؤُ يَأْتِيهَا جِزْرِي أَسْجَلُ عَمْرُؤُ يَأْتِيهَا جِزْرِي أَسْجَلُ عَمْرُؤُ يَأْتِيهَا جِزْرِي أَسْجَلُ

عَمْرُؤُ يَأْتِيهَا جِزْرِي أَسْجَلُ عَمْرُؤُ يَأْتِيهَا جِزْرِي أَسْجَلُ عَمْرُؤُ يَأْتِيهَا جِزْرِي

عَمْرُؤُ يَأْتِيهَا جِزْرِي أَسْجَلُ عَمْرُؤُ يَأْتِيهَا جِزْرِي أَسْجَلُ عَمْرُؤُ يَأْتِيهَا جِزْرِي

۱۲۵۶
۱۲۵۷
۱۲۵۸
۱۲۵۹
۱۲۶۰
۱۲۶۱
۱۲۶۲
۱۲۶۳
۱۲۶۴
۱۲۶۵
۱۲۶۶
۱۲۶۷
۱۲۶۸
۱۲۶۹
۱۲۷۰
۱۲۷۱
۱۲۷۲
۱۲۷۳
۱۲۷۴
۱۲۷۵
۱۲۷۶
۱۲۷۷
۱۲۷۸
۱۲۷۹
۱۲۸۰
۱۲۸۱
۱۲۸۲
۱۲۸۳
۱۲۸۴
۱۲۸۵
۱۲۸۶
۱۲۸۷
۱۲۸۸
۱۲۸۹
۱۲۹۰
۱۲۹۱
۱۲۹۲
۱۲۹۳
۱۲۹۴
۱۲۹۵
۱۲۹۶
۱۲۹۷
۱۲۹۸
۱۲۹۹
۱۳۰۰
۱۳۰۱
۱۳۰۲
۱۳۰۳
۱۳۰۴
۱۳۰۵
۱۳۰۶
۱۳۰۷
۱۳۰۸
۱۳۰۹
۱۳۱۰
۱۳۱۱
۱۳۱۲
۱۳۱۳
۱۳۱۴
۱۳۱۵
۱۳۱۶
۱۳۱۷
۱۳۱۸
۱۳۱۹
۱۳۲۰
۱۳۲۱
۱۳۲۲
۱۳۲۳
۱۳۲۴
۱۳۲۵
۱۳۲۶
۱۳۲۷
۱۳۲۸
۱۳۲۹
۱۳۳۰
۱۳۳۱
۱۳۳۲
۱۳۳۳
۱۳۳۴
۱۳۳۵
۱۳۳۶
۱۳۳۷
۱۳۳۸
۱۳۳۹
۱۳۴۰
۱۳۴۱
۱۳۴۲
۱۳۴۳
۱۳۴۴
۱۳۴۵
۱۳۴۶
۱۳۴۷
۱۳۴۸
۱۳۴۹
۱۳۵۰
۱۳۵۱
۱۳۵۲
۱۳۵۳
۱۳۵۴
۱۳۵۵
۱۳۵۶
۱۳۵۷
۱۳۵۸
۱۳۵۹
۱۳۶۰
۱۳۶۱
۱۳۶۲
۱۳۶۳
۱۳۶۴
۱۳۶۵
۱۳۶۶
۱۳۶۷
۱۳۶۸
۱۳۶۹
۱۳۷۰
۱۳۷۱
۱۳۷۲
۱۳۷۳
۱۳۷۴
۱۳۷۵
۱۳۷۶
۱۳۷۷
۱۳۷۸
۱۳۷۹
۱۳۸۰
۱۳۸۱
۱۳۸۲
۱۳۸۳
۱۳۸۴
۱۳۸۵
۱۳۸۶
۱۳۸۷
۱۳۸۸
۱۳۸۹
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
۱۳۹۵
۱۳۹۶
۱۳۹۷
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
۱۴۰۱
۱۴۰۲
۱۴۰۳
۱۴۰۴
۱۴۰۵
۱۴۰۶
۱۴۰۷
۱۴۰۸
۱۴۰۹
۱۴۱۰
۱۴۱۱
۱۴۱۲
۱۴۱۳
۱۴۱۴
۱۴۱۵
۱۴۱۶
۱۴۱۷
۱۴۱۸
۱۴۱۹
۱۴۲۰
۱۴۲۱
۱۴۲۲
۱۴۲۳
۱۴۲۴
۱۴۲۵
۱۴۲۶
۱۴۲۷
۱۴۲۸
۱۴۲۹
۱۴۳۰
۱۴۳۱
۱۴۳۲
۱۴۳۳
۱۴۳۴
۱۴۳۵
۱۴۳۶
۱۴۳۷
۱۴۳۸
۱۴۳۹
۱۴۴۰
۱۴۴۱
۱۴۴۲
۱۴۴۳
۱۴۴۴
۱۴۴۵
۱۴۴۶
۱۴۴۷
۱۴۴۸
۱۴۴۹
۱۴۵۰
۱۴۵۱
۱۴۵۲
۱۴۵۳
۱۴۵۴
۱۴۵۵
۱۴۵۶
۱۴۵۷
۱۴۵۸
۱۴۵۹
۱۴۶۰
۱۴۶۱
۱۴۶۲
۱۴۶۳
۱۴۶۴
۱۴۶۵
۱۴۶۶
۱۴۶۷
۱۴۶۸
۱۴۶۹
۱۴۷۰
۱۴۷۱
۱۴۷۲
۱۴۷۳
۱۴۷۴
۱۴۷۵
۱۴۷۶
۱۴۷۷
۱۴۷۸
۱۴۷۹
۱۴۸۰
۱۴۸۱
۱۴۸۲
۱۴۸۳
۱۴۸۴
۱۴۸۵
۱۴۸۶
۱۴۸۷
۱۴۸۸
۱۴۸۹
۱۴۹۰
۱۴۹۱
۱۴۹۲
۱۴۹۳
۱۴۹۴
۱۴۹۵
۱۴۹۶
۱۴۹۷
۱۴۹۸
۱۴۹۹
۱۵۰۰
۱۵۰۱
۱۵۰۲
۱۵۰۳
۱۵۰۴
۱۵۰۵
۱۵۰۶
۱۵۰۷
۱۵۰۸
۱۵۰۹
۱۵۱۰
۱۵۱۱
۱۵۱۲
۱۵۱۳
۱۵۱۴
۱۵۱۵
۱۵۱۶
۱۵۱۷
۱۵۱۸
۱۵۱۹
۱۵۲۰
۱۵۲۱
۱۵۲۲
۱۵۲۳
۱۵۲۴
۱۵۲۵
۱۵۲۶
۱۵۲۷
۱۵۲۸
۱۵۲۹
۱۵۳۰
۱۵۳۱
۱۵۳۲
۱۵۳۳
۱۵۳۴
۱۵۳۵
۱۵۳۶
۱۵۳۷
۱۵۳۸
۱۵۳۹
۱۵۴۰
۱۵۴۱
۱۵۴۲
۱۵۴۳
۱۵۴۴
۱۵۴۵
۱۵۴۶
۱۵۴۷
۱۵۴۸
۱۵۴۹
۱۵۵۰
۱۵۵۱
۱۵۵۲
۱۵۵۳
۱۵۵۴
۱۵۵۵
۱۵۵۶
۱۵۵۷
۱۵۵۸
۱۵۵۹
۱۵۶۰
۱۵۶۱
۱۵۶۲
۱۵۶۳
۱۵۶۴
۱۵۶۵
۱۵۶۶
۱۵۶۷
۱۵۶۸
۱۵۶۹
۱۵۷۰
۱۵۷۱
۱۵۷۲
۱۵۷۳
۱۵۷۴
۱۵۷۵
۱۵۷۶
۱۵۷۷
۱۵۷۸
۱۵۷۹
۱۵۸۰
۱۵۸۱
۱۵۸۲
۱۵۸۳
۱۵۸۴
۱۵۸۵
۱۵۸۶
۱۵۸۷
۱۵۸۸
۱۵۸۹
۱۵۹۰
۱۵۹۱
۱۵۹۲
۱۵۹۳
۱۵۹۴
۱۵۹۵
۱۵۹۶
۱۵۹۷
۱۵۹۸
۱۵۹۹
۱۶۰۰
۱۶۰۱
۱۶۰۲
۱۶۰۳
۱۶۰۴
۱۶۰۵
۱۶۰۶
۱۶۰۷
۱۶۰۸
۱۶۰۹
۱۶۱۰
۱۶۱۱
۱۶۱۲
۱۶۱۳
۱۶۱۴
۱۶۱۵
۱۶۱۶
۱۶۱۷
۱۶۱۸
۱۶۱۹
۱۶۲۰
۱۶۲۱
۱۶۲۲
۱۶۲۳
۱۶۲۴
۱۶۲۵
۱۶۲۶
۱۶۲۷
۱۶۲۸
۱۶۲۹
۱۶۳۰
۱۶۳۱
۱۶۳۲
۱۶۳۳
۱۶۳۴
۱۶۳۵
۱۶۳۶
۱۶۳۷
۱۶۳۸
۱۶۳۹
۱۶۴۰
۱۶۴۱
۱۶۴۲
۱۶۴۳
۱۶۴۴
۱۶۴۵
۱۶۴۶
۱۶۴۷
۱۶۴۸
۱۶۴۹
۱۶۵۰
۱۶۵۱
۱۶۵۲
۱۶۵۳
۱۶۵۴
۱۶۵۵
۱۶۵۶
۱۶۵۷
۱۶۵۸
۱۶۵۹
۱۶۶۰
۱۶۶۱
۱۶۶۲
۱۶۶۳
۱۶۶۴
۱۶۶۵
۱۶۶۶
۱۶۶۷
۱۶۶۸
۱۶۶۹
۱۶۷۰
۱۶۷۱
۱۶۷۲
۱۶۷۳
۱۶۷۴
۱۶۷۵
۱۶۷۶
۱۶۷۷
۱۶۷۸
۱۶۷۹
۱۶۸۰
۱۶۸۱
۱۶۸۲
۱۶۸۳
۱۶۸۴
۱۶۸۵
۱۶۸۶
۱۶۸۷
۱۶۸۸
۱۶۸۹
۱۶۹۰
۱۶۹۱
۱۶۹۲
۱۶۹۳
۱۶۹۴
۱۶۹۵
۱۶۹۶
۱۶۹۷
۱۶۹۸
۱۶۹۹
۱۷۰۰
۱۷۰۱
۱۷۰۲
۱۷۰۳
۱۷۰۴
۱۷۰۵
۱۷۰۶
۱۷۰۷
۱۷۰۸
۱۷۰۹
۱۷۱۰
۱۷۱۱
۱۷۱۲
۱۷۱۳
۱۷۱۴
۱۷۱۵
۱۷۱۶
۱۷۱۷
۱۷۱۸
۱۷۱۹
۱۷۲۰
۱۷۲۱
۱۷۲۲
۱۷۲۳
۱۷۲۴
۱۷۲۵
۱۷۲۶
۱۷۲۷
۱۷۲۸
۱۷۲۹
۱۷۳۰
۱۷۳۱
۱۷۳۲
۱۷۳۳
۱۷۳۴
۱۷۳۵
۱۷۳۶
۱۷۳۷
۱۷۳۸
۱۷۳۹
۱۷۴۰
۱۷۴۱
۱۷۴۲
۱۷۴۳
۱۷۴۴
۱۷۴۵
۱۷۴۶
۱۷۴۷
۱۷۴۸
۱۷۴۹
۱۷۵۰
۱۷۵۱
۱۷۵۲
۱۷۵۳
۱۷۵۴
۱۷۵۵
۱۷۵۶
۱۷۵۷
۱۷۵۸
۱۷۵۹
۱۷۶۰
۱۷۶۱
۱۷۶۲
۱۷۶۳
۱۷۶۴
۱۷۶۵
۱۷۶۶
۱۷۶۷
۱۷۶۸
۱۷۶۹
۱۷۷۰
۱۷۷۱
۱۷۷۲
۱۷۷۳
۱۷۷۴
۱۷۷۵
۱۷۷۶
۱۷۷۷
۱۷۷۸
۱۷۷۹
۱۷۸۰
۱۷۸۱
۱۷۸۲
۱۷۸۳
۱۷۸۴
۱۷۸۵
۱۷۸۶
۱۷۸۷
۱۷۸۸
۱۷۸۹
۱۷۹۰
۱۷۹۱
۱۷۹۲
۱۷۹۳
۱۷۹۴
۱۷۹۵
۱۷۹۶
۱۷۹۷
۱۷۹۸
۱۷۹۹
۱۸۰۰
۱۸۰۱
۱۸۰۲
۱۸۰۳
۱۸۰۴
۱۸۰۵
۱۸۰۶
۱۸۰۷
۱۸۰۸
۱۸۰۹
۱۸۱۰
۱۸۱۱
۱۸۱۲
۱۸۱۳
۱۸۱۴
۱۸۱۵
۱۸۱۶
۱۸۱۷
۱۸۱۸
۱۸۱۹
۱۸۲۰
۱۸۲۱
۱۸۲۲
۱۸۲۳
۱۸۲۴
۱۸۲۵
۱۸۲۶
۱۸۲۷
۱۸۲۸
۱۸۲۹
۱۸۳۰
۱۸۳۱
۱۸۳۲
۱۸۳۳
۱۸۳۴
۱۸۳۵
۱۸۳۶
۱۸۳۷
۱۸۳۸
۱۸۳۹
۱۸۴۰
۱۸۴۱
۱۸۴۲
۱۸۴۳
۱۸۴۴
۱۸۴۵
۱۸۴۶
۱۸۴۷
۱۸۴۸
۱۸۴۹
۱۸۵۰
۱۸۵۱
۱۸۵۲
۱۸۵۳
۱۸۵۴
۱۸۵۵
۱۸۵۶
۱۸۵۷
۱۸۵۸
۱۸۵۹
۱۸۶۰
۱۸۶۱
۱۸۶۲
۱۸۶۳
۱۸۶۴
۱۸۶۵
۱۸۶۶
۱۸۶۷
۱۸۶۸
۱۸۶۹
۱۸۷۰
۱۸۷۱
۱۸۷۲
۱۸۷۳
۱۸۷۴
۱۸۷۵
۱۸۷۶
۱۸۷۷
۱۸۷۸
۱۸۷۹
۱۸۸۰
۱۸۸۱
۱۸۸۲
۱۸۸۳
۱۸۸۴
۱۸۸۵
۱۸۸۶
۱۸۸۷
۱۸۸۸
۱۸۸۹
۱۸۹۰
۱۸۹۱
۱۸۹۲
۱۸۹۳
۱۸۹۴
۱۸۹۵
۱۸۹۶
۱۸۹۷
۱۸۹۸
۱۸۹۹
۱۹۰۰
۱۹۰۱
۱۹۰۲
۱۹۰۳
۱۹۰۴
۱۹۰۵
۱۹۰۶
۱۹۰۷
۱۹۰۸
۱۹۰۹
۱۹۱۰
۱۹۱۱
۱۹۱۲
۱۹۱۳
۱۹۱۴
۱۹۱۵
۱۹۱۶
۱۹۱۷
۱۹۱۸
۱۹۱۹
۱۹۲۰
۱۹۲۱
۱۹۲۲
۱۹۲۳
۱۹۲۴
۱۹۲۵
۱۹۲۶
۱۹۲۷
۱۹۲۸
۱۹۲۹
۱۹۳۰
۱۹۳۱
۱۹۳۲
۱۹۳۳
۱۹۳۴
۱۹۳۵
۱۹۳۶
۱۹۳۷
۱۹۳۸
۱۹۳۹
۱۹۴۰
۱۹۴۱
۱۹۴۲
۱۹۴۳
۱۹۴۴
۱۹۴۵
۱۹۴۶
۱۹۴۷
۱۹۴۸
۱۹۴۹
۱۹۵۰
۱۹۵۱
۱۹۵۲
۱۹۵۳
۱۹۵۴
۱۹۵۵
۱۹۵۶
۱۹۵۷
۱۹۵۸
۱۹۵۹
۱۹۶۰
۱۹۶۱
۱۹۶۲
۱۹۶۳
۱۹۶۴
۱۹۶۵
۱۹۶۶
۱۹۶۷
۱۹۶۸
۱۹۶۹
۱۹۷۰
۱۹۷۱
۱۹۷۲
۱۹۷۳
۱۹۷۴
۱۹۷۵
۱۹۷۶
۱۹۷۷
۱۹۷۸
۱۹۷۹
۱۹۸۰
۱۹۸۱
۱۹۸۲
۱۹۸۳
۱۹۸۴
۱۹۸۵
۱۹۸۶
۱۹۸۷
۱۹۸۸
۱۹۸۹
۱۹۹۰
۱۹۹۱
۱۹۹۲
۱۹۹۳
۱۹۹۴
۱۹۹۵
۱۹۹۶
۱۹۹۷
۱۹۹۸
۱۹۹۹
۲۰۰۰

امام محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص نے میری سنت کو اپنی قوم کو پڑھائے گا میں اسے سات سو سال تک عبادت میں لے لوں گا۔

اللَّهُ الْقَصَاصُ فَرَضِي الْقَوْمِ وَعَفْوًا فَقَالَ لَتَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ
 من لو قسم على الله لا بتره (روى في رواية) فَرَضِي الْقَوْمِ وَقِيلُوا الْأَدْرَسُ (۹) بَاب
 قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ زَيْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ
 بَيْنَ فِتْنَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ قَوْلُهُ جَلْ ذِكْرُهُ فَأَصْلُهُ بَيْنَهُمَا (۱۲۴۰) عَنْ الْحَسَنِ يَقُولُ اسْتَقْبَل
 وَاللَّهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ مَعُوقِبَةٌ يَكْتَأِبُ امْتِثَالَ نَجْبَالٍ فَقَالَ عُمَرُو بْنُ الْعَاصِ ابْنِي لَأَرَى
 إِنَّ قَتْلَ مُحَمَّدٍ وَوَلَدِهِ هُوَ كَأَدْعٍ هُوَ آدِعٌ مِنْ لِي يَا مُرَادَ النَّاسِ مِنْ نَيْسَارِ أَمٍّ مِنْ لِي بَضِيعَتِهِمْ
 فَيُشْرُ إِلَيْهِ رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمَةَ وَعَبْدُ
 اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ كُوَيْلِبٍ فَقَالَ ذَهَبَا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فَأَعْرَضَا عَلَيْهِ وَقَوْلَا لَهُ
 وَأَطْلُبَا إِلَيْهِ فَإْتَابَهُ فَذَخَرَ عَلَيْهِ فَتَكَلَّمَا وَقَالَ لَهُ فَطَلِبَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَكُمَا الْحَسَنُ
 ابْنِ عَلِيٍّ إِنَّا بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَدْ أَصْبْنَا مِنْ هَذَا الْمَالِ وَإِنْ هَذَا الْأَمَةُ
 قَدْ عَاشَتْ فِي دِمَائِنَا قَالَا فَإِنَّهُ يَعْزُضُ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا وَيَطْلُبُ إِلَيْكَ وَيَسْأَلُكَ
 قَالَ فَمَنْ لِي بِهَذَا آقَا لَأَخْنُ لَكَ بِهِ فَمَا سَأَلَهُمَا شَيْئًا إِلَّا قَالَا لَأَخْنُ لَكَ بِهِ
 فَصَالِحَةٌ فَقَالَ الْحَسَنُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةَ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

علیٰ بن ابی طالب
 کما مقابله کے
 ذبحا بکلان کے
 دل کی تڑپ تھی
 کرب خیریت
 کی جہالت تھی
 ہے تو کیوں دیت
 بڑھانے سے
 تو کیا کبھی بعض وقت
 اشاعتی ہے
 کی قسم کو پورا کرنا
 بڑا جب حضرت علی
 کو ذمہ عداوت
 بن جہم کے ہاتھ سے
 سنا وہ رمضان
 میں خدیج ہوئے تو
 اب کو ذمہ علم جن
 حضرت علی کے
 عداوت کے کوئی
 بنایا اور ان کے ہاتھ
 پر بیعت کی اور حضرت
 معاویہ نے شام
 والوں سے بیعت
 لی ہوئی تھی کہ وہ
 کے کن مقام پر
 کی تو میں منافق
 برہمنی امام جن کو
 آنحضرت کے زمانے
 تھے اس لیے ان کے
 ساتھ انکی بیعت
 کیجئے بڑی فوج
 ہوئی حضرت مطلب
 نے قبل اس کے کہ
 جنگ جو مصالحت
 کی جو صلح مصلحت
 شروع کر دیا اور انکو
 خیال کیا کہ تو تیزی

کی صورت میں خواہ انہم کچھ بھی مروا نہ تھا بلکہ نقصان ہے اور انکا زہرا میں ہی ٹھہرنے کا امام جن بھی کہتے ہیں کہ معاویہ عمرو بن العاص سے ابتر تھے مگر عمرو بن العاص اور جلیجہ
 چہیتے تھے مگر معاویہ اس لیے کہ وہ نہ دیکھا اور معاویہ کے لئے عبد الرحمن ابن عمرو فاتح سیستان اور عبد اللہ بن عامر فاتح خراسان اور صہبان اور کان کو بیجاہ ملنگ فدا صہبان
 هذا المال میں جن جو عبد المطلب ملی خراج کئے اور سخاوت اور فیاض کے عادی ہیں اور بیت المال سے سب لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں اور اپنے مال سے بھی
 بطرح سے لوگوں سے ہمہ روی کرتے ہیں اور خلافت سے ہی یہ سارا کام چنتا ہے اگر خلافت سے دست بردار ہو جائوں تو یہ سلسلہ قائم نہیں رہ سکتا چکہ معاویہ نے
 عبد الرحمن اور عبد اللہ کو پورے امتیازات دیئے تھے کہ معاہدت میں جو شرطیں بھی امام جن لگائیں تم انہیں نہ منکر کرتے رہو۔ اس نے جو مطالبہ امام جن سے
 کرتے تھے وہ ملتے ملتے ملتے جاتے تھے۔

عظمت سے اور امام حسن کے فضیلت سے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جوہر میں صانع کر اوسے گا۔ اور سماؤں کی جماعت اور آفاق کے بند ہر ایک جو بنائے گی اوسے سال جس میں صبح سولی صبحۃ الجماعۃ نکلائے گا اور اسے اتحاد برائی بڑی برکات کا موجب ہوگا۔ اور حضرت صلوات نے بہت سے لوگ فتح کئے۔ یہ گویا بادشاہ وقت کی طرف سے اشارہ تھا۔ کہ صبح کو سولی چاہیے۔ یہ تمام روایت مختصر ہے انفا یوں ہیں۔ انہ کان لہ علی عبد اللہ ابن ابی حسان وہ لاسیلمہ مال فلقیہ فلما ملہ حتی اوقفہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْبَيْتِ وَأَحْسَنَ مِنْ عَلِيٍّ إِلَى جَنِيهِ وَهُوَ يُقْبَلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَ

عَلَيْهِ أُخْرَى وَيَقُولُ إِنَّ ابْنَ هَذَا سَيِّدًا وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصَلِّيهَ بَيْنَ بَيْتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمَسْلُومِينَ ر ۱۱۱

بَابُ هَلْ يُشِيرُ إِلَى مَامٍ بِالصَّلَاةِ ر ۱۱۲

عَلَيْهِ لَقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتُ خَصْمٍ بِمَا لَبَّى عَلَيْهِ

أَصْوَاتَهُمَا إِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْآخَرَ وَسَيَسْتَرْفَعُ فِي شَيْءٍ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُ لَا

أَفْعَلُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ الْمُتَارِكُ عَلَى اللَّهِ لَا يَفْعَلُ

المعروف فقال أنا يا رسول الله وله أي ذلك أحب ر ۱۱۳

بَابُ فَضْلِ الْأَصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ الْعَدْلِ بَيْنَهُمْ ر ۱۱۴

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ سَلَامٍ مِنْ النَّاسِ

عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ النَّفْسُ يُعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ ر ۱۱۵

بَابُ إِشَارَةِ الْأَمَامِ بِالصَّلَاةِ وَأَبَى حَكَمٍ عَلَيْهِ بِأَحْكَامِ الْبَيْتِ ر ۱۱۶

ابن الزبير (متكرر) ر ۱۱۷

بَابُ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْعَرَمَاءِ وَأَصْحَابِ الْمِيرَاثِ وَالْحَاؤُفَةِ ر ۱۱۸

بَابُ إِشَارَةِ الْأَمَامِ بِالصَّلَاةِ وَأَبَى حَكَمٍ عَلَيْهِ بِأَحْكَامِ الْبَيْتِ ر ۱۱۹

بَابُ إِشَارَةِ الْأَمَامِ بِالصَّلَاةِ وَأَبَى حَكَمٍ عَلَيْهِ بِأَحْكَامِ الْبَيْتِ ر ۱۲۰

بَابُ إِشَارَةِ الْأَمَامِ بِالصَّلَاةِ وَأَبَى حَكَمٍ عَلَيْهِ بِأَحْكَامِ الْبَيْتِ ر ۱۲۱

بَابُ إِشَارَةِ الْأَمَامِ بِالصَّلَاةِ وَأَبَى حَكَمٍ عَلَيْهِ بِأَحْكَامِ الْبَيْتِ ر ۱۲۲

بَابُ إِشَارَةِ الْأَمَامِ بِالصَّلَاةِ وَأَبَى حَكَمٍ عَلَيْهِ بِأَحْكَامِ الْبَيْتِ ر ۱۲۳

اصواتهما فسرهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب فاشاد بيننا كما نذيقول النصف فاحذ نصف ما عليه وترك نصف ما يطلب به
 سے کہ حکم اگر ایک فریق کی مرضی سے دوسرے فریق کو سعادت میں کچھ رعایت دیدے اور وہ اسے ناپسند کرے تو جو نیکو دہم صحیح سمجھا ہے اگر اس میں دوسرے فریق کو کو
 رعایت نہ ملے گی جو جو سعادت کی صورت میں اسے ملے مانے۔ یہ فریق روایت میں یہ ثابت ہے کہ وہ انصاری بد میں شامل ہوا تھا اور یہاں نہیں کہ اس نے زہر سے لگا کپانی
 کو چھوڑ دیا نہ کہ اور حتیٰ بیلیم الجدل کے بعد یہ ثابت ہے فاسم صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حینما حذو لہ زہر کان رسول اللہ صلوات قبل اللہ اشار علی الزہر
 برای ستمہ و للاضار علیما الحظ الاضار ایضا ہی حذو لہ صلوات رسول اللہ صلوات اللہ علیہ حینما حذو لہ زہر کان رسول اللہ صلوات قبل اللہ اشار علی الزہر
 ہی حذو لہ للاضار علیما الحظ الاضار ایضا ہی حذو لہ صلوات رسول اللہ صلوات اللہ علیہ حینما حذو لہ زہر کان رسول اللہ صلوات قبل اللہ اشار علی الزہر

(۵-۱۲۴۵) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (متكرر-۱۰۵۹) بَابُ الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ

بکھو حدیث ۱۰۵۹ باب نماز کے لئے نیت کی نیت

وَالْعَائِنِ (۵-۱۲۴۶) عَنْ كَيْبِ بْنِ مَالِكٍ (متكرر-۱۳۲۰)

دیکھو حدیث ۱۳۲۰

۵۴- کتاب الشروط

شروط کی کتاب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اگر ہے اشارہ کر کے بار بار رم کر کے کے نام سے

(۱) بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ فِي الْأَسْمَاءِ وَالْأَحْكَامِ وَالْمَسَائِعِ (۵-۱۲۴۷)

باب جو چیزیں لگانا اسامی اور احکامات اور وقت میں جائز ہے

عَنْ عُمَرَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (متكرر-۱۲۶۶) (۵-۱۲۴۸) عَنْ جَرِيرِ بْنِ زَيْدٍ (متكرر)

دیکھو حدیث ۱۲۶۶ دیکھو حدیث

(۵۱-۱۲۴۸) عَنْ جَرِيرِ بْنِ زَيْدٍ (متكرر-۵۱) بَابُ إِذَا بَاعَ غَنَاءٌ ثَدًا أُبْرِتَ

۵۱ باب جب بیانیہ کو کھریں تو کھریں گے جو کھریں گے

(۵-۱۲۴۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (متكرر-۱۰۸۰) بَابُ الشَّرْطِ فِي الْبَيْعِ

دیکھو حدیث ۱۰۸۰ باب بیس شرطیں لگانا

(۵-۱۲۵۰) عَنْ عَائِشَةَ (متكرر-۳۱۹) بَابُ إِذَا اشْتَرَطَ الْمَاءُ ظَهْرَ

دیکھو حدیث ۳۱۹ باب جب باغ آپ علوم تمام ملک جائز ہے ساری

کتاب التشریحات
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (متكرر-۱۰۵۹) بَابُ الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ
عَنْ كَيْبِ بْنِ مَالِكٍ (متكرر-۱۳۲۰)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ فِي الْأَسْمَاءِ وَالْأَحْكَامِ وَالْمَسَائِعِ (۵-۱۲۴۷)
عَنْ عُمَرَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (متكرر-۱۲۶۶) (۵-۱۲۴۸) عَنْ جَرِيرِ بْنِ زَيْدٍ (متكرر)
(۵۱-۱۲۴۸) عَنْ جَرِيرِ بْنِ زَيْدٍ (متكرر-۵۱) بَابُ إِذَا بَاعَ غَنَاءٌ ثَدًا أُبْرِتَ
(۵-۱۲۴۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (متكرر-۱۰۸۰) بَابُ الشَّرْطِ فِي الْبَيْعِ
(۵-۱۲۵۰) عَنْ عَائِشَةَ (متكرر-۳۱۹) بَابُ إِذَا اشْتَرَطَ الْمَاءُ ظَهْرَ

تشریح و فصل ثلثة عشر وسقا سبعة حمرة وستة لون اوسطة حمرة وسبعة لون اوسطة حمرة وسبعة لون اوسطة حمرة
فقال ابن ابي بكر وعمر ما خبرهما فقالوا ان علمنا انهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شعرنا ان سيكون ذلك فقال هشام بن عمار وهو عن جابر بن عبد الله
ولم يكن لهما بائع ولا ضوك وقال وترك ابن عبد الله ثلثين وسقا رضى رواية صلوة الظهر وعلته كمره ذابت في لغة تقريبية
تكميل اور اس کے تقاض اور لوازمات کے پورا کرنے کے لئے لگائی جائے جائز ہے جو اس کے خلاف ہو وہ جائز نہیں بلکہ اگر روایت میں تصریح ملے تو اس پر سب کو
آئی ہے بیان فقہی میں۔ لہذا کتاب سہیل بن عمرو و یومئذ کان فیما اشترط سہیل بن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یابئک منا احد وان کان
على حینک الا ورسولک الینا وخیلت بیننا وبنینک فکرمنا المؤمنین فهدوا وامتعضوا منه والی سہیل الا ذلک کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ذلک نرد
یومئذ باجدل الی ابیہ سہیل بن عمرو ولسیاتہ احد من الرجال الا ذلک فی ذلک المدة فان کان مسلم او جانا لعموماتہما جلت کانت امر
کاتھرت عقبہ بن ابی معیط من خرج الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ وہی عاتقہ فبما انہما یستثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یرجعوا الیہم علیہم
یرجعوا الیہم لہما انزل اللہ فیہن اذا جاء کل الاممات کما اجرات فامتنعن من اللہ اعلم بما فیہن من القیلة ولا ہم یجتنبن لہن قال عمرو بن عبد اللہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یجھن بہن کما لا یجتنبہا الذین امنوا اذا جاء کل الاممات کما اجرات فامتنعن من اللہ اعلم بما فیہن من القیلة ولا ہم یجتنبن لہن قال عمرو بن عبد اللہ
نعم اقرب من الشرط منہن قال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تن بائعک کلاہ کلما یاب و اللہ ما ست یرا یرا ما ذلک فی اللہ العتق و ما یابئک منا احد
کہ روایت تصریح فقہی میں۔ بائع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاشترط علی النعم کل مسلمہ وکسی روایت میں تصریح ہے۔ یہی وہ
ہوئی ہے۔ ان ہر وہی جاہلوت عائشہ تستعیدہا فی کتابہا ولکن قصت من کتابہا قیامات لہا عائشہ رضوان اللہ علیہا انہا من اجراء ان اصغر
عندک کتابک وکونک ولا یولی تحت فذکرک وہ بریة الی اہلہا فابوا قالوا ان شامت ان تحتسب علیہ ففعلت بکونک ان ذلک وہ فذکرک
ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لہ ابیہ عائشہ فانتما الیہم من اعترق

کتاب بیان بیعت...
بمقتضای آنکه...
کان بیعت علی علی...
لا تدا اعیا نذل فی...
صلی اللہ علیہ وسلم...
نضر فیہ ذنبا لذلک...
فالربیر یسب...
یسب رسولہ فقال...
بصیہ ہدیة فقلت...
لا یشاقل بعینہ...
یوقیہ ھبستہ...
فاستفتیت علی بن...
الی اہل بیضا...
تسب متا انتہ...
باجل و انتہی...
ثمہ فرأصرفت...
فاوصل علی ای...
قال ما کنت لکن...
چنانکہ فضل جناب...
ذلتک فوجہا لک...
من کعبہ ام...
تجاری شری...
کے مضافت...
رادوں کی زبان...
سے نہایت...
نقل کے میں...
رسول اللہ صلی اللہ

Table with multiple columns containing Hadith text in Arabic and Urdu, including reference numbers and chapter titles.

بیتہ و شہدہ الی المینۃ...
عقل کھریو بیعت...
الشرط الاول...
الشرط الثانی...
الشرط الثالث...
الشرط الرابع...
الشرط الخامس...
الشرط السادس...
الشرط السابع...
الشرط الثامن...
الشرط التاسع...
الشرط العاشر...
الشرط الحادی عشر...
الشرط الثانی عشر...
الشرط الثالث عشر...
الشرط الرابع عشر...
الشرط الخامس عشر...
الشرط السادس عشر...
الشرط السابع عشر...
الشرط الثامن عشر...
الشرط التاسع عشر...
الشرط العشرون...
الشرط الحادی عشر...
الشرط الثانی عشر...

وزید بن خالد السهمي أنها قال إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله

عليه وسلم فقال يا رسول الله أشدك الله الأفضيت لي بكتاب الله فقال الخصم

الأخر وهو أفضقه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي فقال رسول الله صلى

الله عليه وسلم قل إن ابني كان غسيقا على هذا أفزني يا امرأة وكبري اخبرت

أن علي بن الرستم فاقذيت منه بما نبتة شاة ووليد فسالته أهل لعلم فآخبروني أنما

علي بن جلد ما نبتة وقضيب عامر وأن علي امرأة هذا الترجمة فقال رسول

الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا قضيت بينكما بكتاب الله

الوليد والغنم رد وعلي بنك جلد ما نبتة ولغريب عامر غدا يا أنيس إلى امرأة

هذا أن اعترفت فارجعها قال ففدا عليها واعترفت فامر به رسول الله صلى الله

عليه وسلم فرجعت (١٠) باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضى بالبيع

علي ابن يعقوب (١٢٥٦) عن عائشة (متكرر - ٣١٩) باب طلاق من شرطين

في الطلاق وقال ابن المسيب الحسن وعطاء عن أن بدأ بالطلاق أو آخر فهو

أصح بشرطه (١٢٥٤) عن أبي هريرة (متكرر - ١٠٦٥)

باب الشروط مع الناس بالقول (١٢٥٨) عن أبي بكر (متكرر - ١٠٦)

الطلاق وان يتابع المهاجر لا عربي وما جرسه من غير ما جرسه من غير ما جرسه

عنه في كذا في طلاق دوسري عورت كمنع من شرطه وان يشاهد الرجل على سيدته ونهى عن الغش وعن التصويت - حديث في تشریح کتاب

طریق ونباتی کے کہنے میں بھی ہرج نہیں ہے مگر کہ روایت بت التصرف - قال موسى رسول الله فذاكر الحديث قال المائل أنك لن تطلق

صحی صحیحہ کت الاوئی نسبا نیا والوسطی شرطها والثالثة عهدا قال لا توأخذنی بما نسبت ولا تهرقن من امری حسو القرا غلاما

تقتله فانطلقا فوجد ابدا آیر مدان ینقض فاقامه قراها ابن عباس اما هم مملك حضرت موسی اور حضرت موسی باقی ہر صحت

عنه في كذا في طلاق دوسري عورت كمنع من شرطه وان يشاهد الرجل على سيدته ونهى عن الغش وعن التصويت - حديث في تشریح کتاب

طریق ونباتی کے کہنے میں بھی ہرج نہیں ہے مگر کہ روایت بت التصرف - قال موسى رسول الله فذاكر الحديث قال المائل أنك لن تطلق

صحی صحیحہ کت الاوئی نسبا نیا والوسطی شرطها والثالثة عهدا قال لا توأخذنی بما نسبت ولا تهرقن من امری حسو القرا غلاما

عند محمد بن طلحة
۱۲۴۰
عند صاحب
الاضلاع
۱۲۴۰
دو دو کو اپنا
کتاب میں فروخت
کرتے ہیں اور اس
کو شرط لگانے پانہ
تک کیا اختیار کرتا
ہے لیکن جس کو
کتاب بیگناگی
اس نے اپنے نہیں
مالک کے شرط کیا
اور جب وہ بیگ
کتاب اور کہنے
عاجز ہو تو اسے
اختیار ہے کہ کسی
اور اسے شرط
کرے بشرطیکہ اس
کا بیٹا زادی سے
تک اس کا کھلا
۱۲۴۰
ہیں بالبت حضرت
علی بن ابی طالب
ہو کر حضرت علی
بن ابی طالب
۱۲۴۰
سنتی باشو اس
تقلید میں شرط
کا ذکر خواہ طلاق
سے پہلے ہو خواہ
بعد برہان اس شرط
کا لیا ضروری ہے
۱۲۴۰
کے الفاظ میں کہ

Main text area containing the primary source material in Urdu script, organized into horizontal lines.

بقرہ ۵۰۵

میں حدیث کی بات
فذاکر الصحابہ میں
اشاہدہ کہ اس کی
تشریح بیان کا ہے
کہ پہلی دفعہ تو حضرت
سوی جمل گئے تھے
لیکن دوسری مرتبہ
یہ مشرف ہوئی تھی کہ
اس حدیث میں بیعت
ساتھ ہو کر جو کچھ
میں کروں اس کے
متعلق سوال نہ کرنا
میں تک کہیں خود
ذکر نہ کروں۔ اور
یہ مشرف بنانی لے
ہوئی تھی۔ اسی سے
عنوان باب ہے۔
ابن عباس نے
دراہم ہر ملک
کے بجائے امانہم
ملک پر ہوا یا غنا
قرآنی دراہم کی
تفسیر ہے۔ جو مردہ
مصنف کے علاوہ
جتنی ہی قرآنی ہیں
وہ سب غنا قرآنی
کی تفسیر ہیں۔

ملک کر روایت کے
لفظ ۱۱۶۴ سے ہے
عینی میں بربر کا
کا قصد ہے جس کے
کے بغیر وہ کسی
کہ وہاں میں بیعت
اور یہ کہ حضرت
زرکات اول گیا تو
چو کہ آئے اعدائے دلی

۱۳۱ باب الشوریہ فی اللؤلؤ (۱۲۵۹) عَنْ عَائِشَةَ (متکرر- ۳۱۹) (۱۴۷) بَابُ

باب اولہ کے بارے میں شریفین کا
دیکھو حدیث ۳۱۹

إِذَا اشْرَطْنَا فِي الْمَزَارِعَةِ إِذَا اشْتَتْ أَخْرَجْتِكُ (۱۲۶) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا

جب مزاد میں یہ مشرف گئے کہ جب میں جاہوں تھے بے بس کر دوں گا
ابن عمر سے روایت ہے کہ جب

فَدَعَا أَهْلَ خَيْبَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَمَامَ عُمَرُ خَطِيبًا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

خیر والوں نے عبد اللہ بن عمر کے ہاتھ پاؤں کے جوڑ توڑ دینے تو حضرت عمر نے کھڑے ہو کر خطبہ لکھا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَامِلًا يَهُودِيًّا عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَقَالَ لَقَرْكُمَا مَا أَقْرَكُمَا اللَّهُ وَإِنْ

نے غیر کہہ سورتوں کے سوال کے متعلق رہائی کا معاملہ کیا اور فرمایا جب تک ہند نہیں رکھے ہر نہیں رہنے دیں گے

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى مَالِهِ هُنَاكَ فَعَدَى عَلَيْهِ مِنَ الْبَيْتِ فَقَدِ عَتَّ يَدَاكَ

اور عبد اللہ بن عمر اپنے مال کیلئے وہاں گئے تو رات کو ان پر حملہ کیا گیا اور ان کے ہاتھ پاؤں کے جوڑ

وَرَجَلَا وَلَا يَسْ لِنَاهُنَاكَ عَدَا وَغَيْرِهِمْ هَمَّ عَدَا وَنَا وَشَهْمَتْنَا وَقَدْ رَأَيْتَ رَجُلًا عَمَّ

تو رہنے گئے اور ہمارا وہاں ان کے سوا کوئی دشمن نہیں دی ہمارے دشمن ہیں اور انہی پر ہزاروں ہتھیار ہیں اور میں انہیں جلا وطن کرنا چاہتا

فَلَمَّا أَجْمَعُ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ أَتَاهُ أَحَدُ بَنِي أَبِي الْحَقِيقِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ

میں جب حضرت عمر نے اس بات کا ہمت ارادہ کیا تو آپ کے پاس ابو الحقیق کے بیٹوں میں سے ایک آیا گا اور کہا اے امیر المؤمنین کیا آپ

أَخْرَجْنَا وَقَدْ أَقْرْنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَامَلْنَا عَلَى الْأَمْوَالِ شُرُوطَ

میں نکان چاہتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں رکھا تھا اور ان کے متعلق ہم سے معاملہ کیا اور یہ مشرف ہوتے

ذَلِكَ لَمَّا فَقَالَ عُمَرُ أَظُنُّنْتُ أَنَّي نَسِيتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ساتھ کی تھی کہ تم یہاں ہو گے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا تمنا خیال ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھول گیا ہوں

وَسَلِمْتُ كَيْفَ بَدَأْتُ إِذَا أَخْرَجْتُكَ مِنْ خَيْبَرَ تَعْدُو بِكَ فَلَوْ صَدَّكَ لَيْلَةٌ بَعْدَ

تمنا کیا حال ہو گا جب تم خیبر سے نکالے جاؤ گے تمہاری اونٹنی تمہیں رات رات لے چلیگی

لَيْلَةٍ فَقَالَ كَأَنْتَ هَذَا هَذِهِ لَيْلَةٌ مِنْ أَبِي لُقَيْمٍ قَالَ كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ فَاحْلُومْ

اس نے کہا تو کیا یہ ابوالقاسم رضی اللہ عنہ نے ہنسی کی تھی حضرت عمر نے فرمایا خدا کے دشمن تم ہو اور تمہیں

عَمَّ وَأَخْطَاهُمْ قَبِيحَةٌ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الثَّمَرِ مَا لَا وَابِلًا وَعَرُوضًا مِنْ أَقْتَابِ

حضرت عمر نے انہیں ہلاک کیا اور ان کے حصے کا جو پھل تھا اس کی قیمت ان کو دادی کچھ نقد کچھ سامان اونٹ پالان

وَجِهَالٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ (۱۵) بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْجِهَادِ وَالْمَصَالِحِ مَعَ أَهْلِ

رسواں و بیوقوفی اور جنگ کرنے والے دشمن سے صلح کرنے میں شریفین کا

الْحَرْبِ وَكَيْفِيَّةِ الشُّرُوطِ (۱۲۶۴) عَنِ الْمُسَوِّدِ بْنِ شُرَيْبَةَ وَمُرَادُ الْبَيْتِ

اور شریفین کا لکھا مسوید بن شریبہ اور وہ ان سے روایت ہے کہ ان میں

اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک شرط ذکر کیا اور اس کا ہر گناہا تو فرمایا گئی۔ مگر مزاجیہ طلب ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ جب کسی کو مزاجیہ کھا جائے

تو اسے زمین سے بھی نکالا جائے۔ حدیث جو مذکور ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو لٹا دیا یا اس میں نفاق کرے گا اللہ کرے گا اس میں سے

نفاق کرے گا علیٰ غلظت مائتہ جگہ تک ہم چاہیں نہیں رہنے دیں گے اور اس شرط کے گناہی کو جو پہلی کتاب ان لوگوں کی خسارتوں سے واقف تھے۔ فد ۶۶ جولان

کا تو فرمایا ہے ان نزول المفاسد عن اما لکھا (لما یہ) میں جو لوگوں کا اپنی جگہ سے ہوا نہ مانگے ہوں تاہی ہے صحابی نہیں سو صحابی میں مگر حدیث میں وہ شریک

نہیں تھے اس لئے یہ حدیث ان کی روایت سے مراد ہے اور ۱۲۶۴ میں نفع مذکور ہے کہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہاں لفظ یہ ہے۔

یضربان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

كل واحد منهما حدث صريحه قال اخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن
 سے ہر ایک دوسرے کی حدیث کی تصدیق کرتا ہے دونوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 الحدیث حتی كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم ان خالدا
 میں نکلے بلکہ ابھی راستے میں ہی تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالدا بن
 ابن الوليد بالغيم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين فوالله ما
 دلید قریش کے ہر اول کے سواروں میں مقام انہیں میں ہے پس تم دائیں طرف کا راستہ لو خدا کی قسم
 شعربهم خالدا حتى اذا هم بقرية الجبش فاطلق يركض نذيرا لقرش
 خدا کو اس کا علم بھی ہوا یہاں تک کہ انہوں نے ننگہ دکھ کر دیکھ کر اس کی ساری دیکھی تو خالدا قریش کو ڈرانے کیلئے نکل پڑا اور وہ اپنے بھوتے ہوئے
 وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان بالثنية التي يحيط عليهم
 اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے یہاں تک کہ جب اس گھاٹی میں پہنچے جس میں ان لڑائی کا براتر ہے تو آپ کی
 منها بركت به راحلته فقال الناس حل حل فاحتمت فقاوا خلاات القضاة
 سواروں کی گھڑیوں میں سے انہوں نے اٹھائے اور چلنے کیلئے آواز دی دینے لگے، ہرگز مدعا ہی تو انہوں نے کہا قصود الودی
 خلاات القضاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلاات القضاة
 قصود الودی بل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصود الودی نہیں
 وما ذاك لها خلق ولكن حبسها حابس ليقبل ثم قال والذي نفسي بيده
 اور یہ اس کی عادت ہی نہیں مگر اسے قید کرنے والے نے روکا ہے پھر فرمایا اس ذات کی قسم جسے جہنم میں ہی جانتے
 لا يسئلوني خطه يعطون فيها حرمات الله الا اعطيتهم اياتها
 جو جس کوئی بات وہ مجھ سے چاہتا ہے جس سے وہ اللہ کی حرموں کی تعلیم چاہتے ہوں میں ان کی وہ بات مان لوں گا
 ثم زجرها فوثبت قال فعدل عنهم حتى نزل يا تصلي الحد يديته على
 پھر آپ نے لے لیا اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور آپ نے ان سے دوسری طرف کا رخ کیا یہاں تک کہ حد تک پہنچے کہ اسے ایک طرف
 ثم قلب لسايت برضه الناس تبرضا فلما يكتمه الناس حتى
 پانی دلوں سے گڑھے پر اتارے لوگ اس سے تمہارا قصود لیتے ہے انہوں نے پانی روکنے سے روکنا سب
 تزحوة وسئلي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش فانزع سهم ما
 کھینچ لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں کی شکایت کر گئی تو آپ نے اپنی قریش سے ایک
 من كنانته ثم امرهم ان يجعلوه فيه فوالله ما زال يجيش لهم بالترقي
 تیر نکالا پھر انہیں حکم دیا کہ اسے اس گڑھے میں گھاس دیں پس خدا کی قسم اس کا پانی پھوٹ کر نکلا تھا

حدیث میں ایک حدیث کا نام ہے جس پر اس جگہ کا نام حدیث صحیحہ اور بعض کے نزدیک ایک شریعت اور بعض کے نام ہے اور بعض کے نام ہے ایک گاؤں کا نام ہے یہ ایک مندر سے جو میل ہے گلاس کا پلا حصہ وہیں وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے ایک کعبہ میں دیکھا کہ آپ کیسے داخل ہوئے ہیں اور خاندان کا طواف کر رہے ہیں اسی بنا پر آپ عمرہ کی نیت سے نکال کر غرض سے ذیقعدہ سے تیری میں کٹر رہیں روانہ ہوئے آپ کے ہاتھ اس وقت چودہ سو جان شار تھے وہاں پہنچ کر آپ نے طواف باذکار

اوشی کا لقب ہے بعض کہتے ہیں اس کا کارنا ہوا تھا اور عضا اور وجہ عادی بھی آپ کی اوشی کے نام آئے ہیں اور غالباً یہ سب اس ایک ہی اوشی کے نام تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کو یہاں حاس الفین کہا یعنی جس سے ہمیں نیل کو کھڑے حمل سے روک دیا۔ حالانکہ اس کا نیل خاندان کعبہ کو تباہ کرنا چاہتے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جرأت کو قائم کرنا چاہتے تھے مگر چونکہ آپ کے بڑے دو نسل ہونے میں فوزیری ہوتی تھی اس لئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ مشافہہ نہیں کہ اس وقت ہم کو میں داخل ہوں اس سے معذور ہوتا ہے کہ فوزیری سے آپ کو کس قدر نفرت تھی۔ جب تک دفاع کی ضرورت تھی مسلمانوں کو ہمت دینا چاہئے اور ہونے سے بچانے کی ضرورت تھی اسلام کو بٹانے سے بچانے کی ضرورت تھی اس وقت تک آپ نے لڑائی کی لیکن جب دفاع کی ضرورت تھی حالانکہ جب میت اللہ کے مقدس نسب سے آپ کو روکا جا رہا تھا آپ نے فوزیری کو دیکھا ہی برسمار دیا جیسا اصحاب نیل کا کھڑے چھوٹا کر کے اس فوزیری کو کھینچ کر لے گئے تھے

یہ اس حدیث کا
 میں صحیح الباری وہ
 میں ہی کہ جو ایسا
 معلوم ہوتا ہے کہ تیر
 کھانے سے بے گرا
 کھونے میں کئی لوگ
 شریک تھے اور غازی
 میں بڑا بن عابد کی
 روایت سے آتا ہے
 انصالی اللہ علیہ
 وسلم جس علی البدر
 شدھا باندھا و نفض
 عدا اللہ لہ صبا
 ضہا۔ اس کے علوم
 ہوتا ہے کہ آئیے دعا
 بھی کی اور اللہ تعالیٰ
 نے اس کا قبول کیا
 اور اس کو سے میں
 پانی پھر کر رکھنے کا
 علاج ہے جس چیز میں انسان
 اپنے کپڑے اور پانی
 اور خاص میں عین کتا
 ہے اسے خیر کہتے ہیں
 جو خواہ ان حضرت سے
 کہ صحت خیر خواہ اور
 راز دار تھے اس نے
 انہیں رسول اللہ صلی
 علیہ وسلم کی خیر خواہی کے لیے
 کیا اعدا و عدو کی
 جمع چار اور اللہ
 العین کے سنے ہیں
 اللہ اللہ الذی لا
 انقطاع لہ
 جیسا کہ پہلے ہی پالی
 جو تمام زہرہ
 اللہ عودہ تو نفس
 تھے اور غازی سے
 آئے تھے۔ بہرین

حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ فَبَيَّنَّا لَهُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ بَدَائِلُ بَنِي دُرَّاقَةَ الْخَزْرَجِيِّ فِي
 بیان تک کہ وہ میرے پاس سے لوٹے۔ وہ اس حال میں تھے کہ میں بن دُرَّاقَةَ خَزْرَجِي
 نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خَزْرَاعَةٍ وَكَانُوا عِيَّةَ نُصُورِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُنَّ
 قوم کے چند آدمی بیکار تھے اور وہ تمام دونوں میں سے آپ کے راز دار
 أَهْلُ تَهَامَةَ فَقَالَ رَأَيْتُ تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيٍّ وَعَامِرَ بْنَ لُؤَيٍّ نَزَلُوا أَعْدَادَ
 خیر خواہ تھے۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے کعب بن لؤی اور عامر بن لؤی کو چھوڑا وہ میرے
 مِيَاهِ الْخُدَيْبِيَّةِ وَمَعَهُمُ الْعَوْدُ الْمَطَانِيُّ وَهُمْ مَقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ الْبَيْتِ
 غمزدہ ہونے والے پانی کے چشموں پر اترے ہیں۔ اور ان کے ساتھ دودھ اور بچوں والی اونٹنیاں ہیں وہ آپ کو راز دار اور میرے ساتھ
 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَمُدَّيْهِ لِقِتَالِ أَحَدٍ وَالْكَفَا جُنَّتَا
 سے روکا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کسی سے روکنے کیلئے نہیں آئے ہم صرف عداوت کرنے کے
 مَعْتَمِرِينَ وَإِنْ قَرِيشًا قَدْ هَلَكْتُمْ أَكْرَبُ وَأَضْرَبُ بِهِمْ فَإِنْ شَاءَ مَا مَادَدْتُمْ
 لیتے آئے ہیں اور قریش کو روکنا ہی ہے اور انہیں نقصان پہنچانا ہے تو اگر وہ چاہیں تو ایک مدت تک میں ان
 مَدَاةً وَيَحْلُو أَبْيَنِي وَبَيْنَ النَّاسِ فَإِنْ أَظْهَرَ فَإِنْ شَاءَ وَأَنْ يَدْخُلُوا زَيْمًا دَخَلَ
 سے منع کرتا ہوں اور دوسرے لوگوں میں داخل نہ دیں اگر میں غالب ہوا تو اگر وہ چاہیں کہ اس کو دین میں داخل ہوں جس میں
 فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا أَوْلَاةً فَقَدْ جَمَعُوا إِيَّانَ هُمْ أَبَوَا نَوَ الذِّي نَفْسِي بَيْنَهُ لَا قَائِلَهُمْ
 لوگ وہ داخل ہوتے ہیں تو جو چاہیں وہ نہ کچھ آرام نہ ان کو نہ گا اور اگر وہ انکار کریں تو اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میری
 عَلَى أَمْرِي هَذَا حَتَّى تَنْفَرُوا سَائِقِي وَلَيْسَ فِدَانُ اللَّهِ أَمْرًا بَدَائِلُ
 ان سے اپنے دلی مخالفت کیلئے راز دار تک میں تک میری گردن تک ہوجائے اور اللہ ضرور اپنے دین کو کمال کو پہنچائے گا تو میں نے عرض کیا
 سَائِبُغَهُمْ مَا تَقُولُ فَانْطَلَقَ حَتَّى آتَى قَرِيشًا قَالَ إِنَّا قَدْ جِئْنَاكَ مِنْ هَذَا
 جو آپ فرماتے ہیں میں اسے قریش کو پہنچا دوں گا وہ چاہوں گا کہ قریش کے پاس آیا اور کہنے لگا ہم تمہارے پاس اس شخص کے پاس
 الرَّحِيلِ وَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ قَوْلًا فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَعْرِضَهُ عَلَيْكُمْ فَعَلْنَا فَقَالَ
 سے آئے ہیں اور ہم نے اس کو ایک بات کہتے ہوئے سنا اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر وہ بات پیش کریں تو کروں گے ان میں سے
 سَفَهَا وَهُمْ لَا حَاجَةَ لَنَا أَنْ نُخْبِرَ نَاعْنَهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ ذُو الرُّمَيْ مِنْهُمْ
 یہ جو قوفوں نے کہا ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ تمہیں اس کی طرف سے کوئی بات پہنچاؤ۔ اور ان سے اہل راء نے کہا
 هَاتِ مَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتَهُ يَقُولُ كَذَا كَذَا الْحَدَّثُ لَهُمْ بِمَا قَالُ
 جو تم نے اسے کہتے ہوئے سنا ہے وہ لاؤ میں نے سنا ایسا ایسا کہتے ہوئے سنا ہے اور ان سے وہ باتیں بیان
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ أَيُّ قَوْمٍ السُّتْمُ
 کہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھیں اور عروہ بن مسعود اٹھا اور کہا میری قوم کا نام دیر سے باپ کی طرف
 بِالْوَالِدِ قَالُوا بَلَى قَالَ أَوْلَسْتُ بِالْوَالِدِ قَالُوا بَلَى قَالَ لَهْلَهْلُ يَهُودِيٌّ قَالُوا كَيْفَ
 نہیں ہوا انوں نے کہا درست ہے اس نے کہا کہ میں جتنا کہ پیچھے کی طرح نہیں ہوں انوں کا درست ہے بلکہ اس نے کہا کہ میرے سنی نہیں کوئی
 السُّتْمُ تَعْلَمُونَ أَيُّ اسْتَفْرَتِ أَهْلَ عَمَّاظٍ فَلَمَّا بَلَغُوا عَلَى جِئْتُمْ كَمَا ظَلَمْتُمْ
 شیروں سے کہ میں ان کا نام نہیں کہیں نے عکاظ والوں کو میری طرف کیلئے بلا دیا تھا جب انوں نے اسے قبول کیا تو یہاں پہنچاں ہوں گا اور ان کو
 وَوَالِدِي وَمَنْ أَطَاعَنِي قَالُوا بَلَى قَالَ إِن هَذَا أَدْعُرُضُ لَكُمْ خُطَّةَ رَسُولِي
 کی کہ تم نے میری بات اتنی تمہارے پاس آگ انوں نے کہا درست ہے اس نے کہا تو اس شخص نے تمہارے نامہ کی بات پیش کی ہے اسے مان لو

ہو وہ مسلمان ہونے اور اپنی قوم کے پاس تبلیغ اسلام کے لئے گئے۔ انوں نے انہیں شہید کر دیا

اقبلوها و دعوتی اتيه قالوا انتبه فانك تجعل يكرم النبي صلى الله عليه وسلم فقال
اور مجھے اجماعت دو کہیں اس کے پاس جاؤں انہوں نے کہا جاؤ وہ آپ کے پاس آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا تو

النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعزوة عند ذلك ابي محمد
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا جو وہاں سے آیا تھا تو اس پر عروہ نے کہا اے محمد مصعب بن عمیر

ارأيت ان استأصلت امر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح
اگر آپ نے اپنی قوم کے امر کو دیکھا ہے تو کیا آپ نے سنا ہے کہ عرب ہجرت کسی نے آپ سے ہے

اهله قبلك وان تكن لأخرى فإني والله لا أرى وجوها ورائي لا أرى أشوابا
اپنی قوم کو تیار کیا ہو اور جو دروس ہاں ہوتی رہی آپ بخلوب ہو گئے تھے خدا کی قسم میں ان بڑے بڑے لوگوں کو اور ان مختلف قوموں کے

من الناس خليفان يفترون وادعوك فقال له أبو بكر امصص ببطن اللات
سے چلے لوگوں کو ایسی کا ایسی سمجھتا ہوں کہ وہ بھلاگ جائیں بلکہ اور آپ کو مجھ جانیں تو حضرت ابو بکر نے کہا لات کی شرمگاہ کی عبادت کرنا

أعثن نفرت عنه وندعه فقال من ذاق لؤا أبو بكر قال أما والذبي نفسي
کیا ہر آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے عروہ نے کہا یہ کون ہے لوگوں نے کہا ابو بکر میں اس نے کہا جس کے ہاتھ میں میری جان ہے

بيدك لو لا يدك كانت لك عندي لم أجرك بها لأجبتك قال وجعل يكرهم
اگر مجھ پر تیرا چہان نہ ہوتا مجھ کا ہلا بھی نہیں ہوتی نہیں اسے دیکھا تو میں نہ کہو جواب دینا بلکہ کہا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

النبي صلى الله عليه وسلم فكلما تكلموا أخذ بلحيته والمعيرة بن شعبه
رسول سے گفتگو کرنے لگا تو جب بات کرتا تو آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا اور غیرہ بن شعبہ

قائمة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کھڑے تھے اور ان کے پاس تلوار تھی اور ان کے سر پر خود تھا

فكلما أهوى عروة بيدك إلى بحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب
تو جب عروہ نے ہاتھ مارا پتا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا تو انہوں نے

يدك بنعل السيف وقال له آخر يدك عن حية رسول الله صلى الله عليه
تو ادا کی تو کسی اس کے ہاتھ پر ماری اور کہا اہا ہا ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے ہٹ کر رکھو

وسلم فرقه عروة رأسه فقال من هذا قالوا المغيرة بن شعبه فقال أرى
تو عروہ نے اپنا سر اٹھا کر کہا یہ کون ہے لوگوں نے کہا مغیرہ بن شعبہ ہے اس نے کہا ہے

غدا رأت أسعني غدا ريت وكان المغيرة صحب قوماني الجاهلية
دو دن یا کر کیا میں نے تجھے تیری دعا یا زور کی منزلت نہیں بخایا اور غیرہ ابام جاہلیت میں کچھ لوگوں کے ساتھ تھے

فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم
تو انہیں قتل کر دیا اور ان کا مال لے لیا پھر وہ آئے اور سلمان ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

تشریح صحیح بخاری
اعوان الناس
بڑے بڑے لوگوں سے
اور اشراب سے
مراؤ مختلف قوموں
کے بڑے بڑے لوگ
دشمنوں کے ساتھ
خفا میں عروہ کا
مطلب تھا کہ آپ
کے ساتھ ایک قوم
کے لوگ نہیں گراں
میں اتنا درجہ اور وہ
مقابلہ کر سکیں یا
معلوم تھا کہ اسکی
افرت کا ہوشہ اس
قد مضی ما اور سب
ہے کہ اس کے سامنے
نبی قرابت اور قربان
کی کوئی تحقیق نہیں
اور حضرت مصعب سے
جو محبت صحابہ کی
کسی سے وہ اس
قسم کی ہے کہ اس
کی نظیر تو کسی نبی
کے پیروؤں میں نہیں
جاتی ہے اور انکی
دنیوی ہمت و دامن
اور قرابت و اقربان
میں جس کا نظارہ
عروہ نے خود دیکھا۔
میں آگے آگے
مصلحت امھن
بیطن اللات
لات، ان کی ایک

ایک دیوی تھی۔ اور یہ معلوم ہوتا ہے جس طرح ہندوؤں میں شرنگاہ کی پوجا کا طریق ہے عرب کے لوگوں میں بھی تھا۔ امھن، محض سے ہے۔ جس کے
معنی ان اشرے کے ہیں۔ مصعب، اسے قال القلیل من الدنيا یعنی دنیا سے تھوڑا سا نفع اٹھایا۔ اور بطور وہ تھوڑا سا گوشت کا ٹکڑا بھی تو ہفتہ کہنے
والا عورت کے ہفتہ کے وقت پھینک دیتا تھا۔ دنیا یہ اور مصعب بطور کا عبادہ دم کے بر وقت پر بولا جاتا ہے اور یہاں مصر بیطن اللات میں اشارہ اس کی
پوجا کی طرف معلوم ہوتا ہے جو یہ لوگ کرتے تھے۔ جب اس نے صحابہ کی عزت پر حملہ کیا تو حضرت ابو بکر کو غصہ آیا اور انہوں نے سختی سے اسے روکا کہ تیرا
کی شرنگاہوں کی پوجا کرنے والے مسلمانوں کے ساتھ کیا ٹھہر سکتے ہیں۔

علا میں شیعہ نے
ایام جاہلیت میں
کسی کا مال خانی یا
تو بنی صنم نے اسے
اسلام میں نہیں کرتے
وقت صاف فرمایا
کہ اسے مال سے جو
خانی یا گدیہ ہمارا
کوئی تعلق نہیں ہے
سے معلوم ہوا کہ وہ
مال آپ کی بیگاہوں
کوئی حقیقت نہ کہتا
تھا۔ لکھا ہے۔
کہ نہ تو نے کہا تھا کہ
یہ مال ہیں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے
سے ہیں۔ اس سے
یہ بھی معلوم ہوا کہ
بڑے تعلیم اسلام
کسی مشرک کا مال ہی
خانی نہیں لیا جا
سکتا۔ جنگ کی حالت
اوس سے بعد مدنی
کفار سے بھی جاہل
ہے۔
مطلب یہ ضروری نہیں
کہ یہ چھوٹی چھوٹی
تفصیلات ساری
حرفاً و قافاً درست
ہوں۔ البتہ ضرور
معلوم ہوتا ہے کہ
جب عہد مہمات
کی دفناری ہو چکی
کیا تو انہی رسول
اللہ صلعم سے اپنے
تعلق کا اظہار کیا تو
بیٹا کہ وہ کسی تعلق
سے محبت کرتے تو کسی
عزت اور احترام کو اپنے
دل میں رکھتے ہیں۔

أَمَّا الْإِسْلَامَ فَمَا قَبِلَ وَأَمَّا الْمَالَ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ تَمَّتْ عَرُودٌ جَعَلَ
 قبا ما اسلام تو میں قبول کرتا ہوں اور تم سے مال سے میرا کچھ تعلق نہیں ہے
 بِرَمْتٍ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَيْنِيهِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا تَخْتَمُ رَسُولُ
 اصحاب کو اپنی دونوں آنکھوں سے ملاحظہ کرنے لگا
 اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخْتَمُهُ إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفْرِ رَجُلٍ مِنْهُمْ لَكَ بِهَا وَجْهٌ وَجِلْدٌ
 جب بھی کوئی تم کو تختہ کرتے اور ان میں سے کسی کے ہاتھ پر پڑتا تو وہ اسے اپنے نادر میں بدل لیتا
 وَإِذَا أَمْرُهُمْ ابْتَدَأَ رَأَى أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ وَإِذَا
 اور جب آپ انہیں کوئی حکم دیتے تو اسکی تیل میں ہلادی کہتے اور جب آپ وضو کرتے تو آپ کے ہونے پانی پر قریب تھا کہ روڑتے
 تَكَلَّمَ خَفِضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُجِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ فَرَجَعَ عَرُودٌ إِلَى
 اور جب آپ کوئی بات کرتے تو وہ آپ کے سامنے اپنی آوازیں بہت کر لیتے تھے اور آپ کے اوسکی وجہ سے آنکھ اٹھا کر آپ کی طرف
 أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَيْ قَوْمِ وَاللَّهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمَلُوكِ وَوَفَدْتُ عَلَى نَيْبِهِمْ وَسِرِّي
 دیکھ دیکھتے تھے میرے پھر عہد لوٹ کر اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور کہا لوگو خدا کی قسم میں بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں نیبہم و سیری
 وَالنَّعَاشِي وَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتَ مَلَكًا قَطُّ يَعْظُمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يَعْظُمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ
 اور بخاشی کے پاس جا چکا ہوں خدا کی قسم میں نے بھی کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اسکے پیر و اسکی اتنی تعظیم کرتے ہوں جس قدر محمد صلی اللہ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدًا وَاللَّهِ إِنْ تَخْتَمُ تَخْتَمُهُ إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفْرِ رَجُلٍ مِنْهُمْ
 علیہ وسلم کے صحابہ محمد کی کرتے ہیں خدا کی قسم وہ کوئی تم کو نہیں تختہ کرتے مگر ان میں سے کسی شخص کے ہاتھ پر پڑتا ہے
 فَذَلِكَ بِهَا وَجْهٌ وَجِلْدٌ وَإِذَا أَمْرُهُمْ ابْتَدَأَ رَأَى أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ
 تو وہ اسے اپنے چہرہ اور بدن پر مل لیتا ہے اور جب انہیں کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ فوراً اسکی تمیز کرتے ہیں اور جب وضو کرتے ہیں تو قریب
 عَلَى وَضُوئِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفِضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُجِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ
 ہے کہ ان کے وضو سے بچے ہونے پانی پر پڑ پڑیں اور جب کوئی بات کہتے ہیں تو وہ اپنی آوازیں ان کے سامنے بہت کر لیتے ہیں اور ان کے اوسکی
 تَعْظِيمًا لَهُ وَإِنَّهُ تَدْعُرُضُ عَلَيْكُمْ خُطَّةٌ رُشِدًا فَاقْبَلُوهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ
 وجہ سے آنکھ اٹھا کر ان کی طرف دیکھتے اور انہوں نے تم سے سامنے فائدہ کی بات نہیں کہی ہے تو اسے لینا چاہئے ہی ان میں سے ایک آدمی
 بَنِي كِنَانَةَ دَعَا عُرَى ابْنَهُ فَقَالُوا أَيْتَهُ فَلَمَّا اشْرَفَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 نے کہا مجھ اجازت دو کہ میں ان کے پاس جاؤں انہوں نے کہا جاؤ جب وہ
 وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا فُلَانٌ وَهُوَ مِنْ قَوْمِ
 اور آپ کے صحابہ کے سامنے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فلان شخص ہے اور وہ ان لوگوں میں سے ہے
 يَعْظُمُونَ الْبَدَنَ فَابْعَثُوهُ لَعَلَّ يَكْفُرُ لَهُ وَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ يَلْبَسُونَ فَلَمَّا
 جو قربانی کے جانوروں کی مدت تنظیم کرتے ہیں تو انہیں اس کے سامنے سے آؤ وہ اس کے سامنے لانے گئے اور لوگ بھی لیکھتے ہوئے اس
 رَأَى ذَلِكَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ لِيهِمْ لَبَدٌ وَأَعْرَابٌ لَبَدٌ فَلَمَّا رَجَعَ
 کے سامنے آئے جب اس نے یہ نظارہ دیکھا تو کہا سبحان اللہ ان لوگوں کو بہت اشرکے روکنا ان سے ہے
 إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ رَأَيْتَ الْبَدَنَ قَدْ قَلِدَتْ وَأَشْعُرَتْ فَمَا أَرَى أَنْ يَصْدُوا
 اپنے ساتھیوں کے پاس گیا تو انہوں نے قربانی کے اونٹوں کو دیکھا ہے کہ ان کے گلے میں لہار پہنے ہوئے تھے اور ان کو ان جیسے ہونے پھر یہ
 عَنِ الْبَيْتِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مُكْرَزُ بْنُ مَخْفَضٍ فَقَالَ دَعَا عُرَى ابْنَهُ
 یہ لائے نہیں کہ اگر بہت اشرکے روکنا ان میں سے لوگ شخص اٹھا جس کا نام مکرز بن مخصف تھا اس نے کہا مجھ اجازت دو کہ میں

یہ لائے نہیں کہ اگر بہت اشرکے روکنا ان میں سے لوگ شخص اٹھا جس کا نام مکرز بن مخصف تھا اس نے کہا مجھ اجازت دو کہ میں

فَقَالُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ عَلَيْهِمْ قَالِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَمْكُرٌ

کے پاس جاؤں انہوں نے کہا جاؤ جب وہ ان کے سامنے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

وَهُوَ جَلٌّ فَاجْرُجْ جَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَدَأَ هُوَ بِكَلِمَةٍ أَدَجَاءَ

اور یہ عمل محض ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا وہ آپ سے گفتگو کر رہا تھا کہ سبیل

سَهِيلٌ مِنْ عَمْرِو بْنِ رُوَيْهِ رَوَاهُ أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ سَهِيلٌ مِنْ عَمْرِو بْنِ رُوَيْهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

بن عمرو فرمایا اور ایک روایت میں ہے کہ جب سبیل بن عمرو آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ سَهَّلَ لَكَ مِنْ أَمْرِكَ قَالَ مَعْمَرٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ لَمَّا جَاءَ

ابن قیس کا کام آسان ہو گیا تھا معمر کہتے ہیں زہری نے اپنی حدیث میں کہا

سَهِيلٌ مِنْ عَمْرِو بْنِ رُوَيْهِ قَالَ هَاتِ أَلْتَبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كَمَا بَدَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سبیل بن عمرو فرمایا تو کلام لاؤ اپنے اور تم سے درمیان میں تمہارے دونوں کے درمیان

وَسَلَّمَ الْكَاتِبُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُتُبُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کاتب کو بلا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم

قَالَ سَهِيلٌ أَمَا الرَّحْمَنُ فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا هُوَ وَلَكِنْ كُتِبَ بِأَسْمِكَ اللَّهُمَّ

سبیل نے کہا رحمن تو ظلالی قسم میں نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے البتہ یا اسمک اللهم کہو دو

كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ فَقَالَ لِمُسْلِمُونَ وَاللَّهِ لَا تَكْتُبُهَا إِلَّا بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جس طرح پہلے آپ لکھا کرتے تھے مسلمانوں نے کہا خدا کی قسم ہم تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھتے تھے

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُتُبُ بِأَسْمِكَ اللَّهُمَّ ثُمَّ قَالَ هَذَا مَا قَاتَضَ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نام تک اللهم پھر لکھو انہا چاہا وہ عثمان سے ہے جس پر

عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ سَهِيلٌ وَاللَّهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا

محمد اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا ہے وہ سبیل نے کہا خدا کی قسم اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں

صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ وَلَا قَاتِلْنَاكَ وَلَكِنْ أَتَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ

تو ہم آپ کو بیت اشرف سے برگزیدہ رکھتے اور نہ آپ سے لڑائی کرتے ہیں محمد بن عبد اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ إِنْ لَمْ يَرْسُولِ اللَّهُ وَإِنْ لَدَّبْهُمُونِي أَتَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ

نے فرمایا خدا کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم مجھے جھٹلاتے ہو کہ دو محمد بن عبد اللہ

عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ لَا يَسْأَلُونِي خِطَّةً يَعْظُمُونَ فِيهَا حُرُوبَاتِ

زہری کہتے ہیں یہ اس لئے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ کوئی ایسی ہی بات تھی جس سے ہماری جس میں ہیں خدا کی رحمتوں کی

اللَّهُ إِلَّا أَعْطَيْتَهُمْ إِيَّاهَا فَقَالَ لَمْ يَنْبِئِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ يَخْلُوا

تعمیر دیکھو تو میں سے مان لوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبیل سے فرمایا شرط یہ ہے کہ تم میں سے بہت اٹھو

بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَتَطُوفُ بِهِ فَقَالَ سَهِيلٌ وَاللَّهِ لَا تَتَّخِذُ الْعَرَبُ

رستہ دوں گے کہ ہم اس کا طواف کریں سبیل نے کہا خدا کی قسم یہ نہیں ہوگا عرب میں یہ چرچا ہوگا

أَنَا أَخِذْنَا ضَغْطَةً وَلَكِنْ ذَلِكَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَكُتِبَ فَقَالَ سَهِيلٌ

کہہ دو جب تک البتہ یہ آئندہ سال ہو سکتا ہے تو ایسی ہی لکھی پھر سبیل نے کہا اور

وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مَنَاجِلُ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِيْنِكَ إِلَّا رُدَّتْهُ إِلَيْنَا

یہ شرط ایسی ہے کہ کوئی دشمن تم سے نہیں آئے گا اگر وہ نہ تم سے ہی وہاں پر آئے تو ہماری طرف واپس کر دوں گے

یہ ممکن ہے کہ سبیل نام سے دو سبیل سے مشتق ہے آپ نے تقابل کیا چونکہ کہ اب کام آسان ہو جائے گا۔ یا یہ کہ سبیل سے دو آئیواں کی حالت آئے بیان کر دی گئی کہ فلاں ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے۔ اسی طرح سبیل کہ دیکھ کر فرمایا کہ وہ صلح پر اتنی ہو جائے گا اور حال آسانی سے ملے ہو جائیگا۔ لفظ حالانکہ جہاں صاف ذکر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا کھوار ہے تھے مگر لفظ کتاب ہی استعمال کیا ہے جس سے محسوس ہوتا ہے کہ کتاب کہنے اور لکھوانے دونوں پر بولا جاتا تھا۔ قسم ان کریم کی صریح شہادت موجود ہے۔ دوسرا خطہ یہ ہے کہ

قَالَ الْمُسْلِمُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ كَيْفَ يَرُدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا

مسلمانوں نے کہا سبحان اللہ جو مسلمان ہو کر آیا ہے اسے کس طرح مشرکوں کی بدتوں میں جانا چاہیے

فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ أَبُو جَنْدَلٍ بْنُ سَهْمِيلِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ

لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ ابو جندل بن سہیل بن عمرو کا بیٹا بیٹوں میں آہستہ آہستہ چھپتے ہوئے آیا

قَيْوُودَ وَوَقَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ حَتَّى رَمَى بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ

اور وہ مکہ کی نکل جانے سے نکل کر آیا تھا یہاں تک کہ اپنے آپ کو اس نے سماؤں کے درمیان ڈال دیا

فَقَالَ سَهْمِيلُ هَذَا يَا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مَا أَقَابَ ضَيْكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدُّهُ إِلَيَّ فَقَالَ

تو سہیل نے کہا محمد یہ وہ پہلی شریطہ ہے جس پر میں آپؐ کو فصد کرتا ہوں اس کے بعد وہاپس کر دو

الَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَا وَسَلَّمَ إِنَّكَ لَمُتَّقِضُ الْكِتَابَ بَعْدُ قَالَ فَوَاللَّهِ إِنْ لَمْ

جی سہیل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے بھی عذر نہ کرنا ہے کہ تم سہیل نے کہا خدا کی قسم (تو میں آپ سے بھی

أَصَابَ لِحْيَكَ عَلَى شَيْءٍ أَبَدًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْرَهُ لِي قَالَ مَا

بھی کسی بات پر صبر نہیں کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسے میری خاطر چھوڑ دو اس کے

أَنْ يَجْزِيَهُ لَكَ قَالَ بَلَى فَاغْلُظْ قَالَ مَا أَنْ يَفْعَلَ قَالَ مَكَرُزِيلٌ قَدْ أَجْرَنَاهُ لَكَ

کہا میں آپ کی خاطر بھی اتنے نہیں چھوڑوں گا آپ نے فرمایا ہاں اب کر دو اس نے کہا میں نہیں کر سکتا مگر نے کہا میرا اسے آپ کا خاطر چھوڑنا

قَالَ أَبُو جَنْدَلٍ أَيْ مَعْتَرِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ رُدِّي إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جِئْتُ مُسْلِمًا

ہوں ابو جندل کہتے تھے اے مسلمانوں کی خدمت میں مسلمان ہو کر آیا ہوں اور مشرکوں کی خدمت میں لوٹنا یا جا رہا ہوں

الْأَشْرُونَ مَا قَدْ لَقِيتُ وَكَانَ قَدْ عَذِبَ عَذَابًا شَدِيدًا إِنْ لَمْ يَأْتِ

کہا تم میں سے کبھی نہ کہ کیا معیت جمیل ہے اور اسے خدا کی راہ میں - سخت دکھ دیا گیا تھا کہا

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَلَسْتُ بِنَبِيِّ

تو عمر بن خطاب نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کیا آپ اللہ کے سچے

اللَّهُ حَقًّا قَالَ بَلَى قُلْتُ أَلَسْتُ عَلَى الْحَقِّ وَعَدُّوْنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلَى

نبی نہیں فرمایا ضرور ہوں میں نے عرض کیا کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں فرمایا ضرور ہیں

قُلْتُ فَلِمَ نَعْطِيكَ الدِّيْنَةَ فِي دِينِنَا إِذْ أُنْزِلَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ وَلَسْتُ أَعْبُدُ

میں نے عرض کیا تو پھر کیوں ہم اپنے دین کے متعلق ذات کی شریعت قبول کر کے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اس کی نافرمانی نہیں

وَهُوَ كَأَصْرِي قُلْتُ أَوْلَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّ سَنَانَ الْبَيْتِ تَنْطَوُّ بِهٖ

کہنا وہ میری مدد کرے گا میں نے عرض کیا کیا آپ نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ کا کوس کا لوات کر لیں گے

قَالَ بَلَى فَاخْبَرْتُكَ أَنَّ نَابِيَهُ الْعَامَ قَالَ قُلْتُ لَأَقَالَ فَلَمْ تَكُ آتِيَهُ وَمَطْوُوتٌ

فرمایا کیا تم نے کہا کہ وہ میری مدد کرے گا میں نے عرض کیا میں نے کہا میں فرمایا تو تم فرمادے کہ بیت اللہ سے کوس کا لوات

بِهٖ قَالَ فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَيْسَ هَذَا نَبِيُّ اللَّهِ حَقًّا قَالَ بَلَى

اس کا لوات کر لیں گے کہ تو میں ابو بکر کے پاس آیا اور کہا اے ابو بکر کیا یہ خدا کے سچے نبی نہیں کہا ضرور ہیں

قُلْتُ أَلَسْتُ عَلَى الْحَقِّ وَعَدُّوْنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلَى قُلْتُ فَلِمَ نَعْطِي

میں نے کہا کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں کہا ضرور ہیں میں نے کہا تو پھر کیوں ہم اپنے دین

الَّذِي نَبِيٌّ فِي دِينِنَا إِذْ أُنْزِلَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کے متعلق ذات کی شریعت قبول کر لیں (ابو بکر نے) کہا مجھے آدمی وہ خدا کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم

علا یہ عہد نامہ کی سب سے کڑی شرط تھی جو مسلمانوں کو سخت ناگوار گذری مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منظور فرمایا حال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلیم کیا اور وقت نہیں گھنٹیں اور نبی اجتہاد کر کے اس کے مطابق کام شروع کر دیتے اور وہ جن کو صحیح نہیں ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ اسی سال بیت اللہ پہنچ جائیں گے مگر وہ نہ ہوا

وَلَيْسَ بِعَيْسَى رَبِّهٖ وَهٖرًا نَّاصِرًا ۚ فَاسْتَسْكَبَتْ لِعُرْوَةٍ ثُمَّ رَأَتْهُ عَلَىٰ أَخِي قُلْتُ

أَلَيْسَ كَانَ يُحِبُّنَا أَنَا سَائِرِي لَبِيَّتٍ وَنُصُوتُ بِهِ قَالَ بَلَىٰ أَمَا أَخْبَرُكَ أَنَّكَ

ثَابِتِيهِ الْعَامَ قُلْتُ لَا قَالَ فَذَلِكَ أَيْتِيهِ وَمُطَوِّفٌ بِهِ قَالَ الرَّهْرِيُّ قَالَ

عَمْرُو فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أَعْمَالًا قَالَ فَلَمَّا فَرَعْنَا مِنْ قِصَّةِ الْكِتَابِ قَالَ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَحَابَةَ لَهُ قَوْمُوا فَأَخْرَجُوا أُمَّهُمُوهَا

قَالَ اللَّهُ مَا قَاهُ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّىٰ قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ

أَحَدًا دَخَلَ عَلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَتْ أَمْ سَلَمَةُ يَا

نَبِيَّ اللَّهِ أَتَيْتَ ذَلِكَ أَخْرَجْتَهُمْ لَا تَكُونُوا أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّىٰ تَخْرُجَ بِذَلِكَ

وَتَدْعُوا حَالِقَكَ فَيُحَلِّقَكَ فَخَرَجَ فَلَمْ يَكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّىٰ فَعَلَ ذَلِكَ خَرَجَ بِذَلِكَ

وَدَعَا حَالِقَهُ فَيُحَلِّقُهُ فَلَمَّا رَأَىٰ أَوَّادًا وَأَجْعَلَ بَعْضُهُمْ لِحْيَةً بَعْضًا

حَتَّىٰ كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا عَمَّا كَادَ يَسُوؤُهُ مُؤْمِنَاتٍ فَاَنْزَلَ اللَّهُ

تَعَالَىٰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مِنْهَا جَرَّاتٌ فَاصْبِرْنَ

حَتَّىٰ يَكُفَّ بِعَصْمِ الْكُوفِيِّ فَطَلَّقَ عَمْرُو مَرْثِيًّا أَمْرًا تَبِيًّا كَانَتْ لَهُ فِي الشَّرِكِ فَازْدَجَّ

بَعْضُ الْكُوفِيِّمْ وَبَعْضُ الْأَسْلَمِيِّ قَوْلُ عَمْرُو عَمْرُو كَوْفَرِيٍّ كَانَتْ لَهُ فِي الشَّرِكِ فَازْدَجَّ

أَحَدُهُمَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَفْيَانَ وَالْآخَرَىٰ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ ثُمَّ رَجَعَ

صَفْوَانُ بْنُ أَبِي سَفْيَانَ نَفَّاحٌ كَثِيرٌ

اور دوسری سے صفوان بن امیہ سے

پہری

عمر بن الخطاب سے کہا کہ یہ لوگوں کی بات ہے کہ تم نے ان سے کہا کہ ان سے کہو کہ وہ تم سے کہے گئے تھے یہ سب عمل کے لئے یہ اس حصہ میں ہے اور اس میں دو باتیں ہیں اور اس میں اس کی تعلیم ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی قرابتوں کو ترک کر دیں تو انہوں نے ایسا نہیں کیا یہاں تک کہ جب آپ خود اپنی قرابتوں کو ترک کرنے سے اجازت نہ پائی تو پھر انہوں نے ایک شخص کو بھی انظار نہیں کیا بلکہ استفادہ جلدی کی اور اس قدر جوہر ہوا کہ اس جوہر میں جس کی جان جالتے رہتے کا نفع ہو گیا وہم سے مراد ہاں از وہاں ہے اس کی وجہ سے اس کے کچھ معلوم نہیں ہوئی کہ جب تک آپ نے خود قرابتوں میں ان کو یہ خیال تھا کہ شاید کوئی ایسا امر پیدا ہو جائے کہ وہ بت لائیں وہاں سے یا یہ کہ شاید کوئی ایسا امر معلوم پاس جائے

کوئی وحی نازل ہو کہیں نبی اپنے خود قرابتوں کی تو یہ حالت انظار کوئی باقی نہ رہی اور بعض نے یہ تو جیہ کی ہے کہ بیت اللہ کا طواف نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو مشاغل صبح کی سختی سے انہیں اس قدر ہوا کہ ان کے چہرے جاتے تھے۔ مگر صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس انظار میں تھے کہ آپ ابتدا کریں کیونکہ پھر ایسا معاملہ پیش نہ آیا تھا۔ وہ لوگوں کی بات غور طلب یہ ہے کہ آپ حضرت ام سلمہ بنی ہاشمی سے شہرہ لیتے ہیں اور اس شہرہ پر عمل فرماتے ہیں حالانکہ یہ معاملہ صحابہ کرام میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے دل میں اپنی بیویوں کا احترام اس قدر تھا کہ کلمہ قریش کی غرض صرف اس قدر تھی کہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حضرت سلیم کے ساتھ کی رہا ہے تو اس وقت کا موجب نہ ہوتے تھے جس سے انہوں نے اس شہرہ بنی ہاشمی میں انہیں لگام نہ لگایا تھا۔ یہی وہی ہے جو کہ وہ صرف اسلام کی خاطر ہی نہیں بلکہ اپنی بیوی کی خاطر بھی لگایا تھا۔ اس آیت میں یہ بھی حکم تھا کہ مسلمان مشرک عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھیں اس لئے حضرت عمر نے نہ صرف مشرک بیویوں کو طلاق دے دی وہ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ
 وَهُوَ مُسْلِمٌ فَأَسْأَلُوهُ أَنِي ضَلِبَهُ رَجُلَيْنِ فَقَالُوا الْعَهْدُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا ذِي قَعْدِ
 فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ كَانِ رَدُّنَا وَرَدُّنَا فِي الْوَأَدِ وَالْأَرْضِ وَالْمَالِ وَالنِّسَابِ وَالْأَهْلِ وَالْأَنْفُسِ وَالْأَمْوَالِ وَالْأَعْرَابِ وَالْحَضَرِ وَالْحَضَرِ وَالْحَضَرِ وَالْحَضَرِ
 فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لَأَحَدٍ لِرَجُلَيْنِ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَى سَيْفَكَ هَذَا يَا فُلَانُ جَمِداً
 فَاسْتَلَهُ الْآخَرُ فَقَالَ لَجَلَّ اللَّهُ إِنَّهُ جَمِداً لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ ثُمَّ جَرَّبْتُ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ أَرِنِي
 أَنْظُرَ إِلَيْهِ فَأَمَلَنَهُ مِنْهُ فَضَرِبَهُ حَتَّى يَرُدَّ وَتَرَ الْآخَرَ حَتَّى آتَى الْمَدِينَةَ
 فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ
 رَأَاهُ لَقَدْ رَأَى هَذَا ذِعْرًا فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 قَتَلَ وَاللَّهِ صَاحِبِي وَإِنِّي لَمَقْتُولٌ فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ
 وَاللَّهِ أَدْنَى اللَّهِ ذِمَّتِكَ قَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِمْ ثُمَّ انْجَبَانِي اللَّهُ مِنْهُمْ قَالَ النَّبِيُّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلَ أُمَّهِ مَسْعَرُ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ
 عَرَفَ أَنَّهُ سَلْدَةٌ فَالِيَهُمْ فَخَرَجَ حَتَّى آتَى سَيْفَ الْعَجْرِ قَالَ وَيَنْقَلِبُ مِنْهُمْ أَبُو
 جَنْدَلُ ابْنُ سَهْلٍ فَلَمَّا بَأَى بَصِيرٌ فَعَجَلَ لَا يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْشٍ حَتَّى جَلَّ قَدْ أَسْلَمَ إِلَّا
 حَتَّى بَأَى بَصِيرٌ حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عَصَابَةٌ فَوَاللَّهِ مَا لِيَسْمَعُونَ بِبَعْدِ خُرُوجِ قُرَيْشٍ
 أَبُو بَصِيرٍ جَاءَهُ مَا نَكَّ كَرَانُ كَأَيْكُ جَمْعًا لِيَا

علا ابو بصیر نے حضرت
 ابن امیرین سے کہا
 فقہی میں قریش میں
 سے نہیں تھیں جو کہ
 وہ بخود ہر کے حلیف
 تھے اور بخود ہر قریش
 میں سے میں اس لئے
 اسے حلیف کی وجہ
 سے رجل من قریش
 کہا
 خطبہ و واقعہ حضرت
 اس بات کو ثابت
 کرتے ہیں کہ آنحضرت
 صلعم عہد کے سقہ
 پابند تھے کہ آپ نے
 ایسا مسلمان کو پناہ
 دینے سے انکار نہ
 کیا اور جب وہ خود
 چھوٹ آیا تو پھر وہاں
 بھی اسے پناہ دینے
 سے انکار کیا بلکہ یہ
 بھی کہ آپ کو جنگ سے
 اس قدر نفرت تھی
 درود اگر اب اس
 عہد کی پروا نہ کرتے
 تو زیادہ سے زیادہ
 یہی تھا کہ قریش پر
 حذر پر پڑھا کرتے
 اور وہ بینہ و فخر و تکبر
 سے خطرناک تھے
 کر کے ناکام ہو چکے
 تھے مگر آپ کو جنگ
 سے ملنا نہ نفرت تھی
 اور آپ نے پسند
 کیا کہ ایک سخت شرمناک عہد درزی کر کے قریش کو پر جنگ کرنے کا بنا دیا۔ غلط اس سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کو اسلام پر سزا و مصلحت قرار دیا گیا تھا کہ آنحضرت
 صلعم نے اسلام انہیں پناہ دینے سے انکار کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ ہمیں ایسے رسول سے کیا واسطہ جو ہمیں دشمن سے بھی نہیں بچا سکتا۔ بلکہ ہر قسم کا وہ
 دشمنی کے لئے تیار ہیں اور ایک ایسی جگہ چاہنا لیتے ہیں جو قریش کے قبضے میں ہے۔ مسلمانوں کے تعجب ان لوگوں پر ہے جنہوں نے یہ کہا کہ نبی کے
 اسلام تو اسے پسند کیا۔ حالانکہ واقعات یہ ہیں کہ اسلام ہر جگہ وجود تو اس کے پیلا اور حالانکہ خود کہیں حکومت اسلام کے سخت ترین دشمنوں کی تھی مگر اسلام کا انہوں میں
 قدر و بردست تھا کہ انہی اندر لوگ مسلمان ہوتے چلے جاتے تھے اور پھر یہ لوگ اسلام پر ایسے مضبوط بھی تھے کہ مسلمانوں سے کوئی پناہ نہ دینے کے باوجود بھی
 اسلام پر قائم رہ کر جہاں پناہ ملی وہاں چلے گئے۔

ابو بصیر نے کہا
 خدا کی قسم مجھے آپ کی یہ عہد معلوم ہوتی ہے
 تو اس نے تلوار
 کو گھٹا سے نکالا اور کہا جنگ خدا کی قسم یہ عہد سے میں اسے آزا چکا ہوں پھر آزا چکا ہوں ابو بصیر نے کہا مجھے بھی دیکھنے دو
 اس نے اسے دیکھی تو ابو بصیر نے اسے آرا چکا ہوں پھر آزا چکا ہوں اور دوسرا اٹھا کہا میں نے دیکھا کہ اس نے پہنچ گیا
 اور مسجد میں نہیں ہو کر روٹنے کا
 رسول اللہ صلعم نے
 جب اسے
 دیکھا تو فرمایا اس نے کوئی خوف کی بات نہیں ہے تب وہ ہی
 صلعم نے اسے دیکھا تو اس نے کہا
 اور میں بھی دیکھا کہ مقتول ہی ہوں اتنے میں ابو بصیر گیا اور عرض کیا یا نبی اللہ
 اپنی ماں کی بیٹی یہ تو اٹا ہی بولا کہ کیا کرتے ہو اگر کوئی اسکی مدد کرے تو اٹا بولا جب اس نے یہ سنا تو مجھ
 ابھی کہ آپ اسے پھر ان کی طرف واپس کروں گے سو وہ (دیکھنے سے) نکلا یہاں تک کہ مسند کے کنارے پہنچا اور قریش سے
 اور ابو بصیر سے جا ملا
 اور ابو بصیر سے جا ملا
 اور ابو بصیر سے جا ملا
 اور ابو بصیر سے جا ملا

إِلَى الشَّامِ لَا أَعْتَرِضُوا لَهَا فَتَوَهُمُوا وَآخِذُوا أَمْوَالَهُمْ فَأَرْسَلْتُ قُرَيْشَ

تو وہ اس کو روک دیتے اور ان کو قتل کرتے اور ان کے مال لے لیتے ہیں قریش نے

إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَاسُكًا يَا اللَّهُ وَالرَّحْمَ لَمَّا أُرْسِلَ فَمَنْ أَنَاكَ فَهَوُوا

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا اشرار اور کفار کا واسطہ دیکر کہ اگر اللہ بھیجے گا میں اور آئینہ جو آج کے پاس

إِزْنٍ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ الَّذِي

آئے تو ان کے لئے اس سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور اشرار وہ ذات ہے

لَقَدْ آيَدِي ۖ عَنْكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بَطْنُ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ حَقِ

جس نے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے وا دی کہ میں روک دیتے ہوں اس کے کہ تمہیں ان پر فتح دی

بَلَّغَ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْحَاهِلِيَّةِ وَكَانَتْ حَمِيَّتِهِمْ أَتَهُمْ لَمْ يُقِرُّوا أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ وَلَمْ

الحمية حمية الجاهلية من الفطرية ۲۰۲-۲۰۱ اور ان کی جمہور غیرت پر عملی کر انہوں نے کہا کہ آپ کو نبی اللہ نہیں سمجھتے اور نہ

يُقِرُّوا بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَحَالُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمَيْمَةِ قَالَ عَقِيلُ بْنُ الزُّهْرِيِّ

بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کہنا تھا اور آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان روک دیتے اور عقیل نے زہری سے روایت

قَالَ عَمْرُوَةُ فَاخْبَرَتْ نِسَاءَ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْنَعُهُنَّ

کی کہ عروہ نے کہا کہ مجھے حضرت عائشہ نے فہری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کا متان لہا کرتے تھے

وَيُلَخِّنَا أَنَّهُ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَرُدُّوا إِلَى الْمُشْرِكِينَ مَا أَنْفَقُوا عَلَىٰ مَنْ

اور ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہارا کہ مسلمان مشرکوں کو وہ مال واپس کر دیں جو انہوں نے اپنی ان بیویوں پر خرچ

هَاجِرٍ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ وَحَكَمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ لَا يَسْأَلُوا بَعْضُهُمُ الْكَافِرِينَ عَنْ حُرْمَةٍ

کیا ہے جنہوں نے ہجرت کی اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ کافر عورتوں کے عقدہ نکاح کو روک نہ رکھو تو حضرت عمر نے

طَلَّقَ امْرَأَتَيْنِ قَرِيبِيَّةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ وَابْنَةَ جُرْوَلِ الْخَزْرَجِيِّ فَتَزَوَّجَ قَرِيبِيَّةَ

اپنی دو بیویوں کو طلاق دیدی قریب بنت ابی امیہ اور جرول خزاہی کی بیٹی قریبہ سے معاویہ نے نکاح کیا

مَجْرُوبَةً وَتَزَوَّجَ الْأُخْرَى ابْنَ جُرْمٍ فَلَمَّا أَبَى الْكُفَّارُ أَنْ يُقِرُّوا بِإِذَاعِ مَا أَلْفَقُوا

اور دو دوسری سے ابوجرم نے جب کافروں نے اس کے کہنے سے انکار کیا جو مسلمانوں

الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ فَانَكُمُ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى

نے اپنی بیویوں پر خرچ کیا تھا تو اشرار نے کہا اتارا اور اگر تمہاری بیویوں کے گھروں سے کچھ تم سے نکل کر

الْكُفَّارِ فَعَاتِبْتُمْ وَالنَّعْبُ مَا يُؤَدِّي الْمُسْلِمُونَ إِلَى مَنْ هَاجَرَتْ امْرَأَتُهُ

کافروں کی طرف چلا گیا ہے پھر تمہاری باری آئے اور غضب دیا باری سے اور وہ وہاں ہے جو مسلمانوں پر ان کافروں کو ناپا لازم ہوجاں گی

مَنْ الْكُفَّارِ فَا مَرَأَانِ يُعْطَىٰ مِنْ ذَهَبٍ لَهُ زَوْجٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَا أَلْفَقُوا مِنْ صُلْدٍ

عورت نے ہجرت کی تو اس کو جس حکم دیا کہ جس مسلمان کی بیوی چلی گئی ہو اس نے جو خرچ کیا کہ وہ اسے

نِسَاءَ الْكُفَّارِ اللَّاتِي هَاجَرْنَ وَمَا نَعَلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ أَرْتَدَّتْ بَعْدَ

کافروں کی ان عورتوں کے گھر سے دیا جائے جنہوں نے ہجرت کی جو مسلمانوں سے آئی ہے اللہ کا حکم نہیں کہ ہجرت کرنے والی عورتوں میں سے کوئی ایمان

إِيمَانِيهَا وَبَلَّغْنَا أَنَّ أَبَا بَصِيرٍ مِنْ أَسِيدِ الثَّقَفِ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

لانے کے بعد مدینہ پہنچی اور ہمیں خبر پہنچی ہے کہ ابوبصیر نے اپنے ثقفی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان ہوجر کر

وَسَلَّمَ مَوْمًا فَمَا حَجَرْنَا فِي الْمَدِينَةِ فَلَتَبَ الْأَخْنَسُ بْنُ شَرِيحٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

تو مسلمان ہوجر کر کے آیا تو اخنس بن شریح نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا

علا وہ شرط ہے
مسلمانوں سے اس قدر
ذلت کی شرط سمجھا
تھا آخر اسلام کی
اندرونی طاقت نے
اسے مہربان کر دیا
میاں تک کہ قریش کو
خود روخواست کرنے
پڑی کہ اس شخص کو
چھوڑ دیا جائے اور
جو مسلمان ہوجر کرے
میں پناہ لینا چاہے
اسے پناہ دی جائے
میں سے اسے اسلام
کی اندرونی طاقت
کھا ہے اس لئے کہ
یہ گویا جو مسلمان
ہوتے تھے یہ انکی
زبردست ایمانی
طاقت تھی جس نے
ان میں یہ قوت پیدا
کر دی کہ اگر انہیں
کس میں ایذا دی جاتی
ہے اور مدینہ سے پناہ
نہیں ملتی تو وہ اپنے
لئے ایک گاہ بننے
کی جگہ بنا لیں جو
کہ ان کی حکومت کے
تحت ہے نہ مدینہ
کے دیراثر اور لنگھ
جننے کا استفادہ مضبوط
ہو جائے تاکہ قریش اس
کو ایک طاقت سمجھنے
سجھے یہی اسلام کی
اندرونی طاقت کا
کوشش تھا
یہاں تیسرے قرآن استفادہ
انصاف پر عمل تھی کہ
کفار کو ایسی جہن
کافروں میں سے
دوایا جس میں مسلمانوں
کو کھلا ہے ان کا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ أَبَا بَصِيرٍ فَيَذَكُرُ الْحَدِيثَ (۱۶۲) بَابُ الشَّرْطِ فِي الْقَرْضِ (م- ۱۲۶۰)

(اور آپ سے ابوبصیر نے پوچھا کہ میں کیا پڑھتا ہوں؟) باب شرط فی القرض میں مشرعی کا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مستدرک ۸۰۳) (۱۶۱) بَابُ الْمَكَاتِبِ وَالْأَجَلِ مِنَ الشَّرْطِ الَّتِي

دیکھو حدیث ۸۰۳ باب کتابت اور جو شرطیں کرتے ہیں کتابت کے خلاف ہوں

تُخَالَفُ كِتَابَ اللَّهِ وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمَكَاتِبِ شَرُّهُمُ بَيْنَهُمْ وَقَالَ ابْنُ

ابن کثیر نے کہا جابر بن عبد اللہ نے کہا کہ ان کی شرطیں آپس میں معتبر ہوں گی اور ابن عمر

عُمَرُ أَوْ عَمْرُ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مَا نَدَى شَرْطُ قَالَ

یا حضرت عمر نے فرمایا جو شرط کتاب اللہ کے خلاف ہو وہ باطل ہے اگرچہ کوئی سوچے میں لگے اور عدالت

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يُقَالُ عَنْ كَثِيرٍ مَّا عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَرْزُوقٍ (م- ۱۲۶۱) عَنْ عَائِشَةَ (مستدرک)

کہتے ہیں دونوں سے روایت کی جاتی ہے حضرت عمر سے ہیں اور ابن عمر سے ہیں دیکھو حدیث

- (۳۱۹) (۱۶۸) بَابُ مَا يُجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ وَالشُّنْفَانِي الْأَشْرَارُ

۳۱۹ باب جو شرطوں اور شنیفانی کے شرک سے اور مستثنیٰ از شرک سے اور

الشَّرْطِ الَّتِي يَتَعَارَفُهَا النَّاسُ بَيْنَهُمْ وَإِذَا قَالَ وَائْتَهُ إِذَا جَدَّ أَوْ تَبَيَّنَ

وہ شرطیں جو لوگوں میں معلوم ہوتی ہیں اور جب تک ایک سوگند ایک یا دو شرطوں سے یا لفظ سے مراد نہ جائے

وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ جَلَّ تَبَرُّهُ إِذَا دَخَلَ رِجْلُكَ فَانْ لَمْ

اور ابن عون نے ابن سیرین سے روایت کی ہے کہ جب شخص نے اپنے گناہ سے توبہ کی تو اس کے گناہوں سے توبہ کرنے سے پہلے

أَرْحَلَ مَعَكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَانْ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِمْ فَلَمْ يُخْرِجْهُمْ فَقَالَ شَرِيحٌ مَنْ

اگر تم تمہارے ساتھ دن رات سو سو گناہوں کے ساتھ توبہ کر لو تو وہ گناہوں سے توبہ نہ کرنا اور شریح نے کہا جس نے

شَرَّطَ عَلَيَّ نَفْسِي طَائِعًا خَيْرٌ مِمَّا نَفَرْتُ عَلَيْهِ وَقَالَ أَيُّوبُ بْنُ سَبْرَةَ إِنَّ رَجُلًا

اور یہی صحیح ہے بغیر کسی شرط کے تو وہ اس کا جان بچا اور یوب سے ابن سیرین سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے

بَاعَ طَعَامًا وَقَالَ إِنْ لَمْ أَتُكْ الْأَرْبَعَاءَ فَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ بَيْعٌ فَلَمْ يُبْحَثْ فَقَالَ شَرِيحٌ

ان کا بیچا اور فرمایا کہ اگر میں تمہارے پاس چار عیب نہ آؤں تو میرے اور تمہارے درمیان بیچ نہیں ہے نہ آیا تو شریح نے

لِلْمَشْرُومِي أَنْتَ أَخْلَقْتَ فَقَضَى عَلَيْهِ (۱۲۶۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

مشرقی سے کہا تو نے عداوت غلامی کی اور اس کے خلاف فیصلہ دیا اور یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اسْمًا مَائَةً إِلَّا وَاحِدًا أَمْرٌ

وہ روایت ہے کہ خدا کے نام میں سو سے ایک کو

أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ (۱۶۹) بَابُ الشَّرْطِ فِي لَوْقِ (۱۲۶۸) عَنْ ابْنِ مَرْزُوقٍ

خلفہ کے وقت میں جائے گا باب وقف میں شرطیں لگانا ابن عمر سے روایت ہے کہ

عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ صَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ

عمر بن خطاب کو خیر میں زمین کی دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے متعلق اسے مشورہ لینے

فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَا لَأَقْطَأُ نَفْسِي

آئے تو عمر نے کہا یا رسول اللہ خیر میں زمین کی ہے مجھے کوئی ایسا مال نہیں ہے جو میرے نزدیک

عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

اس سے عمر نے پوچھا ہے اس بارے میں کیا مشورہ دیتے ہیں؟ فرمایا اگر چاہو تو زمین کو ٹھونڈ کر دو اور اس کی آمد کو بند کر دو

عقل قریب قریب
۴۱۶
ہیں اندر ذکر صلہ
سال بعض بنی
اسی امیل اور یوسف
الف دنیا اور دنیا
الیہ الی اجل مسی
پس قرض دینے کے
کو عیب و فقر کرنے کا
میں ہے اس لئے آؤ
پر بڑھا ہے یہ وقال
ابن عمر وعطاء
اجلہ فی القرض جائز
مطابق روایت کے
لفظ تقریبی ہوا کہ
ہیں۔ البتہ دیکھو
اؤ کا علی اور فلما
جاء رسول اللہ
الوکیلہ ریان کاص
یہاں نہیں اور وقال
سفیان سے علی بن
ابن ابی یونس
عنا ایسے آئی
کا احصا یا ان کا
معدود کر لینا ہے
کہ ان اسمت الی کو
ابن ابی یونس سے
رکھے جو یا تمنع
باضان لشرکے۔
یہ حدیث کو لایا
غرض ہے کہ اس سے
کی حد تک کہ سوچا
جانتا ہے۔

قَالَ تَصَدَّقْ بِهَا عَمْرَأَةً لَا يَبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي

کتاب الوصایا میں ہے کہ جو عورت کو دیا اس طرح کہ وہ نہ فروخت ہوگی نہ ہب ہوگی نہ ترکہ میں سے گی اسے صدقہ کیا

الْفَقْرَاءِ وَرَفِي الْقُرْبَىٰ وَرَفِي الرِّقَابِ وَرَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَرَفِي السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ

فقراء پر اور قربت والوں پر اور غلاموں کے آزاد کرنے پر اور مجاہدین اور مسافروں پر اور نیکو خیروں پر اور

لَا جُنَاحَ عَلَىٰ مَنْ ذَلَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَمْتُولٍ قَالَ

جو اس کا متولی ہو جو کوئی حرج نہیں کہ وہ اس سے دستبردار ہو جائے اور کھائے اور کھلائے اور دیکر ہاں مارنے کیے نہیں کہیں گے

مُحَدَّثْتُ بِهِ ابْنُ سَبْرِينَ فَقَالَ غَيْرُ مَمْتُولٍ مَالًا

ابن سبرین سے یہ حدیث بیان کی گئی تھی کہ اسے دولت جمع نہ کرے

۵- كِتَابُ الْوَصَايَا

وصیوں کی کتاب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(۱) بَابُ الْوَصَايَا وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوبَةٌ

وصیوں کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آدمی کی وصیت اس کے پاس لکھی رہتی

عِنْدَهُ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى كَتَبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ شَرَكْتَ

ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ جب تم میں سے کسی کے لئے موت آجود ہو

خَاتَمًا إِلَىٰ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ مَنْ بَكَرًا

عقد کی کتاب وصیت کرنا ضروری ہے یا اگر وہ بہت سالوں میں لکھے اور فریبوں کے لئے چھوڑے یہ متقیوں پر لازم ہے ہر جو کوئی

بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا أَشْنَاءُ عَلَى الَّذِينَ يَبْدُلُونَهَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

اس کے بعد جو اس سے پہلے اسے بدلے تو اس کو گناہ دانی ہے جو اسے بدل دے جس وقت اللہ نے اسے علم والا ہے مگر جسے

خَافَ مِنْ مَرِيضٍ جَنَفًا أَوْ أَشْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا شَمَّ عَلَيْهِ وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

وصیت کرنا ایسے حالتوں سے طرداری گناہ کا خوف ہو چر وہ ان کے مابین صلح کرانے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے جب اللہ بخشنے والا ہے

رَحِيمٌ جَنَفًا مَيْلًا مُتَمَارِفًا مَا تِلْكَ (۱۲۶۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَدَةَ أَنَّ

ابن ماریہ سے جنف میلان سے متماثل کھینچنے والا ہے

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يُدْخِلُ فِيهِ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے مسلمان نہیں جس کو ناسب نہیں جس کا کوئی نیکو ہو جو اس پر وصیت کرے

بَيْتٌ لِيَلْتَمِسَ الْأَوْلَادَ وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ (۱۲۷۰) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

ضروری ہو کہ وہ وصیتیں گزارے مگر اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہوگی

یہ وہ وقت کی صورت ہے جس میں علاوہ غریب اور مسکین اور دیگر خیراتی کاموں کے قربت والوں کو بھی دیا ہے۔ یہاں سے کہ قربت الوصی اگر مسکین کی وصیت ہو تو فقراء کے نقد میں آجاتے ان کے پیغمبر ہر کسی ضرورت نہ تھی جیسا ہی مجاہدین۔ مسافر اور عیال میں ضروری نہیں کہ محتاج ہوں کھانا دینا وصیت کر کے کوئی کہتے ہیں اور اس مال کا کام کو بھی جس کی وصیت کی جائے اور عرفاً ایک خاص افراد کو کہتے ہیں جس کی وصیت بعد موت ہو آیت کریمہ میں وصیت کا ذکر ہے وہ وصیت ہے جو وارثوں کے لئے نہ ہو بلکہ اور خیراتی کاموں کے لئے ہو اور اللہ تعالیٰ کا تعین عرف سے ہے الوصیہ سے نہیں اور خیریت ملا ہے مال کی خیریت جب والہین اور قربتوں کے لئے مال کی خیریت تو

ضروری ہے کہ اور قوی مذہبی کاموں میں سے ہی ایک حصہ کی وصیت کرے اور یہ ایک مال تک ہو سکتی ہے۔ اسی آیت کے تحت صحابہ خیراتی کاموں میں سے مال کی وصیت کی وصیت کرتے تھے اور اس حدیث کے محدث حضرت مرثدہ نام احمد صاحب قادیان سے بھی اپنی جماعت کو اس آیت پر نقل کرنے کی طرف توجہ دہائی ہے کہ وہ وصیت تمام کام کے لئے ہے مال کا ایک حصہ وصیت کریں۔ اور اگر کسی حدیث میں اسی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ آیت میں وصیت کیے کتب کا نسخہ آیا ہے جو عمر فاروق نے لکھوایا ہے اور اگر کسی حدیث میں اسے حق لازم قرار دیا ہے اس لئے صحیح ہے کہ کسی استصحاب پر وصیت واجب ہے۔ اس سے وصیت کی اہمیت باقی رہی ہے

خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجِي جُورِيَّةٌ بِنْتُ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں چھوڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے لئے مال ہی کوئی نہیں یا اور نہ کوئی مال

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ وَرَهْمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا عِبْدًا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت نہ کوئی سونے چھوڑا نہ اختری نہ غلام

وَلَا أُمَّةً وَلَا شَيْئًا إِلَّا بَعْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسَلَاحًا وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً

نہ کوئی اور نہ کوئی چیز صرف اپنا سفید چھوڑا اور ہتھیار اور زمین جسے وقف کیا گیا

۱۲۴۱) عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مَعْرُوفٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُوَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

عمر بن معروف سے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن ابی اویس سے پوچھا کہ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَى فَقَالَ لَا فَقُلْتُ كَيْفَ تَبَّ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ

صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ میں نے پوچھا تو گویا یہ وصیت کرنا کیوں ضروری ہوا

أَوْ أَمْرًا بِالْوَصِيَّةِ قَالَ أَدْرَى بِكِتَابِ اللَّهِ (۱۲۴۲) عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ ذَكَرُوا

باکیوں انہیں وصیت کرنا حکم پر کیا گیا انہیں وصیت کرنے کی کتاب اللہ کی ہے اور روایت ہے کہ حضرت عائشہ کے سامنے

عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ وَصِيًّا فَقَالَتْ مَتَى أَدْرَى إِلَيْهِ وَقَدْ كُنْتُ

ذکر ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا آپ ان کو بھی بنایا میں نے تو آپ کو اپنے

مُسْتَبَدَّةً إِلَى صَدْرِي أَدْرَى أَذْكَرْتِ جُرْمِي فِدَا عَابِئًا لَطَسْتُ فَلَقَدْ اخْتَنَتْ فِي

سے سارا دیا ہوا تھا یا کہ اپنی گود میں آپ نے لٹکتا دیکھا اور میری گود میں رحلت فرماتے

جُرْمِي فَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ فَهَمَّتِي أَدْرَى إِلَيْهِ (۲) بَابٌ أَنْ يَتْرُكَ

میں نہ سمجھی کہ آپ رحلت فرم گئے ہیں تو حضرت علی کو اب بھی بنایا گیا باب وارثوں کو جو محال ہو گیا

وَرَثَتُهُ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَكْفَرُوا النَّاسَ (۳) عَنِ سَعْدِ بْنِ بَدْرٍ وَقَاصِرِ

اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اتنے پھیل جائیں

(متکرر-۶۹۵) (۳) بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثَّلْثِ قَالَ الْحَسَنُ لَا يَجُوزُ لِلذَّاهِقِ وَصِيَّةً تَرَكَهَا

دیکھو حدیث ۶۹۵ باب ایک تہائی کی وصیت کرنا اور جس کو جسے میں ذمی کے لئے بھی جائز نہیں کہ ایک تہائی

الثَّلْثِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ رَبَّنَا أَنْزَلَ اللَّهُ (۴) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکرر-۶۹۵)

سے زیادہ وصیت کرے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر ان کے سامنے اس کے مطابق فیصلہ کر دو جو اللہ نے اتارا ہے (۴) ابن عباس (متکرر حدیث ۶۹۵)

بقیہ ص ۱۱
معلوم ہوتی ہے۔
اور لہذا ہے کہ اگر
سرت وراثت کیلئے
وصیت ہو تو اسے
اس قدر اہمیت نہ
دی جاتی کہ گورنر
کے حکم سے توڑا جائے
کویم میں مذکور ہیں

صلی اللہ علیہ وسلم نے
وصیت کی تھی
کہ میں نے پوچھا تو گویا یہ
وصیت کرنا کیوں ضروری ہوا
یا کہ اپنی گود میں
آپ نے لٹکتا دیکھا
اور میری گود میں
رحلت فرماتے
میں نہ سمجھی
کہ آپ رحلت فرم گئے ہیں
تو حضرت علی کو اب بھی
بنایا گیا
باب وارثوں کو جو محال
ہو گیا
صلی اللہ علیہ وسلم نے
وصیت کی تھی
کہ میں نے پوچھا تو گویا یہ
وصیت کرنا کیوں ضروری ہوا
یا کہ اپنی گود میں
آپ نے لٹکتا دیکھا
اور میری گود میں
رحلت فرماتے
میں نہ سمجھی
کہ آپ رحلت فرم گئے ہیں
تو حضرت علی کو اب بھی
بنایا گیا
باب وارثوں کو جو محال
ہو گیا

کما آنحضرت صوم سے وصیت نہیں کی۔ وصیت کا حکم انہی کو ہے جو اپنے چچے خیر یا مال کثیر چھوڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے لئے مال ہی کوئی نہیں یا اور نہ کوئی مال چھوڑا تو وصیت کس چیز کی کرے، اسے بیماری کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں تھے اور وہیں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ بیماری میں ہی وفات تک میں آپ سے الگ نہیں ہوئی۔ اگر حضرت علی کو وصی نہ ہوتے تو مجھے تو اس کا علم ہوتا۔ ہاں کچھ اختلاف لفظی سے ہے کہ گورنر کی ہے اور فریضہ میں نہیں۔ اتفاقاً یہ۔ قال جاء انبيى صلى الله عليه وسلم ليعودنى وانا بمكة وهو يكره ان يموت بالارض التي هاجر منها قال يرحم الله ابن عوف بن قنفذ قلت يا رسول الله اوصى بسالى فله قال لا قلت فالثلث قال لا قلت فالثلث والثلث كثير انك ان تخرج وراثتك اغنياء خيرا من ان ترحمهم حاله يتكفرون الناس في ايدهم وانك ههنا انفق من نفقة فانها صدقة حتى النفقة التي ترفعها في امرائك وحسبي الله ان يردك في نفعك ناس ويصيرك اخرون ولم يكن لئومئذ الا بئ اس سے صحت معلوم ہوتا ہے کہ یہ وصیت خیراتی کاموں کے لئے تھی دیکھو حدیث ۶۹۵ پر نوٹ ہے کہ روایت مختصر ہے لفظ یہ ہیں عن ابن عباس قال لو غنص الناس الى الربيع لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير اذ يكره من ان يردك ناسي ثم جعلها في وصية كرسن اجمعوا بر اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہائی کی وصیت کرنا اور تہائی ہی بہت ہے یا پڑا عصر ہے

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أُوْدَيْنِ وَيَذْكُرُ أَنَّ شَرَّ نَجَادٍ عَمْرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

اگر وہ کسی شخص اور وصیت کی اور اسی کے بعد میں جو وہ کہے یا قرضہ کی اور اسی کے بعد اور بیان کیا جاتا ہے کہ شریح اور عمر بن عبد العزیز اور

طَاوَسًا وَعَطَاءَ ذَابْنَ اَذْيَنَةَ اَجَاوُزًا وَالْمُرِيضُ بِدَيْرِنٍ وَقَالَ الْحَسَنُ

طَاوَس اور عطاء اور ابن اذینہ نے مریش کا اقرار قرضہ درست سمجھا ہے اور حسن کہتے ہیں

اَحْسَنُ مَا يَصْدُقُ بِهِ الرَّجُلُ اَخْرَجُوهُ مِنْ الدُّنْيَا وَاوَّلُ يَوْمٍ مِنْ الْاٰخِرَةِ وَاوْدِي

وہ وقت جس میں کوئی انسان سمجھا جائے گا زیادہ حق دار سے اور اسے اور ایا کا آخری دن اور آخرت کا بلادن ہے اور

وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ وَالْحَكْمُ اِذَا اَبْرَأَ الْوَارِثُ مِنَ الدَّيْنِ بَرِيٌّ وَاَوْصِي رَافِعُ ابْنَ

ابراہیم اور حکم کہتے ہیں اگر مریش وارث کا اپنے قرضہ سے بری ہونے کا اقرار کرے تو وہ بری ہو جائیگا اور رافع بن شداد نے

خَدِيْجًا اَنْ لَا تَأْتِشَفِ امْرَاَتَهُ الْفَزَارِيَّةَ عَمَّا غَلَقَ عَلَيْهِ بِابْنِهَا وَقَالَ الْحَسَنُ

وصیت کی کہ اس کا فریاد نہ لے لی کے دروازہ میں جو مال بند ہے اسے نہ کھولا جائے اور حسن کہتے ہیں

اِذَا قَالَ لِمَمْلُوْكِكَ عِنْدَ الْمَوْتِ نَنْتَ اَعْتَقْتُكَ جَاوُزًا وَقَالَ الشَّعْبِيُّ اِذَا قَالَتِ

جب اپنے مملوک سے موت کے وقت کہا میں نے تجھے آزاد کیا تھا تو درست ہے اور وحشی کہتے ہیں کہ جب عورت اپنی

الْمَرْاَةَ عِنْدَ مَوْتِهَا اَنْ ذُرْجِي تَضَامِنِي وَتَقْبِضْ مِنْهُ جَاوُزًا وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ

موت کے وقت کہتے کہ میرے خاندان سے ریزا لے کر مجھے اور اگر دیا اور مجھے اس کے لئے یا تھو تو درست ہے اور میں لوگ کہتے ہیں

لَا يَجُوزُ اَقْرَابُكَ لِسُوْرٍ وَالظَّنُّ بِهِ لِلْوَدَّيَّةِ ثُمَّ اسْتَحْسَنُ فَقَالَ يَجُوزُ اَقْرَابُكَ بِالْوَدَّيَّةِ

کہ مریش کا اقرار صحیح نہیں اس لئے کہ وہ وارثوں کے حق میں اس پر دگانی ہوگی ہمیں لوگ سے اچھا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مریش کا اقرار

دَالِبِضَاعَةٍ وَالْمَضَارِبَةُ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّا كَلِمَةُ وَالظَّنُّ فَرَانٌ

امانت بضاعہ اور مضاربہ کے بارے میں درست ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

الظَّنُّ اَذْبُ الْحَيْثُ وَلَا يَحِلُّ مَالُ الْمُسْلِمِيْنَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

دگانی سب سے بڑھ کر مہول ہوتی ہے اور مسلمانوں کا نہ ہونی مال لینا حلال نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

اَيُّهُ الْمَنَافِقُ اِذَا اُوْدِيَ مِنْ خَانَ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى اِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَوَدُّوا

منافق کی عداوت یہ ہے کہ جب سے ابن یا باجائے تو خائف کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کو مہر دے کہ انہیں حق داروں کو پہچانے اور

اَلَا مَانَاتٌ اِلَى اَهْلِهَا فَلَمْ يُخَيَّرْ وَاِرْتَاوُلَا غَيْرُهُ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَمْرٍو

اور امانت اور غیر وارث کی کوئی تعصیت نہیں کی اس لئے میں عبد اللہ بن عمرو

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (م- ۱۲۶۷) عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر- ۳۰)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں علی دیکھو حدیث ۳۰ علی

(۹) مَا بَ تَاوَدِيْلُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تَوْصُونَ بِهَا اُوْدَيْنِ وَاوْدِي

باب اللہ تعالیٰ کے قول کی تفسیر میں بعد وصیت تو صون بہا اودین (النساء- ۱۲) وصیت کے بعد جو کہتے ہو یا قرضہ

يَذْكُرُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالَّذِيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَقَوْلُهُ اِنَّ اللهَ

کی اور اسی کے بعد بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قرضہ کی اور اسی کے بعد اور اللہ تعالیٰ کا قول

يَا مَرْكُومٌ اَنْ تُوَقَّدَ اَلَا مَانَاتٌ اِلَى اَهْلِهَا فَاذْ اَلَا مَانََةٌ اَحْسَنُ مِنْ كَطْوَعِ الْوَصِيَّةِ

ان اللہ اللہ اللہ حکم دیتے ہے کہ انہیں ان کے حق دلوں کو اور درود (النساء- ۱۵) اور امانت کا اور اگر ناسف دل وصیت پر مقدم ہے

علی اس ماری بحث کا فائدہ یہ ہے کہ جس طرح کوئی مریش اپنے وارث کے متعلق جس پر اس کا قرضہ ہو کر کہتا ہے کہ میرے قرضہ سے بری ہے یا کوئی مالک اپنے غلام کو ماری کی حالت میں کہتا ہے کہ میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں جس طرح عورت بیماری کی حالت میں کہتی ہے کہ میرے خاندان سے ریزا لے کر مجھے اور اس طرح اگر کوئی مریش حالت مرض میں کہے کہ نہ زیادہ کہہ بہ قرضہ تو یہی درست ہے بشرطیکہ زید اس کا وارث ہو یا زید جو جنتی اور مالک کے نزدیک مریش کا اقرار قرضہ کی وارث کیلئے صحیح درست نہیں اور ذیل یہ ہے جسے میں اس سے روایت لیا کہ کو نقصان پہنچتا ہے کہیں وارثوں کا حق لیا اور انکی قرضہ کے بعد باقی مال میں ہے البتہ اگر کچھ خزانہ اور جوہر اس کے ہوں کہیں سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ مریش کا اقرار قرضہ وہوں کو نقصان پہنچانے کیلئے جو تو کافی مشاوت کی بنا پر اقرار باطل قرار دیا جائے گا لیکن اگر مریش کے اقرار کو کھڑے پر نہیں قرار دیا جائے اس پر نہیں کہنا درست نہیں علی تکرر روایت کے لفظ امانت کے ہیں

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَصْدَقَ قَرَأَ الْأَعْنُ ظَهْرُ غَنِيٍّ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ صرف وہی ہے جس کے بعد انسان محتاج نہ رہے اور ابن عباس کہتے ہیں

يُوصِي لِعَبْدِ الْأَبَا ذُنْ أَهْلِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ

جو غلام وصیت نہیں کر سکتا مگر مالک کی اجازت سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام اپنے مالک کے مال کا ہی نڈھال ہے

سَيِّدُهُ (۵-۱۲۶۸) عَنْ جَلْدَمِ بْنِ حِزَامٍ (مكرر- ۹۱) (۵-۱۲۶۹) عَنْ أَبِي

دیکھو حدیث ۹۱، ۹۱

هَرِيرَةَ (مكرر- ۵۳۲) (۱۰) بَابُ (۱۰) إِذَا وَقَفَ أَوْ دَخَلَ لَا قَارِبَهُ وَمَنْ الْأَقْرَبُ

بیکھو حدیث ۵۳۲ باب جب اپنے قریبوں کے نام وقف کروے یا وصیت کرنے اور قریبی کون ہیں

وَقَالَ ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بِنِي ظِلْمَةَ أَجْعَلُهَا لِفُقْرَاءِ

اور ثابت انس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بلعہ سے فرمایا اسے اپنے قریبوں میں سے محتاجوں

أَقْرَبِكُ فُجِعَ لَهَا الْحَسَنُ وَأَبِي بِنِ كَعْبٍ وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي

کے نام کر دو تو میرے حسان اور ابی بن کعب کے نام کرنا اور انصاری نے کہا مجھ سے میرے باپ نے

عَنْ ثَمَامَةَ عَنْ أَنَسِ مِثْلَ حَدِيثِ ثَابِتٍ قَالَ أَجْعَلُهَا لِفُقْرَاءِ قَرَابَتِكَ قَالَ

ثمامہ کے واسطے سے انس سے ثابت کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی کہ اسے اپنے قریبی محتاجوں کے نام کر دو

أَنَسٌ فُجِعَ لَهَا الْحَسَنُ وَأَبِي بِنِ كَعْبٍ وَكَانَا أَقْرَبَ إِلَيْهِ مَتَى وَكَانَ قَرَابَتِكَ قَالَ

کہتے ہیں ابو بلعہ نے اسے حسان اور ابی بن کعب کے نام کر دیا اور وہ دونوں میری نسبت ابو بلعہ کے زیادہ قریبی ہشتہ وار تھے بلکہ اور

وَأَبِي مِّنْ أَبِي ظِلْمَةَ وَأَسْمَاءُ زَيْدِ بْنِ سَهْلٍ بِنِ الْأَسْوَدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرِو بْنِ

حسان اور ابی کی قرابت ابو بلعہ سے ہیں یعنی کہ ابو بلعہ کا نام ہے زید بن سہل بن اسود بن حرام بن عمرو بن

زَيْدِ مَنَاةَ بِنِ عَدِيٍّ بِنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ دَحْشَانَ بِنِ ثَابِتِ بْنِ الْمُنْذَرِ

زید مناة بن عدی بن عمرو بن مالک بن النجار اور حسان بن ثابت بن المنذر

ابْنِ حَرَامٍ فِيحْتَمِعَانِ إِلَى حَرَامٍ وَهُوَ الْأَبُ الثَّلَاثُ وَحَرَامُ بْنُ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ

بن حرام دونوں حرام بن حرام ہیں اور وہ میرا چچا ہے اور حرام بیٹا ہے عمرو بن زید مناة

مَنَاةَ بِنِ عَدِيٍّ بِنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ فَهُوَ يَحْتَمِعُ حَسَنًا رَحْوًا بِاطْلَمَةَ

امین عدی بن عمرو بن مالک بن النجار کا وہ حسان اور ابو بلعہ

وَأَبِي إِلَى سِتَّةِ أَبَاءِ إِلَى عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ وَهُوَ أَبِي بِنِ كَعْبِ بْنِ قَيْسِ بْنِ

اور ابی کو چھٹی پشت میں عمرو بن مالک بن کعب بن قیس بن

ابن عمرو بن عدی بن عمرو بن مالک بن النجار کا وہ حسان اور ابو بلعہ

ابن عمرو بن عدی بن عمرو بن مالک بن النجار کا وہ حسان اور ابو بلعہ

ابن عمرو بن عدی بن عمرو بن مالک بن النجار کا وہ حسان اور ابو بلعہ

ابن عمرو بن عدی بن عمرو بن مالک بن النجار کا وہ حسان اور ابو بلعہ

ابن عمرو بن عدی بن عمرو بن مالک بن النجار کا وہ حسان اور ابو بلعہ

کتاب الوصایا ۴۴
۱۔ قرآن کریم میں وصیت کا ذکر ہے ہے اور قرآن کا بعد میں اس نے یہ سوال پیدا کیا ہے کہ مالک کو وصیت کرنے سے پہلے وصیت کا حق ادا کیا جائیگا؟
۲۔ بعد میں قرآن کا یہ سوال آیا ہے کہ مالک کو وصیت کرنے سے پہلے وصیت کا حق ادا کیا جائیگا؟
۳۔ بعد میں قرآن کا یہ سوال آیا ہے کہ مالک کو وصیت کرنے سے پہلے وصیت کا حق ادا کیا جائیگا؟
۴۔ بعد میں قرآن کا یہ سوال آیا ہے کہ مالک کو وصیت کرنے سے پہلے وصیت کا حق ادا کیا جائیگا؟
۵۔ بعد میں قرآن کا یہ سوال آیا ہے کہ مالک کو وصیت کرنے سے پہلے وصیت کا حق ادا کیا جائیگا؟
۶۔ بعد میں قرآن کا یہ سوال آیا ہے کہ مالک کو وصیت کرنے سے پہلے وصیت کا حق ادا کیا جائیگا؟
۷۔ بعد میں قرآن کا یہ سوال آیا ہے کہ مالک کو وصیت کرنے سے پہلے وصیت کا حق ادا کیا جائیگا؟
۸۔ بعد میں قرآن کا یہ سوال آیا ہے کہ مالک کو وصیت کرنے سے پہلے وصیت کا حق ادا کیا جائیگا؟
۹۔ بعد میں قرآن کا یہ سوال آیا ہے کہ مالک کو وصیت کرنے سے پہلے وصیت کا حق ادا کیا جائیگا؟
۱۰۔ بعد میں قرآن کا یہ سوال آیا ہے کہ مالک کو وصیت کرنے سے پہلے وصیت کا حق ادا کیا جائیگا؟

یہاں ابویوسف کا قول ہے۔
 میں اس کا مخالف روایت میں نہیں۔
 قال ابی یوسف سلمہ لابن طلحة اری ان ذالک تجدھا فی اکثرہین قال ابی یوسف اقول ین یارسول اللہ قسمھا ابی یوسف فی القاریہ وہی عجمہ وقال ابن عباس بنمازلت ما نذر عشیرتک الا قریب جعل السنہ صلعم بنادی یا بنی فہذا یا بنی عدوی لم یضرب قریش قال ابو ہریرہ نذر نزلت وانذرت عشیرتک الا قریب قال النبی صلعم یا معشر قریش۔ ابن عباس اور ابو ہریرہ کے اشروح حدیث کے ساتھ بیان ہوئے ہیں ان میں عشیرتک الا قریب میں قریش کے سب قبیلے کو شامل

عَبْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَعُوذَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ فَرَحِمُونَ مَا لَكُمْ يَجْمَعُونَ حَسَنَ عُبَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَعُوذَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ فَرَحِمُونَ مَا لَكُمْ يَجْمَعُونَ حَسَنَ

عبد ابی یوسف اور بعض نے کہا ہے کہ جو یہی قرابت کو وصیت کیے تو سب مسلمان باب وارد کے لئے ہے۔

(م۔ ۱۲۶۰) عَنْ اَبِي سَلَمَةَ (متکرر۔ ۸۳) (۱۱) بَابُ هَلْ يَدْخُلُ النِّسَاءُ وَالْوَالِدُنِي دیکھو حدیث ۸۳، ۱۱ باب کیا عورتیں اور اولاد قریش میں

الْاَقَارِبِ (۱۲۶۴) عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِئْنَا مِنْ شَامِلِ بَنِي سُلَيْمٍ رَوَيْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ

انزل اللہ عزوجل وانذر عشیرتک الا قریب قال یا معشر قریش اذ کلمتہ

تعالیٰ نے یہ آیت اتاری وانذرت اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا اور اشارہ۔ ۲۱۳ اور یا قریش کے لوگو یا کیا کوئی کلمہ

نَحْوَهَا اشْتَرَا وَانْفَسَكُمُ الْاَعْرَبِيَّ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا بَنِي عَبْدِ مَنَاظِ لَا اِبْنِي جَانُونَ كُوْفِرِي لَوْ لِي اَشْرَكْتُمْ مَعَهُ كَمَا نَهَيْتُمْ اَوْلَادِي

سائے تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا اے عباس ابن عبدالمطلب لا اعننی عنک من اللہ

شَيْئًا وَيَا صَفِيَّةَ كَيْفَ تَرَى رَسُولَ اللَّهِ لَا اَعْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَيَا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ اسْلُبِي نَاسِيَتِي مَنْ قَارِي لَا اَعْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا (۱۱۲) بَابُ هَلْ يَنْتَفِعُ

میرے مال میں سے کچھ سے جو جاہو ہانگو میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا میں کیا دقت کریشیلا

الْوَارِثُ يَنْتَفِعُ وَكَذَلِكَ مَنْ جَعَلَ بَدَنَهُ اَوْ شَيْئًا لِلَّهِ فَلَهُ اَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا كَمَا كَسَبِي دَقْتُ كَرِيمًا لَمْ تَوَلَّيْ رَأْسِي حَرَجٌ جَوْرًا بَانِي كَا جَانُورًا اَوْ جِزْرًا اَشْرَكَ لَيْ دَيْسَ تَوَاسَّيْ سَ مِنْ فَاذَهْ اَعْمَانُ وَرَبْتُ جُو

يَنْتَفِعُ عَشِيرَةً وَاِنْ لَمْ يَشْرُطْ (م۔ ۱۲۶۱) عَنْ اَبِي سَلَمَةَ (متکرر۔ ۸۹۲) جرم اور لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اگرچہ شرط نہ بھی لگائی ہو

کیسے گویا ثابت کیا ہے کہ قریش کے نفوس بیت وصعت ہے مگر یہ یاد رکھنا چاہئے کہ قرآن کریم میں افریقہ کو ڈرانے کا ذکر ہے اور انڈیا میں وصعت ہوگی تقسیم مال میں اس قدر وصعت نہیں

ہو سکتی ہے۔ مگر حدیث جو اس باب میں آئے ہیں اس میں افریقہ کے نفوس حضرت فاطمہ کو ذکر میں ہے اس سے ثابت کیا گیا کہ قریش کے قبیلوں میں عورتیں اولاد کی اولاد میں شامل

ہے۔ مگر اس حدیث کا مطلب منافع ہے شرع میں فرمایا کہ اپنی جانوں کو خرید لو یعنی اعمال مال سے نجات حاصل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کو اپنے لئے باعث نجات خیال

ذکر کرو کہ تم رسول کے رشتہ دار ہیں لا اعننی عنک من اللہ شئیئاً سے میری رشتہ داری کی وجہ سے تم کچھ نہیں سکتے جب تک کہ خدا اور اس کے رسول پر ایمان لا کر

اعمال صالحہ نہ کرو۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کے ان الفاظ کو دیکھو جو اعلیٰ درجہ کی صداقت پر مبنی ہیں مسلمانوں کو یوں خطاب کرتے ہیں کہ دیکھو عیسیٰ تو لوگوں کے دلوں کے کام آئی ہے مگر محمد رسول اللہ

فرشتے ہیں کہ کسی کے کام نہ آؤں گا کفارہ کی وجہ سے ان کو خریدو یعنی ان کو کفارہ کا نام لیا جا تا ہے رسول پر جو کہ حضرت عیسیٰ کی کھش رشتہ داری کی وجہ سے لوگ نجات حاصل کر سکتے ہیں کفارہ خود باطل ہے اگر اس میں حضرت عیسیٰ کی رشتہ داری نہیں حضرت عیسیٰ پر ایمان شرط ہے۔ اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جب تک تم ایمان لا کر اعمال صالحہ نہ کرو۔ رشتہ داری کی وجہ سے تم نہیں بچ سکتے، مگر دقت کرنے والا ایک فائدہ بحیثیت متولی اٹھا سکتا ہے کہ نہ دقت کے متولی کے لئے مال دقت سے کھانا جائز ہے یعنی اپنا گزارہ وہ اس سے لے سکتا ہے اور اگر وقت عام ہو جس میں وہ خود بھی شامل ہو تو اس حیثیت سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور حدیث باب میں یہ دو کیسے کہ رشتہ داری کے اونٹ سے سواری کا کام لینے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا ہے۔

(۱۲۷۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرر-۱۸۹۲، ۱۱۳) بَابٌ إِذَا وَقَفَ شَيْئًا فَلَمْ يَدْرِكْهُ

رَأَى غَيْرَهُ فَهُوَ جَائِزٌ كَأَنَّ عَمْرَهُ أَوْ قَفَّ وَقَالَ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مِنْ وَرَائِهِ أَنْ يَأْكُلَ

وَلَمْ يُخْصَ أَنْ تَلِيَهُ عَمْرٌ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ لَيْسَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي صُلْحَةٌ أُرَى أَنْ

تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَالَ أَفَعَلَ فَقَسَمَهَا فِي أَقْرَبِيهِ وَبَنِي عَمْرِهِ (۱۱۳) بَابٌ إِذَا

قَالَ دَارِي صَدَقَ لِلَّهِ وَلَمْ يَبَيْنَ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ فَهُوَ جَائِزٌ وَيَضَعُهَا فِي

الْأَقْرَبِينَ أَوْ حَيْثُ أَرَادَ قَالَ لَيْسَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي صُلْحَةٌ حِينَ قَالَ

أَحَبُّ أَمْوَالِي رَأَى بِرَحَاءً وَرَأَى صَدَقَةً لِلَّهِ فَأَجَازَ لَيْسَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ذَلِكَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يُجِزُ حَتَّى يَبِينَ لِمَنْ وَالْأَوَّلُ أَصْحَابُ (۱۱۴) بَابٌ إِذَا

قَالَ أَرْضَى أَوْ بَسْتَانِي صَدَقَةً عَنْ أَرْضِي فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يَبِينَ لِمَنْ ذَلِكَ

(۱۲۷۵) عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ تَوْفِيتُ أُمَّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

رَأَى أُمَّتِي تَوْفِيتُ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا أَيْنَعَمَّهَا شَيْءٌ إِنْ لَصَدَقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ

نَعَمْ قَالَ فَلْيُ أَشْهَدِكَ أَنْ حَابِطِي أَخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا (۱۱۶) بَابٌ إِذَا

لَصَدَقْتُ أَوْ وَقَفْتُ بَعْضَ مَالِي أَوْ بَعْضَ رَقِيقِهِ أَوْ دَوَّارِيَهُ فَهُوَ جَائِزٌ (۱۱۷) بَابٌ إِذَا

عَنْ لَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَخْلَعُ مِنْ قَالِي صَدَقَةً

رَأَى اللَّهُ وَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ

ذَلِكَ قُلْتُ فَلْيُ أَشْهَدِكَ سَهْمِي لَدَى بُخَيْرِ (۱۱۸) بَابٌ مَنْ لَصَدَقَ رَأَى وَرَأَى

مَنْ لَصَدَقَ رَأَى مِنْ بَنِي هَارُونَ

بَابٌ مَنْ لَصَدَقَ رَأَى مِنْ بَنِي هَارُونَ

۱۲۷۲ - ۱۲۷۵ کے الفاظ... ۱۱۳ - ۱۱۶ کے الفاظ... ۱۱۷ - ۱۱۸ کے الفاظ... ۱۱۹ کے الفاظ... ۱۲۰ کے الفاظ... ۱۲۱ کے الفاظ... ۱۲۲ کے الفاظ... ۱۲۳ کے الفاظ... ۱۲۴ کے الفاظ... ۱۲۵ کے الفاظ... ۱۲۶ کے الفاظ... ۱۲۷ کے الفاظ... ۱۲۸ کے الفاظ... ۱۲۹ کے الفاظ... ۱۳۰ کے الفاظ... ۱۳۱ کے الفاظ... ۱۳۲ کے الفاظ... ۱۳۳ کے الفاظ... ۱۳۴ کے الفاظ... ۱۳۵ کے الفاظ... ۱۳۶ کے الفاظ... ۱۳۷ کے الفاظ... ۱۳۸ کے الفاظ... ۱۳۹ کے الفاظ... ۱۴۰ کے الفاظ... ۱۴۱ کے الفاظ... ۱۴۲ کے الفاظ... ۱۴۳ کے الفاظ... ۱۴۴ کے الفاظ... ۱۴۵ کے الفاظ... ۱۴۶ کے الفاظ... ۱۴۷ کے الفاظ... ۱۴۸ کے الفاظ... ۱۴۹ کے الفاظ... ۱۵۰ کے الفاظ...

ان سے کسی شے کا صلہ نہ دیکھا جائے یا ان تک کران کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص حکم نازل ہو جائے ان کے بعد تو یہ قبول ہو سکتی ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیج دیا ہے اور وہ ان کے صلہ میں صدقہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو آپ نے فرمایا کہ رکھو یہ لوہ

ہے جہاں روایت کی ہے
 پیشی کے ساتھ روایت کی ہے
 کاں سے روایت کیا
 قان سے روایت کیا
 تیناوا البرحتی متفقون
 ہما یجبین جاء ابو
 طلحة انی رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم فقال یا رسول
 اللہ یقول اللہ تبارک
 وتعالی فی کتابہ ان
 تیناوا البرحتی متفقون
 ہما یجبین وان لیس
 اموالی الخ یدخل
 قال وکان حدیثاً
 کان رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم یخلمہا
 ویستظل بہ ویشیر
 من ما تھاہن انی
 اللہ عزوجل وانی
 رسول اللہ صلی
 وسلم ارجوا بہ ورضی
 قضم ہا ای رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم یخیر
 ایا طلحة ذالک وہل
 ویشیر قیلنا کہ منک
 ورواہنا عن عبد اللہ
 فاجتہد فی الاثرین
 فتمصدق بہ ابو

تَمَرَّةُ الْوَكِيلِ إِلَيْهِ (م- ۱۲۷۳) عَنْ أُسِّ (مكرر- ۷۸۳) (۱۸) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ

ابن اسہ دیکھو حدیث ۷۸۳

تَعَالَى وَإِذَا أَحْضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ

واذا حضر الوجہ ترکہ کی تقسیم کے وقت قرابت والے اور یتیم اور مسکین نامہ ہوں تو انہیں اس میں سے کچھ بھرا لیا

(۱۲۷۶) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنْ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَسِخَتْ وَلَا وَاللَّهِ

ابن عباس سے روایت ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے میں اس کی قسم

مَا نَسِخَتْ وَلَكِنَّهَا مِمَّا تَمَّهَا وَنَاسًا هُمَا وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَذَلِكَ الَّذِي يَرْزُقُ

منسوخ نہیں کیوں کہ ان آیات میں سے ہے جو پورے عمل کر لے ہیں لوگ سستی سے کام لیتے ہیں تو یہ دوسرے کے ہونے میں ایک توی

وَالْيَتَامَىٰ فَذَلِكَ الَّذِي يَرْزُقُ الْوَالِدَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ بِمَا كَسَبُوا مِنْهُ وَوَالِدٌ يَرْزُقُ الْوَالِدَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ

وہ ہے جو خود وارث ہو یا مسکوک ہو کہ وہ روٹی یا ساکین غیر کی لئے وہ خود روٹی جو خود وارث نہیں ہے وہ جو کچھ حکم ہے کہ زنی سے روایت ہے

(۱۹) بَابُ مَا نَسِخَتْ مِنْ يَتَوَقَّى نَجَاةً أَنْ يَتَّصِدَّ قَوَاعِدَهُ وَقَضَاءُ النَّذْرِ عَنِ الْمَيْتَةِ

باب جو چاہے کہ جرات سے صدمہ نہ پہنچے اور یتیم کی طرف سے نذر پوری کرنا

(م- ۱۲۷۷) عَنْ عَائِشَةَ (مكرر- ۷۳۵) (۱۲۷۷) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ

ابن عباس سے روایت ہے کہ سعد

بْنِ عُبَادَةَ رَأَى اسْتَقْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ أُرِي مَائِتَ دَ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ ہو چھا اور عرض کیا کہ میری ماں وفات پا گئی اور

عَلَيْهَا نَذْرٌ فَقَالَ أَقْضِهِ عَنْهَا ر ۱۲۷۸ بَابُ الْأَشْهَادِ فِي الْوَقْفِ وَالصَّدَقَاتِ

اس کے ذمہ نذر تھی تو فرمایا اسے اس کی طرف سے اور اگر وہ ملک باب وقف اور صدقہ پر گواہ کرنا

(م- ۱۲۷۹) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مكرر- ۱۲۷۹) (۲۱) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَآتُوا

دیکھو حدیث ۱۲۷۹

الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْأَنْهَادَ بِالظُّلْمِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى

اموال الیتیموں کو ان کا مال دیدو اور رائی اور وی چیز ان کی اور بھی چیز سے نہ لہو اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ کارز

أَمْوَالِكُمْ إِنَّه كَانَ حَوْبًا لِكَيْبَرٍ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَارْكَبُوا

کھائے برا بھلا ہے اور اگر یتیموں کو کچھ بیوں کے بارے میں تم انصاف نہ کر سکو تو ایسی

مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ (م- ۱۲۷۶) عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ (مكرر- ۱۱۹۲)

عروہ سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں (النساء- ۳۲)

دیکھو حدیث ۱۱۹۲

طیحة علی ذوی رحمہم انی وحسان قال ویا عساکر حصنہ من مغویة فقیل لئذ یبع صدقاتہ الی طلحة فقال الا ایہ صافا من تلویحہم ان

دو راہم قال وکان تکلم الحدیث فی موضع قصص جلیلہ انی بناہ مغویة علیہ ایہ میں پشم ہے کہ جب ترکہ کی تقسیم کے وقت قرآن مجید میں آئی تو میں نے کہا کہ وہ لو

میں صلی بات کو بیان کرنے کے لیے کیا کہ آیت منسوخ ہے۔ ابن عباس سے کہ منسوخ نہیں اور وہ حکم دوسرے میں کہے ہیں کہ ویدیکہ حکم اس میں لکھا ہے جو خود وارث ہے

وہ ہے جو خود وارث ہو یا مسکوک ہو کہ وہ روٹی یا ساکین غیر کی لئے وہ خود روٹی جو خود وارث نہیں ہے وہ جو کچھ حکم ہے کہ زنی سے روایت ہے

باب (۲۲) قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَابْتَلُوا النِّسَاءَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ اسْتَمْتَحْتُم مِّنْهُنَّ

باب اشتغال کا ارشاد وابتلوا الخ اور تمہیں کہ امتحان لینے جو یہاں تک کہ جب وہ شادی کی عمر کو پہنچ جائیں تب ان میں

رُسُدًا فَإِذَا دَعُوا إِلَىٰهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْلَهِمُ وَأَوْ

مغز کی پہنچے یا تو ان کے مال ان کے لئے کرو اور غرضی نہیں ہے اور عہدی کر کے ان کو کھانا عاز

مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ

جو امیر ہے چھپے کر وہ زحیم مال سے کچھ نہ لو جو عاجز ہے تو وہ مناسب طور پر حق الخدات لینے

إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَنْشُدُوا عَلَيْهِمْ وَكُفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

مال ان کے لئے کر دو تو ان کے سامنے گواہ کر لو اور ان کے لئے مال ہے اور ان کے لئے مال ہے اور ان کے لئے مال ہے

الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ

کے والدین اور قریبی چھوڑوں اور غریبوں کے لئے اس سے ایک حصہ ہے جو ان کے والدین اور قریبی چھوڑوں کو وہ چھوڑا ہو اس میں

أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا حَسِيبًا يَعْنِي كَأَيِّهَا ۚ بَابٌ وَمَا لِلْوَصِيِّ أَنْ يَتَمَلَّكَ فِي

ایک مقرر حصہ (النساء ۱۰۶-۱۰۷) حسیب یعنی کافی ہے باب جو وصی کا حسیب کے مال میں حثت کرنا درست ہے

مَالِ الْيَتِيمِ وَمَا يَأْكُلُ مِنْهُ بِقَدَرٍ مَّا تَرَبَّعُوا فِيهِ (۱۲۶۷) عَنْ بَنِي عُمَرَ مَتَكْرَرًا (۱۲۶۸)

اور جو وہ اپنے کام کے موافق اس میں سے کھا سکتا ہے دیکھ حدیث ۱۲۶۷

(۱۲۶۸) عَنْ ثَمَالِيسَةَ مَتَكْرَرًا (۱۲۶۹) بَابٌ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ

دیکھ حدیث ۱۲۶۸ باب اشتغال کا قول جو تیسوں کا مال

يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَأَوْ سَيَصِلُونَ سَعِيدًا (۱۲۶۸)

ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے بطون میں آگ جلتی ہے اور وہ جہنم میں آگ میں داخل ہوں گے (النساء ۱۰۷)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوهِبَاتِ قَالُوا

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سات باتوں سے بچو گویا ان سے بچو گویا

يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَاهُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالشُّكْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

یا رسول اللہ وہ کیا ہیں فرمایا خدا کے ساتھ شریک کرنا اور سحر اور اس انسان کا ناحق قتل کرنا جسے اللہ حرام فرمایا ہے

وَأَكْلُ الزَّبُونِ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّرَبُّ يُوعَى الرَّحْفُ قَدْ تَلَّحَّصْنَا لَكُمُ الْمَوْمِنَاتِ

اور سوز گھانا اور شہید کا مال کھانا اور متاع کے وقت بیٹھ پیرنا اور پاک دامن بیچنے میں غور و خوض نہ کرنا

الْغَائِلَاتِ (۲۲۴) بَابٌ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ

باب اشتغال کا قول و يسألونك الخ اور تمہیں پوچھتے ہیں ان کے اصلاح کے بارے میں

بَابٌ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ

باب اشتغال کا قول و يسألونك الخ اور تمہیں پوچھتے ہیں ان کے اصلاح کے بارے میں

بَابٌ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ

باب اشتغال کا قول و يسألونك الخ اور تمہیں پوچھتے ہیں ان کے اصلاح کے بارے میں

بَابٌ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ

باب اشتغال کا قول و يسألونك الخ اور تمہیں پوچھتے ہیں ان کے اصلاح کے بارے میں

بَابٌ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ

باب اشتغال کا قول و يسألونك الخ اور تمہیں پوچھتے ہیں ان کے اصلاح کے بارے میں

بَابٌ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ

بقیہ ص ۶۲۳
فہو اعن نکاحہن
الا ان یسطوا
لہن فی المال الصدا
وامر وبتکاحہن
سواہن من النساء
قالت عاشت خذ
استغتی الناس
رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم بعد
فانزل اللہ عزوجل
و یستغنی ناک فی
النساء قل اللہ
یفیکر فہن قالت
فین اللہ فی ہذا
ان الیتیمہ اذا
کانت ذان جمال
ومال وغیرہ
نکاحا ولہ حقوقہا
بستقامت کمال
الصداق فاذا کانہ
مرغوبۃ عنہا فی
خلۃ العال والجماع
ترکواہا والنساء
غیرہا من اللہ
قال نکما یتکفعا
حین یرضین عنہا
قلین لہم ان یتکفوا
اذا رضیا فیہا الا
ان یسطوا علیہا
الا ان یرضیا

وایطوہا حقہا حضرت عائشہ کی توجیہ ان آیات کی ہے کہ اول یتیم لڑکی کو جب خود بیٹزا اور مال اور جوئی نکاح میں لایگی خواہش کرے مگر مردانہ ہے اور اس میں نہ جوئی تو اس سے نکاح
میں رغبت نہ کرتے تو حکم دیا کہ دونوں صورتوں میں اسے چھوڑ کر اور عورتوں سے نکاح کر لو مفسرین نے اس کی اور توجیہات بھی کی ہیں میرے نزدیک منشا اس آیت کا یہ ہے
کہ اگر یتیم بچوں سے ویسے انصاف نہ کرے گا خوف ہوتو ان بیوہ عورتوں سے جن کے یہ یتیم بنے ہیں نکاح کرو اور اس غرض کیلئے تعدد ازواج کی بھی اجازت دی ہے
وجائزہ صغیرہ یا مال قدرے فرق ہے یہاں لفظ یہ ہیں۔ ان عمر تصدقات مال علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقال لہذا ثمنہ وكان یخلع فقال عمر یارب
اللہ انی استغدت مالا وھو عندی نفیس فارعت ان الصدق بہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدق بصلہ لا یباع ولا یوہب ولا یورث وکن ینفق
شمرۃ تصدق بہ عمر فصر قفۃ ذلک فی سبیل اللہ و فی الرقب والمساکین والضعیف و ابن السبیل والذی العزب و لا جناح علی من ولیہ ان
یاکل منہ بالمعروف او یکل صدقۃ غیر متول بہ ہ مالہ اس کے لفظ تصدق کے ہیں۔ البتہ یاں فی والی الیتیم کے بعد یہ لفظ ہے۔ ان نصیب من مالہ اذا
کان محتاجا بقدر مالہ بالمعروف ہ مالہ ان امور کی قہاست ظاہر ہے صحیح لغت ہا یک تدابیر سے دھوکہ دینا ہے اور یہی مراد میں ہے ہ

خَيْرٌ وَأَنْ نَخْلُوَهُمْ فَارْحَمُوا آلَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَاعْتَدَمَكُمُ

اور اگر تم ان سے میل جول کرو تو تمہارے بھائیوں اور اشرکوں نے دلے کو اصلاح کرنے والے سے راہ چھینتا ہے اور اگر شریعت کے بغیر

أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ عَنَّتُمْ وَلَا حَرْجَ كُمْ وَضَيْقٌ وَعَنَّتْ خَضَعَتْ وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ

کہ نخل میں ڈالنا (البقرہ۔ ۱۲۰) یا عنکتہ یعنی تم کو جوچ اور تنگی میں ڈالنا (درعت۔ ۱۱۱) جھک گئے اور نافع سے ہے

مَا زَادَ ابْنَ عُمَرَ عَلَى أَحَدٍ وَصِيَّةً وَكَانَ ابْنُ سَيْرِينَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ عِزًّا لِيهِ

کہ ابن عمر نے کسی کا وہی بننے سے انکار نہیں کیا اور ابن سیرین کو سب باتوں سے تنبیہ کے مال کے بارے میں یہ پسند تھا

فِي مَالٍ لِيَتِيمٍ أَنْ يَجْتَمِعَ عَلَيْهِ لَعْنَةٌ وَأَوْلِيَاءُ مَا فِينَسْ وَالَّذِي هُوَ خَيْرٌ لَكَ د

کہ اس کے لئے اس کے غیر فراہ اور ولی جمع ہو جائیں اور اس بات کو سوچیں جو اس کے لیے مفید ہو اور

كَانَ طَاوُسٌ إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْيَتِيمِ قَرَأَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ

طاووس سے جب یتیموں کے کام کے متعلق کوئی بات پوچھی جاتی تو پڑھتے واللہ یعلم المفسد من المصلو

الْمُصْلِحِ وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ يَتَامَى لِصَغِيرٍ وَالْكَبِيرِ يُنْفِقُ لِرَبِّهِ عَلَى كُلِّ نَسَانٍ بَعْدَهُ

اور عطاء نے کہا اور بڑی عمر والے یتیموں کے ہلکے سے ہیں کہ کوئی ہر ایک پر ادا زکوٰۃ سے اس کے صحیح سے

مِنْ حَضِيَّتِهِ (۲۵) بَابُ اسْتِخْدَامِ الْيَتِيمِ فِي الشَّفْرِ وَالْحَضْرَاءُ إِذَا كَانَ صَلَاحًا

فرج کرے بَاب یتیم سے سفر اور حضرت میں خدمت کا کام لینا جب یتیم کے لئے مفید ہو

لَهُ وَنَظِيرُ الْأَمْرِ وَزِدْجِي لِلْيَتِيمِ (۱۲۶۹) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اور (تیمہ کی) ماں اور اس کے غیر پر کہ تمہیں روک بھائی کھنے لگے کہ انہوں نے اس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَاخْتَأَبَ أَبُو طَلْحَةَ يَتِيمًا فَنَاطِقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

دیکھتے تشریح لائے آپ کا کوئی خادم نہ تھا تو ابو طلحہ میرا لہ کر لکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے

یہاں یتیم سے خدمت کا کام لینا صحیح نہیں کیونکہ درحقیقت ہر ایک انسان بنیادی اس طرح ہے کہ وہ اللہ کا کام کرے اور خدمت ادا کرے۔ مزید یہ کہ بچے کے لیے جو خدمت یتیموں کی ہے اور اس کے شوہر کا یتیم کی بھلائی کے لئے لکھ کر نہ دے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یتیم کی خدمت میں یہ بھی تیسرے آدمی کا ایک حصہ تھا کہ بچوں کی، عروں سے جو لوگ نکاح کریں وہ ان یتیموں کے کنفیج بن جائیں۔ یہی وہ ہے تفریق کہ ہم نے تصدق اندازہ کیا اور یتیموں کے ذکر میں کیا ہے فان ختمت الاقطار فی الیتامی فانظروا ما طالب لکم من النساء وخلق خلقا وادربوہ عمل علیہم میں یتیم سے خدمت کا کام لینے کے جواز کو ثابت کیا ہے۔ صحیح بخاری میں متفق ہے کہ نبوی کی تصویر ہے

حضرت انس دس سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے اور اتنے لمبے عرصے میں آپ نے نہ انہیں کبھی مرزبانی کی نہ ملائی نہ وقت اس لئے نہ یا نہ فرار نہیں دیا جائیگا کہ مدد و بیان نہیں کیں وہ حدس بھی ہو سکتی ہیں۔ عمل کر کے روایت میں تقریباً اسی الفاظ سے اس کا ترجمہ دوہرایا گیا ہے۔ لکہ اگر روایت میں سعد بن عبادہ کا نام نہیں ہوا تو یہ ذکر ہے کہ وہ اسکی وفات کے وقت موجود نہ تھے۔ وہ حدیثوں میں روایت مختصر ہے امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا المسلمین فقال یا بنی اللہ انکم سنون بھا منکم حدیثا لو لا واللہ لا انظلمت علیکم الا الی اللہ۔ گواہوں نے ہمیں شریک زمین خدا کی راہ میں دے دی ہ

<p>(۲۸) بَابُ الْوَقْفِ كَيْفَ يَكْتَبُ (م- ۱۲۸۲) عَنْ ابْنِ عُمَرَ مُتَكَرِّرًا (۱۲۶۸) (۲۵)</p> <p>باب وقف نام کس طرح لکھا جائے۔ دیکھو حدیث ۱۲۶۸</p>
<p>بَابُ الْوَقْفِ لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ وَالضَّعِيفِ (م- ۱۲۸۳) عَنْ ابْنِ عُمَرَ مُتَكَرِّرًا (۱۲۶۸)</p> <p>باب وقف بالدار اور محتاج اور مہمان کیلئے (مہم سکتا ہے) دیکھو حدیث ۱۲۶۸</p>
<p>(۳۰) بَابُ وَقْفِ الْأَرْضِ لِلْمَسْجِدِ (م- ۱۲۸۷) عَنْ أَنَسٍ (مُتَكَرِّرًا - ۳۰۰)</p> <p>باب مسجد کیلئے زمین وقف کرنا دیکھو حدیث ۳۰۰</p>
<p>(۳۱) بَابُ وَقْفِ الدَّوَابِّ وَالْكَرَاعِ وَالْعُرُوضِ الصَّامِتِ قَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ</p> <p>باب جانوروں گھوڑوں اور سامان اور سونا چاندی وقف کرنا زہری کہتے ہیں جو شخص</p>
<p>جَعَلَ الْكُفْرَ دِينًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدَفَعَهَا إِلَى غُلَامٍ لَهُ تَأْجِرُ بِعَظْمِهَا وَجَعَلَ</p> <p>ہزار دینار خدا کی راہ میں وقف کرے اور اسے اپنے ایک سو اگر غلام کو دیے کہ وہ ان سے تجات کرے اور اس کا</p>
<p>رَبْحَهُ صِدْقَةً لِلْمَسَاكِينِ الْأَقْرَبِينَ هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ رَجُلٍ ذَلِيعًا لَوْ</p> <p>نفع مسکین اور قرابت والوں کے لئے صدقہ کرے تو کیا یہ شخص اس بزار کے منافقین سے خود کچھ کھا سکتا ہے</p>
<p>شَيْءًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ رَجْحَهَا صِدْقَةً فِي لِمَسَاكِينِ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا</p> <p>اگرچہ اس نے اس کا نفع مسکینوں پر صدقہ نہ کیا ہو لیکن اس کیلئے ہاں نہیں کہ اس میں سے کچھ کھائے</p>
<p>(م- ۱۲۸۵) عَنْ ابْنِ عُمَرَ مُتَكَرِّرًا (۸۰۰) (۳۲) بَابُ نَفَقَةِ الْقِيَمِ لِلْوَقْفِ (۱۲۸۰)</p> <p>دیکھو حدیث ۸۰۰۔ باب وقف کے منتظر کا خرچہ</p>
<p>عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْتَسِمُوا دَرْتًا وَلَا تَبْنُوا دَرْتًا</p> <p>ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے وارث میرے ترکہ کا ایک دہائی نہیں تقسیم کریں</p>
<p>بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَوْنَةَ عَامِلِي فَهُوَ صِدْقَةٌ (م- ۱۲۸۶) عَنْ ابْنِ عُمَرَ مُتَكَرِّرًا (۱۱۲۳)</p> <p>اپنی بیویوں کے اخراجات پر منتظم کے خرچے کے علاوہ جو کچھ بیوی چھوڑ جائے وہ صدقہ ہے دیکھو حدیث ۱۱۲۳</p>
<p>(۳۳) بَابُ إِذَا وَقَفَ أَرْضًا أَوْ بَيْتًا أَوْ اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مِثْلَ دَلَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَوْقَفَ</p> <p>باب جب زمین یا کتاؤں وقف کرنے اور اپنے لئے مسلمانوں کے حصوں کی طرح حصے کی شرط لگا دے اور اس نے</p>
<p>أَنَسُ دَارَ أَفْكَانٍ إِذَا قَدِمَهَا نَزَلَهَا وَتَصَدَّقَ الزَّيْرُ بِذَرَّةٍ وَقَالَ لِلْمُرُودِ دِي</p> <p>نے ایک گھر وقف کر دیا تھا جب وہاں آتے تو اس میں اترتے اور زبیر نے اپنے گھر کو وقف کر دیا اور انہوں نے اپنی بیوی کو حصے ملانے</p>
<p>مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَسْلُمَنَّ غَيْرَ مَضْرُوقَةٍ وَلَا مَضْرُوبَةٍ لَهَا فَإِنْ اسْتَعْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَيْسَ لَهَا</p> <p>دی گئی تھی کہ ان کے وہ ان میں رہے نہ وہ کوئی نقصان کہے نہ اس کا کوئی نقصان ہو اگر شوہر کی وجہ سے اس کی ضرورت نہ رہے تو اسے کوئی</p>
<p>حَقٌّ وَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ نَصِيبَهُ مِنْ دَارِ عُمَرَ سُكْنَى لِذَوِي الْحَاجَةِ مِنْ آلِ عَبْدِ اللَّهِ</p> <p>حق نہیں اور ابن عمر نے حضرت عمر کے گھروں سے اپنا حصہ اپنی اولاد میں سے حاجت مندوں کے لئے مقرر کر دیا تھا</p>

یہ وقت ہمیں ایسی شریعت کی ہے جن سے اہل من کی مخالفت ہو سکے اور آمدنی کا مصروف ستین ہوا وقتی وقت کے تقاضات اور حق انصاف کے مستحق ذکر ہو جس طرح حضرت عمر کے وقت میں ہے جنگ ذکر حدیث باب بیچنا اور اگر روایت میں غنیف تغیر نقل سے حدیث ۱۱۲۳ مفہوم وہ ہر آگیا ہے البتہ فاتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ستامہ دیکھا گیا فقرہ میں نہیں ہے یہاں روایت مختصر ہواں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبرہ قال ان شدت تصدقات ہما فصدق بہما فی الفقراء علیہم وذی القرینہ والضعیف۔ یہاں ذی القرینہ کے لفظ مراد سے موجود ہیں اور ان کے محتاج ہونے پر

ذکر نہیں ہے کہ فریبوں کیلئے غنی ہی ہوں تو وقف ہو سکتا ہے یہی مسلمان کی وجہ سے قریب قریب ہر ایک کے الفاظ ہیں جو ہر سونا چاندی یا اور جائیداد منقولہ اس صورت میں وقف ہو سکتی ہے کہ اہل محتاج رہے اور اس کے منافع کو کام میں لایا جائے۔ جب میں روپیہ جمع کر کے اس کا سود بھی کسی غیری کی کام پر خرچ کیا جا سکتا ہے، علیٰ یہاں الفاظ میں ان میں اصل علی غریبوں کے لئے ذی سبیل اللہ اعطا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکھنا علیہا رجلاً فاخذہا من راحۃ فقہا بیعہا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فقہا فقال لا بیعہا ولا ترجون فی صدقہ، ایک زکوٰۃ کا تصدیق الحق الخدمت کے سکتے ہیں والعالین علیہا راتوب۔ ۱۶۰ تبیم کے مال کا حصول کی جب محتاج ہوتے سکتے ہیں ومن کان فقیراً فلیاکل بالمدونۃ (النسائ۔ ۱۶) اسی طرح وقف کا منکر بھی ہے سکتا ہے یہاں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہاں کے لئے اپنی زمین کی آمدنی میں سے محتاج زینا جائز رکھا ہے، عیث کر روایت مختصر ہے ان ہر اشترط فی الفقراء ان یاکل من ذلہم وکل صدقہ غیر مہتمول ما کلا

(۱۳۸۱) عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَضَرَ حَوْصَرَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ أَشْرَفُ

ابو عبد الرحمن سے روایت ہے کہ حضرت عثمان جب حضور ہو گئے تو بالاحاطہ فرمائیے اور کہا میں تم کو قسم

وَلَا أَشْرَفُ إِلَّا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

دیتا ہوں اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو قسم دیتا ہوں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَفَرُ رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَحَفَرْتُمَا أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ

وہم نے فرمایا کہ جو رومہ کا گڑھا کھودے اس کیلئے جنت ہے تو میں نے اسے کھدایا۔ کیا تم نہیں جانتے

أَنَّهُ قَالَ مَنْ جَهَرَ جَيْشِ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَجَهَرْتُمْ قَالَ فَصَدَّقُوهُ بِمَا

کہ آپ نے فرمایا کہ جو بیخبر مسرت کا سامان کرے تو اس کے لئے جنت ہے تو اس کا سامان میں نے کیا جو انہوں نے فرمایا صحابہ نے

قَالَ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مِنْ ذَلِكَ أَنِّي كَلَّمْتُ قَدِيلِيهِ الْوَأَقِفُ

اس کی تصدیق کی یہاں اور حضرت عمر نے اپنے وقت کے متعلق فرمایا کہ جو اس کا متولی ہو تو کوئی حرج نہیں کہ اس میں سے کھائے اور وقت کا متولی کہی جاتی

وَعَيْرُكَ فَهُوَ وَاسِعٌ لِكُلِّ (۳۴) بَابٌ إِذَا قَالَ الْوَأَقِفُ لَا تَطْبُثُمْنَا إِلَّا إِلَى اللَّهِ

یہی ہوتا ہے اور ہمیں کوئی قصور نہیں کہہ سکتے ہر باب جب وقت کرے اور اللہ کے کہم اس کی قیمت صرف اللہ سے ہی جانتے ہیں اور وقت

(۳۵) عَنْ أَنَسِ (متكرر - ۳۵) بَابٌ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

دیکھو حدیث ۳۰۰۰ باب اللہ تعالیٰ کا قول یا ایہا الذین آمنوا

شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ أَتَانِ ذُو الْعَدْلِ

ہو تمہاری آپس میں گواہی وصیت کے وقت جب تم میں سے کسی کے سامنے موت آجود ہو دو اپنے میں سے صاحب عدل کو لوگ کی ہے

مِنْكُمْ أَوْ آخِرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ

یا کوئی اور دو تمہارے غیر میں سے اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو پھر تم کو موت کی مصیبت آجائے

الْمَوْتُ تَحِبُّوا بَعْضُهُمَا مِنْ بَعْضٍ لِمَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرْتُمُ الْوَأَقِفُ

ان دونوں کو تم نماز کے بعد دو کہو پس اگر تم کو شک ہو تو وہ دونوں اشک قسم کھائیں کہ ہم اس کے عوض

بِهِ شَمَانًا لَوْ كَانَ ذَاقُ زَيْلٍ وَلَا تَكُنْ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنْ أَرْتُمُ الْوَأَقِفُ

کچھ قیمت نہیں گے گو وہ فریبی ہی ہو اور ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے اس صورت میں ہم تمہارے دونوں میں سے ہوں گے

عَزْرًا عَلَى الْوَأَقِفِ اسْتَوْقُوا أَشْمًا وَأَخْرَانِ يَقْتُونَ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقُّ

پھر اگر اطلاع مل جائے کہ ان دونوں میں سے ایک نے تو وہ اور ان دونوں کی جگہ کر لے ہو جائیں ان لوگوں میں سے جسکے خلاف دو بیہوش

عَلَيْهِمْ إِلَّا وَلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتِنَا أَحْسَنُ مِنْ شَهَادَتَيْهِمَا دَمَا عَتَدْنَا بِنَاكَا

نے گا وہ استحقاق حاصل کہے پھر وہ اشک قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ بہتر ہے اور ہم عدل سے نہیں بڑھتے

إِيمَانًا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَأَقْبُوا اللَّهَ وَأَسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

بعد اور تمہیں دوائی جائیں گی اور اللہ کا سنو اور اللہ انہیں فرماں گوں کہ وہایت نہیں کرتا اللہ ۱۱۰۰

(۱۳۸۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْلٍ مَعَ تَمِيمِ بْنِ الدَّارِمِيِّ وَعَدِي

بن عباس سے روایت ہے کہ ایک بنی سہل سے ایک شخص

عمر سے پہلے صحابہ
فرد بیان کرنے کو
نا پسند کرتے تھے۔
لیکن فریست کے
وقت کسی مصلحت کے
لئے اپنے نیکوں
کو ظاہر کرنا معیوب نہیں
یا غیر نے حضرت
عثمان کو گھر کے اندر
محصور کر دیا تھا اور
سیدیں میں اگر نواز
پڑھنے کی اجازت
نہ دیتے تھے اور ان
کا پانی بھی بند کر دیا
گیا تھا تو انہوں نے فرمایا
یہ ظاہر کیا کہ اب نہ
تم مجھے پانی دیتے
ہو نہ سجدوں سنانے
دیتے ہو حالانکہ میرے
رود جس کے پیچھے
پانی سے لوگ غلام
اٹھاتے ہیں وہیں
نے ہی کھدوایا تھا
اور بعض روایات
میں یہ بھی آتا ہے
کہ انہوں نے کہا
کہ سید نبوی گوں
کی کثرت کی وجہ سے
بھنگ ہو گئی تھی اور
اس حضرت کے فون
سے میں نے زمین کا
ایک ٹکڑہ خرید کر
سجد میں شامل کر دیا
اور وہ وسیع ہو گئی
اور جیش اللصوة
یعنی فرعون جیک کے
جہاں کا سامان میں نے
جا بڑھائی ہے لہذا

مَنْ لَطَبَ قَمِيئَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ

مَنْ لَطَبَ قَمِيئَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ

ابن بَدَأَ فَنَمَاتِ الشَّهْرِ بِأَرْضِ لَيْسُ بِهَا مُسْلِمَةٌ فَلَمَّا قَدِمَا بِرَكْبَةٍ فَقَدَا

جَاؤَا مِنْ فِضْيَةٍ فَمَوْصَا مِنْ ذَهَبٍ فَاحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا

وَجَدَا الْجَاهِلِيَّةَ فَقَالُوا ابْتِعْنَاكَ مِنْ نِسْمٍ وَعَدِي فَقَامَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ

فَخَلَفَا الشَّهَادَةَ تَنَاوَحًا مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَإِنَّ الْجَاهِلِيَّةَ لَصَاحِبُهُمْ قَالَ وَرَفِئَهُمْ

نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اشْهَادَةُ بَيْنَكُمْ (۳۶) بَابُ قِضَاءِ الْوَصِيِّ

ذِيُونِ الْبَيْتِ بِغَيْرِ حُضْرٍ مِنَ الْوَرَثَةِ (مر - ۱۲۸۸) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (مكرر ۱۵۹)

۵۶- کتاب الجهاد والسیر

جہاد اور سیرتوں کی کتاب ۵۶

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ وَالسَّيْرِ

دَقُولُ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمْ

یوم احد و تترك ست نيات و تترك عليه دنيا فلما حضر جراد و انخل ايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد علمت ان والدي استشهد
يوم احد و تترك دنيا كثيرا و اني احب ان يراك الغرماء قال و ذهب فبيد ركل تمر على ناحية ففعلت ففعلت ففعلت فلما غلظ اليه الغر و اني تلك الساعة
فلما راى ما يصنعون طان حول اعظمها بيدرا ثلث مرات فجلس عليه ثم قال اء اصحابك فضا ذال يكمل لهم حتى اتى الله امانته و الذي
وانا والله را ض ان يؤدى الله امانته و والدي و الارواح الى اخواني بتمرة فسلموا لله البيا و ركها حتى اني انظر الى البيداء الذي عليه رسول
الله صلى الله عليه وسلم كان له شقص تمر و واحدة - جابر بن عبد الله - جاهد في سبيل الله و الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
جهد في سبيل الله حتى استشهد في جاهد و انى الله حتى جاهد في سبيل الله حتى استشهد في جاهد و انى الله حتى جاهد في سبيل الله حتى استشهد في جاهد
شيطان من جهاد نفس من جهاد و انى الله حتى جاهد في سبيل الله حتى استشهد في جاهد و انى الله حتى جاهد في سبيل الله حتى استشهد في جاهد
لن فرأى كالكافرون من جهاد و انى الله حتى جاهد في سبيل الله حتى استشهد في جاهد و انى الله حتى جاهد في سبيل الله حتى استشهد في جاهد
كساعة جهاد و انى الله حتى جاهد في سبيل الله حتى استشهد في جاهد و انى الله حتى جاهد في سبيل الله حتى استشهد في جاهد
جهاد و انى الله حتى جاهد في سبيل الله حتى استشهد في جاهد و انى الله حتى جاهد في سبيل الله حتى استشهد في جاهد
من جهاد و انى الله حتى جاهد في سبيل الله حتى استشهد في جاهد و انى الله حتى جاهد في سبيل الله حتى استشهد في جاهد
كأن جهاد و انى الله حتى جاهد في سبيل الله حتى استشهد في جاهد و انى الله حتى جاهد في سبيل الله حتى استشهد في جاهد

عظمت كوني ببيت كوك
باسم من امرى
اعتبار الفاعل كقول
كعوم كاس - ذ
نصوص عا و ذ اول
نصوص سبب كاس
علم اصول نقد الور
كاس كاس عام اصول
في العبادات و امور
المقتلا و النصوص
المادة و النصوص
السبب من حيث آيت
ذات كاس - ذ
كاس كاس كاس
كاس كاس كاس
ذات كاس كاس كاس
ذات كاس كاس كاس
عظمت كوني ببيت كوك
باسم من امرى
اعتبار الفاعل كقول
كعوم كاس - ذ
نصوص عا و ذ اول
نصوص سبب كاس
علم اصول نقد الور
كاس كاس عام اصول
في العبادات و امور
المقتلا و النصوص
المادة و النصوص
السبب من حيث آيت
ذات كاس - ذ
كاس كاس كاس
كاس كاس كاس
ذات كاس كاس كاس
ذات كاس كاس كاس

الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ

الْأَنْجِيلِ الْقُرْآنَ وَمَنْ أَدَّى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْتِهِ وَأَيْبِعُهُمُ اللَّهُ

بِهِ إِلَى قَوْلِهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْحُدُودُ الطَّاعَةُ (م- ۱۲۸۹)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (متكرر- ۳۵۴) (م- ۱۲۹۰) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر)

(م- ۱۲۹۱) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (متكرر- ۸۱۳) (م- ۱۲۸۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دُنِّي عَلَى عَمَلِ يَعْزِلُ

أَبِيهِادُ قَالَ لَا أَحَدَهُ قَالَ هَلْ تُسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمَجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَهُ

فَتَقْرَأَ وَلَا تَقْرَأَ وَلَا تَقْرَأَ وَلَا تَقْرَأَ قَالَ وَمَنْ يُسْتَطِيعُ ذَلِكَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ

رَأَى فَرَسًا يَجَاهِدُ لَيْسَتْ فِي طَوْلِهِ فَيَكْتُبُ لَهُ حَسَنَاتُ (۲) بِأَبِّ أَنْضَلِ النَّاسِ

مُؤْمِنٍ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

هَلْ أَدْرَأَكُمْ عَلَى تِلْكَ الْأُمُورِ لِقَدْ جَاءَكُمْ مِنْ عَدَائِبِ اللَّهِ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيُجَاهِدُوا

فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لِيُخَفِّرَ لَكُمْ

ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ

ذَلِكَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ (م- ۱۲۸۳) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر- ۸۱۳) قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر- ۸۱۳) قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر- ۸۱۳) قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر- ۸۱۳) قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر- ۸۱۳) قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر- ۸۱۳) قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر- ۸۱۳) قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

عنه - روایت نام
بخاری بخاری بخاری
پر لایه - ان میں
پہلی آیت میں لڑنا
قتال فی سبیل اللہ
کا ذکر ہے اور قبل ہونے
اور قبل کرنا لیکن
دوسری آیت میں ان
مؤمنوں کا حق سے
اٹھنے کی جائز ہے
مال خریدنے میں اور
انکے میں کر کے
کہ وہ تاقون، طاہرین
حامدین و فریقین
میان تک کہ تو
انکی اس صفت کا ذکر
کیا - انامون بالمعروف
والنہی عن المنکر
یعنی نیک باتیں کہیں
کو پہنچانے اور بری
باتوں سے روکنے والے
جس سے معلوم ہوگا کہ
یہ سب باتیں جہاد کے
اندیشہ آتی ہیں اور
امر بالمعروف، نہی
عن المنکر ہی جہاد
بالمعروف ہے +
۳۵۴ بیان
کہ مضمون اولیٰ تغییر
لفظی سے وہ ہر
گیا ہے
کے بیان میں
کا ایک ٹکڑا دیکھنا

گیا ہے لاجرم بعد الفجر لیکن جہاد جہاد ماذا استغفر تصدقاً فغفرنا - ایہ الفاظ اس حدیث میں نہیں ہیں، بلکہ لفظ صحابہ کے ہیں۔ اس میں حضرت عائشہ جہاد کو
انفیل العسل قرار دیتی ہیں اور جہاد کرنے کی خواہش ظاہر کرتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر جہاد حج ہے۔ اس سے بھی جہاد کے معنی میں وصیت ثابت ہوتی ہے
یہ صحابہ نے جہاد کو حج کے طور پر لیا اور جہاد کے معنی میں لیا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہ ناز میں گھر سے رہنا اور روزہ وغیر
افطار رکھنے جانا بھی جہاد کے برابر نہیں۔ یہاں جہاد کے معنی میں لیا گیا ہے۔
بالسیف کے لئے مال اور جان دونوں کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جہاد بالمعروف کے لئے بھی مال اور جان دونوں کی ضرورت ہے۔ کیونکہ تبلیغ اسلام کے لئے نہ
صرف مال کی ضرورت ہے بلکہ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اپنی زندگیوں میں دین کے لئے وقف کر دیں۔

أَبَى النَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُنِي سَبِيلَ اللَّهِ

لوگوں میں سے کن افضل ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن خدا کی راہ میں اپنی جان اور

بِنَفْسِهِ وَقَالَهُ قَالُوا أَنَّهُ مَنْ قَالَ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ يَقْتُلُ اللَّهَ وَيَدْعُو النَّاسَ

اپنے مال کے لیے جہاد کرنا جو انہوں نے مومن کیا پھر کن فرمایا ایسا مومن کہ پہاڑ کی گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں ہو اور اس کا تقویٰ کرتا ہو اور لوگوں

مِنْ شِعْبَةٍ (۱۲۸۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

کو اپنی آبادی سے محفوظ رکھے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا خدا کی راہ

مَثَلُ الْجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُنِي سَبِيلَهُ كَمَثَلِ الصَّائِلِ الْقَائِمِ

میں جہاد کرنے والے کی مثال اور شایع جانتا ہے کہ کن خدا کی راہ میں جہاد کرے روزہ دار شایع بیواؤں کی طرح ہے

وَتَوَكَّلْ اللَّهُ لِلَّهِ هُدًى فِي سَبِيلِهِ يَا نَبِيَّ تَوَفَّاكَ أَنْ يَدْخُلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ يَرْجِعَهُ سَائِلًا

اور اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والے کو دے دیا ہے اس کو وفات دے تو جنت میں داخل کرے یا اسے سلامتی کے ساتھ خواب

مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَيْرِهِ (۳) بَابُ الدَّعَاةِ بِالْجِهَادِ وَالشَّهَادَةِ لِلرِّجَالِ النَّسَاءُ وَقَالَ عُمَرُ أَرَزَقُنِي

اور غنیمت دیکھنا نہیں لایا۔ باب مردوں اور عورتوں کا جہاد میں شرکت اور شہادت کی دعا گاہن اور حضرت عمر نے دعا کی یا اللہ مجھے

شَهَادَةً فِي بَلَدِ رَسُولِكَ (۱۲۸۶) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اپنے رسول کے شہر میں شہادت دے لے۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

وَسَلَّمَ يَدْخُلُ حَلِي أَمْ حَرَامٍ يَنْتَ مِلْحَانٌ فَتَطْجُمُهُ وَكَانَتْ أُمَّ حَرَامٍ تَحْتِ عِبَادَةِ ابْنِ

ام حرام بنت ملحان کے پاس جاتا تھے تو وہ آپ کو گھانا لگھاتی تھیں اور ام حرام عبادہ بن مسعود کی بیوی تھیں

الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَضَعْتَهُ وَجَعَلَتْ تَقْلِي رَأْسَهُ

ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے آپ کو گھانا لگھایا اور آپ سر کر لیا اور گھانے لگیں

فَمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ لِيَضُوكَ قَالَتْ فَقُلْتُ

مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو اس نے ہنس دیا اور فرمایا میرے سامنے خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے لگے

وَمَا يُضُوكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عَرَضُوا عَلَيَّ عِزًّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس دیا اور فرمایا میری امت کے لوگ میرے سامنے خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے لگے

يُرَكِّبُونَ بِنَجْوَى هَذَا الْبَحْرِ مَلُوكًا عَلَى الْإِسْرَاقِ أَوْ مِثْلَ السُّلُوكِ عَلَى الْإِسْرَاقِ وَشَكَرْتُ لِمَنْ

میں نے اس سمندر کے نیچے میں سوار ہیں جیسے بادشاہ تختوں پر

قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْعُو اللَّهَ أَنْ يُجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

اس نے کہا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے کہ میں سے کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَضَعَهُ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَيْقِظَ وَهُوَ لِيَضُوكَ فَقُلْتُ وَمَا يُضُوكُكَ

دعا کی پھر آپ نے پاس رکھا پھر ہنسنے لگے اور فرمایا میرے سامنے خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے لگے میں نے اسے فرمایا تھا

يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عَرَضُوا عَلَيَّ عِزًّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَمَا قَالَ فِي الْوَلِّ

کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو اس نے ہنس دیا اور فرمایا میری امت کے لوگ میرے سامنے خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے لگے میں نے اسے فرمایا تھا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
کہو یا سے کہہ کر
کر کے بناؤ گے کسی
کو نے میں جا بیٹھا
اور لوگوں کو اپنے
پھر تم کے شہر سے
بچا رہے اکثر ذہنی
اور مسلمانوں میں سے
میں بعض نفوس تک
دلدادوں نے بہترین
عمل سمجھا جو اب جہاد
کے جو آپ نہیں بہترین
کام جہاد ہی ہے
کو اس میں تلوار بھی
چلانے پڑے
مطالعہ شہادت کے
یعنی جس حاضر ہونا
دیکھتے ہوئے۔ آنکہ
سے بیا بصیرت سے
اور صلاح شریعت
میں شہادت خدا
کی راہ میں جان نیا
ہے۔ تو شہادت کی
دعا میں میں سوت کی
دعا نہیں ہو سکتی
کو قتل کر سکتی آرزو
ہے جگہ بعض میں
آرزو کا نام ہے
جس طرح ایک شخص
خدا کے لئے زندگی
بسر کر رہے خدا کے
لئے ہی اسکی موت
میں ہو جو شخص خدا
دیکھنے جان لینے کی
آرزو رکھتا ہو وہ شہاد

اپنی زندگی میں بھی خدا کا طالب ہو گا۔ ام حرام حضرت انس رضی اللہ عنہ کے خادم کی ماں ام سیم کی بن تھیں۔ شامین کہتے ہیں کہ ام حرام اور ام سلمہ دونوں نے حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا اور بعض نے کہا ہے کہ ام حرام آپ کی رضاعی خال تھیں اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ذی عزم کی طرح آ جا کر کھانے
میں تھی جیسے بادشاہ تختوں پر۔ دوسری مرتبہ دعا دیکھیں کیا جس سے معلوم ہوا کہ پہلے وہ اپنے مسلمانوں کو مسندوں پر بٹھرائی اور انہیں دیکھا اور وہ سب ہی ہاتھ ملگے ہوئے
توالی لے آئے آپ کے ان دونوں مکاشفات کو پورا کیا۔ مسلمان مسندوں میں بھی لٹائے اور فطی پر بھی اور دونوں جگہ ان کی بادشاہت ہوئی۔

(۶) بَابُ الْحَوْرِ الْعَيْنِ وَصِفَتِهَا بِحَارِفِهَا الظَّرْفُ شَدِيدَةٌ سُودٌ أَلْعَيْنِ

باب خوبصورت عیون اور ان کی تعریف ان کو دیکھ کر نگاہ حیران نہ جاتی ہے (یعنی) آنکھ کی سیاہی بہت تیز ہے اور آنکھ

شَدِيدَةٌ بِيَاضِ الْعَيْنِ دَرَّوَجَانَهُمْ أَنْتَكُنَّاهُمْ (۱۲۸۸) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

کی سفیدی بھی بہت تیز ہے زوجنا ہم یعنی ہم نے ان کا نکاح کر دیا ہے انس بن مالک

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهُ عَمَدٌ اللَّهُ خَيْرٌ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نہ تو کوئی شخص نہیں مرنے والا جس کی کوئی ٹیکی ان کے سفید ہو اور وہ اس

يَسْتُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا إِلَّا الشَّهِيدَ لِمَا يَرَى مِنْ

بات پر خوش ہو کہ وہ واپس دنیا میں آئے اور اسے دنیا و دنیا میں لیا جائے سوائے شہید کے جو شہادت کی نصیبت

فَضْلِ الشَّهَادَةِ فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا يُقْتَلُ مَرَّةً أُخْرَى سَمِعْتُ

کو دیکھتا ہے اس لئے اس سے خوشی ہوتی ہے کہ دنیا میں واپس آئے گا اور دوبارہ ان کی راہ میں مارا جائے گا اور اس نے

أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَوْحَةَ بِنْتِ سَيْبِلٍ لَللَّهِ أَوْعَدَةٌ

انس بن مالک کو سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے کہ اس کی راہ میں میری شام کو جینا

خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَقَابُ قَوْمٍ حِينَ كَرَّمُوا الْجَنَّةَ أَوْ مَوْضِعٌ قَبْلِهَا يُعْنَى

دنیا و دنیا سے بہتر ہے اور جنت میں سے تمہاری کمان کے برابر یا کورسے کے برابر

سَوَاطِئُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَظْلَمَتْ إِلَى

دنیا و دنیا سے بہتر ہے اور اگر جنت والوں میں سے کوئی عورت

أَهْلِ الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْ رَحْمًا وَنَضِيفًا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا

زمین والوں کو جھانکے قرآن دونوں کے درمیان روشن ہو جائے اور زمین کی خوشبو سے بھرے اور اس کے سر پر اس کی ڈھنسی ڈھاندا جائے

وَمَا فِيهَا (۷) بَابُ مَمْرِي الشَّهَادَةِ (م- ۱۲۹۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر- ۳۳)

بہتر ہے مگر حقیقت وہ نہیں جڑے اور نہ مانے جنت کا ذکر قرآن کریم میں بطور مثال کے ہے اسی طرح حور میں کا ذکر بھی بطور مثال کے ہے اور جس طرح جنت

کی باقی تمام نعمتیں مردوں اور عورتوں کیلئے یکساں ہیں اسی طرح جنت میں اسی طرح نعمت بھی ایسی ہے جو مرد اور عورت کیلئے یکساں ہے و زوجنا ہم جو عین والدان م- ۵۱۱- القدر- ۲۰)

زوجنا ہم کا ترجمہ یہاں اٹکھنا ہم کیا گیا ہے جو درست نہیں اس لئے کہ جب تزویج یعنی نکاح کر لے کے آتے تو وہاں اس کے سفول ثانی پر ب نہیں آتا۔ جیسے

وَجُنَّ كُنَّاهُمْ اور یہاں ب کے ساتھ آیا ہے اس لئے اس کے معنی اٹکھنا ہم درست نہیں اور تزویج کا لفظ شہید، ہمیشہ، فرین (ساقی)، اور خداوند پر ہی سب پر ہوا

جاتا ہے۔ خداوند پر ہی کے ساتھ خاص نہیں۔ راغب نے اس کے معنی یوں کے ہیں قرنا ہم بہن والدہ یعنی فی القرائن زوجنا ہم حورا کہا یقول زوجتہ امرأۃ تنبہا

علی ان ذلک کا یقول علی حسب المتعارف فیما بیننا من المناکحۃ یعنی زوجنا سے یہاں مراد حور کو ان کا قرین بنا دینا ہے اور قرآن شریف میں زوجنا ہم حور

نہیں آیا۔ جیسے زوجتہ امرأۃ کہا جاتا ہے یعنی میں نے عورت کو اس کے نکاح میں دیدیا۔ اور یہ تنبیہ ہے اس بات پر کہ ہمیشہ میں یہ یقین اس قسم کا نہیں ہوگا جیسا ہمارے

درمیان مراد اور عورت کے نکاح میں متعارف ہے وہ مغلک متعدد احادیث میں خرید کی اس خواہش کا ذکر ہے کہ وہ پھر دنیا میں واپس جائے اور پھر خدا کی راہ میں شہید ہو۔ اور

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور دیکھ حدیث میں ظاہر فرماتے ہیں جو آئی ہے کہ جب اس بات سے محبت ہے کہ خدا کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ ہوں پھر قتل کیا جاؤں

پھر زندہ ہوں پھر قتل کیا جاؤں۔ پھر زندہ ہوں پھر قتل کیا جاؤں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں یا تراب تھی۔ اور آپ اپنے صحابہ کے دلوں میں کیا تراب

دیکھنا چاہتے تھے۔ جان کی قربانی پر اس قدر درسی کی تعلیم میں نہیں پایا جاتا۔ عیسیٰ ایک حضرت کی قربانی پر اس قدر غمگین تھے جس میں ہاں کیا ایک صحابی سے دل

میں وہی تراب پائی جاتی ہے۔ مگر حدیث کے فیہ الرافد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عورت من اہل الجنۃ ہے یعنی اس نیک کی کوئی عورت جو جنت میں داخل ہوتی ہے اور وہ لوگوں

میں بعض لوگوں کے دنیا کی طرف رجوع کی خواہش کا ہے۔ جب شہداء کا ذکر کیا جن کا بیشتر حصہ مردوں اور عورتوں کا بھی ذکر کیا کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے بلند مقامات

پر پہنچائے گا۔ دیکھ کر عورت کی روحانی روشنی بھی دنیا کو روشن کر دیتی ہے اور اس سے دنیا میں نیک کی خوشبو پھیلتی ہے لے کر سر کی ڈھنسی اس کی محبت کا نشان ہے وہ مغلک یہاں

میں اس کا معنی ہے کہ اختلاف کیا تھا وہ ہرا گیا ہے۔ لفظ یہ ہے۔ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الذی نفسی میرا کو ان رجالات من المؤمنین لا ینیب انفسہم ان

بے حور۔ آنکھ
اور حور اور دونوں کی
میں ہے اور آنکھ
یا حور اور وہ مرد یا
عورت ہے جس کی آنکھ
سفید ہو اور آنکھ
کی سفیدی کی خوب
سفید ہو اور سیاہی
خوب سیاہ ہو اور
عین اعلیٰ اور
عینا کی جگہ ہے۔
یعنی بڑی آنکھ والا
مرد یا بڑی آنکھ والی
عورت۔ حور میں کا
زیادہ استعمال میں
عورتوں میں ہوتا ہے
لیکن قرآن کریم میں
جہاں اس کا ذکر آیا
ہے وہاں اس سے
مراد عورت نہیں بلکہ
حور میں نعا و جنت
۱۲۹۶ میں سے ایک حدیث
کا ہے اور نعا و جنت
کی حقیقت اور یہ

وَجُنَّ كُنَّاهُمْ اور یہاں ب کے ساتھ آیا ہے اس لئے اس کے معنی اٹکھنا ہم درست نہیں اور تزویج کا لفظ شہید، ہمیشہ، فرین (ساقی)، اور خداوند پر ہی سب پر ہوا جاتا ہے۔ خداوند پر ہی کے ساتھ خاص نہیں۔ راغب نے اس کے معنی یوں کے ہیں قرنا ہم بہن والدہ یعنی فی القرائن زوجنا ہم حورا کہا یقول زوجتہ امرأۃ تنبہا علی ان ذلک کا یقول علی حسب المتعارف فیما بیننا من المناکحۃ یعنی زوجنا سے یہاں مراد حور کو ان کا قرین بنا دینا ہے اور قرآن شریف میں زوجنا ہم حور نہیں آیا۔ جیسے زوجتہ امرأۃ کہا جاتا ہے یعنی میں نے عورت کو اس کے نکاح میں دیدیا۔ اور یہ تنبیہ ہے اس بات پر کہ ہمیشہ میں یہ یقین اس قسم کا نہیں ہوگا جیسا ہمارے درمیان مراد اور عورت کے نکاح میں متعارف ہے وہ مغلک متعدد احادیث میں خرید کی اس خواہش کا ذکر ہے کہ وہ پھر دنیا میں واپس جائے اور پھر خدا کی راہ میں شہید ہو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور دیکھ حدیث میں ظاہر فرماتے ہیں جو آئی ہے کہ جب اس بات سے محبت ہے کہ خدا کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ ہوں پھر قتل کیا جاؤں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں یا تراب تھی۔ اور آپ اپنے صحابہ کے دلوں میں کیا تراب دیکھنا چاہتے تھے۔ جان کی قربانی پر اس قدر درسی کی تعلیم میں نہیں پایا جاتا۔ عیسیٰ ایک حضرت کی قربانی پر اس قدر غمگین تھے جس میں ہاں کیا ایک صحابی سے دل میں وہی تراب پائی جاتی ہے۔ مگر حدیث کے فیہ الرافد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عورت من اہل الجنۃ ہے یعنی اس نیک کی کوئی عورت جو جنت میں داخل ہوتی ہے اور وہ لوگوں میں بعض لوگوں کے دنیا کی طرف رجوع کی خواہش کا ہے۔ جب شہداء کا ذکر کیا جن کا بیشتر حصہ مردوں اور عورتوں کا بھی ذکر کیا کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے بلند مقامات پر پہنچائے گا۔ دیکھ کر عورت کی روحانی روشنی بھی دنیا کو روشن کر دیتی ہے اور اس سے دنیا میں نیک کی خوشبو پھیلتی ہے لے کر سر کی ڈھنسی اس کی محبت کا نشان ہے وہ مغلک یہاں میں اس کا معنی ہے کہ اختلاف کیا تھا وہ ہرا گیا ہے۔ لفظ یہ ہے۔ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الذی نفسی میرا کو ان رجالات من المؤمنین لا ینیب انفسہم ان

۱۲۹۷ (متکرر - ۶۷۵) باب فضل من یصوم عن سبیل اللہ
 کسی قدر زیادت
 کے ساتھ آئی ہے
 خطیب نبی صلی
 فقال اخذ الزین
 زین فاصیبتہ
 اخذہا جعفر
 فاصیبتہم اخذہا
 عبد اللہ بن ریحہ
 فاصیبتہم اخذہا
 خالد بن لہیعہ
 عن غیر امرہ و تقو
 لہ و قال فاصو
 انہم عندنا قال
 یویب و قال یویب
 انہم عندنا حیث
 قد رخان - یہاں
 منی شہادت کا ذکر
 نہیں کیا ہے نہ کہ
 کہ جب جن جہاد
 کیے بعد دیگرے
 شہید ہو گئے تو اللہ
 بن ولید نے ہمدان
 ہاتھ میں لیا حالانکہ
 نبی صلی نے ان کو
 کہا تھا یہ لوگو علی
 فور رشادت کی کئی تہی
 یہ ذکر جگہ جگہ کرتا ہے

۱۲۹۷ (متکرر - ۶۷۵) باب فضل من یصوم عن سبیل اللہ

دیکھو حدیث ۶۷۵ باب اس کی فضیلت جو خدا کی راہ میں سواری سے نگر

فَمَاتَ فَهُوَ مِنْهُمْ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ فَهَذَا جَرَّ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
 وہ صحابہ میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا قول جو اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف نکلتے ہوئے

ثُمَّ يَدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَقَعَرَجِبَ (م - ۱۲۹۸) عَنْ أُمِّ
 پھر اس کو موت آجائے تو اللہ کے ہاں اس کا اجر واجب ہو گیا (اللہ اور اس کے رسول کی طرف نکلتے ہوئے)

حَرَامٌ (متکرر - ۱۲۸۶) ۱۹) بَابُ مَنْ يَتَكَلَّبُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (۱۲۸۹) عَنْ

دیکھو حدیث ۱۲۸۶ باب جس کو اللہ کی راہ میں تکلیف پہنچے

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْوَامًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ إِلَى بَنِي عَامِرٍ
 روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سلیم کے لوگوں میں سے ستر آدمی بن عامر

فِي سَبْعِينَ فَلَمَّا قَدِمُوا قَالَ لَهُمْ خَارِي أَلْفًا مَكَّةَ فَإِنْ آمَنُوا لِي حَتَّىٰ بَلَّغْتُمُ عَن
 کی طرف پہنچے جب وہ وہاں پہنچ گئے تو میرے ماموں نے ان سے کہا میں تم سے آگے جاتا ہوں اگر انہوں نے مجھے اس بات پر

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا كُنْتُمْ مَعِيَ قَرِيبًا فَتَقَدَّمُوا فَاثْنَوَةَ فَبَيْنَمَا يَخْرُجُونَ
 اس دن ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انہیں سنا دوں تو میرے ساتھ نہ تم مجھ سے قریب ہو گئے تو وہ آگے بڑھے اور انہوں نے انہیں بلایا

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَوْمَأَ إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَطَعَنَهُ وَأَنْفَذَهُ فَقَالَ
 وہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے انہیں بلایا ایک شخص نے انہیں بلایا تو انہوں نے انہیں بلایا

اللَّهُ أَكْبَرُ فَمَاتَ وَرَبُّ الْكُفَّةِ ثُمَّ مَا لَوْ أَعْلَىٰ بَقِيَّةِ أَصْحَابِهِ فَفُتُّوهُمْ الْأَرْضَ
 جہاد کے دنوں سے پہلے ان کے گناہوں نے کہا اللہ اکبر کہے کہ رب کی قسم میں تو کہہ جاؤ پھر وہ ان کے ہاں ساتھیوں کے ہاں پڑے اور انہیں

أَعْرَجَ صِدْرًا الْجَبَلِ قَالَ هَتَمًا فَأَرَاهُ أَخْرَمَهُ فَأَخْرَجَ جَبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 تن کر دیا سوائے ایک لنگڑے شخص کے وہ پہاڑ پر چڑھ گیا ہمام کہتے ہیں یہ اس کا پہاڑ ہے کہ آپ اس کو کہا تھا جو جبریل علیہ السلام نے

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُمْ قَدْ لَقُوا رَبَّهُمْ فَرَضِي عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ فَكُنَّا نَقْرَأُ
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے وہ ان سے رضی ہو اور انہیں خوش کر دیا تو ہم پڑھا کرتے

أَنْ يَلْعَنُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِي عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ فَكُنَّا نَقْرَأُ
 تھے ان بلاتوا اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو پڑھا دو کہ ہم اپنے رب سے جانے وہ ہم سے خوش ہو اور ہمیں خوش کر دیا بعد میں یہ سنو کہ ہو گیا تھا آپ

لما اس سے معلوم ہوا کہ شہادت کا دارانہ ان کی نیت پر ہے اور جوئی الواقع شہادت کیلئے تیار ہو گیا اس کا اجر شہید کا ہی ہے خواہ اس کی وفات کسی طرح واقع ہو
 ۱۲۹۷ (متکرر - ۶۷۵) باب فضل من یصوم عن سبیل اللہ
 من امتی عضوا علی یرکبہن ہذا الجہاد الاخصر کالمدک علی لاسرۃ قالت فادع اللہ ان یجعل منہم ذراعا لکم ناما اثنا تینہ ففعل مقلھا قال قلت مثل
 قولہا ناسا ہذا مشہا فقالت ادع اللہ ان یجعل منہم فقال امت من الاولین فخرجت معہا جہاد عبادۃ من الصامت قازیا اول ما رکب المسلمون الجہاد
 مع مغویۃ فلما انصرفوا من غزوہم قالین انزلوا اللہ من فقرت الیہا وادبہ لیرکبھا فصر عنہا ذماتہ ۱۰۰ مائے بن ستر صوبہ کو انکسرت علی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی
 کی طرف بھیجا تصاوہ انصار میں سے تھے اور ان کے ذریعہ تمام کتاب المغازی میں ان کی نسبت یہ لفظ آئے ہیں۔ لیکن انہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں باطنی طور
 یصلون باللیل۔ اور ایک روز انہیں یہ زمانہ دینے میں وہ انصاف اہل لصفہ ویتدا رسول القرآن باسئل وقتعنون۔ یہ جو سیم میں سے تھے۔ ان کو جو
 سلیم میں سے قرار دینا اور ان کی غفلت ہے۔ البتہ بن کی طرف وہ بھیجے گئے تھے وہ جو سیم تھے اس کے کہ رعل ذکوان عصیۃ تینوں نبیہ سلیم کی او نارتے۔ ابن اسحق کی
 روایت میں ہے کہ وہ ابو مرادھا مر من۔ انک علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال ی محمد فو بخت رجلا من اصحابک الی اهل جنس رجعت ان یتجلیل
 وانما جادہم۔ وکتاب المغازی میں آتا ہے کہ رعل ذکوان اور سید کی درخواست پر آپ نے ان کو بھیجا۔ اور کتاب الجہاد میں آتا ہے کہ انہوں نے اسام
 میں ظاہر کیا۔ چونکہ ابو مرادھی اپنی قوم کا رئیس تھا۔ اس لئے جو سیم سے اس کی درخواست ساری قوم کی درخواست قرار دینی ہو یا وہ دونوں درخواست کی ہوگی سبائی

أربعين صباحا على الغل وذلك أن وبني لحيان وبق عصية الذين عصوا

ان پر چالیس دن (صبح کے وقت) جدھا کی یعنی، علی پر اور ان کو ان پر اور بنو سیمان پر اور بنو عصبہ پر جنوں نے

الله ورسوله صلى الله عليه وسلم (۱۲۹) عن جندب بن سفیان أن رسول

اللہ اور اس کے رسول علی شریف وسلم کی بنا فرمائی کہ

الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد وقد دميت اصبعة فقال

هل انت الا اصبعة دميت في سبيل الله فالقبيط (۱۱۰) يا ب من

تو تم تک ایک انگلی ہے جو خون آلود ہو گئی ہے اور دم کے گتھے بچھاوہ اللہ کی راہ میں ہے

اللهم عز وجل (م- ۱۲۹۸) من آتی هزيمة (متكرر- ۱۸۹) (۱۱۱) باب قول الله تعالى هل

ترتصون بنا الا احد الحسنين العزب بسجال (م- ۱۲۹۹) عن آبي سفين (متكرر)

(۱۲) باب قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم

من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا (۱۲۹) عن ابن عباس قال قال

عن ابن عباس ان رجلا من بني النضير اذ سئل عن قوله تعالى هل

النضير هل ترى من يظن ان الله يفرق بين المؤمن والمؤمنة قال لا

المؤمنين الذين آمنوا بالله واليوم الآخر اجمعين قالوا فماذا صنعتم قال

احدنا انكشفت المسلمون قال اللهم اني اعتد ررا ليك مما صنعته هو لاني يعجبني اصحابه

وابرار ليك مما صنعته هو لاني يعجبني المشركين نعم تقدرا من استقبلت سعد بن معاذ فقال يا

سعد بن معاذ الجنة ورب النصر اني احد ريشها من دون احد قال سعد كما استطعت

يارسولي الله ما صنعته قال انس فرحنا اياه ايضا واما الذين ضربته بالسيف وطعنوا بسيف

اور صديقيس وہ نہ کر سکا جو انس نے کیا انس (بن مالک) کہتے ہیں

اور صديقيس وہ نہ کر سکا جو انس نے کیا انس (بن مالک) کہتے ہیں

اور صديقيس وہ نہ کر سکا جو انس نے کیا انس (بن مالک) کہتے ہیں

اور صديقيس وہ نہ کر سکا جو انس نے کیا انس (بن مالک) کہتے ہیں

بقیہ صفحہ ۶۳۴
جب یہ مترقاری
بزرگوں پر ہے تو
رہل اور ذنون اور
عصیہ کے آرزو
ان سب کو بیرونی
سے قتل کیا ان
کوساوس حرام بن
لھان ام حرام کا
بھائی تھا۔ بلغوا
قومنا المؤمنین کہ
کے الفاظ نہ تھے
اس حدیث میں
یہ ذکر ہے کہ ان کو
قرآن کے طور پر
پڑھا جائے تا جبکہ
ایسا معلوم ہوتا ہے
کہ ان شیدوں کی
یاد میں یہ کلمات بغیر
توگ دوہراتے تھے
خبر نعت کے ہی
تھے میں کہ بعد میں
انہیں ترک کر دیں
یا لیکن ہے اس غیبی
سے اسے روک دیا
میں ہو کہ وہ ان کا
کو قرآن کریم کا
ہی نہ سمجھتے تھے
ما شیء من شیء ہذا
ملا ہں سے کچھ
اقلات ہے ان
رسول اللہ صلی اللہ
علیہ و سلم قال
والذی فی سبیل اللہ
لا یجزم احد فی

سبیل اللہ واللہ اعلم بمن یكفر فی سبیلہ الاجاء يوم القيامة واللون لون ادم فارح السك . ملط وہ دو جہتیاں شہادت اور فتح
ہیں کہ دو فوں میں سے ایک تو شے گی۔ راٹائی کے ڈوں ہونے سے یہ مراد ہے کہ میں نے ڈوں کی دیو آنا کہیں چھیا تاہتہ اسی طرح راٹائی میں بھی غالب ہی ہوتی ہے کبھی غصیبی
ہوتی ہے۔ ملط یہاں ایک شعر لکھا وہ ہر گز آیات ان ہر ظاہر لہ اساتھ کہتے ہیں کہ تا جبکہ آیات فرجعت الحوب بھال دول قذذ لک ایل ایل لک ہوت لہم تقابقہ .
مکھتہ لاش کے کنگ کان وغیرہ اعضا کا کاروانا ہے

أَخْتَهُ بِنَائِهِ قَالَ أَسْنُ لَنَا تَرَى أَوْ نَظُنُّ أَنْ هَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ

علی حدیث کا یہ
آخری حصہ کتاب
الصالح میں گذر چکا
ہے۔ دیکھو ۱۲۵۹
جلد ۱ اس حدیث
کے الفاظ سے صحت
ظاہر ہے کہ حضرت
زید قرآن کریم کے
صحابیوں میں سے تھے
ہوئے وراق سے
نقل کر کے ایک
جگہ قرآن کریم کو
مصعق کی صورت
۱۲۵۹
میں جمع کر رہے تھے
عاندہ سے جمع کیے
کا ذکر یہاں ہو چکا
ہے ان کے
اس بیان کا کہ ان
بیت صرف ظن
شخص کے پاس ہے
لی صرف یہ مطلب
ہو سکتا ہے کہ وہ
کلمی ہوئی صورت
اسی کے پاس ملی
اصل بات یہ ہے کہ
قرآن کریم کی تحریر
مسودات متفرق
صحابا کے قبضے

بُنَّ - جس نے انہیں، انہیں کے پردوں سے پہچان لیا، اس کے ہی ہم سمجھتے تھے کہ یہ آیت ان کے اور ان مبسوط کے بارے میں اتنی ہے

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِمْ لِيُؤْتِيَهُمْ الْكِتَابَ فَذَلَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ آلِهِمْ وَقَالَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لِمَ نَجْعَلُ الْقَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا أَغْنَاءَ فِي الْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا خَالِفِينَ

من المؤمنین انہوں میں سے ایسے مرد ہیں جنہوں نے اس قسم کا عہد کیا تھا کہ ان کو کتاب دلا جائے اور ان کو اپنے گھرانے میں خالی رکھا جائے اور ان کو اپنے گھرانے میں خالی رکھا جائے اور ان کو اپنے گھرانے میں خالی رکھا جائے

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا قَوْمِ إِنِّي كُنْتُ نَذِيرًا لَكُمْ فِي آلِهَتِكُمْ إِذ بَدَّيْتُ إِلَيْكُمْ رَبَّكُمْ ثَلَاثَ نَجْدَاتٍ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَسْمَعُ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَأَهُ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَسْمَعُ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَأَهُ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَسْمَعُ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَأَهُ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَسْمَعُ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَأَهُ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَسْمَعُ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَأَهُ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَسْمَعُ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَأَهُ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَسْمَعُ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَأَهُ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَسْمَعُ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَأَهُ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَسْمَعُ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَأَهُ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَسْمَعُ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَأَهُ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَسْمَعُ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَأَهُ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَسْمَعُ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَأَهُ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَسْمَعُ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَأَهُ

میں تھے۔ اور تحریری یا کریم مصم کے زمانہ میں ایک جگہ جمع نہ ہوئی تھیں ورنہ عافظوں میں سارا قرآن شریف جمع تھا۔ اور کثرت سے احادیث سے ثابت ہے کہ کئی لوگ
نے میں کو پورا قرآن شریف حفظ تھا اور وہ اس کی باقاعدہ تلاوت کرتے تھے۔ زید بن ثابت کے سپہو جیسا کہ اس حدیث میں کھلی شہادت موجود ہے صرف
یہ کام کیا گیا تھا کہ وہ تحریروں کو بھی اسی ترتیب کے مطابق جمع کر دیں جس ترتیب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عافظوں کو یاد کیا تھا۔ اور اتفاق صدیقی
بات ہے کہ ایک آیت قرآنی ایسی ہی صحابی کے پاس تحریر میں موجود تھی۔ اور وہ صحابی ایسے تھے جو ذوالشہادتین کے لقب سے مشہور تھے کیونکہ کسی واقعہ میں نبی کریم صلی
نے صرف ان کی کھلی شہادت کی بنا پر ہی مقدمہ کا فیصلہ کیا تھا۔ یوں تو ایک تحریر کا ہونا کافی تھا۔ جب کثرت سے حفاظ اس کے تلمیذ ہی گواہ موجود تھے۔ لیکن زید کہتے ہیں
جو عربوں کو یاد کر گئے تھے۔ اس سے یہی معلوم ہوا کہ ایک گواہ کی گواہی پر بھی کسی مقدمہ کا فیصلہ ہو سکتا ہے جب وہ قابل اعتماد ہو۔ یہ یاد ہے کہ جو عربی نبی کریم صلی
خود کھلی شہادت کے خلاف ہونے سے ظاہر ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابی کا جگہ کرنا بھی وہ حقیقت ایک روحانی نجات دہندہ تھا۔ جنگ سے پہلے نیک کام کرنا بتا ہے کہ رسول اللہ
مسلم اور اپنے مسلمانوں کو لایا۔ اس قدر ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی طرف سے آئیں۔ نہ کہ اس کو نام کرنا چاہیے۔ جس میں قرآن کریم
میں صلحت سے فرما ہے۔ خلقا قتل فی سبیل اللہ الذین یشہدوا بالحیوة الدنیا یا بالحقوة (النساء ۷۴) خدا کی راہ میں وہ لوگ جنگ کریں جو دنیا کی زندگی کو آخرت میں بیچ
کئے ہیں حضرت اللہ انہوں کو قتل کرے گا۔ یہ ایک عملوں کی بدولت جنگ کرتے ہوئے اس کے مطابق ہے۔ یعنی ان جنگوں میں جو بعض حق کی حفاظت کے لیے تھیں تو بیخ شریعت ہی
ان لوگوں کو جہنم میں رکھ دیا جائے گا۔ ان میں شریعت کی توفیق نہ ملی اور وہ اسلام کی جنگیں تمام ذمہ داری خیالات سے پاک رہیں۔

(۱۳۹) عَنْ الْبَرَاءِ رَضِيَ يَقُولُ أُنِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مُقْبِنٌ

برائے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے سے نہ کو

يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَاتِلْ أَوْ أَسْلَمْ قَالَ أَسْلَمْ ثُمَّ قَاتِلْ فَأَسْلَمَ ثُمَّ

چھوٹے نے آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ جگ میں شامل ہو جاؤں یا اسلام لاؤں فرمایا اسلام لاؤ پھر جنگ کرو تو وہ اسلام لا پھر جنگ

قَاتِلْ فَقَاتِلْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمِلَ قَلِيلًا وَاجْرُ كَثِيرًا

میں شامل ہوا سو وہ قتل ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے کم کام کیا اور اجر بہت پایا

(۱۴۰) بَابٌ مِنْ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرِبٌ فَقَتَلَهُ (۱۲۹) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أُمَّ

باب جس کو غائبانہ شہید جگے اور اس سے وہ مر جائے انس بن مالک سے روایت ہے کہ ام الریح

الرَّبِيعِ بِنْتُ الْبَرَاءِ وَهِيَ أُمُّ حَارِثَةَ بِنْتُ سُرَّاقَةَ أُمَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

برائے بیٹی جو حارثہ بن سراقہ کی ماں ہے ام انس بن مالک سے روایت ہے کہ ام الریح

وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ الْا مُحَمَّدُ شَيْءٌ عَنِ حَارِثَةَ وَكَانَ قَتْلُ يَوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ سَهْمٌ

آئی اور عرض کیا یا نبی اللہ آپ مجھے حارثہ کے متعلق کچھ فرمائیے اور حارثہ بدر کے دن قتل ہوا تھا اسے غائبانہ شہید کیا گیا تھا

غَرِبٌ فَإِنْ كَانَ فِي الْحِجَّةِ صَبْرَتْ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي

گر وہ جنت میں ہو تو میں صبر کروں گی اور اگر ایسا نہیں تو میں اس پر بدل کھول کر دوں

الْبُكَاءِ قَالَ يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهُمَا جَنَّتَانِ فِي الْحِجَّةِ وَإِنَّ ابْنَكَ أَصَابَ الْقُرْدُ وَسَلَّمَ عَلَى

فرمایا حارثہ کی ماں جنت میں گئی باغ میں اور تیرا بیٹا تو فردوس اعلیٰ میں پہنچ گیا تھا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(۱۵) بَابٌ مِنْ قَاتِلٍ لَيَكُونَنَّ كَلِمَةً اللَّهُ هِيَ لَعْلِبًا (م- ۱۳۰۰) عَنْ أَبِي مُوسَى (متكبر)

باب جو اس نے جنگ کرے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے جنگ میں جگ کر کے کہا

(۱۰۸) (۱۶) بَابٌ مِنْ أَعْبَرَتْ قَدْ مَا هِيَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى مَا كَانَ كَاهِلًا

باب جس کے پاؤں پر اللہ کی راہ میں گزرتے اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ نہ اپنے دلوں کو نہ

الْمُدْيَةِ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (م- ۱۳۰۱) عَنْ أَبِي عَالِيَةَ (متكبر- ۵۳۹)

جائے اللہ اللہ کا اس قول تک ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین (الترہ- ۱۲۰) دیکھو حدیث ۵۳۹

۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

بنت النضر ہے۔ اس کا ذکر ۱۳۵۹ میں ہے۔ یہ حضرت انس کی بیوی ہیں۔ یہ حدیث میں صرف ایک ہی جگہ مذکور ہے۔ وہ بھی شہید کے حکم میں ہے۔
کلمہ ہے کہ حارثہ بدر کے دن حوض سے پانی پینے کے لئے آیا تھا کہ اسے تیرگ اور وفات پا گیا۔ یہ حدیث میں لفظ شہید نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فقال الرجل يقا تل للغمم والرجل يقا تل للذ كر والرجل يقا تل للبرى مكانة فمن في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فقد
في سبيل الله. یعنی کوئی لوٹ کے لئے جگ کرتا ہے کوئی شہرت کے لئے کوئی اپنی باوردی دکھانے کے لئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے
کوئی بھی فی سبیل اللہ نہیں۔ خدا کے نام کو بلند کرنے کے لئے جو جنگ ہو وہی جنگ فی سبیل اللہ ہے۔ یعنی جب دشمن کو کلمہ اللہ کو ماننا چاہتا ہے اور اس کو قائم
رکھنے کے لئے جنگ کی ضرورت پیش آئے تو وہ فی سبیل اللہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس شخص کے دل میں لوٹ کا خیال ہی آجائے اسکی جنگ فی سبیل اللہ نہیں
ہے پوری آیت یہ ہے ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان يخفوا عن رسول الله ولا يرضون باختصاصهم من خصه ذكرا منهم
لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يظنون مرطأ يغيظ الكفار ولا يمانون من عهد ولا يمشون لهم به عمل صالح
ان الله لا يضيع اجر المحسنين. جس میں یہ فرمایا کہ کسی شخص کو اللہ کی راہ میں پیاس کی تکلیف، گھانا کی پٹے یا جنگ کی یا جس کو کہ وہ فرمایا کہ اسکی
کے لئے اجر ملتا ہے۔ مگر روایت مختصر ہے ما غبرت قدام عبيدنا في سبيل الله فتمسه النار مني من انسان کے ہاں پر اللہ کی راہ میں گزرتا ہے
تو انہیں آگ نہ چھوئے گی۔ ہر ایک اس کو اللہ کی راہ میں جگنے وہ آگ سے صدمے کا ڈر نہ ہوگا اور جنت میں لیا جائے گا۔ یہ حدیث میں جگ کر کے سب سے اعلیٰ مقام ہے۔

علاء بن الغنایم
 بن ابن عباس
 قال له دخل ابن
 عبد الله استأبانا
 سعيدا فاسمعنا
 حديثه فأتيناه
 هو راخوكان في
 حائط لهما يسقيا
 فلما رأانا جاء
 فاجتنب وجلس
 فقال لنا انقل
 لبن المحيد لبنة
 لبنة وكان عمار
 يقول لبنتين لبنتين
 فسمعا النوصلي
 الله عليه وسلم
 عن راسه الغبار
 فقال دعه عمار
 قتله الفتة
 الباغية عمار بن
 الوليد بن عبد
 الملك بن عبد
 العزى بن عبد
 بن عبد
 بن عبد

(۱۷) **بَابُ مَسْحِ الْغُبَارِ عَنِ النَّاسِ فِي السَّبِيلِ (م- ۱۳۰۲) عَنْ عِكْرِمَةَ (مُتَكَرِّرًا - ۱۳۱۲)**

باب لوگوں کا گریختن جو لشکر کی راہ میں ان پر پڑی ہو

(۱۸) **بَابُ الْغُسْلِ بَعْدَ الْحَرْبِ الْغُبَارِ (م- ۱۳۹۵) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى**

باب جنگ اور غزوہ کے بعد غسل کرنا

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَجَعَ يَوْمَ مَا خُذَتْ دُورَةَ وَغَسَلَ وَأَخْتَسَلَ فَأَتَاهُ جِبْرَائِيلُ قَدْ

جب نضد کی جنگ سے واپس آئے اور ہتھیار اتارے اور غسل کیا تو حضرت جبرائیل آپ کے پاس آئے

عَصَبُهُ أَسُهُ الْغُبَارِ فَقَالَ دَضَعَتِ السَّلَاحَ وَأَضَعْتَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اور آپ کے سر پر فرما دیا تمہارا گناہ آپ نے ہتھیار اتار دیا لیکن خدا کی قسم میں نے نہیں اتارا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِنٌ قَالَ هَهُنَا وَأَدْمَا لِي بَنِي قُرَيْظَةَ قَالَتْ فَخَرَجَ رَأْسُهُمْ رَسُولٌ

وہم نے فرمایا تو کہاں کہا اور بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا حضرت عائشہ نے کہا تو رسول اللہ صلی

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (م- ۱۳۹۶) بَابُ فَضْلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا تُحْسِنُوا

ان کی طرف نکلے گئے

تُحْسِنُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالًا بَلَّ أَحْيَاءٌ وَعِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ فِرْعَوِينَ بِمَا آتَاهُمْ

جو لوگ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں ان کو مردہ دست سمجھو بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں انہیں رزق دیا جائے گا وہ اس پر خوش ہیں

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَحْفُوا بِهِمْ مِنْ حَلْفِهِمْ أَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

جو اللہ نے انہیں نے فضل سے دیا ہے اور ان کی وجہ سے (میں) خوش ہوں کہ ان کے ہتھیار سے انہیں نہیں ہے ان پر کوئی خوف نہیں

وَلَا هُمْ يَخْزُونَ يُسْتَبْشِرُونَ بِعَمَلِهِمْ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ

اور نہ وہ ٹھکنے ہوں گے اللہ کی نعمت اور فضل سے خوش ہوتے ہیں اور کہ اللہ ہر کام کو نفع مند بنا دیتا ہے

الْمُؤْمِنِينَ (م- ۱۳۰۳) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (مُتَكَرِّرًا - ۱۳۸۹) (۱۳۹۶) عَنْ جَابِرِ

راہل عمران - ۱۳۸۹ و ۱۳۹۶

دیکھو حدیث ۱۳۸۹

ابن کی طرف نکلے گئے

ابن عبد اللہ یقول اصطحبنا من لحم يوم احيد ثم قتلوا شهداء فقتل لسفين
عبداللہ سے روایت ہے کہ میں اہد کے دن کچھ لوگوں نے صبح کو شراب پی لی پھر وہ شہید ہو کر مارے گئے سفیان سے کسی نے کہا

من اخر ذلك اليوم قال ليس هذا فيه ۲۰ باب ظل الملائكة على الشهيد
کہا یہ دن کے آخر میں اس حدیث میں نہیں ہے باب فرشتوں کا شہید پر سایہ کرنا

۱۳۰۴- عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرج الی
دیکھو حدیث ۶۴۳ باب مجاہد کا آرزو کرنا کہ دنیا میں دوپس آئے

الدنيا قال لا ۱۳۰۵ عن انس بن مالك (متك) ۱۲۸۸ باب الجنة تحت بارقة
دیکھو حدیث ۱۲۸۸ باب جنت تلواروں کی چمک

السيف قال المغيرة بن شعبه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في
کہے ہیں کہ میں نے ان کے بارے میں بھی سنی ہے جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

ربنا من قتل منا صار الى الجنة وقال عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم ان
پہنچا یا ہے کہ ہم میں سے کوئی مارا جائے تو جنت میں جائیگا اور حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا

قتلنا في الجنة وقتلناهم في النار قال بلى ۱۲۹۶ عن عبد الله بن ابي اوفى
ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے قاتلوں آگ میں نہیں فرمایا جان عبد اللہ بن ابی اوفی سے روایت ہے

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعلموا ان الجنة تحت ظلال السيف
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان و

۲۳۳ باب من طلب الاوكاف لله يهدى الى الله ۱۲۹۷ عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله
باب جو جہاد کے لئے اولاد کی خواہش کرے گا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں

عليه وسلم قال قال سليمان بن داود عليه السلام لا طوفان الجنة على
فرمایا کہ سلیمان بن داؤد علیہما السلام نے کہا آج رات میں

وما توافر آفة ادر سبع وتسعين كلهن تأتي بفارس يجاهدني سبيل الله فقال له صاحبه
ساتھوں بیانا سے جو عربوں کے پاس جاؤ گے ہر ایک ان میں سے ایک سو اسی جیتے گی جو اشک کی راہ میں جو کہ لوگوں کے رہنے کے لئے ہے کہا

ان شاء الله فله يقبل ان شاء الله فله يرحل منهن راحة واحدة جاءت
انشاء اللہ تو انہوں نے انشاء اللہ کہا تو ان میں سے کسی کو حمل نہ ہوا سوائے ایک عورت کے جس نے ایک

يشق رجل والذى نفس محمد بيده لو قال ان شاء الله مجاهدني سبيل الله
ادھر آجیگا اس ذات کی قسم کہ محمد کی جان اس کے ہاتھ میں ہے اگر انشاء اللہ کہتے تو وہ سب کے سب ہاشمی زہ

بواسطیان سے
اسامیوں کی روایت
میں یوں ہے اصطحب
تو راہ اللہ اللہ
دقتوا اخر النهار
شہداء اور اس روایت
میں ہے کہ سفیان
کہا کہ حدیث میں
یہ لفظ نہیں کسی
دن کے اخیر شہید ہو
گئے شاید اس وقت
یاد نہ رہا ہو۔ احد
کی جنگ میں شہید
ہوا نہ ہوئی تھی وہ
مسلکیاں روایت
اقتلا الفاعل
سے اور کچھ روایت
کے ساتھ آئی ہے
جی ہاں ابی النبی
صلی اللہ علیہ وسلم
دقتا مثل بوضع
میں یہ نہ فضاہیت
الفن عن وجہہ
نہانی قومی قسم
صوت صاحبہ تقبلا
اہلہ عمرو واحد
عمرو فقال لوبلی
اولا جیک ما زالت
الملائكة تظله
واجف تھا قلت
فصلت انیہ حتی

رفع قال رجا قال۔ اس حدیث میں فرشتوں کے جابر پر جو شہید ہو گئے تھے سایہ کرنے کا ذکر ہے۔ اور ظل سایہ سے مراد عورت خافت اور آسائش لی جاتی ہے جیسا کہ معنوں میں آ
مسلکیاں صرف یہ لفظ ہیں۔ ما احد واحد لحدیث جہاں روح اللہ اللہ اللہ ماعلی الارض من شی الا التھید یعنی ان روح اللہ اللہ اللہ فیقتل عشورات لمایر من الکرامہ
یعنی ایسا لگا دیتے ہیں جیسا کہ ان کا فہم عام نہیں ہے بلکہ محض تلوار چلانے سے جنت نہیں جی کا وہی تو تلوار چلانے میں اور اگر کہا جائے کہ مسلمانوں کی تلواریں مراد ہیں تو وہ مسلمان ہی
ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لئے تلوار چلائیں تو حدیث میں ہے کہ وہ توں آگ میں جاتے ہیں۔ پس ان الفاظ کو اس شرط سے مشورہ ماننا ہے کہ خافت میں کہ
لے جو تلوار اٹھے وہ انسان کو جنت میں بھیجے گا کہ موجب ہوتی ہے کہ اگر وہ ان مشربین میں صاف شرط ہے تا کہ ان فی سبیل اللہ الذین یقاتون کفر اور شرط ہے اذن اللہ میں
یقاتلون بانعم ظلمہ کسی شخص کو مسلمان کرنے کیلئے تلوار اٹھانا قرآن کریم کی تعلیم کیلئے یا اگر وہ ان فی سبیل اللہ الذین ہیں جو شخص کسی کو مسلمان کرنے کیلئے تلوار اٹھاتا ہے
وہ بھی جنت میں ہوا بلکہ قرآن کریم کے ایک حکم کو توڑتا ہے یہ بھلا ٹوٹ دیکھو۔ مراد دشمن سے اسلام کا چھانا ہے اور جس تلوار سے بھاگی ہو وہ جنت میں ہے جنت
تلوار سے سایہ کی جیسی ہی طرح ظلم سے چھانے کے فریب سے جنت کے ظلم کے سامنے کے نیچے پر جیسا کہ اللہ کیا جا سکے یہاں یعنی یہاں سے فریب سے کہ اس کے ہاں ایسی اولاد ہو کہ وہ جہاد کرے وہ

۱۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام تھا۔
 ۲۔ اس میں کے تحت تین جہاں ہیں۔
 ۳۔ جہاں ہوگی قرآن شریف میں اس کو جس کے نام سے
 ۴۔ یعنی جس کو گویا اس میں روح بخاری دلفینا
 ۵۔ علی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
 ۶۔ ص۔ ۳۴۴ میں حدیث
 ۷۔ میں جو ادھو سے کا
 ۸۔ غدا آیا ہے رشتہ
 ۹۔ (جمل تو اس سے ملو
 ۱۰۔ جس میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ دنیا و اخلاق
 ۱۱۔ فائدہ سے عادی تھا
 ۱۲۔ کیا حضرت سلیمان
 ۱۳۔ ایک ہی رات میں اپنی
 ۱۴۔ سو بیویوں کے پاس
 ۱۵۔ گئے تھے وہ بات
 ۱۶۔ باہر کرنے کے قابل
 ۱۷۔ نہیں ہزار میں اسے
 ۱۸۔ مجبور قرار دیتے ہیں
 ۱۹۔ ہر سوال۔ یہ ہے کہ حدیث کے ظاہر الفاظ سے
 ۲۰۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں اونگھنی
 ۲۱۔ اور وہ نہیں ہوتی تو
 ۲۲۔ کیا اس ایک رات
 ۲۳۔ کے سوائے نہ ماری
 ۲۴۔ عمر بیویوں سے بیٹھو

فُرُسَانًا أَجْمَعُونَ (۲۴) بَابُ الشَّجَاعَةِ فِي الْحَرْبِ الْجَبِينِ (م۔ ۶۔ ۱۳۰) عَنْ أَنَسِ رَمْتَكُرٍ

۱۳۱۔ (۱۲۳۱) (۱۲۹۸) عَنْ جَبْرِ بْنِ مَطْعَمٍ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْرِ بْنِ مَطْعَمٍ رَوَيْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ

دَمَعَةُ النَّاسِ مَقْفَلَةٌ مِنْ حَنِينٍ فَوَلَقَهُ النَّاسُ يَسْتَلُونَ نَهْ حَتَّى ضَطْرُّوهُ إِلَى سَمْرُقٍ

فَخَطَفَتْ رِدَاءَهُكَ نَوَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْطَوْنِي رِدَائِي لَوْ كَانَ بِي

عَدُوٌّ هَذِهِ الْعِصَاةُ لَعَمَّا لَقَسْتُمَا بَيْنَكُمْ ثُمَّ لَزِمْتُمَا بِي بَخِيلًا ذَلَالًا وَبَاؤًا وَاجِبَانًا

(۲۵) بَابُ مَا يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَبِينِ (۱۲۹۹) عَنْ شُرَيْبِ بْنِ مِهْمُونٍ الْأَدَوِيِّ قَالَ كَانَ سَعْدُ

يَعْلَمُ بِنَبِيِّهِ هُوَ كَأَنَّ الْكَلِمَاتِ كَمَا يَعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْبُلْمَانَ الْكِتَابَةَ وَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُمْ بِدُبْرِ الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ

الْجَبِينِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرْدَى إِلَى أَرْضِ الْعُصْبِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ

مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ حَدَّثْتُ بِهِ مُصْعَبًا نَصَبْتُهُ بِإِذْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجَبِينِ الْهَرَمِ

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمِحْيَاءِ وَالْمَمَاتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ (۲۶) بَابُ هَوَى

حَدَّثَ مَشَاهِدُهُ فِي الْحَرْبِ قَالَهُ أَبُو عَثْمَانَ شَرِّ سَعْدِي (۱۳۱) عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ

وہ ہے یہ بھی باہر کرنے کے قابل نہیں۔ اور یہ مجبور تھا تو کس کے لئے؟ یہ بھی کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تیس یا چالیس مردوں کی قوت دی گئی تھی مگر اس کی تائید میں جو حدیث بیان کی جاتی ہے اس میں ہر رات سے کچھ مذکور نہیں سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض وقت سے بیویوں کے ہاں ہوم کر جس بیوی کی باری تھی اس کے ہاں سوائے ہوں۔ اور حضرت عائشہ کی حدیث صحیحی میں اس حدیث سے ۱۳۱ کے تحت نقل کی گئی ہے۔ یہ دخل، علی کل نساءہ دیدن زمین کل امراۃ منھن یقبل ویلقن من غیر صلیب وکما یلقون۔ یہ حدیث وارد نقل کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھنٹے سے بہت محبت کی جاتی تھی ان سے محبت کی باتیں کہنے کے لئے تھا اور بعض نے یہ کہا ہے کہ حضرت سلیمان ہر خرابی اپنی سب بیویوں کے پاس جلتے تھے۔ یہ اور بھی زیادہ بعید از قیاس ہے تو انہی عبادت کا وقت کو سنا تھا اصل بات یہ ہے کہ اہل حدیث نقل میں ان بیویوں نے عمر زیادہ نکھن نہیں کیا اور لا طرفین البیلة علی ما نأمة امرأۃ کسی ادی کی بلاعتیا کی خبر نہیں۔ لیکن ہر کہ حضرت سلیمان نے لا دلا کی خاطر ہی بیویوں سے نکاح کیا جو کہ کھنٹا تھا روایت میں فرق ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واصحبہم الناس ویجوہہ الناس لفقہرہ اهل المعینۃ تکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سببقدم علی فوسن قال وجدنا ہا ہجرا۔ اس حدیث میں اس ذکر کے بعد کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ شجاع اور زیادہ ہمتی تھے یہ ذکر کرتا ہے

ہر کہ جب غلہ محسوس ہوا تو آپ سے پہلے گھٹے بر سوار ہو کر مقابلہ کیے تھے لیکن یہ اتنا درجہ کی شجاعت ہو گئی کہ کسی کو ساتھ لینے کی بھی ضرورت نہ تھی اور کسی حال میں نہ تھکتے تھے اور انہوں نے ہر

قَالَ صَبِيحَةُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهُ رَضِيَ وَسَعْدَانَةُ وَالْمَقْدَادِيُّ بْنُ الْأَسْوَدِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ

کہا میں نے صبحیہ بنت عبد العباس اور سعدہ اور مقداد بن اسود اور عبد الرحمن

ابْنِ عَوْفٍ فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بن عوف کے ساتھ رہا تو میں نے ان میں سے کسی کو نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث بیان کرتا ہو

إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ يَوْمِ أُحُدٍ (۲۷۰) بَابُ وَجُوبِ التَّغْيِيرِ وَمَا يَجِبُ

اللہ تعالیٰ کو سن کہ اہل بدر کے متعلق بیان کرتے تھے کہ بَابُ رَجَاهِ كَيْفِيَّةِ التَّغْيِيرِ رَاجِبٌ هُوَ اَوْرَجَاهُو اَوْرَجَاهُو

مِنَ الْجِهَادِ وَالنِّيَّةِ وَقَوْلُهُ الْفِرْدُ اخْفَانًا وَتَقَالًا وَجَاهِدُوا يَا مَوَالِكُمْ وَالْفَيْكُمُ

کی نیت رکھنے کا وجوب اور اشد تعاقب کا قول الفرد الجمی اور بھول نکل پڑا اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا

اشد کی راہ میں جہاد کرنا یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو اور اگر فائدہ جلد سے والا اور سفارستان

قَاصِدًا لَا تَبْعُونَكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ الْآيَةَ وَقَوْلُهُ

ہوتا تو ضرور تمہارے پیچھے ہوتے لیکن شقت کا سفر انہیں بہت دور کا معلوم ہوا اور اشد کی قسمیں کہیں کہیں گے آخر آیت تک (رقعہ ۱۲۰-۱۲۱)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ الْفِرْدُ وَإِنِّي سَبِيلُ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ

اور اشد کا قول ہے لو جو جو ایمان لائے ہو تمہارا کیا غم ہے کہ جب تم کو کہا جائے کہ اشد کی راہ میں نکل پڑو تو بوجھل ہو کر زمین

إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ يَا حَيَوَةَ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ إِلَى قَوْلِهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَدِيدٌ

کی طرف جھک جاؤ کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی پر ہنسی ہو گئے مگر دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابل میں اللہ تعالیٰ کے قول میں

يَذُكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ فِي الْأَنْبِيَاءِ سِرًّا مُتَغَرِّقِينَ يُقَالُ أَحَدُ الثَّيَابِ ثَيْبَةٌ

ابن عباس سے ذکر کیا جاتا ہے کہ انگریزوں کے ہنسنے میں چھوٹے چھوٹے دریاں اور ایک ایک گڑھ کہا جاتا ہے کہ ثياب کا واحد ثيب ہے

(م-۱۳۰۷) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (م-۱۹۰) (۲۸) بَابُ الْكَافِرِ يُقْتَلُ أَسْلَمَ ثُمَّ سَلِمَ

دیکھو حدیث ۹۰ باب کا فرمان مسلمان کو قتل کرنے پر اسلام لانا سہل

فَيَسَّرَ دُبْعًا وَيُقْتَلُ (۱۳۰۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

مضبوط دُبْعًا اور اشد کی اس میں قتل کیا جاتا ہے ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

قَالَ يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يُقْتَلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرُ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هَذَا فِي

اشد اور دوسروں پر خوشی کا اظہار فرماتا ہے کہ ان میں سے دوسرے کو قتل کرنے دونوں جنت میں جائیں گے۔ اشد کی راہ میں لڑنے کا فرمان

سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ نَسْتَشْهَدُ (۱۳۰۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ

ہے پھر اشد کا قول پر روج رحمت کرنا ہے اور وہ شہید ہوجاتا ہے کہ ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ

أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُحِبُّ بَعْدَ مَا أَفْتَحُوا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْرَمُ

میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ غصہ میں تھے بعد اسکے کہ مسلمان انہیں فتح کرچکے تھے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی

لِي فَقَالَ لِحُصِّ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ لَا تَسْرَمُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ هَذَا

حصہ لیبہ و سعید بن عاص کے بیٹوں میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی ہریرہ نے کہا

قَاتِلُ ابْنِ تَوَيْلٍ فَقَالَ ابْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَجِبًا لَوْ بَدَأْتُ عَلَيْنَا مِنْ قُدُورٍ

ابن تویل کا قاتل ہے تو سعید بن عاص کے بیٹے نے کہا اسے جانور کہتے ہیں جو ہمارے پاس قدم خان

ضَانٍ يَنْبَغِي عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ مُسَلِّمٍ أَلَا تَرَى أَنَّهُ سَلِمَ يَدِي وَتَحْتِي يَدِي عَلَى يَدَيْهِ قَالَ لَا أَدْرِي

ہے آیا ہے مجھ پر ایک مسلمان شخص کے قتل کا الزام کیا جاتا ہے اشد نے میرے ہاتھوں سے (شامت کی عزت دی اور مجھے نہ کے ہاتھوں سے لیا میں نہیں کہتا)

کتاب جنگ کے لیے واقعات بیان کرتے ہیں صحیح بخاری میں اپنی یا کسی اور کی طبیعت کا ذکر جو یہ آیت آیت قرآنی سے جہاد کے لئے لکھے کہ وجوب ثابت کیا ہے مسئلہ ان النبی صلیم قال یرد الفجر ھجرت بعد الفجر دکن جہاد و دنیا و الدنیا استغفر یرد الفجر ہی الفجر ۱۲۹ کے ہیں سورہ انکے کہ وہ ۶۱ یوسف الفجر کا ذکر نہیں یہ افادہ ۹۷ میں نہیں نکلاں کی مکر روایت م-۱۸۱ میں ہے کہ مفردات راقب میں ہے کہ فضول کا استعمال بعض خوش ہونے پر بھی ہوتا ہے اور صرف تعجب ہی اس کا استعمال ہوتا ہے اور نایاب میں ہے کہ حساب ربا دل کے متعلق آیا ہے۔ یعنی احسن الضحاک اور مراد اس کا بکلی کی روشنی سے جگ اٹھانے اور زمین کا ضحاک اسکی وہی شکل کا لکھنا ہے۔ اس میں اشد تعالیٰ کے فضل پر قیاس ہو سکتا ہے

مکر وہ اس کا اظہار خود بخود ہی ہے۔ مگر رحمت کے نزول سے پہلے جو

اسْمُهُمْ لَهُ أَمْ لَهُ سِيْرُهُمْ لَهُ (۲۹) بَابٌ مِنْ اخْتَارَ الْغَزْوَ وَعَلَى الصُّومِ (۱۳۰۴) عَنْ

تو مجھے علم نہیں کہ اسے حملہ لایا جائے یا نہیں ولایا گیا بَاب جو جہاد کو روکنے پر مقدم کرے انس بن

أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ قَالَ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ لَا يَصُومُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ماک سے روایت ہے کہ ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جہاد کی وجہ سے

مِنْ أَجْلِ الْغَزْوِ فَلَمَّا قَبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ أَرَاهُ مُقْطِعًا الرَّأْيَ يَوْمَ فَطَرَ أَوْ

روزہ نہ رکھتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو میں نے ان کو میدانِ فطرت اور بقرہ جید کے گن کے سوا ان کا

أُضِيَ (۳۰) بَابُ الشَّهَادَةِ سُبْحَةَ سُبْحَى لِقَتْلِ (۳۰۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّمًا ۲۲۵)

کی جہاد میں کچھ ایسا بَاب مارا جانے کے سوائے شہادت سات شہر کی سے ہے دیکھو حدیث ۲۲۵

(۱۳۰۵) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَا عَوْنُ شَهَادَةِ

انس بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ عاون ہر ایک مسلمان کیلئے

بَابٌ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى

شہادت ہے بَاب اللہ تعالیٰ کا قول لا یستوی القاعدون المؤمنین مومنوں میں سے وہ پہلے پہنچنے والے کو

الضَّرِيْرُ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ

جن کو کوئی دکھ نہیں اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ

بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ أَحْسَنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ

جہاد کرنے والوں کو بیٹھے ہوئے والوں پر اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو جہاد کرنے والوں کو

الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ إِلَى قَوْلِهِ غَفُورًا رَحِيمًا (۱۳۰۶) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَمَّا

دالوں کو بیٹھے ہوئے والوں پر اللہ نے غفوراً رحیماً کہا (۱۳۰۶) ابن عباس سے روایت ہے کہ میں جب

نَزَلَتْ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ الْجَدَاءِ

یہ آیت (۱۳۰۶) اتنی لا یستوی القاعدون المؤمنین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا

يَكْتَفِي فَلَئِنَّهَا وَشُكَايِنَ أَمْ مَلَكُوتُهُمْ صَرَّارَةٌ فَانزَلَتْ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

وہ شہادت کی جگہ پر لڑے اور ان کو کہتا ہوں کہ تم نے اپنی زبانوں کا عذر کیا تو یہ آیت اتنی لا یستوی القاعدون المؤمنین

غَيْرَ أُولَى الضَّرَرِ (۱۳۰۷) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّعْدِيِّ أَنَّهُ قَالَ آيَةُ مَرْدَانَ بْنِ الْحَكَمِ

غیر اولی الضرارہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے مردان بن حکم کو

عَلَى الْبُحْرَانِ وَذَكَرَ فِيهِ
میں اس کے خلاف
ہے یعنی سعید بن
الغاص کے بیٹے ان
نے جنہیں آنحضرت
صلعم نے ایک چوٹی
سی فوج کے ساتھ
جنگ کرکرت جیسا تھا
اور فوجی قبیلے کے جد
دراپس آیا بخبر کے
مال غنیمت میں سے
حصہ مانگا تو ابو ہریرہ
نے کہا کہ ان کا کوئی
حق نہیں لیکن ہے
دونوں باتیں درست
ہوں۔ قدامت ایک
موضع کا نام ہے
اور مکان بعض کے
زیر ایک ایک پہاڑی
کا نام ہے۔ دوبر
میں سے شاہد ایک
چھوٹے سے پہاڑی
جاؤں کا نام ہے +
مراؤ نقلی روزہ ہے
جہاد کی وجہ سے
روزہ نہ رکھنے سے
یہ مراد ہے کہ نقلی

روزہ اس لئے نہ رکھتے تھے کہ گروہ ہوجائیں گے اور جہاد نہ کر سکیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تزکیہ نفس کیلئے روزوں پر جہاد مقدم ہے۔ آج طرح حج کے وظائف اور
چلے نکل آئے ہیں جنہیں جہاد پر مقدم سمجھا جاتا ہے۔ مثل عنوان ایک حدیث کا ملکہ ہے جسے امام مالک نے بروایت جابر بن عتیق بیان کیا ہے اس میں ہے۔ الشہداء
سبحة سوی القتل فی سبیل اللہ۔ حدیث بَاب میں مقبول کے سوائے چار کا ذکر ہے تین اور حسب ذیل ہیں۔ حریق (جو جل جائے) و صاحب قات الجنہ والموءلثون و
یعنی ایسی عورت جو حالتِ زہیگی میں مر جائے۔ اور فوج اہل باری میں ہے وقت اجتماع لئامن الطرق الجہادۃ و اکثر من عشورین خصلت یعنی معتبر مساندوں سے ہلنے پاس
شہادت کی وجوہات میں سے زیادہ جمع ہوئی ہیں۔ چونکہ شہادت صرف سامان کیلئے ہے اس لئے مراد وہاں مسلمان ہی ہے۔ یعنی مسلمان جب ایسے طور پر ذات پاجائے
تو وہ بھی اس کے لئے شہادت ہے۔ بغیر اسی معلوم ہوتا ہے کہ قبضی موت کے سوائے جس قدر حادثات سے یا دباؤں سے موت ہوتی ہے اس کو شہید کے حکم میں قبول
کیا ہے۔ حادثات اور دباؤں میں ایک امر تو یہ ہے کہ وہ انسان کے اختیار سے باہر کی باتیں ہیں اور ایک مسلمان کے دل میں خدمت دین یا خدمت مخلوق کا جوش ہوتا
ہے مگر اتفاقی موت سے جو کسی حادثہ یا دباؤ کی وجہ سے پیش آجائے وہ اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ اس کے قلب کی حالت پر اسے اجر دے دیتا ہے اور
حادثات اور دباؤں میں خلق خدا کی خدمت کرنے والے بھی جان دیتے ہیں۔ اور یہی شہادت ہے۔ اور حدیث صحیح میں ان لوگوں کو بھی شہداء میں لکھا ہے من قتل دون
مالہ فهو شہید من قتل دون اھلہ فهو شہید۔ من قتل دون دینہ فهو شہید۔ من قتل دون دینہ فهو شہید یعنی جو شخص اپنے مال کی مخالفت کرتا ہوا مارا جائے۔ جو اپنے اہل
کی مخالفت کرتا ہوا مارا جائے۔ جو اپنے خون کی مخالفت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے۔ بلکہ حدیث میں ہے کہ اگر کسی کو دباؤ سے ہوا مارا گیا ہو۔ الشہداء

جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ زَيْدَ بْنَ نَابِتٍ أَخْبَرَهُ
 کہ میں بیٹھا ہوا تھا تو میں آگے کے پہنچے بیٹھا گیا تو انوشیخ کو خبر دی کہ زید بن نابت نے انہیں خبر دی
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْلَى عَلَيْهِ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لا یستوی القاعدون من المؤمنین والجاہدون فی سبیل اللہ
 الْجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَلْتَمٍ وَهُوَ يَمْلَأُ عُلْقًا فَقَالَ يَا
 کہ آیت کھولنی شروع کی تو ابن ام ملتوم آپ کے پاس آئے اور آپ یہ آیت مجھ سے کھول رہے تھے اس نے
 رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَسْتَطِيعَ الْجَاهِدُ جَاهِدْتُ وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ
 عرض کیا یا رسول اللہ میں جہاد کر سکتا تو ضرور کرتا اور وہ نابینا شخص تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے رسول پر اتارا
 تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَخَذَهُ عَلَى فُجْزِي فَنَقَلْتُ عَلَى حَتَّى خَفْتُ
 اور آپ کی زبان میری زبان پر تھی تو وہ مجھے اتنی بوجھل معلوم ہوئی
 أَنْ تُرَضَّ فُجْزِي ثُمَّ سَرِمِي عَنْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرَ أَوْلَى لِنَصْرِهِ (۳۲) بَابُ
 کہ مجھے ڈر ہوا کہ میری ران ٹوٹ جائیگی پھر وہ دست دھوئی، جاتی رہی تو اس نے اتارا غیر اولیٰ النصر علیہ
 الصَّبْرِ عِنْدَ الْقِتَالِ (۳۰۷) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَدْنَى لَتَبْتُ فُقْرَانَهُ أَنْ
 رات کے وقت ثابت قدم رہنا عبد اللہ بن ابی ادنی سے روایت ہے انہوں نے کہا تو میں نے اسے پرھا کہ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا الْقِيَامُ هُمْ وَأَصْبِرُوا (۳۳) بَابُ التَّخْرِيفِ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ران سے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو بَابُ رُؤْيَى كَيْ رَضِيَ
 عَلَى الْقِتَالِ تَوَلَّاهُ تَعَالَى حَرْضُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ (۳۰۸) عَنْ أَبِي يَعْقُوبَ حَرْجِ
 دلانا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان مؤمنوں کو لڑائی کی ترغیب دینا اس سے روایت ہے کہ میں نے
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْخَنْدَقِ فَاذًا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ مَخْفَرِينَ فِي
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ خندق کی طرف نکلے تو مہاجرین اور انصار میں کے وقت سری
 غَدَاةٍ بَارِدَةٍ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عِبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَهُمْ فَلَمَّا رَأَوْا عَلَى يَدِهِمْ مِنَ النَّصْرِ الْجَوْرَ
 میں خندق اکھڑ رہے تھے ان کے غلام نہ تھے کہ انکے لئے یہ کام کرتے جب آپ نے ان کی محنت اور محسوس کی حالت دیکھی تو
 قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشَ الْآخِرَةِ + فَأَغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ + فَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ
 اے اللہ زندگی تو آخرت کی ہی زندگی ہے تو انصار اور مہاجرین کو مغفرت دے انہوں نے جو اپنے ہونے کا
 حَسْبُ الَّذِينَ يَأْبَعُوا أَحْمَدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا
 ہم ہی وہ ہیں جنہوں نے محمد کی بیعت
 جہاد پر کی ہے ہمیشہ کے لئے جب تک ہم زندہ رہیں
 (۳۴) بَابُ حَفْرِ الْخَنْدَقِ (م- ۱۳۰۹) عَنْ أَبِي أَنَسٍ (م تکرر- ۱۳۰۸) (م- ۱۳۱۰)
 باب خندق کا کھودنا دیکھو حدیث ۱۳۰۸
 عَنِ الْبَرَاءِ (م تکرر- ۱۳۰۹) (۱۳۰۹) عَنِ الْبَرَاءِ رَفِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
 دیکھو حدیث ۱۳۰۹ برابر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ يَمْقُلُ لَلرَّابِ وَقَدْ أَرَى الرَّابِ بِيَاضِ
 جنگ احزاب کے دن دیکھا میں ڈھول بجاتے تھے اور مجھے نے آپ کے پیش کی سفیدی کو دیکھا

کے کئی من افعات
 کے پیش آئے پھر وہی
 نازل ہوئی تھی وہ
 خط ترغیب دلانے
 کی ضرورت اس لئے
 تھی کہ مسلمان دشمن
 کے مقابلہ میں محنت
 کو درو تھے مگر یہی
 لڑائی تھی جس کی
 ابتداء دشمن کی طرف
 سے ہو چکی تھی پینا
 امام بخاری جو حدیث
 اس کے مات لائے
 ہیں وہ غزوہ خندق
 کا واقعہ ہے جس
 میں دشمن نے محمد کر
 کے مدینہ کا محاصرہ
 کر لیا تھا اور صحابہ
 سخت مشکلات میں
 تھے
 خط یہاں روایت
 یوں ہے جعل
 المہاجرین والانسار
 یخفون الخندق
 حول المدينة وظنوا
 الغراب علی ہتھولہم
 ويقولون نحن الذين
 يابعون احمدًا على
 الاسلام ما بقينا
 ابداً ويقولون اللهم
 انه لا خير الاخير
 الاخرة فبارك في
 الانصار والمهاجر
 میان ذکر ہے کہ صحابہ
 نے ابتداء دشمن پر
 فن الذين يابعون
 اور انصاف صحابہ
 جہاد فرمایا ۱۳۱۰ کا

خیر اور یہ ایک خلاف ہے جو اور یہ بیان جو انکے آنحضرت صلعم نے ابتداء فرمایا اور صحابہ نے جواب دیا۔ اور وہاں بیعت علی الجہاد ذکر ہے وہاں بیعت علی الاسلام کا ذکر ہے جو ان کے

مہاجرین اور انصاریوں کے فرق ہونے سے کوئی بہت دقت نہیں ہوتا۔ بلکہ مکرر روایت صحیح ہے۔ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نقل کیا اور انہوں نے انہوں کو

بَطْنِهِمْ وَهُوَ يَقُولُ لَوْ لَأَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا - وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلِّينَا + فَاَنْزِلْ

ای تھا اور آپ بڑھ چکے تھے اگر وہاں نہ رہتے تو ہم ہدایت نہ پاتے اور نہ صدقہ دیتے اور نہ نماز پڑھتے تو ہم یہ

السَّالِئِينَ عَلَيْنَا وَتَبَّتْ أَلْقَادُ أَمَانُ لَا قَيْنَا + رَأَى الْأَوَّلَى قَدْ بَعُوْا عَلَيْنَا + إِذَا أَرَادُوا

تسکین اتار اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ جب ہم دشمن کے مقابل ہوں انہوں نے ہمارے خلاف فساد برپا کرنا ہے جبہ ہفتا تھا ہاتھیں

فِتْنَةٌ أَبَيْنَا (۳۵) بَابُ مَنْ حَبَسَهُ الْعُذْرُ عَنِ الْغَزْوِ (۱۳۱) عَنْ أَنَسٍ جَعَلْنَا مِنْ

ہیں تو ہم انکا کرتے ہیں بے باب مجھے جہاد سے کوئی مذکورہ دے اس سے روایت ہے کہ ہم جنگ

غَزْوَةٌ تَبَوُّوكَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (روفي رواية) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

جنگ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آ رہے تھے اور ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزَاةٍ فَقَالَ لَأَنْ أَوْ أَمَا بِالْمَدِينَةِ خَلَفْنَا مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلَا وَا دِيًّا

کسی جنگ میں تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جنگ لوگ ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں ہم جس جگہ تھے یا میدان میں بیٹھے ہیں

رَأَوْهُمْ مَعْنَاهُ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ (۳۶) بَابُ فَضْلِ الصَّوْمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (۱۳۱) عَنْ

وہ اس میں ہمارے ساتھ تھے انکو مذوری نے روک دیا ہے باب اشرفی راہ میں روزہ رکھنے کی فضیلت میں ابو سعید

أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعْدَ

حدیث سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے ایک دن اشرفی راہ میں روزہ رکھا تو

اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا (۳۷) بَابُ فَضْلِ لَتَفَقَّةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

ایک چہرہ ستر میں روک دیا ہے اور آگ سے دور کر دے گا باب اشرفی راہ میں خراج کرنے کی فضیلت

(م- ۱۳۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر- ۹۶۲) (م- ۱۳۱۲) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (متكرر- ۸۵)

دیکھو حدیث ۹۶۲ ۵ دیکھو حدیث ۸۵

(۳۸) بَابُ فَضْلِ مَنْ جَاهَلَ غَارِيًّا أَوْ خَلَفَهُ بِخَيْرٍ (۱۳۱۲) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ رَسُولَ

باب اس کی فضیلت جو غریب کا سامان تیار کرے یا اسکی پیچھے رائے گھر باگی اچھی طرح فرمائے زید بن خالد سے روایت ہے کہ رسول

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَاهَلَ غَارِيًّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَاؤُ مِنْ خَلْفِ

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اشرفی راہ میں غریب کا سامان تیار کرے تو اس نے جہاد کیا اور جو مجاہد فی سبیل اللہ کے پیچھے

غَارِيًّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَاؤُ (۱۳۱۳) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رہا کہ اشرفی راہ میں اچھی طرح ہر گھری کرے تو اس نے جہاد کیا ہے اس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

کے لئے اسی پیرہن کرتے ہیں اس حدیث سے یہی ثابت ہوا کہ سامان جو ہر جنگ کرتے تھے اور کار فرما دینی کر کے ان پر حملہ آور ہوئے تھے ان الادی قد اجعلنا

مطلے ان کا ذکر سورہ توبہ کی آیت ۹۱-۹۲ میں ہے۔ بولتے، بیمار، اور جن کے پاس سواری کیسے سامان نہ تھا ان میں شامل تھے۔ مطے فی سبیل اللہ روزہ رکھنے

سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے روزہ رکھنا ہے۔ یا منکن ہے ہما میں بھوک کا برداشت کرنا مراد ہر وہ ملک اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ایک آگ ہے۔ جو شخص

اشرفی راہ میں بھوک پائیں کی شدت برداشت کرتا ہے وہ نافرمانی کی آگ سے دور ہو جاتا ہے۔ مہ مکر روایت مختصر ہے من افق زوجین فی سبیل اللہ دعا خزنة

الجنة كل خزنة باب اى فلهم قال ابو بكر يا رسول الله ذاك الذي لا تولى عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انى لا رجوان تكون منهم فمكك لست

میں زوجین خراج کرنے سے کی مراد ہے۔ شاعرین، شہتہ ہیں دور پیے یا دوا اور شرفیاں یا دوتلو اور ہیریا دو گھوڑے وغیرہ مگر ایک اشرفی پر دو روپوں کو کس طرح ترجیح ہے

یا ایک گھوڑے پر دو تلو اور دو روپوں کو کیا ترجیح ہے یہ کچھ نہیں آتا اور میری زوجی خصوصیت کیوں ہے۔ دس یا سو یا ہزار کیوں نہیں کیونکہ اس پر اجرت بڑا ہے۔

جس کی آمد حضرت ابو بکر کی کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم ان میں سے ہو گے۔ میرے نزدیک زوجین سے یہاں مراد وہ دو ظلم انسان

زوج ہیں جن کے بار بار اتفاق کی تائید قرآن شریف میں آتی ہے۔ سال و ربان۔ یہی وہ حقیقت ایک دوسرے کے زوج ہیں اور مال اور جان دونوں کو خراج کرنے پر ہی

بڑے بڑے وعدے ہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة جہاد و زوجین دونوں اللہ کے حضور چل کر دیتا ہے وہی ہے جو بیعت

ہے کہ اسے جنت کے ہر دروازے سے چلا جائے۔ ملک کر روایت میں ہے کہ انہوں کو تیسرا لٹاؤ سے دوہرایا گیا ہے۔ یہاں فقہیل لدا یا انہ نزل علیہ باقی برصہ ۶۵

ملے جس طرح صحابہ
خندق کھد کر منی
ڈھونپے تھے اسی
طرح سردار دو جہاں
ہیں ان کے ساتھ
مل کر مردوروں کی
طرح ملی ڈھونپے
تھے۔ اسی طرح آپ
صحابہ کے ساتھ ہر
ایک ماہ میں شریک
ہوتے تھے۔ موجودہ
بادشاہوں، امیروں
اور بیروں کی طرح
ایسا کر کے کارواں
کو کام کا حکم دیکر
خروج کا مشورہ دیکھتے
ہوں۔ اور یہی امر
آپ کی صداقت
کیسے کافی ہے۔
عزت اور وجاہت
کے خواہشمند اس
نزد نہیں رکھ سکتے
پھر کسی خاص عہد
ہے کہ اپنے تمام
نیک کام اشرفی
احسانات میں سے
سمجھتے ہیں اور اپنی
کامیابی اور فحش

لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ بَيْتًا بِالْمَدِينَةِ غَيْرَ بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ لِأَنَّ أَرْوَاحَهُ نَفِيَتْ لَهُ

اپنی بیویوں کے سوا مدینہ کے کسی گھر میں نہ جاتے مگر ام سلیم کے گھر میں۔ آپ سے روایات کی گئی

فَقَالَ ابْنُ أَرْحَمِهَا قَتِيلٌ أَخُوهَا مَبْعِي (۳۹) بَابُ التَّحْنُطِ عِنْدَ الْقِتَالِ (۱۳۱۴)

تو اپنے فرمایا مجھ کو ہرم آتا ہے اس کا بھائی میرے ساتھ قتل ہوا ہے۔ باب لڑائی کے وقت خوشبو کا ناٹنا

عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي وَذَكَرُوا مَا قَالَ أُنَى ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ وَقَدْ حَسِرَ

موسیٰ بن اس سے روایت ہے اس نے جنگ میں مارا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس ثابت بن قیس کے پاس آئے اور وہ اپنی لڑائی

عَنْ فُجْدٍ بِهِ وَهُوَ يَتَحَنُّطُ فَقَالَ يَا عَمُّ مَا يَجْحِسُكَ أَنْ لَا تَبْخِيَنَّ قَالَ لَنْ يَا ابْنَ أَخِي وَ

کہنے ہوئے تھے اور خوشبو لگا رہے تھے تو کہا ہے تمہیں کوئی بات رکھتی ہے کہ تم نہیں آتے کیا بھینچتے ہیں (وہاں) اور

جَعَلَ يَتَحَنُّطُ يَعْنِي مِنَ الْحَنُوطِ ثُمَّ جَاءَ فَجَلَسُ فَمَا كَرَفِي لِحَدِيثِ الْكُفْدَانِ مِنْ

خوشبو لگانے کے (تخت) حنوط سے ہے۔ پھر اگر بیٹھ گئے پھر حدیث بیان کرتے ہوئے لوگوں کی گفتگوس کا ذکر کیا

النَّاسِ فَقَالَ هَذَا عَنِّي وَجُوهُنَا حَتَّى نُصَارِبَ لِقَوْمٍ مَا هَذَا كَالثَّانِفَعْلِ مَعِ

اور کہا ہمارے سامنے سے بٹھا جاؤ تمہا پر مشرک لوگوں سے لڑیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَ مَا عَوَّدْتُمْ أَفْرَاكَكُمْ (۴۰) بَابُ فَضْلِ

ہوتے تھے تو اس طرح نہیں کرتے تھے تم نے اپنے برابر لوگوں (خوف) مقابلہ کو بری عادت ڈالی ہے۔ باب فضائل

الطَّلِيعَةِ (۴۱) عَنْ جَابِرٍ مَتَكْرَرًا (۱۳۱۵) بَابُ هَلْ يَبِيعُ

دالے کی فضیلت کا۔ دیکھو حدیث ۱۳۱۵۔ باب کیا خرید سائ کو اکیلا

الطَّلِيعَةِ وَحَدَّثَنَا (۱۳۱۶) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَدَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

بیجا جاسکتا ہے۔ جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ قَالَ صِدْقَةٌ أَظُنُّهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَاَنْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَ

لوگوں کو (خبر) کہتے ہوئے دی حدیث میں ہیں سمجھتا ہوں خندق کا دن تھا تو زبیر نے اپنے آپ کو پیش کیا پھر عروت

فَاَنْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَ النَّاسُ فَاَنْتَدَبَ الزُّبَيْرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

دی تو زبیر نے اپنے آپ کو پیش کیا پھر لوگوں کو دعوت دی تو زبیر نے اپنے آپ کو پیش کیا پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَأَنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرِ مِنَ الْعَوَارِدِ (۴۲) بَابُ سَفَرِ الْأَنْبِيَاءِ

نے فرمایا ہر ایک نبی کا ایک صحابہ ہوتا ہے اور زبیر صحابہ دگر زبیر بن حواریوں سے۔ باب دو کا سفر کرنا

بقیہ ۶۴۴
تک کے بجائے یہ لفظ
ہیں قلنا ای الیہ
دست ان س کان
علی رؤسہم الطیر
اور چھ ماں کی لڑکیاں
میں یہاں یہ بھی ہے
کراسے فی سبیل اللہ
خرچ کر کے اندامی
سے عثمان ہے
کے یعنی یہ کام بھی
عند اللہ قابل تقدیر
مگر اسی صورت میں
کہ جب کسی کی ضرورت
جاوے نہ ہو یا کسی
عذر سے بھی رہا ہو
صاحب صحیح ہذا
کے ستر شہداء میں سے
تھے وہ ام حرام اور
اسلم کے بھائی تھے
بیر موافق میں آنحضرت
خود شہداء زبیر کے
تھے ہیں قتل اخوان
میں سے مزاد ہے
میرے کام میں قتل
ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

۱۳۱۵
۱۳۱۶

اسلم کی خبر گیری اور انکو قتل کرنے کیلئے انکے ہاں زیادہ جایا کرتے تھے اور وہ آپ کی رضاعی خالہ بھی تھیں، مسلح حنوطہ خوشبو ہے جو بیت کو غسل کے بعد لگائی جاتی ہے۔ ثنابت بن قیس نے سمجھا کہ میدان جنگ میں جا کر خرید ہی ہونا ہے کیونکہ پیچھے تو پھیرنا نہیں تو آخر نہیں ہی ہونا ہے اسلئے اپنے جسم پر پیچھے سے خوشبو لگائی۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ثنابت نے لہن کیلئے اور کپڑے بھی پہنے تھے، اور لڑتے ہے یاں تک کہ خرید ہو گئے۔ یہاں کی لڑائی آنحضرت کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر کی خلافت کے وقت مسلمانوں نے ہو میں سیر کرنا مدعی نبوت اور اس کے ان پیروؤں سے ہوئی جو آنحضرت کی وفات کے بعد باغی ہو گئے تھے۔ مسلح یعنی جب تم اپنے ہاں ہلڈیشن کے سامنے کمزوری دکھانے ہو تو ان میں تم پر حملہ کرنے کی جرات پیدا ہوتی ہے، مسلح طلیعۃ الحبش وہ ہے جسے لشکر کے آگے بھیجا جائے کہ وہ دشمن کی خبر لائے اور اسکی نقل حرکت وغیرہ کی اطلاع دے۔ مکرر روایت کے الفاظ اور میں قال ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم من یا تدبیر بنجر القوم یوموا لا حزاب قال الزبیر انما نقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل نبی حواریا وحواری الزبیر مسلح اس تو قہور حضرت زبیر نے اکیلے اپنے آپ کو خبر لائے بیٹھے پیش کیا۔ تو اس سے استدلال کیلئے کہ ضرورت کیلئے اکیلے آدمی کو بھی بھیجا جاسکتا ہے اور بعض احادیث میں جو اکیلے آدمی کو لکھنے سے منع کیا گیا ہے تو وہ خاص حالات سے مشروط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگلی حدیث میں دو کے سفر کا جو اثبات کیلئے۔ کیونکہ جن احادیث میں اکیلے کے سفر سے روکا گیا ہے ان میں دو کے سفر سے بھی روکا گیا ہے۔ اللہ اکبر شیطان والرباکیان شیطانان واللغۃ رکب۔ نیز دیکھو نوٹ ہر ۱۳۹ پر۔ یہاں زبیر کو حواری کہا جس کے معنی خالص دوست یا پے ہمدرد ہے اور اسکی ہمدردی کے یہی کوہنیکہ انہوں نے کسی خطرہ کی پروا نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو زبردست دشمن کے اندر جانے کے لئے پیش کیا۔ یہ مطلب نہیں کہ نبی کا ایک ہی صحابہ دگر ہوتا ہے۔ باقی برصلا

بقیمہ ۶۲۵
 بکہ ہر صورت کے تو
 اس کیلئے سہاگنار
 پیدا ہو جائے اور
 اس کے کام کے نہیں
 رہتے اس کو تو
 حضرت زبیر نے یہ
 نوہ دیکھا اور یہ
 بھی معلوم نہیں کہ اس
 وقت اور کون کون سے
 صحابی موجود تھے اور
 خندق کی جنگ میں تو
 سب کے سب سخت ترین
 کاموں میں مشغول تھے
 لفظ میں انصرفت
 من عند النبی صلی
 اللہ علیہ وسلم فقال
 لنا انا وعبادہ
 اذنا وایماننا وایماننا
 اکبر کما

(۱۳۱۳) عَنْ كَالِبِ بْنِ الْحَرِثِ بْنِ الْمُزَيْنِ (متكرر ۱۳۱۳) بَابُ الْخَيْلِ مَعْقُودَةٍ فِي	دیکھو حدیث ۱۳۱۳
بَابُ الْخَيْلِ مَعْقُودَةٍ فِي	باب گھوڑوں کی پیشانیوں میں
تَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (۱۳۱۴) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (متكرر ۱۳۱۴) (۱۳۱۵)	قیامت تک برکت رکھی جاتی ہے دیکھو حدیث ۱۳۱۴
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ (متكرر ۱۳۱۶) (۱۳۱۶) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ	دیکھو حدیث ۱۳۱۶ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِرْكُ تَرْتِي تَوَاصِي الْخَيْلِ (۱۳۱۷) بَابُ الْجِهَادِ مَا ضَمَّ إِلَيْهِ الْعُقُودُ	برکت گھوڑوں کی پیشانیوں میں ہے باب جہاد جاری رہیگا جبکہ بادشاہ کے ساتھ ہرگز
لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْلُ مَعْقُودَةٌ فِي تَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ	ہو یا بد کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک برکت رکھی جاتی ہے
(۱۳۱۸) عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودَةٌ فِي تَوَاصِيهَا	عروہ بارقی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک
الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (۱۳۱۹) بَابُ مِمَّنْ أَحْتَسِبُ فِرْسَانًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى مَنْ رَبَّاطُ	باب جہاد کی نیت سے گھوڑا رکھے اللہ تعالیٰ کے قول کی وجہ سے اور برکت رکھی جاتی ہے تو اس میں مانا ہے اور مال بھی
الْخَيْلِ (۱۳۱۸) عَنْ زَيْدِ هَرِيرَةَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ أَحْتَسِبُ فِرْسَانًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ	ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے جان و مال اور لا انفال (۶۰-۶۱) دیکھو
رَأْيَانًا يَا اللَّهُ وَتَصْدِيقًا لِبُعْدَانِ فَاتِّسَبَعُ وَرِيَّةً وَرَدَّةً وَبَوْلَةً فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ	راہ میں دینی جہاد کیلئے گھوڑا ہانڈے رکھے تو اس کو کھانا اور سیرک پلانا اور اس کو گور اور اس کے پیشانی پر (دھن) ان تہمت کے دن کے (احمال) کی میزان میں ہوگا ۱۳۱۹

دیکھو حدیث ۱۳۱۴

برکہ مالک بن الحویرث لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے جو سفر کرنا چاہتے تھے۔ ان کو آپ نے یہ حکم دیا۔ جو سنا کہ وہ کہاں مالک نے اپنا ذکر بھیجنا غائب کیا ہوگا۔
 مالک بیان لکھتے ہیں الخیل فی تَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور حدیث ۱۳۱۸ میں الخیل کے بعد صرف معقودہ کا لفظ زائد ہے۔ گھوڑوں کی پیشانیوں میں برکت رکھنے سے یہ مراد ہے
 کہ گھوڑے جہاد باسین کا عضو ہیں۔ اور جہاد میں کیلئے باعث برکت ہیں۔ اور قیامت تک برکت رکھنے سے یہ مطلب ہے کہ جہاد قیامت تک بیگا اور قیامت تک اسکے
 لئے ضروری سلطان کی ضرورت پیش آتی رہے گی۔ مالک عزمان باب کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کیلئے یہ عذر نہیں ہو سکتا کہ امام یا بادشاہ جو جہاد کیلئے بلاتا ہے وہ فاسق ہے اور اسٹال
 اس حدیث سے کیا گیا ہے گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک برکت رکھی جاتی ہے کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت تک جہاد رہے گا اور گھوڑوں کی ضرورت
 پیش آتی رہے گی اور یہ تو ہمیں سنا کہ بادشاہ ہمیشہ نیک ہی ہوتے رہیں۔ لیکن جہاد ایک ضرورت قوی ہے۔ جہاد کو ترک کرنے سے فاسق بادشاہ کو ہی نقصان نہیں
 پہنچتا بلکہ ساری قوم کو نقصان پہنچتا ہے۔ مالک بقرانفہ یوں ہے۔ وواعدوا اللهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بئذ عدا الله وعدوه
 جہاد ہم سے کہ دشمن کے مقابلے کیلئے ہر قسم کی طاقت تیار رکھو جس سے وہ تم پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اور گھوڑوں کو سرحدوں پر باندھ کر رکھو تاکہ تمہاری تیاری سے دشمن کے حمل
 پر رعب رہے۔ اسی آیت پر عمل تھا جس سے مسلمانوں کا رعب دلوں پر تھا۔ اور اب اسی پر مسلمان اقوام کا عمل نہیں رہا۔ مالک اسلام کی تعلیم ایک عملی تعلیم
 ہے اور اس نے ضروریات دنیا کو دین سے الگ نہیں کیا۔ بلکہ ہر ایک دینی ضرورت کا پورا کرنا بھی ایک دینی امر ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ
 انسان جو اپنی بیوی کو کھانا اور پلانا ہے وہ بھی ایک صدقہ ہے بشرطیکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہی مد نظر ہو۔ جب جہاد کی ضرورت ایک دینی ضرورت
 ہے تو اس جہاد کیلئے جس قدر سامان ہوگا وہ سب دینی ضرورت میں داخل ہو جائے گا خواہ گھوڑے کا رکھنا ہو خواہ تیر و تفنگ کا بنانا۔ خواہ آبی او
 ہوئی جہادوں کا بنانا۔ اور پھر جو شخص گھوڑا رکھے گا وہ اس کو کھانے اور پلانے کی فکر بھی رکھے گا اور پھر اس کے گور اور پیشاب کو بھی صاف کرنا ضروری
 ہوگا تو یہ اس کی تمام ذمہ داریوں میں سے ایک ہے خواہ وہ ایک گوشہ نشین صوفی کی نگاہ میں بھی حقیر کیوں نہ ہوں اور اس کی رکنے میں تزکیہ نفس بھی کتنی بھی واجب کیوں
 نہ ہوں وہ سب خدا اللہ فرمایا کہ کتنی ہیں اور ان کا ثواب دنیا میں ہی نہیں ملتا بلکہ قیامت میں بھی ملتا ہے یعنی فی الحقیقت ان سے تزکیہ نفس ہوتا ہے کیونکہ قیامت
 میں ثواب انہی چیزوں کا ملتا ہے جو انسان کے تزکیہ نفس میں معاون ہوں۔ یہی بھی یاد رکھنا چاہئے کہ جس طرح مشبہ سے مراد اس کا سیر رکھنا اور یہ سے مراد
 اس کا پالنے سے مراد رکھنا ہے اس طرح روٹہ و ہلہ سے مراد اس کی نیک اور پیشاب کا صاف رکھنا ہے کیونکہ ان دونوں باتوں پر گھوڑے کی تزکیہ کا انحصار ہے۔

(۴۷) بَابُ اسْمِ الْفَرَسِ الْجَارِمِ - ۱۳۱۶ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ (متكرر - ۹۲۸) (۱۳۱۹) عَنْ

باب گھوڑے اور گدے کا نام دیکھو حدیث ۹۲۸ سے

سَهْلٍ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطِنَا فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ الْحَيْفُ (۱۳۲۰) عَنْ

روایت ہے کہ ہمارے باغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گھوڑا ہوتا تھا جسے حیفت کہا جاتا تھا

مَعَاذِرُهُ قَالَ كُنْتُ رَدْتُ الْمَنِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْجَارِمِ يُقَالُ لَهُ عَقْدِرٌ فَقَالَ يَا مَعَاذِ

سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدے پر جب عقیق کہتا تھا تو اسے عقداؤں کے فرمایا معاذ

هَلْ تَدْرِي حَقَّ لِلَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقَّ الْعِبَادَةُ عَلَى اللَّهِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَرَأَى

کی تم جانتے ہو اللہ کا حق ایک بندوں پر اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو بہتر تم فرمایا

حَقَّ لِلَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقَّ الْعِبَادَةُ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُشْرَكَ بِهِ

اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں اور اللہ کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اسے شریک نہ بنادیا

لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا ابْتَشَرِيهِ النَّاسُ قَالَ لَا تَبْتَشِرُهُمْ فَيُكْفَرُوا

نہیں بنائے گا کسی شریک کو شریک نہ کرے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ انہیں خوشخبری دے دوں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنادیں

(۴۷) بَابُ مَا لَبَّى الْفَرَسُ - ۱۳۲۱ (۱۳۲۱) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متكرر - ۱۳۲۱) عَنْ

باب جو گھوڑے کی نوحہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے دیکھو حدیث ۱۳۲۱ سے

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الشُّؤْمُ

عبادت میں غم سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوحہ فرماتے تھے

فِي ثَلَاثَةِ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالذَّارِ (۱۳۲۲) عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَّاهِبِيِّ أَنَّ

چیزوں میں تیسے گھوڑے اور عورت اور مکان میں سہل بن سعد سادی سے روایت ہے کہ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نوحہ کسی چیز میں ہے تو عورت اور گھوڑے اور مسکن کے مکان سے

عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوحہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے گھوڑے اور عورت اور مکان میں نوحہ کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نوحہ کسی چیز میں ہے تو عورت اور گھوڑے اور مسکن کے مکان سے نہ کرنا

جس میں آتا ہے کہ ابوقادہ جس گھوڑے پر سوار تھے اس کا نام جرادہ تھا۔ جادوؤں کو نام دینا بھی ان کی کسی خاص صفت کی وجہ سے ہوتا ہے جس میں ان کی عورت بائی جاتی ہے وہ اہل بیت تو اس ایک بات کے اندر ہی آجاتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور صرف اللہ کی عبادت کرے۔ بلکہ اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اس کی اطاعت کرے اس کی رضا کو مدنظر رکھے۔ جو ام انسان کے ذہن چونکہ اس باریک تک نہیں سمیٹنے اس لئے ممکن ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت سے صرف یہ سمجھ لیں کہ خدا کی نماز پڑھ لیں اور باقی جو چاہا گیا۔ اور انسانوں کے حقوق جو طرح چاہتے تھے۔ اس لئے فرمایا کہ عام لوگوں کو یوں کہیں گے تو پھر وہ اعمال حسنہ کو چھوڑ بیٹھیں گے جن سے فی الحقیقت ان کی ترقی ہوتی ہے۔ مگر مکرر روایت کے الفاظ میں کچھ فرق ہے۔ یہاں لفظ یہ جس کا نوحہ ہوا بالعداۃ فاستعد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فرعون و دجاناۃ لہذا وہاں ہے فاستعد فرعون ابی طلحہ اس حدیث کے راوی کی ماں ام سلمہ تھیں اور وہ ابو طلحہ کی بیوی تھیں۔ اس لئے فرماتا بھی صحیح ہے۔ مگر عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ لا طہرۃ ولا عدوی وانما الشؤم فی ثلاثۃ الملوۃ والفرس والدار۔ اور طہرۃ کے معنی نہایت ہی میں نوحہ سے ہے۔ اس کی صحیح توجیہ وہ ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ نے کی ہونا۔ اب یہ دونوں فقرے لا طہرۃ وانما الشؤم فی ثلاثۃ ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ لا طہرۃ اپنی اپنی میں عمومیت رکھتا ہے اور یہ یوں نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ کسی شے میں نوحہ نہیں اور دوسری طرف یہ بھی فرمائیں کہ تین چیزوں میں نوحہ سے ہے۔ اس کی صحیح توجیہ وہ ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ نے کی ہے۔ آپ کے سامنے ذکر ہوا کہ حضرت ابوہریرہ یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں انطیرۃ فی المرأة والدار والفرس۔ تین چیزوں میں نوحہ سے عورت میں اور مکان میں اور گھوڑے میں تو آپ سخت ناراض ہوئیں۔ اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کسی نہیں فرمایا جو اس کا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اهل الجاہلیۃ كانوا یطیبون من ذلك۔ آپ نے صرف یہ فرمایا تھا کہ اہل جاہلیت ان تین چیزوں میں نوحہ نہ کیجئے مگر ان سے روایت لیتے تھے۔ اس کے علاوہ اسلام کی ساری تعلیم کے یہ بالکل خلاف ہے۔ اسلام ہر ایک کو ہم پرستی کا دشمن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے اپنے بچے ابراہیم کی وفات کے دن سو بچ کو پورا کر لیں گے اور لوگوں نے تمنا شروع کیا کہ ابراہیم کی وفات کی وجہ سے سو بچ کو ایک بچہ ہی ہو گیا ہوتا ہرگز نہ

(۲۸) بَابُ الْحَيْلِ لِثَلَاثَةِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى الْحَيْلُ وَالْبَغَالُ الْحَيْدُ لَمْ يَكُنْ يَكُونُهَا وَزَيْنَةُ

باب گھوڑے تین قسم کے (لوگوں کے) ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قول دیکھیں اور گھوڑے اور شہر اور گھوڑے سے تاکہ تم پر سزا ہو اور زینت کیلئے

(م- ۱۳۱۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر- ۱۱۴۹) بَابُ مَنْ ضَرَبَ آتَةَ غَيْرِهِ فِي الْغَزْوِ

دیکھو حدیث ۱۱۴۹ ع باب جو جہاد میں دوسرے کے پور کو مارے یا کتے مارے

(م- ۱۳۱۹) عَنْ أَبِي مُتَوَكِّلٍ (متكرر- ۱۰۲۵) بَابُ الرُّكُوبِ عَلَى الدَّائِبَةِ

دیکھو حدیث ۱۰۲۵ ع باب سواروں پر سوار ہونا

الصُّعْبَةِ وَالْفُجُولَةِ مِنَ الْحَيْلِ وَقَالَ رَأْسُ بْنُ سَعْدٍ كَانَ السَّلْفُ يَسْتَحِبُّونَ

اور گھوڑے پر اور رائس بن سعد نے کہا کہ سلف لوگ رُکوب نہ کرتے تھے

الْفُجُولَةَ لِأَنَّهَا أَجْرِي أَجْسُرُ (م- ۱۳۲۰) عَنْ أُسَيْبِ بْنِ مَالِكٍ (متكرر- ۱۲۳۱)

کیونکہ وہ تیز اور اور دیر پڑتا ہے لہذا

(۲۵) بَابُ سَهْمِ الْفَرَسِ (۱۳۲۳) عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب گھوڑے کیلئے حصہ لگانا ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا وَقَالَ مَالِكٌ يَسْمَمُ بِالْحَيْلِ وَالْبُرَادِ

گھوڑے کیلئے دو حصے مقرر کئے اور اس کے سوار کیلئے ایک حصہ اور مالک کہتے ہیں عربی گھوڑوں کیلئے بھی حصہ لگایا جائے گا اور

مِنْهَا يَقُولُ الْحَيْلُ وَالْبَغَالُ الْحَيْدُ لَمْ يَكُنْ يَكُونُهَا وَلَا يَسْمَمُ وَلَا كَثْرًا مِنْ فَرَسٍ (۵۲) بَابُ

ترکی گھوڑوں کیلئے بھی کیونکہ شریعتی فرماتا ہے اور گھوڑے اور شہر اور گھوڑے سے تاکہ تم پر سزا ہو اور آیت زیادہ ظہور میں حصہ نہیں لگایا جائے گا

مَنْ قَادَ آتَةَ غَيْرِهِ فِي الْحَرْبِ (۱۳۲۲) عَنْ أَبِي اسْتَعْبَقٍ قَالَ رَجُلٌ لِلْبُرَادِ بْنِ عَارِظٍ

جو دوسرے کے جانور پرانی میں کھینچ کر چلے ابو اسحق سے روایت ہے ایک شخص نے براہین عازب سے کہا

أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

تم حنین کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھاگے

پس یہ حدیث اس طرح پر قابل قبول نہیں۔ ہاں اگر اس کی وہ توجیہ کی جائے جو حضرت عائشہ نے کی کہ اہل جاہلیت کا یہ خیال تھا تو درست ہے۔ لیکن ہے کہ آپ کی بات سمجھنے میں غلطی ہو گی (صفحہ ۶۸۸) بلکہ روایت کے لفظ تقریباً یہی ہیں۔ البتہ جن تین شخصوں کا ذکر وہاں ہے ان میں سے بیان دوسرے کا ذکر نہیں۔ اور حدیث میں یہ بتایا ہے کہ اس کے لئے زیادہ مفید سرف و بی گھوڑے ہیں جو جہاد کے کام میں آئیں۔ اسی طرح انسان کا زیادہ فائدہ دینے والا مال وہی ہے جو جانور اور دین کی تبلیغ میں خرچ ہو۔ ملاحظہ کر روایت میں فرق ہے۔ قال سافرت معہ فی بعض أسفارة قال ابو عقیل لا ادري غزوة او عمر (۱۲۵۵) میں ہے کہ غزوة تھا، فلما ان اقبلنا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان يتجمل الی اھنہ فليجمل قال جابرنا قبلنا وانا علی جمل لی اراك رمح سمانی ملی ہوئی) لیس فیہ شیعة (اس میں کوئی عیب نہ تھا) والناس خلفی فبینا انا کذلک اذا قاور علی فقال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جابر انا متکف فاضویة بسوطہ ضربتہ فوشب البلاء مکانہ فقال اتبع الجمل قلت نعم فلما قد منا المداينة و دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسجد فی حوائی اصحابہ فا دخلت الیہ وعلقت الجمل فی ناحية البلاط فنقلت له هذا اجملک فخرج فجدل یطیعت یا جمل ویقول الجمل حملنا فبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اواق من ذهب فقال باعطوها جابرا ثم قال استوفیت الذن قلت نعم قال الذن و الجمل لک مطلقا ابو عبیدہ نے کتاب الخیل میں باب استنبیح الخیر سے یہ بھی روایت کیا ہے کہ سلف شیخوں میں گھوڑیوں کو پسند کرتے تھے اسی طرح دید بن سلم نے بھی روایت کی ہے۔ کافوا یستحبون اناث الخیل فی العادات والبیات ولما دخل من امور الحرب یستحبون الفحول فی الصلوات ولما..... ظہور امور الحرب اور کہتے ہیں کہ خالین دید صرف گھوڑی پر سوار ہوتے تھے۔ اپنے اپنے موقع اور محل میں اپنی پسند کے مطابق ہر ایک اچھا ہے۔ ملاحظہ کر روایت کے تقریباً وہی لفظ ہیں مگر اس میں تراوید کی خصوصیت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ مگر گھوڑے کے دو حصے اور سوار کا ایک حصہ گویا کل ماکرتن حصے ہو گئے۔ زیادہ کے ایک حصہ کے مقابل پر۔ براہین۔ برذون کی جس سے۔ ترکی گھوڑے کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں خیل عربی گھوڑے ہوئے مگر اپنے عام معنی میں خیل وسیع ہے اور سب گھوڑوں پر بولا جاتا ہے۔ ایک سے زیادہ گھوڑوں کے لئے حصہ نہیں لگایا جائے گا۔ یہ امام مالک کا قول ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب سوار ایک ہی ہے تو کام ایک ہی گھوڑا دیکھا جو گھوڑے کام نہ دیکھے ان کا حصہ نہیں لگایا جاسکتا

بقیہ ص ۶۸۸
کتاب غنیمہ و ہذا اور
فرمایا کسی کی زندگی
موت پر سوار چاند
کو گزرنے میں لگتا تو
اسی بیوہ تعلیم
آپ کی طرف سے
طرح منسوب ہو سکتی
ہے کہ آپ کہیں عورت
میں شوکت ہے اور
اس عورت کی پھر
اتنی عزت تھی کھانہ
کراس کے بیویوں
نیچے جنت بتائیں۔
الجنت تحت اقدام
الاصحاب قرآن
شریف نے عورت
اور مرد کی خلعت
میں کوئی فرق نہیں
بتایا کہ ایک نے شوکت
والی ہو جائے اور
دوسرے بڑے اللہ نہیں
سوار کی شوکت اور کت
ہے اعمال سے جو

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفِرَّانَ هُوَ اِزْنَ كَانُوا تَوَاقَا مَاءً وَ اِنَّا لَمَّا تَقْبَلْنَاهُمْ حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ	نہیں جھگڑے ہوا زن کے کوں پر سے تیرا خدا تھے	جب ہم ان کے مقابلے آئے تو ہم نے ان پر حملہ کیا
فَالهَرَمُوا فَا قَبِلَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيَّ لَغْنًا نِيَةً وَ اسْتَقْبَلُونَا بِالنَّهَارِ فَا مَارَسُوا لَللّٰهِ	اور وہ ہلکتے کھائے اور مسلمان غنیمت میں مصروف ہو گئے	اور انہوں نے ہم پر توہم کی پوجھا کی مگر رسول اللہ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَفِرْ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَ اِنَّهُ لَعَلَى بَعْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَ اِنَّ اَبَا	نہیں جھگڑے میں نے آپ کو دیکھا	آپ اپنے سفید پر سوار تھے اور ابوسلمان
سَفِيَانَ اَخَذَ بِرِجْلَيْهَا وَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ اَنَا	اس کا لگام تھامے ہوئے تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جاتے تھے	میں ہی نبی ہوں جھوٹ نہیں اور میں
اِبْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (۵۳) بَابُ الرِّكَابِ الْغَزْوِ لِلذَّاتِ (۱۳۲۱) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ	باب رسواری کے جانور پر سوار کیے گا۔ یا چڑھے کی رکاب لگانا	
(متكرر-۸۱۲) بَابُ رُكُوبِ الْفَرَسِ الْعَرَبِيِّ (م-۱۳۲۲) عَنْ اَنَسٍ (متكرر-	باب اونٹنی پر سوار کے گھوڑے پر سوار ہونا	دیکھو حدیث ۸۱۲
۱۳۳۱) (۵۵) بَابُ الْفَرَسِ لِقَطُوفِ (م-۱۳۲۳) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متكرر-	باب سفید گھوڑا	دیکھو حدیث ۱۳۳۱
۱۳۳۱) (۵۶) بَابُ السَّبِيحِ بَيْنَ الْخَيْلِ (م-۱۳۲۴) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (متكرر-۲۹۶)	باب گھوڑوں کے درمیان سبک دہانی	۲۹۶
(۵۷) بَابُ اِضْمَارِ الْخَيْلِ لِسَبِيحِ (م-۱۳۲۵) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (متكرر-۲۹۶)	باب گھوڑوں کو گھوڑوں کے تیار کرنا	دیکھو حدیث ۲۹۶
(۵۸) بَابُ غَايَةِ السَّبِيحِ لَلْخَيْلِ الْمُضْمَرَةِ (م-۱۳۲۶) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (متكرر-۲۹۶)	باب تیار کردہ گھوڑوں کی گھوڑوں کی حد	دیکھو حدیث ۲۹۶

علا جگہ نہیں ہا کر
دوسرے سو گھر پر
آئے۔ یا اس وقت
اس حصے سے غزوت
باب کا تعلق ہے کہ
ابوسفیان آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے
نچر کا کھم تھامے
ہوئے تھے۔
علا انسانی کبھی
فرق ہے اذا اذخل
رجلی الغزو کا یہ
واستوت بسناقتا
قائمة اهل من
عند مسجد والصلح
فرزا اور رکاب میں
اور طرح فرق کیا گیا
ہے بعض کے نزدیک
اونٹ کی رکاب پانڈ
ہے اور گھوڑے کی
رکاب رکاب اور
بعض کے نزدیک
غزو چڑھے کی ہوتی
ہے اور رکاب سبک

مطلکر روایت کے لفظ اور میں استقبلہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی فرس عمری ما علیہ سورجی عنقہم سیف۔ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہسوار
اور شجاعت پر روشنی پڑتی ہے کہ کس طرح تنہا دشمن کے سامنے جانے سے ڈرتے تھے، بلکہ یہاں کچھ تفصیل زیادہ ہے ان اہل البدینۃ فزہرامرۃ فزکلی النبی صلی اللہ علیہ
وسلم فرس سلابی طلحہ کان یقطع اذکان فیہ قطعات فلما رجع قال وجدنا فرسکھذا اجرا اذکان بعد ذلک لا یجاری۔ اس گھوڑے کے متعلق یہاں یہ زائد ہے
کان یقطع اذکان فیہ قطعات بین وہ شفا تھا یا اس میں شہا بن تھا۔ اس کہتے ہیں فکان بعد ذلک لا یجاری یعنی اس کے بعد اس کے برابر کوئی گھوڑا نہ مل سکتا
تھا۔ یہ بھی آپ کی شہسوار کی کافرت سے ہے، علف سبوح۔ مقادیریں روزانہ کون آگے لے جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھوڑوں کو لائیں۔ گھوڑوں میں میٹر بننے والے
صوفی اور سجادہ نشین فوکر میں قوم میں زندگی چلوں اور وظیفوں سے پیدائشیں ہو سکتی تھی باتوں سے پیدا ہو سکتی ہے جو آنحضرت صلعم نے کیں یا کڑیں، ملک نغفوں میں خفیف
فرق ہے۔ اور تیرا پرادی نے ف حد کے متعلق الفاظ لڑھائے ہیں۔ قال اجری النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ضم من الخیل من الخفیر الی ثنیۃ الوداع و اجری ما لہ خفیر
من الثنیۃ الی مسجد بنی ذریق قال بن عمرو و کنت فیمن اجزی قال سفین بن الخفیر الی ثنیۃ الوداع خمسة امیال اذ سئۃ وہن ثنیۃ الی مسجد بنی ذریق
میل ہے۔ یہ ضمروں میں سے ہیں جہاں سے وہ گھوڑوں کو ہاندہ کر خوب پانی دانہ دیکر لوگیا جائے اور پھر حمل ڈال کر آہستہ آہستہ کیا جائے تاکہ سب سے نکلے اور
بلکہ اوجہت ہو جائے۔ بلکہ ان النبی صلعم سابق میں الخیل التي لم تضمروا کان امدھا من الثنیۃ الی مسجد بنی ذریق وان عبد اللہ بن عمرو کان سابق
بھا۔ تیار کئے ہوئے گھوڑوں کا یہاں ذکر نہیں۔ اور یہ زائد ہے قلن ابو عبد اللہ امدھا غایۃ فقال علیہم الامد یعنی امام بخاری کہتے ہیں کہ اس حدیث میں مقدمہ امد کے سننے
انتہائی حد میں اور سورۃ حدید ۱۶۔ میں بھی یہ لفظ آیا ہے جہاں مرا و ایک لے زہنکی انما ہے ہم معمول اختناث لفظی سے حدیث کو دہرا ہے۔ قبل سابق
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الخیل التي قد اصحرت فارسلنا من الخفیر و کان امدھا ثنیۃ الوداع فقلت لعمری کذا کان بین ذلک قال ستۃ امیال او سبعمائۃ
سابق بین الخیل التي لم تضمروا فارسلنا من ثنیۃ الوداع و کان امدھا مسجد بنی ذریق قلت فہن ذلک جملہ میل و نحو ذلک و کان ابن عمر من سابق فیھا۔

(۵۹) بَابُ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِنُ عُمَرَ أَرَدَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

بَاب أَخْبَرَتِ صَالِيَةَ شَرِيحَةَ وَمَلِكُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَمَةً عَلَى نَقْصِمْ وَأَقَالَ الْمَسُورُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سَامَةٌ كَقَصْوَارٍ بِرَبْعِ سَوَارِيهَا

فَاخْلَابَتِ الْقِصْوَاءُ مَرَّةً - (۱۳۲۷) عَنْ أَبِي سَيْدٍ (مُتَكَرَّرٌ - ۱۳۲۵) (۱۳۲۵) عَنْ أَنَسِ بْنِ

كِرْتَابِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

وَبِهِ حَدِيثٌ ۱۳۲۵

قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةٌ سَمِيَّتْ بِالْحَضِيَاءِ لَا تَسْبِقُ فُجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى

كِرْتَابِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

تَعَوَّذَ فَبَدَّلَهَا فَشَقَّ ذِيكَ عَلَى الْمَسْلُوبِ حَتَّى عَرَفَهُ فَقَالَ حَسَّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُرْتَفَعُ

وَنَشَأَ بِهَا وَأُورِدَهُ مِنْ سَمَاءِ كَلْبٍ كَرِيمٍ كَثُرَ مَا كَفَّرَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِهَا كَرِيمًا كَرِيمًا

شَيْءٌ مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا أَدْرَعَتْهُ (۶۱) بَابُ بَغْلَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْضَاءُ

بَابُ بَغْلَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَهُ النَّسَائِيُّ وَقَالَ أَبُو حَمِيدٍ أَهْدَى مَلِكٌ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةً بَيْضَاءَ

بَابُ بَغْلَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۶۰) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (مُتَكَرَّرٌ - ۱۲۷۰) (م - ۱۳۲۹) عَنْ الْأَبْرَاءِ (مُتَكَرَّرٌ

بِهِ حَدِيثٌ ۱۲۷۰

(۱۳۲۷) (۶۲) بَابُ جِهَادِ النِّسَاءِ (م - ۱۳۳۰) عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَرَّرٌ - ۸۱۳)

بَابُ جِهَادِ النِّسَاءِ

(م - ۱۳۳۱) عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَرَّرٌ - ۸۱۳) (۶۳) بَابُ غَزْوِ الْمَرْأَةِ فِي الْحَجْرِ

بَابُ غَزْوِ الْمَرْأَةِ فِي الْحَجْرِ

(م - ۱۳۳۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (مُتَكَرَّرٌ - ۱۲۸۶) (۶۴) بَابُ حَمْلِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ

بَابُ حَمْلِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ

فِي الْعَزْوِ دُونَ بَعْضِ نِسَائِهِ (م - ۱۳۳۳) عَنْ الزُّهْرِيِّ (مُتَكَرَّرٌ - ۱۲۴۶)

بَابُ حَمْلِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ

حَدَّثَنَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَا لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِن دَلِي سَوَاعِنَ النَّاسِ فَلَقِيَهُمْ هُوَ زَيْنٌ بِاللَّيْلِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَأَبُوسُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا

بَابُ حَمْلِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ

(۶۵) **بَابُ عَزْرِ النِّسَاءِ وَقِتْلِهِنَّ مَعَ الرِّجَالِ** (۱۳۲۵) **عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ**

باب عورتوں کا جنگ کرنا اور مردوں کے ساتھ لڑائی میں شامل ہونا

أَحَدٍ أَنهزمنا الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأمة

تو ایک دن تتر بتر ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ گئے اور کہا کہ میں نے حضرت عائشہ بنت ابی بکر اور ام سلمہ کو دیکھا

سليمة وأمهما مشيرتان أرى خدام سوقيهما تنقران العقب وقال غيره تنقلان

دووں نے پیٹوں سے کڑھیاں اٹھایا ہوا تھا میں انہی پیٹوں کی بازوؤں کو دیکھتا تھا جدی جلدی پانی کی ٹنگیں لاتی تھیں اور وہ لٹکتا

العقب على مؤثرهما ثم تغرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان تملأنهما ثم يخرجان

دووں ابھی پیٹوں پر ٹنگیں لاتی تھیں اور پھر پانی لوگوں کے منوں میں ڈالتی تھیں پھر واپس جاتیں اور ان کو پھر تپتا پھر آتی

تغفرغانه في أفواه القوم (۶۶) بَابُ حَمْلِ النِّسَاءِ الْقُرْبَ إِلَى الْقَابِ فِي الْعَزْرِ (۱۳۲۶)

اور لوگوں کے منوں میں پانی ڈالنے کا

عَنْ ثَعْلَبَةَ بِنِ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَسَمَ مَرُوطًا بَيْنَ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ

ثعلب بن ابی مالک سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب نے مردے کی عورتوں میں چادریں تقسیم کیں

المدينة فبقي مرطاً جيداً فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين يروا في رسول الله صلى الله عليه وسلم

اور کہا کچھ چادر دارہ تھی جو لوگ ان کے پاس تھے ان میں سے کسی نے کہا اے امیر المؤمنین یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

أبنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك يريدون أم كلثوم بنت علي

اس پہلی کو دے دیں

فقال عمر أم سليط أخ وأمة سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول

تو حضرت عمر نے فرمایا ام سلیطہ زیادہ مقدار ہے اور ام سلیطہ انصار کی عورتوں میں سے ان میں سے تھیں جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

الله صلى الله عليه وسلم قال عمر فأنها كانت تزفر لنا القرب يوماً ما أحد قال

کہ جویت کی قسم

أبو عبيد الله تزفر من حيط (۶۷) بَابُ مَدَاوَةِ النِّسَاءِ الْجُرْحَى فِي الْعَزْرِ (۱۳۲۷)

کہتے ہیں تزفر کے معنی میں سستی تھیں

عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ مُعَوِذٍ قَالَتْ لَمَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسَقِي وَنُدَادِي

زبیر بنت معوذ سے روایت ہے کہ ہم (جہاد میں) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھیں پانی پاتی تھیں زخمیوں کو مرہ بھی کرتی تھیں

الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة (۶۸) بَابُ رَدِّ النِّسَاءِ الْجُرْحَى وَالْقَتْلَى

اور قتلین کی لاشوں کو مدینے پہنچانے تھیں

علاءه عورتیں اپنے ہاتھوں سے زخمیوں کی مرہ بھی کرتی تھیں۔ یہ سچ ہے کہ جنگ اعدا کا آدرا پردہ سے پھینکے اور پردہ کے حکم کے بعد ہی عورتیں یہ سب کام کرتی

تھیں۔ یہ بیات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حضرت عائشہ جنگ احد سے صرف ایک سال پیشتر ہی کریم صلعم کے گھر میں آئیں تو عام روایت کے مطابق ان کی عمر اس وقت صرف دس

سال ہوگی جو یقیناً اس کام کیلئے جوانی میں تھیں۔ اس سے عین محض ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر اس وقت اس قدر تھوڑی تھی۔ اس

حدیث میں جو خواتین کی جہاد میں شرکت کا ذکر ہے لیکن ان کے فی الواقع جنگ کرنے کا ذوق نہیں لیکن ان کی ایسا نازک موقع پر شرکت سے ایسا تلال کیا جاسکتا ہے کہ اگر مردوں کے

ہم پہلو لائے کی ضرورت پیش آتی تو وہ یہ بھی کر سکتی تھیں۔ اور صحابہ کے زمانے کی لڑائیوں میں عورتوں نے ایسا کر کے بھی لکھا یا اور زمین کی جنگ میں ام سلمہ نے خیر خاتونیں لیکر لاکر

اگر کوئی مشرک دھرنے کا توڑیں اسے قتل کر دوں گی۔ مگر تزفر کے معنی میں جس لڑائی میں لڑتی تھیں اسکے معنی میں یہاں آتی تھیں۔ صرف دو سال لڑتے کے کا حکم دیا ہی حضرت عمر کا یہاں آدھا

اسلامی قتل کیا تو نہ کہ اپنی بیوی حضرت علی کی صاحبزادی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کو چھوڑ کر چادر ام سلیطہ کو دی اور احد کے دن کھدین کی خدمت کرتی تھیں۔

بقیہ صفحہ ۶۵۱
آدا امان جہاد
افرعہ بن نافع
فانہن جہاد
خرج بها النبی صلی
اللہ علیہ وسلم
بنفا فی غزوة فخطبا
فخرج بها سہمی
فخرجت مع النبی
صلی اللہ علیہ وسلم
بعد ما انزل اللہ الجاہد
صفوحہ ۶۵۱
یہ جو کام جہاد میں
نبی کریم صلعم کی اطلاع
مطرات اور دیگر بزرگ
صحابیات نے کیا کیا
آج مسلمان عورتوں
میں اس کام کرنے
کی تہنیت بھی باقی
رہ گئی ہے موجودہ
پردہ کی سختی نے
انہیں کسی کام میں
رہنے دیا۔ یہ جنگی
بڑیاں کئے ہوئے
بھنگ بھنگ کر کھینچ
پر ٹنگیں اٹھا کر لے
والی اور اپنے ہاتھ
سے زخمیوں کے
منوں میں پانی
والی حضرت عائشہ
صلی اللہ علیہ وسلم

(م- ۱۳۳۴) حَبْنُ الرَّبِيعِ بَدَتْ مَعْرُوزِي (متکرر۔ ۱۳۲۷) (۶۹) بَابُ نَزْرِ السَّهْمِ مِنَ

دیکھو حدیث ۱۳۲۷ بَابُ بَدْنِ مِنْ سَهْمِ

الْبَدَنِ (۱۳۲۷) عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنْزَعَهُنَّ السَّهْمَ فَنَزَعَتْهُ فَزَامِنَهُ الْمَاءُ مَدَّ خَلَّتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَابُ نَزْرِ السَّهْمِ مِنْ بَدَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَأَخَذَتْهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبِيدِي أَبِي عَامِرٍ رَأَى بَابُ الْجَرَّاسَةِ فِي الْغَزْوِ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ (۱۳۲۸) عَنْ عَائِشَةَ تَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْرًا فَبَاتَ قَدِيمًا

الْمَدِينَةَ قَالَ لَيْتَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِي صَالِحًا يَمْسُكُ اللَّيْلَةَ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ سِلَاحِ

فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقَالَ أَنَا سَعْدَانُ ابْنِي دَقَاقِصُ جَنَّتْ لَأَحْرَسَكَ وَنَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

دَسَمًا (۱۳۲۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِعَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَبْدٌ إِلَّا يَنَارُ

وَعَبْدٌ إِلَّا زَهْمٌ وَعَبْدٌ إِلَّا قَطِيفَةٌ وَعَبْدٌ إِلَّا خُمَيْصَةٌ إِنْ أُعْطِيَ رِضِي وَإِنْ لَمْ يُعْطِ سَخَطِي لَيْسَ

أَهْدَحْتُ رَأْسَهُ مَغْبِرَةً قَدَّمَاهَا إِنْ كَانَ فِي الْجَرَّاسَةِ كَانَ فِي الْجَرَّاسَةِ وَإِنْ كَانَ

فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ إِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَإِنْ شَفَعَهُ لَمْ يُشَفَعْ قَالَ

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ تَعَالَى كَانَتْ رَأْسَهُ مَغْبِرَةً قَدَّمَاهَا إِنْ كَانَ فِي الْجَرَّاسَةِ كَانَ فِي الْجَرَّاسَةِ

وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ إِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَإِنْ شَفَعَهُ لَمْ يُشَفَعْ قَالَ

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ تَعَالَى كَانَتْ رَأْسَهُ مَغْبِرَةً قَدَّمَاهَا إِنْ كَانَ فِي الْجَرَّاسَةِ كَانَ فِي الْجَرَّاسَةِ

وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ إِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَإِنْ شَفَعَهُ لَمْ يُشَفَعْ قَالَ

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ تَعَالَى كَانَتْ رَأْسَهُ مَغْبِرَةً قَدَّمَاهَا إِنْ كَانَ فِي الْجَرَّاسَةِ كَانَ فِي الْجَرَّاسَةِ

وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ إِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَإِنْ شَفَعَهُ لَمْ يُشَفَعْ قَالَ

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ تَعَالَى كَانَتْ رَأْسَهُ مَغْبِرَةً قَدَّمَاهَا إِنْ كَانَ فِي الْجَرَّاسَةِ كَانَ فِي الْجَرَّاسَةِ

وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ إِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَإِنْ شَفَعَهُ لَمْ يُشَفَعْ قَالَ

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ تَعَالَى كَانَتْ رَأْسَهُ مَغْبِرَةً قَدَّمَاهَا إِنْ كَانَ فِي الْجَرَّاسَةِ كَانَ فِي الْجَرَّاسَةِ

وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ إِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَإِنْ شَفَعَهُ لَمْ يُشَفَعْ قَالَ

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ تَعَالَى كَانَتْ رَأْسَهُ مَغْبِرَةً قَدَّمَاهَا إِنْ كَانَ فِي الْجَرَّاسَةِ كَانَ فِي الْجَرَّاسَةِ

وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ إِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَإِنْ شَفَعَهُ لَمْ يُشَفَعْ قَالَ

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ تَعَالَى كَانَتْ رَأْسَهُ مَغْبِرَةً قَدَّمَاهَا إِنْ كَانَ فِي الْجَرَّاسَةِ كَانَ فِي الْجَرَّاسَةِ

وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ إِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَإِنْ شَفَعَهُ لَمْ يُشَفَعْ قَالَ

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ تَعَالَى كَانَتْ رَأْسَهُ مَغْبِرَةً قَدَّمَاهَا إِنْ كَانَ فِي الْجَرَّاسَةِ كَانَ فِي الْجَرَّاسَةِ

وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ إِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَإِنْ شَفَعَهُ لَمْ يُشَفَعْ قَالَ

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ تَعَالَى كَانَتْ رَأْسَهُ مَغْبِرَةً قَدَّمَاهَا إِنْ كَانَ فِي الْجَرَّاسَةِ كَانَ فِي الْجَرَّاسَةِ

وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ إِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَإِنْ شَفَعَهُ لَمْ يُشَفَعْ قَالَ

کتاب الجہاد والسیرہ میں سے ہے۔

حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ سے واپس آئے تھے اور آپ کو یہ خطرہ تھا کہ کوئی دشمن رات کو حملہ نہ کرے اس لئے آپ کو نیند نہیں آئی تب آپ نے فریاد کیا کہ کوئی پہرہ دینے والا ہو تو آپ کو میں اور اللہ تعالیٰ نے سعد بن ابی وقاص کے لہجہ میں ڈالا تو میں اسی وقت آج موجود ہوں یعنی میں ہے کہ آپ کے رات جاگنے کا واقعہ دینے کے بعد کہ ہے اور یہ حدیث مسلم کی اسی روایت سے ہے۔ بخاری کے الفاظ آگے پیچھے ہونے ہیں۔ یہ پہلی مثال خود غرض و نیاز پرست آدمی کی ہے کہ جو کام کرتا ہے اپنی اغراض کو سامنے رکھ کر کرتا ہے۔ خود اس کی راہ میں نکلتا ہے تو بھی اپنی غرض سامنے ہوتی ہے وہ غرض پوری ہو تو خوش ہو جاتا ہے۔ نہ ہو تو پھر نہ اشتد کی پرولہ ہے نہ حاکم کی اطاعت کی۔ اور دوسری بات جو اس کے متعلق بیان کی گئی ہے کہ وہ خدا کی راہ میں تکلیف نہیں اٹھا سکتا۔ اگر ایک کانا بھی بھیجا جائے تو اسے یہ گوارا نہیں ہوتا کہ کوئی اس کو سوئی سے نکال دے۔ نہایت میں ہے۔ اذاشیک فلا انتقش ای اذا دخلت فیہ شوکتہ لا اخرجہا من موضعہا۔ دوسری مثال ایسے شخص کی ہے جو نہایت فریب اور گنہگار ہو نہ کوئی حیثیت دینا وہی ہے نہ وہ جاہت ہے نہ نام نہاد نہ شہرت ہے مگر دل میں جہاد فی سبیل اللہ کی تڑپ رکھتا ہے ہر وقت جہاد کیلئے تیار رہتا ہے اور دوسرے کے ہر ایک کام کی تعمیل کیلئے تیار رہتا ہے انکے لئے بڑی خوشی کا مقام ہے اور اللہ کے بندے ایسے ہی بننے چاہئے۔

يَا حَوْلَتُ إِلَىٰ تَوَادُّهِ مِنْ يُطِيبُ (۱۱) بَابُ فَضْلِ الْخِدْمَةِ فِي الْعَزْوِ

یسا ہے جو دوا سے بدل گئی ہے ذوقہ یطیب سے ہے باب جماد میں خدمت کرنے کی فضیلت

(۱۳۳۰) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَحبتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَكَانَ يُخْدِمُنِي وَهُوَ الْبُرِّ

ان بن مالک سے روایت ہے کہ میں جریر بن عبد اللہ کے ساتھ رہا وہ میری خدمت کرتے رہے اور وہ (عمر بن)

مِنَ أُنْسٍ قَالَ جَرِيرٌ لِي رَأَيْتَ الْأَنْصَارَ يَصْنَعُونَ شَيْئًا لَا أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا أَلَا كَرَمَتَهُ

اس سے بڑے تھے جریر کہتے ہیں میں نے انصار کو ایک کام کرتے ہوئے دیکھا تو میں جہاں کسی کو ان میں سے پاتا ہوں اسکی نظر کرتا ہوں

(م-۱۳۳۵) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متكرر- ۲۶۶) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ

دیکھو حدیث ۲۶۶ اس سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَرْنَا ظِلًّا الَّذِي سَيُظِلُّ بِكِسَانِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ صَامُوا فَلَمْ

صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہم میں سے زیادہ سامنے میں وہ ہوتا چوہنی چادر کو ساتیان بنا لیتا جنوں نے روزہ رکھا انہوں نے کوئی کام

يَعْمَلُونَ أَشْيَاءَ وَأَمَّا الَّذِينَ أَنْصَرُوا وَابْتَعُوا الرِّكَابَ أَمْتَهُنَّ وَأَعْلَجُوا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

بنوں نے انکار کیا انہوں نے اونٹوں کی خدمت کی مشقت اٹھائی اور کام کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ الْمُقْطَرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ (م-۱۳۳۲) بَابُ فَضْلِ مَنْ مَجَّلَ مَتَاعًا صَحِيحًا

نے فرمایا آج روزہ نہ رکھنے والے تو اب بے گئے ہیں باب اس کی فضیلت جو سفر میں اپنے سامنے کا سامان

فِي السَّفَرِ (م-۱۳۳۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر- ۱۲۶۲) (م-۱۳) بَابُ فَضْلِ رِبَاطِ يَوْمٍ فِي

اٹھانے دیکھو حدیث ۱۲۶۲ باب اللہ کی راہ میں ایک دن سفر میں

سَبِيلِ اللَّهِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا إِلَىٰ الْآخِرِ الْآيَةَ (م-۱۳۳۲) عَنْ سَهْلِ

گھوڑے باندھنا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان اسے لوگو جو ایمان لائے جو صبر سے کام لو آخر آیت تک راہ عمران (۱۱۹)

ابن سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ

سعدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک دن سفر میں گھوڑے باندھنا

مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا

سے اور اس سے جو اس میں بہتر ہے اور تم میں سے کسی کے ٹوڑے کی برابر جگہ جنت میں سے دینا ہے اور اس سے جو اس میں بہتر ہے

وَالرَّوْحَةُ يَرُدُّهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ الْغَدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا

اور کسی بندے کا فخر کلمات اللہ کی راہ میں چلنا یا حج کے وقت ہونا دینا سے اور اس سے جو اس میں بہتر ہے

(م-۱۳۳۷) بَابُ مَنْ عَزَا بَصِيْرًا لِلْخِدْمَةِ (م-۱۳۳۷) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متكرر- ۲۶۶)

باب جو راہ کے گواہ ہیں خدمت کیلئے ساتھ بچائے دیکھو حدیث ۲۶۶

عمر بن عبد العاص سے روایت ہے اور اس کا معنی ہے ۲۶۶ میں نہیں بلکہ م ۱۳۳۶ میں آیا ہے میں لفظ یہ ہیں۔ خیرت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی خیر اخذتہ فیما قدما النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولحقا ربنا لہ لحد قال فلما جبل یجئنا ولحجہ فہ اشا ربیدہ الی المدینۃ قال اللهم الی احوما بیوم لزیبھا التقریم ابراہیم مکتہ اللہم بارک لنا فی صاعنا ومدنا اس کیلئے کہو لکتاب کا باب حرم الحدیث الفاظ ہذا جبل یجئنا ولحجہ تو کسی پر ہی اپنے فرمائے دیکھو نوٹ ۱۹۱۶ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سفر میں روزہ رکھنا گناہ نہیں یہی بتا دیا کہ خدمت

کرنے کا ثواب روزہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ کئی روایات میں تفصیل ہے عن انس بنی صلعم قال کل سلام علی غیبی صدقہ کل یوم لیعن الرجل فی ولتہ یھا ملہ علیھا او یرفہ علیھا متاعہ صدقہ و الکلمۃ الطیبۃ و کل خطوۃ یشیئھا الی الصلاۃ صدقہ و الی الطریق صدقہ لک۔ اس کا کچھ حصہ پیغمبر م ۱۱۹۹ و م ۱۱۹۵ میں مذکور ہے۔ لقب قوس فی الجنتہ خیر ما نطلم علیہ الشمس تعریف قال لغزوة اور وحتی سبیل اللہ خیر ما نطلم علیہ الشمس تعریف م ۱۱۹۹ مکرر روایت کے معنیوں اور ۲۶۶ کے معنیوں میں فرق ہے یہاں کے لفظ یہ ہیں۔ ان انس صلی اللہ علیہ وسلم قال لا بی طلمیہ العس غلاما من علما تکرمہ فی حقہ حتی یخرج الی خیر فخرج لی ابو طلحہ مرد فی وانا غلامہ راہقت الحمد انس کی عمر اس وقت پندرہ سال کے قریب تھی، نکلتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ انزلت اسمعہ شیدا یقول اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والکسل والخلج والمجنون وضلعہ الدین (ترجمہ بروج) وغلبۃ الرجال یہ دعا ہے کہ فرق سے منہا میں بھی آئی ہے، قصدا منا خیر فلما فو اللہ علیہ الحسن ذکر لہ جمال صفیۃ بنت حبیب بن اخطب قد قتل بوجہا وکانت عودنا فاصطفانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ فخرج بها حتی بلغنا سد الصہباء حلت فبنابھا ثم صنمہ حیسانی نطمع صغیر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من حولک نکانت تک ولیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی صفیۃ ثم خرجنا الی المدینۃ قال فرایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجری لہا دنانیر ہاتھی

<p>بقیہ صفحہ ۶۵۳ کے بھابھہ زبہ کے کے کل اونٹ کے کو ہاں گئے ڈال دیتے تھے اور بیس ہند پیر فیضہ رکبتہ فیضہ صفیہ رجلہا علی لکتہ حتی ترکیب راچی لے نوٹ سے بری کا احترام کر کے دکھا یا کہ اپنا زانو بجھا کرتے اور اس پیراؤں رکھ کر حضرت صفیہ سوار ہوئیں، فرمایا حتی اذا اشرفنا علی الریثۃ نظرا لی احدی قتال ہذا جلی عینا و نخبہ ثم نظرا لی المدینۃ فقال للہم انی احسن ما بین وتینہا مثل ما حرم ابراہیم مکہ اللہم بارک لہم فی ملک</p>	<p>۴۵) بَابُ رُكُوبِ الْبَحْرِ (م- ۱۳۳۸) عَنْ اُسِّ بْنِ قَابِکٍ (م- ۱۲۸۶) (۶۷) بَابُ</p>
	<p>باب سمندر میں سو رہنا دیکھو حدیث ۱۲۸۶</p>
	<p>مِنْ اسْتَعَانَ بِالضَّعْفَاءِ وَالصَّالِحِينَ فِي الْحَرْبِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اخْبَرَنِي ابْنُ سَلَمَانَ</p>
	<p>لڑائی میں کمزور اور نیک لوگوں کے ذریعے مدد مانگنا اور ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے ابوسفیان نے فرمایا</p>
	<p>قَالَ لِي قِيصَرُ سَأَلْتُكَ اشْرَافَ النَّاسِ مَبْعُوهُ اَمْ ضَعْفَاؤُهُمْ فَزَعَمْتُ ضَعْفَاءَهُمْ وَهَمُّ</p>
	<p>کہ مجھ سے قیصر نے کہا کہ میں نے تجھ سے پوچھا کہ بڑے بڑے لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں یا فرمایا تو تو نے کہا فرمایا اور وہ لوگوں</p>
	<p>اَتَمَّ الرُّسُلِ عَنْ مُضْعِبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ رَأَى سَعْدُ رِثَانَ لَهْ فَضَلَ عَلَى</p>
	<p>کے پیروی کرنے میں مصعب بن سعد سے روایت ہے کہ سعد نے سمجھا کہ ان کو دوسروں پر شرافت</p>
	<p>مِنْ دُونِهِ فَقَالَ لَيْتَ صَلَّيْتُ لَهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَتَصَرَّوْنَ نَزْوِقُونَ اَلَا يَضَعِفُ كُمْ (م- ۱۳۳۴) عَنْ</p>
	<p>اور دولت کی وجہ سے اقلیت میں تو نبی صلوٰۃ کے ذریعے تو ہر روز قیامت ہے وہ قرآن کی ہدایت ہی ہے علی ابوسعید</p>
	<p>اَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا بَنِي زَمَانَ يَعْزُزُ فَمَا مَكَانُ الْفَالِسِ</p>
	<p>خدیجی بن علی اشتر علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ وہ لوگ جو تمہارے جہاں کے</p>
<p>فَيَقَالُ فَيَنْكُرُ مِنْ صُحْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقَالُ نَعَمْ فَيَقْعُقُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَأْتِي</p>	
<p>لوگ جائیگا کہ تم سے کوئی ہے جو نبی صلوٰۃ کی صحبت میں رہا ہو تو کہا جائے گا ہاں تو اس کی بکرت سے نکل جائیگا پھر ایک</p>	
<p>زَمَانَ فَيَقَالُ فَيَنْكُرُ مِنْ صُحْبِ اصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقَالُ نَعَمْ فَيَقْعُقُ</p>	
<p>زمانہ آئے گا تو کہا جائیگا کہ تم سے کوئی ہے جو اصحاب رسول صلوٰۃ کی صحبت میں رہا ہو تو کہا جائیگا ہاں تو نکل</p>	
<p>ثُمَّ يَأْتِي زَمَانَ فَيَقَالُ فَيَنْكُرُ مِنْ صُحْبِ صَاحِبِ اصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>	
<p>جائیگا پھر ایک زمانہ آئے گا تو کہا جائے گا کہ تم سے کوئی ہے جو ان کی صحبت میں رہا ہو تو رسول صلوٰۃ سے تمہاری صحبت میں رہے ہیں</p>	
<p>فَيَقَالُ نَعَمْ فَيَقْعُقُ (۶۸) بَابُ لَا يَقُولُ فَلَانٌ شَرِيْدٌ قَالَ ابُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ</p>	
<p>تو کہا جائیگا ان لوگوں کو نہیں بلکہ باب کوئی یوں نہ کہے کہ فلان شریف ہے ابو ہریرہ نے نبی صلوٰۃ علیہ وسلم سے روایت</p>	
<p>عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يَجَاهِدُنِي سَبِيْلَ اللّٰهِ اَعْلَمُ بِمَنْ يَكْفُرُنِي سَبِيْلَ</p>	
<p>کے کہ اللہ انہیں خوب جانتا ہے جو کسی راہ میں جہاد کرتے ہیں انہیں خوب جانتا ہے جو اس کی راہ میں زخمی ہوتے ہیں</p>	

وصاعلہم تاخری حصہ ۱۳۳۵ میں بھی گزر چکا ہے، (صفحہ ہذا) ملے گئے روایت کا مضمون م ۱۳۳۲ سے ملتا ہے۔ البتہ بت قرط کے ساتھ جانے کا ذکر کیا نہیں ہے۔
 ملے ہل ترزقون الا بظہافکم یعنی بظہافکم (مکروروں) کی دعائیں ہی تمہاری فتح و نصرت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اسی تعلیم کا نتیجہ تھا کہ صحابہ میں سے عظیم الشان خدمات
 دینی کرنے والے گراما کو تعمیر کی نگاہ سے نہ دیکھتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ ایک رنگ میں خدمت اسلام کر رہے ہیں تو ان کے بھائی دوسرے رنگ میں کر رہے ہیں۔
 ۶۸) اس میں صحابہ تابعین اور تبع تابعین کی بڑی فضیلت ہے۔ اور دوسری حدیث میں انہی کے زمانہ کو غیر القرون کہلے اور انہی کے وقت دین اسلام مضبوط ہوا
 اس کی ترقی اور اشاعت ہوئی اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گیا۔ اور دیدہ بھرا لامر من السماء الی الارض شدیدہ الیہ فی یوم کان مقدرا ان سنتہ ما تعدون
 (المکملہ- ۵) میں بن دوزخاؤں کا ذکر ہے یعنی ایک تدریجی استقامت دین اسلام اور دوسرا ایک ہزار سال جس میں وہ پھر اس کی طرف چلے جائیگا یعنی ترقی رکھی رہے گی تو
 ان میں سے پہلا زمانہ ہی صحابہ تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ اور فی تفسر ان ایک سوال نیک ترین سوال بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد کے لوگوں کو حدیث میں نیچ
 موعود کا نام دیا گیا ہے۔ بعد یہ تین سو سال کے بعد ایک ہزار سال کا زمانہ ہے جس میں اسلام کی ترقی رکھی رہے گی۔ اس کے بعد پھر غلبہ اسلام کا زمانہ آجائے گا۔
 ۶۹) ابو ہریرہ کی حدیث اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے ایک کو پوچھا کہ اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تمہارا ایک ہزار سال کا زمانہ دیکھا ہے جس میں تمہارا ایک ہزار سال کا زمانہ
 تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں انہی کے ساتھ جہاد کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کا تعلق ایک خاص واقعہ سے ہے اور مطلب یہ ہے کہ قطعیت
 کے ساتھ کوئی شخص محض اس بات سے کہ ایک شخص کفار کے ساتھ جنگ کرتا ہوا مارا گیا ہے یہ حکم نہیں لگا سکتا کہ وہ واقعی شریف ہے۔ جیسا کہ حدیث باب میں مذکور
 ہے۔ ورنہ عموماً میت کے رنگ میں ان سب لوگوں کو شہادتی کہا جاتا ہے جو کفار کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے مارے جاتے ہیں۔

(۱۳۳۵) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّعْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَتْلُ

مَنْ يَنْتَحِرُ بِمَنْ يَنْتَحِرُ بِهِ مِنْكُمْ أَوْ يَنْتَحِرُ بِمَنْ يَنْتَحِرُ بِهِ مِنْكُمْ أَوْ يَنْتَحِرُ بِمَنْ يَنْتَحِرُ بِهِ مِنْكُمْ

هُوَ وَالْمَشْرُكُونَ فَاقْتَتَلُوا لِمَا لَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَسْكَرِهِ وَمَا لَمْ

يَخْرُجُوا إِلَى عَسْكَرِهِمْ وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ لَا يَدْعُ لَهُمْ

شَاذَةً وَلَا فَاذَةً إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ فَقَالَ مَا أَجْزَأُ مِنَ الْيَوْمِ أَحَدًا كَمَا

أَجْزَأُ فُلَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا رَأَيْتُمْ مَنْ أَهْلًا لَنَا رَفَعْنَا لِحُلِّ

مِنْ الْقَوْمِ أَنْ صَاحِبُهُ قَالَ فَخَرَجَ مَعَهُ كَمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ دَرَاذِلُ الْأَسْرَعِ أَسْرَعُ مَعَهُ

قَالَ فَخَرَجَ الرَّجُلُ جَرَحًا شَدِيدًا فَأَسْتَحْجَلَ لِمَوْتٍ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ وَ

ذَبَابَةٌ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ الرَّجُلُ

الَّذِي ذَكَرْتُ إِنْفِئَاةً مِنْ أَهْلِ لِنَارِ عَظَمِ النَّاسِ ذَلِكَ فَقُلْتُ أَنَا لَكُمْ بِهِ

فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ ثُمَّ جَرَحَ جَرَحًا شَدِيدًا فَأَسْتَحْجَلَ لِمَوْتٍ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ

فِي الْأَرْضِ وَذَبَابَةٌ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ لِيَجْعَلَ فِيهَا يَدًا

لِلنَّاسِ هُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ لِيَجْعَلَ فِيهَا يَدًا لِلنَّاسِ هُوَ مِنْ

أَهْلِ النَّارِ هُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ لِيَجْعَلَ فِيهَا يَدًا لِلنَّاسِ هُوَ مِنْ

أَهْلِ النَّارِ هُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ لِيَجْعَلَ فِيهَا يَدًا لِلنَّاسِ هُوَ مِنْ

أَهْلِ النَّارِ هُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ لِيَجْعَلَ فِيهَا يَدًا لِلنَّاسِ هُوَ مِنْ

أَهْلِ النَّارِ هُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ لِيَجْعَلَ فِيهَا يَدًا لِلنَّاسِ هُوَ مِنْ

أَهْلِ النَّارِ هُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ لِيَجْعَلَ فِيهَا يَدًا لِلنَّاسِ هُوَ مِنْ

أَهْلِ النَّارِ هُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ لِيَجْعَلَ فِيهَا يَدًا لِلنَّاسِ هُوَ مِنْ

أَهْلِ النَّارِ هُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ لِيَجْعَلَ فِيهَا يَدًا لِلنَّاسِ هُوَ مِنْ

أَهْلِ النَّارِ هُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ لِيَجْعَلَ فِيهَا يَدًا لِلنَّاسِ هُوَ مِنْ

خود کو کشتی کربلا
نے کیا فرمایا ہے
تو اس شخص نے
بگے خود کو کشتی
کی وجہ سے خود کو کشتی
کر لی ایسے خود کو کشتی
اہل نار میں سے ہو
گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ
نے تب اس کو اور
یہی وسیع فرمایا اور
جایا کہ انسان کی کشتی
کا مدار خلاص اور
نیت پر ہے معلوم
ہوتا ہے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم
کا انکشاف ہو گیا
تھا۔ اہل نار کا حال
کرنے سے یہ مراد
ہے کہ لوگوں کی نگاہ
میں وہ اہل نار کا عمل
ہوتا ہے مگر حقیقت
میں وہ ایک امام کا
ہونا ہے اور لوگوں کی
کریں وقت تک عمل
جاتی ہے

۱۳۳۵

۱۳۳۶

أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ فَقَالَ لَيْتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِرْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ

چند آدمیوں پر سے گزرتے دو ہزار اندازی کی لٹن کرے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسماعیلیں کے بیٹے تیرا تے رہو کیونکہ تمہارا

اباؤ کا کہ کان رامی ارموا و انما مع بنی فلان قال فامسك احد الغريقتين يا ايها

داہرا تیرا تھا تیرا تے رہو اور میں بنی فلان کے ساتھ ہوں کہا تو دوسرے فریق نے اپنے ہاتھ روک لئے

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا لَكُمْ لَا تَرْمُونَ قَالُوا لَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ

تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہوا کہ تیر نہیں چلاتے انہوں نے عرض کیا ہم کیونکر تیر چلا سکتے ہیں

مَعَهُمْ قَالِ لَيْتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِرْمُوا فَإِنَّا مَعَكُمْ كَمَا كُنَّا عَنْ أَبِي سَيْدٍ

آپ لکے ساتھ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیر چلاتے رہو میں تمہیں کے ساتھ ہوں

قَالَ قَالَ لَيْتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ حِينَ صَفَعْنَا الْقُرَيْشَ وَصَفَعُوا النَّارَ إِذَا

کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن جب ہم نے قریش کے ہاتھوں سے صاف کیا تھا اور انہوں نے ہاتھوں سے صاف کیا تھا

اَلكُتُبُ كُمْ كَعَلَيْكُمْ يَا لَيْتِي (۷۹) يَا بَابِ اللّٰهُوَيَا نَحْرَابُ فَيُوهَا (م- ۱۳۳۹) عَنْ

فرمایا کہ جب تمہارے قریب نہیں تو یہ خوب تیر بڑا کتا باب برہمہ وغیرہ کا کہتے

أَبِي هُرَيْرَةَ (مكرر- ۳۱۸) (۸۰) يَا بَابِ الْجَحِيمِ وَمَنْ يَتَرَسُّ بِأَتْرُسٍ صَاحِبِهِ (۱۳۳۸)

دیکھو حدیث ۳۱۸ باب ڈھال کا استعمال اور جو اپنے ساتھی کی ڈھال سے بھاؤ کرے

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ يَتَرَسُّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَتْرُسٍ

انس بن مالک سے روایت ہے کہ ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے

وَإِحِدٍ وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ حَسَنَ الرَّحْمِيِّ فَكَانَ إِذَا رُمِيَ تَشَرَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ڈھال سے بھاؤ کرتے تھے اور ابو طلحہ چھانچھانچھا تھا جب وہ تیرا تے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھانک کر

فَيَنْظُرُ إِلَى مَوْضِعِ نَبِيْلِهِ (م- ۱۳۴۰) عَنْ سَهْلٍ (مكرر- ۱۹۴) (۱۳۳۹) عَنْ

اپنے تیر کے پھلنے کی جگہ کو دیکھتے تھے دیکھو حدیث ۱۹۴ حضرت

عُمَرَ قَالَ كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي لُحَيْثٍ وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عمر سے روایت ہے کہ لُحَيْث کے مال اس قسم سے تھے جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کے بغیر غنیمت کے

مِمَّا لَمْ يُوَجِّهْ إِلَيْهِمْ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ يَحْيَىٰ لَأَرْكَابٍ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

طور پر ملانے جن پر مسلمانوں نے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑوائے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

خَاصَّةً وَكَانَ يَنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً سَنَتَهُ ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي سِلَاحِهِ الْكِرَامِ

کھپتے تھے اور آپ اپنے گھروالوں پر سالانہ خرچ لیکر خرچہ کرتے اور جو باقی رہ جاتا وہ

بہتھوڑوں اور ہاتھوں پر

تھے اس موقع کے گمان سے تعلیم ایسی ہی ضروری تھی جیسے نماز روزہ کی تعلیم بلکہ اس سے بھی زیادہ ضروری اس لئے کہ نماز روزہ کی تعلیم ہنسان کے اپنے

نفس کے لئے ہے مگر جہاں کی تعلیم قوم اور ملک اور دین کی حفاظت کے لئے ہے دشمن قریب ہو تو ہر رساؤ یعنی جب وہ تیر کی زمین پہنچے جہاں اس سے پہلے تیر

برسانا اپنا برسانا جگ ضائع کرنا تھا ہلکے یاں روایت کی جگہ کی پیشی سے آئی ہے بینا الحیثیۃ یلعبون عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجرالہم روفی بواقیہ

فی المسجد و دخل ہر فاعلی الی انھم یخصمہم ہما فقال دھم یا عمر ہما مشیوں کے رہیں سے کرتے دکھانے کا کہ ہے یہ کام مسجد میں رسول اللہ صلی

کے سامنے ہو رہا تھا حضرت عمر نے روکنا چاہا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو منع فرمایا کہ یہ جنگ میں کام آئیے لے کر تے ہلکے جنگ میں بجاؤں کا سامان کا

بھی ضروری ہے اور تمہارے جنگ میں ڈھال خوب بجاؤں کا کہتی ہے ہلکے مکرر روایت کے مضمون میں زیادہ سے زیادہ کثرت بیضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلے

راسہ داومی وجہ و کثرت دبا عینہ کا کہان ہلکے مختلف بالہا ذی الحین و کثرت ناظریہ فضلہا رات اللہ من زید علی الماء کثرتہ حمدت الی حدیثنا حضرت

والصفتھا علی جرحہ نزل اللہ ہما سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں بھاؤ کے لئے قلم کا استعمال بھی کرتے تھے ہ

اس پر کھیر اندازی
اس زمانہ میں ہلام
کو ان سے بچانے
کے لئے ضروری
تھی اس لئے آپ
نے اس کی تزیین
دی۔ ہر زمانہ میں
جس ذریعہ سے سلام
کو دشمن سے بچایا
جاسکے وہی اس
زمانہ کی ضرورت ہوا
ہوتی ہے آج کل
ترقیات کے ذریعہ
سے ہونی جہازوں
اور ڈرونوں
اور بندوقوں
کا بنانا ہی کام ہے
کتاب سے ادبی
اس زمانہ کی تیر
اندازی ہے علاو
ازیں جو ہلکے
محلے اسلام پر ہوتے
ہیں وہ عیسائی شہری
آج اسلام کو ہمت
ہونا پوری کی بکوش
کر رہے ہیں ان کا
دفاع اور دفاعی
ہتھیار کا اہم ترین
حصہ ہے
ہلکے جنگ میں آپ
جوئیں کا کام کرتے

عَدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ (۱۳۴۰) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کتاب التفسیر میں
جو مدینہ میں رہتے
تھے ہجرت کے
ابتدائی ایام میں
انہوں نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم
سے صحابہ کیا تھا۔

يَقُولُ رَجُلًا بَعْدَ سَعْدٍ سَمِعْتَهُ يَقُولُ رَمَ فِدَاكَ أُنَى وَأُمَى (۸۱) بَابُ الدَّرَقِ

۱۳۴۱ (م - ۱۳۴۱) عَنْ عَائِشَةَ (متكرر - ۵۵۷) (۸۲) بَابُ الْحَمَائِلِ وَتَعْلِيْقُ السِّيْفِ

۱۳۴۲ (م - ۱۳۴۲) عَنْ أَنَسٍ (متكرر - ۱۲۳۱) (۸۳) بَابُ حَلِيَّةِ السَّيْفِ

۱۳۴۱ (م - ۱۳۴۱) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ يَقُولُ لَقَدْ نَزَّ الْغُصْرُ قَوْمًا مَا كَانَتْ حَلِيَّةَ سَيُوفِهِمُ اللَّهُ

۱۳۴۲ (م - ۱۳۴۲) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ غَزَا

مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ فَلَمَّا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَسَلَّمَ فَقَالَ مَعَهُ فَاذَرْتَهُمْ الْقَائِلَةَ فِي وَاذَلَّتِي الْبِضَاهُ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تَحْتِ سَامِرَةَ وَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ وَبِمَنَا نَوْمَةً فَاذَارَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کیونکہ یہ وہاں سے
تاقم نہیں ہے۔ آپ
نے ان سے تجویز
معاہدہ کا مطالبہ کیا
انہوں نے انکار کیا۔
اور جنگ کے بعد
کعب بن اشرف
چاہیں سوار ہو کر
گیا اور آنحضرت
کے خلاف مشقوں
سے معاہدہ کیا اور
اسی اس کے قتل کی
وجہ ہوئی۔ نبی
کا معاہدہ کیا گیا۔
انہوں نے لڑائی
کے بغیر عروب ہو
کر تھکنا ڈال دینے
اور انہیں جلاوطن
کر دیا گیا۔ سورہ فتح

اپنی تلوار سفر میں دوپہر کو سونے وقت درخت سے لٹکائے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف جہاد میں شامل ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے
تو وہ بھی ساتھ ہوئے دوپہر کو آرام کرنے کے وقت وہ ایک وادی میں پہنچے جس میں بول کے وقت کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم آتے اور لوگ درختوں کے سایہ میں آرام پاتے ہوتے تفرق ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول کے ایک درخت کے نیچے آتے
تحت سمرۃ وعلق بها سيفه وبمنا نومة فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم
اور اپنی تلوار اس سے لٹکا دی اور جب کہ سو گئے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہہ کر بلائے گئے

ہیں اس کی تفصیل موجود ہے۔ ان سے حوالہ غیرت سمانوں کے ہاتھ بغیر لڑیے آیا وہ نبی کے نام سے مشہور ہے اور نبی کا حکم اس مال غیرت کے فخر کا ہے جو لڑائی سے
فتح ہونے کی وجہ سے ہاتھ آتا ہے۔ امام ہاک کا مذہب ہے کہ مال غیرت کا فخر اور نبی دونوں بیت المال کے ہیں بادشاہ جہاں سب کچھ خرچ کرے اور نبی
درست بھی معلوم ہوتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیاں کا گزارہ اس میں سے جو بنو نضیر سے ہاتھ آیا تھا ایک باقی مسلمانوں کی ضروریات اور سامان
جنگ پر خرچ کرتے تھے ہتھیاروں اور سامان جنگ میں ڈھال بھی آتی ہے۔ عطا اس حدیث کا تعلق بنی نضیر کے ابو اوست سے ہے۔ عتاب یہ قیاس کر کے
اسے یہاں لائے ہیں کہ تیرا انداز کے لئے خود بھی عزمی ہے کہ ڈھال سے کام لے۔ عطا پچھلے عزمان میں جنگ کرنے وقت ڈھال سے حفاظت کرنے کا ذکر
تھا اور یہاں جنگ کے بغیر ڈھال سے شکر کر لیا ذکر ہے۔ عطا یہاں سے ہی لفظ اور دہرے کے ہے۔ البتہ یہاں فلما غفل کی جگہ فلما عمل ہے جب حضرت ابو بکر
و دوسرے کام میں لگ گئے اور دوسری روایت میں ہی لفظ عمل ہے مگر روایت میں زیادہ تفصیل ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس اشجع الناس لقد فرغ
اعمال الهدیة لیلۃ فخرجوا نحو الصورت فاستقبلہم انبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد استبرأ الخیر بات کی تحقیق کی، وہو علی فرس لا ی طلحہ عرونی فی عنقہ السبعو یقول
لخرجوا لہم تراخوا وکعبوا موت، فشقنا لجنوناہ ہجرا اذ قال انہ لیس فیہ حدیث ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۱۳۲۳ ۱۳۲۴ ۱۳۲۵ ۱۳۲۶ ۱۳۲۷ ۱۳۲۸ ۱۳۲۹ ۱۳۳۰ ۱۳۳۱ ۱۳۳۲ ۱۳۳۳ ۱۳۳۴ ۱۳۳۵ ۱۳۳۶ ۱۳۳۷ ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ ۱۳۴۰
ملاحظہ فرمائی روایت میں ہے کہ ابو امامہ نے یہ اس وقت فرمایا جب اسلامی لشکر مدینہ سے واپس ہو کر مہاجرین اترتا تھا اور اس فرماتے کی وجہ ان ماجور بطرانی میں یہ بیان کی گئی ہے
کہ ابو امامہ نے بعض صحابیوں کی تلواروں کو سونے چاندی سے مزین دیکھا۔ اور اس میں ملی روایت میں یہ زائد ہے کہ ابو امامہ نے فرمایا کہ تم جاہلیت اللہ سے بھی زیادہ تمہیں جو
اللہ تم کو ایک وسیع مغز ہو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو سات سو روپیہ دیتے اور تم اسے خرچ نہیں کرتے۔ روکے رکھتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں
سونے اور چاندی کا تلواروں میں لگانا اس لئے ناپسند کیا کہ وہ چاہتے تھے کہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔

يَدْعُونَا وَإِذَا عِنْدَنَا أُخْرِيَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ عَلَيَّ سَيْفِي وَأَنَا نَارِي	دکھا تو آپ کے پاس ایک ویسائی ہے	فرمایا اس نے میری تلوار مجھ پر لٹکانی	اور میں سویا ہوا تھا
فَأَسْتَيْقِظُ وَهُوَ فِي يَدِي صَلَاتًا فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ هُنِي فَقُلْتُ اللَّهُ لَنَا وَاللَّهُ لِيُؤَابِقُهُ	میں جاگا تو اس کے ہاتھ میں ہتھی تلوار تھی	اس نے کہا مجھ کو مجھ سے کون بچائے گا	میں نے تین مرتبہ کہا اللہ اپنے لئے کوئی نر
وَجَلَسَ (۸۵) بَابُ لَيْسَ لَيْبِضَةً (م- ۱۳۲۳) عَنْ سَهْلِ (مكرر- ۱۹۴)	نہری اور وہ بیٹھ گیا	باب خود کا پہننا	دیکھو حدیث ۱۹۴
(۸۶) بَابُ مَنْ لَمْ يَرْكُسْ السَّلَاحَ عِنْدَ الْمَوْتِ (م- ۱۳۲۴) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ	باب جو مرتے وقت ہتھیار توڑنا درست نہیں سمجھتا		
(مكرر- ۱۲۷۰) (۸۷) بَابُ تَفَرُّقِ النَّاسِ عَنِ الْإِمَامِ عِنْدَ الْقَائِلَةِ	باب دو پہر کو آرام کرتے وقت	اور سایہ کے لئے بادشاہ سے لوگوں کا	دیکھو حدیث ۱۲۷۰
ذِ الْأَسْتِظْلَالِ بِالشَّجَرِ (م- ۱۳۲۵) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (مكرر- ۱۳۲۲)	میں پھرتا ہونا		دیکھو حدیث ۱۳۲۲
(۸۸) بَابُ مَا قِيلَ فِي الزَّمَانِ وَبَدَأَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ	باب جو چیزوں کے بارے میں کہا گیا ہے اور ابن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں	کہہ دیا	
رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُفْغِي وَجَعَلَ لِي ذَلَّةً وَالضَّغَارُ عَلَيَّ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي	میرے ریزے کے سایہ کے نیچے مقرر کیا گیا ہے اور ذلت اور خواری اس کے ہے	جو میرے حکم کی خلاف ورزی کرے ملا	

میں جس غزوہ سے
 لڑنے وقت اس وقت
 کا ذکر ہے وہ غزوہ
 ذات الرقاع یا غزوہ
 غطفان ہے جس
 کی تاریخ میں مؤرخین
 نے بہت اختلاف
 کیا ہے۔ اور اس
 کی بحث، معانی
 باب غزوہ ذات
 الرقاع میں آئیگی۔
 جس شخص نے حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم
 کی تلوار کھینچی لی
 اور آپ کو مارنے
 لگا اللہ تعالیٰ نے
 اسے ایسا مروع
 کر دیا اور حضرت
 صلعم کا رعب اس پر

ایسا پڑ گیا کہ اسے مارنے کی جرات نہ ہوئی بعض روایات میں ہے کہ آنحضرت صلعم نے تلوار لے کر اس سے کہا کہ تجھ کو کون بچائے گا اس نے کہا کوئی نہیں اپنے اسے
 چھوڑ دیا۔ اور یہاں سے کہ اپنے اس پر حق بھی نہیں کیا یعنی زبانہ تینہ بھی نہیں کی۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ آنحضرت صلعم کی شجاعت اور استقامت اور علم
 اور بردباری ایسی بے نظیر تھی جس کی مثال کسی انسان میں بھی نہیں ملتی۔ اور اس حدیث سے یہی ثابت ہوا کہ آنحضرت صلعم آپ کے صحابہ نہ صرف فیر سبوں کو
 اسلام پر مجبور کرتے تھے بلکہ وہ اپنی جان کے دشمنوں کو باوجود قدرت انتقام کے معاف کر دیتے تھے اور اس سے وہ مسلمان ہو جاتے اور بعض روایات میں
 میں ہے کہ یہ شخص بھی مسلمان ہوا۔ اور اس کے ذریعہ اس کی قوم کے بت سے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے کیونکہ اس نے جا کر اپنی قوم میں اسلامی اخلاق
 اور آنحضرت صلعم کے خلق عظیم کی تبلیغ کی۔ ملا یہاں روایت یوں ہے انہ سئل عن جرح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم أحد فقال جرح وجه النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم وکسرت وباعیتہ ودهشت البیضة علی رأسہ نکات فاطمة علیہا السلام تغسل الدائم وعلی یسکلم فلما رات ان الدائم لا یزید الا کثرة
 اخذت حصصا فارقتہ حتی صاد ومارا انما الزرقہ فاستمسک الدیم من بھی ہی عنون گذر چکا ہے۔ آپ کے سر پر فرو تھا۔ اس سے عنون باب ہے
 ملا اگر خوف ہو کر دشمن ہمارے ہتھیار سے ہمارے ہاتھ فادہ اٹھائے گا تو ہتھیار تباہ کر دینے میں کوئی حرج نہیں جیسا کہ جعفر بن ابی طالب سے مروی ہے کہ انہوں نے
 غزوہ موتہ میں ایسا کیا مگر عام حالات میں ہتھیاروں اور ہاتھ کے سامان کو تباہ کرنا درست نہیں ہر گز فائز النبی صلعم الا سلاحا ودفعة بیضاء وارضا جعلها
 صدقہ یعنی نبی کریم صلعم نے اپنے ہتھیار اپنے پیچھے چھوڑے وہ کچھ کچھ میٹھی سے مکر روایت آئی ہے انہ غزا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فادرتکم القائلۃ فی اد
 کثیر العضاہ فتفرق الناس فی العضاہ یستظنون بالشجر فانزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحت شجرة فلقنہما سنیقہ ثم نام فاستیقظ وعذہ رجل وھول
 یشعرہ فقال لیس علی اللہ علیہ وسلم ان هذا اختلط سیفی فقال من یمنعک قلت اللہ فنام السیف فھا ھذا اجالس ثم لیس علیہ ما یتہ۔ ملا اس تعلق کا یہ
 مطلب لینا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سپاہ گری کو اپنا پیشہ قرار دیتے ہیں۔ اور نیزہ مار کر یا تلوار چنار کر آپ اپنی رولی کہتے تھے واقعات کے خلاف ہے۔ نبوت
 سے پیشتر جالیس سال تک اپنے ایک دو بھائی سپاہ گری کو اپنا پیشہ بنا یا بلکہ کسی جنگ میں بھی شامل نہ ہوئے علاوہ عرب کے تمام لوگوں کا سب سے برا شغل ہی جنگ
 تھا کہ تیرہ سال اور مدینہ میں آکر دو سال تک اپنے کوئی لڑائی نہ کی۔ یہ آپ کا قول ہے اس حالت سے تین لکھتا ہے جب آپ کو یہ علم ہوا گیا کہ اسلام کی مخالفت کے
 لئے اور مسلمانوں کو بچانے کے لئے اس دشمن کے مقابل پر ہونا تو اسے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو نسبت دنا بود کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہتا ہے جس جب تک یہ حالت
 رہی اس وقت تک جہاد باسیف آپ ہی ریح کی غذا تھی۔ رزق سے یہی مراد ہے یعنی میرے لئے بغیر اس کے چارہ نہیں ہاں لئے اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ جو کوئی میرے
 آں تک کی گراں جنگ ضروری ہو گیا ہے خلاف رزق کی گریگا اس پر ذلت اور خواری سے ہے جس جنگ کو تو خود ہی جیت لیا جائے تو یقیناً اس کا نتیجہ ذلت اور خواری ہے اور جب
 جہاد باسیف کی ضرورت نہ ہو جبکہ جہاد باسیف کے ساتھ ہی ہرگز جہاد۔ جہاد باقرآن جو جہاد کبیر ہے۔ لے لیا جائے تو اس کا نتیجہ بھی ذلت اور خواری ہے

(۱۳۴۶) عَنْ أَبِي تَتَادَةَ (متکثر - ۹۲۸) (۸۹) بَابُ مَا قِيلَ فِي دُرِّ النَّبِيِّ

دیکھو حدیث ۹۲۸ ص ۱۱۱ باب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زہ کے بارے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمِيصُ فِي الْحَرْبِ قَالَ لَيْسَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَا خَالِدًا
یہ کہا گیا ہے اور لڑائی میں کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد نے تو اپنی

فَقَدْ أَحْتَسِبُ دُرَّاعَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (۱۳۴۳) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ لَيْسَ صَلَّى
زہ میں لشکر کی راہ میں وقف کر دی ہیں اور ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَزَادَنِي رَوَايَةً يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ نَبِيٌّ قَبِيَّةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ
ایک روایت میں یہ زیادہ ہے بد کے دن جس وقت آپ نے یہ فرمایا ہے وہاں اسے اللہ میں تیرا عباد اور

هَذَا كَوَدَعْدِكَ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبِدْ بَعْدَ الْيَوْمِ مَخْدَأُ بُوَيْبَكِرٍ بَيْنَهُمَا
تیرا وعدہ تم سے چاہتا ہوں اسے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے دن کے بعد تیری عبادت نہ ہوگی تو حضرت ابو بکر نے آپ کو اللہ سے کہا اور عرض کیا

حَسْبِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ أَحْبَبْتُ عَلَى رَبِّكَ وَهُوَ فِي لَدُنِّكَ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ سَيَلْزَمُ
یا رسول اللہ میں کچھ آپ نے اپنے رب سے دعا کی کہ آپ کو پہنچا دیا اور آپ زہ پہنچے ہوئے تھے آپ کے اور یہ بڑھ رہے تھے

الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرِ بِلِ السَّاعَةِ مَوَعِدَهُمُ وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ (۱۳۴۴)
سیہزم اور جمعیت گنت کہا گیا اور ہمیشہ پختہ بلکہ مقررہ گزری انکا وقت مقرر ہے اور وہ گزری بہت جمعیت الی اور بہت جمعیت اور اللہ اور اللہ

عَنْ عَائِشَةَ بَدَأَتْ تُوْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدُرَّعُهُ مَرُّهُ وَهُوَ عِنْدَ
حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پا کر اور آپ کی زہ جو کہ تیس صلح کے عوض

مَلُودِي بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ رَزَادَنِي رَوَايَةً) دُرِّهِ مِنْ حِدَائِدٍ (۱۳۴۵)
ایک بیوی کے پاس رہتا تھا اور ایک روایت میں یہ زہ ہے کہ زہ لوہے کی تھی

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکثر - ۷۷۲) (۹۰) بَابُ الْبَيْتَةِ وَالشَّعْرُ وَالْحَرْبِ (۱۳۴۸) عَنْ
دیکھو حدیث ۷۷۲ ص ۱۱۱ باب سفر اور لڑائی میں جو پہننا

الْمُخَيَّرِ بِنِ شَعْبَةَ (متکثر - ۱۲۶۱) (۹۱) بَابُ الْحَرْبِ فِي الْحَرْبِ (۱۳۴۹) عَنْ أَنَسِ
دیکھو حدیث ۱۲۶۱ ص ۱۱۱ باب لڑائی میں پیشہ کا استعمال

علا کر روایت
مفسرین م
سے ملتا ہے البتہ
فرادہما را حشیا
قبل ان میرا ہنما
راہہ ترکہ حتی
رای ابوقتاوہ
کے نفا میں نہیں
اور یہاں یہ نہا ہو
کہ ابوقتاوہ نے اپنا
نیزہ بکھڑا نا چاہا۔
اور اس سے عثمان
سے اور انہوں نے
انکا رکھ دیا۔ اور
یہی ہے کہ جب
انہوں نے جنگی
گدھے کے گوشت
میں جسے ابوقتاوہ
نے مارا تھا اختلاف
کیا تو ہنما صلح
ان کی روایت پر
فرمایا انھا صلح
اطعموھا اللہ
ص ۱۱۱ میں حدیث
کا ذکر اب انور کی
جو پہلے ہے۔

میں تین گامی چونکہ اس حالت میں اس زکوٰۃ کا شمار نہیں کیا گیا اور نہ اس میں زہ کے لڑنے کے لئے ہیں بلکہ عین باقی تعلق تو صرف اس محلے کا ہے کہ آپ زہ پہنچے ہوئے
تھے مگر اس کے ساتھ آپ کی دعا کا ذکر بھی ہے جس میں آپ اللہ تعالیٰ کا اپنا وعدہ اس کے حضور میں کرتے ہیں۔ اور پھر جب نکلے ہیں تو ایک ایسی آیت قرآنی
پڑھتے ہیں جس میں دشمن کی جمعیت کے ایک مقرر گھڑی پر شکست کہا جانے کا ذکر ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس آیت سے یہی مراد لیتے تھے کہ
دشمن کو ایک مقرر گھڑی پر شکست ہوگی۔ اور اس جنگ بدر کو آپ نے وہ الساعۃ سمجھا جس سے لفظ ساعت کے قرآن کریم میں استعمال پر روشنی پڑتی ہے
کہ اس سے مراد ہمیشہ قیامت نہیں ہوتی بلکہ ایک الساعۃ اس دنیا کے لئے بھی ہے۔ جنگ بدر اس لحاظ سے قریش کے لئے اس کا حکم رکھتی تھی کہ
باوجود ہر قسم کے سامانوں کے اور جنگی فوج کے ان کی قوت ٹوٹ گئی۔ اور آپ کے یہ الفاظ کہ اگر تو چاہے تو آج کے دن کے بعد تیری عبادت نہ ہوگی ان
سے یہ مراد ہے کہ اگر یہ ملی بھر جماعت جو اس وقت خدا کے نام کو پھیلانے کے لئے اٹھی ہے تباہ ہوگی تو پھر فرمائے اور ہاں نام ہو گا کیونکہ توجہ
اس وقت کل دنیا سے گم ہو چکی تھی اور اسلام ہی ہے جس نے توجہ راہی کو دنیا میں از سر نو قائم کیا، بلکہ اس زہ کے گرد لکھنے کی تفصیل گزرتی ہے۔ یہاں
وفات کے وقت زہ کے گرد ہونے کا ذکر ہے، یہ کچھ وفات لفظی سے وہ ہر ایک ہے۔ عن النبی صلعم قال مثل الجنید والمصدق مثل رجلین علیہما
جہان من حدیث قد اضطرت ایما علیا الی تراقیہما نکلمہما ہم المصدق بصدقہ استعت علیہ حتی تعقی اقرہ وکلما ہم الجنید بالصلۃ
انقضت کل حلقۃ الی صاحبہما ونقلت علیہما فضمت ینا الی تراقیہما فہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فیجہان الی وسما فلا تنسہ لوہے کے
چمکا کر ہے اس نسبت سے حدیث کہ اس میں لائے ہیں، علا مکرر روایت انطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوئی ہے
اور فتوحاً وھوہ بالصلاۃ کہ بجائے یہاں ہے لفظ مض واستشق وغسل وجہہ،

علا میں صرت ہے
لفظ میں انہیں صلوات
رخصہ صلوات لکھن
ابن عوف و ابن زبیر
فی تفسیر منہج
من حلة کانت
بہما
علا حاضر و دست
مردوں کیلئے رشیم
پینا سنس ہے۔ تلوار
کی جنگ میں حلق
کا کام بھی تیا ہے۔
علا بیان ۱۲۹۹ کا
مضوں تقریباً تین
لفظوں میں ہے۔
علا ہے۔ س-س
آنحضرت کا کچھ
حضرت کو کھانینے
لئے چھری سے
کاٹنے کا ذکر ہے
اس لئے چھری کو
جہاد میں بھی لڑنے
کیلئے استعمال کیا
جاسکتا ہے۔ اس
عنوان ہے۔ اس
قسم کے چھری

(متکدر-۱۳۴۵) (۱۳۴۵) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَ الزُّبَيْرَ شَاكَا	دیکھو حدیث ۱۳۴۵	انس سے روایت ہے کہ عبدالرحمن بن عوف اور زبیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْتَرِ الْقَمَلَ فَأَرْخَصَ لَهُمَا فِي تَحْرِيرِ فُرْأَيْتَهُ عَلَيْهِمَا فِي		جوڑوں کی شکایت کی تو آپ نے دونوں کو رشیم کی اجازت دی کہ وہ کسی توہین نے ان پر جاری رشیم دیکھا
عَزَاوَةً (وَفِي رِوَايَةٍ) رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَ الزُّبَيْرِ		اہ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمن بن عوف اور زبیر بن عوف کو
ابن العوام في جريد رزاد في (رواية) رخص و رخص بجلد ہمارا (۹۲) باب ما يدك		رشیم ہینے کی اجازت دی ہی ملے ایک روایت میں زیادہ کہ ہے) آپ نے اجازت دی یا انہیں اجازت ملی تھی کہ وہ نیکو عمل کی جہاں جہاں
في السواكين (م-۱۳۵۰) عَنْ عُمَرَ بْنِ أُمَيَّةَ (متکدر-۱۱۶۹) (۹۳) باب ما قيل في	دیکھو حدیث ۱۱۶۹	کے متعلق بیان کیا جاتا ہے باب جو سبائوں سے لڑنے کے
قتال الروم (م-۱۳۵۱) عَنْ عُمَيْرِ بْنِ الْأَسود (متکدر-۱۲۸۶) (۹۴) باب قتال	دیکھو حدیث ۱۲۸۶	مستحق ہونے کا جاتا ہے باب ہود سے
اليهود (۱۳۴۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ		عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تَقَاتِلُوا الْيَهُودَ حَتَّى يَخْذِبُوا أَعْيُنَهُمْ وَرَأَى الْحَجْرَ فَيَقُولُ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَأَى		ہود سے تھماری رائی ہوگی وہاں تک کہ ان پر کوئی پتھر نہ چھپ جائے گا تو وہ کہہ دیکھا اسے خدا کے بندے سے یہ یودی ہر پتھر تھکتے
فَأَقْتَلَهُ (م-۱۳۵۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکدر-۱۳۴۵) (۹۵) باب قتال الترك	دیکھو حدیث ۱۳۴۵	نہ لڑے کہ باب ترکوں سے لڑائی
(م-۱۳۵۳) عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (متکدر-۱۳۴۷) (۱۳۴۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ	دیکھو حدیث ۱۳۴۷	ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقَاتِلُوا التُّرُكَ صَغَارًا أَوْ كِبَرًا أَوْ جَوْعًا		صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو وہ لڑائی نہیں آئیگی جب تک تم ترکوں سے نہ لڑو گے جن کی آنکھیں چھوٹی ہیں پھر سے مسرخ

موانع قائم کرنا اصل مقصد نہیں بلکہ بتانا مقصد ہے کہ جنگ میں جیسے ہتھیار کام لے سکیں سب کا استعمال جائز ہے بشرطیکہ بلا ضرورت ایذا رسانی نہ ہو۔ یہاں
روایت کئی جگہ کے ساتھ آئی ہے۔ ان عمیر بن الاسود لکنس حدیثہ انہ اتی عبادة ابن الصامت وهو نازل فی ساحل حصن رخص رومیوں کا دار الحکومت
تھا اور اس وقت وہ فتح ہو چکا تھا) وہو فی بناء المدینة و معہ امر حرام (حسب) کہ یوی) قال عمیر فحدثنا امر حرام انہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول
اول جیش من امتی یغزون البصر فادجوا رواب یا حنت کو واجب کر دیا یہاں لہ امر حرام قلت یا رسول اللہ اننا فیہم قال انت فیہم ثم قال النبی صلی اللہ
علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون مدینة یتصور مغفور لہم نقلت اننا فیہم یا رسول اللہ قال لا۔ مدینة یتصور سے مراد تظنطظطیکہ شرط حضرت معاویہ کے
زمانہ میں مسلمانوں کی اس پر مدینہ مشہور صحابی ابو یوب انصاری بیان شہید ہوئے۔ ابن عباس ابن عمرو ابن زبیر بھی اس غزوہ میں شریک تھے۔ ابواب
انہا و میت کے مطابق شہر تظنطظطیکہ مدوازہ میں دفن کئے گئے۔ مدین یتصور یعنی تظنطظطیکہ کے غزوہ کی فوج کے متحقق آنحضرت نے فرمایا مغفور لہم وہ بخشی گئی ہے
یا بخشی جائیگی چونکہ زبیر بھی اس میں تھا اور فوج کا امیر تھا اس لئے مدینے کا کہ زبیر بھی مغفور لہم میں شامل ہے۔ اور ان کے لگا کر اس کیلئے نیک اعمال پر قائم رہنا شرط ہے۔
اور زبیر اپنے مظالم اور غیر حق اعمال کی وجہ سے اس میں شامل نہیں ہو سکتا اگر شکی آنحضرت بت وسیع ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعاً یہ ہودیوں کے ساتھ
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا میں روائیاں ہوتی ہیں اور واقعی ان کی وہی حالت ہوتی جن کا ذکر حدیث میں ہے۔ یہ وہ کہ دو باہر غلبہ پانے کا ذکر کہ پیر مسلمان ان سے جنگ
کہہ کر ان و حدیث میں نہیں ہے۔ علا کہ روایت یوں ہے لا تقوم الساعة حتی تقاتلوا الیہود حتی یقولوا الحمد واد الیہود یا مسلمہ ہذا الیہودی مدانی
فانقلہ۔ اساعۃ سے مراد یودیوں کی تباہی کا وقت ہے۔ دیکھو نوٹ ۱۳۴۷ پر یہ بیان روایت یوں ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشراط الساعة ان
تقاتلوا قوماً یتعلون نعال النساء و ان تقاتلوا قوماً یراضل الوجوه کان وجوہہم الجبان المطلقۃ

ذُلتُ الْأَنْفُوكَانَ وَجْهَهُمُ الْيَمَانُ الْمَطْرَقَةُ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْبَلُوا نَوْمًا بِأَنْفِهِمْ

نہیں سوتی یہی ہوتی گو یا کہ ان کے چہرے تہہ ذوالھال میں اور مورو گھروی ہیں ایسی جب تک تم ایسے لوگوں سے نہ رو۔ جن کی جو تیاں بائیں

الشَّعْرُ (۹۶) بَابُ قِتَالِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّعْرَ (۱۳۵۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَرِّرًا - ۱۳۴۷)

کے ہیں علی باب ان سے اور ان جو بائیں کے جوتے پہننے ہوں دیکھو حدیث ۱۳۴۷

رَبُّهُ مِنْ صَفِّ أَصْحَابِهِ عِنْدَ الْهَزِيمَةِ وَنَزَلَ عَنْ دَائِبِهِمْ وَأَسْتَنْصَرَ (۱۳۵۵)

باب جو پہننے کے وقت اپنے ساتھیوں کی صف میں ہانڈھے اور اپنی سواری سے اتر کر (ادھر سے) مدد مانگے

عَنْ أَبِي إِسْحَقَ (مُتَكَرِّرًا - ۱۳۴۷) (۹۸) بَابُ الدَّعَاءِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ بِالْهَزِيمَةِ وَالزَّلْزَلَةِ

باب مشرکوں کے خلاف نکتہ کہانے اور درہم بہم بہم جو تیاں دھارنا دیکھو حدیث ۱۳۴۷

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت عبید بن جعفر سے روایت ہے کہ جب جنگ احزاب کا دن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

مَلَائِكَةُ بِيَوْمِهِمْ وَتَوَّهَرَهُمْ نَارًا اشْفَلُونَا عَنِ الصَّلَاحِ الْوَسْطَى حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ

اشرفان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھرنے انہوں نے ہم کو نارا زعفر سے مصروف رکھا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا

(۹۹) (۱۳۵۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَرِّرًا - ۱۳۴۷) (۱۳۶۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ يَقُولُ

دیکھو حدیث ۱۳۶۹ عبد اللہ بن ابی اویس سے روایت ہے کہ میں

دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُمَّ نَزِّلْ الْكِتَابَ بِسْمِ اللَّهِ الْحَسَابِ

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے دن مشرکوں پر دعا کی فرمایا ہے شکرنا کہ آنا نزلے جلد صاحب لہنے والے

اللَّهُمَّ أَهْزِبْ الْأَحْزَابَ اللَّهُمَّ أَهْزِبْهُمْ وَزَلْزَلْهُمْ (۱۳۵۷) (مُتَكَرِّرًا - ۱۹۱)

اے اللہ (دعا کر) کہ احزابوں کو ہکا بھکا کرے اور انہیں درہم بہم کرے دیکھو حدیث ۱۹۱

بنا ترکوں جنگ
کومن اشراط
الساعة کہا ہے۔
جس سے مراد مسلمانوں
بر ایک خطرناک شاہی
کا آتا تھا چنانچہ وقت
عباسیہ ترکوں کے
ہاتھ سے تباہ ہوئی
ترکوں کے ساتھ
جنگ کا ہونا اور
مسلمانوں پر ان کے
ہاتھ سے تباہی کا
آنا ہی کر یہ صلح
غظیم اشان چنانچہ
میں سے ہے اسلئے
کہ یہ اور انھار کی
کے ساتھ جنگ کی
تو ابتدا ایسی ہوئی
تھی مگر ترکوں
عرب کے آس پاس
بھی نہ تھے۔ اور

مسلمانوں پر ان کے ہاتھوں سے تباہی کا آنا بھی مذکور ہے۔ یہاں تک کہ بعض حدیثوں میں مذکور ہے کہ وہ مجددوں کے ستونوں کے ساتھ گھولے ہانڈھیں گے۔ اور عربوں کو یہ بھی کہا تھا کہ اتر کر الازک ما ترککم۔ تم ترکوں کو چھوڑے رکھو جب تک کہ وہ تم کو چھوڑے رکھیں۔ اس میں بھی یہی اشارہ پایا جاتا ہے کہ مسلمانوں پر ان کے ہاتھ سے تباہی آنے لگی تھی اور ایسا ہی ہوا اور جب ترکوں نے غنات عباسیہ کو تباہ کیا اس سے بہت پیشتر یہ احادیث کتابوں میں لکھی ہوئی موجود تھیں۔ اس لئے ان کے ضمنی ہونے کا ادنیٰ احتمال بھی نہیں ہو سکتا۔ علی بن النبی صلعم قال لا تقوم الساعة حتى تقابلوا قوما فالجهم الشعر ولا تقوم الساعة حتى تقابلوا قوما كان وجههم الميخان المطرقة قال سفیان وزاد فيه ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرة رواية صغار الا عين ذلت الانون كان وجوههم الميخان المطرقة۔ بائوں کی جو تیاں والے بھی ترک ہی ہیں۔ ان کی ابتدائی زمانہ کی حالت کا ذکر ہے کہ علیہا روایت کی گئی ہے۔ ساتھ آئی ہے۔ قال سمعت البراء و ساله رجلكم فرددتم يا ابا حمزة يوم حنين قال لا والله ما اولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه خرج شيان اصحابه واخفا لهم حواصل ليس بسلاح فاتوا قوما دماهم هراون وبنى نصر وما يكاد يسقط لهم سهم فرشقهم رشقا ما يكادون يخطون فاقبلوا هنالك الى النبي صلى الله عليه وسلم دهر على بطنه البيضاء وابن عمه اوسق بن الحارث بن عبد المطلب يقوده فقول واستنصر فقال انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب ثم صفت اصحابه۔ اس میں ذکر ہے کہ حنین کی جنگ میں جب نبی کریم صلعم نے دیکھا کہ آپ کی فوج بھاگ رہی ہے تو آپ نے سواری سے اتر کر علی اور فرمایا انا النبي لا كذب اور پھر اپنے اصحاب کی صف میں ہانڈھے کر دشمن پر حملہ کیا اس میں یہ بتایا ہے کہ اگر سب مخالف بھی نظر آئیں تو جھڑنے ہارنا چاہئے ہلکا شرخالی سے مدد مانگتے ہوئے اپنی جگہ پر قائم رہنا چاہئے۔ اس سنت نبوی پر بہت مسلمان بادشاہ حمل کر کے تباہ کر دیئے گئے دیکھتے تو عین میدان جنگ میں سجدہ میں گر جاتے اور اشارتاً کی نصرت مانگتے اور تکیا ہوتے۔ ہلکے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھرنے کا منشا دینا اور آخرت میں ان کی ناکامی ہے یعنی ایسی طرح وہاں ہوں کہ ان کے دلوں میں حسرت کی آگ جتنی ہے کہ ہم مسلمانوں کو تباہ کر کے اور پھر حسرت ایسی ہو کہ قبروں میں بھی ساتھ لے جائیں۔ جنگ احزاب میں مشرکین عرب اور یہود سب نے مل کر مدینہ پر حملہ کیا تھا اور وہ بالکل اس بات پر ہتے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو تباہ کر دیں۔ ان کی ناکامی کی وجہ مسلمانوں کی مخالفت کی وجہ تھی۔ یہ صحیح روایت کا صرف ایک حصہ ہے۔ قال کان النبي صلعم يدعوا في الغزاة اللهم اغر الويلين بن الويلين اللهم اغر عايش بن ابی ربيعة اللهم اغر المستعصمين من المشركين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم سنو كسفي يوسف۔ بعض مسلمانوں کیسے نجات کی دعا بھی انہیں اترادینے والوں کیسے گرفت اور نجات کی بد دعا ہے۔ ظاہر ہے کہ ظالم کے ظلم سے روکا جانے کی بد دعا بھی مظلوم کی مخالفت کی بد دعا ہی ہے۔ علی بیان حدیث میں اختصار ہے۔ قال کان النبي صلعم يعلى يباي ويصلي

بقیہ ص ۶۶۶
 نقل الکعبہ مختار
 ابو جہل و فاس بن
 قریش و حضرت حمزہ
 صاحبہ مکہ فارسیلا
 حارث بن اسلاھا
 و عمرو بن عبد مناف
 صاحبہ فاختہ حضرت
 فقال اللهم عليك
 بقریش اللهم عليك
 بقریش اللهم عليك
 بقریش لابی جہل
 بن ہشام و عقبہ
 بن ربیعہ و شیبہ
 بن ربیعہ و الولید بن
 عقبہ بن ابی بن خلف
 و حقیقہ بن ابی جہل
 قال عبد مناف فقد
 رأیتهم فی قلبی
 بن حنظل قال ابو جہل
 سخن و نسبت

(۱۳۵۰) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ الْيَهُودَ دَخَلُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَلَعَنَهُمْ فَقَالَ مَا لَكَ قُلْتَ أَوْ لِمَ تَسْمَعُ مَا قَالُوا قَالُوا فَلَمْ تَسْمَعْ مَا قُلْتَ
 حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ یہودی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اسام ایک
 تو میں نے ان پر لعنت کی آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا میں نے عرض کیا کہ آپ نے نہیں سنا جو انہوں نے کہا فرمایا کہ تم نے نہیں سنا جو میں نے
 وَعَلَيْكُمْ (۱۹۹) يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ كُلُّ مَن يَدْعُ إِلَى تَابِئِهِمْ أَوْ يَدْعُهُمْ إِلَى التَّابِئِ
 کہ وہ لوگو! باب کیا مسلمان ان کو نہ کہ جو انہیں کتاب اللہ کی تفسیر سے مل
 (م- ۱۳۵۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ (ص- ۱۰۰) بَابُ الدُّعَاءِ لِلشَّرِّ كَيْفَ يَأْتِيهِ
 دیکھو حدیث، مس باب مشرکوں کے لئے دعا کہ وہ بدیہت پائیں تاکہ
 لَيْتَا لَفْهَمُ (۱۳۵۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 نئے نوری رحمت پیدا ہو ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ طفیل بن مردوسی اور اس کے ساتھی نبی صلی اللہ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ دُوسًا عَصَتْ أَمْرًا دَعَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأَنْقَلَبُوا هَلَكًا
 علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ شریف و مقید، دوس نے نافرمانی کی اور انکار کیا آپ ان پر بد دعا کریں تو کسی نے کہا قہید
 دُوسٌ قَالَ اللَّفْهَمُ أَهْدِ دُوسًا وَأَبْتِ بِهِمْ (۱۰۱) بَابُ دَعْوَةِ الْيَهُودِيِّ دُ
 دوس تیار ہوا آپ نے کہا کہ اللہ دوس کو بدیہت سے اور انہیں دجاں سے آگے
 النَّصْرَ أَيْ وَعَلَى مَا يَفْتَاتُونَ عَلَيْهِ وَمَا كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كِسْرَى
 دینا اور کس بات پر ان سے لڑائی کی جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسری اور تیسر
 وَبَيَّضَرُ الدَّعْوَةِ قَبْلَ الْقِتَالِ (م- ۱۳۵۹) عَنْ أَنَسٍ (م- ۱۰۰) بَابُ دَعْوَةِ الْيَهُودِيِّ دُ
 کوریشی، خدا کا اور لڑائی سے پہلے اسلام کی دعوت دینا دیکھو حدیث ص ۶۰

اصابع وقال يوسف بن ابی اسحق عن ابی اسحق امیة بن خلف وقال شعبة امیة ابی رافع امیة و رافع بن امیة اسلم علیہم کے معنی میں تھے پر عورت تھے۔ حضرت
 عائشہ نے ان پر لعنت کی آپ نے اپنے لئے پند نہیں کیا۔ یوں سمجھنا کہ انکی تنبیہ کیلئے اس قدر کافی تھا جو میں نے کہہ دیا وہ علم نبی اگر تم میرے لئے سلاحتی کی جھانکتے ہو تو تم پر بھی سلامتی ہو
 اور اگر موت کی حالت گھنٹے ہو تو وہی تم پر آئے۔ اس قدر تنبیہ کر دینے میں ہرج نہ تھا کہ وہ اپنی شرابت سے باز آجائیں، بلکہ جس طرح آج مسلمانوں میں یہ بیماری پیدا ہو گئی ہے
 کہ قرآن شریف کا ترجمہ دوسری زبان میں نہ ہونا چاہئے کسی وقت یہ بیماری بھی گئی کہ قرآن شریف کی تفسیر کو نہ فرکی نہ فرکی جائے۔ قیج بھاری میں ہے کہ امام مالک نے اسے منع کیا ہے
 اور اسلام ابو حنیفہ نے اس کی عام اجازت دی ہے مگر سوال یہ ہے کہ قرآن شریف جب تک کہ فرکی نہ بنیا جائے گا دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہی حالت ترجمہ کی ہے۔
 اگر کثرت زبانوں میں قرآن شریف کے ترجمے نہ ہوں تو ان حکم میں اسلام کس طرح پیچھے گا۔ بلکہ کثرت بہت مختصر ہے یاں صرف اس قدر گلاہ دوہرا یا گیا ہے ان رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الی قصہ وقال خان قولت خان عبدک اہم الادیسیون یہ گویا ان کی بھائی کی بات بتانا ہے۔ اصل حدیث مکہ سے قرآن کریم کی کتاب باہل
 الکتاب تھا اولیٰ کتبہ بھی تھیں کہ کثرت ثابت ہے۔ یہ گویا کتاب اللہ کی تعمیر دنیا ہے۔ بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقتضائے عقل و فہم کے مخالفت سے مخالفت کے ساتھ ہی
 صحبت اور نبی کا سلوک کرنے چاہئے باوجود اوسمیان کے سخت دشمن ہونے کے آپ نے اس کی درخواست پر جب ان پر تھا بڑا بارش کیلئے دعا کی اور میں ان نصیحتوں کو
 مرنے کے بعد اپنی نصیحتیں سنائی اور اس کا جنازہ بھی پڑھا اور آپ نہ چاہتے تھے کہ دشمنوں کو بھی کسی قسم کی تکلیف پہنچے۔ اور پھر جو ایک آدمی ہوا تو پر بد دعا کا ذکر ہے تو وہ صرف
 ایسی حالت میں کہ جب خدا اپنے علم میں مبتلا ہو گیا اور ظہور کی مخالفت ظالم کی تباہی کے سوائے نہ چھوٹی تھی۔ طفیل بن مردوسی میں سے آکر کجرت سے پہلے کہ میں
 مسلمان ہوئے اور وہیں جا کر اپنی قوم دوس کو اسلام کی تبلیغ کی اور فتح خیبر کے بعد پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ پہنچے اور ان کے ساتھ کسی نے
 آدمی اپنے خاندان کے تھے ہائی نے ان کی تبلیغ نہ ہستی اس لئے اس نے بد دعا کرنے کیلئے مدعا مست کی۔ لیکن چونکہ انہوں نے عداوت اختیار نہ کی تھی اور نہ فرات
 پر ماوہ ہوئے، لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا کی کہ انہوں کو بدیہت تھے۔ ابو ہریرہ بھی قہید دوس میں سے تھے۔ یہ وہی ہیں ان
 میں ہوتی ہے لہذا اولاً ان کے یکتب الی اللہ و اس کے بعد پھر وہی مخالفت ہی مخالفت تھا وہ سے آخر تک یہاں نہیں۔ حدیث میں جنگ کا کوئی ذکر نہیں۔
 معرفت دعوت اسلام کا ذکر ہے

(مر۔ ۱۳۶۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ (متکرم۔ ۵۹) (۱۰۲) بَابُ دَعَاوِ النَّبِيِّ صَلَّى

دیکھو حدیث ۵۹ ص ۱۰۲ باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَالنَّبِيُّ وَأَنْ لَا يُجْزَأَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَرْبَابًا مَرْدُونَ لِلَّهِ

کاسلام اور نبوت کی دعوت دینا اور اس بات کی کہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے حصے، شریعت کے مال مران ۲۰۰

وَقَوْلُهُ تَعَالَى مَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يُوْحِيَ اللَّهُ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ (مر۔ ۱۳۶۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ شے کو جائز نہیں کہ اللہ سے آگے اور اللہ سے بعد (اول مال مران۔ ۲۰۰) ص ۱۰۲

ابْنِ عَبَّاسٍ (متکرم۔ ۷۰) (۱۳۵۲) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ سَمِعَهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

دیکھو حدیث ۷۰ ص ۱۳۵۲ سہل بن سعد سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو

يَعْرِضُ لَهُ يَوْمَ خَيْبَرَ عَطِيَّةَ الرَّأْيَةِ رَجُلًا يُعْزِمُ اللَّهُ عَلَىٰ بَدْيِهِ فَقَامُوا يُرْجُوْنَ لِيَأْتِيَهُمْ

غیر کے دن زمرہ نے میں محمد ایک ایسے شخص کو دوں گا کہ اللہ اس کے ہاتھ سے تم کو دے گا۔ تو وہ اس پر اے اللہ کے کارن میں سے

أَيْلَهُمْ لِيُحْطَىٰ فَعَدَاؤُهُمْ مِرْحَوَانٌ يُحْطَىٰ فَقَالَ آيُنَ عَلِيٍّ فَيُقْبَلُ بِشَيْءٍ عَمِيهِ

کس کو دے جائیگا صحیح ماہر نے ہر ایک ان میں سے آرزو کرتا تھا کہ اسے دیا جائے آپ نے فرمایا علیؑ کی اس سے تو کیا گئی انہیں کھری

فَأَمْرٌ فَدَعِيَ لَهُ فَبَصِقَ فِي عَيْنِيهِ فَبَرَأَ مَكَانَهُ حَتَّىٰ كَانَتْ لَهُمْ يَكِينٌ بِهِ شَيْءٌ فَقَالَ قَاتِلَهُمْ

میں آپ نے اپنا نیا حکم دیا وہ آپ کے منکر کے مطابق بلائے گئے آپ ان کی آنکھوں پر پانی عاتق بن گیا پادہ اسی وقت بھی ہو گئی تو یہ کہ انہیں

حَتَّىٰ يَكُونُوا مِثْلَنَا فَقَالَ عَلِيٌّ رَسِيكَ حَتَّىٰ تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ

کوئی تمہیں ہی نہ تھی حضرت نے عرض کیا کہ ان سے ہم بیان تک لڑیں کہ ہماری طرح ہو جائیں تو لڑنا اور پھر اگر یہ سب کچھ ہو جائے تو پھر ہمارے

أَخْبَرَهُمْ بِمَا حُبَّ عَلَيْهِمْ فَأَنَّهُ لَأَنْ يَهْدِيَهُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حَمِيرِ النَّحْمِ

تو پھر اللہ کی نعمت دوا اور انکو بتا دو اور پھر واجب ہے اللہ کی قسم ایک شخص بھی تمہارے ذریعہ سے باریت بنے تو تمہارے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا

۱۰۲ باب دعوای نبی صلی اللہ علیہ وسلم
۱۰۳ باب دعوای نبی صلی اللہ علیہ وسلم
۱۰۴ باب دعوای نبی صلی اللہ علیہ وسلم
۱۰۵ باب دعوای نبی صلی اللہ علیہ وسلم
۱۰۶ باب دعوای نبی صلی اللہ علیہ وسلم
۱۰۷ باب دعوای نبی صلی اللہ علیہ وسلم
۱۰۸ باب دعوای نبی صلی اللہ علیہ وسلم
۱۰۹ باب دعوای نبی صلی اللہ علیہ وسلم
۱۱۰ باب دعوای نبی صلی اللہ علیہ وسلم
۱۱۱ باب دعوای نبی صلی اللہ علیہ وسلم
۱۱۲ باب دعوای نبی صلی اللہ علیہ وسلم
۱۱۳ باب دعوای نبی صلی اللہ علیہ وسلم
۱۱۴ باب دعوای نبی صلی اللہ علیہ وسلم
۱۱۵ باب دعوای نبی صلی اللہ علیہ وسلم
۱۱۶ باب دعوای نبی صلی اللہ علیہ وسلم
۱۱۷ باب دعوای نبی صلی اللہ علیہ وسلم
۱۱۸ باب دعوای نبی صلی اللہ علیہ وسلم
۱۱۹ باب دعوای نبی صلی اللہ علیہ وسلم
۱۲۰ باب دعوای نبی صلی اللہ علیہ وسلم

دعوت نہ دیتے تھے بلکہ عیسائیوں آتش چڑھ کر غیر کو بھی دعوت دیتے تھے۔ یہ حدیث کے روایت کا ابتدائی حصہ یوں ہے ان دونوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اسے
قیصر میں عورہ الی الاسلام وبعث یکتا بہ الیہ مع وحیۃ الکلہی وامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یدفعہ الی عظیمہ بصری لیدفعہ الی قیصر
لان قیصر لما کشت اللہ عنہ جنود فارس مشی من مہص الی ایلہا ویکر اللہ ما ابلاہ اللہ رائی فی لوج رؤسہم کے سارے میں کھیل گئی تھی اور فلسطین تک
پہنچ گئی تھی۔ بعد میں اللہ نے رؤسہم کو غلبہ دیا اور ایرانیوں کو اپنے ملک سے نکال دیا۔ سورہ روم کی آیت میں بھی اس کے متعلق قیصر فلما جاء قیصر کتاب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم قال حین قرأہ التسموالی ہننا احد امن قومہ کاسا لہم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابن عباس ما خابہ فی اوصافہ
انہ کان ہاشمہ فی رجال من قریش قد ما تجارانی المدۃ الق کانت بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبن کفار قریش قال اوصافہ لوجہ فار رسول
قیصر یجوز لہما فانطلق بی ویا صحابی حق قد ما ایلہا و فا دخلنا علیہ فاذا ہو جالس فی مجلس ملکہ وعلیہ لتاج واذا حولہ عظام السورہ
اس کے بعد کہ صفوں وہی ہے البتہ یہاں کچھ عبارتیں جگہ جگہ زائد ہیں۔ اور وہ کان ابن الناکھور سے آختر تک یہاں نہیں۔ انا اقرہم الیہ تسبا کے بعد یہاں یہ زائد ہے
قال ما قرأہ ما بدینک ویدیتہ نقلت ہوا بن ہتمی ولبس فی الرکب یومئذ احد من بغی عبد مناف غیری اور ولولا الحیاء یومئذ من ان یا مشر
اصحابی عنی الکناب لکن بقیہ کے بعد یہاں یہ زائد ہے حین سالتی عنہ وکنی استخیت ان یا شر الکناب عنی لصدقہ کہ میرے ساتھی مجھے بھڑکا
بتلا میں گئے۔ اور یا مرنا بالصلوۃ کے بعد یہاں صدق کے بجائے صدقہ کا لفظ ہے۔ والصلۃ کے بجائے والوفاء بالعهد کا اور ادا الامانۃ۔ یہاں آمد
ہے۔ قتال کے متعلق سوال کرنے کی فرض وہاں بتائی نہیں گئی۔ یہاں ان الفاظ سے بتائی گئی ہے وساندک هل قائلتموہا وقد تکرر فرحمت ان قد فعل وان ہو کرم
وحریہ لکن دولای ال علیہ السورہ وقد الون علیہ الاخری وکن ذلک الرسول تبتلی وکن لہا العاقبۃ۔ اور حق داخل اللہ علی الاسلام کے بعد
آخر پر یہ لفظ یہاں زائد ہے وانا کا وہ یعنی میں مسلمان ہو گیا مگر خوشی سے نہیں بکرتی کہ کے بعد جب اسلام خود کس میں داخل ہو گیا۔ بالی خیف لفظی اختلافات میں
جن سے مفہوم کچھ اڑ نہیں پڑتا۔ ملک منسلک سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی حملہ میں غیر والوں کو دعوت اسلام نہیں دی گئی تھی حضرت علیؑ کو تم ایک ہدایت کے
مطابق دو حصوں کے بعد دیا گیا تھا۔ لیکن ہے یہ حصہ کسی راوی کا تصرف ہو۔ اور اگر دعوت اسلام ہی دی گئی ہو تو اس کا مطلب نہیں کہ انہیں تو لڑا دیکھا کہ اسلام کی
دعوت دی گئی بلکہ ان سے لڑائی تو اور وجہ پر تھی یعنی وہ اسلام کو تباہ کرنا چاہتے تھے۔ دعوت اسلام اس لئے دی گئی کہ اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو ان کی
شرارتیں خود ختم ہو جائیں گی۔

۱۳۴۲ (مترکرو۔ ۴۰۰) عَنْ أَنَسٍ (مترکرو۔ ۱۳۴۳) عَنْ أَنَسٍ (مترکرو۔ ۴۰۰) دیکھو حدیث ۱۳۴۲
 ۱۳۴۳ (مترکرو۔ ۲۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مترکرو۔ ۲۳) بِأَبٍ مِنْ أَرَادَ غَزْوَةَ فُوزَى بغيرها دیکھو حدیث ۱۳۴۳ باب جوارادہ ایک رقم ہی (رطانی کا کہنا ہے
 وَمَنْ أَحَبَّ الْخُرُوجَ يَوْمَ الْجُمُعِيس (مترکرو۔ ۱۳۴۵) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ (مترکرو۔ ۱۳۵۳) دوسرے کے ذکر سے پر غیور گئے اور جو جمعہ کو نکلے پسند کرتے
 ۱۳۵۳) عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَمًا يَرِيدُ كعب بن مالک سے روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہی کسی غزوہ
 غَزْوَةٌ يُغْزَوُهَا إِلَّا وَزِيٌّ بِغَيْرِهَا حَتَّى كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ فغزاهار رسول الله کا ارادہ کرتے
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرِّ شَدِيدٍ وَأَسْتَقْبِلُ سَفَرًا بَعِيدًا أَوْ مَفَازًا أَوْ أَسْتَقْبِلُ غَزْوًا سفر کے لئے سخت گرمی میں اٹھنا اور دور کے سفر کا سامنا تھا اور جنگ میں سے گزرنا تھا اور شہر
 عَدُوٍّ لِيَتَّيَرُ حَيْثُ لِلْمَسْلُوبِينَ أَمْرُهُمْ لِيَتَّهَبُوا أَهْبَةً عَدُوِّهِمْ وَأَخْبَرَهُمْ لَوْحَةً دشمن سے سامنا تھا تو کھول کر مسلمانوں کو ان کا کام بتایا تاکہ وہ اپنے دشمن کے لئے تیاری کریں اور انہیں وہ طرف بتا دی
 الَّذِي يَرِيدُ رَوْحِي رَوَاهُ لَقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جس طرف چاہتا ہے اور ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 يَخْرُجُ إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرٍ أَوْ يَوْمَ الْجُمُعِيس (مترکرو۔ ۱۳۴۶) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ (مترکرو۔ ۲۵) دیکھو حدیث ۱۳۴۶ کم ہی کسی سفر میں نکلتے تھے مگر جمعرات کے دن یہ

۱۳۴۲ (مترکرو۔ ۴۰۰) عَنْ أَنَسٍ (مترکرو۔ ۱۳۴۳) عَنْ أَنَسٍ (مترکرو۔ ۴۰۰) دیکھو حدیث ۱۳۴۲
 ۱۳۴۳ (مترکرو۔ ۲۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مترکرو۔ ۲۳) بِأَبٍ مِنْ أَرَادَ غَزْوَةَ فُوزَى بغيرها دیکھو حدیث ۱۳۴۳ باب جوارادہ ایک رقم ہی (رطانی کا کہنا ہے
 وَمَنْ أَحَبَّ الْخُرُوجَ يَوْمَ الْجُمُعِيس (مترکرو۔ ۱۳۴۵) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ (مترکرو۔ ۱۳۵۳) دوسرے کے ذکر سے پر غیور گئے اور جو جمعہ کو نکلے پسند کرتے
 ۱۳۵۳) عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَمًا يَرِيدُ كعب بن مالک سے روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہی کسی غزوہ
 غَزْوَةٌ يُغْزَوُهَا إِلَّا وَزِيٌّ بِغَيْرِهَا حَتَّى كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ فغزاهار رسول الله کا ارادہ کرتے
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرِّ شَدِيدٍ وَأَسْتَقْبِلُ سَفَرًا بَعِيدًا أَوْ مَفَازًا أَوْ أَسْتَقْبِلُ غَزْوًا سفر کے لئے سخت گرمی میں اٹھنا اور دور کے سفر کا سامنا تھا اور جنگ میں سے گزرنا تھا اور شہر
 عَدُوٍّ لِيَتَّيَرُ حَيْثُ لِلْمَسْلُوبِينَ أَمْرُهُمْ لِيَتَّهَبُوا أَهْبَةً عَدُوِّهِمْ وَأَخْبَرَهُمْ لَوْحَةً دشمن سے سامنا تھا تو کھول کر مسلمانوں کو ان کا کام بتایا تاکہ وہ اپنے دشمن کے لئے تیاری کریں اور انہیں وہ طرف بتا دی
 الَّذِي يَرِيدُ رَوْحِي رَوَاهُ لَقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جس طرف چاہتا ہے اور ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 يَخْرُجُ إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرٍ أَوْ يَوْمَ الْجُمُعِيس (مترکرو۔ ۱۳۴۶) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ (مترکرو۔ ۲۵) دیکھو حدیث ۱۳۴۶ کم ہی کسی سفر میں نکلتے تھے مگر جمعرات کے دن یہ

جائے۔ اذان سننے تو حمد نہ کرتے اس لئے کہ آپ کو معلوم ہو جاتا کہ انہوں نے مسلمان ہو کر اپنا لوٹ مار کا پیشہ چھوڑ دیا ہے۔ مگر یہاں زمین فتح جانا اللہ
 سے شروع ہوتا ہے۔ جس کے لئے دیکھو نوٹ مندرجہ بالا فقرہ پر الف ذقن و ہی ہیں مگر یہاں ان محمد رسول اللہ و دقیقہ الصلوٰۃ و دیقہ الزکوٰۃ کے لفظ میں باقی
 مضمون بتغیر الف ذقن ہی ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ پر دیکھو نوٹ ۲ صفحہ ۱۰ پر ایک مگر روایات مختصر سے سمعت کہ کیا ابن
 مالک حین تکلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و لہ بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و لہ بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و لہ بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 امت سے لوگ جن کا پیشہ لوٹ مار تھا اب جو مسلم کی دہر سے نظام عدلیت قائم ہوتا جاتا تھا اسے پسند نہ کرتے تھے۔ اور نہ باقاعدہ جنگ کرتے
 تھے۔ ایسے لوگوں کے خلاف جب ہم بھیجی جاتی تو لازماً مقام ہم کو بھی رکھنا پڑتا تاکہ وہ خیر یا کریمیاڑوں وغیرہ میں چھپ نہ جائیں۔ اور اس میں یہ ذکر نہیں کہ
 آپ خلاف واقعہ کئی بات فرماتے تھے بلکہ عمرت اسی مقام کے اخفا کا ذکر ہے۔ جہاں جانا ہوتا یعنی اس کا ذکر ایسے پرانے میں کرتے کہ وہ مقام متعین نہ ہوتا تھا
 کسی اور بات کا ذکر کر دیا۔ جس سے توجہ اس طرف نہ جاسکے کہ کہا جاتا ہے۔ یہ تمیزوں حدیثیں جن میں یہ ذکر ہے کہ نبی کریم صلعم اس مقام کا اخفا کرتے
 جہاں رطانی کے سے جانا ہوتا کعب بن مالک کی یہی معنی راوی ایک ہی ہے جس کا یہ خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایسا ہی کرتے تھے یہاں
 تک کہ اس حدیث میں صرف غزوہ تبوک کو مستثنیٰ کیا ہے۔ حالانکہ حدیث میں بتیرے فروات کا ذکر ہے جن کیلئے تیاری علی الاعلان ہوتی۔ بعض وقت کیا ہی کے عمر میں
 وہ تین واقعات بھی ایک قسم کے آگئے ہیں۔ تو اس نے ان کی بنا پر ایک قیاس کر لیا ہے۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ جنگ میں یہ ضرورت بھی پیش آجاتی ہے کہ
 کو نقل و حرکت کا علم نہ ہو مگر باوجود ان ساری ضرورتوں کے جو جنگوں میں پیش آتی ہیں اور جو عرب میں بوجہ ایک غیر منظم ملک کیلئے سب سے زیادہ پیش آتی
 تھیں۔ کسی حدیث میں یہ ذکر نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف جانا تھا تو دوسری طرف کا نام لیا۔ جمعرات کے دن نکلنے کا واقعہ بھی اس قدر
 معلوم ہوتا ہے کہ دو چار موقع پر کسی راوی نے ایسا دیکھا ہے۔ تو اس نے یہ قیاس کر لیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن سفر کو
 ترجیح دیتے ہیں۔ یہ تو ضرورت پر اختیار ہے۔ ہاں ممکن ہے بعض وقت جب فوری ضرورت نہ ہو جمعرات کو اس لحاظ سے پسند کیا ہو کہ آگے بچھ
 کا وہ ہے اور سب مل کر دعا کریں۔ یا یہ کہ جو ضرورت پانچ بجے رہ گئے ہوں وہ جمعہ میں قریب ہی آکر لیں گے۔ مگر یہاں اختصار ہے۔ ان لفظوں صلی
 اللہ علیہ وسلم خریجہ الجُمعیس فی غزوة تبوک وکان یحب ان یخرج یوم الجُمعیس و

(۱۰۴) بَابُ الْخُرُوجِ بَعْدَ الظُّهْرِ (م- ۱۳۶۸) عَنْ أَنَسٍ (متکرر- ۷۰۴)

باب ظهر کے بعد نکلنا دیکھو حدیث ۷۰۴

(۱۰۵) بَابُ الْخُرُوجِ اجْرَ الشَّهْرِ وَقَالَ كُرَيْبٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ الطَّلُقَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ خَمْسِينَ يَوْمًا مِنْ ذِي الْقَعْدِ وَقَدِمَ مَلَكٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب پھینکے کا غیر نکلنا اور کہہ پلے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذی قعدہ کے پانچ دن باقی رہے اور کہہ بیٹھے

لَارْبَعٍ لِيَأْتِيَ خُلُوفٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ (م- ۱۳۶۹) عَنْ عَائِشَةَ (متکرر- ۸۳۲)

باب ربیع الحج کے چاروں گنتے دیکھو حدیث ۸۳۲

(۱۰۶) بَابُ الْخُرُوجِ فِي رَمَضَانَ (م- ۱۳۷۰) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکرر- ۹۸۵)

باب رمضان میں سفر کے لئے نکلنا دیکھو حدیث ۹۸۵

(۱۰۷) بَابُ التَّوَدُّيعِ (م- ۱۳۵۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فِي بَيْتِ دُرَيْدِ بْنِ أَسْدٍ

باب رخصت ہونا بلا دہریہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر میں بھیجا اور قریش میں سے دو شخصوں کی نسبت جن کا نام یافرا یا اگر فلاں اور فلاں نہیں بلکہ

فَقَالَ رَبِّي لَنْتَ أَمْرٌ كَرِهْتُ أَنْ تُخْرَجُوا فَلَانَا وَقَلَانَا يَا تَارِدَانَ يَا تَارِدَانَ يَا تَارِدَانَ يَا تَارِدَانَ

تو نہیں آگ سے جلادو کہ فلاں اور فلاں کو آگ سے جلادو اگر اس سے صرف اللہ تعالیٰ عذاب توہین سے

بَابُ التَّمَعُّدِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ (م- ۱۳۵۸) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکرر- ۷۰۴)

باب امام کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا دیکھو حدیث ۷۰۴

(۱۰۸) بَابُ التَّمَعُّدِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ (م- ۱۳۵۸) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکرر- ۷۰۴)

باب امام کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا دیکھو حدیث ۷۰۴

(۱۰۹) بَابُ التَّمَعُّدِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ (م- ۱۳۵۸) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکرر- ۷۰۴)

باب امام کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا دیکھو حدیث ۷۰۴

کتاب الجهاد والسیوف
صحیح بخاری بارہواں باب
۶۶۵
کتاب الجهاد والسیوف
صحیح بخاری بارہواں باب
۶۶۵
کتاب الجهاد والسیوف
صحیح بخاری بارہواں باب
۶۶۵

بقدر ص ۶۶۶
 کہ زمان میں نظام
 ہے ذکوئی افسر
 اطاعت امیر کفری
 (حق) قرآن یا ہے
 وہاں طاقت استغاثہ
 کا غلبہ ہو سکتا
 نہ یہ کہ اس بات پر
 ہمیں خرچہ صد
 نہیں۔ ہاں اگر اللہ
 اور رسول کی نافرمانی
 کی بات ہو تو پھر
 اطاعت دیکھا نہیں
 صفحہ ۱۷
 بلکہ دراء کا لفظ
 آگے اور پیچھے
 دونوں کے معنی میں
 آتا ہے۔ من
 وراء الامام
 کے معنی کے گئے
 ہیں لفظ عن الامام
 یعنی امام کی حفاظت
 کے لئے۔ وبتقی
 بس اس کے ساتھ
 بجا دیا جائے یا
 اس کے فدویہ
 بجا دیا جائے۔
 اس کی حفاظت

(۱۰۹) بَابُ يُقَاتِلُ مِنْ دَرَاءِ الْاِمَامِ وَيَتَّقِي بِهِ (۱۳۵۶) عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
 باب امام کی حفاظت کے لئے لڑائی کی جائے اور اس کے ساتھ بجا دیا جائے۔ اس سے روایت ہے اس نے
 سمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَحْنُ الْاٰخِرُونَ السَّابِقُونَ وَهَذَا الْاِسْتِزَادُ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بت فرماتے تھے کہ ہم پہلے پہلے کے ہیں اور اسی سند سے روایت ہے کہ
 مَنْ اطَاعَنِي فَقَدْ اطَاعَ اللهُ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهُ وَمَنْ يُطِيعِ الْاِمَامَ
 جو میری اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ یقیناً اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور جو میری اطاعت کرتا
 فَقَدْ اطَاعَنِي مَنْ يَعِصِلْ لَامِيْرٍ فَقَدْ عَصَانِي وَانَّمَا الْاِمَامُ حِمَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَّرَائِهِ
 تو وہ میری اطاعت کرتا ہے اور جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ میری نافرمانی کرتا ہے اور امام ڈھال ہے اس کی حفاظت کیلئے لڑائی کی جائے
 وَيَتَّقِي بِهِ فَاِنْ اَمْرٌ يَتَّقَوْنَ لِلَّهِ وَعَدْلٌ فَاِنْ لَهٗ يَدُكَ اَجْرُ اِدْرَانٍ قَالِ بَعْضُهُمْ فَاِنْ
 اور اس کے فدویہ سے بجا دیا جائے اگر وہ تقویٰ کا حکم دیتا اور انصاف کرتا ہے تو اسے اس کا اجر ملے گا اور اگر سب سے زیادہ تقویٰ کا
 عَلَيْهِ مِنْهُ (۱۱) بَابُ الْبَيْعَةِ فِي الْحَرْبِ اَنْ لَا يَفْرُدَ اِقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَي الْمَوْتِ
 وہاں اس پر جو کما بلکہ باب لڑائی میں بیعت کی گئی اور بعض کہتے ہیں جان دینے کی
 يَقُولُ اللهُ تَعَالَى لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذَا بَايَعُوْكَ لِحَتِّ الشَّجَرَةِ
 کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے راضی ہوا ہے ان سے جو بیعت کر رہے تھے۔ (۱۰۹) بلکہ
 (۱۳۵۷) عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
 ابن عمر سے روایت ہے کہ ان کے سامنے ہم لوگ کر کے آئے تو ہم میں سے کوئی دو آدمی بھی اس وقت پر اتفاق نہ کر کے
 الَّتِي بَايَعْنَا تَحْتَهَا كَانَتْ حِمَّةً مِنَ اللهِ فَسَأَلْتُ نَافِعًا عَلِيَّ اَبِي شَيْبَةَ بَايَعَهُمْ عَلَي
 جس کے لئے ہم نے بیعت کی تھی یہ اس کی طرف سے رحمت تھی اور جو بیعت کرنے سے پہلے کہ آنحضرت صلعم نے ان سے کس بات پر بیعت کی تھی
 الْمَوْتِ قَالَ اَبَايَعَهُمْ عَلَي الصَّبْرِ (۱۳۵۸) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ لَمَّا كَانَ مِنْ
 کی موت پر کہ ان میں ان سے عہد کرنے پر بیعت کی تھی
 الْحَرَّةِ اَتَاهَا اَبْتُ فَقَالَ لَهَا اِنَّ ابْنَ حَنْظَلَةَ يَبَايِعُ النَّاسَ عَلَي الْمَوْتِ فَقَالَ اَلَا بَايَعُ
 کے پاس کسی نے آکر کہا کہ ابن حنظلہ لوگوں سے موت پر بیعت لے رہا ہے تو انہوں نے کہا اس پر تو
 عَلَي هَذَا اَحَدٌ اَبْعَدُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۱۳۵۹) عَنْ سَلْمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا
 میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی بیعت نہیں کروں گا بلکہ سلمہ سے روایت ہے کہ

اور بجا دیا تو قوم کی حفاظت ہے، بلکہ اس سے پہلے باب میں امام کی فریاد و ناری کا حکم دیا ہے اور اس میں یہ بتایا ہے کہ امام مجتہد ہے یعنی اس کے ذریعہ
 سے قوم کی حفاظت ہوتی ہے۔ وہ قوم کو دشمن کے حملے سے بھی بچانے کا موجب ہے اور ایک دوسرے کے ظلم سے بچانے کا بھی جس قوم میں نظام نہ ہو
 اور ایک امیر کی اطاعت نہ ہو تو قوم دشمن سے اپنا بچاؤ کر سکتی ہے نہ ایک دوسرے کے ظلم سے۔ اس لئے اس کی حفاظت کیلئے جنگ کرنے کا حکم دیا
 گیا ہے۔ رہا یہ کہ امام یا بادشاہ بعض وقت انصاف کرتا ہے بعض وقت بے انصافی تو اس کا ثواب یا عذاب اس پر ہے مگر نظام کو قائم رکھنے کی
 پھر بھی ضرورت ہے۔ بیعت سے ہے جس کے معنی میں فروخت کرنا جب کوئی شخص کسی سے ایک بات کا اقتدار کرتا ہے تو اس کو
 بیعت کرنے کیلئے آتا ہے اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ اس کا نام بیعت ہے۔ حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ سو صحابہ سے
 بیعت لی تھی جس کا ذکر مندرجہ عنوان کی آیت میں ہے، بلکہ درخت کا پتہ نہ لگنا رحمت اس کی خاطر ہے تھا کہ اس کی زیارت شروع ہو کر جو ایک نوبت پہنچ
 جاتی صحابہ سے مراد دشمن کے مقابلہ میں ثابت قدم رہنا ہے۔ اصل اس کا بھی یہی ہے کہ مر جائیں گے بھائی گئے نہیں اگلی حدیث کا مضمون اس کے
 مخالف نہیں، بلکہ وہ صحابہ کا واقف تھا کہ جب میری بیعت ہو جائے گی تو میری بیعت ہو جائے گی اور میں دلی زمین کو لے کر ہوں اور یہ موقع
 مدینہ کے قریب تھا جہاں پر لڑائی ہوئی۔ عبدالرحمن بن حنظلہ نے اس لشکر کے مقابلہ کیلئے بیعت لی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلعم نے موت پر بیعت لی تھی

بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى ظِلِّ الشَّجَرَةِ فَلَمَّا خَفَتِ النَّاسُ

میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی پھر میں ایک درخت کے سایہ کی طرف چلا گیا جب لوگ گم ہوئے

قَالَ يَا ابْنَ الْأَكُوْمِ الْأَثْبَابِيَةُ قَالَ قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَابْتِئَانًا

آپ نے فرمایا ابن اکویم اثبایۃ نے کہا کہ میں نے تو بیعت کر چکا ہوں فرمایا پھر میں نے کہا

فَمَا بَايَعْتَهُ الثَّانِيَةَ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا مُسَلِمَةَ عَلِيٌّ أَيْ شَيْئٍ كُنْتُمْ تَبَايَعُونَ يَا مَعْزُومٌ

جس نے دوبارہ آپ سے بیعت کی میں نے سسرے کہا ابو مسلم کس بات پر تم اس وقت بیعت کر رہے تھے

قَالَ عَلِيُّ لِمَوْتِ رَمِي (۱۳۷۱) عَنْ أَنَسٍ (مُتَكَرِّرًا) (۱۳۰۸) (۱۳۶۰) عَنْ فَجَّاحِ بْنِ شُعْبَةَ

کہا کرتے ہیں دیکھو حدیث ۱۳۰۸ ۱۳۶۰ ۱۳۷۱ صحیح سے روایت

قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَخِي فَقُلْتُ بَايَعِنَا عَلَى الْهَجْرَةِ

ہے کہ میں اور میرا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے میں نے عرض کیا ہم ہجرت پر آپ سے بیعت کرتے

فَقَالَ مَضَيْتَ الْهَجْرَةَ لَا أَهْلَهَا فَقُلْتُ عَلَامَ تَبَايَعْنَا قَالَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَدِجَاهِ الْجِهَادِ

تو فرمایا ہجرت، ہجرت کرنا لوگوں کے لئے تم ہو چکی میں نے عرض کیا تو کس بات پر آپ ہماری بیعت میں لے کر آیا اسلام اور جہاد

رَأَى بَابُ عَزْمِ الْأَمَامِ عَلَى النَّاسِ فِي أَيُّ طَبَقُونَ (۱۳۶۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ لَقَدْ

باب امام کی اطاعت لوگوں پر اس حد تک لازم ہے جتنی انکی اطاعت ہو عبد اللہ سے روایت ہے کہ

أَتَانِي لَيْوَمٌ رَجُلٌ فَسَأَلَنِي عَنْ أَمْرِ قَادِرَيْتَ مَا رَدَّ عَلَيَّ فَقَالَ رَأَيْتَ رَجُلًا مَرَدًّا بِأَنْبِيَاءِ

میرے پاس آج ایک آدمی آیا اور مجھ سے کہہ لیا یہ بات پہنچی کہ مجھے سمجھ نہ آیا کہ اسے کیا جواب دوں اس نے کہا دیکھئے ایک آدمی ہجرت

يُخْرِجُ مَعَهُ أَمْرًا فِي الْمَغَارِي فَيُعِزُّمُ عَلَيْهِمْ فِي أَشْيَاءَ لَا يَخْصِيهَا فَقُلْتُ لَهُ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي

آدمی غریبی سے اپنے افسر کو کہتا ہے جاہلے کہانے تو افسر ہم کو ایسے کاموں کے متعلق حکم دیتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں اسے کہا اے نبی

مَا أَقُولُ لَكَ إِلَّا أَنَا لِنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْسَى أَنْ لَا يُعِزُّمُ عَلَيْنَا فِي أَمْرٍ إِلَّا

میں نہیں سمجھتا کہ میں نے کیا جواب دوں سوائے اس کے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور ہم نے فرماتے ہیں کہ

مَرَّةً حَتَّى نَفْعَلَهُ وَإِنْ أَحَدُكُمْ لَنْ يَزَالَ بِخَيْرَةٍ أَلْقَى اللَّهُ دِرْأَشَكَ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ سَأَلَ

تعمیل کرتے اور تم سے ہر ایک تمہارا ہر ایک جب تک اللہ کے تقویٰ اختیار کرتا ہے اور جب اسے کسی بات میں شک ہو تو کسی (دوسرے)

رَجُلًا شَفَعًا مِنْهُ وَأَوْشَكَ أَنْ لَا يَجِدَ دَرَّةً وَاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا أَذْرُ مَا غَيْرُ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا

آدمی سے پوچھ لے وہ اس غمگین کو دیکھا اور غمگین تم ایسا آدمی نہ بنا سکو گے اس ذات کو تم کہتے ہو کہ کوئی چیز دنیا سے زیادہ

كَالشَّقِيقِ كَرِيبٍ صَفْوَةٍ وَبَقِيَ لَدُنِّي (۱۳۶۲) بَابُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يَقَاتِلْ

میں ایک گروہ کے کچھ بھتیجے ہوں جو کچھ پانی پیا ہو یا کھانا کھایا ہو اور گلابانی ہو گا بایں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دن کے پچھتر گھنٹوں

أَوَّلَ النَّهَارِ أَحْرَأَ الْقِتَالِ حَتَّى تُوْزَلَ الشَّمْسُ (۱۳۶۳) عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّضْرِ مَوْلَى الْحَمْرَانِ

روائی شروع کرتے تو لڑائی کو بھیجتے ڈالتے یا ان تک کہ سوچ ڈھل جاتا ہے سالم ابو النضر عمر بن عبد اللہ کے غلام سے

عَبِيدِ اللَّهِ وَكَانَ كَابِتًا لَهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ أَبِي أُوْفَى نَفَرَاتَهُ أَنَّ رَسُولَ

اور وہ ان کا مشق میں تھا روایت ہے کہ عمر کو عبد اللہ بن ابی اوفی نے خط لکھا میں نے اسے پڑھا کہ رسول اللہ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَعَنِي فِيهَا أَنْتَظِرُ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ

صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ان دنوں میں جن میں دشمن سے مقابلہ ہوا انتظار کیا یا ان تک کہ سوچ ڈھل گیا پھر لوگوں

فِي النَّاسِ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَمْتَوِ الْعَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللَّهَ الْعَايَةَ فَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ

میں کہہ لے ہوئے اور فرمایا اے لوگو تم سے مقابلہ کی خواہش نہ کرو اور اللہ سے سلامتی مانگو اور جب تم دشمن کے مقابلہ کرو

علا مکروراً متحضر ہے کانت الاضواء يوم المحدث قطع سخن ازین باہو ہوا علی الجہاد حینما ابدنا فاجاہم النبی صلی فقال اللهم لا یغنی عن الاغیث الاخرة فاکر ولا یضار والجماعة ما غفر الاضار والمجاهد کی جگہ فاکرم ہے یعنی انکو بڑی اور عورت دوسہ خط اس سے سلام ہو اور آنحضرت صلی اسلام اور جہاد سلمانوں سے بیعت لیتے تھے میں اگرچہ کوئی جوہر تھا کہ حکم پاکر سلمانوں سے جاوہر بقرآن کی بیعت نے تو وہ نبی صلعم کے فقہن قدم پر چلتا ہے حدیث کا مطلب تو عرفت اس قدر ہے کہ جانتا تک کسی میں طاعت ہو میرے حکم کی فرمانبرداری کرنی چاہئے اور ساتھ ہی رسول اللہ صلعم کے زمانہ فیضیت کا ذکر کیا ہے کہ میں اس کا پیکر ہوتے تھے اس کیلئے کوئی میں پیش نہ کرتا تھا بلکہ فوراً مقبول حکم کر دیتا اور باقی لوگوں سے شامیت

فَأَصْرُوهُ وَأَعْلَمُوهُ أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلِّهِ الشَّيْبُونَ بَنِمَ قَالَ اللَّهُمَّ مِثْلَ الْكِتَابِ وَ
 ترجمات قدم پر ابو طلحہ کر کے حضرت تلواروں کے سامنے کیجئے ہے پھر دعائی کے لئے اشکاب کے نازل کرنے کے لئے اور

تَجْرِي الشَّجَابُ هَذَا زَمًا كَخَرَابِ هُرْهُمْ وَالْأَصْرُ نَاعِلِيَهُمْ (۱۱۳) بَابُ اسْتِئْذَانِ
 بادل کو پھاڑنے سے روکن کے لئے دکھانوں کو شکستہ دینے والے انہیں شکست سے اور میں ان کے خلاف نصرت ہے۔ باب آدمی کا امام سے

الرَّحِيلِ لِإِمَامٍ لِقَوْلِهِ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ
 اجازت لینا کہ کہہ اشرک لہ مشاہد ہے کہ میں وہ ہیں جو اشرک اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جب رسول کے ساتھ

عَلَى أَمْرٍ مَعَهُ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا كَمَا نَزَّلْنَا لَكَ إِلَى الْخِزْيَانِ
 کسی اور کام میں جاتے ہیں تو نہیں جاتے جب تک آپ سے اجازت نہیں جو لوگ تجھ سے اجازت لیں گے تو ان کے لئے ہمارے (۶۲) ہے

(۱۳۰) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (مُتَكَرِّرًا- ۱۰۴۵) بَابُ مَنْ عَزَا وَهُوَ حَرٌّ
 دیکھو حدیث ۱۰۴۵ باب جو روانگی میں جائے اور اسے

عَهْدٍ بَعْرِهِمْ فِيهِ جَزَاءٌ لِمَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۱۱۵) بَابُ مَنِ اخْتَارَ الْغَزْوَ وَبَعِدَا
 نبی نبی شادی کی جو اس بار سے میں جابر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ باب جو پسند کرے کہ نبی کو گھر میں سے

الْبَيْتِ أَوْ فِيهِ أَوْ هُرْمَةُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۱۱۶) بَابُ مَبَادِرَةِ الْأَمَامِ عِنْدَ
 کے بعد روانگی میں جسے اس بارے میں ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ باب خون کے وقت بارش کا روزگوں سے

الْفَرَجِ (۱۳۰) عَنْ أَنَسٍ (مُتَكَرِّرًا- ۱۲۳۱) بَابُ الشَّرْعَةِ وَالزَّكْوِي فِي
 پھر دشمن کا خون پھینکانا دیکھو حدیث ۱۲۳۱ باب خون کے وقت جلدی کرنا اور گھبرانا

الْفَرَجِ (۱۳۰) عَنْ أَنَسٍ (مُتَكَرِّرًا- ۱۲۳۱) بَابُ الْخُرُوجِ فِي الْفَرَجِ وَحَدَا
 وودانہ دیکھو حدیث ۱۲۳۱ باب خبر سے کے وقت تینوں میں

ہاں اس حدیث کے
 ظہیر بن عیاد کے
 ۳۱۹۵ و ۳۱۹۶
 وہاں میں گذر
 چکے ہیں۔ آخوند کا
 اپنے آگ ہے اس
 دنیا ہی وہی
 قوم زندہ اور نہ
 رہتی ہے جو دشمن
 کے مقابل ہر عمار
 اٹھنے سے نہیں
 ڈرتے
 با یہ آیت صراحت
 سے اس بات کو
 ثابت کرتی ہے
 کہ کسی اجتماع کے
 کام میں جب تک کہ
 رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے ساتھ
 ہوں تو ان سے
 اجازت لینے کے

فر نہیں جاسکتے اور اسی کو ایمان کا معیار قرار دیا ہے۔ لیکن آپ کے بعد آپ کے خلفاء بھی اس میں شامل ہیں کہ اجتماع کے کام میں جب تک امیر وقت سے
 اجازت نہ لی جاتی کسی کے لئے جاندارت نہیں ہے۔ مگر حدیث روایت میں مگر ان کا معنوں دو بار آیا ہے مگر کچھ فرق ہی ہے۔ قال غزوت مع رسول اللہ صلعم
 قال قتل من ولي النبي صلى الله عليه وسلم ما تعلى ناقض لنا قدا احميا فلا يكاد يسير فقال لي ما البعير قال قلت عبي قال قلت لعن رسول الله صلعم فرحوا
 وهالك فما زال يميني ابلا قدامي يسير فقال لي كيف ترى بجرير قال قلت بخير قد اصابتك بموتك قال اقتبصني قال فاستحببت و لم
 يكن لنا ما نخر غيرك قال قلت نعم قال فبعنيه فبعته اياه على اني لي نقار ظهرك حتى ابلغ المدية قال قلت يا رسول الله اني عروس فاستاذن
 فاخذني ففقدت الناس الى المدينة حتى اتيته المدينة فلقيت خالي فسالني عن البعير فاخبرته بما صنعت فبه فلامني قال وقد كان رسول
 الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استاذنته هل تزوجت بكرا ام ثيبا قلت تزوجت ثيبا فقال هلا تزوجت بكرا لانهما وتلا عيناك قلت يا رسول
 الله توفي والدي و استشهد والي اخوات صفار فكرهت ان تزوج مثلهن فلا تؤد بهن ولا تقوم عليهن فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن فتزوجت
 قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدت عليه بالبعير فاعطاني ثمنه وردة على قال لي خير هذا اني قضيتنا حسن لا نوبى به
 باسمنا- غزوان باب کا تعلق اس صعد سے ہے جو ۳۵۰ھ میں نہیں کہ جابر نے کہا کہ میں نے نبی نبی شادی کی ہے تو رسول اللہ صلعم نے اسے اجازت دی کہ او لوگوں
 سے پیچھے رہنے پلا جائے۔ ۳۵۰ھ میں بظاہر اس کے خلاف ہے کہ رسول اللہ صلعم اولوگ پیچھے پہنچ گئے اور جابر بعد میں پہنچے۔ لیکن یہ وہ پیچھے آگے نکل گئے پلا
 لیکن پھر پیچھے رہ گئے ہوں۔ ہاں یہ حدیث اور اس کے باب میں گذر چکی ہے جہاں لفظ میں یا رسول اللہ انی عروس۔ اور اس سے معنون ہے۔ اور کتاب النکاح
 میں یہ لفظ آئے ہیں۔ کنت حدیث عہد بعرس۔ میں نوشا دی شدہ تھا۔ ۳۵۰ھ ابو ہریرہ کی یہ حدیث ۱۲۳۱ میں آتی ہے اس کی تشریح وہاں ہوگی۔
 باب کا مطلب یہ ہے کہ اور شادی کی ہے اور جہاں وکام متوقر آگیا ہے تو نبی کو گھر میں لانے کے بعد جاسکتا ہے ہاں مطلب یہ ہے کہ بادشاہ ایسا ہی
 چاہئے جو بہت شجاع اور دلیر اور جرات والا ہو۔ ہاں کان فی المدینة منزلة خروج ہوا جو لگا کہ دشمن آگیا ہے تو فرکب رسول اللہ صلعم فرسا لا بی طلحة
 فقلنا ما واینا من شیء ما ن وجدناہ فجروا ہ۔ ۳۵۰ھ قال نزع الناس فرکب رسول الله صلعم فرسا لا بی طلحة بطيما فخرج بي ركض وحده فكركب الناس
 يركضون خلفه فقال له ترا هوانا انه لبحر ففاسبت بعد ذلك اليوم هـ ايها كركب رسول الله صلعم فرسا لا بی طلحة ووداه۔ اسی سے معنون ثابت ہے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ مَسَاءَ اللَّيْلَةِ الْبَنِي فَتَحَمَّانِي صَبَّاحَهُمَا فَقَالَ رَسُولُ

صلی اللہ علیہ وسلم سے جلسہ تو جب اس رات کی شام ہوئی جس کی صبح خیبر کو فتح کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَطِيبَيْنِ الرَّأْيَةَ أَوْ قَالَ لِيَأْخُذَنَّ غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّهُ

دوسلم نے فرمایا میں ایسے شخص کو چھنڈاؤ اورنگ یا فرما کر ایسا شخص چھنڈا لے گا جس سے اللہ اور اس کا

اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَوْ قَالَ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ يُفْتَحْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِذَا حُنَّ بَعْلِي وَمَا

رسول محبت رکھتا ہے یا فرما یا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اس کے ہاتھ پلٹے نہ فرمے اورنگ تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت علی

تُرْجَوْكَ فَقَالَ لَوْ أَهَذَا عَلِيٌّ فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ

آگے اور ہم کو اس کی امید نہ تھی لوگوں نے کہا یہ حضرت علی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھنڈا ان کو دیا اللہ نے ان کے ہاتھ پلٹ دیے

(۱۳۶۳) عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ لِلزُّبَيْرِ هَذَا أَمْرٌ

نافع بن جبیر سے روایت ہے کہ میں نے عباس کو سنا کہ میرے کہنے سے ہے کہ حضرت

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَرَكُوا الرَّأْيَةَ (۱۳۶۴) بَابُ الْأَجِيرِ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ

صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کو حکم دیا ہے کہ یہاں چھنڈا لے گا اور اس کے

سَيِّدِ بْنِ يَسْمَعِيمَ لِأَجِيرٍ مِنَ الْعِثْمِ وَأَخْذَ عَطِيَّةِ بْنِ قَيْسٍ فَرَسًا عَلَى التَّصَفِّ بِبِلَّةِ سَمِ

سید بن یسعیق کے ہیں کہ مال غنیمت میں سے نوکر کو حصہ دیا جائیگا اور عطیہ بن قیس نے گھوڑا غنیمت کے ہفت حصے پر لیا تو گھوڑے کا

الْفَرَسِ رُبْعًا وَبِئْتَهُ دِينَارًا فَخَذَ وَأَسْتَيْنَ وَأَعْطَى صَاحِبَهُهُ بِأَسْتَيْنَ (۱۳۶۵) عَنْ

حصہ چار سو دینار لگا تو وہ سو اس لئے اور وہ سو گھوڑے کے ہاگ کر دئے

يَعْلَى قَالَ عَزَدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزْوَةَ تَبُوكَ فَحَمَلَتْ عَلَيَّ بِرَجُلٍ

روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شامل ہوا اور میں نے اپنا ایک جوان

أَوْثَقُ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي فَاسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا فَقَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدَهُمَا الْآخَرَ فَانْتَزَعَهُ

اورنگ سواری کیلئے لے کر گیا اور دیکھا کہ وہ میرے نزدیک میرے اچھے کاموں میں سے سب سے اچھا کام تھا اور میں نے ایک نوکر رکھا وہ کہا جی

يُدَاهِرُ مِنْ يَدِهِ وَيَنْزَعُ نَبِيئَتَهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَهَا فَقَالَ أَيْدِعْ

سے لڑ پڑا انہیں سے اچھے بڑے کلاؤں کا ہاگ اس نے اپنا ہاتھ لیکے نہ سے کہیں اس کے سامنے کا دانت نکال یا وہ آنحضرت کے پاس حاضر ہوا

يُدَاهِرُ أَيْدِكَ فَتَقَضُّمَهَا كَمَا يُقَضُّمُ الْفَعْلُ (۱۳۶۶) بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

آپ کے اس کلمہ پر نہیں لایا اور فرمایا کہ وہ اپنا ہاتھ میری نذر کرنا کرتا ہے چاہے جہنم اٹک جائے ہاگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا

رَسُولُهُ نَصْرَتْ بِالرُّحْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَقَوْلُهُ جَلَّ وَعَزَّ سُنَّةٌ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ

کہ میں میری مسافت سے (اثر لائے) رعب کیا ہے میری مدد کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہم غریب ان لوگوں کے دلوں میں جو

كُفَرُوا بِالرُّحْبِ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ قَالَ جَابِرٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کافرین رعب ڈال دیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے (ابن ابی) روایت کی ہے

اللَّهُ رُكَّامٌ كَرِهَتْهُ جِبْرَائِيلُ وَرُكَّامٌ كَرِهَتْهُ جِبْرَائِيلُ وَرُكَّامٌ كَرِهَتْهُ جِبْرَائِيلُ

اللہ رکا م کرے وہ جہنم نہیں ۶۷ جابر کی حدیث جس میں ایک ماہ کی مسافت پر رعب سے نصرت کا ذکر ہے ۶۸ میں گذر چکی ۶۹

۱۳۶۳ میں چھ حصہ کا
۱۳۶۴ میں چھ حصہ کا
۱۳۶۵ میں چھ حصہ کا
۱۳۶۶ میں چھ حصہ کا
۱۳۶۷ میں چھ حصہ کا
۱۳۶۸ میں چھ حصہ کا
۱۳۶۹ میں چھ حصہ کا
۱۳۷۰ میں چھ حصہ کا
۱۳۷۱ میں چھ حصہ کا
۱۳۷۲ میں چھ حصہ کا
۱۳۷۳ میں چھ حصہ کا
۱۳۷۴ میں چھ حصہ کا
۱۳۷۵ میں چھ حصہ کا
۱۳۷۶ میں چھ حصہ کا
۱۳۷۷ میں چھ حصہ کا
۱۳۷۸ میں چھ حصہ کا
۱۳۷۹ میں چھ حصہ کا
۱۳۸۰ میں چھ حصہ کا

اللہ رکا م کرے وہ جہنم نہیں ۶۷ جابر کی حدیث جس میں ایک ماہ کی مسافت پر رعب سے نصرت کا ذکر ہے ۶۸ میں گذر چکی ۶۹

(۱۳۶۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ بِجَوَاهِرِ
 ابوبریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کلمات جاہلوں کے ساتھ

الْكَوْبُرِ وَنَصَرْتُ بِالرُّعْبِ فَبَيِّتْنَا أَنَا نَائِمًا أُبَيْتُ بِمِفْتَاحِ خِزَانَتِنَا خِزَانَتِ الْأَرْضِ
 کیا گیا ہے اور رعب سے تیری مدد کی گئی ہے اور میں سو رہا تھا تو میرے پاس زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئیں

فَوَضَعْتُ فِي يَدِي قَالِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعْتُ يَدِي عَنِ
 اور میرے ہاتھ میں دبی گئیں ابوبریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے

وَسَلِّمًا وَأَنْتُمْ تَنْتَفِلُونَ هَا (م - ۱۳۷۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ (متكرر - ۷)
 اور تم یہ خزانے نکال رہے ہو سلم

(۱۳۳) بَابُ حِمْلِ الزَّادِ فِي الْغَزْوِ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَتَزُوذُ وَافَانَ خَيْرٌ
 باب زادوں پر توشہ دینا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان اور زاد اور اہل گنہگار کی گنہگاروں کی زادوں کا

الزَّادِ التَّقْوَى (۱۳۶۶) عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ صَنَعْتُ سَفَرَةَ رَسُولِ اللَّهِ
 فائدہ تقویٰ جو التزویر - ۱۹۷) اسماء سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گوشہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَهْجُرَ إِلَى الْمَدِينَةِ
 ابوبکر کے گھر میں اس وقت تیار کیا جب آپ نے مدینے کو ہجرت کرنے کا ارادہ کیا

قَالَتْ فَأَيْدِيَّ لِجِدِّ لِسَفَرَتِهِ وَلَا لِسَقَائِهِ مَا نَرِبُّهُمَا بِهِ فَعَلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ وَاللَّهِ مَا
 وہ کہتی ہیں کہ ہم کو کچھ دو لاج سے آپ کے گوشہ اور سقائے کو بانڈھنے میں نے حضرت ابوبکر سے کہا صرف

أَجِدُ شَيْئًا أُرِيبُهُ إِلَّا نِطَاقِي قَالَ فَشَقِيئُهُ بَاثْنَيْنِ فَأُرِيبُهُ بِوَاحِدٍ النَّتِاقِ
 بانڈھنے کے لئے مجھے کچھ نہیں مل سکتا میرے کربانڈھنے کے کپڑے کے ذریعے سے اسے پھاڑ دو جو کہ ایک گنہگار کا گنہگار اور دو گنہگار

وَبِالْآخِرِ الشُّفْرَةَ فَفَعَلْتُ فَبَدَلْتُ لَكَ سِمِيئَةً ذَاتِ الْبِطَائِقِينَ (م - ۱۳۷۹)
 سے توشہ میں نے یہ ہی کیا اس لئے میرا نام ذات البطائقین (دو گنہگاروں والی) ہو گیا سلم

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (متكرر - ۸۹۹) (م - ۱۳۸۰) عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَابِرٍ
 دیکھو حدیث ۸۹۹

(متكرر - ۱۷۰) (م - ۱۳۸۱) عَنْ سَلْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (متكرر - ۱۱۸۶) (۱۳۷۲) بَابُ حِمْلِ الزَّادِ عَلَى لِزِقَابِ
 دیکھو حدیث ۱۷۰ دیکھو حدیث ۱۱۸۶ باب توشہ گردنوں پر لٹکانے کا بیجا

کتاب الجہاد والسیوف

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

مجھے کلمات جاہلوں کے ساتھ

ابوبریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے

اسماء سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گوشہ

ابوبکر کے گھر میں اس وقت تیار کیا جب آپ نے مدینے کو ہجرت کرنے کا ارادہ کیا

وہ کہتی ہیں کہ ہم کو کچھ دو لاج سے آپ کے گوشہ اور سقائے کو بانڈھنے میں نے

حضرت ابوبکر سے کہا صرف

اس لئے میرا نام ذات البطائقین (دو گنہگاروں والی) ہو گیا سلم

دیکھو حدیث ۸۹۹

دیکھو حدیث ۱۷۰ دیکھو حدیث ۱۱۸۶

باب توشہ گردنوں پر لٹکانے کا بیجا

دیکھو حدیث ۱۱۸۶

دیکھو حدیث ۸۹۹

دیکھو حدیث ۱۷۰

دیکھو حدیث ۱۱۸۶

باب توشہ گردنوں پر لٹکانے کا بیجا

دیکھو حدیث ۸۹۹

ملک بنی الاصفہ۔ اس کا تعلق نوزان سے ہے کہ رومیوں کے بادشاہ کے دل پر بھی آپ کا خوف تھا۔ سلم باب کا مقصد یہ ہے کہ جاہلوں کے ساتھ رسول
 وغیرہ کا پورے طور سے انتظام کرنا چاہئے اور اس کی دلیل اس حدیث سے لی ہے کہ ہجرت کے وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زادوں کا انتظام کیا تھا۔ علیہ ہجرت
 کی لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جو ہجرت کی بحث میں مسلمانوں کے بارے میں آئی ہے۔ مکرر روایت مختصر ہے۔ بیان صرف یہی لفظ ہے کہ کانترزد بحوم الاضاحی علی
 عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینة یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم قرہانین کا گوشت مدینے تک زادوں کے ساتھ بنائے۔ بخوان باب کا تعلق زادوں کے لئے ہے کہ یہاں
 معلوم ہوا کہ قرہانی کا گوشت جتنی مدت تک چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ صحابہ حج کے بعد مدینے تک اسے استعمال کرتے تھے۔ اسلئے اگر قرہانی کے گوشت کو خشک کر کے اسے
 کسی اچھے صوف میں لپیٹا جائے تو شرعاً اس میں کوئی برہن نہیں۔ علیہ ہجرت سے اس کے لئے نفعی اختلاف سے روایت آئی ہے۔ اندر خرچہ مع انبی صلی اللہ علیہ وسلم عام خیر جی ہوتی اذ انھا
 بالصحاء وہی من خیر وہی اذنی خیر فیضنا النصیفون تا انبی صلی اللہ علیہ وسلم بالاضمان فلو بوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا بسوق فلکنا فا کلنا
 وشی بناشہ قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم نفضہ من نفضنا وصلینا۔ مکرر روایت کے لفظ یہ ہے کہ ہے۔ البتہ فی سبط لئلا نکلفہ وجہ علی النظم
 نقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غذا بیان نہیں ہیں۔ اس میں بھی ذکر ہے کہ لوگوں نے زادوں کا ساتھ رکھا ہوا تھا کہ کبھی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی -
 معہہ میانی اگر سواری نہ ہو تو خودی خوراک کا سامان اٹھائے۔ یہ فوج کی ہمت کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ آج سپڈل فوج بھی کچھ خود کوشی سے خوراک ساتھ لپیٹتی ہے
 مگر یہ کام کسے ہی کے ذمہ ہے۔

کتاب الجہاد والسیوف

ما کر سوائت
تصرف و نقل خرجنا
وہن عننا معلق
زادنا علی رقابنا
نفعنا زادنا حتی
كان الرجل منا
یاکل فی کل یوم
ثمرۃ قال رجل
یا ابا عبد اللہ
این كانت التمر
تقد من الرجل
قال لقد وجدنا
فقدنا حسین
نقدنا حتی اتقوا
البحر فاذا حوت
قد فن ف البحر
ناكلنا منها ثمانية
عشر يومًا ما
احببنا
ما کر روایت
مختصر ہے انہا
قال رسول اللہ
یرجع اصحابہ بظہیر

(م-۱۳۸۲) عَنْ جَابِرٍ (مكرر-۱۱۸۵) (۱۲۵) بَابُ ارْدَانِ الْمَرْأَةِ خَلْفَ أُخِيهَا
دیکھو حدیث ۱۱۸۵

باب حدیث کا اپنے بھائی کے پیچھے سوار ہونا

(م-۱۳۸۳) عَنْ عَائِشَةَ (مكرر-۸۳۳) (۱۳۸۳) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
دیکھو حدیث ۸۳۳

أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ (مكرر-۸۳۲) (۱۲۶) بَابُ لَرْدِيَانِ فِي لَعْنَةِ زَوَاجِحِ (م-۱۳۸۵)
دیکھو حدیث ۸۳۲

باب حج اور جہاد میں لکڑیوں سے کیے گئے سولہوں

عَنْ أَنَسٍ (مكرر-۸۳۶) (۱۲۷) بَابُ الرِّدْفِ عَلَى الْجِمَارِ (م-۱۳۸۶) عَنْ أُسَامَةَ
دیکھو حدیث ۸۳۶

ابن زید بن رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على جمار على ركائبه
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر ایک دوسرے کے پیچھے سوار ہونا

تَطِيفَةَ وَارْدَانَ أُسَامَةَ وَرَأَى (م-۱۳۸۶) (۱۳۸۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (مكرر-۲۸۶)
کرسوار ہونے اور سامہ کو اپنے پیچھے بٹھا لینا

(۱۲۸) بَابُ مَنْ أَخَذَ بِالرُّكْبَاتِ نَحْوَهُ (م-۱۳۸۷) (۱۳۸۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مكرر-۱۲۶۲)
دیکھو حدیث ۱۲۶۲

باب جو کسی کو ساری پر چڑھانے کیلئے رکاب چیر کر لے

(۱۲۹) بَابُ كَرَاهِيَةِ الشُّغْرِ بِالْمُصَاحِفِ إِلَى أَرْضِ لَعْدٍ وَكَذَلِكَ يَرُدُّ
باب قرآن کریم کو بیکردن کے مکہ میں سفر کرنا پسند ہے

عَنْ أَبِي عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَافَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم

وَأَصْحَابَهُ فِي أَرْضِ لَعْدٍ وَوَهُمْ يَعْلَمُونَ الْقُرْآنَ (م-۱۳۶۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
اور آپ کے صحابہ سفر کر کے جن کے مکہ میں گئے وہ وہ قرآن کا علم رکھتے تھے

جہاد میں ہونے سے روایت ہے

جور عمر و طہ از علی الخو فقال لها اذهب وايردك عبد الرحمن فامر عبد الرحمن ان يعدها من التعميم فانظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم
با علی فکہ حق جانت حضرت عائشہ کے عبد الرحمن کے پیچھے سوار ہونے سے عنوان باب ہے۔ اس کے بعد روایت بت مختصر ہے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کے ہیں امر بن
الجمہام ان اردن عائشہ و امروها من التعميم و ملکہ کر روایت مختصر و کتب میں ابی طلحہ و انہم لیسو و حون بہا جیسا الحج والعمرة و یہ مطلب ہے
کہ جو ساری میسر ہو اس سے کام لے اور اس کی راہ میں جاو کیے کسی چیز کو بغیر اور اپنی کسر خان کا موجب نہ سمجھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی گامے پر سوار تھے
اور اس امر کو پیچھے سوار کر لیا۔ ملا یہ ایک ہی حدیث کا کلمہ ہے جو ۱۸۹۹ء پر آتی ہے۔ تفسیر سورہ آل عمران باب قولہ ولما من من الذین ادقوا الکتاب
وہاں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ انصاری خراج کی عبادت کیلئے تشریف لے چکے تھے اور اپنے پیچھے اس امر کو گامے پر سوار کیا۔ مکہ کر روایت
کا مضمون اور غلط ہے ۱۲۵ سے زیادہ ہوتے جیسے ہیں مگر شروع کا حصہ زیادہ ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل يوم القوم من اعلی مکة علی اجاتہ
مروقا اسامۃ بن زید و معہ جلالہ مع عثمن بن مظعون الجحہ حتی اناخ فی العین فامر ان یاتی بمختار البیت ففتح ودخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم ومعہ اسامۃ وبلال وعتق فکث فیہا نماز طرہ ملا فخرج فاستبق الناس کاز عبد اللہ بن عمرو اول من دخل وجد بلالاً وراء الباب قائماً فسأله
ابن صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاشار الہ الی المکان الذی صلی فیہ قال عبد اللہ فصدت ان اسالہ کہ صلی من صلوۃ وہ یہ مطلب ہے کہ کسی دوسرے
کی اور بت مختصر صحابہ کی جو بھی ہمارا مکن ہو اس کو تابی نہیں کرنی چاہئے خواہ کتنا ہی حقیر کام نظر آتا ہو۔ اس کے بعد روایت کے ضمن میں زیادتی ہے جہاد میں
اکاشین صدقہ تک دیں نقد میں۔ اس کے بعد یہ نقد میں ویدین الفرج علی وابتہ فیجمل عیما اور مرف علیہا متا صدقہ واکثر الطیب صدقہ وکل خطوبۃ
یتخطع الی الصلۃ صدقہ وبعیض الاذی عن الفریق صدقہ۔ یعنی کسی کی مدد کر کے اس کو اپنے جائز پر سوار کرے صدقہ ہے۔ اسی سے عنوان ہے یہاں اس پر اس
کا سامان اٹھا کر کہ صدقہ ہے۔ اور ہر ایک قدم جو وہ نماز کی طرف اٹھائے صدقہ ہے۔ اور تکلیف وہ چیز کرتے سے ہوتا ہے۔ صدقہ ہے۔

ما غفیت تغیر غایب
 غفل سے دہرایا
 ہے۔ آخر میں آتا
 بڑھا یا ہے۔
 قال صحاح نقلت
 لہالم یقل عبد اللہ
 انشأ اللہ قال
 لا یعنی صحاح
 راوی نے عالم
 بن عبد اللہ کو کہا
 کہ ایک عبد اللہ بن
 عمر نے اس دعا
 میں انشاء اللہ کا
 جملہ ہی کہا ہے۔
 تو انہوں نے کہا
 نہیں
 غلط شدہ ایک شخص
 گھر میں رہ کر اور
 تندرستی کی حالت
 میں مسجد کا عادی
 ہے اور وہ کبھی
 رات عبادت میں
 میں گذارتا ہے یا
 غفل روزہ رکھتا
 ہے مگر بیماری
 میں یا سفر میں وہ
 اس نہیں کر سکتا
 مگر چونکہ اسکی نیت

(م۔ ۱۳۹۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (مُتَكَرِّرًا) (۹۱۸) بَابُ كَيْفَ كُتِبَ لِلْمَسَافِرِ

دیکھو حدیث ۹۱۸ ۱۳۹۰ باب مسافر کے لئے وصی

مِثْلُ مَا كَانَ يُعْمَلُ فِي الْأَقَامَةِ (۱۳۹۱) عَنْ زُبَيْرِ بْنِ أَبِي سَمُوحَةَ

عمل لکھا جاتا ہے جیسا وہ گھر میں رہ کر کرتا تھا
 اب زبیر بن ابی سموحہ سے روایت ہے

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَرْدَةَ وَأَصْحَابَهُ هُوَ زُبَيْرُ بْنُ أَبِي لَيْثَةَ فِي سَفَرٍ فَكَانَ يُزِيدُ

کریں نے ابو بردہ کو سنا اور وہ اور زبیر بن ابی لیسہ کے ساتھ تھے تو زیاد

يُصَوِّمُ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَرْدَةَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى مِرَارًا يَقُولُ قَالَ

سفر میں روزہ رکھتے تو ابو بردہ نے ان سے کہا میں نے کئی مرتبہ ابو موسیٰ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَضَ الْعُمَدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب کوئی شخص بیمار ہو جائے یا سفر پر جائے تو اس کے لئے وہی عمل

كَانَ يُعْمَلُ مَقِيمًا صِحًّا (۱۳۹۵) بَابُ السَّيْرِ وَحَدِّكَ (م۔ ۱۳۹۱) عَنْ جَابِرِ

لکھا جاتا ہے جیسا وہ گھر میں اور تندرستی میں کرتا تھا ۱۳۹۵ باب ایسے سفر کرنا

ابن عبد الله رضي الله عنه (مُتَكَرِّرًا) (۱۳۱۵) (۱۳۱۵) عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

دیکھو حدیث ۱۳۱۵ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں

وَسَمِعْتُ قَالَ لَوْ دُعِيَكَ النَّاسُ مَا نَفَى لِحَدِّكَ مَا أَعْلَمُوا مَا سَارَرْتُكَ بِلَيْلٍ لِحَدِّكَ (۱۳۱۶)

کہ آپ نے فرمایا اگر لوگ تمہاری دعوت کے سفر کے ان نقصانات کو جانتے نہیں ہیں جانتا ہوں تو کوئی سوارات کو ایلا نہ پتا ملے

بَابُ الشَّرْعَةِ فِي السَّيْرِ قَالَ أَبُو جَمِيلٍ قَالَ أَبُو جَمِيلٍ قَالَ أَبُو جَمِيلٍ قَالَ أَبُو جَمِيلٍ

باب سفر میں تیز چلنا اور ابو جمیل نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے چلنے پر

رَأَى الْمَدِينَةَ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْجَلَّ مَعِيَ فَلْيَجَلَّ (م۔ ۱۳۹۲) عَنْ عُرْوَةَ

چاہتا ہوں تو جو میرے ساتھ چلے جانا چاہے وہ چلے روانہ ہو جائے

(مُتَكَرِّرًا) (۱۸۱) (م۔ ۱۳۹۳) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْمَ عَنْ أَبِيهِ (مُتَكَرِّرًا) (۶۰۵) (م۔ ۱۳۹۴)

دیکھو حدیث ۱۸۱ دیکھو حدیث ۶۰۵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَرِّرًا) (۹۲۴) (۱۳۹۶) بَابُ إِذَا أَحْمَلُ عَلَى فَرَسٍ فَرَأَاهَا تَبَاعًا

دیکھو حدیث ۹۲۴ باب جب گھوڑا چاہوں اسواری کہنے کے اور چھوٹے کتب پائے

میں یہی ہوتا ہے اس لئے ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اس کو اجازت دیتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ بعض وقت نیت یہی انسان کو اجازت
 جاتا ہے مگر وہ نیت انسان کے پیچھے سے ثابت ہوتی ہے اس کی سابقہ ادرت اس عمل پر اس کی صحت نیت کی گواہ ہوتی ہے اس سے یہی معلوم
 ہوتا ہے اعمال کی اصل غرض انسان کے قلب میں ایک خاص کیفیت کا پیدا کرنا ہے۔ اسلئے انفاہ تقریباً ایک ہی ہے۔ آخر پر یہ تامل سفیان الحواری
 الناصب۔ اس حدیث سے ثابت ہے کہ جب حضرت زبیر نے ہی اپنے آپ کو ایک کام کیسے پیش کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا حواری یا خاص مددگار بنا
 گویا اس کی تعریف کی پس ایسے خطہ کے مقابلہ میں نکل مقام درج میں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مدینتے باہر نکلنے کی خبر لائے تو نکل گئے تھے جیسا کہ صحیح
 احادیث میں گذر چکا۔ مگر دشمن کے مقابلہ میں ایسے نکلنا اور چلنا ہے۔ اور یہ معمولی عادات میں سفر و پیش ہوا و سفر میں خطرات بھی ہوں تو ایسے نکلنا اشد
 کا طریق نہیں اور یہی حدیث میں فرمایا ہے۔ بلکہ یہاں رات کی لفظ ساتھ بڑھ کر بتا دیا ہے کہ اس غرض یہ ہے کہ بلا ضرورت اپنے آپ کو خطرات میں نہ
 ڈالا جائے اور ضرورت کے وقت تو آنکھوں کو کھینچ کر تھوڑا سا ساری کا کام ہے۔ بلکہ یہ ایک ہی حدیث کا لفظ ہے جو کہ اب انکو اب باب عرض انہوں نے
 پر گذر گئی ہے جب جو بات سے لگ ہوگی ضرورت میں آئے اس بات کے ساتھ ہی نیت کی ضرورت نہ ہو تو حاجت سے لگ ہو کر چلے بھی جا سکتے ہیں۔ مگر روایتیں
 والنوع فوق الغنی سے بعد کے لفظ نہیں ہیں۔ باقی بخون اون تو لغتی سے ہی ہے۔ اس میں ہے کہ آپ صحت میں ذرا تیز چال پڑتے اور کت روکے پھر نصی کے پاؤں
 چلتے یعنی دو تھکے پاؤں اپنی نیت سے کت مع عبد اللہ بن عمر بطریق مکہ خائفان صفیہ بنت ابی سفیان بن عیینہ شہداء و صحابہ السیر حتی اذا كان بدر غردوا المشفق فزولوا رقی و ص ۶۲

(۱۳۹۶-۱۳۹۷) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْزُوقٍ (مُتَكَرِّرًا - ۸۰۰) (۱۳۹۷-۱۳۹۸) عَنْ زَيْدِ بْنِ

دیکھو حدیث... ۸۰۰

أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ (مُتَكَرِّرًا - ۸۰۰) (۱۳۹۸-۱۳۹۹) بَابُ الْجِهَادِ بَارِزُنَ الْأَبْيُونِ (۱۳۹۹-۱۴۰۰)

بَابُ الْجِهَادِ بَارِزُنَ الْأَبْيُونِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْزُوقٍ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَهُ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَرْزُوقٍ رَوَيْتُ عَنْ أَبِيهِ (مُتَكَرِّرًا - ۸۰۰) (۱۳۹۹-۱۴۰۰) بَابُ الْجِهَادِ بَارِزُنَ الْأَبْيُونِ (۱۳۹۹-۱۴۰۰)

فِي الْجِهَادِ فَقَالَ أَحْسَنُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا نَجَاهُ (۱۴۰۰-۱۴۰۱) بَابُ

مَا قِيلَ فِي الْحَرْبِ مِنْ نَجْوَى فِي أَعْدَائِكُمُ الْإِبِلِ (۱۴۰۱-۱۴۰۲) عَنْ أَبِي بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيِّ

أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ

حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ فِي مَيْمَتِهِمْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا

أَنْ لَا يَبْعَثُوا فِي رِقَبَةٍ بَعْدَ قِلَادَةٍ مِنْ دَسْرٍ أَوْ قِلَادَةٍ إِلَّا تَقَطَّعَتْ (۱۴۰۲-۱۴۰۳) بَابُ مَنْ

الْتَبَّتْ فِي جَيْشٍ فَخَرَجَتْ امْرَأَتُهُ حَاجَةً أَوْ كَانَ لَهُ عُدَّةٌ زَهْلٌ يُؤْذَنُ لَهُ

(۱۴۰۳-۱۴۰۴) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مُتَكَرِّرًا - ۹۳۹) بَابُ الْجَاسُوسِ وَ

قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى لَا تَتَّبِعُوا أَعْدَائِكُمْ وَاعْتَدُوا وَاعْتَدُوا كَمَا وَعَدُوا وَوَلِيَاءَ الْجَبَسِ التَّبَحُّثُ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مُتَكَرِّرًا - ۹۳۹) بَابُ الْجَاسُوسِ وَ

قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى لَا تَتَّبِعُوا أَعْدَائِكُمْ وَاعْتَدُوا وَاعْتَدُوا كَمَا وَعَدُوا وَوَلِيَاءَ الْجَبَسِ التَّبَحُّثُ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مُتَكَرِّرًا - ۹۳۹) بَابُ الْجَاسُوسِ وَ

قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى لَا تَتَّبِعُوا أَعْدَائِكُمْ وَاعْتَدُوا وَاعْتَدُوا كَمَا وَعَدُوا وَوَلِيَاءَ الْجَبَسِ التَّبَحُّثُ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مُتَكَرِّرًا - ۹۳۹) بَابُ الْجَاسُوسِ وَ

قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى لَا تَتَّبِعُوا أَعْدَائِكُمْ وَاعْتَدُوا وَاعْتَدُوا كَمَا وَعَدُوا وَوَلِيَاءَ الْجَبَسِ التَّبَحُّثُ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مُتَكَرِّرًا - ۹۳۹) بَابُ الْجَاسُوسِ وَ

قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى لَا تَتَّبِعُوا أَعْدَائِكُمْ وَاعْتَدُوا وَاعْتَدُوا كَمَا وَعَدُوا وَوَلِيَاءَ الْجَبَسِ التَّبَحُّثُ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مُتَكَرِّرًا - ۹۳۹) بَابُ الْجَاسُوسِ وَ

قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى لَا تَتَّبِعُوا أَعْدَائِكُمْ وَاعْتَدُوا وَاعْتَدُوا كَمَا وَعَدُوا وَوَلِيَاءَ الْجَبَسِ التَّبَحُّثُ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مُتَكَرِّرًا - ۹۳۹) بَابُ الْجَاسُوسِ وَ

قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى لَا تَتَّبِعُوا أَعْدَائِكُمْ وَاعْتَدُوا وَاعْتَدُوا كَمَا وَعَدُوا وَوَلِيَاءَ الْجَبَسِ التَّبَحُّثُ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مُتَكَرِّرًا - ۹۳۹) بَابُ الْجَاسُوسِ وَ

بقرہ ص ۶۷۵
فصل المغرب القمہ
یجمع بینہما وقال
انی رأیت النبی
صلی اللہ علیہ وسلم
اذا جہد بہ السیر
اخرا المغرب وجمع
بینہما عنان باب
سے تعلق جدا بہ
السیر کا ہے یعنی
جب تیر چھنے کی
تہذرت ہوتی ہے
سے نفاذ یعنی ۹۲
کہ ہیں
صفحہ ہذا
مکرر روایت
کے نفاذ یعنی ۹۲
کہ ہیں۔ دیکھو نوٹ
منشور پر
مکرر روایت
کے نفاذ یعنی ۹۲
کہ ہیں۔ البتہ یہاں
کا لحاظ فی قیامہ کی
جگہ ہے کا کلمہ
فی قیامہ اس حدیث
میں اور ایسا ہی

۹۹۶ میں ہانفت کی وجہ بھی نظر آتی ہے۔ کیونکہ حضرت عمر کا بیان ہے کہ ان کا خیال تھا کہ وہ شخص جسے گھوڑا بطور صدقہ دیا گیا ہے، گھوڑے کو ارزاں فروخت کر
دیکھا جائے گا۔ معلوم ہوا خدمت شہنشاہی میں بھی ایک جہاد ہے۔ اور اس میں سے بڑا مقام چونکہ خدمت والدین کا ہے جس کا مرتبہ خدا کی عبادت کے بعد ہی رکھتا ہے۔ اس لئے
اس کی خاطر جہاد سنی سے بھی اس شخص کو سنتے کر دیا گیا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے حالات ایسے تھے کہ والدین کی خدمت کیلئے اس کا رہنا ضروری تھا۔ شہنشاہ کو کوئی ڈ
خبر نہ ہوگا۔ جیسے حضرت عثمان کو اپنی بیوی زینت رسول اللہ کی بیمار داری کیلئے جنگ بدر سے ہٹائے کر دیا۔ ملک قلابہ ہار کو کہتے ہیں۔ اور وزیر کمان کے چلنے کو۔
شہنشاہین کہتے ہیں کہ چلنے کے ہار کو اونٹ کی گردن میں نہ ڈالنے یا اس کے کاٹنے کی وجہ یہ ہے کہ جانوروں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے چرنے میں بھی اور سانس لینے میں
بھی۔ اور وہی دو دو جھکی ہیں۔ (۱۴۰۱) کہ وہ تو بڑے کے طور پر اسے لٹکتا ہے۔ بر نظر نہ لگے۔ اس لئے روکا۔ (۱۴۰۲) کہ اس میں جس میں غصہ ہوتی تھی اور جس کی مخالفت کے لئے
ایک توفیق کی حدیث پیش کی جاتی ہے۔ لاجعل اللہ لکلمۃ ذمۃ ذمۃ جاسوس۔ ایسے رفیقوں کے ساتھ ملا کر نہیں ہوتے ہیں جس میں ہو۔ اور رسول کی حدیث الجاسوس منہل
الشیطان۔ جس شیطان کا آئینہ سرد ہے۔ امام بخاری نے جیسا کہ عنان باب سے معلوم ہوتا ہے قلابہ سے وہ ہار یا جس میں ہو اور کتاب الجہاد میں یعنون
لا یتا سے کہ حدیثوں میں جہاں جس سے ہانفت آئی ہے امام بخاری نے اس ہانفت کو جہاد کہا ہے۔ جہاد کا یہ ہے کہ جہاد میں اکثر یہ بات ملحوظ ہوتی ہے کہ
دشمن کو اسلامی فوج کا علم نہ ہو جائے اور جس سے خصوصاً رات کے وقت دوڑنا دشمن کو علم نہ ہو سکے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جیسا کہ اس حدیث میں ہے جہاد کو دشمن کی
حال میں اعلان کیا تھا کہ کسی اونٹ کی گردن میں قلابہ نہ رہنے پائے اور یہ سفر سفر جہاد میں ہوتا ہے۔ جس میں سے ہانفت کا حکم آتا ہے۔ حتیٰ تک تھا کہ جس صلحت کی بنا پر دیا گیا
تھا۔ یعنی امام کسی کے غدر کو سن کر اور قبول کیا ہے۔ جہاد سے ہٹنے کر سکتا ہے جیسا کہ حدیث اباباب میں ہے۔ ہانفت عنان ایک ہی الفاظ میں کچھ فرق ہو اندھمب النبی
صلعم بقول لا یخون رجل باہراتہ ولا تافرون امرأۃ الا وہما محرماتہما وجعل نقالاً یا رسول اللہ الکتبت فی غزوة کذا وکذا واخرجت امرأتی من حاکمۃ قال ذہباً

نہ نفعہ... ۹۳۹

نہ نفعہ... ۹۳۹

عنا صاحب نے
 مشرکین مکہ کو جو
 اطلاع دی تھی وہ
 اس امر کی تھی کہ
 آنحضرت صلعم مکہ
 پر چڑھائی کی تھی
 کہ جسے میں تم لوگ
 اپنا بچاؤ کر لو ورنہ اس
 طرح حاطب نے
 مسلمانوں کی دشمن
 قوم کے لئے جارحی
 کا حکم کیا۔ لیکن
 فی الحقیقت وہ
 مسلمانوں سے دشمنی
 کرنے کا ارادہ نہ
 رکھتے تھے بلکہ اپنی
 ایک ذاتی غرض کو
 مد نظر رکھ کر شریکوں
 سے احسان کرنا
 چاہتے تھے حضرت
 عمر نے انہیں مانع
 اس لئے کیا کہ ان کا
 یہ فعل اسلام کے صحیح
 دہشمن کا تھا اور آنحضرت
 صلعم نے ان کو کوئی
 سزا نہیں دی۔ اس
 لئے کہ ان کا ارادہ
 مسلمانوں کو نقصان
 پہنچانے کا نہ تھا۔
 بلکہ خود کچھ فائدہ
 حاصل کرنے کا تھا
 اللہ تعالیٰ کا اہل
 بدر کی نسبت یہ فرمایا
 اعلیٰ ما شئتم فقد
 شفقت لکم۔ جو
 چاہو کرو میں تمہاری
 شفقت کر دیتی ہے

(۱۳۷) عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رَيْحَانَ يَقُولُ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَالزُّبَيْرُ وَالْمِقْدَادُ

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور زبیر اور مقداد

ابن الأسود قال نطلقوا حتى تأتوا أرضه خارجة من بھا طيبة ومھا لينة فأتوا

ابن اسود کو بھی فرمایا جلتے جاؤ یہاں تک کہ روئے زمین خارجہ پر پہنچو اور وہاں تک کہ ایک عورت سوار ہوگی اس کے پاس ایک خا

منھا فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا الى الزوطة فاذا نحن بالطيبة

سے وہ اس سے لوہے کے گھوڑے دوڑاتے تھے یہاں تک کہ روئے زمین پر پہنچ گئے تو ہمیں ایک سوار عورت ملی

فقلنا أجزعنا من كتاب فقالت ما معي من كتاب فقلنا أجزعنا من كتاب أو نلقين

ہم نے کہا خط نکال دو کہنے لگی میرے پاس کوئی خط نہیں ہے ہم نے کہا یا تمہیں خط لکھنا ہوگا یا تمہیں ترے کپڑے

الشياب فأخرجته من عقابها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا

انہا روئے گئے تو اس نے خط اپنے جوتے سے نکال دیا ہم اس خط کو رسول اللہ صلعم کے پاس لائے خط میں یہ تھا

فيه من حاطب بن أبي بلتعنة إلى أناس من المشركين من أهل مكة فكتبوا

حاطب بن ابی بلتعنہ کی طرف سے مکہ کے مشرک لوگوں کو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

ببعض من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا

حاطب ما هذا قال يا رسول الله لا تجعل حلي إلى كنت امرأ قاصدا في قریش

حاطب یہ کیا ہے عرض کیا یا رسول اللہ میرے متعلق جلدی نہ کیجئے میں ایک ایسا شخص ہوں جو قریش میں

لما كن من انفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون

آہر کر لیا ہوں مگر میں ان میں سے نہیں ہوں اور آپ کے پاس جو مهاجرین ہیں مکہ میں ان کی رشتہ داریاں ہیں

بها أهليهم وأموالهم فأجبت إذ فأتيتني ذلك من السب فيهم أن أخذ

جن کے ذریعہ وہ لپٹ گمراہوں اور اپنے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں میں نے چاہا کہ جب مجھے اس میں کوئی بھی قرابت حاصل نہیں

عندهم يدايهم من قرابتي وما فعلت كفرا ولا ارتدا أو لأرضي بالكفر

تو ان پر ایک احسان کروں جس کی وجہ سے میرے رشتہ داروں کی حفاظت ہو۔ میں نے دیکھا کہ ان کو کفر کی وجہ

بعد الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم قال عمر

سے کیا نہ تم پر ہمیں کی وجہ سے اور نہ اسلام لائے کہ جو کفر برہنہ مندی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے سچ کہا کہ

يا رسول الله دعني أضرب لحنق هذا المنافق قال إنه قد شهد بدرا وما

دیکھ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لئے اجازت دیں کہ اس منافق کی گردن ماروں فرمایا وہ بدر میں موجود تھا اور نہیں کیا

يدريك لعل الله أن تكون قد أطلعت على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم

علم ہے شاید اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کو دیکھ کر فرمایا ہو

فقد غفرت لكم قال سفیان وأتى أسناده هذا (۱۳۲) باب الكسوة

میں نے تمہاری حفاظت کر دی ہے

للأسارى (۱۳۷) عن جابر بن عبد الله قال لئن كان يوم بدر يأتني

جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ جب جنگ ہوئی تو

دینا

اس لحاظ سے ہے کہ جن لوگوں نے اسلام کی ایسی مصلحت نہ خدمت کی کہ بے سروسامانی کی حالت میں زبردست دشمن کے مقابلہ میں اپنی جانیں پیش کر دیں یہ ناممکن تھا کہ وہ با

اسلام سے دشمنی کریں یا مرتد ہو جائیں کسی سے غلطی کا ہو جانا امر دیگر ہے۔

بِاسَارِي دَأْبِي بِالْعَبَّاسِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ثَوْبٌ فَظَهَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَدِي لَانِي كَيْفَ اَدْر حضرت عباس ہی لئے گئے اور ان پر کپڑا نہیں تھا تو نبی صغر نے ان کے لئے

لَهُ تَمِيمًا لَوْ جَدَّ وَأَقْبَمِيصَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَقْدَرُ عَلَيْهِ فَكَسَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
فقیص تلاش کی تو انہوں نے عبداللہ بن ابی قیس کو ان پر فقیص کیا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ فَلِذَلِكَ نَزَعُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمِيمَهُ الَّذِي
اسی لئے نبی صغر نے اپنی قمیص اتار کر اسے

الْبَسَهُ قَالَ ابْنُ عَيْنَةَ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَنَةٌ
رعبداللہ بن ابی کو اس کے مرتبے بعد پہنادی ابن عینہ نے کہا اس کا نبی صغر پر احسان تھا تو آپ نے

فَأَحَبَّتْ أَنْ يُكَافَأَ (۱۴۳) بِأَبِ فَضْلِ مِنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ رَمَى
پسند کیا کہ اس کا بدلہ دیدیں بلکہ باب اس کی نصیحت جس کے ہاتھ پر کوئی شخص مسلمان ہو

(۱۴۰) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَمَى رَجُلًا (۱۳۵۲) بِأَبِ الْأَسَارِيِّ فِي الشَّكْلِ
دیکھو حدیث ۱۳۵۲ باب قیدیوں کا زنجیر میں ہونا

(۱۳۷۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ قَوْمٍ
نبی صغر نے دیکھا کہ وہ قوم سے روایت کرتے ہیں فرمایا ایسے لوگوں کی اسٹکی لگا دین

يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فِي السَّلَاسِلِ (۱۴۵) بِأَبِ فَضْلِ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكُتَابِ
بڑی قد سے جڑ جھریں ہوتے ہوتے جنت میں داخل ہوتے ہیں بلکہ باب جو یوں دیا نصاریٰ میں سے مسلمان ہوئے اس کی نصیحت

(م-۱۴۰۱) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ (مكرر-۸۴) بِأَبِ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيِّنُونَ
دیکھو حدیث ۸۴-۸۳ باب تمہارے گھروں پر نیکوں کو راجا کرنا

فِيصَابِ الْوُلْدَانِ وَالذَّرَارِيِّ بِيَأْتِي كَيْسًا لَنْبِيْتِنَةَ كَيْسًا يَبِيْتِ رَاتِ كَوَا
ادھر چھوٹے بچے بھی قتل ہو جائیں بیاتاکے معنی میں رات کو (لااعرف ۱۳) لنبی تنہہ راتوں میں (۲۹) راتوں پر حکم کرنا بیت رات کو اسے

(۱۳۷۶) عَنْ الصَّدْبِ بْنِ جَثَمَةَ رَضِيَ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صعب بن جثامہ سے روایت ہے

بِالْأَبْوَاءِ أَوْ يُوْدَانَ وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيِّنُونَ مِنَ الشُّرَكِيِّينَ فَيَصَابُ مِنْ تَسَاهُمِ
ابو ایاودان میں میرے پاس سے گزرنے اور میرے پر چھانگیا کہ شرکوں میں سے جن سے جنگ ہو کسی گھر والوں پر نیکوں کو راجا کرنا

حدیث یہ حدیث
اور یہ مخصوص اس کی
مکرر روایات
کی نہیں کرتی ہے
۱۳۵۲ میں اور زیادہ
تفصیل سے ۱۳۵۲
میں یہ ذکر ہے کہ
علم نے اپنی قمیص
عبداللہ بن ابی کو
جو اس میں نہیں
کلنا تھا اس کے
مرتبے بعد پہنادی
۱۳۵۲ کے آخر
اسکی جردی ہے
مکافاۃ لخاصہ
یہ اس کا بدلہ تھا۔
جو عبداللہ بن ابی
نے کیا۔ اسکی تشریح
گویا یہاں ہے کہ
عبداللہ بن ابی کی
قمیص جنگ دیکر
بعد نبی کریم صغر کے
چا حضرت عباس کو
پہنادی گئی تھی۔
تو درست ہو گیا۔
لیکن یہ کہتے ہیں کہ
یہ محض دلائل
چاہتا تھا اور کئی خیال

ہے جس کی کوئی سنا نہیں رسول اللہ صغر کے قلب میں ایسی رافت تھی جس کی دنیا کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ باوجود ازی تمام فقہ پرور ازیوں کے عبداللہ بن ابی نام کا تو
مسلمان تھا۔ اپنے بولکل پر بھی بڑی بڑی تمہائیاں کیں۔ اپنے نام پر اپریوں تمہائیاں نہ ہوتے۔ بلکہ مکرر روایات میں ۱۳۵۲ کی ہی معنی میں نصیحت سے تمہیر کے
ساتھ وہ ہوا گیا ہے۔ یہاں یعنی علی بن ابیہ کے بعد یہ لفظ زائیں میں بحالہ اللہ ورسولہ وجمیلہ اللہ ورسولہ فیات الناس میثمہم ایہم یعنی یہ فتح ایسے
شخص کے ہاتھ پر ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتے ہیں۔ لوگوں نے وہ ہارت اس طرح گذارنی کہیں
کو یہ نشان دیا جائیگا۔ یہاں فصیح فی عینہ کی جگہ ہے و دعاء یعنی آنحضرت صغر نے حضرت علی کے لئے دعا کی جس سے ان کی آنکھیں بھی ہوئیں۔ اور یہ بھی زائیں
کہ فاعطاء۔ جہذا آپ حضرت علی کو دیدیا۔ دیکھو نوٹ ۱۳۵۲ پر یہ محبت تعبیر انسان اس موقع پر کرتا ہے جب ایک چیز کی اس کے نزدیک بڑی عظمت ہو
اور اس کے اسباب اس پر ہوں۔ یہ دوسری بات اللہ تعالیٰ کے متعلق درست نہیں اس لئے جب کہ فاعطاء کے متعلق صرف اس سے نہیں ہے کہ اس کی نگاہ میں ایسے
لوگوں کی قدر ہے۔ اور عجب یعنی رضی بھی آیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے راضی ہوجاتا ہے۔ زنجیریں پینے ہوتے جنت میں داخل ہوجانے سے مراد ہے کہ تمہے
اسلام کے دشمن اور اسلام کو تباہ کرنے والے گھروں سے نکلے تھے مگر جنگ میں مغلوب ہونے اور قید ہونے اور اس قیدی کی حالت میں اسلام کی غرضوں سے متاثر ہوکر مسلم
قبول کیا۔ فی الواقع یہ بڑی بھاری تبدیلی ہے کہ یا تو اسلام کو تباہ کرنے نکلے تھے یا خود اسلام کا شکار ہو گئے۔ قیدیوں کو تو موٹا باوجود ان کے کلا کی حالت کے آنحضرت صغر
آزاد کرتے تھے مگر بعض ان میں سے اسلام کی تعلیم سے اس قدر متاثر ہوجاتے تھے کہ وہ گھر واپس جاتے کہ بجائے مسلمان ہوکر وہیں رہ جاتے تھے۔ باقی ہر گھروں کا

وَذَرَّ اَرْبَعًا قَالَتْ هُمْ مِنْهُمْ وَسَمِعْتَهُ يَقُولُ لَا حَيْبَ لَآلِئِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اور چار بچے (بچے) ان کی جو قتل ہو جائیں آپ نے فرمایا وہ انہیں میں سے ہیں بلکہ اور میں نے آپ کو فرماتے سنا چہرہ رکھنے کا حق

وَسَلَّمَ فِي رِوَايَةٍ قَالَتْ هُمْ مِنْهُمْ وَلَمْ يَقُلْ كَمَا قَالَ عُمَرُ وَهُمْ مِنْ اَيَّامِ رَسُولِ اللَّهِ (۱۲۷۷) بَابُ

عمر رضی اللہ عنہ اور اس کے بچے تھے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا وہ انہیں میں سے ہیں بلکہ اور میں نے آپ کو فرماتے سنا چہرہ رکھنے کا حق

قَتْلِ الصَّبِيَّانِ فِي الْحَرْبِ (۱۲۷۷) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَدَةَ أَنَّ امْرَأَةً وَجَدَتْ فِي بَعْضِ

باب لڑائی میں بچوں کا قتل کرنا

مَخَارِزِ ابْنِ عَبَّاسٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً فَأَنكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جو جس کی گئی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ (۱۲۷۸) بَابُ قَتْلِ النِّسَاءِ عَنِ ابْنِ مَرْثَدَةَ (۱۲۷۸) عَنْ

عورتوں پر بچوں کو قتل کرنا کیا گیا

ابْنِ مَرْثَدَةَ (مُتَكَرِّرًا - ۱۲۷۷) (۱۲۷۹) بَابُ لَا يُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللَّهِ (۱۲۷۹) (۱۲۷۹)

دیکھو حدیث ۱۲۷۷

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَرِّرًا - ۱۲۷۷) (۱۲۷۸) عَنْ عَدِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ عَنْهُ

دیکھو حدیث ۱۲۷۸

تَوَدَّ أَنْ يَبْلُغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَذَلَّهُ أَحْرَقْتُهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کو چلوایا یہ خبر عبداللہ بن عباس کو کہ نبی تو انہوں نے کہا اگر میں ہوتا تو انہیں نہ جلاتا کیونکہ

بقیہ ص ۶۷
۱۔ اونی غلطی تیر
۲۔ اور کچھ بچوں
۳۔ کی ترتیب میں فرق
۴۔ ہے کہ بعضوں نے
۵۔ اس کے ساتھ
۶۔ تو جو شخص بھی ہوگا
۷۔ وہ خدا کے سبب
۸۔ پر ایمان لے گا
۹۔ ہووے نہ ساری
۱۰۔ اہل کتاب کی خصوصیت
۱۱۔ سے اس سے ذکر
۱۲۔ کیا کہ جب ایک شخص
۱۳۔ ایک نبی کو مانے
۱۴۔ تو پھر دوسرے کی
۱۵۔ طرف سے قدم
۱۶۔ اٹھانا مشکل ہوتا
۱۷۔ ہے یا اس لئے
۱۸۔ کہ وہ دوسروں

کیسے ایک بیکر شال کا ٹکڑا کر کے دو ٹکڑے بنا لیا۔ (صحیح بخاری) اس میں تین تیروں بت بڑھوں کے جنگ میں قتل کی گئی تھیں۔ اسی روایت میں آئی ہے۔ دوسری تو خود بخاری میں اس کے بعد ہی موجود ہیں۔ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اغزوا اور قتیبہ اور لیدیا ولا تفتنوا۔ جنگ کر کے کسی بچے کو قتل کرنا اور نہ لاشوں کا شکر کرو۔ اور ابوراؤد اور دشا میں ہے لا تقتلن امرأة ولا عیفا۔ کسی عورت کو قتل کرنا اور نہ غلاموں کو یا خود مرگے کا کام کرنے کیلئے ساتھ لئے ہوں۔ اور سنا حدیث میں اسود بن سمرج کی روایت میں ہے الا لا تقتلوا ذریۃ الا لا تقتلوا ذریۃ۔ خبر اور بچوں کو قتل نہ کرنا۔ خبر وار بچوں کو قتل نہ کرنا۔ اور اسی میں ابن عباس کی روایت ہے لا تقتلوا الولدان ولا اصحاب الصوامع۔ بچوں کو قتل نہ کرنا اور نہ ان کو جو صومعہ بنی و تومر میں ہے ہیں اور ابوراؤد میں اس کی حدیث ہے لا تقتلوا شیخا قانیا ولا طفلا ولا صغیرا ولا امرأة۔ نہ بت بڑھے کو قتل کرنا اور نہ لڑکے کو اور نہ چھوٹے بچے کو اور نہ عورت کو۔ ایسا ہی ابو یوسف کی ایک روایت تھی صحابہ سے ہیں جن میں بچوں اور عورتوں کے قتل کی ممانعت ہے تو ان شیعہ اور صحیح روایات کے خلاف ان لفظ کے جو اس حدیث میں ہیں یہ سننے نہیں لے جاسکتے کہ عورتیں اور بچے بھی چونکہ کافروں میں سے ہی ہیں اس لئے انہیں بھی قتل کر دو۔ بحد حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہاں ایک مجبور کی عورت ہے کہ کسی جگہ رات کو جھڑکنے کی ضرورت پیش آئی ہے تو اب رات کی تاریکی میں نہیں ہے کہ کوئی عورت یا بچہ قتل ہو جائے۔ تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا ہم منہم۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ بھی کافر ہے اور سب کافروں کو قتل کر دو کیونکہ سب کافروں کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے۔ شریف میں نہیں نہ حدیث میں ہے۔ مطلب صرف اس قدر ہے کہ اس وقت وہ بھی ان میں سے ہی ہیں ان میں سے ہونے ہیں۔ تو ان کو الگ کس طرح کیا جاسکتا ہے بحدہ نظر آتے ہیں کہ اس بات کو درپخت کرنے کی ضرورت ہی اس لئے پیش آئی کہ صیبا کو علم تھا کہ اپنے عورتوں اور بچوں کے قتل سے بڑی سختی سے روکا ہے تو اس کے یہ سوال ہو کہ رات کے گھنٹے میں ایسا ہو جانا ممکن ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ مجبوری ہے۔ ہاں جب عہد ہر جگہ کہ ایک عورت بڑی اور عورتیں ہیں تو اس جگہ حرام نہ کیا جائیگا۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ یہ لفظ ان کی حالت کا ذکر ہے اور یہ مطلب نہیں کہ وہ رات کو اٹھ کر لوگوں کے گھروں پر لڑکے ڈال دے۔ یہ تعلیم اسلام کی رسم ہے سخت جرم ہے۔ اور وہ لڑکے کو اٹھا اور اس کے رسول کے ساتھ رہ کر قرار دیا ہے اور اس کی سخت سزا بھی ہے۔ انہما جزاء الذین یحربون اللہ ورسولہ (سائدہ - ۳۳) اور یہ جو ایک روایت میں ہے کہ ہم من اباہم تو اس کو اسی حدیث کے آخر میں قرار دیا ہے۔ مطلب اسی کی بحث کتاب الشرب میں مذکور ہے کہ ہم لکھا اہم لکھا اور ازما ہی کا یہ مذہب ہے کہ عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا کسی عورت میں بھی جائز نہیں یعنی ارادہ نام میں تک کہ اگر کافروں نے عورتوں اور بچوں کو اپنے سامنے رکھ کر ڈھال بنایا چرمی انکا مارنا درست نہیں ہے کیونکہ دوسرا طریقہ میں ہے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل النساء والصبیاء۔ اہم شامعی اور کوفیوں کے نزدیک عورتیں بھی کوئی چیز نہیں بلکہ بھائیوں کو تو پران قتل کرنا جائز ہے۔ اور اس عورت میں وہ الذین یقاتلونکم میں شامل ہیں جن کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت یا حکم ہے۔ بلکہ بکر روایت کو ۱۲۷۷ کے الفاظ میں دہرایا گیا ہے۔ لہذا صحیح بخاری غلطی سے روایت کو دہرایا ہے۔ لرحلیہ من قریش سماہما اور لہذا ایتناہ نوذہ کے لفظ یہاں نہیں۔

قَالَ لَا تَعِزُّ بَوَائِبُ اللَّهِ وَلَقَتْلَتَهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ

دینہ کی قتلواہ (۱۵۰) بَابُ ذَا مَنَا بَعْدَ وَرَأْمًا فِدَاءً فِيهِ حَدِيثُ شَمَاهُ وَ

قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ تَمُوتَ لَهُ أُسْرَى لِأَيَّةِ (۱۵۱) بَابُ هَلْ لِلْأَسِيرِ

أَنْ يُقْتَلَ وَيُجْعَلَ الدِّينَ أُسْرَةً حَتَّى يَجُوزَ مِنَ الْكُفْرِ فِيهِ السُّورَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۱۵۲) بَابُ إِذَا اخْتَرَقَ الشُّرُوكَ الْمُسْلِمَ هَلْ يَحْرَقُ (۱۵۳) عَنِ

أَسْنِ بْنِ مَالِكٍ رَمْتَكُر (۱۵۴) بَابُ (۱۵۳) عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ

باب دیکھو حدیث ۱۵۶۷ باب ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے

علاء ابن عباس سے
وقت حضرت علی
کی طرف سے لکھی
تاکر تھے۔ ان لوگوں
کو جنہیں حضرت علی
نے جانے کا حکم
دیا۔ اختلاف روایات
سے مراد فریقین،
اور خروج کیا گیا ہے
مگر ظاہر ہے کہ صرف
یہی آئی مشرکین و
نہیں ہوسکتی کیا ان
کا جرم کوئی بھی ہے
یا حکومت کے خلاف

جرم تھا۔ حضرت ابن عباس کے قول میں بدل دینہ ڈالتلوہ کو کسی نے بھی اپنی عمومت پر قبول نہیں کیا۔ ورنہ کافر بھی اگر اپنا دین چھوڑ کر مسلمان ہو تو بدل دینہ
کے الفاظ اس پر صادق آئیں گے اور سودی نصرانی ہو جسے تو وہ بھی اسی کے ماتحت آنے کا۔ اور مرتدین میں سے امام ابوحنیفہ نے عورتوں کو مستثنیٰ کیا ہے
اس پر مفصل بحث مرتدین کی سنو میں آئے گی۔ حضرت علی کو غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ پہنچی ہو۔ اگر میں جلا کر کسی کو نہ مارا جائے، جنگ کے قیدیوں کو عام صورت
سے آیت قرآنی میں مذکور ہے جس کا ایک حصہ عزمان باب ہے رجم۔ اس آیت میں ہے کہ جب تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو تو بے شک ان کو مارو۔ یہاں تک کہ جب
تم ان پر غالب آ جاؤ تو پھر مارو نہیں، قیدی کرو۔ اور پھر ان میں بطور احسان آزاد کرو یا فدیہ لیکر۔ یا ان اس بارے میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک جماعت کا
مذہب ہے کہ کفر جب جنگ میں قیدی ہو کر آسے تو ان سے فدیہ لینا املا و درست نہیں۔ امام مالک کا مذہب ہے کہ احسان کے طور پر بغیر فدیہ لینے کے ان کو آزاد کر دینا
درست نہیں ہے اور تغیر کا مذہب ہے کہ چھوڑنا کسی طرح بھی جائز نہیں۔ اور کسی نے مناد احسان کے طور پر آزاد کر دینا کو ممنوع کہا ہے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
کیا ہے جو بالکل سے معنی اور قرآن کریم سے اسن اشارہ دینے والی توجیہ ہے۔ اور سورہ انفال کی آیت ۷۷ سے پتہ چلتا ہے کہ قیدیوں میں کوئی فدیہ لینا نہیں کہ وہ قیدی لیکر
میں تک کہ وہ جنگ کے غالب ہو یعنی یوں رہ جائے کہ لڑنے والی کسی طرح درست نہیں۔ ان کا قاعدہ جنگ جو توفیق غالب و صبر کے قیدی پر رکھتا ہے۔
مگر اس کے متعلق حکم وہی سورہ محمد آیت ۴۷ کا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی ہے کہ آپ جنگ کے قیدیوں کو با احسان کر کے چھوڑ دیتے تھے یا فدیہ
لیکر۔ ۳۲۲ میں ہے کہ آپ نے بغیر فدیہ لئے چھوڑا۔ اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اور جنین کے چھ مزار قیدیوں کو نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیدیوں کو بغیر فدیہ لئے آزاد کر دیا
اور دریں ستر قیدیوں سے فدیہ لیکر آزاد کر دیا۔ اور مرقیہ جلیلہ قتل کیا گیا وہ جنگی قیدی نہیں تھے بلکہ مسعد کے فیصلہ پر پراضی ہوئے تھے۔ اور مسعد کا فیصلہ ان کی
اپنی فریعت کے مطابق تھا۔ مسعدیہ واقعہ جس کی طرف یہاں اشارہ ہے یعنی مسعود کی روایت ۱۱۱۱ میں گذر چکے۔ ابو بصیر قریشیوں سے قبیلہ صحیح حدیبیہ کے بعد
وہ مسلمان ہو گئے اور چونکہ گفرا انہیں سخت ذلت دیتے تھے اس لئے بھال کر نہ آئے۔ قریش نے دو آدمی ان کے پیچھے بھیجے کہ صحیح کی سزاؤں کے مطابق انہیں پھر
ان کے قبضہ میں ویدیا جائے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا اور وہ دو آدمی ابو بصیر کو گرفتار کر کے واپس لے گئے۔ ابو بصیر کو اب صاف نظر آتا تھا کہ قریش اس کو زندہ نہ
چھوڑیں گے۔ اس نے اپنے لئے خود چٹکا راجل کرنے کی تدبیر کی اور انہی دو سپاہیوں میں سے جس کی قیدی وہ تھا ایک کی تلوار بیکارگی سے قتل کر دیا۔ تو یہ ایک
خاص واقعہ ہے۔ اس سے کوئی عام قانون نہیں بنایا جاسکتا۔ ہاں بعد ایسے ہی حالات ہوں تو آج بھی ایک شخص اسی طرح چٹکا راجل کر کے ہے۔ جب عالم کے
ظلمہ سے کوئی اور ذریعہ نجات کا ممکن نہ ہو اور یہی نظر آتا ہو کہ ظالم اس کی جان لئے بغیر نہ چھوڑے گا تو یہ ظلم سے اس طرح چٹکا راجل کرنے پر کون حرف رکھ سکتا ہے
بلکہ حدیث جو اس باب کا ماتحت لائی گئی ہے اس میں جولوئے کا ذکر نہیں۔ البتہ یہ حکم ہوتا ہے کہ قصاص کے طور پر ان لوگوں کو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہوں
کو قتل کر دیا تھا۔ ایسی ہی آیت کی موت سے مارا گیا جس طرح انہوں نے کیا تھا۔ مگر پھر بھی جو ان جلائے کی صریح ممانعت ہے اس سے قصاص کے طور پر بھی
جلا جائے نہیں جیسے مشرک کی ممانعت ہے تو قصاص کے طور پر بھی مشرک ہزار نہیں۔ حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارتداد نہ پہنچا ہوگا اس لئے انہوں نے جلا یا خروج
سے تو آپ کی جنگ رہی اور کسی کو نہیں جلا یا وہ یہاں روایت میں زیادہ تفصیل ہے۔ سان رھظا من عمل شامیۃ قدام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ناجتوا العدا فیہ
فتاویٰ رسول اللہ ابتداء صلح ما حیا لکھرا ان تلحقوا بالذود فانطلقوا فشرودا من ابوالنہاد والہا نہا حتی صحوا وعضوا وقتوا الزامی انا تو الذود
وکترو ابدن اسلامہم فانی الصریح علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فبجث الطبع فماترحل لہا رحتی اتی ہم فقطہ ابوہم وارجلہم ثم امر مسامرا فی سمیت لکھام ہما وطمہم
بالحوتہ یسنسقون فعا یسقون حتی ما تو اقال ابو قلابہ تمنا ودمی تو اوحا ووا اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعوا فی الارض نسا داربانی برصہم

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فُرِصَتُ نَمَلَةٍ نَبِيًّا مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ فَاَمْرٌ دَهْرِيَّةٌ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کسی چوہی نے نبیوں میں سے ایک نبی کو کھلایا تو انوں نے چوہیوں کی

الْمَلِ نَمَلٌ فَاَحْرَقَتْ فَاَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ فُرْصَتُكَ نَمَلَةٌ أَحْرَقَتْ أُمَّةً مِّنَ الْأُمَمِ لَسِبْتَ

کی سبستی کے متعلق حکم دیا اور وہ صلا دیکھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی بھیجی کہ ایک چوہی نے تمہیں کاٹا تو تم نے اس کی مخلوق میں سے ایک بڑی طاقت

(۱۵۴) بَابُ حَرْزِ الدُّرِّ وَالنَّخِيلِ (۱۳۸۰) عَنْ جَبْرِ بْنِ قَالٍ رَضِيَ اللَّهُ

جلادی جو سیخ کرتی تھی حمل باب گھروں اور گھوڑوں کے غزوں کو جلا نا ملتا جبر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَثْرَ يَجْنِي مِنْ ذِي الْخُلْصَةِ وَكَانَ يَبِيئَانِي خَتَمَ بَيْتِي كَعَبَةِ

نے مجھ سے فرمایا کیا ذوالخلصہ کا فیصلہ کر کے نہ مجھے راحت نہیں پہنچا سکتے تھے اور وہ بیئہ ختم میں ایک گھم کے تھے جبر کا نام ہے

الْيَمَانِيَّةِ قَالَ فَاَنْطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةً فَارِسٍ مِّنْ أَحْسَنِ كَانُوا أَصْحَابَ

یمانیتھے کما تو میں ڈیرہ سو سو ارسلوں کے ساتھ جوبتیدامس میں سے تھے روانہ ہوا اور وہ تسوار

خَيْلٍ قَالَ وَكُنْتُ لَا أَتْلُبُ عَلَى الْخَيْلِ فَضْرَبَ فِي صَدْرِي حَتْى رَأَيْتُ أَكْرَ

تھے کہا اور میں گھوڑے پر چڑھ کر نہیں بیٹھ سکتا تھا تو آپ نے میرے سینے پر ایسا راقم مارا کہ میں نے آپ کی انگلیوں کا نشان

أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ اللَّهُمَّ تَبِيتُهُ وَأَجْعَلْهُ هَادِيًا فَهَدَى بِنَا وَأَنْطَلَقْتُ إِلَيْهَا

اپنے سینے پر دیکھا اور دعا کی یا اللہ اسے مضبوط کر دے اور اسے ہدایت کرنے والا اور ہدایت دینا والا بنا دے مگر وہ ہاں پہنچ گئے

فَأَسْرَهَا وَحَرَّ قَهْرًا ثُمَّ بَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْبِرُهُ فَقَالَ رَسُولُ

اور اسے تورا اور اسے چلا بھیج دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کو یہ اطلاع دے جسے قاصد نے عرف

جَبْرِ بْنِ قَالٍ أَنَّكَ بَعَثْتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْبِرُهُ فَقَالَ رَسُولُ

کیا اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو جن کے ساتھ بھیجا ہے میں آپ کی طرف نہیں آیا جب تک کہ اس کو اس طرح نہیں چھوڑا کہ وہ گریا وہ خار شق والا

بَابُ حَرْزِ الدُّرِّ وَالنَّخِيلِ (م- ۱۴۰۵) عَنِ ابْنِ عُمَرَ (مكرر- ۱۱۳۰)

اوٹ ہو گیا تو قید اس گھوڑوں اور ان کے گھوڑوں کے پانچ دفعہ برکت کی دعا کی دیکھو حدیث ۱۱۳۰

اس کے بعد حکم ترقی نائل ہوا جس میں دو اکوڑوں کیے مزارا مقرر کر دی گئی انما جزاوا الذین یحاربون اللہ ورسوله والذین یحاربونہ

صلیب سے اور صفحہ ہذا) مگر اس حدیث سے کچھ چیزوں کا لگا جا سکتا ہے تو وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس کے زبان خلق پر رکھ لیا جائے۔ یوں نقص کی اجازت

کی طرح پیشکات سے خالی نہیں۔ اگر جانور موزی ہو تو اس کی قتل کر دینا انسان کی جان کو بچانے کیلئے ضروری ہے خواہ اسی اس نے یا زیدی ہو۔ اور اگر جانور موزی نہیں ہے

کہ بظاہر میان سے معاذم ہوتا ہے تو ہر گز نی کا نہیں شان نبوت سے بعید ہے۔ مگر ہو سکتا ہے کہ یہاں نبی ہو اور بعض کوئی خواب میں ہو۔ مذموم اطلاق دروہانیت ہ

مٹا یعنی کی بجلی ضرورتوں کیلئے گھروں یا بھجور کے درختوں کا جھاننا جائز ہے۔ احادیث بائیں ضرورت کے موقع پر اس کا اجازتات کیا ہے۔ مٹا ذوالخلصۃ۔ ان اشیرتین

کہ ذوالخلصۃ ایک گھر تھا جس میں دوں ختم وغیرہ کا ایک شوربت تھا۔ اور لکھا ہے کہ بعض کے نزدیک یہ زمین وہی ہے جو کعبہ یا نہ کہا جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس

بت خانے کو توڑنے کا حکم دیا خود حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے کیونکہ یہاں کسی لڑائی کا ذکر نہیں۔ اگر یہ لوگ فرشتے تو جنگ

کرنے کے بعد جبر و دہان تک پہنچ سکتے تھے۔ اور یہ حضرت صلعم کی وفات سے دو ماہ پیشتر کا واقعہ بتایا جاتا ہے۔ اس سے ہی حکم ہوتا ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے کیونکہ اس وقت

علاسا رعب مسلمان ہو چکا تھا۔ مسلم ہوتے ہی یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اس بت کو تباہ کرنے سے ڈرتے تھے اور زیادہ آدمی اس لئے ساتھ بیٹھے گئے کہ نکلن ہے یعنی

جلا اشتعال میں آجائیں۔ اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ غیر مذہب کی عبادت گاہوں کو خواہ ان میں بت ہی ہوں تباہ کیا جائے بلکہ ان کے خلاف قرآن کریم میں گریا گھروں اور

یوروں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کا ذکر ہے (الحج - ۳۰) حالانکہ یہ گریا گھروں میں بتوں کی عبادت گاہوں کے تھے اور ان میں حضرت عیسیٰ و مریم کے بت بھی ہوتے تھے۔ ایسا ہی

راہیوں کی کوٹھڑیوں کی حفاظت کا ذکر بھی اس آیت میں ہے۔ حالانکہ یہ لوگ بھی بت اپنے پاس رکھتے تھے۔ خانہ کعبہ کے بت بھی اس وقت توڑے گئے جب اس گھر کی آیت مسلمانوں

کو سن گئی۔ مگر یہاں جبر کیلئے ایک عاقبت بھی لگی کی ہے تاکہ جہاں سے وہ گھرانہ جائیں۔ اور دوسری دعا اس کیلئے یہ بھی لگی ہے کہ وہ ہادی اور صدی ہوں یعنی دوسروں کو

رستہ دکھائیں اور نبوی صبح راہ پر چلنے والے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدی کے لفظ کا عام استعمال بھی ہوتا تھا۔ اور انہوں سے جبر بھی ایک ہدی تھے۔ اور اللہ تعالیٰ

نے ان کے ہاتھ سے ایک روایت لکھی کا کام بھی لیا۔ مگر روایت صرف اس قدر ہے حرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم نخل بنی النضر۔ یہ مصاحف جنگ کی بنا پر تھا

۲

تفسیر صفحہ ۶۷۹
۱۵۴ میں ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
انہیں حکم دیا تھا کہ
بیت اعمال کا دو
والی دہلیوں کے
پاس یعنی مدینہ سے
یا مہر پکا گیا ہے جا
رہی ہیں جو کھانا
نے خود بخود استی
تھی کہ ہاتھ سے
دورہ کا انعام کیا
جائے تو اپنے انیس
فرمایا کہ میان تو شکل
ہے جہاں بیت اعمال
کی وضاحت میں لایا
ہو گیا اور اسکی مشا
کے متعلق لکھنا
۱۵۴ پر انہوں نے
چرواہے کو اس طرح
مارا تھا۔ آپ بظہور
نفس میں انہیں بھی
اس طرح روایا۔ گو

۱۵۵) بَابُ قِتْلِ لِقَائِ الْمَشْرُكِ (۱۳۸۱) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطاً من الأنصار إلى أبي رافع ليقتلوه فأنطلق

رجل منهم فدخل حصنهم قال فدخلت في مريد وأب لهم قال وأغلقوا باب

أحصن ثم إنهم فقدر إجمار لهم فخرجوا يطلبونه فخرجت فيهم فخرج أريهم أنبي

أطلبه معهم فوجدوا إجمار فدخلوا ودخلت وأغلقوا باب الحصن لئلا تؤصروا

ثم رجعت كالمريضة حتى فرغت من صوت فخرجت فخرجت

الويل قلت ما شانك قال لا أدري من دخل علي نصر بني فقلت نوضعت سيفي

في بطنه ثم حملت عليه حتى فرغت العظم ثم خرجت وأنا دهش فالت سلمة

لهم لا نزل منه فوقت فوقت فخرجت إلى أصحابي فقلت ما أنا ببارك

حتى أسمع التاجية فما برحت حتى سمعت لعايا أبي رافع تاجراً أهل الحجاز

قال فسمعت وما بين قلبه حتى أئيدا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه

عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطاً من الأنصار إلى أبي رافع ليقتلوه فأنطلق

رجل منهم فدخل حصنهم قال فدخلت في مريد وأب لهم قال وأغلقوا باب

أحصن ثم إنهم فقدر إجمار لهم فخرجوا يطلبونه فخرجت فيهم فخرج أريهم أنبي

أطلبه معهم فوجدوا إجمار فدخلوا ودخلت وأغلقوا باب الحصن لئلا تؤصروا

ثم رجعت كالمريضة حتى فرغت من صوت فخرجت فخرجت

الويل قلت ما شانك قال لا أدري من دخل علي نصر بني فقلت نوضعت سيفي

في بطنه ثم حملت عليه حتى فرغت العظم ثم خرجت وأنا دهش فالت سلمة

لهم لا نزل منه فوقت فوقت فخرجت إلى أصحابي فقلت ما أنا ببارك

حتى أسمع التاجية فما برحت حتى سمعت لعايا أبي رافع تاجراً أهل الحجاز

قال فسمعت وما بين قلبه حتى أئيدا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه

عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطاً من الأنصار إلى أبي رافع ليقتلوه فأنطلق

رجل منهم فدخل حصنهم قال فدخلت في مريد وأب لهم قال وأغلقوا باب

أحصن ثم إنهم فقدر إجمار لهم فخرجوا يطلبونه فخرجت فيهم فخرج أريهم أنبي

أطلبه معهم فوجدوا إجمار فدخلوا ودخلت وأغلقوا باب الحصن لئلا تؤصروا

ثم رجعت كالمريضة حتى فرغت من صوت فخرجت فخرجت

الويل قلت ما شانك قال لا أدري من دخل علي نصر بني فقلت نوضعت سيفي

في بطنه ثم حملت عليه حتى فرغت العظم ثم خرجت وأنا دهش فالت سلمة

لهم لا نزل منه فوقت فوقت فخرجت إلى أصحابي فقلت ما أنا ببارك

حتى أسمع التاجية فما برحت حتى سمعت لعايا أبي رافع تاجراً أهل الحجاز

قال فسمعت وما بين قلبه حتى أئيدا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه

عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطاً من الأنصار إلى أبي رافع ليقتلوه فأنطلق

رجل منهم فدخل حصنهم قال فدخلت في مريد وأب لهم قال وأغلقوا باب

أحصن ثم إنهم فقدر إجمار لهم فخرجوا يطلبونه فخرجت فيهم فخرج أريهم أنبي

أطلبه معهم فوجدوا إجمار فدخلوا ودخلت وأغلقوا باب الحصن لئلا تؤصروا

ثم رجعت كالمريضة حتى فرغت من صوت فخرجت فخرجت

الويل قلت ما شانك قال لا أدري من دخل علي نصر بني فقلت نوضعت سيفي

في بطنه ثم حملت عليه حتى فرغت العظم ثم خرجت وأنا دهش فالت سلمة

لهم لا نزل منه فوقت فوقت فخرجت إلى أصحابي فقلت ما أنا ببارك

حتى أسمع التاجية فما برحت حتى سمعت لعايا أبي رافع تاجراً أهل الحجاز

قال فسمعت وما بين قلبه حتى أئيدا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه

عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطاً من الأنصار إلى أبي رافع ليقتلوه فأنطلق

رجل منهم فدخل حصنهم قال فدخلت في مريد وأب لهم قال وأغلقوا باب

أحصن ثم إنهم فقدر إجمار لهم فخرجوا يطلبونه فخرجت فيهم فخرج أريهم أنبي

أطلبه معهم فوجدوا إجمار فدخلوا ودخلت وأغلقوا باب الحصن لئلا تؤصروا

علا شأنه جنگ میں
لہذا ان لوگوں کو حضرت
جنگ کے مطابق کام
کرنے پر توجہ دیا
حالات میں یہ جتنے
ہیں کہ اس میں سب کو
پر حملہ کرنا ضروری
ہو جائے تاکہ عامر
حالات میں یہ درست
نہیں ہو تاکہ جنگ
میں بعض مجبوروں
کے وقت ایسا کرنا
پر توجہ دیا
جنس قسم کے ڈاکو
ایسے ہوتے ہیں کہ
ان کی گرفتاری سخت
میں ہی ہو سکتی ہے
اور ایسے حالات میں
وہ بعض وقت قتل
بھی ہو جاتے ہیں۔
ہر تہذیب اور ہر
قانون کو اس قسم کی
مشکلات کا سامنا کرنا
پڑتا ہے۔ یہاں عثمان
باب سے یہ سب سزاوار
نہیں کہ کوئی مشرک
صور یا چوہ تو اسے
جا کر قتل کر دے۔ ہر
مشرک کو جلتے ہیں
بھی قتل کرنا جائز ہیں

Table with 2 columns: Arabic text and its Urdu translation. The text is a continuous narrative from Sahih al-Bukhari, detailing the Prophet's expedition to the Battle of Uhud and the subsequent events, including the capture of the Prophet's wife and the death of the Prophet's uncle.

مسئلہ ابورافع ایک یہودی تھا جس کا نام عبداللہ تھا اور جسے سلام بن ابی الحقیق بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق یہ امر مسلم ہے کہ اس نے غزوہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عداوت کی ایک جگہ کا بھی اور بعض قبیلوں کو آپ کے خلاف اٹھا کر مدینہ پر اس خطہ نامک حملے میں شامل کیا جو غزوہ احزاب کے نام سے موسوم ہے۔ اور جو اس قدر زبردست حملہ تھا کہ اس کی روک تھام آپ کو اور کوئی صورت نظر نہ آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گزند کو دیکھ کر مدینہ میں محصور ہو جائیں۔ اگر یہ حملہ کامیاب ہو جاتا تو ایک مسلمان منتقل بھی زندہ نہ بچتا۔ چنانچہ عینی میں لکھا ہے کہ اس ہتھیار کی وجہ سے ابن اسحق کہتے ہیں کہ انقضی امرا الجنداق والامرینی قریظہ وکان ابورافع من حزب الاحزاب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاذات الغزیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتلہ نادانہم فخرجوا یعنی جب حذقت کا وقت آ گیا تو قرظہ کا واقعہ دیکھا گیا اور ابورافع ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اقوم عرب کو اکٹھا کیا اور اس کا کیا تھا تو فرمایا کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے قتل کی اجازت مانگی تو آپ نے اجازت دیدی سو وہ نکلے۔ اور طقات ابن سعد میں ہے۔ کان ابورافع قد اجلب فی غطفان ومن حولہ من مشرکین العرب رجحل لهم من الجبل للظہم بحرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزلاء الذین ذکرناہم یعنی ابورافع قبیلہ غطفان اور اس کے ارد گرد کے مشرکین عرب کو اکٹھا لایا تھا باقی جو مشرکین

(۴۰۸) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (متكرر - ۱۳۸۲) (۱۵۸) بَابُ الْكُذِّبِ فِي الْحَرْبِ

دیکھو حدیث ۱۳۸۲ باب لڑائی میں غلام بیانی

(۴۰۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (متكرر - ۱۱۹) (۱۵۹) بَابُ الْفَتَكِ بِأَهْلِ الْحَرْبِ (۱۴۱۰)

دیکھو حدیث ۱۱۹ باب جنگ کرنے والوں پر اچانک حملہ

عَنْ جَابِرٍ (متكرر - ۱۱۹) (۱۶۰) بَابُ مَا يُجُوزُ مِنَ الْخُذْلِ لِمَنْ مَخَشِيَ مَعْرَةَ

دیکھو حدیث ۱۱۹ باب اس کے نقاب میں جس سے نقصان کا اندیشہ ہو کہ بدمرد بچاؤ درست ہے

ابو بکر ص ۵۸
آپ کے خط و کتابت
کتابت کروا دو گم
دیا کہ اس کے کتب
و نلے کو گزرتا کر کے
ہمارے سامنے حاضر
کر دو تو اس وقت

حضرت صلعم نے جاننا ان بیوقوف ملکد کل معزق، اس کی حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ تو اس وقت ابھی مسلمانوں کی عرب میں ہی کوئی حیثیت نہ تھی اور صرف
 . یہ کہ چند میل روگا ان کی حکومت تھی اور خود عرب کی حیثیت ایران اور روم کے سلسلے کچھ بھی نہ تھی۔ تو آپ نے جب قیصر و کسریٰ صہیبی ظمیر اشان بادشاہ ہوتے تو مسلمانوں
 کی جنگوں کا ذکر کیا تو یوں بتایا کہ قیصر و کسریٰ تو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر کے انہیں تباہ کرنا چاہتے تھے مگر لڑائی تو دھوکا ہے وہ ان کی حالت کا موجب ہو چکے تھے۔
 اور جب ایک دفعہ لڑائی میں بچا دیکھا تو پھر اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ عینیں میں بھی بچے تھے۔ ان میں سے چند ذمہ مارا دھا دھا دھا دھا دھا دھا دھا دھا
 جو اس میں ایک دفعہ دھوکا لگا گیا یعنی شکست کھا گیا وہ بہا و اور بلاک ہو گیا، اور پھر اس کا قبالی باپ نہیں آتا۔ اور قیصر سے بھنے کی تائید یا سہرہ کے قول سے ہوتی ہے
 جو عین میں منقول ہے اور اذ نخندع اھلنا یعنی منہ، اس سے یہ کہ لڑائی لڑائی کرنا تو ان کو دھوکا دیتی ہے اور ایسا دور توں اہل کیا ہے ای یعنی با نظر و الخلقہ
 لا یعنی ہم۔ ان کو فتح اور غلبہ کی آرزو دلاتی ہے پھر اسے پرا نہیں کرتی۔ اس کے یہ بھنے کا نام کہا گیا کہ انہیں صلعم لڑائی میں دھوکا دینے کا جو کار کو بیان فرما رہے ہیں۔
 سخت غمگین ہے۔ یہاں اس کا مرقو سے اس کا ذکر یہاں تو لڑائی کے دھوکوں کا سوال ہے کہ وہ خود ایک دھوکا یعنی دھوکا دینے والی چیز ہے۔ انسان بھٹتا ہے
 یکھو جو جاتا ہے کچھ۔ یہ بالکل ایک الگ امر ہے کہ لڑائی میں جالیوں میں جالیوں میں دشمن بڑا کر کے کیا جاتا ہے کیا کچھ جاتا ہے۔ یہ سب لڑائی کی ضروریات ہیں۔ مگر اسلامی
 جنگ اس قدر ارفع اور اعلیٰ چیز ہے کہ یہاں دنیا کی جنگوں کی طرح اخلاق کو توڑ گھسٹنے کا نہیں، اخلاقی کو سنوارنے کا سامان ہے۔ جن کی خاطر لڑائی کی جاتی ہے یعنی ایک انسان
 حق کی حمایت میں ایک بہاؤ کی طرح مضبوط ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے اور یہی مسک علی اخلاق کا سرچشمہ ہے۔ یہاں جھوٹ فریب کا کام نہیں۔ قیصر سے جھوٹ فریب کا وقت وہ
 ہوتا ہے جب صلعم کا وقت آئے۔ باہم گفتگو ہو چکے وہ پیمان کا معاملہ ہو۔ اس میں جھوٹ بول کر دشمن کو دھوکا دیا جائے۔ اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا لیکن اگر اٹھائے جنگ میں
 یوں کیا جائے کہ ایک طرف سے حملہ فرما کر دوسرے کو درمقام پر بدمرد متاثر کرے تو اس کا نام دھوکا اور فریب نہیں۔ بہر حال مسلمین کے لیے یہ دیکھنا
 نہیں اس میں لڑائی کے دھوکوں کا ذکر ہے۔ کسریٰ مسلمانوں سے لڑائی کر کے ہلاک ہو جائے گا، اور پھر اس کا اقبال عود نہ کرے گا یہی حال قیصر کا ہو گا کیونکہ لڑائی تو ایک دھوکا
 ہے جو اس میں ایک دفعہ گر گیا خواہ کتنی بھی آرزو میں اس کی میں پھر فتح اور غلبہ حاصل کر لیں یہ ہمیں وہ الٹیکام نہیں یہ حدیث لفظ کسریٰ کے ان واقعات پر صادق آتی ہے جو
 حضرت عمرو پر حضرت عثمان کے زمانے میں پیش آئے (صحیح بخاری ۱۴۰۸) میں مرت اس قدر سے مسلمین صلعم کے لیے لڑنے کے لیے اور ۱۴۰۸ میں سے قال النبی
 صلعم لہرب خذ عہ و غلظہ کذب بہت دینے یعنی اس استقبال جوابت یہاں تک کہ کوئی امر خلاف واقعہ نہ ہو۔ یہاں جو صلعم تو اس پر لڑنے کے لیے بول دیا گیا ہے ہاں کہ
 جھوٹ میں ارادہ ضروری ہے۔ اس عنوان کے ماتحت جو حدیث لائی گئی ہے وہ کعب بن اشرف کے قتل سے تعلق رکھتی ہے۔ اور اس میں محمد بن مسلم زمانہ کعب کی کعب سے
 حسب ذیل گفتگو کا ذکر ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سے ہم تکلیفوں میں بغض گئے ہیں اور وہ ہم سے صدقات مانگتے ہیں۔ ہم نے آپ کی پیروی کی ہے اور ہم اس بات کو پسند نہیں
 کرتے کہ آپ کا ساتھ چھوڑیں یہاں تک کہ دیکھیں کہ آپ کے امر کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اب ان سارے بیانات میں کوئی امر خلاف واقعہ نہیں۔ یہ درست ہے کہ جن لوگوں نے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ان کو سخت تکلیفیں اٹھانی پڑیں۔ یہ بھی درست ہے کہ آپ صدقات یا زکوٰۃ کا ہم بھی دیتے تھے۔ یہ بھی درست ہے کہ آپ کے ساتھ جانتے تھے کہ آپ کا
 امر کا انجام اچھا ہو گا تو ان میں سے کوئی امر بھی خلاف واقعہ نہیں کعب بن اشرف خود ان باتوں کو جانتا تھا۔ یہی بات ابن عمر نے فتح ابوری میں بھی ہے والذی ینظہر انہ
 لدیقہ فیما قالوا بشی من الکذب۔ ظاہر ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا اس میں جھوٹ کوئی نہیں۔ یہی عنوان کا مطلب اگر کچھ ہو سکتا ہے تو یہی ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بولنا لڑائی میں بھی
 جائز نہیں۔ ہاں کسی صحیح امر کو ایک خاص انداز پر بیان کر دینا منع نہیں۔ مگر مکرر یا متکرر ہے۔ یہاں صرف اس قدر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعب بن
 الاشرف فاذن ان ذل علیہ و رسولہ قال محمد بن مسلمۃ الخب ان اکتلہ یا رسول اللہ قال نعم (یہ گلوہ وہاں نہیں ہے) قال فانہ فقال ان هذا یعنی النبی صلی اللہ علیہ
 وسلم قد عانا وانا لانا الصدقة قال وایضا اللہ قال فانہ امتعناہ فذکرہ ان هذا حق تنظہر انی ما یصیر امرہ قال فذل یزل یکفہ حتی استمن من خلفہ۔ دیکھو ۱۴۰۸

کہ جاتا ہے کہ ان صحیحانے لفظ ماجوز من الاحقیال والحدیث کے معنی ہے جلتے ہیں مگر فریب سے بچ سکتے ہیں، یہ فریب کا نام نہیں ہے کہ جس میں جھوٹ کر لیا قابل لغت نظر نہیں آئے

<p>(۱۴۱) ۱۴۱۱ (۱۶۱) ۱۴۱۱ (۱۶۱) بَابُ الرَّجْزِ فِي الْحَرْبِ وَرَفْعُ</p>	<p>۱۴۱۱ میں مختصر ہے۔ ۱۴۱۱۔۱۴۱۱</p>
<p>دیکھو حدیث ۱۴۱۵۔ باب الرافی میں شعر پڑھنا اور خندق</p>	<p>۱۴۱۱۔۱۴۱۱</p>
<p>الصَّوْتِ فِي حُفْرِ الْخَنْدَقِ فِيهِ سَهْلٌ وَأَسْرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ</p>	<p>رسول اللہ وبعہ</p>
<p>کھودنے وقت آواز بلند کرنا اس بارے میں سہل اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور یزید</p>	<p>ابن صیاد وحدث</p>
<p>يَزِيدٌ عَنِ سَلَمَةَ (م- ۱۴۱۲) عَنِ الْأَبْرَاءِ (متكرر- ۱۳۰۹) (۱۶۲) بَابُ مَنْ</p>	<p>بہ نہ بخیل فلما</p>
<p>سلسلے سے روایت کرتا ہے۔ دیکھو حدیث ۱۳۰۹۔ باب جو</p>	<p>دخل عليه رسول</p>
<p>لَا يَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ (م- ۱۴۱۳) عَنِ جَرِيرٍ (متكرر- ۱۳۸۰) (۱۶۳) بَابُ</p>	<p>اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انخل فطلق</p>
<p>گھڑیوں پر چڑھ کر بیٹھنے کے دیکھو حدیث ۱۳۸۰۔ باب</p>	<p>میتقی بجد وخر انخل</p>
<p>دَوَاءِ الْجُرْحِ بِالْحِرَاقِ الْخَصِيرِ وَغَسْلِ الْمُرَاةِ عَنِ أَيِّمِهَا الدَّمُ عَنْ وَجْهِهِ وَ</p>	<p>داین صیاد نے</p>
<p>چٹی کی جلا کر خمر کا علاج کرنا اور عورت کا اپنے باپ کے مزے سے خون دھونا اور</p>	<p>قطع لفة لیہا</p>
<p>حَمَلِ الْمَاءِ فِي التَّرْبِيسِ (م- ۱۴۱۴) عَنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (متكرر- ۱۹۴)</p>	<p>رمرة فوات ام</p>
<p>ڈھال میں پانی بھر کر لانا دیکھو حدیث ۱۹۴۔</p>	<p>ابن صیاد ورسول</p>
<p>(۱۶۴) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَازُعِ وَالْإِخْتِلَافِ فِي الْحَرْبِ وَعَقُوبَةُ مَنْ عَصَى</p>	<p>اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا</p>
<p>باب روافی میں جو جھگڑانا اور اختلاف کرنا ناپسندیدہ ہے اور اس کی سزا اور اسے افرکی</p>	<p>صدان هذا العشر</p>
<p>رَأْمًا مَهْ ذَقَّالَ اللَّهِ وَلَا تَنْزَعُوا أَوْتَذْهَبَ رِيحُكُمْ قَالَ قِتَادَةُ الرَّبْرَحِ الْحَرْبِ</p>	<p>نوف بن صیاد</p>
<p>نہ فرمائی کرے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور آپس میں جھگڑنا نہ کرو ورنہ نہایت ہار دے گا اور تم سے غلبہ جائے تو بیگناہ نہ کرے یہ کہ بچ اور اسے ہلا</p>	<p>فقال رسول الله</p>
<p>عَنِ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَادَا وَآرَا</p>	<p>صلی اللہ علیہ وسلم</p>
<p>ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اور آبرا</p>	<p>نومتر کہتے ہیں</p>
<p>مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ قَالَ يَسِّرُوا وَلَا تَعْسرُوا لَا تَبْشِرُوا وَلَا تَنْفِرُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا</p>	<p>یہاں صرف اس قدر ذکر ہے کہ آنحضرت</p>
<p>موسیٰ کو یمن کی طرف بھیجا فرمایا آسانی کرنا اور سستی نہ کرنا اور لوگوں کو خوشی کی خبر نہ دینا اور نعت نہ دینا اور اتفاق رکھنا اور اختلاف نہ کرنا</p>	<p>جب ابن صیاد کو</p>

دیکھنے سے دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ کیا گفتگو رہے۔ اس میں مکہ فریب کیا ہے؛ یہ ہمارے علماء ہی جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے سے اچھے افعال میں ان کو مکہ فریب کس طرح نظر آجاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر چھوٹ سے مکر سے فریب بہت بلند تھی۔ نبوت سے قبل چالیس سال کے عرصہ میں کسی جھوٹ کو آپ کی طرف تو نہ منسوب نہ کرتے مگر مجاہد علماء نے کہا کہ روایت کرتے ہوئے بعد غزوہ بدر میں ذلک دنیا کے سب سے بڑے راستہ گزار انسان کی طرف جھوٹ منسوب کرنے بیٹھے گئے اور اس کو خدمت اسلام کا کام خیال کر لیا۔ یہ سلسلے کی روایت ۱۹۰۰ء پر آتی ہے اور اس کی روایت ۱۳۰۹ پر گذر چکی اور ۱۴۹۰ء و ۱۴۹۱ء پر پھر بھی اور غزوہ تبوک میں ۱۹۰۱ء و ۱۹۰۲ء پر بھی آئیگی۔ اور سلم بن اکوع کی روایت جھگڑا کر آئے گی، یہ سلسلے مکرر روایت میں ہے۔

۱۳۰۹ مضمون تقریباً انہی الفاظ میں دوہرایا گیا ہے۔ البتہ یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ لفظ رائد ہیں۔ دوکان رجلا کثیر الشعر وھو یرجع جز عبد اللہ اللہ۔ آپ کے بدن پر بال زیادہ تھے اور آپ عبد اللہ بن ربیع کے شعر پڑھتے تھے۔ اور یہاں آخر یہ لفظ میں در فہم صوتمہ ان اشعار کو بلند آواز سے پڑھ رہے تھے۔ یہاں بیٹے مہر کے اول میں انھم کا لفظ زائمت در بیٹے مہر میں ان کا ولی کی جگہ پر ان کے بعد منکر زائمت کی پیش سے آئی ہے۔ قال ماجھی النبی صلعم ہذا اہمیت ولا رائی الا تیم فصحی ولقد شکوت انیہ اتی بالثب علی الخیل فغضب بہدہ کا فی صدی وحال اللهم ثبته واجعلہ ہادیا مہدیا۔ جر بے نے یہ شکایت کی کہ میں گھوڑے پر چڑھ کر نہیں بیٹھ سکتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعا کی۔

۱۳۱۰ مضمون ادنیٰ تفریفی سے دوہرایا گیا ہے۔ جنگ امیر میں آپ کے زخموں کو چٹائی جلا کر اس سے بھرنے کا ذکر ہے۔ اور حضرت علیؓ کے احوال میں پانی لانا اور حضرت فاطمہؓ کے آپ کے خون کو دھونے کا ذکر ہے۔ یہ سلسلے اختلاف اور جھگڑے کی ممانعت تو عام ہے۔ بیٹھو مہنہ جنگ۔ مگر جنگ کا ذکر انھو صیت سے اس لئے کیا کہ روافی کے وقت اگر اختلاف اور جھگڑا شروع ہو جائے تو دشمن نورا کو میاب ہو جائے گا اور قوم برباد ہو جائے گی۔ جس کا یہ کچھ علاج نہیں ہے۔ یہ حدیث ۱۳۰۹ میں ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے ایک حصہ کا حکم ابو موسیٰ اشعری اور موسیٰ کا معاذ بن جبل کو مقرر کیا۔ اور دونوں سے فرمایا کہ وہاں کے لوگوں سے نرمی کا سلوک کریں۔ ان پر سختی نہ کریں اور ان کو اپنے سے متفرق نہ کریں۔ اور آپس میں بھی اتفاق رکھیں۔ گویا حکومت کی بنیاد بھی نرمی اور محبت پر رکھی ہے۔

۱۳۸۷ عن البراء بن عازب یحدث قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال

برادین عازب سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

یوم احد وكانوا خمسين رجلا عبد الله بن جبیر فقال ان رأيتونا نخطفنا الطير

احد کے دن پچاس پھیل آدمیوں پر عبد اللہ بن جبیر کو انگریز کیا اور فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ ہم کو برباد نہ کرے جارہے ہیں

فلا تبحروا امكانكم هذا حتى ارسل اليكم وان رأيتونا هزمنا القوم و

تو یہی بنی اس جگہ سے نہ بڑھو میان لگ کر میں تمہیں کھلا بیچوں اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے دشمنوں کو شکست دہی اور

أو طأناهم فلا تبحروا حتى ارسل اليكم فنهزموهم قال فانا والله رأيت

انہیں بائیں کر دیا تو یہی نہ بڑھو میان لگ کر میں تمہیں کھلا بیچوں پھر مسلمانوں نے ان دشمنوں کو شکست دی براکت میں خدا کی قسم میں نے دشمن

النساء يشهدون قد بدت خلاخلهن وأسوفهن رافعات ثيابهن فقال

کی اور توں کو بھاگتے ہوئے دیکھا ان کی پانہ میں اور پینڈیاں کھلی ہوئی تھیں اور انہوں نے اپنے کپڑے اٹھائے ہوئے تھے عبد اللہ

أصحاب عبد الله بن جبیر الغزمية أي قوم الغزمية ظهر أصحابكم فما

بن جبیر کے ساتھیوں نے کہا غزیت کو پہنچو اے لوگو غزیت تم سے ساتھی غلاب کے تو تم کس

تنتظرون فقال عبد الله بن جبیر أنسيت ما قال لكم رسول الله صلى الله

بات کا انتظار کیا رہتا ہے کہ جو عبد اللہ بن جبیر نے انہیں کہا کیا تم وہ بھول گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے فرمایا تھا

عليه وسلم قالوا والله لئن آتينا الناس فلنصيبن من الغزمية فلما أتوهم صرفت

انہوں نے دیکھا وہاں آگ لگا رہی ہے تو یہ وہ حالت ہے جو ان دشمنوں میں سے ہے، جب وہ لوگوں کے پاس آئے تو

ذجوهم فقبلوا منهم فزمن فذاك إذ يدعوهم الرسول في آخرهم فلم يسمع

ان کے پیچھے روٹتے دکھاتے ہوئے چلا آئے تو یہ وہ حالت ہے جو ان دشمنوں میں سے ہے، جہاں رسول انہیں سے بلا رہا تھا اور نبی صلی اللہ

النبي صلى الله عليه وسلم غير اثنى عشر رجلا فاصابوا مائة سبعين وكان

علیہ وسلم کے ساتھ صرف بارہ آدمی رہ گئے اور کار فرماؤں نے ہم میں سے ستر آدمی شہید کیے اور نبی

النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر أربعين

صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے بدر کے دن مشرکوں کے ایک سو چالیس

ومائة سبعين أسيرا وسبعين قتيلا فقال أبو سفيان أفي القوم عهدت

آدیسوں کا نقصان کیا تھا ستر قیدی کیا تھا اور ستر قتل ہوئے تھے تب ابو سفیان نے میں باریہ آواز دی کیا تم لوگوں میں محمد صلی اللہ

مترأت فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشيروه ثم قال أفي القوم

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دینے سے روکا پھر میں باریہ آواز دی

ابن أربى لحافة ثلاث مرات ثم قال أفي القوم ابن الخطاب ثلاث مرات ثم

کیا تم لوگوں میں ابولہی دکھا دیا ہے پھر میں مرتبہ کیا کیا تم لوگوں میں خطاب کا بیٹا ہے

رجع إلى أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا فما ملك عمر نفسه فقال لئن لم يبت الله

اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹا اور کہا یہ لوگ تو قتل ہو گئے تو حضرت عمر نے نہ رہا کیا اور کہا کہ خدا کے دشمن خدا کی قسم

ابن اسی سے عربوں باب ہے ان لوگوں اپنے افسر سے بھی اختلاف کیا اور یہاں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نافرمانی کی اور اس نافرمانی کی وجہ دشمنی لایج تھا کہ ہم بھی مال غنیمت سے حصہ لیں۔ حالانکہ یہاں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تاکید کی تھی کہ وہ ہاتھ نہ چڑھا کر مسلمانوں کو قتل نہ کرے نہ غنیمت نہ چینی جگہ سے نہ ہٹا کر جی مودہ تھا جس کو خالی دیکھ کر خال دالنے اپنے سواروں کے ساتھ تعاقب کرتی ہوئی مسلمان فوج کے عقب سے حمل کیا اور ایک تو دشمن بیٹھ کی طرف سے آیا۔ دوسرے وہ تعاقب کی وجہ سے تتر بتر ہو گئے تھے اور حضرت دشمن کی بھاگی ہوئی فوج بھی مسلمان فوج کو زخمی دیکھ کر پھر چمکی اور مسلمانوں کو دوطرف سے حمل کیا جواب دینا مشکل ہو گیا۔ یہ حدیث میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کا ذکر ہے جب عقب سے پہلے میل قدم ہوا تو سب اسلامی فوج انتشار کی حالت میں تھی۔ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ دوسری احادیث میں ذکر آتا ہے یہ آواز دی شروع کی الی عباد اللہ انار رسول اللہ جس آواز کو سن کر دشمن بھی اس بوٹھ کی طرف بڑھا لگا مسلمان بھی ادھر توجہ ہونے اور آخر لڑنے لڑتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک دشمنی حفاظت کی جگہ پر لے گئے تو آپ کو خود سخت زخم لگے۔ یہاں مسلمانوں نے انھیں صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقہ بنا لیا۔ اور دشمنوں نے دیکھا کیا کہ اب وہ اسلامی فوج کو مزید نقصان پہنچانے پر قادر نہیں تو وہ گھرواپس لوٹے۔

يَا عِدَّةَ اللَّهِ أَيُّهَا الَّذِينَ عَدَدْتُمْ لِحَيَاتِكُمْ قَدْ بَعِيَ لَكُمْ مَا يَسُوءُكُمْ قَالَ يَوْمَ
 تَجُوهْتُ كَتَبْتُ بِأَشْرِكِ نَسَمِ مَنْ كَاتَبْتَهُ لِي كُنْ كَرَامٍ يَا دَهْ سَبَّكَ سَبَّ زَنْدِهِ مِنْ مَلَأَ أَوْ رَأَى تَبْرَسَ لَيْسَ دَهْ بَكَمَ بَاقِي هُوَ جَوْنُ كَمَ مِنْ ثَابِتِ الْإِبْر
 بِمُؤَدِّهِ بِدِرِّ وَ الْحَرْبُ بِسَجَالِ أَتَكُمُ سَتَجِدُونِي فِي لِقَائِهِمْ مِثْلَهُ لَمْ أَمْرِيهَا وَلَمْ سُورِي
 سفیان نے کہا یہ دن بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لوائی ڈول کی طرح ہے تو اپنے لوگوں میں مثلاً ہانگے ملا جس کا حکم میں نے نہیں دیا لیکن میں نے اسے برا بھی
 ثُمَّ أَخَذَ يَرْجُزُ أَعْلَى هَبْلٍ أَعْلَى هَبْلٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّبُّ يَجْبُو أَلَهُ
 نہیں سمجھا پھر یہ مصرعہ پڑھنے کا ہبل بند ہوا جھیل بند ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس کا جواب نہیں دیتے
 قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَقُولُ قَالَ تَقُولُوا اللَّهُ أَعْلَى وَأَجَلَ قَالَ إِنْ كُنَّا الْعَرَبِيُّ وَلَا
 عرض کیا یا رسول اللہ کیا جواب دیں فرمایا کہ اللہ سے بندہ بڑتر ہے ابو سفیان نے کہا ہم راہ رویتا عزی ہے اور تمہارا کوئی
 عَرَبِيٌّ لَكُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَيْتُمْ جَبِيْبُو أَلَهُ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا
 عزی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس کا جواب نہیں دیتے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جواب دیں
 نَقُولُ قَالَ تَقُولُوا اللَّهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ (۱۶۵) بَابُ إِذَا فَرَسَ عَوْرَا لِيْلِيلُ
 فرمایا کہ اللہ ہمارا مولیٰ (مدگار) ہے اور تمہارا مولیٰ کوئی نہیں باب جب رات کا اندیشہ پیدا ہو جائے
 (۱۶۵-۱۶۶) عَنْ أَنَسٍ (مُتَكَوِّرًا - ۱۲۳۱) بَابُ مَنْ رَأَى الْعَدُوَّ وَفَنَادَى بِأَعْيُنِهِ
 دیکھو حدیث ۱۲۳۱ باب جو دشمن کو دیکھ کر بلند آواز سے
 صَوْتَهُ يَا صَبَاحَا حَتَّى يَسْمَعَ النَّاسُ (۱۶۸) عَنْ سَلْمَةَ قَالَ خَرَجْتُ مِنْ
 یا صبا جا ہو رو کو پہنچو پکار سے تاکہ لوگوں کو سنا سکے سلمہ بن اکوع سے روایت ہے کہ میں روہنے سے
 الْمَدِيْنَةَ ذَاهِيًا نَحْوَ الْغَايَةِ حَتَّى إِذْ أَنْتَ بِثَنِيَّةِ الْغَايَةِ لَقِيْنِي غُلَامٌ لِعَبْدِ
 نکل کر غائبگی طرقت جا رہا تھا جب میں غائبگی لگائی پر پہنچا تو مجھے عبد الرحمن بن عوف کا غلام ملا
 الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قُلْتُ وَبِحَيْكُ مَا يَكُ قَالَ أَخَذْتُ لِقَاعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 میں نے کہا اسے تجھے کیا ہوا اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ والی اونٹنیاں پڑی گئیں
 وَسَلَّمَ قُلْتُ مَنْ أَخَذَهَا قَالَ غَطْفَانٌ وَفَزَارَةٌ فَصُرَخْتُ ثَلَاثَ صُرَخَاتٍ أَسْمَعَتْ
 میں نے کہا کون سے گیا کہا غطفان اور فزارہ کے لوگ تو میں نے تین چغیریں ماریں یا صبا جا یا صبا جا (مد کو پہنچو)
 مَا بَيْنَ رَأْيَيْهَا يَا صَبَاحَا يَا صَبَاحَا ثُمَّ أَنْدَفَعْتُ حَتَّى الْقَاهِمِ وَقَدْ أَخَذَهَا
 روہنے کے دونوں پتھر سے زک کے درمیان والوں کو سنا گیا پھر میں روڑا بیان تک کرانے جا ملا ادرودہ اونٹنیاں پکڑے ہوئے
 فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَقُولُ أَنَا ابْنُ الْكُوْعِ وَالْيَوْمَ يَوْمًا الرُّضْعَةُ فَاسْتَنْقَذْتُهَا
 (جانیے تھے) میں ان کو تیرتا رہا جاتا تھا اور سنا جاتا تھا میں ان کو کھانسیوں اور آج کا دن پاجیس کی ذلت کا دن ہے جس میں غطفان و ثنیان ان سے چھڑا
 مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يُشْرَبُوا فَأَقْبَلْتُ بِهَا أَسَوْفَهَا فَلَقِيْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 میں پہلے اس سے کہ وہ پانی پیں میں انہیں ہانکتا ہوا رہا تھا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْقَوْمَ عَطِشُوا وَإِنِّي أَعْجَلْتُهُمْ أَنْ يُشْرَبُوا سَقَيْتُهُمْ
 میں نے عرض کیا یا رسول اللہ لوگ پیاسے ہیں اور میں نے جلدی کر کے انہیں پانی پیئے کا موقع نہیں دیا
 فَأَبْعَثْنِي إِيَّاهُمْ فَقَالَ يَا ابْنَ الْكُوْعِ مَلَكْتُ فَارْتَجِعْ إِنَّ الْقَوْمَ يَقْرُونَ
 آج کے پیچھے ورتے بھیج دیں فرمایا ابن اکوع تم کا پیاس ہو گئے اب رہنے دو ان لوگوں کی اب اپنی قوم میں

مجلس وقت تک
 ابو سفیان کا منہ پھینکا
 اس کی ذات پر تھما
 یا آپ کے جھیل اللہ
 صحابہ حضرت ابوبکر
 اور حضرت عمر پر آپ
 نے جواب سے روکا
 جو نبی اس نے نہیں
 اور عزی کی جیت پکڑا
 گویا یہ ظاہر کیا کہ یہ
 بھی کچھ شے میں تو آپ
 نے جواب دیتے کا
 ارشاد فرمایا حضرت
 عزی پہلے رسول اللہ
 صلوات کے ارشاد کی
 تمہیں میں خاموش رہتا
 لیکن جب ابو سفیان
 نے لوگوں کو یہ دیکھ
 دیا چاہا پانہ گویا یہ
 شہید ہو گئے تو حضرت
 عمر نے اس کی تردید کی
 ہلکا مثلاً یہ تھا کہ لفظ
 کی تاک کاں وغیرہ
 کاٹ دیتے تھے یا
 پیل پھاڑ دیتے
 ایک دشمنی حرکت
 تھی جسے اسلام نے
 جائز نہیں رکھا
 ہلکا یہ حدیث بت
 دیکھ کر دیکھی ہے
 بیان مفصل آتی ہے
 کان و رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم
 احسن الامم اجد
 الناس ائحہ الناس
 قال دون فزاع اهل
 المعانيه ليله سمعا
 صونا قال تعلقاهم
 النبي صم على نوس لابي طلحه عزي هوم تعلقا سيفه فقال له ترا عالم ترا عوا تعلقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده نكع بخرا عني الفرس +

النبي صم على نوس لابي طلحه عزي هوم تعلقا سيفه فقال له ترا عالم ترا عوا تعلقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده نكع بخرا عني الفرس +

رَبِّي قَوْمِهِمْ (۱۶۷) بَابُ مَنْ قَالَ خُدْهَا وَأَنَا ابْنُ فُلَانٍ وَقَالَ سَلِمَةٌ خُدْهَا
نہانی ہو رہی ہے۔ باب جو رقباہ کے وقت کے یہ سے اور میں فلاں کا بیٹا ہوں اور سلمہ نے کہا یہ سے

وَأَنَا ابْنُ الْأَكُوْبَرِ (م- ۱۴۱۶) عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (۱۶۸) بَابُ إِذَا
اور میں اکوٹ کا بیٹا ہوں۔ دیکھو حدیث ۱۳۲۲

نَزَلَ الْعَدُوُّ عَلَى حَكِيمِ رَجُلٍ (۱۳۸۶) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ
دشمن کسی ٹاٹ کے فیصلہ پر راضی ہو کر رقباہ سے نکل آئیں ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ جب بنو قریظہ اچھلے میں گھوڑے

بَنُو قَرْيِظَةَ عَلَى حَكْمِ سَعْدِ بْنِ مَعَاذٍ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ
تھے سعد بن معاذ کے فیصلہ پر راضی ہو کر نکل آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کو بلا بھیجا وہ آپ کے

قَرِيْبًا مِنْهُ فَجَاءَ عَلَى جَمَارٍ فَلَمَّا دَانِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمُوا إِلَيَّ
قریب ہی تھے وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے جب قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سردار کے

سَيِّدٍ كَذَّبْتُمْ فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَؤُلَاءِ نَزَلُوا
لئے گھڑے ہو جاؤ وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے آپ نے ان سے فرمایا یہ لوگ تمہارے فیصلہ پر

عَلَى حَكْمِكَ قَالَ فَرَبِّي أَحْكُمُ أَنْ تَقْتُلَ الْمُقَاتِلَةَ وَأَنْ تُسَبِّي الدُّرَيْبَةَ قَالَ
راضی ہو کر رقباہ سے نکل آئے ہیں سعد نے کہا میں فیصلہ کرتا ہوں کہ لو تیرے قتل کئے جائیں اور نیچے قیدی بنائے جائیں فرمایا

لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ (۱۶۹) بَابُ قِتْلِ الْأَسِيرِ وَقِتْلِ الصَّبْرِ
تم نے ان کے متعلق اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ دیا۔ باب قیدی کا قتل کرنا اور باندھ کر قتل کرنا۔

(م- ۱۴۱۶) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متكرر- ۹۳۳) (۱۶۰) بَابُ هَلْ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ
دیکھو حدیث ۹۳۳ باب انسان کا اپنے تئیں قیدی ہونے سے پہلے

وَمَنْ لَمْ يَسْتَأْذِنْ سَرَدَمْنُ زَكَرَ رُكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْقِتْلِ (۱۳۸۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ
جو الکر دیا اور جراثے آپ کو جو الکر کے اور جو قتل کیا جائیگے وقت دو رکعت بڑھے ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

کتاب المغازی میں اس حدیث کو غرض ذات القریظہ میں لائے ہیں ذی قرد ایک جگہ کا نام ہے وہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوڑھالی اور ٹھیکان چڑھی تھیں ابن سعد کی روایت کے مطابق انکی حداد میں تئیں قبیلہ غطفان اور ذرہ اور نے ڈال دیے اور ابن ابی ذرہ اور اس کی بیوی تھی ابن ابی ذرہ کو قتل کر دیا اور بیوی کو قید کر لیا اور غطفان کو لے گئے۔ بسمر بن کوڑے کا یا صباہا پکارنے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کچھ فوج نیکان کے کچھے روانہ

ہوئے سلمہ کی روایت میں ہے کہ سلمہ نے ان کو بھگایا اور بھاگتے ہوئے انوں نے تیس چادریں اور تیس برچھیاں پھینک دیں۔ اس کا نام غزوہ ذی قرد ہے۔ اور باب غزوہ ذی قرد میں ہے کہ یہ خبر سے تین دن پہلے تھا۔ رضعہ۔ راضرہ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں نالاق۔ الیوم یوم الرضعہ کے معنی ہیں کہ آج نالاقوں کی طاقت کا دن ہے کہتے ہیں کہ ایک شفق کو غوس تھا جب اس کی اوباشی کے دودھ دوپے کا وقت آتا تو وہ اس کی چھاتی پر نہ نگا کر سارا پی لیتا۔ اور برق میں اس لئے نہ وقتاً کہ پروسی دوسے کی آواز سن کر دودھ نہ مانگیں۔ اسی سے یہ محاورہ آیا گیا ہے۔ ایتھے سماعت سے بے سہولت اور آسانی کے مطلب یہ ہے کہ جب تم کا پیاب ہوگے تو تیری کرنا چاہئے۔ اپنی قوم میں ان کی نہانی سے یہ مطلب ہے کہ وہ اپنی قوم غطفان میں پہنچ گئے۔ سلمہ یہ اور اس قسم کے اور کھوں سے اپنی شجاعت کا اظہار اور دشمن کو مرعوب کرنا مطلب ہونا ہے۔ حدیث الباب میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین میں مقابلہ کے وقت یوں فرماتے تھے انا النبی کا کذب انا ابن عبدالمطلب میں نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں۔ اور میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔ سلمہ یہاں روایت سی قدر مختصر ہے۔ قال سال رجل البراء فقال یا ابا حمزہ اولیئمہ یوم حنین قال البراء وانا اصغرہ اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہ یول یومئذ کان ابو سعین بن الحرث اخذ العنان بغلته فلما خشيۃ المشرکون نزل یجعل یقول انا النبی کا کذب انا ابن عبدالمطلب قال ضماری من اتاس یومئذ اشد منه۔ مملکان تمام جنگوں کا ذکر کتاب المغازی میں آتا ہے۔ بنو قریظہ نے مسلمانوں سے جو وعدہ کیا تھا جنگ اجراء میں اسے توڑ کر انوں نے مسلمانوں کے خلاف مشرکین کو بلا دی۔ جنگ اجراء کے واقع پر کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کی وہ کسی دن تک محصور رہے۔ جب تنگ آئے تو سعد کو ثالث مان کر قلعوں سے نکل آئے اور تمھارا ڈال دیئے سعد کا فیصلہ تورت کے مطابق تھا۔ دیکھو اشتہاء ۱۳۲۲ اور ۱۳۲۳ اسی لئے نبی کریم صلعم نے فرمایا کہ سعد کا فیصلہ خدا کے حکم کے مطابق ہے۔ کیونکہ تورت میں بیوی کیلئے بھی خدا کا حکم تھا۔ وہ حضرت سعد نے جو فیصلہ بنو قریظہ پر دے کے بارے میں کیا تھا وہ تورات کے حکم کے مطابق تھا۔ قیدی کا قتل کرنا درست نہیں۔ اور نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قیدی کو جگنی قیدی ہونے کی وجہ سے قتل کیا ہے اور نہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ اور حدیث الباب میں جو ابن مغل کے قتل کا ذکر آتا ہے تو اسے قصاص کے طور سے قتل کرنے کا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کیونکہ اس نے ایک مسلمان غلام کو قتل کر دیا تھا۔ دیکھو ۹۳۶ پر زوٹ۔ قتل صبریہ ہے کہ کسی کو باندھ کر مار دیا جائے۔ یہ درست ہے۔ اور انسر یا حکم کی رائے پر اس کا انحصار ہے۔ میان ۹۳۷ کے ہی الفاظ ہیں۔

عاصم بن ثابٹ کی روایت
 کے مطابق ابن کا
 امیر مرتضیٰ بن ابی شریح
 تھا کہ اب الغازی
 میں اس حدیث کو
 باب غزوة الرجیع
 میں لائے ہیں اور
 غزوة الرجیع اسی
 دستے کے بھیجے
 اور ان کے شہید ہونے
 کا نام ہے۔ ایک
 روایت میں ہے کہ
 عاصم بن ثابٹ
 عاصم بن عمر کے
 ناموں تھے۔ ایک
 روایت میں آتا ہے
 کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے ان
 کو تشریح کے حالت
 میں علیہ وسلم نے کیسے
 بھیجا تھا
 لعل ان کافروں
 سے بھاگ کر گئے
 سے اس لئے لگا
 کیا کہ وہ دھوکہ
 دے کر ان کو گرفتار
 کرنا چاہتے تھے۔
 ذاس نے کہ کافر
 سے بھاگ کرنا درست
 نہیں ہے۔ بقیہ
 تین آدمی جب
 ان کے عداوت
 کی بنا پر اتارے
 اپنے آپ کو ایک جگہ
 کر دیا تو انہوں نے
 عداوت اور ان کو
 مار ڈالا۔ یہ قتل کرنے
 والوں کے ہاتھ
 فروخت کیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرۃ رھط سیرۃ عینا و امر علیہم عاصم بن ثابٹ
 دس آدمیوں کا ایک دستہ خیر لانے کے لئے بھیجا اور ان پر عاصم بن ثابٹ انصاری کو امیر

الانصاری جده عاصم بن عمرنا اطلقوا حتی اذا كانوا بالهداة وهو بين حسفان
 مقرر کیا جو عاصم بن عمر کے نام تھے ملا وہ گئے یہاں تک کہ جب مقام اہدآ پر پہنچے جو حسفان اور بار کے

ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو حيان فنقروا لهم قريبا من مائتي رجل
 درساں ہے تو کسی نے ان کی خبر ہذیل کے کسی قبیلے کو کہ بنو حیمان کہتے تھے دی وہ ان کے تقابہ کیلئے کوئی دوسرا آدمی کے قریب گئے

كلهم رامنا فتصوا انارهم حتى جدنا اكلهم تمر اترزودة من المدينة فقلوا
 ان میں سے ہر ایک تیر انداز تھا وہ ان کا نشان دھونڈتے تھے یہاں تک کہ وہ ایک مقام کو پہنچے جہاں انہوں نے کھجوریں کھائی تھیں جو انہیں دہریے

هذا تمر يثرب فاتصوا انارهم فلما رآهم عاصم واصحابه لجؤا الى فد فذروا
 سے زارواہ کیلئے لی تھیں وہ کہنے لگے کہ یہ دہریے کی کھجوریں ہیں اور انہیں نشانوں کو ڈھونڈتے تھے چلے جہاں عاصم اور ان کے ساتھیوں کو دیکھا تو ایک کھجور کی پتی

احاط بهم القوم فقالوا لهم انزلوا واعطونا يا ايديكم ولكم العهد والاميثاق
 لی اور ان کو گویا ان کا بھی ہو گیا اور ان سے کہا کہ ان کو اور اپنے نہیں جانے چاہئے چلے کر دو اور تم تیس تیس بھگت بھگت کرتے ہیں

ولناقتل منكم احدا قال عاصم بن ثابث امير السرية اما ان فوالله لا
 کر تھیں سے کسی کو بھی نہ ماروں گے عاصم بن ثابٹ نے جو دستے کا سردار تھا کہا اللہ کی قسم میں تو بہ فرم کے

انزل اليوم مني ذممة كافر اللهم اخبر عنا نبيك فرمهم بالنبل فقتلوا عاصم
 اے اللہ ہماری حالت کی اطلاع اپنے نبی کو کر دے ملے انہوں نے ان کو تیز سے مارنا شروع کیا اور سات کو شہید کر دیا جن میں عاصم بھی تھے۔ نبی تین ان کے عداوت قرار پر اتار گئے انہی میں خبیث انصاری

في سبعة فزل رايهم ثلثة رھط بالعهد والاميثاق منهم خبيث الانصاري
 کیا اور سات کو شہید کر دیا جن میں عاصم بھی تھے۔ نبی تین ان کے عداوت قرار پر اتار گئے انہی میں خبیث انصاری

وابن دكثنة ورجل اخر فلما استمكنوا منهم اطلقوا اوتار قسيهم و انقروهم
 اور ابن دثنہ اور ایک اور آدمی تھا جب انہوں نے ان پر ہتھیار بویا تو انہی کا نون کے چھ اتار کر ان کی گھسیٹیں کیں

فقال الرجل الثالث هذا اول الغدر والله لا اصحبكم ان في هولاء لاسوة
 تیسرے شخص نے کہا یہ تو پہلا دھوکہ ہے اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا اور میرے لئے انہی میں کوئی بڑ

يريد القتل فجزروا وعالجوه على ان يصحبهم فابى فقتلوه وانطلقوا خبيث
 اس کی اور شہداء سے بھیجی انہوں نے اسے کھینچنا چاہا اور کوشش کی کہ وہ ان کے ساتھ چلے مگر اس نے نہ مانا پس انہوں نے اسے مار دیا اور خبیث

وابن دثنة حتى باعوهما بمكة بعد رقعة بدر فابن خبيث بنو الحارث
 اور ابن دثنہ کو ساتھ لے گئے اور ان کو کھینچا اور بدر کے بعد رقعہ بدر فابن خبیث بنو الحارث

بن عامر بن نوفل ابن عبد مناف وكان خبيث هو قتل الحارث بن عامر
 بن عامر بن نوفل بن عبد مناف کے بیٹوں نے خرید لیا اور خبیث نے ہی بدر کے دن حارث کو قتل کیا تھا

يوم بدر فلبث خبيث عندهم اسيرا فاحبرني عبيد الله بن عياض ان
 سو خبیث ان کے پاس قہر دیا مجھے (ابن شباب) عبيد اللہ بن عیاض نے خبر دی کہ

بنت الحارث اخبرته انهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستجد بها
 حارث کی بیٹی نے اسے خبر دی کہ جب وہ رجزی (موت) اس کے قتل کر کے لے لے اگلے ہوئے تو خبیث نے تم سے استعزا مانگا اور اسے

فاعارتها فاخذ ابناي وان انا فله حين اتاه قالت لو جده فجلسه على
 حارث کے سے لے اسے یہ یا تو میرا ایک بچہ جو میری بے خبری کے وقت اس کے پاس گیا تھا اسے اس نے لے لیا اور میں نے دیکھا کہ خبیث اسے بچہ

اور ان کے ہاتھ سے

فَخَذَهُ وَالْمُوسَى بِيَدِهِ فَفَزَعَتْ فِرْعَوْنُ عِرْفَهَا خَبِيبٌ فِي وَجْهِ فَقَالَ مُخْشِنٌ
اور اس نے ان کے ہاتھ میں سے اور خبیب نے میرے چہرے سے معلوم کر لیا تو کہنے لگے مجھے

أَنْ أَقْتَلَهُ مَا كُنْتُ لَأَفْعَلَ ذَلِكَ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ أُسِيرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خَبِيبٍ
ڈرے کہیں سے قتل کروں گا میں ہرگز ایسا کرنے والا نہیں ہوں مجھے اس شخص میں نے خبیب سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا

وَاللَّهِ لَقَدْ وَجَدْتَهُ يَوْمَ مَا تَأْكُلُ مِنْ قَطْفِ عَنَبٍ فِي بَيْدَةٍ وَإِنَّهُ لَمَوْثِقٌ فِي الْحَدِيدِ
اللہ کی قسم میں نے نہیں ایک دن دیکھا کہ انور کے خوشے میں سے جو اس کے ہاتھ میں تھا کھائے میں اور وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑے

وَمَا بِمَلَةٍ مِنْ شِمْرٍ وَكَانَتْ تَقُولُ إِنَّهُ لِرِزْقٍ مِنَ اللَّهِ رِزْقَةٌ خَبِيبٌ فَلَمَّا خَرَجُوا
ہوئے تھے اور کم میں پہل باہل نہ تھا اور وہ کہتی تھیں کہ یہ رزق اللہ کی طرف سے تھا جو اس نے خبیب کو دیا جب وہ درہ سے

مِنْ الْحَرَمِ لِيُقْتَلُوهُ فِي بَحْلِ قَالَ لَهُمْ خَبِيبٌ ذُرُونِي أَرْكِعْ رَكَعَتَيْنِ فَتَرَوْهُ فَرَكِعَ
نکلے کہ اسے حرم سے باہر قتل کروں تو خبیب نے ان سے کہا مجھے دو رکعت پڑھنے دو انہوں نے اسے اجازت دیدی اور انہوں

رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ لَوْلَا أَنْ تَطَنُوا أَنْ مَانِي جِزْعَ نَطَوْتُ لَتَهَا اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا
نے دو رکعت نماز پڑھی پھر کہنے لگے کہ اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم ان کے آگے کہ مجھے روت کا ڈر ہے تو میں نماز کو کیا کہنے لڑتا تو کھایا کرتے جھگڑے

مَا أَبَالِي جِئْتُ أقتل مسلماً عَلَى أَبِي شَرِيكَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي
مجھے کوئی پروا نہیں جب میں اسلام میں نہ کر قتل کیا ہوں کہ اللہ کے لئے کسی کو روٹ پر میرا گناہ ہے

وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْاَلِزَانِ شَا
اور اسے اللہ کی راہ میں ہے اور اگر وہ چاہے تو ہر ایک عہد کے کھولنے کے لئے ہونے جو وہ ہر برکت میں ہے

فَقَتَلَهُ ابْنُ الْحَارِثِ نَكَانَ خَبِيبٍ هَوْسَ الزَّلْعَتَيْنِ بَكْلَ مَرِيٍّ مُسَلِّمًا قَتَلَ صَبْرًا
پھر انہیں حارث کے بیٹے نے قتل کر دیا سو خبیب نے ہی دو رکعت کی سنت جاری کی ہر ایک ایک مسلمان کہنے جو قید ہو کر لڑا

وَأَسْتَجَابَ اللَّهُ لِعَاصِمِ بْنِ تَارِبٍ يَوْمَ مَا أُصِيبَ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
جائے اللہ نے عاصم کی دعا قبول کی جس دن وہ قتل ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

أَصْحَابَهُ خَبْرَهُمْ وَمَا أُصِيبُوا بَعَثَ نَاسٌ مِنْ لِفَارِ قُرَيْشٍ إِلَى عَاصِمِ حِينَ
اپنے صحابہ کو ان کی خبر ہو کر جو ان کو مصیبت پہنچی اس کی خبر دی اور لفار قریش نے عاصم کو لاش اپنی کسی کو بھیجا

حَدَّثُوا أَنَّهُ قَتِلَ لِيَوْمِ تَوَأَسْتِي مِنْهُ يَعْرِفُ وَكَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ عَطَمَاتِهِمْ
اس وقت جب ان سے بیان کیا گیا کہ وہ قتل کر رہے تھے تاکہ اس میں سے کچھ لے آئے وہ بھی سنتے ہوں اور انہوں نے بدر کے دن ان کے

يَوْمَ بَدْرٍ فَبِعَثَ عَلَى عَاصِمٍ مِثْلَ الظِّلَّةِ مِنَ الذَّبْرِ فَمِنْهُمْ مَنْ زَسَوْهُمْ فَمَنْ
پڑے اور میں نے کسی شخص کو قتل کیا تھا تو عاصم پر بہروں کا ایک جھنڈا تر کر دیا یہی نے ان کو کافروں کے قاصد سے بچایا اور انہیں

يَقْدَرُوا عَلَى أَنْ يَقْطَعُوا مِنْ حِمْلِهِ شَيْئًا (۱۱) بَابُ نَكَانَ الْأَسِيرِ فِيهِ
اس بات پر قدرت نہ تھی کہ ان کے گوشت میں سے کچھ کاٹ لیں بَابُ قیدی کو چھوڑنا اس باب میں

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۱۳۸) عَنْ
ابو موسیٰ ابوبکر بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں

أَبِي مُوسَى يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُوا الْعَارِيَّ يَعْنِي الْأَسِيرَ
سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیدی کو چھوڑو

وَأَصْحَابَهُ الْحَيُّ وَعَوْدُ الْمَرِيضِ (۱۳۹) عَنْ أَبِي جَحِيفَةَ (مُتْرَدٍ - ۹۶)
اور صحابہ کے کھانے اور بیمار کی طبیعت کو

اور صحابہ کے کھانے اور بیمار کی طبیعت کو

مکس قدر اپنے نفس پر حکومت ہے وہ جاننے لگے کہ یہ کبھی قتل کر کے کیسے لے جا رہے ہیں مگر یہ کہ ہاتھ میں اسباب محفوظ تھا جیسے کسی بڑے سے بڑے خیر خواہ کے ہاتھ میں ہونے والا حضرت خبیب نے پسند کیا اور اللہ تعالیٰ نے لنگے دل میں اس دیا کہ ان کا آخری عمل جو اللہ کی راہ میں قربان ہونے سے پہلے ہو وہ اللہ کے ساتھ چھٹنا اور نماز ہو اور اسی پر ان کا قائم ہو یہ نفس چہرے کا ہے نظیر نوز ہے اور اس کی توفیق پر ہی بعد میں کیے اور جو مسلمان قیدی ہو کر رہا جاتا ہے وہ وہ رکعت نماز پڑھتا ہے عاصم نے جنگ بدر میں عقبہ بن ابی معیط کو قتل کیا تھا لہذا مکہ و مدینہ کا پتہ انی حصہ قدرتی الفاظ کے ساتھ آیا ہے۔ قلت عدلی هل عندك شيء من الوشي الاماني كتاب الله قال الله فقل للعباقرة انفسهم ما اعلمه الا انفسهم فانهم من الله انفسهم

۱۱۶۲) باب فدا المشرکین (م-۱۱۴۸) عن انس بن مالک (م-۱۲۰) (م-۱۱۴۹) باب مشرکوں سے فدا لینا

۱۱۶۳) باب الحزبي اذا دخل دار الاسلام بغير اذن (م-۱۱۴۳) عن جبير بن مطعم (م-۱۱۴۱) (م-۱۱۴۲) باب جب جنگ کرنا اور ان سے بغیر اذن داخل ہونے کا

۱۱۳۸) عن سلمة بن الاكوع عن ابيه قال اني النبي صلى الله عليه وسلم عينا من سدر بن ابي اسد سے روایت کرتے ہیں۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکوں کا ایک

المشرکین وهو في سفر فجلس عند اصحابه يتحدث ثم انفتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطبوه واقتلوه وقتلوه فقتله فقتله (م-۱۱۴۴) باب يقاتل عن اهل الذمة ولا يسترقون اسے تھام کر قتل کر دو تو اسے قتل کرنا ہے اسکا ہر سامان اسے دیدیا

۱۱۴۵) (م-۱۱۴۶) (م-۱۱۴۷) باب جواز الزود (م-۱۱۴۶) باب هل يستشفع الى اهل الذمة ومعاملتهم (م-۱۱۳۹) عن ابن عباس (م-۱۱۳۹) باب وفد سے لوگوں کو نہا کر

وما يوم الخميس ثم بكى حتى خضب دمه اخصبا فقال شدت برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس فقال انتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده اب انتم ازعوا ولا يفتخ عندي نبي تازع فقالوا هجر رسول تم ہرگز نگراہ نہ ہو گے انہوں نے اختلاف کیا اور یہی ہے اس اختلاف کرنا ٹھیک نہیں ہے انہوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونے سے

۱۱۶۲) باب فدا المشرکین (م-۱۱۴۸) عن انس بن مالک (م-۱۲۰) (م-۱۱۴۹) باب مشرکوں سے فدا لینا

۱۱۶۳) باب الحزبي اذا دخل دار الاسلام بغير اذن (م-۱۱۴۳) عن جبير بن مطعم (م-۱۱۴۱) (م-۱۱۴۲) باب جب جنگ کرنا اور ان سے بغیر اذن داخل ہونے کا

۱۱۳۸) عن سلمة بن الاكوع عن ابيه قال اني النبي صلى الله عليه وسلم عينا من سدر بن ابي اسد سے روایت کرتے ہیں۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکوں کا ایک

المشرکین وهو في سفر فجلس عند اصحابه يتحدث ثم انفتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطبوه واقتلوه وقتلوه فقتله فقتله (م-۱۱۴۴) باب يقاتل عن اهل الذمة ولا يسترقون اسے تھام کر قتل کر دو تو اسے قتل کرنا ہے اسکا ہر سامان اسے دیدیا

۱۱۴۵) (م-۱۱۴۶) (م-۱۱۴۷) باب جواز الزود (م-۱۱۴۶) باب هل يستشفع الى اهل الذمة ومعاملتهم (م-۱۱۳۹) عن ابن عباس (م-۱۱۳۹) باب وفد سے لوگوں کو نہا کر

وما يوم الخميس ثم بكى حتى خضب دمه اخصبا فقال شدت برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس فقال انتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده اب انتم ازعوا ولا يفتخ عندي نبي تازع فقالوا هجر رسول تم ہرگز نگراہ نہ ہو گے انہوں نے اختلاف کیا اور یہی ہے اس اختلاف کرنا ٹھیک نہیں ہے انہوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونے سے

فی ثوبہ

۱۱۶۲) باب فدا المشرکین (م-۱۱۴۸) عن انس بن مالک (م-۱۲۰) (م-۱۱۴۹) باب مشرکوں سے فدا لینا

۱۱۶۳) باب الحزبي اذا دخل دار الاسلام بغير اذن (م-۱۱۴۳) عن جبير بن مطعم (م-۱۱۴۱) (م-۱۱۴۲) باب جب جنگ کرنا اور ان سے بغیر اذن داخل ہونے کا

۱۱۳۸) عن سلمة بن الاكوع عن ابيه قال اني النبي صلى الله عليه وسلم عينا من سدر بن ابي اسد سے روایت کرتے ہیں۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکوں کا ایک

المشرکین وهو في سفر فجلس عند اصحابه يتحدث ثم انفتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطبوه واقتلوه وقتلوه فقتله فقتله (م-۱۱۴۴) باب يقاتل عن اهل الذمة ولا يسترقون اسے تھام کر قتل کر دو تو اسے قتل کرنا ہے اسکا ہر سامان اسے دیدیا

۱۱۴۵) (م-۱۱۴۶) (م-۱۱۴۷) باب جواز الزود (م-۱۱۴۶) باب هل يستشفع الى اهل الذمة ومعاملتهم (م-۱۱۳۹) عن ابن عباس (م-۱۱۳۹) باب وفد سے لوگوں کو نہا کر

وما يوم الخميس ثم بكى حتى خضب دمه اخصبا فقال شدت برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس فقال انتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده اب انتم ازعوا ولا يفتخ عندي نبي تازع فقالوا هجر رسول تم ہرگز نگراہ نہ ہو گے انہوں نے اختلاف کیا اور یہی ہے اس اختلاف کرنا ٹھیک نہیں ہے انہوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونے سے

مگر روایتیں
جو ابن عباس کا قصہ
میں لکھی ہیں وہ
اسی نقل ہیں جو
کیے ہیں۔ بعض
آپ کو یکساں
میں ہے قال ابن
عمر شہد تمام
اللہ علیہ وسلم فی
نا شہد علی اللہ
ہو ہلہ شد کر
الذجال فقال ان
انذکما وامن
بنوا الاقدار
قوم نقد انذک
نور قومہ وکن
ساقول مکفیه قولہ
لہ یقہ نبی لقومہ
قلعون انہ اعلم
وان اللہ لیس باعد
وجاہ کی اور
بخت جہاں کے
میں آئے گی۔ اور
کا ذکر بھی اپنے
پرائے گا۔ حدیث
بھی ہے کہ
گذری ہے۔ دیکھو

(۱۷۸) بَابُ كَيْفَ يُعْرَضُ لِاسْلَامٍ عَلَى الصَّبِيِّ (مكرر - ۱۷۵) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مكرر - ۱۷۵)

باب بچے کے سامنے اسلام کی پیش کی جائے گی

(۱۷۹) بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْيَهُودِ اسْلِمُوا اسْلِمُوا قَالَ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي

باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہود سے فرمایا، مسلمان ہو جاؤ مسلمان ہو جاؤ اسے مقبری نے ابو ہریرہ سے

روایت کیا ہے کہ باب جب کوئی قوم کو دین اسلام میں مسلمان ہو جائے اور ان کے ایمان اور زمینیں ہوں تو وہ انہی کو نہیں

(مكرر - ۱۷۲) عَنْ اسامة بن زيد (مكرر - ۱۷۵) (۱۳۹) عَنْ زَيْنَبِ بْنِ اسلم عَنْ ابْنِهِ ان

دیکھو حدیث ۱۳۹۵

عمر بن الخطاب استعمل مولیٰ له يدعى هنيئاً على الحمي فقال يا هنيئ اضمم جناحك

حضرت عمر بن خطاب نے اپنا ایک غلام جسے ہنی کے نام سے پکارا جاتا تھا سرکاری رکھ کر رکھ لیا اور اسے کہنے میں اپنا ہاتھ مسلمانوں سے رکھ

عن المسلمين واتق دعوة المظلوم فان دعوة المظلوم مستجابة وادخل

کرکہ اور مظلوم کی دعا مستجاب کی کہ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے اور تعویذ

رب الصريمة ورب الغنيمه ورايى ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان فانهما

اور تعویذ کی بکریوں کے کو جانے دے اور عبد الرحمن، ابن عوف اور عثمان، ابن عفان کے جانوروں کو بیک

ان تهلك ما شيتهما يرجعا الى نخل زرع وان رب الصريمة ورب الغنيمه

دے کہ بکریوں کے جانور ہلاک ہو جائیں تو دونوں درخت کھو اور زراعت سے کام چھو جائیں گے اور تعویذ اور تعویذ بکریوں کے

ان تهلك ما شيتهما ياتيني ببنييه فيقول يا امير المؤمنين افتارلكهم

ان کے جانور ہلاک ہو جائیں گے تو اپنی اولاد کو میرے پاس لائیں گے اور کہیں گے امیر المؤمنین تو تیرا باپ نہ ہو

انا لا اباك فالماء والكلأ ايسر علي من الذهب والورق وایم الله انهم

کہا میں انہیں بکریوں کی چھوڑ دوں گا تو پانی اور گھاس دینا مجھ پر سونا چاندی دینے سے آسان ہے اور اس کی قسم وہ خیال کرتے ہیں

لهدون انا قد ظلمتهم انما ليلادهم فقلوا عليها في بي اهلية واسموا

کہ اگر سرکاری رکھ لیا کرے گا میں ان پر ظلم کر رہا ہوں کیونکہ کتب تو انہی کا ہے جاہلیت میں وہ ان پر لڑتے تھے اور اسماء میں

عليها في ازسلام والذمي نفسي بيده لو لا المال الذي اجمل عليه في

انہی پر مسلمان ہوئے ہیں وہ اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر وہ جانور نہ ہوتے جن کو میں جہاد میں

بہرہ رکھی یہ حدیث شروع ۱۳۳۵

ہوں خواہ کوئی اور قوم جیسا کہ باغیوں نے قبیلہ بنی قریظہ کی حدیث میں ہے من صلی صلواتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فان ذک المسلم الذی لد ذمة اللہ وذمة

رسولہ فلا تخفوا اللہ فی نعمتہ اور جیسا کہ ۱۳۳۵ میں ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلوة ویؤتوا الزکوة

فاذا انعدوا ذک عصوا حق دما ولہم دما ولہم من سارے ارشادات پر سرورنگ تو یوں کے متعلق ہیں دیکھو نوٹ ۱۳۳۵ اور ۱۳۳۶

سے قدرے مختلف ہے حالت اس میں زید یا رسول اللہ لین نزل غدا فی حجتہ قال دہل ترک لنا عقیل منزلاً فقال غن نازلون غدا یخیم بنی کنا منہ المصعب

حیث قامت قریش علی الکفر وذک ان بنی کنا نہ تعالفت قریش علی بنی ہاشم ان لایا بیوہم ولا یو دہم قال لہ زہرہ والخین لوادی حدیث کے پہلے حصے

کے متعلق ہے کہ کاٹھ دیکھو اور دوسرے حصے کے متعلق ۱۳۳۵ میں ذکر ہے عنہم اب کا تعلق حضرت اس حصہ سے ہے ہن ترک لنا عقیل منزلاً فقال غن بنی

کے بھائی نے نبوہاشم کے سارے مکانات فروخت کر دیئے تھے خریدار سب ان کے مالک تھے۔ فتح مکہ میں جب اہل مکہ مسلمان ہوئے تو اہل حرب تھے تو ان کے سامنے

اطاع ان کے پاس پہنچا اور ان سے کوئی مکان نہ چھینا گیا۔ لفظ حضرت عمر نے اپنی خلافت کے زمانہ میں مقام بڈہ میں جو بڈہ کے قریب تھا کچھ زمین سرکاری چراگاہ کے

لئے مختار کر لی تھی۔ اور جو گھوڑے اونٹ بجا ہوں جو بھاد کے لئے خلافت کی طرف سے دیتے جاتے اور ایسا ہی بیت المال کے جانور یعنی سرکاری گھوڑے اونٹ، انہی کے لئے

تھی جیسا کہ اس حدیث کے آخری حصہ سے معلوم ہوتا ہے۔ جو زمین چراگاہ کے لئے تھا جس کی کسی تہی وہ ہوتی تھی، مگر داروغہ کو حکم دیا کہ وہاں کے باشندوں کو باقی برص ۱۳۳۵

بقیہ صفحہ ۶۹۲م
 کے کے
 سے یہی اور شفقت
 کا سلوک کرے اور
 کسی پر ظلم نہ کرے
 اور یہی حکم دیا کہ کون
 غرب لوگوں کو بھی
 اس چراگاہ میں اپنے
 مریشی چرائے دے
 کیونکہ اگر ان کے
 مریشی مالک پر جانیں
 اور وہ تعلق سہیل یا
 تو عمران کو بیت لہان
 سے امداد دینی ہوگی
 حضرت عثمان اور
 حضرت عبدالرحمن
 بن عوف کے مشورہ
 کو وہاں چرانے کی
 اجازت نہ دی کہ یونکہ
 وہ مالدار تھے۔ اپنے
 بے گھاس چارہ کا
 خود انتظام کر سکتے
 تھے۔ اس سے معلوم
 ہوتا ہے کہ اسلامی
 حکومت غریبوں کی
 خبر گیری کو اپنا فرض
 اولین سمجھتی تھی۔ عثمان
 و اب کا تعلق اس قصہ
 سے ہے کہ یہ انہی کا
 ملک ہے اور وہ جو
 اسلام لانے تو

سَبِيلِ اللَّهِ مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَلَدِهِمْ شِبْرًا (۱۸۱) **بَابُ كِتَابَةِ الْأَمْرِ وَالنَّاسِ**
 سواری کیسے زرگوں کو دیتا ہوں تو میں انکے گھوں میں سے ہانتہ برابر میں کو بھی لکھ نہ جاتا ہوں **باب** بارش، اور سردی میں ہونے پر

(۱۳۹۲) **عَنْ حَدِيثَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّبِعُوا لِي مِنْ تَلْفِظِي**
 حذیفہ سے روایت ہے کہ اپنی منیٰ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **ان لوگوں کے نام میرے لئے لکھ لو جو میں**

بِالْإِسْلَامِ مِنَ النَّاسِ فَلْتَبْنَلَهُ الْفَأَوْخَسِيَّةُ رَجُلٍ فَقُلْنَا نَخَافُ وَنُحْزِنُ الْفَأَوْخَسِيَّةَ
 کا گھر پڑھنے ہوں **تو ہنے آپ کیسے ایک ہزار پانچ سو آری کا نام لکھا** تو ہنے لگا کیا ایک ہزار پانچ سو سو کر بھی ہم

وَخَمْسِيَّةٌ فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا ابْتِشِلِينَ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي وَحْدَهُ وَهُوَ خَائِفٌ
 ڈر رہے تھے **پھر ہم نے اپنے پیش دیکھا کہ امتحان میں پڑھنے میں ایک مذکر ایک شیعہ ایک نماز پڑھتا ہے** اور اسے ڈر ہوتا ہے

(۱۳۹۳) **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَوَيْتُ رُؤْيَا نَهَيْتُنِي أَنْ يَكُونَ فِيَّ شَيْءٌ مِنْ حَرْبِ كُفْرَانٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ**
 اور ایک روایت میں ہے **کہ ہم نے نہیں پانچ سو پانچ اور ایک روایت میں ہے کہ چھ سو سے سات سو تک**

(۱۴۲۴) **عَنْ بَنِي عَبَّاسٍ (مُتَوَكَّرًا) (۱۳۹۴) **بَابُ إِنْ أَلَّ اللَّهُ يَرْيَدُ الَّذِينَ بِالرَّجُلِ****
 دیکھو حدیث ۱۳۹۴ **باب** کبھی ایک نابزر شخص سے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

الْفَاجِرُ (۱۳۹۲) **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَأْيِيدُ فَرَأَيْتُنَا**
 ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو چکے تھے

فَقَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَدْعُوا إِلَى الْإِسْلَامِ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَنَا حَضَرَ الْقِتَالَ قَاتِلَ الرَّجُلِ
 تو آپ نے ایک شخص کے متعلق جو اسلام کا دعویٰ کرنا تھا فرمایا: **ہو درخ و داہن میں سے ہے جب لو انی شریح ہوتی تو وہ شخص بہت سختی کے ساتھ**

قَاتِلًا شَدِيدًا وَصَابًا بِهِ جِرَاحَةٌ فَعَبِيلُ يَارَسُولَ اللَّهِ لَئِي قُلْتُمْ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَدْ
 اور وہ زخمی ہوا **کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ شہدہ شخص جواب نے فرمایا تھا: وہ درخ و داہن میں سے ہے**

قَاتِلَ الْيَوْمِ قَاتِلًا شَدِيدًا وَقَدْ مَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ النَّارَ قَالَ فَكَادَ
 وہ تو آج خوب لڑا اور گیا **نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا** ابھی میں گیا بعض لوگوں کو

بَعْضُ النَّاسِ نِيَّرْتَابَ فَبَدِينَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قَبِيلُ آتَاهُ لَيْمَتٌ وَلَكِنْ يَهْجُرُ أَحَارَ شَرِّهَا
 وہ اسی حالت میں تھے کہ کسی نے کہا **وہ ہمیں بلکہ ست زخمی ہو گیا ہے**

فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصِرْ عَلَى جِرَاحِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فِي خَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 جب بات ہوتی **تو زخمی ٹھیکت کر برداشت کر کے اور اس نے خود کشی کر لی اس کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی**

بِيَدِكَ فَقَالَ اللَّهُ الْبُرْءُ شَهِدْنَا بِعَبْدِنَا وَعَرَسَ نَبِيُّ نَسْمَةُ أَمْرًا يَدْعُوا إِلَى النَّاسِ
 تو کہا اللہ اکبر **میں کو اپنی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا شاہد اور اس کا رسول ہوں پھر ہلال کو حکم دیا انہوں نے لوگوں میں منادی**

جائداد میں بھی انہی کی رہیں اور آپ نے صرف قومی ضرورت کے لئے ایک حصہ کو چراگاہ کیسے محفوظ رکھا مگر اصل حق انہی کا تھا۔ (صفحہ ۶۹۲) اب میں سعد نے طبقات میں روایت کی ہے کہ وہاں کے باشندوں میں سے ایک شخص آیا اور حضرت عمر سے کہا کہ امیر المؤمنین یہ میرا ملک ہے۔ جاہلیت میں ہم اس پر لڑے تھے اور اسی پر ہم سنا ہوئے ہیں۔ یہ وہ آپ چراگاہ بناتے ہیں۔ اور اور تو واقعی نے غراب ملک میں روایت کی ہے کہ جب اس شخص نے زور سے چراگاہ بنانے کے خلاف احتجاج کیا تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ مال اللہ والعباد عبد اللہ ما نانا نافع۔ مال بھی اللہ کا ہے، اور نہ ہی اللہ کے ہیں۔ اب میں ایسا نہیں کروں گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے چراگاہ سے سرکاری قبضہ اٹھا دیا تھا اور زمین کو انہیں کے جو اکر دیا تھا۔ عطا انھیں تعلیم کی ذات میں نبوت تو کہا کہ یہ نبی ہی تھی ہمہ نبوی انضمام کو بھی آپ ہی اللہ کا حکم پہنچا یا مردم شماری کی ضرورت کو بھی آپ ہی محسوس کیا اور اس کا حکم دیا۔ یہ تصریح نہیں کہ یہ حکم کب دیا مگر بندہ سوکتی تعداد سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنگ فندقی یا بعد مہدیہ کے وقت کی بات ہے۔ اور ممکن ہے جنگ احد کے وقت بھی مردم شماری کی ہو اور پانچ سو پانچ سات سو کی روایت کا تعلق اس وقت کی مردم شماری سے جو کہ مکرور روایت منقول ہے جو احمد رجل الی النبی صلعم فقال یا رسول اللہ انی کتبت فی غزوة کنا وکلنا وامراتنا حاجتنا قال رضی عنہم ارجاء۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مردم شماری ہوتی تھی اور جنگ میں

۱۱۸۳
۱۱۸۴
۱۱۸۵
۱۱۸۶
۱۱۸۷
۱۱۸۸
۱۱۸۹
۱۱۹۰
۱۱۹۱
۱۱۹۲
۱۱۹۳
۱۱۹۴
۱۱۹۵
۱۱۹۶
۱۱۹۷
۱۱۹۸
۱۱۹۹
۱۲۰۰
۱۲۰۱
۱۲۰۲
۱۲۰۳
۱۲۰۴
۱۲۰۵
۱۲۰۶
۱۲۰۷
۱۲۰۸
۱۲۰۹
۱۲۱۰
۱۲۱۱
۱۲۱۲
۱۲۱۳
۱۲۱۴
۱۲۱۵
۱۲۱۶
۱۲۱۷
۱۲۱۸
۱۲۱۹
۱۲۲۰
۱۲۲۱
۱۲۲۲
۱۲۲۳
۱۲۲۴
۱۲۲۵
۱۲۲۶
۱۲۲۷
۱۲۲۸
۱۲۲۹
۱۲۳۰
۱۲۳۱
۱۲۳۲
۱۲۳۳
۱۲۳۴
۱۲۳۵
۱۲۳۶
۱۲۳۷
۱۲۳۸
۱۲۳۹
۱۲۴۰
۱۲۴۱
۱۲۴۲
۱۲۴۳
۱۲۴۴
۱۲۴۵
۱۲۴۶
۱۲۴۷
۱۲۴۸
۱۲۴۹
۱۲۵۰

ملا س منون کی ایک
حدیث ۳۳۵ میں
بن مسعود روایت
سے گذری ہے بظاہر
یہ شخص سلمان تھا کہ
زخموں کی تکلیف کو
برداشت نہ کیا اور
خودکشی کر لی۔ آنحضرت
صلم کو اس کا انجام
کشف میں دکھا دیا گیا
اس کی بنا پر آپ نے
یہ کہا کہ وہ اپنی تائیں
ہے کیونکہ خود
کشی اسلام میں بڑا
بھاری گناہ ہے۔
اس لئے کہ یہ بھی ایک
گوشت نفس ہی ہے
اور زندگی جو اللہ
تعالیٰ کی دی ہوئی
نعمت ہے اسے بر باد
کر نہ دے۔

رَأْتَهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا أَنْفُسٌ مُّسْلِمَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤْتِيهِ هَذَا الدِّينَ بِالرُّجُلِ الْفَاجِرِ
کی کر جنت میں عرب سلمان آدمی جاچکا اور اس تکبھی ایک فاجر کے ذریعے بھی اس دین کی تائید فرماتا ہے ملا

(۱۸۳) بَابُ مَنْ تَأَمَّرَ فِي حَرْبٍ مِنْ غَيْرِ أَمْرَةٍ إِذَا خَافَ الْعَدُوَّ (م- ۱۴۲۵)

باب جو امام کے حکم کے بغیر راہیوں میں فوجاں بن جائے جب دشمن کا ڈر ہو

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متکرر- ۶۷۵) بَابُ الْعَوْنِ بِالْمَدِّ (م- ۱۴۲۶)

دیکھو حدیث ۶۷۵ باب مدد بھیج کر اعانت کرنا

عَنْ أَنَسِ (متکرر- ۱۲۸۹) بَابُ مَنْ غَلَبَ الْعَدُوَّ فَأَقَامَ عَلَى
دیکھو حدیث ۱۲۸۹ باب جو دشمن پر غالب آئے اور ان کے ہاں مسکن

عَرَضَتْهُمْ ثَلَاثًا (۱۳۹۲) عَنِ ابْنِ طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
جنگ میں تین دن ٹھہرتے ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متفق روایت کرتے ہیں کہ

كَانَ إِذَا أَظْهَرَ عَلَى تَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرَضِ ثَلَاثَ لَيَالٍ (۱۳۹۳) بَابُ مَنْ قَسَمَ الْغَنِيَةَ فِي
جب آپ کسی قوم پر غالب آتے تو میدان جنگ میں تین دن ٹھہرتے باب جو مال غنیمت کو روانگی کے موقع

عَزْوِهِ وَسَفَرِهِ وَقَالَ رَافِعٌ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَدْيِ الْحَلِيفَةِ فَاصْبَحْنَا
پہر اور سفر میں تقسیم کر دے اور رافع نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذوالحلیفہ میں تھے ہم کو بکریاں اور اونٹ

وَرَأَيْتُ نَعْدِلُ عَشْرَةَ مِنْ الْغَنَمِ بِبَعْدِي (متکرر- ۱۹۱۵) عَنِ أَنَسِ (م- ۱۸۷۷)

ہاتھ آئے تو آپ نے دس بکریاں ایک اونٹ کے برابر رکھیں ملا

بَابُ إِذَا أَحْبَبَ الْمُشْرِكُونَ قَالَ الْمُسْلِمُ ثُمَّ وَجَدَهُ الْمُسْلِمُ (۱۳۹۳) عَنِ ابْنِ عُمَرَ

باب جب مشرک سلمان کہ مال غنیمت میں لپھانے اور پھر وہ مسلمان کے ہاتھ آجائے ابن عمر سے روایت ہے

خودکشی میں انسان خدا کی رحمت سے بایس ہو جاتا ہے تو خودکشی کو آپ نے اتنا بڑا گناہ قرار دیا کہ ایسے شخص کے متعلق فاجر کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس میں یہ بھی سمجھا گیا ہے کہ انسان کو اپنے کسی اچھے فعل پر اس قدر مغرور نہ کرنا چاہئے کہ وہ یہ سمجھے کہ بس اب جنت اس کے لئے ہو گئی، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے آگے سرسپرد رہ کر رکھنا چاہئے۔ خودکشی کی وارداتیں آج مذہب مالک میں عام ہو گئی ہیں اس لئے کہ خدا پر ایمان کوئی نہیں۔ اور زندگی کو محض ایک کھیل سمجھا جاتا ہے۔ آج ہمارے علمائے ان اللہ یسیدا هذا الدین بالرجل الفاجر کی خوب مٹی ملی ہے۔ خود تو اعدائے اسلام سے غافل گھروں میں بیٹھے ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھا لہ رہے ہیں اور اپنا سارا زور پاشی ہی برادری پر صرت کر رہے ہیں۔ اور جب دو وقت کے ساتھ ہو کر جو لوگ اعدائے اسلام کے بالمقابل سینہ سپر ہیں انہیں فردعی اختلافات پر فاجر ہی نہیں کافرنہا ہے۔ حالانکہ فاجر ایک شخص اپنے اعمال سے ہوتا ہے۔ فردعی اختلافات صحابہ میں بھی تھے مگر وہ ایک دوسرے کو فاجریا کا فرزند نہتے تھے نہ ملامت کر روایت کا مضمون اور لفظ تقریبا دی ہیں۔ البتہ یہاں مضمون کے شروع میں یہ لفظ ہیں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں یہ جملہ نازل ہے فایسوی اذما یسبنا انہم عندنا یمحی اچھا نہیں لگتا یا یہ فرمایا ان کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ ہمارے پاس ہوتے مطلب یہ ہے کہ وہ شہادت کے بوقیم جنت سے اپنا خطا اٹھا رہے ہیں وہ ہمارے پاس رہنے سے وہاں خوش ہیں اور ہم بھی ان کی خوشی سے خوش ہیں۔ اس میں ذکر ہے کہ آنحضرت صلم کے مقرر کردہ تین جرنیلوں کے کیسے بعد دیگرے شہید ہونے کے بعد خالہ بن ولید نے فوج کی کمان کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ حالانکہ رسول اللہ صلم نے انہیں حکم نہ دیا تھا۔ خطرہ کے اوقات میں جب خطو ہو کر دشمن فوج کو ہی تباہ کر دے گا ضرور ہے کہ کوئی شخص سردار بن جائے خواہ امام نے اسے مقرر نہ کیا ہو ملا یہاں مضمون ۱۲۵۹ سے کچھ مختلف ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتاہ رعل ذلکان ورحیمتہ وبنویمان فزعوا انہم قدا اسلموا واستمدوا علی قولہم فاہدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبعین من الانصار قال انش کنا سہمہم القوار یحطبون بالنہار ویمیلون باللایل فاذ نظرنا انہم حتی بلغوا بہرحوہ منہم ردنا ہم وقتلوہم فقنت شہرا یدر علی رعل ذلکان وہی لحیان قال تادہ روحنا انش انہم قرأہم قرأنا ۱۲ باذغانا قوما بانا ان القنیار بانا فرض عننا وارضانا فاشد رفع ذلہ ہذا۔ یہاں یہ ذکر ہے کہ رعل ذلکان وغیر قبائل کے آدمی آنحضرت صلم کے پاس آئے اور اپنا مسلمان ہونا ظاہر کیا اور اپنی قوم کے خلاف آپ کے دعائی تو اپنے سزقاری بھیجے۔ ظاہر ہے کہ یہ مردانگانہ اپنی قوم کو تبخ کئے تھا۔ آنحضرت صلم نے وہاں فوج نہیں بھیجی بلکہ قاری ہیجے تاکہ تین تین اسلام کی تبلیغ کریں۔ ۱۲۵۷ کے نوٹ میں یہ دکھا گیا ہے کہ ابو ہریرہ عسکر در خواست پر بھیجے گئے تھے۔ اور اس میں لفظ دیلمی کی قول نقل کیا گیا کہ رعل ذلکان وغیر وہاں آنحضرت صلم کے پاس آنا راوی کا وہم ہے کیونکہ وہ صحابہ پر موزون نہیں بلکہ صحابہ الرجب میں جنہوں نے عام ادرا س کے ماسفیوں کو قتل کیا اور صحیب ذوالن الدنہ کو قتل کیا نیز ۱۲۵۷ کا نوٹ دیکھو اس پر ذکر ہے آنحضرت صلم قرأہم قرأنا.... ثم رفع ذلک بعد جس کیسے دیکھو ۱۲۵۸ کے نوٹ کا آخری حصہ۔ یہاں قرآن صرت پڑھنے کے معنی میں ہے۔ آیت قرآنی ما و انہن، (ربانی ۷۹)

<p>قَالَ ذَهَبُ قَوْمٍ لَهَا فَاخْذِي الْعِدَّةَ وَنظَرُ عَلَيْهِ سَسِيمُونَ فَرَدَّ عَلَيْهِ فِي زَيْبٍ رَسُولُ کران کا ایک گھوڑا بھاگ گیا اور دشمن نے اسے پکڑ لیا پھر سلمان اس پر غاب آئے تو وہ گھوڑا ابن عمر کو</p>
<p>اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَخُتِيَ بِالرُّودِ نَظَرَ عَلَيْهِ بِهَمِّ الْمَسْمُومِ فَرَدَّ عَلَيْهِ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں واپس کر دیا گیا اور ان کا ایک غلام بھاگ گیا جو پھر ان پر سلمان غاب آئے</p>
<p>خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (م- ۱۱۷۲۸) عَنْ نَافِعٍ (مكرر- ۱۱۳۹۳) تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خالد نے وہ غلام ابن عمر کو واپس کر دیا</p>
<p>(م- ۱۱۷۲۹) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مكرر- ۱۱۳۹۳) (۱۱۸۸) بَابُ مَنْ نَكَمَ بِالْفَارِسِيَّةِ دیکھو حدیث ۱۱۳۹۳ باب جن فارسی یا اور کوئی عجمی زبان بولے</p>
<p>وَالرِّطَانَةَ وَقَوْلَهُ تَعَالَى وَاخْتِلَافُ السِّنِّكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا اور اللہ تعالیٰ کا قول تیری زبان اور تمہارے رنگوں کا اختلاف (۱۱۳۹۳) اور میرے کوئی رسول نہیں بھیجا</p>
<p>يَلْسَانٍ قَوْمَهُ (۱۱۳۹۳) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذُجْنًا قوم کی زبان میں (۱۱۳۹۳) جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے اپنا ایک</p>
<p>بَهِيَّةٍ لَنَا وَكُنْتُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَتَعَالَى أَنْتَ وَنَفَرٌ فَصَاحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور ایک صاع جو بیٹا ہے آپ تشریف لائیں اور چبڑا اور آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آواز</p>
<p>فَقَالَ يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنْ جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدْ صَنَعَ سُورًا فَنَحْنُ هَلَّا بِكُمْ (۱۱۳۹۴) عَنْ أُمِّ دی اسے خندق والو جابر نے عقیقت تمہاری ہے تو تم میرے آؤ</p>
<p>خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَتْ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ ابْنِي خالد بن سعید کی بیٹی سے روایت ہے کہ میں اپنے باپ کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی</p>
<p>وَعَلَى تَمِيصٍ أَصْفَرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَةٌ سَنَةٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ اور میں نے زرد کرت پٹنا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن سن عبد اللہ نے کہا</p>
<p>دَهَى بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنَةٌ قَالَتْ فَذُهِبَ الْعَبْرُ بِحَاكِمِ التَّبَوَّةِ فَرُبِّي أَبِي قَالَ حبشی زبان میں اٹکے یعنی حسن یعنی بیٹا بھی ہے کہ میں فاتر اللہ کے ساتھ کہنے لگی تو میرے باپ نے مجھے جھڑکا</p>

(رقبہ ص ۵۹)
 حدیث ۱۱۳۹۳
 ایک گھوڑا ہے
 رافع کی حدیث
 ۱۱۸۹
 اور ہم
 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 وقت اور سورت کے
 کا نام ہے عقیقت یا
 دیکھا گیا آج امام یا
 بادشاہ میں اس کا نام
 رکھے گئے
 حدیث ۱۱۳۹۳
 ہے اعتراف نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم
 من الجھرا تھیجٹ
 قسم غنائم حسین
 (صحیح ہذا)
 حدیث روایت صحت
 ہے اسے ابو ذر اور ابو
 ابن ماجہ نے حمل کیا
 ہے ابن سیرین نے گھوڑے
 کا قصہ مروی ہے ایمان
 کیا اور غلام کا موقوفہ
 اور آگے م ۱۳۲۸
 میں یعنی بن سقران

نے دونوں کو موقوفاً بیان کیا ایسے معاملات میں فیصلہ نام یا بادشاہ کے اقتدار کے لئے ہر موقوف ہے فقہاء کہ اس بارے میں اختلاف ہے بعض کے نزدیک کفار مسلمانوں کو حاصل کردہ مال کے مالک ہوجاتے ہیں اس لئے وہ مال اہل مالک کو واپس نہیں کیا جائے گا جبکہ مسلمانوں کی فتح کے وقت مسلمان قوم کا مال قرار دیا جائے گا۔ اور بعض کے نزدیک کفار مسلمانوں کے حاصل کردہ مال کے مالک نہیں ہوتے اس لئے وہ اہل مالک کو واپس نہیں لے گا۔ مگر روایات میں ہیں حدیث ۱۱۳۹۳ کی طرح ابن عمر کو گھوڑا اور غلام واپس کرنے کا ذکر ہے مگر یہاں یہ نہیں کہ ان کو گھوڑا آنحضرت کے زمانہ میں واپس کر دیا گیا تھا۔ بلکہ صرف اس قدر ہے فرودہ علی عبد اللہ لوگوں نے وہ گھوڑا عہدا شکوہ واپس کر لیا اور آگے م ۱۳۲۹ میں ہے کہ گھوڑا حضرت ابوبکر کے زمانہ میں عبد اللہ بن عمر کو واپس دیا گیا تھا۔ اور امام بیہقی کی روایت میں ہے کہ ابن عمر نے دو روٹی غلام دے کر اپنے غلام کو واپس لیا۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ گھوڑا بھی انہوں نے قریح واپس لیا ہو یا خالد نے ان کو ان کے مال غنیمت کے حصے میں دیا ہو۔ مگر روایت صرف اس قدر ہے عن ابن عمر ان کان علی فرض یرملی المسلمون وامنوا المسلمین یومئذ خالد بن الولید بشفہ ابوبکر فاخذہ العدا وفسا ہرظوا لہذا وفسا لہذا وفسا لہذا کہ یہاں اس باب کے لفظ مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ جلدی دشمن سے بات چیت صلح معاہدات وغیرہ کی ضرورت پیش آتی ہے اور یا شاید مقصد یہ کہ تبلیغ دین فرودہ بھی ایک جہاد ہے جو زبانوں کو سینکے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اور آیت دما وارسلنا من رسول اکہ لسان قومہ کہ تو تمہیں قوم کو تائید میں لانے سے مراد لفظ مقصد ہی معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں رسول بھیجے اور ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں ہی وحی کی تو تبلیغ دین ہی مقصد ہی ہے کہ ہر قوم کو اس کی زبان میں تبلیغ کی جائے۔ اسی سے قرآن کریم کے مختلف زبانوں میں ترجموں کا استدلال ہو سکتا ہے کیونکہ جب قرآن شریف سب اقوام کے لئے ہے اور عربی زبان سب قوموں کی زبان نہیں تو لازماً ہر قوم کو قرآن شریف اس کی زبان میں ہی پڑھنا یا سننا ہے۔ اس زبان میں ہی تبلیغ کا مقصد ہے۔ اسی طرح کسی زبان کی کسی نبی کی فرض کیے یا کسی فرض کیے تعلیم حاصل کرنا گناہ نہیں خواہ مرد یا بکرے یا عورت۔ اسی سے عنوان باب ہر قوم اپنے حبشی لغت میں بھی لکھا کہ ملاء فاتر اللہ سے م

ملہ البلاء اور اخلاق
 دونوں کے نشیہ میں
 چین کر پرا کرنا۔
 دعا سے مراد طول
 حیات ہے۔
 ملکہ کہ روایت مختصر بنا
 ہے ان الحسنین
 علی اخذ حسرة
 من ترو الصدقة
 فجعلها فی فیقالت
 النبى صلى الله عليه
 وسلم بانقا رصية
 كچھ کچھ امانت اور انان
 لا تاكل الصدقة
 ملکہ خیانت کے باب
 کو میں لائیں اور
 مال غنیمت میں غیبت
 کی بات ہے یعنی
 خیانت کرنے والے
 کو اس کا جہاد کرنا
 بھی نہیں ہے
 ملکہ کر روایت میں
 کہی پیش ہے قال
 قام فينا النبي صلى
 الله عليه وسلم وذكر
 القتل نعتهم

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْبُ دُ

أَخْلِقُ ثُمَّ أَيْبُ وَأَخْلِقُ ثُمَّ أَيْبُ وَأَخْلِقُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ نَبِيتُ حَتَّى ذُرُّرُمَ -

یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 چنانکہ پھر میں اور پھر انہوں نے پھر کہا کہ عبد اللہ نبی ہیں میں تک کہ اس کی تذکرہ ہونے تک

۱۱۳۳۰ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر- ۴۹۸) (۱۸۹) بَابُ الْغُلُولِ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَمَنْ

يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ (م- ۱۱۳۳۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر- ۴۹۷) (۱۹۰) بَابُ الْقَلِيلِ

مِنْ الْغُلُولِ وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ حَرَّمَ مَتَاعَهُ وَ

هَذَا أَصْحَرَهُ ۱۱۳۹۵ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَقَالَ كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكُرَةٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَرُونَ الثَّارِ فَرَضَ هَبْوَا

يَنْصُرُونَ إِلَيْهِ فُوجِدَ أَعْبَاءُ قَد عَلِمَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ سَلَامٍ لَمْ يَكُنْ لِرَكْبَةٍ لِيَعْنِي

الْكُفَّيْنِ وَهُوَ مُضْطَوَّبٌ لَكَذَا ۱۱۹۱۱) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذُبْحِ الْأَيْلِ وَالْغَنَمِ فِي الْمَغَائِمِ

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (متكرر- ۱۳۸۰) (۱۹۳) بَابُ مَا يُعْطَى الْبَشِيرُ وَأَعْطَى كَعْبُ بْنُ

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (متكرر- ۱۳۸۰) (۱۹۳) بَابُ مَا يُعْطَى الْبَشِيرُ وَأَعْطَى كَعْبُ بْنُ

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (متكرر- ۱۳۸۰) (۱۹۳) بَابُ مَا يُعْطَى الْبَشِيرُ وَأَعْطَى كَعْبُ بْنُ

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (متكرر- ۱۳۸۰) (۱۹۳) بَابُ مَا يُعْطَى الْبَشِيرُ وَأَعْطَى كَعْبُ بْنُ

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (متكرر- ۱۳۸۰) (۱۹۳) بَابُ مَا يُعْطَى الْبَشِيرُ وَأَعْطَى كَعْبُ بْنُ

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (متكرر- ۱۳۸۰) (۱۹۳) بَابُ مَا يُعْطَى الْبَشِيرُ وَأَعْطَى كَعْبُ بْنُ

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (متكرر- ۱۳۸۰) (۱۹۳) بَابُ مَا يُعْطَى الْبَشِيرُ وَأَعْطَى كَعْبُ بْنُ

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (متكرر- ۱۳۸۰) (۱۹۳) بَابُ مَا يُعْطَى الْبَشِيرُ وَأَعْطَى كَعْبُ بْنُ

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (متكرر- ۱۳۸۰) (۱۹۳) بَابُ مَا يُعْطَى الْبَشِيرُ وَأَعْطَى كَعْبُ بْنُ

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (متكرر- ۱۳۸۰) (۱۹۳) بَابُ مَا يُعْطَى الْبَشِيرُ وَأَعْطَى كَعْبُ بْنُ

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (متكرر- ۱۳۸۰) (۱۹۳) بَابُ مَا يُعْطَى الْبَشِيرُ وَأَعْطَى كَعْبُ بْنُ

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (متكرر- ۱۳۸۰) (۱۹۳) بَابُ مَا يُعْطَى الْبَشِيرُ وَأَعْطَى كَعْبُ بْنُ

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (متكرر- ۱۳۸۰) (۱۹۳) بَابُ مَا يُعْطَى الْبَشِيرُ وَأَعْطَى كَعْبُ بْنُ

مَا لَيْكَ تُوْبِلِينَ حِينَ يَسْتَبْرَأُ لَتُوْبِيَةِ (۱۹۴) بَابُ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ (م - ۱۱۳۴)

کتاب الجهاد والکفر
کتاب المغازی میں
آتی ہے

دو کتب سے ہے جب انہیں کہے کہ تم لوگوں کو غزوات میں لے جاؤ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (م تکرر ۸۱) (م - ۱۱۳۵) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ (م تکرر ۷۰) (۱۳۶۰)

عَنْ عَطَاءٍ يَقُولُ ذَهَبَتْ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَرَأَى فِيهَا نَجْرًا فَقَالَتْ

عَطَاءُ رَوَيْتُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِذَا رَأَتْ نَجْرًا فِي بَيْتِهَا تَقُولُ

لَنَا انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ مِنْذُ مَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّ (۱۹۵) بَابُ إِذَا اضْطُرَّ

انہوں نے میں کہا ہجرت منقطع ہو گئی جب سے اشراف نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی تہذیب سے

الْتَجَلُّ إِلَى النَّظَرِ فِي شَعْرٍ أَوْ أَهْلِ الذَّمِّ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِذَا عَصَيْنَ اللَّهَ وَتَجَرَّدَ مِنْ (م -

جائے کو ذی یا یوں غزوات کے ہاں کو دیکھے جب وہ اشراف کی نافرمانی کریں اور ان کے کپڑے اتارنا

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ (م تکرر ۴۴) (۱۱۳۶) بَابُ اسْتِقْبَالِ الْغَزَاةِ (۱۳۹۷)

عَنْ ابْنِ أَبِي مَلِيكَةَ قَالَ بَنُو الزَّبِيرِ لَا يَنْزِلُونَ بِنِعْمَةِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَنْتَ دَابُّنُ عَبَّاسٍ قَالَ نَعَمْ فَحَمَلْنَا وَتَرَكَكَ (۱۳۹۸) عَنْ السَّائِبِ

ابن ابی ملکہ سے روایت ہے کہ ابن زبیر نے کہا ہاں آپ نے ہمیں سوار کرو یا اور تمہیں چھوڑ دیا

ابن يزيد روى عن ابى بصير عن ابى بصير

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ رَوَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ

بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعُ مِنَ الْغَزَاةِ (م - ۱۱۳۷) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (م تکرر ۹۸) (۹۱۸)

باب حماد سے روایت ہے کہ

کتاب المغازی میں
آتی ہے
ملاحظہ فرمائیے
فتح مکہ سے اور ہجرت
سے ملا ہوگی کہ
ہجرت کرنا یعنی
جب ہاں رسد
کی حکومت ہوگی
اور کفار کی پناہ دی
کا خاتمہ ہوگی۔ جو
سے ہجرت کی ضرورت
ہی باقی نہ رہی۔
اصولیت باب سے
یہ بات ظاہر ہے کہ
ملاحظہ فرمائیے
مختصر ہے بیان
ہاں کی حدیث کا
ایک جگہ ہے جو
م ۸۱ میں گزری
ہے۔ یہاں نقل فرمائیے
قال النبی صلی اللہ
علیہ وسلم ویرثکم مکہ

لا ہجرت واکن جہاداً فنیۃ واذ استغفرتم فاغفروا اس کی تشریح ۸۱ کے فوٹ میں دیکھو۔ یہ جگہ ۲۵ میں نہیں گم ۸۱ اور ۲۵ ایک ہی میں۔ اور وہ اس خطبہ کا مضمون ہے جو فتح مکہ کے دوسرے دن آنحضرت نے منہ دیا تھا ملک انفاذ میں کچھ فرق ہے جاوے جاوے باخیزہ بن خالد بن مسعود الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال هذا مجالنا بیابنا علی الحجرة فقال لا ہجرت بعد فتح مکہ وکن ابانہ علی الاسلام یہ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کوئی بزم کرے اور اس کی تلاش لینے کی ضرورت پڑے اور تلاش لینے میں اگر کسی جگہ پر نظر پڑے جن کا دیکھنا ہے تو ضرورت کے وقت دورت ہے بیماری کی حالت میں ڈاکٹر یا عیاشی عورتوں کو دیکھ سکتے بغیر ضرورت کے نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ شروع میں یہ لفظ زائد ہے جو ابی عبد الرحمن وکان عثماناً یا یعنی حضرت عثمان کو حضرت علی سے فضل سمجھتے تھے فقال کان حطیۃ وکان علیاً یعنی حضرت علی کو حضرت عثمان سے فضل سمجھتے تھے انی لاعلم ما الذی جواصلحدک علی الدماء معہذہ یقول یعنی النبی صلعم والذیر۔ اس کے بعد کا مضمون ایک ہے مگر الفاظ میں قدر کے اختلاف ہے۔ یہاں روایت یوں ہے۔ فقال انواروضۃ لکذا وکذا او حقین ہما امرأۃ اعطاھا حاطب کتابا فابتنا الروضۃ فقلنا الکتاب فانال لسطحنی فقلنا لغزیرہن اولادہم ذلک فاخرجتہن من حیرتھا ذالزل الی حاطب فقال لا تجعلن اللہ کافرک ولا اذودن للاسلامہ کاحبائذکم احسان اصلہ الذلک لکمک من غیر ظاہر یعنی احدہ حبیب ان اخذنا عندہم ینا لصدوقہ النبی صلعم قال مرعشی ضوب عنقنا ذانہ ذانق فقال ما یدرک لعل اللہ اطلم علی اہل بدر فقال اعلوا ما شئتم فہذا الذی جہا۔ یہاں اس عورت کے خطیبے سے نکال دینے کا ذکر ہے۔ ۱۳۹۷ میں اس کے جوڑے سے نکال دینے کا ذکر ہے۔ اس وقت کو یہ جگہ دیکھی تھی کہ اگر تم خدا نکال کر دو گے تو تمہارا باس اتار دیا جائیگا اسی سے عثمان باب ۱۰ اور حدیث کی تیار میں جو ذکر ہے کہ حضرت علی کو کس بات سے خوزیری سے پدید کیلے تو اس کا جواب گویا حدیث کے آخری الفاظ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ سنالی بدر کے متعلق کہ ہے اعلوا ما شئتم۔ مگر ذہن انفاذ کا یہ مطلب ہے کہ اہل بدر جو جگہ چاہیں کریں حضرت علی نے بلائے خوزیری کی بغیر اسلام کے رشے کوئی شخص بھی کوئی گناہ کرے وہ اسکی جواب دہ ہے ایک شخص فدائی ہے جہاں وہ کہتا ہے اور زبردست ہمارا کہتے مگر خود کسی کرتا ہے وہ خود کسی کی منزل سے نہیں آگیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاں بدظنون کسی مشکلات کے وقت اسلام کا ساتھ دیا اسلام کے دشمن نہیں ہو سکتے اور حاطب جو بدر میں گیا ہے قابل قبول ہے۔ حاطب خود بھی کسی کتاب کے کافر تھا اور اذودت للاسلامہ الاحباب۔ اسلام سے محبت لینے والا اسلام کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی نفل یا نفل کے تو اسکی اسی توجیہ نہ کیجئے جس سے وہ دشمن اسلام قرار پاتا ہو کہ مغازی کے قریب کتاب النبی صلعم الی کسی تہذیب میں آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے تو اس سے تھے

لا ہجرت واکن جہاداً فنیۃ واذ استغفرتم فاغفروا اس کی تشریح ۸۱ کے فوٹ میں دیکھو۔ یہ جگہ ۲۵ میں نہیں گم ۸۱ اور ۲۵ ایک ہی میں۔ اور وہ اس خطبہ کا مضمون ہے جو فتح مکہ کے دوسرے دن آنحضرت نے منہ دیا تھا ملک انفاذ میں کچھ فرق ہے جاوے جاوے باخیزہ بن خالد بن مسعود الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال هذا مجالنا بیابنا علی الحجرة فقال لا ہجرت بعد فتح مکہ وکن ابانہ علی الاسلام یہ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کوئی بزم کرے اور اس کی تلاش لینے کی ضرورت پڑے اور تلاش لینے میں اگر کسی جگہ پر نظر پڑے جن کا دیکھنا ہے تو ضرورت کے وقت دورت ہے بیماری کی حالت میں ڈاکٹر یا عیاشی عورتوں کو دیکھ سکتے بغیر ضرورت کے نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ شروع میں یہ لفظ زائد ہے جو ابی عبد الرحمن وکان عثماناً یا یعنی حضرت عثمان کو حضرت علی سے فضل سمجھتے تھے فقال کان حطیۃ وکان علیاً یعنی حضرت علی کو حضرت عثمان سے فضل سمجھتے تھے انی لاعلم ما الذی جواصلحدک علی الدماء معہذہ یقول یعنی النبی صلعم والذیر۔ اس کے بعد کا مضمون ایک ہے مگر الفاظ میں قدر کے اختلاف ہے۔ یہاں روایت یوں ہے۔ فقال انواروضۃ لکذا وکذا او حقین ہما امرأۃ اعطاھا حاطب کتابا فابتنا الروضۃ فقلنا الکتاب فانال لسطحنی فقلنا لغزیرہن اولادہم ذلک فاخرجتہن من حیرتھا ذالزل الی حاطب فقال لا تجعلن اللہ کافرک ولا اذودن للاسلامہ کاحبائذکم احسان اصلہ الذلک لکمک من غیر ظاہر یعنی احدہ حبیب ان اخذنا عندہم ینا لصدوقہ النبی صلعم قال مرعشی ضوب عنقنا ذانہ ذانق فقال ما یدرک لعل اللہ اطلم علی اہل بدر فقال اعلوا ما شئتم فہذا الذی جہا۔ یہاں اس عورت کے خطیبے سے نکال دینے کا ذکر ہے۔ ۱۳۹۷ میں اس کے جوڑے سے نکال دینے کا ذکر ہے۔ اس وقت کو یہ جگہ دیکھی تھی کہ اگر تم خدا نکال کر دو گے تو تمہارا باس اتار دیا جائیگا اسی سے عثمان باب ۱۰ اور حدیث کی تیار میں جو ذکر ہے کہ حضرت علی کو کس بات سے خوزیری سے پدید کیلے تو اس کا جواب گویا حدیث کے آخری الفاظ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ سنالی بدر کے متعلق کہ ہے اعلوا ما شئتم۔ مگر ذہن انفاذ کا یہ مطلب ہے کہ اہل بدر جو جگہ چاہیں کریں حضرت علی نے بلائے خوزیری کی بغیر اسلام کے رشے کوئی شخص بھی کوئی گناہ کرے وہ اسکی جواب دہ ہے ایک شخص فدائی ہے جہاں وہ کہتا ہے اور زبردست ہمارا کہتے مگر خود کسی کرتا ہے وہ خود کسی کی منزل سے نہیں آگیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاں بدظنون کسی مشکلات کے وقت اسلام کا ساتھ دیا اسلام کے دشمن نہیں ہو سکتے اور حاطب جو بدر میں گیا ہے قابل قبول ہے۔ حاطب خود بھی کسی کتاب کے کافر تھا اور اذودت للاسلامہ الاحباب۔ اسلام سے محبت لینے والا اسلام کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی نفل یا نفل کے تو اسکی اسی توجیہ نہ کیجئے جس سے وہ دشمن اسلام قرار پاتا ہو کہ مغازی کے قریب کتاب النبی صلعم الی کسی تہذیب میں آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے تو اس سے تھے

ملاحظہ فرمائیے ان النبی صلعم کان اذا نظر کبرئیتا قال انہون ان شاء اللہ تاہون عابان حامدن لہنا صاحبین صدق لہ وعدہ ورضی عبد وھزم۔ لا حارہ لہ

۱۳۹۹ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْفَلَةٌ مِنْ

انہن سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب آپ عسفان سے

عُسْفَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَىٰ أُحْلَبَةَ وَقَدْ أَرَدْنَا صَفِيَّةَ بِنْتِ

واپس ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اڈائی پر سوار تھے اور اپنے بچے سفیر بنت جی کو لٹھیا

حَيْثُ نَعَزَّتْ نَاقَتَهُ فَصَرَ عَاجِمِيْعًا فَانْتَحَمَا بَوَطْلَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ

تھا کہ آپ کی اڈائی نے ٹھکر کھائی اور دونوں گھڑے اور گھوڑے اپنے اپنے اونٹ سے گورہے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

فَدَأَاكَ قَالَ عَلَيْكَ الْمَرْأَةُ نُقِلَبَ نُوْبَاعِلَ وَجْهَهُ وَأَتَاهَا فَالْقَاهَا عَلَيْهَا وَ

قرآن کرے آپ نے فرمایا عورت کی عمرو انہوں نے اپنے سر پر کھڑا ڈالا اور حضرت صفیر کے پاس آئے اور اس پر لڑنے کو ان کے لیے

أَصْلَهُ لَهْمَا مَرَكِبَهُمَا فَرَكِبَاهَا وَالتَّنْفَارُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَشْرَفْنَا

ڈال دیا اور دونوں نے سواری ٹھکر کر دی تب دونوں سوار ہوئے اور ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہوئے جب ہم کو وہ بیڑا نظر

عَلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ أَيُّوْنُ تَأَيُّوْنُ تَأَيُّوْنُ عَابِدُونَ رَبِّنَا حَامِدُونَ فَلَمَّ يَنْزِلُ يَقُولُ

آئے گا تو فرمایا رہم! ہوتے وہ ہے جو کہ ٹھنڈے عبادت کرنے والے اپنے رب کی تعریف کرنے والے یہ فرمائی کہتے رہے

ذَلِكَ حَتَّىٰ دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ (م - ۱۳۳۸) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (م - ۱۳۹۹)

یہاں تک کہ وہ بیڑے میں داخل ہوئے

بَابُ الصَّلَاةِ إِذَا قَامَ مِنْ سَفَرٍ (م - ۱۳۳۹) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (م - ۱۳۸۸)

باب نماز پڑھنا جب سفر سے لوٹ کر آئے

۱۳۹۹ عَنْ كَعْبِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنْ سَفَرٍ صَحِيحٍ دَخَلَ

جب سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تو اس کے

الْمَسْجِدِ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُسَ (م - ۱۱۹۹) بَابُ الطَّعَامِ عِنْدَ الْقُدُومِ وَ

کہ بیٹھیں مسجد میں جا کر دو رکعت پڑھ لیتے یہ باب سفر سے واپسی پر کھانا کھانا اور

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ لِمَنْ يَغْشَاهُ (م - ۱۲۲۰) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (م - ۱۰۴۵)

ابن عمر اس شخص کی خاطر جو آپ کے پاس آجاتا ہذا ہذا ہذا

(م - ۱۲۲۰) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (م - ۱۰۴۵) (م - ۱۲۲۱) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (م - ۱۰۴۵)

دیکھو حدیث ۱۰۴۵

یہ عسفان کے ایک صحیح علاقہ میں بنو حنیان رہتے تھے جنہوں نے عامر کے سر پر کو رجح میں تل لیا تھا۔ ان کو سزا دینے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چند سو صواہر لے کر تشریف لائے تھے یہ غزوہ بنو حنیان کے نام سے مشہور ہے۔ اسی سے واپس آنے کا ذکر ہے کہ صفیر سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح فرمودہ خبرت واپسی کے وقت رستہ میں ہوا تھا اور بنو حنیان کا غزوہ ہوا اس سے پہلے ہو چکا تھا۔ اس لئے عسفان سے آپ ہی کا ذکر صحیح نہیں ہو سکتا۔ شاید خبرت واپسی ہو

عسفیة من امی الفان سے الباب المساجد میں گذرے وہ ملک میان یہ لفظ ہیں۔ کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فلما قدامنا المدینة قال لی ادخل المسجد فصل رکتین۔ اصل میں یہ ۱۰۴۵ کا ایک ٹکڑہ ہے وہ یہ کہ کعب کی اس ہی حدیث کا ٹکڑہ ہے جو غزوہ تبوک میں ۱۰۴۵ پر آتی ہے وہ بلا کر روایت ہوا کا ایک ٹکڑہ ہے مگر وہاں یہ ذکر نہیں ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المدینة فخر جزوا او بقرة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دینے پہنچے تو ایک اونٹ یا ایک گائے ذبح کی۔ اسی سے عنوان ہے، یہ کہ بیان روایت تفسر ہے۔ اشقری معی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد اربعین ودرهم اد درہمین فلما قدم صرارا ایک مقام کا نام امر بقرۃ ذبیت فاکلوا منها فلما قدم السدینۃ امرنی ان اتی المسجد فاصلى رکتین ووزنی لی ثمن البعیر یہ کمر روایت معلق ہے۔ اسے سب نے موصوفا بیان کیا ہے۔ یہ کمر روایت صرف اس قدر ہے۔ قد مت من سفر فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصل رکتین۔ یہ حدیث اور اوپر کی دونوں حدیثیں دراصل ایک ہی ہیں۔ اور یہ تفسر ہے جس میں ذبح بقر کا ذکر نہیں ہوا اس کے آخر میں ہے صرار و وضع ناحیة بالمدینة

(بقیہ صفحہ ۶۹۹)

فَخَصَبَتْ فَأُطِرَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ تَزَلْ مَهَا جَرَّتَهُ

اس پر حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ناراض ہو گئیں اور حضرت ابوبکر سے قطع تعلق کرنا اور ان سے قطع تعلق ہی رہا

حَتَّى تُوَفِّيَتْ وَهَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ قَالَتْ وَكَانَتْ

یہاں تک کہ وہ وفات پائی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چھ ماہ زندہ رہیں حضرت عائشہ نے کہا اور حضرت فاطمہ

فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَا بَكْرٍ تَصِيدَهَا مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرٍ وَفَدَّكَ

حضرت ابوبکر سے اس دہانہ میں سے لپٹنے کے واسطے کہ وہ اس کی بیعتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ اور فدک

وَصَدَقَتَهُ بِالْمَدِينَةِ فَبَلَغِي أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهَا ذَلِكَ وَقَالَ لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَتْ رَسُولُ

اور مدینہ کے حصے میں سے چھوڑا تھا اور حضرت ابوبکر نے ان کی اس بات کو نہ مانا اور فرمایا میں اس بات کو نہیں چھوڑتا جو رسول اللہ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ تَرَكَتَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ

صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے مگر اسی طرح کروں گا کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں آپ کی کوئی بات چھوڑوں

دشمن کے حصے کو
پر میں صدقہ نہیں
اور آپ نے اپنے
سے ترکہ کوئی قرار
نہیں دیا سب
قرار دیا ہے۔ پس
یہ حدیث قرآن کریم
کے مخالف نہیں اور
اس حدیث کی محبت
پر یہ امر شاذ ہے
کہ اس کو حضرت

ابوبکر نے ایک عظیم الشان مقدمہ کے فیصلہ کے وقت پیش کیا۔ یہ مقدمہ کسی معمولی شخصیت کی طرف سے نہ تھا، انحضرت صمیم کی صاحبزادی کی طرف سے تھا۔ اگر صحابہ رضی اللہ عنہم اس حدیث پر متفق نہ ہوتے تو کوئی توبیح میں سے بول اٹھتا کہ ہم نے یہ حدیث نہیں سنی۔ یا کم سے کم حضرت فاطمہ کی اس حدیث کا انکار کرتیں۔ وہ گونا گونا گویں تو ہو گئیں لیکن حدیث کا انکار انہوں نے نہیں کیا۔ حضرت علی نے کیا مذکسی اور شخص نے۔ پس اس حدیث پر اس وجہ سے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً ہی بعد پیش ہوئی، سب صحابہ کا اجماع ہے۔ اس سے اختلاف کرنا یا اجماع میں سے ایک بھی نہیں۔ بہت ہی کم ایسی احادیث ہیں جو کہ اجماع صحابہ کا مرتبہ حاصل ہے، اس سے انہی حدیث یعنی حدیث میں آتا ہے کہ ایک اچھے مجمع میں جس میں حضرت عثمان، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت علی اور حضرت عباس موجود تھے ان سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سچ ہے یا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرث ما ترکنا صدقہ۔ تو سب نے کہا ہاں یہ سچ ہے کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد اس پر بھی باجماع ایک دفعہ ہوا اور حضرت عمر کے زمانے میں اجماع کا اجماع پھر اس پر ہوا، حضرت علی اور حضرت عباس نے بھی اسے صحیح تسلیم کیا، اتنا بڑا مرتبہ اور کتنی حدیث کی حامل ہے وہ دوسرے اس میں حضرت ابوبکر کی کوئی غرض بھی نظر نہیں آتی۔ ان کی اپنی صاحبزادی حضرت عمر کی صاحبزادی انحضرت صمیم کی بیوہ تھیں۔ تو اگر تھا تو کوئی جرم تو انہیں تو ان کی صاحبزادیوں کو بھی ان میں سے حصہ دینا میں فیصلہ جس طرح حضرت فاطمہ کے خلاف تھا خود حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے بھی خلاف تھا۔ اگر واقعات کو دیکھا جائے تو مدینہ کے اموال اور خیمہ اور فدک کے اموال کیا چیز تھے۔ حدیث کی زمینیں تو یہی تھیں جس سے حاصل کر وہ تھیں جو بقیہ جنگ کے حاصل ہوئی تھیں۔ اس لئے لڑنے کے حکم کے ماتحت وہ بیت المال کا حصہ تھیں۔ کیونکہ نے سب بیت المال میں داخل ہوتی تھی۔ ان اموال کا خاص ذکر قرآن کریم میں ان الفاظ میں ہے۔ مَا آفَاءَ لِلَّهِ عَلَيِّ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَاللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَعَمَّا يَكْفُرُ الْإِنشِرَ۔ ہاں جو اللہ نے اپنے رسول کو بیت المالوں سے دلایا ہے تو وہ اللہ کے لئے اور رسول کیلئے اور قریبیوں کیلئے اور یتیموں اور مسکینوں اور سب کے لئے ہے، ہاں کہ تم میں سے دولت مندوں کے لئے اور پھر ہمارے ہاں جو چیز صرف رسول کے لئے نہیں بلکہ رسول کے ساتھ قریبیوں اور مسکینوں اور یتیموں اور سب فروع کے لئے بھی ہے ظاہر ہے کہ وہ رسول کی ملکیت نہیں بلکہ بیت المال کی چیز ہے جس میں سے رسول بھی اپنی ضروریات کے مطابق لے لیا اور مسکینوں یتیموں وغیرہ کو بھی دیتا رہے گا۔ رسول اس پر بادشاہ ہونے کی حیثیت میں مشرف ہے اور اس کا تصرف بطور امین ہے۔ دوسرے اموال خیمہ کی زمینیں تھیں۔ اس کا مال غنیمت تو سب کا تقسیم ہو گیا مگر اس کی اراضیات میں سے نصف مسلمانوں کی تقسیم کر دی گئیں اور نصف حکومت کے پاس رہیں۔ اور اس میں اراضیات غنیمت میں شامل نہیں بلکہ وہ حکومت کی ہی ملک ہیں۔ انحضرت صلہ نے ان میں نصف مجاہدین کو دے دیں نصف حکومت کے پاس رہنے دیں۔ پھر جو حصہ حکومت کے پاس رہا وہ بیت المال کا ہی جزو تھا۔ اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فاطمی ضروریات کے لئے بھی لیتے تھے۔ اور بیت المالی مسکین اور سب فروع کے لئے بھی خرچ کرتے تھے۔ اور جمادونی سبیل اللہ پر بھی خرچ کرتے تھے۔ پس خیمہ کا حصہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حیثیت لگانا نہ تھا بلکہ بادشاہ ہونے کی حیثیت میں آپ بیت المال کے مال میں جو تصرف چاہتے تھے فرماتے تھے۔ مگر آپ کے بعد آپ کے جانشین اس میں مشرف ہوں گے نہ آپ کے درشاہ اور فدک صلح سے لیا گیا تھا اس کا مال بھی اسی حکم میں تھا۔ ان تمام جائیدادوں یا اموال سے آپ اپنا سالانہ خرچ لیتے تھے اور پس۔ اور وہ بھی اس تنگی سے کہ وفات کے وقت آپ کی زندہ تیس صاع جو کہ عوض ایک بیوی کے پاس گرو تھی۔ اور باقی سب کچھ آپ قریبیوں مسکین، یتامی، مسکینوں اور جمادونی سبیل اللہ پر خرچ کرتے تھے۔ اسی کے مطابق حضرت ابو بکر نے عمل کیا۔ رہا یہ کہ حضرت فاطمہ کی بیعت نامہ راقن ہو گئیں تو یہ قطعاً سبب شریف ہے۔ حضرت ابوبکر کے دل کے کسی گوشے میں اس بات کا ہونا ناممکن تھا کہ جگر گوشہ رسول کو گونا گویں کریں۔ مگر جن کے معاملہ میں وہ اپنی ذات کی بھی پروا کرتے تھے۔ اور اس ناراضگی میں کہ حضرت فاطمہ کی بیعت نامہ تھیں مگر اس سے ان کی شان میں کچھ فرق نہیں آجاتا۔ ان کا مرتبہ وہی ہے کہ وہ سیدۃ النساء البتہ ہیں۔ حضرت ابوبکر کے ساتھ ناراضگی تو عنانمانی صدور دمہم من غل کا مصداق ہے۔

أَنْ أُرِيْعَهَا مَا صَدَقْتَهُ بِالْمَدِينَةِ ذَنْ فَهِيَ عَمْرٌ إِلَى حَيْثُ وَعَمَّا سِنْ فَمَا تَخَابِرُونَ وَذَكَرَ
تو میں میدھی راہ سے ہٹ جاؤں گا پھر آنحضرت صلعم کا ہمدرد ہوجاؤں میں تمہارے ساتھ تو حضرت عمر نے حضرت علی اور حضرت عباس کے جوانے کر دیا ہوا

فَأَمْسَكَهَا عُمَرُو قَالُوا هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ أَحْقُوقَهُ لِسْتَيْتِ
اور پھر اور ذاک کو حضرت عمر نے روک رکھا اور اپنے تقریب میں رکھا اور فرمایا یہ رسول اللہ صلعم کا ہمدرد میں یہ دونوں آنحضرت کے حق میں

تَعُودُهُ وَنَوَاتِبُهُ وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ قَبْلِي الْأَمْرُ قَالَ فَمَا عَلَيَّ ذَلِكُ إِلَى الْيَوْمِ
اور ہمزوریات کے لئے تھے جو آپ کو پیش آتی تھیں اور ان دونوں کا اختیار اس کا ہے جو اس پر کما وہ دونوں آج تک اسی طرح ہیں۔

(۱۷۴۰) عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَدَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ
ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک دن میں اپنے گھر والوں میں بیٹھا ہوا تھا اور دن چڑھا گیا تھا کہ حضرت عمر کا رسول اللہ صلعم

الْخُطَابِ يَأْتِيَنِي فَقَالَ أَحِبُّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ شَرَّ مَا فِي الْأَرْضِ مَعَهُ حَتَّىٰ ادْخَلَ عَلَيَّ عُمَرُ
یہ ہے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امیر المؤمنین تمہیں ملتا ہے میں اس کے ساتھ جاتا ہوں تاکہ آنحضرت عمر کے پاس پہنچا

فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمَالِ سَبِيْرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ مَتَّىٰ عَلَى وَسَادَةٍ مَنْ أَدْرَمَ
وہ ایک تخت پر جس پر چٹائی بھی ہوتی تھی بیٹھے تھے ان کے اور چٹائی کے درمیان کوئی جھونپڑا نہ تھا تاکہ بے ترتیب دے ہوئے تھے میں نہیں

فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسْتُ فَقَالَ يَا مَالُ إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ أَهْلُ آبِيَاتٍ وَقَدْ
اسلام علیہم السلام اور بیٹھے کیا فرمایا اب تک میرے پاس تمہاری قوم میں سے چند گھر والے آئے ہیں میں نے ان کے

أَمْرٌ فِيهِمْ بَرٌّ وَفِيهِمْ فَاقْتَبَضَهُ فَاقْتَبَضَهُمْ بَيْنَهُمْ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَمَرْتُ بِهِ غَيْرِي
لئے کچھ مال کا حکم دیا ہے اسے تو اس کے درمیان اقیم کر دینے عرض کیا کہ امیر المؤمنین اگر اس کے متعلق میرے پاس کسی اور

قَالَ قَبَضَهُ أَيُّهَا الرُّءُوفُ فَبَيْنَا أَنْ جَالِسٌ عِنْدَهُ آتَاهُ حَاجِبَةٌ يَرِيْفًا فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي
کو حکم دینے کو میرے پاس آئی تو میری آنکھ پاس پہنچا ہی تھا کہ ان کو دربان نے فرمایا

عُثْمَانُ وَعَجْبِدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ يَسْتَأْذِنُونَ قَالَ لَعَمْرُ
عثمان اور عبدالرحمن بن عوف اور زبیر بن عوف بن ابی وقاص سے ملنا چاہتے ہیں وہ سنے کی اجازت جانتے ہیں فرمایا ان

فَإِذَنْ لَهُمْ فَدَخَلُوا فَاسْتَمَوْا وَجَلَسُوا ثُمَّ جَلَسَ يَرِيْفًا يَسِيرًا ثُمَّ قَالَ هَلْ لَكَ فِي بَنِي عَبْدِ
اور ان کی اجازت دیدی وہ اسے اور اسلام علیہم السلام کو بیٹھے گئے پھر حضور ہی دیر پر بیٹھا رہا پھر کیا آیا اب علی اور عباس سے من چاہتے ہیں

قَالَ نَعَمْ فَإِذَنْ لَهُمَا فَدَخَلَا فَسَلَمَا فَجَلَسَا فَقَالَ عَبَّاسُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضُ
فرمایا ان انکو بھی اجازت دیدی وہ اسے اور اسلام علیہم السلام کو بیٹھے گئے عباس نے کہا

بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا وَهِيَ مَخْتَصِمَةٌ بَيْنَا فَأَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
درمیان فیصلہ کر دی اور دونوں میں اس جگہ اٹھا جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو

مِنْ بَنِي لُثَيْمٍ فَقَالَ الرَّهْطُ عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضُ بَيْنَهُمَا
بنو لثیم سے دلائی تھی پھر گروہ صحابہ اور حضرت عثمان اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ امیر المؤمنین ان کے درمیان فیصلہ کریں اور

أَرْضٌ أَحَدُهُمَا مِنَ الْأَخْرَقِ قَالَ عُمَرُ تَيْدٌ لَمْ أَشْأَدْ لَمْ بِاللَّهِ الَّذِي يَأْذِنُ بِقُوَّةِ السَّمَاءِ
ایک کو دوسرے سے صلح کر دی حضرت عمر نے فرمایا زور دھیر کہ تم سے اس خدا کا واسطہ دیکر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے آسمان اور زمین

وَالْأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورُتُ مَا شَرْنَا
قائم ہیں کیا تم سب جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا وارث توئی ہیں جو تا جہم پہنچیں

علی حضرت عمر امیر
بنی نصیر یا مدینہ کی
جاہلہ کا حضرت علی
اور حضرت عباس کے
جوانے کرنا بطولیت
نہ تھا بلکہ جاہلہ بیت
المال کی بی بی ہی۔
حضرت علی اور حضرت
عباس اس کے انتظام
پر مامور ہوئے تھے
تاکہ اس کی آمدنی کو
ٹھیک محل پر لگاتے
ریں۔ پھر دونوں میں
بہم جھگڑا نہیں ہو گیا
کیونکہ انکی حدیث
میں آتا ہے کہ
میں جیسا کہ اس حدیث
کے آخر سے معلوم ہوتا
ہے یہ جھگڑا حضرت
علی اور حضرت عباس
کے درمیان صدقہ
مدینہ کی ولایت تقریب
کے بارے میں تھا
حضرت عمر نے صدقہ
مدینہ اس شرط پر ان
کے لئے اذکار کیا تھا کہ وہ
اس میں اس طرح تصرف
کریں جس طرح رسول
اللہ صلی اللہ علیہ
وسلمہ اور حضرت ابوبکر
نے اور جس طرح حضرت
عمر نے دو سال اس
میں تصرف کیا مگر
ان میں نا انصافی ہوئی
اور جھگڑا حضرت
عمر کے سامنے پیش
کیا۔ ابو داؤد کی روایت

میں ہے کہ حضرت عمر نے جاہلہ صدقہ مدینہ کو تقسیم کر کے ہر ایک کو ایک ایک حصے کا تصرف بنا لیا۔ لیکن پھر اس بات سے رک گئے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دونوں
بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کا تقاضا تصرف ایک ایک کر دیا جائے۔

صَدَقَةٌ يَرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ قَالَ الرَّهْطُ قَدْ قَالَ ذَلِكَ فَأَقْبَلَ

وہ صدقہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت اسمی ذات مراد لیتے تھے اس جماعت نے کہا انھیں منصر لے بیٹھ کہ فرمایا ہے

عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَقَعْبَاسٌ فَقَالَ أَسْتَدْرِكُ اللَّهَ أَعْلَمَانِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

پھر حضرت عمر حضرت علی اور حضرت عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم دونوں سے اللہ کا واسطہ لے کر یہ جیسا ہوں کیا تم دونوں جانتے

وَسَمِعَ قَدْ قَالَ ذَلِكَ قَالَتْ فَمَاذَا قَالَ عُمَرُ فَإِنِّي أَحَدُكُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ

ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دونوں کا ہے تک یہ فرمایا ہے حضرت عمر نے فرمایا میں تم کو اس مسئلہ کے متعلق سمجھتا ہوں

إِنَّ اللَّهَ قَدْ خَصَّ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا النَّفَقِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطَهُ أَحَدًا

اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مالِ نفقت کے بارے میں ایک خصوصیت دی ہے جو آپ کے سوا کسی کو نہیں دی گئی

غَيْرُهُ ثُمَّ قَرَأُوا مَا آتَاهُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ أَلَى قَوْلِهِ قَدْ بَرَكْنَا هَذِهِ خَالِصَةٌ

پھر یہ آیت پڑھی وہاں آفاؤ اللہ الخ الحشر ص ۶ اور جو اللہ نے اپنے رسول کو مالِ نفقت ان سے دیا ہے وہ بالکل سواہ صحت

لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَا أَحْتَا زَهَادًا وَكَمًّا وَلَا اسْتَأْتَرُ بِهَا عَلَيْكُمْ قَدْ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہی تھا زہد اور کسب اللہ کی قسم انھیں جھوٹ کر اسے اپنے لئے جمع نہیں کیا اور اس میں اپنے

أَعْطَاكُمْ وَبَثَّمَا فِيمَا كَسَبْتُمْ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ نَكَاحٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

آپ کو تم پر ترجیح دی کہ تم لوگوں کو یہ مال دیا اور تم میں ہی تقسیم کیا گیا تاکہ اس سے یہ مال رہ جائے رسول اللہ صلی اللہ

وَسَمِعَ يُنْفِقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ نَفَقَةً سَتَرْتُمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيُجْعَلُهُ

اپنے پھر دہریوں کو مالِ نفقہ اس مال سے دیکرتے تھے

يَجْعَلُ مَالِ اللَّهِ فَعَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ حَيَاتَهُ أُنْشِدُكُمْ

مجھ جیسے (یعنی چنادیں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی یہ عمل کیا میں تمہیں اللہ کا

بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ قَالُوا نَعَمْ ثُمَّ قَالَ لِعَبْرَةٍ أُنْشِدُكُمْ يَا اللَّهُ هَلْ

واسطہ دیکر پوچھتے ہوں کہ کیا تم اس بات کو جانتے ہو انہوں نے کہا ہاں پھر حضرت علی اور عباس سے فرمایا تم دونوں سے اللہ کا واسطہ

تَعْلَمَانِ ذَلِكَ قَالَ عُمَرُ ثُمَّ تَوَقَّى اللَّهُ نَبِيَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّا

دیکر پوچھتے ہوں کہ کیا تم دونوں اس بات کو جانتے ہو انہوں نے کہا ہاں حضرت عمر نے فرمایا چھرا شرتے اپنے نبی صلعم کو ذات ذی حضرت ابو بکر

رَضِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَقَبَضَ أَبُو بَكْرٍ فَعَمِلَ فِيهَا بِمَا شَاءَ رَسُولُ

نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوں حضرت ابو بکر نے اسے قبضہ میں لے لیا اور اس میں اسی طرح تصرف کیا جس طرح

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ يُعْطِيهِ إِنَّهُ فِيهَا لَصَادِقٌ يَا زُرَّاشِدُ تَابِعَ الرَّحْمَنِ ثُمَّ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور اللہ شرفا ہوتا ہے کہ وہ اس بارے میں کچھ ٹیک اور سپرد ہمو راہ ہر حق کے پیر ہوتے پھر

تَوَقَّى اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمَّا كُنْتُ أَنَا وَرَضِيَ إِلَيَّ بَكَرٍ فَنَقَبَضَهَا سَنَتَيْنِ مِنْ أَمْرِي أَعْمَلُ فِيهَا

اللہ نے حضرت ابو بکر کو ذات ذی تو میں حضرت ابو بکر کا جانشین بنوئے اسے اپنی حکومت کے دو برس اپنے قبضہ میں رکھا اس پر حضرت

بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ رَأْيِي فِيهَا

کرنا تھا اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کرتے تھے اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس بارے

لَصَادِقٌ يَا زُرَّاشِدُ تَابِعَ الرَّحْمَنِ ثُمَّ جِئْتُمُنِي لِكَلِمَاتِي وَكَلِمَتُكُمْ وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكُمْ

میں سچا ٹیک ہے رستہ پر تم کا پیر ہونا پھر تم دونوں میرے پاس مجھ سے گفتگو کرنے آئے تم دونوں متفق تھے اور

میں خصوصیت ہے کہ چونکہ ان پر حج سے نہیں ہونی سنی لڑنے والوں اس میں لیا کا حق نہ تھا اور اس کا احترام اور تصرف انھیں ہی کے ہاتھ میں رکھنا ہی صحیح ہے اس لیے یہاں یہاں فرمایا کریں۔ چنانچہ انھیں ہی کے ہاتھ میں حصہ لینے ہاتھ میں رکھ کر باقی کو حاجت میں لیسیم کر دیا اور حاجتوں کے ہاتھ میں لیا کی جو حاجتوں میں وہ انہوں کو نہیں کر دینے کی وجہ سے ضرورت نہیں اس کا نہ تھا لیکن رسول اللہ صلعم کے سامنے اس کے فریج کرنے کا نتیجہ آپ کو تھا کہ اس فریج کریں۔

ہم خیال کرتے ہیں نبی صلعم کا نام نہیں کیا کہ اس کی روایت میں اس کی جگہ یہ لفظ نہیں فرمایا گیا کہ ذابا انشا خائنا خاؤر اور ما لہ بعلم اندھا صا دن انھوں نے خیال کی تردید کی ہے پھر سلم کے یہ لفظ جو روایت شیب میں امام بخاری کی روایت م ۱۹۱ میں نہیں جو وہی روایت خیر ہے سلم کے الفاظ بعد کے کسی راوی کے خیال سے داخل ہو گئے ہیں

وَأَحَدٌ جِئْتَنِي يَا عَبَّاسُ سَأَلَنِي نَصِيْبَكَ مِنْ ابْنِ أُخِيكَ وَجَاءَنِي هَذَا أَمِيرٌ مِنْ عَدُوِّهِ

مَقْدُودٌ دُونَكَ كَأَنَّكَ تَقْرَأُ مِنْ كِتَابِي أَوْ تَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ مَنْ يَتْلُوهُ مِنْ عَدُوِّهِ

يُرِيدُ نَصِيْبَ أَمْرٍ آتَاهُ مِنْ أَبِيهَا أَنْفَلْتُ لَكُمْ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ لَا تَوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً غَلْمًا بَدَأَ ابْنُ أَبِي قَتَابَةَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْكُمْ قُلْتُ إِنْ شِئْتُمْ

دَفَعْتُمْ إِلَيْكُمْ عَلَى أَنْ عَلَيْكُمْ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ لَتَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا جَمَلُ فِيهَا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْأَعُمَلُ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ وَيَسْأَعُمَلُ فِيهَا مَنْ

وَلَيْتُمْ قُلْتُمْ أَدْفَعُهَا إِلَيْكُمْ فَذَلِكَ دَفَعْتُمْ إِلَيْكُمْ فَأَشَدُّكُمْ بِاللَّهِ هَلْ دَفَعْتُمْ

إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ قَالَ الرَّهْطُ نَعَمْ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ وَعَبَّاسٌ فَقَالَ أَشَدُّكُمْ بِاللَّهِ

هَلْ دَفَعْتُمْ إِلَيْكُمْ بِذَلِكَ قَالَ لَا نَعَمْ قَالَ فَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءَ غَيْرِ ذَلِكَ

فَوَاللَّهِ الَّذِي يَأْذُنُهُ تَقْوَمُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ لَا أَقْضِي فِيهَا قَضَاءَ غَيْرِ ذَلِكَ فَإِنْ

عَجَزْتُمْ عَنْهَا فَأَدْفَعُهَا إِلَيْ فَرَأَيْتُمْ لَيْسَ فِيهَا مِنْكُمْ بَابُ آدَاءِ الْخَمْسِ مِنَ الَّذِينَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مكرر - ۱۲۸۰) بَابُ نَفَقَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ (مكرر - ۱۲۸۰) بَابُ نَفَقَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ (مكرر - ۱۲۸۰) بَابُ نَفَقَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ (مكرر - ۱۲۸۰) بَابُ نَفَقَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ (مكرر - ۱۲۸۰) بَابُ نَفَقَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ (مكرر - ۱۲۸۰) بَابُ نَفَقَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ (مكرر - ۱۲۸۰) بَابُ نَفَقَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ (مكرر - ۱۲۸۰) بَابُ نَفَقَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ (مكرر - ۱۲۸۰) بَابُ نَفَقَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ (مكرر - ۱۲۸۰) بَابُ نَفَقَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ (مكرر - ۱۲۸۰) بَابُ نَفَقَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

علا میں اس کی تک
نہیں کہ انھیں معلوم
پنا فرما بھی اس حال
سے لیتے تھے اور اپنے
قریبوں کو بھی اس میں
سے دیتے تھے جیسا کہ
آیت میں صراحت ہے
مذکور ہے تو ان کا ہر
علی اور حضرت عباس
یہ منشا ہو گا کہ جب
اس ساری جاہلاد
رہا کہ قریبوں کو بھی
میں کچھ حصہ دے دیا
کہیں جانتے ہے اور
خدا کی راہ میں خرچ ہوا
تو ذریعہ القری
کا حصہ ہے ہی لگ
کر کے ان کو دیا جا
تاکہ ان رعایا بیدار
ہوں گے حضرت فرمے
اسے بھی ہرگز نہیں
سمجھا اور اسوال نبی
نصیب کا اہل بیت
تو ابو بکر کے سپرد
کیا گیا کہ ان کو
المان کی رہے کہ
اور ماہی وہ آپ کے
تقسیم کر دیا کریں
مطلب جیسا کہ اوپر
برایت ابو ہریرہ
مذکور ہے وہ دونوں

بَابُ آدَاءِ الْخَمْسِ مِنَ الَّذِينَ
بَابُ نَفَقَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ

بَابُ نَفَقَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ

بَابُ نَفَقَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ

علاحدہ موقوف ہوئے ہیں ان کو بھی خمس ملا جو جو گھر میں ہے اسے اس پر لگانا کرتی رہیں ہذا گھر روایت مختصر ہے۔ مانتہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام والبیضاء وغیرہ اور رضا لکھا حدیث اور حضرت سیرت لکھا حدیث کے گھر ہے جعلها صدقات - عام طور پر وہ زمین ہے آنحضرت نے صدقہ چھوڑا انبیاء کی وہ زمین قرار دی جاتی ہے جو آنحضرت کے تصرف میں تھی جیسا کہ حدیث میں ہے اسی کے متعلق ہے صدقہ تالیف فی غیرہ زمین اور فدک جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ

بجانب

ذکر لیدر لا شطر شعری فی رتی فا کلت منه حتی طال علی فیکلتہ ففنی
 جے کوئی گھروں کا بازار لکھ سکے سوائے گھر کے تو غراب میں پلے ہے اس سے کسی بی بیوں تک لیکر جو گھر کے ہیں اسے لکھنا پورا سو دن ہر گزے ملا

۱۴۲۵ (م) عن عمر بن الخطاب (م) ۱۲۶۰ (م) باب ما جاء فی بیوت
 دیکھو حدیث ۱۲۶۰ باب جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے

از واج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما نسیب من البيوت ايها من قول الله تعالى
 کے گھروں کے بارے میں آیا ہے اور جو گھر ان کی وصیت منسوب ہے ادا اللہ تعالیٰ کا قول

و قرن فی بیوتکم ولا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم (م) ۱۴۲۶ (م)
 اور جو گھروں میں رہو رانا تو اب (۳۳۳) اور اس سے تو تم ہی کے گھروں کے اندر نہ جاؤ جیسا کہ بیس جازت نے والا اب (۳۳۳)

عائشہ (مکثور- ۱۶۱) (م) ۱۴۲۶ (م) عن عائشہ (مکثور- ۵۲۹) (م) ۱۴۲۸ (م) عن علی
 دیکھو حدیث ۱۶۱ دیکھو حدیث ۵۲۹

ابن حسین (مکثور- ۱۰۱۶) (م) ۱۴۲۹ (م) عن عبد الله بن عمر (مکثور- ۱۲۶) (م) ۱۴۵۱ (م)
 دیکھو حدیث ۱۰۱۶ دیکھو حدیث ۱۲۶

عن عائشہ (مکثور- ۳۵۱) (م) ۱۴۰۳ (م) عن عبد الله بن عباس (م) ۱۴۰۳ (م) عن عبد الله بن عباس
 دیکھو حدیث ۳۵۱ عبد اللہ بن عباس سے روایت ہے کہ اسوں نے اس حدیث میں لکھی ہے کہ

خطيبا فاشارة نحو مسكين عائشہ فقالت هذا الفئدة ثلثا من حيث يطعم قرن الشيطان
 کوئے ہوئے تو حضرت عائشہ کے گھر کی جانب اشارہ کیا اور تین مرتبہ فرمایا اور یہی فقہ نے کہا ہے جہاں سے شیطان کا گروہ نکلے گا وہ

۱۴۵۱ (م) عن عائشہ (مکثور- ۱۲۴) (م) ۱۴۲۱ (م) باب ما ذكر من دفع النبي صلى الله
 دیکھو حدیث ۱۲۴ باب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے

عليه وسلم وعصاة وسفهاء وقد حرم وخاتميه وما استعمل الخلفاء بعده
 اور پکے عصا اور آپ کی تلوار اور آپ کے پیلا اور آپ کی نوک کے صلح بیان کیا جاتا ہے اور جو ان میں سے غفارتے تو پکے صلح بیان

من ذلك مما لم يرد كتر قسمة و من شجرة ونعله و ابيته و ما يتبرك اصحابه
 جس کے ہاتھ کا ذکر نہیں ادا آپ کے ہاں اور جو تورا اور برتن جو آپ کے صحابہ وغیرہ آپ کی وفات کے

تصرف میں تھے وہ بھی صدقہ ہے یعنی بیت المال کا حق تھا جس کے ساتھ عامۃ ان کے مس عقوق واستحقاق ہذا ان گھروں کو ایک آیت میں بیوت کہن کہا گیا ہے یعنی
 ازواج کے گھروں اور دوسری میں بیوت النبی یعنی جس کے گھر اور عاریت باب میں انہیں ماہوار صلوات کی طرف ہی منسوب کیا گیا ہے۔ گویا یہ گھرانے ہی تھے اور ان کو بھی
 کریم صلح کا ذکر نہ فرمایا جاسکتا تھا مگر وہ انہیں بطور ورتہ نہیں ہے اور انہیں کارمیت المال اور حکومت کی طرف ہی ان کا متعلق ہوا اور ان کے دشمنان کی طرف نہیں ہوا۔ ہذا
 مکہ روایت میں ۱۶۱ کے شروع کا ایک مختصر سا گروہ دوہرایا گیا ہے لہذا نقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاذن ازواجہ ان یعرض فی بیوتہ فاذن لہ ۱۶۱ مکہ روایت
 کے معنیوں میں کسی بیشی ہے۔ قرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتی دنی فوبی دیں بحوری دخری۔ یہ حدیث ۱۶۱ میں گذرا ہے۔ اس کے بعد ہے جو صحابہ اللہ بن ربیعہ
 اس کے بعد حدیث ۱۶۱ میں اختلاف ہے دوہرایا گیا ہے۔ قاتل دخل عبد الرحمن بن عوف فضعت النبی صلعم عندنا فخذنا ثمن فضعت شمس سننہ بہ ۱۶۱ مکہ روایت تقریبی
 ۱۶۱ کے الفاظ میں دوہرایا گیا ہے۔ البتہ فی العشاء الا و اخر من رمضان کے بعد نفس مت عندنا ساعتہ کے لفظ اور فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم معہا کے لفظ لہذا
 لفظ۔ اور علی و سلم کا بعد انما ہی صفیۃ بنت حمی کے لفظ بیان نہیں۔ عزراں کا حقن عندنا باب تکلمتہ سے ہے۔ گویا اسے ہم سلم کا گھر فرمایا۔ مکہ روایت
 مختصر ہے۔ اور فقہت فوق بیت حفصہ را سے معنون ہے) فرمایا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقضی حاجتہ مستقبلا القبلہ مستقبلا الشامہ ۱۶۱ میں ۱۶۱
 آخری گروہ دوہرایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصور الخمس لہ تخرج من حجر عماء ۱۶۱ اس کی تشریح کتاب الفتن میں آئیگی۔ قرن کے منے سری
 میں اور گروہ اور جماعت بھی اس سے مراد لی جاتی ہے اور قرن الشیطان کے مجازے قرن الشمس ہی ایک روایت میں ہے یعنی بدھ سے سورج نکلتا ہے۔ حضرت
 عائشہ کا گھر سری کے مشرق میں تھا۔ تو آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کیا کہ مشرق سے نئے انہیں گئے۔ وہاں گومرف کا رشتہ والا ہے گراس کا گھر بھی مشرق کی طرف ہے یہ بتلایا
 ہذا مکہ روایت کے فقرہ تقریبی ہے۔ البتہ بیان یہ لفظ نہیں فقالت عائشہ لو کان فلان حیا لعہا من الرضاۃ دخل علی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم

وغيرهم بعد وفاته (۱۴۰۴) عن انس ان ابا بكر رثنا استخلف بعثة الى البحرين

بعد تبرک تھے بل اس سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر جب خلیفہ ہوئے تو مجھے بحرین کی طرف بھیجا

وكتب له هذا الكتاب وختمه وكان نقش الحاشم ثلثة أسطر محمد سطر ورسول

اور یہ ہوا نسخہ اور اس پر تین سطر تھیں محمد ایک سطر اور رسول ایک

سطر والله سطر (۱۴۰۵) عن عيسى بن همام قال اخرج ابينا انس نعلين

ستر اور ان کا ایک سطر ملا عیسیٰ بن ہمام سے روایت ہے کہ اس نے ہمارے پاس دو پرانی چرتیاں نکالیں

جرد اوين لهما قبا لرن محدثي ثابت بن عيسى بعد عن انس انهما نعلان النبي

بن پر دو تھے گئے ہوئے تھے تو ثابت ثانی نے بعد میں انس سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

صلى الله عليه وسلم (۱۴۰۶) عن ابي بردة قال اخرجت ابينا عائشة رفا كساء

کی چرتیاں ہیں ابو بردہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے ہمارے پاس

ملبد او قالت في هذا ائزرع زوح النبي صلى الله عليه وسلم وروني روايت اخرجت

ہوا کہیں نکال لائیں اور فرمایا اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو جہاں بھی تھی اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ

الينا عائشة ازار اغليطما مما يصنع باليمن وكساء من هذه التي يدعونها

ہمارے پاس ایک موٹا ترنہ نکال لائیں جو یمن میں بنتا ہے اور ایک موٹا کپڑا ان کپڑوں میں سے جن میں عیدہ

الملبدة (۱۴۰۷) عن انس بن مالك رفا ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم

کہتے ہیں بلکہ انس بن مالک سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ٹوٹ گیا

السكر فاخذ مكان الشعب سلسله من فضة قال عاصم زابت القدر و

توڑی ہوئی جگہ کو پانچوں کی زنجیر سے جوڑا عاصم کہتے ہیں میں نے وہ پیالہ دیکھا اور

شربت فيه (۱۴۰۸) عن علي بن حسين اثمهم حين قدموا المدينة من

اس میں رہا پیالی آپا علی بن حسین سے روایت ہے کہ جب وہ یزید بن معاویہ کے پاس سے مدینے

عند يزيد بن معاوية مقتل حسين بن علي رجمة الله عليه لقيه السورابن

حضرت یزید بن معاویہ کے قتل کے بعد آئے تو انہیں سوراب سے روئے

فخرمة فقال له هل لك راعي من حاجة تأمرني بها فنقلت له لا فقال له فهل

اور کہا کہ کیا آپ کا میرے متعلق کوئی کام ہے جس کا حکم مجھے دیں میں نے کہا نہیں تو پھر ان سے کہنے لگے کیا

انت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني اخاف ان يغلبك

آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار دے سکتے ہیں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ وہ آپ کو گلوبے

القوم عليه وايم الله لن اعطينيه لا يخلف اليهم ابد احثي تبلى نفس

آپ سے نہ لے میں اور اللہ کی قسم اگر آپ مجھے دے دیں گے تو یہ بھی نہیں ان کا نہ چھوگی یہاں تک کہ میری جان نکل جائے

ان علي بن ابي طالب خطب ابنة ابي جهل على فاطمة عليها السلام فسعدت

حضرت علی بن ابی طالب نے حضرت فاطمہ علیہا السلام کے نکاح کے دن ابو جہل کی بیٹی کو بھاجا نکاح بھیجا تو اس نے

رسول الله صلى الله عليه وسلم يخضب الناس في ذلك على منبره هذا وانا يومئذ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں لوگوں کو اس منبر پر خطبہ دینے سے روکنا اور میں اس وقت

علا مطلب یہ ہے کہ میں طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوض و برکات و اثرات میں تغیر نہیں ہوتے کیونکہ وہ ملکوت اور بیت المال کا حق تھا۔ اس میں جو منقول چیزیں تھیں اور بعض چیزیں تھیں وہ بھی وہاں خود ہی تقسیم نہیں ہوئیں۔ بعض چیزیں آپ کے جانشین کے پاس ہیں اور بعض اور صحابہ کے پاس ہیں جن چیزوں کا ذکر جہنم میں ہے ان میں سے ہر اور جو تاد اور تمحا کا ذکر کیا ہے کہ حدیث میں ہے کہ اولیٰ ان کا بھی ذکر ہے کہ حدیث میں ان کا ذکر ہے۔ زہد کا ذکر ہے اور صحابہ کا ذکر ہے اور ان کا ذکر ہے اور بالوں کا ذکر ہے میں ہے۔ یہاں تک کہ حدیث لہاب میں ہے اس کے حکم میں باقی رہتی ہیں۔

پاس ان کے ہاتھ سے لگتی۔ کتاب لباس و مساجد و حواصی کے لئے بھی کہے گئے ہیں کہ ان پر بال شے اور یہی کہہ کر وہ ہانی چرتیاں تھیں۔ اس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے تھے پرانی چرتیاں انہوں نے اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ مکمل ہوا وہ جو منہ کی طرح جو یعنی موٹا یا جس کو یزید لگا ہوا۔

وَدَرْتُمْ فَقَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي وَأَنَا الْخَوْتُمُ أَنْ تَفْنَى فِي دِينِهَا ثُمَّ ذَكَرَ صَهْرًا لَهَا مِنْ
 جوان تھا فرمایا میں تم سے ہوں اور مجھے ڈرتے ہو کہ وہ اپنے دین کے بارے میں ابتلا میں نہ پڑ جائے بلکہ پورا آپ نے
 بِنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَأَطْفَى عَلَيْهِ فِي مَصَاهِرْتِهِ أَيَاهُ قَالَ حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ قَيْسٍ وَوَعَلَى
 اپنے داماد کا ذکر کیا جو بنی عبد شمس میں سے تھا اور اس کی رشتہ داری کے بارے میں آپ نے اس کی تعریف کی فرمایا مجھ سے بات کی تو مجھ سے کچھ بولا
 فَوْنِي لِي دُرِّي لَسْتُ أُحْرَمُ حَلَا لَا وَلَا أَجِلُ حَرَامًا وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ لَا يَجْتَمِعُ بَيْنَ
 اور مجھ سے دھند کیا تو پورا کیا مجھ اور میں حلال کو حرام نہیں کرتا اور نہ حرام کو حلال کرتا ہوں لیکن اللہ کی قسم کہ اللہ کے رسول کی بیٹی
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي قُحَيْفَةَ
 اور اللہ کے دشمن کی بیٹی کبھی بھی اکٹھی نہیں ہوتیں ابن حنفیہ سے روایت ہے
 قَالَ لَوْ كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَكَرَ كَرَاهِيَةً يَوْمَ حَاءَ كَأَنَّ نَاسًا فَشَكَّلُوا سَعَادَةَ خَتْمِنَ فَقَالَ
 کہ اگر حضرت علیؑ حضرت عثمان کے خلیق کچھ شکایت کرتے تو اس وقت کرتے جب انکے پاس لوگ آئے اور حضرت عثمان کے خلیق کے دنوں کی شکایت
 لِي عَلِيٍّ إِذْ هَبَّ إِلَى عَثْمَانَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهَا صَدَقَةٌ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُرِّهَ
 کی تو مجھے حضرت علیؑ نے فرمایا حضرت عثمان کے پاس جا کر ان کو خبر دے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروانہ زکوٰۃ ہے سو اپنے
 سَعَادَاتُكَ يَعْمَلُونَ فِيهَا فَاتَيْتَهُ بِهَا فَقَالَ أَخْبَرْتَنِي بِهَا عَلِيٌّ فَأَخْبَرْتَهُ
 تحصیل امداد کو حکم دیں کہ وہ اس عمل میں لائیں ہیں ان کے پاس ہر روز زکوٰۃ لیکھا تو فرماتے تھے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے میں نے حضرت علیؑ کے
 فَقَالَ ضَعُفًا حَمِيْتُ أَخَذَ لَهَا رَهْمًا - ۱۴۵۲ عَنِ ابْنِ الْحَنْفِيَّةِ (مكرر - ۱۴۰۹)
 ہاں لایا اور انکو طلاع دی فرمایا جہاں اسے یا خدا میں رکھ دو مجھ
 (۶) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمْسَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَسَاكِينَ
 باب اس بات کی دلیل کہ پانچواں حصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات میں سے ہے اور مساکین کیلئے
 وَإِيثارُ الرَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الصُّفَّةِ وَالْأَرَامِلِ حِينَ سَأَلَتْهُ فَاطِمَةُ وَ
 اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان صف اور بچہ اور توتوں کو ترجیح دینا اس وقت جب آپ سے حضرت فاطمہ نے یہ سوال کیا کہ قید میں سے کوئی کئی ضرورت
 شَكَّتْ إِلَيْهِ الْعَنْقُ وَالرَّحَى أَنْ يُخْدَمَ مَهْرًا مِنَ الشَّبِيِّ نَوَ كَاهِلًا إِلَى اللَّهِ (۱۴۱۰) عَنِ عَلِيٍّ
 کہنے میں ان سے آپ نے فرمایا پینے اور چوسنے کی شے بیت کی اور آپ نے اسے اللہ کے حوالہ کر دیا حضرت علیؑ سے
 أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ اشْتَكَّتْ مَلْتَقَةً مِنَ الرَّحَى مِمَّا لَطَحْنَ قَبْلُهَا أَنَّ رَسُولَ
 روایت ہے کہ حضرت فاطمہ علیہا السلام نے اس خلیق کی جان کو کھلی پینے سے پہنچتی تھی شکایت کی اور ان کو فرمایا کہ رسول اللہ
 اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنِي لِسَبِيٍّ فَأَتَتْهُ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَلَمْ تَوْافِقْهُ فَنَدَّ كَوْتُ لِعَارِشَتِهَا
 صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی آئے ہیں وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ کا خادم جا پہنچا تبھی لیکن آنحضرت سے مل نہ سکیں تو حضرت عائشہ سے ڈر گیا

اس عثمان باب کا
 تعویذ رسول اللہ صلی
 کی تومسکے ذکر سے
 ہے جو علی بن امین
 کے پاس تھی رضی اللہ
 حضرت علیؑ کے ذکر
 نکاح کا ذکر کیا ہے
 جو وہ ابوعلی بن ابی
 سے کرنا چاہتے تھے
 مانا کہ حضرت فاطمہ
 ان کے گھر میں جو
 تھیں۔ آنحضرت صلی
 نے اس سے اسلئے
 روکنا کہ ابوعلی نے
 رسول اللہ صلی اللہ
 سنت ترین ایذا پہنچانی
 تھی اور یہی شخص
 کی بیٹی رسول خدا
 کی بیٹی کے ساتھ ایک
 گھر میں جمع نہیں ہو
 سکتی۔ کیونکہ رسول خدا
 کے درمیان مومنا
 چھتر چھتر ہوتی تھیں
 ہے اور بہت غلبہ
 تھا کہ اس میں ابوعلی
 کے اس پر مسلک کا
 ذکر بھی آیا ہے جو ساری
 عمر اس نے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم
 اور آپ کے صحابہ سے
 کیا تھا اور وہ تو نیک

زندگی میں جمع فرماتی ہے۔ مگر آپ کا یہ داماد ابو العاص بن ربیع تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب اس کے نکاح میں تھیں وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس لئے ہجرت کے بعد بھی حضرت زینب اس کے پاس کہیں رہیں۔ جب ابو العاص بدر میں قید ہو کر آئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فدیہ لئے بغیر چھوڑ دیا اور کہہ دیا میں جانتے وقت ان سے لگاؤ زینب کو دینے سے بیحد ہوں۔ انہوں نے وعدہ کیا اور کہہ جا کر وعدہ پورا کیا اور حضرت زینب کو دینے سے بیحد دیا۔ سورہ ممتحنہ کے فائل ہونے کے بعد ابو العاص بھی مسلمان ہو گئے اور ہجرت کی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو بغیر قید و نگاہ کے واپس کہہ دیا۔ اس لئے سعادۃ سامی کی جمع ہے۔ اس سے مراد تو حیدرآباد ہے۔ حضرت علیؑ نے جو یہاں حضرت عثمان کے پاس محمد بن الحنفیہ کے ہاتھ روانہ کیا تھا اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زکوٰۃ کے متعلق کچھ ہدایات تھیں۔ حضرت عثمان نے اس کو واپس کیا یا تو اس لئے کہ ان کو ان ہدایات کا علم تھا اور یہی اغلب معلوم ہوتا ہے۔ یا خشک بات کا اس پر واز سے کچھ خلیق نہ تھا۔ مگر روایت متفق ہے۔ اور سنی ابی حنفاً هذا الكتاب فاذهب به الى عثمان فان فيه امر النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة. وذهبوا اليه فالتقى في من بيت. ووه عارفات جو انسان کو چھل آئیں۔ مراد ضروریات ہیں۔ ضروریات ذاتی ہیں جو سبکی ہیں اور قوی بھی جیسے جناب وغیرہ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ عَاشِيَةً لَهُ فَإِنَّا نَا وَقَدْ دَخَلْنَا مَضْجَعَنَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ عَاشِيَةً لَهُ فَإِنَّا نَا وَقَدْ دَخَلْنَا مَضْجَعَنَا

فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ فَقَالَ عَلِيٌّ مَكَانَكُمْ أَحْسَنُ وَجَدْتُ بَرْدًا قَدْ مَدَّ عَلَى صَدْرِي فَقَالَ

أَلَا كُنْتُمْ كَمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ إِذَا أَخَذْتُمْ مَضْجَعَكُمْ فَكَبَّرَ اللَّهُ أَرْبَعًا وَ

ثَلَاثِينَ وَاحِدًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ

وَأَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ

وَأَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا

وَأَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا

وَأَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا

وَأَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا

وَأَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا

وَأَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا

وَأَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا

وَأَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا

وَأَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا

وَأَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا

وَأَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا

وَأَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا

وَأَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا

وَأَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا

وَأَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا

وَأَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا

وَأَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا

وَأَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبْعًا ثَلَاثًا

بسم الله الرحمن الرحيم... (Marginal notes in Urdu script)

۳ قاتنا قاسم... (Footnote text)

عبدالجدی طائے

یخرج غیرکون

اشارہ ہے اور

مصائب کثیرہ میں

بمذہب توہمات کی

لغات اللعامہ

یعنی سب کے

اس مال میں حصہ

ملا نقد کا

میں گھوڑوں کی

چینا نہیں برکت

اور مال غنیمت

کا ذکر ہے

ملا یاں لفظ

الظاہل کسی

غلام کو

وفاہلک قصور

غلام کو

والذی نفسی

المفقون کنوز

فی سبیل اللہ

سے عزت ہے اور

وسعی محبوب

کے لغویاں نہیں

ہیں دیکھو

پرنوٹ

علم کہ روایت

نقدم ۱۵۵۷

بیرہ

میں روایت

مقصود

فی الغنائم

معدودیت

ان رسول اللہ

قال کلھلھلن

جاہدنی سبیلہ

لا یخرجہ الیھما

۱۴۱۲ عن ابی ہریرۃ رضی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما أعطیکم ولا

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

أمنعکم أنا قاسم أضع حیت أمرت عن خولۃ الأناصاریۃ قلت

تم سے روکتا ہوں میں تو صرف تمہیں اپنا ہر مال دے گا مگر تمہارا جو دیتا ہوں

سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول إن رجلاً یتخو صون فی مال اللہ بغیر حق

بنی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے مال میں ناجائز طور سے تعدت کرتے ہیں

فلھم النار یوم القیمۃ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجلت لکم الغنائم

کے دن ان کو جہنم دوزخ ہی ہے باب بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد غنیمت کا مال تمہارے لئے حلال کر دیا ہے

وقال اللہ تعالیٰ عدکم اللہ مغانم لثیرۃ تأخذ ونھا فاعجل لکم ہذہ وہی للعاقبۃ

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ نے تم سے بہت سے مال غنیمت کا وعدہ کیا ہے جسے تم حاصل کر لو گے پس یہ تمہیں جلدی دلانا اور یہ عام ہے

حقی ینہنہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم (م-۱۴۵۶) عن عروۃ الباری (متکرر-۱۱۳۷)

جہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے

(م-۱۴۵۷) عن ابی ہریرۃ (متکرر-۱۳۸۲) (م-۱۴۵۸) عن جابر بن سمرۃ

دیکھو حدیث ۱۳۸۲

(متکرر-۱۳۸۲) (م-۱۴۵۹) عن جابر بن عبد اللہ (متکرر-۲۴۷) (م-۱۴۶۰)

دیکھو حدیث ۲۴۷

عن ابی ہریرۃ (متکرر-۳۳۳) قال قال رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم عزانی من انبیاء فقال لقومہ اذ یتبعنہ رجل فکلف بضعہ

نبیوں میں سے ایک نبی نے مجھ کو کہا اور ابی ہریرہ سے فرمایا ایسا شخص میرے ساتھ نہ چلے جس نے جس عورت

امرأۃ وهو یرید ان یمسہا ولما بین بہا ولا احد بنی بیوتاً ولا یرفع

سے شادی کی جو ارادہ چاہتا ہو کہ اسے مس کرے اور جی اسے مس نہ لایا ہو اور نہ ایسا شخص جس کے گھرانوں بنائی ہوں اور جس کی چھت

سقفہا ولا احد اشتری غنماً او خلیفات وهو ینظر ولادہا فخرافدا من

نذالی ہو اور نہ ایسا شخص جس سے بکریاں خریدی ہوں یا اونٹنیاں اور وہ ان کے چھنے کا منظر ہو وہ چھت کے لئے روانہ ہو اور

القریۃ صلاۃ العصر او قریباً من ذلک فقال للشمس انک ما مودۃ وانا ما مور

راہی ابی کے قریب پہنچا نماز عصر کے وقت یا اس کے قریب تو سوچ کر کہ تو بھی حکم کے ماتحت ہے اور میں بھی حکم کے ماتحت ہوں

اللہم احبہا علینا فحببت حتی فتح اللہ علیہ فجمع الغنائم فجاءت یعنی لکار

سے اللہ نے مجھ سے دو رکہ سورہ رکرا کیا ان تک اللہ نے فتح دی ہے اور اس سے غنیمت کا مال اٹھا کیا میرا جس کی آہ سے کہا

لکارھا فامہ تطعمہا فقال ان فی کل غلوۃ فلیبا یعنی من کل قبیلۃ رجل فلرقت

جائے پھر کہا تو فرمایا تم میں سے کسی نے غنیمت کی ہے ہر ایک قبیلہ میں ہے کہ ایک شخص مجھ سے بیعت کرے تو ایک

ید رجل ینہ فقال فیکم الغلوۃ فلیبا یعنی قبیلتک فلرقت ید رجلین

ادھنی کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چھت لیا تو فرمایا تمہارے قبیلے میں غنیمت ہوئی ہے تو اگر قبیلہ مجھ سے بیعت کرے تو دو ہاتھ میں شخصوں کے ہاتھ

فی سبیلہ وقد صدق کلماتہ بانہ علیہ صلۃ اللہ علیہ الذی خرج منہ من اجراء وغیرہ لکن ما کما مثلنا نہایت اس قدر ہے کہ رسول کے قریب پہنچنے سے پہلے تیرے ہر مال کے ساتھ حقانی نے ایسا ہی سامان کر لیا کہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے تمہیں تسخیر حاصل ہو گئی

أَوْ ثَلَاثَةَ بَيْدَةٍ فَقَالَ فِيكُمْ الْغُلُولُ فَجَاءَ وَإِسْرَاسٌ مِثْرَةٌ أَسْبَقَتْهُ مِنَ الذَّهَبِ

ان کے ہاتھ کے ساتھ چوٹ لگے ملا تو فرمایا تم سے اس چوڑی کا مال ہے وہ گائے کے بکے کے برابر ہے اور اسے رکھا جگہ آئی اور اسے کھا گئی پھر اس نے ہمارے لئے مال غنیمت حلال کر دیا ہمدانی اور ہے یہی دیکھی تو اسے

فَوَضَعَهَا فَجَاءَتْ النَّارُ فَكَادَتْهَا ثُمَّ أَحَلَّ اللَّهُ لَنَا الْغَنَائِمَ رَدَّ أَيْ ضَعْفَنَا وَبِجْرَانَا

ہم نے لئے حلال کر دیا جگہ مال غنیمت کا مقدار دو حصے جو جنگ میں حاضر ہو

فَأَحَلَّهَا لَنَا (۹) بَابُ الْغَنِيمَةِ لِمَنْ شَهِدَ الْوُقُوعَةَ (م- ۱۱۶۱) عَنْ مُرَّزُوقٍ (م- ۱۱۳۳)

باب جو مال غنیمت کیلئے جنگ کرے تو کیا اس کے ثواب میں کمی ہوگی

مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ (م- ۱۰۸) (م- ۱۱۱) بَابُ قِسْمَةِ الْأَمَامَةِ وَاقْدَامِ عَلَيْهِمْ وَخِطَابِ مَنْ

دیکھو حدیث ۱۰۸ باب امام کا اس کو تقسیم کرنا جو اس کے پاس ہے اور جو

لَمْ يَحْضُرْهُ أَوْ غَابَ عَنْهُ (م- ۱۱۶۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَلِيكَةَ (م- ۱۱۲۳)

ماضی نہ ہوا اس کیلئے رکھ چھوڑنا دیکھو حدیث ۱۱۲۳

بَابُ كَيْفَ قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرْيَةَ وَالتَّضْيِيقَ وَمَا أُعْطِيَ

باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قریظہ اور جو نصیب فرمائیے جانے والی کو کون نصیب کیا اور جو

مِنْ ذَلِكَ فِي تَوَاتِيهِ (م- ۱۱۶۵) عَنْ أُسِّ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ الرَّجُلُ يُجْعَلُ

ان میں سے اپنی منزل تو ہر فریق کیا اس بن مالک سے روایت ہے کہ تھے بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخِلَافَ حَتَّى لَمَّا قَرَّبَتْهُ قَرْيَةَ وَالتَّضْيِيقَ فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ

کے لئے کھجور کے درخت خاص کر دیتے تھے جب قریظہ اور جو نصیب فرمائیے تھے تو آپ انہیں واپس کر لیتے تھے ملا

بَابُ بَرَكَةِ الْغَزَاةِ فِي كَالِ الْحَيَاةِ وَمِمَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَلَاةِ الْأَمْرِ

باب غازی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان حکومت کے ساتھ ہر جگہ لڑے زندہ ہوا یا مر جائے اس کے مال میں ہر جگہ

ملا یہ یا کئی ہجرت کے رنگ تھا یا جو کے دل پر مس کی وجہ سے اس کا ہاتھ چوٹ لگا گیا۔ ہر حال یہ قصہ صحیح کی حدیث ہے اور اس کے الفاظ کے متعلق یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ یہ صحیح طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مبارک سے نکلے قصہ ملا بلکہ آسمان سے آئی تھی یا زمین پر پہنچا بدلتی گئی تھی۔ یہاں تصریح نہیں کی گئی اس لئے اس میں اموال غنیمت کو بھلا دینے کا حکم تھا۔ اور غنیمت کے لئے لکھا جانے سے مراد یہ ہے کہ اموال غنیمت کو بھلا دینا یا مال غنیمت میں سے مال غنیمت نہیں لگنا۔

دیکھو حدیث ۱۱۳۳ دیکھو حدیث ۱۱۳۳ دیکھو حدیث ۱۱۳۳

مالی قربانیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مال و دولت سے اس دنیا میں بھی خوشحال کر دیتا ہے لیکن استقامت، استقلال اور خاص مشورہ ہے۔

عبدالرحمن بن عوف

عنی حضرت عائشہ

بنو مالک بن نويرة

بنو عبدالمطلب

۱۱۴۱۶ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ لَمَّا وَقَعَتِ الزُّبَيْرِيَّةُ بِمَكَّةَ لَقِيَ عَائِشَةَ ابْنَ أَبِي حَبِيْبٍ

عبداللہ بن الزبیر سے روایت ہے کہ جب حضرت زبیر کی بیوی مکہ سے ہوئے تو مجھے بلا گیا میں نے اس کو بلایا اور کہا

فَقَالَ يَا بَنِيَّ إِنَّهُ لَا يَقْتُلُ الْيَوْمَ الْأَظْلَمَ وَالْمَظْلُومَ زَرَّانِي لَا أَرَانِي إِلَّا سَأْتِلُ الْيَوْمَ

کہا میرے بیٹے آج جو مارا جائے گا وہ یا ظالم ہوگا یا مظلوم اور میرا اپنے متعلق یہ خیال ہے کہ آج میں مظلوم یا مارا جائے گا

مُظْلَمًا أَوْ أَرَانِي إِلَّا سَأْتِلُ الْيَوْمَ

اور مجھے زیادہ دکھانے فرمئے کہ ہے تمہارا خیال ہے کہ ہمارا فرض ہمارے مال میں سے کچھ ہانی ہے دیکھا کہ میرے بیٹے میرا

وَالنَّافِثُ دِينَي وَأَوْصِي بِالْثَلَاثِ وَتَلَّتْهُ لِبَيْتِهِ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ

مال دیکھا کہ میرا فرض اور کر دینا اور ارضوں نے تمہاری وصیت کی اور تمہاری کتابی وصیت عبداللہ

ثَلَاثُ الشُّكُوفِ فَإِنْ نُفِضَ مِنْ مَالِنَا فَضْلٌ بَعْدَ قَضَاءِ الَّذِينَ شَيْءٌ فَثَلَاثَةٌ لَوْلَاكَ

کے بیٹوں کے لئے کی اگر ہمارے مال میں سے فرض ادا کرنے کے بعد کچھ بچے تو اس کی ایک تہائی تمہاری وہ دیکھنے سے ملے

قَالَ هِشَامٌ وَكَانَ بَعْضُ دَوْلَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَدْ وَازَى بَعْضَ بَيْتِ الزُّبَيْرِ حَبِيبٌ وَعَبَّادٌ

ہشام کہتے ہیں کہ عبداللہ کے بعض بیٹے زبیر کے بعض بیٹوں کے ہم عمر تھے جیسے حبیب اور عباد

وَاللَّهُ يَوْمَئِذٍ تَسْعَةُ بَيْنِينَ وَتَسْعُ بَنَاتٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَجَعَلَ يُوَصِّينِي بِدِينِهِ وَيَقُولُ

اور اس وقت ان کے نو بیٹے اور نو بیٹیاں تھیں عبداللہ کہتے ہیں زبیر مجھے برابر اپنے فرض کے متعلق وصیت کرنے سے انداز ہوا

يَا بَنِيَّ إِنْ عَجَزَتْ عَنْهُ نِي شَيْءٌ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ هُوَ لَا ي قَالَ تَوَالَّهُ مَا دَرَيْتُ مَا أَرَادَ

میرے بیٹے اگر کچھ کرنے سے تم عاجز ہو جاؤ تو اس کے لئے میرے مولیٰ سے مدد مانگنا عبداللہ نے کہا اللہ کی قسم میں نے سمجھا کہ اگر کبھی میرا ارادہ

حَتَّى قُلْتُ يَا أَبَتِ مَنْ هُوَ لَكَ قَالَ اللَّهُ قَالَ تَوَالَّهُ مَا دَقَعْتُ نِي كَرْبَةً مِنْ دِينِهِ إِلَّا

یہاں تک کہ میں نے پوچھا میرے اب آپ کا مولیٰ کون ہے فرمایا اللہ ہے عبداللہ نے کہا اللہ کی قسم میں نے سمجھا کہ اگر کبھی میں پیدا

قُلْتُ يَا مَوْلَى الزُّبَيْرِ أَفْضُ عَنْهُ وَبَيْنَهُ فَيُقْضِيهِ فَقِيلَ الزُّبَيْرِيُّ وَلَمْ يَدْءِدْ يَنَارًا

مگر میں نے کہا اسے زبیر کے مولیٰ کہ فرض ان کی بات سے ادا کرے تو اس نے ایسا ہی کر دیا زبیر قتل ہو گئے اور کوئی درم و دینار نہیں چھوڑا

وَأَرَادَ هَمَّا إِلَّا أَرْضَيْنِ مِنْهَا الْغَابَةِ وَأَحْدَى عَشْرَةَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ وَدَارَتَيْنِ

سوائے زمینوں کے ان میں سے غابہ زمین تھی اور گیارہ گھر دینیے ہیں اور دو گھر

بِالْبَصْرِ قَوْمًا وَأَرْضًا لَكُوفَةً وَدَارًا بِمِصْرَ قَالَ وَرَأَيْنَاكَانَ دِينَهُ الَّذِي عَلَيْهِمُ أَنْ يَجْعَلَ

بہروں اور ایک گھر کوئی اور ایک گھر مصر میں اور جو فرض ان پر تھا وہ اس طرح تھا کہ کوئی شخص

كَانَ يَأْتِيهِ بِالْمَالِ فَيُسْتَوْدَعُهُ إِيَّاهُ فَيَقُولُ الزُّبَيْرِيُّ وَاللَّيْنَةُ سَلَفٌ فَلَرِيٍّ أَحْسَنِي

ان کے پاس مال لا کر آئے ان کے پاس ملات رکھتا تو وہ کہتے امانت نہیں ہے فرض ہے کیونکہ مجھے اس کے ضائع ہونے کا ڈر ہے

ان کے پاس مال لا کر آئے ان کے پاس ملات رکھتا تو وہ کہتے امانت نہیں ہے فرض ہے کیونکہ مجھے اس کے ضائع ہونے کا ڈر ہے

ان کے پاس مال لا کر آئے ان کے پاس ملات رکھتا تو وہ کہتے امانت نہیں ہے فرض ہے کیونکہ مجھے اس کے ضائع ہونے کا ڈر ہے

ان کے پاس مال لا کر آئے ان کے پاس ملات رکھتا تو وہ کہتے امانت نہیں ہے فرض ہے کیونکہ مجھے اس کے ضائع ہونے کا ڈر ہے

ان کے پاس مال لا کر آئے ان کے پاس ملات رکھتا تو وہ کہتے امانت نہیں ہے فرض ہے کیونکہ مجھے اس کے ضائع ہونے کا ڈر ہے

ان کے پاس مال لا کر آئے ان کے پاس ملات رکھتا تو وہ کہتے امانت نہیں ہے فرض ہے کیونکہ مجھے اس کے ضائع ہونے کا ڈر ہے

ان کے پاس مال لا کر آئے ان کے پاس ملات رکھتا تو وہ کہتے امانت نہیں ہے فرض ہے کیونکہ مجھے اس کے ضائع ہونے کا ڈر ہے

ان کے پاس مال لا کر آئے ان کے پاس ملات رکھتا تو وہ کہتے امانت نہیں ہے فرض ہے کیونکہ مجھے اس کے ضائع ہونے کا ڈر ہے

ان کے پاس مال لا کر آئے ان کے پاس ملات رکھتا تو وہ کہتے امانت نہیں ہے فرض ہے کیونکہ مجھے اس کے ضائع ہونے کا ڈر ہے

ان کے پاس مال لا کر آئے ان کے پاس ملات رکھتا تو وہ کہتے امانت نہیں ہے فرض ہے کیونکہ مجھے اس کے ضائع ہونے کا ڈر ہے

ان کے پاس مال لا کر آئے ان کے پاس ملات رکھتا تو وہ کہتے امانت نہیں ہے فرض ہے کیونکہ مجھے اس کے ضائع ہونے کا ڈر ہے

ان کے پاس مال لا کر آئے ان کے پاس ملات رکھتا تو وہ کہتے امانت نہیں ہے فرض ہے کیونکہ مجھے اس کے ضائع ہونے کا ڈر ہے

ان کے پاس مال لا کر آئے ان کے پاس ملات رکھتا تو وہ کہتے امانت نہیں ہے فرض ہے کیونکہ مجھے اس کے ضائع ہونے کا ڈر ہے

بنو عبدالمطلب

عَلَيْهِ الضَّيْعَةُ وَمَا لِي إِمَارَةٌ قَطُّ وَلَا جِبَابَةٌ خَرَجَ وَلَا شَيْئًا إِلَّا أَنْ يُكُونَ فِي عَشْرَةٍ

اور زبیر نے بھی میں کوئی عہدہ نہیں کیا اور نہ تحصیلداری اور زکوٰۃ اور کام البتہ میں سلی اور عہدہ و حکم کے ہر ماہ

مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ

مگر میں شامل ہوتے اور ابوبکر اور عمر اور عثمان کے ساتھ بھی عہد شکن نہ ہرکتے ہی

فَحَسِبْتُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الَّذِينَ فَوَجَدْتُهُ أَلْفَ أَلْفٍ وَمِائَتِي أَلْفٍ قَالَ فَلَقِي حَكِيمًا

جو فرض ان پر تھا میں نے اس کا حساب کیا تو وہ بائیس لاکھ پایا کہا اور حکیم بن حزام

ابْنُ حِزَامٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَبِي كَرْمٍ عَلَى أَبِي مِنْ الَّذِينَ فَكَلَّمْتُهُ

عہد شکن زبیر سے تو کہا مجھے میرے بھائی پر کتنا فرض ہے تو انوں نے فخر کیا

فَقَالَ يَا أَيْتَةَ أَلْفٍ فَقَالَ حَكِيمٌ وَاللَّهِ مَا أَرَسِي أَمْوَالَكُمْ وَسَعِرَ لِهَذَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ

ایہ کیا ایک لاکھ روپے کا کہنے کا اس کی شرح میں نہیں دیکھتا کہ تمہارے مال میں اس کی گنتی کتنی ہے عہد شکن نے ان سے کہا

أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ أَلْفَةُ أَلْفٍ وَمِائَتِي أَلْفٍ قَالَ مَا أَرَأَيْتَ تُطِيقُونَ هَذَا إِنْ عَجَزْتُمْ

بتائے اگر بائیس لاکھ ہو کہا میں نہیں دیکھتا کہ تمہاری حالت دیکھتے ہو اگر تمہارے فرض تراوا کر سکو

عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِينُوا لِي قَالَ دَكَانَ الزُّبَيْرُ اشْتَرَى لِنَا بَعْدَ سَبْعِينَ وَمِائَةِ أَلْفٍ

تو مجھ سے درو کہ اور زبیر نے غائب ایک لاکھ ستر ہزار سے خریدا تھا

فَبَاعَهَا عَبْدُ اللَّهِ بِالْأَلْفِ وَالسِّمِّيَّةِ أَلْفٍ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ حَقٌّ

اور عہد شکن نے اسے سولہ لاکھ پر فروخت کیا تھا پھر کھڑے ہو کر کہا جس کا زبیر پر کوئی حق ہو

فَلْيُؤَدِّئْنَا يَا لِنَا بَعْدَ فَاتَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ أَرْبَعِمِائَةِ أَلْفٍ

تو وہ غائب میں ہم سے آگرت عہد شکن جعفر بن ابی طالب کے پاس آئے اور ان کا زبیر پر چار لاکھ فرض تھا

فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ إِنْ شِئْتُمْ تَرَكْتُمْ لَكُمْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا قَالَ فَإِنْ شِئْتُمْ جَعَلْتُكُمْ هَاهُنَا

انوں نے عہد شکن سے کہا اگر تم چاہو تو میں یہ چاہ لاکھ تمہارے لئے چھوڑ دیتا ہوں عہد شکن نے کہا میں عہد شکن جعفر نے کہا اگر تم چاہو تو میں ملت

تُؤَخَّرُونَ إِنْ أَخَّرْتُمْ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا قَالَ قَالَ فَاقْطَعُوا لِي قِطْعَةً فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَكَ

دیتا ہوں عہد شکن نے کہا میں جعفر نے کہا تو میرے لئے زمین کا کوئی ٹکڑا، لگ کر دو عہد شکن نے کہا یہاں سے وہاں

مِنْ هَاهُنَا إِلَى هَاهُنَا قَالَ فَبَاعَ مِنْهَا قِطْعَةً دِينَارًا وَفَاهَا وَبَقِيَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ نِصْفُ

تک تمہاری ہوئی کہا تو جدا کھٹنے اس میں سے فروخت کیا اور زبیر کا فرضہ ادا کر دیا اور باقی ادا کر دیا اور اس میں سے ساٹھ

فَقَدِمَ عَلَى مَعْرُوبَةَ وَعِنْدَهَا عَمْرُ بْنُ عُثْمَانَ وَالْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ لَهُ

چار چھ رہے پھر حضرت معاویہ کے پاس گئے اور ان کے پاس عمران عثمان اور منذر بن زبیر اور ابن زعمہ تھے حضرت معاویہ

وَأَبْنُ زَمْعَةَ قَالَتْ يَا زَمْعَةُ قَالَتْ كُلُّ سَهْمٍ مِائَةٌ أَلْفٍ قَالَ كَمْ بَقِيَ قَالَ أَرْبَعَةٌ أَسْهُمٍ نِصْفُ

نے عہد شکن سے فرمایا غائب کی کیا قیمت آئی کہا ہر ایک حصہ ایک لاکھ کا ہوا فرمایا کتنی رہ گئی کہا ساڑھے چار چھ

قَالَ الْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ قَالَ عَمْرُ بْنُ عُثْمَانَ قَدْ أَخَذْتُ

منذر بن زبیر نے کہا ایک حصہ ایک لاکھ پر میں خریدا ہوں عمرو بن عثمان نے کہا ایک حصہ ایک لاکھ پر میں

سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ قَالَ ابْنُ زَمْعَةَ قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ فَقَالَ مَعْرُوبَةُ كَمْ بَقِيَ

خریدتا ہوں ابن زعمہ نے کہا ایک حصہ ایک لاکھ پر میں خریدا ہوں حضرت معاویہ نے فرمایا کہا ہاں ہاں

فَقَالَ سَهْمٌ وَنِصْفٌ قَالَ أَخَذْتُهُ بِخَمْسِينَ وَمِائَةِ أَلْفٍ قَالَ وَبَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ

عہد شکن نے کہا ڈیڑھ حصہ فرمایا میں اسے ڈیڑھ لاکھ پر خریدا ہوں عہد شکن نے جعفر نے پچاس

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ

اور عہد شکن نے جعفر نے پچاس

عہد شکن نے کہا ہاں ہاں
نے ان کے ساتھ
بھی ان کے مال
میں رکھ دی
عہد شکن
حضرت علی کے
بیتھی ہیں
اور میں انھوں کو
عہد شکن نے
کی امتیازی سخت
تھی مگر میں دونوں
دروغ سے بچاؤ
کہاں کو پہنچا ہوا ہے
دو چھوڑنے کو تھا
میں وہاں اگر کلمہ
میں افسوس
فائدہ میں ملے
ہی ظاہر ہوتے ہیں
اور صحابہ کے
باہمی معاملات میں
اطلاق درجہ کا
معاہدہ تھا ہے

محلہ میں جس محلہ
کی پاکیزہ مثال ہے
ان کا کوئی ترکہ قرار
نہیں دیا گیا جب تک
اطمینان نہیں کریں کہ
سب فرض اور ہر گز
مطلوبہ چارویوں میں
سے ہر ایک کو جب
بارہ لاکھ کا حصہ ملے
ہو گا تو کوئی نقص
لاکھ کی رقم ملی جو
رعیت اور قریشکی
رقم تھا کہ بقیہ ترکہ
کا اٹھواں حصہ ہے
میں کل تقسیم شدہ ترکہ
کی رقم میں دو چوتھی
لاکھ ہے۔ اور تمام
رعیت کی رقم ایک
کر ڈیڑھ سو لاکھ۔
اور فرض کی بائیس
لاکھ۔ رقم لاکھوں
پانچ کر ڈیڑھ سو لاکھ
لاکھ کی رقم بنتی ہے
حدیث کے آخر پر جو
پانچ کر ڈیڑھ لاکھ کا
اندازہ لگا گیا ہے
یہ شاید حضرت زبیر
کی جائداد کی قیمت

نصیبہ من معویۃ بستمائة الف فلما فرغ ابن الزبیر من نكسائه دينه قال بنو الزبیر

معاویہ کے ہاتھ چھ لاکھ پر فروخت کیا جب عبدالمشردن زہیر کے فرض کے وارث بنے فارغ ہوئے تو زبیر کے بیٹوں نے کہا

اقسم بیننا وما اثننا قال لا والله الا قسم بینکم حتی انا دی بالموسم اربع سنین

ہمارا ترکہ ہمیں تقسیم کرو کہائیں اللہ کی قسم تم میں تقسیم نہیں کروں گا میں تک کہ ایام حج میں یہ سال تک نہ دی کروں

الا من كان له على الزبیر دين فليأتم فليقض قال فجعل كل سنة ينادی بالموسم

کہ جس کا زبیر پر قرض ہو تو وہ ہمارے پاس آجائے کہ ہم سے ادا کر دیں کہا تو ہر سال ایام حج میں منادی کرتے رہے

فلما مضى اربع سنین قسم بینهم قال فكان للزبیر اربع نسوة ورفعت الثلث

جب چار سال گذر گئے تو عبدالمشردن نے ترکہ ان میں تقسیم کروایا زبیر کی چار بیویاں تھیں رومیہ کی ایک تھانہ کی ایک لاکھ روپیا

فاصاب كل امرأة الف الف وما اثننا الف فجمعهم ما له خمسون الف الف ومائتا

تو ہر ایک بیوی کو بارہ لاکھ ملے تو زبیر کا سارا مال پانچ کر ڈیڑھ لاکھ ہوا

الف (۱۴) باب اذا بعث الامام رسولاً في حاجة او امرأة بالمقام هل يسهم

باب جب ہرگز کسی کام کے لئے بھیجے جائے یا کسی جگہ بیٹھنے کے لئے حکم دے تو کیا اسے حصہ

له (۱۴) عن ابن عمر قال انما تغيب عثمان عن بدر فانه كانت تحتك بنت

بیگمہ محلہ ابن عمر سے روایت ہے کہا کہ تغیر عثمان جنگ بدر سے اس لئے ہوا کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

رسول لله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان

صاحبزادی ان کے نکاح میں تھیں اور وہ بیمار تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا

لك اجر رجل ممن شهد بدر او سهمه (۱۵) باب ومن الدليل على ان الخمس

اس شخص کے برابر ثواب ملیگا جو بدر میں شریک ہوا اور اس کی حصہ بھی ملیگا باب اور اس بات کی دلیل کہ پانچواں حصہ

لنوايب المسلمين ما سأل هو اذن النبي صلى الله عليه وسلم برضاعه فيهم فحل

مسئلہ ان کی ضرورتوں کیلئے ہے یہ ہے کہ ہجرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا ان میں دودھ کا رشتہ ہونے کی وجہ سے درخواست کی تو آپ

من المسلمين وما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الناس ان يعظمهم من

مسلمانوں سے محبت کروایا اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

الفى والاذن قال من الخمرى واغطى الانصار وما اعطى جابر بن عبد الله ثم خيبر

اور اس میں سے انہم نے اپنے کا وہ حصہ آپ نے انصار کو جس میں سے دیا

اس وقت جو وہ انتقال کر گئے ان کی وفات سے یک روز میں تقسیم ترکہ تک بقا عرصہ گذرا اس میں جائداد کی قیمت بڑھ گئی۔ یہ بھی گیا عرصے کے بعد مال میں برکت ہے
محلہ ۱۴ عنوان تھا الغنمة لمن شهد الوقعة جس سے یہ ثابت کرنا منظور تھا کہ مال غنیمت رانے والوں کا حق ہے یا جوان کا میدان جنگ میں معادن ہوا اور یہاں ہے کہ
بادشاہ یا ان کے حکم سے کوئی جنگ میں شامل نہ ہوا اور نہ کسی اور کام کیلئے بھیجا گیا ہو تو اسے بھی حصہ دیا جائے گا خواہ بیت المال کے نفع سے ہی دیا جائے وہ محلہ ۱۵
کا عنوان تھا۔ الدلیل علی ان الخمس لنواب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين۔ اور یہاں کا عنوان ہے دهن الدليل على ان الخمس لنواب المسلمين اور
محلہ ۱۶ کا عنوان ہے دهن الدليل على ان الخمس للاصهار فمن کے سفارت اللہ تعالیٰ نے بیان کئے ہیں اللہ ورسول واذی القرابی والیسی والمساكين واهل السبیل
ان عنوانوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ فرس تغیرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات پر بھی خرچ ہو سکتا ہے اور ساکنین اور دیگر مسلمانوں کی ضروریات پر بھی۔ اور بحیثیت جمعی مسلمان
قوم کی ضروریات پر بھی جیسے مثلاً جمادی کوئی اور قومی ضرورت۔ اور ان الخمس للاصهار کا مطلب ہے کہ اس کا تعارف اور اختیار بادشاہ کے ہاتھ میں ہے کہ جہاں ضرورت
ہو تو خرچ کرے جیسے سود نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا وہ نمیلہ ہوا ان میں سے تھیں۔ اسی رشتہ کے طفیل ہوا ان نے اپنے مال اور قیدیوں کے لئے
درخواست دی کہ ان کو عفت واپس کئے جائیں حتیٰ میں سے دینے کا وعدہ کرنا جابر کی حدیث میں ہے ۱۴۔ اور اس میں سے انعام دینا ابن عمر کی حدیث
۱۴ و ۱۵ سے ثابت ہوتا ہے اور جابر کی حدیث میں ہے اور انصار کو جس میں سے دینا اور احادیث میں ہے

عَنْ مَرْدَانَ بْنِ أَحْمَرَ وَمَسْرُورٍ مَحْرَمَةَ (مکتبہ - ۱۱۱۹) (۱۱۸) عَنِ الْقَسْبِ بْنِ

دیکھو حدیث ۱۱۱۹ ج ۱ قاسم بن عاصم سے

عَاصِمٌ قَالَ لَنَا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَإِنِّي ذَكَرْتُ حَاجَةَ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ

روایت ہے کہ ایک ابو موسیٰ کے پاس تھے تو ان کے پاس اس نے بیان کیا کہ ایک بھائی امدان کے پاس بنی تیمانہ کا ایک

أَحْمَرٌ كَاتِبٌ مِّنَ السَّرَّائِيِّ قَدَّعَاهُ لِلطَّعَامِ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَدَّرْتُه لِحَلْفَتِ

سرخ رنگ کا آدمی تھا گوکہ وہ اردوی قبیلوں میں سے تھا ابو موسیٰ نے اسے کھانے کیلئے بلایا اس نے کھایا اس کو کچھ غذا ملت وغیرہ کھائے

لَا أَكُلُ فَقَالَ هَلُمَّ فَلَا حِلَّ لَكَ عَنْ ذَلِكَ إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ

دیکھا تو میری طبیعت سے نہیں چاہی اور میں نے قسم کھائی ہے کہ اسے نہیں کھاؤ گا ابو موسیٰ نے کہا وہ نہیں ہے اس کے متعلق حدیث بیان کرتا ہوں میں

نَفَرٍ مِّنَ الْأَشْعَرِيِّينَ لَسْتُ حَمْلَةً فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمَلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمَلُكُمْ وَإِنِّي

چندا شہری ہوں گے ساتھ بنی سہم کی خدمت میں حاضر ہوا ہم سب سواری مانگتے تھے آپ نے فرمایا ان کی قسم میں تم کو سواری نہیں دے سکتا اعلیٰ کو میرے

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى رِبِيلَ فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ آيِنَ النَّفَرِ الْأَشْعَرِيِّينَ

پاس ہے میں کہ تم کو دینوں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غیرت کے کچھ اونٹ آئے تو آپ نے ہماری سزا دیکھ کر فرمایا اشہری لوگ

فَأَمْرُنَا بِجَمْرٍ وَوَدْعُ الدَّرَارِيِّ فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا مَا صَنَعْنَا لَا يَمَارِكُ لَنَا فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ

کہ جس میں آپ نے ہمارے لئے پانچ اونٹوں کا حکم کیا جو غروب ہوئے تھے ان سے ہم نے کہا ہم نے کیا کیا کہ ہم نے بکت نہیں دی ہم نے آپ کے پاس لوٹ کر آئے

فَقُلْنَا إِنَّا سَأَلْنَاكَ أَنْ تَحْمِلَنَا فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا أَفَنَسَيْتَ قَالَ لَسْتُ أَنَا حَمَلْتُكُمْ

اور میں نے کہا ہم نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ ہمیں سواری دے دیں اور آپ نے قسم کھائی تھی کہ ہمیں سواری نہیں دیگے تو آپ نے کہا آپ نے ہم سے کچھ فرمایا میں نے نہیں

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَإِنِّي غَيْرُهَا خَيْرٌ

کہی سواری نہیں دیتی وہ اشہری نے تم کو سواری دی ہے اور اس کی قسم اگر وہ چاہے تو جب کسی قسم کھاؤں اور اس کے خلاف مجھ کو کون بددعا کرے گا تم میں

مِنْهَا إِلَّا آتَيْتَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَحَلَفْتَ بِهَا ۝۱۱۹ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اسی کو روکا جو جنگ لگے ہے اور قسم کو کھانے کا گناہ دے دوں گا علی ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ قَيْسُ بْنُ خَبَرٍ فَغَزَوْا رِبِيلَ الْكَثِيرِ أَفَكَانَتْ

کچھ فوج تھی جو کثرت بھیجی اس میں عبد اللہ بن عمرو بھی تھے انہیں مال غیرت میں بہت سے اونٹ ہاتھ آئے تو ان کا

سَمَّاءُ مَعَهُمُ الشُّنَّةُ عَشْرٌ بَجِيرٌ أَوْ أَحَدٌ عَشْرٌ بَجِيرٌ أَوْ نِفْلًا بَجِيرًا بَجِيرًا ۝۱۲۰ عَنِ

دو سو باہر اونٹ تھے یا گناہ اونٹ اور انہیں ایک ایک اونٹ انعام ہی دیا گیا تھا ابن عمر

ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْقُلُ بَعْضُ مَنِ بَيْعَتْهُ مِنَ الشَّرَائِيفِ

سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن اونٹوں کو بیچتے ان میں سے بعض خاص لوگوں کو

رُكَا نَفْسِهِمْ خَاصَّةً سَوِي قَسِيمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ ۝۱۲۱ عَنِ أَبِي مُوسَى قَالَ سَلَخْنَا

عام لشکر کے حصوں کے علاوہ کے انعام دیتے تھے بلکہ ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ

عَنْ مَرْدَانَ بْنِ أَحْمَرَ وَمَسْرُورٍ مَحْرَمَةَ (مکتبہ - ۱۱۱۹) (۱۱۸) عَنِ الْقَسْبِ بْنِ عَاصِمٌ قَالَ لَنَا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَإِنِّي ذَكَرْتُ حَاجَةَ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ أَحْمَرٌ كَاتِبٌ مِّنَ السَّرَّائِيِّ قَدَّعَاهُ لِلطَّعَامِ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَدَّرْتُه لِحَلْفَتِ لَّا أَكُلُ فَقَالَ هَلُمَّ فَلَا حِلَّ لَكَ عَنْ ذَلِكَ إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ نَفَرٍ مِّنَ الْأَشْعَرِيِّينَ لَسْتُ حَمْلَةً فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمَلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمَلُكُمْ وَإِنِّي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى رِبِيلَ فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ آيِنَ النَّفَرِ الْأَشْعَرِيِّينَ فَأَمْرُنَا بِجَمْرٍ وَوَدْعُ الدَّرَارِيِّ فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا مَا صَنَعْنَا لَا يَمَارِكُ لَنَا فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا إِنَّا سَأَلْنَاكَ أَنْ تَحْمِلَنَا فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا أَفَنَسَيْتَ قَالَ لَسْتُ أَنَا حَمَلْتُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَإِنِّي غَيْرُهَا خَيْرٌ مِنْهَا إِلَّا آتَيْتَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَحَلَفْتَ بِهَا ۝۱۱۹ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ قَيْسُ بْنُ خَبَرٍ فَغَزَوْا رِبِيلَ الْكَثِيرِ أَفَكَانَتْ سَمَّاءُ مَعَهُمُ الشُّنَّةُ عَشْرٌ بَجِيرٌ أَوْ أَحَدٌ عَشْرٌ بَجِيرٌ أَوْ نِفْلًا بَجِيرًا بَجِيرًا ۝۱۲۰ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْقُلُ بَعْضُ مَنِ بَيْعَتْهُ مِنَ الشَّرَائِيفِ رُكَا نَفْسِهِمْ خَاصَّةً سَوِي قَسِيمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ ۝۱۲۱ عَنِ أَبِي مُوسَى قَالَ سَلَخْنَا

لوگ بھی تھے تو لو او اعینہ تفضیر من اللہ خزان لاجب امانیہ فقون۔ تم لڑی دیر کے بعد جس کے اونٹ آئے تو آپ نے انہیں بلا کر دیکھے اور اسی سے صاف ہے آپ نے قسم اس بات پر کھائی تھی کہ آپ کے پاس اونٹ نہ تھے۔ جب آگے تو وہ قسم ہی قائم نہ دی۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب تک کام انسان کے سامنے ہو تو کوئی بھی قسم تک کام کے کرنے سے مانع بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ کتاب المغازی میں غزوہ ہند کے بعد اس غزوہ کا عنوان ان الفاظ سے آگے باب اسرۃ اللہ قبل یحییٰ۔ ایک ایک اونٹ جو ان کو بطور انعام کے دیا گیا وہ قسم سے تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قسم کے معارف میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ اللہ رسول تو اس کا نشانہ ہے کہ رسول اپنے اور ذی القربی، یتامی، مساکین، ابن السبیل کے علاوہ بھی جہاں تک سب کچھ جس کو خرچ کرے۔ اسی میں تجاہدین کو انعام دینا بھی آتا ہے۔ بلکہ کسی کو ترک بھی تشہیر ہو جاتا تھا۔ اس لئے ظاہر ہے کہ انعام باقی پانچویں حصہ میں سے ہی عطا فرماتے۔

كُنْتُمْ فِي هَذِهِ الْقِتْلَةِ لَمْ تَكْتُمُوا لَهُ ر ۱۱ بَابٌ وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمْسَ لِلرَّكَاةِ

محمد سے ان ہاتھوں کی سفارش کرتا تو میں اس میں نہیں ہمدرد تھا۔ باب اس بات کی دلیل کہ ایک خیمہ جس کا اختیار بادشاہ کو ہے

وَأَنَّهُ يُعْطَى بَعْضُ قَرَأَتِهِ دُونَ بَعْضٍ قَاتِسِمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِي الْمُطَّلِبِ

اور وہ بعض قریشیوں کو چھوڑ کر بعض کو دے سکتا ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

وَبَنِي هَاشِمٍ مِنْ خَمْسٍ خَيْرٌ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِيُعْتَمَرُ بِذَلِكَ وَلَمْ يُخْصَرْ قَرِيبًا

اور بنی ہاشم کو پانچ کے حصے میں سے حصہ دیا اور بنی عبد العزیز کے حصے میں سے حصہ نہیں دیا اور کسی قریشی کو اس پر مقدمہ

دُونَ مَنْ أَحْوَجَ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الَّذِي أُعْطِيَ لَمْ يَسْئَلُوا إِلَيْهِ مِنَ الْحَاجَةِ وَلَمْ يَسْتَهْتَمُوا

نہیں رکھا جو مال کا زیادہ محتاج ہو اور جو دوسرا کشتہ دار ہو اور بنی کو دیا تو اس لئے کہ وہ آپ سے اپنی ضرورت کو بیان کرنا اور اسے پاتے آپ کی بیعت

فِي جَنْبِهِ مِنْ قَوْمِهِمْ وَحَلَفَ آتَمُهُمْ (۱۲۲۷) عَنْ جَبْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ مَثَيْتُ أُنَاكَ

میں اپنی قوم اور اپنے حلیوں کے نام نقصان پر داشت کرنا پڑا۔ جبر بن مطعم سے روایت ہے کہ میں

عُمَرَانُ بْنُ عَمْرٍاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطَيْتَ بَنِي

عمرت عثمان بن عمران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے بنی

الْمُطَّلِبِ تَرْتِنًا وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مطلب کو تو دیا اور بنی چھوڑ دیا تاکہ ہم دونوں آپ کی قربت میں برابر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

إِنَّمَا بَنُوا الْمُطَّلِبِ بَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَإِحْدَاثًا قَالَ أَلَيْتَ حَدَّثَنِي يُونُسُ وَرَأَى

کہ بنو مطلب اور بنو ہاشم ایک ہی چیز ہیں۔ لیٹا روایت ہے کہ محمد سے یونس نے بیان کیا وہ نے دیکھا کہ

قَالَ جَبْرِ بْنُ مُطْعِمٍ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَلَا لِبَنِي

کہ جبیر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد شمس اور بنو نوفل کو حصہ

نُوفِلٍ وَقَالَ ابْنُ اسْتَحِقَ عَبْدُ شَمْسٍ وَهَاشِمٌ وَالْمُطَّلِبُ إِخْوَةٌ لَأُمَّرَةٌ أَمَّهُمْ عَاتِكَةٌ

نہیں دیا۔ ابن اسحاق نے کہا کہ عبد شمس اور ہاشم اور مطلب بھائی ہیں کہ ان سے اور ان کی ماں ایک عاتک بنت

بِلْتُ مَرَّةٍ وَكَانَ نُوفِلٌ وَأَخَاهُمْ كَابِيَهُمْ (۱۲۸) بَابٌ مِنْ لَمْ يَخْتِمْ الْأَسْبَابُ وَ

سہ قحی اور نوفل باپ کی طرف سے ان کا بھائی تھا۔ باب جو مقتول کے ساتھ ان میں سے پہلے ان کے حکم کے

مَنْ تَمَلَّ قَتِيلًا فَلَهُ سَلْبُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخْتِمْ حُكْمُ الْأَمَامِ فِيهِ (۱۲۲۵) عَنْ

اور جو کسی کو قتل کرے تو اس کا سامان اس کی ہر چیز نکالنے کے اور بادشاہ کا ہاں ہائے میں حکم رہتا تھا

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ بَيْنَا أَنَا وَقَتٌّ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ فَنظَرْتُ عَنْ يَمِينِي

عبدالرحمن بن عوف سے روایت ہے جب میں بدر کے دن صف میں کھڑا تھا میں نے اپنے دائیں اور اپنے بائیں دیکھا

عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے جب میں بدر کے دن صف میں کھڑا تھا میں نے اپنے دائیں اور اپنے بائیں دیکھا

ملاحظہ فرمائیں کہ اس حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ ایک خیمہ جس کا اختیار بادشاہ کو ہے اور وہ بعض قریشیوں کو چھوڑ کر بعض کو دے سکتا ہے۔ اور بنی ہاشم کو پانچ کے حصے میں سے حصہ دیا اور بنی عبد العزیز کے حصے میں سے حصہ نہیں دیا اور کسی قریشی کو اس پر مقدمہ نہیں رکھا جو مال کا زیادہ محتاج ہو اور جو دوسرا کشتہ دار ہو اور بنی کو دیا تو اس لئے کہ وہ آپ سے اپنی ضرورت کو بیان کرنا اور اسے پاتے آپ کی بیعت میں اپنی قوم اور اپنے حلیوں کے نام نقصان پر داشت کرنا پڑا۔ جبر بن مطعم سے روایت ہے کہ میں عمرت عثمان بن عمران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے بنی مطلب کو تو دیا اور بنی چھوڑ دیا تاکہ ہم دونوں آپ کی قربت میں برابر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو مطلب اور بنو ہاشم ایک ہی چیز ہیں۔ لیٹا روایت ہے کہ محمد سے یونس نے بیان کیا وہ نے دیکھا کہ جبیر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد شمس اور بنو نوفل کو حصہ نہیں دیا۔ ابن اسحاق نے کہا کہ عبد شمس اور ہاشم اور مطلب بھائی ہیں کہ ان سے اور ان کی ماں ایک عاتک بنت بِلْتُ مَرَّةٍ وَكَانَ نُوفِلٌ وَأَخَاهُمْ كَابِيَهُمْ (۱۲۸) باب جو مقتول کے ساتھ ان میں سے پہلے ان کے حکم کے اور بادشاہ کا ہاں ہائے میں حکم رہتا تھا اور جو کسی کو قتل کرے تو اس کا سامان اس کی ہر چیز نکالنے کے اور بادشاہ کا ہاں ہائے میں حکم رہتا تھا عبدالرحمن بن عوف سے روایت ہے جب میں بدر کے دن صف میں کھڑا تھا میں نے اپنے دائیں اور اپنے بائیں دیکھا

ہے نہیں ہے لیکن صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن محمد سے روایت نہیں آتا۔ ہاں بادشاہ یا امیر کو اختیار ہے کہ ان میں حالات میں مقتول کا سامان کا تقاضا کرے اور اسے

وَعَنْ شِمَالِي فَكَذَّابًا بَغْلًا مِمَّنْ لَا نَصْرَ لِحَدِيثِهِ أَسْنَا لَقِيمًا تَمَنَيْتُ أَنْ أَلْكَؤُنَ

تو میں نے نصار کے دور کے دیکھے جو نوحہ کرتے ہیں نے یہ آرزو کی کہ میں ان میں سے زیادہ ظالموں

بَيْنَ أَضْلَمَ مِنْهُمَا فَعَزَمْتَنِي أَحَدُهُمَا فَقَالَ يَا كَيْفَ هَلْ تَعْرَبُ أَبَا جُهَلٍ قُلْتُ لَعَمْرُأَا

اگر کسی زمانہ میں جو وہ دونوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا تو میں نے کہا جانتا ہوں جنتیں

حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي قَالَ أَخْبَرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس سے تمہارا کہا گیا ہے اس نے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ لہا ہوا دیتا ہے

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَبْنُ ذَرِيَّتِهِ لَا يَفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَةٌ حَتَّى يَمُوتَ الْأَجْمَلُ مِثْلًا

اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر میں اس کو دیکھوں تو میرے ہمسرا اس کے جسم سے ایک نہیں ہوگا یا تو تک ایسے دو لوگوں میں سے وہ ہر طرف

تَتَجَمَّعُ لَذَلِكَ فَعَزَمْتَنِي الْأَخْرَفُ فَقَالَ لِي مِثْلَهَا فَلَمْ أَشْتَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جُهَلٍ

جس کی موت ہے ہر جگہ اس سے تجمیع ہوتی ہے اور میرے نے بھی مجھ سے کہا اور اسی طرح کہا ابھی تو میری ہی دیر ہوئی تھی کہ میں نے ابو جہل کو دیکھا

يَجُولُ فِي لَتَائِسٍ قُلْتُ أَكَا رَانَ هَذَا صَاحِبُكُمْ الَّذِي سَأَلْتُمَنِي فَا بَدَّرَ رَأْيِي بِسَيْفِيهِمَا

کہ لوگوں پر بگڑتا رہے میرے نہ کہ کچھ یہ تمہارا وہ شخص ہے جس کے متعلق تم دونوں نے مجھ سے بوجھا تھا دونوں ظالموں میں سے ایک میں کی طرف دورے

فَضَرَبَاهُ حَتَّى قَتَلَاهُ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَيْرَةِ

اور اسے مارا یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچے اور آپ کو صلوات دی

فَقَالَ أَيُّكُمْ تَتَلَّهُ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَا تَتَلَّهُهُ فَقَالَ هَلْ مَعَهُمَا سَيْفِيكُمَا

فرمایا تو میں سے کس نے اسے قتل کیا ہر ایک نے ان میں سے کہا کہ میں نے اسے قتل کیا ہے کچھ فرمایا کہ تم دونوں نے ہاتھی قتل کیا اور کوسان کیا ہے

قَالَ لَا لَنْظَرِي فِي السَّيْفَيْنِ فَقَالَ بَلَا سَأَتَلَّهُ سَلْبَهُ لِمَعَاذِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ

عمر بن عبد شمس نے کہا میں نے ان دونوں کی تاروں کو غور سے دیکھا اور فرمایا تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے میرا کاسان معاذ بن عمرو بن

الْجَمُوحِ دَكَا مَعَاذِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ

جمن کا ہے اور یہ دونوں معاذ بن عمرو اور معاذ بن عمرو بن جمن سے ملے

۴۲۵) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَامِ حَنْزَلٍ فَلَمَّا

ابو قتادہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کے سال نکلے بہ

الْمُتَّقِينَ كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

دشمن سے مقابلہ ہوا تو مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوا اور میں نے مشرکوں میں سے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں میں سے ایک شخص کے اوج

فَأَسْتَدْرَتْ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَّرَائِهِ حَتَّى ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى جَبَلٍ عَاتِقِهِ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ

ہے تو میں گھوم کر آیا اور اس کے پیچھے سے مجھ کو اس پر پہنچ گیا اور اس کے موٹے جسم کی لگ پر لیا تو وہ میری طرف متوجہ ہوا

فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ ثُمَّ أَدْرَلَهُ الْمَوْتَ فَأَرَسَنِي فَجَمَعْتُ عَمْرًا ابْنَ

اور مجھے ایسا ہوا کہ مجھے اس سے موت کی بو آئی پھر اسے موت نے آیا مجھے ہی نے چھوڑ دیا میں حضرت عمر کے پاس

الْخَطَّابِ فَقُلْتُ مَا بَالَ النَّاسِ قَالَ أَمْرًا لِلَّهِ ثُمَّ رَأَى النَّاسَ رَجَعُوا وَجَلَسَ إِلَيْهِ صَلَّى

پہنچا اور اس کو لوگوں کو کہا ہوا کہا اللہ کا حکم ہے پھر لوگ لوگ کہہ لیا کہ وہ ہے (اور بیچ ہوئی) اللہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَلِيَّةٌ فَلَهُ سَلْبُهُ فَقُلْتُ مَنْ قَتَلَهُ

فرمایا جس نے کسی کو قتل کیا ہو اور اس کے پاس اس کا ثبوت ہو تو مقتول کا ساکن اسی کا ہے میں نے کہوئے ہو کہ کن دن میرے

لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَلِيَّةٌ فَلَهُ سَلْبُهُ فَقُلْتُ مَنْ قَتَلَ مَنْ

ملے اس اسلام ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کر دیکھا کہ صلوات کی کہ ابو جہل کے قتل کر کے ہیں زیادہ عرصہ میں زیادہ کون ہیں قاتل ذریعہ بطور معاذ بن عمرو کا ہے اسے فرمایا کہ ابو جہل نے قتل کیا ہے اور ابو جہل کا ساکن ایک میں عمرو بن جمن کو دیا ہے معاذ بن عمرو کو کہیں یا اس نے کہ میں قاتل قری ہو گا

يَتَهَدَى ثُمَّ جَلَسَتْ ثُمَّ قَالَ الْكَلْبَةُ مِثْلَهُ فَقَامَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كون يرثه لى كوايى دنگا پهرين دنگا پهرين سبرى مرتبه اسى طرح فرمايا تو يراى اشا رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا

مَلِكٌ يَا أَبَا قَتَادَةَ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّمَ وَعَدِلَ
ابوقتادہ تمہارا کیا کام ہے میں نے آپ سے قصہ بیان کر دیا تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے کہا اوداس کا سامان میرے

فَارَضَهُ عَنِّي فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضَاهُ اللَّهُ إِذَا الْإِمَامُ يَعْبُدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أَسَدِ اللَّهِ
پاس ہے آپ میری جانتے اسے رضی کر دیں حضرت ابو بکر نے کہا نہیں اللہ کی قسم آنحضرت صم ایک ایسے شیر خدا کے ساتھ نہیں آپ نہیں کریں گے

يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيكَ سَلْبَهُ فَقَالَ الْبَيْتِيُّ صَلَّى اللَّهُ
جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لڑتا ہے کر نہیں اگر سامان دیں گے تو بی بی سلم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ فَاَعْطَاهُ فَبِعْتُ الذَّرْعَ فَاَبْتَعْتُ بِهِ عَجْرَ ابْنِ بَنِي سَلَمَةَ فَأَرَانَهُ
درا بیکر نے کچھ مال تو اپنے دو جو کوئی میں نے درد کو فروخت کر دیا اور اس کے ساتھ جو مسلمین ایک باغ خرید اور بی بی سلم

كَأَوَّلِ مَالٍ تَأْتِيهِ فِي ذِي سَلَامٍ (۱۹) يَا بَابَ مَا كَانَ الشَّيْءُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطَى
ہے جو پہلا اسلام کے زمانہ میں جاس کی باب جو بی بی سلم اللہ علیہ وسلم مولفہ

السَّلْمَةَ فَبِعْتُهَا وَمِنْهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَبِهَا عِدَّةٌ مِنْ خِيَارِ نِسَاءِ الْمَدِينَةِ وَبِهَا
القولب اور دیگروں کو خوس وغیرہ میں سے دینے سے پہلے اسے عبدالرحمن بن عدی نے بی بی سلم اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۱۰۶۶) عَنْ خُبَيْرِ بْنِ خَزِيمٍ رَمْتَكَرٍ (۹۱) (۴۶) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
کھجور حدیث ۹۱ عمن عمر بن خطاب سے روایت ہے

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيَّ إِعْجَازٌ يَوْمَ فِي بَحْرٍ هَلَبِيَّةٍ فَاَمْرَةٌ أَنْ يُفِي بِهِ قَالَ أُصَابُ
کہ انہوں نے یا رسول اللہ میں نے جاہلیت میں ایک دن اعجاز کرنے کی منت مانی تھی تو آنحضرت صلوات اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ آپ سے ہر کوئی کی

عُمَرُ جَارِيَتَيْنِ مِنْ سَبْيِ حِثِّينَ تَوْضَعُهُنَّ ابْنِي بَعْضُ بَيُوتِ مَدَنَةَ قَالَ فَمَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
اور حضرت عمر کو حنین کے قیدیوں میں سے دو لونڈیاں میں تو انہوں نے انہیں کر کے کسی گھر میں رکھا کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنِ سَبْيِ حِثِّينَ فَبِعُوا لِأَسْعُونَ فِي لِسَانِكَ فَقَالَ عُمَرُ يَا عَبْدَ اللَّهِ انْظُرْ مَا هَذَا
حنین کے قیدیوں پر احسان کر کے چھوڑ دو وہ تمہیں میں دولت ہے پھر یہ ہے حضرت عمر نے فرمایا عبداللہ کھجور سے کیا ہے

فَقَالَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَهَبَ فَأَرْسِلَ الْجَارِيَتَيْنِ
انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں پر احسان کر کے چھوڑ دیا فرمایا جاؤ لونڈیوں کو چھوڑنے

قَالَ نَافِعٌ وَكَأَنَّ ابْنَ بَكْرٍ قَالَ لِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ إِجْعَرْنَا نَدْوَا أَحْمَرَ لَوْ يَخْفَى عَلَى عَبْدِ
نافع کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غلام سے عہد نہیں کیا اگر کیا ہوتا تو عبداللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی نہ رہتا

اللَّهُ وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ مِنْ الْخَمْسِ (۱۰۶۶) عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ (صَتَكَرٍ) (۵۵) (۵)
اور ایک روایت میں یہ لڑنا یا لڑنے والوں ان میں سے نہیں ملتا دیکھو حدیث ۵۵

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے اور آپ کا ان کو مال دینے کا ذکر دو مرتبہ ہے اور وہاں تین مرتبہ میں حنین کے قیدیوں سے یہاں مراد موازن کے قیدی ہیں جن کا ذکر عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضرت عمر مولفہ القولب میں بت نہ تھے اور ان کو خوس میں سے دو لونڈیاں میں بعض وقت زیادہ بدوری دکھانے پر بی بی سلم سے انعام دینا جانا تھا۔ اعجاز کی منت کی حدیث وہاں ہے ابواب العہد میں روایت اس وقت میں گذر چکا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چار گھڑے کئے۔ ایک جھواڑ سے کیا جہاں حنین کا مال قیمت تقسیم کیا تھا حضرت ابن عمر سے تھے نہیں کیا۔ غالباً ان کو غلطی مگر یہی ملتا ہے کہ روایت کے الفاظ میں کچھ فرق ہے۔ جہاں نافع میں اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں تھا چنانچہ نافع نے اعلیٰ تو ماخفاً فلهم دان کو ضبط ایمان و حجر عہد دان کی پھر بھری اور اکل تو انہیں اسے ساجل ذوقی قولہ ہم من الخیر و الخیر منہم عمر بن خطاب تھا ان سے غلباً احب ان کی بھرتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انعمہ دی روایت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جہاں روایتی قسم بھلا ہوا

عمر بن خطاب کے لقب
بی بی سلم کے مالوں کی
بی بی سلم کا نام
ان کے دو لونڈیاں کا
اور مسلمانوں کی خدمت
پیدا کرنے پھر بی بی سلم
پر اسلام کی صداقت
ظاہر ہو جاتی ہے
گزشتہ قیوم میں طرح
طرح کے فوائد اور
نقصات ہوتے ہیں
ان فوائد کو چھوڑنا
اسی حالت میں حین
موت ہے کہ ان کی
کچھ مال ادا کی جائے
بعض کو تقسیم ہوا
دینے کے لیے کچھ ادا
کی ضرورت ہوتی
ہے بعض کو کھانا
یا کوئی شکر کتنی ہے
یا کوئی مصیبت پیش
آ جاتی ہے بعض کے
شر سے اسلام دنیا
کی ضرورت ہوتی ہے
بیت المال سے اس
قسم کے خرچ کرنے
کا اختیار ہاں کہ ہے
مناکر روایت کا
مضمون تقریباً ۹۹
کے لفظوں میں دہرایا
ہو گیا ہے کس کس
سلفی فرقہ سے
یہ بیان حکیم بن حیان

ملکہ روایت
 ملکہ کا ایک فقر
 ساکدو ہے قال
 النبی صلی اللہ علیہ
 وسلم انی اعطی
 قریشا اتا لغهم
 لانهم حدیث
 عهد بجاہلیۃ
 ملتا من قریش کو
 آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے قریش کے
 مال غنیمت کے کس
 میں سے دیا تھا اور
 مقصد انکی تالیف
 قلوب تھا ان کے
 نام ہیں ابو سفیان
 معاویہ بن ابی سفیان
 سلیم بن حزام
 عمارت بن حارث
 عمارت بن ہشام
 سہیل بن عمرو
 بن عبد العزی
 علاء بن حارثہ
 عیینہ بن حصین
 صفوان بن امیہ
 اقرع بن حابس
 مالک بن عوف
 آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کو انکی
 تھا اور اس میں سے
 جس کو چاہے
 دے دیں
 ملکہ جو انوں میں سے
 بہت ہونے اور
 دور اندیشی کے واسطے
 انھار کے بعض جوانوں
 کے لئے ایسے کلمات

(م- ۱۲۶۸) عَنْ أَنَسٍ (متكرر- ۱۲۶۷) ۱۲۶۷) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ

دیکھو حدیث ۱۲۶۷
 انس بن مالک سے روایت ہے کہ انصار میں سے کچھ
 الْاَنْصَارِ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ آذَانَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت
 جب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو

وَسَلَّمَ مِنْ أَمْوَالٍ هُوَ آذِنُ مَا آذَانُ نَظْفِقُ يُعْطَى رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ الْبَايِعَاتِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ

جو ان کے مال دلائے اور آپ قریش میں سے کچھ لوگوں کو سوا دینے لگے
 فَقَالُوا يَا خَيْرَ اللَّهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطَى قُرَيْشًا يَدُ عَنَا وَسَيُوفِنَا

کہا کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنقریب کرے
 قریش کو دینے ہیں اور ہمیں چھوڑے ہیں اور انکی تالیف
 نَفْطُرُ مِنْ دِمَارِهَا قَالَ أَنَسُ عُدَّتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَقَالَتِهِمْ

سے ان کا خون لیک رہے انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات بیان کر دی تھی آپ نے انھار کو
 فَارْسَلْنَا إِلَى الْاَنْصَارِ رَجْمَهُمْ فِي قَبْرِهِمْ مِنْ أَدْمٍ وَلَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ أَحَدًا غَيْرَهُمْ فَلَمَّا

اور ان میں چڑھے کے ایک ٹپے میں اٹھایا اور ان کے ساتھ ان کے علاوہ اور کسی کو نہ بلایا
 جب وہ
 اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان حديث بلغني عنكم

اٹھے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے
 اور فرمایا یہ کیا بات ہے جو مجھ کو تماری طرف سے بھیجی ہے
 قَالَ لَهُمْ فَهَذَا هُمَا ذُو الْأَرْبَابِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا يَقُولُونَ أَشْيَاءَ وَمَا نَأْسُ وَمَا

ان میں سے کچھ داروں نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ میں سے جو صاحب رائے ہیں انوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا اور ہم میں سے جو جوان
 حَدِيثُهُ اسْنَا لَهُمْ فَقَالُوا يَا خَيْرَ اللَّهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطَى قُرَيْشًا

ہیں ان میں سے بعض نے کہا کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنقریب کرے
 قریش کو دینے ہیں
 وَيَتْرُكُ الْاَنْصَارَ وَسَيُوفِنَا نَقَطُرُ مِنْ دِمَارِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور انھار کو چھوڑتے ہیں اور ہماری تلواروں سے ان کا خون ٹپکا رہا ہے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 إِنِّي أُعْطَى رَجُلًا أَحَدِيثُ عَهْدَهُمْ بِكُفْرٍ مَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ

کہیں بعض آدمیوں کو دے رہا ہوں واسطے کہ وہ ابھی کفر سے نکلے ہیں کیا تم پسند نہیں کرتے کہ لوگوں
 مال سے جائیں
 وَتَرْجِعُونَ إِلَيَّ رِحَالَكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللَّهِ مَا تَقْبَلُونَ بِهِ خَيْرًا

اور تم اپنے گھروں کو
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیکر واپس جاؤ اللہ کی قسم ہے تم ساتھ لیکر واپس جاؤ گے وہ اس سے
 وَمَا يَنْقَلِبُونَ بِهِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ رَضِينَا فَقَالَ لَهُمْ إِنَّكُمْ سَادُونَ بَعْدِي

بجز یہ ہے وہ لیکر واپس جائیں گے انوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہے تک ہم اس پر خوش ہیں آپ نے انیں فرمایا کہ عنقریب میرے بعد تم
 أَثَرُهُ شَرِيذَةٌ فَاصْبِرُوا حَتَّى تَنْقُوهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخَوْضِ

دیکھو کہ میرے پیچھے تماری سخت حق تلفی ہوگی پس تم صبر کرو یا ان تک کہ تم انھار سے رسول سے
 خوش ہو لو
 قَالَ أَنَسٌ فَلَمْ يَصِدْ (م- ۱۲۶۹) ۱۲۶۹) عَنْ جَبْرِ بْنِ مُطْعِمٍ (متكرر- ۱۲۹۸)

انس کہتے ہیں جب کہ تم نے صبر کیا تھا
 دیکھو حدیث ۱۲۹۸
 (م- ۱۲۶۸) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَمْسِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

انس بن مالک سے روایت ہے
 کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جا رہا تھا

نکلے اٹھے ایسا ہے جب کہ سے فریج دینا میں مطلب یہ کہ وہ اس کو فریج دیکھا گیا جو اس پر لینی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمے کہ اس کا اجر دیکھا جو اس نے وہ جگہ جہاں بانی صح
 مون بڑا اور بانی زندگی کا موجب ہے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض ہے جو انکی طرف سے زندگی اور اسکی نعمت میں ملے مگر روایت کا معنی تقریباً یہ ہے کہ انھوں نے اس کو دیکھا کہ اس سے
 وہ حقیقت انھار کے ہاتھ میں تھی عافیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرواں دینا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح مجھے دیکھنے والے کو تو لوگ تھے تربیت
 یافتہ تھے اور حضرت میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال دینا میں سے ہے

وَعَلَيْهِ بَرْدٌ مَجْرُومٌ إِلَى غَلِيظَةِ الْحَاشِيَةِ فَادْرَكَهُ أُعْرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدَةً حَتَّى

اور آپ ایک سوٹے حاشیہ کی طرف چلا اور اسے چمٹے تھے ایک گنوار آپ کے پاس آیا اور زور سے آپ کو کھینچا میں نے

نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَثْرَتْ بِهِ حَاشِيَةُ الزُّرْدَاءِ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے کو دیکھا کہ ہار کے حاشیہ نے اس کے زور سے کھینچنے سے

مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتِهِ ثُمَّ قَالَ مُرِّي مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ فَانْتَقَرْتُ إِلَيْهِ فَضَوَّكَ

اس پر نشان کر دیا پھر اس نے کہا شکرے اس مال میں سے جو آپ کے پاس ہے میرے لئے حکم دیجئے آپ نے اس کی بات دیکھا اور

ثُمَّ أَمَرَهُ بِعَطَاةٍ (۱۲۲۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ حُنَيْنٍ أَشْرَأَ النَّبِيُّ

بہنیں پڑے پھر اس کو بچنے کا حکم دیا عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جب حنین کا دن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا سَأَلْتُ فِي الْقِسْمَةِ فَأَعْطَى الْأَقْرَبُ بِنِ حَائِسٍ مِائَةَ مِنْ الْأَيْلِ

بعض لوگوں کو خاص طور سے حصہ دیا اقرب بن حابس کو سوادش دینے

وَأَعْطَى عَمِيْنَةً مِثْلَ ذَلِكَ وَأَعْطَى أَنَا سَأَلْتُ مِنَ الْأَعْرَابِ فَأَثَرَهُمْ يَوْمَ مَيْدَانِ

اور عینہ کو بھی اتنے ہی دیتے اور عرب کے سرداروں سے بعض کو دیا انیس اس دن خصوصیت سے

الْقِسْمَةِ قَالَ رَجُلٌ وَآتِيَهُ إِنْ هَذِهِ الْقِسْمَةُ مَا عَدِلَ فِيهَا وَمَا أَرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ

حصہ دیا ایک شخص نے کہا اللہ کی قسم اس تقسیم میں انصاف نظر نہیں رکھا گیا اور اس میں اللہ کی رضا کا خیال رکھا گیا ہے

فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا خَيْرَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ فَمَنْ يَعْدِلُ

میں نے کہا اللہ کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور اظہار دوں گا میں نے آپ کے پاس آکر آپ کو فریاد کیجے فرمایا جب اللہ

إِذَ الْمَ يَعْدِلُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ رَحِمَ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أَدْرَى يَا كَلْبُ مِنْ هَذَا أَنْصَبُ

اور اس کا رسول انصاف دیکر سے تو کون انصاف کرے گا اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم

(۱۲۲۹) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ كُنْتُ أَنْقُلُ النَّوْءَ مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ النَّوْءِ

اسما بنت ابوبکر سے روایت ہے کہ میں اپنے سر پر زبیر کی اس زمین سے گھنٹیاں لایا کرتی تھی جو

أَقْطَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِي وَهِيَ مِثْرِي عَلَى ثَلَاثِي فَرَسِي فَقَالَ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی تھی اور وہ مجھ سے فرس کی دو سالی دو روٹیں دوڑتی اور ابو ضرہ

أَبُو ضَمْرَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا

نے کہا کہ ہشام اپنے آپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو زونہ تقسیم کر

مِنْ أَمْوَالِ بَنِي الزُّبَيْرِ (۱۲۷۰) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مُتَكَرِّرًا ۱۱۳۶) (۲۰) بَابُ مَا

مالوں میں سے زمین دی تھی اس باب دیکھو حدیث ۱۱۳۶ باب ۲۰

يُعْصِبُ مِنَ الظَّعَامِ فِي أَرْضِ الْحَرَبِ (۱۲۳۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَكْحُلٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

راہی کی زمین میں کھانے کی چیز مل جائے عبد اللہ بن ماکھول سے روایت ہے کہ ہم نے خیبر کے ایک محل کا ماحرہ کیا

خَيْبَرَ فَرَمِيَ إِنْسَانٌ بِرَأْسِهِ فِيهِ شَعْرٌ فَزُوذَ لِأَخِيكَ فَانْتَقَرْتُ فَزَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہوا تھا ایک شخص نے ایک تھید پھینکا جس میں جڑی تھی میں اس کے لئے کو دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں

فَأَسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ (۱۲۳۱) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا نَصِيبُ فِي مَعَارِزِنَا الْعَسَلُ وَالْغَيْبُ

تو مجھے آپ سے شرم آئی تھی ابن عمر سے روایت ہے کہ ہم کو ہماری جنگوں میں شہد اور انگریزوں

ملکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے آپ تکلیف کے بدلے آرام پہنچاتے تھے اور فریاد و غیب اور سختی کرنے والوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے۔ لڑائی کا مال تھا یعنی بغیر جنگ کے ہاتھ آتا تھا۔ ۳۱ نقد تفسیر ۱۱۳۶ کے ہی ہیں۔ سوائے اس کے کہ وہاں ہے و کائنات اراضی لعلہ لعلہ علیہا اللہ و لوسولہ او میاں اسکی بجا سے کائنات اراضی لعلہ لعلہ علیہا اللہ و لوسولہ علیہا اللہ یعنی زمین کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے اور کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانوں کی اس کی تشریح یوں کی گئی ہے کہ جب آپ نے کفر و حد تک فرمایا تو کچھ زمین فرمایا تو کچھ زمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی چوٹی اور کچھ یودی رہی پھر جب ہونے مساکنت کی خواہش کی تو باقی ہی شہد دلا رسول ہوتی۔ اور

بعض نے ظہور کو غلطی ہی قرار دیا ہے کہ چونکہ روایت اس حدیث کی بھی شہد دلا رسول ہے مگر میرے نزدیک یہ حدیث اصل احادیث پر روشنی ڈالتی ہے۔ ایک زمینیں نوہ ہوتی جو انکی ذاتی ملکیت ہوتی اسی میں انکے مکان ہوں گے اور ایک حصہ زمین کا سرکاری زمین کے طور پر جو کچھ بلا حصہ لیسو ہوا اور دوسرا حصہ بعد فتح لاسولہ و سلمیوں ہوا یعنی زمینیں دیا اس

فَمَنْ كَلَهُمْ وَلَا تَزِدُوهُمْ (۱۴۳۲) حَرْنَ ابْنِ أَبِي أَدْنَىٰ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَصَابَنَا جَمَاعَةٌ لِيَا لِي خَيْبَرٌ

ہم نے کہا یہ کسے خیر کیے، اچھا نہ کہتے۔ ابن ابی ادنی سے روایت ہے کہ ہمیں خیر کی باتوں میں بہت بھوک لگی

فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَتَعَارَفَى الْحُمْرَ الْأَهْلِيَّةَ فَأُخْرِكُنَا هَا فَلَمَّا غَلَبَتِ الْقُدْرُ نَادَىٰ مَنَاذِرِي

جب فوج خیر کا دن ہوا تو ہم کہ بلوگھوں پر پہنچے اور ان کو کہا جب ہانڈیوں میں جوش آیا تو میں اللہ صلی اللہ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُفْرَ الْقُدْرُ فَلَا تَطْعَمُوا مِنْ حَرْمِ الْحُمْرِ شَيْئًا قُلْ

علیہ وسلم کے منادی نے بتایا کہ ہا ہا ہاں الی دو اور گھر بلوگھوں کے گوشت میں سے کچھ نہ کھاؤ عبد اللہ

عَبْدُ اللَّهِ فَقُلْنَا إِنَّ شَأْنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَهْلِكُ خُمْسٌ قَالَ وَقَالَ

کہتے ہیں ہم نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ان تک کر دی کہ اس سے جس میں کھانا لیا گیا تھا کھا لیا اور وہ لے گیا

الْآخَرُونَ حَرَّمَهَا الْبَيْتَةُ وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْلٍ فَقَالَ حَرَّمَهَا الْبَيْتَةُ

انہیں قطعاً حرام کر دیا اور میں نے سعید بن جبیر سے پوچھا تو کہا قطعاً حرام کر دیا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے اقرار نامے والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے

۵۸- کتاب الجزیۃ

رَأبَابُ الْجَزْيَةِ وَالْمَوَادِعَةِ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى قَاتِلُوا الَّذِينَ

باب جزیرہ اور جنگ کرنے والوں سے صلح کرنا لاء اور اللہ تعالیٰ کا قول جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے

لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ

ان سے ان کے ساتھ جنگ کرو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے اور انہیں حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اسے رسول نے حرام

دِينِ حَزْرٍ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجَزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

کر دیا ہے اور نہ بچے دین پر چلتے ہیں یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے جزیرہ دیں اور وہ مغلوب ہوں گے

إِذْ لَعَنُوا مَا جَاءُوا فِي أَخْذِ الْجَزْيَةِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجْرُسِ الْعَجِمِ وَقَالَ

صاغروں کے معنی نرسل ہیں اور یہود اور نصاری اور مجوس اور عجم کے باشندے ہیں اور ان

ابن عیینہ عن ابن اریحیح قال قلت لعماد ما شأن أهل الشام عليهم أربعة

عیینہ نے ابن ابی اریحیح سے روایت کی ہے کہ میں نے عماد سے کہا کیا وجہ ہے کہ شام والوں پر چار دینا ہے

مسلموں سے وصول ہوتا ہے اور اسلامی حکومت کی فوج اور دیگر فریادیاں پر اس لئے فوج ہوتی ہے کہ وہ ان غیر مسلموں کی مخالفت کرتی ہے مسلمان جنگ بھی کر سکتے تھے اور زکوٰۃ بھی دیتے تھے جو لوگ انہیں تھا غیر مسلم صرف ہی نہیں ادا کرتے تھے اور کونسی حکومت ہے جو آج فوج کے رکھنے کے لئے رعایا سے نہیں وصول نہیں کرتی حضرت عمر کے زمانہ میں جب اسلامی نو مہیں تھیں جس سے جو شام میں واقع ہے ہٹ آئی تو حضرت ابو عبیدہ نے وہاں کے یہودیوں اور عیسائیوں کو بلا کر کرنی تاکہ کرنی رقم جزیرہ سب آپس کر دی کہ اب جو تکہ ہم تماری مخالفت نہیں کر سکتے اس سے یہ رقم ہم نہیں رکھ سکتے اور ایسا ہی اضلاع میں لکھ دیا کہ جہاں سے اسلامی لشکر ہٹ آئے وہاں کی رقم جزیرہ دینا سب کر دی جائے یہ غلط ہے کہ جزیرہ کو بغیر سزا سے یا اسلام لانے کیلئے ایک قسم کا جریمہ جزیرہ کا تعلق مذہب کی تبدیلی سے کچھ بھی نہیں۔ جزیرہ دیکر جنگ بند کرنا بھی ایک قسم کی مخالفت ہے مگر قرآن کریم میں جنگ کی جس قدر آیات ہیں وہ اس امر کی تائید کرتی ہیں کہ تم کو اللہ الذی یقاتلکم۔ جب مشرکین عرب کے ساتھ بھی جنگ کی شرط تھی تو ظاہر ہے کہ ان کی تباہی کی جنگ اس شرط سے آزاد نہیں ہو سکتی اور نہ بھی یہ مسلمانوں سے کیا نہ انکو بھی یہ اجازت ملی کہ تم کو کیا تمہیں اسلئے جنگ کریں کہ وہ مسلمان نہیں۔ اگر اس طرح کی جنگ جائز ہوتی تو صحیح معنی ہے مالا کہ قرآن کریم میں لکھا ہے ان جنوا للسانا فاجنوا لہا۔ اصل حکم یہ ہے کہ اگر دروغ سے جنگ کریں تو تم ان سے جنگ کرو۔ ہاں جنگ شروع ہو جائے تو پھر جنگ ایک ابتدا کرنے والا مغلوب نہ ہوئے جنگ بند کرنے سے ہے۔

۱۔ حدیث نے اس سے
بات کو مان نہیں کیا
کراسنے رکھا کہ گھڑ
گدھوں کا گوشت حرام
تھا یا اس کے ذوال
غنیّت میں اس طرح
تصرف کرنا جائز
تھا۔ سعید بن جبیر
کیاں تھا کہ حرام ہی
کر دیا ہے لیکن اگر
وہ بچے بھی ہو تو مال
غنیّت بھی تقسیم
ہوا تھا تو یہی روایت
ہے اس کے گھڑ
گدھے مال غنیّت
کا قسمی حصہ تھا۔
معمولی کھانے پینے
کی چیز تھی۔
۲۔ جزیرہ جزا ہے
یعنی بدلہ ہے جو
خارج غیر مسلموں
ان کی جان وال
کی مخالفت کے
بے حکومت اسلامی
ہوتی ہے۔ اس کو
جزیرہ اسی لئے کہتے
ہیں کہ یہ ان کی جان
وال کی مخالفت کا
بدلہ ہے پس جزیرہ گناہ
کیلئے نہیں ہے جو غیر

ذُنَابِرٍ وَأَهْلَ الْيَمَنِ عَلَيْهِمْ دِيْنَارٌ قَالَ اجْعَلْ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِ لَيْسَ (۱۲۳۳) عَنْ

ابو یونس والوں پر ایک دینار کیا اس کوئی کی وجہ سے مقرر کیا گیا

عُمَرُو قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعُمَرُ بْنُ أُوَيْسٍ فَخَذَّ تَهْمًا مِجَانًا سَنَةً

ربیع الثانی سے روایت ہے کہ میں جابر بن زید اور عمر بن اویس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو چار نے سنبھری ایسے

سَبْعِينَ عَامًا مَجْرًا مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ يَا هَلْ لِبُصْرَةَ جَدِّ دَرَجٍ زَمْرَمٌ قَالَ كُنْتُ

ایک حدیث زمزم کی سڑھیوں کے پاس انہیں سنی جہاں سال مصعب بن زبیر نے بصرہ والوں کے ساتھ حج کیا گیا

كَاتِبًا بِحِزْبِ بْنِ مَعَاذٍ وَبِئْسَ الْأَحْنَفُ فَإِنَّا نَاكِبًا مَعَهُ مِنَ الْخَطَابِ قَبْلَ مَوْتِهِ سَنَةً

جو بن معاذ نے احنف کے بیٹے کا منشی تھا میں نے اس حضرت عمر بن خطاب کا خط ان رضی حضرت عمر کی وفات سے ایک سال پہلے

فَرَّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي سَخْرٍ مِنْ الْمُجْرِمِينَ لَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخْذًا الْجَزِيَّةَ مِنَ الْبُحْرِيِّ حَتَّى

تو جو جس میں سے ہر ایک ذی سخر کو پکڑا اور حضرت عمر نے جو جس سے جزیرہ لیا تھا

شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ مِنْ تَجْوِجِ مِ

کہ عبدالرحمن بن عوف نے شہادت دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

حَجْرٍ (۱۲۳۴) عَنْ عُمَرَ بْنِ عَوْفٍ الْأَنْصَارِيِّ وَهُوَ حَلِيفُ لَبْنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ

بن تھا کہ

وَكَانَ شَهِيدًا بِدِرْأَتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدٍ إِلَى الْأَنْصَارِ

اور یہاں بھی موجود تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

إِلَى الْبُحْرِيِّينَ يَا قَوْمِي بَدْرِيَّتُهُمْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَرَصًا أَهْلَ

بحرین بھیجا کہ وہاں کا جو بیٹے آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

الْبُحْرِيِّينَ أَمْرًا عَلَيْهِمُ الْخَلَاءِ بْنِ أَحْضَرٍ فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدٍ عَلَى الْمَلِكِ مِنَ الْبُحْرِيِّينَ

اور علامہ ابن حضری کو ان کا جاہ لایا تھا

الْأَنْصَارِ يُقَدِّمُ أَبِي عُبَيْدَةَ فَإِنَّا صَلَوَةُ الصَّبِيِّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جو بڑے کی آمد کی خوشی اور بے صلوات کے نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی

فَلَمَّا صَلَّى بِهِمُ الْبُحْرِيُّونَ فَتَعَرَّضُوا لَهُ تَبَسُّمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جب آپ نے انہیں صلوات کی نماز پڑھائی اور وہاں جہانے گئے تو انصار آپ کے سامنے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

علا اس سے معلوم ہوا کہ جو حدیث کے مطابق تھا علامہ مصعب بن زبیر اس وقت اپنے حال عبدالرحمن بن زبیر کی طرف سے بدعتی طور پر تھے علامہ جو جس میں سے ہر ایک ذی سخر کو پکڑا اور بصرہ والوں کے ساتھ حج کیا گیا علامہ جو جس میں سے ہر ایک ذی سخر کو پکڑا اور بصرہ والوں کے ساتھ حج کیا گیا علامہ جو جس میں سے ہر ایک ذی سخر کو پکڑا اور بصرہ والوں کے ساتھ حج کیا گیا

کریں گویا ان فواہش کا ارتکاب کھلم کھلا کرنے سے روکا تھا۔ اپنے طریقہ پر جو وہ چاہیں کریں۔ اور اس کی مثال یہ دی ہے کہ جس طرح عیسائیوں کو مسلمانوں کی مجالس یا محفلوں میں انہماک صلیب سے روکا تھا۔ تو یہ امور و حقیقت انتظام علی میں وہیں تھے اور ان کی غرض امن کو قائم کرنا تھا۔ ورنہ اسلام دوسرے مذاہب پر جبراً دوسری قوموں کے رسم و رواج سے کسی قسم کا تعرض نہ کرتا تھا۔ ہاں بے حیائی اور فواحش کے کھلم کھلا ارتکاب کو روکنے کے لئے انسانی میں داخل تھا۔ جو جس میں اس قسم کے فواحش کا ارتکاب مرد کی مذہب کے پھیل جانے سے بہت براہ گیا تھا جس نے اباحت کا دروازہ کھول دیا تھا۔ بلکہ یہ فقرہ اسی خط کا معلوم نہیں ہوتا کہ خط کو حضرت عمر کی وفات سے ایک سال پیش تر لکھا گیا یعنی ستمہ ہجری میں اور جزیرہ کا لین حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی ایام کا واقعہ ہے جب جو جس نے کھلتے کھل کر صلوات قبول کی۔ نتیجہ ایاری میں عبید بن عمید کی روایت ابن ابی زبیر سے ان الفاظ میں نقل کی گئی ہے۔ لہذا ہذا المسلمون اهل نارس قال عمر اجتمعوا فقال ان الجوس ليسوا اهل كتاب..... فقال علي بل هم اهل كتاب يعني جب ستمائوں نے اہل نارس کو کھلتے ہی تو حضرت عمر نے اعلان کیا کہ سب لوگ بیچ بوجھائیں۔ پھر فرمایا کہ جو جس اہل کتاب نہیں..... تو حضرت علی نے کہا نہیں وہ اہل کتاب ہیں۔ اور وہاں میں جعفر بن محمد کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ جو جس کے ساتھ کیا معاملہ کروں تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا اشدھم ت رسول اللہ صلوات بقول سنوا بجمع سنة اهل الكتاب میں گواہی دیتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلوات کے ساتھ ان کے ساتھ اہل کتاب کا معاملہ کر دینے کی روایت منقطع ہے مگر اس کے بعد کہ ان کو ٹھنڈا قرار دیا گیا ہے۔ بخاری کی اس حدیث سے صحت ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلوات صلوات نے جو جس سے جزیرہ لیا جس سے اوپر کی روایت کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت عمر اور خود آنحضرت صلوات کو جو جس سے جزیرہ لین صحت بتاتا ہے کہ خود آپ نے م

یمنوں کا امن اختیار کیا نفسلین واکانتا بدنی بیانہ ہائنتی یجتعون بہما للاملاک یعنی ان تو اس بات سے روک دیا جائے کہ وہ ان امور کا انبیا صلواتوں کے سامنے

علا اس حدیث میں
 بحرین سے مال لے کر
 لے کر کہے اب بحرین
 سے جہاں بحرین ہے
 تھے، آنحضرت صلعم
 نے شہر بحرین میں
 جو قریب چار سال سے
 مسیحی کی اور انہوں
 نے خرچ دینا منظور
 کیا اس میں کارگر
 ۲۵۰۰۰ میں گزر چکا
 وہاں اس کی تقسیم
 کا ذکر ہے کہ نبی صلعم
 نے مسجد میں نبی صلعم
 لگا کر اس مال تقسیم
 کر دیا تھا اور وہ ۱۱
 میں گزر چکا ہے کہ
 جب آنحضرت صلعم
 نے انصار کے لئے
 بحرین کے مال سے
 حصے لگانے کا ارادہ
 کیا تو انہوں نے
 عرض کیا کہ لیتے
 ہی جہاں سے ہمارے

جین راہم و قال اظنکم قد سمعتم ان ابی عبیدہ قد جاء بشیء قالوا اجل یا رسول
 اور فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ تم نے سنا ہے کہ ابوعبیدہ مجھے لائے ہیں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ تعالیٰ
 اللہ قال یا بشر ردوا مملو اما سیرکم فواللہ لا الفقرا حشر علیکم وذلک ان احسن علیکم
 ہے اپنے فرمایا خوش ہوا اور میں نے تم کو خوش ہے اس کی امید رکھو اللہ کی قسم تمہارے محتاج ہونے کا مجھے کوئی ڈر نہیں مجھ مجھے ڈر ہے کہ تم
 ان تبسے علیکم الذنیا لہا بسطت علی من کان تبذکم فتنفسوھا کما تاتنفسوھا و
 پر فرمائی ہوگی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرمائی ہوئی تو تم اس کی عفت بھگ جاؤ بس طرح وہ لوگ اس طرح بھگ گئے
 و لہذا لکم لہما اھلکتمہم (۱۴۳۵) عن جابر بن عبد اللہ قال بعث عمر الناس فی
 اور وہ نہیں ہلاک کرے جس طرح انہیں ہلاک کر دینا ہے جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے لوگوں کو سب مشروں میں بھیجا
 اذناہ الامصار یقاتلون المشرکین فاسلم المہرمزان فقال انی مستشیرت فی
 مشرکوں سے جنگ کرنے تھے اور ہرمزان سلمان بن جابر سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے اپنی ان جنگوں میں تم سے
 مغازی ہذا قال نعم متثلھا ومثل من فیھا من الناس من عدو المسلمین
 مشورہ لین پابست ہوں اس نے کہا بہت اچھا ان لوگوں کی مثال اور ان لوگوں کی مثال جو ان میں مسلمانوں کے دشمن ہیں ایک
 مثل طائر لہ رأس و لہ جناحان و لہ رجلان فان کسر احد الجناحین قھضت
 پرندہ کی طرح ہے جس کا ایک سر اور دو بازو اور دو پاؤں ہیں اگر ایک بازو ٹوٹ جائے تو دونوں پاؤں پاؤں ایک بازو کی
 الرجلان یجناح و الرأس فان کسر احد الجناحین قھضت
 دونوں اور سر حرکت کریں گے اور اگر دو سر اور دو پاؤں ہوں گے تو دونوں پاؤں اور سر حرکت کریں گے
 وان شذخ الرأس ذھبت الرجلان و الجناحان و الرأس فان کسر
 اور اگر سر کھینچ دیا جائے تو پاؤں بھی پھینک دیا جائیں گے اور بازو بھی اور سر بھی سوڑ کر گریزی ہے
 و الجناح قھضت و الجناح الاخر فانس فانس فانس قال
 اور بازو قھضت اور دو سر بازو خالی ہے پس مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے گریزی پر حملہ کریں مگر اس

بھائیوں کے لئے بھی ہوں اسی دشمنوں کو آگے م ۱۴۷۲ میں دوہرایا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی حرم ان لوگوں کے دونوں میں نہ تھی دیکھو نوٹ م ۱۴۷۲ پر
 انصار اور اسی خصوصیت سے حاضر ہوئے۔ یوں لوگ اپنے اپنے مشروں کی مسجدوں میں نماز پڑھا لیتے اور مسجد نبوی میں اجتماع خاص خاص موقوفوں پر ہوتا تھا
 اس حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلعم کو مس قدریقین تھا کہ مسلمانوں کو مال کثرت سے ملے گا۔ مگر یہ کثرت سے مال کے لئے کو اپنے برا نہیں کہا
 بلکہ خوف اس بات کا تھا کہ مسلمان کثرت مال کی وجہ سے دنیا پر بھگ کر جائیں اور ان کی ہمتیں پست نہ ہو جائیں جس کا نتیجہ پلاکت ہوگا۔ علا اس روایت کے
 شروع میں جو ذکر ہے کہ حضرت عمر نے لوگوں کو مشروں میں بھیجا اور مشروں سے جنگ تھی اور ہرمزان سلمان بن جابر سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے
 عمر کے مشروں میں لوگوں کو بھیجے گا اور ان سے وقت کا ہے جب بھی آپ کی عفت کی ابتدا تھی۔ لوگوں کو مسیحی کی غرض یہ تھی کہ عفت تیار کریں یہ وہی عفت ہے جو
 حضرت سعد بن ابی وقاص کے ماتحت بھیجا گیا اور جس نے جنگ قابوس میں عظیم الشان فتح حاصل کر کے مدائن دارالخلافہ ایران پر قبضہ کر لیا۔ حضرت عمر سپہ
 ذکر کرتے تھے کہ عراق عرب سے آگے بڑھ کر مسلمان تک فارس میں جا کر جنگ کریں مگر مقدمہ علاقہات میں بار بار بغاوتیں ہوتی رہتی تھیں کیونکہ زور و جوشہ ایران
 زور تھا۔ ہرمزان نے بھی کئی بار مسلمانوں سے مصالحت کی مگر ہر بار دھوکہ بازی کرتا اور بغاوت کرتا۔ آخر اسے گرفتار کر کے اس کی درخواست کے مطابق حضرت عمر کی
 خدمت میں بھیجا گیا۔ وہ مدینہ میں آکر مسلمان ہوا۔ بہت بعد کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر ایرانیوں سے جنگ کرنے تو اس وقت مشورہ کیا کہ کس طرح اس کا سدباب ہو
 ذی میں ہرمزان سے بھی مشورہ کیا۔ ہرمزان نے یہی مشورہ دیا کہ جب تک زور و جوشہ ہے ایرانیوں کی مسلمانوں کے ساتھ چھوڑ دیا اور کس نہیں کہتی۔ ہرمزان نے مسلمانوں
 کے دشمنوں کو ایک پرندہ کی مانند ثابت دی جس کے سر کو کسری سے تشبیہ دی۔ ایک بازو کو جو قہر سے تشبیہ دی ہے تو اس میں کچھ عالمی معلوم ہوتی ہے۔ ہرمزان کا
 تعلق مدائن ایران سے تھا۔ ایرانیوں کی چھوڑ چھارے کے متعلق حضرت عمر نے مشورہ کیا تھا اور کسری دیکھ کر ایک پرندہ کے حکم میں نہ تھے وہ لوگ ایک سلطنتیں تھیں کسری ایران
 کیلئے ہنر لائے تھے اور قہر سلطنت روم کیلئے اور ان ابی شعیبہ کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے فارس اور اصفہان اور آذربائیجان کے متعلق ہرمزان سے مشورہ کیا تھا
 اور ان سے کہا کہ قہر سے ہی تھا قہر سے ہی تھا ہم ایک بازو کو قہر سے مشابہت ہے۔ روایت میں غلطی کا قہر ہے۔ ہرمزان نے حضرت عمر سے یہ عرض کیا کہ جس

مگر کسری زندہ ہو اور اسے قہر سے تشبیہ دینا چھوڑ دینا چاہئے

بِزَوْزِيَا دَجِيمًا عَنْ جَبْرِ بْنِ حَيَّةٍ قَالَ نَدَبَنَا عُمَرُ وَاسْتَحْمَلْنَا النُّعْمَانَ

بکر اور زبیر دونوں نے جبر بن حیات سے روایت کی ہے انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے ہمیں دجاہم کہلے میں اور نعمان بن مقرن کو

ابن سمرین حتی اذا انقضى الغدوة وخرج علينا عامل كسرى في اربعين الفا

بہر اور سمرین کے ساتھ جب ہم دشمن کی زمین میں پہنچے اور ہمارے مقابلے تک کسری کے امیر جاسم بن ازرق بکر کا

فقال ترجمان فقال ليكن من رجل منكم فقال المغيرة سل عتاشيت قال

تو ایک ترجمان نے کہا امیر اور کہا تم میں سے کوئی شخص مجھ سے گفتگو کرے مغیرہ نے کہا جو چاہو پوچھو اس نے کہا

ما انتم قال نحن انا من من العرب لثاني شقاة شديدا بلاء شديد تمض

تم کو ہم جو مغیرہ نے کہا ہم عرب لوگ ہیں ہم سخت مصیبت اور سخت تکلیف میں مبتلا تھے جو کہہ رہا ہے

الجلد والنوى من الجود ونلس الوبر والشعر وبعيد الشعر و اسحر فبينما نحن كذلك

چمڑا اور کھجور کی ٹھنڈیاں تک کھا رہے تھے اور اون اور بال بٹا کرتے تھے اور درختوں اور پتھروں کی پریشانی کرتے تھے

اذ بعث رب السموت رب الارضين تعالى ذكره وجلت عظمتها اليانا يساهن

کہ آسمانوں اور زمینوں کے رب نے جس نے بڑی بڑی قدرت بڑی ہے ہماری طرف کی ہے

النفيس نعرف اباة واقا فامرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم ان نقابلهم

ہم نے اپنے لوگوں میں سے بھیجا جس کے باپ کو اور جس کی ماں کو ہم پہنچتے ہیں ہمارے نبی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہہ کر

حتى تعبدوا الله وحده او تودوا الجزية واخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن

سے لوہوں میں ایک کٹر مرت ایک اللہ کی پرستش کہ یا تم جزیرہ دینے لگو گے اور ہمارے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے رب کے پیار سے

رسالة ربنا انه من قبل منا صار الى الجنة في نعيم لودير مثلها قطر من

اپنی خبر دی کہ ہم میں سے جو حق میں ہو جائیگا وہ جنت میں اسی نعمتوں میں پہنچے گا جس کی مثال اس نے بھی نہیں دیکھی اور جو

بعي منا ملك رقا بكم فقال النعمان ربنا اشهدك الله مثلها مع النبي صلى الله

ہم میں سے زندہ رہے گا وہ تمہاری گردنوں کا ایک جوبلے کا نعمان نے کہا آپ کو تو اللہ نے ایسے ہیست سے موقوف کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم

یہ اس میں سرکندہ کا ذکر ہے جس کی کئی کی حالت ہا کل ٹوٹا علی اور سا ایک ایران سمانوں کے قبضہ میں آجیہا خط مغیرہ صفحہ جو کہ ایرانی جنرل کے لئے لکھے اور یہ گفتگو کیا ہے ہونی ہا مغیرہ نے ثابت میں عرب کی دونوں حالتوں کا ذکر کیا یعنی دشمنی حالت یعنی کہ کھانے کو نہ تھا اور دعائی حالت یعنی کہ تمہارے اور دشمنوں کی پوجا کرتے تھے اس دور میں زلت کی حالت سے آنحضرت صلعم نے انہیں باہر نکال دیا

ملا ظاہر ہے کہ ان احادیث کی فرض احکام قائل کو بیان کرنا نہیں۔ نہ ہی کسی ایک شخص کے بیان پر ایسے احکام کی بنیاد رکھی جاسکتی ہے۔ جبکہ خود قرآن کریم نے اس قدر وضاحت سے بیان کر دیا ہے زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس راوی کا ایسا خیال تھا جس بات کا انکار نہیں ہو سکتا وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں حکم موجود ہے کہ دشمن صلح کی طرف مائل ہو تو ہم بھی صلح کر لیں ان جنہو المسلمنا فتحنا تھا۔ اور نبی کریم صلعم نے کفار کے ساتھ ایسے حالات میں صلح کی کہ نہ وہ فائدے واہد کے پرستار ہونے اور نہ انہوں نے جزیرہ دینا یا مثلاً کئی مشرک قوموں کے ساتھ آپ کے معابدات تھے۔ مدینہ کے موقع پر آپ نے قریش کے ساتھ صلح کی۔ حالانکہ خدا نے واحد کے پرستار جو جانا یا جزیرہ دینا تو ایک مرتبہ رہا انہوں نے نبی کریم صلعم کو اس سال حج تک نہ کرنے دیا۔ پھر حضرت عمر کی اسلامی فوج کے ساتھ ساتھ عیسائی فوج بھی جو نہ فائدے واحد کے پرستار تھے۔ جزیرہ دینے اور بھی کئی قوموں سے اس طرح صلح ہوئی۔ پس اس حدیث میں جو یہ فقرہ ہے کہ ہمیں ہمارے نبی صلعم نے یہ حکم دیا کہ جنگ کریں میان تک کہ تم خدا کے واحد کی عبادت کرو یا جزیرہ دو۔ اس اجمالی رنگ میں نہ صرف تعلیم قرآن درست ہے بلکہ یہ تعلیم کے اپنے عمل سے دشمنوں کے عمل سے۔ بات یہ ہے کہ ان احادیث میں کسی جیسے ایسے آجہلے ہیں جن میں اجمالی کے ساتھ کام لیا جاتا ہے۔ فی الحقیقت اس حدیث کے راوی کا بھی یہ مطلب نہ تھا نہ وہ جنگ کے جوہات بیان کر رہا تھا کہ تم مشرک ہو اس لئے ہم تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور تم مسلمان ہو جاؤ گے تو ہم تمہارے ساتھ جنگ بند کر دیں گے بلکہ اس نے ان حالات میں جو اس وقت مسلمانوں اور ان کے دشمنوں میں پیدا ہو چکے تھے جنگ کے ختم کرنے کا ذکر کیا اور بتایا ہے کہ آپ ہمداری تباری جنگ و در طرح بر ختم ہو سکتی ہے یا تم بھی ہمارے بھائی بن جاؤ اور ہمارے کینے اور ہوا دہا دہا دہا دہا دہا دہا اور یا جنگت مان کو خراج دینا منظور کرو۔ اور یہ جنگ کرنے والے فریق کو حق ہے کہ وہ فریق ثانی کے سامنے یہ شرط پیش کرے کہ جب تک وہ اپنی جنگت کو تسلیم نہیں کرے گا اس وقت تک جنگ بند نہ ہوگی۔ اور یہ لڑکچکا ہے کہ خود ہرمزان نے حضرت عمر کو یہ مشورہ دیا تھا کہ جب تک کسری کی طاقت توڑ نہ دی جائیگی اس وقت تک ایرانی مسلمانوں کو چمن سے بھیٹنے نہ دیں گے۔ اس وقت ایران اور مسلمانوں کی جنگ کو شروع ہونے سے دس سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور ہاتھ ہاتھ حضرت عمر نے چاہتے تھے کہ جنگ جاری ہے اور مزید جنگ لڑانی ہے مگر ایرانیوں کی تمام برہانہا چاہا تھا اس لئے مسلمان مغیرہ جزیرہ یا خراج کی شرط ان کے سامنے پیش کرتے تھے۔

۱۔ یہاں چونکہ
 سے کام لیا۔
 وہاں سے دیکھتے
 کہ وہاں خزانہ سے
 کو تیس نہیں کرتے
 غار، فوراً عدالت
 کا مشورہ دیا تھا۔
 تو نعمان نے انہیں
 کہا کہ جو دن کا پہلا
 حصہ گزار چکے ہیں
 سے اسی میں اس وقت
 جنگ کرے گی جب
 دن وصل جائے
 اور ہمیں چلنے نہیں
 اور نمازیں بھی پڑھ
 میں کیونکہ نبی اکرم
 صلعم کا ہی طریقہ تھا
 ص ۹۹ کی آیت
 حدیث کا ایک مختصر
 کہ وہاں لا کھین
 غزوانہ مع النبی
 صلی اللہ علیہ وسلم
 تہو کہ واحدی
 علی ایلۃ للنبی

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْتَدِ بِكَ وَلاَ يُعْزِزُكَ وَلاَ يُجِزُّكَ شَهِدْتَ الْاِقْتَالَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ
 كَمَا قَدْ تَدْرِكُ كَمَا نُوْفِدَ بِهٖ سَيِّدَتْنِي زَيْنَةُ كَوْتُرْتُهٖ كَمَا ذُرُوْا كَمَا نَكَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَافَرَ رَاثِي مِّنْ جَوْشِ
 حَلِيْبِيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا لَحِمٌ يُّقَاتِلُ فِيْ اَدْوَالِ النَّهَارِ اَنْتَظَرُ حَتِّيْ تَهْتُمُّ الْاُرُوَاحُ وَتُخْضِرُ
 تَقَّا حَبَّ اَبِّ شَرِيْحٍ وَنَ دِنْ رِوَاوِي نَكَرْتُ تَوَاضَعًا كَرْتِيْ يِهَانَ كَمَا هِيَ كَمَا تَهْتُمُّ بِيْ اُوْرُوَاوِي كَمَا
الصَّلَوَاتُ (۲) بِاَبِّ اِذَا اَدْعَا اَلْاِمَامُ مَلَكَ الْقَرْيَةِ هَلْ يَكُوْنُ ذٰلِكَ لِبَقِيَّتِهِمْ
 دقت ہو جائے یا باب جلیل حضرت کے ہیں سے صلح کرے تو کیا یہ صلح باقیوں کے ساتھ بھی ہوگی
(۱۴۷۱) عَنْ اَبِيْ حَمِيْدٍ السَّاعِدِيِّ (متكرر- ۶۹۶) (۳) بِاَبِّ الْاَوْصِيَا يَأْتِيْ هُنَا
 دیکھو حدیث ۶۹۷ ص ۳ باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِيْ هُوَ الْعَهْدُ الْاَوَّلُ الْقَرَابَةُ (۲۳۶) عَنْ
 اپنی ذمہ کے صلح و وصیت کرنا ذر کے سننے، عمد میں اور ال کے سننے قرابت ہے
جُوْشِرِيَّةٍ بَرَزَتْ اَمَةً الشَّيْمِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تُنَادِيْ اَوْصِيَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ
 جویریہ بنت قدار نبی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو سنا کہ ہر نے عرض کیا اے امیر المؤمنین کو وصیت
قَالَ اَوْصِيْكُمْ بِذِمَّةِ اللهِ فَانَّهُ ذِمَّةٌ نَّبِيْكُمْ وَرِزْقُ عِيَالِكُمْ (۴) بِاَبِّ مَا اُتَّعَ
 کہنے فرمایا میں تم کو اللہ کے عہد کی وصیت کرنا ہوں کہ ہر نبی تمہارے ہی کا عہد جو اور تمہارے بال ہونگی رزق عیال کے باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم
النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ وَمَا دَعَا مِنْ قَالِ الْبَحْرَيْنِ وَالْجَزِيَّةُ وَرَمَن
 کا بھون میں سے جسے دینا اور بحرین کے مال اور بحرین میں سے کسی کو دینے کا عدلہ کرنا اور کرنے
يُقَسَّمُ الْفَى وَالْجَزِيَّةُ (۴) ۱۴۷۲) عَنْ اَسْحِ (متكرر- ۱۱۵۰) (۴) ۱۴۷۳) عَنْ
 اور جزیرہ کن ٹوڑوں پر تقسیم ہونا دیکھو حدیث ۱۱۵۰ ص ۱۵
جَا بَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (متكرر- ۱۱۱۲) (۴) ۱۴۷۴) عَنْ اَسْحِ (متكرر- ۲۹۷) ۱۴۷۵) دَيْهِي
 دیکھو حدیث ۱۱۱۲ ص ۱۵ دیکھو حدیث ۲۹۷ ص ۱۵

صلی اللہ علیہ وسلم بغلۃ میناء وکساء بودا وکتب لہ بحجر ہم۔ یہاں ایک کے زمین ذکر ہے کہ اس سے صلح کر کے ایک پورہ ریشہ پیش کی تو نبی صلعم نے اسے ایک جائز
 خلعت کے طور پر اٹھائی اور ان کی بستی کو اس کے نام لکھ دیا۔ عجب کے سننے یہاں قریہ باہمی ہیں۔ یوں زمین سے صلح رعیت سے صلح تھی اور یہ دیکھتے ہی ایک ظاہر
 ار ہے۔ ابن ہشام کی روایت میں تحریر کی ابتدا یوں تھی ہذا کہ ائنتہ من اللہ وحمد النبی رسول اللہ بھنۃ بن روبۃ واهل ایلۃ، اس قرآن کریم سورہ توبہ
 آیت ۱۶ میں ہے ان یظہروا اھلکم الا یوقہوا فیکہم الا ذاک ذمۃ اس آیت میں جو لفظ ان اور لفظ ذمہ آیا ہے۔ اس میں ان سے مراد قرابت یا ہے۔ اور
 ذمہ سے مراد عہد ہے ان ذمہ وہ ہیں جن کے ساتھ عہد کیا گیا جو اور وہ اس عہد کے ماتحت اسلامی حکومت میں رہتے ہوں، علیٰ اسی حدیث کی دوسری روایت
 میں جو مرد بن یحیون سے ہے وصیت کے الفاظ اپنے جانشین کے لئے یوں ہیں۔ واد صیہ بزمۃ اللہ وذمۃ رسولہ ان یونی لہم جہاد وان یقاتل من
 در اھم وان یمکنوا الا طاقمہم من اللہ کے عہد اور اس کے رسول کے عہد کی وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو عہد کیا گیا ہے اسے پورا کیا جائے
 اور ان کی حفاظت کے لئے جنگ کی جائے اور ان کی طاقت سے زیادہ ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ یہاں اختصار ہے۔ ذمیوں کے ساتھ عہد کو اشتراک اور
 اس کے رسول کا عہد قرار دینے میں اس کی حرمت کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہاں جو اس عہد کو رزق دیا گیا کہ ثابت یقین تمہارے بال ہوں کہ ان رزق کو طلب
 یہ ہے کہ اس عہد کے ماتحت جو وہ فواج اور کرتے ہیں اس سے مسلمان سپاہیوں کی جو حفاظت ملک کرتے ہیں باں ہوں گا گزارا ہوتا ہے۔ تو گویا ایک عہد ان
 کی طرف سے ہے کہ وہ کچھ مال نہیں کے اور ایک عہد مسلمانوں کی طرف سے ہے کہ وہ ان کی حفاظت کریں گے، عطف ما ائنتہ کے سننے جاگس رہنے کے لئے
 گئے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ غرض صرف اس کی آمدنی میں سے جسے مقرر کرنا تھا۔ کیونکہ بحرین کی زمین وہاں کے باشندوں کی ملکیت تھی اور نبی صلعم نے سوائے خراج
 کے لینے کے اس میں اور کسی قسم کا تصرف نہیں کیا وہ بلا کر روایت میں عطا کیا ہی مسنون لفظی اختلاف کے ساتھ دہرایا گیا ہے۔ البتہ یہاں انصاف کی اس
 در خواست کے بعد کہ جب بحرین کے مال میں جسے مقرر کرنے پر راضی ہو گئے جب یہاں قریشی بھائیوں کے لئے جسے مقرر کیا گیا تھا۔ حضرت کے یہ لفظ ناہ
 میں ذان لہم ما شاء اللہ علی ذلک يقولون۔ یہ معاش ان کو بھی عجب اشتہا ہے حتیٰ کی سیگی۔ مگر انصار بار بار امر کرتے رہے یعنی یہ کہ ماجورین (بانی ربیعہ ۷۲

(۱۳۸) بَابُ اِثْمٍ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا اَبْعَدَ حُرْمَةً ۴۳۶ اِنْ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كُرَيْبٍ عَنْ

باب اس شخص کا گناہ جو ذی کوئی کسی پر دم قتل کر دے

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَانَ مِنْ قَتْلِ مُعَاهِدٍ اَلْمَيْرِخَ رَاحَةَ الْجَنَّةِ وَرَانَ رَحْمَةً

روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو ذی کوئی قتل کرے وہ جنت کی خوشبو سے محروم ہوگا اور اس کی خوشچرائیس

تُحْدِثُ مِنْ قَسْبِ بَيْتِ اَرْبَعِينَ عَامًا ۴۳۷ بَابُ اَخْرَاجِ الْيَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَقَالَ

پس کی سزا (سنت) سے ہتی ہے چلے

كُرَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكُمْ قَاتِلُكُمْ مَا اَقْرَبَكُمْ اَللَّهُ بِهِ ۴۳۶ اِبْنُ اَبِي هُرَيْرَةَ

نے فرمایا جو ذی کوئی قتل کرے وہ جنت کی خوشبو سے محروم ہوگا اور اس کی خوشچرائیس

قَالَ بَيْنَمَا عُنْ فِي الْمَسْجِدِ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَطْلُقُوا اِلَى كَيْفِ هُوَ

سے کہ ایک مرتبہ مسجد سے تشریف لے رہے تھے تو فرمایا اے یہودیوں! تم لوگوں کو کس طرف چلنا ہے

فَخَرَجْنَا حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ الْمَذْكَاسِ فَقَالَ اَسْلِمُوا اَوْ اَعْلَمُوا اَنْ اَلْاَرْضُ لِلَّهِ وَ

ہم نکلے یہاں تک کہ (دن) کی اور گناہ میں پہنچے

رَسُولُهُ وَرَانِي اُرِيدُ اَنْ اُجْلِبَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْاَرْضِ فَمَنْ يَخْرُجُ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فليُبِعْهُ

رسول کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم کو اس زمین سے نکل دوں

وَرَا اَنْ اَعْلَمُوا اَنْ اَلْاَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولُهُ ۴۳۷ اِبْنُ اَبِي هُرَيْرَةَ

فروخت کرے اور نہ جان لو کہ یہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے

(۱۳۹) بَابُ اِذَا غَدَرَ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ هَلْ يَبْعِي عَنْهُمْ ۴۳۸ عَنِ

۱۳۹۔ باب جب مشرک مسلمانوں کو دھوکہ دیں

کی بات کے بعد آیا اور اس وعدہ کو حضرت ابو بکر نے پورا کر دیا

نہیں فرجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الصلوة ولہر طلقت اینہ فلما قضی الصلوة جاؤ مجلس اینہ فعاکان یری احدہما؟ اے صلواتہ (صوفیہ)

علا جس طرح ہون کے ارادہ قتل کر کے ہزار قرآن کریم میں جہنم ٹھکانا ہے۔ من قتل مومنا متعدا عجزا وکفرنا محمد بن راشد اور حج بیان آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم نے معاہدہ قوم کے ایک فرد کو قتل کرنے کی سزا جنت سے محرومی قرار دیا ہے۔ یوں مسلم غیر مسلم کے انسانی حقوق کو سوا دی رکھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے

اھوالہم کا موافقہ ما انھم لکن ما انما ان کے مال ہمارے مال کی طرح ہیں اور ان کے خون ہمارے خون کی طرح ہیں۔ یہ اسلام کی نمایاں خوبیوں میں سے ایک

ہے کہ غیر مذاہب والوں کو وہی حقوق دینے میں جو مسلمانوں کو دینے میں ہے۔ اے اللہ کے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ جب تک تم خود ایسے فعل کا ارتکاب نہ کرو جس

کی وجہ سے ہمیں نکان امن قائم رکھنے کے لئے مجبور ہو جائے۔ عطا ۱۳۹ میں گذرا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری بیماری میں یہ وصیت

کی تھی۔ اخرجوا المشرکین من جزیرة العرب۔ نیز دیگر احادیث میں یہ آتا ہے اخرجوا الیہود والنصارى من جزیرة العرب۔ حدیث اباب میں

ہے کہ آنحضرت مسلم نے یہود کے نکلنے کا ارادہ کیا تھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بلا وجہ انہیں نکان چاہتے تھے۔ بلکہ اس بات پر تھی کہ یہ لوگ فتنہ اور

فساد کے بانی تھے۔ اور مشرکین کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف منصوبے کرنے تھے۔ در نہ اگر وہ ذمی ہو کر رہنا چاہتے تو یہ بھی کچھ کھانسی پورا اس

دامن حاصل تھا۔ باوجود ان کی شرارتوں کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم درگاہ سے کام لیتے رہے۔ ہاں آخری بیماری میں پھر یہ وصیت کی کہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ

کو یہ علم دے دیا کہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا اور آخر اس کی تکمیل حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی کیونکہ اس وقت پھر انہوں نے

مسلمانوں کے خلاف شرارتیں شروع کیں۔ ان لوگوں کے دلوں سے اسلام اور مسلمانوں سے حسد و بغض نہیں نکلتا تھا۔ اے مسلمانوں! ان کے نکلنے کا حکم دیا گیا تو

وہ نکلے گئے۔ عطا مکرر روایت میں ۱۳۹ کا مضمون مرتضیٰ غفرانی نے کتاب میں اس کا جواب سے اور اتونی کتاب کی جگہ سے اتونی لکتا اور فقہاء اور فقہاء اور رسول اللہ کی

حدیث میں یہ واقعہ اخرجوا منہم۔ یہ حدیث ۱۳۹ پر ہے۔ چنانچہ انسان ہر وقت ممان کر کے کسی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے کبھی کسی سے

انتقام نہیں لیا لیکن اگر حرات اشکی جنگ ہوتی تو آپ نے ہر گز غیبت والا کوئی نہ ہوتا۔ آپ کا عمل اس آیت قرآنی پر تھا جو اسی سبب سے متاثر تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے کبھی کسی سے

انتقام نہیں لیا لیکن اگر حرات اشکی جنگ ہوتی تو آپ نے ہر گز غیبت والا کوئی نہ ہوتا۔ آپ کا عمل اس آیت قرآنی پر تھا جو اسی سبب سے متاثر تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے کبھی کسی سے

بقیہ صفحہ ۷۲۴ کے لئے صحیح مقرر ہو جائیں تو ہمارے لئے بھی مقرر کر دیں یہ قرآن و بیوترون علی انفسہم ولو کان ہم خصمہ کی تفسیر اور تفسیر ہے اور اباب علی اور قابل تقلید تفسیر ہے مگر روایت میں عطا کا مضمون نقلی اختلاف کے ساتھ درج کیا گیا ہے اس میں کچھ اختلافات ہیں نہ غلطیوں نے حضرت جابر سے روایت کی ہے اور کچھ صحیحین کا مال آجئے تو اس میں سے تمہیں دو گنا یہ مال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ لَمَّا نَحَّتْ خَيْبَرُ أَهْدَيْتِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَذَةَ ذِيهَا سَمَّ

بوہریرہ سے روایت ہے کہ جب خیبرجو اتوئی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ (نبی) کوئی کا تختہ دیا گیا جس میں زہر ملا ہوا تھا
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْمَعُوا إِلَيَّ مَنْ كَانَ هَذَا مِنْ يَهُودٍ يَجْعَلُ اللَّهُ نَقْلَهُ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میں آئیں یودی میں ان سب کو میرے پاس آئیں کہ وہ دیکھیں کہ ان کے ہاتھ کیسے لگتے ہیں

رَأَيْتِي سَأَلْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِي عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ

لگے تھے تو آپ نے ان سے پوچھا میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں کیا تم مجھ سے کچھ کہو گے انہوں نے کہا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے
أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ لَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلْتُهُمْ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ قَالَ لَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلْتُهُمْ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ قَالَ لَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلْتُهُمْ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ

فرمایا اگر میں ایک اور بات کے متعلق تم سے پوچھوں تو کیا تم مجھ سے کچھ بتاؤ گے انہوں نے کہا
ابو القاسم نے شک

وَأَنَّ كَذِبًا عَرَفْتُ كَذِبًا كَمَا عَرَفْتُهُ فِي آيَاتِنَا فَقَالَ لَهُمْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَالُوا

اور اگر ہم جھوٹ کہیں گے تو آپ ہمارے جھوٹ کو کیسا جانیں گے میں عرض کیا آپ نے ہاں ہے ہاں کہیے اس میں کیا آپ نے نہیں فرمایا کہ دونوں میں کون
كَلْبٌ فِيهَا سِيدٌ أَلَمْ تَخْلُقْنَا فِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَبُكُمْ

دیکھ جائیں گے انہوں نے کہا ہم آپس میں تھوڑے دن میں گئے پھر تو سامان اس میں ہمارے پیچھے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی میں
فِيهَا وَاللَّهِ لَا تَخْلُقُكُمْ فِيهَا أَبَدًا ثُمَّ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِي عَنْ شَيْءٍ إِنْ

ذہیں ہو کر رہو اس کی قسم تم ہمارے پیچھے بھی اس میں نہ آئیں گے پھر فرمایا کیا تم مجھ سے کچھ بولو گے اگر میں کسی خبر کے متعلق
سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ قَالَ هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سَمًّا

پوچھوں انہوں نے کہا ابوالقاسم نے شک فرمایا کیا تم نے اس بکری میں زہر ملا دیا تھا
قَالُوا نَعَمْ قَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ قَالُوا أَرَدْنَا أَنْ كُنْتُمْ كَذِبًا تَسْتَرْجِعُونَ

انہوں نے کہا ہاں فرمایا کس بات نے تم کو اس پر آمادہ کیا انہوں نے کہا ہم نے چاہا کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو ہم آپ سے جھکا لیں کہ کون
كُنْتُ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ (۸) بَابُ دُعَاءِ الْأَمَاءِ عَلَى مَنْ كَلَّمَ عَهْدًا (م- ۱۲۷۶)

اور اگر آپ ہی ہیں تو آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے بَابُ دُعَاءِ الْأَمَاءِ عَلَى مَنْ كَلَّمَ عَهْدًا (م- ۱۲۷۶)
عَنْ عَائِشَةَ (م- ۱۲۷۶) بَابُ أَمَانَ النِّسَاءِ وَجَوَارِهِنَّ (م- ۱۲۷۶) عَنْ

دیکھو حدیث ۱۲۷۶ ع
باب عورتوں کا کسی کو امن دینا اور اپنی چاہ میں رکھنا

أَهْرَهُنَّ (م- ۱۲۷۶) بَابُ ذِمَّةِ الْمَسَاكِينِ وَجَوَارِهِمْ وَاحِدَةٌ لَيْسِي بِهَا أَدْنَاهُمْ

دیکھو حدیث ۱۲۷۶ ع
باب مسکینوں کا عہد کرنا اور ان کا کسی کو امن دینا ایسی ہی حکم رکھنا اور ان سے اولیٰ اقلیٰ

عظمت ہو کر جو اب
شرارت پرستی تھا
انہی وہی انسان تھے
ہیں انہی بڑی کے
نے بھی زہری ہے
ان کے اندر بھی گند
چلے تھے اور وہ ان
سب باتوں سے بچنا
تھے کہ انہی بھی شر
ہوتے ہیں اور بڑی
صفات رکھتے ہیں
اس بکری میں سے
آٹھ صدمہ لگنے
کچھ کھایا اور کچھ
ساتھ ایک صحابی نے
جس کا نام شہرین
برہ تھا لکھا ہے وہ
اس سے مرگیا۔ اور
وہ عورت تنہا میں
میں نکل کر دی گئی
اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے اپنی
آخری بیماری میں
فرمایا کہ میں اس میں
کا اثر محسوس کرتا ہوں
جو میری جھکوتوں میں
نے دیا تھا۔ جب
تک صحابی نوشتیں
ہوئے آنحضرت صلی
نے اس عورت سے
قصا میں نہیں لیا۔

دیکھو نوٹ ۱۲۷۶ پر وہ کثرت روایت میں ہے کہ مسکینوں کو بغلی بغیر کے ساتھ ہم مہرا لیا ہے۔ اس کے آخر میں یاں یہ لفظ زایہ میں فہار ائتہ وجد علی احد
مادہ جید علیہم۔ اس کے ہیں کہ جس قدر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر ناراض ہوئے جنہوں کو آپ کے مترقاری خانہ قرآن میں ہو کہ ناقہ نقل کیا
ایسا دیکھی پر ناراض نہیں ہوئے۔ عورت کو امن یا پناہ دینے کا وہی حق حاصل ہے جو مرد کو حاصل ہے گو وہ جنگ نہیں کرتی۔ اس میں بتایا ہے کہ اسلام
میں عورت کا کس قدر احترام ہے، ملنا مکہ روایت کے نظام ۲ کے ہیں۔ اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اجرتنا من اجرت یا امر
ہائی جس سے عورت کے پناہ دینے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پناہ دینے کے حکم میں رکھا۔ البتہ یہاں فدا انصاف کے نفاذ میں جس کا مطلب
یہ ہے کہ ام حانی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت گزارش کی تھی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تھے یہ بے نظیر مساوات ہے کہ
اوپنے سے اپنے کو بھی امن دے سکتا ہے یا عہد کر سکتا ہے۔ ہندی جگہوں میں ایک معمولی سپاہی کے عہد کی عزت انہوں نے اس کی جس کی اپنے
عہد کی عزت کی ہے

(۵-۱۲۷۸) عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ (متنبر ۱۹۴۲) بَابُ إِذَا قَالُوا صَبَانًا وَكَلِمَةً

بَابُ جَبْرِيَّتِكَ كَرِهْتُمْ صَبَانًا وَكَلِمَةً
یَحْسِنُوا أَسْلَمْنَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فُجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بہا لیا ہی نہیں اور چھٹی حدیث میں خالید بن ولید کے قتل کرنے سے پہلے صحابہ نے فرمایا

أَبْرَارِيكَ وَمَتَّاصِنَهُ خَالِدٌ وَقَالَ عُمَرُ إِذَا قَالُوا فَتَرَسْنَا فَقَدْ أَهْرَأْنَا اللَّهَ نَعْمَ الْإِسْلَامُ

کَلِمَاتٍ قَالَ تَكَلَّمُوا بِأَسْمَاءِ الْأُمُودِ وَالْمَصَاحِحِ مَعَ الْمُتَشْرِكِينَ بِالْمَالِ وَغَيْرِهِ
اور حضرت عمر نے فرمایا بات کرو توئی دشمنی کے ساتھ مال وغیرہ کے ساتھ مشرکوں کے ساتھ مال

غَيْرِهِ وَرَأَيْتُمْ مَنْ لَمْ يَعْبُدْ بِالْعَهْدِ تَوْبَهُ وَإِنْ كُنْتُمْ لِلسَّلَامِ نَاجِحِينَ لَهَا آيَةٌ (۱۲۳۸)

عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ انْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ وَهَيْصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ
سہل بن ابی حثمہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن سہل اور ہعیصہ بن مسعود

زَيْدٌ إِلَى خَيْبَرٍ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ مَدِينَةٌ فَتَفَرَّقَا فَنَاقِي هَيْصَةَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ
زید بن ابی حثمہ اور وہی یومئذین مدینہ تھی تو وہ دونوں الگ الگ ہو گئے ہعیصہ بن سہل کے پاس آئے

فِي دَرَمٍ قَتِيلًا فَذَنُذُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَاَنْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَهَيْصَةُ
میں لوٹ رہا تھا اس نے اسے ذرمن کی پھر دیکھے آئے تو عبدالرحمن بن سہل اور ہعیصہ

وَهُيْصَةُ بِنْتُ مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ
جو ہعیصہ بن مسعود کے بیٹے تھی سہل بن عبد اللہ کے پاس گئے عبدالرحمن بات کرنے لگا

فَقَالَ لَيْتَ كِبَرِيٌّ هُوَ أَحَدُ الْقَوْمِ فَسَكَتَ فَتَكَلَّمْنَا فَقَالَ اتَّخِذُوا حَسْبَكُمْ قَاتِلِكُمْ
تو آپ نے فرمایا بڑے کو بولنے اور بڑے کو بولنے کو بولنے کو بولنے اور ان دونوں نے گفتگو شروع کی آپ نے فرمایا تم تمہاری

أَوْصَابِكُمْ قَالُوا كَيْفَ تَحْلِفُ لَمْ تَشْهَدْ وَلَمْ تَرُقْ قَالَ فَتَأْتِيكُمْ كَلِمَةٌ خَسِيئَةٌ فَقَالُوا
اور آپ نے قاتل یا صاحب کے ہمدان ہو گئے تو میں نے تمہارے لیے کیا جان بچاؤ اور تمہارے لیے کیا جان بچاؤ اور تمہارے لیے کیا جان بچاؤ

كَيْفَ نَأْخُذُ أَيَّمَانَ تَوْمٍ كَفَّارٍ فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَذَابِ (۱۲۳۸)

بَابُ نَضْلِ لَوْ قَاءَ بِالْعَهْدِ (۵-۱۲۷۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ (متنبر ۷۵)
بَابُ هَمْدِ بَرٍّ أَوْ كَرِهْتُمْ صَبَانًا وَكَلِمَةً

بَابُ هَمْدِ بَرٍّ أَوْ كَرِهْتُمْ صَبَانًا وَكَلِمَةً
بہا لیا ہی نہیں اور چھٹی حدیث میں خالید بن ولید کے قتل کرنے سے پہلے صحابہ نے فرمایا

أَبْرَارِيكَ وَمَتَّاصِنَهُ خَالِدٌ وَقَالَ عُمَرُ إِذَا قَالُوا فَتَرَسْنَا فَقَدْ أَهْرَأْنَا اللَّهَ نَعْمَ الْإِسْلَامُ
کَلِمَاتٍ قَالَ تَكَلَّمُوا بِأَسْمَاءِ الْأُمُودِ وَالْمَصَاحِحِ مَعَ الْمُتَشْرِكِينَ بِالْمَالِ وَغَيْرِهِ
اور حضرت عمر نے فرمایا بات کرو توئی دشمنی کے ساتھ مال وغیرہ کے ساتھ مشرکوں کے ساتھ مال

غَيْرِهِ وَرَأَيْتُمْ مَنْ لَمْ يَعْبُدْ بِالْعَهْدِ تَوْبَهُ وَإِنْ كُنْتُمْ لِلسَّلَامِ نَاجِحِينَ لَهَا آيَةٌ (۱۲۳۸)
عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ انْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ وَهَيْصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ
سہل بن ابی حثمہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن سہل اور ہعیصہ بن مسعود

زَيْدٌ إِلَى خَيْبَرٍ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ مَدِينَةٌ فَتَفَرَّقَا فَنَاقِي هَيْصَةَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ
زید بن ابی حثمہ اور وہی یومئذین مدینہ تھی تو وہ دونوں الگ الگ ہو گئے ہعیصہ بن سہل کے پاس آئے

فِي دَرَمٍ قَتِيلًا فَذَنُذُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَاَنْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَهَيْصَةُ
میں لوٹ رہا تھا اس نے اسے ذرمن کی پھر دیکھے آئے تو عبدالرحمن بن سہل اور ہعیصہ

علا کر روایت
۱۲۳۸
نقل تفسیر کے ساتھ
دہرا گیا ہے البتہ
یہاں مزید ہے کہ
حضرت عمر نے فرمایا
ذہبا الحجاجات و
استان الابل -
اس صحیفہ میں غور
کے قصاص اور
اور ٹوں کی عرینا
کا ذکر ہے جو فرمایا
یا کرتے ہیں دے
جلستے ہیں
علا یہ ایک حدیث
کا کلمہ جو ہعیصہ
میں آئی ہے۔ فق
کر کے حدیث صحیح
اللہ علیہ وسلم نے
خالد بن ولید کی
سرکردگی میں یزید
بچا جس آدمی کا حکم
بنی حذیر کی طرف
بھیجا
انحضرت صلی علیہ وسلم نے
حکم تھا کہ جب کوئی
تو ہمدان پڑھے
تو وہ وہ کتنی بھی
زیادتی کرے گی
ان سے جنگ توڑا

سورہ آل عمران میں آیت ہے کہ

(۱۴) بَابٌ هَلْ يُعْفَى عَنِ الذَّقِي رِذَا سَحَرٌ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ

باب کیا ذی کو جب وہ جاوے کہ موت کیا جا سکتا ہے : یونان وہب کہتے ہیں کہ مجھے یونس نے ابن شہاب کے حلق

شہاب سُبُلِ اَعْلَى مِنْ سَحَرٍ مِنْ هَلْ لِعَهْدِ قَتْلِ قَالَ بَلَّغْنَا اَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

خبر دی کہ ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا قوم میں سے اگر کسی نے جاوے کیا تو کیا اسکی سزا قتل ہے انہوں نے کہا : ہمیں خبر ملی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک خاص زمانہ کی بات میں کہا تھا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صُنِعَ لَهُ ذَلِكَ فَامَّا يُعْتَلُ مِنْ صُنْعِهِ وَكَانَ مِنْ اَهْلِ الْكَيْبِ (۱۳۸۸)

عید و رسم پر ہی کیا گیا تھا اور جس نے کیا تھا اچھا قتل نہیں کیا اور وہ اہل کتاب میں سے تھا

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِجَّحَتْ حَيْثُ كَانَ يُجْتَلِ إِلَيْهِ اَنَّهُ مَصْنَعٌ

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جاوے گا کیا یہاں تک کہ آپ کو خیال ہوتا کہ آپ خدا کا کچھ مالک

شَيْئًا لَمْ يَصْنَعْهُ (۱۵) بَابٌ مَا يُجِدُّ رَمْسُ الْغَدْرِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَانْ يَزِيدَنَّ اَنْ

وہ کوم نہ کیا کرتا تھا باب دعا بازی سے بچے رہنا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان اور جاوے چاہیں

يُجِدُّ عَوْنَكَ فَارْتَحِمْنَا اللهُ الْاَيَةُ (۱۳۸۹) عَنْ عَوْنِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَكَلْتُ النَّبِيَّ

کچھ دھوکہ دیں تو اللہ نے اسے کافی ہے علم عوف بن مالک سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهَرَفِي قَبِيَّةٍ مِنْ اُدُومٍ فَقَالَ اَعَدُّ دَسْتَابِينَ

کی خدمت میں غزوہ تبوک میں حاضر ہوا اور آپ چڑھے کے ڈرے سے تین تھے آپ نے فرمایا جو عود گولہ سے پہلے چھ

يَدِي لِسَاعَةِ مَوْتِي ثُمَّ كُنْتُ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ ثُمَّ مَوْتَانِ يَأْخُذُ دِيكَمُ لِقَعَا صِ الْخَرَمِ

نشاں لگن ہو میری وفات پھر بیت المقدس کی فتح پھر میری موت میں پڑ جائے گی کیوں کی میری کھلی

ثُمَّ اسْتِغَاثَهُ الْمَالُ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةً دِينَارٍ فَيُطْلُ سَاخَطًا ثُمَّ مَنَّةٌ لَا يُبْقَى

پھر مال کی کثرت یہاں تک کہ ایک شخص کو سو دینار دینے میں آئے اور وہ ناراض رہے گا پھر ایک فتنہ جو عرب کے

بَلِيَّةٌ مِنَ الْعَرَبِ اَلَا دَخَلَتْهُ ثُمَّ هَدَنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي اَصْفَرٍ فَيُعِدُّ رِدْنَ

ہر گھریں وہاں ہر جاوے گا پھر صلح جو تمہارے اور نصاریٰ کے درمیان ہوگی تو وہ دعا کرے گی

بِمَا تَوْكَلْتُمْ فَيُخْتَلَمُ نِسْرَانِيْنَ غَايَةً حَتَّى كُلَّ غَايَةٍ اِلَّا ثَمَانِيَةَ اَلْفًا (۱۶) بَابٌ كَيْفَ يَنْبَغُ

اور تم سے راہ لے لے ہی جھنڈوں کے بچے میں آئے ہر ایک جھنڈے کے بچے بارہ ہزار ہوں گے علم باب عود کو کھینچنے کا

سے اثر ڈال کے ایک پھر بات ہے جو ایک کو کھینچنے میں دیکھ میں نہیں آسکتی یہ سنان اگر کسی زمانہ میں جاوے کے قابل ہوتے ہوں تو علیحدہ بات ہے مگر پھر بھی وہ اس

میں جو وہی تک بھی نہیں پیچھے جس کے نیچے ہر تک یورپ رہا اور آج تک بھی ایک حد تک ہے کہ جس پر جاوے گا شبہ ہو لے قتل کیا جائے ۔ علم یہ روایت قرآن کریم کے

اصح صلات ہونے کی وجہ سے روکنے کے قابل ہے قرآن کریم میں ہے قَالَ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا رِجَالًا مَسْجُورًا یعنی کافر ایک متعلق یہ بات کہتے تھے کہ آپ

پر جاوے گا اثر ہے اس لئے حد بڑھتی حرف ایسی بات منسوب نہیں ہو سکتی اور دوسرے اگر کبھی یہ ہوا ہوتا کہ آپ ایک کام نہ کیا ہوتا اور آپ خیال کرنے کیے کہ

کر چکے ہیں تو سنانوں میں ایک شور مچا جاتا ایک حضرت عائشہ کی اس کے تو سیکڑا دن رادی چاہئے تھے آنحضرت صلعم کے ایک ایک دن اور ایک ایک گھنٹے

کی تاریخ موجود ہے کسی تاریخ میں نہیں دیکھا گیا کہ آپ نے کوئی ٹھکانہ بھیجا ہو اور یہ خیال کر لیں کہ بیچ دیا گیا ہے یا مانا نہ پڑھی ہو اور خیال کر لیں کہ پڑھا ہے

اگر اب واقعہ جو تھا تو وہ جیسی اس کی نظیریں ہوتیں ہیں یہ روایت نہ صرف قرآن کے بلکہ واقعات تاریخی کے بھی خلاف ہے اور کسی عورت میں قابل قبول نہیں۔

اور پھر تعجب یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہر ماہ تک سحر کا اثر آپ پر رہا وہ دن سے چھ ماہ تک سے سال میں تھے اس وقت جنگوں کا انتظام کون کرتا تھا نمازیں کون پڑھاتا

تھا ایک نماز کیلئے آپ کو دو پر ہوگی تو پورا کئے نماز پڑھا دینے کا ذکر ہے وہ کون سے ماہ میں جن کا تاریخ میں نام و نشان تک نہیں۔ اور تعجب اس ذہنیت پر ہے

کہ جس سے یہ کہہ لیا جیسی حدیث خلاف قرآن و واقعات ہوئی وہ جسے قابل قبول نہیں اس کے متعلق جھٹ کرنا یا قائل بعض الملاحہ ۱۶۷۱ اس کا یہ مطلب نہیں کہ

تم خود وہ غازی کے بالغان کوئی تدریس نہ کرو ہر ایک مضر سے بچنے کی کوشش کرنا انسان کا فرض ہے اور جب وہ کوشش کرے تو اس کوشش کو اللہ تعالیٰ کامیاب

فرماتا ہے ۔ حسب اللہ کے ہی معنی ہیں ۔ علم ساعت سے مراد بیٹا برسانوں کے اوبار اور حکومت و شوکت کی تباہی کی گولہ ہے موتان موت یا موت

کثیر لکنے میں یعنی وہانی موت جو کثرت سے ہوتی ہے ۔ حدیث ہر کے عند خلاف میں خبر ناک طاعون پڑی تھی اور سنانوں میں ان کی کثرت تو ایک (بانی برہم ۱۶۷۲)

علم سحر کی چیز ہے
سب شخص کو
اپنے ہر وقت پر کتاب
الطلب میں آئے گی
یہ ایک خاص زمانہ
کی بات میں کہا جاوے
سے تبدیل ماہیت
ہو جاتی ہے البتہ
کسی کے عقل پر اثر
ڈال دینا جیسا کہ
سرسر زہ سے ہوتا
سے علیحدہ بات ہو
نہیں یہ بات کراختیار
صدمہ پر کسی جاوے
سے اثر ڈالنا یا تھا
یکے بے بنیاد گمان
ہے سرسبز کا اثر
بھی اپنے سے کڑا
انسان پر ہوتا ہے
وہ انسان جس نے
ان کھوں انسانوں
کی کا یا پٹری
اور جس کی قوت تکی
کے سانسے سارھی
اور کئے اس پر کوئی
جاوے یا سرسبز

رَأَى أَهْلَ الْعَهْدِ وَقَوْلُهُ وَإِنَّمَا أَخَذْنَا مِنْ قَوْمِهِمْ خِيَانَةً فَإِنِّي نَذَرْتُ لَهُمْ عَلَيْ سَوَاءَ الْآيَةِ

جی۔ ہنٹ پھینکے جائے اور اللہ تعالیٰ کا قول: اگر کچھ کسی قوم سے نفاذی کا خون جو توڑا نکا عہد برابر ہی کر لیا کرتے ان کی طرف سے ایک دوصل

(۱۴۸۰۔) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَرِّرًا - ۲۶۶) (۱۷۱) بَابُ إِشْرَافِهِمْ مِنْ عَاهِدِهِمْ غَدْرًا

دیکھو حدیث ۲۶۶ باب اس کا گناہ جو عہد کر کے دغا کرے اور

قَوْلِهِ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مِرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ

اشترخالی کا قول اور وہ لوگ جن سے تم نے ان سے عہد کیا اور انہوں نے ہر دفعہ اپنا عہد توڑا اور وہ دغا کھنی سے نہیں بچتے

(۱۴۸۱۔) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (مُتَكَرِّرًا - ۳۱) (۱۴۸۲) عَنْ عَلِيٍّ (مُتَكَرِّرًا - ۹۴۴)

دیکھو حدیث ۳۱ دیکھو حدیث ۹۴۴

(۱۴۸۰۔) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَآ لَمْ تَجِدُوا إِدْنَارًا وَادًّا لَدَرْهَاهَا فَنَقِلُ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب (بڑیے کا) ایک کنارہ اور ایک دم بھی تم کو نہ ملے گا ان سے

لَهُ وَكَيْفَ تُرَى ذَلِكَ كَأَنَّيَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَى وَالَّذِي نَفْسِي أَلِي هُرَيْرَةَ بَيْنِي

کہ گیا ابو ہریرہ آپ کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ میں کیوں ہوگا کہ ہاں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے

عَنْ قَوْلِ الصَّادِقِ الْمُرْتَدِّقِ قَالَ لَوَاعِمْتَ ذَاكَ قَالَ تَتَّهَمُكَ ذِمَّةُ اللَّهِ ذِقَاةُ رَسُولِهِ

مصدق کے فرمان سے لوگوں نے کہا یہ کس وجہ سے ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول صلعم کے عہد کی ہے حرمی

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسْتَدِلُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَلُوبَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَيَسْتَنْعُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ

تو اللہ تعالیٰ کے دلوں کو مضبوط کر دینگے پس وہ اس مال کو روک دیں گے جو ان کے ہاتھ میں ہے

(بقیہ صفحہ ۷۲۸)
ظاہر ہے جب
سنا کر کی حکومت
بہت وسیع ہوگی
اور فتوحات کی کثرت
کی وجہ سے مسلمان
بہت مالدار ہوں گے
اور فی الواقع مال
کی کثرت ہی سب
اوقات ایک قوم
کی تباہی کا موجب
ہو جاتی ہے۔ تو
اخلاق سے بنی اور
ترقی کرتی ہے۔
مال کی کثرت سے
فتنہ جو عرب کے
ہر ایک گمراہ میں
ہوا تھا حضرت عثمان
کے قتل سے شروع

ہوتا ہے اور پھر روز بروز ترقی ہی کرتا چلا گیا صلعم اور اس کے بعد: جو کہ جنگ عظیم پر چیاں ہوتا ہے جس میں مسلمان ہر طرح تباہ ہو گئے ان کی رہی سہی حکومت بھی
جاتی رہی عراق، شام، فلسطین وغیرہ اسی جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے اور عیسائیوں کے ہاتھ آ گئے۔ اور صلیبی جنگوں پر بھی یہ الفاظ صادق آتے
ہیں (صفحہ ۷۲۸) علامہ مندرجہ عنوان آیت ۵۹ انفال کی ہے۔ اس میں ذکر ان عہد والوں کا ہے جو بار بار عہد کر کے توڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان عہدوں سے انہیں تنہا
یقیناً عہد ہمہ تنی کل مرہ ہم لا یقنون۔ عنوان یہ ہے کہ اگر کسی قوم سے معاہدہ ہو اور اسے منسوخ کرنا ہو تو کس حالت میں منسوخ کیا جائے۔ آیت نے یہ بتایا
کہ جب دشمن کی طرف سے بغیث کا علم ہو جائے تب معاہدہ منسوخ ہو سکتا ہے مگر باہر میں بھی معاہدہ منسوخ کرنے وقت یہ ضروری ہے کہ طرفین کی برابری کی حالت
کا لحاظ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ درپردہ جنگ کے لئے معاہدہ ہوتے ہوئے تیار ہی کی جائے اور معاہدہ تو کم کرنا ہی ضروری ہو۔ اور جب اختلاف ممکن ہو جائے تو اس وقت
معاہدے اس کی بے خبری کی حالت میں اعلان کر دے کہ ہمارا معاہدہ منسوخ ہے۔ اس ہدایت کی بنیاد کس قدر صداقت اور استباز پر ہے۔ لوگ
کہتے ہیں کہ مذہب کی ضرورت کیا ہے۔ اگر صداقت، ایمان داری، دیانت کی ضرورت انسان کو ہے تو مذہب کی بھی ضرورت ہے۔ کیونکہ مذہب کی بنیاد چاہی
اور راست بازی پر ہے۔ علامہ مکرر روایت کا پہلا حصہ علامہ کا ہے اور باقی مضمون اور ہے۔ یہاں یہ لفظ میں بھٹنی ابو بکر صغیر میں یوں دیکھا ہے الفجر یعنی لا
یجی بعد العار مشوک ولا یطوف بالبلد عریان۔ اس کے بعد کا مضمون اور ہے۔ دیومرئح الاکبر یوم الفجر والاعقابیل اکاکیر من اجل قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم
الا صغر فخذوا ابو بکر الی الناس فی ذلک العام (اسی سے عنوان ہے) فقہ یحییٰ عام حجة الوداع الذی حج فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مشوک۔ اس میں
ہے کہ حضرت ابو بکر نے مشرکوں کو ان کا عہد واپس کر دیا مگر علامہ ۲۳۰۰ وم ۲۳۰۹ میں ہے کہ حضرت ابو بکر کو امیر حج بننے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے حضرت علی کو فتح معاہدہ کے اعلان پر مامور کر کے بھیجا اور فتح معاہدہ کا اعلان حضرت علی کے گیا۔ یہ سب خبری کا واقعہ ہے۔ یہ نسخ معاہدہ کا اعلان ان
لوگوں کے ساتھ تھا جن کا ذکر سورہ انفال کی آیت ۵۹ میں ہے کہ بار بار عہد کر کے توڑتے تھے۔ علامہ خفیف اختلاف لفظی سے دیکھا ہے کہ ان میں کان ہنا تھا تھا
من اذا حدثت کذب اذا دخلت واذ اعاهدت واذ اعاهدت واذ اذ احصم تجر من کانت فیہ خصلہ منہن کانت فیہ خصلہ من النفاق حتی یدین عہادہ ۱۴۸۱۔ ۱۴۸۲ مضمون تقریباً
انہی الفاظ میں دہرایا گیا ہے اس میں ذکر ہے کہ جو مسلمان کا کیا ہوا عہد توڑے تو اس پر اللہ اور ملائکہ اور سب لوگوں کی لعنت ہو۔ علامہ حضرت ابو ہریرہ کا زمانہ تھا کہ جب حکومت
اسلام کے عرب کے سامنے تھی تو یہ سزا دیا جاتا تھا اور یہی حالت اس وقت تھی جب یہ عہد کر کے توڑتے تھے۔ مگر ان لوگوں کو ایمان رسول اللہ صلعم کی جتنی خوبیوں کی
زبردست تھا۔ اور خود رسول اللہ صلعم کی صداقت اس سے کسی انہیں نہیں ہوتی ہے۔ یہی عرب میں مسلمانوں کی حکومت نہیں مگر بیگونی ہے کہ کہنے میں نیاں حکومت
اسلام قائم ہوگی اور دوسری قومیں سزاؤں کو خراج دیں گی۔ پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں کے اندر سے مخلوق خدا کی بھلائی کے وہ جذبات کم ہوتے جائیں گے۔ جن کی وجہ سے
وہ اس بلند مقام پر پہنچے تھے تو لوگوں کے دلوں سے ان کا رعب بھی دور ہو جائیگا۔ خراج کے رکھنے میں درحقیقت سلطنت و اسلامی کے ضعف کی

پہنچ گئی ہے۔ یہ بھی یاد رکھنے کے قابل بات ہے کہ سلطنت اسلام کے اس ضعف کو مسلمانوں کے اپنے نقص کی طرف منسوب کیا ہے۔ وہ خود اللہ اور نبی پر صدمہ

(۱۸) بَابُ (م- ۱۲۸۳) عَنْ أَبِي دَاوُدَ (متکرر- ۱۲۴۱) (۱۲۴۱) عَنْ أَبِي دَاوُدَ قَالَ

بَابُ مَدِينَةٍ دیکھو حدیث ۱۲۴۱ ۱۲۴۱ ابو داؤد سے روایت ہے کہ

لَمَّا بَصُرْتُمْ فَمَا سَهْلٌ بَرِحْتُمْ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ تَهَمُّوْا أَنْفُسَكُمْ فَإِنَّا كُنَّا مَعَهُ

ہم نے دیکھا کہ تم نے ہنسنا شروع کیا اور کہا اے لوگو اپنے نہیں غلٹی پر سمجھو کہونکہ ہم صدیقیہ کے دن

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَلَوْ نَزِمِي تَبَايَلًا لَقَاتَلْنَا فِئَاءَ عُمَرَ بْنِ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور اگ تم لوگو کو بہتر سمجھتے تو غزوہ راءے میں تو عمر بن

الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّنَاءُ عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى بُبَاطِلٍ فَقَالَ بَلَى فَقَالَ

خطاب آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں فرمایا کیوں نہیں پھر عرض کیا

أَلَيْسَ قَتْلًا كَانَتْ فِي الْحَيَّةِ وَقَتْلًا هُمْ فِي النَّارِ قَالَ بَلَى قَالَ نَعْلَى مَا لِنَعْلَى الذَّنْبِيَّةِ فَنِي

کیا ہم میں سے جو مارے جائیں وہ جنت میں اور ان کے قاتل ذبح میں نہیں ہیں فرمایا کیوں نہیں عرض کیا تو پھر ہم اپنے دن کے معاملہ میں پہلا

رَدِينًا أَنْ تَرْجِعَ وَكُنَّا يَحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ بِنَاخِطَابِ أَبِي رَسُولِ اللَّهِ كُنْ

ذلت کی بات قبول کریں کیا ہم واپس جائیں گے اور ان کے پاس بھی ایک ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا فرمایا ابن خطاب میں اللہ کا

يُضِيْعُنِي اللَّهُ أَبَدًا أَنَا نَطْلُقُ عُمَرَ إِلَى أَبِي يَكْرِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

رسول ہوں اور وہ مجھے بھی ضائع نہیں کریگا پھر حضرت عمر حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور ان سے وہی سنی اسطر علیہ وسلم سے عرض

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَنْ يُضِيْعَهُ اللَّهُ أَبَدًا أَفَنَزَلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ تَقْرَأُهَا رَسُولُ

کیا تھا حضرت ابو بکر نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ آپ کو بھی ضائع نہیں کریگا پھر سورہ فتح نازل ہوئی رسول

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْفِخْ هُوَ قَالَ نَعَمْ

اسطر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افریقہ حضرت عمر کو پڑھا کر سنایا حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ صلح منع ہے؟ فرمایا ہاں

(م- ۱۲۸۴) عَنْ أَسْمَاءَ (متکرر- ۱۲۲۸) (۱۹) بَابُ الْمُصَالِحَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَأَوْقَتْ

دیکھو حدیث ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ بَابُ مَدِينَةٍ دیکھو حدیث ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ صلح میں تین دن یا ایک مقرر وقت کی شرط کرنا

غزین سے صلح اور جن مسدکہ کا ذکر ہے ہلکا مکرر روایت مختصر ہے اس میں صلح کے شروع کا ایک حکم لکھا ہے کہ اس کے ساتھ دہرایا گیا ہے۔ یہاں لفظ یہ ہیں۔ ایش راوی کہتے ہیں۔
ساتھ، اب داؤد نے شہادت صفین قال نعم سمعت سهل بن حنيف يقول اتهموا ارايكه رايتني يوماني جندل دواستطيع ان اردوا امرالنبي صلى الله عليه
وسلم لودونه وما دضعنا اسيا فاعلى عوانا فقا كما حفظنا الا اسهلنا منالى امرنفره غير امرنا هذا يعني سهل بن حنيف لے کہا تم اپنی رائے کو غلط سمجھو میں نے
ابو جندل کے دن دیکھا کہ نبی صلح حدیبیہ کے دن جب ابو جندل زنجیر میں لائے گئے اور سلمان صلح کو بند کرتے تھے، اگر میں آنحضرت صلح کے حکم کو رد کرتا تو رد کرتا اور ہم
نے جب بھی اپنی تواریں اپنے کندھوں پر کسی ایسے پر لٹکتے دیکھے جو ہمارے لئے تکلیف کا موجب تھا تو وہ مصیبت آسان ہوگئی۔ ہمارے اس ایک معاملہ کے نتیجے کے لئے
دیکھو صلح ۱۲ پر نوٹ ہے صلح صفین عراق اور شام کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے جہاں حضرت علی اور حضرت معاویہ کا مقابلہ ہوا۔ لڑائی کئی دن تک ہی جب حضرت معاویہ اور
ان کے بلال نے کو حکم ہوا کہ ان کی فوج مغلوب ہو جائیگی تو عمر بن عباس نے حضرت معاویہ کو یہ مشورہ دیا کہ قرآن کریم کو فوج میں اوپر اٹھایا جائے اور حضرت علی اور انکی فوج
کو اس پر عمل کرنے اور اسے حکم بنانے کی طرف دعوت دی جائے تو لڑائی بند ہو جائیگی۔ چنانچہ اس طرح کی ایک کہانی کی روایت میں ہے کہ معاویہ کی طرف سے ایک شخص قرآن
کریم لایا اور کہا میںنا دینکے کتاب اللہ تو حضرت علی نے کہا انا ادا اذی بنک بیننا کتاب اللہ میں کتاب اللہ کو حکم بنا لیا کہ زیادہ حقدار ہوں اور لڑائی بند کر دی۔ خوارج نے
کہا کہ ان سے لڑنا چاہئے یہ تک کہ اللہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ اس پر صلح کریمیاں ذکر ہے سهل بن حنيف نے کہا اتهموا انفسكم يا اتهموا واكرهوا
کم ۱۲۸۴ میں ہے، اپنی رائے کو ناقابل اعتنا سمجھو بعض وقت انسان رونے کو بہتر اور مفید سمجھتا ہے۔ مگر صلح کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے اور مثال یہ وہی کہ حدیبیہ میں
ہماری رائے رونے کی تھی اور جن شرط پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح کرنا چاہتے تھے وہ ہم کو ناپسند تھیں۔ اور اگر ہماری طاقت ہوتی تو ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کی صلح کو ناپسند کر دیتے مگر اس صلح کا انجام نہایت اچھا ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسے فتح میں فرمایا۔ انا فتناك فتحا مبینا ہلکا میں کچھ زیادت ہے۔ قدمت
علی امی وہی مشرکتی فی عہد قریش اذ عاهدوا رسول اللہ صلح حدیبیہ ما عہدنا اننا نقتل رسول اللہ ان امی قدمت علی ہی رغبۃ
افاضلھا قال نعم صلحہا۔ امی میں اس صلح کا ذکر ہے اور یہ ذکر کرنا شروع ہم سے جب صلح ہوا تو ان میں سے لکھے ساتھ من سلوک کرنا چاہئے جو من سلوک کے مستحق ہیں۔

بقیہ صفحہ ۷۳۱
اس کے رسول کے صحابہ
مدنی کی جو بھی کرے گی
یعنی زینب کا یہ وہ
خبر گزرتا ہے کہ
جواہر اور اس کا رسول
چاہتے ہیں تب انکی
حکومت اٹھ جائیگی
اس سے یہی معلوم
ہوگا کہ صلح کو بند کیا
فدائے مہرت اپنے
دی تھی کہ وہ رضایا
کے تھے خواہ اول کسی
صعدن کے لئے
کو شہادت ہے
صفحہ ہذا
۱۲۸۴ اس باب میں
نہیں اور یہ جو لکھے
بابوں میں تھے۔
بابوں میں نیز فرمایا
کے جو گیسٹ صحابہ
اور صلح کا ذکر تھا۔
اس باب میں ساری
کیا اس باب میں نیز

مَعْلُومٍ (م- ۱۲۸۵) عَنِ الْبَرَاءِ (مكرر- ۱۲۵۷) (۲۰) بَابُ الْمَوَاعِدِ مِنْ غَيْرِ

وَقْتُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَكُهُمْ قَأَفْرَكُهُمْ اللَّهُ بِهِ (۲۱) بَابُ طَرَجِ حَيْفِ

الْمَشْرِكِينَ فِي لَبِيدٍ وَلَا يُؤْخَذُ لَهُمْ ثَمَنٌ (م- ۱۲۸۶) عَنِ عَبْدِ اللَّهِ (مكرر- ۱۹۱)

(۲۲) بَابُ رَأْتُمُ الْغَادِرِ اللَّبِيدِ وَالْفَاجِرِ (۱۲۸۲) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لَوْ أُوِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَحَدُهُمَا يُنْصَبُ قَالَ لِأَخِيرِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

يَعْرِفُ (م- ۱۲۸۷) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (مكرر- ۱۲۸۸) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (مكرر- ۱۹۰)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۵۹- كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ

۵۹ - ابتدائے پیدائش کی کتاب

(۱) بَابُ مَا جَاءَنِي قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ الَّذِي بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قَالَ

أَكْتُبَ هَذَا مَا قَضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ أَنَا وَاللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ كَانَ لَا يَكْتَبُ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ
عَلَى اللَّهِ الْأَعْمَاءُ أَيْدِي قَالُوا فَارِقَهُ قَالُوا فَارِقَهُ أَيَا نَحْيَهُ أَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ الْخَلْقَ فَلَمَّا دَخَلَ مَعْصِي الْأَيَامِ أَوْ قَاعِيَا فَقَالُوا مَرَّ صَاحِبُكُمْ فَيُرْتَعِلُ فَنَزَلَ كَرْدُكُ
لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ أَرْتَحِلُ - يَبَانُ تَيْنُ وَنَ كَرِيْسُ رَسْتِي كِي شَرَكَا كَا كَرِيْسُ مَكْرِي مَسِيحُ زِيَادَةُ وَقْتُ كَسَلْتِي نَهْيِي. أَوْرِي تَيْنُ دِنُ شَرِيْكِي وَنَت
سَبِي سَنَدُ سَالِ كَسَلْتِي هَلَا كُوَا مَسِيحُ جِنْدُونُ أَيْ كَسَمِيْنُ وَقْتُ كَسَلْتِي هَلَا كُوَا مَسِيحُ جِنْدُونُ أَيْ كَسَمِيْنُ وَقْتُ كَسَلْتِي هَلَا كُوَا مَسِيحُ جِنْدُونُ أَيْ كَسَمِيْنُ وَقْتُ كَسَلْتِي هَلَا كُوَا مَسِيحُ جِنْدُونُ أَيْ كَسَمِيْنُ
هَلَا كُوَا مَسِيحُ جِنْدُونُ أَيْ كَسَمِيْنُ وَقْتُ كَسَلْتِي هَلَا كُوَا مَسِيحُ جِنْدُونُ أَيْ كَسَمِيْنُ وَقْتُ كَسَلْتِي هَلَا كُوَا مَسِيحُ جِنْدُونُ أَيْ كَسَمِيْنُ وَقْتُ كَسَلْتِي هَلَا كُوَا مَسِيحُ جِنْدُونُ أَيْ كَسَمِيْنُ
جَزُو دَرَفْتَنُ وَهُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَخَذَتْ مِنْ نَظَرِهِ دَعَتْ عَلِيًّا مِنْ مَنَعِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا مَلَأَمُ مِنَ قُرَشٍ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ يَا جَاهِلُ مِنَ هَتَاهُ وَعَتِيَّةُ بْنُ هَتَاهُ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعَقَبَةُ بْنُ أَبِي عَقَبَةَ بَطِيَّةُ
أَوْ أَبِي بَرْخَلَةَ فَلَمَّا رَأَيْتَهُمْ قَتَلُوا أَبُو بَدْرًا فَالْقَوَانِي بِرَغِيْرَامِيَّةِ أَوْ أَبِي فَاذَنُكَانَ رَجُلًا خَفِيضًا لَمَّا جَرَدَهُ تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُ الْقَبْلِ أَنْ يَلْقَى فِي الْمَهَادِ
مَلَأَمُ لَيْسَ دَفَاكُنِي وَالْأَيْكُ جَوِيْدًا سِيْلُ جَسْمِيْنَ مِنْ دَفَاكُنِي
مَلَأَمُ كَرُورِيَاتِ كَسَلْتِي هَلَا كُوَا مَسِيحُ جِنْدُونُ أَيْ كَسَمِيْنُ وَقْتُ كَسَلْتِي هَلَا كُوَا مَسِيحُ جِنْدُونُ أَيْ كَسَمِيْنُ وَقْتُ كَسَلْتِي هَلَا كُوَا مَسِيحُ جِنْدُونُ أَيْ كَسَمِيْنُ وَقْتُ كَسَلْتِي هَلَا كُوَا مَسِيحُ جِنْدُونُ أَيْ كَسَمِيْنُ
كَلَامِيْسِيْ أَيْ شَارَهُ كَفَاكِرُ كَسَمِيْنُ
كِي أَوْ تَيْنُ دِيْسُ كَسَمِيْنُ
كَلَامِيْسِيْ أَيْ شَارَهُ كَفَاكِرُ كَسَمِيْنُ
كِي أَوْ تَيْنُ دِيْسُ كَسَمِيْنُ كَسَمِيْنُ

کتاب بنی الخلق ۵۹
اختصاراً در تفسیر
کے ساتھ اور صحیح
ہے ان اشعار میں
اللہ علیہ وسلم
اراد ان یحتمل
ارسل الی اہل
مکہ یستدینہم
لیکل منہ فاشترط
علیہ ان لا یقبہ
بہا الا ثلث لیل
ولا یدخلہا الا
بجلبان السلام
ولا یدخلہم
احد قال فاشترط
یکتب اشترط
بنہ علی بن ابی
طالب کتب هذا
ما قاضی علیہ
محمد رسول اللہ
فقالوا
رسول اللہ یمنعہ
ولہایضاً لکن

فَنَادَى مُنَادٌ ذَهَبَتْ نَاتِكُ يَا ابْنَ الْحَصِينِ فَأَنْطَلَقْتُ فَأَرَدْتُ أَنْ يَقْطُرَ دَرَاهِمُ السَّرَابِ

استغیر کسی نے آواز دی کہ ابن حصین تیری اونٹنی چلی گئی میں گیا تو وہ سراب کی آڑ میں تھی اور

فَوَاللَّهِ لَوْ رَدَّتْ أُنْتِ لَنَتُّ لَهَا (۱۴۴۳) عَنْ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اللَّهُ تَسْمِعُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي حُجْرِهِ أَوْ فِي بَيْتِهِ أَوْ فِي قَوْمِهِ (۱۴۴۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَقَامًا فَخَبَّرْنَا عَنْ بَدْرِ بْنِ الْحَارِثِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَنْ حَفِظَ نَوَسِيَةً مِنْ نَسِيَةٍ (۱۴۴۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِذَا مَاتَ رَجُلٌ مَاتَ مَعَهُ مَا فِي بَيْتِهِ مِنْ نَسِيَةٍ (۱۴۴۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِذَا مَاتَ رَجُلٌ مَاتَ مَعَهُ مَا فِي بَيْتِهِ مِنْ نَسِيَةٍ (۱۴۴۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِذَا مَاتَ رَجُلٌ مَاتَ مَعَهُ مَا فِي بَيْتِهِ مِنْ نَسِيَةٍ (۱۴۴۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِذَا مَاتَ رَجُلٌ مَاتَ مَعَهُ مَا فِي بَيْتِهِ مِنْ نَسِيَةٍ (۱۴۴۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِذَا مَاتَ رَجُلٌ مَاتَ مَعَهُ مَا فِي بَيْتِهِ مِنْ نَسِيَةٍ (۱۴۵۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِذَا مَاتَ رَجُلٌ مَاتَ مَعَهُ مَا فِي بَيْتِهِ مِنْ نَسِيَةٍ (۱۴۵۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِذَا مَاتَ رَجُلٌ مَاتَ مَعَهُ مَا فِي بَيْتِهِ مِنْ نَسِيَةٍ (۱۴۵۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِذَا مَاتَ رَجُلٌ مَاتَ مَعَهُ مَا فِي بَيْتِهِ مِنْ نَسِيَةٍ (۱۴۵۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِذَا مَاتَ رَجُلٌ مَاتَ مَعَهُ مَا فِي بَيْتِهِ مِنْ نَسِيَةٍ (۱۴۵۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِذَا مَاتَ رَجُلٌ مَاتَ مَعَهُ مَا فِي بَيْتِهِ مِنْ نَسِيَةٍ (۱۴۵۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِذَا مَاتَ رَجُلٌ مَاتَ مَعَهُ مَا فِي بَيْتِهِ مِنْ نَسِيَةٍ (۱۴۵۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِذَا مَاتَ رَجُلٌ مَاتَ مَعَهُ مَا فِي بَيْتِهِ مِنْ نَسِيَةٍ (۱۴۵۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِذَا مَاتَ رَجُلٌ مَاتَ مَعَهُ مَا فِي بَيْتِهِ مِنْ نَسِيَةٍ (۱۴۵۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِذَا مَاتَ رَجُلٌ مَاتَ مَعَهُ مَا فِي بَيْتِهِ مِنْ نَسِيَةٍ (۱۴۵۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِذَا مَاتَ رَجُلٌ مَاتَ مَعَهُ مَا فِي بَيْتِهِ مِنْ نَسِيَةٍ (۱۴۶۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِذَا مَاتَ رَجُلٌ مَاتَ مَعَهُ مَا فِي بَيْتِهِ مِنْ نَسِيَةٍ (۱۴۶۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِذَا مَاتَ رَجُلٌ مَاتَ مَعَهُ مَا فِي بَيْتِهِ مِنْ نَسِيَةٍ (۱۴۶۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِذَا مَاتَ رَجُلٌ مَاتَ مَعَهُ مَا فِي بَيْتِهِ مِنْ نَسِيَةٍ (۱۴۶۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِذَا مَاتَ رَجُلٌ مَاتَ مَعَهُ مَا فِي بَيْتِهِ مِنْ نَسِيَةٍ (۱۴۶۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِذَا مَاتَ رَجُلٌ مَاتَ مَعَهُ مَا فِي بَيْتِهِ مِنْ نَسِيَةٍ (۱۴۶۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بقیہ ص ۷۳۲
اور وہاں عبارت
یوں ہے وہاں
خنی السہوت و
آرا رضی مستہ انہ
ذکان عرضہ علی الما
بیلہ و ایلہ احسن عملا
اس نام جو یہ پیغمبر
بارگاہ اکبرہ میں آیا
زین کی پیدائش سے
پت خدا کا عرض پانی پر
تھا اور جو تک گیا تے
کہ آسمانوں اور زمین
کی پیدائش سے پہلے
پانی تھا لہذا کہ زین پر
یہ عبارت سے منکر
تھا اور اس کے سوا
کئی کو انکار نہیں ہو سکتا یہ کہا جائیگا کہ اس وقت زین تھا اس
اور ایک نظام بن گیا۔ مگر ظاہر ہے کہ اس سے بھی اور پر سے اگر انسان اپنے خیال کو لے جائے تو آفرینکے متنی تسلیم کرنی پڑتی ہے اور فوجو سانس اب اس نتیجہ پر پہنچتی ہے کہ اس عالم کی پہلی حالت یعنی ایک طاقت تھی جو گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توہ پر قرآن کریم کی آیت حمد کی ہی تفسیر کی جو اوپر مذکور ہے یعنی آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے پہلے ایک خدایا خدا تھا جس نے آسمان زمین پیدا کی اور زندگی پیدا کی اور انسان کو بنا یا حدیث کے الفاظ میں اس کی تفسیر میں ہے کہ اول بل نظر آتا ہے وہ راوی کی ہے پورا نصیبا نہ رکھ سکتی کی وجہ سے جو صحیح تفسیر ہے جو قرآن کریم میں مذکور ہے مگر ایک معنی ہے کہ اللہ ولہ یکن شیئی غیرہ کے یوں بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر ہمیشہ سے جو اور اس کی غیر کوئی چیز ہی نہیں اور اس میں شک نہیں کہ مخلوق کو جس طرح عین اللہ بنا گیا ہے اس طرح غیر اللہ بنا گیا ہے کیونکہ وہ اس کی بنا ہی ہوئی چیز ہے۔ (صفحہ ۷۳۲) یہ معنی روایت مخفر ہے احمد اور اس کی روایت میں ہے۔ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوة العقبہ تصحیح لمتبر خطبنا حتی حضرت الظہر تفرزل فیصلی بنا الظہر ثم بعد انہ خطبنا صلی اللہ علیہ وسلم حتی غابت الشمس فمد لنا بما کان دہلہا کا ترجمہ ہے انہ الحفظنا مگر کسی روایت میں تفسیر نہیں کیا گیا ہے۔ اس کو ظہر کو کہنے کے مسلمان مردوں اور عورتوں نے سب سے پہلے کہا مگر تعجب ہے کہ اس لئے بڑے بے نظریہ کی تفسیرات کا کہیں ذکر نہیں۔ غالباً اس لئے اسے یاد نہیں رکھا کہ اس کا تعلق عمل سے نہ تھا۔

قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي تَابِهِ هُوَ عِنْدَ ذُرْقِ الْعَرْشِ أَنْ رَحِمْتِي عَلَيَّ غَضِبِي (۲۳) بَابُ مَا

اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو پہلی کتاب میں لکھا اور وہ اس کے پاس عرش کے اوپر ہے کہ میری رحمت میری ناراضگی پر غالب ہو گی۔ باب

جَاءَ فِي سَبْعِ أَرْضِينَ وَقَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ مِنْ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ

جو سات زمینوں کے بارے میں آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قول اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان بنائے اور اتنی ہی زمینیں بنا۔ ان میں ہر

یَنْزِلُ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ لِيَتَعَابَرَهُنَّ أَنْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

اُترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اللہ کے علم نے ہر ایک چیز کا احاطہ کیا ہو گا اور (العلاق - ۱۲)

وَالسَّقْفَ الْمَرْفُوعِ السَّمَاءِ وَسَمَكُهَا بِنَاءُهَا الْحَمْدُ اسْتَوَاءُهَا وَحَسَنُهَا وَأَزْنَتُ سَمِعَتْ وَ

سقف مرفوع (الطور - ۵) آسمان پر سمکھا اور اشاعت اور سرو (سورۃ یوسف) اور حُجَّتْ وَالذَّرَابِ (۱۰) اس پر برہنہ اور اس میں برکت اور انفاق

أَطَاعَتْ وَالْقَتُّ أُخْرِجَتْ مِنْهُمَا مِنَ الْمُوتَى وَخَلَّتْ عَنْهُمْ حُجَاهَا دَحَاهَا الشَّاهِرَةُ

(۵ - ۱۵) اس میں اور ان میں بالوقت (الاشفاق - ۲۴) جو اس میں رہتے تھے انہیں باہر نکال دیا اور زمین ان سے خالی ہو گئی طہار (الشمس - ۱۵)

رَجَةُ الْأَرْضِ كَانَ فِيهَا الْحَيَوَانُ نَوْمُهُمْ وَسَهْرُهُمْ (م - ۱۴۹) عَنْ أَبِي سَلَةَ بْنِ عَبْدِ

زمین کو پیدا یا ساہو (الزجات - ۱۴) زمین کی طرح ہے اس میں جاندار رہتے ہیں سوئے اور جاگتے

الرَّسْمِ (ممتکر - ۱۱۶۸) (م - ۱۴۹۱) عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِيهِ (ممتکر - ۱۱۶۹) (۱۴۴۶)

دیسو حدیث ۱۱۶۸ دیسو حدیث ۱۱۶۹

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزَّمَانُ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ

ابوبکر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ گھوم کر پوری حالت پر آ گیا جیسے اس دن تھا

يَوْمَ خُلِقَ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ لِسَنَةِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حَرَمٌ ثَلَاثَةٌ مَتَوَالِيَةٌ

جس دن اللہ نے آسمان اور زمین بنائے سال بارہ مہینے کا ہے ان میں چار حرمت کے مہینے ہیں تین چار مہینے

ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْحَرَمِ وَرَجَبٍ مَضَى الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى شَعْبَانَ

ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور رجب اور جمادی اور شعبان کے مہینے ہیں

ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور رجب اور جمادی اور شعبان کے مہینے ہیں

یہاں قضی اللہ الخلق کے مہینے درست نہیں کہ جب خدا ساری مخلوق کو پیدا کر چکا وہ ہر وقت پیدا کر رہتا ہے اور اس طرح اس کی کھٹان رحمت سبقت غضبی بھی ہر وقت سے تلقین رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رحمت و غضب دونوں خدا کی صفات میں تو ہیں مگر صفت رحمت صفت غضب پر ترجیح سبقت لگتی ہے اس لئے ناراضگی اور ہمو اس کی بگڑت لے لیتی ہے۔ ہر ایک چیز کو اس کے نیچے کی چیز کے لحاظ سے اس کا ساک لیا جاتا ہے۔ اور لپے اوپر کی

چیز کے لحاظ سے: زمین کما جاتا ہے۔ پس سات آسمانوں اور سات زمینوں سے اگر مولود نظام شمسی کے سات سیارے لے جائیں تو برج نہیں۔ اور سات زمینوں سے مراد اس زمین کے سات بڑے بڑے حصے ہیں جو کہتے ہیں ۱۴۹۰ کے لفظ ۱۴۵۵ کے ہیں اور ۱۴۹۱ کے لفظ ۱۱۶۹ کے ہیں۔ ان دونوں میں سبع ارضین یعنی سات زمینوں کا ذکر اس رنگ میں ہے کہ جو شخص کسی کی باشت بجز زمین بھی غضب کرے گا تو اس کو سات زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ یا وہ سات زمینوں تک دھستا چلا جائے گا۔ نما ہے کہ یہ غلاب روحانی رنگ کا ہے، ہلکا ابوبکر کی روایت ۱۴۵۵ و ۱۴۹۱ میں گزری ہے مگر اس مضمون کا کوئی احصان میں نہیں ہے۔ چاروں حدیثیں مجرماً لوداع کے خطبہ سے تلقین رکھتی ہیں، ۱۴۵۵ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا عرب میں ذوالقعدہ ذوالحجہ اور رجب چار ماہ حرمت کے مہینے کہے جاتے تھے اور ان میں لڑنا حرام سمجھتے مگر جب انہی مہینوں میں لڑنا ضروری خیال کرتے تو ان مہینوں پر غیر حرمت والے مہینوں کا نام رکھتے اور لڑائی شروع کرتے اور غیر حرمت والے مہینوں پر حرمت والے مہینوں کا نام رکھتے اور ان میں نہ لڑے گا، ان چار مہینوں کی حرمت صرف ان کے ناموں سے درست تھی۔ ان کے زمانہ اور مقررہ وقت کا کوئی احترام ان کے دلوں میں نہ تھا۔ حرمت کے مہینوں کی تاریخ تقدیم کی مختلف صورتیں تھیں، مثلاً محرم کو صفر قرار دیا تاکہ تین ماہ کا متوالیہ زمانہ لڑائی میں روک نہ ہو اور صفر کو محرم سمجھا دیتے۔ اور بعض ایسا کرتے کہ ربیع الاول کو صفر قرار دیتے اور ربیع الثانی کو ربیع الاول۔ یہاں تک کہ شوال کو ذوالقعدہ قرار دیتے اور ذوالقعدہ کو ذوالحجہ چنانچہ ہجرت کے نویں سال حج ذوالقعدہ میں ہوا تھا، اسی کو قرآن کریم نے انشاء اللہ زیادتی الکتھر التورہ - ۳۵ فرمایا۔ چونکہ اس طرح اس اللہ جاتا تھا۔ اس نئی کو دور کرنے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ زمانہ یعنی سال بدستور اپنے مہینوں کے وضع و ترتیب پر گھوم کر اپنی حالت پر آ گیا ہے یعنی یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہو اور اس کے بعد محرم اور آگے ہر ایک ماہ اپنے موقع پر آنا چاہیگا۔ ان میں تقدیم و تاخیر نہ ہوگی۔ اور حرمت کے جو تین ماہ متوالیہ ہیں یعنی ذوالقعدہ۔ ذوالحجہ۔ محرم وہ پہلے درجے کی حرمت ہیں۔ ان کے درمیان صفر کو نہیں لایا جائیگا۔ جب کہ قبیلہ مضر کی طرف اس لئے منسوب کیا کہ ربیعہ اور صفر دونوں قبیلوں میں سے صرف صفر ہی رجب کو حرمت کا ماہ قرار دیتے تھے۔ اور ربیعہ رمضان کو حرمت کا مہینہ قرار دیتے تھے۔

۱۲۹۲- عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ (متكرر) ۱۱۶۸ (۳) بَابُ فِي نُجُومٍ وَقَالَ قَتَادَةُ

دیکھو حدیث ۱۱۶۸ باب ستاروں کے بیان میں اور قنادہ کہتے ہیں

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ خَلَقْنَا هَذِهِ النُّجُومَ لَثَلَاثٍ جَعَلْنَا رُبَّةً لِّلسَّمَاءِ

اور قنادہ نے کہا کہ ہم نے آسمان کی زینت بنایا

وَرَجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ عَلَامَاتٍ يُهْتَدَىٰ بِهَا فَسَنُ تَأْوِلُ فِيهَا بِغَيْرِ ذَلِكِ أَخْطَا وَأَضَاعَ

اور شیطانوں کی انکل بازوؤں کا ذریعہ اور سن ان کے ذریعے راستہ پہنچانا جاتا ہے جس نے اس کے سنے سولے اس کے کچھ اور کئے تو اس نے کھلی

نَصِيْبُهُ وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَشِيْمًا مُتَخَيِّرًا أَوَّابًا مَّا كَلَّ

کی اور اپنا حصہ ضائع کر دیا اور اس بات کا علم حاصل کرنا چاہا جبکہ علم سے نہیں ملتا اور ابن عباس نے کہا ہشیمہ راکتہ۔ ۳۵ متخیر سے اور اب

الْأَنْعَامِ الْأَنَامَا خَلَقْنَا بَرَزَخَ حَاجِبٍ وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْفَأْوَامَاتُ فَتَدُ الْغَنِيْبَ الْمُنْتَفِعَةَ

رہیں۔ ۲۱- وہ ہے جسے چوپائے کہتے ہیں اور انعام (انعام) ۱۰- نفع ہے اور برزخ (الفرقان) ۵۳- روک کر اور چاہتے ہیں کہ انعام

فَرَأَىٰ أَشْهُادَ الْقَوْلِ وَالْكَوْمُ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرًّا لِّدَا قَلِيْلًا (۴) بَابُ صِفَةِ الشَّمْسِ وَ

م فریشتہ اور بقدرہ۔ ۲۲- بھونکا تو جیسے اشک بکریوں کو کہ لاہ زمین مستقر اور بقدرہ۔ ۳۶- بھونکا (الفرقان) ۵۸- سورج اور چاند کی صفت

الْقَمَرِ بِحُسْبَانٍ قَالَ مُجَاهِدٌ كَسْبَانَ الرَّسْخِ قَالَ غَيْرُهُ كِحْسَابٍ مَنَازِلَ لَا يَعْدُ لَهَا

حسبان (ازجمن)۔ ۵- اس کے بارے میں مجاہد نے کہا ہے کہ چمکے کے گھونٹنے کی طرح اور اوروں نے کہا ہے کہ حساب اور منزلوں میں ان سے مجاہد نہیں کرتے

حُسْبَانٌ جَاءَتْ حَسَابٌ مِّثْلَ شَهَابٍ وَشَهْبَانٌ ضَخَا هَا ضَوْءُهَا أَنْ تَلُو الْقَمَرِ

حسان حساب کی جیسے ہے جیسے شهاب اور شهبان ضحما اور الشمس۔ ۱۱- سورج کی روشنی ان تیارک القمر زمینیں۔

لَا يَسْتَرْضُوهُ أَحَدٌ هِيَ ضَوْءُ الْأَخْرُودِ لَا يَنْبَغِي لَهَا ذَلِكَ سَابِقُ النَّهَارِ يَتَطَلَّبُ الْبَارِئِ

۳۰- یعنی ایک کی روشنی دوسرے کی روشنی کو نہیں چھینا سکتی اور ان کو یہ سزاوار نہیں ہے سابق النهار زمینیں سے سابق النهار زمینیں۔ ۳۰- یعنی دن و رات

حَتَّىٰ تَبْدَأَ نَسْتُجْرُجُ أَحَدُهُمَا مِنَ الْأَخْرُودِ فَجُرِي كُلٌّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَأَهْمَةٌ وَهِيَ مَا تَشْفَعُهَا

ایک دوسرے کے پیچھے سرعت سے جا رہے ہیں نسف زمینیں۔ ۳۶- ایک کو دوسرے سے نکال لیتے ہیں اور ہر ایک کو ان میں سے جتنے ہیں

أَرْجَاءُهَا مَا لَمْ يَنْشَقْ مِنْهَا نَبِيٌّ عَلَىٰ حَافَتَيْهِ لَقَوْلِكَ عَلَىٰ أَرْجَاءِ الْبَيْتِ أَعْطَشَ وَجْهِي

راہے (راہی)۔ ۳۰- آسمان کی وہی اس کی بیٹ جانا اور آرجاء نهار (راہی)۔ ۱۰- وہ ہے زمین کے پیچھے زمین میں سے زمین کے پیچھے گئے ہیں اور آرجاء اللہ اللہ اللہ

أَطْلَمَ وَقَالَ أَحْسَنُ تَوَرَّتْ لَمَّا وَرَحَّتْ يَذْهَبُ ضَوْءُهَا وَاللَّيْلُ وَمَا وَسَّعَ جَمْعُ مِنْ دَابَّةٍ

کن روں پر اور آغوش (ان زعات)۔ ۲۵- اور حجت زان تمام۔ ۶۶- اظلم اور اظلم بٹا یا اور حجت نے کہا کہ تورت (تورت)۔ ۱۱- یعنی سورج بیٹھا یا

رَأْسُكَ اسْتَوَىٰ بَرُوجًا مَنَازِلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ أَحْرُورًا لِنَهَارٍ مَعَ الشَّمْسِ قَالَ ابْنُ

۴- اور ان جائزوں کی سر زمینیں رات بچ گئی پر اور اسٹق (الفرقان)۔ ۳۸- کال ہوا اور معز (الفرقان)۔ ۱۶- سورج اور چاند کی منزلیں ہیں حوزر (الفرقان)

عَبَّاسٍ أَحْرُورًا بِاللَّيْلِ الشَّمْسُ بِالنَّهَارِ قَالَ أَبُو جَرِيْرٍ لَوْ رَدَّ رُبَّةً كُلَّ شَيْءٍ أَحْضَلْتَهُ فِي

۳۱- اگر ہم ہوا، جو کہ سورج سے ہوتی ہے اور ابن عباس نے کہا کہ حوزرات کی گرم ہوا اور سورج کی اور کال جانی ہے سورج (الفرقان)۔ ۳- سورج اور چاند کی بیٹھا ہے

شَيْءٍ (۲۴۶) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بِيْ دَرْجِيْنَ نَبَتْ

ہے جو تو دوسری چیزیں ہیں دہل کہنے یعنی ذر (تورت)۔ ۱۰- پورے روایت کو کہنا ہے نبی اللہ علیہ وسلم نے پورے فرمایا جب سورج ڈوب گیا

آسمانی باتوں کو نہیں سن سکتے۔ وما تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَصْبِحُونَ أَنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعَرُونَ. (الشعراء- ۲۱۰ تا ۲۱۲) اہم

لہم سلمہ یستحقون فیہ فلیات مستعجمہم یسلطن مبین (الطور- ۳۸) علاوہ ازیں نجوم اور میں اور شهاب اور جو چیز زمین پر گرتی ہے وہ شهاب ہے نہ

نجسم۔ جسم کے معنی لغت میں نسیق پھر بارنا دھتکارنا بھی کھنکھ میں اور ظن اور بے شرم بھی کھنکھیں اور شیطان انسان پر بھی بولا جاتا ہے۔ وَاذْخُلُوا إِلَىٰ شَيْءٍ طَائِفِهِمْ

پس رجوما للشیاطین کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ تڑپوں کو کھانوں کے اوجام اور ظنون فاسدہ کا ذریعہ بنایا ہے۔ یعنی وہ ستاروں کی طرف غلبہ باقی منسوب کرتے ہیں د

علاقہ یوں ہیں
انہ رسعید بن
زید (خاصہ
زیدی سے حق
زعیمت ان انتقام
نہا الی مروان
فقال سعید انا
انقص من
حقها شیئا اشهد
لسمعت رسول
اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم یقول
من اخذ شیئا
من الارض ظلما
فانہ یطوہ فہ
القیمۃ من سبع
ارضین
ان آخری الفاظ
میں کا ہوں اور
سجدوں کی طرف
اشارہ ہے۔
رجوما للشیاطین
کی تفسیر عام طور
سے یہ کی گئی ہے
کہ جب شیطان
آسمانی خبروں
کے سننے کے لئے
اور پروردہ جلتے
میں تو فرشتے ان
پرستار سے یا
شباب پھینکتے
ہیں۔ لیکن قرآن
کرم صریح سے
فرماتا ہے کہ شیطان

۱۲۹۲- ۱۱۶۸ (۳) بَابُ فِي نُجُومٍ وَقَالَ قَتَادَةُ
دیکھو حدیث ۱۱۶۸ باب ستاروں کے بیان میں اور قنادہ کہتے ہیں
وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ خَلَقْنَا هَذِهِ النُّجُومَ لَثَلَاثٍ جَعَلْنَا رُبَّةً لِّلسَّمَاءِ
اور قنادہ نے کہا کہ ہم نے آسمان کی زینت بنایا
وَرَجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ عَلَامَاتٍ يُهْتَدَىٰ بِهَا فَسَنُ تَأْوِلُ فِيهَا بِغَيْرِ ذَلِكِ أَخْطَا وَأَضَاعَ
اور شیطانوں کی انکل بازوؤں کا ذریعہ اور سن ان کے ذریعے راستہ پہنچانا جاتا ہے جس نے اس کے سنے سولے اس کے کچھ اور کئے تو اس نے کھلی
نَصِيْبُهُ وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَشِيْمًا مُتَخَيِّرًا أَوَّابًا مَّا كَلَّ
کی اور اپنا حصہ ضائع کر دیا اور اس بات کا علم حاصل کرنا چاہا جبکہ علم سے نہیں ملتا اور ابن عباس نے کہا ہشیمہ راکتہ۔ ۳۵ متخیر سے اور اب
الْأَنْعَامِ الْأَنَامَا خَلَقْنَا بَرَزَخَ حَاجِبٍ وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْفَأْوَامَاتُ فَتَدُ الْغَنِيْبَ الْمُنْتَفِعَةَ
رہیں۔ ۲۱- وہ ہے جسے چوپائے کہتے ہیں اور انعام (انعام) ۱۰- نفع ہے اور برزخ (الفرقان) ۵۳- روک کر اور چاہتے ہیں کہ انعام
فَرَأَىٰ أَشْهُادَ الْقَوْلِ وَالْكَوْمُ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرًّا لِّدَا قَلِيْلًا (۴) بَابُ صِفَةِ الشَّمْسِ وَ
م فریشتہ اور بقدرہ۔ ۲۲- بھونکا تو جیسے اشک بکریوں کو کہ لاہ زمین مستقر اور بقدرہ۔ ۳۶- بھونکا (الفرقان) ۵۸- سورج اور چاند کی صفت
الْقَمَرِ بِحُسْبَانٍ قَالَ مُجَاهِدٌ كَسْبَانَ الرَّسْخِ قَالَ غَيْرُهُ كِحْسَابٍ مَنَازِلَ لَا يَعْدُ لَهَا
حسبان (ازجمن)۔ ۵- اس کے بارے میں مجاہد نے کہا ہے کہ چمکے کے گھونٹنے کی طرح اور اوروں نے کہا ہے کہ حساب اور منزلوں میں ان سے مجاہد نہیں کرتے
حُسْبَانٌ جَاءَتْ حَسَابٌ مِّثْلَ شَهَابٍ وَشَهْبَانٌ ضَخَا هَا ضَوْءُهَا أَنْ تَلُو الْقَمَرِ
حسان حساب کی جیسے ہے جیسے شهاب اور شهبان ضحما اور الشمس۔ ۱۱- سورج کی روشنی ان تیارک القمر زمینیں۔
لَا يَسْتَرْضُوهُ أَحَدٌ هِيَ ضَوْءُ الْأَخْرُودِ لَا يَنْبَغِي لَهَا ذَلِكَ سَابِقُ النَّهَارِ يَتَطَلَّبُ الْبَارِئِ
۳۰- یعنی ایک کی روشنی دوسرے کی روشنی کو نہیں چھینا سکتی اور ان کو یہ سزاوار نہیں ہے سابق النهار زمینیں سے سابق النهار زمینیں۔ ۳۰- یعنی دن و رات
حَتَّىٰ تَبْدَأَ نَسْتُجْرُجُ أَحَدُهُمَا مِنَ الْأَخْرُودِ فَجُرِي كُلٌّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَأَهْمَةٌ وَهِيَ مَا تَشْفَعُهَا
ایک دوسرے کے پیچھے سرعت سے جا رہے ہیں نسف زمینیں۔ ۳۶- ایک کو دوسرے سے نکال لیتے ہیں اور ہر ایک کو ان میں سے جتنے ہیں
أَرْجَاءُهَا مَا لَمْ يَنْشَقْ مِنْهَا نَبِيٌّ عَلَىٰ حَافَتَيْهِ لَقَوْلِكَ عَلَىٰ أَرْجَاءِ الْبَيْتِ أَعْطَشَ وَجْهِي
راہے (راہی)۔ ۳۰- آسمان کی وہی اس کی بیٹ جانا اور آرجاء نهار (راہی)۔ ۱۰- وہ ہے زمین کے پیچھے زمین میں سے زمین کے پیچھے گئے ہیں اور آرجاء اللہ اللہ اللہ
أَطْلَمَ وَقَالَ أَحْسَنُ تَوَرَّتْ لَمَّا وَرَحَّتْ يَذْهَبُ ضَوْءُهَا وَاللَّيْلُ وَمَا وَسَّعَ جَمْعُ مِنْ دَابَّةٍ
کن روں پر اور آغوش (ان زعات)۔ ۲۵- اور حجت زان تمام۔ ۶۶- اظلم اور اظلم بٹا یا اور حجت نے کہا کہ تورت (تورت)۔ ۱۱- یعنی سورج بیٹھا یا
رَأْسُكَ اسْتَوَىٰ بَرُوجًا مَنَازِلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ أَحْرُورًا لِنَهَارٍ مَعَ الشَّمْسِ قَالَ ابْنُ
۴- اور ان جائزوں کی سر زمینیں رات بچ گئی پر اور اسٹق (الفرقان)۔ ۳۸- کال ہوا اور معز (الفرقان)۔ ۱۶- سورج اور چاند کی منزلیں ہیں حوزر (الفرقان)

الشَّمْسُ تَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى

جانتے ہو یہ کہاں جاتا ہے جس نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہو فرمایا وہ جانتا ہے یہاں تک

تَسِيرُ تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَسْتَأْذِنُ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَيُؤَشِّكُ أَنْ تَسْبُدَ فَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا وَ

کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور اجازت مانگتا ہے پس اسے اجازت دی جاتی ہے اور قریب ہے کہ وہ سجدہ کرے گا تو اس سے قبول نہیں ہوگا اور

تَسْتَأْذِنُ فَيُؤْذَنُ لَهَا يَقَالُ لَهَا ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَطْلَعُ مِنْ مَغْرِبِهَا

اجازت مانگے گا تو اسے اجازت نہیں دی جائیگی اسے کہا جائیگا وہیں جاہاں سے تو آیا ہے پس وہ مغرب کی طرف سے طلوع کریگی

فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَالشَّمْسُ بَحْرِيٌّ لَسْتَغْفِرُ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (۱۴۳۸)

پس یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کہ الشمس بحر ہے اور سورج اپنے تقرر سے تیرا جتا رہتا ہے یہ غار علم والے کا ایازہ ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَحَّحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَائِمُ الْقَوْمُ مَلَكُورَانِ يَوْمَ

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اپنے فرمایا کہ سورج اور چاند تیرا مت کے دن پیٹ لے

الرَّقِيمَةِ (م- ۱۴۹۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (م- ۵۸۴) (م- ۱۴۹۲) عَنْ عَبْدِ

جائیں گے دیکھو حدیث ۵۸۴

اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ (م- ۵۸۴) (م- ۱۴۹۵) عَنْ عَائِشَةَ (م- ۵۸۴) (م-)

دیکھو حدیث ۵۸۴

۱۴۹۶ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ (م- ۵۸۴) (م- ۵) بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ وَهُوَ الَّذِي

دیکھو حدیث ۵۸۴ باب اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

أَرْسَلَ لِرَبِّكَ بِنْتُ أَبِي يَدَى رَحْمَتَهُ قَاصِفًا تَقْصِفُ كُلَّ شَيْءٍ لَوْ أَنَّهَا مَلَاحِمَةٌ

اور یہ ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے توخمی کے طور پر پھیلتا ہے قاصفہ یعنی لڑائی میں ۱۴۹۶ جو ایک چیز کو توڑ دینے والی ہو

أَعْصَارٌ رَازِحَةٌ عَاصِفٌ تَهْبُتُ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ كَعَمُودٍ فِيهِ نَارٌ صَارِيَةٌ لَشَرِّ

اعصار اور برق ۱۴۹۶ جو رازحہ یعنی ہواؤں سے آسمان کی طرف اٹھتی ہے اور زمین کی شکل میں دیکھو جس میں آگ ہر دو اہل عمان ۱۴۹۶ مزی کی ہے

مَنْ قَرَأَهُ (م- ۱۴۹۴) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (م- ۵۸۴) (م- ۱۴۹۶) عَنْ عَائِشَةَ (م-)

دیکھو حدیث ۵۸۴ حضرت عائشہ سے روایت ہے

قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى مَحْمِلَةً فِي السَّمَاءِ أَوَّلَ مَا يَرَى

کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پر بادل دیکھتے تو آگے پیچھے اندر باہر آتے جلتے

۱۔ ہر چیز خدا کو
۲۔ سجدہ ہی کرتی ہے
۳۔ اس کی تسبیح بھی کرتی
۴۔ ہے مگر وہ سجدہ
۵۔ یا سب سے پہلے
۶۔ سے ہے تسبیح سے
۷۔ نہیں کیونکہ تسبیح کی
۸۔ صفت ان میں نہیں
۹۔ مغرب سے طلوع
۱۰۔ شمس کے متعلق اپنے
۱۱۔ موقع پر بحث آئیگی
۱۲۔ یہاں اس سے مراد
۱۳۔ اس نظام کی تفسیر
۱۴۔ معلوم ہوتی ہے
۱۵۔ کہ یہاں ۱۴۹۶ کا
۱۶۔ ایک مختصر سا کلام
۱۷۔ روح پر آئیگی
۱۸۔ ہے ان الشمس
۱۹۔ انفس کو پھینکان
۲۰۔ لغت واحد کا
۲۱۔ تفسیراً نہ کہ لفظاً
۲۲۔ آیتان میں آیات
۲۳۔ اللہ فاذا رأيتهما
۲۴۔ فصلاوا
۲۵۔ اس کا مضمون
۲۶۔ ۱۴۹۳ کا ہے
۲۷۔ البتہ اس میں خصوصاً
۲۸۔ کی جگہ ہے مذکور
۲۹۔ اللہ اور ذکر اللہ
۳۰۔ سے نمازی اور
۳۱۔ مذکور روایت کے
۳۲۔ لفظ ۱۴۹۶ کے
۳۳۔ میں ان میں تو یہ
۳۴۔ کا مضمون عرفان
۳۵۔ قدر ہے کہ سورج او

۱۴۹۶ جو ایک چیز کو توڑ دینے والی ہو

چاند کے گرد من کا تعلق کسی انسان کی زندگی یا موت سے نہیں ہے بلکہ روایت کے لفظ ۱۴۹۶ کے ہیں البتہ یہاں لغت واحد کے بعد وہاں لفظ زاید ہے
۱۔ علا آیت مندرجہ عنوان الفرقان ۲۸۔ الاعراف ۵۰۔ میں ارسال کے ہی سے یوسل ہے بشر کی ہر ایک قرأت میں نشانی ہے جس کے معنی متفرق کئے ہیں
۲۔ صاحب اشارت ترقی ہوا ۱۱۔ دو درجہ یعنی ہوا کے دو نام یہاں دئے ہیں لفظ ذی بن ۱۰۔ آیت مندرجہ حدیث احقاف ۲۴۔ اور قوم عاد کے متعلق ہے آپ شریفا
۳۔ پر مذکور ہے کہ فاعل تھے کہ ایک قوم تباہ ہوئی ہے حالانکہ آپ سے تو وعدہ تھا ماکان اللہ لیذنبہم و انت ذنبہم انبیا اللہ تعالیٰ کی شان نے نیازی کو روک دیا

سَلَامٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَدَدَ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ
سلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جبریل علیہ السلام نے یہودیوں کی تعداد گنے اور ان کے

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْنُ الصَّائِرُونَ الْمَلَائِكَةُ (م- ۱۲۹۸) عَنْ مَالِكِ بْنِ
اور ابن عباس کہتے ہیں کہ نحن الصائرین والسافات ۱۲۵۰ ہجرت ہونے کے لیے ملائکہ ہیں

صُعُصَةَ (متکرر ۲۵۲) (۱۲۵۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
دیکھو حدیث ۲۵۲

وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ يَجْمَعُ خَلْقِي بِنِصْنِ آتِهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ
فرمایا اور آپ صحیح کہنے والے تھے جو کچھ آپ (خدا کی طرف سے) کہا گیا وہ سچ تھا فرمایا تم میں سے ہر ایک کی میرا خلق اپنی ماں کے پیٹ میں چالیس دن

علاء جبریل کو بیورو
اسنے دشمن سمجھتے تھے
کہ وہ وحی لایا کرتے
تھے اور بیورو انکا
اور صحابہ نے گفت کوئے
تو ان پر عذاب آئی
انکا تہا درتہ جبریل
فرشتہ غائب نہیں
بکہ فرشتہ رحمت

ہے ملائکہ ابن عباس اور عام مفسرین نے یہ ملائکہ کا قول یہاں تک گویا وہ ہر وقت اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لئے صفت ہائے ہونے تیار رہتے ہیں
دوسرا قول یہ ہے کہ یہ حکایت موسیٰ کے قول سے ہے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من المسلمین الا لہ مقام محترم علی قدر اعمالہ
یومہ القیامۃ۔ اور اس قول کو اس لئے ترجیح دی گئی ہے کہ اس سے پہلے مشرکوں کا ذکر ہے اس لئے اس کے بالمقابل مومنوں کا ذکر چاہئے۔ ملائکہ کی نسبت سلم
میں حضرت عائشہ کی یہ مرفوع روایت ہے خلقت اللہ ملائکہ من نور اور تریز بن ماجہ میں ابو ذر کی روایت مرفوع میں ہے۔ نیز انیسامی موضع اربعہ
اصحاب اولاد علیہ ملک ساجد۔ اور طبرانی کی حارث سے یہ مرفوع روایت سے مانی السنوت موضع قد مرد لا شہرہ، لکن الاولیہ ملک قائم اور اکھر
اوسا ساجد۔ امام بخاری کی یہ عادت ہے کہ ایک مضمون کی متعدد حدیثیں کو مختلف عنوان قائم کر کے لاتے ہیں مگر ملائکہ کا ذکر جن متعدد احادیث میں آیا ہے
غذاوت عادت ان سب کو ایک ہی عنوان باب ملائکہ کے ماتحت لاتے ہیں۔ جلاکاران کی تعداد اس سے زیادہ ہے۔ اور باب (۷) کے ماتحت بھی
احادیث عام میں جنہیں ملائکہ کے مختلف کاموں کا ذکر ہے۔ یہ روایت ترمذی سے
النامہ والیقطان ذکرین الرجلین فایت بظمت من ذهب ملئ حکمۃ ایما ناشق من الخوالی موات البطن ثم غسل البطن ماء زمزم ثم علی حکمۃ وایما واقع بلایۃ ایضاً من
البلغ فوق الخمار البراق فاظلمت مع جبریل حتی ایتنا السماء واذنایا قبل من هذا قال جبریل قیل من معک قیل محمد قیل من معک قیل جبریل قیل من
به ولنعم الجئی جاء فایت علی اور فسنت علیہ فقال مرحبا بک من ابن ونبی فایتنا السماء اثنا تہ قیل من هذا قال جبریل قیل من
معک قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیل ارسلا الیہ قال نعم قیل مرحبا به ولنعم الجئی جاء فایت علی عیسیٰ یحییٰ نقلا (مرحبا بک من اخرون نبی
فایتنا السماء اثنا تہ قیل من هذا قیل جبریل قیل من معک قیل محمد قیل ارسلا الیہ قال نعم قیل مرحبا به ولنعم الجئی جاء فایت وسف نفمت
علیہ قال مرحبا بک من اخرون نبی فایتنا السماء الزابۃ قیل من هذا قیل جبریل قیل من معک قیل محمد قیل ارسلا الیہ قال نعم قیل
نعم قیل مرحبا به ولنعم الجئی جاء فایت علی اور سف نفمت علیہ فقال مرحبا من اخرون نبی فایتنا السماء الخاسۃ قیل من هذا قال جبریل قیل من معک قیل
محمد قیل وقد ارسلا الیہ قال نعم قیل مرحبا به ولنعم الجئی جاء فایتنا علی ہارون فسنت علیہ فقال مرحبا بک من اخرون نبی فایتنا علی السماء السابۃ
قیل من هذا قیل جبریل قیل من معک قیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیل وقد ارسلا الیہ مرحبا به ولنعم الجئی جاء فایت علی موسیٰ فسنت فقال مرحبا بک
من اخرون نبی فلما جاء ورت بھی فقیل ما ابکان قال یارب هذا الظلام الذی بیث بعدی یدخل الجنة من امۃ انضام من یدخل من امق فایتنا السماء
السابعۃ قیل من هذا قیل جبریل قیل من معک قیل محمد قیل وقد ارسلا الیہ مرحبا به ولنعم الجئی جاء فایت علی ابراہیم فسنت علیہ فقال مرحبا بک
من ابن ونبی فرت علی البیت المعمور فسالت جبریل فقال هذا البیت المعمور یصلیہ کل یوم سبعون الف مملک اذا اخرجوا لہ مع عدد الیہ اخرما علیہ
ورفعت لی سدۃ المنقی فاذا انبھما کانه قد لال ہجر وورقھا کانه اذان الغول فی اصلھا اربعة انھما زهران باطنان زهران ظھران فسالنت جبریل
فقال اما الباطنان ففی الجنة واما الظھران النیل الغرات ثم فرضت علی حسون صدقۃ فایتحت حتی جنت موسیٰ فقال ما صنعت قلت فرضت علی
خسوس صلواتہ قال زاعم باناسہ۔ زاعم باناسہ بنی اسرائیل اشدا المعالجۃ وان امکن لا یطیق وارجر الی ربک فسلہ فرجحت سالنت فجعھما اربعین
شہدۃ ثم ثلثین ثم مشد فجعل ہشتر فایتحت موسیٰ فقال مثلہ فوجد اسمہ فایتحت موسیٰ فقال ما صنعت قلت جعلھا خمدۃ
فقال مثلہ قلت سالت بخیر فوجدی انی قد امضیت فویضتی وخففت عن عبادی واجزی الحسنۃ عشرا۔ وہاں کوئی ذکر نہیں کہ معراج کس حالت میں ہوا۔
میں ہے کہ حضرت نے فرمایا میں سوتے اور جاگتے ہوئے کے درمیان تھا گویا گوشت کی حالت تھی۔ اس حدیث میں البیت المعمور کا ذکر ہے۔ بیت المعمور کعبہ اور
اور آسمان برعین کعبہ کے اوپر ایک مقام کا نام بھی ہے جس کا ذکر یہاں ہے جو کہ ہر روز ستر ہزار فرشتے اس میں نماز پڑھتے ہیں اور پھر کبھی بھی انکی باری نہیں آتی۔ دوسرے
المنق ہی آپ کو دکھایا گیا دوسرے میری کے وقت کہتے ہیں مدینۃ المنقی کے معنی میں سدرہ جوائتہ کے مقام پر ہے اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا مقام بلند
جو کمالات کا آخری مقام ہے دکھایا گیا اور اسے سدرہ سے تشبیہی جس کے بڑے بڑے پتے تھے ہمتی کے ہاں کوئی طرح تھی دیکھنے والے کے ہر ٹھکانے کو فتح۔ اور اس سے مراد حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام بلند کا ہے اور میں جو جسے دیکھا وہ انھی کے تھے۔ نیز دیکھو ۲۵۲ کے نوٹ ۱۰۱ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ کے تعداد مخلوق ہے ہزار

صرف ایک بیت المعمور میں ستر ہزار روز آتے ہیں اور وہ پھر کبھی نہیں آتے۔ مگر جمعہ خلق کے ایک حصے بن اشیر نے یوں کہے ہیں وجرزان برید بالجملہ ملک المنقذۃ۔

يَكُونُ مِثْلَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْعَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكَ فَيُؤْمِنُ بِأَرْبَعٍ
 چالیس دن وہ ایک وقت ہوتا ہے پھر چالیس دن تک گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتی ہے پھر ایک فرشتہ بھیجتا ہے۔ اور اسے چار باتوں
كَلِمَاتٍ يَقَالُ لَهُ الْكُتْبُ عَمَلُهُ وَرِزْقُهُ وَأَجَلُهُ وَشِقِي أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يَنْفِخُ فِيهِ الرُّوحَ
 سحرور یا ناب ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ اس کا عمل اور اس کا رزق اور اس کی مدت زندگی اور یہ کہ وہ بد نصیب ہے یا خوش نصیب کہہ لو گلا
فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكَ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ أَوْ ذُرَاعٌ فَيَسْتَسْقِطُ عَلَيْهِ كِتَابَتُهُ
 اس میں رزق پھینکی جاتی ہے پھر غم میں سے کوئی شخص عمل کرتا رہتا ہے۔ میان تک کہ اس کے درخت کے درمیان عرف تک ایک باجھ کا فرقہ رہ جائے اور تو کتاب
فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ أَوْ ذُرَاعٌ فَيَسْتَسْقِطُ عَلَيْهِ
 اس پر غائب جاتی ہے اور وہ دونوں اور انور بھیجا عمل کرتا رہتا ہے اور کوئی شخص عمل کرتا رہتا ہے یا جو تک کہ اس کے اور دونوں کے درمیان سزا ہوگی اور تو کتاب
أَلِكُنَّ أَنْ تَعْمَلَ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ (۲۵۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 فرق رہ جاتا ہے پھر کتابیں پڑھا لے جاتی ہے اور وہ جنت والوں سے عمل کرتا رہتا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اپنے نبی
إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ فَلَا تَأْجِبُ فَيَجِيءُ جِبْرِيلُ بِنُورٍ مَجِيدٍ
 کتاب شریفی بند سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو کہتا ہے کہ اللہ خداوند تم سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کرو تو وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور جبریل
فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ فَلَا تَأْجِبُ فَيَجِيءُ أَهْلَ السَّمَاءِ وَتَوَضَّعُوا لَهُ الْقُبُولَ فِي
 آسمان اہل میں لکھتا ہے کہ اللہ خداوند تم سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کرو تو آسمان لے اس سے محبت کرنے لگتا ہے اس کی قبولیت زمین میں بھی ہوتی ہے
أَلَا كُفْرٌ (۲۵۲) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 کہ جاتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانَ هُوَ السَّحَابُ فَيَذْكُرُوا الْأَمْرَ قَضَى فِي
 فرمایا کہ ملائکہ ان میں آتے ہیں اور عنان ابر ہے اور ملائکہ حکم کا جس کا فیصلہ آسمان میں ہوتا ہے وہ ذکر کرتے ہیں

ملکہ چاروں باتیں
 علم الہی سے تعین
 کتبیں پیدا کرے
 معرفت یہ ہے کہ ان کی
 کی پیدائش سے بھی
 میں سے سب باتیں
 اللہ تعالیٰ کے علم
 میں ہوتی ہیں کیا
 رنگ کا کھٹکے گا
 کہ تک میں نہیں ہے
 صحیح۔ اس میں زندگی
 کے خاتمہ پر جنت
 میں جائے گا نار
 میں جو کہ اللہ تعالیٰ
 آئندہ واقعات
 پر کسی طرح عادی
 ہے جس طرح موجود
 لگاتار ہے اور اس
 فی الحقیقت اس
 کا تعلق انسان سے
 ہے۔ خدا کے سامنے
 تو جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب ہی طرح ہی ہے کہ ہر بلبے اس کے لئے کہ لکھنے سے انسان پر کچھ اثر نہیں پڑتا جس طرح کرنا یا نہ کرنے کے لئے
 فرشتہ کی خبر سے ہی کچھ اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح علم الہی کے مطابق جب فرشتہ پہلے آتا ہے تو اسے انسان کا چھایا بارانے پر کوئی اثر نہیں پڑتا دنیا میں کوئی انسان نہیں جو عبادت
 کی فکراس لئے چھوڑ دے کہ خدا کو عبادت کریں کہ کیا کہنا ہے۔ اسی طرح انسان تک عمل کو اس لئے نہیں چھوڑتا کہ خدا کو علم ہو کہ میں نے بڑا کام کرنا ہے شقی اور
 سعید سے بیان مڑا ہے کہ وہ بانا فرشتہ میں جائے گا جنت میں۔ دیکھو حدود ۵۰۔ پھر سب انسان ایک ہی فطرت پر ہوتے ہیں شقی اور سعید اپنے اعمال
 سے بنتے ہیں۔ ان کی پیدائش میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ قرآن و حدیث اپنی صراحت سے اس پر گواہ ہیں۔ فظن الله الذي فطر الناس عليهما لا تبدل خلق الله
 (روم۔ ۳۰) اور حدیث میں ہے کل مولود یولد علی فطرۃ فطرحہ علیہ اس سے ملتے جلتے الفاظ ۳۳ کے آخر میں گروہاں ہے کہ ایک شخص اہل جنت کے
 عمل کرتے ہے فیما بعد للناس یعنی وہ صرف لوگوں کی نظر میں نیک ہوتے ہیں حقیقت میں نہیں گویا وہ نیکی ریا کاری سے ہوتی ہے اور اسی طرح بعض وقت
 ایک شخص اہل نار کے عمل کرتا ہے فیما بعد للناس یعنی لوگوں کی نظر میں اس کے کام برے ہوتے ہیں مگر حقیقتاً وہ نیک اعمال ہوتے ہیں تو پچھلے شخص کے نام میں درود و وسوسے کے
 جنت میں جائے گا ذکر ہے۔ یہاں یہ ذکر ہے کہ ایک شخص پہلے نیک کام کرتا رہتا ہے مگر پھر ایک سخت اسکی روش زندگی بدل جاتی ہے وہ دوزخیوں کے کام کرنے لگتا ہے۔ اور
 ایک شخص پہلے بری کے کام کرتا رہتا ہے پھر نیک ایک اسکی زندگی میں ایک تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ نیکی کی طرف تدمر اٹھانے لگتا ہے اس دوسری بات کی مثالیں تو
 دنیا میں بیشمار ہیں انہی میں سے ذریعہ سے لوگوں کی زندگی میں نیکی کی طرف تشریح سے تبدیلی ہوتی ہے مگر اول الذکر بات میں شاذ و نادر میں جو کوئی غم جو جب انسان کے دل میں
 نیکی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ بری کی طرف نہیں جاتا۔ ہاں ایسا ہوجانا ممکن ہے بعض وقت انسان کو اپنی نیکی سے دھوکا لگتا ہے اور اس میں کبر پیدا ہوجاتا ہے بعض وقت نیکی
 میں گناہ و زیادہ ہوتا ہے اور آخر ریا کاری غالب آجاتی ہے۔ سبق علیہ کتاب یا کتاب کے اس پر غالب کرنے میں غلطی کی کتاب مراد ہے یعنی علم الہی جو ہر طرح لکھا ہوتا ہے و فطرحہ
 آجاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ علم الہی اسکو چھوڑ کر کسی نیکی یا بری کی طرف لانا یا بندہ سے تباہی تو اسکے اپنے اختیار سے ہوتی ہے مگر جو کچھ اللہ تعالیٰ میں ہوتا ہے اسکے مطابق ہوجاتا ہے۔
 یاں یہ سچ ہے کہ بعض وقت انسان کی نیکیوں میں بری کی طرح موجود ہوتی ہے یا باوجود بعض بریوں کے اس کے اندر نیکی کی تریاب ہوتی ہے تو اس صورت میں کتاب مراد اسکا نہ مراد اسکا
 ہو سکتا ہے۔ علی عن ابیہ باب کا تعلق اسی جیسے ہے۔ یعنی ہر انسان کی پیدائش میں وہ نیک متعین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول اور ملائکہ کا قول جو ایسا ہی اللہ اور ملائکہ کی
 نواہی۔ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اسکو علم نیک کر دیتا ہے اور وہ لوگوں کے دل میں نیک کرتے ہے۔ اور اس سے محبت کر رہے ہیں اسکی قبولیت زمین میں بھی پس
 جاتی ہے یہ بات بالکل واقعات کے مطابق ہے۔ انبیا علیہم السلام اور خدا کے تمام نیک بندوں کی محبت اسی طرح آہستہ آہستہ دنیا میں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہاں تک

مگر ساری دنیا ان کے آگے سر جھکے لگتی ہے کسی انسان کی قبولیت کا یہی ہیچیلان بھی ہے۔

السَّمَاءِ فَتَسْمَعُ الشَّيْطَانِ التَّمَعُ فَتَسْمَعُهُ فَنُوحِيهِ إِلَى الْكَفَّارَاتِ فَيَكْفُرُونَ بِهَا

اور میں کہتا ہے کہ ہنوں کی طرف وہی کہتے ہیں وہ اس کے ساتھ

مِائَةٌ لَنْ يَأْتِيَ مِنْ عِنْدِ انْفُسِهِمْ (م- ۱۴۹۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرر- ۵۲۳)

سو جھوٹ اپنی طرف سے اور طائفتے ہیں

(م- ۱۴۹۹) عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّيِّبِ (متکرر- ۳۱۷) (۱۴۵۷) عَنِ الْبُرَيْرِ

دیکھو حدیث ۳۱۷ برائے روایت ہے

قَالَ قَالَ لَنْبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنُ أَهْلِهِمْ وَأَهْلُهُمْ وَجِبْرِيلُ مَعَكَ (۱۴۵۵) عَنْ

کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان سے فرمایا مشرکوں کی جو کجا جواب دے اور جبریل سے ساتھ میں

أَنْسِ بَرِّكَ لَوْ قَالَ كَأَنِّي أَنْظِرُ إِلَى غِيَارِ سَاطِعٍ فِي سَكَّةٍ بَنِي عَمْرٍو زَادُوا مَوْسَى وَجِبْرِيلَ

اس سے روایت ہے کہ گوئی کہ میں اس نما کو دیکھ رہا ہوں جو بنی عمن کے کوچ میں اٹھ رہا جو موسیٰ راوی اس نے زیادہ کیا کہ جبریل کے چپنے سے

(م- ۱۵۰۰) عَنْ عَائِشَةَ (متکرر- ۳) (م- ۱۵۰۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرر- ۹۲۲) (۱۴۵۶)

دیکھو حدیث ۲۷۷ دیکھو حدیث ۹۲۲

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّهَا عَائِشَةُ هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اے عائشہ یہ جبریل ہیں تم کو سلام کہتے ہیں حضرت عائشہ نے کہا وہ علیہ السلام

فَقَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرَى أَنَّ أَرَى رَيْبًا لَنْبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور بڑا کرتا آپ وہ دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھتی ان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی

(۱۴۵۷) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ لَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَبْرَةَ بِنْتِ أَبِي كَثْبَةَ

ابن عباس سے روایت ہے کہ ہارون صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے فرمایا آپ کیوں ہماری طاقات اس سے زیادہ نہیں کرتے

علا اس مضمون سے
متعلق صحتی ایک حدیث
۵۲۳ پر گزر چکی ہے
۵۲۳ دیکھو اس پر
نوٹ- یہاں یہ بتایا
ہے کہ فرشتوں کا
بادلوں میں نزول
ہوتا ہے اور وہ
اللہ تعالیٰ کے
احکام کا جتنی فیصلہ
آسمان میں ہوا ہو
ذکر کرتے ہیں۔ تو
شیاعین ان کی
باتیں سن لیتے ہیں
اور پھر وہ انہوں
کو پہنچ دیتے ہیں
جو صحیح راست باز
بندوں کا تعلق اللہ
تعالیٰ سے ہوتا ہے
اور اللہ تعالیٰ
ان کی طرف اچھی

باتوں کی وحی کرتا ہے۔ اسی طرح بکاروں کا تعلق شیاعین سے ہوتا ہے اور وہ شیاعانی باتیں ان کی طرف القا کرتے ہیں۔ ان شیاعانی خیالات میں کوئی باتیں بھی
بھی نکل آتی ہیں۔ ان کو یہاں شیاعین کے استراق کی طرف منسوب کیا ہے۔ ۵۲۳ کے نوٹ میں یہ دکھا یا جا چکا ہے کہ شیاعین اس سرچشمہ تک نہیں پہنچ سکتے جہاں
سے وحی الہی کا نزول ہوتا ہے۔ مگر یہاں یہ ذکر ہے کہ ملائکہ میں ان امور کا ذکر ہوتا ہے تو شیاعین ہاں سے چھپ کر سن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام کہ ملائکہ
کی وساطت سے کس طرح وحی پہنچتی ہے اور کس طرح ان امور کا ذکر ملائکہ میں ہوتا ہے اور ملائکہ کا نزول بادلوں میں کس طرح ہوتا ہے۔ امور روحانیات سے تعلق
رکھتے ہیں اور روحانی امور کا قیاس ظاہری امور پر نہیں ہو سکتا۔ مثلاً یہاں م ۳۵ کہ ایک حصہ دوہرایا گیا ہے۔ الفاظ یہ ہیں اذاکان یوموا للجدۃ مکان علی کل
باب من ابواب المسجون الملائکۃ ینکتون الاول فالاول فاذا اجلسن لاما طردوا الفصح دجاوا لیسلمعون الذکر بیان ان ملائکہ کا ذکر ہے جو جبریل کے
دن بچد کے دروازوں پر ہوتے ہیں۔ مثلاً مکرر روایت میں ۳۱۷ کا مضمون بلفظی اختلاف کے ساتھ دوہرایا گیا ہے۔ البتہ بیان حدیث کے شروع میں یہ حصہ مزائد
ہے۔ مگر عمر بنی العسیر وحسان یفتن فقال کنت انتہذ فیہ و ذیہ من هو خیر منک ثم التفت الی ابی ہریرۃ فقال اس کے بعد ۳۱۷ کا مضمون انشائی
باللہ سے شروع ہوتا ہے۔ شروع مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے حسان کو مسجد میں شعر پڑھنے سے روکا۔ اس پر انہوں نے ابو ہریرہ سے شہادت دینے کی درخواست
کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شعر پڑھوائے اور ان کے لئے دعا کرتے اللهم ایدہا برحمتہم القدوس۔ اس کی حدیث میں بھی گذرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو فرماتے اذبح عینی میری طرف سے۔ جبراب سے۔ یہاں بھی لفظ ہے اہجم اور اہجم اور دوسرے لفظ کے معنی ہیں ان کی جو کجا جواب دے۔ آپ دوسرے کی جو کجا
پسند کرتے تھے مگر جواب دینا ضروری تھا۔ مثلاً نما میں ہے کہ تو تک سواروں کی جماعت بھی ہے جو آہستگی سے چل رہی ہو اور چلنے کی ایک خاص طرز بھی یہ لفظ بولا جاتا
ہے۔ مذہب میں الیہ۔ گو کہ جو کجا جبریل کی طرف منسوب کر نیوئے موسیٰ راوی ہیں۔ اگر کسی نے ایسا دیکھا بھی ہے تو وہ کسفی نظارہ ہے۔ ابھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ
جبریل کو نہ دیکھ سکیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تری ما لاری ہ ملائکہ روایت میں بلفظی اختلاف کے ساتھ ۷۲ کا مضمون فقہار کے ساتھ دوہرایا گیا ہے۔
کیکن قالت عائشہ سے آؤ تک کے لفظ میں نہیں ہیں۔ یہاں آنحضرت پر وحی لانے کے ملائکہ کا ذکر ہے۔ مکرر روایت مختصر ہے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم
یقول من انفق زوجین فی سبیل اللہ دعتہ خزینۃ الجنتۃ ای فلہم فقال ابو بکرۃ ان الذی لا تری علیہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجوان تکون فیہم
دیکھو نوٹ ۹۲۲ پر ۷۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل وغیرہ فرشتوں کو جسمانی آنکھوں سے نہیں دیکھتے تھے ورنہ حضرت عائشہ نے فرمایا
تری ما لاری۔ یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کے نزدیک ملائکہ جسمانی آنکھوں سے نہیں دیکھے جاسکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی فرماتا ہے وانزل جنودا لم تر وہا

علا اس سے معلوم ہے ہوا اعلانہ کا نزول اپنے اختیار سے نہیں بلکہ وہ محض اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ علا اس حدیث سے مراد الفاظ ہیں کہ قرآن کریم کا نزول ایک ہی طرح ہوا پر نبیوں اور صلعم کیوں اور خداوند پر پڑنے کی اجازت نہ تھی

فَمَا تَزِدُّهُمْ إِلَّا عَذَابًا قَالُوا أَفَأَجْرُكَ إِذْ مَا نُنَادُوا وَخَلَقْنَا آلَ آدَمَ (۱۱۷۵۸)

جو راست کرتے ہیں ملا تو یہ آیت اتنی دفعات نازل ہو کہ وہ نہیں اترتے مگر میرے رب کے حکم سے کسی کام کی جو ہمارے لئے اور جو ہمارے لئے

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْرَأَيْتُمْ جِبْرِيلَ عَلَى حَرْفٍ فَلَمْ أَزَلْ

ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے ایک ہی بار ہوا پر پڑھا تو میں ہلکا ہوا اور کہا

أَسْتَرِيدُ أَحَقُّ نَفْسِي إِلَى سَبْعَةِ أَحْرَافٍ (۱۵۰۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکرر ۶) (۱۵۰۳)

پڑھنے کی اجازت ہو یا نہ ہو کہ سات طرح پڑھنے کی اجازت ہی ملا

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ (متکرر ۳۵۱) (۱۵۰۴) عَنْ أَبِي نُوَيْرَةَ (متکرر ۶۸) (۱۵۰۵) عَنْ أَبِي

دیکھو حدیث ۳۵۱ سے دیکھو حدیث ۶۸ سے

هُرَيْرَةَ (متکرر ۳۷۰) (۱۵۰۶) بَابُ إِذَا قَالُوا أَلَمْ نَكْفُرْ بِالسَّمَاءِ وَفَأَنْقَضَ

دیکھو حدیث ۳۷۰ سے باب جب تم میں سے کوئی شخص ایمان کے اور آسمان میں فرشتے (آئین تھے ہیں) اور ان میں سے

أَحَدُهُمُ الْأُخْرَى شُكْرًا فَمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (۱۵۰۶) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (متکرر ۱۰۵۰)

دوسرے سے موافق ہو جائے تو اس کے ذنوب سے اسے کوئی چیز نہیں گنہگار کرے گی

تھے اس کی وجہ دوسری جگہ مذکور ہے۔ جب کثرت سے قابل عرب کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے شروع ہوئے اور ان کے لیے مختلف تھے وہ سب الفاظ قرآن کو یاد رکھ کر قریش پر جس میں نزول قرآن کریم ہوا تھا ادا کر سکتے تھے تو نبی صلعم نے یہ اجازت چاہی کہ ایسے لوگ اپنے لہجوں پر ان الفاظ کو ادا کریں۔ چنانچہ یہ اجازت دی گئی۔ سات سے مراد ایک عدد کو مل ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ جس قدر لہجوں پر پڑھنے کی ضرورت پیش آئی اس قدر کی اجازت دی گئی۔ علا کہ روایت کے لفظ ملے ہیں۔ البتہ یہاں آخر پر یہ لفظ زائد ہیں۔ ودوئی ابو ہریرہ نے دفعات متعدد سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جبیر بن کان یحاضرہ القرآن۔ ابو ہریرہ کی روایت فضائل القرآن اور الفاظ کی روایت علامات النبوة میں آئے گی۔ اس روایت میں ذکر ہے کہ جبیر نے آنحضرت صلعم سے دو قرآن کیا کرتے تھے وہ ملکہ کر روایت کرتے یہاں صرف یہ لفظ ہیں ان میں عن عبد العزیز ابن ابی عمیر شیخنا نقل لہ عروۃ امامان جبیر بن کنانہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جبیر بن کان یحاضرہ فی اللہ صلعم فقال لہ ما عروۃ قال سمعت رسول اللہ صلعم یقول یقول جبریل ذہنی ذہنیت محدثہ صلیت معدثہ صلیت معدثہ صلیت معہ محسب باصاً بعد غش صلیت۔ اس میں ذکر ہے کہ جبیر نے آنحضرت صلعم کی امانت کو ادا کیا تو ان وقت انما زبائے۔ علا اس کے لفظ یہ ہیں قال لی جبیر من مات من امتنا لا یشرف باللہ شیخنا دخل الجنة اذ لم يدخل النار قال وان ذی وان مسوی قال وان۔ دیکھو نوٹ ۱۵۰۶ یہ ملکہ کر روایت تقریباً ہی الفاظ میں برابر لگی ہے وہ ملکہ دیکھو حدیث ۱۵۰۶ اور اس پر نوٹ ۱۵۰۶ یہاں روایت یہ ہے۔ قالت حشوت عنی صلعم وسأدۃ فیہا تماثلین کا تھا شوق نبیہا فقامرین انباہین۔ وجعل یتغیر وجہہ فقلت ما نیا رسول اللہ قال ما بالہذا الوسادة قالت وسأدۃ جعلتہا لک لتضج علیہا قال اما علمت ان السلا لکن لا تدخل بیثافہ صورتہ وان من صنع الصورۃ یدب يوم القیامت یقول احیوا ما خلقتم۔ تصاویر پر ایک ٹوٹا ۱۱۶ پر گزر چکا ہے اور مفسر سب کتب الباس باب تصاویر میں آئیگی عنوان پاچکا تعلق اس حصہ سے ہے جس میں یہ ذکر ہے ان السلا لکن لا تدخل بیثافہ صورتہ نہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو۔ ظاہر ہے کہ فرشتے کا لفظ بھی عام یعنی کسی قسم کے فرشتے رحمت کے ہوں یا عذاب کے۔ زندگی کے ہوں یا موت کے۔ اور تصور کا لفظ بھی عام ہے جائز ارکی ہو یا غیر جائز ارکی۔ سب سے بھی ہوا اور رحمت کی تو اپنے ظاہری معنی میں یہ حدیث قرآن شریف، دوسری احادیث اور واقعات میں گھر کے فدان ہے۔ اسی حدیث میں گزر چکا کہ ہر ایک جو جبہ درم میں ہوتا ہے تو اس پر بھی ایک فرشتہ تعین ہوتا ہے وہ جو چاہے مشرک کا ہو یا مومن کا اور چاہے ایسے گھر میں ہو۔ جہاں تصاویر ہیں۔ کراہنا کہ تعین بھی ہر یوں دکان کے ساتھ ہوتے ہیں خواہ وہ مزار تصاویر وہ ساتھ لئے پھر سے۔ موت کے فرشتے بھی کافروں مشرکوں تصویر والوں سب پر آتے ہیں والملائکۃ باسطوا الیدین۔ ان مشکلات کی وجہ سے لوگوں نے اس کی یوں جدیدی کی ہے کہ رحمت اور مغفرت کے فرشتے نہیں آتے مگر خدا تو مشرکوں کافروں پر بھی رحم کرتا ہے ان کے بت سے گناہ بھی بخشتا رہتا ہے اور حتی وسعت کل شیء۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ من شرک کفر کفر انبیاہم بخشا کے سوائے وہ سب کے ہر مشرکوں کو بھی بخش دیتا ہے تو کیا تصویر مشرک سے بھی بدتر ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو خواہ وہ انسان مشرک ہو یا نہ ہو اس میں خدا کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے مگر حضرت سلیمان کی روایت میں شیل موجود تھیں جس پر قرآن کریم بھی گواہ ہے اور روایت بھی بیعتنا لہذا یشاء من حکار ب و فمنا شیل۔ دیکھو تورات ۲۰ اوتو الخ ۱۰:۳ اد ۱۱:۲۳ و ۱۱:۳۲ تو کیا انبی کے قلب میں بھی رحمت کے فرشتے نہ آتے تھے۔ پس اپنے ظاہری معنی میں یہ حدیث کسی طرح بھی قابل قبول نہیں۔ امام راغب نے کہا کہ حدیث کے معنی ہے جیسے کہ مصلح کے ٹوٹ میں بھی بخشا جا چکا ہے۔ اور تصویر میں اشارہ مشرک کی طرف ہے جس غرض کیلئے اس زمانہ میں وہ زائری جاتی تھیں اور حدیث کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ رحمت میں ان مشرکوں کو بخشا گیا ہے کہ وہ اس کے مطابق ہیں۔ جب قرآن شریف میں ہے (باقی بر ص ۱۲۴)

(م- ۱۵۰۷) عَنْ أَبِي طَلْحَةَ (متر- ۱۴۵۹) (۱۴۵۹) عَنْ بَشِيرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ

دیکھو حدیث ۱۴۵۹ م۔ بسرین سعید سے روایت ہو کہ زید بن خالد بن

خَالِدِ بْنِ بَحْرَةَ حَدَّثَنَا وَمَعَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَخْوَلِيِّ الَّذِي كَانَ فِي حَجْرٍ مَمُونًا

نے محمد سے بیان کیا اور بکے ساتھ عبد اللہ بن خالد بن بھری نے بیان کیا

زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ حَدَّثَنَا أَنَّ النَّبِيَّ

دو دن سے زید نے بیان کیا کہ ابو طلحہ نے مجھ سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتَانِيهِ صَوْرَةً قَالَ بَشِيرٌ كَيْفَ زَيْدُ بْنُ

عابد وسلم نے فرمایا مگر آپ گھر میں نہیں آتے جس میں تصویر ہو سرسے کہ زید بن خالد بیان ہوئے تو

خَالِدِ بْنِ نَعْدَانَةَ فَإِذَا أَخْبَرْنَا فِي بَيْتِهِ بِسَائِرِ ذُنُوبِهِ تَصَاوِيرُهُ فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ الْأَخْوَلِيِّ الْمَسْجِدُ شَأْنًا

ان کی عبادت کے لئے گئے ہوتے ان کے گھر میں ایک بڑا دکھا جس میں تصویریں تھیں میں نے عبد اللہ بن خالد سے کہا کہ انوش نہیں ہے تو

فِي التَّصَاوِيرِ فَقَالَ إِنَّهُ قَالَ إِنْ لَمْ تَمُوتْ فِي تَوْبٍ إِلَّا سَمِعْتَهُ قُلْتُ لَا قَالَ بَلَى قَدْ ذُكِرَ

کے بارہ میں حدیث نہیں سنا ہی عبد اللہ نے کہا کہ انوش یہ بھی کہ تھا کہ سوائے نقش کے جو کہ ہے میں کہنے ان سے نہیں سنا میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ

(۱۴۶۰) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَانِيهِ

ابن عمر سے روایت ہے کہ جابر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا

وَصَوْرَةً وَلَا كَلْبًا (م- ۵۰۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متر- ۳۸۸) (۱۵۰۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

دیکھو حدیث ۳۸۸ م۔

(متر- ۳۱۰) (۱۴۶۱) عَنْ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيَّ الْبُيُوتَ

دیکھو حدیث ۳۱۰ م۔ میں نے روایت سے کہا یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر پڑھتے تھے

وَنَادُوا يَا مَالِكُ تَأْتِي قِرَاءَةَ عَبْدِ اللَّهِ نَادُوا يَا مَالِكُ (۱۴۶۲) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ

دنا دوا یا مالک رداوی کہ ہے عبد اللہ کی قرات پیر ہے دنا دوا یا مالک حضرت عائشہ رضی

زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهَا قَالَتْ لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ أَتَى عَلَيْكَ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا آپ پر کوئی دن ایسا بھی

يَوْمٌ مَكَانٌ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أَحَدِنَا لِنَقْدِ لِقَيْتٍ مِنْ تَوْبِكَ فَالْقَيْتُ وَكَانَ أَشَدَّ مَا لِقَيْتُ

گذرا ہے جو احد کے دن سے زیادہ سخت ہو مگر فرمایا تیری قوم کی حالت میں ہے جو کہ لقیقت اٹھائی سوائے ان کی مگر جو تکلیف عقیدہ کے دن میں

بقیہ صفحہ ۵۹
ان یثربہ بہ
شرک کی حالت
میں نہ ہو اس کا
سیت قلب اس
وقت شرک کی
تصویر سے خالی
ہوگا اس سے
اس کے در سے
گنہ بخش دیتے
جاتے ہیں
سختی ہوا
یہ بیان حضرت
اس سے انہما
میں لا تدخل
الملك بیتی
فیہ کلب و صوره
تھا بیل دیکھو
پھیند لوٹ۔ کتب
سے ملاویساں
جس سے جیسا
کہ امام راغب نے
لکھا ہے اس کا
حوالہ ہے اس کے
نوٹ میں دیا گیا
ہے

یہ حدیث عبادت سے کہنے پر متقوش تھا دیکھو کہ جو کجاڑ ٹھیراتی ہے۔ بلکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی تصاویر مسلمانوں کے گھروں میں ابتدائی زمانہ میں بھی بنی جاتی تھیں۔ اسی پر تمام ان تصاویر کا قیاس کیا جاسکتا ہے جو کاغذ لکڑی ہو۔ وغیرہ پر متقوش ہوں۔ مفصل بحث باب التماویر میں آئے گی۔
۱۴۶۲ ابھی گذر چکا کہ جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سوال کے جواب میں کہ آپ زیادہ کیوں نہیں آتے یہ کہ تھا ما تنزل الا بامر ربک اور حقیقت یہی ہے کہ فرشتے دماغ میں جو کجاڑ پر تابع فرمان خداوندی ہیں۔ ان میں یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے اختیار سے کوئی کام کریں۔ پس حضرت جبریل کا وعدہ کرنا کہ میں فلا وقت پر آؤں گا۔ اس اصول کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت سیدنا کے سیکل میں تصاویر موجود تھیں تو وہاں جبریل کس طرح جاتے تھے۔ اور کتوں کے متعلق قرآن کریم تو عبادت سے شکاری کتوں سے کام لینا جائز ٹھیراتا ہے۔ بلکہ ان کو تعظیم دینے کا بھی ذکر فرماتا ہے۔ تعلمونہن صما علمکم اللہ ان کے بارے ہوئے شکار کو جائز ٹھیراتا ہے۔ احادیث میں بھی کھیتی اور چارپائیوں کی حفاظت کے لئے کتوں کے رکھنے کی اجازت ہے۔ اس لئے یہ حدیث بغیر کسی تاویل کے قبول نہیں کی جاسکتی۔ ملاحظہ فرمائیے کہ الفاظ میں، ملاحظہ کرو روایت میں شرح کا کلمہ ان احد کفری صلوة ما دامت الصلوۃ تجسہ زاید ہے باقی معنوں صرف لفظی تفسیر کے ساتھ وہی ہے، ملاحظہ مالک داروغہ و نوح کا نام ہے۔ مالک اسکی تفسیر یعنی مادی کا آخری حرف گرا دیا گیا ہے۔ ایک احد کے دن آپ کو زخم آئے اور سربارک پھوٹ گیا اور دانت شدید ہوئے۔

(۱۴۶۵) عَنْ عَائِشَةَ زَيْنَةَ قَالَتْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا ذَا أَمِي رُبَّمَا فَقَدْ اعْظَمَ وَلَكِنْ قَدَّرَ أَلِي

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو کچھ فرمایا اس نے بہت بڑی بات کہی البتہ کہ جبریل فی صورتہ وخلقہ سے ادا قبا بنی الاقیق (۱۴۶۵) عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قُلْتُ

جبریل کی صورت پر دیکھا اور انہی بناوٹ نے افق تک جو کچھ تھا اسے ڈھانکا یا تھا مسروق سے روایت ہے کہ میں نے حضرت لعائشہ زینا بنی تو لہ تم دنا فتدلی فکان قاب قوسین اودانی قالت ذالک جبریل

عائشہ سے کہا کہ پھر اللہ نے توں کا کیا مطلب ہے تمہد نا فتدلی فکان قاب قوسین اودانی انہوں نے فرمایا اس سے جبریل میں وہ حضرت کان یأتیہ فی صورۃ الرجل انہ انی ہذہ المیزۃ فی صورۃ الی ہی صورۃ نفس الاق

کے پاس انسان کی صورت میں آ کر گئے تھے وروہ اس جبریل ہی اس صورت میں کے جو ان کی صورت ہے انہوں نے افق تک ڈھانکا یا (۱۵۱۱) عَنْ سَمُرَةَ (مکرر۔ ۱۳۳۳) عَنْ ابی ہریرۃ ز قال قال رسول

دیکھو حدیث ۱۳۳۳ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا الرجل امراتہ الی فراشہ فابت نیا غضبان

نے فرمایا جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بچھرنے پر بلائے اور وہ انکار کرے اور وہ غصے سے بھاریات علیہا لعنتہا الملائکۃ حتی تصبی (م۔ ۱۵۱۲) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (مکرر۔ ۳۰)

گنہگاروں سے تو سب تک مانگا اس پر لعنت آئے ہیں مسلمان دیکھو حدیث ۳۰ سے روایت ہے کہ ابن عباس عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رايت ليلة أُسري بي موسى

ابن عباس نے روایت کرتے ہیں کہ اپنے چچا کو جس راستے سے وہ جبرائیل نے نبی کو رجلا ادم طوال الجود اکانہ من رجال شذوۃ ورايت عیسی رجلا مریویا امر بدتہ اغلذہ

دیکھا کہ آدم کو گنہگاروں کی طرح ٹھکانے کے بالوں سے آویزا کرنا کہ وہ (مقبول) شذوۃ کے اور عیسیٰ سے میں اور عیسیٰ کو دیکھا کہ اس نے قدیر اہل انی حمرۃ والیاض سبط الزا اس رايت ملکاً زین اللہ الجال فی آیات اراہنی

آویزا کرنا کہ وہ (مقبول) سبط الزا اس رايت ملکاً زین اللہ الجال فی آیات اراہنی اللہ ایتاہ فلا یکن فی مریۃ من لقاہ قال اس ذابو بکرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم

نے مجھے دکھائیں ہیں تو اس کے تقاضا میں نہ کر اس اور ابوبکرہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں ثور من الملائکۃ المریۃ من الجال (۸) باب ما جاء فی صفۃ الجنۃ والما مخلوق قال

کہلا کہ وہ جن کی وجہ سے جنات کرتے ہیں ملک باب جنات کی تعریف میں آیا ہے اور یہ کہ وہ پیدا کی ہوئی چیز ہے جنات ابو البالیۃ مطہرۃ من الحيض والبول البراق کما رزقوا اوتوا شئاً ثم اوتوا بالخر

کتنے ہیں مطہرۃ ز البقرہ ۱۷۵ پاک میں ہیں اور پشاب اور ہونک سے کما رزقوا البقرہ ۱۷۵ جب ان کو کوئی چیز دی جائے پھر وہ چیز دی قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل انینا من قبل اوتوا بہ متشابهاً یثیبہ بخصۃ بعدھا

جائے تھے ہیں ھذا الذی رزقنا من قبل یہ وہ چیز جو ہم کو پہلے دی تھی اور وہ متشابهاً یعنی بعض بعض سے متشابه ہے

یہ حدیث میں ہے کہ حضرت ایک کاتب نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو کچھ فرمایا اس نے بہت بڑی بات کہی البتہ کہ جبریل فی صورتہ وخلقہ سے ادا قبا بنی الاقیق (۱۴۶۵) عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قُلْتُ جبریل کی صورت پر دیکھا اور انہی بناوٹ نے افق تک جو کچھ تھا اسے ڈھانکا یا تھا مسروق سے روایت ہے کہ میں نے حضرت لعائشہ زینا بنی تو لہ تم دنا فتدلی فکان قاب قوسین اودانی قالت ذالک جبریل عائشہ سے کہا کہ پھر اللہ نے توں کا کیا مطلب ہے تمہد نا فتدلی فکان قاب قوسین اودانی انہوں نے فرمایا اس سے جبریل میں وہ حضرت کان یأتیہ فی صورۃ الرجل انہ انی ہذہ المیزۃ فی صورۃ الی ہی صورۃ نفس الاق کے پاس انسان کی صورت میں آ کر گئے تھے وروہ اس جبریل ہی اس صورت میں کے جو ان کی صورت ہے انہوں نے افق تک ڈھانکا یا (۱۵۱۱) عَنْ سَمُرَةَ (مکرر۔ ۱۳۳۳) عَنْ ابی ہریرۃ ز قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا الرجل امراتہ الی فراشہ فابت نیا غضبان نے فرمایا جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بچھرنے پر بلائے اور وہ انکار کرے اور وہ غصے سے بھاریات علیہا لعنتہا الملائکۃ حتی تصبی (م۔ ۱۵۱۲) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (مکرر۔ ۳۰) دیکھو حدیث ۳۰ سے روایت ہے کہ ابن عباس عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رايت ليلة أُسري بي موسى ابن عباس نے روایت کرتے ہیں کہ اپنے چچا کو جس راستے سے وہ جبرائیل نے نبی کو رجلا ادم طوال الجود اکانہ من رجال شذوۃ ورايت عیسی رجلا مریویا امر بدتہ اغلذہ دیکھا کہ آدم کو گنہگاروں کی طرح ٹھکانے کے بالوں سے آویزا کرنا کہ وہ (مقبول) شذوۃ کے اور عیسیٰ سے میں اور عیسیٰ کو دیکھا کہ اس نے قدیر اہل انی حمرۃ والیاض سبط الزا اس رايت ملکاً زین اللہ الجال فی آیات اراہنی آویزا کرنا کہ وہ (مقبول) سبط الزا اس رايت ملکاً زین اللہ الجال فی آیات اراہنی اللہ ایتاہ فلا یکن فی مریۃ من لقاہ قال اس ذابو بکرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دکھائیں ہیں تو اس کے تقاضا میں نہ کر اس اور ابوبکرہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں ثور من الملائکۃ المریۃ من الجال (۸) باب ما جاء فی صفۃ الجنۃ والما مخلوق قال کہلا کہ وہ جن کی وجہ سے جنات کرتے ہیں ملک باب جنات کی تعریف میں آیا ہے اور یہ کہ وہ پیدا کی ہوئی چیز ہے جنات ابو البالیۃ مطہرۃ من الحيض والبول البراق کما رزقوا اوتوا شئاً ثم اوتوا بالخر کتنے ہیں مطہرۃ ز البقرہ ۱۷۵ پاک میں ہیں اور پشاب اور ہونک سے کما رزقوا البقرہ ۱۷۵ جب ان کو کوئی چیز دی جائے پھر وہ چیز دی قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل انینا من قبل اوتوا بہ متشابهاً یثیبہ بخصۃ بعدھا جائے تھے ہیں ھذا الذی رزقنا من قبل یہ وہ چیز جو ہم کو پہلے دی تھی اور وہ متشابهاً یعنی بعض بعض سے متشابه ہے

یہ حدیث میں ہے کہ حضرت ایک کاتب نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو کچھ فرمایا اس نے بہت بڑی بات کہی البتہ کہ جبریل فی صورتہ وخلقہ سے ادا قبا بنی الاقیق (۱۴۶۵) عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قُلْتُ جبریل کی صورت پر دیکھا اور انہی بناوٹ نے افق تک جو کچھ تھا اسے ڈھانکا یا تھا مسروق سے روایت ہے کہ میں نے حضرت لعائشہ زینا بنی تو لہ تم دنا فتدلی فکان قاب قوسین اودانی قالت ذالک جبریل عائشہ سے کہا کہ پھر اللہ نے توں کا کیا مطلب ہے تمہد نا فتدلی فکان قاب قوسین اودانی انہوں نے فرمایا اس سے جبریل میں وہ حضرت کان یأتیہ فی صورۃ الرجل انہ انی ہذہ المیزۃ فی صورۃ الی ہی صورۃ نفس الاق کے پاس انسان کی صورت میں آ کر گئے تھے وروہ اس جبریل ہی اس صورت میں کے جو ان کی صورت ہے انہوں نے افق تک ڈھانکا یا (۱۵۱۱) عَنْ سَمُرَةَ (مکرر۔ ۱۳۳۳) عَنْ ابی ہریرۃ ز قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا الرجل امراتہ الی فراشہ فابت نیا غضبان نے فرمایا جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بچھرنے پر بلائے اور وہ انکار کرے اور وہ غصے سے بھاریات علیہا لعنتہا الملائکۃ حتی تصبی (م۔ ۱۵۱۲) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (مکرر۔ ۳۰) دیکھو حدیث ۳۰ سے روایت ہے کہ ابن عباس عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رايت ليلة أُسري بي موسى ابن عباس نے روایت کرتے ہیں کہ اپنے چچا کو جس راستے سے وہ جبرائیل نے نبی کو رجلا ادم طوال الجود اکانہ من رجال شذوۃ ورايت عیسی رجلا مریویا امر بدتہ اغلذہ دیکھا کہ آدم کو گنہگاروں کی طرح ٹھکانے کے بالوں سے آویزا کرنا کہ وہ (مقبول) شذوۃ کے اور عیسیٰ سے میں اور عیسیٰ کو دیکھا کہ اس نے قدیر اہل انی حمرۃ والیاض سبط الزا اس رايت ملکاً زین اللہ الجال فی آیات اراہنی آویزا کرنا کہ وہ (مقبول) سبط الزا اس رايت ملکاً زین اللہ الجال فی آیات اراہنی اللہ ایتاہ فلا یکن فی مریۃ من لقاہ قال اس ذابو بکرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دکھائیں ہیں تو اس کے تقاضا میں نہ کر اس اور ابوبکرہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں ثور من الملائکۃ المریۃ من الجال (۸) باب ما جاء فی صفۃ الجنۃ والما مخلوق قال کہلا کہ وہ جن کی وجہ سے جنات کرتے ہیں ملک باب جنات کی تعریف میں آیا ہے اور یہ کہ وہ پیدا کی ہوئی چیز ہے جنات ابو البالیۃ مطہرۃ من الحيض والبول البراق کما رزقوا اوتوا شئاً ثم اوتوا بالخر کتنے ہیں مطہرۃ ز البقرہ ۱۷۵ پاک میں ہیں اور پشاب اور ہونک سے کما رزقوا البقرہ ۱۷۵ جب ان کو کوئی چیز دی جائے پھر وہ چیز دی قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل انینا من قبل اوتوا بہ متشابهاً یثیبہ بخصۃ بعدھا جائے تھے ہیں ھذا الذی رزقنا من قبل یہ وہ چیز جو ہم کو پہلے دی تھی اور وہ متشابهاً یعنی بعض بعض سے متشابه ہے

یہ حدیث میں ہے کہ حضرت ایک کاتب نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو کچھ فرمایا اس نے بہت بڑی بات کہی البتہ کہ جبریل فی صورتہ وخلقہ سے ادا قبا بنی الاقیق (۱۴۶۵) عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قُلْتُ جبریل کی صورت پر دیکھا اور انہی بناوٹ نے افق تک جو کچھ تھا اسے ڈھانکا یا تھا مسروق سے روایت ہے کہ میں نے حضرت لعائشہ زینا بنی تو لہ تم دنا فتدلی فکان قاب قوسین اودانی قالت ذالک جبریل عائشہ سے کہا کہ پھر اللہ نے توں کا کیا مطلب ہے تمہد نا فتدلی فکان قاب قوسین اودانی انہوں نے فرمایا اس سے جبریل میں وہ حضرت کان یأتیہ فی صورۃ الرجل انہ انی ہذہ المیزۃ فی صورۃ الی ہی صورۃ نفس الاق کے پاس انسان کی صورت میں آ کر گئے تھے وروہ اس جبریل ہی اس صورت میں کے جو ان کی صورت ہے انہوں نے افق تک ڈھانکا یا (۱۵۱۱) عَنْ سَمُرَةَ (مکرر۔ ۱۳۳۳) عَنْ ابی ہریرۃ ز قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا الرجل امراتہ الی فراشہ فابت نیا غضبان نے فرمایا جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بچھرنے پر بلائے اور وہ انکار کرے اور وہ غصے سے بھاریات علیہا لعنتہا الملائکۃ حتی تصبی (م۔ ۱۵۱۲) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (مکرر۔ ۳۰) دیکھو حدیث ۳۰ سے روایت ہے کہ ابن عباس عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رايت ليلة أُسري بي موسى ابن عباس نے روایت کرتے ہیں کہ اپنے چچا کو جس راستے سے وہ جبرائیل نے نبی کو رجلا ادم طوال الجود اکانہ من رجال شذوۃ ورايت عیسی رجلا مریویا امر بدتہ اغلذہ دیکھا کہ آدم کو گنہگاروں کی طرح ٹھکانے کے بالوں سے آویزا کرنا کہ وہ (مقبول) شذوۃ کے اور عیسیٰ سے میں اور عیسیٰ کو دیکھا کہ اس نے قدیر اہل انی حمرۃ والیاض سبط الزا اس رايت ملکاً زین اللہ الجال فی آیات اراہنی آویزا کرنا کہ وہ (مقبول) سبط الزا اس رايت ملکاً زین اللہ الجال فی آیات اراہنی اللہ ایتاہ فلا یکن فی مریۃ من لقاہ قال اس ذابو بکرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دکھائیں ہیں تو اس کے تقاضا میں نہ کر اس اور ابوبکرہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں ثور من الملائکۃ المریۃ من الجال (۸) باب ما جاء فی صفۃ الجنۃ والما مخلوق قال کہلا کہ وہ جن کی وجہ سے جنات کرتے ہیں ملک باب جنات کی تعریف میں آیا ہے اور یہ کہ وہ پیدا کی ہوئی چیز ہے جنات ابو البالیۃ مطہرۃ من الحيض والبول البراق کما رزقوا اوتوا شئاً ثم اوتوا بالخر کتنے ہیں مطہرۃ ز البقرہ ۱۷۵ پاک میں ہیں اور پشاب اور ہونک سے کما رزقوا البقرہ ۱۷۵ جب ان کو کوئی چیز دی جائے پھر وہ چیز دی قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل انینا من قبل اوتوا بہ متشابهاً یثیبہ بخصۃ بعدھا جائے تھے ہیں ھذا الذی رزقنا من قبل یہ وہ چیز جو ہم کو پہلے دی تھی اور وہ متشابهاً یعنی بعض بعض سے متشابه ہے

ذو رنگ ایک خاص رنگ میں نافرمانی کرتی ہے۔ شاید اس میں ایسے عورتوں کا ذکر ہو جو خداوند سے سرکش کے رنگ میں غلبہ کی انتہیا کرتی ہیں۔ یا فادان کو جیسا کہ وہ دوسرے دن سے ناجائز تعلقات پیدا کرتی ہیں۔ ورنہ یوں میں ہوی میں نافرمانی ہو جانا ایک عمومی امر ہے۔ اور اس پر ایسی مزا نہیں ہو سکتی کہ وہ خضعف تفسیر لفظی سے روایت دومرئی ہے۔ اور شرح میں شام قدر خنی ایسی فترۃ کا فقرہ بڑھا یا ہے۔ جبریل کو آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرن پر طے ہونے دیکھنے کا ذکر ہے۔ ملک ان امور پر تم کا ذکر اس حدیث میں ہے اپنے اپنے موقع پر بحث آئے گی۔ یہاں حدیث کو صرف اس وجہ سے لایا گیا ہے کہ اس کے آخر میں ذکر ہے کہ فرشتے مجال سے مدینہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت بھی اپنے موقع پر ہوگی۔

وَيَخْتَلِفُ فِي الطَّوْعِ وَقَطْوَفِهَا يُقَطِّفُونَ كَيْفَ شَاءَ وَأَدْنَىٰ قُرْبِيَةِ الْأَرَائِكِ الشَّرِّ وَقَالَ الْكَلْبُ

اور بڑے میں جب ہر ایک طرفہاڑی تہ ۲۳۰ اس میں کچھ کوچھین کے تیراج چاہیں وہ آدھے قریب اراک تک تخت میں اور جس کے میں

النَّصْرَةَ فِي لُجُوجِهِ وَالشَّرُّ فِي لُجُوجِهِ قَالَ لِيُجَاهِدَ سُلَيْمٌ أَحَدَ يَدَيِ الْبَحْرِيَةِ عَوْلٌ وَجَع

نصرت (تازگی ہے) جو چہڑوں میں ہوا ہر مرد کی خوشی ہے اور جاکہ تک میں سلسیل ہر نصرت میں تیرے سے اراکوں (راہتی) ہے پتے کوڑا

الْبَطْنِ يَأْتُونَ لَأَنْ تَهَبُ عَقَهُ لَهُمْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذَا أَمْتِلُكَ كَوَاعِبِ لَأَهْدِ الرَّحِيمِ

بازوں (صحتی) ۲۴۰ یعنی ان کی مقل جانے کی نہیں اور ابن عباس کہتے ہیں وہا قرا لہا ۲۴۰ ہوں تو اراکوں فرما ان لہو حق (التغنی)

الْحُمْرُ السَّيِّمُ يَعْلُو شَرَابَ أَهْلِ الْجَنَّةِ خَتَمُهُ طِينَةٌ مَسْكٌ نَصَاخَتَانِ قِيَا ضَتَانِ يُقَالُ

شراب ہے سیم (التغنی - ۲۴۰) جنت والوں کی شراب ہے اور ہوا کا ختم صر (التغنی - ۲۴۰) ہر کی می کتاب ہے نصاختان (ارضی - ۲۴۰) نو سے

مِصُونَةٌ مَسْجُودَةٌ مَبْنِيَّةٌ وَضَيْبٌ النَّاقَةُ وَالْكُوبُ مَا لَأَذُنَ لَهُ وَلَا عَرْدَةٌ وَالْأَبَارُ قُدُورٌ

بنے دلسو نو تہ الو تو ۱۵۰ نے جسے اس سے ہر وضین (جہوں) ان تو کوب کوڑہ جیکا کان اور کڑہ نہ ہوا اور اراکوں کوڑہے جہاں اور

الْأَذَانُ الْعَرَبُ مُتَقَلِّدَةٌ وَأَحَدٌ هَاعِرٌ مَبْنِيٌّ مِثْلُ صَبُورٍ وَصَبْرٌ سَيْمٌ بِأَهْلِ مَلَّةِ الْعَرَبِ

کڑہ رکھتے ہیں عربی ایک اور اصغر اب ہے جیسے صبور اور صبر کرنا اور اسے عربی سے ہیں

وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ الْغَنِيَّةُ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ الشُّكْلَةُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ رَدَّ رَحْمَتَهُ وَرَحْمَةُ الرَّحِيمَانِ

اور مدینہ واسے غنی اور عراق واسے شکلہ رذہ تہ جو نا بہتے جنت رکھتی ہے اور جاکہ بہتے ہیں رذہ (الوائتہ - ۲۴۰) جنت اور راجی ہے

الرِّزْقِ وَالْمَنْضُودُ الْمَوْزُ وَالْمُخَضَّرُ الْمَوْزُ حَمْلًا وَيُقَالُ أَيْضًا شَوْكٌ لَهُ وَالْعَرَبُ

اور ریحان رزق بنا و منضو اور موزو ۲۴۰ تہ یکلا اور منضو ہیں کہ ہر سے جھا ہوا اور ریحی کہتے ہیں کہ جس کا شہ نہ ہوا اور حُرْبٌ

الْمُحَبَّبَاتِ إِلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ وَيُقَالُ مَسْكُوبٌ جَارٌ وَقُرْسٌ مَرْفُوعَةٌ بَعْضُهَا أَتُونُ لِبَضْعِ لَعْوَا

وہ ہوا جو اپنے خاندنوں کو محبوب ہوں اور کہتے ہیں کہ مسکوب رنا تو تو ۳۱ ہتا بانی ہے وقرس مرفوعہ (یعنی) بعض بعض کے اوپر لغوا

بِأَطْلَاقٍ تِيْمًا كَذَبًا أَفْئَانُ أَعْصَانُ وَجَنَابُ الْجَنَّتَيْنِ دَانٌ قَائِحَتَيْ تَرِيْبٍ قَدْ هَاتَمَتَانِ

باطل ہے (الوائتہ - ۲۴۰) ورتہ ہوا جھوٹا افئان (الرضی - ۲۴۰) میں ریحان جنبتین دان یعنی جوچہ جانیگا (یعنی) ہوا جھوٹا، وہ قریب ہر جگا

سَوْدٌ أَوَانٌ مِنَ الرَّبِّيِّ زَهْرٌ - ۱۵۱۳ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (مُتَكَرِّرٌ ۷۳) (۱۲۶۸)

مدھا متان سے لڑکی کو جسے کہتے ہیں دیکھو حدیث ۳۰ ۷

عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَظَلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ

کر اپنے فرمایا میں نے جنت میں جھا تک کہ دیکھا تو جنت

الْأَثْرَ أَهْلَهَا الْفَقْرَاءُ وَأَظَلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْمَسَاءُ

والوں میں کثرت فقرا کی دیکھی اور دوزخ میں جھا تک کہ دیکھا تو دوزخ والوں میں کثرت عورتوں کی دیکھی

ملا اذا مات احدكم
تا نہ بعض علیہ
مقدمہ بالعداۃ
والعشیرۃ فان کان
من اهل الجنة نزل
اهل الجنة وان
کان من اهل النار
نزل من اهل النار
یعنی کے قوی لانا
نیقال هذا مقعد
حتی یبشک الله
یوم القیامۃ پھر
دیے ہیں بالعداۃ
والعشیرۃ یعنی صبح
اور شام سے پہلے
وقت ہو اسکی جنت
یا ناری جگہ کی
سانے لانی جاتی ہے
گویا قبر میں بھی ان
کی جنت یا ناریں
ہوتی ہے گواں
جنت یا نار کا حال
نصرتی امت کے
دن ہو حدیث کے باقی
لغزات کان من
اهل الجنة فمن
اهل الجنة یعنی
اگر وہ اہل جنت میں
سے ہے تو قبر میں
بھی اہل جنت میں

سے ہے۔ یہی حدیث اشارہ کرتے ہیں گویا موت کے ساتھ ہی اس دوسری زندگی کی ابتدا ہو جاتی ہے مگر اس کا کل نشوونما قیامت پر ہے جہاں امر اس پلے
کی محبت فقرا کی نسبت عموماً زیادہ ہوتی ہے اور عورتوں میں بہ نسبت مردوں کے عموماً علم کی کمی ہے۔ مگر میان فقرا کے مقابل اہلیانہ کا ذکر نہیں کیا کہ کثرت میں
فقرا زیادہ ہیں تو دوزخ میں بھی زیادہ ہیں اور نہ عورتوں کے مقابل مردوں کا ذکر کیا ہے کہ دوزخ میں عورتیں زیادہ ہیں تو کثرت میں مرد زیادہ ہیں مگر اس کشفی نظارہ
سے دوباتوں کی طرف توجہ لانی ہے کہ اگر کثرت میں جانا چاہتے ہو تو دولت کی محبت کم کرو اور اگر دوزخ سے بچنا چاہتے ہو تو علم زیادہ حاصل کرو یعنی میں ہے کہ حکیم ترمذی
دیگر نے کہا ہے کہ عورتوں کی کثرت دوزخ میں پس شفاعت تھی یعنی نبی کریم صلعم کی شفاعت سے ہے۔ اور یہ بات بہت پر حکمت ہے۔ نبی کریم صلعم کے آنے سے پیشتر زیادہ
کافشاہ تھا۔ آپ کے آنے کے بعد اس میں ایک غفیم اثر ان انقلاب رونما ہوتا ہے۔ اہلیانہ مال کو فدا کرنے سے خرچ کر لینی طرف زیادہ قدم اٹھانے لگتے ہیں اور عورتوں
میں سے جہالت نکل کر ان کا قدم علمی ترقیوں کی طرف اٹھتا ہے۔ گوافسوس سے اس بات کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ اس زمانہ میں مسلمانوں نے پورے اپنے آپ کو نبی صلعم کی اس
شفاعت سے محروم کر دیا ہے۔ مال کو فدا کی راہ میں خرچ کرنے میں سب سے پیچھے مسلمان اہلیانہ کا قدم ہے۔ اور جہاں عام طور پر ان میں جہالت کا دور
دورہ ہے۔ عورتوں میں بالخصوص جہالت خطرناک ہے۔

(۱۴۶۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ بَيْنَا
 ابوبہرہ سے روایت ہے کہ اس وقت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ نے فرمایا
 أَنَا نَاكِبٌ لَمْ يَنْسِبْ لِي فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا الْمَرْءُ تَوَضَّأَ إِلَى جَانِبِ قَصْرِ فَقُلْتُ لِمَنْ ذَا الْقَصْرِ
 میں سو رہا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو جنس میں دیکھا اور ایک عورت کو دیکھا، ایک من کے پاس وضو کر رہی ہے میں نے پوچھا کہ یہ من کس کا ہے تو ان
 فَقَالَ الْعُمَرِيُّ الْحَطَّابُ فَنَذَرْتُ غَيْرَهُ تَوَلَّيْتُ وَاذْهَبْتُ فَفَعَلَ عُمَرُو قَالَ عَلَيْكَ إِعْرَابُ رَسُولِ
 نے کہا کہ یہ عمر بن خطاب کا ہے مجھے عمر کی غیرت یاد آئی اور میں بیٹھ کر وہاں آیا عمر نے من کے اور من کی بار رسول اللہ کیا یہ آپ پر غیرت کرنے
 اللَّهُ (۱۴۷۰) عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحُجْمَةِ ذُرَّةَ حُجُوفَةَ طَرَفِهَا
 ابوریثی اشعری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر ایک شخص ایک ذرہ لدار موتی جو اس کی ہڈی پر
 فِي السَّمَاءِ تَلْتُونَ مِثْلًا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا لِلْمُؤْمِنِ أَهْلٌ لَا يَرَاهُمْ إِلَّا خُرُونٌ (روني)
 کی طرف تیرے ہیں ہے اس کے ہر ایک کونے میں مومن کیلئے اب رہے دوسرے نہیں دیکھ سکتے اور ایک
 رَوَايَةٌ سِتُونَ مِثْلًا (۱۴۷۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 روایت میں ہے کہ ساتھ میں ہے من
 ابوبہرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 قَالَ اللَّهُ أَعْدَتْ لِبِعَادِي لَصَارِحِينَ مَا لَأَعِين رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم اپنے نیک بندوں کیلئے جو دیکھ سکتے دیکھا ہے اور نہ کان نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کے دل
 قَلْبٌ يَنْشُرُ نَافِثَ فِرْعَوْنَ أَنْ شِئْتُمْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفَى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ (۱۴۷۲)
 میں اس کا خیال آیا ہے اگرچہ تو بڑھ لو جس کوئی شخص نہیں جانتا جو انھوں کی راحت سے ان کیلئے چھپی رکھا گیا ہے (ابن ماجہ، ۱۱۳۲)
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ زَمْرَةٍ تَلْمِزُ الْجَنَّةَ صَوْمُهَا
 ابوبہرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پہلا گروہ جہنم میں جائیگا ان کی صورت جو عورتوں
 عَلَى صَوْرَةِ الْقَمَرِ لِئَلَّا يَبْصُرُونَ فِيهَا وَلَا يَمْخُطُونَ وَلَا يَتَعَوَّطُونَ أَيْتُهُمْ فِيهَا
 رات کے چاند کی طرح ہونگی وہ وہ اس میں توں کیلئے نہ ناگ چھپ سکیں گے اور نہ چاہا پھر ان کے جہنم میں آگے بہن
 الذَّهَبِ أَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ الْغَضَّةُ وَفَحَامُهُمُ الْأَلْوَةُ وَرَشْمُهُمُ الْمَسْكُ وَرُكُلُ
 سونے کے ہونگے ان کی انگلیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی ان کی انگلیوں جو کہیں جو کہیں ان کا سیر نہ ہوگا اور ان کی
 وَأَجَلُهُمْ زَوْجَاتُهُنَّ يَرِي خَمْسُونَ أَمْشَاطًا مِثْلًا وَالْحَمْرُ أَحْسَنُ الْأَحْتِرَانِ بِلَهُمْ وَلَا تُبْغِضُ
 ہر ایک کے دو زوج ہوں گے وہ ان کی حسن کی وجہ سے انکی بیٹیوں کا گواہ گوشت میں سے نکلے گی ان میں سے کوئی جھگڑا ہوگا اور ان میں
 قُلُوبُهُمْ كَقُلُوبِ أَحْلِي سَبْحُونَ اللَّهُ بِبِرَّةٍ وَغَشِيَانًا (۱۴۷۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متاثر) (۱۴۷۴)
 ان کے دل ایک ہی طرح ہوں گے صبح اور شام اللہ کی تسبیح کر کے
 ایک صحیح حدیث ۱۴۷۴

۱۴۶۹
 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنات
 ہمارے کو خوفناک
 بنی کر رہیں گے کہ ہمارے
 ہونگے وہ خواب میں
 یا کشت میں ہی دیکھنے
 ہونگے میں اور یہ سب
 تشادات کے رنگ
 ۱۴۷۰
 اس میں
 اس جیسا کہ انکی حدیث
 میں فضیلت کی ہے
 یہ سب مشائخ میں
 درجہ جنات کی انہما
 کی حقیقت کا تصور
 بھی اس دنیا میں
 دل میں نہیں لایا جا
 سکتا۔ انسانوں کو
 سمجھنے کے لئے
 ان چیزوں کا ذکر
 کیا ہے جن سے
 انسان کے قلب کو
 اس دنیا میں راحت
 پہنچی ہے۔ ایک
 غیبی کی دست میں
 یا ساتھ میں کیا چیز
 ہے۔ قرآن کریم میں
 ہے جنہ عروضا
 السموات والارض
 ۱۴۷۱
 میں ایک قول کے
 مطابق اتنی بڑی

جنات ایک شخص کے لئے ہے۔ انسان کے لئے سب سے بڑھ کر راحت کے سامانوں میں اس کے اہل ہیں اور اہل کے بغیر تمام آسائشیں بچھیں لیکن ان جنات میں
 ان موتیوں ان اہل کی حقیقت اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے وہ منہ نہیں جنت کی حقیقت کے متعلق یہ حدیث اور آیت قرآنی جس کی تفسیر ہے (ابن ماجہ، ۱۱۳۷) فصل کن میں۔
 اس عالم میں ہم ان باتوں کو خیال میں بھی نہیں لاسکتے ہیں ان پرست کرنا بے سوچہ جو حقیقت ہی جو کہ یہ انہما انسانی کی راحت کے سامان میں۔ نام کسی دنیا کی چیزوں
 کے ہیں مگر وہ اس دنیا کی چیزیں نہیں وہ جنت کی انہما کے ساتھ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس دنیا کی انہما کے ساتھ جو کہہ دلتی ہوئی ہے وہ وہاں نہ ہوگی۔ ہمارا یہ وہ
 غذائیں جن سے ہم یہاں حیات یا راحت حاصل کرتے ہیں ان میں نقص بھی موجود ہے کہ کوئی حصہ شکر کی شکل اختیار کرتا ہے کوئی رشتہ کی کوئی پاخانہ ہے۔ اس دنیا میں
 بھی ہم کو دو قسم کی غذائیں ملتی ہیں۔ ایک وہ جو ہماری جسمانی لذت سے تعلق رکھتی ہیں ان کے ساتھ کہ لذت سے بھی ہے اور فضل بھی ایک وہ جو ہماری روحانی لذت سے
 تعلق رکھتی ہیں ان کے ساتھ کہ کوئی لذت ہے نہ خلل ہے۔ ہشت کی غذاؤں کو ہماری جسمانی غذاؤں سے کوئی نسبت نہیں بلکہ روحانی غذاؤں سے نسبت
 ہے۔ اس لحاظ سے انہیں روحانی غذاؤں کی نسبت ہے۔ سونے اور چاندی کے برتن اور انگلیاں بھی اسی لحاظ سے ہیں کہ ان میں کوئی لذت نہیں انہیں انگلیوں کی نسبت ہے۔

بقیہ ص ۵۷
 رنگ کا جتنا بھی لسانی
 ضرورت میں سے
 مگر اس رنگ کے
 زہریش برابر ہیں
 جنت کی بھی طیبین
 میں عود کی خوشبو
 ہے۔ ان کو کبیرا
 پسینہ بھی آتا ہے
 اور اس کی صحت
 کے تمام کیلئے وہ
 غزوری ہے مگر دبا

(۱۲۷۳) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَدْخُلَنَّ مِنْ أُمَّتِي

سہل بن سعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا میری امت میں سے

سبعون ألفاً وسبعون ألفاً لا يدخلون الجنة حتى يدخل آخروهم وجوههم على صورة القمير

ستر ہزار یا سات لاکھ اس طرح (جنت میں جائیں گے ان میں سے پہلے نہیں ہوگا جب تک کہ ان میں سے آخری وہ نہیں نہ ہوگا کہ چہرے پر عروسی

لبيلة البدر - (م- ۱۵۱۵) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متکو- ۱۲۲۵) (م- ۱۵۱۶) عَنْ الْبُرَيْدِ بْنِ عَازِبٍ (متکو- ۱۲۲۵)

راکت چاندنی طرح ہونگے ۷۱ دیکھو حدیث ۱۲۲۵ دیکھو حدیث ۱۲۲۵

(۱۲۲۵) (م- ۱۵۱۶) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (متکو- ۱۲۳۲) (م- ۱۵۱۶) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متکو- ۱۲۱۶)

۳۱۲۲۵ دیکھو حدیث ۱۲۳۲ دیکھو حدیث ۱۲۱۶

(۱۲۷۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجْرَةً يُسَبَّرُ

ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے کہ سوار اس کے سایہ میں

کے پینے میں مشک کی خوشبو ہے۔ زوجتان یا دو زوج کس رنگ کے ہیں اس کا بیان کوئی ذکر نہیں۔ ظاہر ہے بشت میں مرد بھی جائیں گے عورتیں بھی۔ اس سے یہ نساء بھی ان دونوں کے لئے ہیں۔ چھپے ایک حدیث میں (۱۳۱۶) میں کہ دو زوج خدا کی راہ میں شہید کرنے کا ذکر کرتے ہیں جس سے مراد عیسایا وہاں دکھایا گیا ہے مال و جان ہیں۔ انہی دو زوجوں کا معاوضہ جنت میں دو زوجوں کے رنگ میں ہے۔ باہم تصفحات جسمانی رنگ کے جس قدر بیاں ہوتے ہیں ان میں جھگڑا اور بغض پیدا ہوجاتا ہے مگر بشت میں یہ نہیں جس سے معلوم ہوا کہ وہاں کے تعلقات بھی ان روحانی تعلقات سے متاثر ہوتے ہیں جن میں بیاں بھی غل و فحش نہیں ہوتا۔ اور رب سے بڑھ کر یہ کہ بشت میں شتی صبح اور شام خدا کی تسبیح کریں گے۔ میں ابھی اور بتا چکا ہوں کہ صبح اور شام کا ذکر بطور عبادت اور ایک عمل کے دوام کو ظاہر کرتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ الٰہی جنت کا شغل ہر وقت تسبیح الٰہی ہے۔ اور یہی حقیقت وہ روحانی تہذیب جو قسم کی کدورت اور آلاش سے پاک ہے۔ اسلام کی بشت پر بہت اثر کرنے والے غور کریں کہ آیا یہ پاک اور روحانی اور پر شکست نقشہ جنت کا کسی اور مذہب کی کہنے بھی کھینچی ہے یا کسی بزرگ نے یہ حقائق ظاہر کئے ہیں۔ ۷۱ الفاظ روایت میں یوں ہیں۔ قال اول زمره قد دخل الجنة على صورة القمير والذين على اثارهم كاشوك اب اصامة تلوهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا باغض لكل امرئ منهم زوجتان كل واحد منهما يرضى بها من وراءها من الحسن سبحان الله بكرة وعشياً لا يسبقون ولا يتخلفون ولا يصقون الايتهم الذهب الفضة واما طعامهم الذهب وقودهم امرهم الالوة قال ابو اليمان يعني العود ودرختهم المسند وقال مجاهد الا بكار اول الفجر والعشى ميل الشمس ان تراها تعذب۔ اس میں پیسے گروہ کے ساتھ جو چاندنی طرح روشن ہوں گے دوسرے گروہ کا ذکر ہے۔ جو ان کے آثار پر ہوں گے۔ کہ وہ چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہوں گے۔ یہ روشنی حقیقت ایمان کی روشنی ہے۔ جو یوں بیاں سے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ایک کامل روشنی والے ہیں جو وجود عروج کے چاندنی طرح چمکتے ہیں۔ ان کی یہ روشنی اس دنیا میں بھی نظر آتی ہے۔ ایک ان سے کم روشنی والے ہیں جو ان کے نقش قدم پر چمکتے ہیں۔ گویا پہلا گروہ اگر مقرر ہے تو دنیا اور جہاد صبار اور اولیا کا ہے تو دوسرا گروہ ان کے نقش قدم پر چمکتے والا ہے۔ اور یہاں مزید یہ ذکر کرنا ہے کہ بشت میں کوئی بیاں نہ ہوگا۔ بیماریاں حقیقت جسم کے عوارض ہیں سے ہے (صنفی ہذا) ۷۱ ستر ہزار یا سات لاکھ ایک عدد کو کثیر کو ظاہر کرتے کیلئے ہے اور یہاں کہ اوپر کے نوٹ سے ظاہر ہے یہ بدھیرے چہروں والے گروہ مقرر ہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس امت میں کس قدر کثرت کے ساتھ لوگ مقرر ہیں کا درجہ حاصل کرنے والے ہوں گے۔ ان کے ذہل ہونے میں تقدیر متاثر کوئی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کی اپنی جنت ہے جس میں وہ داخل ہونے میں کوئی دوسرا شخص روک نہیں ہو سکتا کہ ایک پیسے جانے تو ایک کو پیسے جانے لفظ ایک ہی ہے۔ اس کی حدیث روایت جو وہاں آخر پر ہے یہاں چھوڑ دی ہے کہ یہ تھکا لکھ دو منے بھی تھا جب لوگوں نے روشنی جو کہنے کے لئے کو ناریت خوب کی نگاہ سے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کے رومال جو انہیں جنت میں لپٹے گئے ہیں اس سے بہتر ہیں۔ اٹا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی لوگوں کو انعامات دیے مگر وہ انعامات جو آخرت میں لپٹے گئے ہیں ان کے ساتھ انکو کوئی نسبت نہیں۔ مثلاً بیاں الفاظ یوں ہیں۔ اذی رسول الله صنع شرب من حمر بنجدوا الجحون من حسنه وليته فقال رسول الله صلعم لما ودل سعد بن معاذ في الجنة افضل من هذا، اے بیاں یہ لفظ ہمیں موضع سوط فی الجنة خیر من دنیا و ما دناھا اگر بشت کی قیمت سونے اور چاندی اور جواہرات وغیرہ کی بنا پر ہو تو ایک کو پونے کی جگہ چھوڑ گئی میںوں تک قیمتیں جو اہرات اور سونا بچھائے جاسکتے ہیں جو اس دنیا میں پیدا ہونے میں ایسے لفظ بھی خیر کا اختیار کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بشت کی خوبی ہونے چاندی جو اہرات کے لحاظ سے نہیں مگر اسکے اندر وہ کیفیات موجود ہیں۔ جو کسان فی نہیں سونے چاندی اور جواہرات سے پیدا ہی نہیں ہوئیں، ۷۱ بیاں صرف ایک حصہ ہے۔ ان فی الجنة الشجرة سیر المراكب فی ظلها ما لا تعلم الا بقطعا وہاں کا ایک ایک درخت ایسا ہے کہ سوار سوار سال تک اس کے نیچے بیٹے تو وہ ختم نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں آتا ہے لا یردن فیها شمساً و جب اس میں سوزن کی تیزی یا دھوپ ہی نہ ہوگی تو سایہ سے کیا مطلب ہے ان المشرقین فی ظلال الابرار (۱۰۱) اکلھا والذہب ظلھا (۱۰۵) مفردات میں جو کھل سے مراد عزت و عظمت اور آسائش کی جاتی ہے پس یہ درخت اور اس کا ظل خلیق کسی اور حقیقت کے انکار کیلئے ہے۔ نہ تو وہ درخت مراد ہیں جو اس عالم میں دیکھے جاتے ہیں نہ ایسا یہ مراد ہو

۷ جیسا بیان ہوتا ہے۔ بلکہ سایہ سے جو عظمت اور آسائش جاتی ہے اس کا ذکر اس رنگ میں ہے۔

الزَّكْبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةٌ سَنَةٌ أَقْرَأُونَ أَنْ شِئْتُمْ وَظِلُّهُ يَبُودُ وَكَفَّابُ تَوْبِهِ أَحَدٌ لَمْ يَنْفِ
ایک برس میں چل سکتا ہے اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو وظل ہمیں دو اور توبہ سے کسی کے ایک گناہ کے برابر ہے جنت

الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعْتَ عَلَيْهِمُ الشَّمْسُ وَتَعْرَبُ (م- ۱۵۱۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرم- ۱۷۷۲)
یہ اس سے بہتر ہے جس پر سورج کا طلوع یا غروب ہوتا ہے

(م- ۱۵۲۰) عَنْ الْأَبْرَاءِ بْنِ مَعْرِئٍ (متکرم- ۱۷۷۳) (۱۷۷۴) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ عَنْ
دیکھو حدیث ۱۷۷۳ ۱۷۷۴ ابوسعید خدری سے روایت ہے

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْعَرْشِ مِنْ فَوْقِهِمْ لَمَّا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والے بلند مقامات والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے چھلکار ستارے کو

يَتَرَاءَوْنَ الْكُوكِبَ الدَّرِّيَّ الْغَائِبَ بِرَفِي الْأَفْرِقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوْ الْمَغْرِبِ لِنِفاضِ مَا
آسمان کے ستارے میں دیکھتے ہیں مشرق میں یا مغرب میں یا کوکبہ بعض بعض پرفیضیت

بَيْنَهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ تَنَزَّلُ الْأَنْبِيَاءُ لَا يَسْبِعُهَا غَيْرُهُمْ قَالَ بَلَى وَالَّذِي
رکھتے ہیں میں ہر نبی کی یا رسول اللہ نے پیغمبروں کے مقام میں جہاں ان کے سوا کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے فرمایا ہاں اور اس بات کی ترجمانی

نَفْسِي بَيْنَهُ رِجَالٌ آمَنُوا بِاللَّهِ وَصَدَّقُوا الْأَمْسَلِينَ (۹) بَابُ صِفَةِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ
ہاتھ میں میری جان جو ہے آدمی میں بھیجے گا جسے اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے فرستادوں کی نصیحتوں کی ملے بَابُ جَنَّتِ كَعْدُونَ کی تعریف

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ انْفَقَ زَوْجَيْنِ دُعَى مِنْ بَابِ الْجَنَّةِ فِيهِ عِبَادَةٌ
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جوڑا خرچ کرے وہ جنت کے دروازہ میں سے پائی جائیگا اس باب میں عبادہ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (م- ۱۵۲۱) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (متکرم- ۱۹۶۱)
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں دیکھو حدیث ۱۹۶۱

(۱۰) بَابُ صِفَةِ النَّارِ وَأَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ غَسَّاقًا يُقَالُ غَسِقَتْ عَيْنُهُ وَغَسِقَ
بَابُ دَرَجَاتِهَا اور یہ کہ وہ پیدا کی گئی ہے غساقا (نار) (۲۵) (پہلے درجہ) کہا جاتا ہے غسقت عینہا یعنی اس کی آنکھ

أَجْمَرَ وَكَانَ الْغَسَّاقُ الْغَسِيقُ وَاحِدٌ غَسِيلِينَ كُلُّ شَيْءٍ غَسِلْتَهُ فُجِرَ مِنْهُ شَيْءٌ
برہم برہم بدیغق اجمر زخم برہم برہم گو یا کہ غساقی اور غسیق کے ایک ہی لفظ ہیں غسیلین راہ الحاقہ (۳۰) جس چیز کو تم دھوؤ اور اس سے کچھ نکلے

فَهُوَ غَسِيلِينَ فَوَلِيْنَ مِنَ الْغَسْلِ مِنَ الْحَجْرِ وَالذِّرِ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَصْبُ جَهَنَّمَ حَطَبٌ
تو وہ غسین ہے اور یہ غسیلین کے وہ ہے غسیلین کے زخم کا پورا اونٹ کے درکار ہے کہ خاصہ جہنم

بِالْحَبَشِيَّةِ وَقَالَ غَيْرُهُ حَاصِبًا الرَّيْحُ الْعَاصِفُ الْحَاصِبُ مَا تَرْمِي بِهِ الرِّيحُ وَهِيَ
راہ انبیاء (۹۸) حطب راہنصن) جو اور حبشی لخت ہے اور اوروں کے کاسا صباری اسرائیل (۹۸) شدت کی ہوا اور صید لکھنا

حَصْبُ جَهَنَّمَ يَرْمِي بِهِ فِي جَهَنَّمَ هُمْ حَصْبُهَا وَيُقَالُ حَصْبٌ فِي الْأَرْضِ هَبٌّ وَحَصْبٌ
ہم حصب جہنم ہے کہ وہ جنہم میں پھینک دینے چاہیں گے گو یا کہ وہ اس میں پھینکی ہوئی لکھنا کیوں اور کہا جاتا ہے حصب فی الارض زمین پر

مَشْتَقٌ مِنْ حَصْبَاءِ الْحِجَارَةِ صَدِيدٌ نَجِيمٌ وَدَمٌ حَبِطٌ طَفَّتْ تَوْرُونَ سَلْحُورٌ جُونٌ أَدْرِيَتْ
اور حصب حصبا الحجارة (تھری لکھنا) سے نکلا ہے صدیدہ (ابرہیم - ۱۶) پہلے درجہ کی حبشہ (بخاری اسرائیل - ۹۶) کچھ جاہلی توروں

أَدْرِيَتْ لِلْمَقْوَدِ لِلْمَسَافِرِينَ وَالْقَفْرِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَوَّاءٌ الْحَجْرُ
اور وہ (۶۱) نکلتے ہیں اور دیتے ہیں اگر لکھنا بقین (الواقف - ۳۱) ہر دوں کچھ اور بیجا اور زمین ہے اور ابن عباس کے کہ اصرار

مقامات کو حاصل نہ کر سکتے ہیں پر انہیں چاہیں گے یہاں اور اللہ کا انبیا کے کلمات کو حاصل کرنا سمجھنا نہیں ہاں وہ نبوت کے مقام پر کھڑے نہیں گئے ہاتھ اسلئے کہ آنحضرت
صلعم کی نبوت کا دراب تاقیامت رہیگا۔ کلمات کو حاصل کرنا کوشش سے ہی نبوت کو بہت سے جوہر ہے مگر روایت صحیحہ فی الجنة ثمانیۃ ابواب ذہابا ہے

مل نقاب قرص احدکھ والا نقوہ ۱۷۵۸ میں گزرجا ہے مل اس کے الفاظ ۱۷۴۲ کے لیے ۱۷۴۳ صدم سے ملے ہیں ۱۷۴۴ ادلی زمرتا مداخل الجنة علی صریقہ القمردیۃ المیدار واللذین علی آثارہی کاشن کوکب دری فی النعما واطناۃ قلوبہم علی قلب رجس وانحاد لا تبغض بینہما لا تحاسد کھامری زدجان من الحار الذین یرمی حجر سوخن من دراب العظرد النعم میان زدجان کو جرمین قرار دیا ہے مل حکم روایت تقریباً انہی الفاظ میں برائی گئی ہے دیکھو نوٹ صلف بشت میں بچوں کی ترقی کا سامان بھی موجود ہے مل اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کے پیرواروں پر ایمان لانے کے بھی انبیاء کے کلمات کو حاصل کر سکتے ہیں در نہ وہ جنت میں ان بلند مقامات کو حاصل کر سکتے ہیں اور ان کا انبیا کے کلمات کو حاصل کرنا سمجھنا نہیں ہاں وہ نبوت کے مقام پر کھڑے نہیں گئے ہاتھ اسلئے کہ آنحضرت صلعم کی نبوت کا دراب تاقیامت رہیگا۔ کلمات کو حاصل کرنا کوشش سے ہی نبوت کو بہت سے جوہر ہے مگر روایت صحیحہ فی الجنة ثمانیۃ ابواب ذہابا ہے

وَوَسَطُ الْجَحِيمِ لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ يَخْلُطُ طَوَامَهُمْ وَيَسَاطِرُ بِالْحَمِيمِ زَفِيرٌ وَتَشْهيقٌ صَوْتٌ

لشوبا من حمیم واقعت سے ۶۹ دوزخ والوں کے کھانے میں گھورتا ہوا پانی ٹاویا جائیگا زفیر اور شہیق (صود - ۱۰۶) زور کی آواز

شَدِيدٌ وَصَوْتُ ضَعِيفٌ وَرَدَّ اعْطَا شَاغِبًا خَسِرَانًا وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَّسْجُرُونُ تَوَقُّدًا

اور کزور آواز ہے درودا (۸۷) پیاسے غنیمارم (۵۹) خسارہ اور مجاہد کہتے ہیں سجورن (المومن - ۷۳) ان

بِالْحَمِّ النَّارُ وَالْحَامِسُ الضُّعْفُ يَصْبُ عَلَى رُؤْسِهِمْ يَقَالُ ذُوؤَابَانُ سُرَّوَابُ وَاجْرُوؤَابُ وَاكْسِرُؤَابُ

سے آگ جلانی جائے گی اور پھاس (الرحمن - ۶۲) پھل پھوٹا، تاکہ ہے جو آگے مڑن پر والا جاہنگ لگا جاتا ہے ذوق (غذا) سے لیا اور آواز اور

مِنْ ذَوْقِ الْفَمِّ مَا رَجَّحَ خَالِصٌ مِنَ النَّارِ مَرَجَ الْأَمِيرِ رِعِيَتَهُ إِذْ خَلَاهُمْ بِعِدِّ بَعْضُهُمْ

سے دنیا میں مراد میں عمار (الرحمن - ۱۵) خالص آگ ہے سنا جاتا ہے مروج الامیر رعیتہ جب بادشاہ رحمت کو چھوڑے کہ بعض بعض پر

عَلَى بَعْضٍ مَّرْرِيحٍ مُلْتَبِسٍ مَرَجَ أَمْرَالُدَّاسِ خْتَلَطَ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ مَرَجَتْ دَابَّتُكَ تَرَكْتُهَا

کرتے رہیں مروج برف - ۵) مشہور مروج امرالاس لوگوں کا کام گوارا ہو گیا مروج البحرین (الرحمن - ۱۹) کہتے ہیں مروجتہ آہٹک تو نے جائز کو چھوڑ دیا

(م-۱۵۲۲) عَنْ أَبِي ذَرٍّ (متكرر-۳۵۹) (م-۱۵۲۳) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (متكرر-۳۵۸)

دیکھو حدیث ۳۵۹ م دیکھو حدیث ۳۵۸ م

(م-۱۵۲۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر-۱۵۵۴) (م-۱۴۶۶) عَنْ أَبِي جَبْرَةَ الصَّبِيِّ قَالَ

دیکھو حدیث ۱۵۱۴ م ابو جبرہ صبی سے روایت ہے کہ میں

كُنْتُ أَجَالِسُ ابْنَ عَبَّاسٍ بِبَيْتِ بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَأَخَذَ تَبْيُخِي فَقَالَ أَبُو دُرْدَاهَا عَنْكَ بِمَاءِ رَهْمٍ

کہ میں ابن عباس کے پاس بیٹھا کرتا تھا تو مجھے بخار آیا، انہوں نے کہا: اسے زور دے کہ پانی سے ٹھنڈا کر

فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَنْ مَنِيخْتُهُ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرُدُوهَا بِالمَاءِ

کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بخاری دوزخ کی بھاپ ہے اسے پانی سے ٹھنڈا کر دیا کر

أَوْ قَالَ بِمَاءٍ زَمْزَمٍ شَكَ هَمًّا (م-۱۵۲۵) عَنِ الْأَعْمَشِ (متكرر-۱۴۶۶)

یا فرمایا زمرہ کے پانی سے ہم کو شگ ہے

(م-۱۵۲۶) عَنْ عَائِشَةَ (متكرر-۱۴۶۶) (م-۱۵۲۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر-۱۴۶۶)

دیکھو حدیث ۱۴۶۶ م دیکھو حدیث ۱۴۶۶ م

مکرر روایت
مختصر ہے۔ کان
النبي صلى الله
عليه وسلم في سفر
فقال ابو دزد
قال ابو دزد حتى
قال النبي يعني
للتبول فقال
ابو دذ با الصلوة
فان شدت الحرق
من فحج جهنم
گرمی کی شدت کو
دوزخ کی بھاپ
کہا ہے۔ اس دنیا
میں جس چیز سے
انسان کو تکلیف
پہنچتی ہے اس کی
مثال دیکر سمجھایا
ہے۔ درد جن کا
نہانے جنت اس
دنیا کی چیزیں نہیں
نار جنہم ہی اس دنیا
کی آگ نہیں ہ
مکرر روایت
کے لفظ ۱۵۲
کے ہیں۔ البتہ یہا
بالظہور کی جگہ باصلوۃ ہے۔ ۱۵۱۴ م کی مکرر روایت ہے مگر ۳۵۸ میں اس روایت یعنی م ۵۲۲ کے الفاظ نہیں۔ درحقیقت م ۱۵۱۴ اور م ۱۵۲۲
کا مجموعہ ہے۔ میاں آگ کی شکایت اور اس کے دوفنوں کا ذکر ہے اور اس کے ایک دم کو صیف یعنی گرمی کا موسم کہتے ہیں اور ایک دم کو شتاء سردی کا موسم اور پھر
کہتے ہیں کہ وہ سخت ترین گرمی اور سخت ترین سردی ہے۔ دیکھو نوٹ ۵۷ صفحہ ۱۲۶۔ جہاں یہ دیکھا جائیگا کہ آگ کی شکایت اور اس کے بعض کا بعض کو
کھا جاتا ہے مجاز ہے۔ اور مراد اس کا علیان اور اس کے جزا کا ازواجہم ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ میاں دوزخ کے ایک دم کو سخت ترین گرمی کہتے ہیں اور سردی
دم کو سخت ترین سردی یا ڈھکر کہتے ہیں۔ تو گو یا سخت ترین سردی میں بھی سخت ترین گرمی کی طرح جہنم ہے۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ جہنم اس قسم کی آگ نہیں جیسے
اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بلکہ اگر اس میں ابتدا درجہ کی گرمی ہے تو ابتدا درجہ کی سردی بھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ اعتراض کہ جہنم چونکہ گرم ملک کے
رہنے والے تھے اس لئے جہنم کو آگ کہتے ہیں۔ بعض جہات ہے۔ آپ نے ہر دو درجہ کی گرمی اور ہر دو درجہ کی سردی دونوں کو جہنم قرار دیا ہے۔ سچو یا اس غرض سے ہے
کہ وہ ایسی حالت ہے جو ان کے لئے راحت نہیں بلکہ تکلیف کا موجب ہے۔ اعتدال پر گرمی اور اعتدال پر سردی دونوں انسان کے لئے راحت کا موجب
ہیں۔ اور اس کے لئے جنت کا حکم رکھتی ہیں۔ اور ابتدا درجہ کی گرمی اور ابتدا درجہ کی سردی دونوں اس کے لئے تکلیف کا موجب ہیں اور جہنم کا حکم رکھتی ہیں
مگے میاں بخار کو جہنم کی بھاپ کہتے ہیں ہلاکہ کہ وہ بھی اس طرح کی آگ نہیں جیسے وہ آگ جہنم کی آگ کسی رنگ کی تکلیف ہے۔ اور
فی الواقع اس دنیا کی آگ نہیں۔ بخار کو پانی سے ٹھنڈا کرنے کا مشورہ آج سے تیر دو سو سال پہلے نبی مسلم نے دیا۔ آج بھی تیز بخار کا علاج سر ٹھنڈا پانی لکھنے سے یا بعض
وقت جسم کو پانی کے ذریعہ سے ٹھنڈا کرنے سے کیا جاتا ہے۔ ۱۵۲۷ میں الفاظ ہیں یعنی من فوجہم فابردوہا عنک بالملء۔ یعنی کی جگہ فوراً لفظ ہے جس کے
سے جوش ہیں۔ ۱۵۲۶ الفاظ قریم ۱۵۲۷ آگ کی ہی ہیں۔ ۱۵۲۷ میں بھی لفظ ۱۵۲۶ آگ کے ہیں۔

۱۵۲۲ م کی مکرر روایت ہے مگر ۳۵۸ میں اس روایت یعنی م ۵۲۲ کے الفاظ نہیں۔ درحقیقت م ۱۵۱۴ اور م ۱۵۲۲
کا مجموعہ ہے۔ میاں آگ کی شکایت اور اس کے دوفنوں کا ذکر ہے اور اس کے ایک دم کو صیف یعنی گرمی کا موسم کہتے ہیں اور ایک دم کو شتاء سردی کا موسم اور پھر
کہتے ہیں کہ وہ سخت ترین گرمی اور سخت ترین سردی ہے۔ دیکھو نوٹ ۵۷ صفحہ ۱۲۶۔ جہاں یہ دیکھا جائیگا کہ آگ کی شکایت اور اس کے بعض کا بعض کو
کھا جاتا ہے مجاز ہے۔ اور مراد اس کا علیان اور اس کے جزا کا ازواجہم ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ میاں دوزخ کے ایک دم کو سخت ترین گرمی کہتے ہیں اور سردی
دم کو سخت ترین سردی یا ڈھکر کہتے ہیں۔ تو گو یا سخت ترین سردی میں بھی سخت ترین گرمی کی طرح جہنم ہے۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ جہنم اس قسم کی آگ نہیں جیسے
اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بلکہ اگر اس میں ابتدا درجہ کی گرمی ہے تو ابتدا درجہ کی سردی بھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ اعتراض کہ جہنم چونکہ گرم ملک کے
رہنے والے تھے اس لئے جہنم کو آگ کہتے ہیں۔ بعض جہات ہے۔ آپ نے ہر دو درجہ کی گرمی اور ہر دو درجہ کی سردی دونوں کو جہنم قرار دیا ہے۔ سچو یا اس غرض سے ہے
کہ وہ ایسی حالت ہے جو ان کے لئے راحت نہیں بلکہ تکلیف کا موجب ہے۔ اعتدال پر گرمی اور اعتدال پر سردی دونوں انسان کے لئے راحت کا موجب
ہیں۔ اور اس کے لئے جنت کا حکم رکھتی ہیں۔ اور ابتدا درجہ کی گرمی اور ابتدا درجہ کی سردی دونوں اس کے لئے تکلیف کا موجب ہیں اور جہنم کا حکم رکھتی ہیں
مگے میاں بخار کو جہنم کی بھاپ کہتے ہیں ہلاکہ کہ وہ بھی اس طرح کی آگ نہیں جیسے وہ آگ جہنم کی آگ کسی رنگ کی تکلیف ہے۔ اور
فی الواقع اس دنیا کی آگ نہیں۔ بخار کو پانی سے ٹھنڈا کرنے کا مشورہ آج سے تیر دو سو سال پہلے نبی مسلم نے دیا۔ آج بھی تیز بخار کا علاج سر ٹھنڈا پانی لکھنے سے یا بعض
وقت جسم کو پانی کے ذریعہ سے ٹھنڈا کرنے سے کیا جاتا ہے۔ ۱۵۲۷ میں الفاظ ہیں یعنی من فوجہم فابردوہا عنک بالملء۔ یعنی کی جگہ فوراً لفظ ہے جس کے
سے جوش ہیں۔ ۱۵۲۶ الفاظ قریم ۱۵۲۷ آگ کی ہی ہیں۔ ۱۵۲۷ میں بھی لفظ ۱۵۲۶ آگ کے ہیں۔

۱۴۷۷ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَارُكُمْ حُرُوفٌ مِنْ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ آگ جہنم کی آگ

سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَتْ لِكُلِّ فِتْنَةٍ قَالَتْ فَضَلَّتْ عَلَيْهِنَّ

کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے کمالیا یا رسول اللہ وہ ایک ہی کافی تھی فرمایا اتر حصہ بڑھا دی

بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا كَالْمُهْنِ مِثْلَ حُرِّهَا (م- ۱۵۲۸) عَنْ يَعْلَى (متكرد- ۱۴۶۱)

تھی ہے۔ ہر ایک حصہ اس کے برابر گرم ہے۔ دیکھو حدیث ۱۴۶۱

۱۴۷۸ عَنْ أَبِي دَاوُدَ قَالَ قِيلَ لَأَسَامَةَ لَوْ أَنِّي تَدْرِي مَا فِي بَيْتِ أَبِيكَ مَا تَدْرِي مَا فِي بَيْتِ أَبِيكَ

ابو داؤد سے روایت ہے کہ اسامہ سے کہا گیا اگر آپ فلاں شخص زمین حضرت عثمان کے پاس جائیں اور ان سے

لَتَرُونَ أَنِّي لَا أَكْفِيكُمْ إِلَّا أَكْفِيكُمْ أَنِّي أَكْفِيكُمْ فِي السَّرْدِ دُونَ أَنْ أَفْتِي بَابًا أَكُونَ

گفتگو کریں تو تمہیں میں کما تھا رہے حال ہے کہ میں نہیں سہا کر ہی ان سے گفتگو کرتا ہوں میں ان سے تمہاری میں گفتگو کرتا ہوں بغیر اس کے کہ (دعا کا)

أَوَّلُ مَنْ نَجَّحَهُ وَلَا أَقُولُ لِرَجُلٍ أَنْ كَانَ عَلِيٌّ أَمِيرًا إِنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ نَبِيِّ سَمِعْتُهُ

دروازہ کھولوں اور میں سب سے پہلے سے کہوں گا وہ ابھراؤں اور میں ایک بات کے بعد جو میں نے سنی ہے اس شخص کی نسبت جو

مَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَوْ مَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَا أَبَا جَدِّ

میرے اور میرے نانا یا پاپا ہو یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ سب لوگوں سے بہتر ہے لوگوں نے کہا آپ کیا سنا ہے کہ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا ہے ایک

يَوْمَ الْقِيَامِ قِيلَ فِي النَّارِ فَتَدْرِي أَقْتَابَهُ فِي النَّارِ فَيَدْرِي كَمَا يَدْرِي الْحِمَارُ بِرَبْحَاهُ لِيَجْتَمِعَ

شخص قیامت کے دن لایا جائیگا اور اس میں ڈانچا لگا تو اسکی انڈیاں اس میں نکل پڑیں گی تو وہ گھومے گا جس طرح گدھا بھلی کو لے کر ہوتے گھومتا

أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ يَقُولُونَ أَيْ فُلَانٌ مَا شَأْنُكَ أَلَيْسَ لَنْتَ تَأْمُرُ يَا لِمَعْرُوفٍ نَهَى عَنْ

ہے دوزخ والے اس کے پاس آئے ہو جائیں گے اور کہیں گے اے فلاں شخص تیرا کیا حال ہے کیا تو ہم کو نیک کام کا حکم دیتا تھا اور برسے

الْمُنْكَرَ قَالَ كُنْتُ أَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ وَلَا أَرْبِيهِ وَأَنْهَاكُمُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَارْتَبِهِ (۱۱)

کام سے روکتا تھا وہ کیگا میں تم کو نیک کام کا حکم دیتا تھا اور جو نہ کرتا تھا اور برسے کام سے تم کو روکتا تھا اور خود کرتا تھا

بَابُ صِفَةِ بَيْلِسَ وَجُنُودِهِ وَقَالَ جُبَاهِدُ يَقْدَرُونَ بِمَعْرُوفٍ مَدْحُورٍ أَمْطَرُ دِينَ

باب ابلیس اور اس کے لشکر کا بیان اور مجاہد کہتے ہیں یقیناً قرآن (الصافات - ۸) ان کو رہا ہے وہ خود (الصافات - ۹)

رَأَيْتُ دَائِمًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَدْحُورٌ أَمْطَرُ دَائِمًا مَرِيدٌ أَمْطَرُ دَائِمًا

دیکھتا ہے ہوتے اور (الصافات - ۹) ہمیشہ اور ابن عباس کہتے ہیں مدحور (الاعراف - ۱۸) دھنکا رہا ہوا کہا جاتا ہے (النساء - ۱۱) سرکش؟

قَطْعَةٌ وَأَسْتَفِرُّ زَا سَخِفَتْ بِحَيْلِكَ الْفَرَسَانُ وَالرَّجُلُ الرَّجَالَةَ وَاجْدُهَا رَاجِلٌ

بشکرت النساء - ۵۱۹ سے کاٹا ہوا استفرد (نبی اسرائیل - ۴۳) خلیفہ کرنے بخلیک سوار اور راجل پیادہ اس کا معرور راجل ہے

مِثْلُ صَاحِبِ صَحِيحَةٍ تَأْخُذُ بِمَنْ لَاحْتِكَانِ لَا سَتَأْصِلَنَّ قَرِينِ شَيْطَانٍ (۱۴۷۹)

صاحب اور صحیح اور تاجر اور تجو کا حکمتوں میں بڑھے لکھا (دو دعا (نبی اسرائیل - ۶۲) قرین (الصافات - ۵۵) شیطان ہے

۱۴۷۷ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَارُكُمْ حُرُوفٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَتْ لِكُلِّ فِتْنَةٍ قَالَتْ فَضَلَّتْ عَلَيْهِنَّ كِتَابُ بَنِي الْخَلْقِ ۹۰

سوا ہوں گے۔ پیرٹ کی انڈیوں کے باہر نکل آئے ہیں یہ اشارہ ہے کہ ان کا اندرون جو یہاں وہ لوگوں سے چھپاتے تھے وہاں ظاہر ہوئے گا اور یہی ہے کہ کسی طرح گھومنے میں یہ اشارہ ہے کہ اگلی حالت امن نہیں اسی قدر تھی کہ جس طرح ایک گدھا بھلی میں جتا ہوا ہوا ہے اس طرح ان کا کام دوسروں کو دھمکاؤ نصیحت کرنے کا تھا گویا وہ دلی غلام سے یہ کام نہ کرتے تھے بلکہ مزدوری اور اجرت کے طور پر۔ یہ بات بھی غور طلب ہے کہ جس تو یہاں ہوا کہ دوزخ کی آگ اس دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ تیز ہے۔ اور اس حدیث میں ہے کہ دوزخ والے اس دغا ہنکے کہ جو جمع ہو کر دریافت کر لیتے کہ تمہارا کیا حال ہے۔ اس دنیا کی آگ میں بھی کوئی شخص پڑے تو اسے کوئی ہوش نہیں رہتی۔ ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عذاب کی کیفیت وہ نہیں جو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں ہے جس طرح نعلین جنت کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح آہم نام کی حقیقت کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ يَحْتَمِلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ

اللَّسْمَ وَمَا يَفْعَلُهُ حَتَّى كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ مَدْعَاوُ دَعَائِمَةٍ قَالَ أَشْعَرْتُ أَنَّ اللَّهَ أَنْتَلَنِي

فِيهِمَا ذِيهِ شِعْرَانِي أَنَا نِي رَجُلَانِ فَقَدْ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي الْآخَرَ عِنْدَ رِجْلِي فَقَالَ

أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ وَأَجْعُ الرَّجُلُ قَالَ مَطْيُوبٌ قَالَ مَنْ صَبَّهَ قَالَ لِيَمِيدِينَ الْأَعْمَمَ

قَالَ فِيهِمَا ذَا أَوَّلٍ فِي مَشِيئَةٍ وَمَشَاقِةٍ وَجِيفٍ طَلْعَةٍ ذَكَرَ قَالَ فَايْنُ هُوَ قَالَ فِي يَمِينِ

ذُرْوَانَ فَخَرَجَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لِعَائِشَةَ جِدْنِي جَعْنِيهَا

كَأَنَّهُمَا رُؤْسُ الشَّيَاطِينِ فَقُلْتُ اسْتَحْرَجْتُهُ فَقَالَ لَا أَمَّا أَنَا فَقَدْ شَفَعْنَا لِلَّهِ وَخَشِيتُ أَنْ

يُشِيرَ بِذَلِكَ عَلَيَّ لِنَاسٍ شَرًّا ثُمَّ دَنَيْتُ الْبِئْرَ (م- ۱۵۲۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مكرر- ۶۲۸)

بِحَدِيثِهَا تَمَامٌ فَخَرَجَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تَشْرَبُ مِنْهَا

بِحَدِيثِهَا تَمَامٌ فَخَرَجَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تَشْرَبُ مِنْهَا

بِحَدِيثِهَا تَمَامٌ فَخَرَجَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تَشْرَبُ مِنْهَا

بِحَدِيثِهَا تَمَامٌ فَخَرَجَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تَشْرَبُ مِنْهَا

بِحَدِيثِهَا تَمَامٌ فَخَرَجَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تَشْرَبُ مِنْهَا

بِحَدِيثِهَا تَمَامٌ فَخَرَجَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تَشْرَبُ مِنْهَا

بِحَدِيثِهَا تَمَامٌ فَخَرَجَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تَشْرَبُ مِنْهَا

بِحَدِيثِهَا تَمَامٌ فَخَرَجَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تَشْرَبُ مِنْهَا

بِحَدِيثِهَا تَمَامٌ فَخَرَجَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تَشْرَبُ مِنْهَا

بِحَدِيثِهَا تَمَامٌ فَخَرَجَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تَشْرَبُ مِنْهَا

بِحَدِيثِهَا تَمَامٌ فَخَرَجَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تَشْرَبُ مِنْهَا

بِحَدِيثِهَا تَمَامٌ فَخَرَجَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تَشْرَبُ مِنْهَا

بِحَدِيثِهَا تَمَامٌ فَخَرَجَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تَشْرَبُ مِنْهَا

۱۔ اس میں مضمون کی حدیث پہلے ملاحظہ فرمائی جائے۔ اس پر کئی ہی نسخے ہیں۔ اس پر نوٹ۔ یہ اس اصولاً حدیث قرآن کے خلاف ہے اور اچھا دیش سے اس کی کوئی تائید نہیں ہوتی۔ کہ آپ پر کوئی زمانہ یا یہی گذرا ہو کہ اپنے خیال کر لیا ہو کہ آپ نے ناز طبعانی ہے اور فی الحقیقت نہ پڑھا ہی ہوئی یا کسی جنگ میں وہاں ہو گئے ہیں اور فی الحقیقت نہ پڑھے اور تھے یا کوئی لشکر

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا

یہاں تک کہ آپ کو خیال ہوتا تھا کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں

اور فی الواقع آپ اسے نہ کرتے ہوتے تھے

اور آپ ایک دن دعا کی اور پھر دعا کی پھر فرمایا دعا

اور آپ نے کہا اس شخص کی بیماری کی ہے

اور بالوں اور سچوں کے خوشے کے پوست میں

نہی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے

ہر نوٹ کر آئے اور حضرت عائشہ سے جب واپس تشریف

لے آئے فرمایا وہاں کے کچھ بڑے بڑے

ہر نوٹ کر آئے اور حضرت عائشہ سے جب واپس تشریف

لے آئے فرمایا وہاں کے کچھ بڑے بڑے

ہر نوٹ کر آئے اور حضرت عائشہ سے جب واپس تشریف

لے آئے فرمایا وہاں کے کچھ بڑے بڑے

ہر نوٹ کر آئے اور حضرت عائشہ سے جب واپس تشریف

لے آئے فرمایا وہاں کے کچھ بڑے بڑے

ہر نوٹ کر آئے اور حضرت عائشہ سے جب واپس تشریف

لے آئے فرمایا وہاں کے کچھ بڑے بڑے

ہر نوٹ کر آئے اور حضرت عائشہ سے جب واپس تشریف

لے آئے فرمایا وہاں کے کچھ بڑے بڑے

ہر نوٹ کر آئے اور حضرت عائشہ سے جب واپس تشریف

لے آئے فرمایا وہاں کے کچھ بڑے بڑے

(م۔ ۱۵۳۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (متكرر۔ ۶۳۰) (م۔ ۱۵۳۱) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر)

دیکھو حدیث ۱۶۴۰

(۱۲۲-م) (۱۵۳۲-م) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (متكرر۔ ۳۸۶) (م۔ ۱۵۳۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

دیکھو حدیث ۳۸۶

(متكرر۔ ۳۲۷) (م۔ ۱۵۳۴) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ (متكرر۔ ۱۱۲۱) (م۔ ۱۵۳۵) عَنْ

دیکھو حدیث ۱۱۲۱

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَنِي آدَمَ إِنِّي أُرِي الشَّيْطَانَ أَحَدَكُمْ يَقُولُ مَنْ

خَلَقَ كَذًّا مَنْ خَلَقَ كَذًّا أَحْسَى يَقُولُ مَنْ خَلَقَ رَبُّكَ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَكَيْفَ لَيْسَتْهُ

پیدا کیا یس نے پیدا کیا یہاں تک کہ گستاخ برے رب کو گس نے پیدا کیا پس جب اس مقام کو پہنچ جائے تو اعوذ باللہ سے اور رک جائے

۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰

مفصل بحث نوٹ ص ۲۶ پر گزر چکی۔ جہاں ہم نے یہ سے دکھا یا گیا ہے کہ یہ کلام بطور مجاز ہے۔ شیطان ایک غیر مرئی ہستی ہے۔ اس کا جسم ہماری طرح نہیں کہ اس پر ہونے کرنے کا لفظ اپنے حقیقی معنی میں صادق آسکے۔ مگر مکرر روایت کے لفظ تقریباً وہی ہیں۔ یہاں یہ ذکر ہے کہ اگر ایک شخص اپنی عورت سے مقاربت کے وقت اپنے لئے اور اپنی اولاد کے لئے شیطان سے بچنے کی دعا کرے تو اس کی اولاد کو شیطان نقصان نہیں پہنچاتا۔ اس میں یہ تباہی ہے کہ ہر حالت میں انسان کو شیطان سے بچنے کی دعا کرنی چاہئے۔ اور ظاہر ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر شیطانی وساوس سے بچنے کی تراب ہوگی۔ جتنی کہ وہ اس وقت بھی جب انسان ایک جسمانی لذت کی وجہ سے ہر دوسری بات کو بھول جاتا ہے اس تراب کو اپنے دل میں پاتا ہے تو لازماً اس کا اثر اس کی اولاد پر بھی ہوگا۔ آج یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ ماں باپ کے جذبات اور خیالات غیر معلوم طریق پر اولاد پر اثر کرتے ہیں۔ مگر قریب ترین انہی الفاظ میں مضمون حدیث کو دہرا کر پڑھا گیا ہے۔ بلا تخیل و ابھلا تک طلوع الشمس و لا غروبہا فانہما تطلعہ بین قرنی شیطان اول الشیطان لا ادری اے ذلک قال هشام۔ اور سورج کے طلوع یا غروب کو ہر طور پر مقرر کر کے اس وقت نماز پڑھا کر دو کیونکہ وہ کسی شیطان یا شیطان کی دو امتوں کے درمیان طلوع کرتا ہے۔ جہاں تک طلوع یا غروب آتا ہے وقت نماز کا سوال ہے اس کے لئے دیکھو نوٹ ص ۲۶ صفحہ ۵۹، نوٹ ص ۲۶ صفحہ ۵۹۔ یہاں مزید یہ ہے کہ سورج شیطان کی دو قرون کے درمیان طلوع کرتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے۔ ابن اثیر نے یہ میں اس کے ایک معنی میں کہتے ہیں۔ بین قورنیہ ای امتیہ الاولین والآخرین وکل هذا تمثیل لمن سبح للشمس عند طلوعها فان الشیطان سول له ذلک فاذا سبح لها کان کان الشیطان مقرون بها یعنی شیطان کی دو قرون سے مراد اس کی دو امتیں ہیں۔ پہلے اور پچھلے اور یہ سب تمثیل کے طور پر ہے۔ اس شخص کیلئے جو اس کے طلوع کے وقت سورج کی سجدہ کرتا ہے گویا یہ شیطان نے اس کیلئے مسل کر دیا پس جب وہ اسے سجدہ کرتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ گویا شیطان اس کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ پس شیطان کی دو قرون سے مراد یہ لینا کہ سورج شیطان کے دو سنگ ہیں۔ اور سورج ان کے اندر سے نکلتا ہے خلاف منشاء حدیث ہے۔ مراد صرف اسی قدر ہے کہ شیطان نے جو سورج کو بعض لوگوں کے نزدیک قابل پرستش ٹھہرایا ہے تو سورج پرستوں کے ساتھ تباہ سے بچنے کیلئے طلوع اور غروب کے وقت نماز پڑھو۔ اور قورنی الشیطان کے معنی دو امتیں جو ابن اثیر نے کہے ہیں اور لغت کی رو سے صحیح بھی تو امتیں شرق کی دو سورج پرست قوموں کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے یعنی ایرانی اور ہندو۔ اسی لئے صرف طلوع آفتاب کا ذکر کیا ہے۔ غروب آفتاب کا نہیں کیا کیونکہ دونوں زبردست سورج پرست قومیں شرق کی طرف تھیں۔ مگر یہاں مختصر ہے اذ امر بین یدی احدکم شیء وھو صلی فلیمنعہ فان ابی فلیمنعہ فان ابی فلیقاتلہ فانما ھو شیطان۔ باوجود روکنے کے جو شخص نمازی کے سلسلے گزرنے سے نہیں رکتا اور یوں اس کی نماز میں غل ڈالتا ہے تو لے شیطان کہا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ گزرنے والے تو انسان ہے لیکن جب وہ ایک برس کا ۵۰ پرامر اور کرتا ہے تو اسے شیطان کہ دیا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کے منہ میں شارع عدلیت نام نہ کسی قدر وسعت ہوتی ہے۔ خود قرآن شریف میں بھی شیطان کا لفظ انسانوں پر بولا گیا ہے۔ مگر یہاں بہت اختصار ہے۔ قال وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحفظ زکاة وھذیان فانتانی ات فیجعل یحشون انطعا من انطعا من انطعا لا رفعتک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذنک لکن الحدیث فقال اذ اذ اذ الی فراخک فانتانی ایاہ الکرمس لمن یزال من اللہ حافظ ولا یقریک شیطان حتی تصبہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقک دھونک ذب ذاک شیطان۔ اس میں اس شخص کو جو تین دن تک رات کے وقت آکر اور ابو ہریرہ سے جھوٹ بول کر حد سے باغیر جاتا رہا شیطان کہا ہے۔ حالانکہ ظاہر ہے کہ جو شخص اپنے اہل وعیال کی غربت کا غم کر کے کچھ غم سے جاتا تھا وہ غیر مرئی شیطان نہیں ہو سکتا جس کی زندگی غم پر نہیں۔ غم پر گزارہ کرنا لاشیطان انسان ہی ہو سکتا ہے۔ پس اس سے بھی معلوم ہوا کہ اپنے ایک جھوٹ بولنے والے انسان پر ہی شیطان کا لفظ بولا تھا۔ مگر ظاہر ہے کہ یہ شیطان دوسرا مذہب ہے اور یہ وہ غیر مرئی ہستی ہے جو جنات میں سے ہے۔ شیطان کا کسی کے پاس آنا اور یہ کتنا حقیقت ہے اس کے نگ میں جو احوال باشرط ہٹنے سے مراد یہ ہو کہ ان وساوس کا گناہ طلب کرے

(م- ۱۵۳۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مكرر- ۲۹۴۳) (م- ۱۵۳۷) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

دیکھو حدیث ۹۴۳

(مكرر- ۱۰۷۰) (م- ۱۵۳۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَيْدٍ (مكرر- ۱۲۰۳) (۱۲۸۱) عَنْ

دیکھو حدیث ۲۰۳

دیکھو حدیث ۱۰۷۰

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَجَبَ أَوْ كَانَ جُنْحَ اللَّيْلِ فَكَفُوا أَصْبِيَاءَكُمْ فَنَاتِ

جابر بن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا جب رات کا اندھیرا ہو جائے یا رات شروع ہو جائے تو اپنے بچوں کو روک لو کہ

النِّسَاءُ طَيِّبَاتٍ تَنْتَبِهُنَّ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ فَمِنْهُمْ وَأَعْلَقَ بِأَبْنِكَ وَأَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ

اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں جب عشاء کے وقت سے ایک گھنٹہ گزر جائے تو انہیں آزاد کر دو مگر اور اپنا روزہ بند کر لو اور اس کا

وَاطْفِئْ مِصْبَاحَكَ وَأَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَأَذْكُرْ سِقَاءَكَ وَأَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَخَمِّرْ زَاكَاكَ

نام لو اور اپنا چراغ بجھ دو اور اس کا نام لو اور اپنے مشک کا منہ بندھ دو اور اس کا نام لو اور اپنے برتن کو ڈھانک

وَأَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَلَوْ تَعَرَّضَ عَلَيْهِ شَيْءٌ (م- ۱۵۳۹) عَنْ صَفِيَّةَ (مكرر- ۱۰۷۰)

اور اس کا نام لو گو کوئی چیز اس پر پڑی ہی رکھو

دیکھو حدیث ۱۰۷۰

شیطان کو جھٹکے گا تو اس سے آزادی سے نہیں ملتا جیسا پہلے مت تھا اس لحاظ سے اس پہلی آزادی کے مقابل پران کو بخیروں میں قید ہونے کا گیا ہے۔

اور میں شباطین کا لفظ استعمال کر کے یہ بھی بتا دیا کہ ہر ان کے لئے ایک لگ شیطان ہیں۔ اور یہ شباطین کی قید صرف رونے والوں کے حق میں ہے۔

جس طرح جنت کے دروازوں کا کھٹنا بھی صرف انہی کے لئے ہے نہ کفار یا فاجر کے لئے۔ لگ کر روایت بہت مختصر ہوا ان مومنین کا لفظ اذنا قال

ارایت اذا دینا الی الصحیحہ فان فی نسبت الجوت دعا انسانہ الا الشیطان ان اذکرہ راسی سے عزمان ہے) ودرجین موسیٰ النصح حتی جاوز المکان

الذی امر اللہ بہ۔ میں ایک مزدب کی کام کے علاوہ کہ شیطان کی طرف منسوب کیا ہے گویا بتایا ہے کہ اونٹنے سے اونٹن تقفان رب ن فعل بھی شیطان کی

طرف منسوب ہوتا ہے۔ مگر یہاں لفظ یوں ہی روایت رسول اللہ صلعم یشیر الی المشرق فقال ہا ان الفتۃ ہما ان الفتۃ ہما من حیث یظنہم قرن

الشیطان۔ قرن کے معنی بھی ۵۳۲ کے نوٹ میں بیان ہو چکے ہیں۔ مگر وہ یا امت کو قرن کہا جاتا ہے۔ تو قرن شیطان کا گروہ ہے۔

اور چونکہ مجال کے فتنے کا ظہور بھی متعدد احوال میں مشرق سے لکھا ہے اس لئے یہاں قرن شیطان سے مراد وصفان طور پر یہی دعا کی گروہ ہے جس کا ظہور

مشرق میں ہوا۔ مگر ابن اثیر نمایاں سمجھتے ہیں کہ قرآن کے قول کی حدیث میں ہے قد سمی الحیۃ الدقیقۃ الخفیۃ شیطانا وجانا علی التشیبہ بایک مہرٹ

سابق کو تشبیہ کی وجہ سے شیطان اور جن کہا جاتا ہے اور لفظ جن کی بحث میں ہے الجنان ہی الحیات النبی تکون فی البیوت واحد ہا جان۔ یعنی جن رواد

جان ان سانچوں کو کہا جاتا ہے جو گھر دن کے اندر جوتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے یہ بات کسی ایسی جگہ کے متعلق فرمائی ہے جہاں سانپ اور حشرات الارض کثرت

سے ہوں گے جو ان کے نکلنے کا وقت شام کا ہوتا ہے اور یہاں شیطانوں سے مراد یہی سانپ اور حشرات الارض ہیں۔ اور اس ارشاد کی عمومیت بھی درست ہے

اس لئے کہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ سانپ اور حشرات الارض ہوتے ہی ہیں۔ بچے چونکہ اس قدر چمکنا میں ہوتے اس لئے فرمایا کہ ان کو ایسے اوقات میں باہر نکلنے سے روک دو

جو سکتا ہے کہ یہودیوں اور نفلوں کی ایذا رسائی کی وجہ سے روکا ہو۔ کیونکہ شیطان کا لفظ انسانوں پر بھی بولا جا سکتا ہے۔ جیسے ان چار جہلوں میں اپنے گھر دکھانے

پینے کی چیزوں کی حفاظت کی طرف خاص توجہ دلائی ہو سوتے وقت دروازے کا بند کرنا اور وغیرہ سے حفاظت کیلئے ہے۔ چراغ کا بجھا دینا اس لئے ہے کہ سوتے میں

کیمیں آگ نہ لگ جائے۔ اس وقت ہی جلنے چراغ ہوتے تھے اور یہی کو بعض وقت چوہا نکال سے جاتا ہے جس سے آگ لگ جائیکہ اندیشہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اسکی مکرر

روایت م ۵۵۵ میں صحت الفاظ میں یہ وجہ بیان فرمائی ہے واطفئوا المصابیح عند الرقاد سوتے وقت فان النوبیۃ بہا اجرتا للقیۃ فاحرکت اهل البیت

ابواب انسان کی
جگہ میں ابواب جنت
ہے۔ رمضان میں
شیاطین کا بیخیز
میں باندھ دیا جانا
اس لحاظ سے ہے
کہ روزہ وار جب
روزہ رکھتا ہے تو
اس کے وہ قوی جن
کے اندر سے ہو کر
شیطان حملہ کرتا ہو
اعتدال کی حالت
پر آجاتے ہیں۔ او

میرا فرما خبردار ہوگی۔ ایسے وہ دوسرا مذازی بھی نہیں کرتا۔ اب یہی کمال فی ہے کہ شیطان کو فرما نہوار بنایا جائے تاکہ اسکی دوسرا مذازی رک جائے۔

<p>۱۲۸۲) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَّةٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلَانِ</p>		
<p>سليمان بن مروه روایت ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور دو آدمی</p>		
<p>يَسْتَبْتَانِ فَأَحَدُهُمَا اسْتَحْزَرَ وَجْهَهُ وَانْتَحَمَتْ أُوْدَاجُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>		
<p>ایک دوسرے کو گالے سے تھپتھپانے میں سے ایک چہرہ سرخ ہو گیا اور دوسرے نے اچھل گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا</p>		
<p>إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا ذَهَبَ عَنْهُ مَا يُجِدُ لَوْ قَالَ اعْوِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ذَهَبَ عَنْهُ مَا</p>		
<p>میں ایک سکر جاتا ہوں اگر وہ اپنے ہاتھ سے اس کا غصہ دور ہو جائے اگر وہ کے اعوذ یا شریعت الشیطان تو اس کا غصہ دور ہو جائے</p>		
<p>يُجِدُ فَقَالَ الْاٰلِدْرَانِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَقَالَ هَلْ لِي</p>		
<p>لوگوں نے اس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ۔ اس نے کہا کیا مجھے جنوں</p>		
<p>جُنُونٌ (م-۱۵۴۰) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر-۱۲۲) (م-۱۵۴۱) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ (م-۱۲۳۳)</p>		
<p>ہو گیا ہے اللہ دیکھو حدیث ۱۲۲۳</p>		
<p>رَمْتَكِرْ-۱۲۳۳) (م-۱۵۴۲) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ (متكرر-۳۹۸) (۱۲۸۳) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ (م-۱۲۳۳)</p>		
<p>دیکھو حدیث ۱۲۳۳ دیکھو حدیث ۳۹۸ ابوریرہ سے روایت ہے</p>		
<p>قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّ بَنِي اٰدَمَ يَطْعُنُ الشَّيْطَانُ فِي جَنْبَيْهِ بَا صِبْرٍ حَتَّى يَبُولَ</p>		
<p>کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک بنی آدم کے پیلوں میں جب دو پیریں ہوں ہیں شیطان ہنسے گا اور وہ</p>		
<p>عَلِيٍّ عَيْسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَهَبَ يَطْعُنُ نَظْعَيْنِ فِي اَلْحَجَابِ (۱۲۸۴) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَدِمْتُ الشَّاهِدِ</p>		
<p>سوئے عیسیٰ بن مریم کے اسے کو پھینکنے کے لیے قرآن کو پڑھ کر رکھیں</p>		

۱۲۸۲) عن سليمان بن مروه روایت ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور دو آدمی استابتان فاحدہما استحزرو وجہہ وانتحمت اوداجہ فقال النبوی صلی اللہ علیہ وسلم انی لاعلم کلمة لو قالها ذهب عنه ما یجد لو قال اعوذ باللہ من الشیطان ذهب عنه ما یجد فقال الالدران النبوی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعوذ باللہ من الشیطان فقال هل لی جنون جنون (م-۱۵۴۰) عن ابن عباس (متكرر-۱۲۲) (م-۱۵۴۱) عن ابن هریرة (م-۱۲۳۳) رمتکر-۱۲۳۳ (م-۱۵۴۲) عن ابن هریرة (متكرر-۳۹۸) (۱۲۸۳) عن ابن هریرة (م-۱۲۳۳) قال قال النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کلابن ادم یطعن الشیطان فی جنبیہ با صبر حتى یبول علی عیسی بن مریم ذهب یطعن نظعن فی الحجاب (۱۲۸۴) عن علی قال قدیمت الشاهد سوسے عیسیٰ بن مریم کے اسے کو پھینکنے کے لیے قرآن کو پڑھ کر رکھیں

۱۲۸۲) عن سليمان بن مروه روایت ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور دو آدمی استابتان فاحدہما استحزرو وجہہ وانتحمت اوداجہ فقال النبوی صلی اللہ علیہ وسلم انی لاعلم کلمة لو قالها ذهب عنه ما یجد لو قال اعوذ باللہ من الشیطان ذهب عنه ما یجد فقال الالدران النبوی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعوذ باللہ من الشیطان فقال هل لی جنون جنون (م-۱۵۴۰) عن ابن عباس (متكرر-۱۲۲) (م-۱۵۴۱) عن ابن هریرة (م-۱۲۳۳) رمتکر-۱۲۳۳ (م-۱۵۴۲) عن ابن هریرة (متكرر-۳۹۸) (۱۲۸۳) عن ابن هریرة (م-۱۲۳۳) قال قال النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کلابن ادم یطعن الشیطان فی جنبیہ با صبر حتى یبول علی عیسی بن مریم ذهب یطعن نظعن فی الحجاب (۱۲۸۴) عن علی قال قدیمت الشاهد سوسے عیسیٰ بن مریم کے اسے کو پھینکنے کے لیے قرآن کو پڑھ کر رکھیں

جاہانہ جواب ہے یا یہ کوئی بہت نادان تھا اور دنیا میں شخص ہر گاہ یا مان فہر کچھ ۷۵۳ روایت م ۱۵۳۱ پر بھی گذر چکی ہے۔ یہاں آخری یہ لفظ زیادہ میں دہرا سنا علیہ شیطاں اس پر قابو نہ پالے گا۔ یہ لہذا صحت کی جو اس حدیث میں ہو گیا شرح ہے یعنی شیطاں کے ہزار ٹیٹے سے یہ مراد ہے کہ وہ اس پر سست نہیں ہوگا دیکھو نوٹ م ۱۵۳۱ پر ۱۵۳۱ میں صرف شریعت کا حصہ میں انفاذ ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذہ صلی صلوة فقال ان الشیطان عرض لی فشد علی یقطعہ الصلوۃ علی فما مکنفی اللہ منہ قد کونہ۔ واردت سے نیکر ڈرنک یہاں نہیں ہے۔ اس حدیث میں شروع ہوتی ہے ان عفریۃ من الجن تظنت علی گویا جن کو یہاں الشیطاں کہے اسے کوہل حدیث میں عفریۃ من الجن یا مرکش جن کہے۔ اور یہاں ہے فشد علی اسے سمجھ پر جگہ کیا۔ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرکش جن یا شیطاں ایک انسان ہی تھا فیصل دیکھو نوٹ ۱۲۹ ص ۱۲۹ مگر روایت میں ۳۹۸ کا مضمون تقریباً اسی الفاظ میں دہرایا گیا ہے۔ البتہ یہاں لفظ اٹھ کے بعد حتی کا یہ معنی لفظ میں حتی کا یہی اثناسا صلاہم اذہنا فاذا لہم یدر اثناسا صلاہم اذہنا بحسن سجد فی السہو۔ اس حدیث میں اذان کی آواز سے شیطاں کے بھٹنے اور اس کے غمراہ کا ذکر ہے۔ ان دونوں کیسے دیکھو نوٹ ۱۲۹ ص ۱۲۹ جہاں مفصل بحث کی گئی ہے ۷۵۴ اس مضمون کی حدیث آگے باب ۴۴ میں آئی ہے۔ مگر تین باتوں میں فرق ہے۔ یہاں یطعن ہے۔ وہاں یمنہ ہے۔ وہاں ہے بستہل صارتھا فریاد کرتا ہوا اذہ بلند کرتا ہے یہاں یہ لفظ نہیں۔ یہاں صرف عیسیٰ بن مریم کا استشہار ہے۔ وہاں مریم دہرا تھا دو کا استشہار ہے۔ اس آخری فرق کو معمولی نہیں کہا جاسکتا۔ بلکہ صحت معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کے الفاظ میں کچھ تفرق ہوا ہے عیسیٰ بن مریم یا مریم اذہ اس کے جیسے کے استشہارے کا مراد ہے۔ اس پر مفصل بحث اپنے نوٹ پر آئے گی۔ البتہ یہاں اس قدر بتا دینا ضروری ہے کہ شیطاں کے س یا شیطاں کے طعن سے کیا مراد ہے۔ قرآن شریف اور حدیث اپنی عراجت سے بتاتے ہیں کہ ہر شیطان کا ہوا یا کا ہر شیطان پر اشد شیطاں کے طعن سے آزاد پیدا ہوتا ہے قرآن شریف میں سے نظیر اللہ المتی فطر الناس عداہم۔ حدیث میں ہے کل مولود یولد علی الفطرة۔ اس صریح اصریح تعلیم کے خلاف یہی طرح قابل قبول نہیں کہ ہر شیطان کو پیدا کرنے کے وقت شیطاں چھوٹتا ہے یا اسے کو کچھ دیتا ہے جس حدیث کا یہ منشا کسی صورت میں نہیں ہو سکتا کہ ہر شیطان کا طعن ہوتا ہے نہ ہی اس کا یہ منشا ہو سکتا ہے کہ شیطاں اس کے دل میں دوسرا نمازی کرتا ہے۔ اور شیطاں کا کام سوائے دوسرے انداز کی کے اور کچھ نہیں۔ کیونکہ ایک شیطان جس کے اندر بھی شور اور تیزی کوئی نہیں اس کے دل میں دوسرا نمازی نہیں ہوتی ہے۔ شیطاں کا تعلق تو ہر انسان صفت انسان کے اندر دوسرا نمازی ہوتا ہے یا یہ کہ اس کے اندر ہدی کی حرکت پیدا کرے اور ان دونوں باتوں کا وجود کبھی کبھی پیدا کرنے کے وقت ہوتا ہے۔ اور یہ امر بھی قرآن و حدیث کی عراجت کے خلاف ہے کہ شیطاں کا ہر شیطان پر طعن ہے جو ہائے ہیں یا اس میں طعن کیا چیز ہے؛ بلکہ یہی پیدا کرنے کے وقت روحانی طور پر شیطاں کا لے کچھ نقصان پہنچاتا تو ہوتا ہے تو کہ اس سے مراد کوئی جسمانی نقصان پہنچانا ہے۔ مگر جسمانی نقصان پہنچانا شیطاں کے کاموں میں نہیں۔ یہ حدیث اپنے ظاہری معنی میں اباقی برکت ہے۔

۱۲۸۲) عن سليمان بن مروه روایت ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور دو آدمی استابتان فاحدہما استحزرو وجہہ وانتحمت اوداجہ فقال النبوی صلی اللہ علیہ وسلم انی لاعلم کلمة لو قالها ذهب عنه ما یجد لو قال اعوذ باللہ من الشیطان ذهب عنه ما یجد فقال الالدران النبوی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعوذ باللہ من الشیطان فقال هل لی جنون جنون (م-۱۵۴۰) عن ابن عباس (متكرر-۱۲۲) (م-۱۵۴۱) عن ابن هریرة (م-۱۲۳۳) رمتکر-۱۲۳۳ (م-۱۵۴۲) عن ابن هریرة (متكرر-۳۹۸) (۱۲۸۳) عن ابن هریرة (م-۱۲۳۳) قال قال النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کلابن ادم یطعن الشیطان فی جنبیہ با صبر حتى یبول علی عیسی بن مریم ذهب یطعن نظعن فی الحجاب (۱۲۸۴) عن علی قال قدیمت الشاهد سوسے عیسیٰ بن مریم کے اسے کو پھینکنے کے لیے قرآن کو پڑھ کر رکھیں

(بقیہ صفحہ ۵۳)

صوت ایک صوت
یہ ہی قابل قبول
ہے اور وہ یہ کہ

حین بولنے سے
مراہنے کی جہان
پیدا نہیں ہوگی

ان کی روحانی
پیدائش ہے یا گناہ
کے احسان کا اس

کے اندر پیدا ہونا
اور اس سے اس
کے بچے کی کوشش

کرنا۔ یہی وقت ہے
جب شیطان انسان
پر حملہ کرتا یا اس کے

دل کے اندر دوسرے
اندازی کرتا ہے۔
اس وقت بے شک

قَالُوا أَبُو الذَّرْدَاءُ قَالَ أُنْفِئَكُمْ الَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ

تو لوگوں نے کہا ابو الذر داؤد ابن (ابو الذر داؤد نے) کہا کیا تم میں سے کبھی سے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے اس کی زبان پر پناہ دی ہے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۱۴۸۵) عَنْ مَخَيْرَةَ وَقَالَ الَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ

مخیرہ سے روایت ہے وہ شخص ہے اللہ نے شیطان سے اپنی ہی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر پناہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي عَمَّارًا (۱۴۸۵) عَنْ عَائِشَةَ (ممتکر۔ ۱۴۵۲) (۱۴۸۶) عَنْ

دی یعنی عمار
دیکھو حدیث ۱۴۵۲

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتَشَاؤِبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَنَاءَبَ

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اپنے فرمایا جمالی شیطان کی طرف سے ہے جب تم میں سے کسی کو

أَحَدُكُمْ فَلْيُرِدْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ هَذَا صَوَّكَ الشَّيْطَانُ (۱۴۸۶)

جانی آئے تو جہاں ہو سکے سے رنکے کیونکہ جب تم سے کوئی باہر نکلتے تو شیطان خوش ہوتا ہے

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ هَرَمَ الْمُشْرِكُونَ فَصَاحَ ابْنُ لَيْسَى عِبَادَ اللَّهِ

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب اھل کافرانہ ہوا تو مشرکوں نے شکست کھائی اور اب انہیں بے بیخاری اللہ کے بندو

أَخْرَجَهُمْ فَجَعَلَتْ أَوْهَامَهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ أَخْرَجَهُمْ فَجَعَلَتْ هِيَ أَخْرَجَهُمْ فَجَعَلَتْ هِيَ أَخْرَجَهُمْ فَجَعَلَتْ هِيَ

بچے والوں کی خبر لے کر لڑنے لگے اور وہ اور بچے لڑے آپس میں لڑے حدیث نے دیکھا تو انہیں اپنا باپ

الْيَمَانِ فَقَالَ أَيُّ عِبَادَ اللَّهِ أَيْ أَيْ فَوَاللَّهِ مَا أَخْتَرْتُ وَاحْتِي تَتَلَوُهُ فَقَالَ حَدِيثُ

یمان نظر آیا اور وہ بگائے اللہ کے بندو میرے باپ ہیں میں اب نہیں اللہ کی قسم تو یہاں تک کہ اسے قتل کرنا حدیث نے کہا

وہ انسان کو اٹھاتا ہے اور اس کے دل میں دوسری بات ہے۔ یہ سہل صادر تھا کہ سمجھیں۔ انسان کا فریاد کرنا اور مدد مانگنا۔ اس وقت انسان شیطان

کے مقابلہ میں خدا کی مدد بھی طلب کرتا ہے۔ مریم اور ابن مریم کے اس سے بچا رہے گا کیا منشا ہے۔ اپنے ہاتھ پر ہونے پر بیان ہوگا اور صفحہ ۱۴۸۵ اس بات کی توجیہ

کراں سے مراد عد بن یا مرتے۔ خود بخاری نے لگی حدیث میں کر دی ہے۔ شیطان سے پناہ دینے کا کیا منشا ہے؛ شارحین نے لکھا ہے کہ اس میں اشارہ

اس حدیث کی طرف ہے جس میں مسلم نے فرمایا تقتل الفلانة الباغية يريد علم النجينة ويدعون الى النار. جراس سے یہ قیاس کرنا درست معلوم نہیں ہوتا

مکن ہے۔ نبی مسلم نے کوئی ایسے الفاظ فرمائے ہوں گے کہ کسی حدیث میں محفوظ نہیں۔ عمر کی حالت پر یہ الفاظ ایک اور معنی میں بالمرحہ صادق آتے ہیں۔

ان کے والد یا سر اور ان کی والدہ صحیحہ ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے یا سر اور صحیحہ دونوں نے کفار کے ہاتھ سے سخت تکلیفیں اٹھائیں اور صحیحہ کو خطرات

ایذا رسانی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ صحیحہ کفار کے ہاتھ سے قتل ہوئے مگر عمار کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے بچا لیا۔ ان الفاظ سے مراد ہو سکتی ہے کہ کفار

فالم کفار کے ہاتھ سے یا ابو جہل کے ہاتھ سے بچ گئے، ۱۴۸۵۔ ان کا حضور بیان بالبعنی وہ ہرایا گیا ہے۔ یہاں لفظ یہ ہیں۔ الملائكة تتحدث عند الاعنان

والعنان الغمام بلا مریکون فی الارض فتسمع الشياطين الکھمة فتقرها فی اذن الکاهن کما تقر القارورة فی زبدین معهما سائفة اذبة۔

دیکھو ۱۴۸۵ اور نوٹ جہاں اکثر اوقات کسل اور بیکاری کی حالت میں آتی ہے۔ اور کسل سے نبی مسلم نے پناہ مانگنی سکھائی ہے اس لئے اسے شیطان

کی طرف منسوب کیا ہے۔ شیطان کے ہنسنے سے اس کا خوش ہونا مراد ہے۔ کیونکہ خضک خوش ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ اور اس کی خوشی کی وجہ ظاہر ہے کہ

جب انسان کے اندر کسل کی حالت پیدا ہوگی تو پھر وہ شیطان کی تحریکات کو آسانی سے قبول کرے گا۔ لہذا ان الفاظ سے وضاحت سے کچھ معلوم نہیں ہوتا

کہ کون کس سے لڑے۔ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا دوسری صحیح روایات سے درست معلوم نہیں ہوتا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ حدیث کے الفاظی

سے مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے ہوں۔ کیونکہ کفار کے عقب کے حصے سے مسلمانوں میں جو تواتر کفار کی وجہ سے بے ترتیب ہو چکے تھے۔

گڑبڑ ہو گئی تھی۔ یہاں ابلیس کے چننے مارنے کا ذکر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی کا فر کا ہی ہو۔ ابلیس نے مسلمانوں کو عباد اللہ کیا یا اپنے ساتھیوں کو

میرے نزدیک دوسری توجیہ بہتر معلوم ہوتی ہے جیسا کہ اس جنگ کے تاریخی واقعات سے ظاہر ہے۔ یعنی جب خالد نے پچاس تیرہ اندازوں

و اے درہ کو خالی پا کر مسلمانوں کے عقب سے حملہ کیا اور کفار کے لشکر کا بڑا حصہ شکست کھا چکا تھا اور مسلمان تواتر کفار کے تھے تو کسی ابلیسیت

کافر نے ہی بھگتے ہوئے لشکر کفار کو توجہ دلائی کہ تم پیچھے ہٹو اور اپنے تواتر کرنے والوں سے جنگ کرو۔ تاکہ وہ دونوں طرف سے نرغے میں آجائیں۔

کفار کا اپنے ساتھیوں کو عباد اللہ کتنا زیادہ قرن قیاس ہے اور شیطان کا بھی

م دیکھو قرآن ۱۴۸۵

عَفَرَ اللَّهُ لَكَ قَالَ عَمْرُوَةٌ نَمَازَاتُ فِي حَدِيثِهِ مِنْهُ بَقِيَّةٌ خَيْرٌ حَسْبُ نَحْتِ بِاللَّهِ (م) -

اللہ تمہیں معاف کرے عموہ کہتے ہیں اس سے حدیث میں ہمیشہ کیسے بھلائی کا حصہ باقی رہا یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملے

۱۵۴۴ عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَوِّرًا) (۴۶۴-۴۷۸) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

دیکھو حدیث ۴۶۴ سے روایت ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزُّورِيَا الصَّالِحَةَ مِنْ اللَّهِ وَالْحَمْدُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَرَاذَ أَحْمَدٍ أَحَدُكُمْ

سچا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور پریشان خواب شیطان کی طرف سے جو جب تم میں سے کوئی پریشان

حُلْمًا يَأْتِيهِ فَهُوَ نَبِيٌّ صِدْقٌ وَلَيْتَعَزَّذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ (۱۴۸۹)

خواب آئیے جس وقت وہ ڈرنا ہو تو بائیں طرف تھوڑے اور اس کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگے وہ اسے کوئی نقصان نہ دینگا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ الملک

شَرِيكَ لَهُ لَمْ يَكُ الْمَلِكُ وَلَهُ الْخَمْدُ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَوْمَ قَامَتِ السَّاعَةُ وَكَانَتْ لَهُ عِدَّةٌ عَشْرَ رُقَاةٍ لِقَبْلِ

دن میں سرتر پہنچے وہ لکھے اس غلام آزاد کو دیکھ کر برا بھلا کہے اور لکھے کہ

لَوْ كَانَ تَحْسِنُهُ وَتَحْيِيَّتُهُ عِنْدَ مَا تَسْتَمِرُّ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَ ذَلِكَ حَسْبِيَ مِيسَى

تیکیاں لکھی جائیں گی اور اس سربراہان کو دیکھ کر بھی لکھی آدرہ لکھے لے شیطان دن بھر بچاؤ کا سامان ہوگا یہاں تک کہ شام ہو جائے

عمل بقیۃ خیر میں میں اشد تکلم ہوتا ہے کہ حدیث ہمیشہ اپنے والد کے سامان خاتون کے لئے استفہار کرتے رہے۔

دل کو خدا کی طرف سے پھیر کر دوسری طرف لگا دیا جسکی کے کام میں روک ہونا شیطان کا کام ہی مکمل نہ کیا ہے کہ کھلم کھلا ظہور ماری خواب پر بولا جاتا ہے اور رویا اچھی خواب پر بعض وقت یہ لفظ ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں اور عینی میں ہے کہ ایک خواب اچھا بھلا اپنی صورت کے بھی ہو سکتا ہے اور بھلا اپنی تعبیر کے بھی۔ اور اس دوسرے لحاظ سے رویا نے صالحہ سے مراد سچا خواب ہے۔ اور حدیث میں جو بشارت کے معنی ہی کریم صلعم نے رویاے صالحہ کہے ہیں تو اس سے مراد بھی سچا خواب ہے۔ کیونکہ بشارت میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ یہی خبر دی جائے۔ اور چونکہ حکم کو رویاے صالحہ یعنی سچے خواب کے مقابل پر رکھا ہے اس لئے اس سے مراد پریشان خواب یا ایسے خواب ہیں جو بعض ظاہری عوارض پر ظنی وغیرہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور بعض پریشان خواب ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے انسان گھبرا اٹھتا ہے۔ اور دل پر ایک بوجھ سا محسوس کرتا ہے۔ تو ان کا علاج یہ بتایا کہ وہ بائیں طرف تھوک دے۔ تھوک دینے سے ظاہر ایک کیفیت تو یہ پیدا ہوتی ہے کہ انسان ہشیار ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ پریشان خوابی جاتی رہتی ہے۔ اور دوسرا جب انسان کسی چیز کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس پر تھوکتا ہے۔ اور بائیں طرف اس لئے کہنا کہ وہ ان کے لفظ میں مین اور برکت ہے اور بائیں کے لفظ میں نوحیت ہے۔ تو لفظی من بہت کے لحاظ سے اسے اختیار کیا۔ سچے خواب کی بڑی بھاری علامت یہ ہے کہ وہ انسان کے دل میں سچ کی طرح عکس ہوتا ہے۔ اور پریشان خواب ہمیشہ دھندلے خیالات کی طرح ہوتے ہیں۔ ان دونوں کو ملانا نہیں چاہئے۔ لا الہ الا اللہ وحده کا لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد دھو علی کل شیء قدیر۔ پڑھنا جہاں اور فائدہ کا موجب انسان کے لئے ہوتا ہے۔ شیطان سے بچاؤ کا سامان بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ شیطان سے بچاؤ کا مطلب یہی ہے کہ انسان اس طرح شیطان کی دوسرے اندازی سے بچ جاتا ہے۔ اب ان کلمات کو پڑھنے کا یہ مطلب نہیں کہ بغیر سوچے سمجھے انسان ان کو رٹ لے بلکہ جو شخص ان الفاظ کو سمجھ کر پڑھے گا اس کے دل پر خدا تعالیٰ کی بہستی اس کی وحدانیت اس کی قدرت و جبروت کا اثر بھی ہوگا۔ اور یہی وہ حس ہے جو انسان کو گناہ سے بچا سکتی ہے۔ یعنی اس کے قلب پر عظمت الہی کا اثر۔ یہ کلمات ہوں یا اور اسی قسم کے کلمات جو انسان کے قلب میں عظمت الہی کا اثر پیدا کرتے ہیں۔ وہ سب اس میں آجاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے نیکیوں کو بھلا جانا اور بدیوں کا بھو جانا ظاہر امر ہے۔ قلب انسانی کی حالت کے اندر جب تبدیلی پیدا ہو جائے تو اس کی پہلی بدیاں بھو جاتی ہیں۔ کیونکہ وہ بچے دل سے اپنی حالت تبدیل کر لیتا ہے۔ رہا یہ کہ اس کا خواب اس غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ تو اس کا منشا دور حقیقت اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ایسا انسان دوسروں کو اپنی غلامی کی حالت میں رکھنا کبھی پسند نہ کرے گا۔ کسی کو غلام بنانا کیا ہے۔ اس کے حقوق کی پرواہ نہ کرنا۔ تو یہ کلمات اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ایسا اثر انسان کے دل پر پیدا کرتے ہیں۔ کہ وہ دوسروں کے حقوق کو پامال نہیں کر سکتا۔ جب ایک امر کے لئے انسان کے قلب میں چوری تیاری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ گویا اس نے وہ کام کر دیا۔ اسی لئے حدیث کے آخر پر فرمایا کہ اس سے براہ کہ وہی شخص ہے جو اس سے براہ کر عمل کرے +

اس حدیث میں
 نماز میں قنوت سے
 مروا اور حضرت مسلم
 کی قریشی بیوی کی
 ہیں جو اس وقت کھڑی
 ہو کر صیحا کہہ دیت
 کے الفاظ سے ظاہر
 سے زیادہ ترخ ہوتی
 تھیں اور بنا آواز
 سے اپنے حقوق پر
 زور دے رہی تھیں
 نبی صلعم ان کو سمجھا
 رہے تھے کہ اتنے
 میں حضرت عمرؓ کے
 اور انہیں حافض بننے
 کی اجازت مانگی
 تو زواج مطہرات
 اٹھ کر ایک بیوی
 کو یاد دہنیں کہ حضرت
 عمرؓ کی کلام کا جواب
 اسی طرح سختی سے
 دینے کے جس طرح وہ
 سختی سے مطالبہ کر
 رہے ہیں۔ یہی وجہ
 لگنے لگ کر جو جانے
 کی تھی رسول اللہ
 صلعم کی خوبی کا کام
 اور زہنی و قلبی قرآن
 کی بات کی شہادت موجود
 ہے۔ کو سنت فظا

وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَأْذُنُكَ بِأَفْضَلٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ الْكُفْرَ مِنْ ذَلِكَ (۱۴۹) عَنْ سَعْدِ
 اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل نہیں لاسکتا مگر وہ جو اس سے بڑھ کر عمل کرے سعد
 ابْنِ أَبِي قَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَهْدِهِ نِسَاءً مِنْ قُرَيْشٍ
 بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی اجازت مانگی اور آپ کے پاس قریش کی عورتیں
 بیکلمتہ و بستکارتہ عالیہ اصواتھن فلما استاذن عمر قمن یبتدون و انجاب فاذن
 ز آپ کی بیویاں) تھیں آپ سے بظہور کرتی تھیں اور زیادہ فریخ مانگتیں تھیں ان کی آوازیں بند ہو رہی تھیں جب حضرت عمر نے اجازت مانگی تو
 لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضُوكَ فَنَقْدُ عَمْرُؤُا ضُكًا
 سب اٹھ کر پڑے میں بھاگیں رسول اللہ صلعم نے حضرت عمر کو اسے کی اجازت دیدی اور رسول اللہ صلعم نہیں رہے تھے حضرت عمر نے عرض کیا
 اللَّهُ سَمِعَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَجِبْتُ مِنْ هَذَا الْبَيْتِ كُنْ عِنْدِي فَلَمَّا سَمِعْتَ صَوْتَكَ
 یا رسول اللہ اللہ آپ کو کہتے تو میں غم رکھے فرمایا تھے ان عورتوں پر رنج آیا جو میرے پاس تھیں جب تمہاری آواز سنی تو میرے پاس
 ابْتَدَأْنَ الرَّجَابَ قَالَ عَمْرُؤُا فَانْتِ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَلِمَةٌ أَحَقُّ أَنْ تَهْبِئَنَ ثُمَّ قَالَ أَيْ عَدْلَاتِ
 حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ زیادہ سنی دار ہیں کہ وہ آپ ڈرتیں پھر عمرؓ کہا اے ابی ہاشم اور
 أَنْفُسِهِنَّ أَنْ تَهْبِئَنَ وَلَا تَهْبِئَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَ نَعَمْ أَنْتَ أَفْظَا وَأَعْلَى
 دُخْبِنِ بَحْثِ سَعْدِ بْنِ جَبْرٍ وَأَمْرُؤُا فَانْتِ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَلِمَةٌ أَحَقُّ أَنْ تَهْبِئَنَ ثُمَّ قَالَ أَيْ عَدْلَاتِ
 ان سب نے کہا ہاں بے شک تم رسول اللہ صلعم
 مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ
 کی نسبت سخت زبان اور سخت دل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ
 مَا لِي بِكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَأَلْتُكَ فَجَاغِرًا فَجَاغِرًا (۱۵۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 میں میری جان ہے کہ شیطان مجھے کسی سے میں چلن ہوا نہیں ملا مگر وہ رستے چھوڑ کر اور رستہ بدل گیا
 عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَيْقِظَ الرَّكَّ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَنَوَّضًا
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی نپنی خواب سے بیدار ہو پھر وضو کرے
 فَلْيَسْتَنْزِلْ ثَلَاثًا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ (۱۲) بَابُ ذِكْرِ الْجَنِّ وَتَوَارِيهِمْ
 تو اپنی ناک میں بارہا تکرارے کیونکہ شیطان رات کو اس کی ناک کے پاس پر رہتا ہے بَابُ جَلُونَ كَذِكْرِ اِدْرَانِ كَسْ تَوَارِيهِمْ
 وَعَلَى بَعْضِهِمْ يَقُولُ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُولٌ مِنْكُمْ يَقْضُونَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَأْتُوا إِلَى قُرْبَانِي
 عذاب کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنوں کے گروہ کیا تھا اسے پاس تم میں رسول نہ آئے تھے تم پر میری آیات کو بیان کرتے تھے (انہوں نے ۱۳۴) اللہ
 يَعْمَلُونَ بِحَسَابٍ نَقْصًا قَالَ جَاهِدُوا وَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِيسًا قَالَ لَقَارَ تَرْتِ الْمَلَائِكَةُ
 کے قول تھا جنوں تک جیسا راہیں (۱۳) نقصان اور مجاہدے لگا دو جنوں کو اللہ تعالیٰ نے انہیں سے جدا کر دیا اور ان کے لیے راستہ بنا دیا اور ان کے

یہ حدیث صحیح ہے اور اس کا معنی ہے کہ شیطان رات کو اس کی ناک کے پاس پر رہتا ہے

غلیظ القلب لا انفصا من حولك ذال عمران ۱۱۴ زواج مطہرات کا مطلب صرف اسی قدر تھا کہ حضرت عمرؓ سے ان سے بات ذکر کریں گے جس طرح رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے۔ عنوان باب کا تعلق صرف حدیث کے آخری الفاظ سے ہے۔ جہاں یہ آیت ہے کہ جن رستے پر حضرت عمرؓ جلتے ہیں شیطان اس
 رستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس طرف اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرؓ کو اس قدر قوت اور ہمت دی ہے کہ شیطان کو بھی یہ جرأت نہیں کہ ان کا مقابلہ کر سکے
 اور زواج مطہرات کے یہ لفظ کہ حضرت عمرؓ نے زبان اور سخت دل ہیں ان پر ایک چوٹ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یوں ازالہ فرمایا کہ ان کی سختی بھی معرفت جاز
 مد تک ہے ناجائز سختی یا ناجائز منسوب ان میں نہیں جس کی طرف شیطان لوگوں کو گولے جاتا ہے۔ جس سے یہ یاد رکھنا چاہئے کہ شیطان سے مراد ہر جگہ وہ شیطان نہیں جو
 نفس انسانی میں دوسرے اندازی کرتا ہے بلکہ جیسا کہ پہلے بھی عرض ہوئی ہے کہ شیطان میں گزر چکا ہے۔ حشرات الارض اور دیگر ذہبے جراثیم پر بھی یہ لفظ بولا گیا ہے۔ ان
 احادیث کے الفاظ میں کچھ کمی بیشی بھی ضرور ہوئی ہے لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ناک کا سنا اور اس کا صاف کرنا ناس سے ذہبے مراد ہے جو ناک کو صاف کرتا ہے
 اور ناک کی صفائی اور ناس کی صفائی ہی صحت انسانی کا ایک بڑا بھاری جزو ہے۔ روحانی رنگ میں ناک کا صاف کرنا اور وضو کرنا ناس کو دھو کر کے انسان کے
 اندر رہتی ہے جگہ کہ ناس ہے

بَنَاتُ اللَّهِ وَأَصْحَابُ نَهْمٍ بَنَاتُ سُرُورَاتِ الْجِنِّ قَالَ اللَّهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الْجِنَّةَ إِيَّاكُمْ لَمَحْضَرُونَ

اور ان کی باتیں جنوں کے سرور اور ان کی بیٹی ہیں اور تعالیٰ نے فرمایا اور جن خوب جانتے ہیں کہ وہ یقیناً (عذاب میں) حاضر تھے

سَخَّضَ لِلْحِسَابِ جَنْدًا مَحْضَرُونَ عِنْدَ الْحِسَابِ (۱۵۴۵) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جائز کے (العصافات سماعتی مغرب حساب کے جائزے حاضر کے جائزے جنہاں جنوں (یعین ۲۶) حساب کے وقت حاضر کئے جائے) اور جو حدیث

۳۹۹ (۱۳) بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى وَادْخُلُوا فِي الْبَيْتِ الْبَارِئِ الَّذِي تَنَزَّلَ فِيهِ الْوَيْلُ مِنَ الْبُرْءِ وَالْوَيْلُ مِنَ الْبُرْءِ

باب اور تعالیٰ کا قول وادخلوا في البيت البارئ الذي تنزل فيه الويل من البرء والويل من البرء

مقبول مصر و امجد لا صرنا رجعتا (۱۴) بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى بَشَرِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ

معنوں اور اکت ۵۳ ہرگز نہ کرے گا تعالیٰ جو صرنا رجعتا (۱۴) کے معنی میں متوجہ کیا ہے باب اور تعالیٰ کا قول وادخلوا في البيت البارئ الذي تنزل فيه الويل من البرء والويل من البرء

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الْجِنَّةَ إِيَّاكُمْ لَمَحْضَرُونَ كَمَا جَاءَتْ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

دَا الْسَّارِدُ إِخْلُصًا صَائِرًا تَهْنَأُ فِي مَلِكِهِ وَسُلْطَانِهِ يُقَالُ صَائِرًا بَسْطًا إِخْلُصًا تَهْنَأُ

اسود (۱۴) اخذ بنا صائرها (۵۷) اس کی بارشاہت میں اور زر حکمت میں کہا جاتا ہے صافات (الملک ۱۹) اپنے پیچھے لائے ہوئے

يَقْبِضُ يَضْرِبُ مِنْ يَأْتِيهِمْ (۱۲۹۱) عَنْ ابْنِ مَرْزُوقٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقْبِضُ (الملک ۱۹) اپنے پیروں کو اپنے ہوتے ابن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو

یہ لفظ جن کے نوری
تشکیق تو اس قدر ہے
کہ جن سے جنوں کے
جن کے معنی میں
اور نہایت میں ہے کہ
جن کو جن اس لئے
کہا گیا ہے کہ نہایت
کی نظروں سے معنی
ہیں اور اس لئے
باریک سا بنوں کو بھی
جن کہا جاتا ہے جنوں
کہ جن میں شیطان کے
متعلق تو باہر صراحت
ہے کہ وہ انسانوں
میں سے بھی ہوتے
ہیں اور جنوں میں

سے بھی۔ مگر جن کا ذکر جس رنگ میں کیا گیا ہے اس سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ غیر مرئی ہستیوں پر بھی بولا گیا ہے۔ اور بعض انسانوں پر بھی چنانچہ آیت مندرجہ
عنوان باب میں صاف ہے یا معشر الجن والانس انما هم بشر مثلکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور معشرہ کہ وہ ہے کہ جن کے معاملہ
ایک ہو۔ حالانکہ جن جو غیر مرئی ہستیاں ہیں وہ بالکل ایک علیحدہ گروہ ہے۔ دوسرے میں ان کو ذکر ہے کہ تم میں سے تمہارے پاس رسول آئے۔ حالانکہ قرآن
کریم میں جن قدر رسولوں کا ذکر ہے وہ سب انسانوں میں سے آئے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نیز اللعالمین اور رحمتہ للعالمین جو
کے باوجود وہی ذکر ہے کہ آپ کو کافرانہ لٹا کر بھیجا گیا۔ یعنی کل انسانوں کے لئے۔ اور لجن بھیجے کہ ان میں ذکر نہیں۔ اور انسان جنوں کے لئے رسول ہو بھی
نہیں سکا کیونکہ رسول اس جنس سے ہونا چاہئے۔ جس جنس کے رسول الیہم ہوں۔ جیسا کہ صراحت سے قرآن کریم میں ہے کہ اگر ملائکہ زمین میں آباد ہوتے تو ہر ان
کے لئے فرشتہ رسول بھیجتے۔ یہ وہ جن جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا ذکر ہے وہ بھی انسانوں میں سے ہی ہونے چاہئیں۔ قرآن کریم میں
اور کئی مقامات پر بھی جن کا لفظ انسانوں کے لئے آیا ہے۔ جیسے حضرت سیدنا کے ذکر میں۔ اور عرب کے لوگ بھی جن کا لفظ انسانوں پر ہوتے تھے۔ چنانچہ اشعار
جاہلیت میں اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ تبریزی کی شرح حماس میں لکھا ہے کہ عرب کے لوگ ایسے شخص کو جو معاملات میں تیسرے اور دوسرے ہونے لگتے تھے
تھے۔ جنوں کے ثواب و عذاب کا بیان ذکر ہے۔ اس سے مراد وہی انسان جن ہیں۔ قرآن کریم میں اس بات کی بھی صراحت ہے کہ ملائکہ اور جن دو الگ الگ
ہستیاں ہیں۔ اور انہیں کے متعلق صاف ہے کہ وہ ملائکہ میں سے نہیں بلکہ جنوں میں سے تھا۔ تو یہ جن غیر مرئی ہستیاں اور انسان جن دو الگ الگ گروہ
ہیں۔ شئیائین کو انہی جنوں میں سے کہا گیا ہے اور شیطان دونوں کی پیدائش آگ سے ہی بیان کی گئی ہے واللہ اعلم بالحقائق من قبل من
نار السموم (المجموعہ ۲۷۷) اور انہیں بھی کتاب ہے خلقتی من نار (العراۃ ۱۱) پر معلوم ہوا کہ جن غیر مرئی ہستیاں شئیائین کے معنی میں ہی ہیں اور یہ جو
عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ جن انہوں کے معاملات میں داخل دیتے ہیں اور انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں عظیم اسلام کی رو سے اس کی کوئی اصلیت معلوم
نہیں ہوتی۔ عرب میں دستور تھا کہ جب نیا مکان بناتے تو اس کی تکمیل پر جانور ذبح کرتے تاکہ جن اس مکان کو نقصان نہ پہنچائیں تو نبی صلعم نے اس سے منع کیا چنانچہ
ایک حدیث میں جو آتا ہے بھی عن ذالمنا جن تو اس کی ہی تشریح ابن اثیر نے کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے خیالات کو
جو وہ ان میں سے آج بھی مروج ہیں دور کرنا چاہتے تھے۔ ہذا مگر روایت کے لفظ قرآن ۳۹۹ کے ہی ہیں۔ اس میں صرف یہ ذکر ہے کہ مؤذن کی آواز
جاں تک پہنچتی ہے جن اور انسان اور ہر جنیت است کے دن اس کی گواہی دے گی۔ یہ گواہی زمان حال سے ہے۔ یہ طلب نہیں کر قیامت کے دن
ان سب چیزوں کو لکھا کر کے لایا جائے گا۔ جنوں کی گواہی، اس رنگ کی ہونگی جیسے دیگر شئیائین کی۔ نیز ذمہ کوٹ ۱۷ صفحہ ۱۶۳ ۱۶۴ اس باب میں حدیث
کوئی نہیں۔ آیت قرآنی جن مراد جن سے انسانوں کا ہی کوئی گروہ ہے۔ جن کے اس قول سے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کے بعد ایک کتاب اتاری گئی۔ یہ معلوم
ہوتا ہے کہ یہ یہودی تھے۔ اور چونکہ خاص عرب کے رہنے والے نہ تھے۔ اس لئے انہیں جن کہہ دیا گیا ہے۔

يُخْطَبُ عَلَى الْمَبْرِ يَقُولُ قَتَلُوا الْحَيَاتِ اقْتُلُوا إِذَا الطَّفِيتِينَ وَالْأَبْرَفَاءَ لَهَا يَطْمَسُكَ

مذہب پر خطبہ پڑھتے ہوئے سنا فرمایا سانپوں کو مار دیا کرو اور دو دھاری والے اور دم کے سانپ کو بھی مار دیا کرو وہ اکٹھے کی بیٹی کو

الْبَصْرُ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبْلُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَبَيْنَا أَنَا أَطَارُ رَجُلًا لَا قَتَلَهَا فَنَادَى ابْنِي أَوْ

سب کرتے ہیں اور حمل گرا رہے ہیں عدا شدت کے ہیں کسی وقت میں ایک سانپ کے پیچھے ہوا کہ اسے مار دوں ابو بابر نے مجھے کہا

لِبَابَةِ لَا قَتَلَهَا فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَاتِ قَالَ

کراسے مار دو میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپوں کے مارنے کا حکم دیا ہے ابو بابر نے کہا

رَأَيْتَهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ الْبَيْوَتِ هِيَ الْعَوَامِرُ (۱۵) بَابُ مَا بَدَأَ الْمُسْلِمُ

اپنے اس کے بعد گھروں کے پینٹے والے سانپوں کو مارنے سے منع فرمایا ہذا اور کھو امر کہتے ہیں ما

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (مكرر- ۱۸) غَمٌّ يَتَّبِعُهَا شَعْفُ الْجِبَالِ (م- ۱۵۲۶) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (مكرر- ۱۸)

ہیں جنہیں نیک پھاڑوں کی چوٹیوں پر پھر تاپے دیکھو حدیث ۱۸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأْسُ الْكُفْرِ شُحُوكُ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر کی جوئی مشرق کی طرف ہے

الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبُ الْخَيْلُ فِي أَهْلِ الْخَيْلِ الْأَبْلُ الْفَدَاءُ دِينَ أَهْلِ الْوَبْرِ التَّكْسِيَةُ فِي أَهْلِ النَّعْمِ

اور مغرب اور کھوڑوں اور اونٹ والوں اور زمینداروں یا دیہ کے رہنے والوں میں اور غربت مزاج بکری والوں میں چمکتا

علاء ابن عمر
حدیث میں سانپوں
کے مارنے کا حکم
عام ہے۔ خواہ وہ
گھروں کے رہنے
والے ہوں یا جنگل
کے اور صحیح حدیث
میں ہے کہ نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ پانچ چیزیں
کو مار دو خود وہ
میں ہی ہوں جن
میں سے ایک سانپ
ہے۔ اور ایک حدیث
میں یہ لفظ آتے
ہیں من تر کھن
حافظہ شامی

فليس منا وعيني) جو شخص ان کے شرکے ڈرے انہیں چھوڑنے یعنی نہ مارے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس صراحت کے ہوتے ہوئے ابوبابہ کی حدیث کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد گھروں میں رہنے والے سانپوں کے مارنے سے روک دیا تھا قابل قبول نہیں۔ اور عین میں ہے کہ صحیح میں ابوبابہ کی صرف یہی ایک حدیث ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی توجیہ یوں کی ہے کہ گھروں میں رہنے والے سانپ جن کو عوام کہتے تھے بے ضرر تھے لیکن اگر کوئی خاص قسم کے سانپ بے ضرر ہوں بھی تو یہ بات سب گھروں میں رہنے والے سانپوں پر صادق نہیں آتی بس حدیث اپنی عمر میت میں ہی قابل قبول ہے۔ ہمزوی چیز چاہے گھرنے اندر ہو یا باہر مارنے کے قابل ہے۔ سانپ کے حمل گرانے سے شاید یہ منشا ہو کہ حمل والی عورت اس سے خوف کھائے گی یا خوف کھا کر بھاگے گی تو اس کا حمل ضائع ہو جائے گا۔ اور بعض سانپوں کی آنکھ میں خاص اشہی ہوتا ہے۔ لیکن ہے طمس بھروسے اسی قدر مراد ہو کہ سانپ کی آنکھ جب انسان کی آنکھ سے مل جائے تو وہ بل نہیں سکتا۔ اور یا شاید زہر کے اثر سے بیانی کا جاتا رہتا مراد ہے۔ لفظ طمس کے ہی ہیں۔ حال المسلم کی جاگہ حال الرجل ہے یعنی عام کر دیا ہے۔ یہاں بکریوں کو اس لحاظ سے ایک شخص کا بہترین مال قرار دیا ہے۔ کہ نشتے کے وقت وہ اسحاق میں نہیں پڑتا بلکہ اپنی بکریوں کو لے کر پھاڑوں کی چوٹیوں پر چلا جاتا ہے۔ تھوڑا مال جس کے ساتھ انسان کی آزادی رائے قائم رہ کے بت سے اچھا ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے ایمان اور ضمیر کو بھی بچ دیتا ہے۔ شاید اس لحاظ سے بھی کہ بکریاں چلنے کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے مسلمان کے لئے پیشہ جو بھی ہوجزت کا پیشہ ہے۔ چنانچہ اگلی حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ اونٹوں والے اور زمینوں والے منکبر ہوجاتے ہیں اور بکریوں والے غریب مزاج ہوتے ہیں۔ لفظ رأس الکفر یا کفری جوئی مشرق کی طرف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سب سے شدید مخالفت اسلام کی کسری یعنی ایرانیوں نے کی یہاں تک کہ کسری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاک کو گولے بکھڑے کر دیا اور اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ آپ کو گرفتار کر لائیں اور گو قیصر بھی مخالفت تھا مگر یہ لوگ نشتا زم تھے اور ایران کے مشرق میں ہے۔ علاوہ ازیں ظہور و حال بھی مشرق ہی بتایا ہے۔ اس لحاظ سے مشرق کو رأس الکفر کہا ہے کہ پہلے زمانہ میں بھی اور پچھلے زمانہ میں بھی سخت ترین مخالفت اسلام کی وہیں سے ہوئی ہے۔ فدا دین۔ فدا دین کی جگہ بھی ہو سکتی ہے۔ جس کے معنی ہیں بلند آوازوں والے اور جس کے اونٹوں کی قدر اور دوسرے اوپر بولنے بھی فدا دینا جاتا ہے۔ اور فدا ان کی جگہ بھی ہو سکتی ہے اور وہ کھینچ کا آلہ ہے۔ اس لحاظ سے مراد زمیندار ہو گئے اہل الوبر سے مراد اہل البوادعی ہیں جن میں طبعا غفلت زیادہ ہوتی ہے۔ شہروں میں رہ کر پھر کچھ تہذیب پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض باتیں وقتی رنگ کی بھی احادیث میں موجود ہیں۔ لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ پیشہ کا اثر اخلاق پر ہوتا ہے۔ اور خاص خاص پیشوں سے خاص قسم کے اخلاق اچھے یا برے پیدا ہوتے ہیں۔ بعض پیشوں میں سخت دلی پیدا ہوجاتی ہے۔ بعض میں سخت گھامی، بعض سے تکبر پیدا ہوتا ہے۔ بعض میں سخت اور غربت ہوتی ہے۔

۱۲۹۳) عَنْ أَبِي مُسْعُودٍ قَالَ أَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ الْيَمِينُ فَقَالَ

ابو مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

الْإِيمَانُ يَمَانٌ هَهُنَا الْآيَاتُ الْقِسْوَةُ وَعَلَطَ الْقُلُوبَ فِي لَفْظِ أَدِينٍ عِنْدَ أَصُولِ

ایمان یمن میں ہے اس طرف سونچنا کا یہی اور تخت دلی اور ٹوں کی دم پر لکھ جانے والوں میں ہے

أَذَانًا لِأَبْلِ حَيْثُ يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ فِي رَيْبَةٍ وَمَضَى (۱۲۹۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

جہاں شیطان کے دو گروہ ریبہ اور مضر میں ظاہر ہوں گے

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الذِّبْيَةِ فَاسْتَأْذِنُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ

کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو

فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهْيَ بِلْحَادٍ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلَمَّا رَأَى

کہ مرغ نے فرشتہ دیکھا ہے اور جب تم گروسے کی آواز سنو تو شیطان سے خدا کی پناہ مانگو

الشَّيْطَانَ (۱۲۹۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

شیطان دیکھا ہے

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَدْ أَتَى مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَأَيُّ دَلِيٍّ كَانَتْ دَانِي لَا أَرَاهَا

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا بنی اسرائیل کی ایک قوم تم ہوگی

الْفَاعِلُ وَأَوْضَعُ لَهَا الْبَانَ تَشْرِبُ إِذَا وَضَعَهَا الْبَانَ الشَّوْشَرِيَّتِ مُحَمَّدٌ لَيْتَ لَعْنَةُ

جب ان کے سامنے اونٹنی کا دودھ رکھا جائے گا اور وہ شرب کرے گی اور جب ان کے سامنے بکری کا دودھ رکھا جائے گا تو پی لیتے ہیں میں ابو ہریرہ سے

أَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لِي مِمَّا رَأَيْتُ أَفْأَقْرَأُ التَّوْرَةَ

جان کی تو انٹوں کا کیا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنی ہو کر فرشتہ تھے میں تمہارا ہوں جو بار بار پڑھا تو سچ کہا گیا میں تو بیت پڑھا کرتا ہوں

بِأَنَّهَا كَرِهَتْ أَنْ تَرَى بَنِي إِسْرَائِيلَ يَتَمَلَّكُونَ الْبَانَ وَتَرَى بَنِي إِسْرَائِيلَ يَتَمَلَّكُونَ الْبَانَ

یہی میں عیساکہ اور ڈر کر ہوا۔ مگر یہاں اس کے ساتھ ریبہ اور مضر کے لفظ براہ کمال ہیں۔ شاید کسی راوی کا تصرف ہو یا ربیعہ اور مضر کے قبیلوں نے اسلام کی

بیت مخالفی لکت کی ہو۔ مگر مرغ عربی پھیل رات باگ دیتا ہے اس وقت اللہ کے فضل مانگنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز تہجد اس وقت اٹھ کر پڑھ

لیا کرو۔ اور اللہ سے دعا کرو کہ یہ قبول دھکا کا خاص وقت ہے۔ مرغ نے فرشتہ کو دیکھا ہے یعنی فرشتوں کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے یہ جاگنے اور

شناخت وقت کا سامان پیدا کر دیا ہے۔ گدھے کی آواز اس کے جیرانی جذبات اور خواہشات کی وجہ سے ہوتی ہے جو شیطان کی تحریک سے ہوتی جو اپنے

فرمایا کہ اس وقت شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو یعنی ایسے جذبات اور خواہشات سے دور رہو۔ مگر روایت مختصر ہے۔ اعلیٰ باگ و آذکر اسم

اللہ سے بعد کا حصہ یہاں نہیں ہے اور اس کے بعد یہاں یہ آواز ہے فان الشيطان لا يقع فاما مخلقا باقى الفاظ تقريرا دہی ہیں۔ البتہ یہاں اقلوا الاصول

واذ کرد اسم اللہ بصیغہ جمع آیا ہے۔ دیکھو ۱۲۹۴ پر نوٹ۔ شیطان کے بند دروازہ نہ کھول سکتے تھے یہی مراد ہے کہ حشرات الارض باہر سے اندر نہیں

آسکتے۔ ورنہ شیطان جو دوسرا اندازی کرتا ہے اس کا بند دروازہ نہ کھول سکتے تھے۔ جو لوگ دروازے بند کر کے زنا کاریاں یا اور جرائم کا ارتکاب

کرتے ہیں کیا وہ محکمیک شیطانی کے بغیر ہی ہوتا ہے بلکہ دوسروں کے والدین اور شیطان تو بند دروازوں میں زیادہ دوسرا اندازی کرتا ہے۔ مگر اس حدیث

کے سمجھنے میں حضرت ابو ہریرہ کو کوئی غلطی لگی ہے اور یہی وجہ ہے کہ کتب بار بار ان سے پوچھا کہ کیا تم نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ صاف نظر آتا ہے کہ کتب

سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی بات نہیں کہہ سکتے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کا جواب کیا میں تو بیت پڑھا کرتا ہوں کتب پر ایک گزیر بیٹھ ہے کیونکہ وہ یہودی سے مسلمان

ہوئے تھے۔ اور بہت سے اسرائیلی قصے روایات میں ان کی طرف منسوب ہیں۔ اہل بات یہ ہے کہ چونکہ زبان عربی میں ذبیحہ لکھا جاتا ہے جو فاسق کی

تصغیر ہے۔ تو یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی کسی قوم کو ان کے فسق کی وجہ سے چوبیسے تشبیہ دی ہے۔ اور یا ممکن ہے اپنے بنی اسرائیل کی گوشہ

قوموں کا ذکر کیا ہو اور ان کو اس لحاظ سے چوبیسے سے شمال دی ہو کہ جس طرح چوہا ایک جگہ سوراخ میں اٹھ ہو کر دوسری جگہ جا لکھتا ہے اسی طرح یہ تو میں اپنے اہل

وطن سے نکل کر کسی دوسرے ملک میں جا آیا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ اس کو ٹھیک سمجھ نہیں سکے۔ چوہا اونٹ کا دودھ نہیں پیتا اس پر اہل عرب کی شادیت قطعی

ہوگی۔ خواہ حضرت ابو ہریرہ نے یہ تفصیل خود کی ہو۔ اور بنی اسرائیل بھی اونٹ نہ کھاتے تھے اونٹ کا گوشت ان کے ہاں حرام سمجھا جاتا تھا اس لئے اونٹ کا دودھ

بھی نہ پیتے ہوں گے۔ لیکن ہے اسی ظاہری مناسبت کے لحاظ سے یہ لفظ آئے ہوں۔ اور یہی ممکن ہے کہ کسی وقت بطور مزاح آپ نے یہ فرمایا ہو کہ بنی اسرائیل بھی

اونٹ کا دودھ نہیں پیتے اور چوہا بھی نہیں پیتا۔ بہر حال ان قصے کی احوال دہش میں محدثین کا پناہ مذہب ہے کہ وہ زیادہ در پرتال نہیں کرتے۔

علا بیان یمن میں ہے بعض کے نزدیک یہاں کہ مضر رواد ہے کہ بکرہ وہ دین ہے یا بکوک سے جہاں آپ نے یہ فرمایا یمن کی جہاں ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ارض تمام جس میں مکہ منکر ہے یمن میں سے ہے منصور بھی اہل یمن کے ہی رہنے والے تھے۔ اور یمن عربوں نے اسلام بھی جلد قبول کیا وہ شیطان کے وہ گرد ہوں سحر و سیر سے نزدیک ہوئی اور وہاں جا کر وہ

(م- ۱۵۴۸) عَنْ عَائِشَةَ (متکرر- ۹۳۲) (۱۴۹۶) عَنْ اُمِّ شَرِيكٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَّهَا بِسَلْمِ بْنِ اَبِي نَجِيحٍ	دیکھو حدیث ۱۴۹۳	۱۴۹۳
(م- ۱۵۴۹) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا (متکرر- ۱۴۹۱) اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَّهَا بِسَلْمِ بْنِ اَبِي نَجِيحٍ	دیکھو حدیث ۱۴۹۱	۱۴۹۱
(م- ۱۵۵۰) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا (متکرر- ۱۴۹۱) اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَّهَا بِسَلْمِ بْنِ اَبِي نَجِيحٍ	دیکھو حدیث ۱۴۹۱	۱۴۹۱
(م- ۱۵۵۲) عَنْ اَبِي عُمَرَ (متکرر- ۱۴۹۱) (۱۶) بَابُ خَمْسٍ مِنَ الذُّرَاثِ فَاَسْرَقَ يَفْتُلُنُ فِي الْحَرَمِ	دیکھو حدیث ۱۴۹۱	۱۴۹۱
(م- ۱۵۵۳) عَنْ عَائِشَةَ (متکرر- ۹۳۰) (۱۵۵۴) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (متکرر- ۱۴۸۱) (۱۵۵۶) عَنْ عَبْدِ اللهِ (متکرر- ۹۳۱) (۱۵۵۷) عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ (متکرر- ۱۳۷۹) (۱۷) بَابُ اِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابٍ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِمْهُ فَاِنْ فِي اَحَدِيْ جَنَاحِيْهِ دَاءٌ وَفِي الْاُخْرَى شِفَاءٌ	دیکھو حدیث ۱۴۹۳	۱۴۹۳
(م- ۱۵۵۸) عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ (متکرر- ۱۳۷۹) (۱۷) بَابُ اِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابٍ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِمْهُ فَاِنْ فِي اَحَدِيْ جَنَاحِيْهِ دَاءٌ وَفِي الْاُخْرَى شِفَاءٌ	دیکھو حدیث ۱۳۷۹	۱۳۷۹

۱۴۹۳ کو لڑکر
بڑھایا ہے و زعم
سعد بن ابی نجیح
ان النبی صلی اللہ
علیہ وسلم امر
بقتلہ۔ من شد
میں ہے کہ حضرت
عائشہ نے فرمایا۔
میں نے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم سے
یہ نہیں کہ ذبح
کو قتل کر کے کھانے
پر اور یہاں سعد بن
ابی وقاص سے ہے
کہ آپ نے اسے
قتل کرنے کا حکم دیا
ذبح کو ذبح سے
ہے۔ یعنی موذی
تو اس نے اسے
ماتے کا حکم دیا
اور روایتوں سے
اس کی تائید ہوتی

۱۴۹۳ کو لڑکر
بڑھایا ہے و زعم
سعد بن ابی نجیح
ان النبی صلی اللہ
علیہ وسلم امر
بقتلہ۔ من شد
میں ہے کہ حضرت
عائشہ نے فرمایا۔
میں نے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم سے
یہ نہیں کہ ذبح
کو قتل کر کے کھانے
پر اور یہاں سعد بن
ابی وقاص سے ہے
کہ آپ نے اسے
قتل کرنے کا حکم دیا
ذبح کو ذبح سے
ہے۔ یعنی موذی
تو اس نے اسے
ماتے کا حکم دیا
اور روایتوں سے
اس کی تائید ہوتی

۱۴۹۳ کو لڑکر
بڑھایا ہے و زعم
سعد بن ابی نجیح
ان النبی صلی اللہ
علیہ وسلم امر
بقتلہ۔ من شد
میں ہے کہ حضرت
عائشہ نے فرمایا۔
میں نے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم سے
یہ نہیں کہ ذبح
کو قتل کر کے کھانے
پر اور یہاں سعد بن
ابی وقاص سے ہے
کہ آپ نے اسے
قتل کرنے کا حکم دیا
ذبح کو ذبح سے
ہے۔ یعنی موذی
تو اس نے اسے
ماتے کا حکم دیا
اور روایتوں سے
اس کی تائید ہوتی

(۱۴۹۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَع الدُّبَابُ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے

فِي شَرَابٍ أَحَدُهُ فَلْيَمْسَهُ تَمَّ لِيَزْعَهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنْبَيْهِ أَوْ فِي الْآخِرِ شَفْطَةً

پانی میں کسی پرانی پانی سے اور اسے ڈالنے کے بعد اس کے دو طرفوں میں سے ایک میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَيْرَ لَامْرَأَةٍ مَوْسِمَةٌ قَمْرَتٌ يَكْلِبُ عَلَيَّ

ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک نے فرمایا ایک بدکار عورت اس لئے مجھے بھی گروہ ایک گتے کے پاس

رَأْسِي كَيْ يَلْتَمِسَ قَالَ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ فَنَزَعْتُ خُفَّهَا فَأَوْقَعْتُهُ فِيهَا رَهًا فَزَعَتْ لَهَا

سے گزری جو کنوئیں کے سر پر کھڑا نہ ہوا تھا قریب تھا کہ وہ پیاس سے مر جاتا اس نے اپنا نمونہ اتارا اور اسے اپنے دو گتے سے بانٹھا اور گتے

مِنَ الْمَاءِ فَنَفَخْتُ لَهَا بِذَلِكَ (م- ۱۵۵۹) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر- ۱۳۵۸) (۱۴۹۹)

کھینے پانی نکالا اس کی وجہ سے وہ بخوبی ٹھیک ہو گیا

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكَلْبِ (م- ۱۵۶۰)

عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کے مارنا حکم دیا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر- ۱۱۲۷) (م- ۱۵۶۱) عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى (متكرر- ۱۱۳۷)

دیکھو حدیث ۱۱۲۷

۷۰- كِتَابُ الْأَنْبِيَاءِ

کتاب الانبیاء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَابُ خَلْقِ آدَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ذُرِّيَّتُهُ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ خَلْقُ آدَمَ مِنْ نُصْصَلُ كَمَا

باب آدم اس پر اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی اولاد کی پیدائش صلوات اللہ علیہم صلوات اللہ علیہم خلیق آدم سے

يُصَلِّصَلُ لِنَحْوِ دَوَائِقِ الْمَلَكِ يَرِيْدُونَ يَصِلُ كَمَا يَقَالُ صَحْرُ الْبَابِ وَصَرُّ صَرٌّ عِنْدَ

جس طرح ٹھیکری آواز دیتی ہے اور اس کے معنی بد بو دار ہیں مراد ہے کہ وہ صلی سے نکلتے ہیں جس طرح کما جاتا ہے صر اللہ صر

الْإِعْلَانِ مِثْلَ كَيْفِيَّتِهِ يَعْنِي كَيْفِيَّتَهُ فَمَرَّتْ بِهِ اسْتَمْرَجَهَا أَحْمَلُ فَاتَّقَتَهُ أَنْ لَا تَسْجُدَ

دروازہ بند کر کے وقت اس سے آواز نکلتی ہے (میں نے اسے نہ کر کے نہ گرا دیا) کی طرح مجھے کستہ صرف یہ والا امراف (۱۱۹) (محل کو کیجیے ترقی)

أَنْ تَسْجُدَ الرَّابُّ بَابٌ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ

کہ تو سجد کرے باب اللہ تعالیٰ کا فرمان واذا قال ایذرا بقوله ۳۰ جب تیرے رب نے ملائکہ سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا

خَلِيفَةً قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمَّا عَلِيهَا حَافِظًا لِأَعْلِيهَا حَافِظًا لِمَا فِيهَا فِي شِدَّةِ خَلْقِ وَ

ہوں ابن عباس نے کہا لفظ علیہا حافظ الطارق (۳۰) مگر اس پر ایک لفظ ہے معروف ہے فی کتبہ والبد (۳۰) شفقت کی پیدائش اور

محل اس روایت میں صحت طور پر ایک وجہ بیان کی گئی ہے اگرچہ صحیح طور پر یہ بات درست معلوم ہو تو حدیث قابل قبول ہے درج ذیل سے ہی راوی کی غلطی نہیں ہو سکتی قرار دیا جائے گا صرف باقی

کتوں کا ذکر بھی حدیث میں ہے۔ جس میں کتوں کے مارنا حکم عام نہیں ہو سکتا۔ شاید آوارہ کتوں یا کاشنے والے کتوں کے مارنے کا حکم ہے جو یا کسی خاص موضع یا موقع پر جب کتوں میں بولائی کا مرغی ہوگی جو یہ حکم دیا ہو۔ یہاں یہ لفظ میں من اسلک کلبا بقص من عمل کل یوم قیراط الا کلب حردا و کلب عاشقہ یعنی یاریوں کی حفاظت کیلئے جس طرح ناکرکنا جارے اس طرح مکان یا گھر یا انسان کی اپنی حفاظت کے لئے بھی اس کا رکنا جائز ہے۔ لہذا کہنے کا ذکر بھی اس حدیث میں نہیں مگر قرآن کریم میں باصراحت موجود ہے۔ لہذا یہاں حلیف تفسیر لفظی سے لیا گیا کہ وہ ہر ایک ہے

(م- ۱۵۶۳) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (متکرر- ۱۱۲) / ۱۵۶۱) عَنِ ابْنِ قَالٍ بَلَّغَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ

دیکھو حدیث ۱۱۲ محلہ اس سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن سلام کو

مَقْدَمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَإِنَّا نَقَالَ لِرَبِيِّ سَأَلْتُكَ عَنِ نَثْلِ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کی خبر پہنچی وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں آپ میں نہیں

نَبِيٌّ قَالَ أَوَّلُ شَرْطِ السَّاعَةِ وَمَا أَوَّلُ طَعَامِهَا مِثْلُكَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَمِنْ أَيْ شَيْءٍ لَا يَرِثُ الْوَالِدَ

پر حضرت جابر بن عبد اللہ کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نشان کو نبی پر اور نبی کا پہلا کھانا جسے وہ کھا تب تک کے لیے جو اور کس دوست

رَبِّي أَبِي بَيْتٍ مِنْ أَيْ شَيْءٍ يَأْتِيهِمْ لِي أَخُو الْوَالِدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرٌ لِي مِنْ أَبِي

جو باپ کا بیٹا ہوتا ہے اور کس دوست سے وہ نہاناں کی نشانی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیٹا ہے ابی بن ابی تالیب کی

جِبْرِيلَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ذَاكَ عَدُوٌّ مِنَ الْعَدُوِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

خیر نبی وہی ہے کہ خدا نے اسے کادہ تو ان کے میں سے یہود کا دشمن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

أَنَّ أَوَّلَ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ نَزْهُنَا شَمْسٌ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ أَقْوَامٌ أَهْلُ صَعَامِ مِثْلِكَ

اور وہ جو گھڑی کی پہلی نشان تو آنگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کو لے جائیگی محلہ اور پہلا کھانا جسے جنت والے کھائیں

أَهْلُ الْجَنَّةِ كَزِيَادَةٍ كَبُرْ حُوتٍ تَأْمَأُ الشُّبُهَةَ فِي الْوَالِدِ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا اغْتَسَى الْمَرْءَةَ فَسَبَقَهَا

کے وہ کھل کے پیچھے پڑا اور صف سے کھلا اور کچھ کی مشابہت کی وجہ سے کہ وہ جب عورت کے ساتھ ہم بستہ ہو اور اس کا بانی عورت

فَأَوَّلُ مَا كَانَ الشُّبُهَةَ وَإِذَا سَبَقَتْ وَأَوَّلُهَا كَانَ الْقَبِيحُ لَهَا قَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ

کے بانی پر غالب ہلے تو اس وقت اس عورت کی بانی غالب آجائے تو اس وقت اس عورت کی بانی کو نبی کا بیٹا نہیں کہ آپ نے

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ يَهْتَدُونَ بِمِثْلِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ قَبْلُكَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بِمِثْلِكَ عِنْدَكَ

رسول ہیں یہود میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہتھان لگا کر غائی قوم ہیں اگر ان کو میرے مسلمان ہونے کا علم ہو تو اس سے بچ کر آپ ان سے روکتے

فَجَاءَتْ الْيَهُودُ وَدَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ الْبَيْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ رَجُلٍ

فرمایا تو وہ تم پر ہتھان لگا کر میں نے جب نبیوں نے آئے اور عبد اللہ بن سلام ایک کوسے میں گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا

فِيكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ لَوْ أَعْلَمْنَا وَأَبْنُ أَخِي وَأَبْنُ أَخِي وَأَبْنُ أَخِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

تم میں عبد اللہ کیا آدمی سے انہوں نے کہا وہ جو عرب میں بڑے عالم اور ہم سب میں بڑے عالم کے بیٹے ہیں اور ہم سب میں افضل اور سب میں

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِفْرَأَيْتُمْ أَنَّ اسْمَهُ سَلَمٌ لِي لَوْ أَنَّ أَعَادَةَ اللَّهُ لَمْ يَزَلْ خَيْرٌ جَزَعْنَا عَبْدُ اللَّهِ الْبَيْتِ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارا اگر عبد اللہ بن سلام انہوں نے کہا اس سے اس سے بچائے رکھے عبد اللہ بن سلام کے پاس

فَقَالَ شَهِدْنَا أَنَّ اللَّهَ أَهْلُ اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ الْوَأَشْرَقُوا مِنْ شَرْقِيٍّ وَوَقَعُوا فِي

آئے اور کلمہ میں وہ ایسی باتوں کو کہ جو عرب مشرقی ہوں اور محمد اللہ کے رسول ہیں تو یہود دیکھنے لگے ہم سب میں برا اور ہم سب میں برے کا بیٹا اور اس کو

کرنے کی بھی شہادت ہے کہ یہودی جبریل کو اپنا دشمن سمجھتے تھے اور اس کی وجہ یہ وی گئی ہے کہ وہ جبریل کو عذاب لایا تو ان فرشتہ سمجھتے تھے چونکہ جبریل نبی

کا فرشتہ تھا اور وہی میں منکر کو کیسے عذاب کی خبر تھی اس نے یہود کا یہ خیال ہو گا کہ محلہ فتح الباری کتاب الرقاق باب کیف الحشر من نادر حضرت انس من

المشرق الى المغرب کے متعلق لکھا ہے و یحتمل ان یكون الناری حدیث اش کتاب عن الفتن المنقورة التي انثارت الضم العظيم والتهب كما لقطه

النار یعنی ہو سکتے کہ حدیث اش میں ان نار میں ہیں جاننے فتنوں سے کیا ہے جو شہ عظیم کو برپا کریں اور اس طرح شعلے ماریں جیسے آگ شعلے مارتی ہے۔ نار کہ

لفظ جنگ جو عرب میں بولا جاتا تھا اور قرآن کریم میں ہے کلمنا اذ قلنا اننا را للعرب پس نمت یا جنگوں پر نار کہ بولا جاتا تھا اور عرب کے مطابق ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے

جنگ کی ایک عظیم نشان آگ بھڑکی جو مشرق سے لوگوں کو آگ لگا کر کہ مغرب کی طرف لپکتی اور آج دنیا کی جڑوں کی آگ بھی مشرقی لوگوں کو مغرب کی طرف لپکاری ہے

یا مغرب کا پیرو بنا رہی ہے۔ محلہ اس کو لڑ پڑتین کھانا کہا گیا ہے۔ اور اشارہ بھی اسی طرف ہے کہ ان کو لڑ پڑتین کھانے میں گئے۔ در نہ وہ فاطمہ

رات کے مصداق ہیں۔ اور اس دنیا کی چیزیں نہیں۔

۱۵۶۱
محلہ کلمہ ایسی ہی
وہی مضمون اقتضا
کے ساتھ دوسرا لیا
گی ہے البتہ یہاں
خطبت ام سلمہ
دیکھو کہ بیگانہ
پس حضرت ام سلمہ
حدیث میں صرف
یہ ذکر ہے کہ کچھ
ماں سے بھی شایہ
ہوتا ہے
محلہ قصص کی عادت
میں زراویوں نے
پوری احتیاط کرتی
ہے نہ محمد میں نے
زیادہ پڑنا ل کی ہے
اشراط الساعۃ
اور جنت کا تعلق تو
نبوت سے ہے کلم
ہے لیکن سچے کلاب
یاماں کے شایہ جونا
ایک نبوی امر ہے
پس یا تو یہ حدیث
بن سلام کو ذاتی خیال
تھا کہ نبی ہی ایسا بنا
سکتا ہے یا کلمہ سچ
روایت کے الفاظ
میں کچھ بھی جبری ہو
عنی ہوا
محلہ اس پر قرآن

(۱۵۰۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَاكَ بِعَيْنِي لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ
 ابومریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا رسول اللہ

لَمْ يَخْزِلْ لِحَمٍّ وَلَا خَوَّاحًا لَمْ يَخْزِنْهُنَّ أَنْتِي زَوْجُهُمَا (۱۵۰۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ
 گوشت درمنا اور اگر خزانہ ہو تو کوئی بھرتا ہے، نہ کہ دھوکا نہ دیتی ہے۔ ابومریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْصَا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضَلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے بھلائی کرنے میں میری وصیت مانو کیونکہ عورت پہلی سے پیدا ہوئی ہے اور پہلی میں سے

فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنَّ ذَهَبَ تَقِيْمًا لِسُرَّتِهِ وَإِنَّ تَوَكُّلًا لَمْ يُزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ
 نیز اسی جگہ اس کا اوپر کا حصہ ہے اگر تم سے بہتر کچھ نہ ہو تو تودو دنگے اور اگر تم سے بدتر تو چار بھری بھگائی ہوں گے۔ تمہیں چاہیے کہ تم لوگوں کی

(۱۵۰۴) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (مُتَكَرِّرًا) (۱۷۵۰) (م-۱۵۶۵) عَنْ أَنَسٍ (مُتَكَرِّرًا) (۲۳۴) دیکھو حدیث ۱۷۵۰ دیکھو حدیث ۲۳۴

(۱۵۰۴) عَنْ أَنَسٍ يَرْفَعُهُ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَا كَهْرَمَانَ أَهْلُ النَّارِ عَدُوٌّ لَكَ وَأَنْ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ
 اس سے روایت ہے اسے رفوع بیان کرتے ہیں کہ اللہ دو نوح والوں میں سے جو سب کے خدایاں اور اسے فرمایا کہ زمین میں جو کچھ

۱۵۰۲ اس روایت کے الفاظ تائید ہیں کہ اس میں کچھ نہ کرنا پڑے گی ہے کیونکہ یہاں حدیث یوں ہے۔ عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی لولا بنو اسرائیل اور یعنی کے الفاظ معامت تائید میں ہے کہ راوی کو تردد ہے کہ کوئی کہا تھا

یا کچھ اور کہا تھا۔ چنانچہ فتح الباری میں ہے کہ نہ بشر بہ الی ان اللفظ الذی حدیثہ شیخہ ہو بمعنی اللفظ الذی ساقہ ذکا نہ کہتہ من حفظہ و تمدنی بعضہ۔ ان حالات میں اس حدیث کے مفہوم میں اگر کچھ بھی نقص معلوم ہو تو اسے ترک کرنا ہوگا۔ مگر میں نقص تو ایک طرف رہا دو بالکل بے معنی اور بے سرو پا باتیں اس روایت میں اکٹھی کر دی گئی ہیں۔ اگر نبی اسرائیل نہ ہوتے تو دنیا میں گوشت نہ مڑتا۔ اور اگر خزانہ ہوتیں تو دنیا میں کوئی عورت اپنے خاندان کی خیانت نہ کرتی۔ کیا نبی اسرائیل سے پہلے گوشت نہ مڑتا تھا اور باقی چیزیں مڑیں جا یا کرتی تھیں۔ اور پھر نبی اسرائیل کے کسی نعل کا خراساری دنیا کے گوشت پر کس طرح پڑا۔ اگر نبی اسرائیل سے پہلے دنیا میں گوشت نہیں مڑتا تھا تو مردہ انسانوں کو دفن کرنے کی کیا ضرورت پیش آتی تھی۔ کیوں لوگ لاشوں کو اسی طرح نہ رکھ چھوڑتے۔ بلکہ ہے کوئی ایسے لفظ حضرت ابومریرہ نے روایت کئے ہوں کہ نبی اسرائیل میں گوشت کا ذخیرہ کرنے اور پھر مڑا ہوا گوشت کھانے کی وجہ سے دیا یا بیماری پیدا ہوئی۔ ورنہ نبی اسرائیل کے کسی نعل کا نتیجہ نہیں ہو سکتا کہ خدا تعالیٰ دنیا کے قوانین کو بدلے۔ گوشت اس ہول کے ماتحت مڑتا ہے جس ہول کے ماتحت دنیا کی باقی چیزیں مڑتی ہیں۔ نباتات اور پھل بھی مڑتے ہیں۔ دودھ اور پانی بھی خراب ہو جاتا ہے۔ دوسری بات ایسی ہے کہ بے سرو پا ہے۔ اگر خزانہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاندان کو دھوکا نہ دیتی یا اس کی خیانت نہ کرتی۔ اگر اس کی بجائے یوں کہا جاتا کہ اگر خزانہ ہوتی تو دنیا میں کوئی مرد مڑتا اور نہ کوئی عورت ہوتی تو کچھ بات تھی۔ اور کیا صرف عورتیں ہی مردوں کو دھوکا دیتی ہیں اور ان کی خیانت کرتی ہیں، کیا اس سے بھی بڑھ کر مرد عورتوں کو دھوکا نہیں دیتے اور ان کی خیانت نہیں کرتے؟ اس معاملہ میں زیادہ گنگناہ تو مردوں میں۔ ان الفاظ کا اگر کچھ مفہوم ہو سکتا ہے تو یہ کہ خزانے آدم کو دھوکا دیا اور اب ہی گناہ جو ان کی بیٹیاں کرتی ہیں تو یہ کسی عیسائی کا عقیدہ ہو سکتا ہے جو مردوں کی گناہ کے قائل ہیں۔ اور تمام نسل انسانی کو اس لئے گنگناہ قرار دیتے ہیں کہ ان کے خیال میں حضرت آدم نے کوئی گناہ کیا تھا اور وہ گناہ ساری نسل انسانی میں سرایت کر گیا۔ لیکن اسلام تو اس خیال کو دھتکے دیتا ہے۔ اسلام کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ نظرت اللہ المعنی فظلم الناس علیہا اور کل مولود یولد علی فطریقۃ۔ مراد ان کا بچہ بے گناہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر تقسیم بھی بائیں کی ہے کہ خزانے آدم کو دھوکا دیا۔ قرآن کریم اسکا ابطال کرتا ہے اور صاف فرماتا ہے کہ آدم اور حواد دونوں سے شیطان کے پھسلنے کی وجہ سے لغزش ہوئی۔ صرف یہ بات کہ بخاری نے اس حدیث کو لے لیا ہے اس حدیث کو قابل قبول نہیں بنا دیتی جب قرآن کریم اپنی صریح حکمت سے اور واقعات عالم سے باطل ظہیر ہے۔ مسلمانوں نے اس حدیث سے نیک سلوک کر دیا کیونکہ عورت پس سے پیدا ہوئی ہے۔ پس یہاں خزانے کا ذکر نہیں تمام عورتوں کے لیے ہے یعنی عورت پس سے پیدا ہوئی ہے اور قرآن کریم نے عورت کی کہ خزانے کی پیدائش دم سے اس طرح ہے جس طرح مرغان کی بیوی کی پیدائش اس انسان سے ہے کیونکہ جس طرح وہاں فرمایا خدا تعالیٰ کہ من نفس احدہ و خلق منہا زوجہا اسی طرح باقی سب کے متعلق فرمایا خلق لکم من انفسکم ازواجاً لکمستکون الیہا۔ جعل لکم من انفسکم ازواجاً۔ اور عورت کا پسلی سے پیدا کرنا اسی طرح ہے جس طرح انسان کا ٹیلہ۔ ضعف سے پیدا کرنا خلق الانسان من جمل۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں عباد بازی کی صفت ہے یا اس میں کمزوری یا پائی جاتی ہے اور اسی حدیث کی دوسری روایت میں جو تائب الشک میں آتی ہے اس کو صاف بھی کر دیا ہے المرأة کا لفظ عورت پسلی کی طرح یعنی جس طرح پسلی میں ٹیلہ پائیا جاتا ہے عورت میں بھی اوجہ جاج پایا جاتا ہے۔ اور اوجہ جاج کہا ہے ایک طرف کا میلان جس میں مرد میں خشونت کی صفت غالب ہے عورت میں نرمی کی صفت غالب ہے۔ اور جس طرح خشونت کی صفت کی وجہ سے مرد میں نرمی اور محبت کی کمی ہے اسی طرح نرمی کی صفت کی وجہ سے عورت میں خشونت کی کمی ہے اسلئے وہ عورت ایک طرف جھک جاتی ہے اور اسی ایک طرف کے میلان کو پسلی سے تشبیہ دی ہے۔ مسلمانوں کی روایت تقریباً انہی الفاظ میں آئی ہے۔ البتہ یہاں فیصل لعل اهل الجنة کے بعد فیصل لعل المذنب کا فقرہ اور فیصل لعل اهل النار کے بعد فیصل لعل المذنب کا فقرہ زائد ہے جو کلمہ مکرر روایت کے لفظ تقریباً وہی ہے جو حدیث کے ہے۔

۱۵۰۴

مِنْ شَيْءٍ كُنْتَ تَقْتُلِي بِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُوَ هَوْنٌ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي

صَلْبًا كَمَا أَنَّ الشَّرْكَ بِنِي قَابِلِيَةِ الْإِسْوَكَ (۱۵۰۵) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلْ نَفْسٌ ظَلَمًا إِلَّا كَانَ عَلَى بَنِي آدَمَ الْأَوَّلِ

كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ (۲) بَابُ الْأَرْوَاحِ جَنُودٌ مُجْتَمِعَةٌ (۱۵۰۶)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْأَرْوَاحُ جَنُودٌ مُجْتَمِعَةٌ

فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا أُنْكَفَ وَمَا تَنَافَرَ مِنْهَا اُخْتَلَفَ (۳) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ

عَزَّ وَجَلَّ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ قَالَ ابْنَ عَبَّاسٍ بِأَدْنَى الرَّأْيِ فَظَهَرْنَا أَقْلَبِي

أَفْسِيكَ وَقَالَ التَّنَوُّزُ نَبْعُ الْمَاءِ وَقَالَ عَلِيٌّ وَجْهُ الْأَرْضِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ جَبَلٌ

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ

قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ كَيْفَ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ وَأَتَى عَلَيْهِمْ نَارُ نَارٍ وَقَالَ نُوحٌ

يَقُومُ مَنْ كَانَ كِبَرُكُمْ وَمَقَامِي وَتِلْكَ لِيَوْمِي يَا أَيُّهَا اللَّهُ إِلَى قَوْلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (۴)

عَنْ ابْنِ حُمُرٍ مَتَكْرَمٌ (۲۴۲۲) (۱۵۰۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ كَرِهْتُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِي كَمَا كَرِهْتُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ كَرِهْتُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِي كَمَا كَرِهْتُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ كَرِهْتُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِي كَمَا كَرِهْتُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِي

۱۵۰۵
۱۵۰۶
۱۵۰۷
۱۵۰۸
۱۵۰۹
۱۵۱۰
۱۵۱۱
۱۵۱۲
۱۵۱۳
۱۵۱۴
۱۵۱۵
۱۵۱۶
۱۵۱۷
۱۵۱۸
۱۵۱۹
۱۵۲۰
۱۵۲۱
۱۵۲۲
۱۵۲۳
۱۵۲۴
۱۵۲۵
۱۵۲۶
۱۵۲۷
۱۵۲۸
۱۵۲۹
۱۵۳۰
۱۵۳۱
۱۵۳۲
۱۵۳۳
۱۵۳۴
۱۵۳۵
۱۵۳۶
۱۵۳۷
۱۵۳۸
۱۵۳۹
۱۵۴۰
۱۵۴۱
۱۵۴۲
۱۵۴۳
۱۵۴۴
۱۵۴۵
۱۵۴۶
۱۵۴۷
۱۵۴۸
۱۵۴۹
۱۵۵۰
۱۵۵۱
۱۵۵۲
۱۵۵۳
۱۵۵۴
۱۵۵۵
۱۵۵۶
۱۵۵۷
۱۵۵۸
۱۵۵۹
۱۵۶۰
۱۵۶۱
۱۵۶۲
۱۵۶۳
۱۵۶۴
۱۵۶۵
۱۵۶۶
۱۵۶۷
۱۵۶۸
۱۵۶۹
۱۵۷۰
۱۵۷۱
۱۵۷۲
۱۵۷۳
۱۵۷۴
۱۵۷۵
۱۵۷۶
۱۵۷۷
۱۵۷۸
۱۵۷۹
۱۵۸۰
۱۵۸۱
۱۵۸۲
۱۵۸۳
۱۵۸۴
۱۵۸۵
۱۵۸۶
۱۵۸۷
۱۵۸۸
۱۵۸۹
۱۵۹۰
۱۵۹۱
۱۵۹۲
۱۵۹۳
۱۵۹۴
۱۵۹۵
۱۵۹۶
۱۵۹۷
۱۵۹۸
۱۵۹۹
۱۶۰۰
۱۶۰۱
۱۶۰۲
۱۶۰۳
۱۶۰۴
۱۶۰۵
۱۶۰۶
۱۶۰۷
۱۶۰۸
۱۶۰۹
۱۶۱۰
۱۶۱۱
۱۶۱۲
۱۶۱۳
۱۶۱۴
۱۶۱۵
۱۶۱۶
۱۶۱۷
۱۶۱۸
۱۶۱۹
۱۶۲۰
۱۶۲۱
۱۶۲۲
۱۶۲۳
۱۶۲۴
۱۶۲۵
۱۶۲۶
۱۶۲۷
۱۶۲۸
۱۶۲۹
۱۶۳۰
۱۶۳۱
۱۶۳۲
۱۶۳۳
۱۶۳۴
۱۶۳۵
۱۶۳۶
۱۶۳۷
۱۶۳۸
۱۶۳۹
۱۶۴۰
۱۶۴۱
۱۶۴۲
۱۶۴۳
۱۶۴۴
۱۶۴۵
۱۶۴۶
۱۶۴۷
۱۶۴۸
۱۶۴۹
۱۶۵۰
۱۶۵۱
۱۶۵۲
۱۶۵۳
۱۶۵۴
۱۶۵۵
۱۶۵۶
۱۶۵۷
۱۶۵۸
۱۶۵۹
۱۶۶۰
۱۶۶۱
۱۶۶۲
۱۶۶۳
۱۶۶۴
۱۶۶۵
۱۶۶۶
۱۶۶۷
۱۶۶۸
۱۶۶۹
۱۶۷۰
۱۶۷۱
۱۶۷۲
۱۶۷۳
۱۶۷۴
۱۶۷۵
۱۶۷۶
۱۶۷۷
۱۶۷۸
۱۶۷۹
۱۶۸۰
۱۶۸۱
۱۶۸۲
۱۶۸۳
۱۶۸۴
۱۶۸۵
۱۶۸۶
۱۶۸۷
۱۶۸۸
۱۶۸۹
۱۶۹۰
۱۶۹۱
۱۶۹۲
۱۶۹۳
۱۶۹۴
۱۶۹۵
۱۶۹۶
۱۶۹۷
۱۶۹۸
۱۶۹۹
۱۷۰۰
۱۷۰۱
۱۷۰۲
۱۷۰۳
۱۷۰۴
۱۷۰۵
۱۷۰۶
۱۷۰۷
۱۷۰۸
۱۷۰۹
۱۷۱۰
۱۷۱۱
۱۷۱۲
۱۷۱۳
۱۷۱۴
۱۷۱۵
۱۷۱۶
۱۷۱۷
۱۷۱۸
۱۷۱۹
۱۷۲۰
۱۷۲۱
۱۷۲۲
۱۷۲۳
۱۷۲۴
۱۷۲۵
۱۷۲۶
۱۷۲۷
۱۷۲۸
۱۷۲۹
۱۷۳۰
۱۷۳۱
۱۷۳۲
۱۷۳۳
۱۷۳۴
۱۷۳۵
۱۷۳۶
۱۷۳۷
۱۷۳۸
۱۷۳۹
۱۷۴۰
۱۷۴۱
۱۷۴۲
۱۷۴۳
۱۷۴۴
۱۷۴۵
۱۷۴۶
۱۷۴۷
۱۷۴۸
۱۷۴۹
۱۷۵۰
۱۷۵۱
۱۷۵۲
۱۷۵۳
۱۷۵۴
۱۷۵۵
۱۷۵۶
۱۷۵۷
۱۷۵۸
۱۷۵۹
۱۷۶۰
۱۷۶۱
۱۷۶۲
۱۷۶۳
۱۷۶۴
۱۷۶۵
۱۷۶۶
۱۷۶۷
۱۷۶۸
۱۷۶۹
۱۷۷۰
۱۷۷۱
۱۷۷۲
۱۷۷۳
۱۷۷۴
۱۷۷۵
۱۷۷۶
۱۷۷۷
۱۷۷۸
۱۷۷۹
۱۷۸۰
۱۷۸۱
۱۷۸۲
۱۷۸۳
۱۷۸۴
۱۷۸۵
۱۷۸۶
۱۷۸۷
۱۷۸۸
۱۷۸۹
۱۷۹۰
۱۷۹۱
۱۷۹۲
۱۷۹۳
۱۷۹۴
۱۷۹۵
۱۷۹۶
۱۷۹۷
۱۷۹۸
۱۷۹۹
۱۸۰۰
۱۸۰۱
۱۸۰۲
۱۸۰۳
۱۸۰۴
۱۸۰۵
۱۸۰۶
۱۸۰۷
۱۸۰۸
۱۸۰۹
۱۸۱۰
۱۸۱۱
۱۸۱۲
۱۸۱۳
۱۸۱۴
۱۸۱۵
۱۸۱۶
۱۸۱۷
۱۸۱۸
۱۸۱۹
۱۸۲۰
۱۸۲۱
۱۸۲۲
۱۸۲۳
۱۸۲۴
۱۸۲۵
۱۸۲۶
۱۸۲۷
۱۸۲۸
۱۸۲۹
۱۸۳۰
۱۸۳۱
۱۸۳۲
۱۸۳۳
۱۸۳۴
۱۸۳۵
۱۸۳۶
۱۸۳۷
۱۸۳۸
۱۸۳۹
۱۸۴۰
۱۸۴۱
۱۸۴۲
۱۸۴۳
۱۸۴۴
۱۸۴۵
۱۸۴۶
۱۸۴۷
۱۸۴۸
۱۸۴۹
۱۸۵۰
۱۸۵۱
۱۸۵۲
۱۸۵۳
۱۸۵۴
۱۸۵۵
۱۸۵۶
۱۸۵۷
۱۸۵۸
۱۸۵۹
۱۸۶۰
۱۸۶۱
۱۸۶۲
۱۸۶۳
۱۸۶۴
۱۸۶۵
۱۸۶۶
۱۸۶۷
۱۸۶۸
۱۸۶۹
۱۸۷۰
۱۸۷۱
۱۸۷۲
۱۸۷۳
۱۸۷۴
۱۸۷۵
۱۸۷۶
۱۸۷۷
۱۸۷۸
۱۸۷۹
۱۸۸۰
۱۸۸۱
۱۸۸۲
۱۸۸۳
۱۸۸۴
۱۸۸۵
۱۸۸۶
۱۸۸۷
۱۸۸۸
۱۸۸۹
۱۸۹۰
۱۸۹۱
۱۸۹۲
۱۸۹۳
۱۸۹۴
۱۸۹۵
۱۸۹۶
۱۸۹۷
۱۸۹۸
۱۸۹۹
۱۹۰۰
۱۹۰۱
۱۹۰۲
۱۹۰۳
۱۹۰۴
۱۹۰۵
۱۹۰۶
۱۹۰۷
۱۹۰۸
۱۹۰۹
۱۹۱۰
۱۹۱۱
۱۹۱۲
۱۹۱۳
۱۹۱۴
۱۹۱۵
۱۹۱۶
۱۹۱۷
۱۹۱۸
۱۹۱۹
۱۹۲۰
۱۹۲۱
۱۹۲۲
۱۹۲۳
۱۹۲۴
۱۹۲۵
۱۹۲۶
۱۹۲۷
۱۹۲۸
۱۹۲۹
۱۹۳۰
۱۹۳۱
۱۹۳۲
۱۹۳۳
۱۹۳۴
۱۹۳۵
۱۹۳۶
۱۹۳۷
۱۹۳۸
۱۹۳۹
۱۹۴۰
۱۹۴۱
۱۹۴۲
۱۹۴۳
۱۹۴۴
۱۹۴۵
۱۹۴۶
۱۹۴۷
۱۹۴۸
۱۹۴۹
۱۹۵۰
۱۹۵۱
۱۹۵۲
۱۹۵۳
۱۹۵۴
۱۹۵۵
۱۹۵۶
۱۹۵۷
۱۹۵۸
۱۹۵۹
۱۹۶۰
۱۹۶۱
۱۹۶۲
۱۹۶۳
۱۹۶۴
۱۹۶۵
۱۹۶۶
۱۹۶۷
۱۹۶۸
۱۹۶۹
۱۹۷۰
۱۹۷۱
۱۹۷۲
۱۹۷۳
۱۹۷۴
۱۹۷۵
۱۹۷۶
۱۹۷۷
۱۹۷۸
۱۹۷۹
۱۹۸۰
۱۹۸۱
۱۹۸۲
۱۹۸۳
۱۹۸۴
۱۹۸۵
۱۹۸۶
۱۹۸۷
۱۹۸۸
۱۹۸۹
۱۹۹۰
۱۹۹۱
۱۹۹۲
۱۹۹۳
۱۹۹۴
۱۹۹۵
۱۹۹۶
۱۹۹۷
۱۹۹۸
۱۹۹۹
۲۰۰۰

سنة سبغة تغليه دزدها ووزر من عمل بها. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جسے گناہ کرے تو بعد میں اسے دلے جب وہی گناہ کرے تو اس کے اس گناہ کو تکی جہ سے پہلے کو بھی سزا دی جائے گی۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ چونکہ پہلے گناہ کا نمونہ دنیا میں قائم کیا اور آنے والے لوگ اس نمونہ سے متاثر ہو کر اس کے قدم پر چلتے ہیں۔ اس لئے گناہ کے نمونہ قائم کرنے والے کا گناہ بعد میں اس کے پیسہ ڈی کرنے والوں کے گناہ کے لئے گناہ کا نمونہ زیادہ ہے۔ جس طرح مکئی کے نمونہ قائم کر کے دلے کا ڈوب اس کے قدم پر چلنے والوں کے ڈوب سے زیادہ ہوتا ہے۔ آدم کے پہلے بیٹے میں اشارہ باہل قابل کے قصے کی طرف ہے۔ اختلاف اور اختلاف یعنی ایک چیز سے محبت کرنے اور اس سے اختلاف کرنے میں اشارہ اس کی طرف معلوم ہوتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کی توحید سے لائے سب ارواح اٹھے گئے ہوئے لشکر کی طرح ہیں یعنی سب ایک ہی حالت پر پیدا ہوئے ہیں۔ بعض ایسے فطری نور کو پھینکتے ہیں۔ تو وہ اس تعلیم توحید سے جو رسول لایا محبت کرنے لگتی ہیں اور جو اپنے فطری نور کا انکار کر دیتی ہیں وہ رسول کی تعظیم سے بھی اختلاف کرنے لگتی ہیں۔ اس کا م ۱۴۲۲ م ۱۵۰۷ م کی مکرر روایت ہے۔ اور یہاں صرف وہ مکرر ہے جو روایات میں نہیں۔ اور م ۱۴۲۲ میں ہے اور ان کا نام ہے۔ اس میں بھی یہی ذکر ہے کہ ہر نبی نے اور نور نے بھی اپنی قوم کو جہاں سے ڈرایا۔ اور کہ وہاں امور ہے وہاں کے امور ہونے پر بحث اپنے موقع پر آئے گی +

(م-۱۵۶۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (مكرر- ۱۵۱۰) (۷) بَابُ قِصَّةِ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ وَقَوْلِ

دیکھو حدیث ۱۵۱۰ بَابُ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ کا قصہ اور اللہ تعالیٰ

اللَّهُ تَعَالَى قَالُوا يَا اِذَا الْقُرْنَيْنِ اِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مَفسِدُونَ فِي الْاَرْضِ قَوْلِ

کا قول (الکف ۹۲) قَالُوا يَا اِذَا الْقُرْنَيْنِ نے کہا ہے ذوالقرنین یا جوج اور ماجوج زمین میں فساد کرنے والے ہیں

اللَّهُ تَعَالَى وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا اِنَّا مَكْنُؤُهُ فِي

کا قول وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقُرْنَيْنِ اور تم سے ذوالقرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ میں تم کو اس کے ذکر کر رہا ہوں

الْاَرْضِ وَاَتَيْنَاكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبِيحًا فَاتَّبِعْ سَبِيحًا اِلَى قَوْلِهِ اَتُوْنِي زِيْرًا اَحَدًا بِمَا جَرَّدَهَا

ہم نے اسے زمین میں طاق دی تھی اور ہر قسم کا سامان اسے دیا تھا سو وہ ایک رستہ پر چلا اس قول تک اَتُوْنِي زِيْرًا اَحَدًا بِمَا جَرَّدَهَا

زِيْرَةً وَهِيَ الْقِطْعَةُ حَتَّى اِذَا سَادَى بَيْنَ الضُّدَيْنِ يُقَالُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَلْجَبَلَيْنِ وَ

پاس لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے آئے اور اس کے منہ ٹکڑے ہر ایک کے پاس لے کر آئے اور دونوں طرفوں کے مہمان

السُّدَيْنِ الْجَبَلَيْنِ خَرَجَا اَجْرًا قَالِ نَهَوْنِي حَتَّى اِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالِ اَتُوْنِي اَوْ رُوْعِي عَلَيْهِ

اور سرسبز بھی دو پہر اور وہیں خوجا اجرت سے کہا دھونکو یہاں تک کہ جب اسے آگ لگے اور کہا مجھے جھپٹاؤ تاکہ نہ لگے

قِطْرًا اَصِيبَ عَلَيْهِ صَاصًا وَيُقَالِ لِحَدِيدٍ وَيُقَالِ الضُّغْرُ وَقَالِ ابْنُ عَبَّاسٍ اَلْحَاسِ

ڈالوں قطل سے ہے اور کہتے ہیں کہ لوہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے جو اور ابن عباس نے کہا کہ تہا ہے

فَمَا اسْتَطَاعُوا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ اَعْلَوْكَ اسْتَطَاعَ اسْتَفْعَلَ مِنْ اَطْعَمَ لَهُ فَاذَلِكُمْ اسْطَاعَ

ان سے نہ ہو سکا ان کی نظر وہ کہ اس پر چڑھ سکیں اسْتَطَاعَ اسْتَفْعَلَ رُكُوعٌ بِرَا اَطْعَمَ اور اس نے اسْتَطَاعَ

يَسْتَطِيعُ وَقَالِ بَعْضُهُمْ اسْتَطَاعَ يَسْتَطِيعُ وَاسْتَطَاعُوا لِقَبَالِ هَذَا اِحْمَاءُ

یَسْتَطِيعُ ہمزہ کے فتح سے آتا ہے اور بعض اسْتَطَاعَ یَسْتَطِيعُ کہتے ہیں وہ اسْتَطَاعُوا الخ اور نہ میں سورج کر کے کہا یہ میرے

سے مرفوع روایت ہے کہ یا جوج ایک گروہ ہے اور ماجوج ایک گروہ اور یہ سب کے سب ہتھیار بند ہیں۔ کلام قد حملوا السلاح۔ اور عکرمہ کی ایک مرفوع روایت

عینی میں منقول ہے کہ شب معراج میں آنحضرت صلعم نے یا جوج ماجوج کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے انکار کیا۔ بائبل میں ہے۔ تو جوج کے مقابل جو ماجوج کی

سرزمین کا ہے اور روش اور مک اور توبال کا سرور ہے اپنا مذکر (احزاب ۳۸-۴۱) ہے جو تصریح سے ثابت کرتا ہے کہ جوج روس ہے۔ مسکاؤ

توبال بھی روس کے دور ہیں جن پر مسکو اور توبال کے روسی شہر آباد ہیں۔ اور ماجوج کو بھی اسی زمین کا رہنے والا قرار دیا گیا ہے۔ گویا جوج ماجوج ایک ہی

سرزمین کے رہنے والے ہیں جس میں روس کا ملک واقع ہے۔ پس یہ سرزمین یورپ ہے اور یورپ کی اقوام کا بھی نام یا جوج ماجوج ہے۔ یا جوج روس ہے یعنی

سلاوی قومیں اور ماجوج یوٹ کی دوسری بڑی ٹوٹن قوم ہے۔ یہودی انسکلو پیڈیا اور انسکلو پیڈیا بری ٹینیکا بھی اسی کے ٹوٹید ہیں۔ یہ ان اقوام کی تاریخی تحقیقات

ہے۔ کتاب الفتن میں بھی یا جوج ماجوج کا ذکر آتا ہے۔ ذوالقرنین۔ قرن کے معنی امت مسلم ہیں اور ذوالقرنین دو امتوں کا ملک ہے۔ یعنی میں ہے۔ کہ

ذوالقرنین کا یہ نام اس لئے رکھا گیا کہ وہ فارس اور روم کا بادشاہ ہے۔ اور بھی وجہ لوگوں نے دی ہیں۔ مثلاً یہ کہ اس کے سر میں دو دیبگوں کے مشابہ کوئی چیز

تھی وغیرہ۔ مگر یہ قابل قبول نہیں جب ایک تاریخی وجہ موجود ہے تو دوسری تو حیات بنا سکی کوئی ضرورت نہیں۔ بائبل سے اسی کی تائید ہوتی ہے اس لئے کہ

دانیال نبی کے رویا میں دو دیبگ والے میٹھے کا ذکر ہے جس کی تفسیر وہیں موجود ہے۔ کہ اس سے مراد ملوہ اور فارس کے بادشاہ ہیں۔ تاریخی طور پر ذوالقرنین کے

واقعات دارلئے اول شاہ ایران پرمصادق آتے ہیں جو ۵۲۱ قبل مسیح سے ۴۸۵ قبل مسیح تک بادشاہ رہا۔ یعنی میں ہے کہ بعض لوگ اس کی نبوت کے قائل ہیں۔ ان

میں ضحاک و بلشون عمرو ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ نبی غیر مسل تھا یعنی جسے چاہے خواب آتے تھے یا جس سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتا تھا مگر رسول بنا کر کسی قوم

کی طرف نہیں بھیجا گیا۔ دارائے اول نے حیا کہ انسکلو پیڈیا بری ٹینیکا میں ہے منشأ بہت ایران کی تنظیم کی تفصیل کیے دیکھو ذوالقرنین پر نوٹ میان لقون میں

۱۱۱۱ صدق۔ پہاڑ کی جانب کو کہتے ہیں بنی الصمد فین دو پہاڑوں کی دو جانبوں کے درمیان یا جوج ماجوج جس رستہ سے اگر ایران کے حدود میں لوٹ مارا

نسا کرتے تھے اس کو بند کرنے کیلئے دو پہاڑوں کے درمیان ذوالقرنین نے ایک دیوار بنائی جسے قرآن کریم میں رُحْمٌ کہا ہے اجعل بینکم وبينهم رُوْعًا اور رُحْمٌ

کسی رُحْمٌ کو پتھروں سے روکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ دیوار لوہے کی تھی اور لوہے کے ٹکڑے دیوار کے لئے نہیں بلکہ دیواروں کے لئے لٹگائے

گئے تھے۔ کیونکہ اس دیوار میں دروازے لوہے کے تھے لوہے کے ٹکڑوں کو گرم کر کے ان پر چھلا جاتا تھا۔ اور یہ اس لئے تاکہ دروازے مضبوط ہوں

اور یا جوج ماجوج نہ اس دیوار کے اوپر چڑھ سکیں اور نہ لقب لگا سکیں۔ اسْتَطَاعَ يَسْتَطِيعُ باب اسْتَفْعَالَ سے ہے (باقی رہنے ہے)

۱۱۱۱ مثل الخلفاء العاقبة چھوڑ دیا ہے یا جوج ماجوج سان العرب میں ہے کہ ان دونوں لفظوں کا مادہ اتج یا ايجو جس سے یہ لفظوں اور مفعول کے دن ہیں اور اتج کا کشف مارنا یا بھڑکانا ہے اور اس کے معنی تیر جینا بھی ہیں اور عینی میں ترجمہ من ذوقہ او عیلا خلاف یعنی اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ وہ آدم کی نسل سے ہیں اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ ان کی کثرت بت ہے اور صفحہ

مَنْ رَبِّي فَاذْجَاءَ وَعَدَلَ رَبِّي بَعْدَهُ وَكَانَ الزُّقَّةُ بِالْأَرْضِ نَاقَةً كَأَنَّهَا سَنَامُ لَهَا
 رَبِّي كِي رَحْمَتٍ هِيَ بِسَبَبِ مِيرَةِ رَبِّكَ وَعَدَهُ أَجَانِكُمْ فَوَاسِعًا مِمَّا زَيْنَ كَرِيحًا وَكَانَ
 الدَّلْكُ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُ حَتَّى لَبِثَ مِنَ الْأَرْضِ تَلْبُدًا وَكَانَ وَعَدْلُكَ حَقًّا وَتَرَكْنَا
 اذْهَبْنَا جِسْمًا كَوَهْمًا نَهْمًا وَأَوْزَارًا مِنْ مِمَّا نَكْرَهْتُمْ بِرُحْمَتِ اللَّهِ وَكَانَ وَعَدْلُ الْخَوَافِ بِسَبَبِ رَبِّكَ
 بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَابُوجُجٌ وَأَجُوجٌ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ
 وَعَدَهُ بِحُجْرَةٍ أَوْ مِمَّا نَكْرَهْتُمْ بِرُحْمَتِ اللَّهِ وَكَانَ وَعَدْلُ الْخَوَافِ بِسَبَبِ رَبِّكَ
 يَلْسَلُونَ قَالُودًا حَدَبٍ أَلَمَّا قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتَ الشَّدْرَ مِثْلَ
 يَمِينِي جَانِبِيكَ الْيَوْمَ مِثْلَ يَمِينِيكَ الْيَوْمَ ۹۲. قَالُوا وَكَانَ مِمَّا حُدِّبَ مِنْهُ مِنْ نَبِيِّ صُلَيْمٍ مِنْ عَمَلٍ كَيْفَ سَأَلَ كَيْفَ
 الْبُرُودِ الْمُحَرَّبِ قَالَ رَأَيْتَهُ (۱۵۱۳) عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَهَارِي وَهَارِي كِي طَرَحَ وَدِيحًا بِسَبَبِ رَبِّكَ وَأَجَانِكُمْ فَوَاسِعًا مِمَّا زَيْنَ كَرِيحًا وَكَانَ
 دَخَلَ عَلَيْهَا فَرَاغًا يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيَلُوعَرَبٌ مِنْ شَيْءٍ قَدِ اقْتَرَبَ فَمَجَّ الْيَوْمَ مِنْ
 نَكْرَهْتُمْ بِسَبَبِ رَبِّكَ وَأَجَانِكُمْ فَوَاسِعًا مِمَّا زَيْنَ كَرِيحًا وَكَانَ وَعَدْلُ الْخَوَافِ بِسَبَبِ رَبِّكَ
 يَابُوجُجٌ وَأَجُوجٌ وَمَا جُوجُجٌ مِثْلُ هَذَا وَخَسْرَتٌ يَابُوجُجٌ وَأَجُوجٌ وَمَا جُوجُجٌ مِثْلُ هَذَا
 يَابُوجُجٌ وَأَجُوجٌ كِي دِيحًا مِنْ سَبَبِ رَبِّكَ وَأَجَانِكُمْ فَوَاسِعًا مِمَّا زَيْنَ كَرِيحًا وَكَانَ
 بِنْتُ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَمْ يَكُنْ وَفِينَا الصَّاحِبُونَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كُنَّا الْخَبِيثُ
 كِي. مِمَّا حُدِّبَ مِنْهُ مِنْ نَبِيِّ صُلَيْمٍ مِنْ عَمَلٍ كَيْفَ سَأَلَ كَيْفَ
 (۱۵۱۳) عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهَ مِنْ رُؤُوسِ
 يَابُوجُجٍ وَمَا جُوجُجٌ مِثْلُ هَذَا (۱۵۱۴) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ
 دِيحًا مِنْ سَبَبِ رَبِّكَ وَأَجَانِكُمْ فَوَاسِعًا مِمَّا زَيْنَ كَرِيحًا وَكَانَ وَعَدْلُ الْخَوَافِ بِسَبَبِ رَبِّكَ
 عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَا أدمُ فَيَقُولُ كَيْفَ وَسَعْدِيكَ
 جَنِي صُلَيْمٍ الْيَوْمَ مِثْلُ يَمِينِيكَ الْيَوْمَ ۹۲. قَالُوا وَكَانَ مِمَّا حُدِّبَ مِنْهُ مِنْ نَبِيِّ صُلَيْمٍ مِنْ عَمَلٍ كَيْفَ سَأَلَ كَيْفَ
 وَ الْخَلْبَرِيُّ يَدُوكَ فَيَقُولُ أَخْرَجْتُ بَعَثَ النَّارَ قَالَ وَمَا بَعَثَ النَّارَ قَالَ مِنْ بِلِّ الْفِنِ
 أَوْ جَلْدَانِي سَبَبِ رَبِّكَ وَأَجَانِكُمْ فَوَاسِعًا مِمَّا زَيْنَ كَرِيحًا وَكَانَ وَعَدْلُ الْخَوَافِ بِسَبَبِ رَبِّكَ
 سَبْعًا وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَتِسْعِينَ وَتِسْعِينَ وَتِسْعِينَ وَتِسْعِينَ وَتِسْعِينَ وَتِسْعِينَ وَتِسْعِينَ وَتِسْعِينَ
 قَالُوا وَكَانَ مِمَّا حُدِّبَ مِنْهُ مِنْ نَبِيِّ صُلَيْمٍ مِنْ عَمَلٍ كَيْفَ سَأَلَ كَيْفَ

رفیقہ ص ۷۹
 ت اوسط دونوں
 قریب الخرج ہیں
 دونوں یہاں لگنے
 ہوئے ہیں تو تعین
 کے لئے کبھی یوں
 بھی کرتے ہیں کہ
 ت کو حدت کر دیتے
 ہیں اور ماضی میں
 ت کی فتح کر دیتے
 ہیں اس لئے
 اسطعمہ یسطیح
 پڑھتے ہیں۔ اور
 کبھی اپنی اصل شکل
 استطاعت یسطیح
 پڑھتے ہیں۔
 صفحہ ہذا
 پہلے یہ خواب کا
 نظارہ معلوم ہوتا
 ہے جسے اس شخص
 نے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم
 کے سامنے بیان کیا
 تو آپ نے فرمایا کہ
 تو نے اسے سچ ہی
 دیکھا ہے یعنی خواب
 میں ٹھیک اسی کو
 دیکھا ہے۔
 لہذا یابوجوج ماجوج
 کی دیوار میں چھوٹا
 سا سوراخ ہو جائے

کا یہ مطلب ہے کہ اس قوم کے خراج اور دنیا میں پھیل جانے کا وقت قریب آگیا ہے۔ دیوار تو ایک خاص رستہ بند کرنے کے لئے ایک خاص قوم کی حفاظت کے لئے بنا گئی تھی اور یابوجوج ماجوج کے خراج کی پیٹنگوں کا مطالبہ دنیا میں پھیل جانا حکومت کے رنگ میں دنیا پر مسلط ہو جانا ہے۔ اس کے لئے اس خاص دیوار میں نقب یا روزن کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صرف قرآن کریم میں کل حداب یلسلون ہر ایک ہندی سے وہ تیزی سے نکل پڑیں گے۔ میں مطلب صرف اس قدر ہے کہ یابوجوج ماجوج کے خراج کا وقت قریب آگیا ہے۔ عرب مراد میں سلطنت اسلام ہے کیونکہ اس وقت سلطنت اسلام عرب تک محدود تھی۔ حضرت زینب کے سوال کا جواب آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سلطنت اسلام پر یہ تباہی اس وقت آئے گی جب خود مسلمانوں میں برائی بہت پھیل جائے گی اور نیک لوگ تھوڑے رہ جائیں گے جو قیوم کی کثرت غلامتے پر پڑ جائے تو تھوڑے ہی ہوتوں کیا تھوڑے ہی نقصان اٹھاتے ہیں جس طرح اگر کثرت نیکوں کی ہو تو تھوڑے ہی نقصان اٹھاتے ہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی اسی حدیث کی روایت میں ہے عن زینب بنت جحش ان سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثلاث مرآت وهو يقبل يد العراب من شوقن اقول ان قرب فقه الیوم من ردمیا جوج وما جوج جس میں یہ صاف تصریح موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کا یہ کرایام فرمایا جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو روایا میں ایسا دکھایا گیا اور روایا تبصر طلب ہوتی ہے۔

التَّاسِ سَكَارَى مَا هُمْ بِسَكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ

دوگوں کو تو نے سمجھے اور وہ تو اسے نہ ہوں گے مگر اللہ کا عذاب سخت ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ

أَيُّنَا ذَلِكُ الْوَاحِدُ قَالَ أَشِيرُ وَأَفَانُ مِنْكَ رَجُلٌ زَمِنَ بِأَجْرِهِ وَمَا جُورُ الْفَتْرِ شَمٌّ

ہم میں وہ کون ایک ہوگا فرمایا خوش ہو جاؤ کیونکہ تم میں سے ایک اور یا جو ز جوتی میں سے ہزار ہوں گے پھر

قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ أَرَجُوا أَنْ تَكُونُوا رَبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَذَكِّرْنَا فَقَالَ رَجُلٌ

فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں امید کرتا ہوں کہ تم بہت دنوں تک ایک جوتی جو تمہاری ہے کہ اللہ اگر پھر فرمائے ہیں

أَنْ تَكُونُوا أَثَلثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَذَكِّرْنَا فَقَالَ أَرَجُوا أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَذَكِّرْنَا

امید رکھتے ہوں کہ تم جنت والوں کی ایک جوتی ہو گے تو تم نے اللہ کا پھر فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ جنت والوں میں سے تم آؤ گے تو تم نے کہا

فَقَالَ مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ السُّودِ أَوْ فِي جِلْدٍ نُورٍ أَمْ بِيضٍ أَوْ لَشَعْرَةٍ بِيضَةٍ

اللہ اگر پھر فرمائے تو گوں میں لیے ہو جیسے ایک کالا بال جو سفید میں کی کھال میں ہو یا سفید بال کی طرح جو

فِي جِلْدٍ نُورٍ أَسْوَدَهُ بِأَبِ تَوْرٍ لَللَّهِ تَعَالَى وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَقَوْلُهُ إِنْ

کانت ہیل کی کھال میں ہو ملے باب اللہ تعالیٰ کا قول اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خاص امت بنا یا اور اللہ تعالیٰ نے

إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا وَقَوْلُهُ إِنْ إِبْرَاهِيمَ كَأَوَّاهٍ حَلِيمٍ وَقَالَ أَبُو هَيْسَرَةَ الرَّحِيمِ

ابراہیم ایک پیش رو فرمان بردار راست رو تھا اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خاص امت میں جودل پر بار تھا اور توبہ پر مملکت اور ابراہیم نے کہا کہ

يَلِسَانِ الْحَبَشَةِ (۱۵۱) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ

زادہ) حبشی زبان میں تم کو کہتے ہیں ابن عباس نے فرمایا کہ تمہارا

تَحْشُرُونَ حَفَاةَ عُرَاةٍ عُرْلًا ثُمَّ فَرَأَى كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ يُعِيدُهُ وَعَدْنَا عَلَيْكَ النَّاسَ

حشر ہو گا ننگے پاؤں ننگے جسم۔ منہ پھر آپ نے فرمایا جس طرح ہم نے پہلے پیدا کرنا شروع کیا اسی طرح پھر بنائیں گے ہم پر وعدہ ہو گا اور تمہاری

فُعَلِينَ وَأَوَّلَ مَنْ يَلْسَنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِنَّ أَنَا سَامٌ مِنْ أَصْحَابِي يُوَخَّذُ بِهِمْ

کہ تو نے میں (الانبیاء ۱۱۲) اور جیسے قیامت کے دن پہلا بنایا جائیگا حضرت ابراہیم ہوں گے اور میرے صحابہ میں سے کچھ لوگ بائیں طرف

ذَاتِ الشَّمَالِ فَاذْهَبْ أَصْحَابِي أَيْ يَقُولُ لَهُمْ لَمْ يَزَلُوا مُرْتَدِّينَ عَلَيَّ أَحْقَابَهُمْ مَهْلِكٌ

پلکا کر لیجئے جائیں گے تو میں کہتا ہوں کہ میرے صحابہ میں ہیں میرے صحابہ میں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تو جسے آپ ان سے جدا ہوئے ہیں برابر اپنی زبان

فَارْتَمَهُمْ فَاذْهَبْ لِكَمَا قَالَ عَبْدُ الصَّامِرِ دُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدٌ قَادِمٌ فِيهِمْ إِلَى قَوْلِ الْحَكِيمِ

وہڑا پس پھر گئے تو میں کہتا ہوں کہ میرے صحابہ میں ہیں ان کا تھا اور میں اللہ کا شہید تھا جب تک کہ ان سے رہا اللہ کے قول اللہ حکیم تک ہے

لما فرموا انوسے اور ایک کی نسبت اپنے اعمال کے لئے سے ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بشر کی ابتدا کا واقعہ ہے اس میں کہ لوگ بیوش ہو جائیں گے۔ پس شفاعت اسکے بعد ہے۔ پہلے انبیاء کی شفاعت ہوگی پھر انبیاء کے بعد اور ایک پھر عام مومنین کی پھر ان سب بڑھ کر مرنے اور ان میں سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے لئے ایک کسب شفاعت کیلئے و بقی ارحم الراحمین اور پھر یہ کہ وہ ایک منہی ہر لوگوں کو ورتخ سے باہر کھال دنگا اور ارحم الراحمین کی منہی سے باہر کون رہ سکتا ہے۔ پس اعمال کے لحاظ سے اگر ہزاروں ایک ہوگی

جنتی ہے تو کوئی نہیں کہ سکتا کہ اللہ کی رحمت کتنوں کو جنت میں لے جائیگی۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ مشرکین کی تعداد بقابلہ مومنین کے زیادہ رہی ہے۔ اور یہ جو آخر فرمایا کہ تم لوگوں میں ایسے ہو جیسے سیاہیل کی کھال میں سفید بال۔ تو یہ غلط فہمی حالت کو ظاہر کرنے کیلئے ہے۔ یعنی اس وقت تم اس قدر قلیل ہو۔ اور اب جنت میں کتنا نصف ہونا بتاتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ امت کس قدر ترقی کر جائے گی۔ مگر ادا کا عربی زبان کا لفظ ہے۔ جس کا مادہ اداہ زبان میں موجود ہے۔ اور ناسیہ میں ہو کہ اسکے معنی بہت رشتہ والا بہت و عاقر خوالا ہیں۔ مگر چونکہ یہاں کے پیٹ سے لنگے اور غیر متون پیدا ہوتے ہیں۔ اس لئے ننگے غیر متون حشر ہونے سے مراد وہی ہے کہ جس طرح بچوں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کی پیدائش حشر ہوگی۔ گویا حشر تک اس کی حالت اس سے مشابہ ہے۔ چونکہ یہ حالت ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے اور حشر کی حالت اس سے مشابہ ہے۔ چونکہ یہ حالت اس دنیا میں پیدا ہوکر ہوتی ہے۔ زندگی تو ماں کے پیٹ میں بھی ہوتی ہے۔ لیکن اس زندگی کے ساتھ ایک نیا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ایسا ہی قیامت کی زندگی میں ایک نیا احساس ہوگا۔ یہاں ہے کہ حشر ننگے ہونے کی حالت میں ہوگا۔ اور بعض احادیث میں ہے کہ انسان اس لباس میں ہوتا ہوگا جو اس نے موت کے وقت پہنا ہوا ہو۔ چنانچہ اس مضمون کی حدیث ابداؤ و دین موجود ہے تو اس بات یہ ہے کہ کپڑوں سے مراد وہی وہ دھانی حالت ہے جس پر انسان کا خاتمہ ہوا اس پر حشر ہوگا اور ننگے ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کپڑوں کا دباں کوئی کام نہیں بلکہ وہ بالکل نئی پیدائش ہے۔ مگر یہاں ہے کہ حضرت ابراہیم کو سب سے پہلے پہلا بنایا جائیگا۔ قیامت میں یہ کپڑے نہ ہونگے بلکہ اس لباس کا متعلق انسان کے اعمال سے ہے۔ حضرت ابراہیم کی کمال فرمانبرداری کا ذکر قرآن شریف میں ہے اذ ابتلی ابراہیم بظہر بکلمات فاتمهن اذ قال له رب اسلم قال اسلم لربنا لعلنا نعبودک وحده زیادہ کی فرمانبرداری کی اسی قدر بعد اس حشر ہوگا۔ مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ولایت رانی ہے۔

(۱۵۱۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَّقِي رَبَّ بَرَاهِيمَ أَبَاكَ أُرِيَوْمَ الْقَيْمَةِ

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اپنے فرمانا حضرت ابراہیم اپنے بزرگ زرع سے قیامت کے دن میں گئے اور آرزو کے چہرے پر سیاہی اور غبار ہوگا تو حضرت ابراہیم اس سے فرمایں گے کہ میں نے تجھ سے نہیں کیا تھا کہ میری نامزدانی مت کر

وَ عَلَى نَجْوَى أَرْقَاةٍ وَ غَيْرَةٍ فَيَقُولُ لَهُ اِبْرَاهِيمُ لِمَ اَقْلَبُكَ لَا تَعْصِيَنِي يُقَوِّلُ أَبُو هُرَيْرَةَ

فَأَلْيَوْمَ لَا اَعْصِيَنَّكَ فَيَقُولُ اِبْرَاهِيمُ يَا رَبِّ اِنَّكَ وَعَدْتَنِي اَنْ لَا تَخْزِيَنِي يَوْمَ يَوْمِ يُعْتَوَّنُ

تو وہ کہے گا آج میں تیری نامزدانی نہیں کروں گا حضرت ابراہیم عرض کر گئے کہ میرے رب تو نے مجھ سے وعدہ کیا کہ مجھ سے اس دن رسوائی نہ کرے جس دن لوگ

فَأَيُّ خَزْيٍ اِخْرَجِي مِنْ اِيَّيْ لَا بَعْدُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى اِنِّي حَرَمْتُ الْجَدَّةَ عَلَيَّ الْكَافِرِيْنَ

اٹھائے جائیں گے اور کونسی رسوائی اس سے زیادہ ہوگی کہ میرا بزرگ (تیری رحمت سے) دور ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدوں کا ہر نام

ثُمَّ يُقَالُ يَا اِبْرَاهِيمُ مَا تَحْتِ رَجْلِكَ فَيَنْظُرُ فَاِذَا هُوَ بِرِجْلِ سُلَيْمَانَ فَيَقُولُ لِمَ

کروا ہے پھر ابراہیم فرماتے ہیں کہ اس کے نیچے وہ وہ نہیں ہے تو ایک جو خون میں تھوڑا ہوا پایا ہیں گئے جسے پاؤں سے پڑا اور وہ حق میں

فَيَقُولُ فِي النَّارِ (م- ۱۵۷۰) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر- ۱۵۷۳) (م- ۱۵۷۱) عَنِ

ابن عباس (متكرر- ۱۵۷۳) (۱۵۷۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ اَكْبَرُ

الناس قال اتفقهم فقالوا اليس عن هذا نسألك قال فیسوف نبی اللہ ابوہریرہ نے کہا کہ تم نے کہا ہے کہ میں نے بھیجا رسول اللہ سے: ابراہیم بزرگ تر ہے،

نبي الله بن خليل الله قالوا اليس عن هذا نسألك قال فیسوف نبی اللہ ابوہریرہ نے کہا کہ تم نے کہا ہے کہ میں نے بھیجا رسول اللہ سے: ابراہیم بزرگ تر ہے،

نبي الله بن خليل الله قالوا اليس عن هذا نسألك قال فیسوف نبی اللہ ابوہریرہ نے کہا کہ تم نے کہا ہے کہ میں نے بھیجا رسول اللہ سے: ابراہیم بزرگ تر ہے،

نبي الله بن خليل الله قالوا اليس عن هذا نسألك قال فیسوف نبی اللہ ابوہریرہ نے کہا کہ تم نے کہا ہے کہ میں نے بھیجا رسول اللہ سے: ابراہیم بزرگ تر ہے،

نبي الله بن خليل الله قالوا اليس عن هذا نسألك قال فیسوف نبی اللہ ابوہریرہ نے کہا کہ تم نے کہا ہے کہ میں نے بھیجا رسول اللہ سے: ابراہیم بزرگ تر ہے،

نبي الله بن خليل الله قالوا اليس عن هذا نسألك قال فیسوف نبی اللہ ابوہریرہ نے کہا کہ تم نے کہا ہے کہ میں نے بھیجا رسول اللہ سے: ابراہیم بزرگ تر ہے،

نبي الله بن خليل الله قالوا اليس عن هذا نسألك قال فیسوف نبی اللہ ابوہریرہ نے کہا کہ تم نے کہا ہے کہ میں نے بھیجا رسول اللہ سے: ابراہیم بزرگ تر ہے،

نبي الله بن خليل الله قالوا اليس عن هذا نسألك قال فیسوف نبی اللہ ابوہریرہ نے کہا کہ تم نے کہا ہے کہ میں نے بھیجا رسول اللہ سے: ابراہیم بزرگ تر ہے،

نبي الله بن خليل الله قالوا اليس عن هذا نسألك قال فیسوف نبی اللہ ابوہریرہ نے کہا کہ تم نے کہا ہے کہ میں نے بھیجا رسول اللہ سے: ابراہیم بزرگ تر ہے،

نبي الله بن خليل الله قالوا اليس عن هذا نسألك قال فیسوف نبی اللہ ابوہریرہ نے کہا کہ تم نے کہا ہے کہ میں نے بھیجا رسول اللہ سے: ابراہیم بزرگ تر ہے،

نبي الله بن خليل الله قالوا اليس عن هذا نسألك قال فیسوف نبی اللہ ابوہریرہ نے کہا کہ تم نے کہا ہے کہ میں نے بھیجا رسول اللہ سے: ابراہیم بزرگ تر ہے،

نبي الله بن خليل الله قالوا اليس عن هذا نسألك قال فیسوف نبی اللہ ابوہریرہ نے کہا کہ تم نے کہا ہے کہ میں نے بھیجا رسول اللہ سے: ابراہیم بزرگ تر ہے،

نبي الله بن خليل الله قالوا اليس عن هذا نسألك قال فیسوف نبی اللہ ابوہریرہ نے کہا کہ تم نے کہا ہے کہ میں نے بھیجا رسول اللہ سے: ابراہیم بزرگ تر ہے،

نبي الله بن خليل الله قالوا اليس عن هذا نسألك قال فیسوف نبی اللہ ابوہریرہ نے کہا کہ تم نے کہا ہے کہ میں نے بھیجا رسول اللہ سے: ابراہیم بزرگ تر ہے،

نبي الله بن خليل الله قالوا اليس عن هذا نسألك قال فیسوف نبی اللہ ابوہریرہ نے کہا کہ تم نے کہا ہے کہ میں نے بھیجا رسول اللہ سے: ابراہیم بزرگ تر ہے،

نبي الله بن خليل الله قالوا اليس عن هذا نسألك قال فیسوف نبی اللہ ابوہریرہ نے کہا کہ تم نے کہا ہے کہ میں نے بھیجا رسول اللہ سے: ابراہیم بزرگ تر ہے،

نبي الله بن خليل الله قالوا اليس عن هذا نسألك قال فیسوف نبی اللہ ابوہریرہ نے کہا کہ تم نے کہا ہے کہ میں نے بھیجا رسول اللہ سے: ابراہیم بزرگ تر ہے،

نبي الله بن خليل الله قالوا اليس عن هذا نسألك قال فیسوف نبی اللہ ابوہریرہ نے کہا کہ تم نے کہا ہے کہ میں نے بھیجا رسول اللہ سے: ابراہیم بزرگ تر ہے،

نبي الله بن خليل الله قالوا اليس عن هذا نسألك قال فیسوف نبی اللہ ابوہریرہ نے کہا کہ تم نے کہا ہے کہ میں نے بھیجا رسول اللہ سے: ابراہیم بزرگ تر ہے،

نبي الله بن خليل الله قالوا اليس عن هذا نسألك قال فیسوف نبی اللہ ابوہریرہ نے کہا کہ تم نے کہا ہے کہ میں نے بھیجا رسول اللہ سے: ابراہیم بزرگ تر ہے،

۱۵۱۶
بقرہ ص ۷۷
کن میں جو ممکن ہے
مرد بنی اسرائیل میں
آپ کی وصیت ہوا
۱۵ حدیث کا یہ
حصہ کتاب التفسیر
میں آتا ہے۔ اور
۱۵۱۷ پر بھی یہی
حدیث آتی ہے۔
اس میں میری دولت
ہو کہ صلح اشعری
صدمہ کی وفات
کے بعد آپ کے کچھ
ساتھی جو لوگ ایسی ہی
۱۵۱۸
۱۵۱۹
۱۵۲۰
۱۵۲۱
۱۵۲۲
۱۵۲۳
۱۵۲۴
۱۵۲۵
۱۵۲۶
۱۵۲۷
۱۵۲۸
۱۵۲۹
۱۵۳۰
۱۵۳۱
۱۵۳۲
۱۵۳۳
۱۵۳۴
۱۵۳۵
۱۵۳۶
۱۵۳۷
۱۵۳۸
۱۵۳۹
۱۵۴۰
۱۵۴۱
۱۵۴۲
۱۵۴۳
۱۵۴۴
۱۵۴۵
۱۵۴۶
۱۵۴۷
۱۵۴۸
۱۵۴۹
۱۵۵۰
۱۵۵۱
۱۵۵۲
۱۵۵۳
۱۵۵۴
۱۵۵۵
۱۵۵۶
۱۵۵۷
۱۵۵۸
۱۵۵۹
۱۵۶۰
۱۵۶۱
۱۵۶۲
۱۵۶۳
۱۵۶۴
۱۵۶۵
۱۵۶۶
۱۵۶۷
۱۵۶۸
۱۵۶۹
۱۵۷۰
۱۵۷۱
۱۵۷۲
۱۵۷۳
۱۵۷۴
۱۵۷۵
۱۵۷۶
۱۵۷۷
۱۵۷۸
۱۵۷۹
۱۵۸۰
۱۵۸۱
۱۵۸۲
۱۵۸۳
۱۵۸۴
۱۵۸۵
۱۵۸۶
۱۵۸۷
۱۵۸۸
۱۵۸۹
۱۵۹۰
۱۵۹۱
۱۵۹۲
۱۵۹۳
۱۵۹۴
۱۵۹۵
۱۵۹۶
۱۵۹۷
۱۵۹۸
۱۵۹۹
۱۶۰۰
۱۶۰۱
۱۶۰۲
۱۶۰۳
۱۶۰۴
۱۶۰۵
۱۶۰۶
۱۶۰۷
۱۶۰۸
۱۶۰۹
۱۶۱۰
۱۶۱۱
۱۶۱۲
۱۶۱۳
۱۶۱۴
۱۶۱۵
۱۶۱۶
۱۶۱۷
۱۶۱۸
۱۶۱۹
۱۶۲۰
۱۶۲۱
۱۶۲۲
۱۶۲۳
۱۶۲۴
۱۶۲۵
۱۶۲۶
۱۶۲۷
۱۶۲۸
۱۶۲۹
۱۶۳۰
۱۶۳۱
۱۶۳۲
۱۶۳۳
۱۶۳۴
۱۶۳۵
۱۶۳۶
۱۶۳۷
۱۶۳۸
۱۶۳۹
۱۶۴۰
۱۶۴۱
۱۶۴۲
۱۶۴۳
۱۶۴۴
۱۶۴۵
۱۶۴۶
۱۶۴۷
۱۶۴۸
۱۶۴۹
۱۶۵۰
۱۶۵۱
۱۶۵۲
۱۶۵۳
۱۶۵۴
۱۶۵۵
۱۶۵۶
۱۶۵۷
۱۶۵۸
۱۶۵۹
۱۶۶۰
۱۶۶۱
۱۶۶۲
۱۶۶۳
۱۶۶۴
۱۶۶۵
۱۶۶۶
۱۶۶۷
۱۶۶۸
۱۶۶۹
۱۶۷۰
۱۶۷۱
۱۶۷۲
۱۶۷۳
۱۶۷۴
۱۶۷۵
۱۶۷۶
۱۶۷۷
۱۶۷۸
۱۶۷۹
۱۶۸۰
۱۶۸۱
۱۶۸۲
۱۶۸۳
۱۶۸۴
۱۶۸۵
۱۶۸۶
۱۶۸۷
۱۶۸۸
۱۶۸۹
۱۶۹۰
۱۶۹۱
۱۶۹۲
۱۶۹۳
۱۶۹۴
۱۶۹۵
۱۶۹۶
۱۶۹۷
۱۶۹۸
۱۶۹۹
۱۷۰۰
۱۷۰۱
۱۷۰۲
۱۷۰۳
۱۷۰۴
۱۷۰۵
۱۷۰۶
۱۷۰۷
۱۷۰۸
۱۷۰۹
۱۷۱۰
۱۷۱۱
۱۷۱۲
۱۷۱۳
۱۷۱۴
۱۷۱۵
۱۷۱۶
۱۷۱۷
۱۷۱۸
۱۷۱۹
۱۷۲۰
۱۷۲۱
۱۷۲۲
۱۷۲۳
۱۷۲۴
۱۷۲۵
۱۷۲۶
۱۷۲۷
۱۷۲۸
۱۷۲۹
۱۷۳۰
۱۷۳۱
۱۷۳۲
۱۷۳۳
۱۷۳۴
۱۷۳۵
۱۷۳۶
۱۷۳۷
۱۷۳۸
۱۷۳۹
۱۷۴۰
۱۷۴۱
۱۷۴۲
۱۷۴۳
۱۷۴۴
۱۷۴۵
۱۷۴۶
۱۷۴۷
۱۷۴۸
۱۷۴۹
۱۷۵۰
۱۷۵۱
۱۷۵۲
۱۷۵۳
۱۷۵۴
۱۷۵۵
۱۷۵۶
۱۷۵۷
۱۷۵۸
۱۷۵۹
۱۷۶۰
۱۷۶۱
۱۷۶۲
۱۷۶۳
۱۷۶۴
۱۷۶۵
۱۷۶۶
۱۷۶۷
۱۷۶۸
۱۷۶۹
۱۷۷۰
۱۷۷۱
۱۷۷۲
۱۷۷۳
۱۷۷۴
۱۷۷۵
۱۷۷۶
۱۷۷۷
۱۷۷۸
۱۷۷۹
۱۷۸۰
۱۷۸۱
۱۷۸۲
۱۷۸۳
۱۷۸۴
۱۷۸۵
۱۷۸۶
۱۷۸۷
۱۷۸۸
۱۷۸۹
۱۷۹۰
۱۷۹۱
۱۷۹۲
۱۷۹۳
۱۷۹۴
۱۷۹۵
۱۷۹۶
۱۷۹۷
۱۷۹۸
۱۷۹۹
۱۸۰۰
۱۸۰۱
۱۸۰۲
۱۸۰۳
۱۸۰۴
۱۸۰۵
۱۸۰۶
۱۸۰۷
۱۸۰۸
۱۸۰۹
۱۸۱۰
۱۸۱۱
۱۸۱۲
۱۸۱۳
۱۸۱۴
۱۸۱۵
۱۸۱۶
۱۸۱۷
۱۸۱۸
۱۸۱۹
۱۸۲۰
۱۸۲۱
۱۸۲۲
۱۸۲۳
۱۸۲۴
۱۸۲۵
۱۸۲۶
۱۸۲۷
۱۸۲۸
۱۸۲۹
۱۸۳۰
۱۸۳۱
۱۸۳۲
۱۸۳۳
۱۸۳۴
۱۸۳۵
۱۸۳۶
۱۸۳۷
۱۸۳۸
۱۸۳۹
۱۸۴۰
۱۸۴۱
۱۸۴۲
۱۸۴۳
۱۸۴۴
۱۸۴۵
۱۸۴۶
۱۸۴۷
۱۸۴۸
۱۸۴۹
۱۸۵۰
۱۸۵۱
۱۸۵۲
۱۸۵۳
۱۸۵۴
۱۸۵۵
۱۸۵۶
۱۸۵۷
۱۸۵۸
۱۸۵۹
۱۸۶۰
۱۸۶۱
۱۸۶۲
۱۸۶۳
۱۸۶۴
۱۸۶۵
۱۸۶۶
۱۸۶۷
۱۸۶۸
۱۸۶۹
۱۸۷۰
۱۸۷۱
۱۸۷۲
۱۸۷۳
۱۸۷۴
۱۸۷۵
۱۸۷۶
۱۸۷۷
۱۸۷۸
۱۸۷۹
۱۸۸۰
۱۸۸۱
۱۸۸۲
۱۸۸۳
۱۸۸۴
۱۸۸۵
۱۸۸۶
۱۸۸۷
۱۸۸۸
۱۸۸۹
۱۸۹۰
۱۸۹۱
۱۸۹۲
۱۸۹۳
۱۸۹۴
۱۸۹۵
۱۸۹۶
۱۸۹۷
۱۸۹۸
۱۸۹۹
۱۹۰۰
۱۹۰۱
۱۹۰۲
۱۹۰۳
۱۹۰۴
۱۹۰۵
۱۹۰۶
۱۹۰۷
۱۹۰۸
۱۹۰۹
۱۹۱۰
۱۹۱۱
۱۹۱۲
۱۹۱۳
۱۹۱۴
۱۹۱۵
۱۹۱۶
۱۹۱۷
۱۹۱۸
۱۹۱۹
۱۹۲۰
۱۹۲۱
۱۹۲۲
۱۹۲۳
۱۹۲۴
۱۹۲۵
۱۹۲۶
۱۹۲۷
۱۹۲۸
۱۹۲۹
۱۹۳۰
۱۹۳۱
۱۹۳۲
۱۹۳۳
۱۹۳۴
۱۹۳۵
۱۹۳۶
۱۹۳۷
۱۹۳۸
۱۹۳۹
۱۹۴۰
۱۹۴۱
۱۹۴۲
۱۹۴۳
۱۹۴۴
۱۹۴۵
۱۹۴۶
۱۹۴۷
۱۹۴۸
۱۹۴۹
۱۹۵۰
۱۹۵۱
۱۹۵۲
۱۹۵۳
۱۹۵۴
۱۹۵۵
۱۹۵۶
۱۹۵۷
۱۹۵۸
۱۹۵۹
۱۹۶۰
۱۹۶۱
۱۹۶۲
۱۹۶۳
۱۹۶۴
۱۹۶۵
۱۹۶۶
۱۹۶۷
۱۹۶۸
۱۹۶۹
۱۹۷۰
۱۹۷۱
۱۹۷۲
۱۹۷۳
۱۹۷۴
۱۹۷۵
۱۹۷۶
۱۹۷۷
۱۹۷۸
۱۹۷۹
۱۹۸۰
۱۹۸۱
۱۹۸۲
۱۹۸۳
۱۹۸۴
۱۹۸۵
۱۹۸۶
۱۹۸۷
۱۹۸۸
۱۹۸۹
۱۹۹۰
۱۹۹۱
۱۹۹۲
۱۹۹۳
۱۹۹۴
۱۹۹۵
۱۹۹۶
۱۹۹۷
۱۹۹۸
۱۹۹۹
۲۰۰۰

م و دیکھئے گئے ہیں۔ بیان آپ کی عظمت روحانی کو دکھانے کیلئے آپ کا قد اس قدر لمبا دکھایا گیا ہے کہ گویا سر نظر نہ آتا تھا۔

اور بقیہ ص ۷۷
صلا اتنی بڑی تو
آگ جلائی گئی اور
اس میں پھونکنے کے
لئے ذرخ آیا تھا۔
اور دنیا میں ہر گھر
میں آگ جلتی ہے کیا
وہاں کوئی ذرخ آیا
کرتا ہے کہ آگ میں
پھونکے یہ ایک پھر
کہانی ہے اور رسول
اللہ صلی علیہ وسلم
انسان تھے کہ اس
قسم کی کوئی بیہودہ

(م- ۱۵۷۷) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (متكرر- ۲۹) (۹) بَابُ يَزْفُونَ السُّلَمَانَ فِي الْمَشْرِقِ

دیکھو حدیث ۲۹ ص ۱۷۱ باب یزفون الصافات ۹۸ تیزی سے چلنا

(م- ۱۵۷۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر- ۱۵۰۹) (۱۰) (م- ۱۵۷۹) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر- ۱۵۱۹)

دیکھو حدیث ۱۵۰۹ ص ۱۷۱ دیکھو حدیث ۱۵۱۹ ص ۱۷۱

قَالَ لَأَنْصَارِي حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي قَالَ رَأَى وَحْشًا مِنْ ابْنِ سَيِّدِ بْنِ جَبْرِ

انصاری نے کہا ابن جریر نے بیان کیا کہ ابن عباس نے مجھ سے بیان کیا کہ میں اور عثمان بن ابی سلمیہ

جَلَسْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ فَقَالَ مَا هَذَا أَحَدٌ نَبِيٌّ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلَ ابْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ

سعید بن جبیر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ابن عباس نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم امین اور اس کی

وَأُولَئِكَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهِيَ تَرْخُصُهُمْ عَرَا شَثَاةٌ لَمْ يَرْفَعُوهُ (۱۵۱۹) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَوَّلُ مَا

واللہ کو اُسے وہ آمین کو دو گھنٹا ہی تھی اس کے ساتھ خدا تعالیٰ سے مرفوعا بیان نہیں کیا گیا ابن عباس سے روایت ہے کہ کتب پلے

أَخَذَ النِّسَاءَ الْمِنْطِقَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَسْمِعَ عَيْلَ أَخَذَتْ مِنْطِقًا لَتَعْفَى أَشْرَهَا عَلَى سَارَةِ

عورتوں میں سے جس نے کربند بنا دیا حضرت اسمعیل کی والدہ تھیں انہوں نے اسے کربند بنا دیا کہ اس کا رہ گئے ان کے قدموں کے نشان مٹ جائیں

بات آپ کی طرحت منسوب نہیں ہو سکتی + (ص ۷۷۰ ہذا) بل یہاں الفاظ روایت یوں ہیں لما نزلت الذين! همتوا ولم ينسوا ايمانهم بظنهم قلنا يا رسول الله

اينما لا يظنهم نفسه قال ليس كما تقولون لم ينسوا ايمانهم بظنهم بشرتك اولم تسمعوا الى قول لقمن لا ينه يا بنى لا تشرك بالله ان الشرك نظم عظيم

۲۹ ص ۱۷۱ جو لفظ ہیں فانزل الله ان الشرك نظم عظيم ان کی اس حدیث میں خوب وضاحت ہو گئی ہے کیونکہ وہاں تو بیظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیت ان

الشرك نظم عظيم اس واقعے کے بعد نازل ہوئی اور یہاں ہے اولم تسمعوا الى قول لقمان لانه يا بنى لا تشرك بالله ان الشرك نظم عظيم کہ تم نے نہیں

ت جو لقمان نے اپنے بیٹے کو کہ جس سے معلوم ہوا کہ یہ آیت پہلے نازل ہو چکی تھی اور حقیقت یہی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت قرآن میں جو اس طرح کے لفظ آج

ہیں فانزل الله جس سے بعد اس لوگوں نے شان نزول کے بہت سے قصے بنائے ہیں صرف اس قدر مٹا دیا جاتا ہے کہ وہ آیت قرآنی اس موقع پر چاہی ہوئی ہے

۱۵۱۹ ص ۱۷۱ ایسی حدیث کا معرفت اتنا مگر وہ ہے اتی النبی صلیم یوماً بلغهم فقال ان الله يجمع يوم القيمة الا دلین والاخرین فی صعید واحد

فیسمهم الراضی ویغفرهم البصیر وہذا الشمس منهم فذکر حدیث الشفا عترتہ اس کے بعد یہاں یہ زائد ہے فیما تون ابراہیم فیقولون انت نبی الله

وخیلید من الارض اشفع لنا الی ربك فیقول ذکرا کذا یا ذکرا نفسی نفسی اذ هو الی موسی۔ یہاں جو آتا ہے ذکر کذا یا ذکرا یا ذکرا یہ محض ان راویوں کے خیالات

کی ملاوٹ ہے جو اس غلطی میں مبتلا تھے کہ حضرت ابراہیم سے تین مرتبہ جھوٹ بولا ہے۔ سولے حضرت عیسیٰ کے مرتبے کے جواب کے ساتھ ایسے لفظ دینے

گئے ہیں جن کا وجود صرف راویوں کے ذہن میں تھا ۱۵۱۹ ص ۱۷۱ مکرر روایت ۱۵۱۹ انبیالی حدیث کا ایک مختصر کلمہ ہے۔ اور یہ کلمہ ۱۱۴۷ ص ۱۷۱ میں بھی گذر چکا

یہاں لفظ یہ ہیں قال النبی صلیم یرحم الله امر اسمعیل لولا انھا عجبت لکان ذمراً عیناً معیناً جلدی کر لیتے یا مارا ہوتا دیکھو نوٹ ۱۱۴۷ اور پھر ۱۵۱۹ ص ۱۷۱

۱۵۱۹ ص ۱۷۱ میں سعید بن جبیر نے جس بات کی نقل کی کہ ابن عباس نے مجھ سے اس طرح بیان نہیں کیا اس کا ذکر فہامی کی روایت میں یوں ہے کہ ایک شخص نے سعید بن جبیر سے کہا

اصحک الله ارایت هذا المقام کما نحدث قال وما كنت تتحدث قال ان يقولون ان ابراہیم حین جاء عرضت علیه امرأة اسمعیل اللزول فابن

ان یزول فجاہلہ، تہذا المحرفو صغیرہ۔ فقال لیس كذلك یعنی تصدیق بیان کیا جاتا تھا کہ حضرت ابراہیم جب حضرت اسمعیل سے ملے اُسے تو انکی بیوی حضرت سارہ

نے ان سے قسم لی تھی کہ وہ کہیں نہیں آریں گے تو حضرت اسمعیل کی بیوی نے وہ پتھر اگے کیا جو مقام ابراہیم پر ہے اور انہوں نے اپنا پاؤں اس پر رکھا تو سعید بن جبیر نے

کہا یوں نہیں اور پھر وہ بات بیان کی جو روایت میں مذکور ہے۔ مگر اسے مرفوع نہیں کیا ۱۵۱۹ ص ۱۷۱ اس میں یہ اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہاجرہ کسی وقت حضرت سارہ

کے خون سے بھاگی تھیں اور کربند اپنے ہاتھ رکھ کر ان کے قدموں کے نشان مٹانے کا کام لینا کچھ عجیب معلوم ہوتا ہوا حضرت

ہاجرہ کے متعلق جو یہ مشورہ کہ حضرت اسمعیل کی میرا نش پھر حضرت سارہ نے دیکھا کہ انکو ازیت پہنچانی چاہی تھی اسلئے وہ بھاگی تھیں یہ قابل اعتبار بات معلوم نہیں ہوتی تو

اس روایت کی کوئی سند ہے حضرت ہاجرہ کو شاہی خاندان مصر سے بنا یا گیا ہے دیکھو نوٹ ص ۱۵۷۵ پر۔ قرون قیاس یہ ہے کہ یہ دوسرا کتب حضرت ابراہیم سے منسلک کی

بنا پر شاہی خاندان مصر سے کیا۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ حضرت سارہ کو حضرت ہاجرہ سے کچھ رقابت ہو گئی ہو لیکن ان کا بھاگنا ایک قصہ ہے۔ اسلئے کہ اسی روایت میں آتا

ہے کہ حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم سے دریافت کیا کہ کیا اسلئے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اسلئے بھاگنے کا قصہ یا حضرت سارہ

کی وجہ سے حضرت ہاجرہ کے نکلے جانے کا یہ قصہ نہیں ہے جو یہودی تصنیف میں مذکور ہے کی بی بی ہاجرہ کی بات کی طرح قابل اعتماد نہیں ہے کیونکہ اس ماہر نے تعدد ازواج کا عام

رواج تھا بلکہ نوڈیاں لکھے مگر مابھی۔ اگر فرض محال حضرت ہاجرہ کو لڑی بی بی تھیں تو یہی یہ بات کی طرح سمجھ نہیں آ سکتی کہ حضرت ابراہیم ہاجرہ کے درختوں میں انسان اپنے بیٹے کی

ماں کو اسلئے گھر سے نکال دیتا کہ اسکی بیوی باطن تھی۔ سالنے وقت ساری بات کی تائید میں کہ حضرت اسمعیل کو حضرت ابراہیم نے صریح ارشاد والی کے ماتحت غائب کیا ہے چھوڑا

ثُمَّ جَاءَهُمْ أَبُو بَرَاهٍ أَسْمَعِيلٌ وَهِيَ تَرْضَعُهُ حَتَّى وَضَعَهَا عِنْدَ لَبِيبٍ عِنْدُ
پھر حضرت ابراہیم اسے اور اس کے بیٹے اسمعیل کو لے آئے اور باہرہ حضرت اسمعیل کو دو دھار پانی تھیں دونوں کو بیت اللہ کے پاس

دَوْحَةً تَوْقٌ زَمْرَمِيٌّ اَعْلَى السُّعْدِ لَيْسَ بِمَلَكَةٍ يَوْمَئِذٍ اَحَدٌ وَّلَيْسَ بِهَا مَاءٌ تَوْضِعُهَا
ایک بڑے درخت کے پاس زمزم کے اوپر جس کی بلند چوٹی تھا اور مکہ میں اس وقت کوئی نہ تھا اور نہ وہاں پانی تھا دونوں کو وہاں

هَذَا لَكَ وَوَضَعَهُ عِنْدَ هُمَا جَرَابِئِدَهُ تَمْرٌ وَسِقَاءٌ فِيهِ مَاءٌ ثُمَّ نَفَى اِبْرَاهِيمَ مِنْ مَنطَلِقِهَا
ٹھکانا اور دونوں کے پاس ایک قبیل چھوڑی جس میں کھجور تھی اور ایک مکینہ جس میں پانی تھا پھر حضرت ابراہیم سے واپس روانہ ہوئے

فَتَبِعَتْهُ امْرَاةٌ اَسْمَعِيلَ فَقَالَتْ يَا اِبْرَاهِيمُ اَيْنَ نَذْهَبُ وَتَرَكْنَا هَذَا الْوَادِيَ الَّذِي
تو حضرت اسمعیل کی والدہ بھی ان کے پیچھے چلی اور کہنے لگیں ابراہیم کہاں جاتے ہو تم کو اس وادی میں چھوڑ چلے ہو جس میں

لَيْسَ فِيهِ اِسْمٌ وَلَا شَيْءٌ فَقَالَتْ لَكَ ذَلِكَ مِرَادًا وَجَعَلَ لَا يَلْتَفِتُ اِلَيْهَا فَقَالَتْ لَكَ اللهُ
نکوئی آدمی ہے اور نہ کوئی چیز ہے باہر باہر باہرہ یہ بات حضرت ابراہیم سے کہتی ہیں اور وہ ان کی طرف نہ دیکھتے تھے تو انہوں نے

الَّذِي اَمَرَكَ بِهَذَا اِقَالَ نَعْمَ قَالَتْ اِذْنٌ لَا يُضْعِفُنَا ثُمَّ رَجَعَتْ فَانطَلَقَ اِبْرَاهِيمُ
کہا کیا اللہ تعالیٰ نے ہی اس کا حکم آپ کو دیا ہے کہاں وہ کہنے لگیں تو پھر وہ ہم کو ہلاک نہیں کریگا حضرت ابراہیم چل پڑے

حَتَّى رَاذًا كَانُ عِنْدَ الثَّرِيَّةِ حَيْثُ لَا يَرَوْنَهُ اسْتَقْبَلُ بِحِجْرِ لَبِيبٍ ثُمَّ دَعَا بِهٖمْ اَكْرَبُ
یہاں تک کہ جب اس کا پانی پہنچے جہاں وہ آپ کو نہ دیکھ سکتے تھے تو اپنا سر بیت اللہ کی طرف کیا اور ان کلمات کے ساتھ

الْكَلِمَاتِ وَرَنَعُ يَدِيْهِ فَقَالَ رَبِّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ يٰوَادٍ غَيْرِ ذِي زُرْعَةٍ
دعا کی اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا میرے رب میں نے اپنی بچھڑاؤں کو تیرے عزت والے گھر کے پاس اس آدمی سے بنایا

حَتَّى بَلَغَ يَشْكُرُونَ وَجَعَلْتُ امْرَاةَ اِسْمَعِيلَ تَرْضَعُهُ اِسْمَعِيلَ وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ
جہاں کہتی نہیں یہاں تک کہ شکر ان کی یاد میں آئے اور حضرت اسمعیل کی والدہ انہیں دو دھار پانی رہیں اور اس پانی میں سے پتی

حَتَّى اِذَا اِنْقَدَمَ اِنْفِاقُ السِّقَاءِ عَطِشَتْ وَعَطِشَتْ اَبْنَاهُ وَجَعَلْتُ تَنْظُرُ اِلَيْهِ يَتَلَوَّى
رہیں جب مکینہ کا پانی ختم ہوا تو ان کو پیاس لگی اور ان کے بیٹے کو بھی پیاس لگی اور وہ اس کی طرف دیکھتے تھیں کہ وہ تڑپ رہا ہے

اَوْ قَالَ يَتَلَبَّطُ فَانطَلَقَتْ كَرَاهِيَةً اَنْ تَنْظُرَ اِلَيْهِ فَوَجَدَتْ الصَّفَاً اَقْرَبَ جَبَلٍ فِي
تو وہ لڑھکیں کیونکہ کچھ کہہ کر وہ اس حالت میں نہ دیکھ سکتی تھیں اور دیکھا کہ زمین کے پہاڑوں میں سے صفائی پہاڑی ان سے زیادہ

الْاَرْضِ يَلِيْهَا فاقامت عليه ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْ الْوَادِيَ نَظْرَهُل تَرَى اَحَدًا فَمَكَتْ
قریب ہے وہ اس پر کھڑی ہو گئیں پھر وادی کی طرف دیکھا تاکہ دیکھیں کوئی آدمی نظر آتا ہے مگر کوئی دکھائی

اَحَدًا فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا حَتَّى اِذَا بَلَغَتْ الْوَادِيَ رَفَعَتْ طَرَفَ رِجْلِهَا ثُمَّ سَعَتْ
ذوہا تو وہ صفائی سے اتر گئیں جب وادی پہنچیں تو اپنے کرنے کے واسطے کو سید کر دوڑیں جس طرح سعیت زدہ آواز

سَعَى الْاِنْسَانُ لِحَبْرَةٍ حَتَّى جَاوَزَتْ الْوَادِيَ ثُمَّ اَتَتْ الْمُرْدَةَ فَقَامَتْ عَلَيْهَا وَ
دوڑتا ہے یہاں تک کہ وادی سے گزر گئیں پھر مردہ پہاڑ پر چڑھیں اور اس پر کھڑی ہو گئیں اور

نَظَرَتْ هَلْ تَرَى اَحَدًا فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ
دیکھتے گئیں کہ کوئی نظر آتا ہے تو کسی کو نہ دیکھا اور اسی طرح سات مرتبہ کیا ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ سَعَى النَّاسِ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا اشْرَكَتْ عَلَى الْمُرْدَةِ سَمِعَتْ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان لڑائی کے دورے کی میں جسے ملے جب ساتویں مرتبہ وہ مردہ پر چڑھیں

صَوْتًا فَقَالَتْ صِرٌّ تَرِدُنَ نَفْسَهَا ثُمَّ سَمِعَتْ فَمِعَتْ اَيْضًا فَقَالَتْ قَدْ اسْمَعْتُنَّ اِنْ
تو انہوں نے ایک آواز سنی تو کہا خاموش رہنا ہے آپ کی ماں پر کان لگانا تو پھر آواز سنی اور کہنے لگیں تو نے آواز تو سنا دی مگر

حضرت ابراہیم کی دعا فی اسکت صاٹ بتاتی ہے کہ یہ گھر سے نکال نہ تھا بلکہ ایک ایسی جگہ لاکر آیا کرتا تھا جہاں سے حضرت اسمعیل کی ہی اولاد میں سے ہدایت خلق کا پتہ پھوٹنے والا تھا۔ ہاں تمنا چھوڑ جانے میں بھی ایک شان تھا۔ اور اس دعا کی قبولیت اسی سے ظاہر ہوتی تھی تا جملہ اشدۃ من الناس تموی الیہم

ابراہیم علیہ السلام

فرمایا اور ان کا بیٹا پھر تو اللہ سے کہنا نہیں کریگا۔ صفا مردہ میں حج کے موقع پر سات مرتبہ دوڑتا ان کے اللہ کی راہ میں تکلیف اور شفقت اٹھائیں یادگار ہے

كَانَ عِنْدَكَ غَوَاثٌ فَادَاهِي بِالْمَلِكِ عِنْدَ مَوْضِعٍ زَمْرٌ فَبَحَثَ بِعَاقِبِهِ اَوْ قَالَ بَحَثَ بِحِمَامِهِ

کچھ مہر دکر سکتا ہے تو کہ اتنے میں انہوں نے زمزم کی جگہ کے پاس نہشت دیکھا اس نے اپنی اڑی سے یا رادی نے کہا اس پر سے

حَتَّى ظَهَرَ الْمَاءُ فَبَعَثَتْ خِجْمَهُ وَتَقُولُ بَيْدَهَا هَلْكَادُ جَعَلَتْ تُعْرِفُ مِنَ الْمَاءِ فِي

زمین کھود ڈالی اور پانی نکل آیا تو وہ اسے حوض میں بند کرنے لگیں اور اس طرح کرتی رہیں اور پانی سے چلو بھر بھر کر سکنیزہ میں ڈالنے لگیں

بِسِقَابِهَا وَهِيَ قَبْرُ رُبْعٍ مَا تُعْرِفُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَتْ

چلو بھرنے کے بعد وہ اور بھی خوش سے نکلے گا ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حضرت

اللَّهُ أَمْرًا سَمِعِيلُ لَوْ تَرَكْتَ زَمْرًا وَقَالَ لَوْلَا تُعْرِفُ مِنَ الْمَاءِ لَكَانَتْ زَمْرًا عَيْنًا مَعِينًا

اسمعیل کی والدہ پر دم کرے اگر زمزم کو رہنے دیتیں یا پانی سے چلو نہ بھریں تو زمزم ایک چشمہ جاری ہو جاتا

قَالَ خَشْرِبَتْ وَأَرْضَتْ وَكَدَهَا فَقَالَ لَهَا الْمَلِكُ لِأَخْفَاؤِ الضَّيْعَةِ فَإِنَّ هَهُنَا بَيْتٌ

کہا تو انہوں نے پانی پیا اور اپنے بچے کو دو دھ پلایا پھر فرشتے نے ان سے کہا ہلاک ہو گیا خوف ذکر یہاں اللہ کا گھر ہے

اللَّهُ يَبْرِي هَذَا الْغَلَامَ وَأَبُوكَ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَهْلَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ مَرْبُوعًا مَرَاكِبًا

یہ روا کا اور اس کا باپ (رس) بنائیں گے اور اراش پر اہل کو ہلاک نہیں کرے گا اسلہ اور خدا (کوساں) تم نے اسی طرح زمین سے

كَأَنَّ رِبِيَّةَ تَارِيئَةَ السَّيُولِ تَتَأَخَذُ مِنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ فَكَانَتْ كَذَلِكَ حَتَّى مَرَّتْ بِمَرْفَعَةٍ

اور بچا تھا اس پر سیلاب آتے تھے تو اس کے دائیں بائیں سے گزر جاتے تھے حضرت باہرہ امی حال پر ہیں یہاں تک کہ جو دم (رہے)

مَنْ جُرَّهْمُ أَوْ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ جُرَّهْمُ مُقْبِلِينَ مِنْ طَرَفِي كَدَا فَنَزَلُوا فِي أَسْفَلِ عِلَّةٍ ثَرَاوًا

کے کچھ لوگ یا جرم کے کچھ گروہ نے وہاں سے گزریے وہ کدرا کی طرف سے آئے تھے اور کدرا کے نشیب میں آئے انہوں نے

طَارِبًا عَائِقًا فَقَالُوا إِنَّ هَذَا الظَّائِرُ لَيَكُونُ وَرَعْلًا مَاءٍ لَعَهْدِ نَابِغَةَ الْوَادِي وَمُطَيَّرَةً

ایک پرندہ دیکھا کہ گھوم رہا ہے تو کہا یہ پرندہ پانی پر گھوم رہا ہے ہم تو تم سے اس وادی سے واقف ہیں اس میں پانی تو نہیں تھا

فَأَرْسَلُوا جَرِيًّا وَجَرِيَّتَيْنِ كَذَا هَمَّ بِالْمَاءِ فَرَجَعُوا فَأَخْبَرُوهُمْ بِالْمَاءِ فَأَقْبَلُوا قَالَ أَمْرًا

انہوں نے ایک یا دو آدمی جری لینے کے لئے بھیجے تو انہوں نے پانی دیکھا وہ وہاں لوٹے اور ان کو پانی کی خبر دی کہا اور حضرت اسمعیل کی والدہ

رَأْسَمِعِيلَ عِنْدَ الْمَاءِ فَقَالُوا أَتَأْتَانَا لَنَا أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكَ فَقَالَ نَعَمْ وَلَكِنْ لَا حَقَّ

پانی کے پاس تمہیں انہوں نے کہا کیا آپ ہمیں اجازت دیتی ہیں تمہا کہ ہم آپ کے پاس آئیں کیا ہاں گھر پانی میں تمہا کوئی

لَكُمْ فِي الْمَاءِ قَالَ لَوْ أَنَعَمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْعَى لَكَ

حق نہیں ہے انہوں نے کہا اچھا ابن عباس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گفتگو حضرت

أَمْرًا سَمِعِيلَ وَهِيَ حَبَّتُ الْأَسْنِ فَذَلُّوا أَوْ أَرْسَلُوا إِلَى أَهْلِهِمْ فَذَلُّوا أَمْرَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ

اسمعیل کی والدہ سے اس وقت ہوئی کہ وہ خود یہی چاہتی تھیں کہ وہ ہاں کوئی انسان ہو وہ اتر پڑے اور اپنے گھروالوں کو پیغام

بِهَا أَهْلُ آبِيَاتٍ مِنْهُمْ وَشَبَّ الْغَلَامُ وَعَلِمَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ وَأَنْفَسَهُمْ وَأَنْجَبَهُمْ حِينَ

بھیجا وہ بھی ان کے ساتھ آکر وہیں ٹھہرے جب کہ میں گھر گئے اور لڑکا جوان ہوا وہاں سے عربی کی لہجہ اور جوان ہو کر ان میں سے خوب

شَبَّ فَلَمَّا أَدْرَكَ زَوْجَهُ أَمْرًا مِنْهُمْ وَرَأَتْ أَمْرًا سَمِعِيلَ فَحَاكِرًا بَرَاهِيمَ بَعْدَ تَرْجِيهِ

ہوا اور انہیں بہت پسند آیا جب یوحنا کو پھا تو انہوں نے اپنے سے اسے ایک عورت لکے کا کہ میں نبی اور حضرت اسمعیل کے الا انخلاق کہیں اور حضرت

رَأْسَمِعِيلَ يُطَالِعُ بَرَكَةَ فَكَرِهَتْ أَمْرًا سَمِعِيلَ فَسَأَلَ امْرَأَتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ خَرَجْتِي بِنَا لَنَا

اس کے بعد قرین لائے جو حضرت اسمعیل کا کہنے سے انہیں دیکھنے آئے جنہا گھر گئے تھے تو حضرت اسمعیل کو موجود پایا اکی بوی سے لکے بلکہ میں وہاں

لَمْ سَأَلْهَا عَنْ خَيْرِهِمْ وَهَيْبَتِهِمْ وَقَالَتْ مَخْنُ بَشَرٌ مَخْنُ فِي ضَيْقٍ شَدِيدٍ فَتَنَكَّلْتُ لَهَا وَقَالَ

م پھر اس سے لکے گزرائے اور اکی حالت کے متعلق پوچھا اس نے کہا جاری حالت رہے ہم تمہا کو دیکھنے میں ہیں اور آپ شگفتگی کی آواز دیتا

لہذا اس کیسے دیکھو
۱۳۴ اور پورٹ
۱۳۵ ان الفاظ سے
صاف معلوم ہوتا ہے
کہ خاندان کو حضرت
ابراہیم سے پہلے کا
موجود تھا اور حضرت
ابراہیم نے اراش کا
حضرت اسمعیل کو پیا
چھوڑا تھا تاکہ کدرا
کعبہ کو دو باغ بنا یا
جائے یہ نظر رکھنا
کھایاں وقت لے
کی طرح قصاصات
بتاتے ہیں کہ خاندان
کعبہ کو ایک کھیر
پر چکا تھا اور کھیر
اسی نشان پر حضرت
ابراہیم اور حضرت
اسمعیل نے اسے
دوبارہ بنایا
۱۳۶ اس سے معلوم
ہوگا کہ زبان عربی
حضرت اسمعیل سے
پہلے کی ہے اور
کہ عرب سارے حضرت
اسمعیل کی اولاد ہیں
ہیں بعض روایات
میں آتے ہیں کہ یہ
پہلے حضرت اسمعیل
نے عربی میں گفتگو
کی۔ اس سے ہی
مزا ہو سکتا ہے کہ
اولاد ابراہیم میں سے
پہلے آئے عربی کی
اور گفتگو کی بنا پر
اکی فصاحت اور
بلاغت کی وجہ سے عربی
بنائیاں ترقی ہوئی ہ

یہاں تک کہ وہاں سے عربی کی لہجہ اور جوان ہو کر ان میں سے خوب

فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكَ فَأَقْرَبِي عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَوْلِي لَهُ يَغْدِرُ عْتَبَةَ بِأَيِّهِ فَلَمَّا جَاءَهُ اسْمَعِيلُ كَاتِبَةٌ

جب تمہارا شوہر آئے تو اس کو سلام کنا اور یہ بھی کہنا کہ اپنے دروائے کی دہلیز بدل دے بلکہ جب حضرت اسمعیل آئے تو انہوں نے

أَسْ شَيْئًا فَقَالَ هَلْ جَاءَكَ مِنْ أَحْرَى تَالْتِ لَعْمَ جَاءَ تَأَشِيخٌ كَذَا وَذَلِكَ أَنَسَا لِنَا عِنْدَكَ فَخَبَلْنَا

کچھ موسیٰ کیا اور ذہبی نے بھی پوچھا کہ کوئی آیا تھا اس نے کہا ہاں ایسی ایسی صورت کا ایک بوڑھا آیا تھا اور انہوں نے مجھ سے آپ کے پاس میں

وَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشِنَا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ فِي جِهَادِي وَشَدِيدِي قَالَ فَهَلْ أَوْصَاكَ بِشَيْءٍ قَالَتْ نَعَمْ أَمْرِي

پوچھا اور مجھ سے یہ بھی پوچھا کہ ہمارا گزارہ کس طرح ہوتا ہے تو میں نے انہیں بتایا کہ تم تکلیف اور سختی میں ہیں حضرت اسمعیل نے پوچھا کیا انہوں نے

أَنْ أَمْرًا عَلَيْكَ السَّلَامُ وَيَقُولُ غَيْرَ عْتَبَةَ بِأَيِّكَ قَالَ ذَاكَ أَبِي وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أَفَارِقَكَ

میں کسی تہا کی وصیت کی کہا ہاں مجھے یہ فرمایا کہ آپ کو ان سلام کموں اور فرمایا کہ تم اپنے دروائے کی دہلیز بدل ڈالو حضرت اسمعیل نے فرمایا میرے والد میں

الْحَقِّي بِأَهْلِكَ فَطَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ أُخْرَى كَلِمَتِ عَنَّهُمْ إِبْرَاهِيمُ نِاشَاءَ اللَّهِ ثُمَّ أَتَاهُمْ

مہ تم اپنے گھر والوں کے پاس میں جاؤ اور اسے طلاق دیدی اور انہی میں سے ایک اور عورت سے نکاح کیا پھر حضرت ابراہیم جب تک شہرے نہ چار بار بی بی بی

بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ دَخَلِ عَلَى مَرَاتِهِ فَمَا لَهَا عِنْدَهُ فَقَالَتْ خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا قَالَ كَيْفَ أَنْتُمْ وَمَا لَهَا

پھر میرے لیے آگے بعد ہر ایک کے پاس آئے مسلمان اور حضرت اسمعیل کو موجود پایا اور ان کی بیوی کے پاس تشریف لیگئے اور اس سے حضرت اسمعیل نسبت پوچھا

عَنْ عَيْشِيَّتِهِمْ وَهَلِيَّتِهِمْ فَقَالَتْ حَسْبُ حَيْزٍ وَسَعِيدَةٌ وَأَنْتَ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ مَا صَدَأَ عَلَيْكَ قَالَتْ

اس نے کہا مجھے لے روز کی تلاش میں جا رہے ہیں کہا تمہارا کیا حال ہے اور اس سے ان کے گزرنے اور ان کی حالت کی نسبت دریافت کیا اس نے کہا ہاں ہاں

اللَّحْمُ قَالَ فَمَا تَشْرَاكُمْ قَالَتْ الْمَاءُ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي الْحَبِّ وَاللَّحْمِ وَالْمَاءِ قَالَ

اچھی اور ذرا پی کی ہے اور ایشی کے عربین کی یہ بوجھ ہے کہ کہتا ہے جو اس نے کہا گوشت پوچھا ہے پینے کی ہوا اس نے کہا یا نبی انہوں نے کہا ایشی کے

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حَبٌّ وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَاءُ لَمْ يَسْأَلِ

گوشت اور پیانی میں برکت سے نبی علی شریف سے سہنے فرمایا اس وقت ان کے یہاں ان کوئی ذرا تھا اگر ہوتا تو اس میں بھی ان کے لیے برکت کی دعا مانگتے ہوتا

فَهُمَا لَا يَخْلُو عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بَعْدَ مَمْلَأَةِ الْأَكْمِيَّةِ يَوْمَئِذٍ قَالَ فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكَ فَأَقْرَبِي

انہوں نے فرمایا کہ کو شریف کے بغیر اور کہیں اگر کوئی صرف گوشت اور پیانی سے گزارہ کہے تو اسے موافق نہیں آئیں گے حضرت ابراہیم نے فرمایا جب

عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمُرِيهِ يَلِيْتُ عْتَبَةَ بِأَيِّهِ فَلَمَّا جَاءَهُ اسْمَعِيلُ قَالَ هَلْ أَتَاكَ مِنْ أَحَدٍ

تمہارا خاندان آجائے تو انہیں سلام کنا اور یہ بھی کہنا کہ اپنے دروائے کی دہلیز کو تھام رکھیں جب حضرت اسمعیل آئے تو پوچھا کیا کوئی آیا تھا بیوی نے

قَالَتْ نَعَمْ أَتَانَا شَيْخٌ حَسَنٌ الْهَيْئَةِ وَأَنْتَ عَلَيْهِ فَسَأَلَنِي عَنْكَ فَخَبَرْتُهُ فَسَأَلَنِي كَيْفَ

کہا ہاں ایک خوبصورت بزرگ آئے تھے اور ان کی تعریف کی مجھ سے آپ کی نسبت پوچھا تو میں نے انہیں بتا دیا اور مجھ سے یہ بھی پوچھا کہ ہمارا گزارہ

عَيْشِنَا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ فِي جِهَادِي وَشَدِيدِي قَالَ فَهَلْ أَوْصَاكَ بِشَيْءٍ قَالَتْ نَعَمْ هُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَأْمُرُكَ أَنْ

کس طرح ہوتا ہے تو میں انہیں کہا کہ اچھا ہے حضرت اسمعیل نے پوچھا کیا کسی بات کی قید وصیت بھی کی اس نے کہا ہاں انہوں نے آپ کو سلام لیا کہ

تَلِيْتُ عْتَبَةَ بِأَيِّكَ قَالَ ذَاكَ أَبِي وَأَنْتَ لَعْنَةُ أَمْرِي أَنْ أَمْسِكَ ثُمَّ كَلِمَتِ عَنَّهُمْ فَمَا شَاءَ اللَّهُ

آپ کو حکم دیا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو تھام رکھو فرمایا میرے والد میں اور دہلیز سے تمہاری مراد پوچھے حکم دیا کہ تمہیں اپنے پاس رکھو پھر حضرت ابراہیم

جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَاسْمَعِيلُ كَاتِبٌ نَبِيْلَةٌ فَحَتَّ دَوْحَهُ قَرِيْبًا مِنْ زَمْرٍ فَلَمَّا رَأَاهُ قَامَ لِيَوْمِهِ

ان کے پاس نہیں آئے جب تک ایشی نے جا پھر اس کے بعد تشریف لائے اور حضرت اسمعیل ایک دن سخت کے نیچے زمزم کے پاس اپنے تیرھویں کر کے

یہ ممکن ہے حضرت ابراہیم نے اس عورت کو کچھ اور بھی ایسے عادات دیکھے ہوں جن کی وجہ سے حضرت اسمعیل کو اسے طلاق دینے کا مشورہ دیا ہو۔ انہیں شرفی کی طرف سے یہ علم مل چکا تھا کہ حضرت اسمعیل کی اولاد سے ایک عظیم شان نبی پیدا ہونے والا ہے اور ایک عظیم شان قوم بننے والی ہے تو انہوں نے چاہا کہ ایک بندہ یا بی بی خاتون اس نبی اہل اس قوم کی والدہ ہوں۔ وقت بڑھنے کے ساتھ ان کی تعریف میں یہ عقول سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباؤ اجداد کے سب رطلے ہائے کے اور نیک لوگ تھے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم بارہ نقول سے حضرت اسمعیل کے پاس آئے تھے۔ یا مریم اس

ذی زرع تھی۔

علا میں اٹھا
اس پھر کی طرف
ہے جو مقام برائے
پرستہ
علا میں روایت
کچھ اختلاف لغوی
سے آئی ہے اور
یہ بھی مرفوع نہیں
جیسے کچھ روایت
مرفوع نہیں۔ یا
الفاظ یہ ہیں:-
لما کان بین
ابراہیم و بین
اہلہ ما کان خروج
یا اسمعیل و امہ
اسمعیل و معہم
شنتہ فیہما
فجعلت امہ معیل
تشریب من الشنتہ
ذی رہلہا علی
صبیہا حتی یتد

فَصْنَعًا كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِالْوَالِدِ يَأْتِيهِ الْوَالِدُ لِيَأْتِيَ بِمَا يَكُونُ لِقَوْلِهِمْ إِنَّا رَبُّكَ قَالَ يَا اِبْرَاهِيمُ اجْعَلْ مِنْ بَنِيكِ يَتْلُوا آيَاتِ اللَّهِ وَلِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَبُّكَ اسْمِعِيلَ إِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُ

اور دونوں نے ایسا کرنا کیا جیسا کہ والد سے اور بیٹہ سے اور والد سے کہہ ہے پھر حضرت اسمعیل سے فرمایا کہ اللہ نے تجھے ایک بات کا حکم دیا ہے کیا ہے
قَالَ فَاصْنَعْ مَا أَمَرَكَ رَبُّكَ قَالَ وَاجْعَلْنِي قَالِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَدْ قَالَ اللَّهُ آمُرُنِي أَنْ ابْتِغِي

پورا کرو جو حکم آپ کے اپنے آپ کو دینا فرمایا یا تم میری مدد کرو گے کیا میں بھی آپ کی مدد کروں گا فرمایا تو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ایک گھر بناؤں
بَيْتٍ وَأَشَارَ إِلَى النَّمِيرِ فَرَفَعْتُهُ عَلَى مَا حَوْلَهَا قَالَ فَجِئْنَا ذَلِكَ رِفْعًا الْقَوَاعِدُ مِنَ الْبَيْتِ فَجَعَلَ

اور ایک چوڑھے کے لیے کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے گرد
کما تو اس وقت دونوں نے بیت اللہ کی بنیاد میں اٹھائیں حضرت

إِبْرَاهِيمَ اجْعَلْ مِنْ بَنِيكِ يَتْلُوا آيَاتِ اللَّهِ وَلِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَبُّكَ اسْمِعِيلَ إِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُ

اسمعیل پھر لاتے جاتے تھے اور حضرت ابراہیم تمہیں کہتے تھے
بِئْسَ مَا تَفْعَلُ يَا اِبْرَاهِيمُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُ بَصِيرٌ

ابراہیم کہتے مکہ دیا وہ اس پر کھڑے ہوئے اور تمہیں کہتے تھے اور حضرت اسمعیل آپ کو پھر بتاتے تھے اور دونوں پڑھتے تھے (ربنا انزلنا القرآن ۱۷۷-۱۷۸)

الْعَلِيمِ قَالَ فَجَعَلْنَا مِثْقَلًا رَبُّكَ فِي الْقُرْآنِ وَاجْعَلْ لَنَا مِثْقَلًا فِي الْقُرْآنِ رَبُّكَ آتَمُّ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْإِبْرَاهِيمِ الَّذِي وَاعَدْنَاكَ

الْعَلِيمِ (۱۵۸۰) عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ رَمْتَانَ (۱۵۸۹) ابواب (۱۵۲۰) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ

قَبِلْنَا مِنْكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
دیکھو حدیث ۱۵۸۹ باب
الذکر سے روایت ہے کہ

قَالَ قَدْ قَالَ اللَّهُ آمُرُكُمْ بِالْحَقِّ وَنَهَىٰ بِكُمْ عَنِ الْبَاطِلِ وَأَمَرَ بِكُمْ بِالْإِسْلَامِ وَنَهَىٰ بِكُمْ عَنِ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْمُنَافِقَةِ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ

یہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے سچ سے سچ کہا ہے
اَلْقَصْدُ قَلْتُمْ كَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا قَالٍ وَبَعْدَ سَنَةٍ ثَمَّ إِنَّمَا اذْهَبَتْ فَضَلَّتْ مَا فَاعَلَ فَافْهَىٰ بِصَوْتِ

اَلْقَصْدُ قَلْتُمْ كَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا قَالٍ وَبَعْدَ سَنَةٍ ثَمَّ إِنَّمَا اذْهَبَتْ فَضَلَّتْ مَا فَاعَلَ فَافْهَىٰ بِصَوْتِ

مَلَكَ فَوَضَعَهَا حَتَّىٰ دَرَجَتِهِ ثُمَّ رَجَعَهُ اِبْرَاهِيمُ إِلَىٰ اِهْدِ فَانْتَجَتْهُ اِمْرَ اسْمِعِيلَ حَتَّىٰ لَمَّا بَلَغَ الْاَدَاءُ مِنْ رَدِّ اَيْدِي اِبْرَاهِيمَ اِلَىٰ مَنْ تَرَكَ اَنْ قَالَ اِلَىٰ

قالت رضىت بالله قال فوجعت فجعلت تشرب من الشنتة ويد رلنتها على صبيها حتى لما نعى الماء قالت لو ذهبت فنظرت لعل احرامها

قال فن ذهبت فسمعت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس احد اقم تحس احد فلما بلغت الوادى سعت واتت المروة ففعلت ذلك اشواها

ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعلت انسى لصبى فنظرت فاذا هو على حاله كان ينفض للمرت ثم تفرها نفسها فقالت لو ذهبت فنظرت

لعل احس احد فن ذهبت فسمعت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس احد احس اتمت سبعا ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعلت فاذا هي بصوت

فقات اغتث ان كان عندك خير فاذا جبريل قال فقال بعقبه هل كان او غير عقبه على الارض قال فانبتش الماء فن ذهبت امه سمعيل فجعلت

تخضر قال فقال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم لو تركته كان الماء هرا قال فجعلت تشرب من الماء ويد رلنتها على صبيها قال فامر

ن من جرحهم بطير الوادى فاذا هم بطيرك نهم انكروا ذاك وقالوا ما يكون الطير الا على ما يدعوتوا رسولهم فنظرت فاذا هم يال ماء فاتاهم

فاخبرهم فاوا اليها فقالوا يا امه سمعيل اما ذنين لنا ان نلون محك ارسنن معك فبلغنا انما فكيفهم امراة قال ثم اتميل ابراهيم فقال لاهله انى مطنة

تركتى قال نجنا نسبه فقال من امه سمعيل فقالت امراة ذهب يصيد قال قولى لى اذا جاء غير عتبة ياربك فلما جاء اخرته قال انت ذاك فذهبت الى اهلك قال

۱۵۲۳) عن ابی ہریرۃ ذہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لئن اخرج من ابراهیم اذ قال رب اربی کیف یفعلی المور قال اولم تو من قال بی الکن لیضمن قلبی یرحمہ اللہ لوطا نے عرض کیا کہ میرے بچے، گناہ کو تو جس طرح مردوں کو زندہ کرتے ہے، اُسٹرنے فرمایا کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ انہیں عرصہ کیا کریں گے اور انہیں گناہوں سے کون بچائے گا۔

۱۵۲۴) باب قول اللہ تعالیٰ واذکر فی کتاب اسمعیل اذ کان صا رب الوعد (م) باب اشتغالہ کا قول اور کتاب میں حضرت اسمعیل کا ذکر کہ وہ دعائے کے بچے تھے

۱۵۸۴) عن سلمۃ بن الاکوع (متکرر ۱۳۳۶) باب قصۃ ابرہہ بن ابرہیم علیہما السلام ابن عمر اور ابویہریرہ بنی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ

۱۵۸۵) راحضہ یعقوب الموت الی قوزہ لئن لہ مسیون (م) ۱۵۸۵) عن ابی ہریرۃ (متکرر) یعقوب کے سامنے موت آئی اسٹکے قول دیکھو لہ مسیون تک (البقرہ ۱۳۳)

۱۵۱۷) باب و لوطا اذ قال لقریبہ ان توئن الفاحشۃ وان تم تبصریون ایتکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم تمہلون فدا کان جواب قومہ غیر توں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آئے ہو بیکر تم جاہل قوم ہو تو اس کی قوم کا جواب مرنے تھا

۱۵۸۶) راء ان قالوا اخر جوار ال لوط من قریبتکم انہم ان من یتظہرون فاجینہ و اہلہ کہ انہوں نے کہا لوہاک لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو۔ ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا چاہتے ہیں سو ہم نے انہیں اور انکے بیوی بچوں کو نکال دیا۔

۱۵۸۷) راء امراتہ قد زنتھا من الغابریین دامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین ہ سوائے انکی بیوی کے ہم نے اس کیلئے بھیجے ہیں والوں میں ہونا مقدر کیا تھا اور ہم نے ان پر ایک میز برسایا تو یہی براہ کا میز تھا جو پورے گنہگاروں پر پڑتا ہے۔

۱۵۸۸) عن ابی ہریرۃ (متکرر ۱۵۲۳) (۱۶) باب فلما جاء ال لوط الی رسولہ دیکھو حدیث ۱۵۲۳

۱۵۸۹) قال انکم قوم یوکشاخت نہیں کے جاتے (بخاری ۶۲۶۶) برکنہ (الذاریۃ ۳۹) لئن ان لوگوں کے سمیت جو کہتے سہ تھے کہ میری بیوی انکی بیوی ہے

۱۵۹۰) و استنکرہم و احد ہرعون سیرعون داہر الخصبی ہ ہلکۃ للمتوسمین لنت اظہرین بازو تھے تو انکو (ہجو ۱۱۳) تکلیفیں تو انکو (ہجو ۶۰) استنکرہم (ان کو ہنسی سمجھا) کے ایک ہی بیوی میں چھوٹوں (ہجو ۷۸) دورے آئے انہوں نے

۱۵۹۱) لیسبیل یطرتی (م) ۱۵۸۷) عن عبد اللہ (متکرر ۱۵۱۰) (۱۷) باب قول اللہ تعالیٰ للمتوسمین (بخاری ۷۷) دیکھو الکیسبیل (بخاری ۷۷) سے ہیں دیکھو حدیث ۱۵۱۰

۱۵۹۲) و الی شہود اخہم صا لکذب اصحاب حج موضع ثمود و اما حوت حج حرام و کل ممنوعہ شہود کے پاس لگا بجائی صالح (ہجو ۶۱) حجرا شہود کی جگہ والوں نے ٹکڑیوں کی (بخاری ۱۳۹۰) منع کی تھی اور جس چیز سے منع کیا گیا وہ

۱۵۲۳) عن ابی ہریرۃ ذہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لئن اخرج من ابراهیم اذ قال رب اربی کیف یفعلی المور قال اولم تو من قال بی الکن لیضمن قلبی یرحمہ اللہ لوطا نے عرض کیا کہ میرے بچے، گناہ کو تو جس طرح مردوں کو زندہ کرتے ہے، اُسٹرنے فرمایا کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ انہیں عرصہ کیا کریں گے اور انہیں گناہوں سے کون بچائے گا۔

۱۵۲۴) باب قول اللہ تعالیٰ واذکر فی کتاب اسمعیل اذ کان صا رب الوعد (م) باب اشتغالہ کا قول اور کتاب میں حضرت اسمعیل کا ذکر کہ وہ دعائے کے بچے تھے

۱۵۸۴) عن سلمۃ بن الاکوع (متکرر ۱۳۳۶) باب قصۃ ابرہہ بن ابرہیم علیہما السلام ابن عمر اور ابویہریرہ بنی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ

۱۵۸۵) راحضہ یعقوب الموت الی قوزہ لئن لہ مسیون (م) ۱۵۸۵) عن ابی ہریرۃ (متکرر) یعقوب کے سامنے موت آئی اسٹکے قول دیکھو لہ مسیون تک (البقرہ ۱۳۳)

۱۵۱۷) باب و لوطا اذ قال لقریبہ ان توئن الفاحشۃ وان تم تبصریون ایتکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم تمہلون فدا کان جواب قومہ غیر توں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آئے ہو بیکر تم جاہل قوم ہو تو اس کی قوم کا جواب مرنے تھا

۱۵۸۶) راء ان قالوا اخر جوار ال لوط من قریبتکم انہم ان من یتظہرون فاجینہ و اہلہ کہ انہوں نے کہا لوہاک لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو۔ ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا چاہتے ہیں سو ہم نے انہیں اور انکے بیوی بچوں کو نکال دیا۔

۱۵۸۷) راء امراتہ قد زنتھا من الغابریین دامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین ہ سوائے انکی بیوی کے ہم نے اس کیلئے بھیجے ہیں والوں میں ہونا مقدر کیا تھا اور ہم نے ان پر ایک میز برسایا تو یہی براہ کا میز تھا جو پورے گنہگاروں پر پڑتا ہے۔

۱۵۸۸) عن ابی ہریرۃ (متکرر ۱۵۲۳) (۱۶) باب فلما جاء ال لوط الی رسولہ دیکھو حدیث ۱۵۲۳

۱۵۸۹) قال انکم قوم یوکشاخت نہیں کے جاتے (بخاری ۶۲۶۶) برکنہ (الذاریۃ ۳۹) لئن ان لوگوں کے سمیت جو کہتے سہ تھے کہ میری بیوی انکی بیوی ہے

۱۵۹۰) و استنکرہم و احد ہرعون سیرعون داہر الخصبی ہ ہلکۃ للمتوسمین لنت اظہرین بازو تھے تو انکو (ہجو ۱۱۳) تکلیفیں تو انکو (ہجو ۶۰) استنکرہم (ان کو ہنسی سمجھا) کے ایک ہی بیوی میں چھوٹوں (ہجو ۷۸) دورے آئے انہوں نے

۱۵۹۱) لیسبیل یطرتی (م) ۱۵۸۷) عن عبد اللہ (متکرر ۱۵۱۰) (۱۷) باب قول اللہ تعالیٰ للمتوسمین (بخاری ۷۷) دیکھو الکیسبیل (بخاری ۷۷) سے ہیں دیکھو حدیث ۱۵۱۰

۱۵۹۲) و الی شہود اخہم صا لکذب اصحاب حج موضع ثمود و اما حوت حج حرام و کل ممنوعہ شہود کے پاس لگا بجائی صالح (ہجو ۶۱) حجرا شہود کی جگہ والوں نے ٹکڑیوں کی (بخاری ۱۳۹۰) منع کی تھی اور جس چیز سے منع کیا گیا وہ

۱۵۲۳) عن ابی ہریرۃ ذہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لئن اخرج من ابراهیم اذ قال رب اربی کیف یفعلی المور قال اولم تو من قال بی الکن لیضمن قلبی یرحمہ اللہ لوطا نے عرض کیا کہ میرے بچے، گناہ کو تو جس طرح مردوں کو زندہ کرتے ہے، اُسٹرنے فرمایا کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ انہیں عرصہ کیا کریں گے اور انہیں گناہوں سے کون بچائے گا۔

روایت ۱۵۲۳ پر آتی ہے۔ مکرر روایت کے لفظ قریب قریب ہے اہل کے ہیں۔ مکرر روایت مختصر ہے ان النبی صلعم قال یغفر اللہ لوط ان کان یادی الی کرکشیہ

فَهُوَ جَبْرٌ مَجْرُودٌ رَاجِعٌ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا جَعَلَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْأَرْضِ فَهُوَ جَبْرٌ وَمِنْهُ سُبْحَى
تو وہ جبر اور مجرود ہے اور جبر مردہ عبادت ہے جو بناؤ اور جس زمین کو کعبہ لیا جائے

۱۵۲۳ میں ہے اور ایسا ہی آگے

حَصِيمَ الْبَيْتِ حَجْرًا كَأَنَّهُ مَشْتَقٌ مِنْ فَحْشٍ مَقْتُولٍ وَقَالَ لِلْأَنْفِ
بیت اللہ کے حصم کو حجرت سے سویم کہا گیا ہے گو یا کہ حصم معلوم سے نکلا ہے جیسے تفتیل

۱۵۲۴ میں آتا ہے کہ ظالم ملک شدہ لوگوں کی جگہ پر سے گذر دوتہا

مِنْ أَحْيَالِ الْجَبْرِ يُقَالُ لِلْعَجْرِ ذَرْبِي وَأَمَّا جَبْرُ الْيَمَامَةِ فَهُوَ مَنَزَلٌ (۱۵۲۴)
جبر کہتے ہیں اور مقل کو ہیں جبر العوج۔ اور جی کہتے ہیں اور جبر الیامہ ایک مقام کا نام ہے

۱۵۲۵ میں اس سے عبرت حاصل کر دو اور قصا

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ الَّذِي كَفَرَهُ
عبداللہ بن زعمہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرماتے تھے اور اس شخص کا ذکر کیا کہ میں نے

۱۵۲۶ میں دل پر یہ اثر ہو کر انسان جب نیاطی کرتا ہے تو اس دنیا میں بھی پکڑا جاتا ہے۔ یہاں یہ ذکر ہے کہ اس کے نہیں

الثَّاقَةِ قَالَ لِمَا رَجُلٌ ذُو عِزَّةٍ مَنَعَهُ فِي قُوَّةٍ كَأَنِّي زَمْعَةَ (۱۵۲۵) عَنِ
اڈھنی کی کہیں کا میں کہ اس نے کسی صاحب عزت اور جیسے از قوت والے نے آدھنگا ہر جیسے کہ از زعمہ

۱۵۲۷ میں اس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

أَبْنُ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَ فِي عَزْرَةَ بَنِي أَمْرِئِمَّ
جبر خودہ جو کہ میں جبر میں اس سے تو انہیں حکم دیا

۱۵۲۸ میں اس کے کہنے کو نہیں اور نہ سکھایا اس میں سے عبرت انہوں نے صرف کیا کہ ہم نے تو اس سے آنا گزرا یہ اور جیسے ہی ہماری تواریخ

لَا يَسْتَرْبُوا مِنْ بَأْسِهَا وَكَأَيُّ مَسْتَقِرٍّ مِنْهَا فَاقُولُوا قَدْ جِئْنَا مِنْهَا وَأَسْتَفِينَا فَأَمْرُهُمْ أَنْ
میں حکم دیا کہ اس آئے کو پھینک دیں وہ اس پانی کو بہا دیں

۱۵۲۹ میں اس کے کہنے کو نہیں اور نہ سکھایا اس میں سے عبرت انہوں نے صرف کیا کہ ہم نے تو اس سے آنا گزرا یہ اور جیسے ہی ہماری تواریخ

يُحَرِّجُونَكَ الْعَجِينَ وَيُحَرِّقُونَكَ الْمَاءَ وَبُرْدِي عَنْ سَبْرَةَ بِنْتِ مَعْبُدٍ وَكَأَيُّ الْقَمْرِيِّ
کھانے کے پھینکے کا حکم دیا اور ابو ذر کے کہ انہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

۱۵۳۰ میں اس کے کہنے کو نہیں اور نہ سکھایا اس میں سے عبرت انہوں نے صرف کیا کہ ہم نے تو اس سے آنا گزرا یہ اور جیسے ہی ہماری تواریخ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْقَاءِ الطَّعَامِ وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
کہا ہے کہ اس نے کہا کہ انہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

۱۵۳۱ میں اس کے کہنے کو نہیں اور نہ سکھایا اس میں سے عبرت انہوں نے صرف کیا کہ ہم نے تو اس سے آنا گزرا یہ اور جیسے ہی ہماری تواریخ

مَنْ جَاءَهُمْ بِمَاءٍ (م- ۱۵۸۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (م- ۱۵۲۵) (م- ۱۵۸۹)
کہ جس نے اس پانی سے آئی گو نہھا

۱۵۳۲ میں اس کے کہنے کو نہیں اور نہ سکھایا اس میں سے عبرت انہوں نے صرف کیا کہ ہم نے تو اس سے آنا گزرا یہ اور جیسے ہی ہماری تواریخ

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ (م- ۳۰۳) (م- ۱۵۹۰) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (م- ۳۰۳)
دیکھو حدیث ۳۰۳

۱۵۳۳ میں اس کے کہنے کو نہیں اور نہ سکھایا اس میں سے عبرت انہوں نے صرف کیا کہ ہم نے تو اس سے آنا گزرا یہ اور جیسے ہی ہماری تواریخ

(۱۸) بَابُ أَمَلِنَاكُمْ شَهْدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبُ الْمَوْتَ (۱۵۲۶) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ
باب کیا تم موجود تھے جب یعقوب کے سامنے موت آئی را بقومہ ۳۳۳

۱۵۳۴ میں اس کے کہنے کو نہیں اور نہ سکھایا اس میں سے عبرت انہوں نے صرف کیا کہ ہم نے تو اس سے آنا گزرا یہ اور جیسے ہی ہماری تواریخ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنُ الْكَرِيمِ يَوْمَئِذٍ
علیہ وسلم سے روایت کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بڑا معزز بڑے معزز کا بیٹا وہ بڑے معزز کا بیٹا وہ بڑے معزز کا بیٹا

۱۵۳۵ میں اس کے کہنے کو نہیں اور نہ سکھایا اس میں سے عبرت انہوں نے صرف کیا کہ ہم نے تو اس سے آنا گزرا یہ اور جیسے ہی ہماری تواریخ

ابن يعقوب بن اسحق بن ابراهيم عليهم السلام (۱۹) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى لَقَدْ
بن یعقوب بن اسحق بن ابراہیم علیہم السلام بنیں باب اللہ تعالیٰ کا قول ہے شک

۱۵۳۶ میں اس کے کہنے کو نہیں اور نہ سکھایا اس میں سے عبرت انہوں نے صرف کیا کہ ہم نے تو اس سے آنا گزرا یہ اور جیسے ہی ہماری تواریخ

۱۵۳۷ میں اس کے کہنے کو نہیں اور نہ سکھایا اس میں سے عبرت انہوں نے صرف کیا کہ ہم نے تو اس سے آنا گزرا یہ اور جیسے ہی ہماری تواریخ

سے پانی تو۔ اور اس کے ساتھ نظر میں اللہ کی کان تر وہا الناقۃ جس سے اوشنی پیا کرتی تھی۔ قرآن کریم کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صالح کی اوشنی کے لئے آگ کھانوں نہ تھا بلکہ باری مقرر تھی۔ اور وہ دوسرا کھانوں میں ہر حال اسی ارض ثور میں ہی تھا۔ آگ کھانوں کو روایت کے الفاظ میں فرق ہے۔ ان الناس نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ارض شوفا بجر فاستقوا من بئرها واعجبوا به فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يهريقوا ما استقوا من بئرها وان يخلفوا الا بل العجين وامرهم ان يستقوا من البئر التي كان تردها الناقۃ • آگ کھانوں نے یہاں نظر یہ ہے۔ لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا الا ان تكونوا بائنين ان يصيبكم ما اصابهم ثم تعدوا برءاؤه وهو على الرحل • آگ کھانوں نے یہاں نظر یہ ہے۔ لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم الا ان تكونوا بائنين ان يصيبكم مثل ما اصابهم •

الرَّاسِحِينَ ارْكُضْ اَصْرِبْ يَرْكُضُونَ (م- ۱۵۹۷) عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ (متكر- ۲۱۶)
 بر لھکر جم کر نیلا ہے ارکض (م- ۲۱۶) کے معنی میں مارا اور برکضون (ا۱۳) اور تے ہیں دیکھو حدیث ۲۱۶

(۲۱) بَابٌ وَاذْكُرْ فِي كِتَابِ مُوسَى اِنَّهٗ كَانَ مُخْلِصًا وَّكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا وَّزَادِنَا
 باب اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر دہر کھوٹ سے پاک تھا اور رسول نبی تھا اور ہم نے اسے

مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا كَلِمَةً وَّوَهَبْنَا لَهُ مِنْ جَمِيعِ اَخَاهُ هَارُونَ
 بائیں طرف سے پکارا اور نیارا زبانتے ہوئے سے مقرب بنا یا اس سے بائیں میں اور ہم نے اسے نبی رحمت سے اس کے بھائی ہارون نبی عطا
 نَبِيًّا يُقَالُ لِلْوَاحِدِ وَاللَّذَيْنِ وَالْجَمِيْعِ وَيُقَالُ خَلَصُوا بِمِثْلِهِ اعْتَرَلُوْا بِمِثْلِهِ وَالْجَمِيْعِ
 فرمایا (م ۱۵۹۸) ایک اور دو اور صحت سے کھیلے "حالات ہے اور کہا جاتا ہے مخلصا یعنی اے ہارون ایک جاکر ہارون اور جمع الخلیفہ

اَيْحِيَّةَ يَتَنَجَّوْنَ (۲۲) بَابٌ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ اِلَى قَوْلِهِ مُسِرُّوْ
 تینوں (المجادلہ- ۸) خفیہ طور سے کرتے ہیں باب اور ایک مومن شخص فرعون سے آیا اس کے کہ اس قول تک مسرت کتاب (المومن- ۲۸)

كَذٰبٍ (م- ۱۵۹۸) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا (۲۳) بَابٌ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ
 دیکھو حدیث ۲۳ باب اللہ تعالیٰ کا قول

وَهَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ مُّوسَى اِذْ رَاى نَارًا اِلَى قَوْلِهِ يَا لَوِ اِدَّ الْمُقَدَّسِ طُوًى
 اور کیا تجھے موسیٰ کی خبر پہنچی ہے جب انہوں نے آگ کو دیکھا اس کے قول یا لواء المقدس طوی تک (ط- ۲۱۶) انست

اَبْصُرْتُ نَارًا اَلْعَلَى اَلْتِيْزُ مِنْهَا يَبْقِيْنَ اَلَا يَهٗ قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ اَلْمَقْدِسُ اَلْمِيْاْرُ طُوًى
 میں نے آگ دیکھی : اہل کتابے پاس اس میں سے شعلے آؤں ابن عباس نے کہا مقدس مبارک طوی

اِسْمُ الْوَادِي سَمِيْرَتُهَا اَلْتَمَّاءُ وَالتَّهْمِيُّ التَّمِيُّ بِمَلَكْنَا يَا مَرْنَا هُوَ شَيْءٌ فَاَرِغَا اَلَا
 وادی کا نام ہے سمیر تھا (ط- ۲۱) اس کی حالت اور نبی (ط- ۲۱) تقریبی بلسنت (ط- ۸۷) ہمارے اپنے اختیار سے ہوی (ط- ۸۱)

مِنْ ذِكْرِ مُّوسَى رَدًّا اَلَى يَصْدُرْنِي وَيُقَالُ مِغِيْرًا وَّمِغِيْرًا مِغِيْرًا مِغِيْرًا
 بر تفسیر جو اخبار القصر ۱۰۰ اس کے موسیٰ کی یاد کے اور اس میں کچھ نہ تھا (د آ القصر ۳۲) (مردگانا تاکیر تری تصدیق کرے اور

يَتَسَاوَرُونَ وَالْمِجْرُوَّةُ مِجْرُوَّةٌ عَلِيْظَةٌ مِّنْ اَلْخَشْيِ لَيْسَ فِيْهَا اَلْتَبُّ سَسْتَدُّ سَسْتَدُّكَ كَلِمًا
 مشورہ کرتے ہیں اور جزدوۃ (القصر ۲۹) کہ لڑائی کا ایک نیا کلمہ ہے جس میں شعلہ ہوسنتند (القصر ۵۵) تری تری مدد کر دیا گیا ہے

عَزَزْتُ شَيْئًا فَنَدَّ جَعَلْتُ لَهُ عَضْدًا وَّاقَالَ غَيْرُهُ كَلِمًا لَمْ يَنْطِقْ بِحَرْفٍ اَوْ فِیْهِ تَمَمَّةٌ
 تو ایک چیز کو قوت دے تو نے اسے عضد را زد دیا اور اوروں نے کہ جب کبھی ایک حرف کو ادا نہ کرے یا اس میں ت

اَوْ فَا نَا فَهِيَ عَقْدَةٌ اَزْرَى طَهْرِي فَيَسْحَتُكُمْ فَيَهْلِكُكُمْ اَلْمِثْلُ اَلْمِثْلُ تَدْنِيْتُ اَلْمِثْلَ
 یا ت بر تلوئے ہر تو یہ عقده (ط- ۱۶) ہے ازری (ط- ۳۱) تری پیٹھ فیستیکہ (ط- ۶۱) کہ کہ ایک کلمے المثل (ط- ۶۳) امثل کا نوشت ہے

يَقُوْلُ بَدِيْنُكُمْ يُقَالُ خُذِ اَلْمِثْلَ خُذِ اَلْمِثْلَ ثُمَّ اَتَوْا صَفًا يُقَالُ هَلْ اَنْبَيْتُ
 کہا ہے : تین کو خواب نہا ہے کہ میں خن المثل خن المثل رے سے بہتر کو تو اتوا صفا (ط- ۶۴) پر صفت با ذکر کہ آؤ کہتے ہیں حل ایت

الصَّفِّ الْيَوْمَ يَعْنِي الْمَصْلَةَ الَّذِي يَصْلِي فِيْهِ فَاَوْجَسُ اَصْمَحُوْا فَاذْهَبْ لَوَاوِ
 الصف اليوم یعنی کی تو آج اس نازگاہ میں آیا جہاں نماز پڑھی جاتی ہے فاجس (ط- ۶۷) ولین موسیٰ کیا (خفیہ) خون داؤ خاؤ سے لڑکے جو سے

مِنْ خِيْفَةٍ لِّكَسْرَةِ النَّجْوِ فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ عَلٰى جُذُوْعِ عَضْبِكَ يَا لَكَ مَسًا مَّصْلًا
 یا سے بدل گیا ہے فی جزدوۃ النخل (ط- ۱۰) یعنی تلوئے کے دیکھ لیت (ط- ۹۵) تیرا حال مساس (ط- ۹۷)

كَاسَةً مَّسًا لِنَسْفِئْتَهُ لِنُدْرِيْتَهُ الْعَجْوَاءُ اَحْرَقْتَصِيْهِ اَشْجِيْ اَثْرُهُ وَقَدْ كُوْنُ اَنْ لَّقِصْرٌ
 فاشہ کا مصدر ہے مس لیسفنتہ (ط- ۹۷) ہر فرسٹ اور ایک فضا گرمی ہے قصیہ (القصر ۱۱۰) اس کے کچھ کچھ جا اور کبھی قص کے معنی

۲۱۶

۲۱۶

۲۱۶

۲۱۶

۲۱۶

۲۱۶

۲۱۶

۲۱۶

۲۱۶

۲۱۶

۲۱۶

۲۱۶

۲۱۶

۱۷۱ غلط قریب قریب
۲۱۶ کے میں
۲۱۶ بخاری کے بعض
توں میں یہ باب
۲۱۶ ہے اور
اس سے اگلا نمبر
۲۱۶ یعنی ان دو بابوں
میں تقدم تاخیر ہے
۲۱۶ کا صرف
۲۱۶ صرف
۲۱۶ کے ساتھ دو برابر
فرجہ المندی صلی
اللہ علیہ وسلم
الیٰ الخدیجہ برحق
نوادہ فاطمہ طقت
بہ الی درقہ بن
فول وکان رجلا
تصحہ نقرا الا فیل
بالعمیة فقال
درقہ ماذا
ترسے فاشہ
فقال درقہ ہذا
الناس والذی انزل
اللہ علی موسیٰ وان
ادرنی علیک انصرک
نصر اعوز والذی انزل
صاحبہ اللہ الذی
یطلعہ بعباسیۃ
عن غیرہ

الْكَلَامُ مِمَّنْ نَقَضَ عَلَيْهِمْ عَن جَنْبٍ مِّنْ بَعْدٍ وَعَنْ جَنَابَةٍ وَكُنْ اجْتِنَابِي أَحَدٌ قَالَ

کلام کا بیان کرنا ہوتا ہے عن جنب (العصم - ۱۱) دورے اور عن جنابۃ اور عن اجتناب سب ایک ہی معنی میں ہیں بخاری جلد ۱۰

مُحَمَّدٌ عَلَى قَدَرٍ مَّوْعِدٌ لَا تَنْبِيَا يَسِيْرًا يَأْسِيْرًا مِّنْ زِينَةِ الْعَوْمِ الْحَا الَّذِي اسْتَعَارُوا

میں علی قدر (ظ - ۴۰) وعدہ پر (انہما ظ - ۲۲) سستی (ذکر ویسار ظ - ۷۷) خشک من زینۃ العوم (ظ - ۷۷) عین ابن زبیر

مِنَ الْفِرْعَوْنَ فَقَدْ فَتَمَّهَا الْقَلْبُ صَنَعَ فَنَسَى مُوسَى هَمْ يَقُوْلُوْنَهٗ اَخْطَا الرَّبُّ

جو بنی اسرائیل فرعون والوں سے ہنگام کر لائے تھے فقلا تمہارا (ظ - ۸۷) میں نے اسے پھینکا (ظ - ۸۷) بنی انسی موسیٰ (ظ - ۸۰)

اَنْ لَا يَرْجِعَ اِلَيْهِمْ قَوْلًا رَفِي الْعَجَلِ (م - ۱۵۹۹) عَنْ قَالِكِ بْنِ صَدَصَةَ (م - ۲۵۳)

مستحق ان کے علی غل کا ایسا جرح الخوار (ظ - ۱۵۹) وہی جواب نہیں دے سکتا پھم کے کشفی (ظ - ۲۵۳)

(۲۴) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْوِيْمًا

باب اللہ تعالیٰ کا قول اور کیا کچھ موسیٰ کی خبر پہنچی ہے (ظ - ۹) اور اللہ نے موسیٰ سے بہت سی باتیں کہیں (النساء - ۱۴)

(۱۵۲۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات جو میں آپ

بِهِ رَأَيْتُ مُوسَى إِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ رَجُلٍ كَأَنَّكَ مِنْ رِجَالِ شَوْعَةَ وَرَأَيْتُ عِيسَى كَأَنَّكَ

کو بیان کیا میں نے موسیٰ کو دیکھا تو وہ دیکھے جیسے سیدے ہاوں دل سے گویا کہ وہ (تفسیر اخذہ کے آدھوں میں سے ہیں اور میں نے عیسیٰ کو دیکھا تو وہ

رَجُلٌ رُبْعَةٌ أَمْرٌ كَأَنَّكَ مِنْ رِجَالِ شَوْعَةَ وَرَأَيْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَأَنَّكَ مِنْ رِجَالِ شَوْعَةَ

سیانہ قدر سرخ رنگ سے گویا کہ میں وہی ام سے نکلے ہیں اور میں حضرت ابراہیم سے انکی اولاد میں سے زیادہ شاکہ ہوں میرے دربار میں گئے ان

لَيْلِنَ وَرَفِي لَأَخْرَجْتُمْ فَقَالَ اشْرَبْ اَيْمَانًا شَرِبْتَ فَأَخَذَتْ اللَّيْلُ فَشَرِبَتْ بِنْتُ فُقَيْلٍ أَخَذَتْ

میں سے ایک کون دودھ تھا اور دوسرے میں شراب تو کما کر جو سچا جو بیرون تو میں دودھ لیکر وہ پی لیا تو مجھ سے کہا کی کرتے نہ لڑتے

الْفَطْرَةَ أَمَا أَنْتَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ عَوْتَ أَمْتِكَ (م - ۱۶۰۰) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (م - ۱۴۶۷)

کو لے لیا اگر شراب پیئے تو تمہاری امت تباہ ہو جائے گی (ظ - ۱۶۰۰) دیکھو حدیث ۱۴۶۷

(م - ۱۶۰۱) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (م - ۱۰۰۸) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى دَاْعُدْنَا مَوْسَى

دیکھو حدیث ۱۰۰۸ باب اور میرے موسیٰ سے تیس رات کا وعدہ کیا

ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَاسْمُنَا هَا بَعْضُ قَوْمٍ مِيقَاتِ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ

اور ان کا تمام دس راتوں کے ساتھ کیا ہوں اسکے رکھنے پر کر وہ وقت چالیس رات پورا ہو گیا اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا

اخْلُقْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْوِيْمًا وَكَلَّمَ

میری قوم میں میری جگہ بنا اور اصلاح کرنا اور خدا کو نہ لگوئی راہ کی پیروی نہ کرنا اور جب موسیٰ ہمارے وقت مقرر ہوا اور اس کے رکھے

رَبُّهُ قَالَ رَبِّ ارْنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَرَاكَ لِي قَوْلُهُ أَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ يَقُولُ دَلَّةً

اس سے کام کیا اس نے کہا میرے رب مجھے دکھا کریں مجھے دیکھوں اللہ کے قول و انما اول المؤمنین ہم (الاعراف - ۱۴۳) کہا جاتا ہے کہ

زُلْزَلَةٌ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ جَاءَ عَذَابُ اللَّهِ فَسَاءَ مَا كَفَرُوا بِهٖ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا عَلِيمًا

اسے چلا یا فلا کا (الحجرات - ۲۷) ہم (میں) خدا کو نہ لگوئی راہ کی پیروی نہ کرنا اور جب موسیٰ ہمارے وقت مقرر ہوا اور اس کے رکھے

كَانَتْ رَقْعًا رَقْعًا وَرَأَيْتُ قَوْمًا يَتَّبِعُونَ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا عَلِيمًا

کا بنا رقعہ رقعہ (۳) اور میں رقعہ فرمایا میں دونوں سے مجھے تھے اشرف بوار البقرہ - ۲۹۳ رکھے ہیں قوب مشرب رکھنا (م - ۱۵۷۲)

الْبَحْرِ الْفَجْرَتِ وَرَأَيْتُ قَوْمًا يَتَّبِعُونَ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (م - ۱۵۷۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (م - ۱۰۰۸) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى دَاْعُدْنَا مَوْسَى

ابن عباس سے ہیں الفجست (الاعراف - ۱۶۰) پہلے دیکھے و انتمنا الجبل الاعراف (۱۱) اور جو میں نے بیان کیا دیکھو حدیث ۱۱۵۷

۱۱۵۷۲ کا
ایک حصہ ان
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عن لیلۃ اسری
بہ حتی اتی السماء
الخامسة فاذا هلالا
قال هذا اهل الارض
نسلم علیہم فسلمت
علیہم فرد ثم قال
مرحبا بالاخیر الصائم
والنقی لصائمہ
۱۱۵۷۲ میں گذر
چکا کہ آنحضرت نے
خواب میں رودہ
پینے سے مراد علم
لیا ہے
مسیحاں پچھکنی شی
سے صفوں دو ہلایا
گیا ہے عن النبی
صلی اللہ علیہ وسلم
بعید ان یقول انا
خیر من یرضون بہ
متی نسبه الی اللہ
و ذکر النبی صلی اللہ
علیہ وسلم یقول
لیلۃ اسری یقول
موسیٰ اھل طرک اللہ
من رجال شوعۃ
وقال عینی جعد
مروہ و ذکر ما کا
خاذا الطار و ذکر
الدجال
مکمل کمر روایتیں
ہی ضمن معمولی
تفسیر نفی سے دہرایا
گیا ہے
۱۱۵۷۲ کا
آخری حصہ دہرایا
ہی ہے۔ الناس
یصنعون یوم القیامۃ

(۱۶۰۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متاثر ۱۵۰۲) (۲۶) بَابُ طُوفَانٍ مِنَ السَّيْلِ يُقَالُ

وَيُكْمَرُ حَيْثُ يَسْتَقْبِلُ

لِلصَّوْتِ الْكَبِيرِ طُوفَانٌ الْقَمَلُ حَمَلًا لِيَسْبِيَا صَوَارَ الْحَمِيرِ حَقٌّ سَقَطَ كُلُّ مَنْ نَزِدًا أَعْدَلُ

وہیں بیان ہے کہ طوفان کہتے ہیں قبل چھوٹی بڑھتی جوں کے شہاب ہوتی ہے حقیق (۱۰۵) حق سقط (۱۵۵) جو بھی ٹھنڈی شہاب پڑتا ہو

سَقَطَ فِي بَيْتِهِ (۲۶) بَابُ حَدِيثِ الْخَضِرِ مَعَ مَوْلَى كَلْبَةَ السَّلَامِ (۱۶۰۳) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ

رَوَى عَنْهُ سَقَطَ فِي بَيْتِهِ

(متاثر ۸۴) (۱۶۰۳) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (متاثر ۱۰۷) (۱۵۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

وَيُكْمَرُ حَيْثُ يَسْتَقْبِلُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَتَى الْخَضِرُ أَتَى بَجَلَسَ عَلَى فَرْجِهِ يَضَاءُ فَاذْهَبِي تَهَارًا مِنْ خَلْفِهِ خَضِرٌ أَمْ (۲۸) بَابُ

کرتے ہیں کہ اپنے فرمایا کہ خضر نام اس لئے ہوا کہ وہ موکھی زمین پر بیٹھے پھر وہ ان کے بعد سبز ہو کر لہانے لگی

(۱۵۳۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ دَخَلُوا

یوں ہر سے روایت ہے کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ فرماؤ ہودی کرتے تھے دروای

الْبَابِ سُبْحَانَ ذُو الْوَحْطَةِ قَبْدًا لَوْ دَخَلُوا أَيْزُحْفُونَ عَلَى أَسْتَاهِمِمْ وَقَالُوا اجْتَنِبْ شِعْرَةَ

میں قبل پوجا اور کھڑے کرنا دعوت ہوں اسرار توحیح برلغ یا اور انہم توڑوں پگھلے ہوئے فعل ہوئے دکنے کے جبہ فی شعرة یعنی بالی میں نہ لڑا ہے وہ

علا ہی نلفظ ہی۔
آخر اللہ عزوجل
اس کے لفظ
قریباً فرمایا کہ
ہیں جو خود
کی کہ روایت ہے
گروہاں اس حدیث
کہا شریعت میں
کیا گیا اسکے الفاظ
ہیں۔ انہ تھادی
ہو اور جن میں
الغاری فی
موسمی قال ابن
عباس ہون خضر
خبر ہما ابی ابن
کعب ذرعا ابن

عباس فقال انی تمارت انا و صاجی هذا فی صاحب موسی لانی سال السلیل الی لقیہ هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شاة قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينا موسى فى ملاء من بغى اسرايل جاءه رجل فقال هل تعلم احد ا اعلم منك قال لا فادخلت الى موسى بنى عبدنا خضم قال موسى السليل اليه فجعل له الحوت اية وقيل له اذا عقدت الحوت فارجه فانك ستلقاه فكان شيع الحوت فى الجوف قال موسى نسا ارايت اذ ادينا الى الصخرة فانى نبيت الحوت دعانا نسيه الا الشيطان ان اذكره فقال موسى ذاك ذكنا فجر فاردا اعلى اثارهما قصصا فوجد الصخرة اذ كان من شالهما الذى تصال الله فى كتابه وكتبا يان يه روايت عمولى كى ميسى كى س تودود برلى كى ہے قصوں كى اعاديش ملى اتى كى ميشا عمولى امر ہے مچل كى سمدر ملى چان كى تفصيل ملى يزدا ده ہے فاصك الله عن الحوت جرية الماء فصار مثل الطائ قال هكذا مثل الطائ . يسامى فانى نبيت الحوت كى بعد عرفا اسكنى الا الشيطان ان اذكره واخذن سبيله فى الجوع عجا كان الحوت سورا ولهما عجبا . لىه ملى اور ملى تهورى تهورى كى ميسى ہے . آخر بڑھایا ہے دقر امین عباس اما مهم ملك باخذن كل سفينة صالحة غصبا واما الغلام فكان كافرا اذ كان ابواه مؤمنين ثم قال لى سفین سمعته منه مرتين وحفظته منه . اس حدیث پر نوٹوں کیے دیکھو نوٹ ۳۵ صفحہ ۴۰ و ۴۱ صفحہ ۴۰ . اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر مٹی اپنے وقت کے نبی تھے . مگر وہ کسی اور قوم کی طرف نبی تھے . اس لئے حضرت خضر نے حضرت موسی سے کہا کہ قتل نہ کرو مجھ کو یا علم آپ کو دیا ہے وہ مجھے نہیں دیا اور مجھے دیا ہے وہ آپ کو نہیں دیا پانی اپنی قوم کی ضروریات کے مطابق دیا ہوگا مچل بطور نشان تھی کہ جہاں مچل بھول جائیں وہیں حضرت خضر سے ملاقات ہوگی . اس مچل کے گلاب ہوئے کہ ان احادیث میں کہیں نہیں اور نہ ذکر ہے کہ حضرت موسی اور یوشع اس مچل کو کھاتے تھے . ہاں مچل کے بھول جانے کی جگہ کو الصخرہ بھی کہا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مچل چٹان کا نشان تھا اور اس کی تعیین کیے دوسری بات یہ بتانی تھی کہ مچل وہاں بھول جائیں گے چنانچہ اصل اور مکرر روایت میں دونوں جگہ آتا ہے کہ جب الصخرہ پر پہنچے تو وہاں سو گئے اور مچل نکل کر دریا میں چلی گئی . یہ سفر دریا کے کنارے کے تھے . اور مجمع البحرین جس کا ذکر قرآن شریف میں آتا ہے کہ حضرت موسی نے وہاں تک جانے کا قصد کر لیا تھا وہ درحقیقت نکل کے دونوں شاخوں کے ملنے کی جگہ ہے جن میں سے ایک بحر ابیہ اور دوسری بحر اسود کہلاتی ہے . اور اس جگہ پر اب خرطوم آیا ہے . گویا یہ بحر مصر کے جنوب کی طرف تھا لہذا حضرت موسی مصر میں رہتے تھے . تو اللہ تعالی نے ان پر ظاہر کیا کہ ان کو نوبت کے مقام پر مگر ہاں گیا ہے تو خدا کے اور بندے بھی اس مقام پر مگر ٹے کہ گئے ہیں . مگر خضر کے لفظی معنی سبزی کے ہیں . یہاں یہ ذکر نہیں کیا کہ حضرت خضر کا چہرہ تھا یا انہوں نے لوگ کہا کہ دریا سے نری وغیرہ نکالنے کی تدبیر تیار کر لی تھی کہ زمینوں کو سرسبز کر دیا تھا . دروازے میں داخل ہونے میں اشارہ پر دشمن کے دروازوں میں فاتحانہ حیثیت سے داخل ہونے کی طرف ہے . یقیناً داخلوا الاض المقدسة التى كتب الله لکم . مگر اس کیلئے قال کی ضرورت تھی . اس کو بیان سیدنا کہا ہے . اور سلب حکم تمام کی طرفان پر واری ہے مگر بنی اسرائیل نے ایسا نہ کیا اور حضرت موسی سے کہا اذہب انت و بنک فقالا نا ههنا قد هدن . یہی یزحفون علی استاهم کم مصداق ہے . اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے کی دعا جسکی طرف حطہ میں اشارہ ہے . اس کی بجائے کھانے کو مانگنے گئے یا مریلی لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یزحرفون . فانتبت الارض . اس کی بجائے حدیث میں بحجہ فی شعرة . مفہوم دونوں کا ایک ہی . مشکوٰۃ کی زندگی بسر کرنے سے انکار کیا جس سے جو ہم بڑی نبی ہے (باقی برص ۷۸۵)

بقیہ صحیح
 صرف ہی چاہا کہ
 آرام سے بیٹھے
 کھانے کو ل جائے
 اس حدیث کا یہ
 مطلب لینا کا اثر
 تعالیٰ نے نہیں یہ
 حکم دیا تھا کہ سب
 میں پڑے پڑے
 شرم میں داخل ہوں
 اس میں خدائی حکم
 کی شان نظر نہیں
 آتی
 صغیر جہاں
 ملا کر روایت
 کے لفظ اور سیاق
 میں فرق ہے۔
 میں لفظ یہ ہیں
 ان موشی کان
 رجل احببت سبباً
 لاری من خلف شئی

(م- ۱۶۰۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرر- ۲۱۵) (م- ۱۶۰۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (متکرر- ۱۴۲۶)

صحیح حدیث ۲۱۵ صحیح حدیث ۱۴۲۶

(۲۹) بَابُ يَكْفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِهِمْ مَثَرُ خُسْرَانٍ قِيلَتْ يَدُ الرَّامِ وَأَعْلَىٰ أَمَا عَلَبُوا
 یا پ وہ اپنے بتوں کی پرستش کرتے تھے (۱۳۲۰-۱۳۲۱) متبر (۱۳۲۰) تباہی ہو لیتا ہوا آیتا کہ وہیں ماعلو جس پر وہ غالب ہیں

(۱۵۳۲) عَنْ سُبَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَنَّتِي لَمَّا كَانَتْ
 جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹوں کے پھل چن رہے تھے

وَرَأَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكُمْ يَا لَأَسْوَدِمْنَةً فَإِنَّهُ أَطْيَبُ قَالَ أَوَ الْأَنْثَىٰ
 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سے کالے کالے چمکدہ سے زیادہ لذیذ ہیں انہوں نے وہ لیں کیا کیا آپ

تَرَ عَنِي لَعْنَةً قَالَ هَلْ مِنْ بَنِي الْأَوْقَدِ رَأَىٰهَا (۳۰) بَابُ وَرَأَىٰ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ
 بکن بن ہذا کرتے تھے آپ نے فرمایا کوئی نبی نہیں ہوا اگر اس نے بکریاں چرائیں بکریاں اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تم کو

رَأَىٰ اللَّهُ يَا مَعْرُكُ أَنْ تَذْبُجُوا بَقَعَةَ الْأَيَّةِ قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ الْعَوَانُ النُّصْفُ بَيْنَ الْبِكْرِ
 حکم دیتا ہے کہ تم بکریاں کے ذبح کردہ آفتاب تک (البقرہ- ۶۷) بولعالیہ نے کہا کہ عوان (۶۸) وہ جو بکریاں اور بڑھنے کے

وَالْفِهْرَمَةَ فَاتَّعَرَّ صَابِرٌ لَا ذَلُولَ لَهُ يُدِيرُهَا الْعَمَلُ تَبْدِ الْأَرْضِ لَيْسَتْ بِذَلُولٍ لِتَبْدِ الْأَرْضِ
 در میان جو فاقص (۷۰) عات لا ذلول را، جسے کام نے رام نہیں ہو سکتا اور وہ پہنچ نہیں کی گئی جو اس سے زمین بھارتی ہو

وَلَا تَعْمَلُ فِي الْحَرْبِ مُسَلِّمَةً مِنَ الْعُيُوبِ لَا شَيْءَ بِيَاضٍ صَفْرَاءُ أَرَانُ شِلْتُ سُودًا وَعُرْدُ يَقَالُ
 اور نہ ٹھہری کو بانی نینے کا کام، یعنی مسلیہ سب بیلوں سے رکاوٹ لاتی ہے سفید داغ صغیرا جا ہو تو سہ (مسنے کرلو) اور کسا جانے پر

صَفْرَاءُ لِقَوْلِهِ جَمَالَاتٌ صَفْرَاءٌ أَرَأَيْتُمْ أَخْتَلَفْتُمْ (۳۱) بَابُ فَاذَىٰ مُوسَىٰ ذِكْرُهُ بَعْدَ
 کہ زور جیسے شکر قول جمالات صغیرا المرسلات ۳۱ فاذرنا ربنا البقرہ- ۶۸) تم نے اختلاف کیا باپ حضرت موسیٰ کی وفات اور اس کے بعد بحال

استحقاقاً منه فاذا من اذاه من بني اسرائيل فقالوا ما يستر هذا التستر الا من عيب بجلده اما برص واما اذرة دامنا اذرة وان الله اراد ان
 يبرئهم مما قالوا للموسى فلما رآهم اذوا فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل فلما فرغ اقبل الى ثيابه ليأخذها وان الحجر عدا بشر به فاخذ موسى عصاه و
 طلب الحجر فبعث يقول ثوبى حرتونى بحرتى انتهى الى سلام من بنى اسرائيل فرأوه عربيا ناسحا فمأخض الله ابراه صا يقولون وقامر الحجر فاخذ ثوبه فلبسه
 وطفن بالجورضى بامصافه فوالله ان بلخزلند با من اترضوه ثلثا اربعا وخصما فذلك قوله يا ايها الذين امنوا الاكوا نو كا الذين اذوا موسى فبراه
 الله مما قالوا كان عند الله وجهها. بيان اس حدیث کو سورہ احزاب کی اس آیت سے لیا گیا ہے اور حضرت علی سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ پر حضرت
 ہارون کے قتل کا الزام لگایا گیا تھا۔ اور گنتی ۱۱۲ میں ہے کہ حضرت موسیٰ کی مین نے ان پر ان کی کوشی ہوی کے متعلق کچھ الزام لگایا تھا تو یہ اس ایذا پر جس کا ذکر
 قرآن شریف میں ہے زیادہ چسپاں ہوتا ہے۔ اور یہ سمجھ نہیں آتا کہ صرف اس وجہ سے کہ حضرت موسیٰ اپنا جسم نکلا ذکر کرتے تھے لوگوں نے ان کے متعلق یہ کہنا
 مشروع کیا ہو کہ ان کو برہ ہے یا قمت ہے۔ اور پھر کوئی الزام نہیں۔ الزام وہ ہے جو ان نے خود اپنے اختیار سے کوئی برائے فعل کیا ہو جس کے بدلے اور اسے
 ماننے پر دیکھو نوٹ ملاحظہ فرماؤ اور یہ بھی ممکن ہے کہ چونکہ اتفاق سے لڑھک گیا ہو۔ اور اس وقت حضرت موسیٰ کو اپنے کپڑے لینے کیلئے جانا پڑا ہو۔ مگر ایسے قصور سے
 ذکوئی سبب مانا ہے نہ اور غرض حال ہوتی ہے۔ ملا کر روایت مختصر ہے۔ بیان لفظ یہ ہیں۔ قسم النبوی صلی اللہ علیہ وسلم قسم فقال رجل ان هذه لقسمه
 ما اريد بها وصالله فاقبت النبى صلى الله عليه وسلم فاحبره فغضب حتى رايت الغضب فى وجهه ثم قال مرحم الله موسى قد اذى باكثر من هذا الضبر
 حضرت موسیٰ کو اس نے بڑھ کر ایذا کا دیا جانا بھی بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ پر کوئی زیادہ خطر ناک الزام دیئے گئے تھے۔ ملا حضرت موسیٰ کے ذکر میں لانے سے
 مستداس اور ان کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے حضرت شعیب کی بکریوں کو پانی پلایا اور پھران کی ملازمت میں وہ۔ نبی صلعم کی بکریاں چرائیں کتیاں لوگوں نے
 اس سے کیا کہ آپ کو سیکو کھاؤ شاخت ایسی ہے جس سے صلعم جو تک ہے کہ آپ جنگل میں سے ہیں بکریاں چران بہت تغیر کام سمجھا جاتا ہے اور نبی صلعم نے تو باہر سے
 کے زبانی میں بھی وہ کام اپنے ہاتھ سے کیے ہیں جنہیں بکریاں چرانے سے بھی زیادہ تغیر سمجھا جاتا تھا۔ برتن مانج لینا۔ اپنے کپڑے کو پوند لگانا۔ اپنا جوتا گانٹھ لینا۔
 اپنی بکریوں کا دودھ دودھ لینا اور یوں بتا دیا کہ دنیا میں کوئی پیشہ بھی ذلیل نہیں۔ اور شاید ان الفاظ کی ہومیت میں کہ کوئی نبی نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی
 ہوں۔ یہی اشارہ ہو کہ کسی نبی نے کبھی کسی کام کو تغیر نہیں سمجھا۔

۱۴۰۶ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مكرر ۱۱۵۶)

دیکھو حدیث ۱۱۵۶

دیکھو حدیث ۱۱۵۶

۱۵۳۳ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَبُ أَدَمَ وَمَوْصِيَهُ قَدْ قَالَ لَهُ مُوسَى أَنْتَ أَدَمُ الَّذِي أَخْرَجْتَكْ خَطِيئَتِكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ أَدَمُ أَنْتَ

۱۵۳۳ ۱۵۳۳

مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ ثُمَّ تَلُوْهُنِي عَلَى أَمْرِ فُزْرَعٍ عَلَى قَبْلِ أَنْ أُخْلَقَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحْجَجٌ أَدَمَ مَوْصِيَهُ مَزْمِينٌ

۱۵۳۳ ۱۵۳۳

عَلَى الْأُمَمِ وَرَأَيْتُ سَوَادَ الْكَبِيرِ أَسَدًا لَأَفْتَقُ فَيَقِيْلُ هَذَا مُوسَى فِي قَوْمِهِ (۳۲) بَابُ

۱۵۳۳ ۱۵۳۳

الْقَابِلِينَ (۳۳) عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَلُ مِنَ

الرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَلَكِنْ يَكْمُلُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا الْإِسِيَةَ أَمْرًا فِرْعَوْنَ وَهَرِيْمَ بِنْتَ عَمْرَانَ

بِتِّتْ سَعْدًا كَمَا كُوْنُجُ حَسْبُ وَهَرِيْمَ بِنْتَ عَمْرَانَ سَعْدًا كَمَا كُوْنُجُ حَسْبُ

علا کر روایت کے نقاظ ترمیم دی ہیں۔ البتہ یہاں فقہ اہل بیت اور فریضہ اللہ علیہ غیبہ کے نقاظ نہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا ایشا بیان ہے۔ سوائے آخری فقرہ کے جس میں حضرت موسیٰ کی قبر کا ذکر ہے دیکھو نوٹ ۱۱۵۶ اور بیان جو آخر میں پڑھا جاوے حدیث ابو ہریرہ عن النبي صلعم غورہ تو وہ انہی آخری الفاظ کے متعلق ہے جن میں حضرت موسیٰ کی قبر کا ذکر ہے۔

۱۱۵۶ - آنحضرت صلعم کو جو فضیلت تمام دنیا کے مصلحین پر حاصل ہے، انکے قائل آج آپ کے علماء ہی ہیں۔ اتنا بڑا کام کسی مصعب سے نہیں ہوا۔ لیکن کس نفی اس قدر ہے کہ یہ اجازت نہیں دی کہ مقابلہ کے طور پر ایسے رنگ میں آپ کا ذکر کیا جائے جس سے کسی دوسرے نبی کی تحقیر لازم آئے۔ موسیٰ تو عظیم الشان نبی ہیں۔ یونس بن مثنیٰ پر فضیلت کے ذکر کی بھی اجازت نہیں دی۔ مثلاً اگر اس سوال کا جواب کا یہ منتہا لیا جائے کہ حضرت آدم نے کہا کہ خطا کو میرے لئے مقدر ہو چکا تھا اس پر مجھے طاعت نہیں ہو سکتی اور نبی حضرت آدم کا غلبہ تھا۔ تو ماننا پڑا کہ کسی شخص کو کسی برسے کام کی وجہ سے طاعت نہیں کی جاسکتی۔ کیونکہ وہ بھی بی جواب دے کہ غالب آسکتا ہے کہ یہ میرے لئے مقدر ہو چکا تھا۔ تو اس طرح دنیا کے تمام بدکاروں کا عذر معقول ہو گا اور قرآن و حدیث کے اصول ہر ایک سب کے سب باطل ہو جائیں گے۔ پس اس سبب سے یہ حدیث قابل قبول نہیں۔ شامین نے ایک توجیہ اس کی یوں کی ہے کہ اس دنیا یا دارالکلیف میں یہ عذر درست نہیں مگر اس دوسرے عالم میں کسی کو کسی پر طاعت کا حق نہیں۔ مگر یہ بھی نہایت کمزور توجیہ ہے۔ حدیث میں حضرت آدم کے جواب کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا باغ سے نکلنا خطا کی وجہ سے نہ تھا جو ان سے ہوئی۔ کیونکہ وہ ایک بھول تھی۔ اور باہا میں اللہ تعالیٰ نے اسے معاف بھی کر دیا تھا۔ کتاب علیہ انہ ہوا التواب الرحیم۔ مگر باوجود اس کے بھی اس حالت سے نکلنا ان کے لئے مقدر تھا تاکہ دارالکلیف اور دارالرحمن میں وہ کہ نفس انسانی کی تکمیل ہو۔ اور حضرت موسیٰ کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا دیا تھا وہ اس حقیقت سے واقف تھے۔ یہی دلیل تھی جس کی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم کی دلیل کو غالب قرار دیا، مثلاً اس کا مرتبہ اسی قدر نطلب ہے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ آپ کو ایک عظیم الشان قوم دکھانی گئی۔ اور ان کے ہر دینے سے یہ منتہا معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم ساری دنیا میں پھیل جائے گی۔ دوسری امتیں عموماً اپنے ملکوں میں محدود رہی ہیں۔ مگر نبی اس امت سے دور دور تک دنیا میں پھیل گئے۔

وَأَنَّ نَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النَّسَاءِ الْفَضْلُ الْفَرِيدُ عَلَى سَائِرِ الطَّاهِرَاتِ (۳۳) بَاب

مخبر عن کی عورت

اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جسے شریک کی فضیلت دوسرے کھانوں پر ملے

آسیہ اور مریم بنت عمران کو تو ان کریم نے مومن کے لئے بطور مثال بیان کیا ہے جس کی طرف امام بخاری نے سورہ تحریم کی آیت لاکھو فرمائیں

وَأَنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ لَأَيَّةٍ لِّنُورٍ لِّعِثْقَالِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَوَى الْقُوَّةَ

بابت میں لاکھو اشارہ کیا ہے۔ تو یہاں دو حقیقت عام کمال کا ذکر نہیں۔ کہو کہ ساتھ ہی حضرت عائشہ کی حضور پر نسبت کا ذکر موجود ہے۔ اور صحیح قریب ہے کہ جو فضیلت اپنے کارناموں سے ثابت ہوا ہے اس کی بڑا بے نہیں ہو سکتا اور وہ دشمن کو بھی تسلیم کرنی پڑتی ہے اب حضرت عائشہ نے جس قدر تبلیغ دین کا کام کیا ہے دنیا کی کسی عورت میں اس کی نظیر نہیں ملتی اور علم کے ساتھ فقہیت اور ان کے

لَا يَرْفَعُهَا الْعَصِيَّةُ يَمُنُّ الرِّجَالُ يُقَالُ الْفَرْحَنُ الْمَرْجِنُ وَيَكُنُّ اللَّهُ مِثْلَ الْمَرْجِنِ

بابت میں لاکھو اشارہ کیا ہے۔ تو یہاں دو حقیقت عام کمال کا ذکر نہیں۔ کہو کہ ساتھ ہی حضرت عائشہ کی حضور پر نسبت کا ذکر موجود ہے۔ اور صحیح قریب ہے کہ جو فضیلت اپنے کارناموں سے ثابت ہوا ہے اس کی بڑا بے نہیں ہو سکتا اور وہ دشمن کو بھی تسلیم کرنی پڑتی ہے اب حضرت عائشہ نے جس قدر تبلیغ دین کا کام کیا ہے دنیا کی کسی عورت میں اس کی نظیر نہیں ملتی اور علم کے ساتھ فقہیت اور ان کے

تَرَأَى اللَّهُ يَسِطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعِدُّ وَيُؤَيِّدُ وَيُصَيِّقُ (۳۴) بَاب وَرَأَى

بابت میں لاکھو اشارہ کیا ہے۔ تو یہاں دو حقیقت عام کمال کا ذکر نہیں۔ کہو کہ ساتھ ہی حضرت عائشہ کی حضور پر نسبت کا ذکر موجود ہے۔ اور صحیح قریب ہے کہ جو فضیلت اپنے کارناموں سے ثابت ہوا ہے اس کی بڑا بے نہیں ہو سکتا اور وہ دشمن کو بھی تسلیم کرنی پڑتی ہے اب حضرت عائشہ نے جس قدر تبلیغ دین کا کام کیا ہے دنیا کی کسی عورت میں اس کی نظیر نہیں ملتی اور علم کے ساتھ فقہیت اور ان کے

وَلَمَّا سَأَلَهُمْ شُعَيْبًا إِلَىٰ أَهْلِ قَدْحَانَ قَالَ هَذَا سَبِيلُ قَوْمِهِمْ وَأَسْأَلُ الْقُرْيَةَ بِسْمِ اللَّهِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ

بابت میں لاکھو اشارہ کیا ہے۔ تو یہاں دو حقیقت عام کمال کا ذکر نہیں۔ کہو کہ ساتھ ہی حضرت عائشہ کی حضور پر نسبت کا ذکر موجود ہے۔ اور صحیح قریب ہے کہ جو فضیلت اپنے کارناموں سے ثابت ہوا ہے اس کی بڑا بے نہیں ہو سکتا اور وہ دشمن کو بھی تسلیم کرنی پڑتی ہے اب حضرت عائشہ نے جس قدر تبلیغ دین کا کام کیا ہے دنیا کی کسی عورت میں اس کی نظیر نہیں ملتی اور علم کے ساتھ فقہیت اور ان کے

أَهْلِ الْقُرْيَةِ وَأَهْلُ الْجَدْرِ رَأَى كَرَاهِيَةً لَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَيْهِ يُقَالُ إِذَا لَمْ يَبْغُضْ أَحَدًا

بابت میں لاکھو اشارہ کیا ہے۔ تو یہاں دو حقیقت عام کمال کا ذکر نہیں۔ کہو کہ ساتھ ہی حضرت عائشہ کی حضور پر نسبت کا ذکر موجود ہے۔ اور صحیح قریب ہے کہ جو فضیلت اپنے کارناموں سے ثابت ہوا ہے اس کی بڑا بے نہیں ہو سکتا اور وہ دشمن کو بھی تسلیم کرنی پڑتی ہے اب حضرت عائشہ نے جس قدر تبلیغ دین کا کام کیا ہے دنیا کی کسی عورت میں اس کی نظیر نہیں ملتی اور علم کے ساتھ فقہیت اور ان کے

ظَهَرَ حَاجَتِي وَجَعَلْتَنِي ظَهْرِي قَالَ الظَّهْرِيُّ أَنْ تَأْخُذَ مَعَكَ دَائِبَةٌ أَوْ عَاءٌ تَسْتَظْهِرُ

بابت میں لاکھو اشارہ کیا ہے۔ تو یہاں دو حقیقت عام کمال کا ذکر نہیں۔ کہو کہ ساتھ ہی حضرت عائشہ کی حضور پر نسبت کا ذکر موجود ہے۔ اور صحیح قریب ہے کہ جو فضیلت اپنے کارناموں سے ثابت ہوا ہے اس کی بڑا بے نہیں ہو سکتا اور وہ دشمن کو بھی تسلیم کرنی پڑتی ہے اب حضرت عائشہ نے جس قدر تبلیغ دین کا کام کیا ہے دنیا کی کسی عورت میں اس کی نظیر نہیں ملتی اور علم کے ساتھ فقہیت اور ان کے

بِهِ مَكَانَتِهِمْ وَمَكَانَهُمْ وَاجِدُ الْيَتِيمَ يُعِيْشُوا يَأْسِي بِحِزْنِ أُمِّي أَحْزَنُ وَقَالَ أَحْسَنُ

بابت میں لاکھو اشارہ کیا ہے۔ تو یہاں دو حقیقت عام کمال کا ذکر نہیں۔ کہو کہ ساتھ ہی حضرت عائشہ کی حضور پر نسبت کا ذکر موجود ہے۔ اور صحیح قریب ہے کہ جو فضیلت اپنے کارناموں سے ثابت ہوا ہے اس کی بڑا بے نہیں ہو سکتا اور وہ دشمن کو بھی تسلیم کرنی پڑتی ہے اب حضرت عائشہ نے جس قدر تبلیغ دین کا کام کیا ہے دنیا کی کسی عورت میں اس کی نظیر نہیں ملتی اور علم کے ساتھ فقہیت اور ان کے

قَوْلُ رَحْمَتِ مَا سَمِعْتُمْ وَأَمَّا نَهْمُكُمْ أَيْ يَسْتَعِينُ فِي الْيَتِيمِ (۳۵) بَابُ تَوَلَّى اللَّهُ تَعَالَى

بابت میں لاکھو اشارہ کیا ہے۔ تو یہاں دو حقیقت عام کمال کا ذکر نہیں۔ کہو کہ ساتھ ہی حضرت عائشہ کی حضور پر نسبت کا ذکر موجود ہے۔ اور صحیح قریب ہے کہ جو فضیلت اپنے کارناموں سے ثابت ہوا ہے اس کی بڑا بے نہیں ہو سکتا اور وہ دشمن کو بھی تسلیم کرنی پڑتی ہے اب حضرت عائشہ نے جس قدر تبلیغ دین کا کام کیا ہے دنیا کی کسی عورت میں اس کی نظیر نہیں ملتی اور علم کے ساتھ فقہیت اور ان کے

رَأَى كَرَاهِيَةً لَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَيْهِ يُقَالُ إِذَا لَمْ يَبْغُضْ أَحَدًا

بابت میں لاکھو اشارہ کیا ہے۔ تو یہاں دو حقیقت عام کمال کا ذکر نہیں۔ کہو کہ ساتھ ہی حضرت عائشہ کی حضور پر نسبت کا ذکر موجود ہے۔ اور صحیح قریب ہے کہ جو فضیلت اپنے کارناموں سے ثابت ہوا ہے اس کی بڑا بے نہیں ہو سکتا اور وہ دشمن کو بھی تسلیم کرنی پڑتی ہے اب حضرت عائشہ نے جس قدر تبلیغ دین کا کام کیا ہے دنیا کی کسی عورت میں اس کی نظیر نہیں ملتی اور علم کے ساتھ فقہیت اور ان کے

رَأَى كَرَاهِيَةً لَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَيْهِ يُقَالُ إِذَا لَمْ يَبْغُضْ أَحَدًا

بابت میں لاکھو اشارہ کیا ہے۔ تو یہاں دو حقیقت عام کمال کا ذکر نہیں۔ کہو کہ ساتھ ہی حضرت عائشہ کی حضور پر نسبت کا ذکر موجود ہے۔ اور صحیح قریب ہے کہ جو فضیلت اپنے کارناموں سے ثابت ہوا ہے اس کی بڑا بے نہیں ہو سکتا اور وہ دشمن کو بھی تسلیم کرنی پڑتی ہے اب حضرت عائشہ نے جس قدر تبلیغ دین کا کام کیا ہے دنیا کی کسی عورت میں اس کی نظیر نہیں ملتی اور علم کے ساتھ فقہیت اور ان کے

الْعَمَامُ الْعَدَابُ عَلَيْكُمْ (۳۵) بَابُ تَوَلَّى اللَّهُ تَعَالَى

بابت میں لاکھو اشارہ کیا ہے۔ تو یہاں دو حقیقت عام کمال کا ذکر نہیں۔ کہو کہ ساتھ ہی حضرت عائشہ کی حضور پر نسبت کا ذکر موجود ہے۔ اور صحیح قریب ہے کہ جو فضیلت اپنے کارناموں سے ثابت ہوا ہے اس کی بڑا بے نہیں ہو سکتا اور وہ دشمن کو بھی تسلیم کرنی پڑتی ہے اب حضرت عائشہ نے جس قدر تبلیغ دین کا کام کیا ہے دنیا کی کسی عورت میں اس کی نظیر نہیں ملتی اور علم کے ساتھ فقہیت اور ان کے

قَوْلُهُ فَمَتَعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ هُوَ مَوْلَانِي قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ قَسِبَةَ الشَّعْبَانِيُّ

بابت میں لاکھو اشارہ کیا ہے۔ تو یہاں دو حقیقت عام کمال کا ذکر نہیں۔ کہو کہ ساتھ ہی حضرت عائشہ کی حضور پر نسبت کا ذکر موجود ہے۔ اور صحیح قریب ہے کہ جو فضیلت اپنے کارناموں سے ثابت ہوا ہے اس کی بڑا بے نہیں ہو سکتا اور وہ دشمن کو بھی تسلیم کرنی پڑتی ہے اب حضرت عائشہ نے جس قدر تبلیغ دین کا کام کیا ہے دنیا کی کسی عورت میں اس کی نظیر نہیں ملتی اور علم کے ساتھ فقہیت اور ان کے

مِنْ الْمَسْجُونِ الْآيَةُ فَتَنِيذٌ بِالْعَرَبِ أَوْ بَوَاحِ الْأَرْضِ هُوَ سَقِيمٌ وَأَمْتًا عَلَيْهِ شَجَرَةٌ

بابت میں لاکھو اشارہ کیا ہے۔ تو یہاں دو حقیقت عام کمال کا ذکر نہیں۔ کہو کہ ساتھ ہی حضرت عائشہ کی حضور پر نسبت کا ذکر موجود ہے۔ اور صحیح قریب ہے کہ جو فضیلت اپنے کارناموں سے ثابت ہوا ہے اس کی بڑا بے نہیں ہو سکتا اور وہ دشمن کو بھی تسلیم کرنی پڑتی ہے اب حضرت عائشہ نے جس قدر تبلیغ دین کا کام کیا ہے دنیا کی کسی عورت میں اس کی نظیر نہیں ملتی اور علم کے ساتھ فقہیت اور ان کے

مَنْ يَقْطُرِينَ مِنْ عَيْرِ ذَاتِ أَصْلٍ لَذْبَاءٌ وَخَوْحَةٌ وَأَرْسَلَنَاهُ إِلَىٰ مَائَةَ الْفَاؤِ وَبُرْدَانِ

بابت میں لاکھو اشارہ کیا ہے۔ تو یہاں دو حقیقت عام کمال کا ذکر نہیں۔ کہو کہ ساتھ ہی حضرت عائشہ کی حضور پر نسبت کا ذکر موجود ہے۔ اور صحیح قریب ہے کہ جو فضیلت اپنے کارناموں سے ثابت ہوا ہے اس کی بڑا بے نہیں ہو سکتا اور وہ دشمن کو بھی تسلیم کرنی پڑتی ہے اب حضرت عائشہ نے جس قدر تبلیغ دین کا کام کیا ہے دنیا کی کسی عورت میں اس کی نظیر نہیں ملتی اور علم کے ساتھ فقہیت اور ان کے

بَابُ تَوَلَّى اللَّهُ تَعَالَى

بابت میں لاکھو اشارہ کیا ہے۔ تو یہاں دو حقیقت عام کمال کا ذکر نہیں۔ کہو کہ ساتھ ہی حضرت عائشہ کی حضور پر نسبت کا ذکر موجود ہے۔ اور صحیح قریب ہے کہ جو فضیلت اپنے کارناموں سے ثابت ہوا ہے اس کی بڑا بے نہیں ہو سکتا اور وہ دشمن کو بھی تسلیم کرنی پڑتی ہے اب حضرت عائشہ نے جس قدر تبلیغ دین کا کام کیا ہے دنیا کی کسی عورت میں اس کی نظیر نہیں ملتی اور علم کے ساتھ فقہیت اور ان کے

اور ان دونوں کے ساتھ سزاوت آپ کی ذات میں اس قدر جمع ہوئی ہے کہ تاریخی رنگ میں یہ خوبیاں کسی عورت میں نظر نہیں آتی۔ لیکن بعض خاص کمالات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی عورت اور مریم کو مومنوں کے لئے دونوں سے چنا ہے۔ فرعون کی عورت کو تو اس لئے کہ فرعون صیغے انسان کی عورت ہونے کے باوجود اس نے کمال ایمان کا نمونہ دکھایا۔ وہ گویا ان مومنوں کے لئے نمونہ ہے جن کو روحانی رنگ میں شیطان درغلانے کی پوری کوشش کرتا ہے مگر وہ حق پر قائم رہتے ہیں۔ اور حضرت مریم ان مومنوں کے لئے نمونہ ہیں جو اپنے آپ کو اس قدر محفوظ کر لیتے ہیں کہ شیطان کو ان میں دوسرا اندازہ ہی نہیں ہوتی۔ احصنت فریجھا اور نغختن ذیہا من روحنا میں اسی طرف اشارہ ہے تو یہاں بھی دو کمالات کی طرف اشارہ ہے۔ پہلا ان الفاظ آئی میں مکاتھم مکاتھم (جوہر - ۹۳) کی جگہ سہو کا بت معلوم ہوتا ہے۔ اور لیکہ جس کے معنی آئیہ گئے ہیں اسل قرأت نہیں بلکہ اسل قرأت آئیہ ہی ہے۔ پہلا ان الفاظ میں ہر ایک سبیل آجاتی ہے جیسے کدو، گلگلی، کھیر، خربوزہ وغیرہ۔

(م- ۱۶۱۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَتَكَرًا ۱۹۹۸ م- ۱۶۱۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَتَكَرًا

دیکھو حدیث ۱۹۹۸ باب ۱۶۱۳

(۱۹۹۸) (۳۸) بَابُ أَحْتَبُ الصُّوْقَةَ إِلَى اللَّهِ صَلَوَةً دَاوُدَ أَحْتَبُ الصِّيَامَ إِلَى اللَّهِ صِيَامًا

باب ۱۶۱۳ باب ۳۸ احب ان زوں سے پسندیدہ نماز کے نزدیک داؤد کی نماز ہے اور حب روزوں سے پسندیدہ روزے اشرف کے روزوں کا ذکر ہے کہ ایک دن روزہ رکھتے ایک دن افطار کرتے

هُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ مَا الْفَاءُ الشَّرْحُ عِنْدَ الْأَنْبِيَاءِ (م- ۱۶۱۴) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَتَكَرًا (۱۶۱۴)

۴ اور یہی حضرت عائشہ کا قول ہے کہ الفاء شریعت میں اس صبح میں آتی ہے کہ اس سے پہلے ہے دیکھو حدیث ۶۲۱

(۱۶۱۴) (۳۹) بَابُ وَأَذَلُّ عَبْدًا نَادَا أُوذُّكَ الرَّابِعَةَ إِذْ أَبَى إِلَى قَوْلِهِ وَفَضَّلَ الْخُطَابُ قَالَ

باب ۱۶۱۴ (۳۹) احب مجھے صاحب قوت بندے داؤد کو کیا اور وہ بار بار روج کر لیا تھا اللہ کے قول وفضل الخطاب تک (ص- ۲۰)

فِي هَذَا الْفَهْمِ فِي الْقَضَاءِ وَلَا تَشْطَطُ الْأَشْرَفُ وَهُدًى نَا إِلَى سَوَاءِ الصَّرَاطِ إِنَّ هَذَا

یہ ہے کہ اس نے کہا کہ فصل خطاب فیصلہ کرنے کی سمجھ ہے ولا تشطط الحدود سے تجاوز نہ کرو اور ہمیں یہ دے کہ اس کی طرف توجہ کرنا اور اس کی طرف سے توجہ نہ کرنا

أَخَى لَهُ تَسْعٌ وَتَسْعُونَ نَجْحَةً يُقَالُ لِلْمَرْأَةِ نَجْحَةٌ وَيُقَالُ لَهَا أَيضًا شَاةٌ وَبِئْسَ نَجْحَةٌ

ہے اس کی تانوسے ونبیاں ہیں طورت کو نچوتے ہیں اور اسے شاة بھی کہتے ہیں اور یہی ایک

وَأَحَدَةٌ فَقَالَ أَفَلَيْتَهَا مِثْلٌ وَكَلِمَاتُهَا زَكْرِيَاءُ خُذْتَهَا وَعِزِّي عَلَيَّ صَارَ عَزْمِي

ہی وہی ہے تو اس نے کہا اسے میرے پروردگار سے دیکھا زکریا نے اسے اپنے سے لایا وہ عزی اور عزم پر مشابہ آیا تاکہ سے زکریا

عَزَزْتَهُ جَعَلْتَهُ عَزِيزًا فِي الْخُطَابِ يُقَالُ الْحَادِرَةُ قَالَ لَقَدْ ظَلَمْتُكَ سُؤَالَ النَّجْمِ إِلَى

ہوا اعزاز تو میں نے اسے طاقتور دیا یعنی الخطاب گفتگو میں کہا یعنی اس نے تم پر ظلم کیا ہے کہ میری دینی کو تم نے تیرا

بِعَاجِزٍ إِنَّ لِكَيْفَ إِتْمَنَ الْخَطَاءُ الشَّرْكَاءَ كَيْفَ يُبْعَثُ إِلَى قَوْلِهِ أَسَأَفْتَنَاهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

یہی مانے لینے مانگا اور بہت شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کرتے رہتے ہیں اللہ کے قول اسنا فتناء تک ابن عباس نے کہا اسے منے

أَخْتَارَنَا وَكَرِهْنَا أَعْمَرَ فِتْنَاهُ بِشِدَّةِ التَّاءِ فَاسْتَعْفَرُ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

ہیں ہم نے اس کو آنا دیا اور حضرت عمر نے فتناء کو پھر تشدید سے پڑھا ہے اس لیے رب استغفر ربہ اور خروا رکوع کرتا ہو گا اور اللہ کی طرف توجہ ہوا

(۱۶۱۵) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قُلْتُ لَأَبِي بَعْثَ بَعْثٍ مِنْ بَعْثِ بَعْثٍ وَأَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ

مجاہد سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا کیا میں سوہ س میں سوز کروں تو انہوں نے بڑھا دیا اور ذریعہ الخزل الانعام

حَتَّىٰ لَوْ نَبِهْدَاهُمْ أَقْتَدَاهُ فَقَالَ نَبِيكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ أَمْرَانِ يَقْتَدِي بِهِمَا

میرا تک کہ نبھد اہم اقتداهم پھر دو انہی روایت کی پڑھی کہ اس نے کہا میں نے ان سے نہیں حکم دیا کیسے کہ ان کی پیروی کرنا

(م- ۱۶۱۵) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مَتَكَرًا ۵۹۳) (۲۰) بَابُ تَوَلَّى اللَّهُ تَعَالَى وَوَهَبْنَا

دیکھو حدیث ۵۹۳ باب اللہ تعالیٰ کا قول انہی اور ہم نے

لِدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ نَعَمَ الْعِبْدَانِهُ أَوْ ابْنِ الرَّاجِعِ الْمُنِيبِ وَقَوْلُهُ هَبْ لِي مَلَكًا لَا يَبْغِي لَكَ

داؤد کو سلیمان دیا گیا اچھا بندہ تھا وہ اب اللہ کی طرف رجوع کر لیا اور نبیوں کو نبیوں کا قصاص (ص- ۲۰) اور اللہ کا قول ہب لی انہی (ص- ۲۵)

مَنْ بَعْدِي وَقَوْلُهُ وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشُّبُهَاتِ عَلَىٰ مَلِكٍ سَلِيمٍ وَسَلِيمٍ الرَّزِخِ

مجھے ایسی بادشاہت عطا کرو جو میرے بعد کسی کو شایان نہیں دیکھیں اور یہی قول واتبعوا الخ البقرہ (۲۰) اور اللہ نے ان کو بھی تیری کی جو سلطان سلیمان کی

بعض ضعیف اختلافات
لفظی سے مضمون
کر دوہرایا ہے۔
اس میں حضرت داؤد
کے روزوں کا ذکر
ہے کہ ایک دن
روزہ رکھتے ایک
دن افطار کرتے،
لفظ اور مضمون
م ۸۵۶ سے
لئے ہیں۔ گریبا
یہ لفظ نہیں ہیں۔
لا صام من
صام الذرہ
ابن عباس کا مطلب
یہ ہے کہ ہمارے
نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کو نبیوں
سابقین کی اقتدا
کا حکم ہے۔ انہی
میں سے ایک حضرت
داؤد علیہ السلام
ہیں۔ انہوں نے
سجدہ کیا تو انحضرت
صلی اللہ علیہ
وسلم نے بھی سجدہ
کیا۔ جیسا کہ کتاب
التفسیر ص ۱۱
تفسیر میں آتا ہے
اور اچھی حدیث
میں بھی آتا ہے
کسی نبی کو کسی
پہلے نبی کی ہدایت
کی پیروی
کا حکم بذریعہ وحی
دیا جائے تو یہ نبوت کے معنی نہیں۔ کیونکہ اس پیروی میں اور حقیقت اپنی وحی کی پیروی کرتا ہے۔

غَدَا وَهَا شَهْرٌ وَرَوَّاحِيَا شَهْرٌ. أَسَدًا لَهُ عَيْنَانِ الرَّقِطِيَّةُ أَدْبَالُهُ عَيْنَانِ أَحْمَدُ بْنُ يَمِينٍ

اس حدیث کا صحیح بخاری، ترمذی، ابن ماجہ اور اسحاق شافعی نے روایا دیے ہیں۔ اس کا معنی ہے کہ ایک شخص نے ایک اور شخص کو دیکھا اور کہا کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جیسے ایک اور شخص ہے۔ اس کا معنی ہے کہ ایک شخص نے ایک اور شخص کو دیکھا اور کہا کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جیسے ایک اور شخص ہے۔

وَتَمَارِثِيلُ وَجَفَانُ كَالْجَوَابِ كَالْحِيَاضِ لِلدَّيْلِ بَوَالِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَالْجَوَابِ مِنَ

اس حدیث کا صحیح بخاری، ترمذی، ابن ماجہ اور اسحاق شافعی نے روایا دیے ہیں۔ اس کا معنی ہے کہ ایک شخص نے ایک اور شخص کو دیکھا اور کہا کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جیسے ایک اور شخص ہے۔ اس کا معنی ہے کہ ایک شخص نے ایک اور شخص کو دیکھا اور کہا کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جیسے ایک اور شخص ہے۔

الْأَرْضِ قُدْرَتُ رِاسِيَاتٍ إِلَى قَوْلِهِ الشُّكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ وَأَدْلَهُمْ عَلَى

اس حدیث کا صحیح بخاری، ترمذی، ابن ماجہ اور اسحاق شافعی نے روایا دیے ہیں۔ اس کا معنی ہے کہ ایک شخص نے ایک اور شخص کو دیکھا اور کہا کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جیسے ایک اور شخص ہے۔ اس کا معنی ہے کہ ایک شخص نے ایک اور شخص کو دیکھا اور کہا کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جیسے ایک اور شخص ہے۔

مَوْبَرَةَ الْأَدَاةِ الْأَرْضِ لَارِضَةٌ تَأْكُلُ مِنْسَانَةَ عَصَاةٍ فَلَمَّا خَرَّ إِلَى قَوْلِهِ الْمُهَيَّبُ حَبْ

اس حدیث کا صحیح بخاری، ترمذی، ابن ماجہ اور اسحاق شافعی نے روایا دیے ہیں۔ اس کا معنی ہے کہ ایک شخص نے ایک اور شخص کو دیکھا اور کہا کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جیسے ایک اور شخص ہے۔ اس کا معنی ہے کہ ایک شخص نے ایک اور شخص کو دیکھا اور کہا کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جیسے ایک اور شخص ہے۔

الْأَصْفَادُ الْوَتَاكُ قَالَ فَجَاهِدَ الصَّافِيَاتُ صَفْنَ الْفَرَسُ فَعَرَّ أَحَدُ رَحِيكِهِ حَتَّى

اس حدیث کا صحیح بخاری، ترمذی، ابن ماجہ اور اسحاق شافعی نے روایا دیے ہیں۔ اس کا معنی ہے کہ ایک شخص نے ایک اور شخص کو دیکھا اور کہا کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جیسے ایک اور شخص ہے۔ اس کا معنی ہے کہ ایک شخص نے ایک اور شخص کو دیکھا اور کہا کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جیسے ایک اور شخص ہے۔

تَكُونُ عَلَى صَرْفِ الْحَرْفِ لِحِيَادِ الشَّرِّ عَجَسُ الشَّيْطَانِ رِخَاءً طَيِّبَةً حَيْثُ أَصَابَتْ حَمِيدٌ

اس حدیث کا صحیح بخاری، ترمذی، ابن ماجہ اور اسحاق شافعی نے روایا دیے ہیں۔ اس کا معنی ہے کہ ایک شخص نے ایک اور شخص کو دیکھا اور کہا کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جیسے ایک اور شخص ہے۔ اس کا معنی ہے کہ ایک شخص نے ایک اور شخص کو دیکھا اور کہا کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جیسے ایک اور شخص ہے۔

شَاءَ فَاَمَّنْ أَعِطَ بِغَيْرِ حِسَابٍ بِغَيْرِ حَرْجٍ (م- ۱۶۱۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر- ۳۲۳)

اس حدیث کا صحیح بخاری، ترمذی، ابن ماجہ اور اسحاق شافعی نے روایا دیے ہیں۔ اس کا معنی ہے کہ ایک شخص نے ایک اور شخص کو دیکھا اور کہا کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جیسے ایک اور شخص ہے۔ اس کا معنی ہے کہ ایک شخص نے ایک اور شخص کو دیکھا اور کہا کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جیسے ایک اور شخص ہے۔

(م- ۱۶۱۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر- ۱۲۹۷) (م- ۱۶۱۸) عَنْ أَبِي ذَرٍّ (متكرر-)

اس حدیث کا صحیح بخاری، ترمذی، ابن ماجہ اور اسحاق شافعی نے روایا دیے ہیں۔ اس کا معنی ہے کہ ایک شخص نے ایک اور شخص کو دیکھا اور کہا کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جیسے ایک اور شخص ہے۔ اس کا معنی ہے کہ ایک شخص نے ایک اور شخص کو دیکھا اور کہا کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جیسے ایک اور شخص ہے۔

مَنْبِيٍّ وَمِثْلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الْفَرَسُ هَذِهِ اللَّهُ ابْتُ تَعْرِفِي النَّارَ

اس حدیث کا صحیح بخاری، ترمذی، ابن ماجہ اور اسحاق شافعی نے روایا دیے ہیں۔ اس کا معنی ہے کہ ایک شخص نے ایک اور شخص کو دیکھا اور کہا کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جیسے ایک اور شخص ہے۔ اس کا معنی ہے کہ ایک شخص نے ایک اور شخص کو دیکھا اور کہا کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جیسے ایک اور شخص ہے۔

اس حدیث کا صحیح بخاری، ترمذی، ابن ماجہ اور اسحاق شافعی نے روایا دیے ہیں۔ اس کا معنی ہے کہ ایک شخص نے ایک اور شخص کو دیکھا اور کہا کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جیسے ایک اور شخص ہے۔ اس کا معنی ہے کہ ایک شخص نے ایک اور شخص کو دیکھا اور کہا کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جیسے ایک اور شخص ہے۔

۱۔ لعان کے متعلق
 ۲۔ میں ایک قول ہے
 کہ وہ جھٹی تھے۔
 ۳۔ سو ان کے رہنے
 والے حکم کا قول ہے
 کہ وہ نبی تھے۔
 ۴۔ لفظ تکبر سبک
 ہی میں
 ۵۔ ۳۳ مضمون وہی
 ہے لفظوں میں ذرا
 اختلاف ہے۔
 ۶۔ لفظ لزلت الذین
 ۷۔ ۲ متروک اور لیسوا
 ۸۔ ایا نعم بظنم
 شق ذلک علی
 ۹۔ المسلمین فقالوا
 یا رسول اللہ ایسا
 ۱۰۔ لا یظلم نفسہ قال
 لعین ذلک انما هو
 الشک التبعوا
 ما قال العمان لا ینہ
 وهو یغضب ینہ
 لا تشکرک باللہ
 ان الشرکۃ
 لظلم
 عظیم
 یعنی کہ نبی امرئیل
 کی اس گری ہوئی
 حالت میں اس
 جیسا انسان پیدا
 نہیں ہوا
 ۱۱۔ یہاں ۲۵۲
 کا ایک مختصر
 کلمہ ہیں الفاظ
 و مراد ہے۔
 ان نبی اللہ صلی

فَقَضَىٰ بِهِ الْكَلْبَرِي فَخَرَجْنَا عَلَىٰ سُلَيْمِ بْنِ زَيْدٍ فَمَا خَبَرْتَاهُ فَقَالَ تَوَكَّلْ يَا لَسْتَيْكُمِ اشْفَاةُ

انہوں نے بڑی کے حق میں فیصا یا پھر دونوں حضرت سلیمان کے پاس گئیں اور ان کو خبر دی انہوں نے کہا نبی ایک جھری نادو کہ میں اسے کاٹ کر
 پینہما نقالت الصغری لا تفعل یرحمک اللہ ہوا ینہما تنقضہ بہ للصحیح قال بوہریرۃ
 دونوں میں تقسیم کر دوں تو چھوٹی نے کہا ایسا نہ کرو اللہ تم پر رحم کرے وہ اس کا بیٹا تو انہوں نے اس کا بیٹا چھوٹی کے حق میں دیا ابو ہریرہ نے کہا

وَاللَّهِ إِن سَمِعْتُ يَا لَسْتَيْكُمِ إِلَّا يَوْمَئِذٍ نَقُولُ إِلَّا الْمُدِيَّةَ (۲۸) بِأَبِ قَوْلِ اللَّهِ

میں نے سلیمان کا لفظ صرف اس دن سنا اور ہم تو بھری قوم مرتد یہ کہہ کرتے تھے باب اللہ تعالیٰ کا زبان

تَعَالَىٰ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ إِلَىٰ قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ

اور ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ شکر کا شکر کہے تو ان اللہ الخ لقمان ۱۲-۱۸ اور اللہ کسی خود پسند یعنی خود کو پسند نہیں
 فخر و و لا تصعرا لأعراس بالوجه (م- ۱۶۱۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (متكرر- ۲۹)

کرتا ولا تصعرا ردگرہانی ذکر لک دیکھو حدیث ۲۹-۲۷

(م- ۱۶۱۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (متكرر- ۲۹) بِأَبِ قَوْلِ اللَّهِ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ

دیکھو حدیث ۲۹-۲۷ باب واضرب لهم آلاہہ (۱۳-۱۱۳) اور ان کے لئے

الْقُرْبَىٰ آيَةَ فَخَرَزْنَا قَالَ فَجَاهِدْ شَدِيدًا وَقَالَ ابْرَأْ سَيِّئَاتِكَ كَأَمْرِكَ مَصَابِيحُكُمْ (۳۳)

گاہوں کو بھی مثال بیان کرنا ہے ایک فخر زنا مجاہدین کا ہے کہ ہم نے قوت دی اور اب میں عباس نے کہا طائر کہ تمہاری مصیبتیں

بِأَبِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ ذَكَرْ حَمْرِيكَ عَبْدَكَ زَكْرِيَّا إِذْ نَادَىٰ بِهِ نِدَاءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ إِنِّي رُحِنٌ

باب اللہ تعالیٰ کا قول ذکر حمزہ ربیک عبدک زکریا کہ وہ کہتا ہے کہ زکریا رب جیب میں تھے رب کو کوئی کوئی نہیں

الْعَظْمِ مَتَّىٰ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسَ شَيْئًا إِلَىٰ قَوْلِهِ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ ابْرَأْ سَيِّئَاتِكَ

آواز سے پکارا کہ میرے رب میری ہڈیوں کو زور ہو گیا اور سر پاؤں کی سفیدی سے ششہ مار رہا ہے اللہ کے قول لعل لعل زمین فیل سمیا تک اب میں

مَثَلًا يُعَالِ رَضِيًّا مَرْغَبًا عَدِيًّا عَصِيًّا يَعْتَوُّ قَالَ رَبِّ إِنِّي يَكُونُ لِي عَمَلٌ بَارِعٌ إِلَىٰ قَوْلِهِ ثَلَاثَ

لے کہ اسی سے مراد ہر عمل جو کجا جائے راضیا پسندیدہ عتیا یا عصیا (بیت بوڑھا) یعنی (مفاد مع ہے) کہ میرے ایک کلمہ ہے جو کہ اللہ کے قول

لِيَا لَ سَوِيًّا وَيَقُولُ كَيْفَ أَخْرَجْتَهُ عَلَيَّ قَوْلِهِ مِنَ الْأَعْرَابِ وَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ يَخْبُوا وَأَنَّهُ عَشِيًّا فَأَوْحَىٰ

ثلاث لیال سمیا کجا اور کجا کجا کر دے اور اللہ سے جو سواری ہی عبادت گاہ سے پہنچے تو کہے یا میرے وہاں کو لٹا کر کہیں اور ہم کو تسبیح رو

فَأَشَارَ بِأَيْمَانِهِ إِلَىٰ الْقَتْلِ بِقَوْلِهِ الْقَوْلُ يَوْمَئِذٍ حَيًّا خَفِيًّا لَطِيْفًا حَاقِرًا الذُّكُورَ الْكَاثِرَةَ

فادھی اشارہ کیا کہ میں نے کتاب کو مضبوطی سے پکڑا اللہ کے قول و یومہ حیوت حیا تک صفیا ہاں عاقرہ ذکر موت دونوں کئے کیاں سے

سَوَاعِدُ (م- ۱۶۲۰) عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ (متكرر- ۲۵۲) بِأَبِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَذْكَرُ

دیکھو حدیث ۲۵۲-۲۵۱ باب اللہ تعالیٰ کا قول اور کتاب

فِي لِكِتَابِ عَرَبِيَّةٍ إِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرِيًّا قَالَتْ لِمَلَكَتُكَ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ خَلْقًا

میں مریم کا ذکر کہ جب وہ اپنے دونوں سے الگ ہو کر یکطرفہ مکان میں گئی (م- ۱۱۲) جب فرشتوں نے اسے کہہ اللہ تعالیٰ نے حضرت

يَكْمِيَةً إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَالْإِسْمَاعِيلِينَ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ إِلَىٰ قَوْلِهِ

ایک کلمہ لیکت تو فرشتوں کو بتایا کہ ان میں سے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل اسماعیل کو تو چون بہتر ہیں یا سے اللہ کے قول

اللہ علیہ وسلم حدثهم عن ليلة أسرى ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستغقب قیل من هذا قال جبرئیل قیل ومن هذا قال محمد قیل
 وقد أرسل إليه قال نعم قلما خلصت فاذا يبسني وعسلي ودها انما خالنا قال هذا بخيري وعسلي فضله عليهما فضلت فردا ثم قال مرحبا بالآخره الصغار
 والنبي الصالحه حضرت بخاری اور حضرت عیسیٰ کو ایک ہی جہد دیکھا جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دونوں فوت شدہ تھے

یَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ قَالَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ	اور آل
عِمْرَانَ وَآلِ يَاسِينَ وَآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِأَبِيهِمْ الَّذِينَ	اور آل یاسین اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن عباس کہتے ہیں کہ قریب تر لوگوں میں سے حضرت ابراہیم کے وہ ہیں
اتَّبَعُوا وَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَيُقَالُ آلُ يَعْقُوبَ أَهْلُ يَعْقُوبَ فَإِذَا اصْغُرُوا آلُ رَدَدَهُ إِلَى	جو انکی پیروی کرتے ہیں اور وہ مومن ہیں اور کہتے ہیں کہ آل یعقوب سے مراد وہاں یعقوب ہیں جب آل کی تشہیر نہاتے ہیں تو اسے اس آل میں
الْأَصْلِ قَالُوا أَهْيَلُ (۱۶۲۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مَتَّك - ۱۴۸۳) (۲۵) بَابُ آدِرِجِب	۱۶۲۱ اور ابی ہریرہ (متاک - ۱۴۸۳) (۲۵) باب اور جب
قَالَتِ الْمَلَكُةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ	فرشتوں نے کہا اے مریم! اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور تجھے پاک بنا لیا ہے اور تو میں کی عورتوں میں سے تجھے چن لیا ہے
يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَأَسْمَعِي وَأَرْجِعِي إِلَى الَّذِينَ ذَكَرْنَا مِنَ الْغَيْبِ نُوْحِيهِ إِلَيْكَ	اے مریم اپنے رب کی اطاعت کر اور سونا کر اور حکم جاننے والوں کے ساتھ چمک جا یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تیری طرف سے
وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُونَ أَقْلَامُهُمْ أَكْفَلَهُمْ يَكْفُلُهُمْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُخَصِّمُونَ	کرتے ہیں اور قرآن کے پاس نہیں تھا جب وہ اپنی قلبیں ڈالتے تھے کہ ان میں سے کون مریم کا لہجہ ہے اور نہ تو انکی پاس تھا جب وہ آپس میں
يُقَالُ يَكْفُلُ يَكْفُلُ كَفَلَهَا نَفْسَهَا مِنْ كَفَالَةِ الْوَالِدِينَ وَشَهْمَارٍ (۱۵۳۹)	جھگڑتے تھے وہ آل عمران - ۳۳۰) کہا جاتا ہے کہ کفل کا لہجہ ہے اور بغیر تشہیر کے یہ قرض کی ضمانت کے معنی میں نہیں ہے
عَنْ أَبِي رَزِيْقٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ نِسَاءِ كَفَلَهَا مَرْيَمُ ابْنَةُ	حضرت علی سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرماتے تھے کہ اپنے وقت کی عورتوں میں سب سے بہتر مریم بنت
عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَاءِ خَدِيْجَةَ (۲۶) بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى إِذَا قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَا مَرْيَمُ	عمران تھیں اور اپنے وقت کی عورتوں میں سب سے بہتر حضرت خدیجہ ہیں کلمہ باب اللہ تعالیٰ کا قول جب ملا کہنے کا
أَلِي قَوْلِهِ فَآتَايَا قَوْلُهَا لَكُنْ فِيمَا كُنَّ يَبْتَغِيَنَّكِ وَاجِدِيَّ وَجِهَهَا شَرِيْفًا قَالَ أَبُو رَافِعٍ	اللہ کے قول کا لفظ "قَوْلُهَا" کہ نہ جھگڑوں کہ نہ بیکوں تک بیکوں کی طرف اشارہ ہے اس لئے انبیاء کے لئے یہی معنی ہیں جو ہمارے ہیں اور ابراہیم رضی اللہ عنہما نے کہا

والمطلب ہے کہ اس سے آل عمران اور آل ابراہیم کا اصفیاء اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا بلکہ صرف ان کو خاص ہے اور برگزیدہ کیا ہے۔

اور آل محمد سے مومن تھے جس طرح آل یاسین اور آل محمد سے مومن ہی مراد ہیں۔ آل کا لفظ کامل چیزوں پر ہوتا ہے جس سے لفظ مراد ہوتی ہے۔

یہ لفظ مومن مانی احمد مولانا جیسے الشیطان جن بولوا بیتا میں صادم من الشیطان غیر من دانتھا اللہ یقول ابو ہریرہ قال اعدنا اعدنا ذرنا ہما من الیوم ابو ہریرہ

سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا مگر کہ شیطان اسے چھوٹا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے یہی وہ شیطان کے اس چھوٹے سے فرمایا کرتا ہوا، اور جب تک کہ اسے سولے مریم اور اس کے بیٹے کے پیر اس کی تصدیق کے طور پر ابو ہریرہ پڑھتے تھے دانی اعدنا اعدنا ذرنا ہما من الشیطان الوحی معی مریم کی ماں نے دعا کی تھی اور یہ اس کی دعا کا نتیجہ ہے کہ مریم اور ان کے بیٹے کو شیطان نے پیدائش کے وقت نہیں چھوا۔ یہ حضرت حفصہ ابو ہریرہ کا استدلال ہے اور یہ صحیح نہیں کیونکہ حضرت مریم کی ماں نے جو دعا مانگی تھی وہ مریم کی پیدائش کے وقت رکھنے کے بعد مانگی تھی۔ اور اس دعا سے پہلے حضرت مریم شیطان کے س سے پیدا ہونے کے وقت محفوظ ہو چکی تھیں تو اس کو مریم کی ماں کی دعا کا نتیجہ قرار دینا درست نہیں۔ یہی یہ حدیث اس آیت کی تفسیر نہیں ہے اور حدیث اللہ ہر مضمون میں ہی قابل تسلیم نہیں۔ اس لئے کہ اگر اسے اصول اسلام پر بھی حضرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پس مذہب اسلام یہ تعلیم نہیں دے سکتا کہ ہر بچہ کو پیدائش کے وقت شیطان چھوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے کہ اللہ کے بندوں پر شیطان کا غلبہ نہیں ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان یہ حدیث اس کے خلاف ہے، البتہ اگر ولادت سے ولادت روحانی مراد فرمائی جائے تو یہ حدیث صحیح شرعی ہے اور بالکل قرآن کے مطابق ہے۔ اس لئے کہ قرآن شریف نے مومنوں کی مثال دو عورتوں سے دی ہے۔ ایک فرعون کی عورت سے اور ایک مریم سے۔ تو گویا فرعون کی عورت کی مثال بہت سے ان لوگوں سے ہے جن پر شیطان حمل آور ہوتا ہے اور مریم کی مثال ان لوگوں سے جن پر شیطان کو حمل آور ہونے کی جرأت نہیں ہوتی۔ اسی کے مطابق حدیث میں فرمایا کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جن پر شیطان حمل آور ہوتا ہے تو وہ فرمایا کرتے ہیں اور اسی طرح شیطان کے ساتھ جدا جدا ہوتے آئے ہیں۔ اور اس پر غالب آتے ہیں مگر دوسرے وہ مومن ہی ہوتے ہیں جو مریم کی طرح شیطانی حملوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اور یہ کامل مومن ہیں اور یہ کامل مومن ہیں اور اللہ کی حالت میں جلی ہے۔ جو کہ مریم کے غلط میں اول اللہ کی طرف اشارہ ہے اس لئے انبیاء کے لئے یہی معنی ہیں جو ہمارے ہیں اور ابراہیم رضی اللہ عنہما نے کہا

یعنی یہ فضیلت اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے ہے۔

المسيح الصديق وقال مجاهد الكهل الحليم والكمة من شجر بلقيس بالتمار ولا يبصر

کسی صديق کہتے ہیں اور مجاہد نے کہا کہ کھل رات رات کھل رہا ہے اور کلمہ (آل عمران ۱۲۸) جوں کو دیکھتا ہے اور رات کو

بالليل قال غيره من يولد اسهي (م- ۱۲۲) عن ابي موسى الاشعري (متلو ۱۵۳۴)

نہیں دیکھتا اور آدموں نے کہا جو انہیں پیدا ہو

۱۵۳۹) عن ابي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نساء

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ کہنے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا

قرنيس خير نساء ركن الابل احناك على طفيل ارعاه على زوجي ذات يده يقول

قرنيس ان سب عورتوں سے بہتر ہیں جو اونٹ پر سوار ہوتی ہیں نیچے پر نہایت لمبا ہن ہیں اور خاندان کے مال کی بچھڑی نکالیں ابو ہریرہ

ابو هريرة على اثر ذلك ولدت مريم بنت عمران بغير اقرار ۲۴ باب قوله

اس کے بعد کہتے کہ مريم بنت عمران کسی ہی اونٹ پر سوار نہیں ہوئیں

يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى

کا قول اللہ تھا۔ اے اہل کتاب اپنے دین میں حکومت کرو اور اللہ پر جھوٹ نہ بناؤ جو ان کا حق ہے

ابن مريم رسول الله وكلمته انطقها الى مريم وروح منه فامنوا بالله ورسوله ولا

اللہ کا رسول ہے اور اس کی پیغمبری جو اس کے مریم کی طرف تھا کہی اور اس طرف سے روح ہے سو انہوں نے اس کے رسول ہونے کا ایمان

تقولوا لئن انتموا اخيرا لكم انما الله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما

لا اور نہ کہو تمہیں ہر باہر آجھلو تمہارے لئے بہتر ہے اللہ صرف ایک ہی ہے جو ہے وہ اس سے پاک ہے کہ

في السموات وما في الارض كفى بالله وكيداء قال ابو عبد الله كلمته كن فكان وقال

کہہ کر آسمانوں میں ہے اور زمین پر ہے اس کا ہے اور اللہ کی کالی کار سب سے ابو عبد اللہ نے کہا اللہ کا لکن ہے سو وہ ہو گیا اور اللہ

غيره وروح منه احياء فجعله روحا ولا تقولوا لئن انتموا اخيرا لكم انما الله واحد

نے کہا اور وہ منہ اسے زندہ کر دیا تو اسے روح بنایا اور نہ کہو تمہیں ہر باہر آجھلو تمہارے لئے بہتر ہے

الذي صلى الله عليه وسلم قال من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو کہی کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے جو کہتا ہے اس کا کوئی شریک

وان محمد امده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم

نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہیں اور عیسیٰ اللہ کا بندہ اور اس کا مریم ہے اور اس کا مریم ہے جو اس نے مریم کی طرف

وروح منه والجنة حق والنار حق ادخله الله الجنة على ما كان من العمل

ان رکھا اور اس کی طرف روح ہے اور جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے کہ تو اللہ سے جنت میں لیا گیا ان اعمال کے ساتھ جو اس کے ہوں

کے مکرر روایت
انہی لفظوں میں
دہرائی گئی ہے
کتاب ابو ہریرہ کا
مطلب یہ ہے کہ
اس حدیث میں مرث
عرب کی عورتوں کی
قرنيس کی عورتوں
کی کیفیت کا ذکر
ہے۔ اس لئے ان
کی کیفیت حضرت
مریم پر ثابت نہیں
ہوتی کیونکہ وہ اونٹ
پر کسی سوار نہیں
تھے منہ عورتوں
آیت النسا کی
دلہ ہے جس میں
توصیر پر زور دیا گیا
اور عیسا کیوں کہ
حضرت عیسا کے بارے
میں غلو کرنے سے
روکنا ہے۔ اس
میں حضرت عیسیٰ
کے متعلق ایک
لفظ کلمہ اور دوسرے
لفظ روح ہے۔
کلمہ کی تفسیر ابو
عبد اللہ نے کہنے سے
کی ہے یعنی اللہ
تعالیٰ نے فرمایا کہ
موجا اور وہ جو

گئے کہ کن سے پیدا ہونے کی خصوصیت حضرت عیسیٰ سے کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ہر ایک مخلوق کن سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شيئا ان
يقول لئن فليكن۔ مگر کن سے عینی ہی مخلوق پیدا ہوتی ہے وہ اسباب کے ماتحت پیدا ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے پیدا ہونے
کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی مگر معلوم ہوتا ہے کہ کیاں کلمہ سے مراد وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے کیا۔ اور وہ وعدہ یا پھبتی
حضرت مسیح کی پیدائش میں پوری ہوئی۔ اور دوزخ منہ کی تفسیر بیان یہ کی گئی ہے احياء فجعله روحا۔ اللہ نے اسے زندہ کر دیا تو اسے روح بنایا اور وہی روح
ہر انسان کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے زندہ کرتا اور روح بناتا ہے۔ نیز آدم کی نسبت آتا ہے فاذا اسوتيه ونفخت فيه من روحي۔ اور آدم کی تصویر
میں ساری نسل انسانی کا نقشہ ہے۔ اس لئے ساری نسل انسانی کی روح دوزخ منہ سے۔ اللہ کی طرف روح کی نسبت سے یہ مطلب ہے کہ ہر ایک روح پاک
اور نظرت اسلام پر پیدا ہوتی ہے۔ حضرت مسیح پر چونکہ الزام لگاتے تھے اور ان کو جہنم نامی سبقت تھے تو ان کی تفسیر اور تکرار کی گئی اللہ تعالیٰ
نے ان کی روح کی نسبت اپنی طرف کی اور فرمایا دوزخ منہ +

رَوَاذِفِي رَوَايَةٍ مِنْ ابْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ أَيَهَا شَاءَ (۴۸) بَابٌ وَادُّرْفِي

ایک روایت میں یہ زائد ہے جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جس سے وہ چلتے ہوئے ہیں بھولے باب اور کتاب میں مریم کا

الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ أَنْتَدَّتْ مِنْ أَهْلِهَا نَبَذْنَاهُ الْقَيْنَانَ أَعَزَلْتُ شَرَفًا وَمَتَابِلِي

ڈگر جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو گئیں (التمیزات)۔ نبذنا کہ ہے اپنے لئے ڈال دیا یعنی ایک سو برس تک شرف کا شرف کی جانب

الشَّرْقِي فَجَاءَهَا أَنْعَلَتْ مِنْ جَنَّتْ وَيُقَالُ الْجَاهَا اضْطَرَّهَا سَاقَطَتْ تَصِفًا

فاجا رہا (باب) انفعال ہے جنت سے اور کہا جاتا ہے گھبرا ہوا اور دگر دگر دیا تساندا گریجا قصبا

قَاصِيًا فَرِيحًا عَظِيمًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَسِيًا لَمْ أَكُنْ شَيْئًا وَقَالَ غَيْرُهُ لَيْسَ أَحْمَدُ

دور فریحا بڑی بات ابن عباس نے کہا نسیا میں کوئی چیز نہ ہوتی اور اردوں نے کہا کہ لیسے رکے سے ہی اظہر

قَالَ ابُو دَاوُدَ عَلِمْتُ مَرْيَمَ أَنَّ التَّقِيَّةَ وَنَهِيَّةَ حِينَ قَالَتْ إِنْ كُنْتُ تَقِيًّا عَنِ الرَّبِّ

ابوداؤد نے کہا حضرت مریم جانتی تھیں کہ پرہیزگار و عفت مند ہوتی ہے جب انہوں نے کہا ان کلت تقیبا اگر تو متقی ہے براہ

سَرِيًّا لَمْ تَصْرِخِي بِاللَّهِ يَا نَبِيَّةَ (۱۵۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سے روایت ہے کہ کسی ناسروائی میں چھوڑ کر کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں

قَالَ لَمْ يَنْكَلِكُمْ فِي لَهْدٍ أَلَكُنَّةٌ عَيْسَى كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جَرِيْرٌ

کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے حضرت عیسیٰ نے اور بنی اسرائیل میں سے ایک شخص جسے جرییر کہتے تھے

كَانَ يُصَلِّيَ جَاءَتْهُ آتُهُ فَدَعَتْهُ فَقَالَ أَحِبِّيهَا أَوْ لَيْسَتْكَ اللَّهُمَّ لَا تَنْتَهَ حَتَّى

وہ نماز پڑھ رہا تھا تو اس کی ماں اس کے پاس آئی اور اسے بلا تو اس نے سوچا کہ اسکی بات مانوں یا نہ پڑھتا جاؤں تو اس کی ماں نے کہا کہ

تَرِيَّةٌ وَجَوْهَ الْمُرْسَاتِ كَانَ حَرَمِيًّا فِي صَوْمَعَتِهِ فَتَعَرَّضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وَكَلَّمَتْهُ فَابَى

ارشاد اس کے مرنے سے پہلے پہلے نہ حرم جو کہنے لگا کہ اسے اور جرییر نے عبادت خانہ میں تھا تو ایک عورت اس کے پاس آئی اور اس بات جیت کی تو اس

فَاتَتْ رَاجِعِيًّا فَأَمَلَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا تَوْلَدَتْ غَلَامًا فَقَالَتْ مِنْ جَرِيْرٍ فَاتَوْكَ فَكَسَرُوا

نے نہ مانا تو وہ ایک چرواہے کے پاس آئی اور اسے اپنے اہل قادیان اور ایک لڑکا کہی اور کہا کہ یہ جرییر سے ہے تو اس کے پاس آئے اور اس کے

صَوْمَعَتِهِ وَأَنْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ تَوْضًا وَصَلَّى ثُمَّ آتَى الْغَلَامَ فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ يَا غَلَامُ

عبادت خانے کو توڑ ڈالا اور اسے نکال دیا اور گھبراہٹ میں اس نے نہ کیا اور نہ پڑھی پھر رات کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تیرا پہلا کان

قَالَ الزَّائِعِي قَالُوا نَبِيٌّ صَوْمَعَتِكَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ كَرَاهٍ مِنْ طِينٍ وَكَانَتْ امْرَأَةٌ

ہے کہا چرواہا لوگوں نے کہا ہر چہ عبادت خانہ سے منے بنائیں گے اس نے کہا نہیں میں نے بنا دیا اور ایک عورت بنی اسرائیل سے تھی

تَرَضَعُ ابْنًا لَهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَرَضَعُهَا رَجُلٌ زَيْكٌ وَوَسَّارَةٌ فَقَالَتْ اللَّهُمَّ اجْعَلْ

وہ اپنے بیٹے کو دودھ پلانا دیکھتی تھی اس کے پاس سے ایک خوبصورت سارا گزرا تو اس نے کہا لے اشر میرا چاہی

أَبْنِي مِثْلَهُ فَتَرَكَ تَدْبِيحًا أَيْ قَبِلَ عَلَى الزَّائِعِي فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ

اس کی طرح کرنے لگے وہ اس کی چھاتی چھوڑ دی اور سولہ کی طرف رخ کیا اور کہا لے اشر مجھے اس کی طرح ڈر پھر چھاتی کی طرف

عَلَى تَدْبِيحًا يَمْصُهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كَانِي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْصُ

رخ کیا اور اسے چومت رہا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اپنے کان کی

أَصْبَعُهُ ثُمَّ مَرَّ بِامْرَأَةٍ فَقَالَتْ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ بَنِي مِثْلِ هَذِهِ فَتَرَكَ تَدْبِيحًا فَقَالَ اللَّهُمَّ

جس میں ہے وہی پھر ایک لڑکی لگاری تو عورت نے کہا لے اشر میرا بیٹا اس کی طرح ڈر بیٹے نے اس کی چھاتی چھوڑ دی اور کہا

اجْعَلْنِي مِثْلَهَا فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَزَّائِعِي جَمَّارٌ مِنْ أَهْلِ بَرَكَةَ وَهَذِهِ الْآفَةُ يَقُولُونَ سَلِّتْ

اسے اشر مجھے اس لڑکی کی سی بنا کر دے وہ نے کہا یہ کہوں بیٹے نے کہا کہ سوزنا لہوں میں سے ایک کا نام ہے اور یہ لڑکی تو اس کے کہتے ہیں کہ اسے

طلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور پہلے ایمان دینا اور پھر ایمان لائے

سب نبی بھی ہو گئے ہیں میں بائیں کرتے ہیں اور صرف میں بائیں کرنا اور صرف روایات سے بھی درست نہیں ظہیر تا یعنی میں ہے نقیہ کلیم من الاطفال

سبقت ان میں سے ایک شاہد پر صفت میں جیسا کہ امام احمد کی روایت میں ہے

مکن ہے تین کے بات کرنے کا ذکر آپ نے کسی جگہ میں کسی پر مشلا یہ کہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا جو بہت مفید تھا

داشندی کا کلام تھا۔ ورنہ ایسا شرف خوارگی میں سے بھگتوں میں ہی ہوتا ہے اور ایام شیر خوارگی میں ہی بچے بائیں کرتے گھ جاتے ہیں

زَيْلَتٌ وَلَوْ تَفَعَّلَ (م- ۱۶۲۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر- ۱۵۲۹) (۱۵۲۲) عَنْ ابْنِ

تونس کی روایت ہے کہ ابی ہریرہ نے فرمایا کہ میں نے عیسیٰ اور موسیٰ اور ابراہیم کو دیکھا تو حضرت عیسیٰ

عَزَمَهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ عَيْسَىٰ وَمُوسَىٰ وَإِبْرَاهِيمَ فَأَمَّا عَيْسَىٰ

فَأَمْرٌ جَعَدَ عَرِيضًا لَصُدُورِ أُمَّتِ مُوسَىٰ فَأَدْرَجْتُمُوهَا كَأَنَّهَا مِنْ زُجَّالٍ لُزْطٍ (۱۵۲۲)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَا بَيْنَ ظَهْرِي لَتَأْمِلُ سَيْبَةُ الذُّجَّالِ

نَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ الْآلَاءِ إِنَّ السَّيْبَةَ الذُّجَّالَ أَعْوَرَ الْعَيْنِ لَمَنْ كَانَ عَيْنَهُ عَيْنَةً

طَائِفِيَةً وَأَرَانِي لِلَيْلَةِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فِي النَّارِ فَأَذْرَجِلْ أَدْمًا كَأَحْسِنَ مَا يَرَىٰ مِنْ أَدْمٍ

الزُّجَّالِ تَضْرِبُ مَثَلَهُ بَابِ مَنِيْبِيَةِ رَجُلٍ الشَّعْرُ يَقْطُرُ رَأْسَهُ مَاءً وَأَضْعَايِلُ بِهِ عَلَىٰ

مَنْكِبَيْ رَجُلَيْنِ هُوَ يَصُوفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا هَذَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ زَايْتُ رَجُلًا

وَرَأَيْتُ رَجُلًا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا هَذَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ زَايْتُ رَجُلًا

مَنْكِبَيْ رَجُلَيْنِ هُوَ يَصُوفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا هَذَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ زَايْتُ رَجُلًا

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (متكرر- ۱۵۲۳) (م- ۱۶۲۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر- ۱۵۲۲)

دیکھو حدیث ۱۵۲۳ م

بہ خفیف لفظی اختلاف ہے
سے مضمون وہ لیا ہے
کیا ہے
۱۵۲۲ م
یعنی ۲۰۲۳ میں
حضرت نبی کے تعلق
مصطلح باب کا
لفظ آیا ہے اور
۱۵۲۹ میں حضور
کا لفظ آیا ہے جس
کے متعلق ہیں وہاں
پتلا اور میان ان
کے متعلق جیم کا
لفظ آیا ہے جس
کے معنی یہاں ہے
جسم والے ہیں نہ
موسے کے معنی والے
اس نے دونوں
روایتوں میں کوئی
تفاوت نہیں ہے
یہاں اس حدیث
کے راوی ابن عمر
ہیں مگر اس میں برا
اختلاف ہے کہ
یہ روایت فی الواقع
ابن عمر کی ہے یا

ابن عمر کے نام کی راوی کو غلطی ہوئی ہے۔ اور اصل راوی اس حدیث کے ابن عباس ہیں۔ چنانچہ بت می سندوں میں ابن عمر کی بجائے یہاں ابن عباس کا نام
آتا ہے اور اس کی توجیح معلوم ہوتی ہے۔ ۱۵۲۹ م ۱۶۲۳ میں اور ۱۵۲۲ م میں حضرت عیسیٰ کا ذکر حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کے ذکر کے
ساتھ کیا ہے۔ مورخین جگہ حضرت عیسیٰ کا حلیہ دیا ہے۔ امر سرخ رنگ اور پتلا ۱۵۲۳ میں انہیں گھونگر والے بال والا کلبہ۔ اور یہاں یعنی ۱۵۲۲ میں اور م
۱۶۲۳ میں سب صحیح ہیں۔ اور دونوں جگہ ابن عمر کو گندم گوں رنگ اور سیدھے بالوں والا قرار دیا ہے۔ یہ دو الگ الگ عینی
حاصل تھے۔ یہی کہ چھ تینوں مضمونوں میں عیسیٰ کا ذکر ہے وہ بنی اسرائیلی نبی ہیں اور اس لئے ان کا ذکر دوسرے انبیاء کے ساتھ کیا ہے اور پچھلے دونوں مضمونوں
میں عیسیٰ کا ذکر ہے وہ آئے واپس نہیں آئے۔ ان کا ذکر بھی وہاں کے ساتھ کیا ہے قطعی شہادت ہے اس بات پر کہ جس عیسیٰ کے اس امت میں آئے کا ذکر دیا گیا
ہے وہ بنی اسرائیلی عیسیٰ نہیں بلکہ چھ بکرہ اور ہیں۔ اسی لئے ان کو احادیث میں امام مکر منکر کہا ہے کہ یہ تم مسلمانوں میں سے تمہارے نام مرگے اور وہاں
کے خاندان کے لوگوں کرتے دکھایا جائے۔ یہ افکار معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم بالآخر مسلمان ہو جائیں گی۔ وہاں یہ بفضل کتب ذکر وہاں میں آئے گی۔ مگر روایت
کے نظارہ میں فرق ہے۔ میں صالح بن امیہ قال لا اذہ ما قال النبی صلعم لعینی احمر وکن قال بیضا انا فانم اطوت بالکعبۃ فاذا رجلا معسبط
الشعر یعادوی بین رجلین یطعنوا سہ ما، او یهران راسہ ما فقطعت من هذا قالوا ابن مریم من ذہبت التفت فاذا رجلا احمر جیم جملہ لوالا احمد
حمیہ البغنی کان عینہ عذبة طایفة قلت من هذا قالوا هذا الذجال واقرب الذم بہ شیہا من طعن قال الزہری رجل من خزائنہ هلك فی الجاہلیۃ
وہاں کی بحث آگے آئیگی اور اس حدیث کیے دیکھو ۱۵۲۳ اور ۱۶۲۵ پر نوٹ۔ میں میں جو لفظ آئے ہیں ما قال عینی احمر حضرت مسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ عیسیٰ سرخ رنگ
ہیں تو اس میں شہادہ ہے کہ آئے عیسیٰ کو سرخ رنگ نہیں کہا حضرت ابن عمر کی حدیث میں آئے عیسیٰ کا ذکر ہے اور جن احادیث میں حضرت عیسیٰ کو احمر کہا وہاں حضرت

(۴۹) باب نزول عیسیٰ بن مریم علیہما السلام (۱۶۲۸) عن ابی ہریرۃ (متاکبر ۱۰۸۸)

دیکھو حدیث ۱۰۸۸

باب عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کا آنا

ابو اکتب حدیث

میں نزول عیسیٰ علیہ

اسلام کے باب کے عنوان سے او ایسا ہی نزول ابین عرب کی، احادیث سے عام طور پر یہ سمجھا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے۔ اور پھر اسی سے یہ بھی خیال کر لیا گیا ہے کہ وہ زندہ اسی جسدِ مطہر کے ساتھ آسمان پر موجود ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں بظاہر ان کی وفات کا ذکر ہے اور احادیث سے بھی صاف معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے۔ ابھی پچھلی حدیث سے دکھایا جا چکا ہے کہ یہ حدیث اور آیت قرآنی قلنا تو ذنبتی حضرت عیسیٰ کی وفات پر قطعی ثبوت ہے۔ پھر معراج کی حدیث جو کہ گزرتی ہے اس میں بھی صاف طور پر ذکر ہے کہ آنحضرت صلی علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ اور حضرت محمدؐ کی کو ایک جگہ دیکھا پس جب حضرت کی یہی نفیاً فوت شدہ ہیں تو حضرت عیسیٰ بھی فوت شدہ ہیں۔ علاوہ ازیں ایک حدیث میں یہ لفظ بھی آتا ہے لو کان موسیٰ وعیسیٰ حنین لعماد و صلعم الا انتما عی۔ جس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ دونوں فوت ہو چکے اور ایک ہی حضرت عیسیٰ کی عمر کا ذکر بھی ہے۔ ان عیسیٰ عاش عشیرین و مائتین حضرت عیسیٰ کی ایک بیٹی ہیں بڑی بیٹی ہے دونوں لڑکوں کی حدیثوں سے لیکر ان کی شہادت ۲۳۷۷ ذوقانی جلد ۲۳۷۷ اور کئی حدیث صحیح میں حضرت عیسیٰ کے زندہ جب تفریحی آسمان پر اٹھائے جائیں گے تو انہیں چوڑکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر بالحدیث و آیت اور حدیث ہر دو میں موجود ہے۔ اس لئے نزول عیسیٰ کے ایسے معنی کرنے چاہئیں جو قرآن و حدیث کی اس علمت کے خلاف نہ ہوں۔ سو اول لفظ نزول کو لو۔ لغت میں نزول کے معنی میں نزلت ہے۔ انزال کے اس معنی ایصال و ابلاغ ہیں۔ دیکھو راقب۔ ایک چیز کا بچھا دینا اور ان معنوں میں یہ لفظ قرآن کریم میں بار بار استعمال ہوا ہے۔ انزالنا علیک لیا سارا الاعراف۔ ۲۶۷ حالانکہ لیا اس اسی زمین پر پاس اور ان سے جتا ہے۔ انزلنا الحدید (الحمدید) ۲۵ حالانکہ لوبا اسی زمین سے پیدا ہوتا ہے۔ انزل لکون الانعام الرامر۔ ۶۹ حالانکہ فیہ ریائے میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور خود رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے متعلق فرمایا۔ قد انزل اللہ علیک ذکر ارسولا والطلاق (۱۰۰) تم پر ذکر قرآنی رسول اس آیت کی تفسیر میں امام راقب نے لکھا ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی علیہ وسلم کا نام ذکر رکھ کر ہے جیسے حضرت عیسیٰ کا نام کلمہ رکھا ہے۔ اور انزال تو کر کے مراد بعثت رسول اللہ صلی علیہ وسلم ہے۔ پس نزول عیسیٰ سے مراد جو حضرت عیسیٰ کا زندہ اور اٹھا یا جانے ذوقانی شریف سے ثابت ہے نہ حدیث سے سوائے اس کے کچھ نہیں کہ عیسیٰ اسی دنیا میں پیدا ہوں گے اور مبعوث ہوں گے۔ دوسری غلطی عیسیٰ کے نام سے لگتی ہے کہ وہی حضرت عیسیٰ آئیں گے جو پیلہ بنی اسرائیل میں گزر چکے۔ حالانکہ اول تو حضرت عیسیٰ کی وفات ثابت ہے۔ ویم ابھی احادیث اور بزرگ چلیں کہ حضرت عیسیٰ کا علیہ اور آنے والے عیسیٰ کا علیہ اور ہے۔ پس آئیوںے عیسیٰ وہ پیلہ عیسیٰ نہیں اور آئیوںے کا نام صرف مشابہت کے لئے عیسیٰ رکھا گیا۔ اور یہ بات تو نزول عیسیٰ کی احادیث سے ثابت ہے کہ وہ عیسیٰ ہم سدا نون میں سے ہی پیدا ہوں گے۔ اور حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل سے بھی نہیں آسکتے کہ نبوت ختم ہو چکی اور ختم نبوت کے بعد ہی نہیں آسکتے۔ نہ حضرت جبرئیل وہی نبوت لاسکتے ہیں۔ اور اس بات کی مثال تک سابق میں موجود ہے کہ دوبارہ آنے سے مراد کسی شہید کا آنا ہوتا ہے۔ چنانچہ بائبل میں یہ پیگھوئی تھی کہ حضرت ایاس دوبارہ آئیں گے اور جب تک وہ نہ آجائیں حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے (ملاکی ۱: ۱۰)۔ جب حضرت عیسیٰ ظاہر ہوئے تو یہودیوں نے یہی اعتراض ان پر کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ایاس کی دوبارہ آمد کی پیگھوئی حضرت یحییٰ کے آنے سے پوری ہو گئی کیونکہ وہ ایاس سے مشابہت رکھتے ہیں۔ ر۔ دمشق ۱۱: ۱۶ - ۱۳) پس ان تمام امور کے ہوتے ہوئے ان سے شبہ بھی نہیں رہ سکتا کہ نزول عیسیٰ سے مراد صرف ایک عیسیٰ صفت مجدد کی بعثت ہے۔ اس روایت کے الفاظ یوں ہیں قال رسول اللہ صلعم والذی نفسی بیدہ لایوکلن ان یزل فیکر ابن مریم حکما عدلا فیکر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الحجریہ ویفیض المانحی لایقبلہ احد حتی تکون الیحدۃ الواحدۃ خیر امن الدنیا وما فیہا ثم یقول ابوہریرۃ و القروانات شتم و ان من اهل الکتاب الالیومین یہ قبل موته دیوم القیامۃ یمون علیہم شہیدا۔ اس روایت کے دو حصے ہیں۔ ایک منوع جو اصل حدیث ہے اور دوسرا حضرت ابو ہریرہ کا خیال جو شتم بقول سے مخرج ہوتا ہے۔ اول ہم خود حدیث کو لیتے ہیں۔ اس میں ان باتوں کا ذکر ہے۔ نزول ابن مریم بحیث حکم و عدل ابن مریم کا کام صلیب اور تل خنزیر اور جزیہ کا موقوف کرنا۔ اس زمانے میں مال کی کثرت۔ نزول ابن مریم پر پھیلنا ٹوٹ و کچھو۔ اس سے مراد اس آیت میں کسی عیسیٰ صفت مجدد کی بعثت ہے۔ خود حضرت عیسیٰ کا واپس آنا نصوص قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ یہاں اس کے متعلق دو باتیں اور قابل ذکر ہیں اول اسے حکم و عدل کہا ہے۔ حکم و عدل کے لفظ جاتے ہیں کہ اس کی حیثیت نبی کی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے اگلی حدیث میں آتا ہے۔ کیف اتم اذا نزل ابن مریم فیکم و اما مکہ منکھ۔ تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم میں ابن مریم نازل ہوگا اور وہ تمہارا امام تم میں سے ہے جس طرح علیؑ کی حدیث قطعی ثبوت سے کہ آنے والا عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل و الگ شخص ہیں۔ یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ ابن مریم تو نازل ہوگا مگر تمہاری حالت اس وقت عجیب ہوگی کیونکہ تم اس خیال میں ہو گے کہ وہ پہلا سچ آنے اور آنے والا تمہارا امام تم میں سے ہی ہوگا۔ اسی غلط خیال کے ماتحت کہ آنے والا سچ وہ نبی اسرائیلی سچ ہے۔ بعض لوگوں نے اس حدیث کے یوں معنی کر لئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ تم میں آئیں گے مگر تمہارے امام تم میں سے ہی امام ہندی ہوں گے۔ یہ معنی اس حدیث کے قضا غلط ہیں کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں امام ہندی کی احادیث کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور علاوہ ازیں مسلم میں جیسے اہل مکہ و مدینہ کے یہ لفظ ہیں و امکہ منکھ اور وہ تمہارا امام ہوگا اور تم میں سے ہوگا۔ جہاں امکہ میں نمبر غائب ابن مریم کی طرف جاتی ہے۔ پس یہ حدیث (باقی برص ۷۹۹)

۱۵۴۶) **ابن عمر** **ابن ہریرہ** **قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعت أنتم زاد أنزل**

جو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا حال ہو گا جب ان پر یہ آیت

ابن عمر **فینزلهم وأمامكم وتلكم رؤسهم** **باب ما ذكر عن أبي اسحاق** **۱۵۴۶) ابن عمر** **زبني**

جی آئے گا اور وہ تمہارا امام تم میں سے ہو گا **باب جوئی امرائیل کی نسبت بیان ہونے لے**

۱۵۴۶) **ابن عمر** **زبني** **عینی باہر سے نہیں**

ہوں گے بلکہ وہ مسلمانوں میں سے پیدا ہوں گے اور مسلمانوں کے امام ہوں گے اور اس بات سے براہ کفر لغو بات کوئی نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہاتھوں میں آئینے کے لئے اس قدر زور و شور کی پیشگوئیاں ہیں اور امام کوئی دوسرا ہو۔ دوسری بات قابل غور ابن عمر کا کام ہے۔ اور وہ کس صلیب اور کس خنزیر اور ذبح جو یہ ہے۔ یہی حدیث پہلے حدیث پر باب قتل الخنزیر میں گذر چکی ہے۔ دیکھو نوٹ ص ۴۳۳۔ جہاں دکھایا گیا ہے کہ خنزیر کے قتل سے ظاہری معنی مراد نہیں ہو سکتے۔ نہ کسی نبی یا ولی یا مجدد نے آج تک یہ کام کیا کہ وہ خنزیروں کو قتل کرتا پھرے۔ انبیاء اور مجددین کا کام اعلیٰ ہے۔ انہوں نے یہ کام ہی نہیں کیا کہ وہ مسلمانوں یا کھجوروں کو مارے پھریں گو یہ موذی جانور ہیں۔ سوڑ تو اتنا موذی بھی نہیں۔ پھر جھگی سوز تو وعدہ میں کبھی نہیں مکر و ثوروں یا تو مسؤروں کو تو حضرت عیسیٰ بھی نہیں مار سکتے کیونکہ وہ دوسرے لوگوں کی حکیت ہیں۔ اسی طرح کس صلیب سے عینی ظاہری معنی مراد نہیں لے سکتے کیا سچ حضرت عیسیٰ کا لڑائی کی صلیبوں کو جو جگہ گھروں پر لگی ہوئی ہیں یا عیسائیوں کے پاس ہیں تو پڑتے پھرتے ہیں۔ اور کیا حضرت عیسیٰ چالیس سال کے عرصے میں جو ان کے ٹھہرنے کی مدت بتائی جاتی ہے ایک ایک گاؤں ایک ایک شہر ایک ایک جنگل میں پھرتے گئے اور دنیا کی تمام صلیبوں کو توڑ دیں گے اور دنیا کے تمام سوڑوں کو قتل کر دیں گے اگر وہ دین دنیا کا اور کوئی کام۔ یہی کریں۔ رات کو بھی نہ سوئیں کھانا بھی نہ کھائیں نہ زبانی نہ زبانی تو چالیس سال کے عرصے میں نہ ساری دنیا کی ہر ایک سستی اور جنگل میں پھرتے ہیں نہ تمام سوڑوں کو مار اور تمام صلیبوں کو توڑ سکتے ہیں۔ یہی کس صلیب سے مراد عیسائیت پر تمام جہت کے سولے اور کچھ نہیں اور قتل خنزیر سے مراد ناپاک عقائد کے قلع قمع کے سولے اور کچھ نہیں ہو سکتے۔ یہ واقع جو یہ یا جزیرہ کا موقوف کرنا تو اس کے معنی شامین نے یوں کئے ہیں کہ قرآن کریم میں جو جزیرہ لیے کا حکم ہے وہ زحل ابن مریم کے وقت منسوخ ہو جائے گا یہ بات قطعاً غلط ہے۔ قرآن کریم کو کوئی حکم قیامت تک منسوخ نہیں ہو سکتا۔ اگر حضرت عیسیٰ قرآن کریم کے ایک حکم کو بھی منسوخ کر دیں تو گویا انہوں نے شریعت محمدیہ کو ہی منسوخ کر دیا۔ اور اسی حدیث کی دوسری روایات میں رضیعہ الجزیہ صرف کہہ رہی ہیں کہ روایت ہے رضیعہ الحرب کا لفظ ہے یعنی وہ لڑائیوں کا موقوف کر دے گا۔ اس کا بھی اگر یہ مطلب لیا جائے کہ قرآن کریم کے حکم جہاد کو حضرت عیسیٰ منسوخ کر دیں گے تو غلط ہے۔ مطلب تو اس کا صاف ہے کہ انے والے عیسیٰ کا کام چونکہ دہل سے کس صلیب اور قتل خنزیر ہے اس لئے انہیں لڑائی کی ضرورت پیش نہ آئے گی اور اسی لئے ان کا نام عیسیٰ بھی رکھا گیا کیونکہ پہلے سچ کا کام ہی دلائل سے دین کو غالب کرنا تھا سچ محمدی کا بھی یہی کام ہو گا اور اس معنی کے رو سے چار جزیعہ الجزیہ پڑھا چاہو رضیعہ الحرب نہ سچ کو لڑائیوں کی ضرورت ہوگی نہ وہ جزیرہ لینگا۔ کیونکہ جزیرہ لڑائی سے وابستہ ہے۔ اس کا کام کس صلیب اور قتل خنزیر ہے اور یہ بذریعہ دلائل ہو گا۔ مال کا اس زمانہ میں بہت ہونا اس زمانہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور یہ نشان اس زمانہ پر اس قدر وضاحت سے صادق آتا ہے کہ اس پر کسی بحث کی ضرورت نہیں۔ اب صرف ایک بات باقی رہ جاتی ہے یعنی حضرت ابو ہریرہ کا خیال کہ نزول عیسیٰ کا تعلق آیت ان من اهل الکتاب سے ہے۔ اس کے معنی حضرت ابو ہریرہ کے خیال میں یہ معلوم ہونے میں کبھی حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے تو تمام اہل کتاب ان پر ایمان لائے آئیں گے۔ مگر آیت کے ظاہر الفاظ یہ نہیں کہتے۔ آیت کا مفہوم صرف اس قدر ہے کہ تمام اہل کتاب اپنی موت سے پہلے ضرور اس پر ایمان لاتے رہیں گے۔ کس پر ایمان لاتے رہیں گے اور کس کی موت سے پہلے یہ دو باتیں روشنی ڈالنے کے قابل ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان لاتے رہیں گے تو یہ واقعات کی رو سے غلط ہے اور یہ کہ دنیا کے حالات تاریخ میں ہر ایک یہودی اور عیسائی حضرت عیسیٰ کی رسالت پر ایمان لاتے بلکہ بلا دلیل دعویٰ ہے اور حضرت ابو ہریرہ کے خیال کے الفاظ آیت موید نہیں کہ حضرت عیسیٰ کے نزول کے وقت حضرت عیسیٰ پر ایمان لائیں گے۔ یہاں لفظ قبل مودہ ہمیں عیناً نزولہ نہیں۔ اور علاوہ ہرین اس کے جس فلاں قرآن کریم کی شہادت ہے کیونکہ قرآن کریم صراحت سے فرماتا ہے جاعل الذین اتبعون فوق الذین کفرو الیٰ یوم القیامت یعنی قیامت کے دن تک منکرین عیسیٰ ہی رہیں گے اور متبعین عیسیٰ ہی۔ اور متبع منکرین پر غالب رہیں گے کسی وقت ان میں سے ایک گروہ کا کلی طور پر مٹ جانا فلاں قرآن ہے۔ اہل بات یہ ہے کہ اس آیت سے پہلے ذکر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا نہ صلیب پر مرے بلکہ وہ مقتول و مصلوب سے متاثر ہو گئے و ما قتلوه و مصلبوه و لکن شبہ لہم پھر ہے کہ انہیں حضرت عیسیٰ کی صلیب پر موت کے متعلق شک رہا۔ انہم لفی شک منہ۔ لیوم ذہن میں خیر اسی صلیب موت کی طرف جاتی ہے اور مطلب یہ ہے کہ باوجود کہ ان کی اپنی تاریخ شاہد ہے کہ انہیں حضرت عیسیٰ کی صلیب پر موت کے متعلق شک رہا لیکن پھر بھی تمام اہل کتاب یہود اور عیسائی اپنی موت سے پہلے اس بات پر ایمان لاتے رہیں گے کہ حضرت عیسیٰ صلیب پر وفات پائیں گے یہودی اس لئے کہ وہ کہتے ہیں کہ صلیب کی موت لعنی موت ہے اور حضرت عیسیٰ چونکہ جھوٹے نبی تھے (نمود با شتر) اس لئے اپنی صلیب پر موت سے وہ شہادت لے گئے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اور عیسائی اس لئے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ صلیب پر وفات پا کر نمود با شتر ملعون ہوئے اور ہمارے گناہ اٹھالے گئے تو اہل کتاب کے دونوں گروہوں کا یہ ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ نے صلیب پر وفات پائی۔ حالانکہ دونوں

ہوئی تھی گواہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی موت کے متعلق انہیں شک رہا

ابن حراش قال قال عقبة بن عمرو وحذيفة الاخذ ثامنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه

وسلم قال اني سمعت رسول الله يقول ان من الناس اربعة اقسام الذين يرمى

الذناس انهم النار فماء بارد واما الذي يرمى الناس انة ماء بارد فذات فترق فمن ادرك

من ذلك فليقتل في الذي يرمى انهم النار فان ادعرب بارد قال حذيفة وسمعت يقول

ان رجلا كان فمين كان قبلكه اتاه الملك ليقيض روجه فقيل له هل علمت من خير

قال ما اعلم فقيل له انظر قال ما اعلم شيئا غير اني كنت ابايع الناس في الدنيا و

اجازتهم فانظر الموسى واذ عن المعسر فادخله الله الجنة فقال وسمعت يقول

ان رجلا حضره الموت فلتمت بس من الحياة ارضى اهله اذا اقامت فاجموا الى خطبا

كثير او اوقدوا فيه نار حتى اذا اكلت لحمي وخلصت الى عظمي فامحشت فخذوها

فانحنوها ثم انظر ايوما زاحا فاذ رده في ابيهم ففعلوا الجمعة فقال لهم فقلت ذلك

قال من خشيتك ففعل الله لك قال عقبة بن عمرو وانا سمعت رسول الله يقول ذلك

عمن عايشته (متكبر ۳۰۴) (۵۳۸) عن ابي حازم قال قال عابد بن ابي حمزة

خمس سنين فسمعت يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو اسرائيل تسولهم

الانبياء كلما اهلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدي سبكون خلفاء فيكثرون قالوا

فما تاملنا قال فوا ببيعة الا قول فالاول اعصمهم فحقهم فان الله ساء لهم عما استعملهم

بل رجال کی بحث
کتاب فتن میں آئے
قال حذيفة
سمعتہ کے بعد کا
مضمون فقال و
سمعتہ کے ۲۲۵
اور ۹۰۳ اور
۱۰۹۳ میں لکڑی لگا
تے جس کو گنہ گنہ شخص
کا بیان ذکر ہے اس
کو اپنے گنہ گنہوں کا
اجاس اور ان کی
سزا کا ذکر تھا جو
وہیت اس نے
کی اس سے معلوم
ہوتا ہے کہ وہ اپنے
کے پر نام نہ تھا اور
خدا کا خوف اس
کے دل میں تھا ان
اعادہ سے پایا
جاتا ہے کہ اسلام
نے اللہ تعالیٰ کی
مغفرت کو کتنا وسیع
کر دیا ہے۔ کہاں
آج ہمارے علمائے
جن کے نزدیک اگر
ایک شخص کا یا
شخص سے نیچے پوچھنے
تو وہ بھی جہنمی ہے
خواہ ہزاروں کا
نیکی کے کرے
ملا لفظ ۳۰ کے
ہیں۔ یہود اور نصاریٰ
پر لعنت کا ذکر ہے
کہ اپنے نبیوں کی

قرآن کو سجد کیا یا صلح تسوسہم - سیاسیہ کے لئے نہایت ہی دینی ہے انقیاد علی اللہی بیاصلحہ کسی چیز کی اصلاح کہیں اس کا مفضل یا نکرانی کرنا تو لی اور
دنیا یا حکومت اس اصلاح کا ایک حصہ ہے اور یہاں یہ فقط تسوسہم بظاہر اپنے وسیع معنی میں استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ فتح ابابری میں اس کے معنی میں لکھا ہے
ای اہم کا نواذ انظر انہم فساد بعث الله لهم نبيا ليقم لهم امرهم وينزل ما قدر ان احكامه للتوراة - یعنی جب ان میں فساد نظر ہوتا تو اللہ تعالیٰ
ایک نبی کو مبعوث کرتا جو ان کے معاملہ کی اصلاح کر دے اور اس کا ذکر کرے جو احکام توریت میں وہ تغیر و تبدل کر دیتے تھے اگر تسوسہم (ربانی برصلاہ)

<p>۱۵۴۹ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتَتَّبِعَنَّ سَائِرَ مَنْ تَبِعَكَ مِنْ شِبْرٍ أَيْشُرُ وَذِرَاعًا يُدْرَأُ عَاشِي لَوْ سَكَدُوا أَحْرَضْتُ لَسَكَلْتُمْ مَوْهَةً فَلَنَأْيَا رَسُولَ اللَّهِ</p>	<p>ابو سعید سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور ان کے دستوں پر چلو گے جو تم سے پیچھے تھے۔ (ابو سعید سے روایت ہے)</p>
<p>أَلَيْهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ (م- ۱۶۳۰) عَنْ أَنَسٍ (متكرر- ۳۹۶) (۱۵۵۰)</p>	<p>انہی نے اور نصاریٰ (مرا وہی) فرمایا اور کون ملے دیکھو حدیث ۳۹۶</p>
<p>عَنْ عَائِشَةَ ۖ كَانَتْ تَذَكَّرُهُ أَنْ يَجْعَلَ يَدَهُ فِي خَاصِرَتَيْهِ وَتَقُولُ إِنَّ الْيَهُودَ لَفَعَلَهُ</p>	<p>حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ وہ یاد دلاتی تھی کہ تم اپنے ہاتھوں کو اپنے خاصریوں میں نہ ڈالو اور فرماتی تھیں کہ یہود ایسا کرتے ہیں۔ (۱۶۳۱)</p>
<p>(م- ۱۶۳۱) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (متكرر- ۳۴۲) (م- ۱۶۳۲) عَنْ عُمَرَ (متكرر- ۱۰۸۹)</p>	<p>دیکھو حدیث ۳۴۲ دیکھو حدیث ۱۰۸۹</p>
<p>۱۵۵۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلَّغُوا عَمْرِي</p>	<p>عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے پہنچاؤ</p>

(بقیہ حدیث) کے بارے میں اسباب قرآن میں اسباب ہی بادشاہ کے لیے تھے تو یہ سننے درست نہیں۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں ذکر از قاتل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام انکار ہے۔ انہوں نے اپنے ایک نبی سے فریست کی کہ ان میں ایک بادشاہ مقرر کرے

اور حضرت زکریا بھی خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کا ذکر قرآن شریف میں ہے بادشاہ نہ تھے بائبل میں بھی اس کی تائید ہے کہ بعض انبیا ان میں بادشاہ ہوتے اور بہت سے نہیں ہوئے اور یہی صریح اصطلاح مورد نبی کے لئے نبوت ہوتے تھے۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے بعد خلفاء کا ذکر فرمایا نظر کرے کہ اس میں بھی دونوں امر آجائے ہیں یعنی ایسے خلفاء جو نبوی رنگ میں حکومت کریں اور ایسے خلفاء جو امور نبوی کی اصلاح کے لئے کھڑے کے جائیں اور اس لئے یہ حدیث حدیث محمد کی مود ہے جس میں ہے ان اللہ یبعث لہذا الامۃ علیہم لاس کل ما نذہ سنة من بعد لہذا دنیا۔ ہیں جس طرح نظام حکومت کے قائم رکھنے کے لئے بیعت کرنا اور اس بیعت کا حق ادا کرنا ضروری ہے اسی طرح دین کے قیام کے لئے روحانی خلفاء کی بیعت کرنا اور اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ حدیث اس بات پر بھی صریح دلالت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء نبوی نہ ہوں گے کیونکہ یہاں صاف فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوتے خلفاء ہوں گے۔ نبوی سلسلہ کے خلفاء نبوی تھے مگر سلسلہ محمدیہ کے خلفاء نبوی نہ ہوں گے۔ قرآن کریم میں دونوں سلسلوں کو ایک دوسرے کا شاہد قرار دیا گیا ہے وعد اللہ الذین امنوا و عملوا الصالحات ان یتوکل علیہم فی الارض کما استوکل الذین من قبلہم۔ اور یہ ممانت چاہتی ہے کہ جس طرح وہاں سلسلہ موسیٰ کے آخر پر ایک خلیفہ عیسیٰ ابن مریم ہوا اسی طرح اس سلسلہ کی آخر میں ایک خلیفہ اسی نام سے ہو۔ البتہ چونکہ انان نبوت حضرت موسیٰ میں کمال کو پہنچی تھی وہ شریعت تو رب میں کمال کو پہنچی تھی اس لئے حضرت موسیٰ کے بعد اصطلاح کیلئے نبی نبوت جتے تھے اور یہاں چونکہ نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ شریعت قرآن میں کمال کو پہنچی تھی اس لئے اصطلاح کے لئے نبی نہیں بلکہ نبی دین ہاں ہو گئے (صرف ہذا) بلکہ یہ حدیث بھی سلسلہ موسیٰ اور سلسلہ محمدیہ میں مشابہت قائم کرتی ہے۔ اور یہاں اس مشابہت کے بسے پہلو کا ذکر کر کے دیکھا ہے کہ جب بے پیلوس ثابت ہو تو نبی میں بھی مذہبیت ہونی چاہئے اور اسی کی طرف قرآن کریم نے توجہ دلائی ہے جیسا کہ اوپر کے نوٹ میں واضح کیا گیا ہے۔ یہود اور نصاریٰ کا نام خصوصیت سے لینے میں ان دونوں قوموں کی تقریباً اور افراط کی طرف اشارہ ہے۔ یہود نے اپنے پیغمبر کے حق میں تقریباً کی اول سے تعوذ بنا کر فرار دیا اور صلیب پر چڑھایا عیسائیوں نے اس کے حق میں غلو کیا اور نبوت کے مرتبہ سے اٹھا کر فدائی کے تخت پر بٹھایا۔ یسعویین وہی حال میں ہوا۔ مسلمانوں نے اپنے پیغمبر کو کافر و کذاب و جاحل کہا جانے لگا جانتے ہیں کہ اس صدی کے سر پر ایک وہی مجدد کھرا ہوا ہے اور کوئی جڈ نہیں۔ اور یہ بھی جانتے ہیں کہ دوسرے مذاہب کے مقابل پر خود دست آپ کی ہے اور بالخصوص جس طرح یورپ و امریکہ کی عیسائی اقوام میں اسلام پھیل گیا ہے اور قرآن کریم ان قوموں کو پہنچا ہے دوسرے کسی نے یہ قدرت نہیں کی۔ اور اس کے مقابل اس پیغمبر کے متبعین کے ایک بڑے گروہ نے آپ کو محمد دیت کے مرتبہ سے اٹھا کر نبوت کا مرتبہ دے دیا حالانکہ قرآن و حدیث میں اور خود اس صحیح کی شہادت میں صراحت موجود ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا۔ اور باتوں میں بھی مشابہت ہے مگر زوال عیسیٰ بن مریم کے ساتھ یہود نصاریٰ کی اسی تقریباً و افراط کی طرف ممان توجہ دلائی ہے جیسا کہ ۶۹۴ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ماراڑھنے سے منع کیا۔ و جہاں ہر سے یہ طریق نبوت دار نہیں اور اس سے انسان کے اندر وہ عاجزی کی حالت پیدا نہیں۔ یعنی جو ممان میں ہونی چاہئے۔ اس کا کچھ فرق ہے یہاں لفظ یہ ہیں۔ انما نجدکم فی اجل من خلاص الامم مابین صلاۃ العصر الی المغرب الشمس انما تمسک و مثل الیہود النصاریٰ کرحل استعمال عما لا فقال من یعمل فی الی نصف النہار علی قیراط قیراط فضلت الیہود الی نصف النہار علی قیراط قیراط ثم قال من یعمل فی من نصف النہار الی صلاۃ العصر علی قیراط قیراط فضلت النصاریٰ من نصف النہار الی صلاۃ العصر علی قیراط قیراط ثم قال من یعمل فی من صلاۃ العصر الی مغرب الشمس علی قیراط قیراط فیصل الامم لاجرم تبین فضلت الیہود النصاریٰ فقالوا نحن اکثر عملا و اقل عطا قال اللہ هل ظلمتکم من حذکم شیئا قالوا لا قال یا نبیہ

فیصل الامم لاجرم تبین فضلت الیہود النصاریٰ فقالوا نحن اکثر عملا و اقل عطا قال اللہ هل ظلمتکم من حذکم شیئا قالوا لا قال یا نبیہ

علا میں تین حکم
ہیں۔ اول تبلیغ
دین کا نیت تیری
حکم ہے۔ ہر ایک
سنان کا فرض ہے
کہ وہ دوسروں
کو پہنچائے۔ یہاں
تک کہ خوش شخص کو
ایک ہی آیت کا
علم ہے یا ایک ہی
بات پہنچا سکتا ہے
وہ اسی قدر پہنچا
دے۔ اگر مسلمان
کا اس پر عمل ہو
تو اسلام وہاں
میں نیکے کاروں
تک پہنچ جائے۔
دوسرا حکم یہ ہے
کہ نبی اسرائیل سے
بے شک روایت
کہ اس میں برف
نیں گرے یا ان کی
کتابوں کے اندر
بہن صدقات جو
نمبر لکھے۔ ہا
چونکہ وہ کتب عرب
ہیں اس لئے اگر
ان کی روایت میں
کوئی امر خلاف
قرآن و حدیث ہو
تو اس کو تسلیم نہیں

وَلَا آيَةَ رَحِمٍ تُوَاعِنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حُرُوجَ مِنْ كَذِبٍ عَلَى مَثَلِهِمْ أَفَلَيْتَهُمْ أَمَقْعَدُ

گو کہ یہی آیت ہوا دینی اسرائیل سے روایت کر لو گی جہاں میں ہے اور جو ادا دینی ہر طرف سے ہر ایک کے لئے تو وہاں لٹکا اور دوح میں بنا۔

مِنَ النَّارِ ۱۵۵۱ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ تَلَا

یہ اور یہ ہے کہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا

وَالنَّصَارَى كَالْيَصْيُورِ يُخَالِفُونَهُمْ ۱۵۵۲ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ جَدُّ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ

نصاری نہیں گاتے قرآن کے خلاف کر دیتا ہے حسن سے روایت ہے کہ جب بن عبد اللہ نے اسی سجدہ بصرہ میں

السُّجْدِ وَالسُّبْحَانَ مَنْذُورًا وَمَا فَحِشْتِي أَنْ يَكُونَ جَنْدَبٌ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

ہم سے ایک حدیث بیان کی اور جب میں حدیث سنا لی تو میں بھولے اور یہیں یہ اندیشہ بھی نہیں کہ جب بن عبد اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَلْبَهُ رَجُلٌ

بھوٹ باؤ تھا ہوس کے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا

يَأْخُذُ بِجُزْءٍ فَخِذٍ فَخِذٍ سَلِينًا فَخِذٍ بِهَا يَدُ كَأَنَّمَا رَأَى الدَّمَّ حَتَّى مَاتَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا ذَرْنِي

جسے زخم گھاس کے پھری بیکر اس سے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا خون بنا بند نہ ہوا یہاں تک کہ وہ مر گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سجدے سے ہی

عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَمَتْ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ۱۵۵۳ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ تَلَا

جان کے معاملہ میں مجھ سے جلدی کرے اس پر جنت حرام کر دی ہے بلا باب برص لے کر لے اور کہنے کا ذکر

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ تَلَا ثَلَاثَةَ فَيُؤْتَى بِبَنِي إِسْرَائِيلَ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے کہ نبی اسرائیل میں جن شخص سے

أَبْرَصٌ أَقْرَعٌ وَأَنْهَى بِدَلِّهِ أَنْ يَتَّبِعَهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَنَادَى الْأَبْرَصَ فَقَالَ أَيُّ

برص والا اور تم اور اللہ تھا اس نے انہیں آزمانا چاہا تو ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا وہ برص والے کے پاس آیا اور کہا کہ تجھے کوئی

شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ لَوْ نَحْسَنُ وَوَجِدُ حَسَنٌ قَدْ قَرَأَ فِي التَّاسِعِ فَمَسَحَ بِذَهَبِ عَمَّةٍ

چیز تو زیادہ پسند ہے اس نے کہا ہمارے ہر ایک اور خوبصورت چیز اور تم مجھ سے نفرت کرتے ہیں کہ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ

فَاعْطَى لَوْ نَحْسَنُ وَوَجِدُ أَحْسَنًا فَقَالَ أَيُّ الْمَلِكِ حَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْأُرَيْلُ وَقَالَ الْبَقْرُ

کی بیماری، جانی رہی اور اسے چھو رکھنے یا لگنا اور خوبصورت چیز اور تم مجھ سے نفرت کرتے ہیں اس نے کہا اونٹ یا کما گئے

هُوَ شَاكٌ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْأَبْرَصَ قَالَ الْأَقْرَعُ قَالَ أَحَدُهُمَا الْأُرَيْلُ وَقَالَ الْبَقْرُ فَنُحِطَ

راوی کو اس بلے میں تک ہوا برص لے کر گئے ہیں سے ایک نے اونٹ کہا اور دوسرے نے گائے تو اسے اس میں سے

نَاقَةٌ عَشْرًا فَقَالَ يَبَارِكُ لَكَ فِيهَا أَيُّ الْأَقْرَعُ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ شَعْرٌ

لگا جن اونٹنی کی اور فرشتے نے کہا تیرے لئے اس میں حرکت ہوگی اور کہنے کے پاس آیا تو کہا کہ کوئی چیز تجھے زیادہ پسند ہے اس نے کہا تھے ناں

کے جانے گا اگر آج جو اصول مسلمانوں نے بنایا ہے کہ سادہ کتب مقدسہ سے کوئی امر نہیں کیا جائے تو یہاں لٹھنے ہیں کہ یہ محدث و بدل ہیں۔ یہ حدیث اس کو غلط

ظہیر ہے۔ ایک مسلمان کا سینہ فروغ ہونا چاہئے ہاں غلط قرآن و حدیث جو کچھ ہوا ہے جھٹک کر نا چاہئے رہا یہ کہ حضرت عمر تو تیرے ساتھ تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم

ناراض ہوئے تو اس سے صحت اس قدر بڑھ گئی کہ آپ کو یہ خیال ہوا کہ ان لوگوں کی عادت قرآن کریم کی طرح نہ ہو۔ تحقیقات کے لئے کسی کتاب کا پڑھنا

منہ نہیں تیسری بات یہ ہے کہ جو شخص آپ سے بھولی روایت کرے وہ جہمی ہے۔ پہلے مذاہب میں بالخصوص عیسائیت میں مذہب کی تبلیغ کے لئے صرف

بنائے گئے جو باوجود قرآن و احادیث سے کیا ہے وہ ظاہری امور میں بھی جہمی باتیں توئی امتیاز کا رنگ حاصل کر لیتی ہیں۔ مگر ان ظاہری امور میں

تو سب سے اور بعض میں توئی باتیں ہیں ایک طرح کرے یا اور توئی ہے۔ یہاں دوسرے کاتبوں کو نا چاہے اسی طرح اپنے آپ کو کاتب کرنا بھی حرام ہے۔

زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اپنی ہر با دوسرے کی اور صحبت اور تکلیف پر مبر کرنے کا حکم ہے۔ جو شخص کسی تکلیف کے پیش آئے کی وجہ سے خود کو

مکرت ہے وہ مثل انیس کا مرتکب ہے جس کی سزا آخرت کا جہنم ہے۔

سَنَ وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا أَقْدَقُ رَدِّي النَّاسُ كُلُّ نَسَمَةٍ فَذَهَبَ أَعْطَى شِعْرًا حَسَنًا قَالَ

فَأَمَى الْمَالُ حَبُّ الْبَيْتِ قَالَ فَبَعَثُوا بَقْرَةً حَامِلًا وَقَالَ يَبَارِكُ لَكَ فِيهَا

وَأَنَّى لَا سَهَى فَقَالَ أَيْ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ يَرِدُ اللَّهُ إِلَيَّ بِصُورِي فَبَصُرَ بِهِ النَّاسُ

قَالَ نَسَمَةٌ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بِصُورَةٍ قَالَ فَأَمَى الْمَالُ حَبُّ الْبَيْتِ قَالَ لَنْغَمٌ فَأَعْطَاهُ شَاةً

وَالذَّانِئُ تَهْهَانُ وَلَدَ هَذَا فَكَانَ لَهَذَا أَدَا مِنْ رَبِّكَ لَهَذَا أَدَا مِنْ بَقْرَةٍ لَهَذَا أَدَا مِنْ

مَنْ الْغَنَمِ ثُمَّ أَنَا أَيْ الْبَرَصُ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مَسْكِينٌ تَقَطَّعَتْ بِلِي الْجِمَالِ

فِي سَفَرِي فَلَا بَرَاعَةَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بَكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي عَطَاكَ اللَّهُ الْحَسَنَ وَالْجَلَدَ

الْحَسَنُ الْمَالُ خَيْرٌ أَسْبَغَ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي فَقَالَ لَهُ إِنَّ الْحَقَّوْقَ لَبَدْرَةٌ فَقَالَ لَهُ كَأَنِّي

أَعْرِفُكَ أَمْ لَكُنْ الْبَرَصُ يَقْدَرُكَ النَّاسُ فَقِيمًا فَأَعْطَاكَ اللَّهُ لَقَدْرَ رِثَةٍ لَكِنْ بَرَعْنُ

كَرْبِرَ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَأَدْبَانَ فَصَدْرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتُ وَأَنَّى الْآفِرُ عَنِّي فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ

فَقَالَ لَهُ مِثْلُ مَا قَالَ لَهَذَا فَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَذَا فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَأَدْبَانَ

فَصَدْرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتُ وَأَنَّى الْآفِرُ عَنِّي فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مَسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ

تَقَطَّعَتْ بِلِي الْجِمَالِ فِي سَفَرِي فَلَا بَرَاعَةَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بَكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ

عَلَيْكَ بِصُورِكَ شَاةً أَنْتَبَخَ بِهَا فِي سَفَرِي فَقَالَ قَدْ كُنْتُ أَسْمَى فَرَدَّ اللَّهُ بِصُورِي وَفَقِيمًا

فَقَدْ أَخَانَنِي لِحُذْمِ مَا شِئْتُ فَوَاللَّهِ لَا أَحْمَدُكَ الْيَوْمَ شَيْءٌ أَخَذْتَهُ اللَّهُ فَقَالَ أَمْسِكْ

مَا لَكَ فَاتَمَّا ابْتَلَيْتُمْ فَقَدْ ضَلُّوا لَهَيْئَتِكَ وَسَخَطَ عَلَيَّ صَاحِبِيكَ (۵۲) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْحَقِّ وَالْحَقْبِيلِ وَالرَّزِقِمْ الْكِتَابِ مَرْقُومٌ

كَمَا تَوَسَّعَ بِحُجْرَتِهِمْ وَأَخْرَجَهُمْ مِنْ حُجْرَتِهِمْ وَأَخْرَجَهُمْ مِنْ حُجْرَتِهِمْ وَأَخْرَجَهُمْ مِنْ حُجْرَتِهِمْ

وَأَخْرَجَهُمْ مِنْ حُجْرَتِهِمْ وَأَخْرَجَهُمْ مِنْ حُجْرَتِهِمْ وَأَخْرَجَهُمْ مِنْ حُجْرَتِهِمْ وَأَخْرَجَهُمْ مِنْ حُجْرَتِهِمْ

وَأَخْرَجَهُمْ مِنْ حُجْرَتِهِمْ وَأَخْرَجَهُمْ مِنْ حُجْرَتِهِمْ وَأَخْرَجَهُمْ مِنْ حُجْرَتِهِمْ وَأَخْرَجَهُمْ مِنْ حُجْرَتِهِمْ

وَأَخْرَجَهُمْ مِنْ حُجْرَتِهِمْ وَأَخْرَجَهُمْ مِنْ حُجْرَتِهِمْ وَأَخْرَجَهُمْ مِنْ حُجْرَتِهِمْ وَأَخْرَجَهُمْ مِنْ حُجْرَتِهِمْ

وَأَخْرَجَهُمْ مِنْ حُجْرَتِهِمْ وَأَخْرَجَهُمْ مِنْ حُجْرَتِهِمْ وَأَخْرَجَهُمْ مِنْ حُجْرَتِهِمْ وَأَخْرَجَهُمْ مِنْ حُجْرَتِهِمْ

مثلاً کہ جہاں سے
چہ کہ کبھی روگن
یہ حالت ہوتی ہے
کہ جہاں سے تعلق
لے کر نفل سے گھر
فنی کرتا ہے تو پھر
وہ خدا کی راہ میں
دینے سے تنگ نہ
اور بے نفع نہ کہے پھر

قَاتُوبٌ مِنَ الرِّزْمِ رِبْطًا عَلَى قَلْبِهِ لَمَّا كَانُوا فِي بَيْتِ الْمَسْجِدِ إِفْرَاطًا الرَّبِيعُ

رقم سے وسطا علی قلبہم رکعت - ۱۲۲ ہر نے انکو صبر کرنا کہا کیا تھا شططا رکعت - ۱۳۰ زیادتی و صید

الْبَاءُ وَمَعَهُ سَائِدٌ وَوَصِدٌ وَيُقَالُ الْوَصِيدُ الْبَابُ مَوْصِدَةٌ مَطْبَقَةٌ أَصْدُ

رکعت - ۱۳۱ صحیح اور اسکی میں دضان اور صید ہے اور کہا جاتا ہے کہ و صید دروازہ ہے موصدہ (المحذوۃ - ۸۰) بندگی بڑا دروازہ اصد

الْبَابُ وَأَوْصِدَ بَعَثْنَا هُمْ أَجِينًا هُمْ أَرْزَى التَّرْبِيعَا نَضْرِبُ اللَّهُ عَلَى إِذَانِهِمْ

الباب دراصل دروازے کو کہتا ہے یعنی ہمارے (۱۲۰) ہر نے انکو زندہ کرنا ارزای رکعت - ۱۳۰ زیادہ مفید نصیب اللہ علی اذانہم

فَتَأْمُرُ أَجْمًا بِالْقَيْبِ لَمْ يَسْتَبِينَ وَقَالَ جَاهِدْ فَتَقْرَضُهُمْ تَرْتَلِمُ

رکعت - ۱۳۱ ہر نے کہا جہاد بالقیب (رکعت - ۲۲) تحقیق نہیں کی اور یہی ہر نے کہا تقرضہم ان کو چھوڑ دیا ہے

(۵۳) بَابُ حَدِيثِ الْغَارِ (۱۶۳۳) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مُتَكَرِّرٌ - ۱۰۸۵)

باب غاروں کا قصہ دیکھو حدیث ۱۰۸۵

(۵۴) بَابٌ (۱۶۳۴) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ (مُتَكَرِّرٌ - ۱۵۴۱) (۵ - ۱۶۳۵) عَنْ ابْنِ

باب دیکھو حدیث ۱۵۴۱

هُرَيْرَةَ (مُتَكَرِّرٌ - ۱۶۹۸) (۱۵۵۴) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُعَاقِبُ ابْنَ

دیکھو حدیث ۱۶۹۸ عبد الرحمن سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت معاذ سے

أَبِي سَفِينٍ عَامَرٌ جَرَّ عَلَى الْمَنَابِقِ فَتَأْوَلُ قِصَّةً مِنْ شِعْرٍ كَانَتْ فِي يَدَيْ حُرَيْرَةَ

ابن سفیان کو جب سال انہوں نے حج کیا تب سے سات انہوں نے ہاتھوں کا ایک گھمایا اور وہ جو عمار کے ہاتھ میں تھا

فَقَالَ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى

فرمایا اے مدینے والو تم اے عالم کون ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا

عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ أَخَذُوا نِسَاءَهُمْ

ایسا کرنے سے منع فرماتے تھے اور فرماتے کہ بنی اسرائیل اسی وقت تباہ ہوئے جب ان کی عورتوں نے یہ کام کرنا شروع کیا ہے

ملکہ غار کا کہتے ہیں اور اصحاب انکاف سے وہ بول مراد میں جو غار میں تھے اور اس میں نبی کی الرقیم کبھی ہوئی کہ با و درمیان کبھی ہوئی کہ با ہے و دونوں لفظ

رقم سے ہیں جس کے معنی میں لکھنا اور اصحاب الرقیم

سے مراد کبھی ہوئی کتاب یا کبھی ہوئی تحقیق و اے میں ان دونوں لفظوں میں عیسائیت کی ابتدائی اور انتہائی حالت کی طرف اشارہ ہے

عیسائیت کی ابتدا میں عیسائیوں کے بڑے بڑے فریسی رہنماؤں یعنی لبریا

نے رہبانیت اختیار کی اور عبادت الہی کے لئے غاروں اور کوٹھڑوں میں رہنا اختیار کیا۔ دنیا کو ترک کر کے عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ اور ان کی انتہائی حالت یہ ہے کہ آخرت سے ہر ایک غافل ہو کر دنیا میں اس قدر متمک ہوئے کہ تجارت ہی تجارت ان کی زندگی کی اصل غرض رہ گئی۔ رقیم کے لفظ میں اسی تجارت کی طرف اشارہ ہے۔ مسلمان العرب میں ہے کہ رقیم کپڑوں پر قیمتوں کا لکھنا ہے۔ سوا اس قسم کی تمام تجارتی اشیاء پر لکھی ہوتی قیمتیں ہیں۔ اور جس طرح ان کے بزرگوں نے عبادت میں متمک ہو کر دنیا کو چھوڑا تھا۔ ان پچھلے لوگوں نے تجارت میں متمک ہو کر آخرت کے خیال کو چھوڑ دیا ہے۔ اسلئے کہ روایت میں وہی مضمون لفظی اختلاف سے دہرایا گیا ہے۔ مثلاً کے علاوہ یہ حدیث م ۱۰۰۹ اور م ۱۰۰۲ پر بھی لکھی ہے۔ تین آدمیوں کا قصہ ہے جن پر غار کا منہ بند ہو گیا تھا۔ اسلئے کہ ان کا آخری حصہ ان الفاظ میں دہرایا گیا ہے: بِنَا امْرَأَةً تَرْضَعُ ابْنَهَا اذْ مَرَّ بِعَارِكَ بَدِي تَرْضَعُهُ فَقَالَتْ اللَّهُمَّ لَا تَمُتْ اَبِي حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ هَذَا اِفْتَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ثُمَّ رَجِعْ فِي التَّهْدَى وَمَرَّ بِامْرَأَةٍ تَجْرُرُ وَيَلْعَبُ بِهَا فَقَالَتْ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ اَبِي مِثْلَهَا فَقَالَ اللَّهُمَّ اَجْعَلْنِي مِثْلَهَا فَقَالَ اَمَّا الرَّابِكُ فَانَّهُ كَافِرٌ وَاَمَّا الْمَرْءَةُ فَانَّهُمْ يَقُولُونَ لَهَا تَرْتَنِي وَتَقُولُ حَسْبِيَ اللَّهُ وَيَقُولُونَ تَسْرُقُ وَتَقُولُ حَسْبِيَ اللَّهُ ۱۵۷۱ میں ہے کہ یہ عورت بنی اسرائیل سے تھی ہ اسلئے کہ یہاں لفظ یہیں بیٹا کعب یطعمہ بركة کا بدلہ اللطش اذراۃ بھی منی بغا یا بنی اسرائیل فرختت موقفا فسقته فخر فرمایا ہے۔ یہ حضرت معاذ کا آخری حج تھا جو اسلئے ہمیری میں کیا۔ حدیث پر بعض بحث کتاب اللباس میں آئے گی۔ جہاں یہ حدیث مکرر آئی ہے۔ یہاں بنی اسرائیل کا ذکر مقصود ہے۔ اور مطلب ظاہر ہے کہ وہ اس وقت ہلاک ہوئے جب ان کی عورتوں نے اس قسم کے کام شروع کئے یعنی رصال فی الشرع جیسا کہ م ۱۶۴۶ میں ہے۔ جس سے مقصود زندگی کی طرف ہوتا تھا۔ اسی کتاب کے آخر پر م ۱۶۴۶ یہ حدیث پھرائی ہے اور وہاں صرف یہ لفظ نہیں مآکت ارثی احدی ایفعل هذا غیر اليهود وان النبی صلعم سماہ الزود یعنی یہ کام سولنے یہود کے اور کوئی نہیں کرنا اور بنی صلعم نے اس کا نام زود یعنی چھوڑا لکھا ہے۔ غالب یہ ہے کہ یہودی عورتیں یہ کتاب فرض کرتی ہوں ایسا کرتی تھیں تو یہ ایک ذمہ دہی حکم ہو گا کہ مسلمان عورتیں ایسا نہ کریں۔ اسی لئے علماء میں اس بارے میں اختلاف بھی ہے۔

يَسْأَلُ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّاعُونَ فَقَالَ
 كَرِهْتُ أَنْ أَسِيرَ بِنَزِيدٍ مَعَهُ يَوْمَ جَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعَةً لِمَنْ سَمِعَهُ فِي الطَّاعُونَ
 أَسَامَةُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ رَجَسٌ أُرْسِلَ عَلَيْهِ طَائِفَةٌ مِنْ
 كَهْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرًا
 بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ يَارِضٌ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا
 بِيَسَاءَ كَيْفًا يَارِ كَمَا، ان رجوع سے پہلے تھے جب تم اس کے متعلق سنو کہ کسی زمین سے تو وہاں نہ جاؤ اور جب
 وَقَعِ يَارِضٌ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا إِفْرَارًا مِمَّنْهُ قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا تَخْرُجُوا إِلَّا إِفْرَارًا
 کسی زمین میں پھیل جائے اور تم وہاں ہو تو وہاں سے اس سے بھاگ کر نہ نکلو اور انصر کے کہا بھاگنے کے سوا اور طریق نہ ہو تو مست نکلو
 مِنْهُ (۱۵۵۸) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے طاعون کے بارے میں
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ عَذَابَ تَيْبَعْتَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ تَيْبَعَاءِ وَأَنَّ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے مجھے بتایا کہ یہ ایک عذاب ہے جسے اللہ جس پر چاہتا ہے بھیجتا ہے اور اللہ
 اللَّهُ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونَ فِي مَكَثٍ فِي بَلَدٍ صَارَ بِهَا
 نے اسے مؤمنوں کے لئے رحمت بنایا ہے کوئی شخص ایسا نہیں کہ طاعون پھیل جائے اور وہ مہر کے ثواب کی نیت سے طہارت
 فَحَسْبًا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَيُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِنْ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ (۱۵۵۹)
 ملے یہ جانتا ہو کہ اسے موت ہوئی ہے تو اسے اس کیلئے مقرر کر دیا ہے مگر اس کو شہید کا ثواب ملے گا
 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهْتَمُّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْخُرُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالَ مَنْ
 حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ قریشیوں کو خرموی عورت کی وجہ سے جس نے چوری کی تھی بڑا اٹکھ بڑا کما کون اس کے
 يُكْرِمُ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْزِي عِلْمَهُ إِلَّا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ
 متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض مہر عرض کرے گا انہوں نے کہا کہ اسار بن زید کے سوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر ہے یہ روایت
 حَبَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلِمَةُ أَسَامَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 کوئی بھی نہیں کر سکتا تو اسار نے آپ سے عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 وَسَلَّمَ اتَشْفَعُ فِي حَبِئٍ مِّنْ خُلُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ يَنْتَكِرُونَ
 کیا تم اللہ کی حمد میں سے ایک حد کے متعلق سفارش کرتے ہو پھر آپ کھڑے ہوئے اور خطبہ پڑھا اور فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو اس نکتے
 اللَّهُمَّ كَانُوا إِذْ سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوا وَرَأَى اسْرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ
 تمہارا کیا کہ جب ان میں سے کوئی معزز آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے اور جب ان میں سے ایک کمزور آدمی کرتا تو اس کو پھانسی دیتے

طاعون جہاں
 پڑھ جائے وہاں
 جاؤ اور نہ وہاں
 سے بھاگ کر نہ نکلو
 اس سے صاف نظر
 آئے کہ یہ غرض
 احتیاط ہے۔ اور
 طاعون زدہ مقام
 کو گویا آگنا کر دینا
 ہے تاکہ بیماری
 دوسری جگہ نہ پھیلے
 یہ بالکل آج کی تحقیق
 کے مطابق ہے۔ گویا
 اس کے جزائیم کو ایک
 جگہ کے اندر محدود
 کر دینے کا حکم دیا
 ہے۔ لیکن ان حکام
 کا یہ منشا نہیں کہ
 جس علاقہ میں طاعون
 ہو گیا ہے وہاں
 پھر پھر پھیلے
 نہ جائے یا مہر میں
 کی خبر گیری کے لئے
 کوئی نہ جائے اور نہ
 وہاں سے بھاگنے
 کی کمانعت کا یہ
 منشا ہے کہ اس
 جگہ کو علاج کے
 لئے نہ چھوڑ جائے
 اور یہی حدیث میں

ہے۔ فقہ من الجند و فرارک من الامسد مجذوم سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو۔ طاعون زدہ علاقہ سے بھاگن اس لئے منع ہے کہ دوسری جگہ
 بیماری پھیلانی جائے۔ مثلاً ایک شہر کے لوگ بھاگ کر دوسرے شہر میں جائیں گے تو وہ ضرور وہاں طاعون پھیلانے لگے۔ لیکن علاج کے لئے طاعون زدہ جگہ
 کو چھوڑ کر صاف ہو جائے جانا منع نہیں۔ حضرت عمر نے شام کی طاعون میں حکم دیا تھا کہ شکر پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھیل جائے۔ ابو النضر کے نفاذ جو آخر روایت
 میں ہے۔ وہ یوں ہیں کہ کلا یخروجکم الا فراراً مینہ کونی چیز نہ لکے سوائے بھاگنے کے۔ اور یہ اصل الفاظ کے بالکل ضد ہیں۔ فلا یخروجوا فراراً یعنی اور کسی
 عرض کے لئے بے شک نکلو بھاگتے ہوئے نہ لکو کہ دوسروں میں بیماری پھیلنا یا جو بیماریوں کی خبر گیری چھوڑ دو اور بھاگ جاؤ۔ بعض نے یہاں آگ کو لانا
 یا فعلی کہا ہے۔ اور صحیح ہی ہے کہ طاعون زدہ جگہ سے بھاگ کر نہ لکو کہ مرووں اور بیماریوں کو چھوڑ دے یا دوسری جگہ طاعون پھیلانے کا موجب ہو
 ملے یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ طاعون کی جگہ میں نیت سے ٹھہرنا یعنی بیماریوں وغیرہ کی خبر گیری کے لئے بڑے ثواب کا موجب ہے۔ بلکہ ایسے کوئی
 کے لئے شہید کا اجر ہے کیونکہ اس سے مخلوق کی بھونکی کے لئے اپنی جان گویا اپنی طرف سے دے دی ہے

(۱۶۴۶-۱۷۴۰) عن سعید بن مسیب (متوفی ۱۵۵۴)

دیگر حدیث ۱۵۵۴

(تقریباً ۲۰۰) الحیا و شعبة من الایمان و منافعنا فعل کی جگہ فاصنہ ہے و علی ایک
 ہی کام کو ایک شخص کبر و نخوت سے کرتا ہے دوسرا بغیر اس کے جہازا زانی نفس قابل سزا نہیں
 لیکن اگر کبر و نخوت سے ہی کام کیا جائے تو قابل سزا ہے۔ تو سزا اصل میں کبر و نخوت
 کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ چھوٹا نیکی کا کام جب قدم نیت سے کیا جائے تو وہ جنت میں
 لے جاتا ہے۔ معمولی سے معمولی کام اگر بڑی نیت سے کیا جائے تو وہ جہنم میں لے جاتا ہے۔
 ملاحظہ کرو روایت کے الفاظ میں فرق ہے۔ بیان لفظ یہ ہیں۔ نحن الاخرورن السا بقون یہ
 القیمة مید کل امة او تو الکتاب من قبلنا و ادیتنا من بعدہم فہذا الیوم الذی خلتوا
 فعدا للیہود و وعد عند للنصاری علی کل مسلم فی کل سبعة ايام یوم یغسل راسہ و
 جسدہ کا۔ بیان ہے کہ ہر ایک امت کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی۔ اور قرآن کریم میں ہے۔
 ان من امة الا خلا فہ نذیر۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہر ایک نذیر ایک کتاب لایا جو اس کے توسط
 سے اس کی امت کو دی گئی تو معلوم ہوا کہ کوئی نئی بغیر کتاب کے نہیں آتا۔ جو کتاب نہیں
 لایا وہ نبی بھی نہیں۔ (صفحہ ۱۷۴۰) بیان لفظ ہیں۔۔۔ قد معلو یة بن ابی سفین
 المدینة اخرج قدمة تدھا فخطبتنا فاخرج کبة من شعر فقال ما کنت اری
 ان احد يفعل هذا غیر الیہود و ان النبی صلے اللہ علیہ وسلم سماہ الزور یعنی
 الوصال فی الشعر۔ بیان الفاظ روایت میں وہ تشدد نہیں جو ۵۵۵ میں ہے۔ اور
 یہاں یہ بھی تصریح ہے کہ دوسرے بابوں کے گچھے عورتیں اپنے بابوں کے ساتھ افزائش
 جن کے لئے عاقبتیں یہ جہازا کی طرح اگر بڑی نیت سے کیا جائے تو برافعل ہے۔